


# بکھرے موتی

اول تا ہشتم



MAKTABA AISHA  
042-3736054  
0300-6213774

مکتبہ عائشہ

انتخاب و ترتیب  
مبلیغ اعظم حضرت مولانا محمد لویس پالپوری

تصحیح و نظر ثانی

حضرت مولانا مفتی محمد امین صاحب پالپوری

صاحبزادہ محترم  
حضرت مولانا محمد صاحب پالپوری

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تصحیح و اضافہ شدہ

حصہ اول

# بکھرتی

حضرت مولانا محمد یونس پانپتوی رحمۃ اللہ علیہ

انتخاب و ترتیب

صاحبزادہ محترم حضرت مولانا مبلغ اعظم محمد صاحب پانپتوی رحمۃ اللہ علیہ

حضرت مولانا مفتی محمد امین صاحب پانپتوی رحمۃ اللہ علیہ

تصحیح و نظر ثانی

مکتبہ عالیہ ۶۷ حشریٹ اردو بازار لاہور

## جملہ حقوق محفوظ ہیں

نام کتاب	.....	بکھرے موتی
انتخاب و ترتیب	.....	حضرت مولانا محمد یونس پالنپوری مدظلہ العالی
صحیح و عمر ثانی	.....	صاحبزادہ محترم حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری مدظلہ العالی
باہتمام	.....	محمد قیصر محمود مہاروی
مطبع	.....	لعل سٹار پرنٹرز
ناشر	.....	<b>مکتبہ عائشہ</b>

حق سٹریٹ اردو بازار لاہور 042-7360541

ملنے کے پتے

ادارہ اسلامیات انارکلی لاہور	حق پبلی کیشنز اردو بازار لاہور
شعبہ بک ایجنسی اردو بازار لاہور	کتب خانہ رشیدیہ راجہ بازار راولپنڈی
ہائٹ پبلی کیشنز اسلام آباد	مکتبہ رشیدیہ کمیٹی چوک راولپنڈی
احمد بک کارپوریشن راولپنڈی	دارالمطالعہ نزد پرانی ٹینگی حاصل پور منڈی
کتابستان شاہی بازار بہاول پور	اقبال بک سنٹر جہانگیر پارک صدر کراچی
مکتبہ دارالقرآن اردو بازار کراچی	قدیمی کتب خانہ آرام باغ کراچی
دارا خلاص محلہ جنگلی، پشاور	ادارہ الانور بنوری ٹاؤن کراچی
مکتبہ قاسمیہ ملتان	مکتبہ القرآن بنوری ٹاؤن کراچی
کتاب خانہ مظہری گلشن اقبال کراچی	ادارۃ المعارف دارالعلوم کراچی
مکتبہ رشیدیہ سرکی روڈ کوئٹہ	مکتبہ امدادیہ ملتان
مکتبہ حقانیہ ملتان	مکتبہ اسلامیہ کوتوال روڈ فیصل آباد

## فہرست (اول)

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
18	اذان کے چند اور مواقع	9	پیش لفظ: مولانا محمد عثمان صاحب مدظلہ العالی
	ہر انسان کے ساتھ چوبیس گھنٹوں میں بیس فرشتے	13	اسلام کی محنت
19	رہتے ہیں		داعی اپنی اجتماعی فکروں کے ساتھ انفرادی نیکیاں
19	معمولی اکرام مسلم پر سارے گناہ معاف	13	بھی کرتا ہے
20	بڑی موت سے بچنے کا ایک نبوی نسخہ	13	امر بالمعروف، نہی عن المنکر کی عجیب فضیلتیں
20	متکبر کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے نہیں دیکھے	14	نظر بد دور کرنے کا طریقہ
20	بیوی کے منہ میں لقمہ دینے پر صدقہ کا ثواب	14	اللہ کے راستے میں قرآن پڑھنے کی ایک خاص فضیلت
21	سلف صالحین کی اپنے دوستوں کو تین نصیحتیں	14	تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نداء
21	حضرت عمر رضی اللہ عنہما کا تقویٰ	15	ایمان اور اسلام کی اللہ کے یہاں قدر ہے
21	ظالم کے ظلم سے حفاظت کا نبوی نسخہ	15	خدا کی قدرت
	حضور ﷺ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کو مٹھی بھر	15	حضور اکرم ﷺ کا اپنے ساتھیوں کے ساتھ معاملہ
	کھجوریں دیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما ساکس سال	16	مخصوص اعمال جو مخصوص مصیبتوں سے نجات دلاتے ہیں
21	تک کھاتے کھلاتے رہے، یہ دین کی برکت ہے	16	قرآن کریم کی ایک خاص آیت عزت دلانے والی
22	عمل مختصر اور ثواب و فائدہ زیادہ	17	کون سی مخلوق کون سے دن پیدا کی گئی
22	حضور ﷺ کے اخلاق		اللہ تعالیٰ کے لیے ایک درہم خرچ کرو اور اللہ
22	زُعا	17	کے خزانے سے دس درہم لو
22	حضرت عمر رضی اللہ عنہما کا اپنے انتقال کے وقت وصیت کرنا	17	غفلت کے کان میں اذان دینا
	حضرت جبرئیل علیہ السلام نے حضور اکرم ﷺ کو	18	بداخلاق کے کان میں اذان دینا
	پانچ کلمات سکھائے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے واسطے		شیطان کے پریشان کرنے اور ڈرانے کے وقت
23	سے پوری امت کو ملے	18	اذان کہنا
23	حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دین کو دنیا پر مقدم کر دیا	18	غول بیابانی (بھوتوں) کو دیکھ کر اذان کہنا

30	چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ کی عجیب مثال		وہ خوش نصیب صحابی جنہیں سجدہ کرنے کے لیے
31	خدا تعالیٰ کا ایگریمینٹ جو خدا تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے	24	عرش اور کرسی سے بھی افضل جگہ ملی
31	اعمال اچھے تو حاکم اچھا، اعمال خراب تو حاکم خراب	24	دو بیویوں میں انصاف کا عجیب قصہ
31	ایک عالمی آفت کا شرعی حکم	24	حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے احتیاط
32	کوہنٹری سے دلچسپی رکھنے کی خرابیاں اور گناہ	24	مسلمان پر بہتان باندھنے کا عذاب
32	اللہ اور رسول ﷺ کی لعنت کے مستحق کون لوگ ہیں	25	خطوط میں بسم اللہ لکھنا جائز ہے یا ناجائز
33	نا اہل کو کوئی عہدہ سپرد کرنا	25	قرآن کی دو آیتیں جس کو تمام مخلوق کی پیدائش
34	سورۃ انعام کی ایک خاص فضیلت	25	سے دو ہزار سال پہلے خود دشمن نے لکھ دیا تھا
34	خدا اور آخرت کے خوف سے نکلا ہوا ایک آنسو	25	حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ ﷺ کا معاملہ
34	جہنم کی بڑی سے بڑی آگ بھادے گا	25	دعا کی قبولیت کے لیے مجرب عمل
34	علماء کے قلم کی روشنائی اور شہیدوں کے خون کا وزن	25	امت محمدیہ رضی اللہ عنہا پر تین باتوں کا خوف
34	ایمان سے بعد سب سے پہلا فرض ستر پوشی ہے	26	ہر بلا سے حفاظت
34	مایوس ہو کر دُعا مانگنا نہ چھوڑو	26	دشمن سے حفاظت
35	رسول اللہ ﷺ کی رفاقت کسی رنگ و نسل پر موقوف نہیں	26	ایک عجیب واقعہ
35	مسجد اور جماعت	26	رزق میں برکت کے لیے ایک مجرب عمل
36	امت محمدیہ رضی اللہ عنہا کی خاص صفات	27	بے دین کو دیندار بنانے کا ایک عجیب فاروڈ آنسو
37	کبھی کافر و فاسق کا خواب بھی سچا ہوتا ہے	27	غزوہ بدر میں بے سرو سامانی
37	چلہ کی فضیلت	27	نبی کریم ﷺ کے داماد حضرت ابوالعاص کا درد بھرا قصہ
38	وہ خوش نصیب صحابی جن کی شکل حضور ﷺ کے مشابہ تھی	29	صالح بیوی
38	ایک اہم نصیحت	29	قلم کی تین قسمیں
38	انتقال کے وقت ایک صحابی کے رخسار	29	اسلام میں عید الفطر کی پہلی نماز
38	حضور ﷺ کے قدموں پر	30	وہ صحابی جس نے ایک بھی نماز نہ پڑھی اور وہ جنتی ہیں
38	چند اہم تسبیحات	30	ظالم کا ساتھ دینے والا بھی ظالم ہے
39	شیطان کے منادی	30	حضرت عمر بن عبدالعزیز کی ایک اہم نصیحت
39	اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی ایک خاص دُعا	30	جب تک باوجود ہو گے فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے

49	پرانے ہوں تو ایسے ہوں	40	مناجات عربی
49	عبدالرحمن بن عوف <small>رضی اللہ عنہ</small> اور خالد بن ولید <small>رضی اللہ عنہ</small>	40	فضائل رمضان
50	پرانے قربانیاں دینے والے حسن سلوک ضروری ہے	40	عبدالرزاق نامی آدمی کو رزاق کہہ کر پکارنا گناہ ہے
50	حضور اکرم <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> نے شلووار استعمال کی ہے اس کی دلیل	42	حضرت موسیٰ <small>علیہ السلام</small> کی بددعا کا اثر
50	وہ خوش نصیب صحابی جن کا انتقال مدینہ منورہ میں ہوا	42	انظر بد کی طرح نیک کا اثر بھی برحق ہے
50	میت پر رونے والی کو عذاب	43	پاؤں کی تکلیف دور کرنے کا نبوی نسخہ
50	حضرت عیسیٰ <small>علیہ السلام</small> کی دُعا	43	روزی میں برکت کے لیے نبوی نسخہ
51	مردوں اور عورتوں کے غصہ اور لڑائی میں فرق	43	پریشانی دور کرنے کے لیے نبوی نسخہ
51	عورتیں تین قسم کی ہوتی ہیں	43	مسلمانوں کے اجتماعی مال میں حضرت عمر <small>رضی اللہ عنہ</small> کی احتیاط
51	غریب ساتھی کا صدقہ قبول کرنا	43	جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اس کو یہ دُعا
52	دُنیا کے ہرانا میں جنت کا ایک دانہ ہے	45	پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے
52	نیندا اگر نہ آئے تو یہ دُعا پڑھیں	45	قبولیت دُعا
52	حضور اکرم <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> کی حضرت انس <small>رضی اللہ عنہ</small> کو پانچ نصیحتیں	45	مشاجرات صحابہ کے متعلق ایک اہم ہدایت
52	حضرت معاویہ <small>رضی اللہ عنہ</small> کے نام حضرت عائشہ <small>رضی اللہ عنہا</small> کا خط	45	جمعہ کی نماز کے بعد گناہ معاف کروانے کا ایک نبوی نسخہ
53	حضور کی حضرت ابو بکر <small>رضی اللہ عنہ</small> کو تین نصیحتیں	46	وضو کے وقت کی خاص دُعا
53	دُعا کی قبولیت کے لیے چند مشکلات	46	تین بڑی بیماریوں سے بچنے کا آسان نبوی نسخہ
53	بدبختی کی چار علامتیں	46	شیطان کا پیشاب انسان کے کان میں
53	تبلیغ والوں کو شہر جمعہ کی پابندی کرنا	46	حضرت عمر <small>رضی اللہ عنہ</small> کا قبر میں منکر نکیر سے سوال کرنا
54	حاصل تصوف	47	پانچ جملے دُنیا کے لیے، پانچ جملے آخرت کے لیے
54	اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا	47	قید سے چھٹکارے کا نبوی نسخہ
55	ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر اعتماد	48	مصائب سے نجات اور مقاصد کے حصول کا مجرب نسخہ
55	بیعت کا ثبوت	48	چوتھے آسمان کے فرشتے کو مدد کے لیے حرکت
55	دُعا کی وجہ سے بچہ کا زندہ ہو جانا	48	میں لانے والی دُعا
56	مہود العود العین (خوروں کی مہریں)	48	سلاوت قرآن کے وقت خاموش نہ رہنا کفار کا شیوہ ہے
57	مؤمن کے جھوٹے میں شفا ہے، یہ حدیث نہیں	49	اذا اطلال ہے، اس کی دلیل

65	سے اولاد صالح ہوگی	57	باخن کاٹنے کا کوئی خاص طریقہ منقول نہیں
66	مناقب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ	58	بعض جانور جنت میں جائیں گے
66	چار ماہ کے بعد اسقاطِ حمل قتل کے حکم میں ہے	58	منت ماننے کی شرائط
66	آج کل ضبط تولید کے لیے جو دوائیں یا معالجات	58	کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونے کی فضیلت
66	کئے جاتے ہیں ان کا شرع حکم	58	احادیث صحیحہ کی تعداد
66	دل کی بیماری کو دور کرنے کا نبوی نسخہ	59	جمعہ کے دن ظہر باجماعت پڑھنا
67	دل کی بیماری کے لیے مجرب نسخہ	59	اسٹیل لوہے کی چین استعمال کرنا
67	حضور ﷺ پر دعوت کے میدان میں حالت	59	انکھل کا استعمال
67	کا اتار چڑھاؤ	59	مسواک کے بارے میں عبرت ناک واقعہ
67	حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی چھ نصیحتیں	60	کرسی پر بیٹھ کر بیان کرنے کی دلیل
67	چوری اور شیطانی اثرات سے حفاظت	60	انچاس کروڑ کی روایت
67	ظالم پر غلبہ	60	با وضو مرنے والا بھی شہید ہے
67	غربی اور خوشحالی	61	ایک مجرب عمل
68	ذہن اور حافظہ کے لیے	61	جمعہ کے دن بعد نماز جمعہ کم از کم تین مرتبہ یہ دعا پڑھے
68	برائے حفظ و حافظہ	62	ایک دعا جو سات ہزار مرتبہ تسبیح پڑھنے سے بہتر ہے
68	خواص سورہٴ غنچ (حصولِ ملازمت کے لیے)	62	تکبر کے ایک جملہ نے خوبصورت کو بد صورت
68	امام مالک رضی اللہ عنہ کا واقعہ	62	اور پست قدم کر دیا
69	امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کا واقعہ	62	کسی زمانہ میں کھجور کی گٹھلی جیسے گیہوں کے
69	حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ عنہ کا واقعہ	62	دانے ہوتے تھے
69	حالتِ مرض کی دعا	63	گناہ گاروں کو تین چیزوں کی ضرورت ہے
69	نگے سر کی شہادت قبول نہیں	63	سونے کے دانوں کا شرعی حکم
69	نماز کی برکت	64	مدہنسٹ کرنیوالا شہداء میں شامل نہ ہوگا
69	بچوں کی بدتمیزی کا سبب اور اس کا علاج	65	دعوت کے کام کرنے والے ساتھیوں کے لیے
70	تہمت کی سزا	65	چھ "غ" کے جملے
71	صلہ رحمی کے فوائد		چالیس سال کی عمر ہو جانے پر یہ قرآنی دعا پڑھنے

83	نیت پر مدار ہے	72	صلہ رحمی کا ایک عجیب قصہ
84	ٹی وی کے ساتھ دفن ہونے کا عبرتناک واقعہ	72	ذکر و دعا کے فوائد
85	دل چار قسم کے ہیں	73	ابن آدم کی حقیقت
85	تکبر کی دو علامتیں	74	اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی رہنا
85	ہر کام میں اعتدال چاہیے	75	ذمہ دار کو جائز ہے کہ اپنا فیصلہ دل میں رکھے
85	سب سے زیادہ قابل رشک بندہ	75	اہل جنت کو نگلن پہنانے کی حکمت
	حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے	76	جنات کی شرارت سے بچنے کا نبوی نسخہ
86	کا عجیب واقعہ	76	سفر میں نکل کر صبح و شام مذکورہ دعا پڑھے
86	ایک مجرب عمل برائے عافیت اہل و عیال	76	ڈوبنے سے بچنے کا نبوی نسخہ
86	طالب دنیا گناہوں سے نہیں بچ سکتا		قائلان عثمان رضی اللہ عنہ کے سامنے حضرت عبداللہ بن
87	اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو دنیا سے بچاتا ہے	76	سلام رضی اللہ عنہ کا درد بھرا خطبہ
87	خوش حالی چاہنے والی بیوی کو ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کا جواب	77	مسجد کے پندرہ آداب
87	کسی بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار مت کرو		جو مکانات ذکر اللہ، تعلیم قرآن اور تعلیم دین کے لیے
87	ریا کاروں کو نصیحت اور رسوائی کی سزا	77	مخصوص ہوں وہ بھی مسجد کے حکم میں ہیں
88	دین کے نام پر دنیا کمانے والے ریا کاروں کو سخت مہیب	78	رفع مساجد کے معنی
88	آسان حساب	78	رفع مساجد کا مفہوم
	راتوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے جاگنے والوں کو جنت میں	79	حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بڑھیا کی نصیحت سے رونا
88	بے حساب داخلہ	80	حضرت یحییٰ اُمّی کی امانت داری
	امت محمدیہ رضی اللہ عنہم کی بہت بڑی تعداد کا حساب کے	80	ایک ہزار جلدوں والی تفسیر
88	بغیر جنت میں داخلہ	80	التحیات سیکھنے کے لیے ایک مہینہ کا سفر
89	خزانہ غیب سے دعا پر روزی کا ملنا	81	حضور اکرم رضی اللہ عنہم کے اخلاق
89	دولت کی حرص کے بارے میں حضور رضی اللہ عنہم کی نصیحت	82	مہنگا بیچنے کے لیے غلہ جمع رکھنا مہلک بیماری کا سبب ہے
	جو اپنی مصیبت کسی پر ظاہر نہ کرے اس کے لیے	82	انسان کے تین دوست
90	پیشکش کا وعدہ	82	داغی کی دس صفات
90	رسول اللہ رضی اللہ عنہم کا اپنی صاحبزادی کو صبر کی تلقین	83	توبہ کی حقیقت



97	سانپ کے ذریعے	91	خاصانِ خدا عیش و تنعم کی زندگی نہیں گزارتے
97	حضرت محمد ﷺ کے منہ کے لقمہ کی برکت		خادم اور نوکر کا تصور معاف کروا کر چہ وہ ایک دن
97	امام ابوحنیفہ <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کی ذہانت	91	میں متردفعہ تصور کرے
99	بانگی، ڈاکو اور ماں باپ کے قاتل	92	دل کی قساوت اور سختی کا علاج
99	چلہ کی اصلیت	92	حضرت ابو بکر صدیق <small>رضی اللہ عنہ</small> کی عظمت
100	خودکشی کرنے والے نماز جنازہ پڑھے یا نہیں	92	عظمتِ مصطفیٰ <small>ﷺ</small>
100	جمعہ کے دن وفات پانے کی فضیلت	93	مقروض کی نماز جنازہ حضور <small>ﷺ</small> نہیں پڑھتے تھے
100	انبیاء کے ناموں کی وجہ تسمیہ		خلافِ شرع خواہشات کی پیروی
101	پانچ آدمی اللہ کی ذمہ داری میں ہیں	93	ایک قسم کی بت پرستی ہے
101	عیادت کرنے کا عجیب واقعہ		خاصانِ خدا کے قریبی رشتے دار عام طور سے
102	حضور <small>ﷺ</small> کی زیارت کا طریقہ	94	محروم رہتے ہیں
102	آٹھ قسم کے لوگ جن سے قبر میں سوال نہیں کیا جائے گا	94	روغنِ زیتون کی برکات
102	ابراہیم بن ادہم <small>رضی اللہ عنہ</small> کے والد کا خوفِ خدا	94	اللہ تعالیٰ کے آٹھ نام جو سورج پر لکھے ہوئے ہیں
103	ایک نیکی پر جنت میں داخلہ	94	شریعتِ اسلام میں شعر و شاعری کا درجہ
104	والد کے ساتھ خیر خواہی پر جنت میں داخلہ	96	حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے متعلق حیرت انگیز واقعہ
104	امانت کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے کا واقعہ	96	دریائے نیل کے نام حضرت عمر <small>رضی اللہ عنہ</small> کا خط
105	ستائیس سال کے بعد اللہ کے راستہ میں واپس		حضرت حسن <small>رضی اللہ عنہ</small> اور حسین <small>رضی اللہ عنہ</small> کی حفاظت



و تبلیغ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ ان کتابوں کی ایک ایک سطر اور ایک ایک مسئلہ و جزئیہ کو انسانوں کی زندگیوں میں زندہ کرے گا، اور کر رہا ہے۔ اور پھر فرمایا: مجھے چینی اور زندہ رہنے کی تمنا صرف اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ تو ان سب کو پڑھ ہی ڈالوں۔

ایک دوسرے موقع پر فرمایا: بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کتابوں کا کیا فائدہ؟ حالانکہ سوچنے کی بات ہے کہ اگر بخاری و مسلم کو امام بخاری اور امام مسلم رضی اللہ عنہما کہ ہم پر احسان نہ فرماتے تو ہمیں یہ حدیثیں کیسے پہنچتیں۔ اسی طرح بقیہ کتب کا حال ہے۔

دعاؤں میں حضرت رضی اللہ عنہ کا یہ جملہ بار بار کانوں میں گونجتا ہے: اے اللہ! قرآن وحدیث کا علم بدن سے جاری فرمادے۔ قرآن وحدیث کو عالم میں لے کر پھرنے والا بنا دے۔ آمین! جب کوئی مفید کتاب بتلائی جاتی تو فوراً اس کو خرید کر بیچنے کا حکم فرماتے اور اپنی کتابوں کی الماری میں اس کو رکھتے۔ کئی بار بندہ سے پاکستان میں چھپی ہوئی کتابیں منگوائیں۔ اور علمی ذوق ہی کا نتیجہ تھا کہ خصوصاً اہل علم و علماء دین و مدارس کے طلباء سے انتہائی محبت اور تواضع و خوش خلقی سے پیش آتے جس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں۔

لیکن لکھتے وقت کیا کروں ان کی وہ محبت و شفقت، علمی انہماک، تفسیری ذوق، دعائیں استغراق کی کیفیت اور تضرع و زاری، اُمت کا غم و درد، ان کا روزانہ صبح نظام الدین کا بیان، اور اجتماع رائے و نڈ کے بیانات اور جماعتوں کو روانگی کی ہدایات اور اللہ تعالیٰ کی عظمت و قدرت و جلال کو بیان کرتے وقت مجمع پر سنانے کا چھا جانا اور دین کے پورے عالم میں زندہ ہونے کی دلوں میں اُمید کا وابستہ ہو جانا اور باطل کی تمام طاقتوں اور قوتوں کا مکڑی کا جالا محسوس ہونا، غریبوں کی ہمدردی و غم خواری، خوش حال گھرانوں کی فکر، نوجوانوں پر خاص نظر۔ ہر ایک کی صلاحیت سے فائدہ اٹھانا اور اس کی صلاحیت کے استعمال کا مصرف تلاش کرنا، ان کا تواضع و عجز و مسکنت، ان کی سادگی، ان کی نصیحتیں اور ان کا اپنے بارے میں ذرا، ان کی فکر آخرت، ان کا قرآن کریم کی آیات سے ہر وقت کے حالات میں رہبری کا لینا۔

ان کی اجتماعی مال میں احتیاط کا حال، ان کی پوری عالم کے حالات سے واقفیت، ارتداد کی خبروں سے بے چمن ہو جانا اور فوری طور پر جماعتوں کا وہاں بھیجنا، ان کا پرانے کام کرنے والوں کے جوڑوں میں اُمت پر محنت اور اُمت کی فکر کے ساتھ حق تعالیٰ شانہ کے ساتھ خصوصی تعلق حاصل کرنے اور اپنے رذائل روحانیہ، حسد، بغض، کینہ وغیرہ کے دور کرنے پر اور اجتماعیت کی فکر پر زور دینا۔ ان کا امریکہ اور دوسرے ملکوں کے اوقات نماز کے صحیح کرانے کی فکر اور فلکیات میں مہارت اور ماہر فلکیات کی غلطیوں پر متنبہ کرنا، ان کی اپنے امیر کی اطاعت ان کے مشورہ کی پابندی، ان کا علماء و مشائخ سے اپنے بیانات میں غلطیوں کی نشاندہی کے لیے پوچھنا اور علماء و مشائخ کا ان کو اطمینان دلانا اور ان کی دنیا بھر کے علماء و مشائخ کے پاس حتیٰ الامکان ہر سال ہدایا بھیجنا۔

ان کا حضرت مولانا یوسف رضی اللہ عنہ کے بیانات کا اہتمام سے مطالعہ کرنا، ان کا سفر سے پہلے مرکز کے مقیمین سے مل کر جانا اور معافی مانگنا، حتیٰ کہ اپنے چھوٹوں سے بھی، ان کے بیان سے ہر طبقہ کا مستفید ہونا اور یہ سمجھنا کہ یہ ہمارے ہی لیے فرما رہے ہیں۔ ان کا حضرت جی مولانا انعام الحسن رضی اللہ عنہ کے سامنے انتہائی ادب و تواضع سے پیش آنا اور ان کا بندہ کو یہ فرمانا کہ میں نے حضرت جی رضی اللہ عنہ کو چوس لیا ہے، ان کا ہر وقت گھڑی کو سامنے رکھ کر ایک ایک لمحہ کو قیمتی بنانا اور وصول کرنا اور اس سلسلہ میں حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رضی اللہ عنہ کا حوالہ دینا۔

ان کا حضرت شیخ الحدیث رضی اللہ عنہ سے تعلق اور حضرت شیخ کا اُن سے تعلق، ان کو سرکارِ دو عالم کی خوابوں میں بکثرت زیارتوں کا ہونا، ان کی سیرت نبوی پر نگاہ، ان کا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی اور اقوال سے انفرادی و اجتماعی اصولوں کا استنباط۔ ان کے اپنے شب و روز کے اجتماعی و انفرادی معمولات، ان کا بڑھاپے اور ضعف کے حالت میں مرکز کی ساری مشغولیوں کے ساتھ حفظ قرآن کا حضرت جی رضی اللہ عنہ کی

اجازت کے ساتھ کرنا، ان کا بیان سے پہلے اور بیان کے بعد اہتمام سے حضرت جی رضی اللہ عنہ کے پاس جانا اور ہر بات میں حضرت جی رضی اللہ عنہ کی طرف رجوع کرنا۔

ان کا رمضان المبارک میں اعتکاف، ان کے قرآن کریم پڑھ کر سنانے سے مردہ دلوں کا زندہ ہونا اور سخت سے سخت دلوں کا موم ہونا اور شرایوں، ڈاکوؤں، ظالموں وغیرہ کا ان کی دعوت سن کر توبہ کرنا۔ ان کے بیان میں مضمون کا ارتباط وغیرہ وغیرہ یہ سب پہلو امینڈا منڈا کر سامنے آ رہے ہیں اور مجبور کر رہے ہیں کہ ان سب پر لکھا جائے۔ اگر اللہ کے فضل اور توفیق نے دستگیری کی تو ان کے قرآنی افادات پر لکھنے کا ارادہ ہے۔

﴿قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾ (سورت اطلاق: آیت ۳)

بزرگوں کی سوانح اور واقعات بڑے رہبر ہوتے ہیں۔ حضرت جنید رضی اللہ عنہ کا قول ہے:

﴿الْحِكَايَاتُ جَدُّ مِنْ جُنُودِ اللَّهِ يَثْبُتُ اللَّهُ بِهَا قُلُوبَ أَوْلِيَاءِهِ﴾ (کہ ان واقعات کے ذریعہ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کے

دلوں کو مضبوط کرنا اور جمانا ہے۔ یہ اللہ کے لشکر ہیں اور اس پر قرآن کریم کی یہ آیت دلیل ہے:

﴿وَكَلَّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نَقَّبْتُمْ بِهِ فُؤَادَكَ﴾ (سورہ ہود: آیت ۱۲۰)

ترجمہ: ”اور سب چیز بیان کرتے ہیں ہم تیرے پاس رسولوں کے احوال سے جس سے تسلی دیں تیرے دل کو۔“

امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے علماء کے قصے اور ان کے محاسن مجھے فقہ سے بہت زیادہ محبوب ہیں، اس لیے کہ وہ اخلاق اور ادب

سکھاتے ہیں اور اس کی دلیل قرآن کریم کی آیت ہے:

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهُمْ اتَّخَذُوا﴾ (سورہ الانعام: آیت ۱۹۰)

ترجمہ: ”یہ وہ لوگ تھے جن کو ہدایت کی اللہ نے، سو تو چل ان کے طریقہ پر۔“

اور ارشاد ہے:

﴿لَقَدْ كَانَ فِي قَصصِهِمْ عِبْرَةً لِّأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ (سورہ یوسف: آیت ۱۱۱)

ترجمہ: ”البتہ ان کے احوال سے اپنا حال قیاس کرنا ہے عقل والوں کو۔“

مالک بن دینار رضی اللہ عنہ کا قول ہے:

﴿الْحِكَايَاتُ تُخَفُّ الْجَنَّةَ﴾

ترجمہ: ”حکایات و واقعات جنت کے تخفیف ہیں۔“

”حکایات زیادہ سے زیادہ بیان کرو کہ یہ موتی ہیں اور بہت ممکن ہے کہ ان میں کوئی نادر موتی ہاتھ آ جائے۔“

غیاث بن عیینہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے:

﴿عِنْدَ ذِكْرِ الصَّالِحِينَ تَنْزِلُ الرَّحْمَةُ﴾

ترجمہ: ”صلحاء اور نیک لوگوں کے ذکر کے وقت رحمت برتی ہے۔“

یہ سب باتیں حضرت مولانا محمد عمر صاحب رضی اللہ عنہ کا نام لکھتے ہی نوک قلم پر آگئیں اور جی چاہ رہا ہے کہ اس پر لکھتا جاؤں لیکن اسی پر

اکتفا کرتا ہوں۔

مولانا محمد یونس صاحب کی اس کاہلی کو دیکھا تو اس میں کتاب کے حوالوں کے ساتھ بہت مفید اور اہم مضامین تھے جن کو جمع کرنا ان کے ذوق کی نشانی ہے۔ بندہ نے عرض کیا کہ اس کو چھپوا دیا جائے تو بہت ہوگا۔ مولانا منع کرتے رہے کہ یہ تو اپنی ذاتی یادداشت کے لیے لکھا ہے لیکن بندہ نے اصرار کیا کہ اگر اس سے دوسروں کو بھرپور فائدہ پہنچ جائے تو کیا حرج ہے اور یہ ہمارے کام کا معمول چلا آ رہا ہے۔ کھنڈوں زریں خزانے وغیرہ کے نام سے وہ اپنا عرق مطالعہ چھپواتے رہے ہیں۔

الحمد للہ! ان کے والد صاحب کے تعلق کی وجہ سے بھی انہوں نے میری عاجزانہ درخواست کو قبول کر لیا اور کاہلی مجھے دے دی۔ یہ متفرق مضامین کا مجموعہ ہے جس میں باہمی ارتباط تلاش نہ کیا جائے جیسے جیسے کوئی مفید بات سامنے آتی رہی وہ جمع کرتے رہے۔ اس سے جو جس مضمون کا فائدہ اٹھالے وہ اٹھا سکتا ہے، اس لیے اس کا نام ”بکھرے موتی“ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ مولانا کو جزائے خیر مرحمت فرمائے اور ان کو ان کے لیے اور ان کے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ ابھی ایک حصہ اس کا پیش کیا جا رہا ہے۔ آئندہ انشاء اللہ مزید حصے بھی سامنے آئیں گے جن میں مفید معلومات ہوں گی۔

حق تعالیٰ شانہ بندہ کے لیے بھی اس معمولی سی کوشش کو قبول فرما کر ذریعہ نجات بنائے اور صلحاء اور نیک لوگوں میں اس کی برکت سے شامل فرمائے۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَيَّ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ﴿١﴾ کی اس تصحیح اور نظر ثانی کا کام بندہ کے بڑے بھائی مولانا عمر فاروق صاحب زید مجدہ نے کیا۔

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

محمد عثمان کراچی

۲۷ رمضان المبارک یوم الثالثاء بعد الظہر ۱۴۲۳ھ

بمقام حرم مدنی مسجد نبوی مدینہ منورہ



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

### (۱) اسلام کی محنت

اسلام حق ہے اس کی محنت کے لیے چار ماہ مانگتے ہیں۔ اس کے لیے چار لائن کی محنت ہے:

- سننے کی محنت۔ تعلیم
- سوچنے کی محنت۔ ذکر
- بولنے کی محنت۔ دعوت
- مانگنے کی محنت۔ دعا

ایمان مجاہدہ سے بچے گا..... دعوت دینے سے بنے گا..... ہجرت سفر سے پھیلے گا..... حقوق العباد کی ادائیگی سے بچے گا۔

(مولانا احمد لٹ صاحب اجتماع جمہور پال)

### (۲) داعی اپنی اجتماعی فکروں کے ساتھ انفرادی نیکیاں بھی کرتا رہے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں آج روزہ کس نے رکھا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں نے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: تم میں سے آج کس نے کسی بیمار کی عیادت کی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں نے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: تم میں سے آج کون جنازہ میں شریک ہوا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا: میں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آج کس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا: میں نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو آدمی ایک دن میں یہ سارے کام کرنے کا وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ (حیاء الصحابہ: جلد ۲ صفحہ ۲۳۸)

### (۳) امر بالمعروف، نہی عن المنکر کی عجیب فضیلتیں

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا میں تمہیں ایسے لوگ نہ بتلاؤں جو نہ نبی ہوں گے اور نہ شہید، لیکن ان کو اللہ کے ہاں اتنا اونچا مقام ملے گا کہ قیامت کے دن نبی اور شہید بھی انہیں دیکھ کر خوش ہوں گے اور وہ نور کے خاص منبروں پر ہوں گے اور پہچانے جائیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! وہ کون لوگ ہیں۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو اس کے بندوں کا محبوب بناتے ہیں اور لوگوں کے خیر خواہ بن کر زمین پر پھرتے ہیں۔ میں نے عرض کی یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ وہ اللہ کو اس کے بندوں کا محبوب بنائیں، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب کیسے بنائیں گے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ لوگ اللہ کے بندوں کو ان کاموں کا حکم دیں گے جو کام اللہ کو محبوب اور پسند ہیں اور ان کاموں سے روکیں گے جو اللہ پسند نہیں ہیں۔ وہ بندے جب ان کی بات مان کر اللہ کے پسندیدہ کام کرنے لگ جائیں گے تو یہ بندے اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ (حیاء الصحابہ: جلد ۲ ص ۸۰۵)

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نیک لوگوں کے اعمال کے سردار ہیں ان دونوں کو کب چھوڑ دیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم میں وہ خرابیاں پیدا ہو جائیں گی جو نبی اسرائیل میں پیدا ہوئی تھیں۔

میں نے پوچھا: یا رسول اللہ ﷺ! میں کیا خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: جب تمہارے نیک لوگ دنیا کی وجہ سے فاجر لوگوں کے سامنے دینی معاملات میں نرمی برتنے لگیں اور دینی علم بدترین لوگوں میں آجائے اور بادشاہت چھوٹوں کے ہاتھ لگ جائے تو پھر اس وقت تم زبردست فتنہ میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ تم فتنوں کی طرف چلو گے اور فتنے بار بار تمہاری طرف آئیں گے۔

(حیاء الصحابہ: جلد ۲ صفحہ ۷۰۶)

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا تم اپنے رب کی طرف سے ایک واضح راستہ پر رہو گے جب تک تم میں دو نئے ظاہر نہ ہو جائیں۔ ایک جہالت کا نشہ، دوسرا زندگی کی محبت کا نشہ۔

اور تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو گے اور اللہ تعالیٰ کے راستہ میں جہاد کرتے رہو گے، لیکن جب دنیا کی محبت تم میں ظاہر ہو جائے گی تو پھر تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کر سکو گے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد نہ کر سکو گے، اس زمانے میں قرآن اور حدیث کو بیان کرنے والے ان مہاجرین اور انصار کی طرح ہوں گے جو شروع میں اسلام لائے تھے۔ (حیاء الصحابہ: جلد ۲ صفحہ ۸۰۵)

### ﴿ ۳ ﴾ نظر بد دور کرنے کا وظیفہ

حضرت جبریل علیہ السلام نے نظر بد دور کرنے کا ایک خاص وظیفہ حضور اکرم ﷺ کو سکھایا اور فرمایا کہ حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما پر پڑھ کر دم کیا کرو۔ ابن عساکر میں ہے کہ جبریل علیہ السلام حضور ﷺ کے پاس تشریف لائے، آپ ﷺ اس وقت غمزدہ تھے۔ سبب پوچھا تو فرمایا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو نظر لگ گئی ہے۔ فرمایا یہ سچائی کے قابل چیز ہے نظر واقعی لگتی ہے۔ آپ ﷺ نے یہ کلمات پڑھ کر انہیں پناہ میں کیوں نہ دیا؟ حضور ﷺ نے پوچھا وہ کلمات کیا ہیں؟ فرمایا یوں کہو:

(اللَّهُمَّ ذَا السُّلْطَنِ الْعَظِيمِ وَالْمَنْ الْقَدِيمِ ذَا الْوَجْهِ الْكَرِيمِ وَكَلِمَاتِ التَّامَاتِ وَالِدَعْوَاتِ الْمُسْتَجَابَاتِ عَالِي الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ مِنَ أَنْفُسِ الْجِنِّ وَأَعْيُنِ الْإِنْسِ)

حضور ﷺ نے یہ دعا پڑھی، وہیں دونوں بچے اٹھ کھڑے ہوئے اور آپ ﷺ کے سامنے کھیلنے کودنے لگے۔ حضور ﷺ نے فرمایا: لوگو! اپنی جانوں کو، اپنی بیویوں کو اور اپنی اولاد کو اسی پناہ کے ساتھ پناہ دیا کرو، اس جیسی اور کوئی پناہ کی دعا نہیں۔ (تفسیر ابن کثیر: جلد ۵ صفحہ ۴۱۶)

### ﴿ ۵ ﴾ اللہ کے راستے میں قرآن پڑھنے کی ایک خاص فضیلت

مسند احمد میں ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک ہزار آیتیں پڑھیں وہ انشاء اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نبیوں، صدیقیوں، شہیدوں اور صالحوں کے ساتھ لکھا جائے گا۔ (تفسیر ابن کثیر: جلد ۱ صفحہ ۵۹۷)

اگر ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک چلہ میں سورۃ یسین کی روزانہ تلاوت کریں تو انشاء اللہ یہ فضیلت ہمیں بھی حاصل ہو جائے گی۔

### ﴿ ۶ ﴾ تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نداء

میں نور کے تڑکے میں	نعت اٹھا سو کر!
آتی تھی صدا ہییم جو	سننے والا ہوا!
جو رزق کا طالب ہو میں رزق سے	دوں گا!
جس جس کو گناہوں سے	بخشش کی تمنا ہوا!
وہ مال توبہ ہو میں مال	توبہ ہوں!
اللہ کی رحمت کے دروازے	کھلے پائے!
ہاتھ اپنے عقیدت سے آگے	میرے پھیلائے!
جو طالب جنت ہو جنت کی	طلب لائے!
وہ اپنے گناہوں کی کثرت سے	نہ گھبرائے!
میں رحم سے بخشوں گا وہ	شرم سے چھپتائے!

یہ سن کر ہوئے جاری آنکھوں سے میری آنسو! قسمت سے محبت میں رونا جسے آ جائے!  
آقائے گدا پرور! سائل ہوں تیرے در پر! میں اور تو کیا مانگوں تو ہی مجھے مل جائے!

﴿۷﴾ ایمان اور اسلام کی اللہ کے یہاں قدر ہے، ہر دس سال پر مومن کامل کا

بھاؤ اور قیمت بڑھتی ہے، اور مومن کا درجہ اللہ کے یہاں بڑھتا رہتا ہے

مسند احمد اور مسند ابوالفضل میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ بچہ جب تک بالغ نہیں ہوتا اس کے نیک عمل اس کے والد یا والدین کے حساب میں لکھے جاتے ہیں اور جو کوئی برا عمل کرے تو وہ نہ اس کے حساب میں لکھا جاتا ہے نہ والدین کے۔ پھر جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تو قلم حساب اس کے لیے جاری ہو جاتا ہے اور دو فرشتے جو اس کے ساتھ رہنے والے ہیں ان کو حکم دے دیا جاتا ہے کہ اس کی حفاظت کریں اور قوت بم پینچائیں۔ جب حالت اسلام میں چالیس سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو (تین قسم کی بیماریوں سے) محفوظ کر دیتے ہیں: جنون، جذام اور برص سے۔

جب پچاس سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب ہلکا کر دیتے ہیں، جب ساٹھ سال کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف رجوع کی توفیق دیتے ہیں، جب ستر سال کو پہنچتا ہے تو سب آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جب اسی سال کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حسنت کو لکھتے ہیں اور سینئات کو معاف فرمادیتے ہیں۔

پھر جب نوے سال کی عمر ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سب اگلے پچھلے گناہ معاف فرمادیتے ہیں۔ اور اس کو اپنے گھر والوں کے معاملے میں شفاعت کرنے کا حق دیتے ہیں اور اس کی شفاعت قبول فرماتے ہیں اور اس کا لقب ”اُمِّسِنُ اللّٰہِ“ اور ”اُمِّسِرُ اللّٰہِ فِی الدُّنْیَا“ (یعنی اللہ کا معتمد اور زمین میں اللہ کا قیدی) ہو جاتا ہے۔

کیونکہ اس عمر میں پہنچ کر عموماً انسان کی قوت ختم ہو جاتی ہے، کسی چیز میں لذت نہیں رہتی قیدی کی طرح عمر گزارتا ہے اور جب ارزول عمر کو پہنچ جاتا ہے، تو اس کے تمام وہ نیک عمل نامہ اعمال میں برابر لکھے جاتے ہیں جو اپنی صحت و قوت کے زمانے میں کیا کرتا تھا اور اگر اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ لکھا نہیں جاتا۔ (تفسیر ابن کثیر جلد ۲ صفحہ ۳۰۹-۳۱۰۔ معارف القرآن جلد ۱ صفحہ ۲۳۰)

﴿۸﴾ خدا کی قدرت

ابن ابی حاتم کی مرفوع حدیث میں ہے کہ مجھے اجازت دی گئی ہے کہ میں تمہیں عرش کے اٹھانے والے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کی نسبت خبر دوں کہ اُس کی گردن اور کان کے نیچے تک کی لو کے درمیان اتنا فاصلہ ہے کہ اُڑنے والا پرندہ سات سو سال تک اُڑتا چلا جائے۔ اس کی اسناد بہت عمدہ ہے اور اس کے سب راوی ثقہ ہیں۔ (تفسیر ابن کثیر جلد ۵ صفحہ ۴۲۰)

﴿۹﴾ حضور اکرم ﷺ کا اپنے ساتھیوں کے ساتھ معاملہ

حضرت جریر بن عبد اللہ بکلی رضی اللہ عنہ حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور ﷺ ایک گھر میں تھے جو صحابہ کرام جو حضور ﷺ سے بھرا ہوا تھا حضرت جریر رضی اللہ عنہ دروازے پر کھڑے ہوئے انہیں دیکھ کر حضور ﷺ نے دائیں بائیں جانب دیکھا، آپ کو بیٹھنے کی جگہ نظر نہ آئی، حضور ﷺ نے اپنی چادر اٹھائی اور اُسے لپیٹ کر حضرت جریر رضی اللہ عنہ کی طرف پھینک دیا اور فرمایا اس پر بیٹھ جاؤ۔

حضرت جریر رضی اللہ عنہ نے چادر لے کر اسے سینے سے لگائی اور اُسے چوم کر حضور ﷺ کی خدمت میں واپس کر دیا اور عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! اللہ آپ کا ایسے اکرام فرمائے جیسے آپ ﷺ نے میرا اکرام فرمایا۔ حضور ﷺ نے فرمایا: جب تمہارے پاس کسی قوم کا قابل



### (۱۰) مخصوص اعمال جو مخصوص مصیبتوں سے نجات دلاتے ہیں

ابو عبد اللہ حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب نو اور الاصول میں یہ بات ذکر کی ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی جماعت کے پاس آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی مسجد میں فرمایا کہ گزشتہ رات میں نے عجب باتیں دیکھیں۔

دیکھا کہ میرے ایک امتی کو عذاب قبر نے گھیر رکھا ہے، آخر اس کے وضو نے آ کر اُسے چھڑا لیا۔ میں نے ایک امتی کو دیکھا کہ شیطان اسے وحشی بنائے ہوئے ہے لیکن ذکر اللہ نے آ کر اسے خلاصی دلوائی۔ ایک امتی کو دیکھا کہ عذاب کے فرشتوں نے اسے گھیر رکھا ہے، اس کی نماز نے آ کر اسے بچا لیا۔ ایک امتی کو دیکھا کہ پیاس کے مارے ہلاک ہو رہا ہے، جب حوض پر جاتا ہے دھکے لگتے ہیں، اس کا روزہ آیا اور اُس نے اُسے پانی پلا دیا اور آسودہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امتی کو دیکھا کہ انبیاء صلی اللہ علیہم وسلم حلقے میں بیٹھنا چاہتا ہے وہاں والے اُسے اٹھا دیتے ہیں، اسی وقت اس کا غسل جنابت آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر میرے پاس بٹھایا۔ ایک امتی کو دیکھا کہ چاروں طرف سے اُسے اندھیرا گھیرے ہوئے ہے اور اوپر نیچے سے بھی وہ اسی میں گھرا ہوا ہے کہ اس کا حج اور عمرہ آیا اور اسے اس اندھیرے میں سے نکال کر نور میں پہنچا دیا۔ ایک امتی کو دیکھا کہ وہ مومنوں سے کلام کرنا چاہتا ہے لیکن وہ اس سے بولتے نہیں، اسی وقت صلہ رحمی آئی اور اعلان کیا کہ اس سے بات چیت کرو۔ چنانچہ وہ بات چیت کرنے لگے۔ ایک اور امتی کو دیکھا کہ وہ اپنے منہ پر سے آگ کے شعلے ہٹانے کو ہاتھ بڑھا رہا ہے، اتنے میں اس کی خیرات آئی اور اس کے منہ پر پردہ اور اوٹ ہو گئی اور اس کے سر پر سایہ بن گئی۔

اپنے ایک امتی کو دیکھا کہ عذاب کے فرشتوں نے اُسے ہر طرف سے قید کر لیا ہے لیکن اس کا نیکی کا حکم اور برائی سے منع کرنا آیا اور ان کے ہاتھوں سے اسے چھڑا کر رحمت کے فرشتوں سے ملا دیا۔ اپنے ایک امتی کو دیکھا کہ گھنٹوں کے بل گرا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے درمیان حجاب ہے اس کے اچھے اخلاق آئے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچا آئے۔ اپنے ایک امتی کو دیکھا کہ اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں طرف سے آرہا ہے لیکن اس کے خوفِ خدا نے آ کر اُسے اس کے سامنے کر دیا۔ اپنے ایک امتی کو میں نے جہنم کے کنارے کھڑا دیکھا، اسی وقت اس کا اللہ سے کھپانا آیا اور اسے جہنم سے بچا لے گیا۔

میں نے اپنے ایک امتی کو دیکھا کہ اسے اوندھا کر دیا گیا ہے تاکہ جہنم میں ڈال دیا جائے لیکن اسی وقت خوفِ خدا سے رونا آیا اور ان آنسوؤں نے اسے بچا لیا۔ میں نے ایک امتی کو دیکھا کہ پل صراط پر لڑھکنیاں کھا رہا ہے کہ اس کا مجھ پر درود پڑھنا آیا اور ہاتھ تھام کر سیدھا کر دیا اور وہ پارا تر گیا۔ ایک کو دیکھا کہ جنت کے دروازے پر پہنچا، لیکن دروازہ بند ہو گیا، اسی وقت لا الہ الا اللہ کی شہادت پہنچی، دروازے کھلوادئے اور اسے جنت میں پہنچا دیا۔ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو ذکر کر کے فرماتے ہیں کہ یہ حدیث بہت بڑی ہے اس میں ان مخصوص اعمال کا ذکر ہے جو مخصوص مصیبتوں سے نجات دلوانے والے ہیں۔ (تفسیر ابن کثیر جلد ۳ صفحہ ۷۷۷، ۷۷۸)

### (۱۱) قرآن کریم کی ایک خاص آیت عزت دلانے والی

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے مسند میں نیز طبرانی نے عمدہ سند کے ساتھ حضرت معاذ جہنی رضی اللہ عنہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمادے تھے:

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَكَمْ يَكُنْ لَهُ وُكُوفٌ مِنَ الذَّلِيلِ وَكَبِيرَةٌ تَكْبِيرًا﴾  
(سورۃ النبی امر اکل: ۱۱۱)

ترجمہ: ”تمام خوبیاں اسی اللہ (پاک) کے لیے (خاص) ہیں جو نہ اولاد رکھتا ہے اور نہ اس کا کوئی سلطنت میں شریک ہے اور

نہ کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار ہے اور اس کی خوب بڑائیاں بیان کیا کیجئے۔“ (بیان القرآن)  
یہ آیت، آیت عزت ہے۔ (تفسیر مظہری جلد ۷ صفحہ ۶۶)

### (۱۲) کون سی مخلوق کون سے دن پیدا کی گئی

صحیح مسلم اور نسائی میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا: مٹی کو اللہ تعالیٰ نے ہفتہ کے دن پیدا کیا اور پہاڑوں کو اتوار کے دن اور درختوں کو پیر کے دن اور برائیوں کو منگل کے دن اور نور کو بدھ کے دن اور جانوروں کو جمعرات کے دن اور آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن، عصر کے بعد جمعہ کی آخری ساعت میں عصر کے بعد سے رات تک کے وقت میں۔ (تفسیر ابن کثیر جلد ۱ صفحہ ۱۰۶)

### (۱۳) اللہ تعالیٰ کے لیے ایک درہم خرچ کرو اور اللہ کے خزانے سے دس درہم لو

حضرت عبید اللہ بن محمد بن عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک سائل امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کھڑا ہوا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن یا حضرت حسین رضی اللہ عنہما سے کہا کہ اپنی والدہ کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ میں نے آپ کے پاس چھ درہم رکھوائے تھے ان میں سے ایک درہم دے دو، وہ گئے اور انہوں نے واپس آ کر کہا امی جان کہہ رہی ہیں وہ چھ درہم تو آپ رضی اللہ عنہ نے آنے کے لیے رکھوائے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کسی بھی بندے کا ایمان اس وقت تک سچا ثابت نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو جو چیز اس کے پاس ہے اس سے زیادہ اعتماد اس چیز پر نہ ہو جائے جو اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں ہے۔ اپنی والدہ سے کہو کہ چھ درہم بھیج دیں۔ چنانچہ انہوں نے چھ درہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیج دیئے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس سائل کو دے دیئے۔

راوی کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی نشست بھی نہیں بدلی تھی کہ اتنے میں ایک آدمی ان کے پاس سے ایک اونٹ لئے گزرا جسے وہ بیچنا چاہتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اونٹ کتنے میں دو گے؟ اس نے کہا ایک سو چالیس درہم میں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا اسے یہاں باندھ دو، البتہ اس کی قیمت کچھ عرصے بعد دیں گے۔ وہ آدمی اونٹ باندھ کر چلا گیا۔ تھوڑی دیر میں ایک آدمی آیا اور اس نے کہا یہ اونٹ کس کا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا: میرا۔ اس آدمی نے کہا: کیا آپ اسے بیچیں گے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا: ہاں۔ اس آدمی نے کہا: کتنے میں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا: دو سو درہم میں۔ دو سو درہم دے کر وہ اونٹ لے گیا۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جس آدمی سے اونٹ ادھار خریدا تھا اسے ایک سو چالیس درہم دیئے اور باقی ساٹھ درہم لاکر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو دیئے۔ انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا یہ وہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہم سے وعدہ کیا ہے:

﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَثْمَالِهَا﴾ (سورہ انعام: آیت ۱۶۰)

ترجمہ: ”جو شخص نیک کام کرے گا اس کو اس کے دس حصے ملے گے۔“ (حیاء الصحابہ جلد ۲ صفحہ ۲۰۲)

### (۱۴) غمگین کے کان میں اذان دینا

جو شخص کسی رنج و غم میں مبتلا ہو اس کے کان میں اذان دینے سے اس کا رنج و غم دور ہوتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے غمگین دیکھ کر فرمایا: ابن ابی طالب! میں تمہیں غمگین دیکھ رہا ہوں؟ میں نے کہا: جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

﴿فَرُبُّعَصٍّ أَهْلَكَ يَوْمَ دُنِيَ فِي الْبَيْتِ فَإِنَّهُ دَوَّارُ الْهَمِّ﴾

ترجمہ: ”تم اپنے گھر والوں میں سے کسی سے کہو کہ وہ تمہارے کان میں اذان دے کیونکہ یہ غم کا علاج ہے۔“

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ ٹہل کیا تو میرا دم دور ہو گیا، اسی طرح حدیث کے تمام راویوں نے آزما کر دیکھا تو سب نے اس کو مجرب پایا۔ (کنز العمال جلد ۲ صفحہ ۶۵۸)

### ﴿۱۵﴾ بد اخلاق کے کان میں اذان دینا

جس کی عادت خراب ہو جائے، خواہ انسان ہو یا جانور، اس کے کان میں بھی اذان دی جائے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(مَنْ سَاءَ خَلْقُهُ مِنْ إِنْسَانٍ أَوْ دَابَّةٍ فَلْيَذْوِبْ فِي أُذُنِهِ) (رادہ الدلیلی، مرقات شرح مشکوٰۃ جلد ۲ صفحہ ۱۳۹)  
ترجمہ: ”جو بد اخلاق ہو جائے، خواہ انسان ہو یا چوپایہ اس کے کان میں اذان دو۔“

### ﴿۱۶﴾ شیطان کے پریشان کرنے اور ڈرانے کے وقت اذان کہنا

جب شیطان کسی کو پریشان کرے اور ڈرائے اس وقت بلند آواز سے اذان کہنی چاہیے، کیونکہ شیطان اذان سے بھاگتا ہے۔ حضرت سہیل بن ابی صالح کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے، جو حارثہ کے پاس بھیجا، اور میرے ہمراہ ایک بچہ یا ساتھی تھا۔ دیوار کی طرف سے کسی پکارنے والے نے اس کا نام لے کر آواز دی اور اس شخص نے جو میرے ہمراہ تھا دیوار کی طرف دیکھا، اس کو کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ پھر میں نے اپنے والد صاحب سے اس کا تذکرہ کیا تو انہوں نے فرمایا، اگر مجھے پتہ ہوتا کہ تمہیں یہ بات پیش آئے گی تو میں تم کو نہ بھیجتا:

(وَلَكِنْ إِذَا سَمِعْتَ صَوْتًا فَتَنَادٍ بِالصَّلَاةِ فَانْتَبِهْ سَمِعْتَ إِهَابَهُ يَوْمَ يَحْدُثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا نَادَى بِالصَّلَاةِ وَكَلَى وَكَلَى حُصَاصٌ) (مسلم شریف جلد ۱ صفحہ ۱۶۷)

ترجمہ: ”لیکن (یہ بات یاد رکھو کہ) جب تم کوئی آواز سنو تو بلند آواز سے اذان کہو، کیونکہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو حضور اکرم ﷺ کی یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا ہے کہ جب اذان کہی جاتی ہے تو شیطان پیٹھ پھیر کر گوز مارتا ہوا بھاگتا ہے۔“

### ﴿۱۷﴾ غول بیابانی (بھوتوں) کو دیکھ کر اذان کہنا

اگر کوئی شخص بھوت پریت دیکھے تو اس کو بلند آواز سے اذان کہنی چاہیے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ:

(إِذَا تَوَلَّوْا لَكُمْ الْغِيْلَانُ فَادْعُوا) (مصنف عبدالرزاق جلد ۵ صفحہ ۱۶۳)

ترجمہ: ”جب تمہارے سامنے بھوت پریت مختلف شکلوں میں نمودار ہوں تو اذان کہو۔“

### ﴿۱۸﴾ اذان کے چند اور مواقع

مذکورہ مواقع کے علاوہ اذان کے درج ذیل مواقع بھی بزرگوں نے ذکر کیے ہیں:

① آگ لگنے کے وقت۔ ② کفار سے جنگ کرنے کے وقت۔

③ غصہ کے وقت۔ ④ جب مسافر راستہ بھول جائے۔

⑤ اور جب کسی کو مرگی کا دورہ پڑے۔

لہذا علاج اور عمل کے طور پر ان مواقع میں اذان کہنے میں کوئی حرج نہیں۔ امداد القلای میں ہے، ان مواقع میں اذان سنت ہے:

⑥ فرض نماز (کے لیے)۔ ⑦ بچے کی کان میں وقت ولادت۔

- ۴ آگ لگنے کے وقت۔
- ۵ مسافر کے پیچھے جب شیاطین ظاہر ہو کر ڈرائیں۔
- ۶ جنگ کفار کے وقت۔
- ۷ غم کے وقت۔
- ۸ غضب کے وقت۔
- ۹ جب کسی کو مرگی آئے۔
- ۱۰ جب کسی آدمی یا جانور کی بد خلقی ظاہر ہو۔

اس لو صاحبہ والہ محتار نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ (امداد اللہ جلد ۱ صفحہ ۱۷۵)

### (۱۹) ہر انسان کے ساتھ چوبیس گھنٹوں میں بیس فرشتے رہتے ہیں

تفسیر ابن جریر میں وارد ہوا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ فرمائے! بندے کے ساتھ کتنے فرشتے ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو دائیں جانب نیکیوں کا لکھنے والا جو بائیں جانب والے پر امر ہے، جب تو کوئی نیکی کرتا ہے تو وہ ایک کے بجائے دس لکھتا ہے۔ جب تو کوئی برائی کرے تو بائیں والا دائیں والے سے اس کے لکھنے کی اجازت طلب کرتا ہے، وہ کہتا ہے ذرا ٹھہر جاؤ، شاید تو بہ واستغفار کرے۔ تین مرتبہ وہ اجازت مانگتا ہے، تب بھی اگر اس نے توبہ نہ کی تو یہ نیکی کا فرشتہ اس سے کہتا ہے اب لکھ لے۔ (اللہ ہمیں اس سے چھڑائے) یہ تو بڑا برا ساتھی ہے۔ اسے اللہ کا لحاظ نہیں یہ اس سے نہیں شرماتا۔ اللہ کا فرمان ہے کہ انسان جو بات زبان پر لاتا ہے اس پر نگہبان متعین اور مہیا ہے اور دو فرشتے تیرے آگے پیچھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَہٗ مِّنْ أَمْرِ اللّٰهِ﴾ (سورہ بقرہ: آیت ۱۱)

ترجمہ: "ہر شخص (کی حفاظت) کے لیے کچھ فرشتے (مقرر) ہیں جن کی بدلی ہوتی رہتی ہے، کچھ اس کے آگے کچھ اس کے پیچھے کہ وہ بحکم خداوندی اس کی حفاظت کرتے ہیں۔" (بیان القرآن)

اور ایک فرشتہ تیرے ماتھے کے بال تھامے ہوئے ہے جب تو اللہ کے لیے تواضع اور فروتنی کرتا ہے وہ تجھے بلند درجہ کر دیتا ہے اور جب تو اس کے سامنے سرکشی اور تکبر کرتا ہے وہ تجھے پست اور عاجز کر دیتا ہے، اور دو فرشتے تیرے ہونٹوں پر ہیں، جو درود تو مجھ پر پڑھتا ہے اس کی وہ حفاظت کرتے ہیں۔ ایک فرشتہ تیرے منہ پر کھڑا ہے کہ کوئی سانپ وغیرہ جیسی چیز تیرے حلق میں نہ چلی جائے اور دو فرشتے تیری آنکھوں پر ہیں۔ یہ دس فرشتے ہر نبی آدم کے ساتھ ہیں۔ پھر دن کے الگ ہیں اور رات کے الگ ہیں۔ یوں ہر شخص کے ساتھ بیس (۲۰) فرشتے من جانب اللہ موزوں ہیں۔ (تفسیر ابن کثیر جلد ۲ صفحہ ۳۲)

### (۲۰) معمولی اکرام مسلم پر سارے گناہ معاف

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تکیہ پر ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر انہوں نے وہ تکیہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے لیے رکھ دیا، حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا: اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا:

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: اے ابو عبد اللہ! اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ذرا ہمیں بھی سنائیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا: ایک مرتبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تکیہ پر ٹیک لگائے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے رکھ دیا۔ پھر مجھ سے فرمایا: اے سلمان! جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے پاس جاتا ہے اور وہ میزبان اس کے اکرام کے لیے تکیہ رکھ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت ضرور فرما دیتے ہیں۔ (حیاۃ الصحابہ جلد ۲ صفحہ ۵۶)

### (۲۱) بری موت سے بچنے کا ایک نبوی نسخہ

حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہما کی بیٹائی جا چکی تھی انہوں نے اپنے نماز کی جگہ سے لے کر اپنے کمرے کے دروازے تک ایک ایسی رسی باندھ رکھی تھی جب دروازے پر کوئی مسکین آتا تو اپنے نوکرے میں سے کچھ لیتے اور رسی کو پکڑ کر دروازے تک جاتے اور خود اپنے ہاتھ سے اس مسکین کو دیتے۔ گھر والے ان سے کہتے آپ کی جگہ ہم جا کر مسکین کو دے آتے ہیں۔ وہ فرماتے میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مسکین کو اپنے ہاتھ سے دینا بری موت سے بچاتا ہے۔ (حیاء الصحابہ جلد ۲ صفحہ ۲۳۳)

### (۲۲) متکبر کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے نہیں دیکھتے

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے ایک مرتبہ اپنی نئی قمیص پہنی، میں اسے دیکھ کر خوش ہونے لگی، وہ مجھے اچھی لگ رہی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کیا دیکھ رہی ہو؟ اس وقت اللہ تمہیں (نظر رحمت سے) نہیں دیکھ رہے ہیں۔ میں نے کہا: یہ کیوں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ جب دنیا کی زینت کی وجہ سے بندہ میں عجب (خود کو اچھا سمجھتا) پیدا ہو جاتا ہے تو جب تک وہ بندہ زینت چھوڑ نہیں دیتا اس وقت تک اس کا رب اس سے ناراض رہتا ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: میں نے وہ قمیص اتار کر اسی وقت صدقہ کر دی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، شاید یہ صدقہ تمہارے اس عجب کے گناہ کا کفارہ ہو جائے۔ (حیاء الصحابہ جلد ۲ صفحہ ۳۹۹)

### (۲۳) بیوی کے منہ میں لقمہ دینے پر صدقہ کا ثواب

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں حجۃ الوداع والے سال میں بہت زیادہ بیمار ہو گیا تھا، جب حضور اقدس ﷺ میری عیادت کے لیے تشریف لائے تو میں نے کہا میری بیماری زیادہ ہو گئی ہے اور میں مالدار آدمی ہوں اور میرا اور کوئی وارث نہیں ہے، صرف ایک بیٹی ہے تو کیا میں اپنا دو تہائی مال صدقہ کر دوں؟

حضور ﷺ نے فرمایا: نہیں۔ میں نے کہا: آدھا مال صدقہ کر دوں؟ حضور ﷺ نے فرمایا: نہیں۔ میں نے کہا کہ تہائی مال صدقہ کر دوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں! تہائی مال صدقہ کر دو اور تہائی بھی بہت ہے۔ تم اپنے ورثاء کو مالدار چھوڑ کر جاؤ یہ اس سے بہتر ہے کہ تم ان کو فقیر چھوڑ کر جاؤ اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ اور تم جو بھی خرچہ اللہ کی رضا کے لیے کرو گے اس پر تمہیں اللہ کی طرف سے اجر ضرور ملے گا حتیٰ کہ تم جو لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو گے اس پر بھی اجر ملے گا۔

میں نے کہا یا رسول اللہ ﷺ! مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ اور مہاجرین تو آپ کے ساتھ مکہ سے واپس چلے جائیں گے، میں یہاں ہی مکہ میں رہ جاؤں گا اور میرا انتقال یہاں مکہ میں ہو جائے گا، اور چونکہ میں مکہ سے ہجرت کر کے گیا تھا تو میں اب یہ نہیں چاہتا کہ میرا یہاں انتقال ہو۔ حضور ﷺ نے فرمایا: نہیں تمہاری زندگی لمبی ہوگی (اور تمہارا اس مرض میں یہاں انتقال نہ ہوگا) اور تم جو بھی نیک عمل کرو گے اس سے تمہارا درجہ بھی بلند ہوگا اور تمہاری عزت میں بھی اضافہ ہوگا اور تمہارے ذریعے سے اسلام کا اور مسلمانوں کا بہت فائدہ ہوگا اور دوسروں کا بہت نقصان ہوگا (چنانچہ عراق کے فتح ہونے کا یہ ذریعہ بنے)۔

اے اللہ! میرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ہجرت کو آخر تک پہنچا (درمیان میں مکہ میں فوت ہونے سے ٹوٹنے نہ پائے) اور (مکہ میں موت دے کر) انہیں ایزدیوں کے بل واپس نہ کر۔ ہاں قاتل رحم سعد بن خولہ ہے (کہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے گئے تھے اور اب یہاں فوت ہو گئے ہیں ان کے مکہ میں فوت ہونے کے وجہ سے حضور ﷺ کو ان پر ترس آ رہا تھا)۔ (حیاء الصحابہ جلد ۲ صفحہ ۳۴۵)

### (۲۴) سلفِ صالحین کی اپنے دوستوں کو تین نصیحتیں

(مَنْ عَمِلَ لِأَخِيهِ كَفَاهُ اللَّهُ أَمْرًا دُنْيَا)

ترجمہ: ”جو آدمی آخرت کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کے کاموں کی ذمہ داری لے لیتے ہیں۔“

(وَمَنْ أَصْلَحَ سِرِّيَّتَهُ أَصْلَحَ اللَّهُ عِلْمِيَّتَهُ)

ترجمہ: ”جو شخص اپنے باطن کو صحیح کر لے اللہ اس کے ظاہر کو صحیح فرمادیتے ہیں۔“

(وَمَنْ أَصْلَحَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ أَصْلَحَ اللَّهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ)

ترجمہ: ”جو اللہ سے اپنا معاملہ صحیح کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اور مخلوق کے درمیان کے معاملات کو صحیح کر دیتے ہیں۔“

(معارف القرآن جلد ۲ ص ۶۹)

### (۲۵) حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تقویٰ

حضرت ایاس بن سلمہ اپنے والد (حضرت سلمہ) سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا: ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بازار سے گزرے، ان کے ہاتھ میں کوڑا بھی تھا، انہوں نے آہستہ سے وہ کوڑا مجھے مارا جو میرے کپڑے کے کنارے کو لگ گیا اور فرمایا، راستہ سے ہٹ جاؤ۔ جب اگلا سال آیا تو آپ کی مجھ سے ملاقات ہوئی، مجھ سے کہا اے سلمہ! کیا تمہارا حج کا ارادہ ہے، میں نے کہا: جی ہاں۔

پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے گئے اور مجھے چھ سو درہم دیئے اور کہا: انہیں اپنے سفر حج میں کام میں لے آنا، اور یہ اس بلکے سے کوڑے کے بدلہ میں ہیں جو میں نے تم کو مارا تھا۔ میں نے کہا: اے امیر المؤمنین! مجھے تو وہ کوڑا یاد بھی نہیں رہا۔ فرمایا: لیکن میں تو اسے نہیں بھولا، یعنی میں نے مار تو دیا لیکن سارا سال کھٹکتا رہا۔ (حیاء الصحابہ جلد ۲ ص ۱۳۵)

### (۲۶) ظالم کے ظلم سے حفاظت کا نبوی نسخہ

حضرت ابورافع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ نے (مجبور ہو کر) حجاج بن یوسف سے اپنی بیٹی کی شادی کی اور بیٹی سے کہا کہ جب وہ تمہارے پاس اندر آئے تو تم یہ دعاء پڑھنا:

(لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ)

ترجمہ: ”اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو حلیم اور کریم ہے، اللہ پاک ہے جو عظیم عرش کا رب ہے اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں

جو تمام جہانوں کا رب ہے۔“

حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، جب حضور رضی اللہ عنہ کو کوئی سخت امر پیش آتا تو یہ دعاء پڑھتے تھے جب اس نے یہ دعاء پڑھی جس کی وجہ سے حجاج اس سے قریب نہ آسکا۔ (حیاء الصحابہ جلد ۲ ص ۱۳۲)

### (۲۷) حضور رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو مٹھی بھر کھجوریں دیں اور

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ستائیس سال تک کھاتے کھلاتے رہے، یہ دین کی برکت تھی

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: اسلام میں مجھ پر تین ایسی بڑی مصیبتیں آئی ہیں کہ ویسی کبھی بھی مجھ پر نہیں آئیں۔ ایک تو حضور رضی اللہ عنہ کے وصال کا حادثہ کیونکہ میں آپ رضی اللہ عنہ کا ہمیشہ ساتھ رہنے والا معمولی سا ساتھی تھا۔ دوسرے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا حادثہ۔ تیسرے توشہ دان کا حادثہ۔ لوگوں نے پوچھا، اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ! توشہ دان کے حادثے کا کیا مطلب؟ فرمایا: ہم ایک سفر میں حضور رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ! تمہارے پاس کچھ ہے؟ میں نے کہا: توشہ دان میں کچھ کھجوریں

ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: لے آؤ۔ میں نے کھجوریں نکال کر آپ ﷺ کی خدمت میں پیش کر دیں۔ آپ ﷺ نے ان پر ہاتھ پھیرا اور برکت کے لیے دعا فرمائی۔ پھر فرمایا: دس آدمیوں کو بلاؤ۔ میں دس آدمیوں کو بلا لایا۔ انہوں نے پیٹ بھر کر کھجوریں کھائیں۔ پھر اسی طرح دس دس آدمی آکر کھاتے رہے، یہاں تک کہ سارے لشکر نے کھالیا اور توشہ دان میں پھر بھی کھجوریں بچ رہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ! جب تم اس توشہ دان میں سے کھجوریں نکالنا چاہو تو اس میں ہاتھ ڈال کر نکالنا اور اسے الٹا نہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں حضور ﷺ کی ساری زندگی میں اس میں سے نکال کر کھاتا رہا۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ساری زندگی میں اس میں سے کھاتا رہا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ساری زندگی میں اس میں سے کھاتا رہا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ساری زندگی میں اس میں سے کھاتا رہا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہید ہو گئے تو میرا سامان بھی لٹ گیا۔ اور وہ توشہ دان بھی لٹ گیا۔ کیا میں آپ لوگوں کو بتاؤں دوں کہ میں نے اس میں کتنی کھجوریں کھائیں ہیں؟ میں نے اس میں سے دو سو سو یعنی ایک ہزار پچاس من سے بھی زیادہ کھجوریں کھائی ہیں۔ (حیاء الصحابہ جلد ۲ صفحہ ۷۱)

### (۲۸) عمل مختصر اور ثواب و فائدہ زیادہ

امام بنوری رحمہ اللہ نے اپنی سند کے ساتھ اس جگہ ایک حدیث نقل فرمائی ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا کہ حق تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو شخص ہر نماز کے بعد سورہ فاتحہ اور آیہ الکرسی اور آل عمران کی دو آیتیں ایک آیت: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ (آیت ۱۸) آخر تک اور دوسری یہ آیت ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمُلْكِ﴾ (آیت ۲۶، ۲۷) تک پڑھا کرے تو میں اس کا ٹھکانہ جنت میں بنا دوں گا اور اس کو اپنے حظیرۃ القدس میں جگہ دوں گا اور ہر روز اس کی طرف ستر مرتبہ نظر رحمت کروں گا اور اس کی ستر حاجتیں پوری کروں گا اور ہر حاسد اور دشمن سے پناہ دوں گا، اور ان پر اس کو غالب رکھوں گا۔ (معارف القرآن جلد ۲ صفحہ ۴۷)

### (۲۹) حضور ﷺ کے اخلاق

حضور ﷺ ایک بار راستے میں تشریف لے جا رہے تھے، ایک صحابی سے حضور ﷺ کی ملاقات ہوئی تو اس صحابی نے آپ ﷺ کی خدمت میں دو سوواکس پیش کیں حضور ﷺ نے ان کو بخوشی قبول کیا، ان دو سوواکوں میں سے ایک بالکل سیدھی اور ایک ٹیڑھی تھی۔ حضور ﷺ کے اخلاق دیکھئے کہ جو سیدھی تھی وہ اپنے ساتھی کو دی اور جو ٹیڑھی تھی وہ آپ ﷺ نے اپنے پاس رکھی۔ (احیاء علوم الدین، غزالی)

### (۳۰) دُعاء

تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر	یہ میری نظر کا قصور ہے
تیری رہ گزر میں قدم قدم	کہیں عرش ہے کہیں طور ہے
یہ بجا ہے مالک بندگی	میری بندگی میں قصور ہے
یہ خطا ہے میری خطا مگر	تیرا نام بھی تو غفور ہے
یہ بتا کہ تجھ سے ملوں کہاں	مجھے تجھ سے ملنا ضرور ہے
کہیں دل کی شرط نہ ڈالتا	ابھی دل نکاہوں سے دور ہے

### (۳۱) حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اپنے انتقال کے وقت وصیت کرنا

حضرت یحییٰ بن ابی راشد نصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو اپنے بیٹے سے فرمایا: اے

میرے بیٹے! جب مجھے موت آنے لگے تو میرے جسم کو (دائیں پہلو کی طرف) موڑ دینا اور اپنے دونوں گھٹنے میری کمر کے ساتھ لگا دینا اور اپنا دایاں ہاتھ میری پیشانی پر اور بائیں ہاتھ میری ٹھوڑی پر رکھ دینا۔ اور جب میری روح نکل جائے تو میری آنکھیں بند کر دینا اور مجھے درمیانی قسم کا کفن پہنانا کیونکہ اگر مجھے اللہ کے ہاں خبر ملی تو پھر اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بہتر کفن دے دیں گے۔ اور اگر میرے ساتھ کچھ اور ہوا تو اللہ تعالیٰ اس کفن کو مجھ سے جلدی چھین لیں گے، اور میری قبر درمیانی قسم کی بنانا کیونکہ اگر مجھے اللہ کے ہاں خبر ملی تو پھر قبر کو تاحدنگاہ کشادہ کر دیا جائے گا اور اگر معاملہ اس کے خلاف ہوا تو پھر قبر میرے لیے اتنی تنگ کر دی جائے گی کہ میری پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جائیں گی۔

میرے جنازے کے ساتھ کوئی عورت نہ جائے اور جو خوبی مجھ میں نہیں ہے اسے مت بیان کرنا کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھے تم لوگوں سے زیادہ جانتے ہیں، اور جب تم میرے جنازے کو لے کر چلو تو تیز چلنا، کیونکہ اگر مجھے اللہ کے ہاں خیر ملنے والی ہے تو تم مجھے اس خیر کی طرف لے جا رہے ہو، (اس لیے جلدی کرو) اور اگر معاملہ اس کے خلاف ہے تو تم ایک شکر واٹھا کر لے جا رہے ہو اسے اپنی گردن سے جلد اتار دو۔ (حیاء الصحابہ جلد ۳ صفحہ ۵۲، ۵۳)

(۳۲) حضرت جبرئیل علیہ السلام نے حضور اکرم ﷺ کو پانچ کلمات سکھائے، پھر حضور اکرم ﷺ نے یہی پانچ کلمات حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو سکھائے، پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے واسطے سے پوری امت کو ملے

حضرت سوید بن غفلہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر ایک مرتبہ فاقہ آیا تو انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ اگر تم حضور اکرم ﷺ کی خدمت میں جا کر کچھ مانگ لو تو اچھا ہے۔ چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حضور ﷺ کے پاس گئیں۔ اس وقت حضور ﷺ کے پاس حضرت ام ایمن موجود تھیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے دروازہ کھٹکھٹایا تو حضور ﷺ نے حضرت ام ایمن سے فرمایا یہ کھٹکھٹاہٹ تو فاطمہ رضی اللہ عنہا کی ہے۔ آج اس وقت آئی ہے پہلے تو کبھی اس وقت نہیں آیا کرتی تھی۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا (اندر آ گئیں اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ ان فرشتوں کا کھانا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، سُبْحَانَ اللَّهِ، اور الْحَمْدُ لِلَّهِ کہنا ہے، ہمارا کھانا کیا ہے؟

آپ ﷺ نے فرمایا: اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق دے کر بھیجا ہے محمد ﷺ کے گھرانے کے کسی گھر میں تیس (۳۰) دن سے آگ نہیں جلی ہمارے پاس چند بکریاں آئی ہیں اگر تم چاہو تو پانچ بکریاں تمہیں دے دوں اور اگر چاہو تو تمہیں وہ پانچ کلمات سکھا دوں حضرت جبرئیل علیہ السلام نے مجھے سکھائے ہیں۔

حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا نہیں بلکہ مجھے تو وہی پانچ کلمات سکھا دیں جو آپ ﷺ کو حضرت جبرئیل علیہ السلام نے سکھائے ہیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا، تم یہ کہا کرو:

(يَا أُولَ الْأَدْلَمِينَ وَيَا آخِرَ الْأَخْرَبِينَ وَيَا كَذَّابَةَ الْعَوْنِ الْمَتِينِ وَيَا دَارَ حِمَى الْمَسْكِينِ يَا رَحِمَةَ الرَّحِيمِينَ)

پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا واپس چلی گئیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا ہوا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا: میں آپ ﷺ کے پاس دنیا لینے گئی تھی لیکن وہاں سے آخرت لے کر آئی ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، پھر تو یہ دن تمہارا سب سے بہتر دن ہے۔ (حیاء الصحابہ جلد ۳ صفحہ ۵۶)

(۳۳) حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دین کو دنیا پر مقدم کر دیا اور پانچ کلمات حضور ﷺ سے سیکھے

حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے مجھ سے فرمایا: میں تمہیں پانچ ہزار بکریاں دے دوں یا ایسے پانچ ہمت سکھا دوں جن سے تمہارا دین اور دنیا دونوں ٹھیک ہو جائیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! پانچ ہزار بکریاں تو بہت زیادہ



ہیں، لیکن آپ مجھے وہ کلمات ہی سکھادیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا، یہ کہو:

(اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَوَسِّعْ لِي خُلُقِي وَطَيِّبْ لِي كَسْبِي وَقِنِّعْنِي بِمَا رَزَقْتَنِي وَلَا تَذِهْبْ قَلْبِي إِلَى شَيْءٍ صَرَفْتَهُ عَنِّي)

ترجمہ: "اے اللہ! میرے گناہ معاف فرما اور میرا اخلاق وسیع فرما اور میری کمائی کو پاک فرما اور جو روزی تو نے مجھے عطا فرمائی اس پر مجھے قناعت نصیب فرما اور جو چیز تو مجھ سے ہٹا لے اس کی طلب مجھ میں باقی نہ رہنے دے۔" (حیاء الصحابہ جلد ۲ صفحہ ۲۰۸)

نوٹ: آج کا مسلمان ہوتا تو کہتا کہ حضور ﷺ پانچ ہزار بکریاں دیجئے اور پانچ کلمات بھی سکھائیے۔

﴿۳۴﴾ وہ خوش نصیب صحابی جنہیں سجدہ کرنے کیلئے عرش اور کرسی سے بھی افضل جگہ ملی

حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک خواب میں یہ دیکھا کہ وہ نبی کریم ﷺ کی پیشانی پر سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ خواب ابو خزیمہ نے آپ ﷺ سے ذکر کیا، آپ ﷺ ایلٹ گئے اور فرمایا: لو اپنا خواب پورا کر لو، انہوں نے آپ ﷺ کی پیشانی مبارک کے اوپر سجدہ کر لیا۔ (ترجمان السنہ جلد ۲ صفحہ ۲۵۸۔ مشکوٰۃ صفحہ ۳۹۶)

﴿۳۵﴾ دو بیویوں میں انصاف کا عجیب قصہ

حضرت یحییٰ بن سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی دو بیویاں تھیں، ان میں سے جس کی باری کا دن ہوتا اس دن دوسری کے گھر سے وضو نہ کرتے، پھر دونوں بیویاں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ملک شام گئیں اور وہاں دونوں اکٹھی بیماری ہوئیں۔ اور اللہ کی شان دونوں کا ایک ہی دن میں انتقال ہوا۔ لوگ اس دن بہت مشغول تھے اس لیے دونوں کو ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے دونوں میں قرعہ ڈالا کہ کس کو قبر میں پہلے رکھا جائے۔

حضرت یحییٰ بن سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی دو بیویاں تھیں جب ایک کے پاس ہوتے تو دوسری کے ہاں سے پانی بھی نہ پیتے۔ (حیاء الصحابہ جلد ۲ صفحہ ۷۶۹)

﴿۳۶﴾ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی احتیاط

حضرت طاؤس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کلبیٹک پڑھتے ہوئے سنا۔ اس وقت ہم لوگ عرفات میں کھڑے تھے، ایک آدمی نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرفات سے کب کوچ فرمایا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: مجھے معلوم نہیں (یہ انہوں نے احتیاط کی وجہ سے فرمایا) لوگ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی اس احتیاط سے بہت حیران ہوئے۔ (حیاء الصحابہ جلد ۲ صفحہ ۷۶۹)

﴿۳۷﴾ مسلمان پر بہتان باندھنے کا عذاب

حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص کسی مومن مرد یا عورت کو اس کے فقر و فاقہ کی وجہ سے ذلیل و حقیر سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کو اولین و آخرین کے مجمع میں رسوا اور ذلیل کریں گے، اور جو شخص کسی مسلمان مرد یا عورت پر بہتان باندھتا ہے اور کوئی ایسا عیب اس کی طرف منسوب کرتا ہے جو اس میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کو آگ کے ایک اونچے نیلے پر کھڑا کریں گے جب تک وہ خود اپنی تکذیب نہ کرے۔ (معارف القرآن جلد ۱ صفحہ ۵۰۱)

### (۳۸) خطوط میں بسم اللہ لکھنا جائز ہے یا ناجائز

خط نویسی کی اصل سنت تو یہی ہے کہ ہر خط کے شروع میں بسم اللہ لکھی جائے لیکن قرآن و سنت کے نصوص و اشارات سے حضرات فقہاء نے یہ کلیہ قاعدہ لکھا ہے کہ جس جگہ بسم اللہ یا اللہ تعالیٰ کا کوئی نام لکھا جائے اگر اس جگہ اس کاغذ کی بے ادبی سے محفوظ رکھنے کا کوئی اہتمام نہیں بلکہ وہ پڑھ کر ڈال دیا جاتا ہے تو ایسے خطوط اور ایسی چیزیں بسم اللہ یا اللہ تعالیٰ کا کوئی نام لکھنا جائز نہیں کہ وہ اس طرح اس بے ادبی کے گناہ کا شریک ہو جائے گا۔

آج کل عموماً ایک دوسرے کو جو خط لکھے جاتے ہیں ان کا حال سب جانتے ہیں کہ نالیوں اور گندگیوں میں پڑے نظر آتے ہیں، اس لیے مناسب یہ ہے کہ ادائے سنت کے لیے زبان سے بسم اللہ کہہ لے تحریر میں نہ لکھے۔ (معارف القرآن جلد ۶ صفحہ ۵۶۷)

### (۳۹) قرآن کی دو آیتیں جس کو تمام مخلوق کی پیدائش سے دو ہزار سال پہلے خود رحمن نے لکھ دیا تھا

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دو آیتیں جنت کے خزانوں میں سے نازل فرمائی ہیں، جس کو تمام مخلوق کی پیدائش سے دو ہزار سال پہلے خود رحمن نے اپنے ہاتھ سے لکھ دیا تھا۔ جو شخص ان کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لے تو وہ اس کے لیے قیام اللیل یعنی تہجد کے قائم مقام ہو جاتی ہیں۔

اور مستدرک حاکم اور بیہقی کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کو ان دو آیتوں پر ختم فرمایا ہے جو مجھے اس خزانہ خاص سے عطا فرمائی ہیں جو عرش کے نیچے ہے اس لیے تم خاص طور پر ان آیتوں کو سیکھو اور اپنی عورتوں اور بچوں کو سکھاؤ۔ اسی لیے حضرت فاروق اعظم اور علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ہمارا خیال یہ ہے کہ کوئی آدمی جس کو کچھ بھی عقل ہو وہ سورہ بقرہ کی ان دونوں آیتوں کو پڑھے بغیر نہ سوائے گا۔ وہ دو آیتیں سورہ البقرہ کی آخری دو آیتیں ہیں۔ (معارف القرآن جلد ۱ صفحہ ۶۹۲)

### (۴۰) حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ ﷺ کا معاملہ

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رمضان کے مہینے میں حضور ﷺ کے ساتھ نماز پڑھی، پھر آپ ﷺ کھڑے ہو کر نہانے لگے تو میں نے آپ ﷺ کے لیے پردہ کیا۔ (غسل کے بعد) برتن میں کچھ پانی بچ گیا۔ حضور ﷺ نے فرمایا: اگر تم چاہو تو اسی سے غسل کر لو اور چاہو تو اس میں اور پانی ملا لو۔ میں نے کہا یا رسول اللہ ﷺ آپ کا بچا ہوا یہ پانی مجھے اور پانی سے زیادہ محبوب ہے۔ چنانچہ میں نے اسی سے غسل کیا اور حضور ﷺ میرے لیے پردہ کرنے لگے تو میں نے کہا آپ ﷺ میرے لیے پردہ نہ کریں۔ حضور ﷺ نے فرمایا: نہیں جس طرح تم نے میرے لیے پردہ کیا اسی طرح میں بھی تمہارے لیے ضرور پردہ کروں گا۔ (حیاء الصحابہ جلد ۲ صفحہ ۸۶۷)

### (۴۱) دعا کی قبولیت کیلئے مجرب عمل

مشائخ و علماء نے ﴿حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ پڑھنے کے فوائد میں لکھا ہے کہ اس آیت کو ایک ہزار مرتبہ جذبہ ایمان و انقیاد کے ساتھ پڑھا جائے اور دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے۔ بجوم افکار و مصائب کے وقت ﴿حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ کا پڑھنا مجرب ہے۔ (معارف القرآن جلد ۲ صفحہ ۲۳۳)

### (۴۲) امت محمدیہ پر تین باتوں کا خوف

ایک حدیث میں آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر تین باتوں کا خوف ہے:

- ① اول یہ کہ مال بہت مل جائے جس کی وجہ سے باہمی حسد میں مبتلا ہو جائیں اور کشت و خون کرنے لگیں۔
- ② دوسری یہ کہ کتاب اللہ سامنے کھل جائے (یعنی ترجمہ کے ذریعہ ہر عوامی اور جاہل بھی اس کے سمجھنے کا مدعی ہو جائے) اور اس میں جو باتیں سمجھنے کی نہیں ہیں یعنی تشابہات ان کے معانی سمجھنے کی کوشش کرنے لگیں، حالانکہ ان کا مطلب اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔
- ③ تیسری یہ کہ ان کا علم بڑھ جائے تو اسے ضائع کر دیں اور علم کو بڑھانے کی جستجو چھوڑ دیں۔ (معارف القرآن جلد ۲ صفحہ ۲۱)

### ﴿۴۳﴾ ہر بلا سے حفاظت

مسند بزار میں اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص شروع دن میں آیت الکرسی اور سورہ مؤمن (کی پہلی تین آیتیں حَمَّہُ سے اِلَیَّہِ الْمَصِیْرُ تک) پڑھ لے گا تو وہ اس دن ہر برائی سے اور تکلیف سے محفوظ رہے گا۔ اس کو ترمذی نے بھی روایت کیا ہے جس کی سند میں ایک راوی متکلم فیہ ہے۔ (تفسیر ابن کثیر جلد ۲ صفحہ ۶۹۔ معارف القرآن جلد ۷ صفحہ ۵۷۱)

### ﴿۴۴﴾ دشمن سے حفاظت

ابوداؤد اور ترمذی میں باسناد صحیح حضرت مہلب بن ابی صفرة رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے ایسے شخص نے روایت کی جس نے خود رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ آپ ﷺ کسی جہاد کے موقع پر رات میں حفاظت کے لیے (فرما رہے تھے کہ اگر رات میں تم پر چھاپہ مارا جائے تو تم "حَمَّہُ لَا یُنْصَرُونَ" پڑھ لینا۔ جس کا حاصل لفظ حَمَّہُ کے ساتھ یہ دعا کرنا ہے کہ ہمارا دشمن کامیاب نہ ہو اور بعض روایت میں "حَمَّہُ لَا یُنْصَرُونَ" بغیر نون کے آیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ جب تم حَمَّہُ کہو گے تو دشمن کامیاب نہ ہوگا اس سے معلوم ہوا کہ حَمَّہُ دشمن سے حفاظت کا قلعہ ہے۔ (ابن کثیر، معارف القرآن جلد ۷ صفحہ ۵۸۲)

### ﴿۴۵﴾ ایک عجیب واقعہ

حضرت ثابت بنانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت مصعب بن زبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کوفہ کے علاقے میں تھا، ایک باغ کے اندر چلا گیا کہ دو رکعت پڑھ لوں۔ میں نے نماز سے پہلے حَمَّہُ الْمُؤْمِنِ کی آیت اِلَیَّہِ الْمَصِیْرُ تک پڑھیں، اچانک دیکھا کہ ایک شخص میرے پیچھے ایک سفید خچر پر سوار کھڑا ہے۔ جس کے بدن پر یمنی کپڑے ہیں۔ اس شخص نے مجھ سے کہا کہ جب تم غَابِرَ الذَّنْبِ کہو تو اس کے ساتھ یہ دعا کرو: "یَا غَابِرَ الذَّنْبِ اغْفِرْ لِي" یعنی اے گناہوں کی مغفرت کرنے والے میری مغفرت کر دے، اور جب تم پڑھو: "قَابِلَ التَّوْبِ" تو یہ دعا کرو: "یَا قَابِلَ التَّوْبِ اِقْبَلْ تَوْبَتِي" یعنی اے توبہ قبول کرنے والے میری توبہ قبول فرما۔ پھر جب پڑھو: "شَدِيدِ الْعِقَابِ" تو یہ دعا کرو: "یَا شَدِيدِ الْعِقَابِ لَا تَعْقِبْنِي" یعنی اسے سخت عقاب والے مجھے عذاب نہ دیجئے۔ اور جب "ذی الطَّوْلِ" پڑھو تو یہ دعا کرو: "یَا ذَا الطَّوْلِ طُلْ عَلَيَّ بِخَيْرٍ" یعنی اے انعام و احسان کرنے والے مجھ پر انعام فرما۔

ثابت بنانی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ نصیحت اس سے سننے کے بعد جو ادر دیکھا تو وہاں کوئی نہ تھا۔ میں اس کی تلاش میں باغ کے دروازے پر آیا۔ لوگوں سے پوچھا کہ ایسا شخص یمنی لباس میں یہاں سے گزرا ہے؟ سب نے کہا کہ ہم نے کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا۔ ثابت بنانی رضی اللہ عنہ کی ایسی روایت میں یہ بھی ہے کہ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ الیاس علیہ السلام تھے، دوسری روایت میں اس کا ذکر نہیں۔ (معارف القرآن جلد ۷ صفحہ ۵۸۲)

### ﴿۴۶﴾ رزق میں برکت کیلئے ایک مجرب عمل

مولانا شاہ عبدالغنی پھولپوری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت حاجی امداد اللہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ جو شخص صبح کو ستر مرتبہ پابندی سے یہ آیت پڑھا کرے وہ رزق کی تنگی سے محفوظ رہے گا اور فرمایا کہ بہت مجرب عمل ہے آیت مندرجہ ذیل ہے:

﴿اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ﴾ (سورۃ الشوریٰ: ۱۹) (معارف القرآن جلد ۷ صفحہ ۷۸)

### ﴿ ۲۷ ﴾ بے دین کو دیندار بنانے کا ایک عجیب فاروقی نسخہ

ابن کثیر نے ابن ابی جاتم کی سند سے نقل کیا ہے کہ اہل شام میں سے ایک بڑا ہارعب قوی آدمی تھا اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس آیا کرتا تھا، کچھ عرصہ وہ نہ آیا تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے اس کا حال پوچھا۔ لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین اس کا حال نہ پوچھئے وہ تو شراب میں مست رہنے لگا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے منشی کو بلایا اور کہا یہ خط لکھو:

(مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِلَى فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ - سَلَّمَ عَلَيْكَ يَا قَاتِلَ أَحْمَدُ إِلَهَكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ غَايِبِ الذَّنْبِ وَ قَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ دِي الطُّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَهِي الْمَصِيرُ)

ترجمہ: ”منجانب عمر بن خطاب بنام فلاں بن فلاں سلام علیک۔ اس کے بعد میں تمہارے لیے؛ اُس اللہ کی حمد پیش کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، گناہوں کو معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا، سخت عذاب والا، بڑی قدرت والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اُسی کی طرف لوٹ کر جاتا ہے۔“

پھر حاضرین مجلس سے کہا کہ سب مل کر اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو پھیر دے اور اس کی توبہ قبول فرمائے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جس قاصد کے ہاتھ یہ خط بھیجا تھا اس کو ہدایت کر دی تھی کہ یہ خط اس کو اس وقت تک نہ دے جب تک وہ نشہ سے ہوش میں نہ آئے اور کسی دوسرے کے حوالے نہ کرے۔

جب اس کے پاس حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا یہ خط پہنچا اور اس نے پڑھا تو بار بار ان کلمات کو پڑھتا اور غور کرتا رہا کہ اس میں مجھے سزا سے ڈرایا بھی گیا ہے اور معاف کرنے کا وعدہ بھی کیا ہے، پھر رونے لگا اور شراب نوشی سے باز آ گیا اور ایسی توبہ کی کہ پھر اس کے پاس نہ گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جب اس اثر کی خبر ملی تو لوگوں سے فرمایا کہ ایسے معاملات میں تم سب کو ایسا ہی کرنا چاہیے کہ جب کوئی بھائی کسی لغزش میں مبتلا ہو جائے تو اس کو درستی پر لانے کی فکر کرو۔ اور اس کو اللہ کی رحمت کا بھروسہ دلاؤ اور اللہ سے اس کے لیے دعا کرو کہ وہ توبہ کر لے اور تم اس کے مقابلے پر شیطان کے مددگار نہ بنو، یعنی اس کو برا بھلا کہہ کر یا غصہ دلا کر دین سے دور کر دو گے تو یہ شیطان کی مدد ہوگی۔ (معارف القرآن جلد ۷ صفحہ ۵۸۲)

### ﴿ ۲۸ ﴾ غزوہ بدر میں بے سرو سامانی

۱۲ رمضان المبارک کو رسول اللہ ﷺ نے منورہ سے روانہ ہوئے۔ تین سو تیرہ یا چودہ یا پندرہ آدمی آپ ﷺ کے ہمراہ تھے، بے سرو سامانی کا یہ عالم تھا کہ اتنی جماعت میں صرف دو گھوڑے اور ستر اونٹ تھے۔ ایک گھوڑا حضرت زبیر بن عوام کا اور ایک حضرت مقداد کا تھا اور ایک ایک اونٹ دو دو اور تین تین آدمیوں میں مشترک تھا۔ عبداللہ بن مسعود جرماتے ہیں کہ بدر میں جاتے وقت ایک اونٹ تین تین آدمیوں میں مشترک تھا، نوبت بنویت سوار ہوتے تھے۔ ابولبابہ اور علی رضی اللہ عنہما رسول اللہ ﷺ کے شریک تھے، جب رسول اللہ ﷺ کے پیادے چلنے کی نوبت آئی تو ابولبابہ اور علی رضی اللہ عنہما عرض کرتے یا رسول اللہ ﷺ آپ سوار ہو جائیے ہم آپ کے بدلہ میں پیادہ چل لیں گے۔ آپ ﷺ یہ ارشاد فرماتے: تم چلنے میں مجھ سے زیادہ قوی نہیں اور میں تم سے زیادہ اللہ کے اجر سے بے نیاز نہیں۔ (سیرت مصطفیٰ جلد ۲ صفحہ ۵)

### ﴿ ۲۹ ﴾ نبی کریم ﷺ کے داماد حضرت ابوالعاص کا درد بھرا قصہ

بدر کے قیدیوں میں رسول اللہ ﷺ کے داماد ابوالعاص بن ربیع رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ نبی کریم ﷺ کی صاحبزادی حضرت زینب

نبی ﷺ جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بطن سے تھیں آپ کی زوجیت میں تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ابوالعاص کی خالہ تھیں، ان کو بمنزلہ اولاد کے سمجھتی تھیں۔ خود حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ ﷺ سے کہا کہ بعثت سے قبل زینب رضی اللہ عنہا کا عقد ابوالعاص سے کیا تھا، ابوالعاص مالدار اور امانت دار اور بڑے تاجر تھے۔ بعثت کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور آپ کی تمام صاحبزادیاں ایمان لائیں مگر ابوالعاص شرک پر قائم رہے، قریش نے ابوالعاص پر بہت زور دیا کہ ابولہب کے بیٹوں کی طرح تم بھی محمد (ﷺ) کی بیٹی کو طلاق دے دو جہاں چاہو گے وہاں تمہارا نکاح کر دیں گے، لیکن ابوالعاص نے صاف انکار کر دیا اور کہا دیا کہ زینب جیسی شریف عورت کے مقابلے میں دنیا کی کسی عورت کو پسند نہیں کرتا۔ جب قریش جنگ بدر کے لیے روزانہ ہوئے تو ابوالعاص بھی ان کے ہمراہ تھے منجملہ اور لوگوں کے آپ بھی گرفتار ہوئے، اہل مکہ نے جب اپنے اپنے قیدیوں کا فدیہ روانہ کیا تو حضرت زینب نے اپنے شوہر ابوالعاص کے فدیہ میں اپنا وہ ہار بھیجا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے شادی کے وقت ان کو دیا تھا۔

نبی کریم ﷺ اس ہار کو دیکھ کر آبدیدہ ہو گئے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا، اگر مناسب سمجھو تو اس ہار کو واپس کر دو اور اس قیدی کو چھوڑ دو، اس وقت تسلیم اور انقیاد کی گردنیں خم ہو گئیں، قیدی بھی رہا کر دیا گیا اور ہار بھی واپس ہو گیا، مگر رسول اللہ ﷺ نے ابوالعاص سے یہ وعدہ لے لیا کہ مکہ پہنچ کر زینب کو مدینہ بھیج دیں، ابوالعاص نے مکہ پہنچ کر زینب کو مدینہ جانے کی اجازت دے دی اور اپنے بھائی کنانہ بن ربیع کے ہمراہ روانہ کیا۔ کنانہ نے عین دوپہر کے وقت حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو اونٹ پر سوار کرایا اور ہاتھ میں تیر کمان لی اور روانہ ہوئے۔ آپ ﷺ کی صاحبزادی کا علی الاعلان مکہ سے روانہ ہونا قریش کو شاق معلوم ہوا۔

چنانچہ ابوسفیان وغیرہ نے ذی طوی میں آ کر اونٹ کو روک لیا اور یہ کہا کہ ہم کو محمد کی بیٹی کو روکنے کی ضرورت نہیں لیکن اس طرح اعلانیہ طور پر لے جانے میں ہماری ذلت ہے، مناسب یہ ہے کہ اس وقت تو مکہ واپس چلو اور رات کے وقت لے کر روانہ ہو جاؤ۔ کنانہ نے اس کو منظور کیا۔ ابوسفیان سے پہلے ہبار بن اسود نے (جو بعد میں چل کر مسلمان ہوئے) جا کر اونٹ روکا اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو ڈرایا۔ خوف سے حمل ساقط ہو گیا اس وقت کنانہ نے تیر کمان سنبھال لی اور یہ کہا کہ جو شخص اونٹ کے قریب بھی آئے گا تیروں سے اس کے جسم کو چھلنی کر دوں گا۔ بغرض کنانہ مکہ واپس آ گئے اور دو تین راتیں گزرنے پر شب کو روانہ ہوئے، ادھر رسول اللہ ﷺ نے زید بن حارثہ اور ایک انصاری رضی اللہ عنہما کو حکم دیا کہ تم جا کر مقام نطن یا حج میں ٹھہرو، جب زینب آ جائیں تو ان کو اپنے ہمراہ لے آنا، یہ لوگ نطن یا حج پہنچے اور ادھر سے کنانہ بن ربیع آتے ہوئے ملے۔ کنانہ وہیں سے واپس ہو گئے اور زید، حارثہ مع اپنے رفیق کے صاحبزادی کو لے کر مدینہ روانہ ہوئے، جنگ بدر کے ایک ماہ بعد مدینہ پہنچیں۔

صاحبزادی آپ ﷺ کے پاس رہنے لگیں، اور ابوالعاص مکہ میں مقیم رہے، فتح مکہ سے قبل ابوالعاص بغرض تجارت شام کی طرف روانہ ہوئے چونکہ اہل مکہ کو آپ کی امانت و دیانت پر اعتماد تھا اس لیے اور لوگوں کا سرمایہ بھی شریک تجارت تھا، شام سے واپس میں مسلمانوں کا ایک دستل گیا، اس نے تمام مال و متاع ضبط کر لیا اور ابوالعاص چھپ کر مدینہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے پاس آ پہنچے۔

رسول اللہ ﷺ جب صبح کی نماز کے لیے تشریف لائے تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے عورتوں کے چہرے سے آواز دی، اے لوگو! میں نے ابوالعاص بن ربیع کو پناہ دی ہے۔ رسول اللہ ﷺ جب نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا:

(اَيُّهَا النَّاسُ! هَلْ سَمِعْتُمْ مَا سَمِعْتُ؟ قَالُوا نَعَمْ! قَالَ اَمَّا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا عَلِمْتُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى سَمِعْتُ مَا سَمِعْتُمْ اِنَّهُ يُجِيرُ عَلَيَّ الْمُسْلِمِينَ اِذَا هُمْ)

ترجمہ: ”اے لوگو! کیا تم نے بھی سنا ہے جو میں نے سنا؟ لوگوں نے کہا: ہاں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: قسم ہے اُس ذات پاک کی کہ محمد کی جان اُس کے ہاتھ میں ہے، مجھ کو اس کا مطلق علم نہیں جو اور جس وقت تم نے سنا وہی میں نے سنا۔ تحقیق خوب سمجھ

لو کہ مسلمانوں میں ادنیٰ سے ادنیٰ اور کتر سے کتر بھی پناہ دے سکتا ہے۔“

اور یہ فرما کر صاحبزادی کے پاس تشریف لے گئے اور یہ فرمایا: اے بیٹی! اس کا اکرام کرنا مگر خلوت نہ کرنے پائے کیونکہ تو اس کے لیے حلال نہیں یعنی تو مسلمان ہے اور وہ مشرک و کافر۔

اور اہل سریہ سے یہ ارشاد فرمایا کہ تم کو اس شخص (یعنی ابوالعاص) کا تعلق ہم سے معلوم ہے، اگر مناسب سمجھو تو ان کا مال واپس کر دو ورنہ وہ اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا فرمایا ہے اور تم ہی اس کے مستحق ہو۔ یہ سنتے ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کل مال واپس کر دیا، کوئی ڈول لاتا تھا اور کوئی رسی، کوئی لوٹا اور کوئی چیزے کا ٹکڑا، غرض یہ کل مال ذرہ ذرہ کر کے واپس کر دیا۔

ابوالعاص کل مال لے کر مکہ روانہ ہوئے اور جس جس کا حصہ تھا اس کا حصہ پورا ادا کیا۔ جب شرکاء کے حصے دے چکے تو یہ فرمایا: رِيَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ! هَلْ بَقِيَ لَاحِدٍ مِّنْكُمْ عِنْدِي مَالٌ يَأْخُذُهُ؟ قَالُوا: لَا فَجَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا فَقَدْ وَجَدْنَاكَ وَالْيَتِيمَا كَرِيمًا، قَالَ: فَاشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَاللَّهِ! مَا مَنَعَنِي مِنَ الْإِسْلَامِ عِنْدَهُ إِلَّا تَخَوُّفٌ أَنْ أَكُلَ أَمْوَالَكُمْ فَلَمَّا آذَاهَا اللَّهُ إِلَيْكُمْ وَفَرَعْتُ مِنْهَا اسْلَمْتُ

ترجمہ: ”اے گروہ قریش! کیا کسی کا کچھ مال میرے ذمہ باقی رہ گیا ہے جو اس نے وصول نہ کر لیا ہو؟ قریش نے کہا: نہیں۔ پس اللہ تجھ کو جزائے خیر دے۔ تحقیق ہم نے تجھ کو وفادار اور شریف پایا۔ کہا پس میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد ﷺ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں اب تک فقط اس لیے مسلمان نہیں ہوا کہ لوگ یہ گمان نہ کریں کہ میں نے مال کھانے کی بنا پر ایسا کیا ہے، جب اللہ نے تمہارا مال تم تک پہنچا دیا اور میں اس ذمہ داری سے سبکدوش ہو گیا تب مسلمان ہوا۔“

بعد ازاں ابوالعاص رضی اللہ عنہ مکہ سے مدینہ چلے آئے رسول اللہ ﷺ نے پھر حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو آپ کی زوجیت میں دے دیا۔

(سیرت مصطفیٰ جلد ۲ صفحہ ۱۱۳)

## (۵۰) صالح بیوی

ایک حدیث میں رسول کریم ﷺ نے فرمایا کہ جو عورت اپنے شوہر کی تابعدار و مطیع ہو اس کے لیے پرندے ہوا میں استغفار کرتے ہیں اور مچھلیاں دریا میں استغفار کرتی ہیں، اور فرشتے آسمانوں میں استغفار کرتے ہیں اور درندے جنگلوں میں استغفار کرتے ہیں۔

(معارف القرآن جلد ۲ صفحہ ۳۹۹)

## (۵۱) ظلم کی تین قسمیں

ظلم کی ایک قسم وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ ہرگز نہ بخشے گا۔ دوسری قسم وہ ہے جس کی مغفرت ہو سکے گی۔ اور تیسری قسم وہ ہے کہ جس کا بدلہ اللہ تعالیٰ لیے بغیر نہ چھوڑے گا۔

پہلی قسم کا ظلم شرک ہے۔ دوسری قسم کا ظلم حقوق اللہ میں کوتاہی ہے۔ اور تیسری قسم کا ظلم حقوق العباد کی خلاف ورزی ہے۔

(معارف القرآن جلد ۲ صفحہ ۵۵۰)

## (۵۲) اسلام میں غمید الفطر کی پہلی نماز

بدر سے مراجعت کے بعد سوال کی کہ آپ ﷺ نے عید کی نماز ادا فرمائی یہ پہلی عید الفطر تھی۔

(ذکر تالی جلد ۲ صفحہ ۲۵۲۔ سیرت مصطفیٰ جلد ۲ صفحہ ۱۱۳)

### (۵۳) وہ صحابی جس نے ایک بھی نماز نہ پڑھی اور وہ جنتی ہیں

عمر بن ثابت جو اُصیبرؓ کے لقب سے مشہور تھے۔ ہمیشہ اسلام سے منحرف رہے، جب اُحد کا دن ہوا تو اسلام دل میں اتر آیا اور تلوار لے کر میدان میں پہنچے اور کافروں سے خوب قتال کیا، یہاں تک کہ زخمی ہو کر گر پڑے۔ لوگوں نے جب دیکھا کہ اُصیبرؓ ہیں تو بہت تعجب ہوا اور پوچھا کہ اسے عمر داتیرے لیے اس لڑائی کا کیا داعی ہوا؟ اسلام کی رغبت یا قومی غیرت و حمیت؟ اُصیبرؓ نے جواب دیا: (بَلْ رَغِبْتُ فِي الْإِسْلَامِ فَأَمَنْتُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَأَسْلَمْتُ وَأَخَذْتُ سَيْفِي وَقَاتَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَصَابَنِي مَا أَصَابَنِي إِنَّهُ لَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ) (رواہ ابن اسحاق و اسنادہ حسن) ترجمہ: ”بلکہ اسلام کی رغبت داعی ہوئی، میں ایمان لایا اللہ اور اس کے رسول ﷺ پر اور مسلمان ہوا اور تلوار لے کر رسول اللہ ﷺ کے ساتھ آپ ﷺ کے دشمنوں سے قتال کیا۔ یہاں تک کہ مجھ کو پوزخ پہنچے۔ یہ کلام ختم کیا اور خود بھی ختم ہو گئے۔ بلاشبہ وہ اہل جنت سے ہے۔“

حضرت ابو ہریرہؓ فرمایا کرتے تھے تھلاؤ وہ کون شخص ہے کہ جو جنت میں پہنچ گیا اور ایک نماز بھی نہیں پڑھی؟ وہ یہی صحابی۔ (اصابہ ترجمہ عمر بن ثابتؓ۔ سیرت مصطفیٰ جلد ۲ صفحہ ۲۳۲)

### (۵۴) ظالم کا ساتھ دینے والا بھی ظالم ہے

تفسیر روح المعانی میں آیت کریمہ ﴿فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ﴾ کے تحت یہ حدیث نقل کی ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا کہ قیامت کے روز آواز دی جائے گی کہ کہاں ہیں ظالم لوگ اور ان کے مددگار؟ یہاں تک کہ وہ لوگ جنہوں نے ظالموں کے دوات، قلم کو درست کیا وہ بھی سب ایک اوہے کے تابوت میں جمع کر کے جہنم میں پھینک دیئے جائیں گے۔ (معارف القرآن جلد ۳ صفحہ ۲۵)

### (۵۵) حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ کی ایک اہم نصیحت

حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے ایک شخص کو خط میں یہ نصائح لکھیں کہ میں تجھے تقویٰ کی تاکید کرتا ہوں، جس کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا اور اہل تقویٰ کے سوا کسی پر رحم نہیں کیا جاتا اور اس کے بغیر کسی چیز پر ثواب نہیں ملتا، اس بات کا وعظ کہنے والے تو بہت ہیں مگر عمل کرنے والے بہت کم ہیں۔

اور حضرت علی مرتضیٰؓ نے فرمایا کہ تقویٰ کے ساتھ کوئی چھوٹا سا عمل بھی چھوٹا نہیں ہے اور جو عمل مقبول ہو جائے وہ چھوٹا کیسے کہا جاسکتا ہے۔ (ابن کثیر، معارف القرآن جلد ۳ صفحہ ۱۱۳)

### (۵۶) جب تک باوجود ہو گے فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ان سے فرمایا: اسے ابو ہریرہؓ! جب تم وضو کرو تو بسم اللہ والحمد للہ کہہ لیا کرو (اس کا اثر یہ ہوگا کہ) جب تک تمہارا وضو باقی رہے گا اس وقت تک تمہارے محافظ فرشتے (یعنی کتابین اعمال) تمہارے لیے برابر نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ (معارف الحدیث جلد ۳ صفحہ ۷۵)

### (۵۷) چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ کی عجیب مثال

مسند احمد میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہؓ نے حضرت معاویہؓ کو ایک خط میں لکھا کہ بندہ جب خدا تعالیٰ کی نافرمانی کرتا

ہے تو اس کے مداح بھی مذمت کرنے لگتے ہیں اور دوست بھی دشمن ہو جاتے ہیں، گناہوں سے بے پرواہی انسان کے لیے دائمی تباہی کا سبب ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا کہ مؤمن جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر اگر توبہ اور استغفار کر لیا تو نقطہ مٹ جاتا ہے اور اگر توبہ نہ کی تو یہ نقطہ بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے پورے دل پر چھا جاتا ہے اور اُس کا نام قرآن میں رین ہے۔

﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ (سورۃ المطففين: آیت ۱۴)

ترجمہ: ”یعنی ان کے دلوں پر زنگ لگا دیا ان کے اعمال بد نے۔“

البتہ گناہوں کے مفاسد اور نتائج بد اور معزز ثمرات کے اعتبار سے ان کے آپس میں فرق ضروری ہے، اس فرق کی وجہ سے کسی گناہ کو کبیرہ اور کسی کو صغیرہ کہا جاتا ہے۔

کسی بزرگ نے فرمایا کہ چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ کی مثال محسوسات میں ایسی ہے جیسے چھوٹا بچھو اور بڑا بچھو، یا آگ کے بڑے انگارے اور چھوٹی چنگاری، کہ انسان ان دونوں میں سے کسی کی تکلیف کو بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اسی لیے محمد بن کعب قرظی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ گناہوں کو ترک کیا جائے، جو لوگ نماز، تسبیح کے ساتھ گناہوں کو نہیں چھوڑتے ان کی عبادت مقبول نہیں۔ اور حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم جس قدر کسی گناہ کو ہلکا سمجھو گے اتنا ہی وہ اللہ کے نزدیک بڑا جرم ہو جائے گا اور سلف صالحین نے فرمایا کہ ہر گناہ کفر کا قاصد ہے جو انسان کو کافرانہ اعمال و اخلاق کی طرف دعوت دیتا ہے۔ (معارف القرآن جلد ۲ صفحہ ۲۸۴)

### ﴿۵۸﴾ خدا تعالیٰ کا ایگریمنٹ جو اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے

كَتَبَ عَلَي نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا فرمایا تو ایک نوشتہ اپنے ذمہ وعدہ کا تحریر فرمایا جو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے جس کا مضمون یہ ہے:

(إِن رَحْمَتِي تَغْلِبُ عَلَى غَضَبِي)

ترجمہ: ”یعنی میری رحمت میرے غضب پر غالب رہے گی۔“ (معارف القرآن جلد ۳ صفحہ ۲۹۰)

### ﴿۵۹﴾ انال اچھے تو حاکم اچھا، اعمال خراب تو حاکم خراب

مشکوٰۃ میں حلیۃ ابی نعیم کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں سب بادشاہوں کا مالک اور بادشاہ ہوں، سب بادشاہوں کے قلوب میرے ہاتھ میں ہیں۔ جب میرے بندے میری اطاعت کرتے ہیں تو میں ان کے بادشاہ بنوں اور حکام کے قلوب میں ان کی شفقت اور رحمت ڈال دیتا ہوں، اور جب میرے بندے میری نافرمانی کرتے ہیں تو میں ان کے حکام کے دل ان پر سخت کر دیتا ہوں، وہ ان کو ہر طرح کا برا عذاب چکھاتے ہیں، اس لیے حکام اور امراء کو برا کہنے میں اپنے اوقات ضائع نہ کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور اپنے عمل کی اصلاح کی فکر میں لگ جاؤ، تاکہ تمہارے سب کاموں کو درست کر دوں۔

### ﴿۶۰﴾ ایک عالمی آفت کا شرعی حکم

نی وی پر بیچ دیکھنا جائز نہیں، اس میں کئی گناہ اور خرابیاں ہیں۔ پہلا گناہ کھینے والوں کی تصاویر تصدق دیکھنے کا ہے جس کو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رضی اللہ عنہ نے جواہر الفقہ جلد ۳ صفحہ ۳۳۹ پر لکھا ہے۔ اور نی وی میں بے شمار لوگوں کی تصاویر ہوتی ہیں۔ اس لیے ہر تصویر کو دیکھنے



دوسرا گناہ کھیل دیکھنے کے دوران وقتاً فوقتاً ان عورتوں کی تصاویر دیکھنے کا ہے جو کھیل دیکھنے کے لیے اسٹیڈیم میں ہوتی ہیں۔ تیسرا گناہ ٹی وی خریدنے اور گھر میں رکھنے کا ہے، اگرچہ اس کو استعمال نہ کیا جائے جیسا کہ فتاویٰ رحمیہ جلد ۶ صفحہ ۲۹۸ پر لکھا ہوا ہے۔ اگر کوئی شخص گانے بجانے کے آلات اور غفلت میں ڈالنے والے سامان اپنے گھر میں رکھے تو یہ رکھنا مکروہ (تحریمی) ہے اور گناہ ہے اگرچہ وہ ان کو استعمال نہ کرے، اس لیے کہ ایسے آلات کو رکھنا عام طور پر دل لگی کے لیے ہوتا ہے۔ (غلامہ الفتاویٰ صفحہ ۲۳۸)

چوتھا گناہ جماعت کی نماز کو چھوڑنے کا ہے جیسا کہ عام طور پر اس کا مشاہدہ کیا جاتا ہے۔

پانچویں خرابی اپنے قیمتی وقت کو برباد کرنا ہوتا ہے۔

چھٹی خرابی لایعنی (بے فائدہ کام) میں اپنے کو مشغول رکھنا ہے جب کہ حدیث میں اسلام کی خوبی یہ بتلائی گئی ہے کہ بے کار کاموں کو چھوڑ دے۔

ساتویں خرابی یہ ہے کہ اس سے دین اور دنیا کے ضروری کاموں سے غفلت پیدا ہو جاتی ہے جیسا کہ مشاہدہ ہے۔

آٹھویں خرابی یہ ہے کہ اس سے ٹی وی سے انسیت پیدا ہوتی ہے، پھر اس کے بعد بہت سے گناہ اور خرابیاں وجود میں آتی ہیں۔

نویں خرابی یہ ہے کہ اس سے روزی میں برکت ختم ہو جاتی ہے کیونکہ ہر گناہ کا یہی اثر ہے۔

دسویں خرابی یہ ہے کہ ٹی وی کے پروگراموں سے دلچسپی رکھنے والے بھلائی کے کاموں سے محروم رہتا ہے۔

مرتب: مفتی محمد آدم صاحب بھیلوٹی

دارالافتاء جامعہ نذیریہ کاوسی

عبدالرحمن کا لیووی غفی عنہ

دارالافتاء دارالعلوم چھاپی

### ﴿۶۱﴾ کو میٹری سے دلچسپی رکھنے کی خرابیاں اور گناہ

پہلا گناہ جماعت کی نماز چھوڑنے کا ہے۔

دوسری خرابی لغو (بے کار کام) میں مشغول ہونا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کامیابی کے لیے ایک شرط یہ بیان فرمائی

ہے کہ لغو کاموں سے دور رہے۔ (پارہ ۱۸، رکوع ۱)

تیسری خرابی یہ ہے کہ اس میں وقت کی ناقدری ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ”والعصر“ میں وقت کی قسم کھا کر اس کی اہمیت اور قدر دانی

کی تعلیم دی ہے۔

چوتھی خرابی یہ ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی یاد اور آخرت کی فکر سے غفلت پیدا ہوتی ہے۔

پانچویں خرابی یہ ہے کہ اس کی وجہ سے دنیا کے ضروری کاموں کا نقصان ہوتا ہے جیسا کہ مشاہدہ ہے۔

مرتب: مفتی محمد آدم صاحب بھیلوٹی

دارالافتاء جامعہ نذیریہ کاوسی

عبدالرحمن کا لیووی غفی عنہ

دارالافتاء دارالعلوم چھاپی

### ﴿۶۲﴾ اللہ اور رسول ﷺ کی لعنت کے مستحق کون لوگ ہیں

ایک حدیث میں رسول اللہ ﷺ ارشاد فرماتے ہیں کہ چھ آدمی ایسے ہیں جن پر میں نے لعنت بھیجی ہے اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر

لعنت کی ہے اور ہر نبی مستجاب الدعوات ہوتا ہے۔ وہ چھ آدمی یہ ہیں:

① اللہ کی کتاب میں زیادتی کرنے والا۔

۱۶ اور وہ شخص جو جبر و قہر سے اقتدار حاصل کر کے اس آدمی کو عزت دے جس کو اللہ نے ذلیل کیا ہو اور جس کو اللہ نے عزت عطا کی ہو اس کو ذلیل کرے۔

۱۷ اللہ کی تقدیر کو جھٹلانے والا۔

۱۸ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھنے والا۔

۱۹ میری اولاد میں وہ آدمی جو محرمات کو حلال کرنے والا ہو۔

۲۰ اور میری سنت کو چھوڑنے والا۔ (مکتوبہ صفحہ ۲۲)

ایک اور حدیث میں آپ ﷺ نے فرمایا:

(لَعْنَةُ اللَّهِ النَّاطِرَ وَالْمَنْظُورَ إِلَيْهِ)

ترجمہ: ”یعنی جو کوئی نامحرم پر بری نظر ڈالے اور جس کے اوپر نظر ڈالے، دونوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے۔“

بشرطیکہ جس پر بری نظر پڑی ہے اس کے ارادہ اور اختیار کو اس میں دخل ہو۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایسے مرد پر لعنت کی ہے جو عورت کا لباس پہنے اور ایسی عورت پر لعنت کی جو مرد کا لباس پہنے۔ (مکتوبہ)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے عرض کیا کہ ایک عورت (مردانہ) جوتا پہنتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ایسی عورت پر لعنت کی ہے جو مردوں کے طور طریق اختیار کرے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے لعنت کی ان مردوں پر جو عورتوں کی طرح شکل و صورت بنا کر بجزے بنیں اور لعنت کی ان عورتوں پر جو شکل و صورت میں مردانہ پن اختیار کریں اور ارشاد فرمایا کہ ان کو اپنے گھروں سے نکال دو۔

بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو گوونے والیوں پر اور گوونانے والیوں پر اور جو برو (یعنی بھوؤں کے بال) چنتی ہیں (تا کہ بھویں باریک ہو جائیں) اور خدا کی لعنت ہو ان عورتوں پر جو حسن کے لیے دانتوں کے

درمیان کشادگی کرتی ہیں جو اللہ کی خلقت کو بدلنے والی ہیں۔ (معارف القرآن جلد ۲ صفحہ ۲۳۵)

### ﴿ ۶۳ ﴾ تا اہل کو کوئی عہدہ سپرد کرنا

ایک حدیث میں رسول کریم ﷺ کا ارشاد ہے کہ: جس شخص کو عام مسلمانوں کی کوئی ذمہ داری سپرد کی گئی ہو پھر اس نے کوئی عہدہ کسی شخص کو محض دوستی و تعلق کی مد میں بغیر اہلیت معلوم کئے ہوئے دے دیا اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، نہ اس کا فرض مقبول ہے نہ نقل، یہاں

تک کہ وہ جنم میں داخل ہو جائے۔ (جمع النوائذ صفحہ ۲۷۵)

بعض روایات میں ہے کہ جس شخص نے کوئی عہدہ کسی شخص کے سپرد کیا حالانکہ اس کے علم میں تھا کہ دوسرا آدمی اس عہدہ کے لیے اس سے زیادہ قابل اور اہل ہے تو اس نے اللہ کی خیانت کی اور رسول اللہ ﷺ کی اور سب مسلمانوں کی، آج جہاں نظام حکومت کی اتھری نظر

آتی ہے وہ سب اس قرآنی تعلیم کو نظر انداز کر دینے کا نتیجہ ہے کہ تعلقات اور سفارشات اور رشوتوں سے عہدے تقسیم کئے جاتے ہیں۔ جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نااہل اور ناقابل لوگ عہدوں پر قابض ہو کر خلق خدا کو پریشان کرتے ہیں اور سارا نظام حکومت برباد ہو جاتا ہے۔ اسی

لیے نبی کریم ﷺ نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا:

(إِنَّا وَسِدَّ الْأَمْرَ إِلَى غَمِّهِمْ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ)

ترجمہ: یعنی ”جب دیکھو کہ کاموں کی ذمہ داری ایسے لوگوں کے سپرد کر دی گئی جو اس کام کے اہل اور قابل نہیں تو اب اس فساد کا کوئی علاج نہیں، قیامت کا انتظار کرو۔“

یہ روایت صحیح بخاری کتاب العلم میں ہے۔ (معارف القرآن جلد ۲ صفحہ ۴۲۶)

### ﴿ ۶۴ ﴾ سورہ انعام کی ایک خاص فضیلت

بعض روایات میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے منقول ہے کہ یہ سورہ (یعنی سورہ انعام) جس مریض پر پڑھی جائے اللہ تعالیٰ اس کو شفا دیتے ہیں۔ (معارف القرآن جلد ۳ صفحہ ۵۱۲)

### ﴿ ۶۵ ﴾ خدا اور آخرت کے خوف سے نکلا ہوا ایک آنسو جہنم کی بڑی سے بڑی آگ بجھا دے گا

امام احمد رحمہ اللہ نے کتاب الزہد میں بروایت حضرت حازم رحمہ اللہ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس ایک مرتبہ جبرئیل امین تشریف لائے تو وہاں کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے خوف سے رو رہا تھا، جبرئیل امین نے فرمایا کہ انسان کے تمام اعمال کا تو وزن ہوگا مگر اللہ و آخرت کے خوف سے رونایا عمل ہے جس کو تولانا جائے گا بلکہ ایک آنسو بھی جہنم کی بڑی سے بڑی آگ کو بجھا دے گا۔ (معارف القرآن جلد ۳ صفحہ ۵۳۳)

### ﴿ ۶۶ ﴾ علماء کے قلم کی روشنائی اور شہیدوں کے خون کا وزن

امام ذہبی رحمہ اللہ نے حضرت عمران بن حصین رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ قیامت کے دن علماء کی روشنائی جس سے انہوں نے علم دین اور احکام دین لکھے ہیں اور شہیدوں کے خون کو تولانا جائے گا تو علماء کی روشنائی کا وزن شہیدوں کے خون کے وزن سے بڑھ جائے گا۔ (معارف القرآن جلد ۳ صفحہ ۵۴۴)

### ﴿ ۶۷ ﴾ ایمان کے بعد سب سے پہلا فرض ستر پوشی ہے

شریعت اسلام جو انسان کی ہر صلاح و فلاح کی کفیل ہے، اس سے ستر پوشی کا اہتمام اتنا کیا کہ ایمان کے بعد سب سے پہلا فرض ستر پوشی کو قرار دیا۔ نماز و روزہ وغیرہ سب اس کے بعد ہیں۔

حضرت عمر فاروق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص نیا لباس پہنے تو اس کو چاہیے کہ لباس پہننے کے وقت یہ دعا پڑھے:

(الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي مَا أُوْكِرِي بِهِ عَوْرَتِي وَأَجْعَلُ بِهِ فِتْنِي حَمَانِي)

ترجمہ: ”یعنی شکر اُس ذات کا جس نے مجھے لباس پہنا دیا جس کے ذریعہ میں اپنے ستر کا پردہ کروں اور زینت حاصل کروں۔“

اور فرمایا کہ جو شخص نیا لباس پہننے کے بعد پرانے لباس کو غرباء و مساکین پر صدقہ کر دے تو وہ اپنی موت و حیات کے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری اور پناہ میں آگیا۔ (ابن کثیر عن مسند احمد۔ معارف القرآن جلد ۳ صفحہ ۵۴۴)

### ﴿ ۶۸ ﴾ مایوس ہو کر دعا مانگنا نہ چھوڑو

ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ بندہ کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے اور جلد بازی نہ کرے۔ نبی کریم ﷺ نے دریافت کیا جلد بازی کا کیا مطلب ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: مطلب یہ ہے کہ یوں خیال کر بیٹھے کہ میں اتنے عرصہ سے دعا مانگ رہا ہوں، اب تک قبول نہیں ہوئی، یہاں تک کہ مایوس ہو کر دعا چھوڑ دے۔ (مسلم ترمذی)

ایک حدیث میں نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے جب دعا مانگو تو اس حالت میں مانگو کہ تمہیں اس کے قبول ہونے میں کوئی

## ﴿۶۹﴾ رسول اللہ ﷺ کی رفاقت کسی رنگ و نسل پر موقوف نہیں

طبرانی نے عجم کبیر میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی یہ روایت نقل کی ہے کہ ایک شخص حبشی نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! آپ ہم سے حسن صورت اور حسین رنگ میں بھی ممتاز ہیں اور نبوت و رسالت میں بھی۔ اب اگر میں بھی اس چیز پر ایمان لے آؤ جس پر آپ ﷺ ایمان رکھتے ہیں اور وہی عمل کروں جو آپ ﷺ کرتے ہیں تو کیا میں بھی جنت میں آپ ﷺ کے ساتھ ہو سکتا ہوں۔

نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ہاں ضرور! (تم اپنی حبشیا بد صورتی سے نہ گھبراؤ) قسم ہے اُس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے جنت میں کالے رنگ کے حبشی سفید اور حسین ہو جائیں گے اور ایک ہزار سال کی مسافت سے چکیں گے۔ اور جو شخص لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا قائل ہو اس کی فلاح و نجات اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہو جاتی ہے اور جو شخص سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ پڑھتا ہے اس کے نامہ اعمال میں ایک لاکھ چوبیس ہزار نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔

یہ سن کر مجلس میں سے ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! جب اللہ تعالیٰ کے دربار میں حسنت کی اتنی سخاوت ہے تو ہم پھر کیسے ہلاک ہو سکتے ہیں یا عذاب میں کیسے گرفتار ہو سکتے ہیں؟

آپ ﷺ نے فرمایا: (یہ بات نہیں) حقیقت یہ ہے کہ قیامت میں بعض آدمی اتنا عمل اور حسنت لے کر آئیں گے کہ اگر ان کو پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو پہاڑ بھی ان کے بوجھ کا تحمل نہ کر سکے۔ لیکن ان کے مقابلہ میں ختم ہو جائیں گے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کو اپنی رحمت سے نوازیں۔ اس حبشی کے سوال و جواب ہی پر سورۃ دہر کی یہ آیت نازل ہوئی۔

﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا﴾ (سورۃ الدھر: ۱)

حبشی نے حیرت سے سوال کیا یا رسول اللہ ﷺ! میری آنکھیں بھی ان نعمتوں کو دیکھیں گی جن کو آپ ﷺ کی مبارک آنکھیں مشاہدہ کریں گی؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں! ضرور۔ یہ سن کر حبشی تو مسلم نے رونا شروع کیا یہاں تک کہ روتے روتے وہیں جان دے دی، اور نبی کریم ﷺ نے اپنے دست مبارک سے اس کی تجنیز و تکفین فرمائی۔ (معارف القرآن جلد ۲ صفحہ ۴۶۹)

## ﴿۷۰﴾ مسجد اور جماعت

﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنَ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَتَمَّ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ﴾ (سورۃ توبہ: ۱۸)

ترجمہ: ”ہاں اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنا ان لوگوں کا کام ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاویں اور نماز کی پابندی کریں اور زکوٰۃ دیں اور بجز اللہ کے کسی سے نہ ڈریں، سو ایسے لوگوں کی نسبت توقع ہے کہ اپنے مقصود تک پہنچ جائیں گے۔“

(بیان القرآن)

عمارت مساجد سے یہ جگہ مراد ہے، ہمیشہ عبادت، ذکر الہی، علم دین اور قرآن کی تعلیم سے مسجدوں کو آباد رکھنا۔

① حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہما راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب تم کسی کو دیکھو کہ وہ مسجد کا عادی بن گیا ہے۔ (جب کام سے چھوٹا ہے مسجد کا رخ کرتا ہے) تو اسے مومن ہونے کی شہادت دو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنَ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ (سورۃ توبہ: ۱۸) (رواہ الترمذی والدارمی والبخاری)

① حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص صبح یا شام مسجد کو جاتا ہے، چھٹی مرتبہ بھی جائے اللہ (ہر مرتبہ جانے کے بدلے میں) اس کے لیے جنت میں ایک مکان تیار کر دیتا ہے۔ (متفق علیہ)

② حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس روز اللہ کے سایہ کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا اس روز سات آدمیوں کو اللہ اپنے سایہ میں لے لے گا، ان سات میں رسول اللہ ﷺ نے اُس آدمی کا شمار کیا کہ جب وہ مسجد سے نکلتا ہے تو واپس مسجد میں آنے تک دل اُس کا مسجد میں ہی اٹکا رہتا ہے۔ (متفق علیہ)

③ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص گھر میں اچھی طرح وضو کرنے کے بعد مسجد کو جاتا ہے وہ اللہ کی ملاقات کو آنے والا (یعنی اللہ کا مہمان) ہو جاتا ہے، اور میزبان پر حق ہے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔

(رداء الطمرانی و عبدالرزاق و ابن جریر فی تفسیر عسما و الصحیح فی شعب الایمان)

④ عمرو بن میمون کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے صحابی فرماتے تھے زمین پر مسجدیں اللہ کے گھر ہیں جو ان مسجدوں میں اللہ کی ملاقات کو آئے اللہ پر حق ہے کہ وہ اُن کی عزت کرے۔ (رداء الطمرانی و عبدالرزاق و ابن جریر فی تفسیر عسما۔ تفسیر طبری جلد ۵ صفحہ ۱۹۸، ۱۹۹)

① حدیث میں ہے کہ مسجدوں کو آباد کرنے والے اللہ والے ہیں۔

② حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اُن مسجد والوں پر نظر ڈال کر اپنا عذاب پوری قوم پر سے ہٹالیتا ہے۔

③ حدیث میں ہے کہ اللہ عزوجل فرماتے ہیں مجھے اپنی عزت کی، اپنے جلال کی قسم کہ میں زمین والوں کو عذاب کرنا چاہتا ہوں لیکن اپنے گھروں کے آباد کرنے والوں اور میرے لیے آپس میں محبت رکھنے والوں اور صبحِ عری کے وقت استغفار کرنے والوں پر نظر ڈال کر اپنے عذاب کو ہٹالیتا ہوں۔

④ ”ابن عساکر“ میں ہے کہ شیطان انسان کا بھیڑیا ہے۔ جیسے بکریوں کا بھیڑیا ہوتا ہے کہ وہ الگ تھلگ پڑی ہوئی ادھر ادھر کی بکری کو پکڑ لے جاتا ہے پس تم پھوٹ اور اختلاف سے بچو، جماعت کو اور عوام کو اور مسجدوں کو لازم پکڑے رہو۔ (تفسیر ابن کثیر جلد ۲ صفحہ ۳۲۸)

﴿اے﴾ اُمت محمدیہ ﷺ کی خاص صفات الواحِ موسیٰ میں،

اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضور ﷺ کا صحابی ہونے کی خواہش

اَخَذَ الْاَلْوَابِحَ کے متعلق حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یارب! میں الواح میں لکھا پاتا ہوں کہ ایک بہترین اُمت ہوگی جو ہمیشہ اچھی باتوں کو سکھاتی رہے گی اور بری باتوں سے روکتی رہے گی۔ اے اللہ! وہ اُمت میری اُمت ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ! وہ تو احمد کی اُمت ہوگی۔

پھر کہا یارب! ان الواح سے ایک ایسی اُمت کا پتہ چلتا ہے جو سب سے آخر میں پیدا ہوگی لیکن جنت میں سب سے پہلے داخل ہوگی، اے خدا! وہ میری اُمت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وہ احمد کی اُمت ہے۔

پھر کہا یارب! اس اُمت کا قرآن ان کے سینوں میں ہوگا دل میں دیکھ کر پڑھتے ہوں گے، حالانکہ ان سے پہلے کے سب ہی لوگ اپنے قرآن پر نظر ڈال کر پڑھتے ہیں دل سے نہیں پڑھتے حتیٰ کہ ان کا قرآن اگر ہٹالیا جائے تو پھر ان کو کچھ بھی یاد نہیں اور نہ وہ کچھ پہچان سکتے ہیں، اللہ نے ان کو حفظ کی ایسی قوت دی ہے کہ کسی اُمت کو نہیں دی گئی۔ یارب! وہ میری اُمت ہو۔ کہا اے موسیٰ! وہ تو احمد کی اُمت ہے۔

پھر کہا یارب! وہ اُمت تیری ہر کتاب پر ایمان لائے گی، وہ گمراہوں اور کافروں سے قتال کریں گے حتیٰ کہ کانے دجال سے بھی

لڑیں گے۔ الہی اوہ میری امت ہو۔ اللہ نے کہا یہ احمد کی امت ہوگی۔

پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا یارب! الواح میں ایک ایسی امت کا ذکر ہے کہ وہ اپنے نذرانے اور صدقات خود آپس کے لوگ ہی کھالیں گے حالانکہ اس امت سے پہلے تک کی امتوں کا یہ حال تھا کہ اگر کوئی صدقہ یا نذر پیش کرتے اور وہ قبول ہوتی تو اللہ آگ کو بھیجتے اور آگ اسے کھا جاتی اور اگر قبول نہ ہوتی اور رو ہو جاتی تو پھر بھی وہ اس کو نہ کھاتے بلکہ درندے اور پرندے آکر کھا جاتے اور اللہ ان کے صدقے ان کے امیروں سے لے کر ان کے غریبوں کو دے گا۔ یارب! وہ میری امت ہو۔ تو فرمایا یہ احمد کی امت ہے۔

پھر کہا یارب! میں الواح میں پاتا ہوں کہ وہ اگر کوئی نیکی کا ارادہ کرے گی لیکن عمل میں نہ لاسکے گی پھر بھی ایک ثواب کی حقدار ہو جائے گی اور اگر عمل میں لائے گی تو دس حصے ثواب ملے گا بلکہ سات سو حصے تک، اے خدا! وہ میری امت ہو، تو فرمایا: وہ احمد کی امت ہے۔

پھر کہا کہ الواح میں ہے کہ وہ دوسروں کی شفاعت بھی کریں گے اور ان کی شفاعت بھی دوسروں کی طرف سے ہوگی۔ اے اللہ! وہ میری امت ہو۔ تو کہا نہیں یہ احمد کی امت ہوگی۔ قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے پھر الواح رکھ دیں اور کہا:

(يَا كَتَبْتَنِي مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)

ترجمہ: ”کاش! میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوتا۔“ (تفسیر ابن کثیر جلد ۲ صفحہ ۲۲۳، ۲۲۴)

تفسیر مظہری میں بھی تقریباً یہی روایت موجود ہے۔

## ﴿ ۷۲ ﴾ کبھی کافر و فاسق کا خواب بھی سچا ہوتا ہے

اور یہ بات بھی قرآن وحدیث سے ثابت اور تجربات سے معلوم ہے کہ سچے خواب بعض اوقات فاسق فاجر بلکہ کافر کو بھی آسکتے ہیں۔ سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے جیل کے دو ساتھیوں کے خواب اور ان کا سچا ہونا۔ اسی طرح بادشاہ مصر کا خواب اور اس کا سچا ہونا، قرآن میں مذکور ہے حالانکہ یہ تینوں مسلمان نہ تھے۔ حدیث میں کسریٰ کا خواب مذکور ہے جو اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے متعلق دیکھا تھا وہ خواب صحیح ہوا حالانکہ کسریٰ مسلمان نہ تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی عاتکہ نے بحالت کفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سچا خواب دیکھا تھا، نیز کافر بادشاہ بخت نصر کے جس خواب کی تعبیر حضرت دانیال علیہ السلام نے دی تھی وہ خواب سچا تھا۔

اس سے معلوم ہوا کہ محض اتنی بات کہ کسی کو کوئی سچا خواب نظر آجائے اور واقعہ اس کے مطابق ہو جائے اس کے نیک صالح بلکہ مسلمان ہونے کی بھی دلیل نہیں ہو سکتی۔ ہاں ایہ صحیح ہے کہ عام عادت اللہ یہی ہے کہ سچے اور نیک لوگوں کے خواب عموماً سچے ہوتے ہیں، فاسق و فجار کے عموماً حدیث حدیث النفس، یا تسویل شیطان کی قسم باطل سے ہوا کرتے ہیں مگر کبھی کبھی۔

بہر حال سچے خواب عام امت کے لیے حسب تصریح حدیث ایک بشارت یا تنبیہ سے زائد کوئی مقام نہیں رکھتے نہ خود اس کے لیے کسی معاملہ میں حجت ہے نہ دوسروں کے لیے۔ بعض ناواقف لوگ ایسے خواب دیکھ کر طرح طرح کے وساوس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کوئی ان کی اپنی ولایت کی علامت سمجھنے لگتا ہے کوئی ان سے حاصل ہونے والی باتوں کو شرعی احکام کا درجہ دینے لگتا ہے یہ سب چیزیں بے بنیاد ہیں۔ خصوصاً جب کہ یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ سچے خوابوں میں بھی بکثرت نفسانی یا شیطانی یا دونوں قسم کے تصورات کی آمیزش کا احتمال ہے۔ (معارف القرآن جلد ۵ صفحہ ۹)

## ﴿ ۷۳ ﴾ چلہ کی فضیلت

ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص چالیس روز اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے قلب سے حکمت کے چشمے جاری فرمادیتے ہیں۔ (روح البیان، معارف القرآن جلد ۲ صفحہ ۵۸)۔

### (۷۴) وہ خوش نصیب صحابی جن کی شکل حضور ﷺ کے مشابہ تھی

غزوہ اُحد میں مسلمانوں کے علمبردار، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ حضور ﷺ کے قریب تھے انہوں نے کافروں کا مقابلہ کیا یہاں تک کہ شہید ہوئے، ان کے بعد آپ ﷺ نے علم (جھنڈا) حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے سپرد فرمایا۔ چونکہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کے مشابہ تھے اس لیے کسی شیطان نے یہ افوازاڑا دی کہ نصیب دشمنوں آپ ﷺ شہید ہو گئے۔ (سیرت مصطفیٰ جلد ۲ صفحہ ۲۰۵)

### (۷۵) ایک اہم نصیحت

- |  |   |
|--|---|
| ① ادب سے علم سمجھ میں آتا ہے۔                                    | ② علم سے عمل صحیح ہوتا ہے۔                      |
| ③ عمل سے حکمت ملتی ہے۔   | ④ حکمت سے زہد قائم ہوتا ہے۔                     |
| ⑤ زہد سے دنیا متروک ہوتی ہے۔                                     | ⑥ اور دنیا کے ترک سے آخرت کی رغبت حاصل ہوتی ہے۔ |
| ⑦ اور آخرت کی رغبت حاصل ہونے سے اللہ کے نزدیک رتبہ حاصل ہوتا ہے۔ |   |

جو یقین کی راہ پر چل پڑے      انہیں منزلوں نے پناہ دی  
جنہیں دوسوں نے ڈرا دیا      وہ قدم قدم پر بہک گئے

### (۷۶) انتقال کے وقت ایک صحابی کے رخسار حضور ﷺ کے قدموں پر

غزوہ اُحد میں زیادہ ابن سکین کو یہ شرف حاصل ہوا کہ جب زخم کھا کر گرے تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ان کو میرے قریب لاؤ لوگوں نے ان کو آپ کے قریب کر دیا انہوں نے اپنے رخسار آپ کے قدم مبارک پر رکھ دیئے اور اسی حالت میں جان اللہ کے حوالے کی۔ **وَأَنَا لِلَّهِ رَاجِعُونَ**۔ (ابن ہشام جلد ۲ صفحہ ۸۳، سیرت مصطفیٰ جلد ۲ صفحہ ۲۰۹)

### (۷۷) چند اہم تسبیحات

- |   |   |
|---|---|
| ◆ سُبْحَانَ اللَّهِ الَّذِي فِي السَّمَاءِ عَرْشُهُ۔  | ترجمہ: ”پاک ہے وہ اللہ جس کا عرش آسمان میں ہے۔“   |
| ◆ سُبْحَانَ اللَّهِ الَّذِي فِي الْأَرْضِ مَوْطِنُهُ۔ | ترجمہ: ”پاک ہے وہ اللہ جس کا فرش زمین میں ہے۔“    |
| ◆ سُبْحَانَ الَّذِي فِي الْبَحْرِ سَبِيلُهُ۔          | ترجمہ: ”پاک ہے وہ جس کی راہ سمندر میں ہے۔“        |
| ◆ سُبْحَانَ الَّذِي فِي الْجَنَّةِ رَحْمَتُهُ۔        | ترجمہ: ”پاک ہے وہ جس کی رحمت جنت میں ہے۔“         |
| ◆ سُبْحَانَ الَّذِي فِي النَّارِ سُلْطَانُهُ۔         | ترجمہ: ”پاک ہے وہ جس کی سلطنت دوزخ میں ہے۔“       |
| ◆ سُبْحَانَ الَّذِي فِي الْهَوَاءِ رَحْمَتُهُ۔        | ترجمہ: ”پاک ہے وہ جس کی رحمت فضا میں ہے۔“         |
| ◆ سُبْحَانَ الَّذِي فِي الْقُبُورِ قَضَاؤُهُ۔         | ترجمہ: ”پاک ہے وہ جس کا فیصلہ قبروں میں ہے۔“      |
| ◆ سُبْحَانَ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاءَ۔                | ترجمہ: ”پاک ہے وہ جس نے آسمان کو بلند کیا۔“       |
| ◆ سُبْحَانَ الَّذِي وَضَعَ الْأَرْضَ۔                 | ترجمہ: ”پاک ہے وہ جس نے زمین کو چھایا۔“           |
| ◆ سُبْحَانَ الَّذِي لَا مَنجِي إِلَّا بِاللَّهِ۔      | ترجمہ: ”پاک ہے وہ جس کے سوا کوئی جائے نجات نہیں۔“ |

ان تسبیحات کو بار بار پڑھئے، اللہ کی پاکی اور عظمت کا اقرار کیجئے اور اپنا عقیدہ پاک رکھئے، انشاء اللہ دونوں جہانوں میں کامیاب رہو گے۔

## ﴿ ۷۸ ﴾ شیطان کے منادی

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب ابلیس زمین پر آنے لگا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا اے پروردگار! تو مجھے زمین پر بھیج رہا ہے اور رائدہ درگاہ کر رہا ہے، میرے لیے کوئی گھر بھی بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تیرا گھر حمام ہے۔ اس نے عرض کیا: میرے لیے کوئی بیٹھک (مجلس) بھی بنا دے۔ فرمایا: بازار اور راستے (تیری بیٹھک ہیں)۔ عرض کیا: میرے لیے کھانا بھی مقرر فرما دے۔ فرمایا: تیرا کھانا ہر وہ چیز ہے جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے۔

عرض کیا میرے پینے کے لیے بھی کوئی چیز مقرر کر دیجئے۔ فرمایا: ہر نشہ آور چیز (تیرا شراب ہے)۔ عرض کیا: مجھے اپنی طرف بلانے کا کوئی ذریعہ بھی عنایت فرما دے۔ فرمایا: باج، تاشے، (تیرے منادی ہیں)۔ عرض کیا: میرے لیے قرآن (بار بار پڑھی جانے والی چیز) بھی بنا دے۔ فرمایا: (گندے) شعر (تیرا قرآن ہیں)۔ عرض کیا: کچھ لکھنے کے لیے بھی دے دے۔ فرمایا: جسم میں گودنا (تیری لکھائی ہے)۔ عرض کیا: میرے لیے کلام بھی مقرر فرما دے۔ فرمایا: جھوٹ (تیرا کلام) ہے۔ عرض کیا: میرے لیے جال بھی بنا دے۔ فرمایا: عورتیں (تیرا جال ہیں)۔ (ندائے نبرہ بحراب جلد ۱ صفحہ ۲۳۹، جامع الاحادیث جلد ۲ صفحہ ۵۸)

فائدہ: اس حدیث کے مطابق میوزک اور غنا شیطان کے منادی اور شیطان کے داعی ہیں۔ آج ہم اپنے گرد و پیش پر نظر ڈالیں تو اللہ کے رسول ﷺ کے اس فرمان کی حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔

## ﴿ ۷۹ ﴾ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی ایک خاص دعا

سُبْحَانَ الْأَبَدِيِّ الْأَبَدِيِّ

پاکی ہے اس ذات کیلئے جو ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہے۔

سُبْحَانَ الْوَّاحِدِ الْوَّاحِدِ

پاکی ہے اس ذات کیلئے جو ایک اور یکتا ہے۔

سُبْحَانَ الْفَرْدِ الصَّمَدِ

پاکی ہے اس ذات کیلئے جو تنہا اور بے نیاز ہے۔

سُبْحَانَ رَاقِعِ السَّمَاءِ بِغَيْرِ عَمَدٍ

پاکی ہے اس ذات کیلئے جو آسمان کو بغیر ستون کے بلند کرنے والا ہے۔

سُبْحَانَ مَنْ بَسَطَ الْأَرْضَ عَلَى مَاءٍ جَمْدٍ

پاکی ہے اس ذات کیلئے جس نے بچھایا زمین کو برف کی طرح جمے ہوئے پانی پر۔

سُبْحَانَ مَنْ خَلَقَ الْخَلْقَ فَأَحْصَاهُمْ عَدْدًا

پاکی ہے اس ذات پاک کیلئے جس نے پیدا کیا مخلوق کو، پس ضبط کیا اور خوب جان لیا

ان کو گن کر۔

سُبْحَانَ مَنْ قَسَمَ الرِّزْقَ فَلَمْ يَنْسَ أَحَدًا

پاکی ہے اس ذات پاک کیلئے جس نے روزی تقسیم فرمائی، اور کسی کو نہ بھولا۔

سُبْحَانَ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا

پاکی ہے اس ذات پاک کیلئے جس نے نہ بیوی اپنائی نہ بچے۔

سُبْحَانَ الَّذِي لَمْ يَكُنْ لَكُمْ يُولَدًا وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ كُفُوًا أَحَدًا

پاکی ہے اس ذات کیلئے جس نے نہ کسی کو جنم نہ وہ جنم لیا، اور نہیں اس کے جوڑ کا کوئی۔

يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدًا

اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے مندرجہ بالا دعا کا اہتمام کیجئے۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو سو (۱۰۰) مرتبہ خواب میں دیکھا، جب سوویں مرتبہ خواب میں دیکھا تو انہوں نے اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ! تیرے بندے تیرا قرب حاصل کرنے کے لیے کیا پڑھیں تو یہ دعا اللہ تعالیٰ نے خواب میں بتلائی۔ (شامی جلد ۱ صفحہ ۱۴۳، مطبوعہ مکتبہ زکریا، دہلی، فتاویٰ رحیمیہ جلد ۷ صفحہ ۱۰۶، ۱۰۷)

نوٹ: صبح و شام یہ دعا سمجھ کر پڑھیں اور مندرجہ بالا دعا میں جن باتوں کی نفی کی گئی ہے ان سے اللہ کو پاک سمجھیں اور جن باتوں کو ثابت کیا گیا ہے ان کو دل سے مانیں، انشاء اللہ قرب خداوندی حاصل ہوگا۔ اگر کوئی شخص عربی دعا نہ پڑھ سکتا ہو تو اردو ترجمہ پڑھے اور دعا



میں اللہ تعالیٰ کی جو صفات بیان کی گئی ہیں ان پر یقین و ایمان رکھے یہی اسلام کی بنیادی تعلیم ہے، اور یہی توحید ہے۔ (عمر امین)

### (۸۰) مناجات عربی

۱	يَا رَبِّ اِنَّ عَظُمَتْ ذُنُوبِي كَثِيرَةً	فَلَقَدْ عَلِمْتُ بِاَنَّ عَفْوِكَ اَعْظَمُ
۲	اِنَّ كُنَّ لَا يَرْجُوَنَّ اِلَّا مُحْسِنٌ	فَمَنْ الَّذِي يَدْعُوْهُ وَيَرْجُوْهُ الْمَجْرُمُ
۳	اَدْعُوكَ رَبِّيْ كَمَا اَمَرْتُمْ تَضَرُّعًا	فَاِلَّا رَدَدْتُمْ بِسَيِّئِيْ فَمَنْ ذَا يَرْحَمُ
۴	مَالِيْ اِلَيْكَ وَبِسِيْلَتِكَ اِلَّا الرَّجَاءُ	بِحَبِيْبِيْ عَفْوِكَ لَمْ اَتِيْ مُسْلِمًا

ترجمہ:

۱ اے میرے پروردگار! اگر میرے گناہ بڑھ گئے (تو کیا ہوا)۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کی معافی میرے گناہوں سے بھی بڑھی ہوئی ہے۔

۲ اگر آپ کی رحمت کے امیدوار صرف نیک ہی ہوں تو گنہگار کسے پکاریں اور کس سے توقع رکھیں؟

۳ اے میرے پروردگار! میں تیرے حکم کے مطابق تجھے زاری و عاجزی سے پکارتا ہوں۔ تو اگر میرا ہاتھ ناکام واپس لوٹا دے گا (یعنی مجھے مایوس کر دے گا) تو کون ہے رحم کرنے والا؟

۴ میرے پاس تو صرف آپ کے بہترین درگزر کی امید کے سوا کوئی سہارا نہیں، پھر بات یہ ہے کہ مسلمان بھی ہوں۔

### (۸۱) فضائل رمضان

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کی رات میں ایک مومن بندہ نماز پڑھتا ہے جس نماز کے ہر سجدہ پر اس کے لیے ڈیڑھ ہزار نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس کے لیے جنت میں سرخ یا قوت کا ایک اتنا بڑا گھر بنایا جاتا ہے جس کے ساتھ ہزار دروازے ہوتے ہیں اور ہر دروازے پر سونے کا ایک محل ہوتا ہے (یعنی گویا ساٹھ ہزار محل بنائے جاتے ہیں) اور پورے ماہ رمضان میں کسی بھی وقت خواہ رات ہو خواہ دن اگر سجدہ کرے تو اس کو ایک اتنا بڑا درخت ملتا ہے جس کے سائے میں سواریاں سو سال تک دوڑتا رہے۔ (الترغیب والترہیب جلد ۲ ص ۹۳)

### (۸۲) عبدالرزاق نامی آدمی کو رزاق کہہ کر پکارنا گناہ ہے

﴿وَدُّوا الَّذِيْنَ يَلْحَدُوْنَ فِيْ اَسْمَائِهِمْ سَبُّوْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ﴾ (سورہ اعراف: ۱۸۰)

ترجمہ: "اور چھوڑ دو ان کو جو کج راہ چلتے ہیں اس کے ناموں میں، ان لوگوں کو ان کے لیے کیے کی ضرور سزا ملے گی۔"

اسماء الہیہ میں تحریف یا بحروی کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں وہ سب اس آیت کے مضمون میں داخل ہیں۔ اول یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ نام استعمال کیا جائے جو قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت نہیں۔ علماء حق کا اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات میں کسی کو یہ اختیار نہیں کہ جو چاہے نام رکھ دے یا جس صفت کے ساتھ چاہے اس کی حمد و ثنا کرے بلکہ صرف وہی الفاظ ہونا ضروری ہیں جو قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ کے لیے بطور نام یا صفت کے ذکر کئے گئے ہیں۔ ①

دوسری صورت الحاد فی الاسماء کی یہ ہے کہ اللہ کے جو نام قرآن و سنت سے ثابت ہیں ان میں سے کسی نام کو نامناسب سمجھ کر چھوڑ دے اس کا بے ادبی ہونا ظاہر ہے۔

① شرح عقائد نسفی اور اس کی شرح نبراس میں ہے۔

تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مخصوص ناموں کو کسی دوسرے شخص کے لیے استعمال کرے، مگر اس میں یہ تفصیل ہے کہ اسماء حسنیٰ میں سے بعض نام ایسے بھی ہیں جن کو خود قرآن و حدیث میں دوسرے لوگوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے اور بعض وہ ہیں جن کو سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی کے لیے استعمال کرنا قرآن و حدیث سے ثابت نہیں۔ اور جن ناموں کا استعمال غیر اللہ کے لیے قرآن و حدیث سے ثابت ہے، وہ نام تو اوروں کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں۔ جیسے رحیم، رشید، علی، کریم، عزیز وغیرہ۔

اور اسماء حسنیٰ میں سے وہ نام جن کا غیر اللہ کے لیے استعمال کرنا قرآن و حدیث سے ثابت نہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہیں، ان کو غیر اللہ کے لیے استعمال کرنا الحاد مذکور میں داخل اور ناجائز و حرام ہے۔ مثلاً رحمن، سبحان، رزاق، خالق، غفار، قدوس وغیرہ۔ پھر ان مخصوص ناموں کو

فَإِنْ قِيلَ نَكَيْفَ يَصِفُ إِطْلَاقُ الْمَوْجُودِ وَالْوَجِبِ وَالْعَزِيمِ وَنَحْوِ ذَلِكَ كَلْفِظِ خُذًا بِالْفَارِسِيَّةِ مِمَّا لَمْ يَرِدْ بِهِ الشَّرْعُ قَلْنَا بِالْإِجْمَاعِ وَهُوَ مِنْ أَدْلَةِ الشَّرْعِ (شرح عقائد صفحہ ۳۱ نمبر اس صفحہ ۱۷۲)

ترجمہ: ”اگر کہا جائے کہ جو نام اور صفات شریعت یعنی قرآن و سنت میں مذکور نہیں مثلاً واجب، قدیم اور فارسی میں لفظ خدا وغیرہ ان کا اللہ تعالیٰ پر اطلاق کیونکر جائز ہے؟ ہم جواب دیں گے کہ ان کا جواز اجماع سے ہے اور اجماع شرعی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے۔“ (عمر ابن)

غیر اللہ کے لیے استعمال کرنا اگر کسی غلط عقیدہ کی بناء پر ہے کہ اس کو ہی خالق یا رزاق سمجھ کر ان الفاظ سے خطاب کر رہا ہے تب تو ایسا کہنا کفر ہے۔ اور اگر عقیدہ غلط نہیں محض بے فکری یا بے سمجھی سے کسی شخص کو خالق، رزاق، یا رحمن، سبحان کہہ دیا تو یہ اگرچہ کفر نہیں مگر مشرکانہ الفاظ ہونے کی وجہ سے گناہ شدید ہے۔

افسوس ہے کہ آج کل عام مسلمان اس غلطی میں مبتلا ہیں، کچھ لوگ تو وہ ہیں جنہوں نے اسلامی نام ہی رکھنا چھوڑ دیئے، ان کی صورت و سیرت سے تو پہلے بھی مسلمان سمجھنا ان کا مشکل تھا، نام سے پہچل جاتا تھا، اب نئے نام انگریزی طرز کے رکھے جانے لگے، لڑکیوں کے نام خواتین اسلام کے طرز کے خلاف خدیجہ، عائشہ، فاطمہ کی بجائے نسیم، شمیم، شہناز، نجمہ پروین ہونے لگے۔ اس سے زیادہ افسوس ناک بات یہ ہے کہ جن لوگوں کے اسلامی نام ہیں، عبدالرحمن، عبدالخالق، عبدالرازق، عبدالغفار، عبدالقدوس وغیرہ، ان میں تخفیف کا یہ غلط طریقہ اختیار کر لیا گیا ہے کہ صرف آخری لفظ ان کے نام کی جگہ پکارا جاتا ہے، رحمن، خالق، رزاق، غفار کا خطاب انسانوں کو دیا جا رہا ہے۔

اور اس سے زیادہ غضب کی بات یہ ہے کہ قدرت اللہ کو اللہ صاحب اور قدرت خدا کو خدا صاحب کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہ سب ناجائز و حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ جتنی مرتبہ یہ لفظ پکارا جاتا ہے، اتنی ہی مرتبہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہوتا ہے اور مننے والا بھی گناہ سے خالی نہیں رہتا۔ یہ گناہ بے لذت اور بے فائدہ ایسا ہے جس کو ہمارے ہزاروں بھائی اپنے شب و روز کا مشغلہ بنائے ہوئے ہیں اور کوئی فکر نہیں کرتے کہ اس ذرا سی حرکت کا انجام کتنا خطرناک ہے۔ جس کی طرف آیت مذکورہ کے آخری جملہ میں تعبیہ فرمائی گئی ہے:

﴿سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (سورہ اعراف: ۱۸۰)

ترجمہ: یعنی ”ان کو اپنے کئے کا بدلہ دیا جائے گا۔“

اس بدلہ کی تعیین نہیں کی گئی، اس ابہام سے عذاب شدید کی طرف اشارہ ہے۔

جن گناہوں میں کوئی دنیوی فائدہ یا لذت و راحت ہے ان میں تو کوئی کہنے والا یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میں اپنی خواہش یا ضرورت سے مجبور ہو گیا، مگر افسوس یہ ہے کہ آج مسلمان ایسے بہت سے فضول گناہوں میں بھی اپنی جہالت یا غفلت سے مبتلا نظر آتے ہیں جن میں نہ

دنیا کا کوئی فائدہ ہے نہ ادنیٰ درجہ کی کوئی راحت و لذت ہے، وجہ یہ ہے کہ حلال و حرام اور جائز و ناجائز کی طرف دھیان ہی نہ رہا۔  
نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْهُ (معارف القرآن جلد ۲ صفحہ ۱۳۱)

### ﴿ ۸۳ ﴾ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بددعا کا اثر

﴿ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَيَّ اَمْوَالَهُمْ ﴾ (سورہ یونس: ۸۸)

ترجمہ: ”اے میرے پروردگار! ان کے اموال کی صورت بدل کر مسخ و بے کار کر دے۔“

حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اس دُعا کا اثر یہ ظاہر ہوا کہ قوم فرعون کے تمام زرو جو اہرات اور نقدی سکے اور باغوں، کھیتوں کی سب پیداوار پتھروں کی شکل میں تبدیل ہو گئی۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں ایک تھیلا پایا گیا جس میں فرعون کے زمانے کی چیزیں تھیں اُن میں اٹھے اور بادام بھی دیکھے گئے جو بالکل پتھر تھے۔ آئمہ تفسیر نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام پھلوں، ترکاریوں اور غلہ کو پتھر بنا دیا تھا۔

(معارف القرآن جلد ۲ صفحہ ۵۶۲)

### ﴿ ۸۴ ﴾ نظر بد کی طرح نظرنیک کا اثر بھی برحق ہے

رسول کریم ﷺ نے اس کی تصدیق فرمائی ہے کہ نظر بد کا اثر حق ہے، ایک حدیث میں ہے کہ نظر بد ایک انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیا میں داخل کر دیتی ہے، اسی لیے رسول کریم ﷺ نے جن چیزوں سے پناہ مانگی اور اُمت کو پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی ہے ان میں ”مِنْ كَلْبٍ عَيْنٍ لَّامِيَةٍ“ بھی مذکور ہے یعنی ”پناہ مانگتا ہوں نظر بد سے۔“ (قرطبی)

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے اہل بن حنیف کا واقعہ معروف ہے کہ انہوں نے ایک موقع پر غسل کرنے کے لیے کپڑے اتارے تو ان کے سفید رنگ، تندرست بدن پر عامر بن ربیعہ کی نظر پڑ گئی اور ان کی زبان سے نکلا کہ میں نے تو آج تک اتنا حسین بدن کسی کا نہیں دیکھا۔ یہ کہنا تھا کہ فوراً اہل بن حنیف کو سخت بخار چڑھ گیا، رسول اللہ ﷺ کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو آپ ﷺ نے علاج تجویز کیا اور عامر بن ربیعہ کو حکم دیا کہ وہ وضو کریں اور وضو کا پانی کسی برتن میں جمع کریں، یہ پانی اہل بن حنیف کے بدن پر ڈالا جائے، ایسا ہی کیا گیا تو فوراً اہل بن حنیف کا بخار اتر گیا اور وہ بالکل تندرست ہو گئے۔ ﴿

اس واقعہ میں آپ ﷺ نے عامر بن ربیعہ کو یہ تشبیہ بھی فرمائی کہ کوئی شخص اپنے بھائی کو کیوں قتل کرتا ہے، جب اُن کا بدن تمہیں خوب نظر آیا تو تم نے برکت کی دعا کیوں نہ کی؟ نظر کا اثر حق ہے۔

اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب کسی شخص کو کسی دوسرے کی جان و مال میں کوئی اچھی بات تعجب انگیز نظر آئے تو اس کو چاہیے کہ اس کے واسطے یہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے۔ بعض روایات میں ہے کہ ”مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ“ کہے اس سے نظر بد کا اثر جاتا رہتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی کی نظر بد کسی کو لگ جائے تو نظر لگانے والے کے ہاتھ پاؤں اور چہرہ کا غسل اس کے بدن پر ڈالنا نظر بد کے اثر کو زائل کر دیتا ہے۔ قرطبی نے فرمایا کہ تمام علماء اہل سنت الجماعت کا اس پر اتفاق ہے کہ نظر بد لگ جانا اور اس سے نقصان پہنچ جانا حق ہے۔

نوٹ: جب بری نظر میں تاثیر ہے تو اچھی نظر کی بھی تاثیر ہو سکتی ہے۔ اولیاء اللہ (اللہ تعالیٰ کے خاص بندے) جب نظر ڈالتے ہیں ہدایت عام ہو جاتی ہے۔ (معارف القرآن جلد ۵ صفحہ ۹۸)

﴿ حضرت اہل بن حنیف اور عامر بن ربیعہ دونوں بدری صحابی ہیں اور یہ روایت مشکوٰۃ شریف میں بھی ہے۔ (صفحہ ۳۹۰) محمد امین

### (۸۵) پاؤں کی تکلیف دور کرنے کا نبوی نسخہ

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم ﷺ نے ایک جماعت یمن بھیجی اور ان میں سے ایک صحابی کو ان کا امیر بنایا جن کی عمر سب سے کم تھی، وہ لوگ کئی دن تک وہاں ہی ٹھہرے اور نہ جاسکے، اس جماعت کے ایک آدمی سے حضور ﷺ کی ملاقات ہوئی۔ حضور ﷺ نے فرمایا: اے فلانے! تمہیں کیا ہوا؟ تم ابھی تک کیوں نہیں گئے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! ہمارے امیر کے پاؤں میں تکلیف ہے۔ چنانچہ آپ ﷺ اس امیر کے پاس تشریف لے گئے اور ”بِسْمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ اَعُوذُ بِاللّٰهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا فِيهَا“ سات مرتبہ پڑھ کر اس آدمی پر دم کیا، وہ آدمی (اسی وقت) ٹھیک ہو گیا۔ (جاء الصحابہ جلد ۲ صفحہ ۷۸)

### (۸۶) روزی میں برکت کے لیے نبوی نسخہ

گھر میں داخل ہو کر سلام کرے، چاہے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، پھر ایک مرتبہ درود شریف پڑھے پھر ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے۔ (صن صین)

### (۸۷) پریشانی دور کرنے کے لیے نبوی نسخہ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ باہر نکلا، اسی طرح کہ میرا ہاتھ آپ ﷺ کے ہاتھ میں تھا۔ آپ ﷺ کا گزر ایک ایسے شخص پر ہوا جو بہت شکستہ حال اور پریشان تھا۔ آپ ﷺ نے پوچھا کہ تمہارا یہ حال کیسے ہو گیا؟ اس شخص نے عرض کیا کہ بیمار یا درنگدستی نے میرا یہ حال کر دیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ میں تمہیں چند کلمات بتاتا ہوں، وہ پڑھو گے تو تمہاری بیماری اور تنگدستی جاتی رہے گی۔ وہ کلمات یہ ہیں:

(تَوَكَّلْتُ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمَلِكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَّلِيٌّ مِنَ الذَّلِّ وَكِبْرَةٌ تَكْبِيرًا)

ترجمہ: ”میں اس زندہ ہستی پر بھروسہ کرتا ہوں جس پر کبھی موت طاری نہیں ہوگی، تمام خوبیاں اسی اللہ کے لیے ہیں جو نہ اولاد رکھتا ہے اور نہ اس کا کوئی سلطنت میں شریک ہے اور نہ کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار ہے اور اس کی خوب بڑائیاں بیان کیا کیجئے۔“

اس کے کچھ عرصہ کے بعد آپ ﷺ اس طرف تشریف لے گئے تو اس کو اچھے حال میں پایا۔ آپ ﷺ نے خوشی کا اظہار فرمایا۔ اس نے عرض کیا کہ جب سے آپ نے مجھے یہ کلمات بتلائے ہیں میں پابندی سے ان کلمات کو پڑھتا ہوں۔ (معارف القرآن جلد ۵ صفحہ ۵۳۱)

### (۸۸) مسلمانوں کے اجتماعی مال میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی احتیاط

① حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں اللہ کے مال کو (یعنی مسلمانوں کے اجتماعی مال کو جو بیت المال میں ہوتا ہے) اپنے لیے یتیم کے مال کی طرح سمجھتا ہوں۔ اگر مجھے ضرورت نہ ہو تو میں اس کے استعمال سے بچتا ہوں، اور اگر مجھے ضرورت ہو تو ضرورت کے مطابق مناسب مقدار میں اسے لیتا ہوں۔

دوسری روایت میں ہے کہ میں اللہ کے مال کو اپنے لیے یتیم کے مال کی طرح سمجھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یتیم کے مال کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا ہے:

﴿ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَالِيْرًا فَلْيَا كُلِّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ (سورہ نساء: آیت ۶)

ترجمہ: ”جو شخص غنی ہو سو وہ تو اپنے کو بالکل بچائے اور جو شخص حاجت مند ہو تو وہ مناسب مقدار سے کھائے۔“

(حیاء الصحابہ جلد ۲ صفحہ ۳۱۱)

حضرت براء بن معرور رضی اللہ عنہ کے ایک بیٹے کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ بیمار ہوئے ان کے لیے علاج میں شہد تجویز کیا گیا اور اس وقت بیت المال میں شہد کی ایک کپی موجود تھی۔ (انہوں نے خود اس شہد کو نہ لیا بلکہ) مسجد جا کر منبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا مجھے علاج کے لیے شہد کی ضرورت ہے، اور شہد بیت المال میں موجود ہے، اگر آپ لوگ اجازت دیں تو میں اسے لے لوں، ورنہ وہ میرے لیے حرام ہے۔ چنانچہ لوگوں نے خوشی سے ان کو اجازت دے دی۔ (حیاء الصحابہ جلد ۲ صفحہ ۳۱۳)

حضرت اسماعیل بن محمد بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بحرین سے مشک اور عنبر آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اللہ کی قسم! میں چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی ایسی عورت مل جائے جو تولنا اچھی طرح جانتی ہو اور وہ مجھے یہ خوشبو تول دے تاکہ میں اُسے مسلمانوں میں تقسیم کر سکوں۔ ان کی بیوی عاتکہ بنت زید بن عمرو بن نقیل رضی اللہ عنہا نے کہا میں تولنے میں بڑی ماہر ہوں، لائیے میں تول دیتی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: نہیں! تم سے نہیں تولوانا۔ انہوں نے کہا: کیوں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: مجھے ڈر ہے کہ تو اسے اپنے ہاتھوں سے ترازو میں رکھے گی (یوں کچھ نہ کچھ خوشبو تیرے ہاتھ کو لگ جائے گی اور کٹی او گردن پر اپنے ہاتھ پھیرے گی اس طرح تجھے مسلمانوں سے کچھ زیادہ خوشبو مل جائے گی۔ (حیاء الصحابہ جلد ۲ صفحہ ۳۱۵)

حضرت مالک بن اوس بن حدثان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس روم کے بادشاہ کا قاصد آیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بیوی نے ایک دینار ادھار لے کر عطر خرید اور شیشیوں میں ڈال کر وہ عطر اس قاصد کے ہاتھ روم کے بادشاہ کی بیوی کو ہدیہ بھیج دیا۔

جب یہ قاصد بادشاہ کی بیوی کے پاس پہنچا اور اُسے وہ عطر دیا تو اس نے وہ شیشیاں خالی کر کے جواہرات سے بھر دیں اور قاصد سے کہا جاؤ، یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بیوی کو دے آؤ

جب یہ شیشیاں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بیوی کے پاس پہنچیں تو انہوں نے شیشیوں سے وہ جواہرات نکال کر بچھونے پر رکھ دیئے۔ اتنے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ گھر آ گئے اور انہوں نے پوچھا کہ کیا ہے؟ ان کی بیوی نے سارا قصہ سنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ تمام جواہرات لے کر بیچ دیئے اور ان کی قیمت میں سے صرف ایک دینار اپنی بیوی کو دیا اور باقی ساری رقم مسلمانوں کے لیے بیت المال میں جمع کرادی۔ (حیاء الصحابہ جلد ۲ صفحہ ۳۱۶)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: ایک مرتبہ میں نے کچھ اونٹ خریدے اور ان کو بیت المال کی چراگاہ میں چھوڑ آیا۔ جب وہ خوب مونے ہو گئے تو میں انہیں بیچنے کے لیے بازار لے آیا۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی بازار تشریف لے آئے اور انہیں مونے مونے اونٹ نظر آئے تو انہوں نے پوچھا یہ اونٹ کس کے ہیں؟ لوگوں نے انہیں بتایا کہ یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے ہیں۔ تو فرمانے لگے اے عبداللہ بن عمر! واہ واہ امیر المؤمنین کے بیٹے کے کیا کہنے! میں دوڑتا ہوا آیا اور میں نے عرض کیا اے امیر المؤمنین! کیا بات ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ اونٹ کیسے ہیں؟ میں نے عرض کیا میں نے یہ اونٹ خریدے تھے اور بیعت المال کی چراگاہ میں چرنے کے لیے بھیجے تھے۔ (اب میں ان کو بازار لے آیا ہوں) تاکہ میں دوسرے مسلمانوں کی طرح انہیں بیچ کر نفع حاصل کر دوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ہاں! بیت المال کی چراگاہ میں لوگ ایک دوسرے کو کہتے ہوں گے، امیر المؤمنین کے بیٹے کے اونٹوں کو

چرا اور امیر المؤمنین کے بیٹے کے اونٹوں کو پانی پلاؤ (میرے بیٹے ہونے کی وجہ سے تمہارے اونٹوں کی زیادہ رعایت کی ہوگی اس لیے) اے عبد اللہ بن عمر! ان اونٹوں کو بچو اور تم نے جتنی رقم میں خریدے تھے وہ تولے لو اور باقی زائد رقم مسلمانوں کے بیت المال میں جمع کرو۔ (حیاء الصحابہ جلد ۲ صفحہ ۳۱۶)

### (۸۹) جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اس کو یہ دعا پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے

حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بریدہ! جس کے ساتھ اللہ پاک خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو مندرجہ ذیل کلمات سکھا دیتے ہیں۔ وہ کلمات یہ ہیں:

(اللَّهُمَّ إِنِّي ضَعِيفٌ فَقَوِّنِي رِضَاكَ ضَعِيفٌ وَخَذُّ إِلَيَّ الْخَيْرِ بِنَاصِيَّتِي وَأَجْعَلِ الْإِسْلَامَ مِنْتَهَى رِضَائِي، اللَّهُمَّ إِنِّي ضَعِيفٌ فَقَدِّنِي وَإِنِّي ذَلِيلٌ فَأَعِزَّنِي وَإِنِّي فَقِيرٌ فَأَغْنِنِي يَا رَحِمَ الرَّحِيمِينَ)

آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس کو اللہ تعالیٰ یہ کلمات سکھاتا ہے پھر وہ مرتے دم تک نہیں بھولتا۔ (احیاء العلوم جلد ۱ صفحہ ۲۷۷)

### (۹۰) قبولیت دعا

حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے قرآن کریم کی ایک ایسی آیت معلوم ہے کہ اس کو پڑھ کر آدمی جو دعا کرتا ہے قبول ہوتی ہے۔ پھر یہ آیت تلاوت فرمائی:

﴿قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَلِيمَ الْغُيُوبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾

(سورہ زمر: ۳۶)

ترجمہ: ”آپ کہئے اے اللہ! آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے! چھپی اور کھلی باتوں کے جاننے والے! آپ ہی اپنے بندوں کے درمیان ان امور میں فیصلہ فرمادیں گے جن میں باہم اختلاف کرتے تھے۔“

(قرطبی، معارف القرآن جلد ۷ صفحہ ۵۶۶)

### (۹۱) مشاجرات صحابہ کے متعلق ایک اہم ہدایت

حضرت ربیع بن عظیم سے کسی نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے ایک آہ بھری اور اس آیت کی تلاوت فرمائی:

﴿قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَلِيمَ الْغُيُوبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾

(معارف القرآن جلد ۷ صفحہ ۵۶۶)

ترجمہ: ”آپ کہئے، اے اللہ! آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے! چھپی اور کھلی باتوں کے جاننے والے! آپ ہی اپنے بندوں کے درمیان ان امور میں فیصلہ فرمادیں گے جن میں باہم وہ اختلاف کرتے تھے۔“

(معارف القرآن جلد ۷ صفحہ ۵۶۶)

### (۹۲) جمعہ کی نماز کے بعد گناہ معاف کروانے کا ایک نبوی نسخہ

جو آدمی جمعہ کی نماز کے بعد سو مرتبہ ”سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِعَدْمِهِ“ پڑھے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پڑھنے والے

کے ایک لاکھ گناہ معاف ہوں گے اور اس کے والدین کے چوبیس ہزار گناہ معاف ہوں گے۔ (۱) (رواہ ابن السنی فی عمل الیوم واللیلہ صفحہ ۳۳۳)

### ﴿۹۳﴾ وضو کے وقت کی خاص دعا

حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص وضو کرتے وقت مندرجہ ذیل دعا کو پڑھتا ہے اس کے لیے مغفرت کا ایک پرچہ لکھ کر اور پھر اس پر مہر لگا کر رکھ دیا جاتا ہے۔ قیامت کے دن تک اس کی مہر نہ توڑی جائے گی اور وہ مغفرت کا حکم برقرار رہے گا:

(سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ) (حسن حصین صفحہ ۱۰۰)

### ﴿۹۴﴾ تین بڑی بیماریوں سے بچنے کا آسان نبوی نسخہ

حضرت قبیصہ بن مخارق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ میں نے عرض کیا میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں یعنی میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں تاکہ مجھے آپ وہ چیز سکھائیں جس سے اللہ تعالیٰ مجھے نفع دے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جس پتھر، درخت اور ڈھیلے کے پاس سے گزرے ہو اس نے تمہارے لیے دعائے مغفرت کی ہے۔ اے قبیصہ! صبح کی نماز کے بعد تین مرتبہ ”سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ“ کہو، اس سے تم اندھے پن، کوڑی پن اور فالج سے محفوظ رہو گے۔ اے قبیصہ! یہ دعا بھی پڑھا کرو:

(اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِمَّا عِنْدَكَ وَأَقْضُ عَلَيَّ مِنْ فَضْلِكَ وَأَنْشُرُ عَلَيَّ مِنْ رَحْمَتِكَ وَأَنْزِلْ عَلَيَّ مِنْ بَرَكَاتِكَ)  
ترجمہ: ”اے اللہ! میں ان نعمتوں میں سے مانگتا ہوں جو تیرے پاس ہیں، اور اپنے فضل کی مجھے پر بارش کر اور اپنی رحمت مجھ پر پھیلا دے اور اپنی برکت مجھ پر نازل کر دے۔“ (حیاء الصحابہ جلد ۳ صفحہ ۱۷۹)

### ﴿۹۵﴾ شیطان کا پیشاب انسان کے کان میں

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی کا ذکر کیا گیا کہ وہ صبح تک سوتا ہی رہتا ہے نماز کے لیے بھی نہیں اٹھتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

(ذَلِكَ رَجُلٌ بَالَ الشَّيْطَانَ فِي أُذُنِهِ) (بخاری مسلم)

ترجمہ: ”یہ ایسا آدمی ہے جس کے کانوں میں شیطان پیشاب کر جاتا ہے۔“ (تاریخ جنات و شیطاں صفحہ ۳۸۵)

### ﴿۹۶﴾ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قبر میں منکر نکیر سے سوال کرنا

ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم! جس نے مجھے حق دے کر بھیجا ہے، مجھے حضرت جبرئیل علیہ السلام نے بتایا ہے کہ منکر نکیر قبر میں تمہارے پاس آئیں گے اور تم سے سوال کریں گے: مَنْ رَبُّكَ؟ اے عمر! تیرا رب کون ہے؟ تو تم جواب میں ہو گے میرا رب اللہ ہے! تم بتاؤ تم دونوں کا رب کون ہے؟ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں، تم دونوں کے نبی کون ہیں؟ اور اسلام میرا دین ہے۔ تم دونوں کا دین کیا ہے؟ اس پر وہ دونوں کہیں گے، دیکھو کیا عجیب بات ہے، ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہے کہ ہمیں تمہارے پاس بھیجا گیا ہے یا تمہیں ہمارے پاس بھیجا گیا ہے۔ (حیاء الصحابہ جلد ۳ صفحہ ۹۹)

﴿۱﴾ بخاری اور مسلم شریف کی روایت سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ فِي يَوْمٍ مَلَأَهُ مَرْءًا حَطَّتْ عَطَايَاكَ وَأَنْ كَانَتْ مِثْلَ زَيْدِ الْبَحْرِ (مشفق علیہ مشکوٰۃ صفحہ ۲۰۰)

ترجمہ: ”جس نے ایک دن میں سو مرتبہ کہا سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔“ (محمد امین)

## (۹۷) پانچ جملے دنیا کے لیے، پانچ جملے آخرت کے لیے

حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جس کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس شخص نے مندرجہ ذیل دس کلمات کو نماز فجر کے وقت (پہلے یا بعد میں) کہا تو وہ شخص ان کلمات کو پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ کو اس کے حق میں کافی اور کلمات پڑھنے اور اجر و ثواب دیتے ہوئے پائے گا۔ پہلے پانچ کلمات دنیا سے متعلق ہیں اور باقی پانچ آخرت سے متعلق ہیں۔

دنیا کے متعلق پانچ یہ ہیں:

- |   |  |
|---|--|
| ① حَسْبِيَ اللَّهُ لِيُغْنِيَ           | ترجمہ: "کافی ہے مجھ کو اللہ، میرے دین کے لیے۔"                                       |
| ② حَسْبِيَ اللَّهُ لِيَأْتَنِي          | ترجمہ: "کافی ہے مجھ کو اللہ، میرے کل کے لیے۔"  |
| ③ حَسْبِيَ اللَّهُ لِيَمُنَّ بِي عَلَى  | ترجمہ: "کافی ہے مجھ کو اللہ، اس شخص کے لیے جو مجھ پر زیادتی کرے۔"                    |
| ④ حَسْبِيَ اللَّهُ لِيَنْحَسِبُنِي      | ترجمہ: "کافی ہے مجھ کو اللہ اس شخص کے لیے جو مجھ پر حسد کرے۔"                        |
| ⑤ حَسْبِيَ اللَّهُ لِيَنْكَانِي بِسُوءٍ | ترجمہ: "کافی ہے مجھ کو اللہ، اس شخص کے لیے جو دھوکہ اور فریب دے مجھے برائی کے ساتھ۔" |

اور آخرت کے پانچ یہ ہیں:

- |   |  |
|---|--|
| ① حَسْبِيَ اللَّهُ عِنْدَ الْمَوْتِ                   | ترجمہ: "کافی ہے مجھ کو اللہ، موت کے وقت۔"  |
| ② حَسْبِيَ اللَّهُ عِنْدَ الْمَسْأَلَةِ فِي الْقَبْرِ | ترجمہ: "کافی ہے مجھ کو اللہ، قبر میں سوال کے وقت۔"   |
| ③ حَسْبِيَ اللَّهُ عِنْدَ الْمِيزَانِ                 | ترجمہ: "کافی ہے مجھ کو اللہ، میزان کے پاس (یعنی اس ترازو کے پاس جس میں نامہ اعمال کا وزن ہوگا)۔" |

④ حَسْبِيَ اللَّهُ عِنْدَ الصِّرَاطِ

⑤ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ

ترجمہ: "کافی ہے مجھ کو اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر توکل کیا اور میں اس کی طرف رجوع کرتا ہوں۔"

(درمشور جلد ۲ صفحہ ۱۰۳)

## (۹۸) قید سے چھٹکارے کا نبوی نسخہ

سیرت ابن اسحاق میں ہے کہ حضرت عوف انجلی رضی اللہ عنہ کے لڑکے حضرت سالم رضی اللہ عنہ جب کافروں کی قید میں تھے تو حضور ﷺ نے فرمایا ان سے کہلو اور کہ بکثرت لا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ پڑھتے رہیں۔

ایک دن اچانک بیٹھے بیٹھے ان کی قید کھل گئی اور یہ وہاں سے نکل بھاگے اور ان لوگوں کی ایک اونٹنی ہاتھ لگ گئی جس پر سوار ہوئے، راستے میں ان کے اونٹوں کے ریوڑ ملے، انہیں اپنے ساتھ ہنکالائے۔

وہ لوگ پیچھے دوڑے لیکن یہ کسی کے ہاتھ نہ لگے، سیدھے اپنے گھر آئے اور دروازے پر کھڑے ہو کر آواز دی۔ باپ نے آواز سن کر فرمایا: اللہ کی قسم! یہ تو سالم ہے۔ ماں نے کہا: ہائے وہ کہاں! وہ تو قید و بند کی مصیبتیں جھیل رہا ہوگا۔ اب دونوں ماں باپ اور خادم دروازے کی طرف دوڑے، دروازہ کھولا، دیکھا تو ان کے لڑکے سالم رضی اللہ عنہ ہیں اور تمام انگنائی اونٹوں سے بھری پڑی ہے۔ پوچھا کہ یہ اونٹ کیسے ہیں؟ انہوں نے واقعہ بیان کیا تو فرمایا: اچھا ٹھہرو میں حضور ﷺ سے ان کی بابت مسئلہ دریافت کر آؤں۔ نبی کریم ﷺ نے



فرمایا یہ سب تمہارا ہے جو چاہو کرو۔ (تفسیر ابن کثیر جلد ۵ صفحہ ۳۷۶)

### (۹۹) مصائب سے نجات اور مقاصد کے حصول کا مجرب نسخہ

حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے عوف بن مالک رضی اللہ عنہما کو مصیبت سے نجات اور حصول مقصد کے لیے یہ تلقین فرمائی کہ کثرت کے ساتھ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ پڑھا کریں۔

حضرت مجدد الف ثانی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دینی اور دنیاوی ہر قسم کے مصائب اور معزوتوں سے بچنے اور منافع و مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اس کلمہ کی کثرت بہت مجرب عمل ہے اور اس کثرت کی مقدار حضرت مجدد رضی اللہ عنہ نے یہ بتلائی ہے کہ روزانہ پانچ سو مرتبہ یہ کلمہ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ پڑھا کرے، اور سو مرتبہ درود شریف اس کے اول اور آخر میں پڑھ کر اپنے مقصد کے لیے دعا کیا کرے۔

(تفسیر مظہری، معارف القرآن جلد ۸ صفحہ ۳۸۸)

### (۱۰۰) چوتھے آسمان کے فرشتے کو مدد کیلئے حرکت میں لانے والی دعا

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ کے ایک صحابی کی کنیت ابو معلق تھی اور وہ تاجر تھے، اپنے اور دوسروں کے مال سے تجارت کیا کرتے تھے اور وہ بہت عبادت گزار اور پرہیزگار تھے۔ ایک مرتبہ وہ سفر میں گئے۔ انہیں راستہ میں ایک ہتھیاروں سے مسلح ڈاکو ملا۔ اس نے کہا! اپنا سارا سامان یہاں رکھ دو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ اُس صحابی نے کہا تمہیں مال لینا ہے وہ لے لو۔ ڈاکو نے کہا: نہیں میں تمہارا خون بہانا چاہتا ہوں۔ اُس صحابی نے کہا: مجھے ذرا مہلت دو میں نماز پڑھ لوں۔ اُس نے کہا: جتنی پڑھنی ہے پڑھ لو۔ چنانچہ انہوں نے وضو کر کے نماز پڑھی اور یہ دعائیں مرتبہ مانگی:

(يَا وَدُودُ! ذَا الْعَرْشِ الْمَجِيدِ يَا فَعَالٍ لِمَا يُرِيدُ اسْئَلُكَ بِعِزَّتِكَ الَّتِي لَا تَرَاكُ وَمَلِكِكَ الَّذِي لَا يُضَاهَى وَيَبُورِكَ الَّذِي مَلَأَ أَرْكَانَ عَرْشِكَ أَنْ تَكْفِيَنِي شَرَّ هَذَا الْبَلِّصِ، يَا مَغِيثُ اغْثِنِي ۱)

تو اچانک ایک گھڑسوار نمودار ہوا جس کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا جسے اٹھا کر وہ اپنے گھوڑے کے کانوں کے درمیان بٹند کیے ہوئے تھا، اس نے اس ڈاکو کو نیزہ مار کر قتل کر دیا، پھر وہ اس تاجر کی طرف متوجہ ہوا۔ تاجر نے پوچھا تم کون ہو؟ اللہ نے تمہارے ذریعہ سے میری مدد فرمائی۔ اس نے کہا میں چوتھے آسمان کا فرشتہ ہوں، جب آپ نے (پہلی مرتبہ) دعا کی تو میں نے آسمان کے دروازوں کی کھڑکھڑاہٹ سنی، جب آپ نے دوبارہ دعا کی میں نے آسمان والوں کی چیخ و پکار سنی، پھر آپ نے تیسری مرتبہ دعا کی تو کسی نے کہا یہ ایک مصیبت زدہ کی دعا ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اس ڈاکو کو قتل کرنے کا کام میرے ذمہ کر دیں۔ پھر اس فرشتے نے کہا آپ کو خوشخبری ہو کہ جو آدمی بھی وضو کر کے چار رکعت نماز پڑھے اور پھر یہ دعا مانگے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوگی، چاہے وہ مصیبت زدہ ہو یا نہ ہو۔ (حیاء الصحابہ جلد ۲ صفحہ ۱۷۶)

### (۱۰۱) تلاوت قرآن کے وقت خاموش نہ رہنا کفار کا شیوہ ہے

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ﴾ (سورہ حم اسجدہ: ۲۶)

ترجمہ: "اور کافر یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو سنو ہی مت، اور اس کے بیچ میں غل مچا دیا کرو، شاید تم ہی غالب رہو۔"

آیت مذکورہ سے معلوم ہوا کہ تلاوت قرآن میں خلل ڈالنے کی نیت سے شور و غل کرنا کفر کی علامت ہے، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ خاموش ہو کر سناؤ واجب اور ایمان کی علامت ہے۔ آج کل ریڈیو پر تلاوت قرآن پاک نے ایسی صورت اختیار کر لی ہے کہ ہر ہونٹ اور

جمع کے مواقع میں ریڈ پوکھولا جاتا ہے، جس میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو، اور ہوٹل والے خود اپنے دھندوں میں لگے رہتے ہیں اور کھانے پینے والے اپنے مشغل میں، اس کی صورت وہ بن جاتی ہے جو کفار کی علامت تھی۔

اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت فرمائیں کہ یا تو ایسے مواقع میں تلاوت قرآن کے لیے ریڈ پونہ کھولیں، اگر کھولنا ہے اور برکت حاصل کرنا ہے تو چند منٹ سب کام بند کر کے خود بھی اس طرف متوجہ ہو کر سنیں اور دوسروں کو بھی اس کا موقع دیں۔ (معارف القرآن جلد ۷ صفحہ ۱۳۷)

### ﴿ ۱۰۲ ﴾ انڈا اخلال ہے، اس کی دلیل

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور شروع میں آنے والوں کے نام یکے بعد دیگرے لکھتے ہیں، اور اول وقت دوپہر میں آنے والے کی مثال اُس شخص کی سی ہے جو اللہ تعالیٰ کے حضور میں اونٹ کی قربانی پیش کرتا ہے، پھر اُس کے بعد دوم نمبر پر آنے والے کی مثال اُس شخص کی سی ہے جو گائے پیش کرتا ہے، پھر اُس کے بعد آنے والے کی مثال مینڈھا پیش کرنے والے کی، اُس کے بعد آنے والے کی مثال مرغی پیش کرنے والے کی، اُس کے بعد آنے والے کی مثال انڈا پیش کرنے والے کی۔

پھر جب امام خطبہ کے لیے منبر کی طرف جاتا ہے تو یہ فرشتے اپنے لکھنے کے دفتر لیٹ لیتے ہیں اور خطبہ سننے شریک ہو جاتے ہیں۔ (صحیح بخاری صحیح مسلم)

### ﴿ ۱۰۳ ﴾ پرانے ہوں تو ایسے ہوں

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ آپ ﷺ کی قبر مبارک پر کھڑے رو رہے تھے، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا: میں نے ایک حدیث سنی تھی کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو متقی ہوں اور چھپے ہوئے ہوں، ایسے کہ اگر مجلس میں آئیں تو کوئی ان کو نہ پہچانے اور اگر مجلس میں نہ ہوں تو کوئی نہ ڈھونڈے کہ فلاں صاحب کہاں گئے؟ مجلس میں کیوں نہ آئے؟ ان کے دل ہدایت کے چراغ ہیں، ہر قسم سے محفوظ رہیں گے۔ پرانے ہوں تو ایسے ہوں کام خوب کریں تعلق مع اللہ بہت ہو۔ مگر چھپے ہوئے ہوں، زمین پر زیادہ لوگ نہ پہچانتے ہوں۔ آسمان پر سب جانتے ہوں۔

اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْهُمْ وَمَعَهُمْ (حیاء الصحابہ جلد ۲ صفحہ ۷۸۵)

### ﴿ ۱۰۴ ﴾ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے درمیان نوک جھونک،

#### آپ ﷺ نے دونوں کو نبھا لیا، آپ ﷺ نے دونوں کی فضیلت بیان فرمائی

حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے شکایت کی آپ ﷺ سے کہ خالد رضی اللہ عنہ ہمیشہ مجھ سے تو تو میں میں کرتے رہتے ہیں، آپ ﷺ نے خالد سے فرمایا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو کچھ نہ کہو اس لیے کہ یہ بدری ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ حضرت! یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مجھے بھی کوستے رہتے ہیں، آپ ﷺ نے ابن عوف سے فرمایا کہ خالد کو کچھ نہ کہو اس لیے کہ یہ اللہ کی تلوار ہے۔

فائدہ: آپ ﷺ نے دونوں کی تعریف کر دی، دونوں کو نبھا بھی لیا۔ ساتھیوں کی آپس میں تو تو میں میں ہو جائے تو ذمہ دار دونوں کی تعریف کرے اور دونوں کو نبھالے۔ (حیاء الصحابہ جلد ۲ صفحہ ۳۸۳)

(۱۰۵) پرانے قربانیاں دینے والے ساتھیوں کی اولاد کی رعایت اور  
اُن کے ساتھ حسن سلوک ضروری ہے، ورنہ نفل عبادت قبول ہوگی نہ فرض

حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے تشریف لے جانے کا وقت قریب آیا تو حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وصیت فرمادیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مہاجرین میں سے جو سابقین اولین ہیں میں تمہیں ان کے ساتھ اور ان کے بعد ان کی اولاد کے ساتھ اچھے سلوک کی وصیت کرتا ہوں، اگر تم اس وصیت پر عمل نہیں کرو گے تو تمہارا نہ نقلی عمل قبول ہوگا اور نہ فرض عمل قبول ہوگا۔ (حیاۃ الصحابہ جلد ۲ صفحہ ۴۸۵)

فائدہ: دین کا کام کرنے والے ساتھیوں کی اولاد کی رعایت ضروری ہے، سب سے اچھا سلوک یہ ہے کہ اُن کو بھی دعوت کے کام میں محنت سے چلایا جائے اور خیر خواہی کا معاملہ کیا جائے۔

(۱۰۶) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شلوار استعمال کی ہے اس کی دلیل

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار درہم میں ایک شلوار خریدی میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ شلوار پہنیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں! دن رات سفر و حضر میں پہنوں گا، کیونکہ مجھے ستر ڈھانکنے کا حکم دیا گیا ہے اور مجھے اس سے زیادہ ستر ڈھانکنے والی کوئی چیز نہ ملی۔ (حیاۃ الصحابہ جلد ۲ صفحہ ۷۰۷)

(۱۰۷) وہ خوش نصیب صحابی جن کا انتقال مدینہ منورہ میں ہوا فرشتے ان کے جنازہ کو لے کر تبوک پہنچے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ کی نماز تبوک میں پڑھی

معاویہ بن معاویہ لیشی انصاری کا انتقال مدینہ میں ہوا۔ حضرت جبرئیل علیہ السلام ستر ہزار فرشتوں کو لے کر مدینہ آئے، ان کے جنازہ کو لے کر تبوک روانہ ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے جنازہ کی نماز تبوک میں پڑھی اور جنازہ واپس مدینہ لایا گیا اور تدفین یثرب میں ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرئیل علیہ السلام سے پوچھا یہ اعزاز کیوں ملا؟ فرمایا کہ کثرت سے سورۃ اخلاص پڑھا کرتے تھے اس لیے یہ اعزاز ملا۔ (تفسیر رازی فی تفسیر قل موئذ احد)

(۱۰۸) میت پر رونے والی کو عذاب

نوحہ کرنے والی نے اگر اپنی موت سے پہلے توبہ نہ کر لی، تو اسے قیامت کے دن گندھک کا کرتا اور کھلی کا دوپٹہ پہنایا جائے گا۔ مسلم شریف میں بھی یہ حدیث ہے۔ اور یہ بھی روایت میں ہے کہ وہ جنت دوزخ کے درمیان کھڑی کی جائے گی۔ گندھک کا کرتہ ہوگا اور منہ پر آگ کھیل رہی ہوگی۔ (تفسیر ابن کثیر جلد ۳ صفحہ ۸۵)

(۱۰۹) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا

حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ارادہ کرتے کہ کسی مردے کو زندہ کریں تو دو رکعت نماز پڑھتے، پہلی رکعت میں ﴿تَبٰرَكَ الَّذِي يَشْفِي الْمَلُوكَ...﴾ اور دوسری رکعت میں ﴿اَلَمْ تَنْسِبْ﴾ پڑھتے، پھر اللہ کی حمد و ثناء کرتے، پھر یہ سات اسماء باری باری پڑھتے "يَا حَيُّ، يَا قَيُّوْمُ، يَا كَافِيُّ، يَا قَرِيْبُ، يَا وَرَثَةُ يَاقُوْمٍ، يَا صَمَدٌ" اور اگر کوئی سخت پریشانی لاحق ہو جاتی تو یہ سات نام لے کر دعا کرتے۔ "يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ، يَا اَللّٰهُ يَا رَحْمٰنُ، يَا اَلْجَلِيْلُ وَالْاَكْرَمُ، يَا كُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ يَا رَبِّ"۔

یہ زبردست اثر والے نام ہیں۔ (تیسرا باب کثیر جلد ۲ ص ۳۶)

### (۱۱۰) مردوں اور عورتوں کے غصہ اور لڑائی میں فرق

مردوں کے مزاج میں حرارت ہوتی ہے اس واسطے ان کی ناراضگی اور غصہ کا اثر مارنے پٹنے چلانے وغیرہ کی صورت میں ظاہر ہو جاتا ہے، اور عورتوں کی فطرت میں حیا و بردت رکھی گئی ہے اس واسطے ناراضگی کا اثر ظاہر نہیں ہوتا ورنہ درحقیقت ناراضگی میں عورتیں مردوں سے کچھ کم نہیں بلکہ زیادہ ہیں۔ پس ان کو ایسے موقع پر بھی غصہ آ جاتا ہے جہاں مردوں کو نہیں آتا کیونکہ ان کی عقل میں نقصان ہے تو ان کے غصہ کے مواقع بھی زیادہ ہیں۔

اس کے علاوہ چیخنے چلانے کی نسبت بیٹھا غصہ دیر پا ہوتا ہے اور چیخنے چلانے والوں کا غصہ اُبال کی طرح سے اُٹھ کر دب جاتا ہے، اور بیٹھا غصہ دل کے اندر جمع رہتا ہے، اس کو کینہ کہتے ہیں، کینہ کا منشاء غصہ ہے، سو ایک عیب تو وہ غصہ تھا اور دوسرا عیب یہ کینہ ہے، تو بیٹھے غصے میں دو عیب ہیں اور کینہ میں ایک عیب اور ہے کہ جب غصہ نکلا نہیں تو اس کا شمار دل میں بھرا رہتا ہے اور بات، بہانہ اور رنجیدگیوں پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں تو کینہ صرف ایک گناہ نہیں ہے بلکہ بہت سے گناہوں کی جڑ ہے۔ اور کینہ بیٹھے غصہ میں ہوتا ہے اور بیٹھا غصہ عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے تو عورتوں کا غصہ ہزاروں گناہوں کا سبب ہے مردوں کا غصہ ایسا نہیں ہے، مردوں کا غصہ جو شیلہ اور عورتوں کا غصہ بیٹھا ہے۔ (غواہ المغضب ص ۲۲، خزندہ ج ۱ ص ۷۷)

### (۱۱۱) عورتیں تین قسم کی ہوتی ہیں

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عورتیں تین قسم کی ہوتی ہیں:

- ① ایک عورت تو وہ ہے جو پاک دامن، مسلمان، نرم طبیعت، محبت کرنے والی زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہو اور زمانہ کے فیشن کے خلاف اپنے گھر والوں کی مدد کرتی ہو (سادہ رہتی ہو) اور گھر والوں کو چھوڑ کر زمانہ کے فیشن پر نہ چلتی ہو لیکن تمہیں ایسی عورتیں کم ملیں گی۔
- ② دوسری وہ عورت ہے جو خاوند سے بہت مطالبہ کرتی ہو اور بچے جننے کے علاوہ اس کا اور کوئی کام نہیں۔
- ③ تیسری وہ عورت ہے جو خاوند کے گلے کا طوق ہو اور جنوں کی طرح چٹھی ہوئی ہو (یعنی بد اخلاق بھی ہو اور اس کا مہر بھی زیادہ ہو جس کی وجہ سے اس کا خاوند اسے چھوڑ نہ سکتا ہو) ایسی عورت کو اللہ تعالیٰ جس کی گردن میں چاہتے ہیں ڈال دیتے ہیں اور جب چاہتے ہیں اس کی گردن سے اُتار لیتے ہیں۔ (حیا ص ۱۶۲ جلد ۲ ص ۵۶۲)

### (۱۱۲) غریب ساتھی کا صدقہ قبول کرنا

حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اپنی ایک گھوڑی لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے جس کا نامہ ”عبلہ“ تھا اور انہیں اپنے مال میں سے کوئی چیز اس گھوڑی سے زیادہ محبوب نہیں تھی اور عرض کیا کہ یہ گھوڑی اللہ کے لیے صدقہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرما کر ان کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید کو سواری کے لیے دے دی۔ (حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو یہ اچھا نہ لگا کہ ان کی صدقہ کی ہوئی گھوڑی ان کے بیٹے کو مل گئی، یوں صدقہ کی ہوئی چیز اپنے ہی گھر واپس آ گئی)۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ناگواری کا اثر ان کے چہرے پر محسوس فرمایا تو ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ تمہارے اس صدقہ کو قبول کر چکے ہیں (لہذا اب یہ گھوڑی جسے بھی مل جائے تمہارے اجر میں کوئی کمی نہیں آئے گی)۔ (حیا ص ۱۶۲ جلد ۲ ص ۵۶۲)

حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ رضی اللہ عنہ جنہوں نے خواب میں (فرشتے کو) اذان دیتے ہوئے دیکھا تھا وہ فرماتے ہیں کہ انہوں

نے حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میرے یہ باغ صدقہ ہے، میں اللہ اور اس کے رسول کو دے رہا ہوں، وہ جہاں چاہیں خرچ کر دیں۔

جب اُن کے والدین کو معلوم ہوا تو انہوں نے حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ ہمارا گزرتو اسی باغ پر ہو رہا تھا، ہمارے بیٹے نے اسے صدقہ کر دیا۔ حضور ﷺ نے وہ باغ ان دونوں کو دے دیا۔ پھر جب ان دونوں کا انتقال ہو گیا تو پھر وہ باغ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہما کو وراثت میں مل گیا اور وارث بن کر اس باغ کے مالک ہو گئے۔ (جہاد الصالحہ جلد ۲ صفحہ ۲۱۵)

### ﴿۱۱۳﴾ دنیا کے ہر انار میں جنت کا ایک دانہ ہوتا ہے

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے انار کے ایک دانہ کو اٹھایا اور اس کو کھالیا۔ ان سے کہا گیا آپ رضی اللہ عنہ نے یہ کیوں کیا؟ فرمایا: مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ زمین کے ہر انار میں جنت کے دانوں میں سے ایک دانہ ڈالا جاتا ہے شاید کہ یہ وہی ہو۔ (طبرانی بہ سند صحیح) فائدہ: اس ارشاد کو نبی کریم ﷺ سے مرفوعاً بھی روایت کیا گیا ہے۔ (الطب النبوی، کنز العمال، جنت کے حسین مناظر، مولانا محمد امداد اللہ انور صفحہ ۵۵۸)

### ﴿۱۱۴﴾ نیندا اگر نہ آئے تو یہ دعا پڑھیں

مسند احمد میں ہے کہ ہمیں رسول اللہ ﷺ ایک دعا سکھاتے تھے کہ نیندا چاٹ ہو جانے کے مرض کو دور کرنے کے لیے ہم سوتے وقت پڑھا کریں:

(بِسْمِ اللّٰهِ اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَمِنْ سُرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَاَنْ يَّحْضُرُوْنَ)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا دستور تھا کہ اپنی اولاد میں سے جو ہوشیار ہوتے ان کو یہ دعا سکھا دیا کرتے تھے اور جو چھوٹے نا سمجھ ہوتے یاد نہ کر سکتے ان کے گلے میں اس دعا کو لکھ کر لٹکا دیتے۔ ①

ابوداؤد، ترمذی اور نسائی میں بھی یہ حدیث ہے۔ امام ترمذی رضی اللہ عنہما سے حسن غریب بتلاتے ہیں۔ (تفسیر ابن کثیر جلد ۳ صفحہ ۴۶۹)

### ﴿۱۱۵﴾ حضور اکرم ﷺ کی حضرت انس رضی اللہ عنہ کو پانچ نصیحتیں

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم ﷺ نے پانچ باتوں کی وصیت کی ہے۔ فرمایا:

- ① اے انس! کامل وضو کر تو ہماری عمر بڑھے گی۔
- ② جو میرا امتی ملے سلام کرو نیکیاں بڑھیں گی۔
- ③ گھر میں اسلام کر کے جایا کرو گھر کی خیریت بڑھے گی۔
- ④ چاشت کی نماز پڑھتے رہو تم سے اگلے لوگ جو اللہ والے بن گئے تھے ان کا یہی طریقہ تھا۔
- ⑤ اے انس! چھوٹوں پر رحم کر، بڑوں کی عزت و توقیر کر، تو قیامت کے دن میرا ساتھی ہوگا۔ (تفسیر ابن کثیر جلد ۳ صفحہ ۵۸)

### ﴿۱۱۶﴾ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے نام خط حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا خط

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو خط لکھا اور اس میں درخواست کی کہ

① عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اِذَا فَرَعْتَ اَحَدُكُمْ فِي النُّوْمِ فَلْيَقُلْ: اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَسُرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَاَنْ يَّحْضُرُوْنَ فَاِنَّهَا لَنْ تَضُرَّكَ وَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بِنِ عَمْرٍو يُعَلِّمُهَا مَنْ يَلَمُّ مِنْ بَنِيْهِ مِنْ وِلْدَانِهِ وَمَنْ لَمْ يَلَمُّ مِنْهُمْ كَتَبْنَا فِيْ صَلَاتِكَ ثُمَّ عَلَّقْنَا فِيْ عُنُقِكَ (رداء ابوداؤد، الترمذی وغلبنا لفظه) (مسند شریف صفحہ ۲۱۷ باب الاستاذۃ اسن ترمذی جلد ۲ صفحہ ۱۹۱ محمد بن یونس پوری)

آپ مجھے کچھ نصیحت اور وصیت فرمائیں لیکن بات مختصر اور جامع ہو، بہت زیادہ نہ ہو۔ تو حضرت ام المومنین رضی اللہ عنہا نے اُن کو یہ مختصر خط لکھا۔ سلام ہو تم پر۔ اما بعد! میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے آپ ﷺ فرماتے ہیں کہ کوئی اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، لوگوں کو اپنے سے خفا کر کے، تو اللہ مستغنی کر دے گا اس کو لوگوں کی فکر اور بار برداری سے اور خود اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور جو کوئی بندوں کو راضی کرنا چاہے گا اللہ کو ناراض کر کے تو اللہ اس کو سپرد کر دے گا لوگوں کے۔ والسلام۔ (جامع ترمذی، معارف اللہ ص ۲ جلد ۲ صفحہ ۱۶۲)

### (۱۱۷) حضور ﷺ کی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو تین نصیحتیں

حضور ﷺ نے فرمایا سنو! ابو بکر! تین چیزیں بالکل برحق ہیں۔

- ① جس پر کوئی ظالم کیا جائے اور وہ اس سے چشم پوشی کرے تو ضرور اللہ تعالیٰ اسے عزت دے گا اور اس کی مدد کرے گا۔
- ② جو شخص سلوک اور احسان کا دروازہ کھولے گا وہ صلح رحمی کے ارادے سے لوگوں کو دیتا رہے گا اللہ تعالیٰ اسے برکت دے گا اور زیادہ عطا فرمائے گا۔

- ③ اور جو شخص مال بڑھانے کے لیے سوال کا دروازہ کھولے گا اس سے اُس سے مانگتا پھرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے ہاں بے برکتی کر دے گا اور کی میں ہی اسے جتار کھے گا۔ یہ روایت ابو داؤد میں بھی ہے۔ (تفسیر ابن کثیر جلد ۵ صفحہ ۲۳)

### (۱۱۸) دعا کی قبولیت کے لیے چند کلمات

حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مسجد میں آرام کر رہا تھا اچانک غیب سے آواز آئی اے سعید! مندرجہ ذیل کلمات پڑھ کر تو جو دعائیں مانگے گا اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔

(اللَّهُمَّ إِنَّكَ مَلِكٌ مُّقْتَدِرٌ مَا تَشَاءُ مِنْ أَمْرٍ يَكُونُ)

فائدہ: حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان جملوں کے بعد میں نے جو دعائیں مانگی ہے وہ قبول ہوئی ہے۔

(روح المعانی تفسیر ملک مختصر)

(اللَّهُمَّ إِنَّكَ مَلِكٌ مُّقْتَدِرٌ مَا تَشَاءُ مِنْ أَمْرٍ يَكُونُ فَكَسَعِدُنِي فِي الدُّنْيَا وَكُنْ لِي وَكَلا تَكُنْ عَلَيَّ وَأَتِينِي فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ)

مذکور دعا اللہ تعالیٰ میرے لیے میرے بیوی بچوں کے لیے اور پوری امت کے لیے قبول فرمائے۔ آمین! "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ هُوَ مَلِكٌ"

مقتدیر

### (۱۱۹) بدبختی کی چار علامتیں

حدیث شریف میں ہے کہ بدبختی کی چار علامتیں ہیں:

- ① آنکھوں سے آنسو کا جاری نہ ہونا۔
- ② دل کی سختی۔
- ③ طول اہل یعنی لمبی امیدیں باندھنا۔
- ④ دنیا کی حرص۔ (معارف القرآن جلد ۵ صفحہ ۲۷۹)

### (۱۲۰) تبلیغ والوں کو شب جمعہ کی پابندی کرنا

تعلیم و تبلیغ کے لیے کسی دن یا رات کو مخصوص کر لینا بدعت نہیں نہ اس کا التزام بدعت ہے، دینی مدارس میں اسباق کے اوقات مقرر

ہیں جن کی پابندی التزام کے ساتھ کی جانی ہے اس پر کسی کو بدعت کا شبہ نہیں ہوا۔ (آپ کے مسائل اور ان کا حل جلد ۸ صفحہ ۱۲۵)

### ﴿۱۲۱﴾ حاصل تصوف

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ تمام سلوک اور تصوف کا حاصل صرف یہ ہے کہ طاعت کے وقت ہمت کر کے طاعت کو بجالائے اور معصیت کے تقاضہ کے وقت ہمت کر کے معصیت سے رُک جائے، اس سے تعلق مع اللہ پیدا ہوتا ہے، محفوظ رہتا ہے، ترقی کرتا ہے۔ (مکمل معرفت صفحہ ۵۲۲)

پیران پیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرید کو خلافت دی اور فرمایا کہ فلاں مقام پر جا کر دین کی تبلیغ و اشاعت کرو۔ چلتے چلتے مرید نے عرض کیا کہ کوئی نصیحت فرمادیجئے۔ شیخ نے فرمایا کہ دو باتوں کی نصیحت کرتا ہوں:

① کبھی خدائی کا دعویٰ مت کرنا۔ ② نبوت کا دعویٰ نہ کرنا۔

وہ حیران ہوا کہ میں برسہا برس آپ کی صحبت میں رہا، کیا اب بھی یہ احتمال اور خطرہ تھا کہ میں خدائی اور نبوت کا دعویٰ کروں گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خدائی اور نبوت کے دعویٰ کا مطلب سمجھ لو پھر بات کرو۔

خدا کی ذات وہ ہے کہ جو کہہ دے وہ اٹل ہوتا ہے اس سے اختلاف نہیں ہو سکتا، جو انسان اپنی رائے کو اس درجہ میں پیش کرے کہ وہ اٹل ہو۔ اس کے خلاف نہ ہو سکے تو اس کو خدائی کا دعویٰ ہوگا۔

اور نبی وہ ہے جو زبان سے فرمائے وہ سچی بات ہے، کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتا، جو شخص اپنے قول کے بارے میں کہے کہ یہ اتنی سچی بات ہے کہ اس کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا، وہ در پردہ نبوت کا دعویٰ ہے کہ میری بات غلط ہو ہی نہیں سکتی حالانکہ یہ اس کی ذاتی رائے ہے۔

(حکایتوں کا گہا سہ مولانا اسلم شیخ پوری صفحہ ۹۲)

### ﴿۱۲۲﴾ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا

(قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا مِنْ رَجُلٍ أَخَذَ مِنْ امْرَأَتِهِ بِرُكُودِهَا إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ خَمْسَ حَسَنَاتٍ فَإِنْ عَالَهَا فَعَشْرُ حَسَنَاتٍ، فَإِنْ قَبَّلَهَا عَشْرُونَ، فَإِنْ أَتَاهَا كَانَ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، فَإِنَا قَامَ لِيُغْتَسِلَ لَمْ يَمَسَّ الْمَاءَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ جَسَدِهِ إِلَّا مَحَاغَنَهُ سَنَةٌ وَرَفَعَهُ لَهُ دَرَجَةٌ وَوُعِظَ بِغُسْلِهِ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُبَاهِي بِهِ الْمَلَائِكَةَ يَقُولُ انظُرُوا إِلَى عِبْدِي قَامَ فِي لَيْلَةٍ قَرَّبًا دُونَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ يَتَمَنَّى بِأَنِّي رَأَيْتُهُ أَشْهَدُكُمْ أَنِّي غَفَرْتُ لَهُ)

(البرکۃ صفحہ ۵۶، لابی عبداللہ بن محمد بن عبدالرحمن صفحہ ۸۲)

ترجمہ: ”حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا محبت کے طور پر، اللہ تعالیٰ اس کے لیے پانچ نیکیاں لکھتے ہیں، اگر اس سے معاف کی تو دس نیکیاں، اگر بوسہ لیا تو بیس نیکیاں، پھر اگر قربت کرے تو دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ پس جب فارغ ہو کر غسل کرے پس اس وقت بدن کی جس جگہ سے پانی بہے اس سے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس کا درجہ بلند ہوتا ہے اور اس کو اس غسل پر دنیا و ما فیہا سے زیادہ عطا کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے فرشتوں پر فخر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو میرے اس بندے کو شہنشاہی رات میں اٹھا جنابت سے پاک ہونے کے لیے اور یقین کرتا ہے کہ میں اس کا رب ہوں، اے فرشتو! تم گواہ رہو میں نے اس کو معاف کر دیا۔“

### (۱۲۳) ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر اعتماد

امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ غالباً سورہ یوسف میں ایک جگہ تحریر فرماتے ہیں میں نے اپنی تمام عمر میں یہ تجربہ کیا ہے کہ انسان اپنے کسی کام میں جب غیر اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور اعتماد کرتا ہے تو یہ اس کے لیے محنت و مشقت اور سختی کا سبب بن جاتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے اور مخلوق کی طرف نگاہ نہیں کرتا تو یہ کام ضرور بالضرور نہایت حسن اور خوبی کے ساتھ پورا ہو جاتا ہے۔  
یہ تجربہ ابتدائے عمر سے لے کر آج تک (جب کہ میری عمر ستاون سال کی ہے) برابر کرتا رہا اور اب میرے دل میں یہ بات راسخ ہے کہ انسان کے لیے بجز اس کے چارہ نہیں ہے کہ اپنے ہر کام میں حق تعالیٰ کے فضل و کرم اور احسان پر نگاہ رکھے اور دوسری چیز پر ہرگز بھروسہ نہ کرے۔ (حیات فخر صفحہ ۲۸)

### (۱۲۴) بیعت کا ثبوت

(وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ رضی اللہ عنہ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ تِسْعَةً أَوْ ثَمَانِيَةً فَقَالَ لَا تَبَايَعُونَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَنَا بِدِينِنَا وَقَلْنَا عَلَامَ نَبَا يَعُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ عَلَيَّ أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ تَعَالَى وَلَا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَتُتَصَلَّوْا الصَّلَاةَ الْخَمْسَ وَتَسْمَعُوا وَتُطِيعُوا وَأَسْرَ كَلِمَةً خَفِيْفَةً وَقَالَ لَا تَسْلُنَنَّ النَّاسَ شَيْئًا وَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ أَوْلِيَّكَ النَّفَرِ يَسْطُطُ سَوْطَ أَحَدِهِمْ فَلَا يَسْئَلُ أَحَدًا مِنَّا وَلَهُ آيَاتُهُ) (اخرجه مسلم ابوداؤد والنسائي)

ترجمہ: ”حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم آٹھ یا نو صحابی نبی ﷺ کی مجلس میں تھے آپ ﷺ نے فرمایا: کیا تم اللہ تعالیٰ کے رسول ﷺ سے بیعت نہ کرو گے۔ تو ہم نے اپنے ہاتھ پھیلا دیے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول ﷺ ہم آپ ﷺ سے کس بات پر بیعت کریں؟ فرمایا: اس بات پر کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور پانچوں نمازوں کو ادا کرو اور (اطاعت کے جذبہ سے) سنو اور مانو اور ایک چھوٹی سی بات پست آواز سے فرمائی، فرمایا لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہ کرنا، میں نے بیعت کرنے والوں میں سے بعض کو دیکھا کہ اگر ان میں سے کسی کا کوڑا گر جاتا تو وہ کسی کو اس کے اٹھانے کے لیے نہ کہتے کیونکہ یہ بیعت کر چکے تھے کہ کسی سے کوئی سوال نہ کریں گے۔“

(وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضی اللہ عنہ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ بَايَعُونِي عَلَى أَنْ لَا تَشْرِكُوا بِاللَّهِ وَلَا تُسْرِقُوا) (متن علیہ)

ترجمہ: ”حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے ارد گرد صحابہ کی ایک جماعت سے فرمایا مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور نہ ہی چوری کرو۔“

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اسلام جہاد کے علاوہ ترک معاصی التزام طاعت کے لیے بھی بیعت ہوتی تھی اور یہ وہی بیعت طریقت ہے جو صوفیاء کرام میں معروف ہے پس اس کا انکار جہالت اور نادانی ہی ہے۔ (ظہیر - اضمون صفحہ ۹)

### (۱۲۵) دعا کی وجہ سے بچہ کا زندہ ہو جانا

(قَالَ أَنَسُ رضی اللہ عنہ كُنَّا فِي الصَّفَةِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاتَتْهُ امْرَأَةٌ مَهَا جِرَةٌ وَمَعَهَا ابْنٌ لَهَا قَدْ بَلَغَ فَأَضَافَ الْمَرْأَةُ إِلَيَّ



النِّسَاءِ وَأَضَافَ إِلَيْهَا الْيَمَانَا فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ أَصَابَ وَبَاءَ الْمَدِينَةَ فَمَرَّ مِنْ أَيَّامًا ثُمَّ قَبِضَ فَفَعَّضَهُ النَّبِيُّ ﷺ وَأَمَرَهُ بِجَهَارِهِ فَلَمَّا أَرَادْنَا أَنْ نَغْسِلَهُ قَالَ يَا نَسُّ أُمَّتِ أُمَّةٌ فَأَعْلِمُهَا فَأَعْلَمْتُهَا قَالَ فَبَجَاءَتْ حَتَّى جَلَسْتُ عِنْدَ قَدَمَيْهِ فَأَخَذْتُ إِلَيْهَا ثُمَّ قَالَتْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْلَمْتُ لَكَ طَوْعًا وَخَالَفْتُ الْأَوْثَانَ زُهْدًا وَهَاجَرْتُ لَكَ رَغْبَةً فَوَاللَّهِ مَا انْقَضَى كَلَامٌ مَعَهَا حَتَّى حَرَكَتْ قَدَمَيْهِ وَالْقَى الثُّوبَ عَنْ وَجْهِهِ وَعَاشَ حَتَّى قَبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَحَتَّى هَلَكَتْ أُمَّةٌ

(البدایہ النہایہ جلد ۲ صفحہ ۱۵۴)

ترجمہ: ”حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ ﷺ کی مجلس میں صف میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک مہاجرہ عورت اپنے بچہ کو لپے ہوئے آئی جو کہ سن بلوغ کو پہنچ چکا تھا۔ آپ ﷺ نے عورت کو تو (مہمان بنا کر) عورتوں کی طرف بھیج دیا اور اس کے بچے کو ہمارے ساتھ رکھا، کچھ دن ہی گزرے تھے کہ وہ بچہ مدینہ میں وبا کی زد میں آ گیا۔ وہ کچھ دن بیمار رہ کر انتقال کر گیا۔ آپ ﷺ نے اس کی آنکھیں بند کیں اور تجھیز و تکفین کا حکم فرمایا۔ جب ہم نے اس کو غسل دینا چاہا تو آپ ﷺ نے فرمایا: انس! اس کی ماں کو جا کر خبر کر دو تو میں نے اس کو خبر کر دی۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ آئی اور اس کے قدموں کے پاس بیٹھ گئی، اس کا انگوٹھا پکڑا پھر کہنے لگی: اے اللہ! میں تجھ پر خوشی سے اسلام لائی اور میں نے بے رغبتی اختیار کرتے ہوئے بتوں کی (پوجا کی) مخالفت کی اور شوق سے تیری راہ میں ہجرت کی (حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ) اللہ کی قسم! اس کی بات پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ اس کے قدموں نے حرکت کی اور اس نے اپنے چہرہ سے کفن ہٹایا، اور وہ آپ ﷺ کے دنیا سے رحلت فرمانے اور اس کی ماں کے انتقال کے بعد تک زندہ رہا۔“

### (۱۲۶) مَهْرُ الْحُورِ الْعِينِ (حوروں کی مہر)

(رَفَعَهُ الثَّلَاحِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لِأَنَّ الْمَسْجِدَ مَهْرُ الْحُورِ الْعِينِ إِحْرَاجُ الْقَمَامَةِ مِنَ الْمَسْجِدِ مَهْرُ الْحُورِ الْعِينِ۔)

وَعِنَ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَهْرُ الْحُورِ الْعِينِ قَبَضَاتُ التَّمْرِ وَفَلَقُ الْخَبَرِ ذِكْرُ الثَّلَاحِيِّ أَيْضًا وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَتَزَوَّجُ أَحَدُكُمْ فَلَائِمَةٌ بِنْتُ فُلَانٍ بِالْمَالِ الْكَبِيرِ وَيَدْعُ الْحُورَ الْعِينِ بِالْقَمَامَةِ وَالتَّمْرِ وَالْكَسْرِ۔  
 يَرُوي عَنْ ثَابِتٍ أَنَّهُ قَالَ قَالَ أَبِي مِنَ الْقَوَامِينَ لِلَّهِ فِي سَوَادِ الْهَيْلِ قَالَ رَأَيْتُ فَاثَ لَهْلَوَةٍ فِي مَنْكِبِي امْرَأَةً لَا تُشَبَّهُ النِّسَاءَ فَقُلْتُ لَهَا مَنْ أَنْتِ؟ فَقَالَتْ حُورٌ أَمَةٌ لِلَّهِ فَقُلْتُ لَهَا زَوْجِي نَفْسِكَ فَقَالَتْ أُعْطِينِي مِنْ عِنْدِ رَبِّي وَأَمِيرِي فَقُلْتُ وَمَا مَهْرُكِ؟ فَقَالَتْ طَوْلُ التَّهَجُّدِ أَشَدَّتْ ..... وَأَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الْأَشْعَرِ۔

وَقَدْ إِذَا الْهَيْلُ بَدَا وَجْهَهُ وَصَمَّ لَهَا رَأْيُهَا فَهِيَ مِنْ مَهْرِهَا (الذکر الثَّلَاحِيُّ جلد ۲ صفحہ ۴۷۸)

ترجمہ: ”ثحابی نے اس حدیث کو حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے مرفوعاً ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے انس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ مساجد حور عین کا مہر ہیں۔ مساجد سے کوڑا کرکٹ نکالنا (صاف کرنا) حور عین کا مہر ہے۔“

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: حور عین کا مہر مٹھی بھر کھجور اور روٹی کا ٹکڑا ہے (یعنی صدقہ و خیرات حور عین کا مہر ہے)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی فلاں کی بیٹی فلاں سے کثیر مال پر شادی کرنا ہے اور لقمہ اور کھجور اور روٹی کے ٹکڑے

کی وجہ سے حور عین کو چھوڑ بیٹھتا ہے (یعنی ان چیزوں کا صدقہ کرنا حور عین کا مہر ہے)۔  
 حضرت ثابت بن النخعی سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد رات کی تاریکی میں اللہ (کی رضا) کے لیے عبادت کرتے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے اپنے خواب میں ایک عورت کو دیکھا جو (دوسری) عورتوں سے مختلف تھی۔ میں نے اُس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو وہ کہنے لگی: حوراء (اللہ کی بندگی)۔ میں نے اس سے کہا مجھ سے شادی کر لو تو وہ کہنے لگی کہ میرے پروردگار کے پاس میرے لیے پیغام بھیجو اور میرا مہر ادا کر دو۔ میں نے پوچھا تمہارا مہر کیا چیز ہے؟ تو وہ کہنے لگی: طویل تہجد اور اس نے کچھ اشعار پڑھے۔ ان اشعار میں سے ایک شعر کا ترجمہ یہ ہے: اور جب رات (کی سیاہی) نمودار ہو تو قیام کر (اٹھ جا) اور دن کو روز رکھ کہ یہ اس کا مہر ہے۔“

### (۱۲۷) مؤمن کے جوٹھے میں شفاء ہے، یہ حدیث نہیں

(سور المؤمن شفاء، قَالَ النَّجْمُ لَيْسَ بِحَدِيثٍ، نَعَمْ رَوَاهُ الدَّارِقُطِيُّ فِي الْاِفْرَادِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِالْفِطْرِ مِنْ التَّوَضُّعِ اَنَّ يَشْرَبَ الرَّجُلُ مِنْ سُوْرٍ اَخْبِيهِ "اِنَّهُ حَدِيثٌ كَذِبٌ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهَكَذَا رَوٰهُ الْمُؤْمِنُ شِفَاءً") (كشف الخفاء جلد ۱ صفحہ ۲۵۸)

ترجمہ: ”مؤمن آدمی کے جوٹھے میں شفاء ہے، نجم نے کہا کہ یہ حدیث نہیں، البتہ اس کو دارقطنی نے ”افراد“ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ان الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے کہ ”یہ بات تواضع میں سے ہے کہ آدمی اپنے بھائی کا جوٹھا پی لے۔“ اس کو حدیث کہنا رسول اللہ ﷺ پر جھوٹ ہے اور اس طرح مؤمن آدمی کا تھوک شفاء ہے (حدیث نہیں)۔“

(رَبِّقُ الْمُؤْمِنِ شِفَاءٌ لَيْسَ بِحَدِيثٍ وَلَكِنْ مَعْنَاهُ صَحِيحٌ فِي الصَّحِيحِينَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا لَسْتُكَى الْاِنْسَانَ الشَّيْءَ اِلَيْهِ اَوْ كَانَتْ بِهِ قَرْحَةٌ اَوْ جُرْحٌ قَالَ بِاَصْبِعِهِ يَعْطِي سَبَابَةً بِالذُّضِ ثُمَّ رَفَعَهَا لَهُمْ وَقَالَ بِسْمِ اللّٰهِ تَرْبَةُ اَرْضِنَا بِرَبِّقَةٍ بَعْضُنَا يَشْفِي سَقِيمَنَا بِالْاَذْنِ رَبَّنَا) (كشف الخفاء جلد ۱ صفحہ ۲۳۶)

ترجمہ: ”مؤمن آدمی کے تھوک میں شفاء ہے یہ حدیث نہیں لیکن معنی کے اعتبار سے یہ صحیح ہے، کیونکہ صحیحین میں ہے کہ نبی کریم ﷺ سے جب کوئی شخص کسی (مرض) کی شکایت کرتا یا اُسے پھوڑا یا زخم ہوتا تو آپ ﷺ اپنی انگلی یعنی انگشت شہادت کو زمین سے لگاتے پھر اس کو ان پر لگاتے اور فرماتے: میں اللہ کے نام سے برکت حاصل کرتا ہوں۔ یہ ہماری زمین کی مٹی ہے جو ہم میں سے کسی کے تھوک میں ملی ہوئی ہے۔ تاکہ ہمارے پیار کو ہمارے رب کے حکم سے شفاء ہو جائے۔“

### (۱۲۸) ناخن کاٹنے کا کوئی خاص طریقہ منقول نہیں

ناخن کاٹنے کا کوئی خاص طریقہ یا کوئی خاص دن نبی کریم ﷺ سے منقول نہیں ہے۔ صاحب در مختار جمعہ کے دن خاص طریقہ پر ناخن کاٹنے کی دو روایتیں نقل کر کے لکھتے ہیں:

(قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجْرٍ اَنَّهُ يَسْتَحَبُّ كَيْفَمَا احْتَجَبَ اِلَيْهِ، وَكَمْ يَثْبُتُ فِي كَيْفِيَّتِهِ شَيْءٌ وَلَا فِي تَعْيِينِ يَوْمٍ لَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) (ثامی جلد ۵ صفحہ ۲۶۰)

اور بذیل المجهود میں ہے کہ حافظ ابن حجر عسقلانی اور ابن دینار العید نے فرمایا کہ ناخن تراشنے میں کوئی خاص کیفیت اور کوئی خاص دن بالیقین حضور اکرم ﷺ سے منقول نہیں ہے۔ لہذا مذکورہ بالا طریقہ کے مستحب ہونے کا اعتقاد جائز نہیں ہے۔ (بذل المجہود جلد ۱ صفحہ ۳۳)

### (۱۲۹) بعض جانور جنت میں جائیں گے

علامہ سید احمد حموی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح الاشبہ والنظائر صفحہ ۳۹۵ میں بحوالہ شرح شریعۃ الاسلام حضرت مقاتل رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ دس جانور جنت میں جائیں گے:

- |   |  |   |
|---|--|---|
| ① ناقہ محمد <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> | ② ناقہ صالح <small>علیہ السلام</small>   | ③ عجل ابراہیم <small>علیہ السلام</small>  |
| ④ کبش اسماعیل <small>علیہ السلام</small>      | ⑤ بقرة موسیٰ <small>علیہ السلام</small>  | ⑥ حوت یونس <small>علیہ السلام</small>     |
| ⑦ حمار عزیر <small>علیہ السلام</small>        | ⑧ نملہ سلیمان <small>علیہ السلام</small> | ⑨ ہد ہد سلیمان <small>علیہ السلام</small> |
| ⑩ کلب اصحاب کہف                               |  |   |

مشکوٰۃ الانوار میں لکھا ہے کہ ان کا بھی حشر ہوگا۔ (نادی محمودیہ جلد ۵ صفحہ ۳۷۲)

### (۱۳۰) منت ماننے کی شرائط

قرآن مجید ختم کروانے کی منت لازم نہیں ہوتی، شرعاً منت جائز ہے مگر منت ماننے کی چند شرطیں ہیں:

- ① اللہ تعالیٰ کے نام کی منت مانی جائے، غیر اللہ کے نام کی منت جائز نہیں بلکہ گناہ ہے۔
- ② منت صرف عبادت کے کام کی صحیح ہے، جو کام عبادت نہیں ہے اس کی منت بھی صحیح نہیں۔
- ③ عبادت بھی ایسی ہو کہ اس طرح کی عبادت کبھی فرض یا واجب ہوئی ہے جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی وغیرہ، ایسی عبادت کہ اس کی جنس کبھی فرض واجب نہیں اس کی منت بھی صحیح نہیں، چنانچہ قرآن خوانی کی منت مانی ہو تو لازم نہیں ہوتی۔

(آپ کے مسائل اور ان کا حل جلد ۲ صفحہ ۴۱۹)

### (۱۳۱) کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونے کی فضیلت

حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ:

اَقْرَأْتُ فِي التَّوْرَةِ اِنْ بَرَكَهُ الطَّعَامُ الْوُضُوءُ بَعْدَهُ فَاذْكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلی اللہ علیہ وسلم بَرَكَهُ الطَّعَامُ الْوُضُوءُ قَبْلَهُ وَالْوُضُوءُ بَعْدَهُ (رواہ الترمذی و ابوداؤد، مشکوٰۃ شریف صفحہ ۳۶۶)

ترجمہ: ”میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ کھانے کی برکت، کھانے کے بعد ہاتھ دھونا، پس یہ بات میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانے کی برکت کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا ہے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونا ہے۔“

### (۱۳۲) احادیث صحیحہ کی تعداد

امام جعفر محمد بن الحسین البغدادی نے کتاب التمیز میں امام سفیان الثوری، امام شعبہ امام یحییٰ، امام عبدالرحمن بن مہدی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالیٰ کا مستفاد فیصلہ نقل کیا ہے:

(اِنَّ جُمْلَةَ الْاَحَادِيثِ الْمُسْتَدْرَجَةِ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم بِعَيْنِي الصَّحِيْحَةَ بِلَا تَكْرَارٍ اَرْبَعَةٌ اَلَا وَاكْرَهُ مِائَةٌ)

(ترجمہ: الاثر جلد ۱ صفحہ ۶۲)

ترجمہ: ”مسند احادیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ بلا تکرار مروی ہیں وہ کل چار ہزار چار سو ہیں۔“

چنانچہ باب صحاح نے بھی مذکورہ تعداد کے قریب قریب اپنی کتابوں میں احادیث کی تخریج کی ہے۔ (رسالہ دارالعلوم صفحہ ۱۰، ۱۱ اکتوبر ۱۹۸۶ء)

### (۱۳۳) جمعہ کے دن ظہر باجماعت پڑھنا

مسئلہ: اگر چند آدمی سفر میں ہوں تو نماز ظہر جمعہ کے روز جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ اور ان کو (اگر نماز جمعہ نہ پڑھیں تو) ظہر باجماعت ہی ادا کرنا چاہیے۔ (فتاویٰ دارالعلوم دیوبند صفحہ ۵۸، قدیم جلد اول، مسالکہ سفر صفحہ ۲۹)

### (۱۳۴) اسٹیل یا لوہے کی چین استعمال کرنا

گھڑی کی گرفت کے لیے چمڑا موجود ہے اور وہ دوسری اشیاء کے مقابلہ میں زیادہ موزوں بھی ہے لہذا احتیاط اس میں ہے کہ چمڑے کا پتہ استعمال کیا جائے۔ (فتاویٰ رحمہ جلد ۶ صفحہ ۲۷۹)

### (۱۳۵) الکل کا استعمال

یہاں مغربی ممالک میں اکثر دواؤں میں ایک فیصد سے لے کر پچیس فیصد تک "الکل" شامل ہوتا ہے۔ اس قسم کی دوائیاں عموماً نزلہ، کھانسی اور گلے کی خراش جیسی معمولی بیماریوں میں استعمال ہوتی ہیں اور تقریباً نوے فیصد دواؤں میں الکل ضرور شامل ہوتا ہے۔ اب موجود دور میں الکل سے پاک دواؤں کو تلاش کرنا مشکل، بلکہ ناممکن ہو چکا ہے، ان حالات میں ایسی دواؤں کے استعمال کے بارے میں شرعاً کیا حکم ہے؟

الکل ملی ہوئی دواؤں کا مسئلہ اب صرف مغربی ممالک تک محدود نہیں رہا بلکہ اسلامی ممالک سمیت دنیا کے تمام ممالک میں آج یہ مسئلہ پیش آرہا ہے۔

امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک تو اس مسئلہ کا حل آسان ہے، اس لیے کہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ اور امام ابو یوسف رحمہما اللہ کے نزدیک انگور اور کھجور کے علاوہ دوسری اشیاء سے بنائی ہوئی شراب کو بطور دوا کے حصول طاقت کے لیے اتنی مقدار میں استعمال کرنا جائز ہے جس مقدار سے نشہ پیدا نہ ہوتا ہے۔ (فتح القدر جلد ۸ صفحہ ۱۶)

دوسری طرف دواؤں میں جو الکل ملایا جاتا ہے اس کی بڑی مقدار انگور اور کھجور کے علاوہ دوسری اشیاء مثلاً چیر، گندھک، شہد، شیرہ دانہ جو وغیرہ سے حاصل کی جاتی ہے۔

لہذا دواؤں میں استعمال ہونے والی الکل اگر انگور کے علاوہ دوسری اشیاء سے حاصل کی گئی ہو تو امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ اور امام ابو یوسف رحمہما اللہ کے نزدیک اس دوا کا استعمال جائز ہے بشرطیکہ وہ حد سکر تک نہ پہنچے، اور علاج کی ضرورت کے لیے ان دونوں اماموں کے مسلک پر عمل کرنے کی گنجائش ہے۔

اور اگر الکل انگور اور کھجور ہی سے حاصل کی گئی ہے تو پھر اس دوا کا استعمال ناجائز ہے البتہ اگر ماہر ڈاکٹر یہ کہے کہ اس مرض کی اس کے علاوہ کوئی دوا نہیں ہے تو اس صورت میں اس کے استعمال کی گنجائش ہے اس لیے کہ اس حالت میں حنفیہ کے نزدیک تداویٰ باحرام جائز ہے۔ (سلسلہ فقہی مقالات مولانا تقی عثمانی)

### (۱۳۶) مسواک کے بارے میں عبرت ناک واقعہ

علامہ ابن کثیر نے ابن خلکان رحمہ اللہ کے حوالے سے اپنی شہرہ آفاق کتاب البدایہ والنہایہ (جلد ۱۳ صفحہ ۲۰۷) میں ذکر کیا ہے کہ ایک شخص ابو سلامہ نامی جو بصری مقام کا باشندہ اور نہایت بے باک اور بے غیرت تھا اس کے سامنے مسواک کے فضائل و مناقب اور

محاسن کا ذکر آیا تو اس نے ازراہ غیظ و غضب قسم کھا کر کہا کہ میں مسواک کو اپنی سرین میں استعمال کروں گا۔ چنانچہ اس نے اپنی سرین میں مسواک گھما کر اپنی قسم کو پورا کر کے دکھایا۔ اور اس طرح مسواک کے ساتھ سخت بے حرمتی اور بے ادبی کا معاملہ کیا جس کی پاداش میں قدرتی طور پر ٹھیک نو مہینہ بعد اس کے پیٹ میں تکلیف شروع ہوئی۔ اور پھر ایک (بد شکل) جانور جنگلی جو ہے جیسا اس کے پیٹ سے پیدا ہوا اس سے ایک بانست چار انگلی کی دم، چار پیر، مچھلی جیسا سر اور چار دانت باہر کی جانب نکلے ہوئے تھے۔ پیدا ہوتے ہی یہ جانور تین بار چلایا جس پر اس کی بچی آگے بڑھی اور سر پھل کر اس نے جانور کو ہلاک کر دیا اور تیسرے دن یہ شخص بھی مر گیا۔

(فضائل مسواک صفحہ ۵۰ مصنف حضرت مولانا امیر حسین صاحب)

### (۱۳۷) کرسی پر بیٹھ کر بیان کرنے کی دلیل

(قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ قَالَ لَبُورُ فَاعَةَ انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَخْطُبُ قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ارْجُلُ غَرِيبٍ جَاءَ يُسْئَلُ عَنْ دِينِهِ لَا يَدْرِي مَا دِينُهُ؟ قَالَ فَأَقْبَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَتَرَكَ عُطْبَةَ حَتَّى انْتَهَى إِلَيَّ فَأَوْتَيْتِي بِكُرْسِيِّ حَسِبْتُ قَوَّامَهُ حَدِيثُنَا، قَالَ فَكَعَّدَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَجَعَلَ يَعْلَمُنِي مِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ ثُمَّ اتَى خُطْبَتَهُ فَأَتَمَّ اجْرَهَا) (خرج مسلم في صحيحه كتاب الجمعة صفحہ ۲۸)

ترجمہ: ”شیبان بن فروخ روایت کرتے ہیں کہ ابورفاعہ نے فرمایا کہ میں رسول اللہ ﷺ کی مجلس میں پہنچا، آپ ﷺ خطبہ دے رہے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول ﷺ! پروردگار کی آئی ہے اپنے دین کے بارے میں پوچھنے آیا ہے اسے نہیں معلوم کہ دین کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ میری طرف متوجہ ہوئے اور اپنا خطبہ چھوڑ دیا یہاں تک کہ مجھ تک پہنچ گئے تو ایک کرسی لائی گئی جس کے پائے میرے خیال سے لوہے کے تھے فرماتے ہیں کہ اس پر رسول اللہ ﷺ بیٹھ گئے اور اس علم سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو سکھایا تھا مجھے سکھانے لگے، تعلیم دینے لگے، پھر اپنا خطبہ پورا کیا۔“

### (۱۳۸) انچاس کروڑ کی روایت

(مَنْ غَزَا بِنَفْسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُ بِكُلِّ دِرْهَمٍ سَبْعُ مِائَةِ أَلْفٍ دِرْهَمٍ ثُمَّ تَلَاهُ فِيهِ الْآيَةَ: ﴿وَاللَّهُ يَضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ (سورة البقرة: ۲۶۱) (ابن ماجہ صفحہ ۲۰۳ حیاة الصحابہ جلد ۱ صفحہ ۵۶۱)

ترجمہ: ”جو شخص اللہ کے راستہ میں اپنی جان کے ذریعے جہاد کرے تو اسے ہر درہم کے بدلہ میں سات لاکھ کے بقدر اجر ملے گا۔ پھر آپ ﷺ نے اپنی بات کی تائید میں یہ آیت تلاوت فرمائی اور اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں اجر کو بڑھا دیتے ہیں۔“ (وَأُخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ مَعَاذٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّ الصَّلَاةَ وَالصِّيَامَ وَالزَّكَاةَ يَضَاعَفُ عَلَى النَّفْلَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِسَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ)

ترجمہ: ”ابوداؤد میں سہل بن معاذ رضی اللہ عنہما اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: بلاشبہ اللہ کے راستہ میں نماز، روزہ اور زکوٰۃ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے مقابلہ میں سات سو گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔“ سات لاکھ کو سات سو سے ضرب دینے سے انچاس کروڑ بنتا ہے۔

### (۱۳۹) با وضو مرنے والا بھی شہید ہے

(مَنْ بَاتَ عَلَى الْوُضُوءِ مَاتَ شَهِيدًا)

ترجمہ: ”جو شخص رات کو با وضو سوئے پھر (اس حالت میں) اس کو موت آجائے تو وہ شہید مرا۔“  
 (مَنْ بَاتَ طَاهِرًا بَاتَ مَعَهُ فِي شِعَارِهِ مَلَكَ يُسْتَفْرِكُهُ يَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ عَبْدِكَ فَلَانَ فَكَانَ بَاتَ طَاهِرًا) (رواہ مسلم)  
 ترجمہ: ”جو شخص رات کو با وضو سوتا ہے تو ایک فرشتہ ساری رات اس سے جڑا رہتا ہے اس کے لیے ان کلمات سے استغفار کرتا ہے کہ اے اللہ! اپنے فلاں بندے کی مغفرت کر دے کہ وہ رات با وضو سویا ہے۔“

### ﴿۱۲۰﴾ ایک مجرب عمل

یہ عمل حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے جد امجد اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد خاص حضرت مفتی الہی بخش رحمۃ اللہ علیہ کا بارہا آزمایا ہوا نہایت مجرب عمل ہے۔ اس کے پڑھنے سے خدا تعالیٰ کی معرفت اور اس کی محبت نصیب ہوتی ہے جس کے نتیجہ میں نیکی کرنا اور گناہ سے بچنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔

خدا تعالیٰ کی اطاعت، عبادت اور نیکیاں بکثرت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی محبت کا دل میں پیدا ہونا پہلے از حد ضروری ہے۔ اس عظیم مقصد نیز بلاؤں کے دور کرنے اور حاجتوں کو پورا کرنے میں بھی اس عمل کو حضرت اقدس مولانا الحاج مفتی افتخار الحسن صاحب کاندھلوی مدظلہ العالی خلیفہ حضرت مولانا شاہ عبدالقادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ بڑا مجرب بتلاتے ہیں اور ضرورت مند لوگوں کو پڑھنے کے لیے ہدایت فرماتے ہیں۔

### ترکیب عمل:

کسی بھی ماہ کو چاند کیمنے کے بعد پہلے سے مستقل سات دن تک نیچے لکھی ہوئی ترکیب کے مطابق روزانہ دن میں یا رات میں ایک وقت اور ایک جگہ متعین کر کے پابندی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ان مبارک ناموں کا وظیفہ پڑھے اگر کسی مجبوری سے جگہ اور وقت کی تبدیلی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہوگا۔

نوٹ: اگر کسی کو بدرجہ مجبوری یہ عربی عبادت ہو سکے تو اس کا اردو ترجمہ ہی پڑھ لے انشاء اللہ محروم نہ رہے گا۔

جمعہ کے دن	يَا اَللّٰهُ يَا هُوَ	ایک ہزار مرتبہ
ہفتہ کے دن	يَا رَحْمٰنُ يَا رَحِيْمُ	ایک ہزار مرتبہ
اتوار کے دن	يَا وَاٰحِدُ يَا اَحَدُ	ایک ہزار مرتبہ
پیر کے دن	يَا صَمَدُ يَا وِتْرُ	ایک ہزار مرتبہ
منگل کے دن	يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ	ایک ہزار مرتبہ
بدھ کے دن	يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ	ایک ہزار مرتبہ
جمعرات کے دن	يَا ذُو الْجَلَلِ وَالْاِكْرَامِ	ایک ہزار مرتبہ

### ﴿۱۲۱﴾ جمعہ کے دن بعد از نماز جمعہ کم از کم تین مرتبہ یہ دعا پڑھے

اے اللہ! میں آپ سے درخواست کرتا ہوں ان عظیم اور مبارک ناموں کے واسطے سے کہ آپ رحمت بھیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ آل پر اور سوال کرتا ہوں یہ کہ مجھے شامل فرمائے اپنے مقرب اور نیک بندوں میں۔ مجھے یقین کی دولت عطا فرما، دنیاوی امراض، مصیبتوں اور آخرت کے عذاب سے اپنی امان میں رکھ، ظالموں اور دشمنوں سے میری حفاظت فرما، ان کے دلوں کو پھیر

دے، ان کی شہ سے ہٹا کر خیر کی توفیق عطا کرنا، آپ ہی کے اختیار میں ہے، یا اللہ! میری اس درخواست کو قبول فرما، یہ میری صرف ایک کوشش ہے، بھروسہ اور توکل آپ ہی پر ہے۔ (بیان کردہ: حضرت مولانا افتخار الحسن صاحب کاندھلوی)

### (۱۴۲) ایک دعا جو سات ہزار مرتبہ تسبیح پڑھنے سے بہتر ہے

حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ فجر کی نماز کے بعد رسول پاک ﷺ کی مجلس شریف میں علمی مذاکرہ ہوتا تھا، آپ ﷺ کو تعلیم فرمایا کرتے تھے مگر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ ابتداء میں جماعت کا سلام پھیر کر گھر تشریف لے جاتے تھے۔

ایک مرتبہ فرمایا: اے معاذ! صبح کو ہماری مجلس میں نہیں آتے؟ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ معذرت فرمادی کہ صبح میرا سات ہزار تسبیح پڑھنے کا معمول ہے اگر کہیں بیٹھ جاتا ہوں تو پھر میرا وہ عمل پورا نہیں ہو پاتا۔

فرمایا: کیا میں تمہیں ایسی دعا نہ بتا دوں جس کا ایک مرتبہ پڑھ لینا سات ہزار مرتبہ سے بہتر ہے۔ عرض کیا ضرور ارشاد فرمائیں۔ ارشاد فرمایا:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عِنْدَ رِضَاةٍ      لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ذِكْرُ عَرْشِهِ  
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عِنْدَ خَلْقِهِ      لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مِلَأَ سَمَاوَاتِهِ  
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مِلَأَ أَرْضِهِ      لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مِلَأَ مَابَيْنَهُمَا  
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مِثْلَ ذَلِكَ مَعَهُ      وَاللَّهُ أَكْبَرُ مِثْلَ ذَلِكَ مَعَهُ  
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مِثْلَ ذَلِكَ مَعَهُ

اس دعا کا ایک دفعہ پڑھ لینا ایسا ہے جیسے سات ہزار تسبیح پڑھ لی ہو۔ حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے اپنی صاحبزادیوں کو یہ دعا یاد کرا دی تھی کہ یہ دعا پڑھا کرو، میں نے شیخ سے ایک مرتبہ پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ فرمایا: ٹھہر جاؤ جب میں لاہر (اپنے کتب خانہ میں) جاؤں تو میرے ساتھ چلنا، گئے تو کئی اعمال اٹھائی اور فرمایا فلاں صفحہ کھولو۔ (کنز العمال جلد ۴ صفحہ ۴۴۲)

### (۱۴۳) تکبر کے ایک جملہ نے خوبصورت کو بد صورت اور پست قد کر دیا

نوفل بن ماتح کہتے ہیں کہ نجران کی مسجد میں ایک نوجوان کو دیکھا بڑا لمبا چوڑا بھر پور جوانی کے نشہ میں چور، گھٹے ہوئے بدن والا، بانکا تر چھا، اچھے رنگ و روغن والا خوبصورت شکل..... میں نگاہیں جما کر اس کے جمال و کمال کو دیکھنے لگا تو اس نے کہا کیا دیکھ رہے ہو؟

میں نے کہا: آپ کے حسن و جمال کا مشاہدہ کر رہا ہوں اور تعجب ہو رہا ہے، اس نے جواب دیا، تو ہی کیا! خود اللہ تعالیٰ کو بھی تعجب ہو رہا ہے۔ نوفل کہتے ہیں کہ اس کلمہ کے کہتے ہی وہ گھٹنے لگا اور اس کا رنگ و روپ اڑنے لگا اور قد پست ہونے لگا یہاں تک کہ بقدر ایک بالشت کے رہ گیا جسے اس کا کوئی قریبی رشتہ دار آستین میں ڈال کر لے گیا۔ (تفسیر ابن کثیر جلد ۴ صفحہ ۱۲۳)

### (۱۴۴) کسی زمانہ میں کھجور کے گٹھلی جیسے گیہوں کے دانے ہوتے تھے

مسند امام احمد بن حنبل میں ہے کہ زیاد کے زمانہ میں ایک تھیلی پانی گئی تھی جس میں کھجور کی بڑی گٹھلی جیسے گیہوں کے دانے تھے اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ اس زمانہ میں اُگتے تھے جس میں عدل و انصاف کو کام میں لایا جاتا تھا۔ (تفسیر ابن کثیر جلد ۲ صفحہ ۱۷۷)

## (۱۴۵) گناہ گاروں کو تین چیزوں کی ضرورت ہے

① ایک تو اللہ تعالیٰ کی معافی کی تاکہ عذاب سے نجات پائیں۔ ② دوسرے پردہ پوشی کی تاکہ رسوائی سے بچیں۔

③ تیسرے عصمت کی تاکہ وہ دوبارہ گناہ میں مبتلا نہ ہوں۔ (تفسیر ابن کثیر جلد ۱ صفحہ ۳۸۵)

## (۱۴۶) سونے کے دانتوں کا شرعی حکم

حضرت مولانا محمد منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ

بہنئی کے ایک دندان ساز ڈاکٹر جو اپنے فن میں بڑے ماہر اور ممتاز سمجھے جاتے ہیں اس عاجز کے خاص عنایت فرما دو سنتوں میں سے ہیں، جہاں تک علم و اندازہ ہے اللہ تعالیٰ نے دینداری اور تقویٰ کی دولت سے بھی وافر حصہ عطا فرمایا ہے۔ ایک دفعہ جب کہ میں بہنئی گیا ہوا تھا، انہوں نے مجھ سے دریافت کیا کہ دانتوں کے بعض مریض ایسے آتے ہیں کہ ان کے لیے سونے کے دانت ہی مناسب ہوتے ہیں اور دانت کا نہیں دے سکتے، اس میں شرعاً کوئی حرج تو نہیں ہے؟

میں نے ان کو بتلایا تھا کہ ایسی صورت میں سونے کے دانت لگوانے کی اجازت ہے۔ کچھ دن ہوئے ان کا خط آیا کہ ایک صاحب جو مجھے دینداروں میں ہیں، میرے پاس آئے، میں نے ان کا حال دیکھ کر سونے کے دانت لگوانے کا مشورہ دیا، وہ دوسرے دن میرے پاس آئے اور بتلایا کہ میں نے ایک مولوی صاحب سے دریافت کیا تھا انہوں نے بتلایا کہ مردوں کو سونے کے دانت لگوانا جائز نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھے لکھا کہ آپ اس مسئلے کی پوری تحقیق کر کے مجھے بتلائیں، اگر سونے کے دانت لگوانا مردوں کے لیے جائز نہیں ہے تو آئندہ میں خود بھی احتیاط کروں گا اور اگر جائز ہے تو اس مسئلہ پر تفصیل سے اس طرح روشنی ڈالیں کہ مجھے خود اطمینان ہو جائے اور جن مولوی صاحب نے ناجائز بتلایا ہے وہ بھی آپ کے جواب کی روشنی میں دوبارہ غور کر سکیں۔ ڈاکٹر صاحب کو جو جواب دیا گیا تھا مناسب معلوم ہوا کہ اس کو الفرقان میں شائع کر دیا جائے۔

بِسْمِہِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى

مخلص مکرم زیندتِ الطافکم سلام مسنون!

اخلاص نامہ مورخہ ۱۳/ اپریل کو موصول ہوا، آپ کی فرمائش کی تعمیل کرتے ہوئے میں نے اس مسئلے کی تحقیق کے لیے کتابوں سے بھی مراجعت کی، یہی معلوم ہوا کہ طبعی نقطہ نظر سے اگر ماہر ڈاکٹر کا مشورہ سونے کے بنے ہوئے دانت لگوانے یا سوانے کے تاروں سے دانت بنوانے کا ہو تو شرعاً جائز ہے۔ اس کی واضح دلیل عرفجہ ابن اسعد رضی اللہ عنہ کی وہ روایت ہے جس کو امام ابو داؤد اور امام ترمذی اور امام نسائی نے اپنی کتابوں میں روایت کیا ہے اور انہی کے حوالے سے صاحب مشکوٰۃ المصابیح نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔

حدیث کا مضمون یہ ہے کہ ایک جنگ میں عرفجہ ابن اسعد رضی اللہ عنہ کی ناک کٹ گئی تھی، انہوں نے چاندی کی مصنوعی ناک لگوائی۔ کچھ دنوں کے بعد اس میں بدبو پیدا ہونے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ سونے کی مصنوعی ناک لگوائیں۔

ترمذی کی روایت میں حدیث کے آخری الفاظ یہ ہیں:

(فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَخْتَدُ أَنْفَاقِينَ مِنْ نَهَبٍ)

ترجمہ: ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ سونے کی ناک بنوا کر لگوا لو۔“

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جب چاندی کی ناک نے کام نہیں دیا اور اس سے بدبو پیدا ہونے لگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی



ناک لگوانے کی ہدایت فرمائی۔ اس سے دانت کا مسئلہ بھی معلوم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ دونوں نے اس حدیث سے دانتوں میں سونے کے استعمال کا جواز سمجھا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے:

”بَابُ مَا جَاءَ فِي شِدِّ الْأَسْنَانِ بِالذَّهَبِ“۔ (جامع ترمذی ابواب اللہاس)

اور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے:

”بَابُ مَا جَاءَ فِي رِيْطِ الْأَسْنَانِ بِالذَّهَبِ“ (سنن ابی داؤد کتاب التام)

اور ہذیل المجهود شرح سنن ابی داؤد میں اسی حدیث کے ذیل میں لکھا ہے:

(وَكَلَّمَ أَحْكَمُ الْأَسْنَانِ فَإِنَّهُ يَثْبُتُ هَذَا الْحُكْمُ فِيهَا بِالْمُقَابَسَةِ سَوَاءً رِيَطَهَا بِخَيْطِ الذَّهَبِ أَوْ صَنَعَهَا بِالذَّهَبِ)

(بذل المجموع جلد ۵ صفحہ ۷۸)

”اور دانتوں کا حکم بھی یہی ہے کہ ناک کی طرح ان میں بھی سونے کا استعمال جائز ہے۔ یہ حکم دانتوں کے لیے اس حدیث

سے بطور قیاس ثابت ہوتا ہے پھر اس میں بھی کوئی فرق نہیں کہ دانتوں کو سونے کے تاروں سے باندھا جائے یا دانت ہی

سونے کے بنائے جائیں یعنی دونوں صورتیں جائز ہیں۔“

اور نصب الرایہ فی تخریج احادیث الہدایہ میں اس مسئلہ سے متعلق چند حدیثیں نقل کی گئیں ہیں۔ ان میں ایک معجم اوسط طبرانی کی یہ

روایت ہے کہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے آگے کے دانت گر گئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ وہ ان کو سونے

سے بندھو اے، ”فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم أَنْ يَتَشَدَّ هَا بِذَهَبٍ“۔ اور اس سے بھی زیادہ صریح وہ حدیث ہے جس کو امام زبیلی نے ابن قانع

کی معجم الصحابہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ عبد اللہ بن ابی بن سلول کے بیٹے عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ غزوہ احد میں میرے آگے کے

دانت ٹوٹ گئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ میں وہ دانت سونے کے لگوا لوں، ”فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم أَنْ يَتَّخِذُ قَبِيحَةً

بِذَهَبٍ“۔ اور مسند احمد کی روایت سے نقل کیا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے دانتوں پر سونے کے خول چھوائے تھے، ”لَأَنَّ ضَبَبَ

أَسْنَانِهِ بِذَهَبٍ“۔ اور طبرانی کے حوالے سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے بارے میں نقل کیا گیا ہے کہ ان کے دانت سونے کے

تاروں سے بندھے ہوئے تھے۔ (نصب الرایہ لام زبیلی جلد ۲ صفحہ ۲۳۷)

ان روایات کے بعد اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہی کہ بھروسہ سونے کے دانت لگوانا جائز ہے، ہاں اگر طبی ضرورت نہ

ہو اور کوئی شخص صرف اپنی دولت مندی کی خاطر اور تفاخر کے لئے لگوائے تو جائز نہ ہوگا۔

جن صاحب نے ناجائز بتلایا انہوں نے غالباً ہدایہ وغیرہ فقہ حنفی کی کتابوں میں دیکھا ہوگا کہ اگرچہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی اجازت

دی ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اجازت کے حق میں نہیں ہیں، مگر صاحب ہدایہ نے امام صاحب کے قول عدم جواز کی وجہ اور بنیاد یہ بتلائی

ہے کہ دانت میں سونے کے استعمال کی ضرورت ہی نہیں ہوتی چاندی وغیرہ کا استعمال ہو جاتا ہے۔ (ہدایہ جلد ۳ صفحہ ۳۸۸)

اس سے سمجھا جاسکتا ہے کہ اگر ماہر ڈاکٹر اس پر مطمئن ہو کہ سونے کے دانتوں کی ضرورت ہے اور چاندی وغیرہ سے ضرورت پوری نہ

ہوگی تو پھر امام صاحب کے اصول پر بھی اجازت ہوگی۔ علاوہ ازیں مندرجہ بالا احادیث و آثار کا تقاضا اور حق ہے کہ فقوی امام

محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر دیا جائے۔ واللہ اعلم۔ (الفرقان ماہ ربیع الاول ۱۳۹۳ھ)

### ﴿ ۱۲۷ ﴾ مد اہنت کرنے والا شہداء میں شامل نہ ہوگا

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ لوگوں سے فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ کوئی آدمی لوگوں کی عزت و آبرو کو بھروسہ

کرتا ہے اور تم اس کو نہ روکتے ہو، نہ برمانتے ہو۔ ان حضرات نے عرض کیا کہ ہم اس کی بدزبانی سے ڈرتے ہیں کہ ہم کچھ بولیں گے تو وہ ہماری عزت و آبرو پر حملہ کرے گا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر یہ بات ہے تو تم شہداء نہیں ہو سکتے۔

ابن اثیر نے یہ روایت نقل کر کے اس کا مطلب یہ بتلایا ہے کہ ایسی مدعا سے ڈرنے والے ان شہداء میں شامل نہیں ہوں گے جو قیامت کے روز انبیاء سابقین کی امتوں کے مقابلے میں شہادت دیں گے۔ (معارف القرآن جلد ۸ صفحہ ۲۱۲)

﴿ ۱۳۸ ﴾ دعوت کے کام کرنے والے ساتھیوں کیلئے ”چھ“ غ کے جملے

جن سے بچنا ضروری ہے، بچتے رہیں تو اللہ کی ذات سے ترقی کی امید ہے

غلو سے بچنا:

﴿ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ ﴾ (سورہ مائدہ: ۷۷) ترجمہ: ”تم اپنے دین میں ناحق غلومت کرو۔“

غل (کینہ) سے بچنا:

﴿ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا ﴾ (سورہ شوریٰ: ۱۰)

ترجمہ: ”اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کی طرف سے کینہ نہ ہونے دیجئے۔“

غرور سے بچنا:

﴿ لَا تَصَعِّرْ حَذَّكَ لِلنَّاسِ ﴾ (سورہ لقمان: ۱۸) ترجمہ: ”لوگوں سے اپنا رخ مت پھیرو۔“

غفلت سے بچنا:

﴿ لَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ ﴾ (سورہ اعراف: ۲۰۵) ترجمہ: ”تو غفلت کرنے والوں میں سے مت ہو۔“

غیبت سے بچنا:

﴿ الْغَيْبَةُ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا ﴾ ترجمہ: ”غیبت (انجام کے اعتبار سے) زنا سے زیادہ سخت ہے۔“

غصہ سے بچنا:

﴿ وَكُلُّكُمْ لَفِي غَلِيظٍ الْقَلْبِ ..... ﴾ (سورہ آل عمران: ۱۵۹)

ترجمہ: ”اور اگر آپ تندخو، سخت طبیعت ہوتے تو یہ آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے۔ سو آپ ان کو معاف کر دیجئے اور آپ ان کے لیے استغفار کر دیجئے اور ان سے خاص خاص باتوں میں مشورہ لیتے رہا کیجئے، پھر جب آپ رائے بچھ کر لیں تو خدا پر اعتماد کیجئے۔“

﴿ ۱۳۹ ﴾ چالیس سال کی عمر ہو جانے پر مندرجہ ذیل دعا قرآنی پڑھنے سے

امید ہے کہ اولاد صالح ہوگی اور نیک کام کی خاص توفیق ہوگی

﴿ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي دِينِي ۖ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾

(سورہ الاحقاف: ۱۵) (معارف القرآن جلد ۷ صفحہ ۸۰۶)

## ﴿۱۵۰﴾ مناقب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ

- ① حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو جنت کے آٹھوں دروازوں سے پکارا جائے گا۔  
 ② حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے انتقال کے وقت ﴿يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الطُّمَئِنَّةُ الْغَرَّةُ﴾ (سورہ فجر: ۲۷) کی آیت فرشتے پڑھنے لگے۔ (معارف القرآن: ۸)  
 ③ اللہ تعالیٰ نے سلام پہلوا یا: (حدیث)

- ④ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ واحد صحابی ہیں جن کے ماں باپ و اولاد سب مسلمان ہوئے، روح المعانی میں ہے کہ یہ خصوصیت صرف صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ہے۔ (معارف القرآن فی تفسیر ﴿رَبِّ اذْ عَنِي اَنْ اَشْكُرَ بِعَمَلِكَ اَلَيْ لُغَمْتُ عَلَيَّ﴾)

## ﴿۱۵۱﴾ چارہ ماہ کے بعد اسقاطِ حمل قتل کے حکم میں ہے

بچوں کو زندہ دفن کر دینا، قتل کر دینا، سخت گناہ کبیرہ اور ظلم عظیم ہے، اور چار ماہ کے بعد کسی حمل کو گرانا بھی اسی حکم میں ہے، کیونکہ چوتھے مہینہ میں حمل میں روح پڑ جاتی ہے اور وہ زندہ انسان کے حکم میں ہوتا ہے، اسی طرح جو شخص کسی حاملہ عورت کے پیٹ پر ضرب لگائے اور اس سے بچہ ساقط ہو جائے تو باجماع امت مارنے والے پر اس کی دیت میں غرہ یعنی ایک غلام یا اس کی قیمت واجب ہوتی ہے۔  
 او وطن سے باہر آنے کے وقت وہ زندہ تھا پھر مر گیا تو پوری دیت بڑے آدمی کے برابر واجب ہوتی ہے، اور چار ماہ سے پہلے اسقاطِ حمل بھی بدون اضطراری حالت کے حرام ہے مگر پہلی صورت کی نسبت کم ہے کیونکہ اس میں کسی زندہ انسان کا قتل صریح نہیں ہے۔

(مظہری، معارف القرآن جلد ۸ صفحہ ۶۸۳)

## ﴿۱۵۲﴾ آج کل ضبطِ تولید کے لیے جو دوائیں یا معالجات کئے جاتے ہیں ان کا شرعی حکم

کوئی ایسی صورت اختیار کرنا جس سے حمل قرار نہ پائے جیسے آج کل دنیا میں ضبطِ تولید کے نام سے اس کی سینکڑوں صورتیں رائج ہو گئی ہیں۔ اس کو بھی رسول اللہ ﷺ نے وادِ خنی فرمایا ہے یعنی خفیہ طور سے بچہ کو زندہ درگور کرنا (یعنی قبر میں زندہ دفن کر دینا)۔

(کمارواہ مسلم عن جلد۲ بنت وہب)

اور بعض دوسری روایتوں میں جو غزل یعنی ایسی تدبیر کرنا کہ نطفہ رحم میں نہ جائے اس پر رسول اللہ ﷺ کی طرف سے سکوت یا عدم ممانعت منقول ہے۔ وہ ضرورت کے مواقع کے ساتھ مخصوص ہے۔ وہ بھی اس طرح کہ ہمیشہ کے لیے قطع نسل کی صورت نہ بنے۔ (مظہری)  
 آج کل ضبطِ تولید کے نام سے جو دوائیں یا معالجات کئے جاتے ہیں ان میں بعض ایسے بھی ہیں کہ ہمیشہ کے لیے سلسلہ نسب و اولاد منقطع ہو جائے۔ اس کی کسی حال میں بھی اجازت شرعاً نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔ (معارف القرآن جلد ۸ صفحہ ۶۸۳)

## ﴿۱۵۳﴾ دل کی بیماری کو دور کرنے کا نبوی نسخہ

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں بیمار ہوا میری عیادت کو رسول اللہ ﷺ تشریف لائے، انہوں نے اپنا ہاتھ میرے کندھوں کے درمیان رکھا تو آپ کے ہاتھ کی ٹھنڈک میری ساری چھاتی میں پھیل گئی۔ پھر فرمایا کہ اسے دل کا دورہ پڑا ہے اسے حارث بن کلدہ کے پاس لے جاؤ جو ثقیف میں مطب کرتا ہے، حکیم کو چاہیے کہ وہ مدینہ کی سات عجوہ کھجوریں گٹھلیوں سمیت کوٹ کر اسے کھلا دے۔

فائدہ: کھجور کے فوائد کے بارے میں یہ حدیث بڑی اہمیت کی حامل ہے کیونکہ طب کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ کسی مریض

کے دل کے دورہ کی تشخیص کی گئی ہے۔ (مسند احمد، ابوسعید، ابو داؤد)

### (۱۵۴) دل کی بیماری کے لیے مجرب نسخہ

دل پر ہاتھ رکھ کر ایک سو گیارہ (۱۱۱) مرتبہ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ پڑھ کر دم کرے انشاء اللہ فائدہ ہوگا۔ بہت مرتبہ آزمایا گیا ہے۔

### (۱۵۵) حضور ﷺ پر دعوت کے میدان میں حالت کا اتار چڑھاؤ

- ① کبھی آپ ﷺ کو قاب قوسین کی وسعتوں میں پہنچایا گیا۔
- ② اور کبھی ابو جہل کی جھاؤں کا نشانہ بننے کے لیے بھیجا گیا۔
- ③ بھی شاہد اور بشیر کا لقب دیا گیا۔
- ④ اور کبھی شاعر، مجنوں اور ساحر کے آوازے سنوائے گئے۔
- ⑤ کبھی لَوْلَاكَ لِمَا خَلَقْتُ الْاَفْلَاكَ (اگر تمہاری قدر و منزلت منظور نہ ہوتی تو ہم عالم کو پیدا نہ کرتے) کے خطاب سے نوازا گیا۔
- ⑥ اور کبھی ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا﴾ (سورہ فرقان: ۵۱)
- ⑦ (اگر ہم چاہیں تو تمہاری طرح ہر گھاؤں میں ایک پیغمبر بھیج دیں) فرمادیا گیا۔
- ⑧ کبھی تمام خزانوں کی کنجیاں آپ کے حجرے کے دروازے پر ڈال دی گئیں۔
- ⑨ اور کبھی ایک مٹھی جو کے لیے ابو جحیم یہودی کے دروازے پر لے جایا گیا۔ (مکتوبات مدنی صفحہ ۵۳۳)

### (۱۵۶) حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی چھ نصیحتیں

- ① جو آدمی زیادہ ہنستا ہے، اس کا زعب کم ہو جاتا ہے۔
- ② جو مذاق زیادہ کرتا ہے لوگ اس کو ہلکا اور بے حیثیت سمجھتے ہیں۔
- ③ جو باتیں زیادہ کرتا ہے اس کی لغزشیں زیادہ ہو جاتی ہیں۔
- ④ جس کی لغزشیں زیادہ ہو جاتی ہیں، اس کی حیا کم ہو جاتی ہے۔
- ⑤ جس کی حیا کم ہو جاتی ہے اس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے۔
- ⑥ جس نے پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ (حیاء الصحابہ جلد ۳ صفحہ ۵۶۲)

### (۱۵۷) چوری اور شیطانی اثرات سے حفاظت

کسی ظالم کے سامنے پچاس مرتبہ بسم اللہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ ظالم کو مغلوب کر کے پڑھنے والے کو غالب کر دیں گے۔ (خزانة اعمال صفحہ ۸)

### (۱۵۸) غریبی اور خوشحالی

غریبی آتی ہے سات چیزوں کے کرنے سے:

- ① جلدی جلدی نماز پڑھنے سے۔
- ② پيشاب کرنے کی جگہ وضو کرنے سے۔
- ③ کھڑے ہو کر پيشاب کرنے سے۔
- ④ کھڑے ہو کر پانی پینے سے۔
- ⑤ منہ سے چراغ بجانے سے۔
- ⑥ دانت سے ناخن کاٹنے سے۔

④ دامن یا آستین سے منہ صاف کرنے سے۔

خوشحالی آتی ہے سات چیزوں کے کرنے سے:

① قرآن کی تلاوت کرنے سے۔

② خدا کا شکر ادا کرنے سے۔

③ گناہوں سے معافی مانگنے سے۔

④ صبح کے وقت سورہ یٰسین اور شام کے وقت سورہ واقعہ پڑھنے سے۔ (تعمیر حیات صفحہ ۲۵، ۲۳ / ستمبر ۲۰۰۰ء)

### ﴿۱۵۹﴾ ذہن اور حافظہ کیلئے

سات سو چھیاسی (۷۸۶) مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی پر دم کر کے طلوع آفتاب کے وقت پئے تو ذہن کھل جائے گا اور حافظہ قوی ہو جائے گا۔ انشاء اللہ!

### ﴿۱۶۰﴾ برائے حفظ و حافظہ

① سورہ الٰہم نَشْرُحْ لَکَہُ کَہُ پانی میں گھول کر پلانا حافظہ قرآن کے لیے اور تحصیل علم کے لیے خاص ہے۔  
 ② جن کا حافظہ کمزور ہو وہ سات دن تک ان آیات کریمہ کو روٹی کے ٹکڑوں پر لکھ کر کھالیا کریں اس طرح کہ ہفتہ کو یہ آیت لکھ کھائے:

﴿تَتَعَلَىٰ اللَّهُ الْمَلِکُ الْحَقُّ﴾ (سورہ نور: ۱۱۶)

بیر کے روز یہ لکھے:	﴿سَقِرْتُکَ فَلَا تُنْسِ﴾	(سورہ الاعلیٰ: ۶)
منگل کے روز یہ لکھے:	﴿اِنَّہٗ یَعْلَمُ الْجَہْرَ وَمَا یَخْفٰی﴾	(سورہ الاعلیٰ: ۷)
بدھ کے روز یہ لکھے:	﴿لَا تُحَرِّکْ بِہٖ لِسَانَکَ لِتَعْجَلَ بِہٖ﴾	(سورہ القیمۃ: ۱۶)
جمعرات کے روز یہ لکھے:	﴿اِنَّ عَلَیْنَا جَمْعَہٗ وَقُرْاٰنَہٗ﴾	(سورہ القیمۃ: ۱۷)
جمعہ کو یہ لکھے:	﴿فَاذْکُرْاٰنَہٗ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَہٗ﴾	(سورہ القیمۃ: ۱۸)

صبح کے وقت باوضو لکھ کر کھلائیں انشاء اللہ حافظہ قوی ہوگا۔ (تلاخ دارین، حوالہ خزانہ اعمال صفحہ ۷)

### ﴿۱۶۱﴾ خواص سورہ ضحٰی (حصول ملازمت کیلئے)

سورہ ضحٰی کو عالمین نے پرنا شیر مانا ہے اس میں نو مقام پر کاف آیا ہے آپ نماز فجر کے بعد وہیں بیٹھیں، یہ سورہ پاک اس طرح پڑھیں کہ جب کاف آئے تو ”یا گنیمہ“ نو مرتبہ پڑھیں، یہ عمل صرف نو ایام کریں ملازمت ملے گی۔ اگر خدا نخواستہ ملازمت نہ ملی تو یہ عمل اٹھارہ مرتبہ پڑھیں۔ اگر پھر بھی حاجت پوری نہ ہو تو ستائیس مرتبہ پڑھیں اور ہر کاف پر ستائیس مرتبہ ”یا گنیمہ“ پڑھیں۔ بفضل خدا شرطیہ ملازمت مل جائے گی۔ (شرعی علاج، بخوالہ اعمال صفحہ ۱۱)

### ﴿۱۶۲﴾ امام مالک رضی اللہ عنہ کا واقعہ

بعض حاسدوں نے امام مالک رضی اللہ عنہ کی سخت مار پیٹ کی، خلیفہ وقت مزادینا چاہتا تھا، حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ نے سواری پر سوار ہو کر شہر میں اعلان کیا، میں نے ان سب کو معاف کیا، کسی کو مزادینے کا کوئی حق نہیں۔

### (۱۶۳) امام احمد بن حنبلؒ کا واقعہ

امام احمد بن حنبلؒ کو خلیفہ کوڑے لگوانا۔ امام صاحب ہر روز معاف کر دیتے پوچھا گیا کیوں معاف کر دیتے ہیں؟ فرمایا میری وجہ سے حضور ﷺ کے کسی امتی کو قیامت میں عذاب ہو اس میں میرا کیا فائدہ ہے۔

### (۱۶۴) حضرت ابراہیم بن ادھمؒ کا واقعہ

حضرت ابراہیم بن ادھمؒ کو سپاہی نے جوتے مارے۔ بعد میں اس کو معلوم ہوا کہ یہ بہت بڑے بزرگ ہیں۔ اس نے معافی چاہی، فرمایا دوسرا جوتا مارنے سے پہلے پہلے معاف کر دیتا تھا۔ اکابر کے حالات سے تاریخ بھری ہوئی ہے۔

### (۱۶۵) حالت مرض کی دعا

جو شخص حالت مرض میں یہ دعا چالیس مرتبہ پڑھے، اگر مر تو شہید کے برابر ثواب ملے گا، اور اگر اچھا ہو گیا تو تمام گناہ بخشے جائیں گے:  
(لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ) (سورہ رسول اکرم ﷺ صفحہ ۵۷۸)

### (۱۶۶) ننگے سر کی شہادت قبول نہیں

اسلام بلند اخلاق و کردار کی تعلیم دیتا ہے اور گھٹیا اخلاق و معاشرت سے منع کرتا ہے، ننگے سر بازاروں اور گلیوں میں نکلنا اسلام کی نظر میں ایک ایسا عیب ہے جو انسانی مروت و شرافت کے خلاف ہے۔ اس لیے حضرات و فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ اسلامی عدالت ایسے شخص کی شہادت قبول نہیں کرے گی۔ مسلمانوں میں ننگے سر پھرنے کا رواج انگریزی تہذیب و معاشرت کی نقالی سے پیدا ہوا ہے ورنہ اسلامی معاشرت میں ننگے سر پھرنے کو عیب تصور کیا جاتا ہے۔ (فتاویٰ رحمہ جلد ۳ صفحہ ۲۲۳، آپ کے مسائل جلد ۸ صفحہ ۴۷)

### (۱۶۷) نماز کی برکت

عطاء ارزق کو ان کی بیوی نے دو درہم دیئے کہ اس کا آٹا خرید کر لائیں۔ جب آپ بازار کو چلے تو راستہ میں ایک غلام کو دیکھا کہ کھڑا رو رہا ہے۔ جب اس سے وجہ پوچھی تو اس نے کہا مجھے مولیٰ نے دو درہم دیئے تھے سو دے کے لیے وہ کھو گئے، اب وہ مجھے مارے گا۔ حضرت نے دونوں درہم اسے دے دیئے اور شام تک نماز میں مشغول رہے اور منتظر تھے کہ کچھ ملے مگر کچھ میسر نہ ہوا۔ جب شام ہوئی تو اپنے ایک دوست بڑھئی کی دکان پر بیٹھ گئے۔ اس نے کہا: یہ کھورالے جاؤ تندور (تور) گرم کرنے کی ضرورت ہو تو کام آئے گا اور کچھ میرے پاس نہیں جو آپ کی خدمت کروں۔ آپ وہ کھورا ایک تھیلے میں ڈال کر گھر تشریف لے گئے اور دروازے ہی سے تھیلا گھر میں پھینک کر مسجد تشریف لے گئے اور نماز پڑھ کر بہت دیر تک بیٹھے رہے تاکہ گھروالے سو جائیں اور ان سے خاصیت نہ کریں۔ پھر گھر آئے تو دیکھا کہ وہ لوگ روٹی پکا رہے تھے۔ فرمایا: تمہیں آٹا کہاں سے ملا؟ کہنے لگے وہ ہے جو آپ تھیلے میں لائے تھے۔ ہمیشہ اسی شخص سے خرید کر لایا کیجئے جس سے آج خریدا ہے۔ فرمایا: انشاء اللہ میں ایسا ہی کروں گا۔ (روض البراہین صفحہ ۲۶۰)

### (۱۶۸) بچوں کی بدتمیزی کا سبب اور اس کا علاج

بچوں کی بدتمیزی اور نافرمانی کا سبب عموماً والدین کے گناہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا معاملہ درست کریں اور تین بار سورۃ فاتحہ پانی پر دم کر کے بچے کو پلایا کریں۔ (آپ کے مسائل جلد ۷ صفحہ ۲۰۸)

## (۱۶۹) تہمت کی سزا

زرقانی (شرح مؤطا امام مالک رحمہ اللہ) میں ایک بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے کہ مدینہ منورہ کے گرد و نواح میں ایک ڈیرے پر ایک عورت فوت ہو جاتی ہے تو دوسری اسے غسل دینے لگی۔ جو غسل دے رہی تھی جب اس کا ہاتھ مری ہوئی عورت کی ران پر پہنچا تو اس کی زبان سے نکل گیا میری بہنو! (جو دو چار ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں) یہ جو عورت آج مر گئی ہے اس کے تو فلاں آدمی کے ساتھ خراب تعلقات تھے۔

غسل دینے والی عورت نے جب یہ کہا تو قدرت کی طرف سے گرفت آگئی اس کا ہاتھ ران پر چٹ گیا جتنا کھینچتی ہے وہ جدا نہیں ہوتا، زور لگاتی ہے مگر ران ساتھ ہی آتی ہے، دیر لگ گئی، میت کے ورناء کہنے لگے بی بی! جلدی غسل دو، شام ہونے والی ہے، ہم کو جنازہ پڑھ کر اس کو دفنانا بھی ہے۔ وہ کہنے لگی کہ میں تو تمہارے مردے کو چھوڑتی ہوں مگر وہ مجھے نہیں چھوڑتا۔ رات پڑ گئی مگر ہاتھ یوں ہی چمٹا رہا۔ دن آ گیا پھر ہاتھ چمٹا رہا۔ اب مشکل بنی تو اس کے ورناء علماء کے پاس گئے۔ ایک مولوی سے پوچھتے ہیں مولوی صاحب! ایک عورت دوسری عورت کو غسل دے رہی تھی تو اس کا ہاتھ اس میت کی ران کے ساتھ چمٹا رہا۔ اب کیا کیا جائے؟ وہ قتلوی دیتا ہے کہ چھری سے اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ غسل دینے والی عورت کے وارث کہنے لگے ہم تو اپنی عورت کو معذور کرانا نہیں چاہتے ہم اس کا ہاتھ نہیں کاٹنے دیں گے۔ انہوں نے کہا فلاں مولوی کے پاس چلیں۔ اس سے پوچھا تو کہنے لگا چھری لے کر مری ہوئی عورت کا گوشت کاٹ دیا جائے۔ مگر اس کے ورناء نے کہا کہ ہم اپنا مردہ خراب کرنا نہیں چاہتے۔ تین دن اور تین رات اسی طرح گزر گئے۔ گرمی بھی تھی، دھوپ بھی تھی، بدبو پڑنے لگی، گرد و نواح کے کئی کئی دیہاتوں تک خبر پہنچ گئی۔ انہوں نے سوچا کہ یہاں مسئلہ کوئی حل نہیں کر سکتا، چلو مدینہ منورہ میں، وہاں حضرت امام مالک رحمہ اللہ اس وقت قاضی القضاة کی حیثیت میں تھے۔ وہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے حضرت! ایک عورت مری پڑی تھی دوسری اسے غسل دے رہی تھی اس کا ہاتھ اس کی ران کے ساتھ چمٹ گیا چھوٹا ہی نہیں، تین دن ہو گئے، کیا فتویٰ ہے۔

امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا: وہاں مجھے لے چلو۔ وہاں پہنچے اور چادر کی آڑ میں پردے کے اندر کھڑے ہو کر غسل دینے والی عورت سے پوچھا بی بی! جب تیرا ہاتھ چمٹا تھا تو تو نے زبان سے کوئی بات تو نہیں کہی تھی؟ وہ کہنے لگی میں نے اتنا کہا تھا کہ یہ جو عورت مری ہے اس کے فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔

امام مالک رحمہ اللہ نے پوچھا بی بی! جو تو نے تہمت لگائی ہے کیا اس کے چار چشم دید گواہ تیرے پاس ہیں؟ کہنے لگی: نہیں۔ پھر فرمایا: کیا اس عورت نے خود تیرے سامنے اپنے بارے میں اقرار جرم کیا تھا؟ کہنے لگی: نہیں۔ فرمایا: پھر تو نے کیوں تہمت لگائی؟ اس نے کہا: میں نے اس لیے کہہ دیا تھا کہ وہ گھڑا اٹھا کر اس کے دروازے سے گزر رہی تھی۔ یہ سن کر امام مالک رحمہ اللہ نے وہیں کھڑے ہو کر پورے قرآن میں نظر دوڑائی، پھر فرمانے لگے: قرآن پاک میں آتا ہے:

﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ (سورۃ النور: ۴)

ترجمہ: ”جو عورتوں پر ناجائز تہمتیں لگا دیتے ہیں پھر ان کے پاس چار گواہ نہیں ہوتے تو ان کی سزا ہے کہ ان کو اسی کوڑے مارے جائیں۔“

تو نے ایک مردہ عورت پر تہمت لگائی، تیرے پاس کوئی گواہ نہیں تھا، میں وقت کا قاضی القضاة حکم کرتا ہوں جلا دو! اسے مارنا شروع کر دو۔ جالا دوں نے اسے مارنا شروع کر دیا۔ وہ کوڑے مارے جا رہے ہیں۔ ستر کوڑے مارے مگر ہاتھ یوں ہی چمٹا رہا۔ پچھتر کوڑے مارے مگر ہاتھ پھر بھی یوں ہی چمٹا رہا۔ اسی کوڑے مارے تو ہاتھ پھر بھی نہ چھوٹا۔ جب اسی کوڑا لگا تو اس کا ہاتھ خود بخود چھوٹ کر

## (۱۷۰) صلہ رحمی کے فوائد

ہمارے آقا حضور اکرم ﷺ نے فرمایا ہے کہ:

- ① صلہ رحمی سے محبت بڑھتی ہے۔
- ② عمر بڑھتی ہے۔
- ③ آدمی بری موت نہیں مرتا۔
- ④ ملک کی آبادی اور سرسبزی بڑھتی ہے۔
- ⑤ نیکیاں معاف کی جاتی ہیں۔
- ⑥ صلہ رحمی کرنے والے سے اللہ اپنا رشتہ جوڑتا ہے۔
- ⑦ مال بڑھتا ہے۔
- ⑧ رزق میں کشادگی ہوتی ہے۔
- ⑨ اس کی مصیبتیں اور آفتیں ٹپتی رہتی ہیں۔
- ⑩ گناہ معاف کئے جاتے ہیں۔
- ⑪ جنت میں جانے کا استحقاق حاصل ہوتا ہے۔

⑫ جس قوم میں صلہ رحمی کرنے والے ہوتے ہیں اس قوم پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم اپنے نسبوں کو سیکھو تا کہ اپنے رشتہ داروں کو پہچان کر ان سے صلہ رحمی کر سکو، فرمایا کہ صلہ رحمی کرنے سے محبت بڑھتی ہے، مال بڑھتا ہے اور موت کا وقت پیچھے ہٹ جاتا ہے (یعنی عمر میں برکت ہوتی ہے)۔ (ترمذی)

جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو اور اس کی عمر بڑھ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے۔ (بخاری مسلم)

جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر بڑھے اور اس کے رزق میں کشادگی ہو اور وہ بری موت نہ مرے تو اس کو لازم ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا رہے اور اپنے رشتے ناتے والوں سے سلوک کرتا رہے۔ (الترغیب والترہیب)

جو شخص صدقہ دیتا رہتا ہے اور اپنے رشتے ناتے والوں سے سلوک کرتا رہتا ہے اس کی عمر کو اللہ دراز کرتا ہے اور اس کو بری طرح مرنے سے بچاتا ہے۔ اور اس کی مصیبتوں اور آفتوں کو دور کرتا رہتا ہے۔ (الترغیب والترہیب)

رحم، خدا کی رحمت کی ایک شاخ ہے اس سے اللہ نے فرمادیا ہے کہ جو تجھ سے رشتہ جوڑ لے گا اس سے میں بھی رشتہ ملاؤں گا اور جو تیرے رشتہ کو توڑ دے گا اس کے رشتہ کو میں بھی توڑ دوں گا۔ (بخاری)

فرمایا کہ اللہ کی رحمت اس قوم پر نازل نہیں ہوتی جس میں ایسا شخص موجود ہو جو اپنے رشتے ناتوں کو توڑتا ہو۔ (شعب الایمان، بیہقی)

بجائت اور قطع رحمی سے بڑھ کر کوئی گناہ اس کا مستوجب نہیں کہ اس کی سزا دنیا ہی میں فوراً دی جائے اور آخرت میں بھی اس پر عذاب ہو۔ (الترغیب والترہیب)

فرمایا کہ جنت میں وہ شخص گھسنے نہ پائے گا جو اپنے رشتے ناتوں کو توڑتا ہو۔ (بخاری مسلم)

ہمارے حضرت اللہ کے رسول ﷺ کہیں تشریف لے جا رہے تھے راستہ میں ایک اعرابی نے آکر آپ ﷺ کی اونٹنی کی ٹھیکل پکڑ لی اور کہا کہ یا رسول اللہ! مجھ کو ایسی بات بتائیے جس سے جنت ملے اور دوزخ سے نجات ہو۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ تو ایک اللہ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کر، نماز پڑھ، زکوٰۃ دے اور اپنے رشتے ناتے والوں سے اچھا سلوک کرتا رہ۔ جب وہ چلا گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ یہ اگر میرے حکم کی تعمیل کرے گا تو اس کو جنت ملے گی۔ (بخاری مسلم)

نبی کریم ﷺ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایک قوم سے ملک کو آباد فرماتا ہے اور اس کو دولت مند کرتا ہے اور کبھی دشمنی کی نظر سے



ان کو نہیں دیکھتا۔ نبی ﷺ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ اس قوم پر اتنی مہربانی کیوں ہوتی ہے؟ فرمایا کہ رشتے نانتے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے ان کو یہ مرتبہ ملتا ہے۔ (الترغیب والترہیب)

فرمایا یہ جو شخص نرم مزاج ہوتا ہے اس کو دنیا و آخرت کی خوبیاں ملتی ہیں اور اپنے رشتے نانتے والوں سے اچھا سلوک کرنے اور پڑوسیوں سے میل جول رکھنے اور عام طور پر لوگوں سے خوش خلقی برتنے سے ملک سرسبز اور آباد ہوتے ہیں اور ایسا کرنے والوں کی عمریں بڑھتی ہیں۔ (الترغیب والترہیب)

ایک شخص نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ مجھ سے ایک بڑا گناہ ہو گیا ہے میری توبہ کیوں کر قبول ہو سکتی ہے؟ آپ ﷺ نے پوچھا کہ تیری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا: نہیں۔ فرمایا کہ خالہ زندہ ہے؟ اس نے کہا: جی ہاں۔ فرمایا کہ تو اس کے ساتھ حسن سلوک کر۔ (الترغیب والترہیب)

ایک بار سرکارِ دو عالم ﷺ نے مجمع میں یہ فرمایا کہ جو شخص رشتہ داری کا پاس و لحاظ نہ کرتا ہو، وہ ہمارے پاس نہ بیٹھے۔ یہ سن کر ایک شخص اس مجمع سے اٹھا اور اپنی خالہ کے گھر گیا جس سے کچھ بگاڑ تھا، وہاں جا کر اس نے اپنی خالہ سے معذرت کی اور قصور معاف کرایا۔ پھر آ کر دربارِ نبوت میں شریک ہو گیا۔ جب وہ واپس آ گیا تو سرکارِ دو عالم ﷺ نے فرمایا: اس قوم پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی جس میں ایسا شخص موجود ہو جو اپنے رشتہ داروں سے بگاڑ رکھتا ہو۔ (الترغیب والترہیب)

فرمایا کہ ہر جمعہ کی رات میں تمام آدمیوں کے عمل اور عبادتیں اللہ کے دربار میں پیش ہوتی ہیں جو شخص اپنے رشتہ داروں سے بد سلوکی کرتا ہے اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ (الترغیب والترہیب)

### ﴿۱۷۱﴾ صلہ رحمی کا ایک عجیب قصہ

ایک مرتبہ حضور اکرم ﷺ نے عورتوں کو خیرات کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اور کچھ نہ ہو تو زیور بنی کو خیرات کریں۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے یہ حکم سن کر اپنے خاوند حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم جا کر رسول اللہ ﷺ سے پوچھو، اگر کچھ حرج نہ ہو تو جو کچھ مجھے خیرات کرنا ہے وہ میں تمہیں کر دوں، تم بھی تو محتاج ہو، حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ خود تم جا کر پوچھو۔

یہ مسجد نبوی علی صاحبہ الصلوٰۃ والسلام کے دروازے پر حاضر ہوئیں، وہاں دیکھا کہ ایک بی بی اور کھڑی تھیں اور وہ بھی اسی ضرورت سے آئی تھیں۔ بیت کے مارے ان دونوں کو جرأت نہ پڑتی تھی کہ اندر جا کر خود نبی کریم ﷺ سے پوچھتیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نکلے تو ان دونوں نے کہا کہ حضرت سے جا کر کہو، دو عورتیں کھڑی پوچھتی ہیں کہ ہم لوگ اپنے خاندانوں اور یتیم بچوں پر، جو ہماری گود میں ہوں، صدقہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ بلال رضی اللہ عنہ سے چلتے چلتے یہ بھی کہہ دیا کہ تم یہ نہ کہنا کہ ہم کون ہیں۔

حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ کون پوچھتا ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کہا: ایک قبیلہ انصار کی بی بی ہے اور ایک زینب (رضی اللہ عنہا)۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ کون زینب؟ انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: کہہ دو کہ ان کو دو ہر اثواب ملے گا، قرابت کی پاسداری کا علیحدہ اور صدقہ کرنے کا علیحدہ۔ (بخاری و مسلم)

### ﴿۱۷۲﴾ ذکر و دعاء کے فوائد

جو شخص ہر چھینک کے وقت ”اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ عَلٰی کُلِّ حَالٍ مَا کَانَ“ کہے تو ڈاڑھ اور کان کا درد کبھی بھی محسوس نہ کرے گا۔ (حسن حصین، ابن ابی شیبہ ج ۲ ص ۲۳۵)

حضرت ام سلمیؓ جو ابورافع کی اولاد کی والدہ ہیں، انہوں نے حضور ﷺ سے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ مجھے چند کلمات بتادیں مگر زیادہ نہ ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: دس مرتبہ اَللّٰهُ اَكْبَرُ کہو۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ میرے لیے ہیں۔ اور دس مرتبہ سُبْحَانَ اللّٰهِ کہو۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ میرے لیے ہے۔ اور کہو اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ (اے اللہ! مجھے بخش دے)۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تجھے بخش دیا۔ پس تم اس کو دس مرتبہ کہو تو اللہ تعالیٰ ہر مرتبہ فرمائے گا: ”میں نے تجھے بخش دیا“۔ (حسن حصین، طبرانی من ابی الیہ ﷺ ص ۳۰)

فرمایا رسول اللہ ﷺ نے جو شخص ان کلمات کو یعنی ”سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ“ کے ساتھ ”اَسْتَغْفِرُ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَاتُوْبُ اِلَيْهِ“ کہے تو یہ کلمات اس طرح جس طرح اس نے کہے، لکھ لئے جاتے ہیں۔ پھر عرش کے ساتھ لٹکادئے جاتے ہیں اور کوئی گناہ جو ان سے کیا ہوا ان کلمات کو نہیں مٹائے گا۔ یہاں تک کہ جب وہ اللہ تعالیٰ سے قیامت کے روز ملے گا تو وہ کلمے اس طرح سر بہر ہوں گے جس طرح اس نے کہے تھے۔ (حسن حصین، ۲۰ ارعن ابن عباس رضی اللہ عنہما ص ۳۰)

حضرت حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ حضرت سرہ بن جندبؒ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی حدیث نہ سناؤں جو میں نے رسول اللہ ﷺ سے کئی مرتبہ سنی اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمرؓ سے بھی کئی مرتبہ سنی ہے۔ میں نے عرض کیا ضرور سناؤں۔ حضرت سرہؒ نے فرمایا جو شخص صبح اور شام:

① اَللّٰهُمَّ اَنْتَ خَلَقْتَنِيْ

”اے اللہ! آپ ہی نے مجھے پیدا کیا۔“

② وَاَنْتَ تَهْدِيْنِيْ

”اور آپ ہی مجھے ہدایت دینے والے ہیں۔“

③ وَاَنْتَ تَطْعِمُنِيْ

”اور آپ ہی مجھے کھلاتے ہیں۔“

④ وَاَنْتَ تَسْقِيْنِيْ

”اور آپ ہی مجھے پلاتے ہیں۔“

⑤ وَاَنْتَ تُبِيْتُنِيْ

”اور آپ ہی مجھے ماریں گے۔“

⑥ وَاَنْتَ تُحْيِيْنِيْ

”اور آپ ہی مجھے زندہ کریں گے۔“

پڑھے تو جو اللہ تعالیٰ سے مانگے گا اللہ تعالیٰ ضرور اس کو عطا فرمائیں گے۔ ①

### ﴿۱۷۳﴾ ابن آدم کی حقیقت..... جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا

(وَأَخْرَجَ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْجِلْمَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرظِيِّ قَالَ قَرَأْتُ فِي التَّوْرَةِ أَوْ قَالَ فِي مِصْحَابِ إِبْرَاهِيمَ قَوْلًا جَدْتُ فِيهَا

يَقُولُ اللّٰهُ يَا بَنِ آدَمَ مَا أَنْصَفْتَنِيْ خَلَقْتَنِيْ وَكَلَّمْتَنِيْ وَجَعَلْتَنِيْ بَشَرًا سَوِيًّا وَأَخَلَقْتَنِيْ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْتَنِيْ نَاطِقًا فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْتَ النَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْتَ الْعَلَقَةَ مَضْغَةً فَخَلَقْتَ الْمَضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْتَ

الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْتَ خَلْقًا آخَرَ يَا بَنِ آدَمَ أَهْلٌ يَقْدِرُ عَلَيَّ ذَلِكَ غَيْرِيْ؟

ثُمَّ أَوْصَيْتُ إِلَى الْأَمْعَاءِ أَنْ تَسْبِيحُوا وَكَلَّمْتَنِيْ وَأَنْ تَفْرَقُوا فَاتَّسَعَتِ الْأَمْعَاءُ مِنْ بَعْدِ ضَرْبِهَا وَتَفَرَّقَتِ الْجَوَارِحُ

مِنْ بَعْدِ تَشْبِيْهِهَا ثُمَّ أَوْحَيْتُ إِلَى الْمَلِكِ الْمُوَكَّلِ بِالْأَرْحَامِ أَنْ يُخْرِجَكَ مِنْ بَطْنِ أُمِّكَ فَاسْتَخَلَصْتَنِيْ عَلَى

رَيْثَةٍ مِنْ جَنَاحٍ فَاطَّلَعْتَ عَلَيَّ فَإِذَا أَنْتَ خَلْقٌ ضَعِيفٌ لَيْسَ لَكَ مِنْ يَنْقَطَعُ وَلَا ضَرْسٌ يَطْعَنُ فَاسْتَخَلَصْتُ

لَكَ فِي صَدْرِ أُمِّكَ عَرَقًا يُدِيرُ لَكَ لَبَنًا بَارِدًا فِي الصَّيْفِ، حَارًّا فِي الشِّتَاءِ وَاسْتَخَلَصْتَهُ لَكَ مِنْ بَيْنِ جَلْدِيْ وَكَلَّمْتَنِيْ

① رواه الطبرانی فی الاوسط باسناد حسن، مجمع الروايات (مقتب احاديث علم و ذکر، دواعی ص ۳۳۲)

وَدَمٌ وَعَرُوقٌ ثُمَّ قَدَفْتُ لَكَ فِي قَلْبٍ وَالِدَتِكَ الرَّحْمَةَ وَفِي قَلْبِ أَيْمِكَ التَّحَنُّنَ يَكْدَانِ وَيُجْهَدَانِ وَيُرِيَا نِكَ وَيَغْذِيَانِكَ وَلَا يَنَامَانِ حَتَّى يَنُومَاكَ۔

يَا بَيْنَ أَدَمَ أَنَا فَعَلْتُ ذَلِكَ بِهٖ لَا بَشِيءٌ اسْتَأْهَلْتَهُ بِهٖ مِثْنِي أَوْ لِحَاجَةٍ اسْتَعْنَتْ عَلَيَّ قَضَائِهَا يَا بَيْنَ أَدَمَ! فَلَمَّا قَطَعَ سِنُّكَ وَطَحَنَ ضَرْسُكَ أَطْعَمْتُكَ فَاكِهَةَ الصَّيْفِ فِي أَوَّلِهَا وَفَاكِهَةَ الشِّتَاءِ فِي آخِرِهَا فَلَمَّا عَرَفْتَ آيَةَ رَبِّكَ عَصَيْتَنِي فَاَلَانَ إِذْ عَصَيْتَنِي فَادْعُنِي فَأَنْبِي قَرِيبٌ مُجِيبٌ وَأَدْعُنِي فَأَنْبِي غَفُورٌ رَحِيمٌ

ترجمہ: ”ابو نعیم نے حلیہ میں حضرت محمد بن کعب قرظی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے تورات میں پڑھایا ابراہیم علیہ السلام کے مصحف (صحیفوں) میں پڑھا تو اس میں یہ پایا۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اے ابن آدم! (آدم کے بیٹے!) تو نے عدل و انصاف سے کام نہ لیا۔ میں نے تجھے اس وقت پیدا کیا جب کہ تو کچھ بھی نہ تھا اور تجھے ایک معتدل و مناسب انسان بنایا اور تجھ کو مٹی کا خلاصہ (یعنی غذا) سے بنایا پھر میں نے تجھ کو نطفہ بنایا جو کہ ایک مدت معینہ تک (ایک محفوظ مقام (یعنی رحم) میں رہا۔ پھر میں نے اس نطفہ کو خون کا لوتھڑا بنادیا پھر میں نے اس خون کے لوتھڑے کو (گوشت کی) بوٹی بنادیا پھر میں نے اس بوٹی (کے بعض، اجزاء) کو ہڈیاں بنادیا۔ پھر میں نے ان ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا۔ پھر میں نے (اس میں روح ڈال کر) اس کو ایک دوسری ہی (طرح کی) مخلوق بنادیا۔ اسے ابن آدم! کیا یہ سب میرے علاوہ بھی کوئی کر سکتا ہے؟ پھر میں نے آنتوں کو حکم دیا کہ پھیل جاؤ اور اعضاء کو حکم دیا کہ الگ الگ ہو جاؤ تو آنتیں اپنی تنگ جگہ کے بعد کشادہ ہو گئیں اور اعضاء اپنے آپس میں خلط ملط ہو جانے کے بعد الگ الگ ہو گئے۔ پھر رحم پر مقرر فرشتے کو میں نے حکم دیا کہ تم کو تمہاری ماں کے پیٹ سے نکالے۔ میں نے تجھ کو بازو کے نرم پردوں پر نکالا۔ پھر میں تیری طرف متوجہ ہوا تو تو ایک کمزور مخلوق تھا نہ تیرے دانت تھے جس سے تو کاٹ سکتا اور نہ داڑھ تھی جس سے تو چبا سکتا، میں نے تیرے لیے تیری ماں کے سینے میں ایک رگ پیدا کی جو تیرے لئے گرمیوں میں ٹھنڈا دودھ نکالتی اور سردیوں میں گرم دودھ اور اسی کو تیری جلد، گوشت، خون اور رگوں (کی افزائش و پیداوار) کا ذریعہ بنایا۔ پھر میں نے تیری ماں کے دل میں تیرے لیے رحمت ڈالی اور والد کے دل میں محبت پیدا کی کہ وہ دونوں محنت و مشقت کرتے ہیں اور تیری پرورش کرتے ہیں اور تجھے غذا فراہم کرتے ہیں اور جب تک تجھے نہ سلا دیں خود نہیں سوتے۔

اے ابن آدم! یہ سب میں نے اس لیے نہیں کیا کہ تو ان سب چیزوں کا حقدار تھا اور نہ ہی اپنی کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کیا، اے ابن آدم! پھر جب تیرے دانت (چیزوں کو) کاٹنے لگے اور تیری داڑھ (سخت چیز) توڑنے لگی تو میں نے تجھ کو گرمیوں میں اس کے موٹی پھل کھلائے اور سردیوں کے پھل ان کے موسم میں۔ پھر جب تو نے جان لیا کہ میں تیرا پالنے والا ہوں تو تو نے میری نافرمانی شروع کر دی، اگر اب بھی تو میری نافرمانی کرے پھر مجھے پکارے تو میں قریب ہوں (تیری) دعا کو قبول کرنے والا ہوں۔ تو مجھے پکار کہ میں بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہوں۔“

﴿۱۷۴﴾ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی رہنے میں انسان کی عافیت ہے

(يَا بَيْنَ أَدَمَ خَلَقْتُكَ لِعِبَادَتِي فَلَا تَلْعَبْ قَدَرْتُ لَكَ رِزْقَكَ فَلَا تَتَّعَبْ فَإِنْ رَضِيتَ بِمَا قَسَمْتُ لَكَ وَعِزَّتِي وَجَلَا بِي رَحْمَتُ قَلْبِكَ وَجَسَدِكَ وَكُنْتَ عِنْدِي مُحْمُودًا وَإِنْ لَمْ تَرْضَ بِمَا قَسَمْتُ لَكَ سَلَطْتُ عَلَيْكَ الدُّنْيَا تَرْقُصُ كَمَا تَرْقُصُ الْوَحُوشُ فَلَا تَزِيدُ مِمَّا قَسَمْتُ لَكَ وَكُنْتَ جِنْدِي مَذْمُومًا كَمَا فِي التَّوْرَةِ)

ترجمہ: ”اے ابن آدم! میں نے تجھ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تو تو لہو و لعب میں نہ لگ، اور میں نے تیرے رزق کو مقدر کر دیا ہے تو تو (اس کے حصول میں) مت تھک، اگر تو میری تقسیم پر راضی ہو گیا تو میری عزت و جلال کی قسم! میں تیرے دل اور جسم کو راحت دوں گا اور تو میرے نزدیک پسندیدہ بن جائے گا، اور اگر تو میرے تقسیم کردہ رزق پر راضی نہ ہو تو میں تجھ پر دنیا مسلط کر دوں گا، پھر تو ایسا مارا مارا پھرے گا جیسے وحشی جانور پھرتے ہیں اور میری تقسیم سے زیادہ تجھے ملے گا نہیں اور تو میرے نزدیک ناپسندیدہ بن جائے گا۔ تورات میں ایسا ہی ہے۔“

﴿۱۷۵﴾ ذمہ دار کو جائز ہے کہ اپنا فیصلہ دل میں رکھ کر حقیقت کو معلوم کرنے کیلئے اس کے خلاف کچھ کہے

مسند احمد میں ہے رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ دو عورتیں تھیں جن کے ساتھ ان کے دو بچے تھے، بھڑیا آ کر ایک بچہ کو اٹھالے گیا۔ اب ہر ایک دوسرے سے کہنے لگی کہ تیرا بچہ گیا، اور جو ہے، وہ میرا بچہ ہے۔ آخر یہ قصہ حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے پیش ہوا۔ آپ نے بڑی عورت کو ڈگری دے دی کہ یہ بچہ تیرا ہے۔

یہ یہاں سے نکلیں۔ راستہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، آپ نے دونوں کو بلایا اور فرمایا چھری لاؤ میں اس لڑکے کے دو ٹکڑے کر کے آدھا آدھا ان دونوں کو دے دیتا ہوں۔ اس پر بڑی خاموش ہو گئی، مسکین چھوٹی نے ہائے واویلا شروع کر دی کہ اللہ آپ پر رحم کرے آپ ایسا نہ کیجئے یہ لڑکا اس بڑی کا ہے اس کو دے دیجئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس معاملہ کو سمجھ گئے اور لڑکا چھوٹی عورت کو دلا دیا۔

(بخاری و مسلم، تفسیر ابن کثیر جلد ۳ صفحہ ۳۸۷)

﴿۱۷۶﴾ اہل جنت کو ننگن پہنانے کی حکمت

﴿۱۷۶﴾ اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاَعْمَلُوْا الصّٰلِحٰتِ جَنَّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ يَحْكُمُوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسْوَدٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَّيَنْوُوْنَ اَوْ لَبَآئِيْمٌ فِيْهَا خَيْرٌ ﴿ (سورۃ ج: ۲۳)

ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کئے جنت کے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی ان کو وہاں سونے کے ننگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور پوشاک ان کی وہاں رشم کی ہوگی۔“  
یہاں یہ شبہ ہوتا ہے کہ ننگن ہاتھوں میں پہننا عورتوں کا کام اور ان کا زیور ہے وہ مردوں کے لیے معیوب سمجھا جاتا ہے؟

یہ ہے کہ دنیا کے بادشاہوں کی یہ امتیازی شان رہی ہے کہ سر پر تاج اور ہاتھوں میں ننگن استعمال کرتے تھے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ کو جب کہ وہ مسلمان نہیں تھے اور سفر ہجرت میں آپ کو گرفتار کرنے کے لیے تعاقب میں نکلے تھے۔ جب ان کا گھوڑا باذن خداوندی زمین میں دھنس گیا اور اس نے توبہ کی تو آپ ﷺ کی دعا سے گھوڑا زمین سے نکل گیا، اس وقت سراقہ بن مالک سے وعدہ فرمایا تھا کہ کسریٰ شاہ فارس کے ننگن مال غنیمت میں مسلمانوں کے پاس آئیں گے وہ تمہیں دیئے جائیں گے اور جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں فارس کا ملک فتح ہوا اور ایران کے یہ ننگن دوسرے اموال غنیمت کے ساتھ آئے تو سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ نے مطالبہ کیا اور ان کو دے دیئے گئے۔

خلاصہ یہ ہے کہ جیسے سر پر تاج پہننا عام مردوں کا رواج نہیں، بلکہ شاہی اعزاز ہے، اسی طرح ہاتھوں میں ننگن بھی شاہی اعزاز سمجھے جاتے ہیں اس لیے اہل جنت کو ننگن پہنائے جائیں گے، ننگن کے متعلق اس آیت میں اور سورۃ فاطر میں یہ ہے کہ وہ سونے کے ہوں گے اور سورۃ النساء میں یہ ننگن چاندی کے بتلائے گئے ہیں اس لیے حضرات مفسرین نے فرمایا کہ اہل جنت کے ہاتھوں میں تین طرح کے ننگن پہنائے جائیں گے۔ (۱) سونے کا (۲) چاندی کا (۳) موتیوں کا۔ جیسا کہ اس آیت میں سونے اور موتیوں کا ذکر موجود ہے۔ (معارف القرآن صفحہ ۲۳۸، پارہ ۱۷)

### (۱۷۷) جنات کی شرارت سے بچنے کا نبوی نسخہ

ابن ابی حاتم میں ہے کہ ایک بیمار شخص جسے کوئی جن ستا رہا تھا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے درج ذیل آیت پڑھ کر اس کے کان میں دم کیا:

﴿ أَفَعَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَهِنَا لَا تَرْجِعُونَ ۝ فَتَعَلَىٰ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ۝ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُغْلِبُ الْكَافِرُونَ ۝ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ۝ ﴾ (سورۃ مومن: آیت ۱۱۵-۱۱۸)

وہ اچھا ہو گیا۔ جب نبی کریم ﷺ سے اس کا ذکر کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: عبداللہ! تم نے اس کے کان میں کیا پڑھا تھا؟ آپ ﷺ نے بتلادیا تو حضور ﷺ نے فرمایا: تم نے یہ آیتیں اس کے کان میں پڑھ کر اسے جلا دیا۔ واللہ! ان آیتوں کو اگر کوئی با ایمان شخص بالیقین کسی پہاڑ پر پڑھے تو وہ بھی اپنی جگہ سے نکل جائے۔ (تفسیر ابن کثیر جلد ۳ صفحہ ۴۷۲)

### (۱۷۸) سفر میں نکل کر صبح و شام مذکورہ دعا پڑھے

ابو نعیم نے روایت نقل کی ہے کہ ہمیں رسول کریم ﷺ نے ایک لشکر میں بھیجا اور فرمایا کہ ہم صبح و شام مذکورہ آیت تلاوت فرماتے رہیں:

﴿ أَفَعَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَهِنَا لَا تَرْجِعُونَ ۝ ﴾ (سورۃ مومن: آیت ۱۱۵)  
ہم نے برابر اس کی تلاوت دونوں وقت جاری رکھی۔ الحمد للہ! ہم سلامتی اور غنیمت کے ساتھ واپس لوٹے۔

### (۱۷۹) ڈوبنے سے بچنے کا نبوی نسخہ

حضور اکرم ﷺ فرماتے ہیں میری امت کو ڈوبنے سے بچنے کے لیے کشتیوں میں سوار ہونے کے وقت یہ کہنا ہے:

﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝ ﴾ (سورۃ زمر: ۶۷)

﴿ بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِبَهَا وَإِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ ﴾ (سورۃ حمد: ۴۱) (تفسیر ابن کثیر جلد ۳ صفحہ ۴۷۲، پارہ ۱۸ سورۃ مومن)

### (۱۸۰) قاتلان عثمان رضی اللہ عنہ کے سامنے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کا ورد بھر اخطبہ

بغوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن سلام کا یہ خطبہ نقل کیا ہے جو انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف ہنگامہ کے وقت دیا تھا۔ خطبہ کے الفاظ یہ ہیں: اللہ کے فرشتے تمہارے شہر کے گرد احاطہ کئے ہوئے حفاظت میں اس وقت سے مشغول ہیں جب سے رسول اللہ ﷺ نے تشریف فرما ہوئے اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے۔

خدا کی قسم! اگر تم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا تو یہ فرشتے واپس چلے جائیں گے اور پھر کبھی نہ لوٹیں گے۔ خدا کی قسم! تم میں سے جو شخص ان کو قتل کر دے گا وہ اللہ کے سامنے دست بردار ہوگا، اس کے ہاتھ نہ ہوں گے، اور سمجھ لو کہ اللہ کی تلوار اب بھی میان میں ہے۔

خدا کی قسم! اگر وہ تلوار میان سے نکل آئی تو پھر کبھی میان میں نہ جائے گی کیونکہ جب کوئی نبی قتل کیا جاتا ہے تو اس کے بدلہ میں ستر

ہزار آدمی مارے جاتے ہیں اور جب کسی خلیفہ کو قتل کیا جاتا ہے تو پینتیس ہزار (۳۵۰۰۰) آدمی مارے جاتے ہیں۔ (مظہری)  
چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل سے جو باہمی خونریزی کا سلسلہ شروع ہوا تھا اُمت میں چلتا ہی رہا اور جیسے اللہ تعالیٰ کی نعمت کی مخالفت اور استحکام دین کی مخالفت اور ناشکری کا تھلان حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کی تھی اُن کے بعد روافض اور خوارج کی جماعتوں نے خلفائے راشدین کی مخالفت میں گروہ بنا لیے۔ اسی سلسلہ میں حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما کی شہادت کا عظیم حادثہ پیش آیا۔

”نَسَأَلُ اللّٰهَ الْهُدَايَةَ وَشُكْرَ نِعْمَتِهِ“ (معارف القرآن جلد ۶ صفحہ ۲۷، پارہ ۱۸، سورہ نور)

### (۱۸۱) مسجد کے پندرہ آداب

◆ اول یہ کہ مسجد میں پہنچنے پر اگر کچھ لوگوں کو بیٹھا دیکھے تو ان کو سلام کرے، اور گوئی نہ ہو تو ”السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللّٰهِ الصّٰلِحِيْنَ“ کہے لیکن یہ اس صورت میں ہے جب کہ مسجد کے حاضرین نقلی نماز یا تلاوت تسبیح وغیرہ میں مشغول نہ ہوں ورنہ ان کو سلام کرنا درست نہیں۔

◆ دوسرے یہ کہ مسجد میں داخل ہو کر بیٹھنے سے پہلے دو رکعت تحیۃ المسجد کی پڑھے، یہ بھی واجب ہے کہ اس وقت نماز پڑھنا مکروہ نہ ہو، مثلاً عین آفتاب کے طلوع یا غروب یا استواء نصف النہار کا وقت نہ ہو۔

◆ تیسرے یہ کہ مسجد میں خرید و فروخت نہ کرے۔

◆ چوتھے یہ کہ وہاں تیر اور تلواریں نہ نکالے۔

◆ پانچویں یہ کہ مسجد میں اپنی گم شدہ چیز تلاش کرنے کا اعلان نہ کرے۔

◆ چھٹے یہ کہ مسجد میں آواز بلند نہ کرے۔

◆ ساتویں یہ کہ وہاں دنیا کی باتیں نہ کرے۔

◆ آٹھویں یہ کہ مسجد میں بیٹھنے کی جگہ میں کسی سے جھگڑا نہ کرے۔

◆ نویں یہ کہ جہاں صف میں پوری جگہ نہ ہو وہاں گھس کر لوگوں پر ٹنگی پیدا نہ کرے۔

◆ دسویں یہ کہ کسی نماز پڑھنے والے کے آگے نہ گزرے۔

◆ گیارہویں یہ کہ اپنے بدن کے کسی حصہ سے کھیل نہ کرے۔

◆ بارہویں یہ کہ اپنی انگلیاں نہ مٹھائے۔

◆ تیرہویں یہ کہ مسجد میں تھوکنے، ناک صاف کرنے سے پرہیز کرنے۔

◆ چودھویں یہ کہ نجاست سے پاک و صاف رہے، اور کسی چھوٹے بچے یا مجنون کو ساتھ نہ لے جائے۔

◆ پندرہویں یہ کہ وہاں کثرت سے ذکر اللہ میں مشغول رہے۔

قرطبی نے یہ پندرہ آداب لکھنے کے بعد فرمایا ہے کہ جس نے یہ کام کر لئے اس نے مسجد کا حق ادا کیا اور مسجد اس کے لیے حرز و امان کی جگہ بن گئی۔ (معارف القرآن جلد ۶ صفحہ ۳۶، پارہ ۱۸، سورہ نور)

### (۱۸۲) جو مکانات ذکر اللہ، تعلیم قرآن اور تعلیم دین کیلئے مخصوص ہوں وہ بھی مسجد کے حکم میں ہیں

تفسیر بحر محیط میں ابو حیان نے فرمایا کہ ”فسی بئسوت“ کا لفظ قرآن میں عام ہے، جس طرح مساجد اس میں داخل ہیں اسی طرح وہ

مکانات جو خاص تعلیم قرآن، تعلیم دین، یا وعظ و نصیحت یا ذکر و تہنیل کے لیے بنائے گئے ہوں جیسے مدارس اور خانقاہیں وہ بھی اس حکم میں داخل ہیں، ان کا بھی ادب و احترام لازم ہے۔ (معارف القرآن جلد ۶ صفحہ ۴۱۷، پارہ ۱۸، سورہ نور)

### (۱۸۳) رفع مساجد کے معنی

(إِذِنَ اللَّهُ أَنْ تَرْفَعَهُ)

ترجمہ: "اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے مسجدوں کو بلند کرنے کی۔"

اجازت دینے سے مراد اس کا حکم کرنا ہے اور بلند کرنے سے مراد ان کی تعظیم کرنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ بلند کرنے کے حکم میں اللہ تعالیٰ نے مسجدوں میں لغو کام کرنے سے منع فرمایا ہے۔ (ابن کثیر)

عکرمہ و مجاہد رحمہما اللہ تعالیٰ ائمہ تفسیر نے فرمایا کہ رفع سے مراد مسجد کا بنانا ہے۔ جیسے بناء کعبہ کے متعلق قرآن میں آیا ہے:

﴿وَأَذِّنْ لَهُمْ يَوْمَئِذٍ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ﴾ (سورہ البقرہ: ۱۲۷)

کون کون سے قواعد سے مراد بنا، قواعد ہے۔ اور حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رفع مساجد سے مراد ان کی تعظیم و احترام اور ان نوجاستوں اور گندی چیزوں سے پاک رکھنا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ مسجد میں جب کوئی نجاست دلائی جائے تو مسجد اس سے اس طرح سمٹی ہے جیسے انسان کی کھال آگ سے۔

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس شخص نے مسجد میں سے ناپاکی اور گندگی اور ایذا کی چیز کو نکال دیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیں گے۔ (ابن ماجہ)

اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اپنے گھروں میں بھی مسجدیں یعنی نمازیں پڑھنے کی مخصوص جگہیں بنائیں اور ان کو پاک صاف رکھنے کا اہتمام کریں۔ (قرطبی)

اور اصل بات یہ ہے کہ لفظ ﴿تَرْفَعَهُ﴾ میں مسجدوں کا بنانا بھی داخل ہے اور ان کی تعظیم و تکریم اور پاک و صاف رکھنا بھی، پاک و صاف رکھنے میں یہ بھی داخل ہے کہ ہر نجاست اور گندگی سے پاک رکھیں، اور یہ بھی داخل ہے کہ ان کو ہر بدبو کی چیز سے پاک رکھیں۔ اسی لیے رسول کریم ﷺ نے لہسن یا پیاز کھا کر بغیر منہ صاف کئے ہوئے مسجد میں آنے سے منع فرمایا ہے جو عام کتب حدیث میں معروف ہے، سگریٹ، حقہ، تمباکو کا پان کھا کر مسجد میں جانا بھی اس حکم میں ہے، مسجد میں مٹی تل جلا نا، جس میں بدبو ہوتی ہے وہ بھی اسی حکم میں ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا میں نے دیکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ جس شخص کے منہ سے لہسن یا پیاز کی بدبو محسوس فرماتے تھے اس کو مسجد سے نکال کر بقیع میں بھیج دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ جس کو لہسن پیاز کھانے ہی ہوں تو ان کو خوب اچھی طرح پکا کر کھائے کہ ان کی بدبو ماری جائے۔

حضرات فقہاء و مہتمم اللہ تعالیٰ نے اس حدیث سے استدلال کر کے فرمایا کہ جس شخص کو کوئی ایسی بیماری ہو کہ اس کے پاس کھڑے ہوئے والوں کو اس سے تکلیف پہنچے اس کو بھی مسجد سے ہٹایا جاسکتا ہے اس کو خود چاہیے کہ جب ایسی بیماری میں ہے تو نماز گھر میں پڑھے۔

(معارف القرآن جلد ۶ صفحہ ۴۱۷، پارہ ۱۸، سورہ نور)

### (۱۸۴) رفع مساجد کا مفہوم

رفع مساجد کا مفہوم جمہور صحابہ و تابعین کے نزدیک یہی ہے کہ مسجدیں بنائی جائیں اور ان کو ہر بری چیز سے پاک صاف رکھا جائے بعض حضرات نے اس میں مسجدوں کی ظاہری شان و شوکت اور تعمیر بلندی کو بھی داخل قرار دیا ہے۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی کی تعمیر سال کی لکڑی سے شاندار بنائی تھی۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی میں نقش و نگار اور تعمیر خوبصورتی کا کافی اہتمام کروایا تھا اور یہ زمانہ اجلہ صحابہ کا تھا کسی نے ان کے فعل پر انکار نہیں کیا۔ اور بعد کے بادشاہوں نے تو مسجدوں کی تعمیرات میں بڑے اموال خرچ کئے ہیں۔ ولید بن عبدالملک نے اپنے زمانہ خلافت میں دمشق کی جامع مسجد کی تعمیر و تزئین پر پورے ملک شام کی سالانہ آمدنی سے تین گنا زیادہ مال خرچ کیا، ان کی بنائی ہوئی مسجد آج تک قائم ہے۔

امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک اگر نام و نمود اور شہرت کے لیے نہ ہو اللہ کے نام اور اللہ کے گھر کی تعظیم کی نیت سے کوئی شخص مسجد کی تعمیر شاندار، بلند و مستحکم اور خوبصورت بنائے تو کوئی ممانعت نہیں، بلکہ امید ثواب کی ہے۔

(معارف القرآن جلد ۶ صفحہ ۴۱۵، پارہ ۱۸ سورہ لور)

### ﴿ ۱۸۵ ﴾ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بڑھیا کی نصیحت سے رونا

حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ چند صحابہ کی جماعت کے ساتھ بڑے ضروری کام سے تشریف لے جا رہے تھے، راستہ میں ایک بڑھیا ملی جن کی کمر مبارک بھی جھک گئی تھی اور لاشی کے سہارے سے آہستہ آہستہ چل رہی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا: قف یا عمر! عمر ٹھہر جا! کہاں لپکا جا رہا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ٹھہر گئے اور بڑھیا لاشی کے سہارے سیدھی کھڑی ہو گئیں، اور فرمایا: اے عمر (رضی اللہ عنہ)! میرے سامنے تیرے اوپر تین دور گزر چکے ہیں۔

ایک دور تو وہ تھا کہ تو سخت گرمی کے زمانے میں اونٹ چرایا کرتا تھا اور اونٹ بھی چرانے نہیں آتے تھے، صبح سے شام تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ اونٹ چرا کرتے تو خطاب کی مار پڑتی تھی کہ اونٹوں کو اچھی طرح چرا کر کیوں نہیں لایا؟ (ان کی بہن عمر کو یہ کہتی تھی کہ عمر تجھ سے تو پہلی نہیں پھوٹی) تو اس بڑھیانے کہا کہ تو اونٹ چرایا کرتا تھا اور تیرے سر پر ناٹ کا یا کھل کا ٹکڑا ہوتا تھا اور ہاتھ میں پتے جھاڑنے کا آنگڑا ہوتا تھا۔

دوسرا دور وہ آیا کہ لوگوں نے تجھے عمیر کہنا شروع کیا، اس لیے کہ ابو جہل کا نام بھی عمر تھا اس کی طرف سے پابندی تھی کہ میرے نام پر نام نہ رکھا جائے۔ گھر والوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نام میں تصغیر کر کے عمیر کہنا شروع کر دیا تھا۔ ۲ ہجری میں غزوہ بدر ہوا اور اس میں ابو جہل مارا گیا اس وقت ان کو عمیر ہی کہا جاتا تھا۔

بڑھیانے کہا کہ اب تیرا دور یہ ہے کہ تجھے نہ کوئی عمیر کہتا ہے نہ عمر بلکہ امیر المؤمنین کہہ کر پکارتے ہیں۔ اس تمہید کے بعد بڑھیانے کہا: اَتَّبِعِ اللّٰهَ تَعَالٰی فِی السَّرَّعِیَّةِ ”رعایا کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔“ امیر المؤمنین بنا آسان ہے مگر حق والے کا حق ادا کرنا مشکل ہے، کل حقوق کے بارے میں باز پرست ہوگی لہذا ہر حق والے کا حق ادا کرو۔ عمر رضی اللہ عنہ زار و قطار رو رہے ہیں یہاں تک کہ ڈاڑھی مبارک سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے ہیں۔ صحابہ جو ساتھ تھے انہوں نے بڑھیا کی طرف اشارہ کیا کہ بس تشریف لے جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے رونے کی وجہ سے زبان بھی نہ اٹھ سکی اشارہ سے ہی منع فرما دیا کہ ان کو فرمانے دو جو فرما رہی ہیں، جب وہ چلی گئی تب صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے کسی نے پوچھا کہ یہ بڑھیا کون تھی؟ جس نے آپ کا اتنا وقت ضائع کیا۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر یہ ماری رات کھڑی رہیں تو عمر یہاں سے سرکنے والا نہیں تھا، بجز فجر کی نماز کے۔ یہ بی بی صاحبہ خولہ بنت ثعلبہ ہیں جن کی بات کی شنوائی ساتویں آسمان کے اوپر ہوئی اور حق تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِیْ تُجَادِلُكَ فِیْ زَوْجِهَا وَتَشْتَكِیْ اِلَیَّ اللّٰهِ ..... الْاٰیةِ ﴾ (سورہ الباقہ: ۱)

ترجمہ: ”باکھین اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی اور اللہ کے آگے



جھینک رہی تھی۔“

فرمایا: عمر کی کیا مجال تھی کہ ان کی بات نہ سنے جن کی بات ساتویں آسمان کے اوپر سنی گئی۔

(اسلام میں امانت داری کی حیثیت اور مقام صفحہ ۱۸، ۱۹: حضرت مولانا مفتی انصار الحسن صاحب)

## (۱۸۶) حضرت یحییٰ اُندلسی کی امانت داری

یحییٰ اُندلسی (اُندلس جو کسی وقت میں علم و فن کا، خصوصیت سے علم حدیث کا مرکز تھا، حافظ ابن عبدالبر اور علامہ حمیدی اور شیخ اکبر جیسی شخصیتیں وہاں کی مٹی سے پیدا ہوئیں) حدیث پاک کا درس دیتے تھے اور بے شمار اشخاص ان سے استفادہ کرتے تھے۔ ایک دن حضرت یحییٰ نے پڑھانے کی طویل چھٹی کر دی۔ طلباء نے معلوم کیا کہ حضرت! اتنی لمبی چھٹی جس کی مدت بھی متعین نہیں، کس بناء پر کی گئی؟ فرمایا: مجھے افریقہ کے آخری کنارے پر قیروان جانا ہے۔ عرض کیا کہ حضرت کیوں؟ وہاں جانا بڑا ہی مشکل ہے بڑے بڑے بن ہیں اور زہریلے جانور۔ فرمایا کہ ایک بقال یعنی لالہ کے میری طرف ساڑھے تین آنے یعنی ایک درہم ہے۔ ان کے ادا کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔

لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت ایک درہم ہی تو ہے؟ فرمایا مجھے ایک حدیث پہنچی ہے اور پھر اپنی سند کے ساتھ حدیث پڑھی کہ ایک لاکھ، ایک لاکھ، ایک لاکھ، ایک لاکھ، ایک لاکھ، یعنی چھ لاکھ کا نقلی صدقہ کرنے میں اتنا ثواب نہیں جتنا کہ ایک درہم حق والے کا ادا کرنے کا ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حقوق ادا کرنے والے بنائے اور جن لوگوں نے حقوق ادا کئے ہیں ان کے صدقہ اور طفیل میں ہمیں بھی ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے والا بنا دے۔ آمین! اللھم آمین۔

(اسلام میں امانت داری کی حیثیت اور مقام صفحہ ۲۰، ۲۱: حضرت مولانا مفتی انصار الحسن صاحب)

## (۱۸۷) ایک ہزار جلدوں والی تفسیر

ایک تفسیر ”حَدِيثِ قَاتِ بَعْجُو“ ایک ہزار جلدوں میں تھی، اب اس کا وجود باقی نہیں۔ پچیس جلدوں میں سورہ فاتحہ کی تفسیر تھی اور پانچ جلدوں میں بسم اللہ کی تفسیر تھی۔ (علم کیسے حاصل کیا جاتا ہے؟ صفحہ ۵۲، ۵۳: حضرت مولانا مفتی انصار الحسن صاحب)

## (۱۸۸) التَّحِيَّاتُ سیکھنے کیلئے ایک مہینہ کا سفر

اسی حدائق کے مقدمہ میں ایک واقعہ زوی کر کے نقل کیا ہے، کوئی حوالہ یا کوئی تخریج اس کی نہیں فرمائی۔ ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ملک شام سے مدینہ طیبہ حاضر ہوئے، ستر یا اسی سال ان کی عمر تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا دھوپ میں سفر کرنے کی وجہ سے بالکل سیاہ فام ہو گئے ہیں، زمین کا رنگ ان کی رنگت سے زیادہ صاف ہے، بال بڑھے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یہ کیسے تشریف لائے؟ اس ضعف اور بڑھاپے میں آپ نے اتنا طویل سفر کیوں کیا؟ بڑے میاں نے کہا: التَّحِيَّاتُ سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ اتنی بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایسے روئے کہ صاحب حدائق کے الفاظ ہیں: ”حَتَّىٰ ابْتَلَيْتُ لِحَيْثُہٗ“ اتنا روئے کہ ازگی مبارک تر ہو گئی اور ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ دیر تک روتے رہے اور پھر قسم کھا کر فرمایا: قسم ہے اس ذاتِ عالی کی جس کے قبضے میں میری جان ہے تمہیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ کیوں؟ دین کی ایک بات سننے اور سیکھنے کے لیے انہوں نے اپنے گھر کو چھوڑا اور اونٹ کی پیٹھ کے اوپر انہوں نے وقت گزارا۔

تشہد کیلئے سفر کی وجہ:

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ملک شام میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ انتظام نہیں تھا کہ کوئی کسی کو نماز سکھا سکے؟ جواب یہ ہے کہ انتظام تھا بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ عنہم وہاں موجود تھے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ انہوں نے ملک شام سے مدینہ طیبہ کا سفر کیا؟

تشہد نقل کرنے والے صحابہ:

اس کی وجہ یہ ہے کہ التَّحِيَّاتُ کے نقل کرنے والے چوبیس صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں۔ احادیث میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ صیغوں میں اور الفاظ میں جزوی اختلاف ہے کہیں تو ہے بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلَىٰ بَرَكَاتِهِ اللّٰهُ كَيْسَ: شَهِدْتُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَشَهِدْتُ اَنْ مُحَمَّدًا رَّسُوْلَ اللّٰهِ۔ غرض کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی التَّحِيَّاتُ اور ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی التَّحِيَّاتُ اور ہے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی التَّحِيَّاتُ اور ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی التَّحِيَّاتُ اور ہے۔ اسی طرح چوبیس صحابہ التَّحِيَّاتُ نقل کرنے والے ہیں۔ لیکن ہمارے امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ والی التَّحِيَّاتُ اختیار فرمائی ہے۔ اور ترجیح کی بائیس وجوہات شراح حدیث نے بیان فرمائی ہے۔ عتایہ، فتح القدر ارفقہ کی مختلف کتابوں میں ان وجوہات کی تفصیل بیان کی گئی ہے، ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ وہ بڑے میاں اس لیے سفر کر کے آئے تھے تاکہ یہ معلوم کریں کہ اہل مدینہ کا عمل کون سی التَّحِيَّاتُ کا ہے؟ کیونکہ مدینہ پاک میں ابھی وہ صحابہ بھی موجود تھے جنہوں نے رسول پاک ﷺ کے پیچھے نماز ادا کی ہے تو معلوم ہو جائے کہ انہوں نے کون سی التَّحِيَّاتُ رسول اللہ ﷺ سے سنی ہے، یہ سفر اس لیے کیا۔

### (۱۸۹) حضور اکرم ﷺ کے اخلاق

قاتشریف لے جانے کے لیے ہمارے (گدھے) کی نگی کر پر آپ ﷺ سوار ہوئے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور اکرم ﷺ کے ساتھ تھے تو ارشاد فرمایا کہ اچھا آؤ تم بھی سوار ہو جاؤ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ میں کافی وزن تھا۔ چڑھنے کے لیے اچھلے مگر نہیں چڑھ سکے، تو حضور ﷺ کو لپٹ گئے جس سے دونوں گرے۔ پھر حضور ﷺ سوار ہوئے اور فرمایا کہ ابو ہریرہ تمہیں بھی سوار کر لوں؟ عرض کیا جیسے رائے عالی ہو۔ فرمایا کہ اچھا چڑھو۔ وہ نہیں چڑھ سکے بلکہ حضور ﷺ کو ساتھ لے کر گرے۔ آپ ﷺ نے پھر سوار کرنے کے لیے پوچھا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اس ذات پاک کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے کہ تیسری دفعہ میں آپ کو نہیں گراؤں گا لہذا اب سوار نہیں ہوتا۔

حضور اقدس ﷺ کسی سفر میں تھے کہ ایک بکری پکانے کی تجویز ہوئی۔ ایک شخص نے کہا کہ اس کا ذبح کرنا میرے ذمہ ہے، دوسرا بولا کہ اس کی کھال کھینچنا میرے ذمہ، تیسرے نے کہا کہ اس کا پکانا میرے ذمہ ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ لکڑیاں اکٹھا کرنا میرے ذمہ ہے۔ آپ ﷺ کے رفقاء نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ یہ ہم ہی آپ ﷺ کی طرف سے کر لیں گے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ہاں! مجھے معلوم ہے کہ تم میری طرف سے کرو گے لیکن مجھے یہ بات ناگوار ہے کہ میں اپنے رفیقوں سے امتیازی شان میں رہوں، اور اللہ پاک کو (بھی) ناپسند ہے اپنے بندے کی یہ بات (کہ اپنے رفیقوں سے امتیازی شان میں رہے)۔

حضور اکرم ﷺ کسی سفر میں نماز کے لیے اترے اور مصلے کی طرف بڑھے، پھر لوٹے، عرض کیا گیا کہ کہاں کا ارادہ فرمایا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ اپنی اونٹنی کو باندھتا ہوں۔ عرض کیا کہ اتنے سے کام کے لیے حضور ﷺ کو تکلیف فرمانے کی کیا ضرورت ہے، ہم خدام ہی اس کو باندھ دیں گے۔ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص بھی دوسرے لوگوں سے مدد نہ طلب کرے، اگرچہ مسواک توڑنے میں ہو۔

ایک روز آپ ﷺ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ بیٹھے ہوئے کھجوریں نوش فرما رہے تھے کہ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ آشوب چشم کی وجہ سے

آنکھ کو ڈھانکے ہوئے آگئے۔ سلام کر کے مجھوں کی طرف جھکے تو حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ آنکھ دکھ رہی ہے اور شیرینی کھاتے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ اپنی اچھی آنکھ کی طرف سے کھاتا ہوں۔ اس پر حضور ﷺ کو اپنی آنکھی۔

ایک روز رطب نوش فرما رہے تھے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ آگئے، ان کی آنکھ دکھ رہی تھی، وہ بھی کھانے کے قریب ہو گئے۔ ارشاد فرمایا کہ آشوب چشم کی حالت میں بھی شیرینی کھاؤ گے۔ وہ پیچھے ہٹ کر ایک طرف جا بیٹھے۔ حضور ﷺ نے ان کی طرف دیکھا تو وہ بھی حضور ﷺ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ آپ ﷺ نے ان کی طرف مجبور پھینک دی، پھر ایک اور، پھر ایک اور، اس طرح سات مجبوریں پھینکیں، فرمایا کہ تم کو کافی ہیں جو مجبور طاق عدد کے موافق کھائی جائے وہ معز (نقصان دہ) نہیں۔ (ماہنامہ محمود، ۲۰ مئی، جون ۲۰۰۱ء)

### (۱۹۰) مہنگا بیچنے کیلئے غلہ جمع رکھنا مہلک بیماری کا سبب ہے

مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسجد سے نکلے تو اناج پھیلا ہوا دیکھا۔ پوچھا یہ غلہ کہاں سے آگیا ہے۔ لوگوں نے کہا بکنے کے لیے آیا ہے۔ آپ نے دعا کی یا اللہ! اس میں برکت دے، لوگوں نے کہا یہ غلہ گراں بھاؤ پر بیچنے کے لیے پہلے سے جمع کر لیا گیا تھا؟ پوچھا کس نے جمع کیا تھا؟ لوگوں نے کہا: ایک تو فروخ نے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مولیٰ ہیں، اور دوسرے آپ کے آزاد کردہ غلام نے۔ آپ نے دونوں کو بلوایا اور فرمایا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ جواب دیا کہ ہم اپنے مالوں سے خریدتے ہیں، لہذا جب چاہیں بیچیں۔ ہمیں اختیار ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: سنو! میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ جو شخص مسلمانوں میں مہنگا بیچنے کے خیال سے غلہ روک رکھے اسے اللہ تعالیٰ مفلس کر دے گا یا جذامی۔

یہ سن کر حضرت فروخ تو فرمانے لگے کہ میری تو یہ ہے اللہ تعالیٰ سے، پھر آپ سے عہد کرتا ہوں کہ پھر یہ کام نہیں کروں گا۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے غلام نے پھر بھی کہا کہ ہم اپنے مال سے خریدتے ہیں اور نفع اٹھا کر بیچتے ہیں اس میں کیا حرج ہے؟ راوی حدیث حضرت ابو یوسف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر دیکھا کہ اسے جذام ہو گیا اور جذامی بنا پھرنا تھا۔ ابن ماجہ میں ہے کہ جو شخص مسلمانوں کا غلہ گراں بھاؤ پر بیچنے کے لیے روک رکھے اللہ تعالیٰ اسے مفلس کر دے گا یا جذامی۔

(تفسیر ابن کثیر جلد ۱ صفحہ ۳۷۲)

### (۱۹۱) انسان کے تین دوست

علم، دولت اور عزت تینوں دوست تھے۔ ایک مرتبہ ان کے چھڑنے کا وقت آگیا، علم نے کہا مجھے درسگاہوں میں تلاش کیا جاسکتا ہے، دولت کہنے لگی مجھے امراء اور بادشاہوں کے محلات میں تلاش کیا جاسکتا ہے، عزت خاموش رہی۔ علم اور دولت نے عزت سے اس کی خاموشی کی وجہ پوچھی تو عزت ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہنے لگی کہ جب میں کسی سے چھڑ جاتی ہوں تو دوبارہ نہیں ملتی۔

### (۱۹۲) داعی کی دس صفات

- ① (فَلذَلِكَ فَادَعُ) ترجمہ: ”سو آپ اسی طرح (ان کو برابر) بلا تے رہیے۔“
- ② (وَاسْتَعْمُرُوا كَمَا أُمِرْتُمْ) ترجمہ: ”اور جس طرح آپ کو حکم ہوا ہے (اس پر) مستقیم رہیے۔“
- ③ (وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ هُمْ) ترجمہ: ”اور ان کی (فاسد) خواہشوں پر نہ چلیے۔“
- ④ (وَقُلْ أَمِنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ) ترجمہ: ”اور آپ کہہ دیجئے کہ اللہ نے جتنی کتابیں نازل فرمائی ہیں سب پر ایمان لاتا ہوں۔“
- ⑤ (وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ) ترجمہ: ”اور مجھ کو یہ (بھی) حکم ہوا ہے کہ (اپنے اور تمہارے درمیان میں عدل رکھوں۔“

① (اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ) ترجمہ: "اللہ تعالیٰ ہمارا بھی مالک ہے اور تمہارا بھی مالک ہے۔"

② (لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ) ترجمہ: "ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے۔"

③ (لَا حِجَابَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ) ترجمہ: "ہماری تمہاری کچھ بحث نہیں۔"

④ (اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا) ترجمہ: "اللہ تعالیٰ ہم سب کو جمع کرے گا۔"

⑤ ﴿وَالَّذِي الْمَعْتَدُ﴾ (سورہ شوری: ۱۵) ترجمہ: "اور (اس میں شک ہی نہیں کہ) اس کے پاس جانا ہے۔"

حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ آیت دس مستقل جملوں پر مشتمل ہے، اور ہر جملہ خاص احکام پر مشتمل ہے گویا اس میں احکام کی دس فصلیں مذکور ہیں، اس کی نظیر پورے قرآن میں ایک آیت الکرسی کے سوا کوئی نہیں۔ آیت الکرسی میں بھی دس احکام کی دس فصلیں آتی ہیں۔ (معارف القرآن جلد ۷ صفحہ ۶۸۰)

### (۱۹۳) توبہ کی حقیقت

توبہ کے لفظی معنی لوٹنے اور رجوع کرنے کے ہیں اور شرعی اصطلاح میں کسی گناہ سے باز آنے کو توبہ کہتے ہیں اور اس کے صحیح و مستحسب ہونے کے لیے تین شرائط ہیں۔ ایک یہ کہ جن گناہ میں فی الحال مبتلا ہے اس کو فوراً ترک کر دے۔ دوسرے یہ کہ ماضی میں جو گناہ ہوا ہو اس پر تادم ہو، اور تیسرے یہ کہ آئندہ اسے ترک کرنے کا پختہ عزم کر لے۔

اور کوئی شرعی فریضہ چھوڑا ہوا ہو تو اسے ادا یا اتقا کرنے میں لگ جائے اور اگر حقوق العباد سے متعلق ہے تو اس میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ اگر کسی کا مال اپنے اوپر واجب ہے اور وہ شخص زندہ ہے تو یا اسے وہ مال لوٹائے یا اس سے معاف کرائے اور اگر وہ زندہ نہیں ہے اور اس کے ورثہ موجود ہیں تو ان کو لوٹائے اگر ورثہ بھی موجود نہیں ہیں تو بیت المال میں داخل کرائے۔ بیت المال بھی نہیں ہے یا اس کا انتظام صحیح نہیں ہے تو اس کی طرف سے صدقہ کر دے اور اگر کوئی غیر مالی حق کسی کا اپنے ذمہ واجب ہے۔ مثلاً کسی کو ناحق ستایا ہے، برا بھلا کہا ہے یا اس کی غیبت کی ہے تو اسے جس طرح ممکن ہو راضی کر کے اس سے معافی حاصل کرے۔ (معارف القرآن جلد ۷ صفحہ ۶۹۵)

### (۱۹۴) نیت پر مدار ہے

شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ اور ایک درویش کا انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا کہ بادشاہ توجت میں ٹہل رہا ہے اور درویش دوزخ میں پڑا ہے۔ کسی بزرگ سے تعبیر معلوم کی تو کہا کہ وہ بادشاہ صاحب تخت و تاج تھا مگر درویشی کی تمنا کرتا تھا اور درویشوں کی طرف بڑی حسرت کی نگاہ سے دیکھتا تھا، اور یہ درویش تھے جو فقیر بے نوا مگر بادشاہ کو رشک کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔

اسی طرح اگر کوئی مسجد میں ہے اور اس کا دل لگا ہوا ہے کہ جلدی نماز ہو اور میں اپنے کام کو جاؤں تو گویا وہ مسجد سے نکل چکا، اور کوئی بازار میں ہے اور اس کا دل مسجد و نماز میں لگا ہوا ہے تو گویا وہ نماز ہی میں ہے۔ یہی معنی ہے اِنْتَظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ کے۔ زہد خانقاہ میں صرف بیٹھنے کا نام نہیں ہے۔ معلوم نہیں ہم کہاں ہیں اس کا حال تو قیامت میں معلوم ہوگا:

﴿فَمَنْ ثَلَّثَ مَوَازِينَهُ فَأَوْتِنِكَ هُوَ الْمَفْلُحُونَ﴾ (سورہ المؤمنون)

وہاں ادھر کا پلہ بھاری ہوا تو ادھر، اگر ادھر کا پلہ بھاری ہوا تو ادھر۔

(حضرت مولانا یعقوب صاحب مجددی رحمۃ اللہ علیہ ماخوذ از صحیفے ہلال دل، تعمیر حیات صفحہ ۱۰۲ تا ۱۰۱)

## (۱۹۵) نبی وی کے ساتھ دفن ہونے کا عبرت ناک واقعہ

جب سے نبی وی دیکھنے کا رواج بڑھا ہے نبی وی دیکھنے والوں کے مرنے کے بعد قبر میں عذاب ہونے کے بڑے ہی عبرت ناک واقعات بھی سامنے آرہے ہیں، جن سے ہمیں سبق لینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ واقعہ اسی لیے دکھاتے ہیں تاکہ ہم لوگ عبرت حاصل کریں۔ چنانچہ ایک رسالہ ”نبی وی کی تباہ کاریاں“ میں ایک عورت کا بڑا عبرت ناک واقعہ لکھا ہے کہ رمضان شریف کے مہینے میں افطار کے وقت گھر میں ایک ماں اور ایک بیٹی تھی۔ ماں نے بیٹی سے کہا کہ آج گھر پر مہمان آنے والے ہیں، افطاری تیار کرنی ہے، اس لیے تم بھی میری مدد کرو اور کام میں لگو اور افطاری تیار کراؤ۔

بیٹی نے صاف جواب دیا کہ اماں اس وقت نبی وی پر ایک پروگرام آرہا ہے، میں اس کو دیکھنا چاہتی ہوں، اس سے فارغ ہو کر کچھ کروں گی۔ چونکہ وقت کم تھا اس لیے ماں نے کہا کہ تم اس کو چھوڑ دو پہلے کام کراؤ، مگر بیٹی نے ماں کی بات سنی ان سنی کر دی، اور پھر اس خیال سے اوپر کی منزل میں نبی وی لے کر چلی گئی کہ اگر میں یہاں نیچے بیٹھی رہی تو ماں بار بار مجھے منع کرے گی اور کام کے لیے بلائے گی۔ چنانچہ اوپر کمرے میں اندر جا کر اندر سے کنڈی لگائی اور پروگرام دیکھنے میں مشغول ہو گئی۔ نیچے ماں بے چاری آواز دیتی رہ گئی لیکن اس نے کچھ پروا نہ کی۔ پھر ماں نے افطاری کے لیے جو تیاری ہو سکی کر لی۔ اتنے میں مہمان بھی آ گئے، اور سب لوگ افطاری کے لیے بیٹھ گئے۔ ماں نے پھر بیٹی کو آواز دی تاکہ وہ بھی آ کر روزہ افطار کر لے۔ لیکن بیٹی نے جواب نہیں دیا، تو ماں کو تشویش ہوئی، چنانچہ وہ اوپر گئی اور دروازے پر جا کر دستک دی اور اس کو آواز دی لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ چنانچہ ماں نے اس کے بھائیوں اور اس کے باپ کو اوپر بلایا۔ انہوں نے آواز دی اور دستک دی مگر جب اندر سے کوئی جواب نہ آیا تو بالآخر دروازہ توڑا گیا۔ جب دروازہ توڑ کر اندر گئے تو دیکھا کہ نبی وی کے سامنے مری ہوئی اوندھے منہ زمین پر پڑی ہے اور انتقال ہو چکا ہے۔

اب سب گھر والے پریشان ہو گئے۔ اس کے بعد اس کی لاش اٹھانے کی کوشش کی تو اس کی لاش نہ اٹھی اور ایسا محسوس ہونے لگا کہ وہ کئی ٹن وزنی ہو گئی ہے۔ اب سب لوگ پریشان ہو گئے کہ اس کی لاش کیوں نہیں اٹھ رہی ہے۔ اسی پریشانی کے عالم میں ایک صاحب نے جو نبی وی اٹھایا تو اس کی لاش بھی اٹھ گئی۔ اب صورت حال یہ ہو گئی کہ اگر نبی وی اٹھائیں تو اس کی لاش ہلکی ہو جائے، اگر نبی وی رکھ دیں تو اس کی لاش بھاری ہو جائے۔ اس نبی وی کو اٹھا کر اس کی لاش نیچے لائے اور اس کو غسل دیا، کفن دیا۔

جب اس کا جنازہ اٹھانے لگے تو پھر اس کی چار پائی ایسی ہو گئی جیسے کسی نے اس کے اوپر پہاڑ رکھ دیا ہو لیکن جب نبی وی کو اٹھایا تو آسانی سے چار پائی بھی اٹھ گئی۔ تمام اہل خانہ شرمندگی اور مصیبت میں پڑ گئے۔ بالآخر جب نبی وی جنازہ کے آگے آگے چلا تب اس کا جنازہ گھر سے باہر نکلا۔ اب اسی حالت میں نبی وی کے ساتھ اس پر نماز جنازہ پڑھی گئی اور قبرستان لے جانے لگے۔ آگے نبی وی، پیچھے جنازہ چلا، پھر قبرستان میں لے جانے کے بعد جب میت کو قبر میں اتارا اور قبر کو بند کر کے اس کو ٹھیک کر کے جب واپس لوگ جانے لگے تو لوگوں نے کہا کہ اب نبی وی واپس لے چلو، لیکن جب نبی وی اٹھا کر لے جانے لگے تو اس لڑکی کی لاش قبر سے باہر آ گئی۔ کتنی عبرت کی بات ہے۔ **فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ (اے عقل مندو! عبرت حاصل کرو)۔** لوگوں نے جلدی سے نبی وی کو وہیں رکھا اور دوبارہ اس لاش کو قبر سے اندر دفن کر کے بند کر دیا اور دوبارہ اٹھا کر چلے تو دوبارہ اس لڑکی کی لاش قبر سے باہر آ گئی۔ اب لوگوں نے کہا کہ یہ نبی وی کے ساتھ ہی دفن ہوگی اس کے علاوہ کوئی اور صورت نظر نہیں آتی۔

آخر کار اس کی لاش قبر میں تیسری بار رکھی اور نبی وی کو بھی اس کے سرہانے رکھ دیا اور اس کے ساتھ ہی اس کو دفن کر دینا پڑا۔ العیاذ

باللہ۔

اب ذرا سوچئے کہ اس لڑکی کا کیا حشر ہوگا؟ اور کیا انجام ہوگا؟ ہماری عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھا دیا۔ اب بھی اگر ہم عبرت نہ لیں تو ہماری ہی نالائقی ہے۔ اللّٰهُمَّ احْفَظْنَا مِنْهُ۔ (تفسیر حیات، ۱۰ ستمبر ۲۰۰۱ء)

### ﴿ ۱۹۶ ﴾ دل چار قسم کے ہیں

مسند احمد میں ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ دل چار قسم کے ہیں:

- ① ایک تو صاف دل جو روشن چراغ کی طرح چمک رہا ہو۔ ② دوسرے وہ دل جو غلاف آلود ہو۔  
③ تیسرے وہ دل جو اُلٹے ہیں۔ ④ چوتھے وہ دل جو گھلوا ہیں۔

پہلا دل تو مؤمن کا ہے جو پوری طرح نورانی ہے..... دوسرا کافر کا دل ہے جس پر پردے پڑے ہوئے ہیں..... تیسرا منافق کا ہے جو جانتا ہے اور انکار کرتا ہے..... چوتھا دل اس منافق کا ہے جس میں ایمان اور نفاق دونوں جمع ہیں۔

ایمان کی مثال اس بزرے کی طرح ہے جو پاکیزہ پانی سے بڑھ رہا ہو اور نفاق کی مثال پھوڑے کی طرح ہے جس میں پیپ اور خون بڑھتا ہی جاتا ہے۔ اب جو مادہ بڑھ جائے وہ دوسرے پر غالب آجاتا ہے۔ اس حدیث کی اسناد بہت ہی عمدہ ہیں۔ (تفسیر ابن کثیر جلد ۶ صفحہ ۸۹)

### ﴿ ۱۹۷ ﴾ تکبر کی دو علامتیں

حدیث میں ہے:

(الکِبْرُ بَطْرُ الْحَقِّ وَغَمَطُ النَّاسِ) (رواہ مسلم، مشکوٰۃ صفحہ ۴۳۳)

① حق کا انکار ② اور لوگوں کو حقیر سمجھنا کبر ہے۔“

### ﴿ ۱۹۸ ﴾ ہر کام میں اعتدال چاہیے

ایک رات نبی کریم ﷺ کا گزر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف سے ہوا تو دیکھا کہ وہ پست آواز سے نماز پڑھ رہے تھے، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی دیکھنے کا اتفاق ہوا تو وہ اونچی آواز سے نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ ﷺ نے دونوں سے پوچھا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں جس سے مصروف مناجات تھا وہ میری آواز سن رہا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میرا مقصد سوتوں کو جگانا اور شیطان کو بھگانا تھا۔

آپ ﷺ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اپنی آواز کو قدرے بلند کرو، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہا اپنی آواز کو کچھ پست رکھو۔ (تفسیر سہمیوی جلد ۹۸، تفسیر ابن کثیر سورۃ بنی اسرائیل آیت ۱۱۰)

### ﴿ ۱۹۹ ﴾ سب سے زیادہ قابل رشک بندہ

ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میرے دوستوں میں بہت زیادہ قابل رشک میرے نزدیک وہ مؤمن ہے جو سب بار (یعنی دنیا کے ساز و سامان اور مال و عیال کے لحاظ سے بہت ہلکا پھلکا) ہو نماز میں اس کا بڑا حصہ ہو، اور اپنے رب کی عبادت خوبی کے ساتھ اور صفت احسان کے ساتھ کرتا ہو، اور اس کی اطاعت و فرمانبرداری اس کا شعار ہو، اور یہ سب کچھ اٹھانے کے ساتھ اور خلوت میں کرتا ہو اور وہ چھپا ہوا اور گم نامی کی حالت میں ہو، اور اس کی طرف انگلیوں سے اشارے نہ کئے جاتے ہوں اور اس کی روزی بھی بندہ کخاف ہو اور وہ اس پر صابر و قانع ہو۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے اپنے ہاتھ سے چنگلی بجائی (جیسے کہ کسی چیز کے ہو جانے پر اظہارِ تعجب یا

اظہار حیرت کے لیے چٹلی بجاتے ہیں) اور فرمایا جلدی آگئی اس کو موت، اور اس پر رونے والیاں بھی کم ہیں اس کا ترکہ بھی بہت تھوڑا سا ہے۔ (مسند احمد، جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ)

فائدہ: رسول اللہ ﷺ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ میرے دوستوں اور اللہ کے مقبول بندوں کے الوان و احوال مختلف ہیں، لیکن ان میں بہت زیادہ قابل رشک زندگی ان اہل ایمان کی ہے، جن کا حال یہ ہے کہ دنیا کے ساز و سامان اور مال و عیال کے لحاظ سے وہ بہت ہلکے، مگر نماز اور عبادات میں ان کا خاص حصہ ہے، اور اس کے باوجود ایسے نامعروف اور گناہمندانہ کام کرتے جاتے کوئی ان کی طرف انگلی اٹھا کے نہیں کہتا کہ یہ فلاں بزرگ اور فلاں صاحب ہیں، اور ان کی روزی بس بقدر کفاف، لیکن وہ اس پر دل سے صابر و قانع۔ جب موت کا وقت آیا تو دم رخصت، نہ پیچھے زیادہ مال و دولت اور نہ جائیدادوں، مکانات اور باغات کی تقسیم کے جھگڑے اور نہ زیادہ ان پر رونے والیاں۔ بلاشبہ بڑی قابل رشک ہے اللہ کے ایسے بندوں کی زندگی اور الحمد للہ اس قسم کی زندگی والوں سے ہماری یہ دنیا اب بھی خالی نہیں۔ (معارف اللہ، جلد ۲، ص ۸۸)

### (۲۰۰) حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا عجیب واقعہ

حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے قبل از اسلام اور قبل از ظہور نبوت شام کی طرف تجارت کے لیے سفر فرمایا، شام سے قریب ایک خواب دیکھا جس کی تعبیر آپ نے بحیرارہب سے معلوم کی اس راہب نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو خواب سچا کرے گا، آپ کی قوم سے ایک نبی مبعوث ہوگا آپ ان کی حیات میں ان کے وزیر ہوں گے اور بعد وفات ان کے خلیفہ ہوں گے۔ پس اس خواب کو صدیق نے چھپایا، کسی سے ظاہر نہیں کیا یہاں تک کہ حضور اقدس ﷺ کو نبوت عطا ہوئی اور اعلان نبوت سن کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور عرض کیا اے محمد ﷺ آپ نے جو دعویٰ فرمایا ہے اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ اس کی دلیل وہ خواب ہے جو تم نے شام میں دیکھا تھا۔ بس غلبہ خوشی سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضور ﷺ سے معافی فرمایا اور آپ ﷺ کی پیشانی کا بوسہ لیا۔ (خصائص کبریٰ جلد ۱، ص ۲۹، کنکول معرفت، ص ۹۷، حضرت مولانا محمد اختر صاحب)

### (۲۰۱) ایک مجرب عمل برائے عافیت اہل و عیال

ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ مجھے اپنی جان اور اپنی اولاد اور اپنے اہل و عیال اور مال کے بارے میں خوف ضرر رہتا ہے۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا صبح و شام یہ پڑھ لیا کرو:

(بِسْمِ اللّٰهِ عَلٰی ذَنْبِيْ وَنَفْسِيْ وَوَلَدِيْ وَوَالِدِيْ وَمَالِيْ)

چند دن کے بعد یہ شخص آئے تو آپ ﷺ نے دریافت فرمایا: اب کیا حال ہے؟ عرض کیا: قسم ہے اس ذات کی جس نے حق کے ساتھ آپ ﷺ کو مبعوث فرمایا، میرا سب خوف غائب ہو گیا۔ (کنز العمال جلد ۲، ص ۲۳۶، کنکول معرفت، ص ۵۷، حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب)

### (۲۰۲) طالب دنیا گناہوں سے نہیں بچ سکتا

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک دن فرمایا کہ کیا کوئی ایسا ہے کہ پانی پر چلے، اور اس کے پاؤں نہ بھیگیں؟ عرض کیا گیا حضرت! ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا: اسی طرح دنیا دار گناہوں سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ (شعب الایمان، ص ۱۰۱)

فائدہ: صاحب الدنیا (دنیا دار) سے مراد وہی شخص ہے جو دنیا کو مقصود و مطلوب بنا کر اس میں لگے، ایسا آدمی گناہوں سے کہاں محفوظ رہ سکتا ہے۔ لیکن اگر بندہ کا حال یہ ہو کہ مقصود و مطلوب اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت ہو اور دنیا کی مشغولی کو بھی وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور

آخرت کی فلاح کا ذریعہ بنائے تو وہ شخص دنیا دار نہ ہوگا اور دنیا میں بظاہر پوری مشغولی کے باوجود گناہوں سے محفوظ بھی رہ سکے گا۔

(معارف اللہ ص ۷۰ جلد ۲ صفحہ ۷۰)

### (۲۰۳) اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو دنیا سے بچاتا ہے

قائدہ بن نعمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو دنیا سے اس کو اس طرح پرہیز کراتا ہے جس طرح کہ تم میں سے کوئی اپنے مریض کو پانی سے پرہیز کراتا ہے جب کہ اس کو پانی سے نقصان پہنچتا ہو۔

(جامع ترمذی، مستدرک)

فائدہ: دنیا دار اصل وہی ہے جو اللہ تعالیٰ سے غافل کرے اور جس میں مشغول ہونے سے آخرت کا راستہ کھوٹا ہو، پس اللہ تعالیٰ جن بندوں سے محبت کرتا ہے اور اپنے خالص انعامات سے ان کو نوازنا چاہتا ہے ان کو اس مردار دنیا سے اس طرح بچاتا ہے جس طرح کہ ہم لوگ اپنے مریضوں کو پانی سے پرہیز کراتے ہیں۔ (معارف اللہ ص ۷۰ جلد ۲ صفحہ ۷۰)

### (۲۰۴) خوش حالی چاہنے والی بیوی کو ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کا جواب

حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی بیوی اُم الدرداء رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے کہا کہ کیا بات ہے تم مال و منصب کیوں نہیں طلب کرتے جس طرح کہ فلاں اور فلاں طلب کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ تمہارے آگے ایک بڑی دشوار گزار گھاٹی ہے اس کو گراں بار اور زیادہ بوجھ والے آسانی سے پار نہ کر سکیں گے اس لیے میں یہی پسند کرتا ہوں کہ اس گھاٹی کو عبور کرنے کے لیے ہلکا پھلکا رہوں (اس وجہ سے میں اپنے لیے مال و منصب طلب نہیں کرتا)۔

(رواہ ابی نعیم فی شعب الایمان، معارف اللہ ص ۷۰ جلد ۲ صفحہ ۸۹)

### (۲۰۵) کسی بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار مت کرو

حضرت واثلہ بن اسحاق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار مت کرو، (اگر ایسا کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ) اللہ تعالیٰ کو اس مصیبت سے نجات دے دے اور تم کو جتلا کر دے۔ (جامع ترمذی)

فائدہ: جب دو آدمیوں میں اختلاف پیدا ہوتا ہے اور وہ ترقی کر کے دشمنی اور عداوت کی حد تک پہنچ جاتا ہے تو یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک کے جتلانے مصیبت ہونے سے دوسرے کو خوشی ہوتی ہے اس کو "شامت" کہتے ہیں، حسد اور بغض کی طرح یہ خبیث عادت بھی اللہ تعالیٰ کو سخت ناراض کرنے والی ہے، اور اللہ تعالیٰ بسا اوقات دنیا ہی میں اس کی سزا اس طرح دے دیتے ہیں کہ مصیبت زدہ کو مصیبت سے نجات دے کر اس پر خوش ہونے والے جتلانے مصیبت کر دیتے ہیں۔ (معارف اللہ ص ۷۰ جلد ۲ صفحہ ۲۲۰)

### (۲۰۶) ریاکاروں کو فضیحت اور رسوائی کی سزا

حضرت جناب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کوئی عمل سنانے اور شہرت کے لیے کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو شہرت دے گا اور جو کوئی دکھاوے کے لیے نیک عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو خوب دکھائے گا۔ (بخاری، مسلم)

فائدہ: مطلب یہ ہے کہ دکھاوے اور شہرت کی غرض سے نیک اعمال کرنے والوں کو ایک سزا ان کے اس عمل کی مناسبت سے یہ بھی دی جائے گی کہ ان کی اس ریاکاری اور منافقت کو خوب مشہور کیا جائے گا اور سب کو مشاہدہ کرا دیا جائے گا کہ بد بخت لوگ یہ نیک



اعمال اللہ کے لیے نہیں کرتے تھے، بلکہ نام و نمود اور دکھاوے اور شہرت کے لیے کیا کرتے تھے۔ الغرض جہنم کے عذاب سے پہلے ان کو ایک سزا یہ ملے گی کہ سر محشر ان کی ریا کاری اور منافقت کا پردہ چاک کر کے سب کو ان کی بد باطنی دکھادی جائے گی۔ اَللّٰهُمَّ احْفَظْنَا۔

(معارف اللہ ص ۲ جلد ۲ صفحہ ۲۳۳)

### (۲۰۷) دین کے نام پر دنیا کمانے والے ریا کاروں کو سخت تشبیہ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا آخری زمانہ میں کچھ ایسے مکار لوگ پیدا ہوں گے جو دین کی آڑ میں دنیا کا شکار کریں گے، وہ لوگوں پر اپنی درویشی اور مسکینی ظاہر کرنے اور ان کو متاثر کرنے کے لیے بھٹروں کی کھال کا لباس پہنیں گے، ان کی زبانیں شکر سے زیادہ بیٹھی ہوں گی مگر ان کے سینوں میں بھٹریوں کے دل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا (ان کے بارے میں) فرمان ہے: کیا یہ لوگ میرے ڈھیل دینے سے دھوکہ کھا رہے ہیں؟ یا مجھ سے بڑھ کر میرے مقابلے میں جرات کر رہے ہیں؟ پس مجھے اپنی قسم ہے کہ میں ان مکاروں پر انہی میں سے ایسا قندہ کھڑا کروں گا جو ان میں کے عقل مندوں اور دانوں کو بھی حیران بنا کر چھوڑے گا۔ (جامع ترمذی)

فائدہ: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ریا کاری کی یہ خاص قسم کی عابدوں، زاہدوں کی صورت بنا کر اور اپنے اندرونی حال کے بالکل برعکس ان خاصانِ خدا کی سنی نرم و شریں باتیں کر کے اللہ کے سادہ لوح بندوں کو اپنی عقیدت کے جال میں پھنسا جائے اور ان سے دنیا مان جائے، بدترین قسم کی ریا کاری ہے اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی تشبیہ ہے کہ وہ مرنے سے پہلے اس دنیا میں بھی سخت فتنوں میں مبتلا کئے جائیں گے۔ (معارف اللہ ص ۲ جلد ۲ صفحہ ۲۳۳)

### (۲۰۸) آسان حساب

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے بعض نمازوں میں رسول اللہ ﷺ کو یہ دعا کرتے سنا:

(اَللّٰهُمَّ حَسِبْنِيْ حَسَبًا يَّسِيْرًا)

ترجمہ: "اے اللہ! میرا حساب آسان فرما۔"

میں نے عرض کیا حضرت آسان حساب کا کیا مطلب ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: آسان حساب یہ ہے کہ بندہ کے اعمال نامہ پر نظر ڈالی جائے اور اس سے درگزر کی جائے (یعنی کوئی پوچھ گچھ اور جرح نہ کی جائے) بات یہ ہے کہ جس کے حساب میں اس دن جرح کی جائے گی اے عائشہ (اس کی خیر نہیں) وہ ہلاک ہو جائے گا۔ (رواہ احمد، معارف اللہ ص ۱ جلد ۲ صفحہ ۲۳۰)

### (۲۰۹) راتوں کو اللہ تعالیٰ کیلئے جاگنے والوں کا جنت میں بے حساب داخلہ

اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب لوگ (زندہ کئے جانے کے بعد) ایک وسیع اور ہموار میدان میں جمع کئے جائیں گے (یعنی سب میدانِ حشر میں جمع ہو جائیں گے) پھر اللہ کا منادی پکارے گا کہ کہاں ہیں وہ بندے جن کے پہلو راتوں کو بستروں سے الگ رہتے ہیں (یعنی بستر چھوڑ کر جو راتوں کو تہجد پڑھتے تھے) وہ اس پکار پر کھڑے ہو جائیں گے اور ان کی تعداد زیادہ نہ ہوگی، پھر وہ اللہ کے حکم سے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے، اس کے بعد تمام لوگوں کے لیے حکم ہوگا کہ وہ حساب کے لیے حاضر ہوں۔ (رواہ البیہقی فی شعب الایمان)

### (۲۱۰) امت محمدیہ کی بہت بڑی تعداد کا حساب کے بغیر جنت میں داخلہ

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا آپ ﷺ فرماتے تھے کہ میرے پروردگار نے مجھ سے

وعدہ فرمایا ہے کہ میری امت میں سے ستر ہزار کو وہ بغیر حساب اور بغیر عذاب کے جنت میں بھیجے گا اور ان میں سے ہر ہزار کے ساتھ ستر ہزار اور ہوں گے اور تین طے میرے پروردگار کے حیات میں سے (میری امت میں سے بغیر حساب اور بغیر عذاب کے جنت میں بھیجے جائیں گے)۔

فائدہ: جب دونوں ہاتھ بھر کر کسی کو کوئی چیز دی جائے تو عربی میں اس کو حٹیہ کہتے ہیں جس کو اردو، ہندی میں لپ بھر کر دینا کہتے ہیں تو حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ رسول اللہ ﷺ کی امت میں سے ستر ہزار کو بلا حساب اور بلا عذاب جنت میں داخل کرے گا اور پھر ان میں سے ہر ہزار کے ساتھ ستر ہزار اور بھی اسی طرح بلا حساب و عذاب جنت میں جائیں گے۔ اور اس سب کے علاوہ اللہ تعالیٰ اپنی خاص شانِ رحمت سے اس امت کی بہت بڑی تعداد کو تین دفعہ کر کے جنت میں بھیجے گا اور یہ سب وہ ہوں گے جو بغیر حساب اور بغیر عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ ”سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ يَا رَحْمَنَ الرَّحِيمِينَ“۔

انتباہ: اس قسم کی حدیثوں کی پوری حقیقت اسی وقت کھلے گی جب یہ سب باتیں عملی طور پر سامنے آئیں گی اس دنیا میں تو ہمارا علم و ادراک اتنا ناقص ہے کہ بہت سے ان واقعات کو صحیح طور پر سمجھنے سے بھی قاصر رہتے ہیں جن کی خبریں ہم اخباروں میں پڑھتے ہیں مگر اس قسم کے واقعات کا کبھی ہم نے تجربہ اور مشاہدہ کیا ہوا نہیں ہوتا۔

صَدَقَ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ ..... وَمَا أَوْفَيْتَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا (رواہ احمد و الترمذی و ابن ماجہ، معارف الحدیث جلد ۱ صفحہ ۲۳۳، ۲۳۴)

### (۲۱۱) خزانہ غیب سے دعا پر روزی کا ملنا

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں اللہ کا ایک بندہ اپنے اہل و عیال کے پاس پہنچا جب اس نے ان کو فقرو و فاقہ کی حالت میں دیکھا تو (الحاج کے ساتھ اللہ سے دعا کرنے کے لیے) جنگل کی طرف چل دیا جب اس کی نیک بیوی نے دیکھا کہ شوہر اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر بھروسہ کر کے اس نے تیاری شروع کر دی (وہ اٹھ کر چکی کے پاس آئی اور اس کو تیار کیا) تاکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہیں سے کچھ غلبہ آئے تو جلدی سے اس کو پیسا جاسکے (پھر وہ تنور کے پاس گئی اور اس کو گرم کیا) تاکہ آٹا پیس جانے کے بعد پھر روٹی پکانے میں دیر نہ لگے۔

پھر اس نے خود بھی دعا کی اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے مالک! ہمیں رزق دے، اب اس کے بعد اس نے دیکھا کہ چکی کے گرد آٹا گرا آئے کے لیے جو جگہ بنی ہوئی ہے (جس کو چکی کا گرائڈ اور کہیں چکی کی بھر بھی کہتے ہیں) وہ آٹے سے بھری ہوئی ہے، پھر تنور کے پاس گئی تو دیکھا کہ تنور بھی روٹیوں سے بھرا ہوا ہے (اور چٹنی روٹیاں اس میں لگ سکتی ہیں لگی ہوئی ہیں)۔

اس کے بعد اس بیوی کا شوہر واپس آیا اور بیوی سے پوچھا کہ میرے جانے کے بعد تم نے کچھ پایا؟ بیوی نے بتایا کہ ہاں ہمیں اپنے پروردگار کی طرف سے کچھ ملا ہے (یعنی براہ راست خزانہ غیب سے اس طرح ملا ہے) یہ سن کر یہ بھی چکی کے پاس گئے (اور اس کو اٹھا کر دیکھا یعنی تعجب اور شوق میں غالباً اس کا پاٹ اٹھا کر دیکھا) پھر جب یہ ماجرا رسول اللہ ﷺ سے ذکر کیا گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر اس کو اٹھا کر نہ دیکھتے تو چکی قیامت تک یونہی چلتی رہتی اور اس سے ہمیشہ آٹا نکلتا رہتا۔

(مسند احمد، معارف الحدیث جلد ۲ صفحہ ۳۱۸)

### (۲۱۲) دولت کی حرص کے بارے میں حضور ﷺ کی نصیحت

حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے کچھ مال طلب کیا، آپ ﷺ نے مجھے عطا فرمادیا،

میں نے پھر مانگا، آپ ﷺ نے پھر عطا فرمادیا، پھر آپ ﷺ نے مجھے نصیحت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اے حکیم ایہ مال سب کو بھلی گنتی والی اور لذیذ و شیریں چیز ہے۔ پس جو شخص اس کو بغیر حرص اور طمع کے سیر چشمی اور نفس کی فیاضی کے ساتھ لے اس کے واسطے اس میں برکت دی جائے گی، اور جو شخص دل کے لالچ کے ساتھ لے گا اس کے واسطے اس میں برکت نہیں ہوگی اور اس کا حال جوع البقر کے اس مریض کا سا ہوگا جو کھائے اور پیٹ نہ بھرے، اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے (یعنی دینے والے کا مقام اونچا ہے اور ہاتھ پھیلا کر لینا ایک گھٹیا بات ہے، لہذا جہاں تک ہو سکے اس سے بچنا چاہیے)۔

حکیم بن حزام کہتے ہیں کہ (حضور ﷺ کی یہ نصیحت سن کر) میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ قسم ہے اس پاک ذات کی جس نے آپ ﷺ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، اب آپ کے بعد مرتے دم تک میں کسی سے کچھ نہ لوں گا۔ (بخاری و مسلم)

فائدہ: اس حدیث شریف کے بارے میں صحیح بخاری ہی کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حکیم بن حزام نے نبی کریم ﷺ کی خدمت میں جو عہد کیا تھا اس کو پھر ایسا نبھایا کہ حضور ﷺ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما نے اپنے اپنے دور خلافت میں (جب کہ سب ہی کو وظیفے اور عطیے دیئے جاتے تھے) ان کو بھی بلا کر بار بار کچھ وظیفہ یا عطیہ دینا چاہا لیکن یہ لینے پر آمادہ ہی نہیں ہوئے۔

اور فتح الباری میں حافظ ابن حجر نے مسند اسحاق بن راہویہ کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ شیخین کے بعد حضرت عثمان اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما کے زمانہ خلافت و امارت میں بھی انہوں نے کبھی کوئی وظیفہ یا عطیہ قبول نہیں کیا، یہاں تک کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور امارت میں ایک سو بیس سال کی عمر میں ۵۴ ہجری میں وفات پائی۔ (معارف الحدیث جلد ۲ صفحہ ۲۹۶)

### ﴿ ۲۱۳ ﴾ جو اپنی مصیبت کسی پر ظاہر نہ کرے اس کیلئے بخشش کا وعدہ

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کسی جانی یا مالی مصیبت میں مبتلا ہو اور وہ کسی سے اس کا اظہار نہ کرے اور نہ لوگوں سے شکوہ شکایت کرے تو اللہ تعالیٰ کا ذمہ ہے کہ وہ اس کو بخش دیں گے۔ (بخاری و مسلم)

فائدہ: صبر کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اپنی مصیبت اور تکلیف کا کسی سے اظہار بھی نہ ہو، اور ایسے صابروں کے لیے اس حدیث میں مغفرت کا پختہ وعدہ کیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بخشش کا ذمہ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان مواعید پر یقین اور ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ (معارف الحدیث جلد ۲ صفحہ ۳۰)

### ﴿ ۲۱۴ ﴾ رسول اللہ ﷺ کا اپنی صاحبزادی کو صبر کی تلقین کرنا

حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی صاحبزادی (حضرت زینب رضی اللہ عنہا) نے نبی کریم ﷺ کے پاس کہلا بھیجا کہ میرے بچے کا آخری دم ہے اور چل چلاؤ کا وقت ہے لہذا آپ اس وقت تشریف لے آئیں۔ آپ نے اس کے جواب میں سلام کہلا بھیجا اور پیام دیا کہ بیٹی! اللہ تعالیٰ کسی سے جو کچھ لے وہ بھی اس کا ہے اور کسی کو جو کچھ دے وہ بھی اسی کا ہے۔

الغرض ہر چیز ہر حال میں اسی کا ہے (اگر کسی کو دیتا ہے تو اپنی چیز دیتا ہے اور کسی سے لیتا ہے تو اپنی چیز لیتا ہے) اور ہر چیز کے لیے اس کی طرف سے ایک مدت اور وقت مقرر ہے (اور اس وقت کے آجانے پر وہ چیز اس دنیا سے اٹھالی جاتی ہے) پس چاہیے کہ تم صبر کرو اور اللہ تعالیٰ سے اس صدمہ کے اجر و ثواب کی طالب بنو، صاحبزادی صاحبہ نے پھر آپ کے پاس پیام بھیجا اور قسم دی کہ اس وقت حضور

ﷺ ضرور تشریف لے آئیں۔ پس آپ اٹھ کر چل دیئے اور آپ کے اصحاب میں سے حضرت سعد بن عبادہ اور حضرت بن جبلی اور حضرت ابی بن کعب اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہم اور بعض اور لوگ بھی آپ ﷺ کے ساتھ ہوئے۔ پس وہ بچہ اٹھا کر آپ ﷺ کی وگو میں دیا گیا اور اس کا سانس اکھڑ رہا تھا، اس کے اس حال کو دیکھ کر رسول اللہ ﷺ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اس پر حضرت سعید بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا حضرت! یہ کیا؟!!

آپ ﷺ نے فرمایا کہ یہ رحمت کے اس جذبہ کا اثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھ دیا ہے اور اللہ کی رحمت ان ہی بندوں پر ہوگی جن کے دلوں میں رحمت کا جذبہ ہو (اور جن کے دل سخت اور رحمت کے جذبہ سے بالکل خالی ہوں اور اللہ کی رحمت کے مستحق نہ ہوں گے)۔ (بخاری و مسلم)

فائدہ: حدیث کے آخری حصے سے معلوم ہوا کہ کسی صدمہ سے دل کا متاثر ہونا اور آنکھوں سے آنسو بہنا صبر کے منافی نہیں، صبر کا مقتضی صرف اتنا ہے کہ بندہ مصیبت اور صدمہ کو اللہ تعالیٰ کی مشیت یقین کرتے ہوئے اس کو بندگی کی شان کے ساتھ انگیز کرے۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس اور اس کا شاک نہ ہو اور اس کی مقرر کی ہوئی حدود کا پابند رہے۔

باقی طبعی طور پر دل کا متاثر ہونا اور آنکھوں سے آنسو بہنا قلب کی رقت اور اس جذبہ رحمت کا لازمی نتیجہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی فطرت میں ودیعت رکھا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت ہے، اور جو دل اس سے خالی ہو وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ رحمت سے محروم ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم ﷺ کی آنکھوں سے آنسو بہتے دیکھ کر تعجب کے ساتھ سوال اس لیے کیا کہ اس وقت ان کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ دل کا یہ تاثر اور آنکھوں سے آنسو گرنا صبر کے منافی نہیں ہے۔ (معارف اللہ ص ۳۰۲ جلد ۲ ص ۳۰۲)

### (۲۱۵) خاصانِ خدا عیش و تنعم کی زندگی نہیں گزارتے

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جب ان کو یمن کی طرف روانہ کیا تو نصیحت فرمائی کہ معاذ! آرام طلبی اور خوش عیشی سے بچتے رہنا! اللہ کے خاص بندے آرام طلب اور خوش عیش نہیں ہوا کرتے۔ (مسند احمد)

فائدہ: دنیا میں آرام و راحت اور خوش عیشی کی زندگی گزارنا اگرچہ حرام اور ناجائز نہیں ہے لیکن اللہ کے خاص بندوں کا مقام یہی ہے کہ وہ دنیا میں تنعم کی زندگی اختیار نہ کریں۔ اَللّٰهُمَّ لَا عِشَّ إِلَّا عِشَّ الْاٰخِرَةِ۔ (معارف اللہ ص ۹۷ جلد ۲ ص ۹۷)

### (۲۱۶) خادم اور نوکر کا قصور معاف کرو اگرچہ وہ ایک دن میں ستر دفعہ قصور کرے

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! میں اپنے خادم (غلام یا نوکر) کا قصور کتنی دفعہ معاف کروں؟ آپ ﷺ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا اور خاموش رہے۔ اس نے پھر وہی عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ! میں اپنے خادم کو کتنی دفعہ معاف کروں؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ہر روز ستر دفعہ۔ (جامع ترمذی)

فائدہ: سوال کرنے والے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت! اگر میرا خادم، غلام یا نوکر بار بار قصور کرے تو کہاں تک میں اس کو معاف کروں اور کتنی دفعہ معاف کرنے کے بعد میں اس کو سزا دوں؟ آپ ﷺ نے جواب دیا کہ اگر بالفرض روزانہ ستر دفعہ بھی وہ قصور کرے تو تم اس کو معاف ہی کرتے رہو۔

حضور ﷺ کا مطلب یہ تھا کہ قصور کا معاف کرنا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی حد مقرر کی جائے بلکہ حسن اخلاق اور ترحم کا تقاضا یہ ہے کہ اگر بالفرض وہ روزانہ ستر دفعہ بھی قصور کرے تو اس کو معاف ہی کر دیا جائے۔

فائدہ: جیسا کہ بار بار لکھا جا چکا ہے ستر کا عدد ایسے موقعوں پر تھید کے لیے نہیں ہوتا بلکہ صرف عشر کے لیے ہوتا ہے اور خاص کر اس حدیث میں یہ بات بہت ہی واضح ہے۔ (معارف اللہ ص ۱۸۶ جلد ۲ صفحہ ۱۸۶)

### (۲۱۷) دل کی قساوت اور سختی کا علاج

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے اپنی قساوت قلبی (سخت دلی) کی شکایت کی۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو اور مسکین کو کھانا کھلایا کرو۔ (مسند احمد)

فائدہ: سخت دلی اور تنگ دلی ایک روحانی مرض اور انسان کی بد سختی کی نشانی ہے سائل نے رسول اللہ ﷺ سے اپنے دل اور اپنی روح کی اس بیماری کا حال عرض کر کے آپ سے علاج دریافت کیا تھا، آپ ﷺ نے ان کو دو باتوں کی ہدایت فرمائی ایک یہ کہ یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرا کرو اور دوسرا یہ کہ فقیر مسکین کو کھانا کھلایا کرو۔

رسول اللہ ﷺ کا بتلایا ہوا یہ علاج علم النفس کے ایک خاص اصول پر مبنی ہے بلکہ کہا چاہیے کہ حضور ﷺ کے ارشادات سے اس اصول کی تائید اور توثیق ہوتی ہے، وہ اصول یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے نفس یا قلب میں کوئی خاص کیفیت نہ ہو اور وہ اس کو پیدا کرنا چاہے تو ایک تدبیر اس کی یہ بھی ہے کہ اس کیفیت کو اور لوازم کو وہ اختیار کرے انشاء اللہ کچھ عرصہ کے بعد وہ کیفیت بھی نصیب ہو جائے گی۔ دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرنے کے لیے کثرت ذکر کا طریقہ جو حضرات صوفیائے کرام میں رائج ہے اس کی بنیاد بھی اسی اصول پر ہے۔

بہر حال یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا اور مسکین کو کھانا کھلانا دراصل جذبہ رحم کے آثار میں سے ہے لیکن جب کسی کا دل اس جذبہ سے خالی ہو وہ اگر یہ عمل بہ تکلف ہی کرنے لگے تو انشاء اللہ اس کے قلب میں بھی رحم کی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ (معارف اللہ ص ۱۷۵ جلد ۲ صفحہ ۱۷۵)

### (۲۱۸) حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عظمت

صحیح بخاری میں ایک آیت کے تحت میں بروایت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے درمیان کسی بات پر اختلاف ہوا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ناراض ہو کر چلے گئے، یہ دیکھ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کو منانے کے لیے چلے، مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہ مانے، یہاں تک کہ اپنے گھر میں پہنچ کر دروازہ بند کر لیا۔ مجبوراً صدیق اکبر رضی اللہ عنہ واپس آئے اور نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ ادھر کچھ دیر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنے اس فعل پر ندامت ہوئی اور یہ بھی گھر سے نکل کر نبی کریم ﷺ کی خدمت میں پہنچ گئے اور اپنا واقعہ عرض کیا۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اس پر رسول اللہ ﷺ ہنس پڑے اور فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر عتاب ہونے لگا تو عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ یہ زیادہ قصور میرا ہی تھا۔ رسول کریم ﷺ نے فرمایا کہ کیا تم سے اتنا بھی نہیں ہوتا کہ میرے ایک ساتھی کو اپنی ایذاؤں سے چھوڑ دو، کیا تم نہیں جانتے ہو کہ جب میں باذن خداوندی یہ کہا کہ:

(يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا)

”اے لوگو! میں تم سب کی طرف اللہ کا بھیجا ہوا (یعنی اس کا رسول) ہوں۔“

تم سب نے مجھے جھٹلایا، صرف ابو بکر رضی اللہ عنہ ہی تھے جنہوں نے پہلی بار میری تصدیق کی۔

(تفصیل معارف القرآن، ماخوذ از تعمیر حیات ۱۰ اکتوبر ۲۰۰۰ء)

### (۲۱۹) عظمت مصطفیٰ ﷺ

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے ذمہ ایک یہودی کا قرض تھا اس نے آ کر اپنا قرض مانگا، آپ ﷺ نے

فرمایا کہ اس وقت میرے پاس کچھ نہیں ہے کچھ مہلت دے دو، یہودی نے شدت کے ساتھ مطالبہ کیا اور کہا کہ میں آپ کو اس وقت تک نہ چھوڑوں گا جب تک میرا قرض ادا نہ کر دو۔

نبی کریم ﷺ نے فرمایا: تمہیں اختیار ہے میں تمہارے پاس بیٹھ جاؤں گا۔ چنانچہ رسول کریم ﷺ اس جگہ بیٹھ گئے اور ظہر، عصر، مغرب اور عشاء اور پھر اگلے روز صبح کی نماز یہیں ادا فرمائی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یہ ماجرا دیکھ کر رنجیدہ اور غضب ناک ہو رہے تھے اور آہستہ آہستہ یہودی کو ڈرا دھمکا کر یہ چاہتے تھے کہ وہ رسول اللہ ﷺ کو چھوڑ دے۔ رسول اللہ ﷺ نے اس کو تاڑ لیا اور نبی ﷺ سے پوچھا: کیا کرتے ہو؟ تب انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ ہم اس کو کیسے برداشت کریں کہ ایک یہودی آپ ﷺ کو قید کرے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ مجھے میرے رب نے منع فرمایا ہے کہ میں معاہدہ وغیرہ پر ظلم کروں۔ یہودی یہ سب ماجرا دیکھ اور سن رہا تھا۔ صبح ہوتے ہی یہودی نے کہا: اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ۔ اس طرح مشرف بہ اسلام ہو کر اس نے کہا یا رسول اللہ ﷺ میں نے اپنا آدھا مال اللہ کے راستے میں دے دیا اور قسم ہے اللہ کی! میں نے اس وقت جو کچھ کہا اس کا مقصد صرف یہ امتحان کرنا تھا کہ تورات میں آپ کے متعلق یہ الفاظ پڑھے ہیں:

”محمد بن عبد اللہ ان کی ولادت مکہ میں ہوگی اور ہجرت طیبہ کی طرف، اور ملک ان کا شام ہوگا، نہ وہ سخت مزاج ہوں گے، نہ سخت بات کرنے والے، نہ بازاروں میں شور کرنے والے نفس اور بے حیائی سے دور ہوں گے۔“

میں نے اب تمام صفات کا امتحان کر کے آپ ﷺ کو صحیح پایا، اس لیے شہادت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ ﷺ اللہ کے رسول ہیں، اور یہ میرا آدھا مال ہے، آپ کو اختیار ہے جس طرح چاہیں خرچ فرمائیں اور یہ یہودی بہت مالدار تھا، آدھا مال بھی ایک بہت بڑی دولت تھی۔ اس روایت کو مظہری میں بحوالہ دلائل المدوۃ، بیہقی نقل فرمایا ہے۔

(خصص مصادر القرآن، ماخوذ از ”تغیر حیات“ صفحہ ۱۰۹۷، ۱۱ اکتوبر ۲۰۰۷ء)

### ﴿ ۲۲۰ ﴾ مقروض کی نماز جنازہ نبی کریم ﷺ نہیں پڑھتے تھے

حدیث پاک میں آیا ہے کہ حضور پاک ﷺ ایسے لوگوں کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے جن کے اوپر دوسروں کا حق ہوتا، اس لیے نماز سے پہلے حضور ﷺ معلوم کر لیا کرتے تھے کہ اس پر کسی کا حق تو نہیں، اسی وجہ سے ایک دفعہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا، مگر حضرت ابوقحادہ انصاری رضی اللہ عنہ نے ان کے قرض کی ادائیگی کی ذمہ داری لی اس کے بعد آپ ﷺ نے نماز جنازہ ادا فرمائی۔

حضرت ابوقحادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ کے پاس ایک آدمی کا جنازہ لایا گیا تا کہ آپ ﷺ اس کی نماز جنازہ پڑھ دیں۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھ لو کیونکہ ان کے ذمہ قرض ہے تو حضرت قحادہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس کی ادائیگی میرے ذمہ ہے۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا: پورا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا: جی ہاں! میں ادا کروں گا۔

پھر آپ ﷺ نے ان صحابی کی نماز جنازہ پڑھائی۔ (نسائی شریف صفحہ ۳۱۵)

نوٹ: جب آپ ﷺ پر فتوحات ہوئیں تو مقروض کے قرض کا ذمہ خود لے لیتے تھے اور جنازہ کی نماز پڑھاتے تھے۔

(آپ کے مسائل اور ان کا حل جلد ۳ صفحہ ۱۳۱، رحمۃ اللعالمین جلد ۱ صفحہ ۲۶۶)

### ﴿ ۲۲۱ ﴾ خلاف شرع خواہشات کی پیروی ایک قسم کی بت پرستی ہے

﴿ اَرَاَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ الْاِلٰهَ هَوَاهُ ﴾ (سورہ فرقان: ۲۳)

ترجمہ: ”اے پیغمبر! آپ نے اس شخص کی حالت بھی دیکھی ہے جس نے اپنا خدا اپنی خواہش نفسانی کو بنا رکھا ہے۔“  
اس آیت میں اس شخص کو جو اسلام و شریعت کے خلاف اپنی خواہشات کا پیر ہو یہ کہا گیا ہے کہ اس نے اپنی خواہشات کو معبود بنا لیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ خلاف شرع خواہشات نفسانی بھی ایک بت ہے جس کی پرستش کی جاتی ہے، پھر استدلال میں یہ آیت تلاوت فرمائی۔ (قرطبی، معارف القرآن جلد ۶ صفحہ ۲۲۲)

### (۲۲۲) خاصانِ خدا کے قریبی رشتے دار عام طور سے محروم رہتے ہیں

﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ (سورۃ اشعراء: ۲۱۴)

ترجمہ: ”اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرادے۔“

ابن عساکر میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ مسجد میں بیٹھے ہوئے دحطا فرما رہے تھے، فتوے دے رہے تھے، مجلس کچا کھج بھری ہوئی تھی، ہر ایک کی نگاہیں آپ کے چہرے پر تھیں اور شوق سے سن رہے تھے۔ لیکن آپ کے لڑکے اور گھر کے آدمی آپس میں نہایت بے پرواہی سے اپنی باتوں میں مشغول تھے۔ کسی نے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کو توجہ دلائی کہ وہ سب لوگ تو دل سے آپ کی علمی باتوں میں دلچسپی لے رہے ہیں آپ کے اہل بیعت اس سے بالکل بے پرواہ ہیں، وہ اپنی باتوں میں نہایت بے پرواہی سے مشغول ہیں تو آپ نے جواب میں فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے دنیا سے بالکل کنارہ کشی کرنے والے انبیاء علیہم السلام ہوتے ہیں اور ان پر سب سے زیادہ سخت اور بھاری ان کے رشتہ دار ہوتے ہیں اور اسی بارے میں آیت ﴿وَأَنْذِرْ﴾ سے ﴿تَعْمَلُونَ﴾ تک ہے۔

(تفسیر ابن کثیر جلد ۴ صفحہ ۵۵)

### (۲۲۳) روغنِ زیتون کی برکات

﴿شَجَرَةً مُّبَارَكَةً زَيْتُونَةٍ﴾ (سورۃ النور: ۳۵)

اس سے زیتون اور اس کے درخت کا مبارک اور نافع و مفید ہونا ثابت ہوتا ہے۔ علماء نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بے شمار منافع اور فوائد رکھے ہیں، اس کو چرخوں میں روشنی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور اس کی روشنی ہر تیل سے زیادہ صاف شفاف ہوتی ہے، اور اس کو روٹی کے ساتھ سالن کی جگہ بھی استعمال کیا جاتا ہے، اس کے پھل کو بطور نلکہ کے کھایا بھی جاتا ہے اور یہ ایسا تیل ہے جس کے نکالنے کے لیے کسی مشین یا چرخی وغیرہ کی ضرورت نہیں خود بخود اس کے پھل سے نکل آتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ روغنِ زیتون کو کھاؤ بھی اور بدن پر مالش بھی کرو کیونکہ یہ شجرہ مبارک ہے۔ (رواہ ابوی داؤد الترمذی عن عمر رضی اللہ عنہما، موطا، مطہری، معارف القرآن جلد ۶ صفحہ ۲۲۲)

### (۲۲۴) اللہ تعالیٰ کے آٹھ نام جو سورج پر لکھے ہوئے ہیں

۱. الْحَيُّ ۲. الْعَالِمُ ۳. الْقَائِدُ ۴. الْقَمِيدُ  
۵. السَّمِيعُ ۶. الْبَصِيرُ ۷. الْمُتَكَلِّمُ ۸. الْهَكَّامِيُّ (البدایۃ والنجوہ ص ۱۶)

### (۲۲۵) شریعت اسلام میں شعر و شاعری کا درجہ

﴿وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْفَأْوَنُ﴾ (سورۃ شعراء: ۲۲۳)

”اور شاعروں کی بات پر چلیں وہی جو بے راہ ہیں۔“

آیت مذکورہ کے شروع سے شاعری کی سخت مذمت اور اس کا عند اللہ مہفوض ہونا معلوم ہوتا ہے مگر آخر سورت میں جو استثناء مذکور ہے اس سے ثابت ہوا کہ شعر مطلقاً برائے نہیں بلکہ جس شعر میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی یا اللہ تعالیٰ کے ذکر سے روکنا یا جھوٹ یا ناحق کسی انسان کی مذمت اور توہین ہو یا فحش کلام اور فواحش کے لیے محرک ہو وہ مذموم و مکروہ ہے۔ اور جو اشعار ان معاصی اور مکروہات سے پاک ہوں ان کو اللہ تعالیٰ نے ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ..... الْآيَةَ﴾ کے ذریعہ مستثنیٰ فرمادیا ہے، اور بعض اشعار تو حکیمانہ مضامین اور وعظ و نصیحت پر مشتمل ہونے کی وجہ سے طاعت و ثواب میں داخل ہیں جیسا کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ (إِنَّ مِنْ الشُّعْرِ حِكْمَةً) یعنی بعض شعر حکمت ہوتے ہیں۔ (رواہ البخاری)

حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حکم سے مراد سچی بات ہے جو حق کے مطابق ہو۔ ابن بطال نے فرمایا جس شعر میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کا ذکر اسلام سے الفت کا بیان ہو وہ شعر مرغوب و محمود ہے، اور حدیث مذکور میں ایسا ہی شعر مراد ہے اور جس شعر میں جھوٹ اور فحش بیان ہو وہ مذموم ہے اس کی مزید تائید مندرجہ ذیل روایات سے ہوتی ہے:

- ① حضرت عمرو بن شریک اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے امیہ بن ابی الصلت کے سو (۱۰۰) اشعار سنے۔
- ② مطرف فرماتے ہیں کہ میں نے کوفہ سے بصرہ تک حضرت عمران بن حصین کے ساتھ سفر کیا اور ہر منزل پر وہ شعر سناتے تھے۔
- ③ طبری نے کہا صحابہ اور کبار تابعین کے متعلق کہا کہ وہ شعر کہتے تھے سنتے تھے اور سناتے تھے۔
- ④ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا شعر کہا کرتی تھیں۔
- ⑤ ابو یعلیٰ نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے شعر ایک کلام ہے، اگر اس کا مضمون اچھا اور مفید ہے تو یہ شعر اچھا ہے اور مضمون بر یا گناہ کا ہے تو شعر برا ہے۔ (فتح الباری)

تفسیر قرطبی میں ہے کہ مدینہ منورہ کے فقہائے عشرہ جو اپنے علم و فضل میں معروف ہیں ان میں سے عبید اللہ بن جعبہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مشہور قادر الکلام شاعر تھے، اور قاضی زبیر بن بکار کے اشعار ایک مستقل کتاب میں جمع تھے۔ پھر قرطبی نے لکھا ہے کہ ابو عمرو نے فرمایا ہے کہ اچھے مضامین پر مشتمل اشعار کو اہل علم اور اہل عقل میں سے کوئی برا نہیں کہہ سکتا، کیونکہ کاہر صحابہ جو ان کے مقتدا ہیں ان میں کوئی بھی ایسا نہیں جس نے خود شعر نہ کہے ہوں یا دوسروں کے اشعار نہ پڑھے ہوں یا سنے ہوں اور پسند نہ کیا ہو۔

جن روایتوں میں شعر و شاعری کی مذمت مذکور ہے ان سے مقصود یہ ہے کہ شعر میں اتنا مصروف اور منہمک ہو جائے کہ ذکر اللہ، عبادت اور قرآن سے غافل ہو جائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ایک مستقل باب میں بیان فرمایا ہے اور اس بات میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے:

(لَا يَمْتَلِكُ جَوْفَ رَجُلٍ قَبْلَ يَوْمِ عَهْدٍ مِنْ أَنْ يَمْتَلِكِيَ شِعْرًا)

ترجمہ: ”یعنی کوئی آدمی پیپ سے اپنا پیٹ بھرے یہ اس سے بہتر ہے کہ اشعار سے پیٹ بھرے۔“

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اس کے معنی یہ ہیں کہ شعر جب ذکر اللہ اور قرآن اور علم کے اہتمام پر غالب آجائے، اور اگر شعر مغلوب ہے تو پھر برا نہیں ہے، اسی طرح وہ اشعار جو فحش مضامین یا لوگوں پر طعن و تشنیع یا دوسرے خلاف شرع مضامین پر مشتمل ہوں وہ باجماع امت حرام و ناجائز ہیں اور یہ کچھ شعر کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ جو شعر کلام ایسا ہو اس کا بھی یہی حکم ہے۔ (قرطبی)

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے گورنر عدی بن نعلہ کو ان کے عہدہ سے اس لیے برخاست کر دیا کہ وہ فحش اشعار کہتے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے حضرت عمرو بن ربیعہ اور ابوالعاص کو اسی جرم میں جلاوطن کرنے کا حکم دیا۔ عمرو بن ربیعہ نے توبہ کر لی وہ



### ﴿ ۲۲۶ ﴾ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے متعلق حیرت انگیز واقعہ

ابن ابی حاتم کی ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم ﷺ کسی اعرابی کے ہاں مہمان ہوئے، اس نے آپ ﷺ کی بڑی خاطر تواضع کی، واپسی میں آپ ﷺ نے فرمایا: کبھی ہم سے مدینے میں بھی مل لینا۔ کچھ دنوں بعد اعرابی آپ ﷺ کے پاس آیا۔ حضور ﷺ نے فرمایا: کچھ چاہیے؟ اس نے کہا: ہاں! ایک تو اونٹنی دیجئے مع ہودج کے، اور ایک بکری دیجئے جو دودھ دیتی ہو۔ آپ ﷺ نے فرمایا: افسوس! تو نے بنی اسرائیل کی بڑھیا جیسا سوال نہ کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا وہ واقعہ کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: جب حضرت کلیم اللہ بنی اسرائیل کو لے کر چلے تو راستہ بھول گئے۔ ہزار کوشش کی لیکن راہ نہ ملی۔ آپ نے لوگوں کو جمع کر کے پوچھا یہ کیا اندھیر ہے؟ تو علمائے بنی اسرائیل نے کہا: بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آخر وقت ہم سے عہد لیا تھا کہ جب ہم مصر سے چلیں تو آپ کے تابوت کو بھی یہاں سے اپنے ساتھ لیتے جائیں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ تم میں سے کون جانتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی تربت کہا ہے؟ سب نے انکار کر دیا ہم نہیں جانتے، ہم میں ایک بڑھیا کے سوا اور کوئی بھی آپ کی قبر سے واقف نہیں۔

آپ نے اس بڑھیا کے پاس آدمی بھیج کر اسے کہلوا یا کہ مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر دکھلا۔ بڑھیا نے کہا: ہاں! دکھاؤں گی، لیکن پہلے اپنا حق لے لوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا: تو کیا چاہتی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ جنت میں آپ کا ساتھ مجھے میسر ہو۔

آپ ﷺ پر اس کا یہ سوال بہت بھاری پڑا۔ اس وقت وحی آئی کہ اس کی بات مان لو، اس کی شرط منظور کر لو۔ اب وہ آپ کو ایک جھیل کے پاس لے گئی جس کے پانی کارنگ بھی متغیر ہو گیا تھا، کہا کہ اس کا پانی نکال ڈالو۔ جب پانی نکال ڈالا اور زمین نظر آنے لگی تو کہا: اب یہاں کھودو۔ کھودنا شروع ہوا تو قبر ظاہر ہو گئی۔ تابوت ساتھ رکھ لیا۔ اب جو چلنے لگے تو راستہ صاف نظر آنے لگا اور سیدھی راہ لگ گئی۔

(تفسیر ابن کثیر جلد ۲ صفحہ ۳۳)

### ﴿ ۲۲۷ ﴾ دریائے نیل کے نام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خط

روایت ہے کہ جب مصر فتح ہوا تو مصر والے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہماری قدیم عادت ہے کہ اس مہینے میں دریائے نیل کی بیہنٹ چڑھاتے ہیں اور اگر نہ چڑھائیں تو دریا میں پانی نہیں آتا۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس مہینے کی بارہویں تاریخ کو ایک باکرہ لڑکی کو لیتے ہیں جو اپنے ماں باپ کی اکلوتی ہو، اس کے والدین کو دے دلا کر رضامند کر لیتے ہیں، اور اسے بہت عمدہ کپڑے بہت قیمتی زیور پہنا کر، بنا سنوار کر اس نیل میں ڈال دیتے ہیں تو اس کا پانی چڑھتا ہے ورنہ پانی چڑھتا نہیں۔

سپہ سالار اسلام حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ فاتح مصر نے جواب دیا کہ یہ ایک جاہلانہ اور احمقانہ رسم ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اسلام تو ایسی عادتوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے، تم ایسا نہیں کر سکتے، وہ بازر ہے۔

دریائے نیل کا پانی نہ چڑھا، مہینہ پورا نکل گیا لیکن دریا خشک پڑا ہوا ہے۔ لوگ تنگ آ کر ارادے کرنے لگے کہ مصر کو چھوڑ دیں، یہاں کی بود و باش ترک کر دیں۔ اب فاتح مصر کو خیال گزرتا ہے اور دربار خلافت کو اس سے مطلع فرماتے ہیں۔ اسی وقت خلیفہ المسلمین امیر المومنین

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی طرف سے جواب ملتا ہے کہ آپ نے جو کیا اچھا کیا، اب میں اپنے اس خط میں ایک پرچہ دریائے نیل کے نام بھیج رہا ہوں تم اسے لے کر دریائے نیل میں ڈال دو۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے اس پرچے کو نکال کر پڑھا تو اس پر تحریر تھا کہ:

”خط ہے اللہ تعالیٰ کے بندے امیر المومنین عمر کی طرف سے اہل مصر کے دریائے نیل کی طرف۔ بعد حمد و صلوة کے مطلب یہ

ہے کہ اگر تو اپنی طرف سے اور اپنی مرضی سے بہہ رہا ہے تو خیر نہ بہہ، اور اگر اللہ تعالیٰ واحد و قہار تجھے جاری رکھتا ہے تو ہم اللہ سے دُعا مانگتے ہیں کہ وہ تجھے رواں کر دے۔“

یہ پرچہ لے کر حضرت امیرِ عسکر رضی اللہ عنہ نے دریائے نیل میں ڈال دیا۔ ابھی ایک رات بھی گزرنے نہ پائی تھی کہ دریائے نیل میں سولہ (۱۶) ہاتھ گہرائی کا پانی چلنے لگا اور اسی وقت مصر کی خشک سالی ترمالی سے، گرانی ارزانی سے بدل گئی۔ خط کے ساتھ ہی خطہ کا خطہ سرسبز ہو گیا اور دریا پوری روانی سے بہتا رہا۔ اس کے بعد سے ہر سال جو جان چڑھائی جاتی تھی وہ بچ گئی اور مصر سے اس ناپاک رسم کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ (تفسیر ابن کثیر جلد ۲ صفحہ ۲۱۳)

### ﴿ ۲۲۸ ﴾ حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حسین رضی اللہ عنہ کی حفاظت سانپ کے ذریعے

حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں حضرت اُمّ ایمن رضی اللہ عنہا آئیں اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین رضی اللہ عنہما گم ہو گئے ہیں۔ اس وقت دن چڑھ چکا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا: اُٹھو اور میرے دونوں بیٹوں کو تلاش کرو۔ چنانچہ ہر آدمی نے اپنا راستہ لیا اور چل پڑا اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ لے کر چل پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے یہاں تک کہ ایک پہاڑ کے دامن میں پہنچ گئے تو دیکھا حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما ایک دوسرے سے چٹے ہوئے کھڑے ہیں اور پاس ہی ایک کالا ناگ اپنی دم پر کھڑا ہے جس کے منہ سے آگ کی چنگاریاں نکل رہی ہیں (غالباً اللہ نے ناگ بھیجا تھا کہ بچوں کو آگے جانے سے روکے)۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے ناگ کی طرف بڑھے، اس ناگ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مڑ کر دیکھا اور چل پڑا اور ایک سوراخ میں داخل ہو گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے پاس گئے اور دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کیا اور دونوں کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا میرے ماں باپ تم دونوں پر قربان ہوں تم دونوں اللہ کے ہاں کتنے قابلِ احترام ہو، پھر ایک کو دائیں کندھے پر اور دوسرے کو بائیں کندھے پر بٹھالیا۔ میں نے کہا تم دونوں کو خوشخبری ہو کہ تمہاری سواری بہت ہی عمدہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں بہت عمدہ سوار ہیں اور ان کے والدین دونوں سے بہتر ہیں۔ (حیاء الصحاہ جلد ۲ صفحہ ۸۶۹)

### ﴿ ۲۲۹ ﴾ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کے لقمہ کی برکت سے بے حیا عورت با حیا بن گئی

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت مردوں سے بے حیائی کی باتیں کیا کرتی تھی اور بہت بے باک اور بدکلام تھی۔ ایک مرتبہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونچی جگہ پر بیٹھے ہوئے ٹرید کھا رہے تھے۔ اس پر اس عورت نے کہا انہیں دیکھو ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے غلام بیٹھتا ہے، ایسے کھا رہے ہیں جیسے غلام کھاتا ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون سا بندہ مجھ سے زیادہ بندگی اختیار کرنے والا ہے۔ پھر اُس عورت نے کہا یہ خود کھا رہے ہیں اور مجھے نہیں کھلا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بھی کھالے۔ اس نے کہا: مجھے اپنے ہاتھ سے عطا فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیا تو اس نے کہا جو آپ کے منہ میں ہے اس میں سے دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے دیا، جسے اس نے کھالیا (اس کھانے کی برکت سے) اس پر شرم و حیا غالب آگئی اور اس کے بعد اپنے انتقال تک کسی سے بے حیائی کی کوئی بات نہ کی۔ (حیاء الصحاہ جلد ۲ صفحہ ۷۰۲)

### ﴿ ۲۳۰ ﴾ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت کے واقعات

پہلا واقعہ:

ایک شخص تھا، اس کی بیوی اس کو منہ نہیں لگاتی تھی اور وہ سوجان سے اس کا عاشق تھا۔ بیوی کی طبیعت شوہر سے نہیں ملتی تھی اس لئے

وہ طلاق لینا چاہتی تھی مگر مرد طلاق نہیں دیتا تھا۔ مرد اس کو یہی نہیں کہ سنا تا نہیں تھا بلکہ محبت کرتا تھا مگر وہ رہنا ہی نہیں چاہتی تھی۔

ایک دن دونوں میاں بیوی بیٹھے ہوئے بات چیت کر رہے تھے، بیوی کچھ کہہ رہی تھی، مرد نے بھی کوئی جملہ کہا، بس وہ چپ ہو کر بیٹھ گئی۔ مرد نے کہا کہ اگر صبح صادق سے پہلے پہلے تو نہ بولی تو تجھ پر طلاق ہے۔ وہ چپ ہو گئی اور ارادہ کر لیا کہ میں خاموش رہوں گی تاکہ اس سے کسی طرح بچھا چھوٹ جائے وہ بے چارہ پریشان ہوا، وہ ہر چند بلوانا چاہتا تھا مگر وہ بولتی ہی نہیں تھی۔

اب وہ سمجھ گیا کہ یہ طلاق لینا چاہتی ہے اور اس طرح بیوی مجھ سے جدا ہو جائے گی۔ اب اس نے فقہاء کے دروازے جھانکنے شروع کئے، ان سے جا کر اپنا حال بیان کیا، انہوں نے یہی کہا کہ جا کر اس کی خوشامد کرو اور صبح صادق سے پہلے کسی طرح بلواؤ ورنہ صبح صادق ہوتے ہی وہ تیرے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ سب نے یہی جواب دیا۔ پھر وہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا، وہ وہاں کا حاضر باش تھا۔ متفکر اور پریشان بیٹھ گیا۔ امام صاحب نے فرمایا کہ آج کیا بات ہے؟ پریشان کیوں ہو؟ اس نے کہا کہ حضرت! واقعہ یہ ہے کہ بیوی سے میں نے کہہ دیا کہ تو اگر صبح صادق تک نہ بولی تو تجھ پر طلاق، اب وہ خاموش ہو کر بیٹھ گئی ہے۔

امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ طلاق نہیں پڑے گی مطمئن رہیے، اب وہ مطمئن ہو کر آ گیا۔ فقہاء نے امام صاحب پر طعن شروع کیا کہ ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حرام کو حلال بتانا چاہتے ہیں۔ ایک صریح حکم ہے اس کو کہہ دیا کہ طلاق نہیں پڑے گی۔

امام صاحب نے یہ کیا کہ صبح صادق میں جب آدھ گھنٹہ رہ گیا تو مسجد میں جا کر زور زور سے تہجد کی اذان دینا شروع کر دی۔ اس عورت نے جب اذان کی آواز سنی تو سمجھی کہ صبح صادق ہو گئی، بس بول پڑی اور کہنے لگی صبح صادق ہو گئی، میں مطلقہ ہو گئی، اب تیرے پاس نہیں رہوں گی۔ جب تحقیق کیا تو معلوم ہوا کہ صبح صادق نہیں ہوئی، وہ تہجد کی اذان تھی۔ لوگ قائل ہو گئے کہ واقعی امام صاحب فقہ بھی ہیں اور مدبر بھی۔ (مجلس حکیم الاسلام ص ۲۱۲)

### دوسرا واقعہ:

ایک مرتبہ ایک گھر میں چوری ہوئی اور چور اسی محلے کے تھے۔ چوروں نے گھر والے کو پکڑا اور زبردستی حلف لیا کہ اگر تو کسی کو ہمارا پتہ بتلائے گا تو تیری بیوی پر طلاق۔ اس بے چارے نے مجبوراً طلاق کا حلف لیا۔ وہ چور اس کا سارا سامان لے کر چلے گئے۔ اب وہ بہت پریشان ہوا کہ اگر میں چوروں کا پتہ بتلاتا ہوں تو مال تو مل جائے گا مگر بیوی ہاتھ سے نکل جائے گی اور اگر پتہ نہیں بتلاتا ہوں تو بیوی تو رہے گی مگر سارا گھر خالی ہو جاتا ہے تو مال اور بیوی میں تقابل پڑ گیا، یا تو مال رکھے یا بیوی رکھے، اور کسی سے کہہ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ عہد کر چکا تھا۔

پھر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر ہوا، اور وہ بہت غمگین، اداس اور پریشان تھا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آج تم بہت اداس ہو کیا بات ہے؟ اس نے کہا: حضرت! میں کہہ بھی نہیں سکتا، فرمایا کہ کچھ تو کہو۔

اس نے کہا کہ حضرت! اگر ہم نے کہا تو نہ جانے کیا ہو جائے گا۔ پھر فرمایا کہ اجمالاً کہو تو اس نے کہا کہ حضرت! چوری ہو گئی ہے، میں نے عہد کر لیا ہے کہ اگر میں نے ان چوروں کا پتہ کسی کو بتلایا تو بیوی پر طلاق۔ مجھے معلوم ہے کہ چور کون ہیں؟ وہ تو محلے کے ہیں لیکن اگر پتہ بتلاتا ہوں تو بیوی پر طلاق پڑ جائے گی۔ امام صاحب نے فرمایا کہ مطمئن رہ بیوی بھی ہاتھ سے نہیں جائے گی اور مال بھی مل جائے گا اور تو ہی پتہ بتلائے گا۔ کوفہ میں پھر شور ہو گیا کہ ابوحنیفہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو ایک عہد ہے جب وہ پورا نہ کرے گا تو بیوی پر طلاق پڑ جائے گی۔ یہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیسے کہہ دیا کہ نہ بیوی جائے گی اور نہ مال جائے گا۔ علماء اور فقہاء پریشان ہو گئے۔

امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کل ظہر کی نماز میں تمہارے محلے کی مسجد میں آ کر پڑھوں گا۔ چنانچہ امام صاحب تشریف لے گئے۔

وہاں نماز پڑھی اور اس کے بعد اعلان کر دیا کہ مسجد کے دروازے بند کر دیئے جائیں، کوئی باہر نہ جائے، اس میں چور بھی تھے، اس مسجد کا ایک دروازہ کھول دیا، ایک طرف خود بیٹھ گئے اور ایک طرف اس کو بٹھا دیا اور فرمایا کہ ایک ایک آدمی نکلے گا جو چور نہ ہو اس کے متعلق کہتے جانا یہ چور نہیں ہے اور جب چور نکلنے لگے تو چپ ہو کر بیٹھ جانا۔ چنانچہ جو چور نہیں ہوتے تھے ان کے متعلق کہتا جاتا تھا کہ یہ بھی چور نہیں ہے یہ بھی چور نہیں، اور جب چور نکلنے لگتا تو خاموش ہو کر بیٹھ جاتا۔ اس طرح اس نے گوتلایا نہیں مگر بلا تلائے سارے چور متعین ہو گئے کہ یہ سب چور ہیں۔ چنانچہ چور بھی پکڑے گئے مال بھی مل گیا اور بیوی بھی ہاتھ سے نہیں گئی، یہ تذییر کی بات تھی۔ (ماس بحیم الاسلام صفحہ ۲۱۶)

### (۲۳۱) باغی، ڈاکو اور ماں باپ کے قاتل کی نماز جنازہ نہیں

■ قاتل کو سزا کے طور پر قتل کیا جائے یا پھانسی دی جائے اس کی نماز جنازہ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اگر والدین کا قاتل ہو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ قاسم قاجر اور زانی کی موت پر اس کی نماز جنازہ کے بارے میں کیا حکم ہے؟

■ نماز جنازہ ہر گنہگار مسلمان کی ہے۔ البتہ باغی اور ڈاکو اگر مقابلہ میں مارے جائیں تو ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے، نہ ان کو غسل دیا جائے، اسی طرح جس شخص نے اپنے ماں باپ میں سے کسی کو قتل کر دیا ہو اور اسے قصاصاً قتل کیا جائے تو اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی جائے گی، اور اگر وہ اپنی موت مرے تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ تاہم سربر آوردہ، مقتدا (یعنی دین میں باحیثیت) لوگ اس میں شرکت نہ کریں۔ (آپ کے مسائل اور ان کا حل جلد ۳ صفحہ ۳۱۲)

### (۲۳۲) چلہ کی اصلیت

■ تبلیغ والے چلہ میں نکلنے پر بہت زور دیتے ہیں کیا چلہ کی کوئی اصلیت ہے کہ جس کی بناء پر یہ لوگ چلہ لگانے کے لیے کہتے ہیں؟

■ چلہ یعنی چالیس دن لگا تا رگل کی بہت برکت اور تاثیر ہے، چالیس دن تک عمل کرنے سے روح اور باطن پر اچھا اثر مرتب ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر چالیس یوم کا احکاف فرمایا اس کے بعد آپ کو تورات ملی۔ صوفیائے کرام کے یہاں بھی چلہ کا اہتمام ہے، لہذا یہ بالکل بے اصل نہیں ہے۔ ایک حدیث میں حضور اکرم ﷺ نے فرمایا:

(مَنْ صَلَّى لِلَّهِ تَرْبِعِينَ يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيرَ الْأَوَّلِيَّ يُحِبُّ لَهُ بَرَاءَةٌ تَكُونُ بَرَاءَةً مِنَ النَّارِ وَبَرَاءَةً مِنَ الْإِنْفِاقِ)

(ترمذی شریف جلد ۱ صفحہ ۳۳)

ترجمہ: ”جس شخص نے صرف اللہ کی رضا مندی کے لیے چالیس دن تک تیراوی کی ساتھ نماز پڑھی تو اس کے لیے دو پروانے لکھے جاتے ہیں، ایک پروانہ جہنم سے نجات کا، دوسرا نفاق سے بری ہونے کا۔“ (مکتواہ شریف صفحہ ۱۰۲)

اس سے معلوم ہوا کہ چلہ کو حالات کے بدلنے میں خاص اثر ہے۔ دیکھیے جب نطفہ رحم مادر میں قرار پکڑتا ہے تو پہلے چلہ میں وہ نطفہ، علقہ (یعنی بندھا ہوا خون) بنتا ہے، اور دوسرے چلہ میں وہ علقہ، مضغہ (یعنی گوشت کی بوٹی بنتا ہے) اور تیسرے چلہ میں مضغہ کے بعض اجزاء کو ہڈیاں بنا دیا جاتا ہے اور ان ہڈیوں پر گوشت چڑھتا ہے۔ پھر اس کے بعد (یعنی تین چلوں کے بعد جس کے چار ماہ ہوتے ہیں) اس میں جان پڑتی ہے۔ (بیان القرآن)

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں ایک شخص عورت پر عاشق ہو گیا اور اس کی محبت میں دیوانہ ہو گیا۔ وہ عورت بڑی پاک دامن عقیفہ اور سمجھ دار تھی۔ اس نے اس شخص کو کھلوایا کہ چالیس دن تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پیچھے تکبیر ادا کیے ساتھ نماز پڑھو اس کے بعد فیصلہ ہوگا۔ اس نے چالیس دن تک اسی طرح نماز پڑھی تو اس کی کایا پلٹ گئی اور اس کا عشق مجازی عشق حقیقی میں بدل گیا، ابھی

تک وہ اس عورت کا عاشق تھا اب اللہ کا عاشق ہو گیا۔ اور عشق بھی ایسا کہ اللہ کی محبت اس کے رگ و پے میں سرایت کر گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کو اس واقعہ کی اطلاع ہوئی تو فرمایا:

(صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ (سورہ عبکوت: ۳۵)

ترجمہ: ”بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے سچ کہا یقیناً نماز بے حیائی اور برائی کی باتوں سے روکتی ہے۔“

(تاویٰ رحمہ جلد ۶ صفحہ ۲۸۴)

نوٹ: ایک حدیث میں حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ جو شخص چالیس (۴۰) روز اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے تو اللہ اس کے قلب سے حکمت کے چشمے جاری فرمادیتے ہیں۔ (روح البیان، معارف القرآن جلد ۲ صفحہ ۵۸)

### ﴿۲۳۳﴾ خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ پڑھے یا نہیں

خودکشی کرنے والے مسلمان کی نماز جنازہ پڑھنی جائز ہے یا نہیں؟

بے شک خودکشی گناہ کبیرہ ہے مگر شریعت مطہرہ نے اس کی نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت دی ہے۔ اگر بعض مذہبی مقتدا جرانگوں کی عبرت کے لیے نماز جنازہ میں شرکت نہ کریں تو اس کی گنجائش ہے، مگر عوام پر ضروری ہے کہ نماز جنازہ پڑھیں، نماز جنازہ پڑھے بغیر دفن نہ کریں۔

حدیث میں ہے کہ مسلمان کی نماز جنازہ تم پر لازم ہے وہ نیک ہو یا بد۔ اَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، در مختار میں ہے:

(وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ وَكَلَّمَ عَمَلًا يُغْسَلُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ، بِهِ يَفْتَى) (در مختار مع الثانی جلد ۱ صفحہ ۸۱۵)

ترجمہ: ”جو آدمی خود کو عمداً قتل کرے تو اس کو غسل دیا جائے اور اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے، اس پر فتویٰ ہے۔“ واللہ تعالیٰ اعلم (تاویٰ رحمہ جلد ۱ صفحہ ۳۲)

### ﴿۲۳۴﴾ جمعہ کے دن وفات پانے کی فضیلت

جمعہ کے دن موت کی فضیلت وارد ہوئی ہے یہ فضیلت کب سے ہے، اور کہاں تک ہے؟

حدیث شریف سے ثابت ہے کہ جمعہ کے دن یا شب جمعہ کو وفات پانے والا مسلمان مگر تکبیر کے سوال و جواب سے محفوظ رہتا ہے:

(قَدْ ذَكَرْنَا مَنْ لَا يُسْئَلُ فَمَانِيَةٌ..... إِلَى قَوْلِهِ وَالْمَيِّتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْلَيْتَهَا) (در مختار مع الثانی جلد ۱ صفحہ ۷۹۸)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

(مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْلَيْتَهُ الْجُمُعَةَ إِلَّا وَقَاهُ اللَّهُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ) (رواہ احمد الترمذی، مشکوٰۃ صفحہ ۱۳)

ترجمہ: ”جو مسلمان جمعہ کے دن یا رات میں مرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے فتنے (یعنی سوال و جواب یا عذاب قبر) سے بچالیتے ہیں۔“ (عمر امین)

### ﴿۲۳۵﴾ انبیاء کے ناموں کی وجہ تسمیہ

① آدم: کے معنی گندم گوں ہیں، ابو البشر کا یہ نام ان کے جسمانی رنگ کو ظاہر کرتا ہے۔

② نوح: کے معنی آرام ہیں، باپ نے ان کو آرام و راحت کا موجب قرار دیا۔

③ اسحاق: کے معنی ضاحک یعنی ہنسنے والا ہیں، اسحاق علیہ السلام ہشاش بشاش چہرہ والے تھے۔

- ① یعقوب: پیچھے آنے والا، یہ اپنے بھائی عیسو کے ساتھ توام پیدا ہوئے تھے۔  
 ② موسیٰ: پانی سے نکالا ہوا، جب ان کا صندوق پانی سے نکالا گیا تب یہ نام رکھا گیا۔  
 ③ یحییٰ: عمر دراز، بڑھے ماں باپ کی بہترین آرزوؤں کا ترجمان ہے۔  
 ④ عیسیٰ: سرخ رنگ، چہرہ گل گوں کی وجہ سے یہ نام تجویز ہوا۔ (رحمۃ اللعالمین جلد ۳ صفحہ ۱۱۳)

### ﴿۲۳۶﴾ پانچ آدمی اللہ کی ذمہ داری میں ہیں

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ:

- ① جو آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں ہوتا ہے۔
- ② اور جو کسی بیمار کی عیادت کرنے جاتا ہے وہ بھی اللہ کی ذمہ داری میں ہوتا ہے۔
- ③ اور جو صبح یا شام کو مسجد میں جاتا ہے وہ بھی اللہ کی ذمہ داری میں ہوتا ہے۔
- ④ اور جو بد کرنے کے لیے امام کے پاس جاتا ہے وہ بھی اللہ کی ذمہ داری میں ہوتا ہے۔
- ⑤ اور جو گھر بیٹھ جاتا ہے اور کسی کی برائی اور غیبت نہیں کرتا وہ بھی اللہ کی ذمہ داری میں ہوتا ہے۔ (حیاء الصحابہ جلد ۲ صفحہ ۸۱۵)

### ﴿۱۲۳﴾ عیادت کرنے کا عجیب واقعہ

حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ کا واقعہ لکھا ہے کہ جب آپ مرضِ وفات میں تھے لوگ آپ کی عیادت کرنے کے لیے آنے لگے، عیادت کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ (مَنْ عَادَ مَرِيضًا فَلَيْسَ بِمُعْتَدٍ) یعنی جو شخص تم میں سے کسی بیمار کی عیادت کرنے جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ ہلکی پھلکی عیادت کرے، بیمار کے پاس زیادہ دیر نہ بیٹھے، کیونکہ بعض اوقات مریض کو خلوت کی ضرورت ہوتی ہے اور لوگوں کی موجودگی میں وہ اپنا کام بے تکلفی سے انجام نہیں دے سکتا، اس لیے مختصر عیادت کر کے چلے آؤ اور اس کی راحت پہنچاؤ، تکلیف مت پہنچاؤ۔

بہر حال حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ بستر پر لیٹے ہوئے تھے، ایک صاحب عیادت کے لیے آکر بیٹھ گئے اور ایسے جم کر بیٹھ گئے کہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتے اور بہت سے لوگ عیادت کے لیے آتے رہے اور مختصر ملاقات کر کے جاتے رہے مگر وہ صاحب بیٹھے رہے، نہ اٹھے۔ اب حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ اس انتظار میں تھے کہ یہ صاحب چلے جائیں تو میں خلوت میں بے تکلفی سے اپنی ضروریات کے کچھ کام کر لوں مگر خود سے اس کو چلے جانے کے لیے بھی کہنا مناسب نہیں سمجھتے تھے۔

جب کافی دیر گزری اور وہ اللہ کا بندہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا تو حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ نے ان صاحب سے فرمایا: یہ بیماری کی تکلیف تو اپنی جگہ پر ہے ہی، لیکن عیادت کرنے والوں نے علیحدہ پریشان کر رکھا ہے کہ عیادت کے لیے آتے اور پریشان کرتے ہیں۔ آپ کا مقصد یہ تھا کہ شاید یہ میری بات سمجھ کر چلا جائے مگر وہ اللہ کا بندہ پھر بھی نہیں سمجھا اور حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ سے کہا کہ حضرت! اگر آپ اجازت دیں تو کمرے کا دروازہ بند کر دوں؟ تاکہ کوئی دوسرا شخص عیادت کے لیے نہ آئے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے جواب دیا: ہاں بھائی! بند کر دو مگر اندر سے بند کرنے کے بجائے باہر سے جا کر بند کر دو۔

بہر حال بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ ایسا معاملہ بھی کرنا پڑتا ہے اس کے بغیر کام نہیں چلتا، لیکن عام حالت میں حتیٰ الامکان یہ کوشش کی جائے کہ دوسرا آدمی یہ محسوس نہ کرے کہ مجھ سے اعراض برتا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو ان سنتوں

### (۲۳۸) حضور ﷺ کی زیارت کا طریقہ

بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کو نبی کریم ﷺ کی زیارت کا شوق ہو وہ جمعہ کی رات میں دو رکعت نفل نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد گیارہ (۱۱) مرتبہ آیہ الکرسی اور گیارہ (۱۱) مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور پھر سلام پھیرنے کے بعد سو (۱۰۰) مرتبہ یہ درود شریف پڑھے:

(اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَمِيِّ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ)

اگر کوئی شخص چند مرتبہ یہ عمل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو حضور اقدس ﷺ کی زیارت نصیب فرمادیتے ہیں بشرطیکہ شوق اور طلب کامل ہو اور گناہوں سے بچی بچتا ہو۔ (اصلاحی خطبات جلد ۶ صفحہ ۱۰۴)

### (۲۳۹) آٹھ قسم کے لوگ جن سے قبر میں سوال نہیں کیا جائے گا

شامی میں لکھا ہے کہ جن لوگوں سے سوال نہیں کیا جائے گا وہ آٹھ قسم کے لوگ ہیں:

① شہید۔ ② اسلامی ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والا۔ ③ مرض طاعون سے فوت ہونے والا۔

④ طاعون کے زمانہ میں طاعون کے علاوہ کسی مرض سے لڑتے ہوئے والا جب کہ وہ اس پر صابر اور ثواب کی امید رکھنے والا ہو۔

⑤ صدیق۔ ⑥ بچے۔ ⑦ جمعہ کے دن یارات میں مرنے والا۔

⑧ ہر رات سورہ تبارک (سورہ ملک) پڑھنے والا۔

اور بعض حضرات نے اس سورت کے ساتھ سورہ سجدہ کو بھی ملایا ہے اور اپنے مرض موت میں ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ پڑھنے والا۔

اور شارح رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ان میں انبیاء علیہم السلام کا اضافہ کیا جائے گا اس لیے کہ وہ صدیقین سے درجہ میں بڑھے ہوئے ہیں۔

(شامی جلد ۶ صفحہ ۵۷۲)

### (۲۴۰) ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ کے والد کا خوف خدا

مذکور ہے کہ ایک دن ادھم رحمہ اللہ کا بخارا کے باغات کی طرف سے گزر ہوا آپ ایک نہر کے کنارے (جو باغات کے اندر سے ہوتی ہوئی نکلتی تھی) بیٹھ کر وضو کرنے لگے۔ آپ رحمہ اللہ نے دیکھا کہ نہر مذکور میں ایک سیب بہتا ہوا آرہا ہے، خیال کیا کہ اس کے کھا لینے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ چنانچہ اٹھا کر کھالیا۔ جب کھا چکے تو یہ دوسو سہ پیدا ہوا کہ میں نے سیب کے مالک سے اجازت نہیں لی اور ناجائز طریقہ پر کھالیا ہے۔ اس خیال سے مالک کے باغ کے پاس گئے کہ اسے اس امر کی اطلاع دے دیں تاکہ اس کی اجازت سے حلال و مباح ہو جائے۔ چنانچہ باغ کے دروازے کو جہاں سے یہ سیب بہہ کر آیا تھا کھٹکھٹایا، آواز سن کر ایک لڑکی باہر آئی آپ نے اس سے کہا کہ میں باغ کے مالک سے ملنا چاہتا ہوں، اسے بھیج دو۔ اس نے عرض کیا کہ وہ عورت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا اس سے پوچھ لو۔ میں خود حاضر ہو جاؤں۔

چنانچہ اجازت مل گئی اور آپ اس خاتون کے پاس تشریف لے گئے اور سارا واقعہ اس کو سنایا، خاتون مذکور نے جواب دیا کہ نصف باغ تو میرا ہے اور نصف سلطان کا ہے، اور وہ یہاں نہیں ہے بلکہ تشریف لے گئے ہیں جو بخارا سے دس دن کی مسافت پر ہے، اس نے اپنے سیب کا نصف حصہ تو آپ کو معاف کر دیا۔

اب باقی رہا دوسرا نصف، اسے معاف کرانے بلخ تشریف لے گئے، جب وہاں پہنچے تو بادشاہ کی سواری جلوں کے ساتھ جاری تھی، اس حالت میں آپ نے سارے واقعہ کی بادشاہ کو خبر دی اور نصف سیب کی معافی کے طالب ہوئے، بادشاہ نے فرمایا: اس وقت تو میں کچھ نہیں کہتا کل میرے پاس تشریف لے آئیے، اس کی ایک حسینہ و جمیلہ لڑکی تھی اور بہت سے شہزادوں کی نسبت کے پیغام اس کے لیے آچکے تھے لیکن اس شہزادی کا باپ یعنی بادشاہ انکار کر دیا کرتا تھا کیونکہ لڑکی عبادت اور نیک کاروں کو بہت دوست رکھتی تھی اس لیے اس کی یہ خواہش تھی کہ دنیا کے کسی متورع (پرہیزگار) زاہد سے اس کا نکاح ہو۔

جب بادشاہ محل میں واپس آیا تو اپنی لڑکی سے ادھم کا سارا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ میں نے ایسا متورع (پرہیزگار) شخص کہیں نہیں دیکھا کہ صرف نصف سیب حلال کرنے کے لیے بخارا سے آیا ہے۔ جب اس لڑکی نے یہ کیفیت سنی تو نکاح منظور کر لیا۔

جب دوسرے دن ادھم بادشاہ کے پاس آئے تو اس نے اُن سے کہا کہ جب تک میری لڑکی کے ساتھ نکاح نہ کریں گے آپ سے نصف سیب معاف نہیں کروں گا۔ ادھم نے کمال انکار کے بعد چاروں چار نکاح کرنا منظور کر لیا۔

چنانچہ بادشاہ نے لڑکی کا ادھم سے نکاح کر دیا۔ جب ادھم خلوت میں اپنی بیوی کے پاس گئے تو دیکھا کہ لڑکی نہایت آراستہ و پیراستہ ہے اور وہ مکان بھی جہاں لڑکی تھی نہایت تکلفات کے ساتھ مزین ہے۔ ادھم ایک گوشہ میں جا کر نماز میں مصروف ہو گئے حتیٰ کہ اس حالت میں صبح ہو گئی اور متواتر سات راتیں اسی طرح گزر گئیں۔ اور اب تک سلطان نے سیب کا نصف انہیں معاف نہ کیا تھا، اس لیے آپ نے بادشاہ کو یاد دہانی کے لیے کہلا بھیجا کہ اب وہ معاف فرمادیتے۔ بادشاہ نے جواب دیا کہ جب تک آپ کا میری لڑکی کے ساتھ اجتماع کا اتفاق نہ ہوگا میں معاف نہ کروں گا۔ آخر کار شب ہوئی اور ادھم اپنی بیوی کے ساتھ اجتماع پر مجبور ہوئے۔ آپ نے غسل کیا نماز پڑھی اور صبح مار کر مصلے پر سجدہ میں گر پڑے۔ لوگوں نے دیکھا تو ادھم <sup>بڑھاپے</sup> مردہ تھے۔

بعد ازاں لڑکی سے ابراہیم <sup>بڑھاپے</sup> پیدا ہوئے، چونکہ ابراہیم کے نانا کا کوئی لڑکا نہ تھا، اس لیے سلطنت ابراہیم کو ملی۔ آپ کے سلطنت چھوڑنے کا واقعہ مشہور ہے، اس کی اصل بھی یہی ہے۔ (سفرنامہ ابن بطوطہ جلد ۱ صفحہ ۱۰۶)

### (۲۴۱) ایک نیکی پر جنگ میں داخلہ

قیامت کے دن ایک ایسے شخص کو حاضر کیا جائے گا جس کے میزان کے دونوں پلڑے نیکی اور بدی کے برابر ہوں گے اور ایسی کوئی نیکی نہیں ہوگی جس سے نیکی کا پلڑا جھک جائے، پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے فرمائیں گے کہ لوگوں میں جا کر تلاش کرو کہ تمہیں کوئی نیکی مل جائے جس سے تم کو جنت میں پہنچاؤں۔ وہ شخص بہت حیران و پریشان لوگوں میں تلاش کرتا رہے گا لیکن ہر شخص یہی کہے گا مجھے اپنے بارے میں ڈر ہے کہ میری نیکی کا پلڑا ہلکا نہ ہو جائے، اور میں تجھ سے نیکی کا زیادہ محتاج ہوں۔ وہ شخص بہت مایوس ہوگا۔ اتنے میں ایک شخص پوچھے گا تجھے کیا چاہیے؟ وہ کہے گا: مجھے ایک نیکی چاہیے اور میں بہت لوگوں سے مل چکا ہوں جن کی ہزاروں نیکیاں ہیں لیکن ہر ایک نے مجھ سے بخلی کی۔ وہ شخص کہے گا میں نے بھی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تھی اور میرے صحیفے میں صرف ایک ہی نیکی ہے، اور مجھے یہ گمان ہے کہ اس سے میرا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لہذا تو ہی اس کو میری طرف سے ہدیہ لے جا (اور اپنی جان بچا)۔

وہ شخص اس کی نیکی کو لے کر بہت مسرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ملے گا، اللہ تعالیٰ اپنے علم کے باوجود اس سے پوچھیں گے کہ تیری کیا خبر ہے؟ وہ کہے گا: اے میرے رب! اس نے اپنا کام اس طریقہ سے پورا کیا (وہ شخص اپنی پوری حالت وہاں بیان کرے گا) پھر اللہ تعالیٰ اس شخص کو حاضر کرے گا جس نے اس کو نیکی دی تھی، اور اس سے اللہ تعالیٰ کہے گا آج کے دن میری سخاوت تیری سخاوت سے کہیں زیادہ ہے، لہذا اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ اور تم دونوں جنت میں چلے جاؤ۔ (حدیث کرۃ جلد ۱ صفحہ ۳۱۰، زرقانی جلد ۱ صفحہ ۳۶۰)



### ﴿ ۲۲۲ ﴾ والد کے ساتھ خیر خواہی پر جنت میں داخلہ

ایسا ہی ایک دوسرا واقعہ ہے کہ ایک شخص کے میزان کے دونوں پلڑے برابر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے تو نہ جنتی ہے اور نہ جہنمی ہے۔ اتنے میں ایک فرشتہ ایک صحیفہ لا کر اس کے میزان کے ایک پلڑے میں رکھے گا جس میں ”اُف“ (والدین کی تکلیف و صدمہ کی آواز) لکھا ہوا ہوگا، جو بدی کے پلڑے کو زنی کر دے گا، اس لیے کہ وہ (اُف) ایسا کلمہ ہے جو دنیا کے پہاڑوں کے مقابلہ میں بھاری ہے۔ چنانچہ اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ وہ شخص اللہ تعالیٰ سے جہنم سے نجات کی درخواست کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے اس کو واپس لاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے اے ماں باپ کے نافرمان! تو کس بنا پر جہنم سے چھٹکارے کی درخواست کرتا ہے؟ وہ شخص کہے گا؟ اے رب! میں جہنم میں جانے والا ہوں، مجھے وہاں سے چھٹکارا نہیں کیونکہ میں والد کا نافرمان تھا، اور میں ابھی دیکھ رہا ہوں کہ میرا باپ بھی میری طرح جہنم میں جانے والا ہے، لہذا میرے باپ کے بدلہ میرا عذاب دوگنا کر دیا جائے اور اُن کو جہنم سے چھٹکارا دیا جائے۔

یہ بات سن کر اللہ تعالیٰ ہنس پڑیں گے اور فرمائیں گے: دنیا میں تو ان کا نافرمان تھا اور آخرت میں تو نے اس کو بچا دیا۔ پکڑ اپنے باپ کا ہاتھ اور دونوں جنت میں چلے جاؤ۔ (تذکرہ ملقب جس جلد ۱ صفحہ ۳۱۹، ذرگانی جلد ۱۲ صفحہ ۳۱۹)

### ﴿ ۲۲۳ ﴾ امانت کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے کا عجیب واقعہ

علامہ دیمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: بہت سی کتابوں میں یہ روایت دیکھی ہے، جس کو زید بن اسلم نے اپنے والد کے حوالہ سے نقل کیا ہے، کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے لوگوں سے مخاطب تھے، تو ایک شخص اپنا لڑکا ساتھ لیے ہوئے حاضر مجلس ہوا، اس کو دیکھ کر حضرت فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نہیں دیکھا کہ کسی کوے کو جو زیادہ مشابہ ہو اس کوے سے یعنی ایک کوے کو دوسرے کوے سے جیسی مشابہت رکھتا ہو ایسی مشابہت باپ اور بیٹے میں ہے۔

اس شخص نے جواب دیا کہ اے امیر المومنین! اس لڑکے کو اس کی والدہ نے اس وقت جنم دیا جب کہ وہ مر چکی تھی۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ اس بچے کا قصہ مجھ سے بیان کرو۔ چنانچہ اس شخص نے کہا کہ اے امیر المومنین! ایک مرتبہ میں نے سفر کا ارادہ کیا اس وقت اس کی والدہ کو اس کا حمل تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تم اس حال میں مجھ کو چھوڑ کر جا رہے ہو کہ میں حمل کی وجہ سے بو جھل ہو رہی ہوں۔ میں نے کہا:

( اَسْتَوْدِعُ اللّٰهَ مَا كُنِي بَطْنِكِ )

ترجمہ: ”میں اس بچے کو جو تیرے نطن میں ہے اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں۔“

یہ کہہ کر میں سفر میں روانہ ہو گیا اور کئی سال کے بعد گھر واپس آیا تو گھر کا دروازہ مقفل پایا۔ اوروں سے معلوم کیا کہ میری بیوی کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ میں نے اِنَّا لِلّٰہِ پڑھا، اس کے بعد اپنی بیوی کی قبر پر گیا۔ میرے چچا زاد بھائی میرے ساتھ تھے۔ میں کافی دیر تک قبر پر زکا رہا، اور روتا رہا۔ میرے بھائی نے مجھے تسلی دی اور واپسی کا ارادہ کیا اور مجھے لانے لگے۔ چند گز ہی ہم چلے دوں گے کہ مجھے قبرستان میں ایک آگ نظر آئی۔ میں نے اپنے چچا زاد بھائی سے پوچھا: یہ آگ کیسی ہے؟

انہوں نے کہا یہ آگ روزانہ رات کے وقت بھائی مرحوم کی قبر میں نمودار ہوتی ہے۔ میں یہ سن کر اِنَّا لِلّٰہِ پڑھا اور کہا کہ عورت بت نیک اور تہجد گزار تھی تم مجھے دوبارہ اس قبر پر لے جاؤ۔ چنانچہ وہ مجھے قبر پر لے گئے۔ جب میں قبرستان میں داخل ہوا تو میرے چچا زاد

بھائی وہیں ٹھہر گئے اور میں تنہا اپنی مرحومہ بیوی کی قبر پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ قبر کھلی ہوئی ہے اور بیوی بیٹھی ہے اور یہ لڑکا اس کے چاروں طرف گھوم رہا ہے۔ ابھی میں اس طرف متوجہ تھا کہ ایک عیبی آواز آئی کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی امانت سپرد کرنے والے، اپنی امانت واپس لے لے۔ اور اگر تو اس کی والدہ کو بھی اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا تو وہ بھی تجھ کو مل جاتی۔ یہ سن کر میں نے لڑکے کو اٹھالیا۔ میرے لڑکے کو اٹھاتے ہی قبر برابر ہو گئی۔ امیر المومنین! یہ قصہ جو میں نے بیان کیا اللہ کی قسم! صحیح ہے۔ (حیاء النجم ان جلد ۲ صفحہ ۱۸۰)

### ﴿ ۲۴۴ ﴾ ستائیس سال کے بعد اللہ کے راستہ سے واپس آنا

حضرت امام ربیعہ الزائے رضی اللہ عنہ کے والد ابو عبد الرحمن فروخ کو بنو امیہ کے عہد میں خراسان کی طرف ایک مہم پر جانا پڑا، اس وقت ربیعہ شکم مادر میں تھے، فروخ نے چلتے وقت اپنی بیوی کے پاس تیس (23) ہزار دینار گھر کے اخراجات کے لیے چھوڑ دیئے تھے۔ خراسان پہنچ کر کچھ ایسے اتفاقات پیش آئے کہ فروخ پورے ستائیس برس تک وطن (مدینہ) واپس نہ آ سکے۔ ربیعہ کی والدہ نہایت روشن خیال اور عقل مند تھیں، ربیعہ سن شعور کو پہنچے تو انہوں نے ان کے لیے تعلیم کا اعلیٰ سے اعلیٰ انتظام کیا، اور اس سلسلہ میں جتنا روپیہ ان کے پاس تھا سب خرچ کر ڈالا۔ ستائیس برس کے بعد جب فروخ مدینہ واپس آئے تو اس شان سے کہ گھوڑے پر سوار تھے اور ہاتھ میں ایک نیزہ تھا۔ مکان پر پہنچ کر نیزے کی نوک سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دستک سن کر ربیعہ دروازے پر آئے، باپ بیٹے آمنے سامنے، لیکن ایک دوسرے سے بالکل نا آشنا تھے۔ ربیعہ نے فروخ کو اجنبی سمجھ کر کہا:

(يَا عَدُوَّ اللَّهِ اَتَهَجُّمُ عَلٰی مَنْزِلِيْ؟ فَكَالَ لَهُ وَقَالَ فَرُوْخٌ يَا عَدُوَّ اللَّهِ اَلَا اَنْتَ رَجُلٌ دَخَلْتَ عَلٰی حُرْمَتِيْ)

ترجمہ: "اے اللہ کے دشمن! تو میرے مکان پر حملہ کرتا ہے۔ فروخ بولے: نہیں! بلکہ اے اللہ کے دشمن! تو میرے حرم میں گھسا ہوا ہے۔"

اسی میں بات بڑھ گئی اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ دونوں ایک دوسرے سے دست و گریبان ہو گئے۔ اس شور و غل اور ہنگامہ کی آواز سے آپس پاس کے لوگ جمع ہو گئے۔ شدہ شدہ خبر امام مالک بن انس رضی اللہ عنہ کو بھی پہنچ گئی۔ ربیعہ اس وقت عمر کے لحاظ سے نوجوان تھے لیکن ان کے علم و فضل کا چرچا دور دور تک پھیل گیا تھا اور امام مالک رضی اللہ عنہ جیسے ائمہ حدیث ان کے درس میں شریک ہوتے تھے۔ امام مالک رضی اللہ عنہ اور ان کے بعض دوسرے مشائخ وقت اس لیے یہاں آئے تھے کہ اپنے استاد حضرت ربیعہ کی امداد کریں۔ امام مالک رضی اللہ عنہ جس وقت یہاں پہنچے تو ربیعہ اس وقت فروخ سے کہہ رہے تھے: خدا کی قسم! میں تم کو بادشاہ کے پاس لے جائے بغیر نہیں مانوں گا۔

اس وقت فروخ کہتے ہیں: اور میں تم کو کس طرح بادشاہ کے سامنے پیش کرنے سے باز رہ سکتا ہوں، جبکہ تم یہاں میری بیوی کے پاس ہو۔ لوگ درمیان میں بیچ بچاؤ کر رہے تھے۔ شور و شغب برابر بڑھتا ہی رہا، یہاں تک کہ لوگوں نے امام عالی حضرت مالک بن انس کو آتے ہوئے دیکھا تو سب چپ ہو گئے۔ امام مالک رضی اللہ عنہ نے آتے ہی فروخ سے مخاطب ہو کر فرمایا: بڑے میاں! آپ کسی دوسرے گھر میں قیام کر لیجئے۔ فروخ بولے: یہ تو میرا ہی گھر ہے۔ میرا نام فروخ ہے اور میں فلاں کا غلام ہوں۔

حضرت ربیعہ کی ماں نے اندر سے جو سنا باہر نکل آئیں، اور انہوں نے کہا: ہاں! یہ فروخ میرے شوہر ہیں۔ اور یہ ربیعہ میرے لڑکے ہیں۔ فروخ جب خراسان کی مہم پر جا رہے تھے ربیعہ میرے شکم میں تھے۔ اس حقیقت کے کھل جانے پر باپ بیٹے دونوں سے معاف کیا اور خوب مل کر روئے اور فروخ گھر میں داخل ہوئے اور بیوی سے ربیعہ کی طرف اشارہ کر کے پوچھا یہ میرا لڑکا ہے؟ وہ بولیں: ہاں۔

تھوڑی دیر کے بعد فروخ نے بیوی سے اس روپیہ کے متعلق دریافت کیا جو وہ خراسان جاتے ہوئے ان کو دے گئے تھے اور کہا کہ چلو

میرے ساتھ یہ چار ہزار دینار ہیں، یہاں یہ سب روپیہ حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ کی تعلیم پر خرچ ہو چکا تھا۔ بیوی بولیں میں نے وہ مال دفن کر دیا ہے چند روز میں نکال دوں گی۔ ابھی ایسی جلدی کیا ہے؟ معمول کے مطابق حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ وقت پر مسجد میں تشریف لے گئے اور درس شروع کر دیا۔ حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ حسن بن زید رضی اللہ عنہ ابن ابی علی اور دوسرے اعیان مدینہ شریک تھے۔

والدہ نے ربیعہ کے درس کا وقت پہچان کر فروخ سے کہا کہ جاؤ نماز مسجد نبوی میں پڑھنا۔ اب فروخ یہاں آئے، نماز پڑھی، پھر انہوں نے دیکھا کہ درس حدیث کا ایک زبردست حلقہ قائم ہے، ان کو سننے کا شوق ہوا تو حلقہ کے قریب چلے آئے۔ لوگوں نے ان کو دیکھ کر راستہ دینا شروع کیا۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ نے درس میں خلل پڑنے کے خیال سے سر جھکا لیا، اور ایسے ہو گئے کہ گویا انہوں نے دیکھا ہی نہیں۔ فروخ اس حالت میں ان کو شناخت نہ کر سکے۔ لوگوں نے پوچھا:

(مَنْ هَذَا الرَّجُلُ؟ فَكَوَالَهُ هَذَا رِبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ)

ترجمہ: ”یہ کون ہیں؟ لوگوں نے ان کو جواب دیا: یہ ربیعہ بن ابی عبد الرحمن۔“

ابو عبد الرحمن فروخ فرط مسرت سے بے تاب ہو گئے اور کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹے کا مرتبہ بلند کیا ہے۔ گھر واپس آئے تو بیوی سے بولے میں نے آج تمہارے بیٹے کو ایسی شان میں دیکھا کہ کسی صاحب علم و فقہ کو نہیں دیکھا۔

اب حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ کی والدہ نے کہا آپ کو کیا چیز زیادہ پسند ہے؟ وہ (23) ہزار دینار یا یہ جاہ و منزلت علمی؟ فروخ بولے اللہ تعالیٰ کی قسم! یہ وجاہت زیادہ محبوب ہے۔ کہنے لگیں: میں نے وہ سب روپیہ اس پر صرف کر دیا ہے۔ فروخ نے کہا: تم نے وہ روپیہ صحیح مصرف میں خرچ کیا ہے۔ (تاریخ بغداد جلد 8 صفحہ ۴۲۰)



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تصحیح و اضافہ شدہ

حصہ دوم

# بکھرتی

حضرت مولانا محمد یونس پانپوری رحمۃ اللہ علیہ

انتخاب و ترتیب

صاحبزادہ محترم حضرت مولانا مبلغ اعظم محمد صاحب پانپوری رحمۃ اللہ علیہ

حضرت مولانا مفتی محمد امین صاحب پانپوری رحمۃ اللہ علیہ

تصحیح و نظر ثانی

مکتبہ عالیہ ۵۷۲ حق سٹریٹ اردو بازار لاہور

## جملہ حقوق محفوظ ہیں

نام کتاب	.....	بکھرے موتی
انتخاب و ترتیب	.....	حضرت مولانا محمد یونس پالنپوری مدظلہ العالی
تصحیح و عمر ثانی	.....	صاحبزادہ محترم حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>
باہتمام	.....	محمد قیصر محمود مہاروی
مطبع	.....	لعل سٹار پرنٹرز
ناشر	.....	<b>مکتبہ عائشہ</b>

حق سٹریٹ اردو بازار لاہور 042-7360541

..... ملنے کے پتے

ادارہ اسلامیات انارکلی لاہور	حق پبلی کیشنز اردو بازار لاہور
شمع بک ایجنسی اردو بازار لاہور	کتب خانہ رشید یہ راجہ بازار راولپنڈی
ملت پبلی کیشنز اسلام آباد	مکتبہ رشید یہ کمیٹی چوک راولپنڈی
احمد بک کارپوریشن راولپنڈی	دارالمطالعہ نزد پرانی ٹینکی حاصل پور منڈی
کتابستان شاہی بازار بہاول پور	اقبال بک سنٹر جہانگیر پارک صدر کراچی
مکتبہ دار القرآن اردو بازار کراچی	قدیمی کتب خانہ آرام باغ کراچی
دارا خلاص محلہ جنگی، پشاور	ادارہ الانور بنوری ٹاؤن کراچی
مکتبہ قاسمیہ ملتان	مکتبہ القرآن بنوری ٹاؤن کراچی
کتاب خانہ مظہری گلشن اقبال کراچی	ادارۃ المعارف دارالعلوم کراچی
مکتبہ رشید یہ سرکی روڈ کوئٹہ	مکتبہ امداد یہ ملتان
مکتبہ حقانیہ ملتان	مکتبہ اسلامیہ کوتوال روڈ فیصل آباد

## فہرست (دوم)

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
129	والدین کے اعتبار سے انسانوں کی چار قسمیں	116	حضور اکرم ﷺ کا کئی دن کا فاقہ
129	ایمان کے اعتبار سے انسانوں کی چار قسمیں	116	امام بخاری <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کا غصہ پی جانا
130	غصہ کے اعتبار سے انسانوں کی چار قسمیں		حضرت عمر بن عبدالعزیز <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کی دعوت پر ہندوستانی
130	قرض کے اعتبار سے انسانوں کی چار قسمیں	117	راجاؤں کا اسلام قبول کرنا
130	سلام کی ابتداء		حضرت عمر بن عبدالعزیز <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کے دور میں کوئی زکوٰۃ
131	حضرت عائشہ <small>رضی اللہ عنہا</small> کا مشورہ	117	لینے والا نہیں تھا
131	حضرت عمر <small>رضی اللہ عنہ</small> کے اسلام لانے کا خاص سبب	117	انہوں سے نجات پانے کا آسان نسخہ
131	اللہ تعالیٰ کی مومن بندے سے عجیب سرگوشی	118	مثالی ماں کی مثالی تربیت
132	جب لوگ سونا چاندی جمع کرنے لگیں	119	شہداء کی قسمیں
132	موت کے سوا ہر چیز سے حفاظت کا نبوی نسخہ		تین بیماریاں جن میں بیمار کی عیادت کرنے یا نہ کرنے
132	جھاڑ پھونک کر کے رقم لینا جائز ہے	121	میں کوئی مضائقہ نہیں
132	شکر کرنے والے مسائل پر نبی کریم <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> کی نوازش	122	حضرت رابعہ بصریہ <small>رضی اللہ عنہ</small> کا بچپن اور ان کا زہد و تقویٰ
133	ریا کاری والے اعمال پھینک دیئے جائیں گے	122	قیامت کی بہتر (۷۲) نشانیاں
133	عظیم نور حاصل کرنے کا نبوی نسخہ	126	جنات کی دعوت پر حضرت تمیم داری <small>رضی اللہ عنہ</small> کا قبول اسلام
133	چار چیزوں میں خیر و برکت اور شفا ہے	126	زبور اور تورات میں امت محمدیہ <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> کی صفات
134	جنت کا مومنین کے نام پیغام	127	ظالم قوم کے ظلم سے بچنے کے لیے نبوی نسخہ
135	ہاتف غیب کا پیغام	127	امت گنہگار اور رب بخشے والا ہے
135	اپنے رب کی رحمتوں سے مواقع تلاش کرتے رہو	127	اللہ تعالیٰ بھی دعوت دیتے ہیں
135	انکساری کرنے اور تکبر کرنے والوں کا انجام	128	صبر کرنے کا وقت
136	تین نجات دینے والی اور تین تباہ کرنے والی چیزیں	128	دو جھگڑنے والوں کو دیوار کی نصیحت
136	دو کون سا درخت ہے جو مسلمان کے مشابہ ہے	129	اولاد کے اعتبار سے انسانوں کی چار قسمیں

	136	حسد، بدگمانی اور شکون بد سے بچنے کا نبوی فارمولا
145	136	موت سے کوئی بچ نہیں سکتا
146	137	موت سے بھاگنے والے کی مثال
146	137	امت محمدیہ چار جاہلیت کے کام نہ چھوڑے گی
	137	لا علاج امراض کا علاج
146	138	اللہ تعالیٰ نے درج ذیل چیزوں میں بڑی شفا رکھی ہے
	138	خوبصورت لڑکوں کے ساتھ اٹھنا موجب فتنہ ہے
146	139	حضرت عبدالرحمن بن عوف <small>رضی اللہ عنہ</small> کا کفن
147	139	میاں بیوی ایک دوسرے کا ستر نہ دیکھیں
147	140	چغلی خوری کی تباہی
147	140	بہترین بندے اور بدترین بندے
148	140	عذاب قبر کا ایک عجیب واقعہ
148	140	قیامت کے دن سب سے پہلے حضرت ابراہیم <small>علیہ السلام</small> کو
148	141	لباس پہنایا جائے گا
149	141	اللہ کے لیے ہجرت کرنے والے فقراء کا اعزاز و اکرام
149	142	امت محمدیہ کے بدترین افراد
149	142	سب سے بڑی دولت سکون اور عافیت ہے
150	142	جنت میں سب سے آخر میں داخل ہونے والے آدمی
150	142	کا حال
	143	نہ خدا ہی مانہ وصال منم
150	143	سب سے زیادہ عظمت والا گھونٹ اور اس کا عظیم
151	144	اجرو ثواب
151	144	شیطان انسان کی ناک میں رات گزارتا ہے
153	144	درج ذیل کلمات سیکھ لو اور اپنی اولاد کو بھی سیکھاؤ
153	144	جموٹ کی بدبو
153	145	ایک جملے پر حجاج بن یوسف کی مغفرت کی امید
	136	مندرجہ ذیل کلمات پڑھنے کے بعد جو دعائیں مانگی جائیں گی
145	136	قبول ہوگی
146	137	کسی کو ہوا میں اڑتا ہوا دیکھ کر دھوکہ نہ کھاؤ
146	137	پانچواں نہ بن
	137	مصیبتوں سے نجات اور حصول مقاصد کے لیے
146	138	خاص ورد
	138	سات رزائل سے بچو، ایک اچھی صفت پیدا کرو،
146	139	محبت عام ہو جائے گی
147	139	ٹی وی پر کرکٹ کا کھیل دیکھنا نامناسب ہے
147	140	اسلام بے جا تکلفات سے روکتا ہے
147	140	اولاد میں بھی برابری کرنی چاہیے
148	140	روزانہ سورج اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے
148	140	ہوائیں آٹھ قسم کی ہوتی ہیں
148	141	عزت کا معیار نسب نہیں بلکہ تقویٰ ہے
149	141	مومن حقیقی
149	142	یک طرفہ بات سن کر کوئی رائے قائم نہ کی جائے
149	142	غیبت کرنے پر عبرت ناک انجام
150	142	دین میں کامیابی کی ایک عجیب مثال
150	142	سب سے زیادہ عظمت والی آیت
	143	جان و مال کی حفاظت اور شیطان کے شر سے بچنے
150	143	کا بہترین نسخہ
151	144	وضو کے فضائل و برکات
153	144	جنت کے سارے دروازوں کی کنجی
153	144	جموٹ کی بدبو
153	145	جموٹے خواب بیان کرنے والوں کے بارے میں وعید

	عمل کی توفیق سب ہونے کا سبب	153	قیامت کے دن نیک لوگوں کے گناہوں کو نیکیوں
167	بات کرنے میں اختصار سے کام لیجئے	154	سے بدل دیا جائے گا
167	تین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے قتل کی سازش	154	ہر شر سے حفاظت کا بہترین نسخہ
167	دو شریکوں کا عجیب قصہ	156	ہر غم سے نجات کا بہترین نسخہ
167	دل کو اتنا مچھو کہ آئینہ کی طرح صاف شفاف ہو جائے	156	حضرت معاذ اور ان کی اہلیہ میں ٹوک جھونک
	حضرت زاہر رضی اللہ عنہ کا قصہ	157	محبت بڑھانے کے لیے یہاں بیوی کا آپس میں
168	جب اُمت پندرہ قسم کی برائیوں کا ارتکاب کرے گی	158	جھوٹ بولنا جائز ہے
	تو بلائیں نازل ہوں گی	158	مسجد میں ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں
168	پانچ چیزوں کی محبت پانچ چیزوں کو بھلا دے گی	158	ڈالنا شیطان کی حرکت ہے
169	اندھیری رات میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو سولی مل گئی	159	ایک بڑے عالم کی گمراہی کا عبرت ناک واقعہ
169	بے عمل عالم جنت کی خوشبو سے محروم رہے گا	159	بلعم بن باعورا کا واقعہ
170	اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہزار قسم کی مخلوقات پیدا کی ہیں	160	بلعم کی بتائی ہوئی چال
171	دیہاتیوں کے عجیب و غریب سوالات	161	بلعم کی مثال
172	چھ چیزوں کے ظہور سے پہلے موت بہتر ہے	162	ضیاء وقت خود کشی ہے
	نماز کی برکت سے حضرت آدم علیہ السلام کی گردن کا	164	جس مسلمان کی بھلائی کی شہادت دو آدمی دیں
172	پھوڑا ٹھیک ہو گیا	164	وہ جنتی ہے
173	نماز کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ	165	اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ماں سے زیادہ مہربان
173	کے ارشادات	165	حلال لقمہ کھاتے رہو اللہ دعا قبول کرے گا
173	ایک عورت کا عجیب قصہ	165	عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو
174	ایک ہزار برس تک جہنم میں یا حنّان یا منّان	166	بیوی کو خوش کرنے کے لیے شوہر کو زینت کرنی چاہیے
174	کہنے والے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ	166	مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے
174	سب سے آخر میں جہنم سے نکلنے والے کے ساتھ اللہ	166	حضور ﷺ بہت رحم دل تھے
174	کا معاملہ	166	ظہر کی چار رکعت سنت تہجد کے برابر ہیں
174	جب انسان ہوتا ہے تو فرشتہ ایک ایک تنگی کے	166	نوجوان کے بدن سے مٹک و غبر کی خوشبو
175	بدلے دس دس گناہ مٹا دیتا ہے	166	کاپی میں اپنے گناہ تحریر کیجئے پھر تو بہ کیجئے



188	غفلت دور کرنے کا نسخہ	176	ساتھیوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے
189	ہر دور سے شفا حاصل کرنے کا نسخہ	176	عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہما کی تین نصیحتیں
189	تنگی سے نجات حاصل کرنے کا نسخہ	176	حضرت ذوالکفل کا عجیب واقعہ
189	اولاد کے رشتہ کے لیے ہجرت عمل	177	نبی کریم ﷺ اور زکانہ پہلوان کی کشتی
189	مقدمہ میں کامیابی حاصل کرنے کا نسخہ	178	بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عجیب و غریب فضیلت
189	غصہ کو دور کرنے کا نسخہ		پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں نبی کریم ﷺ
190	دل کی گھبراہٹ اور بیماری سے نجات کا نسخہ	179	کے ارشادات
190	لڑکی کے رشتہ کے لیے ایک مجرب عمل	181	پڑوسی کے یہاں کھانا بھیجنا
190	تنگی اور پریشانی دور کرنے کا نسخہ		پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا کمال ایمان کی
190	عزت حاصل کرنے کا نسخہ	181	علامت ہے
	نرینہ اولاد کے حصول اور رزق کی تنگی دور کرنے	181	پڑوسیوں کی دل شکنی سے بچتے رہو
190	کے لیے بہترین نسخہ	181	پڑوسیوں کے بعض متعین حقوق
191	میاں بیوی میں محبت پیدا کرنے کا نسخہ	182	پڑوسیوں کے بارے میں دو حدیثیں اور پڑھ لیجئے
191	جادو کار روحانی علاج		کن حالات میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی
191	خاوند کو راہ راست پر لانے کا نسخہ	183	ذمہ داری ساقط ہو جاتی ہے
191	ہر جائزہ مراد کے لیے مجرب عمل	183	حیر کے دن چھ خصوصیتیں
191	عزت، نیک نامی اور صحت بدن کے لیے مجرب عمل		نبی کریم ﷺ کے زمانہ کی درخت بھی حضور ﷺ
192	کنڈ ذہن کار روحانی علاج	184	کو پہچانتے
192	ہر رنج و غم دور کرنے کا بہترین نسخہ	184	تھے مگر آج کا امتی حضور ﷺ کو نہیں پہچانتا
192	امتحان وغیرہ میں کامیابی کے لیے مجرب عمل	184	ہجری اور اسلامی سنہ کی اہمیت اور اس کی تاریخ
192	اپنی اور اولاد کی اصلاح کے لیے مجرب عمل	186	علم اور مال میں فرق
192	دل اور چہرے کو نورانی بنانے کا مجرب عمل	188	مہربان حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>
193	بیکلے ہوئے کو راہ راست پر لانے کا نسخہ	188	ناسور یا داغ دھبہ کار روحانی علاج
193	معذور کے لیے بہترین عمل	188	گردے اور پتے کی پتھری کار روحانی علاج
193	یرقان کار روحانی علاج	188	موذی جانور یا دشمن سے حفاظت کا نسخہ

198	نامعلوم اور لاعلاج بیماری سے شفاء کے لیے مجرب عمل	193	لا علاج بیماری اور ظالم کے ظلم و ستم سے نجات حاصل کرنے کا بہترین نسخہ
198	بٹے یا بیٹی کے نکاح کے لیے بہترین عمل	193	رزق میں برکت اور کام میں آسانی کے لیے مجرب عمل
198	ہر مشکل کی آسانی کے لیے مجرب عمل	194	حج کی استطاعت حاصل کرنے کے لیے مجرب عمل
198	استحارہ میں درست بات معلوم کرنے کا نسخہ	194	آلفت و محبت پیدا کرنے کا بہترین طریقہ
198	دشمن سے حفاظت کا نسخہ	194	ظالم کو دفع کرنے کے لیے جلالی عمل
199	سرطان، طاعون اور پھوڑے پھنسی سے بچنے کے لیے مجرب عمل	194	طالب اولاد کے لیے مجرب عمل
199	گناہوں میں مبتلا اور غافل کو راہ راست پر لانے کا نسخہ	194	رزق میں کشادگی اور کاروبار کی ترقی کے لیے مجرب عمل
199	مصائب سے نجات کا بہترین نسخہ	195	دشمن کے شر سے حفاظت کا بہترین نسخہ
199	بدنامی سے بچنے کا عمدہ نسخہ	195	حضور اکرم ﷺ کی زیادت کے لیے مجرب عمل
199	غم اور پریشانی کو دور کرنے اور مالی حالت کو درست کرنے کا نسخہ	195	اولاد کی حیات اور مصیبت سے نجات کا نسخہ
199	دنیا اور آخرت کی نعمتوں کو حاصل کرنے کا شاندار نسخہ	195	جنت الفردوس کا وارث بننے کے لیے مجرب عمل
200	شرک کی ابتدا، تصویر سے ہوئی اس لیے تصویر سے بچنے	196	محروم الاولاد کے مجرب عمل
201	رحمت خداوندی سے محرومی	196	بیماری یا کمزوری کو دور کرنے کا نسخہ
201	بڑے لٹریچر کا اثر	196	اولاد سے محروم حضرات کے لیے بہترین نسخہ
202	ماحول کا اثر	196	رزق میں کشادگی کے لیے مجرب عمل
202	مشرقی تہذیب کا اثر	196	جنون اور جادو وغیرہ کا شہ زائل کرنے کا نسخہ
204	فضول، بحثوں سے احتراز کیجئے	197	بخار کی تیزی، غصہ اور ضد کو ختم کرنے کے لیے نہایت مفید عمل
204	حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا عجیب واقعہ	197	جھوٹے مقدموں، تہمتوں اور بے عزتی سے نجات پانے کا نسخہ
208	حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا حافظہ قوی تھا اس کی وجہ	197	حصولِ نعمت کے لیے مجرب عمل
209	ایک مریض کی تسلی کے لیے خط، اور شفا کے لیے چودہ روحانی نسخے	197	تا فرمان اولاد کی اصلاح کے لیے مجرب عمل
210	حضرت عالم گیر رضی اللہ عنہ نے حکمت سے دین پھیلایا	198	مرتے دم تک صحیح سلامت رہنے کا نسخہ
			اولاد سے محروم حضرات کے لیے بہترین ورد

219	پورا علم حاصل کرنا فرض کفایہ ہے	211	ریاست بھوپال کا ایک قابل تہلید دستور
219	صوفی و مرشد کی تعریف		علم دین سکھانے والے عالم کے آداب و فضائل
220	بیعت سنت، فرض و واجب نہیں	212	اور طالب علم کا اعزاز و اکرام
220	کشف و کرامات مقصود نہیں	212	واعظہ مدینہ کو حضرت عائشہ <small>رضی اللہ عنہا</small> کی تین اہم نصیحتیں
220	مقصود صرف اتباع شریعت اور اللہ کی رضا ہے	213	تصوف کی حقیقت
221	باپ اور بیٹے کا عجیب واقعہ	215	فضائل کی ترغیب و تاکید
222	میاں بیوی میں محبت پیدا کرنے کا آسان نسخہ	215	تکلیف کی تاکید
222	بے خوابی کا بہترین علاج	215	اخلاص کی تاکید
223	چار صفتیں پیدا کیجئے	215	توکل کی ترغیب
223	دوسو کنوں کا تکلیف	216	صبر کی تلقین
224	سوکن کا سبق آموز خط	217	رذائل کی قباحت و ممانعت
	حضرت عمر <small>رضی اللہ عنہ</small> کے تین عجیب سوال اور	217	تکبر کی مذمت
225	حضرت علی <small>رضی اللہ عنہ</small> کے عجیب جواب	217	ریا کاری کی شناخت
225	ام سلیم <small>رضی اللہ عنہا</small> کا آپ <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> سے عجیب و غریب سوال	217	حسد کی قباحت
	ایک دیہاتی کا نہایت عمدہ اور قابل تعریف سوال	218	بخل کی برائی
226	اور حضور اکرم <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> کا جواب	219	تصوف اور علم تصوف کی اصطلاحی تعریف
			فقہ کی طرح علم تصوف کا بھی ایک حصہ فرض عین اور

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

خدا کے نام سے آغاز کر رہا ہوں میں  
جو مہربان ہے بہت اور رحم والا ہے



یہ مانا کہ پر خطا ہوں مگر ہوں تو تیرا بندہ  
اگر تو مجھے نباہ لے تو تیری بندہ پروری ہے



انقلابات زمانہ و اعطی رب ہیں سن لولا  
ہر تغیر سے صدا آتی ہے فَنَاقُتُہُمْ! فَنَاقُتُہُمْ!



جب دنیا جاتی ہے تو حسرت چھوڑ جاتی ہے  
اور جب آتی ہے تو ہزاروں غم ساتھ لاتی ہے



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

### (۱) حضور اکرم ﷺ کا کئی دن کا فاقہ

مسند حافظ ابو یعلیٰ میں حدیث ہے کہ حضور اکرم ﷺ پر کئی دن بغیر کچھ کھائے گزر گئے، بھوک سے آپ ﷺ کو تکلیف ہونے لگی، آپ اپنی سب بیویوں کے گھر ہو آئے، لیکن کہیں بھی کچھ نہ پایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور دریافت فرمایا کہ بچی! تمہارے پاس کچھ ہے کہ میں کھا لوں؟ مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ وہاں سے بھی یہی جواب ملا کہ حضور پر میرے ماں باپ قربان ہوں، کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے نبی ﷺ ہاں سے نکلے ہی تھے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی لونڈی نے دو روٹیاں اور گوشت کا ٹکڑا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس بھیجا۔ آپ رضی اللہ عنہا نے اسے لے کر لگن میں رکھ لیا، اور فرمانے لگیں: گو مجھے، میرے خاوند اور بچوں کو بھی بھوک ہے، لیکن ہم سب فاقہ سے گزار دیں گے اور خدا تعالیٰ کی قسم! آج تو یہ رسول اللہ ﷺ کو ہی دوں گی۔ پھر حضرت حسن یا حضرت حسین رضی اللہ عنہما کو آپ ﷺ کی خدمت میں بھیجا کہ آپ ﷺ کو بلا لائیں۔ حضور اکرم ﷺ ہاتھ ہی میں تھے لوٹ آئے۔ کہنے لگیں: میرے ماں باپ آپ ﷺ پر فدا ہوں، خدا تعالیٰ نے کچھ بھجو دیا ہے، جسے میں نے آپ ﷺ کے لیے چھپا کر رکھ دیا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: پیاری بچی! لے آؤ۔ اب جو کوڑا کھولا تو دیکھتی ہیں کہ برتن روٹی اور گوشت سے بھرا ہوا ہے۔ دیکھ کر حیران ہو گئیں، لیکن فوراً سمجھ گئیں کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے اس میں برکت نازل ہوئی ہے۔ اللہ کا شکر کیا، نبی خدا پر درود پڑھا اور آپ ﷺ کے پاس لاکر پیش کر دیا۔

آپ ﷺ نے بھی اسے دیکھ کر خدا کی تعریف کی اور دریافت فرمایا کہ بچی! یہ کہاں سے آیا ہے؟ جواب دیا کہ ابا جان! خدا تعالیٰ کے پاس سے، وہ جسے چاہے بے حساب روزی دے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ اے پیاری بچی! تجھے بھی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی تمام عورتوں کی سردار (یعنی حضرت مریم رضی اللہ عنہا) جیسا کر دیا۔ انہیں جب کبھی اللہ تعالیٰ کوئی چیز عطا فرماتا اور ان سے پوچھا جاتا تو یہی جواب دیا کرتی تھیں کہ خدا کے پاس سے ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ پھر نبی کریم ﷺ نے حضرت علی کریم اللہ وجہہ کو بلایا، اور آپ ﷺ نے اور حضرت علی کریم اللہ وجہہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما نے اور آپ ﷺ کی سب ازواج مطہرات اور اہل بیت رضی اللہ عنہم نے خوب شکم سیر ہو کر کھایا، پھر بھی اتنا ہی باقی رہا جتنا پہلے تھا، جو اس پاس کے پڑوسیوں کے ہاں بھیجا گیا۔ یہ بھی خیر کثیر اور برکت خدا تعالیٰ کی طرف سے۔ (تفسیر ابن کثیر اردو: ۱/۴۰۶)

فائدہ: اس واقعے سے ایک طرف حضور اکرم ﷺ کا بھوک کی شدت اور فاقہ برداشت کرنے کا سبق ملا، دوسری طرف نیک اور دیندار عورتوں کے لیے یہ سبق بھی ہے کہ جب کہیں سے اللہ تعالیٰ کی نعمت ملے اور کوئی پوچھے کہ کس نے دیا؟ تو جواب میں کہیں:

﴿هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ (سورہ آل عمران: آیت ۳۷)

ترجمہ: ”یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔“

### (۲) امام بخاری رحمہ اللہ کا غصہ پی جانا

عبداللہ بن محمد صیادنی رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں امام بخاری رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اندر سے آپ کی کنیر آئی اور تیزی سے نکل گئی، پاؤں کی ٹھوک سے راستہ میں رکھی ہوئی روشنائی کی شیشی اُلٹ گئی، امام صاحب نے ذرا غصے سے فرمایا کیسے چلتی ہے؟ کنیر بولی۔ جب راستہ نہ ہو تو کیسے چلیں۔ امام صاحب یہ جواب سن کر انتہائی تحمل اور بردباری سے فرماتے ہیں: جا میں نے تجھے آزاد

کیا۔ صیادنی کہتے ہیں، میں نے کہا: اس نے تو آپ کو غصہ دلانے والی بات کہی تھی، آپ نے آزاد کر دیا؟ فرمایا: اس نے جو کچھ کہا اور کیا میں نے اپنی طبیعت کو اسی پر آمادہ کر لیا۔ (ترجمہ صحیح بخاری از علامہ وحید الراہی صاحب ص ۱۳)

حدیث شریف میں آیا ہے، اے ابن آدم! جب تجھے غصہ آئے تو اسے پی جا۔ جب مجھے تجھ پر غصہ آئے گا تو میں پی جاؤں گا۔ بعض روایتوں میں ہے اے ابن آدم! اگر غصے کے وقت تو مجھے یاد رکھے گا، یعنی میرا حکم مان کر غصہ پی جائے گا تو میں بھی اپنے غصے کے وقت تجھے یاد رکھوں گا یعنی ہلاکت کے وقت تجھے ہلاکت سے بچالوں گا۔ (تفسیر ابن کثیر اردو: ۱/۳۵۷)

### (۳) حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی دعوت پر ہندوستانی راجاؤں کا اسلام قبول کرنا

عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے ہندوستان کے راجاؤں کو سات خطوط لکھے اور ان کو اسلام اور اطاعت کی دعوت دی اور وعدہ کیا کہ اگر انہوں نے ایسا کیا تو ان کو اپنی سلطنتوں پر باقی رکھا جائے گا اور ان کے حقوق و فرائض وہی ہوں گے جو مسلمانوں کے ہیں۔ ان کے اخلاق و کردار کی خبریں وہاں پہلے ہی پہنچ چکی تھیں اس لیے انہوں نے اسلام قبول کیا اور اپنے نام عربوں ہی کے نام پر رکھے۔ (تاریخ دعوت و عزیمت: ۱/۳۹)

### (۴) حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے دور میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا

یحییٰ بن سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے افریقہ میں زکوٰۃ کی تحصیل پر مقرر کیا، میں نے زکوٰۃ وصول کی، جب میں نے اس کے مستحق تلاش کئے جن کو وہ رقم دی جائے تو مجھے ایک بھی محتاج نہیں ملا، اور ایک شخص بھی ایسا دستیاب نہیں ہوا جس کو زکوٰۃ دی جاسکے۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے سب کو غنی بنا دیا، بالآخر میں نے کچھ غلام خرید کر آزاد کئے اور ان کے حقوق کا مالک مسلمانوں کو بنا دیا۔ ایک دوسرے قریبی کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی مختصر مدت خلافت میں یہ حال تھا کہ لوگ بڑی بڑی رقمیں زکوٰۃ کی لے کر آتے تھے کہ جس کو مناسب سمجھا جائے دے دیا جائے، لیکن مجبوراً واپس کرنی پڑتی تھیں کہ کوئی لینے والا نہیں ملتا۔ عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں سب مسلمان غنی ہو گئے اور زکوٰۃ کا کوئی مستحق نہیں رہا۔

ان ظاہری برکات کے علاوہ جو صحیح اسلامی حکومت کا ثانوی نتیجہ ہے، بڑا انقلاب یہ ہوا کہ لوگوں کے رجحانات بدلنے لگے، اور قوم سے مزاج و مذاق میں تبدیلی ہونے لگی۔ ان کے محاصرے کہتے ہیں کہ ہم جب ولید کے زمانہ میں جمع ہوتے تھے، تو عمارتوں اور طرز تعمیر کی بات چیت کرتے تھے، اس لیے کہ ولید کا یہی اصل ذوق تھا، اور اس کا تمام اہل مملکت پر اثر پڑ رہا تھا۔ سلیمان کھانوں اور عورتوں کا بڑا شائق تھا، اس کے زمانہ میں مجلسوں کا موضوع سخن یہی تھی، لیکن عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں نوافل و طاعات، ذکر و تذکرہ، گفتگو اور مجلسوں کا موضوع بن گیا، جہاں چار آدمی جمع ہوتے تو ایک دوسرے سے پوچھتے کہ رات کو تمہارا کیا پڑھنے کا معمول ہے؟ تم نے کتنا قرآن یاد کیا ہے؟ تم قرآن کب ختم کرو گے؟ اور کب ختم کیا تھا؟ مہینے میں کتنے روزے رکھتے ہو؟ (تاریخ دعوت و عزیمت: ۱/۵۰)

### (۵) غموں سے نجات پانے کا آسان نسخہ

حضرت شاہ پھولپوری قدس سرہ العزیز نے ارشاد فرمایا ہے کہ کتنا ہی شدید قبض طاری ہو، قلب میں انتہائی ظلمت اور جمود پیدا ہو گیا ہو اور سالہا سال سے دل کی یہ کیفیت نہ جاتی ہو تو ہر روز وضو کر کے پہلے دو رکعت نفل توبہ کی نیت سے پڑھ، پھر سجدہ میں جا کر بارگاہ رب العزت میں عجز و ندامت کے ساتھ خوب گریہ و زاری کرے اور خوب استغفار کرے۔ پھر اس وظیفہ کو تین سو ساٹھ (360) مرتبہ پڑھے:

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾

وظیفہ مذکور میں ﴿يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ﴾ دو اسماء الہیہ ایسے ہیں جن کے اسم اعظم ہونے کی روایت ہے اور آگے وہ خاص آیت ہے جس

کی برکت سے حضرت یونس علیہ السلام نے تین تاریکیوں سے نجات پائی۔ پہلی تاریکی اندھیری رات کی، دوسری پانی کے اندر کی، تیسری چھلی کے شکم (پیٹ) کی۔ ان تین تاریکیوں میں حضرت یونس علیہ السلام کی کیا کیفیت تھی اس کو خود حق تعالیٰ شانہ نے ارشاد فرمایا ہے:

﴿ وَهُوَ مَكْظُومٌ ﴾ (سورہ قلم: ۴۸)

ترجمہ: ”اور وہ گھٹ رہے تھے۔“

کظمہ عربی لغت میں اس کرب و بے چینی کو کہتے ہیں جس میں خاموشی ہو۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اسی آیت کریمہ کی برکت سے حق تعالیٰ شانہ نے غم سے نجات عطا فرمائی اور آگے یہ بھی ارشاد ہے:

﴿ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (سورہ انبیاء: ۸۸)

ترجمہ: ”اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات عطا فرماتے رہتے ہیں۔“

پس معلوم ہوا کہ قیامت تک کے لیے غموں سے نجات پانے کے لیے یہ نسخہ نازل فرمادیا گیا۔ جو لکھ کر کسی اضطراب و بلا میں کثرت سے اس آیت کریمہ کا ورد رکھے گا انشاء اللہ تعالیٰ نجات پائے گا۔

(شرح مشہوری مولانا درود اردو، حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب مدظلہ، حصہ اول ص ۱۳۶)

## ﴿۶﴾ مثالی ماں کی مثالی تربیت

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ دین کے بہت بڑے عالم اور اللہ کے ولی تھے، ان کی زندگی کو آپ دیکھئے ان کے پیچھے ان کی ماں کا کردار نظر آئے گا۔ محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ دو بھائی تھے، یہ اپنے لڑکپن کے زمانے میں یتیم ہو گئے تھے، ان دونوں کی تربیت ان کی والدہ نے کی، ان کے بارے میں ایک عجیب بات لکھی ہے کہ ماں ان کی اتنی اچھی تربیت کرنے والی تھی کہ وہ ان کو نیکی پر لائیں حتیٰ کہ عالم بن گئے۔ مگر دونوں بھائیوں کی طبیعتوں میں فرق تھا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے واعظ اور خطیب تھے اور مسجد میں نماز پڑھتے تھے۔ ان کے بھائی عالم بھی تھے اور نیک بھی تھے لیکن وہ مسجد میں نماز پڑھنے کی بجائے اپنی الگ نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔

ایک مرتبہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی والدہ سے کہا امی! لوگ مجھ پر اعتراض کرتے ہیں کہ تو اتنا بڑا خطیب اور واعظ ہے مسجد کا امام بھی ہے، مگر تیرا بھائی تیرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ امی! آپ بھائی سے کہئے کہ وہ میرے پیچھے نماز پڑھا کرے۔ ماں نے بلا کر نصیحت کی؛ پنانچہ اگلی نماز کا وقت آیا تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھانے لگے، اور ان کے بھائی نے ان کے پیچھے نیت باندھ لی، لیکن عجیب بات ہے کہ ایک رکعت پڑھنے کے بعد جب دوسری رکعت شروع ہوئی تو ان کے بھائی نے نماز توڑ دی، اور جماعت میں سے باہر نکل آئے۔ جب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے نماز مکمل کی اور ان کو بڑی سبکی محسوس ہوئی، وہ بہت زیادہ پریشان ہوئے اور مغموم ول کے ساتھ گھر واپس لوٹے۔

ماں نے پوچھا: بیٹا! بڑے پریشان نظر آتے ہو؟ کہنے لگے امی! بھائی نہ جاتا تو زیادہ بہتر رہتا۔ یہ گیا اور ایک رکعت پڑھنے کے بعد دوسری رکعت میں واپس آ گیا اور اس نے آ کر الگ نماز پڑھی۔ ماں نے اس کو بلا کر پوچھا: بیٹا! ایسا کیوں کیا؟ چھوٹا بھائی کہنے لگا: امی! میں ان کے پیچھے نماز پڑھنے لگا پہلی رکعت تو انہوں نے ٹھیک پڑھائی مگر دوسری رکعت میں اللہ کی طرف دھیان کے بجائے ان کا دھیان کسی اور جگہ تھا اس لیے میں نے ان کے پیچھے نماز چھوڑ دی اور آ کر الگ پڑھ لی۔

ماں نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ کہنے لگے کہ امی! بالکل ٹھیک بات ہے، میں نماز سے پہلے فقہ کی ایک کتاب پڑھ رہا تھا اور نفاس کے کچھ مسائل تھے جن پر غور و خوض کر رہا تھا، جب نماز شروع ہوئی تو پہلی رکعت میری توجہ الی اللہ میں گزری لیکن دوسری رکعت میں وہی نفاس کے مسائل میرے ذہن میں آنے لگ گئے، ان میں تھوڑی دیر کے لیے ذہن دوسری طرف متوجہ ہو گیا اس

لیے مجھے سے یہ غلطی ہوئی۔

ماں نے اس وقت ایک ٹھنڈی سانس لی اور کہا: افسوس ہے کہ تم دونوں میں سے کوئی بھی میرے کام کا نہ بنا۔ اس جواب کو جب سنا دونوں بھائی پریشان ہوئے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تو معافی مانگ لی، امی! مجھ سے غلطی ہوئی مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مگر دوسرا بھائی پوچھنے لگا امی! مجھے تو کشف ہوا تھا اس کشف کی وجہ سے میں نے نماز توڑ دی تو میں آپ کے کام کا کیوں نہ بنا؟ ماں نے جواب دیا کہ: ”تم میں سے ایک نفاس کے مسائل کھڑا سوچ رہا تھا، اور دوسرا پیچھے کھڑا اس کے دل کو دیکھ رہا تھا، تم دونوں میں سے اللہ کی طرف تو ایک بھی متوجہ نہ تھا، لہذا تم دونوں میرے کام کے نہ بنے۔“ (دوائے دل ص ۸۱)

### (۷) شہداء کی قسمیں

- ① راہِ خدا میں جس کو قتل کیا گیا وہ شہید ہے۔
- ② پیٹ کی بیماری میں یعنی دست اور استسقاء میں مرنے والا شہید ہے۔
- ③ پانی میں بے اختیار ڈوب کر مر جانے والا شہید ہے۔
- ④ دیوار یا چھت کے نیچے ڈوب کر مر جانے والا شہید ہے۔
- ⑤ طاعون کی بیماری میں مرنے والا شہید ہے۔
- ⑥ ذاتِ الجنب یعنی نمونہ کی بیماری میں مرنے والا شہید ہے۔
- ⑦ جل کر مرنے والا شہید ہے۔
- ⑧ حالتِ حمل میں مر جانے والی عورت شہید ہے۔
- ⑨ کنواری مر جانے والی عورت شہید ہے۔
- ⑩ جو عورت حاملہ ہونے کے بعد سے بچے کی پیدائش تک یا بچہ کا دودھ چھڑانے تک مر جائے وہ شہید ہے۔
- ⑪ سل یعنی بوق کی بیماری میں مرنے والا شہید ہے۔
- ⑫ حالتِ سفر میں مرنے والا شہید ہے۔
- ⑬ سفرِ جہاد میں سواری سے گر کر مر جانے والا شہید ہے۔
- ⑭ مرابط یعنی اسلامی مملکت کی سرحدوں کی حفاظت کے دوران مر جانے والا شہید ہے۔
- ⑮ گڑھے میں گر کر مر جانے والا شہید ہے۔
- ⑯ درندوں یعنی شیر وغیرہ کا لقمہ بن جانے والا شہید ہے۔
- ⑰ اپنے مال، اپنے اہل و عیال، اپنے دین، اپنے خون، اور حق کی خاطر قتل کیا جانے والا شہید ہے۔
- ⑱ دورانِ جہاد اپنی موت مر جانے والا شہید ہے۔
- ⑲ اور جسے شہادت کا پر خلوص تمنا اور لگن ہو مگر شہادت کا موقع اسے نصیب نہ ہو اور اس کا وقت پورا ہو جائے اور شہادت کی تمنا دل میں لئے دنیا سے رخصت ہو جائے وہ شہید ہے۔
- ⑳ جس شخص کو حاکم وقت ظلم و تشدد کے طور پر قید خانہ میں ڈال دے اور وہ وہیں مر جائے وہ شہید ہے۔
- ㉑ جو شخص توحید کی گواہی دیتے ہوئے اپنی جان، جاں آفریں کے سپرد کر دے وہ شہید ہے۔



- ۳۱ تب یعنی بخار میں مرنے والا شہید ہے۔
- ۳۲ جو شخص ظالم حاکم کے سامنے کھڑے ہو کر اسے اچھا اور نیک کام کرنے کا حکم دے اور برے کام سے روکے اور وہ حاکم اس شخص کو مار ڈالے تو وہ شہید ہے۔
- ۳۳ جس شخص کو گھوڑا یا اونٹ کچل اور روند ڈالے اور وہ مرجائے، یعنی کسی حادثہ میں مرجائے جیسے کار کا حادثہ، ہوائی جہاز کا حادثہ وغیرہ وغیرہ، وہ شہید ہے۔
- ۳۴ جو زہریلے جانور کے کاٹنے سے مرجائے وہ شہید ہے۔
- ۳۵ یا کباز اور پرہیزگار عاشق جس نے اپنے عشق کو چھپایا اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا وہ شہید ہے۔
- ۳۶ جو شخص کشتی میں بیٹھا اور دوران سفر تھے میں مبتلا ہوا تو اسے شہید کا اجر ملتا ہے۔
- ۳۷ جس عورت نے اپنی سوکن کی موجودگی میں صبر و ضبط سے کام لیا اسے شہید کا ثواب ملے گا۔
- ۳۸ جو شخص روزانہ یہ دعاء (اللّٰهُمَّ بَارِكْ لِيْ فِي الْمَوْتِ وَفِيْمَا بَعْدَ الْمَوْتِ) پکھیں (۲۵) مرتبہ پڑھے گا اور اپنی فطری موت مرے گا اس کو اللہ تعالیٰ شہید کا ثواب عنایت فرمائیں گے۔
- ۳۹ جو شخص اشراق اور چاشت کی نماز کا اہتمام کرے اور مہینہ میں تین روزے رکھے اور حالت سفر و حضر میں وتر کی نماز نہ چھوڑے اس کے لیے شہید کا اجر لکھا جاتا ہے۔
- ۴۰ بابت میں اعتقادی اور عملی گمراہی پھیل جائے اس وقت سنت پر مضبوطی سے قائم رہنے والا شہید ہے۔
- ۴۱ طلب علم میں مرنے والا شہید ہے، اور طلب علم میں مرنے والے سے وہ شخص مراد ہے جو حصول علم اور درس و تدریس میں مشغول ہو یا تصنیف و تالیف میں مصروف ہو یا کسی علمی مجلس میں حاضر ہو۔
- ۴۲ جس شخص نے اپنی زندگی لوگوں کی مہمان داری اور خاطر داری اور خاطر و تواضع میں گزاری وہ شہید ہے۔
- ۴۳ جو شخص میدان کارزار میں زخمی ہو کر فوراً نہ مرجائے بلکہ کم سے کم اتنی دیر تک زندہ رہے کہ دنیا کی کسی چیز سے فائدہ اٹھائے وہ بھی شہید ہے۔
- ۴۴ شریق یعنی وہ شخص جو گلے میں پانی پھنسنے اور دم گھٹ جانے کی وجہ سے مرجائے وہ شہید ہے۔
- ۴۵ جو شخص مسلمانوں کے لیے گلہ فراہم کرے وہ شہید ہے۔
- ۴۶ جو شخص اپنے اہل و عیال اور اپنے غلام لونڈی کے لیے مکائے وہ شہید ہے۔
- ۴۷ جو مسلمان اپنے مرض میں حضرت یونس علیہ السلام کی یہ دعا (لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّیْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِیْنَ) چالیس (۴۰) مرتبہ پڑھے اور اسی مرض میں مرجائے تو اسے شہید کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اور اگر اس مرض سے اسے چھٹکارا مل جائے تو وہ اس حال میں صحت مند ہوتا ہے کہ اس کی مغفرت ہو چکی ہوتی ہے۔
- ۴۸ یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن شہداء کے ساتھ ہوگا۔
- ۴۹ جو شخص جمعہ کی شب میں مرجاتا ہے وہ شہید ہے۔
- ۵۰ حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ بلا اجرت صرف رضائے الہی کی خاطر اذان دینے والا مؤذن اس شہید کی مانند ہے جو اپنے خون میں مت پت تر پتا ہو، نیز وہ مؤذن جب مرتا ہے تو اس کی قبر میں کینے نہیں پڑتے۔

نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس بار اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں۔ جو شخص مجھ پر دس مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر سو مرتبہ اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں۔ اور جو شخص مجھ پر سو مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان برأت یعنی نفاق اور آگ سے نجات لکھ دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔

منقول ہے کہ جو شخص صبح کے وقت تین مرتبہ (أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ) اور سورہ بشر کی آخری تین آیتیں پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ستر ہزار فرشتے مقرر کرتے ہیں، وہ فرشتے اس کے لیے شام تک بخشش کی دعا کرتے ہیں اور وہ شخص اگر اس دن مر جائے تو اس کی موت شہید کی موت ہوتی ہے، اور جو شخص شام کو یہ آیتیں پڑھتا ہے وہ بھی اسی اجر کا مستحق ہوتا ہے۔

منقول ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ایک شخص کو وصیت کی کہ جب تم رات میں سونے کے لیے اپنے بستر پر جاؤ تو سورہ بشر کی آخری آیتیں پڑھ لو اور فرمایا کہ اگر تم رات میں یہ پڑھنے کے بعد سوئے اور اسی رات میں مر گئے تو شہید کی موت پاؤ گے۔

منقول ہے کہ جو شخص مرگی کے مرض میں مر جاتا ہے وہ شہید ہوتا ہے۔

جو شخص حج اور عمرہ کے دوران مر جاتا ہے وہ شہید ہوتا ہے۔

جو شخص با وضو مر جاتا ہے وہ شہید ہوتا ہے۔

اسی طرح رمضان کے مہینے میں بیت المقدس، مکہ یا مدینہ میں مرنے والا شخص شہید ہوتا ہے۔

دبلاہٹ کی بیماری میں مرنے والا شخص شہید ہوتا ہے۔

جو شخص کسی آفت و بلا میں مبتلا ہو اور اس آفت و بلا پر صبر و رضا کا دامن پکڑے ہوئے مر جائے وہ شہید ہے۔

جو شخص صبح و شام (لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ) پڑھے وہ شہید ہے۔

منقول ہے کہ جو شخص نوے (۹۰) برس کی عمر میں مرے۔

یا آسب زدہ ہو کر مرے۔

یا اس حال میں مرے کہ اس کے ماں باپ اس سے خوش ہوں۔

یا نیک بخت بیوی اس حال میں مرے کہ اس کا خاوند اس سے خوش ہو تو وہ شہید ہے۔

اسی طرح عادل حاکم و بادشاہ اور شرعی قاضی، یعنی وہ قاضی جو ہمیشہ حق و انصاف کی روشنی میں فیصلہ کرے وہ شہید ہے۔

جو مسلمان کسی کمزور مسلمان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے وہ بھی شہید ہے۔ (ماخوذ از مظاہر حق جدید: ۳۲۷/۲)

## (۸) تین بیماریوں جن میں بیمار کی عیادت کرنے یا نہ کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں

حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے میری عیادت فرمائی جبکہ میری آنکھوں میں درد تھا۔ (احمد، ابوداؤد)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اس شخص کی عیادت کرنا سنت ہے جو آنکھ دکھنے یا آنکھ کی دوسری بیماری میں مبتلا ہو۔

اور جامع صغیر میں ایک روایت ہے جس کا مفہوم ہے کہ تین بیماریاں ایسی ہیں جن میں بیمار کی عیادت نہ کی جائے:

① آنکھیں دکھنے میں۔ ② داڑھ درد میں۔ ③ اور ذہن (پھوڑے) میں۔

چونکہ ان دونوں حدیثوں میں (بظاہر) تعارض ہے اس لیے ان دونوں میں اس تاویل کے ذریعے تطبیق پیدا کی جائے گی کہ ان

بیماریوں میں بیماری عیادت وہ لوگ نہ کریں جن کے لیے بیمار کو تکلف کرنا پڑے، یا ان کا آنا بیمار کے لیے گراں ہو کیونکہ اگر وہ لوگ ایسے بیمار کی عیادت کے لیے جائیں گے تو آنکھ دکھنے یا آنکھ کی دوسری بیماری کی شکل میں بیمار کو اپنی آنکھ کھولنے پر مجبور ہونا پڑے گا، یا داڑھ دکھنے کی صورت میں اسے گفتگو کرنے کی وجہ سے بہت زیادہ تکلیف ہوگی۔ اسی طرح اگر ڈنبل ہوگا تو وہ ان کی وجہ سے ٹھیک طریقہ سے بیٹھے پر مجبور ہوگا اور ظاہر ہے کہ پھوڑے کی وجہ سے اس کے لیے کسی ایک اور ٹھیک بیست پر بیٹھنا بہت زیادہ تکلیف کا باعث ہوگا۔ ہاں! اگر ایسے لوگ عیادت کے لیے جائیں جن کی وجہ سے بیمار کو تکلف نہ کرنا پڑے، یا ان کا جانا بیمار پر گراں نہ گزرے تو ان بیماریوں میں بھی عیادت کے لیے جانے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ (مظاہر حق جلد ۲: ۲۰۷)

### ﴿ ۹ ﴾ حضرت رابعہ بصریہ کا بچپن اور ان کا زہد و تقویٰ

حضرت رابعہ بصریہ بیچ سے، جو اولیائے کاملین میں سے تھیں، کسی شخص نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کی طلب کا راستہ آپ کے ہاتھ کیسے نکلا؟ میں نے خدائی طلب کی ابتداء کیونکر ہوئی، فرمایا کہ میں سات برس کی تھی کہ بصرہ میں قحط پڑا، میرے ماں باپ کی وفات ہو گئی اور میری بہنیں متفرق ہو گئیں اور مجھے رابعہ (چوتھی) اس لیے کہتے ہیں کہ میری تین بہنیں اور تھیں، چوتھی میں تھی، بس میں ایک ظالم کے ہاتھ پڑی اس نے مجھ کو چھ درہم میں بیچ ڈالا۔ جس شخص نے مجھ کو خریدتا وہ مجھ سے سخت سے سخت کام لیتا تھا۔ ایک روز میں کوٹھے سے گر پڑی اور میرا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ میں نے اپنا چہرہ زمین پر رکھا اور عرض کیا: بار خدا! میں ایک غریب یتیم لڑکی ہوں، ایک شخص کی قید میں پڑی ہوں، مجھ پر رحم فرما، میں تیری رضا چاہتی ہوں، مجھ پر رحم فرما، میں تیری رضا چاہتی ہوں، اگر تو راضی ہے تو پھر مجھے کوئی فکر نہیں۔ اس کے جواب میں میں نے ایک آواز سنی کہ اے ضعیف! غم مت کھا کہ کل کو تجھے ایک ایسا مرتبہ حاصل ہوگا کہ مقربان آسمان تجھ کو اچھا جانے لگیں گے۔

اس کے بعد میں اپنے مالک کے گھر آئی تو میں نے روزہ رکھنا شروع کیا اور شب کو ایک گوشہ میں جا کر عبادت میں مشغول ہو جاتی۔ ایک مرتبہ میں آدھی رات کو حق تعالیٰ سے مناجات کر رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی الہی! تو جانتا ہے کہ میرے دل میں خواہش تیرے فرمان کی موافقت میں ہے، اور میری آنکھ کی روشنی تیری خدمت کرنے میں ہے، اور تو میری نیت کو جانتا ہے کہ اگر میرے ذمہ مخلوق کی خدمت نہ ہوتی تو گھڑی بھر کے لیے بھی تیری عبادت سے آسودہ نہ ہوتی، لیکن تو نے مجھ کو ایک مخلوق کے ہاتھ قید کر دیا ہے۔ میں یہ دعا کر رہی تھی کہ میرے مالک نے میرے سر پر ایک قندیل نور کی بغیر زنجیر کے لٹکی ہوئی دیکھی جس کے سبب سارا گھر روشن ہو گیا تھا۔ دوسرے دن مالک نے مجھے بلایا اور بہت خاطر کی اور آزاد کر دیا۔ بس میں نے اس سے اجازت لی اور آبادی سے باہر نکلی اور ویرانہ کی راہ لی جہاں کوئی آدمی نہ تھا، اور اپنے رب کی عبادت میں مشغول ہو گئی۔ چنانچہ ہر رات ہزار رکعت نماز پڑھتی تھی۔ (مثالی خواتین محمد اسحاق ملتان)

### ﴿ ۱۰ ﴾ قیامت کی بہتر (۷۲) نشانیاں

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب بہتر (۷۲) باتیں پیش آئیں گی:

- لوگ نمازیں غارت کرنے لگیں گے، یعنی نمازوں کا اہتمام رخصت ہو جائے گا، یہ بات اگر اس زمانے میں کہی جائے تو کوئی زیادہ تعجب کی بات نہیں سمجھی جائے گی، اس لیے کہ آج مسلمانوں کی اکثریت ایسی ہے جو نماز کی پابند نہیں ہے۔ لیکن حضور اقدس ﷺ نے یہ بات اس وقت ارشاد فرمائی تھی جب نماز کو کفر اور ایمان کے درمیان حد فاصل قرار دیا گیا تھا۔ اس زمانے میں مؤمن کتنا ہی برے سے برا ہو، فاسق و فاجر ہو، بدکار ہو، لیکن نماز نہیں چھوڑتا تھا۔ اس زمانے میں آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ لوگ نمازیں غارت کرنے لگیں گے۔

- ① امانت ضائع کرنے لگیں گے یعنی جو امانت ان کے پاس رکھی جائے گی اس میں خیانت کرنے لگیں گے۔
- ② سود کھانے لگیں گے۔
- ③ جھوٹ کو حلال سمجھنے لگیں گے یعنی جھوٹ ایک فن اور ہنر بن جائے گا۔
- ④ معمولی معمولی باتوں پر خونریزی کرنے لگیں گے، ذرا سی بات پر دوسرے کی جان لے لیں گے۔
- ⑤ اونچی اونچی بلڈنگیں بنائیں گے۔
- ⑥ دین بچ کر دنیا جمع کریں گے۔
- ⑦ قطع رحمی، یعنی رشتہ داروں سے بدسلوکی ہوگی۔
- ⑧ انصاف نایاب ہو جائے گا۔
- ⑨ جھوٹ سچ بن جائے گا۔
- ⑩ لباس ریشم کا پہنا جائے گا۔
- ⑪ خانہ عام ہو جائے گا۔
- ⑫ طلاقوں کی نشتر ہوگی۔
- ⑬ ناگہانی موت عام ہو جائے گی یعنی ایسی موت عام ہو جائے گی جس کا پہلے سے پتہ نہیں ہوگا بلکہ اچانک پتہ چلے گا کہ فلاں شخص ابھی زندہ ٹھیک ٹھاک تھا اور اب مر گیا۔
- ⑭ خیانت کرنے والے کو امین سمجھا جائے گا۔
- ⑮ امانت دار کو خائن سمجھا جائے گا یعنی امانت دار پر تہمت لگائی جائے گی کہ یہ خائن ہے۔
- ⑯ جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا۔
- ⑰ سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا۔
- ⑱ تہمت درازی عام ہو جائے گی یعنی لوگ ایک دوسرے پر جھوٹی تہمتیں لگائیں گے۔
- ⑲ بارش کے باوجود گرمی ہوگی۔
- ⑳ لوگ اولاد کی خواہش کرنے کے بجائے اولاد سے کراہیت کریں گے یعنی جس طرح لوگ اولاد ہونے کی دعائیں کرتے ہیں، اس کے بجائے لوگ یہ دعائیں کریں گے کہ اولاد نہ ہو۔ چنانچہ آج دیکھ لیں کہ خاندانی منصوبہ بندی ہو رہی ہے اور یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ ”بچے دو ہی اچھے“۔
- ㉑ کینوں کے ٹھاٹھ ہوں گے یعنی کینے لوگ بڑے ٹھاٹھ سے عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔
- ㉒ شریفوں کا نات میں دم آ جائے گا یعنی شریف لوگ شرافت کو لے کر بنیں گے تو دنیا سے کٹ جائیں گے۔
- ㉓ امیر اور وزیر جھوٹ کے عادی بن جائیں گے یعنی سربراہ حکومت اور اس کے اعموان و انصار اور وزراء جھوٹ کے عادی بن جائیں گے اور صبح و شام جھوٹ بولیں گے۔
- ㉔ امین خیانت کرنے لگیں گے۔
- ㉕ سردار ظلم پیشہ ہوں گے۔
- ㉖ عالم اور قاری بدکار ہوں گے یعنی عالم بھی ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، مگر بدکار ہیں۔ العیاذ باللہ۔

- ۱۸) لوگ جانوروں کی کھالوں کا لباس پہنیں گے۔
- ۱۹) مگر ان کے دل مردار سے زیادہ بدبودار ہوں گے۔ یعنی لوگ جانوروں کی کھالوں سے بنے ہوئے اعلیٰ درجے کے لباس پہنیں گے، لیکن ان کے دل مردار سے زیادہ بدبودار ہوں گے۔
- ۲۰) اور ایلوے سے زیادہ کڑوے ہوں گے۔
- ۲۱) سونا عام ہو جائے گا۔
- ۲۲) چاندی کی مانگ ہوگی۔
- ۲۳) گناہ زیادہ ہو جائیں گے۔
- ۲۴) امن کم ہو جائے گا۔
- ۲۵) قرآن کریم کے نسخوں کو آراستہ کیا جائے گا اور اس پر نقش و نگار بنایا جائے گا۔
- ۲۶) مسجدوں میں نقش و نگار کئے جائیں گے۔
- ۲۷) اونچے اونچے مینار بنیں گے۔
- ۲۸) لیکن دل ویران ہوں گے۔
- ۲۹) شاہیں پی جائیں گی۔
- ۳۰) تہی سزاواں و متظل کر دیا جائے گا۔
- ۳۱) لوندی اپنے آقا کو جنے گی یعنی بنی ماں پر حکمرانی کرے گی اور اس کے ساتھ ایسا سلوک کرے گی جیسے آقا اپنی کنیز کے ساتھ سلوک کرتا ہے۔
- ۳۲) جو لوگ ننگے پاؤں، ننگے بدن، غیر مہذب ہوں گے وہ بادشاہ بن جائیں گے یعنی کینے اور نیچ ذات کے لوگ جو نسب اور اخلاق کے اعتبار سے کینے اور نیچے درجے کے سمجھے جاتے ہیں اور سربراہ بن کر حکومت کریں گے۔
- ۳۳) تجارت میں عورت مرد کے ساتھ شرکت کرے گی جیسے آج کل ہو رہا ہے کہ عورتیں زندگی کے ہر کام میں مردوں کے شانہ بشانہ چلنے کی کوشش کر رہی ہیں۔
- ۳۴) مرد عورتوں کی نکالی کریں گے۔
- ۳۵) عورتیں مردوں کی نکالی کریں گی۔ یعنی مرد عورتوں جیسا حلیہ بنائیں گے اور عورتیں مردوں جیسا حلیہ بنائیں گی۔ آج دیکھ لیں نئے فیشن نے یہ حالت کر دی ہے کہ دور سے دیکھو تو پتہ لگانا مشکل ہوتا ہے کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے۔
- ۳۶) غیر اللہ کی قسمیں کھائی جائیں گی، یعنی قسم تو صرف اللہ کی یا اللہ کی صفت کی اور قرآن کی کھانا جائز ہے۔ ① دوسری چیزوں کی قسم کھانا حرام ہے۔ لیکن اس وقت لوگ اور چیزوں کی قسم کھائیں گے۔ مثلاً: تیرے سر کی قسم، تیرے باپ کی قسم! (غوث پاک کی قسم! مولیٰ کی قسم!) وغیرہ۔
- ۳۷) مسلمان بھی بغیر بے مچھوٹی گواہی دینے کو تیار ہوگا۔ لفظ ”بھی“ کے ذریعہ یہ بتا دیا کہ اور لوگ تو یہ کام کرتے ہی ہیں، لیکن اس وقت مسلمان بھی مچھوٹی گواہی دینے کو تیار ہو جائیں گے۔

① صرف جان پہچان کے لوگوں کو سلام کیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر راستے میں کہیں سے گزر رہے ہیں تو ان لوگوں کو سلام نہیں کیا جائے گا جن سے جان پہچان نہیں ہے، اگر جان پہچان ہے تو سلام کر لیں گے۔ حالانکہ حضور اقدس ﷺ کا فرمان یہ ہے کہ:

(وَتَقَرَّبِي السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَهُ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ)

ترجمہ: ”جس کو تم جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو اور جس کو تم نہیں جانتے اس کو بھی سلام کرو۔“

خاص طور پر اس وقت جب کہ راستے میں اکاڈکا آدمی گزر رہے ہوں تو اس وقت سب آنے جانے والوں کو سلام کرنا چاہیے۔ لیکن اگر آنے جانے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہو اور اسلام کی وجہ سے اپنے کام میں خلل آنے کا اندیشہ ہو تو پھر سلام نہ کرنے کی بھی گنجائش ہے۔ لیکن ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اکاڈکا آدمی گزر رہے ہوں گے تب بھی سلام نہیں کریں گے اور سلام کا رواج ختم ہو جائے گا۔

② غیر دین کے لیے شرعی علم پڑھا جائے گا۔ یعنی شرعی علم دین کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے لیے پڑھا جائے گا۔ العیاذ باللہ۔ اور مقصد یہ ہوگا کہ اس کے ذریعہ ہمیں ڈگری مل جائے گی، ملازمت مل جائے گی، پیسے مل جائیں گے، عزت اور شہرت حاصل ہو جائے گی۔ ان مقاصد کے لیے دین کا علم پڑھا جائے گا۔

③ آخرت کے کام سے دنیا کمائی جائے گی۔

④ مال غنیمت کو ذاتی جاگیر سمجھ لیا جائے گا۔ مال غنیمت سے مراد قومی خزانہ ہے یعنی قومی خزانے کو ذاتی جاگیر اور ذات دولت سمجھ کر معاملہ کریں گے۔

⑤ امانت کو لوٹ کا مال سمجھا جائے گا، یعنی اگر کسی نے امانت رکھوادی تو سمجھیں گے کہ یہ لوٹ کا مال حاصل ہوگا۔

⑥ زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھا جائے گا۔

⑦ سب سے رذیل آدمی قوم کا لیڈر اور قائد بن جائے گا، یعنی قوم میں جو شخص سب سے زیادہ رذیل اور بد خصلت انسان ہوگا اس کو قوم کے لوگ اپنا قائد، اپنا ہیرو اور اپنا سربراہ بنا لیں گے۔

⑧ آدمی اپنے باپ کی نافرمانی کرے گا۔

⑨ آدمی اپنی ماں سے بد سلوکی کرے گا۔

⑩ دوست کو نقصان پہنچانے سے گریز نہیں کرے گا۔

⑪ بیوی کی اطاعت کرے گا۔

⑫ بدکاروں کی آوازیں مسجدوں میں بلند ہوں گی۔

⑬ گانے والی عورتوں کی تعظیم و تکریم کی جائے گی۔ یعنی جو عورتیں گانے بجانے کا پیشہ کرنے والی ہیں ان کی تعظیم اور تکریم کی جائے گی، اور ان کو بلند مرتبہ دیا جائے گا۔

⑭ گانے بجانے اور موسیقی کے آلات کو سنبھال کر رکھا جائے گا۔

⑮ سر راہ شراہیں پی جائیں گی۔

⑯ ظلم کو فخر سمجھا جائے گا۔

⑰ انصاف بکنے لگے گا یعنی عدالتوں میں انصاف فروخت ہوگا۔ لوگ پیسے دے کر اس کو خریدیں گے۔

⑱ پولیس والوں کی کثرت ہو جائے گی۔

۱۱) قرآن کریم کو نغمہ سرائی کا ذریعہ بنا لیا جائے گا یعنی موسیقی کی لے میں قرآن کی تلاوت کی جائے گی تاکہ اس کے ذریعہ ترنم کا خط اور مزہ حاصل ہو، اور قرآن کی دعوت اور اس کو سمجھنے یا اس کے ذریعہ اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے تلاوت نہیں کی جائے گی۔

۱۲) درندوں کی کھال استعمال کی جائے گی۔

۱۳) امت کے آخری لوگ اپنے سے پہلے لوگوں پر لعن طعن کریں گے یعنی ان پر تنقید کریں گے اور ان پر اعتماد نہیں کریں گے اور تنقید کرتے ہوئے یہ کہیں گے کہ انہوں نے یہ بات غلط کہی اور یہ غلط طریقہ اختیار کیا۔ چنانچہ آج بہت بڑی مخلوق صحابہ رضی اللہ عنہم کی شان میں گستاخیاں کر رہی ہے، بہت سے لوگ ان ائمہ دین کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں جن کے ذریعہ یہ دین ہم تم تک پہنچا، اور ان بے وقوف بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ قرآن وحدیث کو نہیں سمجھتے، دین کو نہیں سمجھتے، آج ہم نے دین کو صحیح سمجھا ہے۔

۱۴) یا تو تم پر سرخ آندھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آجائے۔

۱۵) یا زلزلے آجائیں۔

۱۶) یا لوگوں کی صورتیں بدل جائیں۔

۱۷) یا آسمان سے پتھر برسیں یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اور عذاب آجائے۔ العیاذ باللہ۔

اب آپ ان علامات میں ذرا غور کر کے دیکھیں کہ یہ سب علامات ایک ایک کر کے کس طرح ہمارے معاشرے پر صادق آرہی ہیں اور اس وقت جو عذاب ہم پر مسلط ہے وہ درحقیقت انہی بد اعمالین کا نتیجہ ہے۔ (درمشور: ۵۲/۶، حوالہ اسلامی خطبات: ۷/۷۳۳: ۷۳۳)

### (۱۱) جنات کی دعوت پر حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام

حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم ﷺ مسعود ہوئے اس وقت میں شام میں تھا۔ اپنی کسی ضرورت سے سفر میں نکلا تو راستے میں رات ہو گئی۔ میں نے کہا: میں آج رات اس وادی کے بڑے سردار (جن) کی پناہ میں ہوں۔ زمانہ جاہلیت میں عربوں کا خیال تھا کہ ہر جنگ اور ہروادی پر کسی جن کی حکومت ہوتی ہے۔ جب میں بستر پر لیٹا تو ایک منادی نے آواز لگائی، وہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے کہا: تم اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ جنات اللہ کے مقابلہ میں کسی کو پناہ نہیں دے سکتے میں نے کہا اللہ کی قسم! تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا: میں ان پڑھ ہوں، اللہ کی طرف سے آنے والے رسول ﷺ ظاہر ہو چکے ہیں، ہم نے (مکہ میں) ”حججوں“ مقام پر ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے، اور ہم مسلمان ہو گئے ہیں اور ہم نے اجماع اختیار کر لی ہے اور اب جنات کے تمام مکرو فریب ختم ہو گئے ہیں۔ اب (وہ آسمان پر جانا چاہتے ہیں تو) ان کو ستارے مارے جاتے ہیں، تم محمد ﷺ کے پاس جاؤ جو رب العالمین کے رسول ہیں، اور مسلمان ہو جاؤ۔

حضرت تمیم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں صبح کو ”دیر ایوب“ بستی میں گیا اور وہاں ایک پادری کو سارا قصہ سنا کر اس سے اس کے بارے میں پوچھا۔ اس نے کہا: جنات نے تم سے سچ کہا ہے، وہ نبی حرم (مکہ) میں ظاہر ہوں گے اور ہجرت کر کے حرم (مدینہ) جائیں گے۔ وہ تمام انبیاء علیہم السلام سے بہتر ہیں۔ کوئی اور تم سے پہلے ان تک نہ پہنچ جائے، اس لیے جلدی جاؤ۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ہمت کر کے چل پڑا اور حضور اقدس ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گیا۔ (جاء اصحاب: ۳/۱۳۹)

### (۱۲) زبور اور تورات میں امت محمدیہ ﷺ کی صفات

۱) زبور میں تحریر ہے کہ امت محمدیہ ﷺ کو قیامت کے دن انبیائے کرام علیہم السلام کا نور دیا جائے گا۔ (جاء اصحاب: ۱/۳۵)

۲) تورات میں ہے کہ امت محمدیہ کی اذانیں آسمانی فضا میں گونجیں گی (یعنی میناروں اور بلند جگہوں پر اذانیں دیں گے)۔

۳) پانچوں نمازیں اپنے وقت پر پڑھیں گے اگرچہ کوڑے کرکٹ والی جگہ پر ہوں، اور وسط بدن یعنی کمر پر لگی بانڈ میں گے اور وضو میں

اعضاء کو دھوئیں گے۔ (حیاء الصحابہ: ۱/۲۶)

نوٹ: کوڑے کرکٹ والی جگہ پر نمازیں پڑھیں گے۔ الحمد للہ! یہ بات ہمارے ساتھیوں میں پائی جاتی ہے، آج کل ہمارے ساتھی اسٹیشن ہر ٹرین میں، بس اڈے پر، جہاں جگہ مل گئی نماز ادا کرتے ہیں۔

### (۱۳) ظالم قوم کے ظلم سے بچنے کیلئے نبوی نسخہ

حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو نبی کریم ﷺ نے اسلام کی دعوت دی، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا میری قوم ہے، میرا خاندان ہے، اگر اسلام لاؤں گا تو ان سے مجھے خطرہ ہے اس لیے میں کیا کہوں؟ نبی کریم ﷺ نے فرمایا یہ دعا پڑھو:

(اللَّهُمَّ اسْتَهْدِنَاكَ لِأَرْشَادِ أَمْرِي وَزِدْنِي عِلْمًا يَنْفَعُنِي)

”اے اللہ! میں اپنے معاملہ میں زیادہ رشد و ہدایت والے راستے کی آپ سے رہنمائی چاہتا ہوں اور مجھے علم نافع اور زیادہ عطا فرما۔“

چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے یہ دعا پڑھی اور اسی مجلس میں انھنے سے پہلے ہی مسلمان ہو گئے۔ (حیاء الصحابہ: ۱/۹۳)

### (۱۴) اُمت گنہگار اور رب بخشنے والا ہے

جنت کے دونوں طرف سونے کے پانی سے تین سطریں تحریر ہیں:

پہلی سطر:

(لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)

دوسری سطر:

جو ہم نے اگر بھیج دیا یعنی صدقہ خیرات وغیرہ کر دیا اس کا ثواب مل گیا، اور جو دنیا میں ہم نے کھاپی لیا اس کا ہم نے نفع اٹھالیا، اور جو کچھ ہم چھوڑ آئے اس میں ہمیں نقصان ہوا۔

تیسری سطر:

امت گنہگار ہے اور رب بخشنے والا ہے۔ (منتخب احادیث ص ۴۷)

### (۱۵) اللہ تعالیٰ بھی دعوت دیتے ہیں

﴿ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَىٰ دَارِ السَّلَامِ ﴾ (سورہ یونس: ۲۵)

ترجمہ: ”اور اللہ تعالیٰ بلا تے ہیں سلامتی کے گھر کی طرف۔“

﴿ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَىٰ الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ﴾ (سورہ بقرہ: ۲۲۱)

ترجمہ: ”اور اللہ تعالیٰ بلا تے ہیں جنت اور بخشش کی طرف اپنے حکم سے۔“

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ (سورہ بقرہ: ۲۱)

ترجمہ: ”اے لوگو! بندگی کرو اپنے رب کی جس نے پیدا کیا تم کو اور ان کو جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پر ہیز گاریں جاؤ۔“



﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ﴾ (سورہ نساء: ۱)

ترجمہ: ”اے لوگو! ڈرتے رہو اپنے رب سے جس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے۔“

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ﴾ (سورہ حج: ۱)

ترجمہ: ”اے لوگو! ڈرو اپنے رب سے، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی بھاری چیز ہے۔“

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ (سورہ آل عمران: ۱۰۲)

ترجمہ: ”اے ایمان والو! اللہ سے ڈرتے رہو جیسا اس سے ڈرنا چاہئے، اور نہ مردو مگر مسلمان یعنی مرتے دم تک کوئی حرکت مسلمانی کے خلاف نہ کرو۔“

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾ (سورہ نساء: ۵۹)

ترجمہ: ”اے ایمان والو! تم اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو رسول اللہ ﷺ کی اور تم میں جو امیر و حاکم ہیں ان کی بھی۔“

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ﴾ (سورہ تحریم: ۶)

ترجمہ: ”اے ایمان والو! بچاؤ اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے۔“

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً تَوْصِيحًا ﴾ (سورہ تحریم: ۸)

ترجمہ: ”اے ایمان والو! تم اللہ کے آگے سچی توبہ کرو۔“

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ﴾

(سورہ حج: ۷۷، ۷۸)

ترجمہ: ”اے ایمان والو! تم رکوع کیا کرو اور سجدہ کیا کرو اور اپنے رب کی عبادت کیا کرو، اور نیک کام کیا کرو امید ہے کہ تم

فلاح پاؤ گے، اور اللہ کے کام میں خوب کوشش کیا کرو جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے۔“ (بیان القرآن)

## ﴿ ۱۶ ﴾ صبر کرنے کا وقت

صبر اپنے وقت پر ہوتا ہے، مدت گزر جانے کے بعد تو ہر ایک کو صبر آتی جاتا ہے، وہ باعث اجر نہیں ہوتا، صبر وہی باعث اجر ہوتا ہے جو ارادہ اور اختیار سے مصیبت کو دبانے کے لیے کیا جائے۔

حدیث شریف میں ہے کہ ایک بڑھیا کا جوان بیٹا مر گیا۔ نبی کریم ﷺ دھر سے گزرے، بڑھیا واویلا فریاد اور خوبیاں بیان کر کے رو رہی تھی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: صبر کرو۔ وہ آپ ﷺ کو پہچانتی نہ تھی، جواب دیا کہ ہاں! تمہارا جوان بیٹا مر گیا ہوتا تو پتہ چلتا! آپ ﷺ چل دیئے۔ کسی نے کہا: اللہ کے رسول ﷺ تھے۔ دوڑی دوڑی آئی اور کہا: اب میں صبر کروں گی۔ آپ ﷺ نے فرمایا:

(الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى) (خطبات حکیم الاسلام: ۲۸۰/۵)

ترجمہ: ”صبر اور رنج پہنچتے ہی آدمی صبر کرے تو موجب اجر ہوتا ہے۔“

## ﴿ ۱۷ ﴾ دو جھگڑنے والوں کی دیوار کی نصیحت (ایک عجیب واقعہ)

بنی اسرائیل میں سے ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، اس کے دو بیٹے تھے، ان دونوں کے مابین ایک دیوار کی تقسیم کے سلسلے میں جھگڑا ہو گیا، جب دونوں آپس میں جھگڑ رہے تھے تو انہوں نے دیوار سے ایک ٹیپی آواز سنی کہ تم دونوں جھگڑامت کرو کیونکہ میری حقیقت یہ ہے

کہ میں ایک مدت تک اس دنیا میں بادشاہ اور صاحب مملکت رہا، پھر میرا انتقال ہو گیا اور میرے بدن کے اجزاء مٹی کے ساتھ مل گئے، پھر اس مٹی سے کہار نے مجھے گھڑے کی ٹھیکری بنا دیا۔ ایک طویل مدت تک ٹھیکری کی صورت میں رہنے کے بعد مجھے توڑ دیا گیا۔ پھر ایک لمبی مدت تک ٹکڑوں کی صورت میں رہنے کے بعد میں مٹی اور ریت کی صورت میں تبدیل ہو گیا۔ پھر کچھ مدت کے بعد لوگوں نے میرے اجزائے بدن کی اس مٹی سے اینٹیں بنا ڈالیں، اور آج تم مجھے اینٹوں کی شکل میں دیکھ رہے ہو۔ لہذا تم ایسی مذموم و فبیح دنیا پر کیوں جھگڑتے ہو۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے۔

غرور تھا نمود تھی، ہو بچو کی تھی صدا اور آج تم سے کیا کہوں، لحد کا بھی پتہ نہیں  
 آہ! آہ! یہ دنیا بڑی فریب دہندہ ہے، فانی ہونے کے باوجود یہ لوگوں کی محبوب بنی ہوئی ہے۔ یہ اپنی ظاہری رنگینی اور رعنائی سے  
 لوگوں کو گمراہ کرتے ہوئے آخرت سے غافل کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دلوں کو جنسی مسرات کے شوق سے ہم آغوش فرمائیں۔  
 (گلستانِ قامت: تالیف علامہ محمد موسیٰ مدحالی بازی ص ۴۹۲)

### (۱۸) اولاد کے اعتبار سے انسانوں کی چار قسمیں ہیں

اولاد کے اعتبار سے انسانوں کی چار قسمیں ہیں۔ ارشاد باری ہے:

﴿لِيْلَهُ مَلِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ اِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ الذَّكَوٰرَ اَوْ يَزْوِجُھُمْ  
 ذُكُوْرًا وَاِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَآءُ عَقِيْمًا اِنَّہٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ﴾ (سورہ شوریٰ: ۵۰-۴۹)

ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ کا راج ہے آسمانوں میں اور زمین میں، پیدا کرتا ہے جو چاہے بختا ہے جس کو چاہے بیٹیاں اور بختا ہے جس کو چاہے بیٹے، یا ان کو دیتا ہے جوڑے بیٹے اور بیٹیاں، اور کر دیتا ہے جس کو چاہے بانجھ، وہ سب کچھ جانتا، کر سکتا ہے۔“  
 اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی چار قسمیں بیان فرمائی ہیں:

① وہ جن کو صرف بیٹے دیئے۔ ② وہ جن کو صرف بیٹیاں دیں۔

③ وہ جن کو بیٹے، بیٹیاں دیئے۔ ④ وہ جن کو بیٹا دیا نہ بیٹی۔

لوگوں کے درمیان یہ فرق و تفاوت اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اس تفاوت الہی کو دنیا کی کوئی طاقت بدلنے پر قادر نہیں۔ یہ تقسیم اولاد کے اعتبار سے ہے۔

### (۱۹) والدین کے اعتبار سے انسانوں کی چار قسمیں

والدین کے اعتبار سے بھی انسانوں کی چار قسمیں ہیں:

① حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا، ان کا باپ ہے نہ ماں۔

② حضرت حوا علیہا السلام کو صرف مرد سے پیدا کیا، ان کی ماں نہیں ہے۔

③ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صرف عورت سے پیدا کیا، ان کا باپ نہیں ہے۔

④ اور باقی تمام انسانوں کو مرد و عورت دونوں کے ملاپ سے پیدا کیا گیا، ان کے باپ بھی ہیں اور ماں بھی۔ ﴿فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ الْعَلِيْمِ الْقَدِيْمِ﴾

### (۲۰) ایمان کے اعتبار سے انسانوں کی چار قسمیں

ایمان کے اعتبار سے انسانوں کی چار قسمیں ہیں۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے کہ بنی آدم مختلف اقسام پر پیدا کئے گئے ہیں:

① کچھ لوگ مؤمن پیدا ہوتے ہیں (یعنی مؤمن ماں باپ کے یہاں پیدا ہوتے ہیں) اور مؤمن زندہ رہتے ہیں (یعنی زندگی بھر ایمان پابند رہتے ہیں) اور مؤمن مرتے ہیں۔

② کچھ لوگ کافر پیدا ہوتے ہیں (یعنی کافروں کے یہاں پیدا ہوتے ہیں) اور کافر زندہ رہتے ہیں (یعنی پوری زندگی کافر رہتے ہیں) اور کافر مرتے ہیں۔

③ کچھ مؤمن پیدا ہوتے ہیں، مؤمن زندہ رہتے ہیں (یعنی زندگی بھر مؤمن رہتے ہیں) اور کافر مرتے ہیں (یعنی مرنے سے کچھ پہلے کافر ہو جاتے ہیں)۔

④ کچھ کافر پیدا ہوتے ہیں اور زندگی بھر کافر رہتے ہیں، اور مؤمن مرتے ہیں (یعنی وفات سے کچھ پہلے ایمان لے آتے ہیں اور ان کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے)۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۴۷)

اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر جینا اور مرنا نصیب فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین!

### ﴿۲۱﴾ غصہ کے اعتبار سے انسانوں کی چار قسمیں

غصہ کے اعتبار سے بھی انسانوں کی چار قسمیں ہیں۔ نبی کریم ﷺ کا فرمان ہے کہ:

① کچھ لوگوں کو جلدی غصہ آتا ہے اور جلدی زائل ہو جاتا ہے۔ یہ لوگ نہ قابل تعریف ہیں، نہ قابل مذمت۔

② کچھ لوگوں کو دیر سے غصہ آتا ہے اور دیر سے زائل ہوتا ہے۔ یہ بھی نہ قابل تعریف، نہ قابل مذمت۔

③ تم میں بہترین وہ لوگ ہیں جن کو دیر سے غصہ آتا ہے اور جلدی زائل ہو جاتا ہے۔ رب کریم! ہمیں بہترین انسان بنا دے۔ آمین!

④ تم میں بدترین وہ لوگ ہیں جن کو جلدی غصہ آتا ہے، اور دیر سے زائل ہوتا ہے۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۴۷)

### ﴿۲۲﴾ قرض کے اعتبار سے انسانوں کی چار قسمیں

قرض کے اعتبار سے بھی انسانوں کی چار قسمیں ہیں۔ نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں کہ:

① کچھ لوگ قرض ادا کرنے میں اچھے ہوتے ہیں لیکن قرض وصول کرنے میں سختی کرتے ہیں۔ یہ لوگ نہ قابل تعریف ہیں نہ قابل مذمت۔

② کچھ لوگ قرض ادا کرنے میں بال منول کرتے ہیں لیکن قرض وصول کرنے میں نرمی برتتے ہیں۔ یہ بھی نہ قابل تعریف ہیں نہ قابل مذمت۔

③ تم میں بہترین وہ لوگ ہیں جو قرض ادا کرنے میں بھی اچھے ہوں اور قرض وصول کرنے میں بھی اچھے ہوں۔

④ اور تم میں بدترین وہ لوگ ہیں جو قرض ادا کرنے میں اچھے ہیں نہ وصول کرنے میں اچھے ہیں۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۴۸)

### ﴿۲۳﴾ سلام کی ابتداء

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کے اندر روح پھونک دی تو ان کو چھینک آئی۔ انہوں نے ”الْحَمْدُ لِلَّهِ“ کہا۔

ان کے رب نے ”يَرْحَمُكَ اللَّهُ“ فرمایا۔ اور فرمایا کہ اے آدم! ان فرشتوں کی طرف جاؤ جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو جا کر ”السَّلَامُ عَلَيْكُمْ“ کہو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے وہاں پہنچ کر ”السَّلَامُ عَلَيْكُمْ“ کہا تو فرشتوں نے اس کے جواب میں ”وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ“

وَرَحْمَةُ اللَّهِ“ کہا۔ پھر واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بلاشبہ یہ تجھ ہے تمہارا اور آپس میں تمہارے بیٹوں کا۔ (رد الوتر فی، مشکوٰۃ ص ۴۰)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ انسانوں میں سلام کی ابتداء اس طرح ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرشتوں کو جا کر سلام کرو۔

### (۲۴) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا مشورہ

حضرت نافع بیان کرتے ہیں کہ میں اپنا مال تجارت شام اور مصر لے جایا کرتا تھا، ایک مرتبہ عراق لے جانے کا ارادہ کیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مشورہ لینے کے لیے ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی کو رزق کا کوئی سبب کسی طریقہ پر بنادے تو اس کو نہ چھوڑے جب تک کہ وہ خود ہی نہ بدل جائے۔ مطلب یہ ہے کہ جس سبب سے روزی ملتی ہے اسے مت چھوڑو۔ ہاں! اگر وہ خود ہی بدل جائے مثلاً حالات سازگار نہ رہیں، مال میں نقصان ہونے لگے یا کوئی مجبوری پیش آئے تو اور بات ہے۔ (تہذیبی اور اصلاحی مضامین ص ۲۳۶)

### (۲۵) حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا خاص سبب

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے اسلام لانے سے پہلے کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں آپ ﷺ کے پاس گیا۔ دیکھا کہ آپ ﷺ مسجد حرام میں پہنچ گئے ہیں، میں بھی گیا اور آپ ﷺ کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ آپ نے سورہ حاقہ شروع کی جسے سن کر مجھے اس کی پیاری نشست، الفاظ اور بندش مضامین اور فصاحت و بلاغت پر تعجب آنے لگا۔ آخر میں میرے دل میں خیال آیا کہ قریش ٹھیک کہتے ہیں کہ یہ شخص شاعر ہے، ابھی میں اسی خیال میں تھا کہ آپ ﷺ نے یہ آیتیں تلاوت کیں:

﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تَوَمَّنُونَ﴾ (سورہ حاقہ: ۴۰، ۴۱)

ترجمہ: "یہ قول رسول کریم ﷺ کا ہے، شاعر کا نہیں ہے، تم میں ایمان ہی کم ہے۔"

تو میں نے خیال کیا کہ اچھا! شاعر نہ ہی، کاہن تو ضرور ہے، ادھر آپ ﷺ کی تلاوت میں یہ آیت آئی:

﴿وَلَا يَقُولُ كَاهِنٌ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ﴾ (سورہ حاقہ: آیت ۴۲)

ترجمہ: "یہ کاہن کا قول بھی نہیں ہے، تم نے نصیحت ہی کم لی ہے۔"

اب آپ بڑھتے چلے گئے یہاں تک کہ پوری سورت ختم کر لی۔ فرماتے ہیں کہ یہ پہلا موقع تھا کہ میرے دل میں اسلام پوری طرح گھر کر گیا، اور روٹھے روٹھے میں اسلام کی سچائی گھس گئی۔ پس یہ بھی منجملہ ان اسباب کے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا باعث ہوئے ایک خاص سبب ہے۔ (تفسیر ابن کثیر: ۳۲۵/۵)

### (۲۶) اللہ تعالیٰ کی مومن بندے سے عجیب سرگوشی

حضرت صفوان فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا ہاتھ تھامے ہوئے تھا کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا: آپ نے رسول اللہ ﷺ سے مومن کی جو سرگوشی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ہوگی اس کے بارے میں کیا سنا ہے؟ آپ نے فرمایا: رسالت مآب ﷺ سے میں نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن کو اپنے قریب بلائے گا اور اپنا بازو اس پر رکھ دے گا، اور لوگوں سے اُسے پردے میں کر لے گا، اور اس سے اس کے گناہوں کا اقرار کرائے گا اور پوچھے گا: یاد ہے! فلاں گناہ تو نے کیا تھا؟ فلاں کیا تھا؟ یہ اقرار کرتا جائے گا، اور دل دھڑک رہا ہوگا کہ اب ہاں! اتنے میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا: دیکھ! دنیا میں، میں نے ان گناہوں کی پردہ پوشی کی اور آج ان گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ پھر اُسے اس کی نیکیوں کا اعمال نامہ دیا جائے گا۔ (تفسیر ابن کثیر: ۳۸۲/۱)

## (۲۷) جب لوگ سونا چاندی جمع کرنے لگیں تو درج ذیل کلمات بکثرت کہا کرو

حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک حدیث بیان کرتا ہوں اسے یاد رکھ لو، رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ جب لوگ سونا چاندی جمع کرنے لگیں تو تم ان کلمات کو کثرت سے کہا کرو:

(اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الثَّباتَ فِي الْأُمْرِ وَالْعَزِيمَةَ عَلَى الرَّشْدِ، وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ حُسْنَ عِبَادَتِكَ وَأَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيمًا وَأَسْأَلُكَ لِسَانًا صَادِقًا، وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعَلَّمُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعَلَّمُ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعَلَّمُ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ) (ابن کثیر: ۲/۲۳۷)

ترجمہ: "اے اللہ! میں تجھ سے کام کی ثابت قدمی اور رشد و ہدایت کی پختگی طلب کرتا ہوں، اور تیری نعمتوں کا شکر یہ، اور تیری عبادتوں کی اچھائی چاہتا ہوں، اور سلامتی والا دل اور سچی زبان مانگتا ہوں، اور تیرے علم میں جو بھلائی ہے اس کو طلب کرتا ہوں، اور تیرے علم میں جو برائی ہے اس سے پناہ چاہتا ہوں، اور جن برائیوں کو تو جانتا ہے ان سے استغفار طلب کرتا ہوں، بے شک تو تمام غیب کو خوب جانتا ہے۔"

## (۲۸) موت کے سوا ہر چیز سے حفاظت کا نبوی نسخہ

مسند بزار میں حدیث میں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ اگر تم بستر پر لیٹے وقت سورہ فاتحہ اور سورہ قلُّ ہو اللہ پڑھ لو تو موت کے سوا ہر چیز سے امن میں رہو گے۔ (تفسیر ابن کثیر: ۱/۲۳۱)

## (۲۹) جھاڑ پھونک کر کے رقم لینا جائز ہے۔

صحیح بخاری شریف فضائل قرآن میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک مرتبہ سفر میں تھے، ایک جگہ اترے ہوئے تھے، ناگاہ ایک لوٹھی آئی اور کہا کہ یہاں کے قبیلہ کے سردار کو سانپ نے کاٹ لیا ہے، ہمارے آدمی یہاں موجود نہیں۔ آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو جھاڑ پھونک کر دے؟

ہم میں سے ایک شخص اٹھ کر اس کے ساتھ ہولیا، ہم نہیں جانتے تھے کہ یہ کچھ دم جھاڑ بھی جانتا ہے، اس نے وہاں جا کر کچھ پڑھ کر دم کیا، خدا کے فضل سے وہ بالکل اچھا ہو گیا۔ میں (۳۰) بکریاں اس نے دیں، اور ہماری مہمانی کے لیے دودھ بھی بہت سارا بھیجا۔ جب وہ واپس آئے تو ہم نے کہا کہ کیا تم کو اس کا علم تھا؟ اس نے کہا: میں نے تو صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا ہے۔ ہم نے کہا: اس آئے ہوئے مال کو نہ چھیڑو، پہلے رسول اللہ ﷺ سے مسئلہ پوچھ لو۔ مدینہ منورہ میں آ کر ہم نے رسول اللہ ﷺ سے ذکر کیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اسے کیسے معلوم ہو گیا کہ یہ پڑھ کر دم کرنے کی سورت ہے؟ اس مال کے حصے کر لو، میرا بھی ایک حصہ لگانا۔ (تفسیر ابن کثیر: ۱/۳۰۱)

## (۳۰) شکر کرنے والے مسائل پر نبی کریم ﷺ کی نوازش

مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس سے ایک سائل گزرا، آپ ﷺ نے اُسے ایک کھجور دی، وہ بہت بڑا پایا اور کھجور نہ لی۔ پھر دوسرا سائل گزرا، آپ ﷺ نے اُسے بھی وہی کھجور دی۔ اس نے بخوشی لے لیا اور کہنے لگا کہ اللہ کے رسول ﷺ کا عطیہ ہے۔ آپ ﷺ نے اُسے (مزید) بیس (۲۰) درہم دینے کا حکم دیا۔ اور یہ بھی روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے خاندہ سے فرمایا: اسے لے جاؤ اور اتم سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس چالیس (۴۰) درہم ہیں وہ اسے دلو اور۔ (ابن کثیر: ۳/۵۷)

### (۳۱) ریا کاری والے اعمال پھینک دیئے جائیں گے

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ نے فرمایا: قیامت کے دن انسان کے نیک اعمال کے مہر شدہ صحیفے خدا کے سامنے پیش ہوں گے۔ خدا تعالیٰ فرمائے گا: اسے پھینک دو، اسے قبول کرو، اسے قبول کرو، اسے پھینک دو۔ اس وقت فرشتے عرض کریں گے کہ اے خداوند قدوس! جہاں تک ہمارا علم ہے ہم تو اس شخص کے نیک اعمال ہی جانتے ہیں۔ جواب ملے گا جن کو میں پھکوارا ہوں یہ وہ اعمال ہیں جن میں صرف میری ہی رضامندی مطلوب نہ تھی بلکہ ان میں ریا کاری تھی، آج میں صرف ان اعمال کو قبول فرماؤں گا جو صرف میرے ہی لیے کئے گئے ہوں۔ (بزار، ابن کثیر: ۲۸۲/۳)

### (۳۲) عظیم نور حاصل کرنے کا نبوی نسخہ

حافظ ابو بکر بزار رضی اللہ عنہ نے اپنی کتاب میں یہ روایت ذکر کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص رات کے وقت یہ آیت پڑھے گا:

﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ (سورہ کہف: ۱۱۰)  
ترجمہ: ”جو شخص اپنے رب سے ملنے کی آرزو رکھتا ہے وہ نیک کام کرتا رہے اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے۔“  
اللہ تعالیٰ اسے اتنا بڑا نور عطا فرمائیں گے جو عدن سے مکہ تک (کی مسافت کے بقدر) ہوگا۔“ (ابن کثیر: ۲۹۶/۳)

### (۳۳) چار چیزوں میں خیر و برکت اور شفاء ہے

ابن جریر میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا فرمان ہے کہ جب تم میں سے کوئی شفا چاہے تو قرآن کریم کی کسی آیت کو کسی صحیفے (کاغذ) پر لکھ لے، اور اسے بارش کے پانی سے دھو لے، اور اپنی بیوی کے مال (مہر) سے اس کی رضامندی سے پیسے لے کر شہد خرید لے، اور اُسے پی لے، پس اُس میں کئی وجہ سے شفاء آجائے گی۔ قرآن کریم کے بارے میں خدا تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَلَنُزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ (سورہ نمل: ۸۲)  
ترجمہ: ”ہم نے قرآن میں سے وہ نازل فرمایا ہے جو شفا ہے اور رحمت ہے مؤمنین کے لیے۔“

دوسری آیت میں ہے:

﴿وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا﴾ (سورہ ق: ۹)

ترجمہ: ”ہم آسمان سے بابرکت پانی برساتے ہیں۔“

اور فرمان ہے:

﴿فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا﴾ (سورہ نساء: ۴)

ترجمہ: ”اگر عورتیں اپنے مال مہر میں سے اپنی خوشی سے تمہیں دے دیں تو بے شک تم اسے کھاؤ مزہ دار خوشگوار سمجھ کر۔“

شہد کے بارے میں فرمان خدا تعالیٰ ہے:

﴿فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ﴾ (سورہ نمل: ۶۹)

ترجمہ: ”شہد میں لوگوں کے لیے شفاء ہے۔“

ابن ماجہ میں ہے کہ حضور اکرم ﷺ فرماتے ہیں:

”جو بیسے برس میں تین دن صبح کو شہد چاٹ لے اسے کوئی بڑی بلا نہیں پہنچے گی۔“ (تفسیر ابن کثیر: ۱۲۹/۳)

فائدہ: چار چیزوں میں خیر و برکت اور شفاء ہے:

① قرآن کریم ② بارش کا پانی ③ شہد ④ اور بیوی کا مہر

علماء نے لکھا ہے کہ جب کوئی شخص کاروبار کرے تو اپنی بیوی کے مہر میں سے کچھ رقم کاروبار میں لگائے، انشاء اللہ کاروبار میں فائدہ ہوگا، مہر کی رقم طرفین کے لیے خیر و برکت کی چیز ہے۔

### ﴿ ۳۴ ﴾ جنت کا مومنین کے نام پیغام

یہ نہایت اہم پیغام ہے، جو شخص اس پر عمل کرے گا وہ جنت الفردوس کا وارث ہوگا۔  
 مروی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت عدن پیدا کی اور آیتیں تلاوت کیں، جو قرآن ہاتھ سے لگائے تو اسے دیکھ کر فرمایا: کچھ بول۔  
 اس نے درج ذیل آیتیں تلاوت کیں جو قرآن میں نازل ہوئیں۔ (ابن کثیر)

﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خُشِعُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۝ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۝ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعُدُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَفْتِنِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۝ أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ۝ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝ ﴾ (سورہ مؤمنون: ۱۱)

ترجمہ: ”بے شک اعلیٰ کامیابی حاصل کر لی اور مومنین نے جو خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اور جو لغو اور ننگی باتوں سے بچتے ہیں، اور جو زکوٰۃ دیا کرتے ہیں، یا جو اپنا تزکیہ کرنے والے ہیں، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن اپنی بیویوں اور باندیوں سے (حفاظت نہیں کرتے) کیونکہ ان پر (اس میں) کوئی الزام نہیں، ہاں! جو اس کے علاوہ (شہوت رانی کی جگہ کا) طلب گار ہو وہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں، اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمانہ کا خیال رکھتے ہیں، اور جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، ایسے ہی لوگ وارث ہونے والے ہیں جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے، وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔“

### مفلحین کی چھ صفات و خصائل:

ان آیتوں میں مؤمنین مفلحین کی چھ صفات و خصائل بیان کی گئی ہیں:

- ① خشوع و خضوع سے نمازیں پڑھنا یعنی بدن اور دل سے اللہ کی طرف جھکنا۔
- ② باطل، لغو اور ننگی باتوں سے علیحدہ رہنا۔
- ③ زکوٰۃ یعنی مالی حقوق ادا کرنا۔
- ④ یا اپنے بدن، نفس اور مال کو پاک رکھنا۔
- ⑤ امانت اور عہد و پیمانہ یعنی قول و قرار کی حفاظت کرنا، گویا معاملات کو درست رکھنا۔

اور آخر میں پھر نمازوں کی پوری طرح حفاظت کرنا کہ اپنے وقت پر آداب و شروط کی رعایت کے ساتھ ادا ہوں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نماز کا حق تعالیٰ کے یہاں کیا درجہ ہے؟ اور کس قدر مہتمم بالشان چیز ہے کہ اس سے شروع کر کے اسی پر ختم کیا۔ (نوائی) یہ ہے جنت کا مومنین کے نام پیغام، جو خوش نصیب اس پیغام کو قبول کرے گا اور مذکور بالا چھ صفتوں اور خصیلتوں کو اپنائے گا، انشاء

اللہ العزیز وہ جنت الفردوس کا ضرور وارث ہوگا۔

نبی کریم ﷺ کے اوصاف و اخلاق:

نسائی نے کتاب التفسیر میں یزید بن ہانوس سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا کہ رسول اللہ ﷺ کا خلق کیسا اور کیا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: نبی کریم ﷺ کا خلق یعنی طبعی عادت وہ تھی جو قرآن کریم میں ہے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ دس آیتیں تلاوت کر کے فرمایا کہ بس یہی خلق و عادت تھی رسول اللہ ﷺ کی۔ (معارف القرآن: ۶/۲۹۳)

### ﴿۳۵﴾ ہاتف غیب کا پیغام

ابن ابی حاتم میں ہے کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ملک روم میں کافروں کے ہاتھوں میں گرفتار ہو گیا تھا، ایک دن میں نے سنا کہ ہاتف غیب ایک پہاڑ کی چوٹی سے آواز بلند کر رہا ہے:

”خدا یا! اس پر تعجب ہے جو تجھے پہچانتے ہوئے تیرے سوا اور دوسرے کی ذات سے امیدیں وابستہ رکھتا ہے۔ خدا یا! اس پر بھی تعجب ہے جو تجھے پہچانتے ہوئے اپنی حاجتیں دوسروں کے پاس لے جاتا ہے۔“

پھر ذرا ٹھہر کر ایک پر زور آواز لگائی اور کہا:

”پورا تعجب اس پر ہے جو تجھے پہچانتے ہوئے دوسرے کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے وہ کام کرتا ہے جن سے تو ناراض ہو جائے۔“

یہ سن کر میں نے بلند آواز سے پوچھا کہ تو کوئی جن ہے یا انسان! جواب آیا کہ میں انسان ہوں، تو ان کاموں سے اپنا دھیان ہٹا لے تو تجھے فائدہ نہ دیں اور ان کاموں میں مشغول ہو جا جو تیرے فائدے کے ہیں۔ (تفسیر ابن کثیر: ۳/۴۷۴)

### ﴿۳۶﴾ اپنے رب کی رحمتوں سے مواقع تلاش کرتے رہو

حضرت محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ عنہ کی موت کے بعد ان کی تلوار کی میان میں سے ایک پرچہ نکلا جس میں تحریر تھا کہ تم اپنے رب کی رحمتوں کے مواقع تلاش کرتے رہو، بہت ممکن ہے کہ کسی ایسے وقت تم دعائے خیر کرو کہ اس وقت رب کی رحمت جوش میں ہو، اور تمہیں وہ سعادت مل جائے جس کے بعد کبھی حسرت و افسوس نہ کرنا پڑے۔ (ابن کثیر)

### ﴿۳۷﴾ انکساری کرنے اور تکبر کرنے والوں کا انجام

یہی کی شعب الایمان میں ہے کہ فاروق اعظم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا کہ اے لوگو! تواضع اور انکساری کرو، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ:

(مَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ رَفَعَهُ اللَّهُ فَهُوَ فِي نَفْسِهِ صَغِيرٌ وَفِي أَعْيُنِ النَّاسِ عَظِيمٌ وَمَنْ تَكَبَّرَ وَضَعَهُ اللَّهُ فَهُوَ فِي أَعْيُنِ النَّاسِ صَغِيرٌ وَفِي نَفْسِهِ كَبِيرٌ حَتَّىٰ لَوْ أَنَّهُمْ عَلَيْهِمْ مِنْ كَلْبٍ أَوْ خَنْزِيرٍ) (مکتوٰۃ ص: ۴۳۳)

ترجمہ: ”جو اللہ کے لیے انکساری کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بلند فرمائیں گے، پس وہ اپنی نظر میں حقیر ہے اور لوگوں کی نگاہوں میں بزرگ ہے۔ اور جو تکبر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو پست کریں گے، پس وہ لوگوں کی نگاہوں میں حقیر ہے اور اپنی نظر میں بزرگ ہے، یہاں تک کہ وہ لوگوں کے نزدیک کتے اور خنزیر سے بھی زیادہ ذلیل و خوار ہے۔“



### (۳۸) تین نجات دینے والی اور تین تباہ کرنے والی چیزیں

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تین چیزیں نجات دینے والی ہیں، اور تین چیزیں تباہ کرنے والی ہیں۔

نجات دینے والی تین چیزیں:

① اللہ سے ڈرنا خلوت و جلوت میں۔

② حق بات کہنا خوشی و ناخوشی میں۔

③ اور (خرچ میں) میانہ روی اختیار کرنا، مالداری اور غریبی میں۔

اور تباہ کرنے والی تین چیزیں یہ ہیں:

① خواہش نفس کی پیروی کرنا۔

② حرص و بخل کرنا۔

③ گھمنڈ کرنا، اور یہ تینوں میں سخت تر ہے۔ (مکلوہ ص ۳۳۳)

### (۳۹) وہ کون سا درخت ہے جو مسلمانوں کے مشابہ ہے

صحیح بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے بتلاؤ وہ کون سا درخت ہے جو مسلمان کے مشابہ ہے، جس کے پتے جھڑتے نہیں، نہ جاڑوں میں نہ گرمیوں میں، جو اپنا پھل ہر موسم میں لاتا رہتا ہے۔

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ کہہ دوں کہ وہ درخت کھجور کا ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ مجلس میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہما ہیں، اور وہ خاموش ہیں تو میں بھی چپ رہا۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: وہ کھجور کا درخت ہے۔

جب یہاں سے اٹھ کر چلے تو میں نے اپنے والد (حضرت عمر رضی اللہ عنہ) سے یہ ذکر کیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: پیارے بیٹے! اگر تم یہ جواب دے دیتے تو مجھے تمام چیزوں کے ٹل جانے سے بھی زیادہ محبوب تھا۔ (ابن کثیر: ۳/۲۲)

### (۴۰) حسد، بدگمانی اور شگون بد سے بچنے کا نبوی فارمولہ

طبرانی میں ہے کہ تین خصلتیں امت میں رہ جائیں گی:

① شگون لینا

② حسد کرنا

③ بدگمانی کرنا۔

ایک شخص نے پوچھا: ”حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کا تدارک کیا ہے؟“ فرمایا:

”جب حسد کرے تو استغفار کر لے..... جب گمان پیدا ہو تو اسے چھوڑ دے اور یقین نہ کر..... اور جب شگون لے خواہ نیک

نکلے خواہ بد اپنے کام سے نہڑک، اسے پورا کر۔ (ابن کثیر، سورہ حجرات آیت ۱۲)

### (۴۱) موت سے کوئی بچ نہیں سکتا

سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

﴿قُلْ إِنْ الْمَوْتُ الَذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مَلَأَ بِكُمْ نُورًا تَرَدُّونَ إِلَىٰ غَلِيظِ الْعَذَابِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (سورہ جمعہ: ۸)

ترجمہ: ”آپ کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ (موت ایک روز) تم کو آ پکڑے گی، پھر تم پھیرے جاؤ گے پھٹی اور کھلی (تمام) باتوں کے جاننے والے کی طرف، پھر وہ تم کو تمہارے سب کئے ہوئے کام بتلا دے گا۔“  
یعنی موت سے ڈر کر کہاں بھاگ سکتے ہو، ہزار کوشش کرو، مضبوط قلعوں میں دروازے بند کر کے بیٹھ جاؤ، وہاں بھی موت چھوڑنے والی نہیں، اور موت کے بعد پھر وہی اللہ کی عدالت ہے اور تم ہو۔ (فوائد جلی)

### (۲۲) موت سے بھاگنے والے کی مثال

مجم طبرانی کی ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ موت سے بھاگنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے ایک لومڑی ہو جس پر زمین کا کچھ قرض ہو، وہ اس خوف سے کہ کہیں یہ مجھ سے مانگ نہ بیٹھے بھاگے اور بھاگتے بھاگتے جب تھک جائے تب اسے بھٹ میں گھس جائے، جہاں گھسی اور زمین نے پھر اس سے تقاضا کیا کہ لومڑی! میرا قرض ادا کر، وہ پھر وہاں سے دُم دبائے ہوئے تیزی سے بھاگی، آخر یونہی بھاگتے بھاگتے مر گئی۔ (ابن کثیر)

### (۲۳) اُمت محمد یہ ﷺ چار جاہلیت کے کام نہ چھوڑے گی

#### حضور اکرم ﷺ کی پیشین گوئی

ابو یعلیٰ میں ہے کہ میری اُمت میں چار کام جاہلیت کے ہیں جنہیں وہ نہ چھوڑے گی:

- ① حسب نسب پر فخر کرنا۔
- ② انسان کو اس کے نسب کا طعنہ دینا۔
- ③ ستاروں سے بارش طلب کرنا۔
- ④ اور میت پر نوحہ کرنا۔

اور فرمایا نوحہ کرنے والی عورت اگر بے توبہ کئے مر جائے تو اسے قیامت کے دن گندھک کا پیرا بن پہنایا جائے گا اور کھجلی کی چادر اڑھائی جائے گی۔

مسلم شریف میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے نوحہ کرنے والیوں اور نوحہ کو کان لگا کر سننے والیوں پر لعنت فرمائی ہے۔

(ابن کثیر، سورہ صف سے پہلے)

### (۲۴) لا علاج امراض کا علاج

بغوی اور ثعلبی نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ ان کا گزر ایک ایسے بیمار کے پاس سے ہوا جو فحش امراض میں مبتلا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کے کان میں سورہ مؤمنون کی درج ذیل آیتیں پڑھیں، وہ اسی وقت اچھا ہو گیا:

﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَهِنَا لَا تَرْجِعُونَ ۝ فَتَعَلَىٰ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ۝ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ ۝ إِنَّهُ لَا يُغْنِيهِ الْكُفْرُونُ ۝ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ۝﴾ (سورہ المؤمنون: ۱۱۵، ۱۱۸)

ترجمہ: ”ہاں تو کیا تم نے یہ خیال کیا تھا کہ ہم نے تم کو یوں ہی مہل پیدا کر دیا ہے؟ اور تمہارے پاس پھر کرنے آؤ گے؟ سوائے اللہ

تعالیٰ بہت ہی عالی شان ہے جو حقیقی بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی بھی لائق عبادت نہیں (اور وہ) عرشِ عظیم کا مالک ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور معبود کی عبادت کرے کہ جس (کے معبود ہونے) پر اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، سو اس کا حساب اس کے رب کے یہاں ہوگا۔ بے شک کافروں کا بھلا نہ ہوگا، اور آپ یوں کہا کریں، اے میرے رب! (میری خطائیں) معاف فرما، اور مجھ پر رحم فرما، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔“

رسول اللہ ﷺ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ آپ نے اس کے کان میں کیا پڑھا تھا؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یہ آیتیں پڑھی تھیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے اگر کوئی آدمی جو یقین رکھنے والا ہو یہ آیتیں پہاڑ پر پڑھ دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے۔ (ترمذی، مظہری، بحوالہ معارف القرآن: ۶/۳۳۸)

### (۳۵) اللہ تعالیٰ نے درج ذیل چیزوں میں بڑی شفاء رکھی ہے

- |                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| ① قرآن میں شفاء ہے۔     | ① صدقہ میں شفاء ہے۔       |
| ② زمزم میں شفاء ہے۔     | ② شہد میں شفاء ہے۔        |
| ③ صلہ رحمی میں شفاء ہے۔ | ③ سورۃ فاتحہ میں شفاء ہے۔ |
| ④ کلوئی میں شفاء ہے۔    | ④ سفر کرنے میں شفاء ہے۔   |

ایک حدیث میں ہے کہ حج کروغنی ہوگے، سفر کرو صحت یاب ہوگے، یعنی تبدیلی، آب و ہوا اکثر صحت کا سبب ہوتی ہے، اور بہت کثرت سے اس کا تجربہ ہوا ہے۔ (فضائل حج ص ۲۸)

### (۳۶) خوبصورت لڑکوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا موجب فتنہ ہے

ہم جنسی سے بچنے کے لیے وہ تمام دروازے بند کرنا ضروری ہے جو اس منحوس عمل (لواطت) تک پہنچاتے ہیں۔ بے ریش نوعمر بچوں کے ساتھ اختلاط سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے۔ بعض تابعین کا قول ہے کہ دیندار عبادت گزاروں جو انوں کے لیے پھاڑ کھانے والے درندے سے بھی بڑا دشمن اور نقصان دہ، وہ نامرد لڑکا ہے جو اس کے پاس آتا جاتا ہے۔

حسن بن ذکوان کہتے ہیں مالداروں کے بچوں کے ساتھ زیادہ اٹھا بیٹھنا کرو، اس لیے کہ ان کی صورتیں عورتوں کی طرح ہوتی ہیں اور ان کا فتنہ کنواری عورتوں سے زیادہ سنگین ہے۔ (شعب الایمان: ۳/۳۵۸)

کیونکہ عورتیں تو کسی صورت میں حلال ہو سکتی ہیں، لیکن لڑکوں میں حلت کی کوئی صورت ہی نہیں ہے۔

عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ عنہ حمام میں داخل ہوئے تو وہاں ایک خوبصورت لڑکا بھی آگیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اسے باہر نکالو، کیونکہ عورت کے ساتھ تو ایک شیطان ہوتا ہے اور لڑکوں کے ساتھ دس سے زائد شیطان ہوتے ہیں۔ (شعب الایمان: ۳/۳۶۰)

اسی بناء پر نبی کریم ﷺ کا حکم ہے کہ جب بچے بچھدار ہو جائیں تو ان کے بستر علیحدہ کر دو، تاکہ ابتداء ہی سے وہ بری عادتوں سے محفوظ ہو جائیں۔ نیز بچوں پر نظر رکھنی چاہیے کہ وہ زیادہ وقت بالخصوص تہائی کے اوقات بڑے لڑکوں کے ساتھ نہ گزاریں۔ اگر کئی بچے ایک کمرے میں رہتے ہوں تو ہر ایک کا بستر اور لحاف الگ ہونا چاہیے۔

ان تمام تفصیلات سے معلوم ہو گیا کہ صرف اپنی منکوہ بیویوں اور مملوکہ باندیوں سے ہی شہوت پوری کرنے کی اجازت ہے۔ اس

کے علاوہ قضاے شہوت کا کوئی بھی طریقہ شریعت میں ہرگز جائز نہیں ہے۔ اور پردے وغیرہ کے یا اجنبی عورتوں مردوں سے اختلاط کی ممانعت کے جو بھی احکام ہیں ان کا مقصد صرف یہی ہے کہ معاشرہ سے غلط طریقہ پر قضاے شہوت کا رواج ختم ہو۔ جو شخص ان باتوں کو سامنے رکھ کر اپنی شرم گاہ کی حفاظت کر لے گا اور اپنی جوانی کو ان فواحش سے بچالے گا تو اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ اسے اس کا بدلہ جنت کی صورت میں عطا فرمائے گا۔ (انشاء اللہ)

### (۲۷) حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما کا کفن

حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک عورت نبی کریم ﷺ کی خدمت میں ایک چادر لے کر حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول ﷺ یہ چادر میں نے اپنے ہاتھ سے بنی ہے اور اسے میں آپ ﷺ کی خدمت میں لائی ہوں تاکہ آپ ﷺ اسے زیب تن فرمائیں۔

حضور نبی کریم ﷺ نے بہت شوق سے وہ چادر قبول فرمائی۔ پھر اسی چادر کو ازار کی جگہ پہن کر مجمع میں تشریف لائے۔ اسی وقت ایک صحابی حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما نے درخواست کی کہ حضرت! یہ چادر مجھے عنایت فرمادیں، یہ تو بہت عمدہ ہے۔ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: بہت اچھا۔ پھر کچھ دیر تشریف رکھنے کے بعد آپ ﷺ اندر تشریف لے گئے اور دوسری ازار بدل کر وہ چادر سوال کرنے والے کو بھجوا دی۔

یہ ماجرا دیکھ کر حضور ﷺ نے ان صحابی پر نکیر کی کہ جب تمہیں معلوم تھا کہ پیغمبر ﷺ کسی سائل کو رد نہیں فرماتے تو تم نے یہ چادر مانگ کر اچھا نہیں کیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ ”میں نے تو اپنے کفن میں استعمال کرنے کے لیے یہ درخواست پیش کی تھی۔“ حضرت سہل رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ واقعی ایسا ہی ہوا، جب عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما کا انتقال ہوا تو آپ رضی اللہ عنہما کو اسی چادر میں کفن دیا گیا۔

(بخاری شریف: ۱/۱۰۷۱: ۱۲۲۸۱: ۸۹۲۸۶۳ - مکارم اخلاق ص ۲۳۵)

### (۲۸) میاں بیوی ایک دوسرے کا ستر نہ دیکھیں

(یہ مضمون ضرور پڑھیں اور نسیان کے مرض سے بچیں)

اسلامی تعلیم یہ ہے کہ زوجین بھی آپس میں بالکل بے شرم نہ ہو جایا کریں بلکہ حتی الامکان ستر کا خیال رکھیں۔ چنانچہ ایک مرسل روایت میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما رسول اکرم ﷺ کا یہ مبارک ارشاد نقل فرماتے ہیں:

(إِذَا آتَى أَحَدُكُمْ نَهْلَهُ فَلْيَسْتَبِرْ وَلَا يَتَجَوَّكُنْ تَجَرُّدَ الْعَيْنَيْنِ)

”جب تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس جائے تو حتی الامکان ستر پوشی کرے اور جانوروں کی طرح بالکل ننگے نہ ہو جایا کریں۔“

معلوم ہوا کہ حیاء کا تقاضا یہ ہے کہ میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے ستر کو نہ دیکھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ پوری زندگی نہ میں نے نبی کریم ﷺ کا ستر دیکھا نہ آپ ﷺ نے میرا دیکھا۔ اس بات کا خاص لحاظ رکھ کر شرم و حیاء کا ثبوت دینا چاہیے۔ والدین کے اعمال و اخلاق کا اولاد پر بہت اثر پڑتا ہے۔ اگر ہم شرم و حیاء کے تقاضوں پر عمل پیرا ہوں گے تو ہماری اولاد بھی ان ہی صفات و خصائل کی حامل ہوگی، اور اگر ہم شرم و حیاء کا خیال نہ رکھیں گے تو اولاد میں بھی اسی طرح کے خراب جراثیم سرایت کر جائیں گے۔

آج ٹیلی ویژن کے پردے پر ننگے اور انسانیت سے گرے ہوئے مناظر دیکھ کر ہمارے معاشرے میں ان کی نقل اتارنے کی کوشش

کی جاتی ہے، اور اس کا بالکل لحاظ نہیں رکھا جاتا کہ رب اور ہمارا خالق و مالک تمہاریوں میں بھی ہمارے اعمال سے پوری طرح واقف ہے، وہ اس بدترین حالت میں ہمیں دیکھے گا تو اسے کس قدر ناگوار گزرے گا۔ اس لیے اللہ سے شرم کرنی ضروری ہے۔ یہ شرم و حیا ہی ہمیں ایسی بری باتوں سے بچا سکے گی۔ علاوہ ازیں ستر پوشی میں لاپرواہی کا ایک اور نقصان حضرات فقہاء نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی پر بھول اور نسیان کا غلبہ ہو جاتا ہے اور ضروری باتیں بھی اسے یاد نہیں رہتیں۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھول کا مرض پیدا کرنے والی چیزوں میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی اپنی شرمگاہ سے کھیل کرے اور اس کی طرف دیکھے۔ (شامی: ۱/۲۲۵، کتاب الطہارۃ مطلب ست تورت انسان) بہر حال نظر سے صادر ہونے والی نامناسب باتوں میں سے اپنے ستر پر بلا ضرورت نظر بھی ہے جس سے نظر کو محفوظ رکھنا چاہیے۔

### ﴿۴۹﴾ چغل خوری کی تباہی

چغل خوری کے مفاسد بیان کرتے ہوئے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک شخص بازار میں غلام خریدنے گیا۔ ایک غلام اسے پسند آ گیا۔ بیچنے والے نے کہا کہ اس غلام میں کوئی عیب نہیں ہے، بس یہ ہے کہ اس میں چغلی کی عادت ہے۔ خریدار راضی ہو گیا اور غلام خرید کر گھر لے آیا۔ ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ غلام کی چغل خوری کی عادت نے یہ گل کھلایا کہ اس نے اس شخص کی بیوی سے تنہائی میں جا کر کہا کہ تمہارا شوہر تمہیں پسند نہیں کرتا اور اب اس کا ارادہ باندی رکھنے کا ہے۔ لہذا رات کو جب وہ سونے آئے تو استرے سے اس کے کچھ بال کاٹ کر مجھے دے دو، تاکہ میں اس پر عمل سحر کر کر تم دونوں میں دو بار محبت کا انتظام کر سکوں۔ بیوی اس پر تیار ہو گئی اور اس نے استرے کا انتظام کر دیا۔ ادھر غلام نے اپنے آقا سے جا کر یوں بات بتائی کہ تمہاری بیوی نے کسی غیر مرد سے تعلقات قائم کر لئے ہیں اور اب وہ تمہیں راستہ سے ہٹا دینا چاہتی ہے۔ اس لیے ہوشیار رہنا۔

رات کو جب وہ بیوی کے پاس گیا تو دیکھا کہ بیوی استرہ لارہی ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ غلام نے جو خبر دی تھی وہ سچی تھی۔ اس لیے قبل اس کے بیوی کچھ کہتی اس نے اسی استرے سے بیوی کا کام تمام کر دیا۔ جب بیوی کے گھر والوں کو اس واقعے کا علم ہوا تو انہوں نے آکر شوہر کو قتل کر دیا۔ اس طرح اچھے خاصے خاندانوں میں خوریزی کی نوبت آگئی۔ (احیاء العلوم: ۳/۹۰)

القرض چغلی ایسی بری بیماری ہے جس سے معاشرہ فساد کی آماجگاہ بن جاتا ہے، اسی لیے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ:

(لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَارًا) (رواہ مسلم، مشکوٰۃ ص ۳۱۱)

”چغل خور آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔“

### ﴿۵۰﴾ بہترین بندے اور بدترین بندے

حضرت عبد اللہ بن غنم اور حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں جن کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ یاد آئے، اور بدترین بندے وہ ہیں جو چغلیاں کھاتے پھرتے ہیں، دوستوں میں جدائی ڈالنے والے ہیں، اور جو اس بات کے طالب اور کوشاں رہتے ہیں کہ پاک دامن بندوں کو کسی گناہ کے ساتھ ملوث کر دیں۔ (مشکوٰۃ ص ۳۱۵)

### ﴿۵۱﴾ عذاب قبر کا ایک عجیب واقعہ

تجارت میں لوگوں کو دھوکہ مت دو

عبد الحمید بن محمود مغولی کہتے ہیں کہ میں حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی مجلس میں حاضر تھا، کچھ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر

ہوئے اور عرض کیا کہ ہم حج کے ارادے سے نکلے ہیں، جب ہم ذات الصفاح (ایک مقام کا نام) پہنچے تو ہمارے ایک ساتھی کا انتقال ہو گیا، چنانچہ ہم نے اس کی تجہیز و تکفین کی، پھر قبر کھودنے کا ارادہ کیا، جب ہم قبر کھود چکے تو ہم نے دیکھا کہ ایک بڑے کالے ناگ نے پوری قبر کو گھیر رکھا ہے، اس کے بعد ہم نے دوسری جگہ قبر کھودی تو وہاں بھی وہی سانپ تھا۔ اب ہم میت کو ویسے ہی چھوڑ کر آپ کی خدمت میں آئے ہیں کہ اب ہم کیا کریں؟

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: یہ سانپ اس کا وہ بد عمل ہے جس کا وہ عادی تھا۔ جاؤ اسے اسی قبر میں دفن کر دو۔ اللہ کی قسم! اگر تم اس کے لیے پوری زمین کھود ڈالو گے پھر بھی وہ سانپ اس کی قبر میں پاؤ گے۔ بہر حال اسے اسی طرح دفن کر دیا گیا۔ سفر سے واپسی پر لوگوں نے اس کی بیوی سے اس شخص کا عمل پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس کا یہ معمول تھا کہ وہ غلہ بیچتا تھا، اور روزانہ پوری میں سے گھر کا خرچ نکال کر اس میں اسی کے بقدر بھس ملا دیتا تھا۔ گویا دھوکہ سے بھس کو غلہ کی قیمت پر فروخت کرتا تھا۔

(تہذیبی شعبہ الایمان، بحوالہ شرح الصدور ص ۲۳۹)

## (۵۲) قیامت کے دن سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا

بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے وہ فرماتے ہیں:

(قَامَ فِينَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَقَالَ: إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ حِفَاةَ عُرَاةٍ عُرَاةٍ لَمْ يَدَأْنَا أَوْلَ خَلْقٍ تَعْبُدُهُ (الآية) وَإِنَّ أَوْلَ الْخَلَائِقِ يَكْسِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ)

ترجمہ: ”نبی کریم ﷺ ہمارے درمیان تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ تم سب کو ننگے پیر ننگے بدن ختنہ کے بغیر جمع کیا جائے گا (ارشاد خداوندی ہے) جیسے ہم نے پہلی مرتبہ بنایا اسی طرح ہم دوبارہ پیدا کریں گے اور مخلوقات میں جسے قیامت کے دن سب سے پہلے لباس پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔“

ایک اور روایت میں ہے کہ قیامت میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دو قبلی کپڑوں کا لباس پہنایا جائے گا۔ پھر نبی کریم ﷺ کو عرش کی دائیں جانب دھاری دار جوڑا زیب تن کرایا جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ اعزاز سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کئے جانے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں علماء کے متعدد اقوال ہیں:

## (۵۳) اللہ کیلئے ہجرت کرنے والے فقراء کا اعزاز و اکرام

قیامت کے دن نبی کریم ﷺ کا ہر امتی انشاء اللہ حوض کوثر کے پانی سے سیراب ہوگا، لیکن کچھ خوش نصیب اور سعادت مند حضرات ایسے ہوں گے جن کو سب سے پہلے سیراب ہونے کا اعزاز ملے گا۔ ان کی صفات بیان کرتے ہوئے نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(أَوْلُ النَّاسِ وَرُودًا عَلَيْهِمْ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ الشُّعْثُ رُودًا الْكُذُّبُ فِيمَا الْبُذِينِ لَا يَدْخُلُونَ الْمَتَّعِمَاتِ وَلَا يَفْتَحُونَ لَهُمُ السُّدَّةُ) (ترمذی شریف: ۶۸۱۴)

ترجمہ: ”سب سے پہلے حوض کوثر پر آنے والے مہاجرین فقراء ہوں گے (ذنیائیں) پر آگندہ بال والے اور میلے کپڑے پہنے والے ہوں گے جن کا ناز و نعم میں رہنے والی عورتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا اور گھر کے دروازے ان کے لئے کھولے نہیں جاتے۔“

یعنی ان کی بے کسی دیکھ کر کوئی ناز و نعم میں پلنے والی عورت ان سے نکاح کرنے پر تیار نہ ہوگی، اور اگر وہ کسی کے دروازے پر جائیں تو ان کے لیے لوگ دروازہ کھولنا بھی پسند نہ کریں۔ دنیا میں تو ان کا یہ حال ہوگا اور آخرت میں ان کا وہ اعزاز و اکرام ہوگا کہ سب سے پہلے

حوض کوثر پر بلائے جائیں گے۔

### (۵۴) اُمت محمدیہ کے بدترین افراد

شوقین مزاج اور فیشن کے دلدادہ لوگ اللہ کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہیں، نبی اکرم ﷺ نے ایسے لوگوں کو امت کے بدترین افراد میں شمار کیا ہے۔ ارشاد نبوی ہے:

(شِرَارُ أُمَّتِي الَّذِينَ وُلِدُوا فِي النَّعِيمِ وَغَضُّوا بِهِمْ هِمَّتَهُمْ أَلْوَانُ الطَّعَامِ وَأَلْوَانُ الْفِتْيَابِ يَتَشَدَّقُونَ فِي الْكَلَامِ) ترجمہ: ”میری امت کے بدترین لوگ وہ ہیں جو ناز و نعم میں پیدا ہوئے اور اسی میں پلے اور بڑھے، جن کو ہر وقت بس انواع و اقسام کے کھانوں اور طرح طرح کے لباس زیب تن کرنے کی فکر دامن گیر رہتی ہے اور جو (تکبر کی وجہ سے) منھار منھار (چبا چبا کر) بات چیت کرتے ہیں۔“

سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما کا ارشاد ہے کہ تم (زیب و زینت کے لیے) بار بار غسل خانوں کے چکر لگانے اور بالوں کی بار بار صفائی سے بچتے رہو، اور عمدہ عمدہ قالینوں کے استعمال سے بھی بچو، اس لیے کہ اللہ کے خاص بندے عیش و عشرت کے دلدادہ نہیں ہوتے۔

(کتاب الزہد ص: ۲۶۳)

### (۵۵) سب سے بڑی دولت سکون اور عافیت ہے

دنیا میں رہ کر دنیا میں مدہوش نہ رہنا انسان کے لیے سب سے بڑا سکون کا ذریعہ ہے، ایسا شخص ظاہری طور پر کتنا ہی خستہ حال کیوں نہ ہو مگر اسے اندرونی طور پر وہ قلبی اطمینان نصیب ہوتا ہے جو بڑے بڑے سرمایہ داروں کو بھی میسر نہیں آتا۔ اس لیے نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(الزُّهُدُ الدُّنْيَا يُرِيحُ الْقَلْبَ وَالْجَسَدَ)

ترجمہ: ”دنیا سے بے رغبتی دل اور بدن دونوں کے لیے راحت بخش ہے۔“

دنیا میں سب سے بڑی دولت سکون اور عافیت ہے، اگر سکون نہ ہو تو سب دولتیں بے کار ہیں اور یہ سکون جیسا مل سکتا ہے جب ہم دنیا سے صرف بقدر ضرورت اور برائے ضرورت تعلق رکھیں، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر گزار رہ کر اس کی رضا پر راضی رہیں۔ حضرت لقمان حکیم نے ارشاد فرمایا:

”دین پر سب سے زیادہ مددگار صفت دنیا سے بے رغبتی ہے کیونکہ جو شخص دنیا سے بے رغبت ہوتا ہے وہ خالص رضائے خداوندی کے لیے عمل کرتا ہے، اور جو شخص اخلاص سے عمل کرے اس کو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب سے سرفراز فرماتا ہے۔“

(کتاب الزہد ص: ۱۷۴)

### (۵۶) جنت میں سب سے آخر میں داخل ہونے والے آدمی کا حال

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں سب سے آخر میں داخل ہونے والے شخص کا حال یہ ہوگا کہ وہ گرتا پڑتا چل رہا ہوگا اور جہنم کی آگ اسے جھلسا رہی ہوگی۔ بالآخر جب وہ جہنم سے بمشکل نکل پائے گا تو جہنم کی طرف دیکھ کر بے اختیار کہے گا: وہ ذات بڑی بابرکت ہے جس نے مجھے، تجھ (جہنم) سے نجات عطا فرمائی اور بے شک اللہ نے مجھے وہ نعمت بخشی ہے جو اولین و آخرین میں سے کسی کو بھی عطا نہیں کئی گئیں۔

پھر اس کے سامنے ایک درخت ظاہر ہوگا تو وہ عرض کرے گا کہ اے رب کریم! آپ مجھے اس درخت کے قریب کر دیجئے تاکہ میں اس کے سایہ میں بیٹھوں، اور اس کے پانی سے پیاس بجھاؤں۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے آدمی! اگر میں تیری مراد پوری کر دوں تو تو کچھ اور مانگے گا؟ وہ شخص کہے گا کہ نہیں پروردگار! اور مزید سوال نہ کرنے کا پختہ وعدہ کرے گا۔ چنانچہ باری تعالیٰ اس کی معذرت کو قبول فرمائے گا کیونکہ وہ اس کی بے صبر طبیعت سے واقف ہے اور اسے اس کے مطلوب درخت کے نیچے پہنچا دے گا۔ وہ شخص اس کے قریب جا کر اس کے سایہ میں بیٹھے گا اور وہاں موجود پانی پئے گا۔

پھر اس کے سامنے دوسرا درخت لایا جائے گا یہ پہلے درخت سے اور اچھا ہوگا۔ تو پھر وہ شخص اللہ تعالیٰ سے اس کے قریب جانے کی درخواست کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے آدمی! کیا تو نے کچھ اور سوال نہ کرنے کا عہد نہیں کیا تھا؟ اگر میں تیری مراد پوری کر دوں تو پھر تو کچھ اور سوال کرے گا؟ چنانچہ پھر وہ شخص سوال نہ کرنے کا وعدہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کی بے صبری کو جانتے ہوئے چشم پوشی فرما کر اسے اس درخت کے قریب پہنچا دے گا، اور وہ اس کے سایہ اور پانی سے فائدہ اٹھائے گا۔

پھر ایک تیسرا درخت جنت کے دروازے کے بالکل قریب نمودار ہوگا، جو پہلے دونوں درختوں سے زیادہ خوبصورت ہوگا، تو یہ شخص اس کے قریب جانے کی بھی درخواست کرے گا۔ بالآخر جب اسے اس درخت کے قریب پہنچا دیا جائے گا تو اسے وہاں اہل جنت کی آوازیں سنائی دیں گی۔ تو وہ درخت کرے گا کہ اے رب کریم! اب بس مجھے جنت میں داخل فرما دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص سے مخاطب ہو کر فرمائے گا کہ آخر تیرا سوال کرنا کب ختم ہوگا؟ کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ میں تجھے دنیا کی دگنی جنت عطا کر دوں؟ تو وہ شخص حیرت زدہ ہو کر کہے گا کہ اے رب کریم! آپ رب العالمین ہو کر مجھ سے مذاق کرتے ہیں؟!

اسی روایت بیان کر کے اس حدیث کے راوی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما نے لگے، اور حاضرین سے فرمایا کہ مجھ سے نہیں پوچھتے کہ میں کیوں ہنس رہا ہوں؟ چنانچہ حاضرین نے یہی سوال آپ رضی اللہ عنہما سے کیا، تو آپ نے فرمایا کہ اسی طرح اس روایت کو بیان کر کے نبی کریم رضی اللہ عنہما نے بھی تبسم فرمایا تھا، اور جب صحابہ رضی اللہ عنہم نے آپ رضی اللہ عنہما سے اس کی وجہ پوچھی تو آپ رضی اللہ عنہما نے فرمایا تھا کہ میں رب العالمین کے ہنسنے کی وجہ سے ہنس رہا ہوں۔ کیونکہ جب وہ بندہ یہ عرض کرے گا کہ اے رب العالمین! آپ رب العالمین ہو کر مجھ سے مذاق کر رہے ہیں؟ تو رب العالمین فرمائے گا میں تجھ سے مذاق نہیں کر رہا ہوں بلکہ میں جس چیز کو چاہوں اس کو پورا کرنے پر قادر ہوں۔ (مسلم شریف: ۱۰۵/۱)

نوٹ: اللہ تعالیٰ کے ہنسنے کا مطلب اس کا راضی اور خوش ہونا ہے۔

### ﴿۵۷﴾ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم

مصر میں ایک شخص مسجد کے برابر ہٹا تھا، پابندی سے اذان دیتا اور جماعت میں شرکت کرتا، چہرے پر عبادت اور اطاعت کی رونق بھی تھی۔ اتفاق سے جب ایک دن اذان دینے کے لیے مسجد کے مینار پر چڑھا تو قریب میں ایک عیسائی شخص کی خوبصورت لڑکی پر نظر پڑی، جسے دیکھ کر وہ اس پر دل و جان سے فریفتہ ہو گیا، اور اذان چھوڑ کر وہیں سے سیدھا اس مکان میں پہنچا۔ لڑکی نے اسے دیکھ کر پوچھا کیا بات ہے؟ میرے گھر میں کیوں آیا؟ اس نے جواب دیا میں تجھے اپنا بنانے آیا ہوں۔ اس لیے کہ تیرے حسن و جمال نے میری عقل کو ماؤف کر دیا ہے۔

لڑکی نے جواب دیا: میں کوئی تہمت والا کام نہیں کرنا چاہتی ہوں۔ تو اس نے پیشکش کی کہ میں تجھ سے نکاح کروں گا۔ لڑکی نے کہا کہ تو مسلمان اور میں عیسائی ہوں، میرا پاپ اس رشتے پر تیار نہ ہوگا۔ اس شخص نے کہا کہ میں خود ہی عیسائی بن جاتا ہوں۔ چنانچہ اس نے محض اس لڑکی سے نکاح کی خاطر عیسوی مذہب قبول کر لیا۔ نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ ذٰلِكَ۔



لیکن ابھی وہ دن بھی پورا نہیں ہوا تھا کہ یہ شخص اس گھر میں رہتے ہوئے کسی کام کے لئے چھت پر چڑھا، اور کسی طرح سے وہاں سے گر پڑا جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ افسوس! صد افسوس! دین بھی کیا اور لڑکی بھی ہاتھ نہ آئی۔ (تذکرہ ص ۴۳)

### (۵۸) سب سے زیادہ عظمت والا گھونٹ اور اس کا عظیم اجر و ثواب

ایک روایت میں نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(مَنْ كَفَّمَهُ غَيْظًا وَهُوَ قَلْبُهُ عَلَى أَنْ يَنْفِذَهُ دَعَا اللَّهَ عَلَيْهِ رُوِيَ الْغَلَاظِيُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَخْبِرَهُ أَيُّ خُورٍ شَاءَ)

(شعب الایمان: ۳۱۳/۶)

ترجمہ: ”جو شخص باوجود غصہ کے تقاضے پر عمل کرنے کی قدرت کے، غصہ کو پی جائے تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن تمام مخلوقات کے سامنے بلائے گا، اور اسے اختیار دے گا کہ جنت کی جس خور کو چاہے پسند کر لے۔“

اور ایک حدیث میں جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(مَا جُرِعَ عَبْدٌ جُرْعَةً أَعْظَمَ أَجْرًا عِنْدَ اللَّهِ مِنْ جُرْعَةٍ غَيْظًا كَفَّمَهَا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ)

(شعب الایمان: ۳۱۳/۶)

ترجمہ: ”اللہ کے نزدیک اجر و ثواب کے اعتبار سے سب سے زیادہ عظمت والا گھونٹ وہ غصہ کا گھونٹ ہے جسے محض رضائے خداوندی کی نیت سے انسان پی جائے گا۔“

حقیقت یہ ہے کہ غصہ کو پی جانا اور مخاطب کو معاف کر دینا اعلیٰ درجہ کا کمال ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک انتہائی پسندیدہ اعمال میں سے یہ تین اعمال ہیں:

① قدرت کے باوجود معاف کر دینا۔ ② تیزی اور شدت کے ساتھ غصہ کو قابو میں رکھنا۔

③ اور اللہ کے بندوں کے ساتھ نرمی اختیار کرنا۔ (شعب الایمان: ۳۱۸/۶)

### (۵۹) شیطان انسان کی ناک میں رات گزارتا ہے

ایک حدیث شریف میں اس کی تائید آئی ہے کہ جب سویرے بیدار ہو کر وضو کرو تو تین مرتبہ ناک میں پانی ڈال کر ضرور جھاڑ لیا کرو، اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان، انسان کی ناک کے ہانسے میں رات گزارتا ہے، اس میں پیشاب اور غلاظت کرتا ہے، اور جب سونے کے بعد انسان اٹھتا ہے تو ناک کے اندر میل کچیل بھرے ہوئے ملتے ہیں۔ اس میں شیطان کی غلاظت کے اثرات ہوتے ہیں۔ جب وضو میں ناک اچھی طرح جھاڑ لی جائے گی تو شیطان کے اثرات صاف ہو جاتے ہیں۔ حدیث شریف ملاحظہ فرمائیے:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا لَسْتُمْ بِغَضٍّ أَحَدٌ كُمْ مِنْ مَنَامِهِ، فَتَوَضَّأْ فَلْيَسْتَنْشِرْ ثَلَاثًا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَهْمُ عَلَى عَشْوَمِهِ) (بخاری شریف: ۳۶۵/۱، حدیث: ۳۱۸۹)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنی نیند سے بیدار ہو

کر وضو کرے تو ضرور تین مرتبہ ناک جھاڑ لے اس لیے کہ شیطان اس کی ناک کے ہانسے میں رات گزارتا ہے۔“

### (۶۰) درج ذیل کلمات سیکھ لو اور اپنی اولاد کو بھی سیکھاؤ

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میں اپنے ہونٹوں کو ہلا رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے

ابو امامہ! تم ہونٹ ہلا کر کیا پڑھ رہے ہو؟ میں نے کہا: یا رسول اللہ ﷺ میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ حضور اقدس ﷺ نے فرمایا: کیا میں تمہیں ایسا ذکر نہ بتاؤں جو تمہارے دن رات ذکر کرنے سے زیادہ بھی ہے اور افضل بھی ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ ضرور بتائیں۔ فرمایا تم یہ کلمات کہا کرو:

طبرانی میں یہ مضمون ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: کیا میں تمہیں ایسی زبردست چیز نہ بتاؤں کہ اس کے کہنے پر تمہیں اتنا زیادہ ثواب ملے گا کہ اگر تم دن رات عبادت کر کے تھک جاؤ تب بھی اس کے ثواب تک نہیں پہنچ سکو؟ میں نے کہا: ضرور بتائیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: "الْحَمْدُ لِلَّهِ" آخر تک کہو، لیکن یہ کلمات مختصر ہیں۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا: "سُبْحَانَ اللَّهِ" اسی طرح سے اور "اللَّهُ أَكْبَرُ" اسی طرح سے آخر تک کہو۔

طبرانی کی دوسری روایت میں ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا: ان کلمات کو سیکھ لو اور اپنے بعد اپنی اولاد کو سکھاؤ۔

(حیاء الصحابہ، ۳/۳۳۶)

### ﴿۶۱﴾ ایک جملے پر حجاج بن یوسف کی مغفرت کی امید

حجاج بن یوسف، خلفائے بنو امیہ کا انتہائی سفاک و خونخوار عالم گورز تھا۔ اس نے ایک لاکھ انسانوں کو اپنی تلوار سے قتل کیا۔ اور جو لوگ اس کے حکم سے قتل کئے گئے ان کو تو کوئی گنہی نہ سکا۔ بہت سے صحابہ اور تابعین کو اس نے قتل کیا، یا قید و بند رکھا۔ حضرت خواجہ حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ساری امتیں اپنے اپنے منافقوں کو قیامت کے دن لے کر آئیں اور ہم اپنے ایک منافق حجاج بن یوسف ثقفی کو پیش کر دیں، تو ہمارا پہلہ بھاری رہے گا۔

حجاج بن یوسف جب کینسر کی خبیث بیماری میں مرنے لگا تو اس کی زبان پر یہ دعا جاری ہو گئی، یہی دعا مانگتے مانگتے اس کا دم نکل گیا۔ دعا یہ تھی:

"اے اللہ! تیرے بندے، بندیاں میرے بارے میں کہتے ہیں کہ تو مجھے معاف نہیں کرے گا۔ مگر مجھے تجھ سے امید ہے کہ تو مجھے معاف فرما دے گا۔ مجھے معاف فرما دے۔"

خليفة عادل حضرت عمر بن عبدالعزيز رحمۃ اللہ علیہ کو حجاج بن یوسف کی زبان سے مرتے وقت یہ دعا بہت اچھی لگی، اور ان کو حجاج کی موت پر رشک ہونے لگا۔ اور جب خواجہ حسن بھری سے لوگوں نے حجاج کی اس دعا کا ذکر کیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تعجب سے فرمایا کہ کیا واقعی حجاج نے یہ دعا مانگی تھی؟ لوگوں نے کہا: جی ہاں! اس نے یہ دعا مانگی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ شاید خدا اس کو بخش دے۔ (احیاء العلوم، ۳/۴۰۱)

### ﴿۶۲﴾ مندرجہ ذیل کلمات پڑھنے کے بعد جو دعا مانگی جائے گی قبول ہوگی

حدیث شریف میں ہے کہ مندرجہ ذیل کلمات پڑھنے کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے قبول ہوتی ہے:

(لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَكَهُ الْعَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

قَدِيرٌ۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ (طبرانی بحوالہ منتخب احادیث ص: ۳۳۶)

**(۶۳) کسی کو ہوا میں اڑتا ہوا دیکھ کر دھوکہ نہ کھاؤ**

(یہ مضمون ضرور پڑھیں)

بازید بسطامی رضی اللہ عنہ کا ایک عجیب و غریب مقولہ اور نصیحت ہے کہ اگر تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ اعلیٰ درجے کی کرامتوں کا مظاہرہ کر کے ہوا میں اڑ رہا ہے، تب بھی اس کے دھوکے میں نہ آؤ، جب تک یہ نہ دیکھ لو کہ احکام شریعت اور حفظ حدود کے معاملے میں اس کا کیا حال ہے: (البدایہ والنہایہ: ۱۱/۳۵)

**(۶۴) پانچواں نہ بن**

(یہ مضمون پڑھیں اور اس پر عمل کریں)

ارشاد نبوی ہے:

① كُنْ عَالِمًا ② اَوْ مُتَعَلِّمًا ③ اَوْ مُسْتَوْعًا ④ اَوْ مُجِبًّا وَلَا تَكُنِ الْخَامِسَةَ فَتَهْلِكَ ⑤ وَالْخَامِسَةُ: أَنْ تَبْغِضَ الْعِلْمَ وَاهْلَهُ

”① عالم بن ② یا متعلم یعنی علم حاصل کرنے والا بن ③ یا غور سے سننے والا بن ④ یا (علم اور اہل علم سے) محبت کرنے والا بن۔ اور پانچواں نہ بن، ورنہ ہلاک ہو جائے گا، ⑤ اور پانچواں یہ ہے کہ تو علم اور اہل علم سے بغض رکھے۔“

(منتخب احادیث ص: ۳۰۹)

**(۶۵) مصیبتوں سے نجات اور حصول مقاصد کیلئے خاص ورد**

اذل اور آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھیں پھر ﴿حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ درج ذیل گفتی کے مطابق پڑھیں:

- ① شرور و فتن سے حفاظت کے لیے تین سو اکتالیس مرتبہ۔
- ② وسعت رزق اور ادائے قرض کے لیے تین سو آٹھ مرتبہ۔
- ③ خاص کام کی تکمیل کے لیے ایک سو گیارہ مرتبہ۔
- ④ مصائب و پریشانی سے نجات حاصل کرنے کے لیے ایک سو چالیس مرتبہ۔ (بیان فرمودہ حضرت مولانا شاہ ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ)

**(۶۶) سات رذائل سے بچو، ایک اچھی صفت پیدا کرو، محبت عام ہو جائے گی**

حدیث شریف میں ہے:

- ① بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی سب سے بڑی جھوٹی بات ہے۔
- ② کسی کی کمزوریوں کی ٹوہ میں نہ رہا کرو۔
- ③ جاسوسی نہ کیا کرو۔
- ④ ایک دوسرے پر بے جا بڑھنے کی ہوس نہ کرو۔
- ⑤ حسد نہ کرو۔

۶) بغض نہ رکھو۔

۷) ایک دوسرے کی غنیمت نہ کیا کرو۔

یہ سات زہریلے رذائل ہیں جو امت کی صفوں کو منتشر کرتے ہیں، اجتماعیت پارہ پارہ ہو جاتی ہے، ان سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ اچھی صفت جس کو اپنانے سے محبت عام ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ:

(كُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا) (بخاری و مسلم)

ترجمہ: ”اللہ کے بندو! بھائی بھائی بن کر رہو۔“ (معارف اللہ ص: ۱۱۲/۲)

## ﴿۶۷﴾ ٹی وی پر کرکٹ کا کھیل دیکھنا مناسب ہے

ارشاد خداوندی ہے:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ﴾ (سورہ القمان: ۶)

ترجمہ: ”اور کچھ لوگ ہیں جو کھیل کی باتوں کے خریدار ہیں۔“

اس سے مراد گانا بجانا، اس کا ساز و سامان اور آلات ساز و موسیقی اور ہر وہ چیز ہے جو انسان کو خیر اور معروف سے غافل کر دے۔ اس میں قصے کہانیاں، افسانے، ڈرامے، ناول اور جنسی اور سنسنی خیز لٹریچر رسالے اور بے حیائی کے پرچار کے اخبارات سب ہی آجاتے ہیں، اور جدید ترین ایجادات، ریڈیو، ٹی وی، وی سی آر، ویڈیو فلمیں وغیرہ بھی۔ عہد رسالت میں بعض لوگوں نے گانے بجانے والی لونڈیاں بھی اس مقصد کے لیے خریدی تھیں کہ وہ لوگوں کا دل گانے سنا کر بہلاتی رہیں، تاکہ قرآن و اسلام سے وہ دور رہیں، اس اعتبار سے اس میں گلوکارائیں بھی آجاتی ہیں جو آج کل فنکار، فلمی ستارہ اور ثقافتی سفیر، اور پتہ نہیں کیسے کیسے مہذب، خوش نما اور دل فریب ناموں سے پکاری جاتی ہیں۔ اور اس ”لہو الحدیث“ میں کرکٹ کا کھیل بھی آگیا خواہ کھیل ہو یا کرکٹ کائی وی پردیکھنا ہو، یا ریڈیو پر سننا ہو۔ کیونکہ یہ چیز بھی انسانوں کو خیر اور معروف سے غافل کر دیتی ہے۔ (تفسیر سجد نبوی)

## ﴿۶۸﴾ اسلام بے جا تکلفات سے روکتا ہے اور سادگی کی ترغیب دیتا ہے

سورہ حق میں ہے:

﴿وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ﴾ (سورہ حق: ۸۶)

ترجمہ: ”اور نہ میں بناوٹ کرنے والوں میں سے ہوں۔“

اس آیت سے عام معاملات زندگی میں بھی تکلفات و تصنع سے اجتناب کا حکم معلوم ہوتا ہے۔ جیسے نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

”ہمیں تکلف سے منع کیا گیا ہے۔“ (صحیح بخاری، حدیث نمبر ۸۲۹۳)

حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: ہمیں رسول اللہ ﷺ نے مہبان کے لیے تکلف کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ لباس، خوراک، رہائش، اور دیگر معاملات میں تکلفات جو آج کل معیار زندگی بلند کرنے کے عنوان سے اصحاب حیثیت کا شعار اور وطیرہ بن چکا ہے اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، اس میں سادگی اور بے تکلفی اختیار کرنے کی ترغیب و تلقین ہے۔ (تفسیر سجد نبوی)

## ﴿۶۹﴾ اولاد میں بھی برابری کرنی چاہیے

سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ (سورہ مائدہ: ۸)

ترجمہ: ”عدل و انصاف کرو، یہی بات زیادہ نزدیک ہے تقویٰ سے۔“

حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے باپ نے مجھے عطیہ دیا تو میری والدہ نے کہا: اس عطیے پر آپ جب تک اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ نہیں بنائیں گے میں راضی نہیں ہوں گی۔ چنانچہ میرے والد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: کیا تم نے اپنی ساری اولاد کو اسی طرح کا عطیہ دیا ہے؟ انہوں نے نفی میں جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ سے ڈرو اور اولاد کے درمیان انصاف کرو، اور فرمایا کہ میں ظلم پر گواہ نہیں بنوں گا۔ (صحیح بخاری و مسلم، تفسیر مسجدی ص ۲۸۸)

### ﴿۷۰﴾ روزانہ سورج اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جانتے ہو یہ سورج غروب ہو کر کہاں جاتا ہے؟ میں نے کہا خدا تعالیٰ اور اس کے رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ عرشِ تلی جا کر خدا تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے، پھر (طلوع ہونے کی) اجازت طلب کرتا ہے، تو اس کو اجازت دے دی جاتی ہے، اور قریب ہے کہ سورج سجدہ کرے اور قبول نہ کیا جائے، اجازت طلب کرے اور اجازت نہ دی جائے اور سورج سے کہا جائے گا کہ جہاں سے آیا ہے وہاں سے لوٹ جا، پس آفتاب مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا۔ یہی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا:

﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ﴾ (سورہ یس: ۳۸)

ترجمہ: ”اور آفتاب اپنے ٹھکانے کی طرف چلتا رہتا ہے۔“

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”اس کی قرار گاہ عرش کے نیچے ہے۔“ (بخاری و مسلم، مشکوٰۃ ص ۴۷۲)

### ﴿۷۱﴾ ہوائیں آٹھ قسم کی ہوتی ہیں

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہوائیں آٹھ قسم کی ہیں: چار رحمت کی، چار زحمت کی۔

① نَائِسِرَات ② مُبَشِّرَات ③ مُرْسَلَات ④ ذَارِيَات رحمت کی اور

⑤ عَاقِبَات ⑥ صَرَصَرَات ⑦ عَاصِفَات ⑧ قَاصِفَات عذاب کی۔

ان میں سے پہلی دو خشکیوں کی اور آخری دو تری کی۔

جب اللہ تعالیٰ نے عا د والوں کو ہلاک کرنے کا ارادہ کیا اور ہواؤں کے داروغہ کو اس کا حکم دیا تو اس نے دریافت کیا کہ جناب باری تعالیٰ! کیا میں ہواؤں کے خزانوں میں اتنا سوراخ کروں جتنا تیل کا تھنٹھا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: نہیں! نہیں! اگر ایسا ہوا تو زمین اور زمین کی کل چیزیں الٹ پلٹ جائیں گی۔ اتنا نہیں بلکہ اتنا سوراخ کرو جتنا انگلی میں ہوتا ہے۔ اب صرف اتنے سے سوراخ سے ہوا چلی جہاں پہنچی وہاں بھس اڑا دیا، جس چیز پر سے گزری اسے بے نشان کر دیا۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا قول ہے۔ (ابن کثیر)

### ﴿۷۲﴾ عزت کا معیار نسب نہیں بلکہ تقویٰ ہے

اصل میں انسان کا بڑا چھوٹا یا معزز و حقیر ہونا ذات پات، خاندان اور نسب سے تعلق نہیں رکھتا، بلکہ جو شخص جس قدر نیک خلعت، مؤدب اور پرہیزگار ہو اسی قدر اللہ کے یہاں معزز و مکرم ہے، نسب کی حقیقت تو یہ ہے کہ سارے آدمی ایک مرد اور ایک عورت یعنی آدم اور

حو علیہا السلام پر تہمتی ہوتے ہیں۔ یہ ذاتیں اور خاندان اللہ تعالیٰ نے محض تعارف اور شناخت کے لیے مقرر کئے ہیں۔ بلاشبہ جس کو اللہ تعالیٰ کسی شریف اور معزز گھرانے میں پیدا کر دے وہ ایک مہربان شرف ہے، جیسے کسی کو خوبصورت بنا دیا جائے لیکن یہ چیز ناز و فخر کرنے کے لائق نہیں ہے کہ اسی کو معیار کمال اور فضیلت ٹھہرایا جائے، اور دوسروں کو حقیر سمجھا جائے۔ ہاں! شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے بلا اختیار و کسب ہم کو یہ نعمت مرحمت فرمائی۔ شکر میں یہ بھی داخل ہے کہ غرور و تفاخر سے باز رہے، اور اس نعمت کو کینے اخلاق اور بری خصلتوں سے خراب نہ ہونے دے۔ عزت کا اصلی معیار نسب نہیں ہے، تقویٰ اور طہارت ہے، اور تقویٰ آدمی دوسروں کو حقیر کب سمجھے گا؟

### (۷۳) مؤمن حقیقی

حارث بن مالک رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا: حارث! صبح کیسے گزری؟ حارث رضی اللہ عنہ نے کہا: ایک حقیقی مؤمن کی حیثیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: خوب سمجھ کر کہو، کیونکہ ہر چیز کی ایک حقیقت ہوا کرتی ہے، تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ تناؤ تو سہی۔ تو حارث رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دنیا کی محبت سے میں نے روگردانی کر لی ہے، راتوں کو جاگ کر عبادت کرتا ہوں، دن کو روزے کے سبب پیاسا رہتا ہوں، اور اپنے کو یوں پاتا ہوں گویا میرے سامنے عرش رب کھلا ہوا ہے، اور گویا میں اہل جنت کو باہم ملاقاتیں کرتا دیکھتا ہوں، اور اہل دوزخ کو گرفتار بلا دیکھتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں اے حارث! تم ایمان کی حقیقت تک پہنچ چکے ہو، اس پر قائم رہنے کی کوشش کرنا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار فرمایا۔ (ابن کثیر)

### (۷۴) ایک طرفہ بات سن کر کوئی رائے قائم نہ کی جائے

امام قسطنطین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں قاضی شریح کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک عورت اپنے خاوند کے خلاف شکایت لے کر آئی، جب عدالت میں حاضر ہوئی اپنا بیان دیتے وقت زار و قطار رونا شروع کر دیا، مجھ پر اس کی آہ و بکا کا بہت اثر ہوا اور میں نے قاضی شریح سے کہا:

”ابو امیہ! اس عورت کے رونے سے ظاہر ہوتا ہے کہ یقیناً مظلوم اور بے کس ہے، اس کی ضرورت اداری کرنی چاہیے۔“

میری یہ بات سن کر قاضی شریح نے کہا:

”اے قسطنطین! یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی انہیں کنویں میں ڈالنے کے بعد اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے ہی آئے تھے۔“

تشریح: یعنی ایک طرفہ بات سن کر کبھی رائے قائم نہ کرنی چاہیے، دونوں کی بات سنو، دونوں سے خوب حالات معلوم کرو، پھر

فیصلہ کرو۔ (تفسیر ابن کثیر)

### (۷۵) غیبت کرنے پر عبرت ناک انجام

ایک تابعی جن کا نام ربیع رضی اللہ عنہ ہے وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک مجلس میں پہنچا، میں نے دیکھا کہ لوگ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، میں بھی اس مجلس میں بیٹھ گیا۔ اب باتیں کرنے کے درمیان کسی کی غیبت شروع ہو گئی، مجھے یہ بات بری لگی کہ ہم یہاں مجلس میں بیٹھ کر کسی کی غیبت کریں، چنانچہ میں اس مجلس سے اٹھ کر چلا گیا، اس لیے کہ اگر کسی مجلس میں غیبت ہو رہی ہے تو آدمی کو چاہیے کہ اس کو روکے، اور اگر روکنے کی طاقت نہ ہو تو کم از کم اس گفتگو میں شریک نہ ہو، بلکہ اٹھ کر چلا جائے۔ چنانچہ میں اٹھ کر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد خیال آیا کہ اب مجلس میں غیبت کا موضوع ختم ہو گیا ہوگا، اس لئے دوبارہ اس مجلس میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اب تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتیں ہوئیں لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر غیبت شروع ہو گئی، لیکن اب میری ہمت کمزور پڑ گئی، اور میں مجلس سے اٹھ نہ سکا، اور جو غیبت وہ لوگ کرتے رہے میں اسے سنتا رہا، پھر میں نے بھی غیبت کے ایک دو جملے کہہ دیئے۔

جب میں اس مجلس سے گھر آیا اور رات کو سویا تو خواب میں ایک انتہائی سیاہ قام آدمی کو دیکھا تو ایک بڑے طشت میں میرے پاس گوشت لے کر آیا۔ جب میں نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ خنزیر کا گوشت ہے اور سیاہ قام آدمی مجھ سے کہہ رہا ہے کہ خنزیر کا گوشت کھاؤ۔ میں نے کہا: میں مسلمان ہوں خنزیر کا گوشت کیسے کھاؤں؟ اس نے کہا: یہ تمہیں کھانا پڑے گا۔ پھر زبردستی اس گوشت کے کٹڑے میرے منہ میں ٹھونسے لگا۔ اب میں منع کرتا جاتا ہوں اور وہ ٹھونستا جا رہا ہے، یہاں تک کہ مجھے متلی اور تے آنے لگی مگر وہ ٹھونستا جا رہا تھا۔ پھر اسی شدید اذیت کی حالت میں میری آنکھ کھل گئی۔ جب بیدار ہونے کے بعد میں نے کھانے کے وقت کھانا کھایا تو خواب میں جو خنزیر کے گوشت کا خواب اور بدبودار ذائقہ تھا وہ ذائقہ مجھے اپنے کھانے میں محسوس ہوا، اور تیس دن تک میرا یہ حال رہا، جس وقت بھی میں کھانا کھاتا تو ہر کھانے میں اس خنزیر کے گوشت کا بدترین ذائقہ میرے کھانے میں شامل ہو جاتا اور اس واقعہ سے اللہ تعالیٰ سے اس پر متنبہ فرمایا کہ ذرا سی دیر میں نے مجلس میں غیبت کی تھی اس کا برا ذائقہ میں تیس دن تک محسوس کرتا رہا۔ (تعمیر حیات)

### (۷۶) دین میں کامیابی کی ایک عجیب مثال

اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار دین پر رکھا ہے۔ جس طرح شہد کی مٹھاس کو شہد سے الگ نہیں کیا جاسکتا اور پھول کی خوشبو کو پھول سے جدا نہیں کیا جاسکتا، اسی طرح کامیابی کو دین سے الگ کرنے کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ دین کیا ہے؟ جس کام کے کرنے کا اللہ اور رسول اللہ ﷺ نے حکم دیا ہے اس کو کرنا اور جس کام کے کرنے سے منع کیا ہے اس کو نہ کرنا دین ہے۔ حالات کے بننے اور بگڑنے کا مدار اعمال کے بننے اور بگڑنے پر ہے اور اعمال کے بننے اور بگڑنے کا مدار ایمان کے بننے بگڑنے پر ہے، ایمان بگڑے گا اعمال بگڑیں گے اور اعمال بگڑیں گے اللہ تعالیٰ حالات کو بگاڑیں گے۔ اس لیے مسلمان اپنی حالت بدل لیں اللہ تعالیٰ حالات کو بدل دیں گے۔

### (۷۷) سب سے زیادہ عظمت والی آیت

حضرت اُبی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اے ابوالمنذر! (یہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے) کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس قرآن کریم میں سے کون سی آیت سب سے زیادہ عظمت والی ہے؟ میں نے جواب دیا: اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ خوب جانتے ہیں۔ نبی کریم ﷺ نے دوبارہ ارشاد فرمایا: اے ابوالمنذر! کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس اللہ کی کتاب میں سے کون سی آیت سب سے زیادہ عظمت والی ہے؟ میں نے جواب دیا: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ یعنی آیت الکرسی سب سے زیادہ عظمت والی آیت ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے میرے سینے پر ہاتھ مار کر فرمایا: اے ابوالمنذر! تمہیں علم مبارک ہو۔ (رواہ مسلم بحوالہ مشکوٰۃ: ۱۸۵)

### (۷۸) جان و مال کی حفاظت اور شیطان کے شر سے بچنے کا بہترین نسخہ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے رمضان المبارک کی زکوٰۃ یعنی صدقہ الفطر کی حفاظت اور نگرانی کے لیے مقرر فرمایا، چنانچہ (میں اس کی حفاظت اور نگرانی کر رہا تھا کہ ایک رات) میرے پاس کوئی آنے والا آیا، اور دونوں ہاتھوں سے غلہ لینے لگا۔ میں نے اس کو پکڑا اور کہا کہ تجھے ضرور رسول اللہ ﷺ کے پاس لے جاؤں گا۔ اس نے کہا: میں محتاج ہوں، میرے ذمہ بال بچوں کا بوجھ ہے اور مجھے سخت ضرورت ہے (یعنی غربت اور تنگی نے مجھے چوری کرنے پر ابھارا ہے)۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا: اے ابو ہریرہ! گذشتہ رات تمہارے قیدی نے کیا کیا تھا؟ میں نے

عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ اس نے سخت ضرورت اور بال بچوں کے بوجھ کا شکوہ کیا تو مجھے اس پر ترس آیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: آگاہ رہو! اس نے تمہارے سامنے جھوٹ بولا، وہ دوبارہ آئے گا۔ حضور ﷺ کے ارشاد کی وجہ سے مجھے پورا یقین تھا کہ وہ دوبارہ آئے گا، اس لیے میں اس کی نگرانی اور انتظار کرتا رہا۔ چنانچہ وہ آیا اور دونوں ہاتھوں سے غلہ لینے لگا۔ میں نے اس کو پکڑا اور کہا: میں تجھے ضرور رسول اللہ ﷺ کے پاس لے جاؤں گا۔ اس نے کہا: مجھے چھوڑ دو، میں محتاج ہوں، مجھ پر بال بچوں کا بوجھ ہے، آئندہ میں نہیں آؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اس پر ترس آیا، چنانچہ میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے فرمایا: اے ابو ہریرہ! تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ اس نے سخت ضرورت اور بال بچوں کا شکوہ کیا تو مجھے اس پر ترس آیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔

نبی کریم ﷺ نے فرمایا: آگاہ رہو! اس نے تمہارے سامنے جھوٹ بولا، وہ پھر آئے گا۔ حضور اکرم ﷺ کے اس ارشاد کی وجہ سے مجھے پورا یقین تھا کہ وہ پھر سے آئے گا۔ چنانچہ میں اس کی نگرانی اور انتظار کرتا رہا۔ وہ پھر سے آیا اور دونوں ہاتھوں سے (اپنے برتن میں) غلہ بھرنے لگا۔ میں نے اس کو پکڑا اور کہا: میں تجھے ضرور رسول اللہ ﷺ کے پاس لے جاؤں گا، یہ آخری تیسری دفعہ ہے، ہر دفعہ تو کہتا ہے کہ میں نہیں آؤں گا، مگر پھر آتا ہے۔ اس نے کہا: مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں چند کلمات سکھاتا ہوں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں نفع پہنچائیں گے۔ جب تم بستر پر لیٹو تو پوری آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اللہ کی طرف سے ایک محافظ برابر تمہاری حفاظت کرتا رہے گا اور صبح تک شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی کریم ﷺ نے مجھ سے فرمایا: تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا کہ اس نے مجھے چند کلمات سکھائے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے نفع دیں گے (اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا) نبی کریم ﷺ نے فرمایا: سنو! اس نے یہ بات سچ کہی جب کہ وہ جھوٹا ہے۔ اور تم جانتے ہو یہ شخص جس سے تم تین راتوں سے گفتگو کر رہے ہو کون ہے؟ میں نے عرض کیا: نہیں۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: وہ شیطان ہے۔ (رواہ البخاری، بحوالہ مشکوٰۃ شریف ص ۱۸۵)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو شخص لیٹتے وقت پوری آیت الکرسی پڑھے گا، اس کا مال چوری وغیرہ سے اور وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا۔

## ﴿۷۹﴾ وضو کے فضائل و برکات

رسول اللہ ﷺ نے جس طرح اُمت کو وضو کا طریقہ اور اس کے متعلق احکام بتلائے ہیں، اُسی طرح آپ ﷺ نے اس کے فضائل و برکات بھی بیان فرمائے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”جس شخص نے وضو کیا اور (بتائے ہوئے طریقہ کے مطابق) خوب اچھی طرح وضو کیا، اس کے سارے جسم سے گناہ نکل جائیں گے، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ جو شخص رسول اللہ ﷺ کی تعلیم و ہدایت کے مطابق باطنی پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے آداب و سنن وغیرہ کی رعایت کے ساتھ اچھی طرح وضو کرے گا تو اُس سے صرف اعضائے وضو کی میل کچیل اور باطنی ناپاکی ہی دور نہ ہوگی بلکہ اس کی برکت سے اس کے سارے جسم سے گناہوں کی ناپاکی بھی نکل جائے گی، اور وہ شخص حدث (باطنی ناپاکی) سے پاک ہونے کے علاوہ گناہوں سے بھی پاک صاف ہو جائے گا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان بندہ وضو کرتا ہے اور اپنے چہرہ کو دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ اس کے چہرہ سے وہ سارے گناہ نکل جاتے ہیں جو اس کی آنکھ سے ہوئے ہیں، اس کے بعد جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو وہ



سارے گناہ اس کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں جو اس کے ہاتھ سے ہوئے، اس کے بعد جب وہ اپنے پاؤں دھوتا ہے تو وہ سارے گناہ اس کے پاؤں سے نکل جاتے ہیں جو اس کے پاؤں سے ہوئے، یہاں تک کہ وضو سے فارغ ہونے کے ساتھ وہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ (مسلم شریف)

تشریح: یہاں چند باتیں وضاحت طلب ہیں:

① مندرجہ بالا دونوں حدیثوں میں وضو کے پانی کے ساتھ گناہوں کے جسم سے نکل جانے اور دھل جانے کا ذکر ہے، حالانکہ گناہ میل پکچل اور ظاہری نجاست جیسی کوئی چیز نہیں ہے، جو پانی کے ساتھ نکل جائے اور دھل جائے۔

بعض شارحین نے اس کی توجیہ میں کہا ہے کہ گناہوں کے نکل جانے کا مطلب صرف معافی اور بخشش ہے۔ اور بعض دوسرے حضرات نے فرمایا ہے کہ بندہ جو گناہ جس عضو سے کرتا ہے اس کا ظلمانی اثر اور اس کی نحوست پہلے اس عضو میں اور پھر اس شخص کے دل میں قائم ہو جاتی ہے، پھر جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے کو پاک کرنے کے لیے وہ بندہ سنن و آداب کے مطابق وضو کرتا ہے تو جس جس عضو سے اُس نے گناہ کئے ہوتے ہیں اور گناہوں کے جو گندے اثرات اور ظلمتیں اس کے اعضاء اور اس کے قلب میں قائم ہو چکی ہوتی ہیں، وضو کے پانی کے ساتھ وہ سب دھل جاتی اور زائل ہو جاتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی معافی اور مغفرت بھی ہو جاتی ہے۔ یہی دوسری توجیہ اس عاجز کے نزدیک حدیث کے الفاظ سے زیادہ قریب ہے۔ واللہ اعلم۔

② حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی حدیث میں چہرہ کے دھونے کے ساتھ صرف آنکھوں کے گناہوں کے دھل جانے اور نکل جانے کا ذکر فرمایا گیا ہے، حالانکہ چہرہ میں آنکھوں کے علاوہ ناک اور زبان و دہن (منہ) بھی ہیں اور بعض گناہوں کا تعلق انہیں سے ہوتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اعضاء وضو و استیجاب نہیں فرمایا، بطور تمثیل کے آنکھوں اور ہاتھ پاؤں کا ذکر فرمایا ہے۔ اس مضمون کی ایک دوسری حدیث میں (جس کو امام مالک اور امام نسائی رحمہم اللہ نے عبد اللہ ضاحی سے نقل کیا ہے) اس سے زیادہ تفصیل ہے۔ اس میں کلی اور ناک کے پانی (مضمضہ اور استنشاق) کے ساتھ زبان و دہن (منہ) اور ناک کے گناہوں کے نکل جانے اور دھل جانے کا اور اسی طرح کانوں کے مسح کے ساتھ، کانوں کے گناہ نکل جانے کا بھی ذکر ہے۔

③ نیک اعمال کی یہ تاثیر ہے کہ وہ گناہوں کو مٹاتے اور ان کے داغ دھبوں کو دھو ڈالتے ہیں، قرآن مجید میں بھی مذکور ہے۔ ارشاد فرمایا گیا:

﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّئَاتِ﴾ (سورہ ہود: ۱۱۳)

ترجمہ: ”نیک اعمال گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔“

اور احادیث میں خاص خاص اعمال حسنہ کا نام لے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے بیان فرمایا ہے کہ فلاں نیک عمل گناہوں کو مٹا دیتا ہے، فلاں نیک عمل گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، فلاں نیک عمل گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اس قسم کی بعض حدیثیں اس سلسلہ میں پہلے بھی گزر چکی ہیں، اور آئندہ بھی مختلف ابواب میں آئیں گی۔ ان میں سے بعض حدیثوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تصریح بھی فرمائی ہے کہ ان نیک اعمال کی برکت سے صرف صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، اسی بنا پر اہل حق اہل السنہ اس کے قائل ہیں کہ اعمال حسنہ سے صرف مغفرت ہی ظہیر ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں بھی فرمایا گیا ہے:

﴿إِنْ تَجْتَبُوا كِبَارَ مَا كُنْتُمْ عَنْهُ لَتُكَفَّرْ عَنْكُمْ سَاءَاتِكُمْ﴾ (سورہ نساء: ۳۱)

ترجمہ: ”اگر تم کبار منہیات (بڑے بڑے گناہوں) سے بچتے رہو گے تو تمہاری (معمولی) برائیاں اور غلطیاں ہم تم سے

دفع کر دیں گے۔“

الغرض مندرجہ بالا دونوں حدیثوں میں وضو کی برکت سے جن گناہوں کے نکل جانے اور ڈھل جانے کا ذکر ہے، اُن سے مراد صفائے ہی ہیں۔ کہاؤں کا معاملہ بہت سنگین ہے۔ اس کا زہر کا تریاق صرف تو بہ ہی ہے۔ (معارف الحدیث: ۳/۴۷۲، ۴۷۳)

### (۸۰) جنت کے سارے دروازوں کی کنجی

(عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَكُمْ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيَبْلُغُ أَوْ يَسْبِغُ الْوَضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ نَشْهُدُكَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، إِلَّا قُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَنِيَّةِ يَدْخُلُهَا مِنْ أَيِّهَا شَاءَ) (رواه مسلم)

ترجمہ: ”حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے (ایک سلسلہ کلام میں) فرمایا: جو کوئی تم میں سے وضو کرے (اور پورے آداب کے ساتھ خوب اچھی طرح) اور مکمل وضو کرے پھر وضو کے بعد کہے: نَشْهُدُكَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، تو لازمی طور پر اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھل جائیں گے، وہ جس دروازے سے بھی چاہے گا جنت میں جا سکے گا۔“

تشریح: وضو کرنے سے بظاہر صرف اعضائے وضو کی صفائی ہوتی ہے اس لیے مؤمن بندہ وضو کرنے کے بعد محسوس کرتا ہے کہ میں نے حکم کی تعمیل میں اعضائے وضو تو دھو لئے اور ظاہری طہارت اور صفائی کر لی، لیکن اصل گندگی تو ایمان کی کمزوری، اخلاص کی کمی، اور اعمال کی خرابی کی گندگی ہے۔ اس احساس کے تحت وہ کلمہ شہادت پڑھ کے، ایمان کی تجدید اور اللہ تعالیٰ کی خالص بندگی اور رسول اللہ ﷺ کی پوری پیروی کا گویا نئے سرے سے عہد کرتا ہے، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی کامل مغفرت کا فیصلہ ہو جاتا ہے اور جیسا کہ حدیث میں فرمایا ہے کہ اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں۔ (معارف الحدیث: ۳/۴۷۲، ۴۷۳)

### (۸۱) جھوٹ کی بدبو

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو (انسان کی حفاظت کرنے والے) فرشتے ایک میل دور چلے جاتے ہیں اس بات کی بدبو کی وجہ سے جس کا اس نے ارتکاب کیا ہے۔“

(رواہ الترمذی، مشکوٰۃ ص ۴۳۳)

تشریح: جس طرح مادی چیزوں میں خوشبو اور بدبو ہوتی ہے اسی طرح اچھے اور برے کلمات میں بھی خوشبو اور بدبو ہوتی ہے، جس کو اللہ کے فرشتے اسی طرح محسوس کرتے ہیں جس طرح ہم مادی چیزوں کی خوشبو اور بدبو کا احساس کرتے ہیں، اور کبھی کبھی اللہ کے وہ بندے بھی اس کو محسوس کرتے ہیں جن کی روحانیت ان کی مادیت پر غالب آ جاتی ہے۔ (اصلاح معاشرہ ص: ۵۵)

### (۸۲) جھوٹے خواب بیان کرنے والوں کے بارے میں وعید

جھوٹا خواب بیان کرنے سے بہت احتراز کرنا چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص جھوٹا خواب بیان کرے گا قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دو جو کے دانے دیں گے اور فرمائیں گے اس میں گانٹھ لگا۔ (مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ مولانا عاشق الہی بلندی شہری)

### (۸۳) عمل کی توفیق سلب ہونے کا سبب

عمل کی توفیق سلب ہونے کے اسباب میں سے مشتبہ اور حرام کمائی ہے کہ آدمی احتیاط سے نہ کمائے، حلال و حرام کا کوئی امتیاز نہ

کرے، مشتہ اور غیر مشتہ کو نہ دیکھے، پیسہ مقصود ہو جائے کہ جس طرح ہو پیسہ، بٹولا، ڈیکیتی سے ہو، چوری سے ہو، رشوت سے ہو، سود سے ہو، دھوکے سے ہو، جھوٹ سے ہو، کسی بھی انداز سے پیسہ آنا چاہیے، ایسے پیسے کا اثر تو یہی ہوتا ہے کہ توفیق جاتی رہتی ہے۔

بہر حال حاصل یہ نکلا کہ عبادت کی توفیق اس وقت ہوتی ہے جب قلب میں نور ہو اور نور قلب میں تب ہوتا ہے جب کمائی ٹھیک ہو، حلال کی ہو اور حلال کا لقمہ نیر ہو۔ رزق حلال میں قلت و برکت ہوتی ہے۔

نیز حلال کی کمائی ہمیشہ تھوڑی ہوتی ہے۔ زیادہ نہیں ہوا کرتی، حرام کی کمائی تو ہو سکتا ہے کہ زیادہ ہو لیکن عادتاً حلال کی کمائی کم ہوتی ہے۔ الا ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ کسی کو بڑھا دے، مگر عادتاً لازمی بات یہ ہے کہ ضرورت کے موافق ملتا ہے مگر برکت اس میں زیادہ ہوتی ہے اس کی خیر زیادہ نمایاں ہوتی ہے۔ والسلام۔ (از: محمد یونس پالن پوری)

بہنئی میں ایک خاتون نے سوال کیا تھا کہ نماز، روزہ، ذکر، تلاوت کی توفیق نہیں ہوتی، قرآن کھول کر بیٹھوں پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، اس سوال پر مذکورہ جواب تحریر فرمایا گیا ہے۔

### (۸۴) بات کرنے میں اختصار سے کام لیجئے

حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن جب ایک شخص نے (ان کی موجودگی میں) کھڑے ہو کر (وعظ و تقریر کے طور پر) بات کی، اور بہت لمبی بات کی تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر یہ شخص بات مختصر کرنا تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہوتا، میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ مناسب سمجھتا ہوں یا آپ ﷺ نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ بات کرنے میں اختصار سے کام لوں کیونکہ بات میں اختصار بہتر ہوتا ہے۔ (سنن ابی داؤد)

تجربہ شاہد ہے کہ بہت لمبی بات سے سننے والے اکتا جاتے ہیں، اور دیکھا ہے کہ بعض اوقات کسی تقریر و وعظ سے سامعین شروع میں بہت اچھا اثر لیتے ہیں، لیکن جب بات حد سے زیادہ لمبی ہو جاتی ہے تو لوگ اکتا جاتے ہیں اور وہ اثر بھی زائل ہو جاتا ہے، اس لیے بات مختصر اور عام فہم ہونی چاہیے۔

### (۸۵) تین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے قتل کی سازش

صاحب مجمع الفوائد نے طبرانی کی معجم کبیر کے حوالہ سے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ کسی قدر تفصیل سے اسماعیل بن راشد کی روایت سے نقل کیا ہے۔ ذیل میں پہلے فرقہ خوارج کا کچھ تعارف، پھر اس واقعہ کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔

خوارج:

حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے لشکر عری کا ایک خاص گروہ تھا جو اپنی حماقت اور چنی کجروی کی وجہ سے ان کے فیصلہ کو غلط اور معاذ اللہ قرآن مجید کے صریح خلاف سمجھ کر ان کا مخالف اور آمادہ بغاوت ہو گیا تھا، ان کی تعداد کئی ہزار تھی، پھر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے افہام و تفہیم کے نتیجے میں ان میں سے ایک خاص تعداد راہ راست پر آگئی، لیکن ان کی بڑی تعداد اپنی گمراہی پر قائم رہی، اور قتل و قتال پر آمادہ ہو گئی۔ بالآخر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو ان کے خلاف طاقت استعمال کرنی پڑی، جس کے نتیجے میں ان سے اکثر کا خاتمہ ہو گیا، کچھ باقی رہ گئے۔ ان باقی رہ جانے والوں میں سے تین شخص (۱) برک بن عبد اللہ (۲) عمرو بن بکر تمیمی اور (۳) عبد الرحمن بن ملجم مکرمہ میں جمع ہوئے۔ انہوں نے صورت حال پر تبادلہ خیال کیا، اور اس نتیجے پر پہنچے کہ سارا قتلہ ان لوگوں کی وجہ سے ہے جن کے ہاتھوں میں حکومت ہے، ان کو کسی طرح ختم کر دیا جائے۔ اس سلسلہ میں انہوں نے تین حضرات کو متعین طور پر نامزد کیا: (۱) حضرت معاویہ (۲) حضرت عمرو

بن عامر رضی اللہ عنہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ

برک نے کہا کہ معاویہ کو قتل کر دینے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ عمرو بن تمیمی نے کہا کہ عمرو بن عامر کو ختم کر دینے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ عبدالرحمن بن ملجم نے کہا کہ علی کو قتل کر دینے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ پھر انہوں نے آپس میں اس پر عہد و پیمانہ کیا اور اس کے لیے یہ اسکیم بنائی کہ ہم میں سے ہر ایک ۷۱ رمضان المبارک کو جب کہ یہ لوگ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے نکل رہے ہوں، حملہ کر کے اپنا کام کریں۔ اس دور میں نماز کی امامت خلیفہ وقت یا ان کے مقرر کئے ہوئے امیر ہی کرتے تھے۔

اپنے بنائے ہوئے اس پروگرام کے مطابق برک بن عبداللہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دار الحکومت دمشق روانہ ہو گیا اور عمرو تمیمی مصر کی طرف جہاں کے امیر و حاکم حضرت عمرو بن عامر رضی اللہ عنہ تھے اور عبدالرحمن بن ملجم حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے دار الحکومت کوفہ کے لیے روانہ ہو گیا۔

۷۱ رمضان المبارک کی صبح فجر کی نماز پڑھانے کے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تشریف لے جا رہے تھے، برک نے تلوار سے حملہ کیا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو کچھ محسوس ہو گیا اور انہوں نے دوڑ کر اپنے کو بچانا چاہا پھر بھی برک کی تلوار سے ان کی ایک سرین پر گہرا زخم آ گیا۔ برک کو گرفتار کر لیا گیا (اور بعد میں قتل کر دیا گیا)۔ زخم کے علاج کے لیے طبیب بلا یا گیا، اس نے زخم کو دیکھ کر جس تلوار کا زخم ہے، اُس کو زہر میں بچھایا گیا ہے، اس کے علاج کی ایک صورت یہ ہے کہ گرم لوہے سے زخم کو داغ دیا جائے، اس صورت میں اُمید ہے کہ زہر سارے جسم میں سرایت نہیں کر سکے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ میں آپ کو ایسی دوا تیار کر کے پلاؤں جس کا اثر یہ ہوگا کہ اس کے بعد آپ کی کوئی اولاد نہ ہو سکے گی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ گرم لوہے کے داغ کو تو میں برداشت نہ کر سکوں گا اس لیے مجھے وہ دوا تیار کر کے پلا دی جائے، میرے لیے دو بیٹے یزید اور عبداللہ کافی ہیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ صحت یاب ہو گئے۔

عمرو تمیمی اپنے پروگرام کے مطابق حضرت عمرو بن عامر رضی اللہ عنہ کو ختم کرنے کے لیے مصر پہنچ گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ۷۱/ رمضان کی رات میں حضرت عمرو بن عامر رضی اللہ عنہ کو ایسی شدید تکلیف ہو گئی کہ وہ فجر کی نماز پڑھانے مسجد میں نہیں آسکے، انہوں نے ایک دوسرے صاحب خارجہ بن حبیب کو حکم دیا کہ وہ ان کی جگہ مسجد جا کر نماز پڑھائیں، چنانچہ وہ آئے اور نماز پڑھانے کے لیے امام کے مصلے پر کھڑے ہوئے تو عمرو نے اس کو عمرو بن عامر رضی اللہ عنہ سمجھ کر تلوار سے وار کیا اور وہ وہیں شہید ہو گئے۔ عمرو گرفتار کر لیا گیا۔ لوگ اس کو پکڑ کر مصر کے امیر و حاکم حضرت عمرو بن عامر رضی اللہ عنہ کے پاس لے گئے، اس نے دیکھا کہ لوگ ان کو امیر کے لفظ سے مخاطب کر رہے ہیں، اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ بتلایا گیا کہ یہ مصر کے امیر و حاکم حضرت عمرو بن عامر رضی اللہ عنہ ہیں۔ اس نے کہا میں نے جس شخص کو قتل کیا وہ کون تھا؟ بتلایا گیا کہ وہ خارجہ بن حبیب تھا۔ اُس بد بخت نے حضرت عمرو بن عامر رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے کہا: اے قاسق! میں نے تجھ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ حضرت عمرو بن عامر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تو نے یہ ارادہ کیا تھا اور اللہ تعالیٰ کا وہ ارادہ تھا جو ہو گیا، اس کے بعد خارجہ بن حبیب کے قصاص میں عمرو تمیمی کو قتل کر دیا گیا۔

ان میں تیسرا خبیث ترین اور شقی ترین بد بخت عبدالرحمن بن ملجم اپنے پروگرام کے مطابق کوفہ پہنچ گیا، وہ ۷۱/ رمضان کو فجر سے پہلے مسجد کے راستے میں چھپ کر بیٹھ گیا، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا معمول تھا کہ وہ گھر سے نکل کر الصلوٰۃ الصلوٰۃ پکارتے ہوئے اور لوگوں کو نماز کے لیے بلاتے ہوئے مسجد تشریف لاتے تھے، اس دن بھی حسب معمول اسی طرح تشریف لا رہے تھے کہ بد بخت ابن ملجم نے سامنے سے آکر اچانک آپ کی پیشانی پر تلوار سے وار کیا اور بھاگا، لیکن تعاقب کر کے لوگوں نے اسے پکڑ لیا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے بڑے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا تو اس قاتل ابن ملجم کے

بارے میں جیسا چاہوں گا فیصلہ کروں گا، چاہوں گا تو معاف کروں گا اور چاہوں تو قصاص میں قتل کروں گا، اور اگر میں اس میں فوت ہو جاؤں تو پھر اس کو شرعی قانون قصاص کے مطابق قتل کر دیا جائے لیکن مسئلہ نہ کیا جائے (یعنی ہاتھ پاؤں وغیرہ اعضاء الگ الگ نہ کاٹے جائیں) کیونکہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ کٹ کٹے کو بھی مارا جائے تو اس کا مسئلہ نہ کیا جائے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ ابن عجم کی اس ضرب کے نتیجے میں واصل بحق ہو گئے تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے حکم سے اس بد بخت کو قتل کیا گیا اور غیظ و غضب سے بھرے لوگوں نے اس کی لاش کو کھینچ لیا۔ (معارف الحدیث: ۳۹۹/۸)

## (۸۶) دو شریکوں کا عجیب قصہ

دو شخص آپس میں شریک تھے ان کے پاس آٹھ ہزار اشرفیاں جمع ہو گئیں، ایک چونکہ پیشے سے واقف تھا اور دوسرا ناواقف تھا، اس لیے اس واقف کار نے ناواقف سے کہا کہ اب ہمارا نباہ مشکل ہے، آپ اپنا حق لے کر الگ ہو جائیے، آپ کام کاج سے ناواقف ہیں، چنانچہ دونوں نے اپنے اپنے حصے الگ کر لئے اور جدا ہو گئے۔

پھر پیشے سے واقف کار نے بادشاہ کے مرجانے کے بعد اس کا شاہی محل ایک ہزار دینار میں خریدا، اور اپنے ساتھی کو بلا کر اسے دکھایا اور کہا: بتلاؤ! میں نے کسی چیز خریدی؟ اس کے ساتھی نے بڑی تعریف کی اور یہاں سے باہر چلا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور کہا: خدایا! اس میرے ساتھی نے تو ایک ہزار دینار کا قہر دنیوی خرید لیا ہے، اور میں تجھ سے جنت کا محل چاہتا ہوں۔ میں تیرے نام پر تیرے مسکین بندوں پر ایک ہزار دینار خرچ کرتا ہوں۔ چنانچہ اس نے ایک ہزار دینار راہ خدا میں خرچ کر دیئے۔

پھر اس دنیا دار شخص نے ایک زمانے کے بعد ایک ہزار دینار خرچ کر کے اپنا نکاح کیا، دعوت میں اس پرانے شریک کو بھی بلایا اور اس سے ذکر کیا کہ میں نے ایک ہزار دینار خرچ کر کے اس عورت سے شادی کی ہے۔ اس کے ساتھی نے اس کی بھی تعریف کی۔ باہر آ کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرنے کی نیت سے ایک ہزار دینار نکالے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ بار الہی! میرے ساتھی نے اتنی ہی رقم خرچ کر کے یہاں کی ایک عورت حاصل کی ہے، اور میں اس رقم سے تجھ سے حور عین کا طالب ہوں۔ اور پھر وہ رقم راہ خدا میں صدقہ کر دی۔

پھر کچھ مدت کے بعد اس دنیا دار نے اس کو بلا کر کہا کہ دو ہزار کے دو باغ میں نے خرید لئے ہیں دیکھ لو کیسے ہیں؟ اس نے دیکھ کر بہت تعریف کی اور باہر آ کر اپنی عادت کے مطابق جناب باری تعالیٰ میں عرض کی کہ خدایا! میرے ساتھی نے دو ہزار کے دو باغ یہاں کے خرید کئے ہیں، میں تجھ سے جنت کے دو باغ چاہتا ہوں اور دو ہزار دینار تیرے نام پر صدقہ ہیں۔ چنانچہ اس رقم کو مستحقوں میں تقسیم کر دیا۔ پھر جب فرشتہ ان کو فوت کر کے لے گیا، اس صدقہ کرنے والے کو جنت کے محل میں پہنچا دیا، جہاں ایک حسین عورت بھی اسے ملی، اور اسے دو باغ بھی دیئے گئے اور وہ نعمتیں ملیں جنہیں بجز خدا تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا، تو اسے اس وقت اپنا وہ ساتھی یاد آ گیا۔ فرشتے نے بتلایا کہ وہ تو جہنم میں ہے۔ تم اگر چاہو تو جھانک کر اسے دیکھ سکتے ہو۔ اس نے جب اُسے جہنم کے اندر جلا دیکھا تو اس سے کہا کہ قریب تھا کہ تو مجھے بھی چمک دے جاتا اور یہ تو رب تعالیٰ کی مہربانی ہوئی کہ میں بچ گیا۔ (تفسیر ابن کثیر: ۳/۳۶۷، ۳۶۸)

## (۸۷) دل کو اتنا نچھو کہ آئینہ کی طرح صاف شفاف ہو جائے

شیخ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ عنہ نے ایک حکایت بیان کی ہے جس کو مولانا رومی رضی اللہ عنہ نے نقل فرمایا ہے کہ ایک دفعہ رومیوں اور چینوں کے درمیان جھگڑا ہوا، رومیوں نے کہا کہ ہم اچھے ضاع اور کاری گر ہیں، چینوں نے کہا ہم ہیں۔ بادشاہ کے سامنے یہ مقدمہ پیش ہوا۔ بادشاہ نے کہا: تم دونوں اپنی صفائی دکھلاؤ! اس وقت دونوں ضاعیوں کا موازنہ کر کے فیصلہ کیا جائے گا۔

اور اس کی صورت یہ تجویز کی گئی کہ بادشاہ نے ایک مکان بنوایا اور اس کے درمیان پردے کی ایک دیوار کھڑی کر دی۔ چینیوں سے کہا کہ نصف مکان میں تم اپنی کاری گری دکھلاؤ اور رومیوں سے کہا کہ دوسرے نصف میں تم اپنی ضائی کا نمونہ پیش کرو۔ چینیوں نے تو دیوار پر پلاستر کر کے قسم قسم کے تیل بوٹے اور پھول پتے رنگ برنگ کے بنائے اور اپنے حصے کے کمرے کو مختلف نقش و نگار رنگ تیل بوٹوں سے گل گزار بنا دیا۔ ادھر رومیوں نے دیوار پر پلاستر کر کے ایک بھی پھول پتہ نہ بنایا، اور نہ ہی کوئی ایک بھی رنگ لگایا بلکہ دیوار کے پلاستر کو صیقل کرنا شروع کر دیا، اور اتنا شفاف اور چمک دار کر دیا کہ اس میں آئینہ کی طرح صورت نظر آنے لگی۔

جب دونوں نے اپنی اپنی کاری گری اور ضاعی ختم کر لی تو بادشاہ کو اطلاع دی۔ بادشاہ آیا اور حکم دیا کہ درمیان سے دیوار نکال دی جائے۔ جونہی دیوار بچ میں سے ہٹی چینیوں کو وہ تمام نقاشی اور گل کاری رومیوں کی دیوار میں نظر آنے لگی اور تمام تیل بوٹے رومیوں کی دیوار میں منعکس ہو گئے جسے رومیوں نے صیقل کر کے آئینہ بنا دیا تھا۔ بادشاہ سخت حیران ہوا کہ کس کے حق میں فیصلہ دے، کیونکہ ایک ہی قسم کے نقش و نگار دونوں طرف نظر آرہے تھے۔ آخر کار اس نے رومیوں کے حق میں فیصلہ کر دیا کہ ان کی ضاعی اعلیٰ ہے۔ کیونکہ انہوں نے اپنی ضاعی بھی دکھلائی اور ساتھ ہی چینیوں کی کاری گری بھی چھین لی۔

مولانا روم نے اس قصے کو نقل کر کے آخر میں بطور نصیحت کے فرمایا ہے: اے عزیز! تو اپنے دل پر رومیوں کی ضاعی جاری کر یعنی اپنے قلب کو رخصت و مجاہدہ سے مانجھ کر اتنا صاف کر لے کہ تجھے گھر بیٹھے ہی دنیا کے سارے نقش و نگار اپنے دل میں نظر آنے لگیں۔ یعنی تو اپنے دل سے ہر قسم کا مادی میل کچیل نکال پھینک اور اسے علم الہی کی روشنی سے منور کر دے تجھے دنیا و آخرت کے حقائق و معارف گھر بیٹھے ہی نظر آنے لگیں گے، ایسے قلب صافی پر بے استاد و کتاب براہ راست علوم خداوندی کا فیضان ہوتا ہے، اور وہ روشن سے روشن تر ہو جاتا ہے۔

### (۸۸) حضرت زاہر رضی اللہ عنہ کا قصہ

شمال ترمذی میں ایک صحابی حضرت زاہر بن حرام رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ بہت خوبصورت انداز سے نقل کیا گیا ہے۔ یہ دیہات کے رہنے والے تھے، ہزری ترکاری وغیرہ جو بھی دیہات میں ان کو میسر ہوتا، حضور اقدس کے لیے تحفہ لایا کرتے تھے۔ آپ ﷺ ان کا تحفہ بہت خوشی کے ساتھ قبول فرمایا کرتے تھے، اور یہ صورت و شکل کے اعتبار سے قبول صورت نہیں تھے لیکن ان کی سیرت اور کمال اعلیٰ درجہ کا تھا۔ جب یہ حضور اقدس ﷺ کے پاس سے دیہات واپس جاتے تھے تو آپ ﷺ بھی ان کا کچھ تحفہ دیا کرتے تھے۔

ایک دفعہ مدینہ کے بازار میں حضرت زاہر اپنا سامان فروخت فرما رہے تھے، حضور اقدس ﷺ نے چپکے سے پیچھے سے آکر اچانک ان کی آنکھوں کو بند کر کے دبا لیا۔ اب ان کو تو نظر نہیں آیا اور معلوم بھی نہیں کہ کون ہے۔ ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ عام لوگوں میں سے کوئی ہے۔ زور زور سے شور مچا کر کہنے لگے کہ یہ کون ہے؟ مجھے چھوڑ دو۔ پھر کن آنکھوں سے حضور اقدس ﷺ کو دیکھ کر پہچان لیا۔ جب حضور اقدس ﷺ کو پہچان لیا تو بجائے چھوڑ دو کہنے کے اپنی پیٹھ کو حضور اقدس ﷺ کے سینے سے چپا دیا کہ محبوب حقیقی کے سینے سے میرے بدن کا لگ جانا خیر و برکت ہے۔ اس کے بعد حضور اقدس ﷺ کہنے لگے: اس بندے کو کون خریدے گا؟ حضرت زاہر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: یا رسول اللہ ﷺ اگر آپ مجھے بیچیں گے تو نہایت گھانا ہو گا اس لیے کہ مجھ بد صورت کو بیچنے سے کیا پیسہ مل سکے گا۔ اس پر حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ آپ اللہ کے یہاں کم قیمت اور سستے نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ بڑے قیمتی ہیں۔ (شمال ترمذی ص ۱۶)

اس واقعہ سے ہر شخص کو عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا مدار انسانوں کے دلوں پر ہے، جس نے تقویٰ کا اعلیٰ مقام حاصل کر لیا ہے، اس نے جب خدا اور حب رسول کا بھی اعلیٰ مقام حاصل کر لیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت اسامہ

رسول اللہ ﷺ بہت کالے تھے مگر حضرات صحابہ میں حضور اقدس ﷺ کو حضرت اسامہ کی محبت سے زیادہ تھی۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ تم اس سے محبت کرو کیونکہ میں اس سے محبت رکھتا ہوں۔

### (۸۹) جب امت پندرہ قسم کی برائیوں کا ارتکاب کرے گی تو بلائیں نازل ہوں گی

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پندرہ قسم کی برائیوں کا ارتکاب کرے گی تو امت پر بلائیں اور مصیبتیں آئیں گی۔ کسی نے پوچھا: یا رسول اللہ ﷺ! وہ کیا کیا برائیاں ہیں؟ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

- ① جب مال غنیمت کو شخص دولت بنا لیا جائے گا۔
- ② اور امانت کو غنیمت سمجھ لیا جائے گا۔
- ③ اور زکوٰۃ کو تاوان سمجھ لیا جائے گا۔
- ④ اور علم دین دنیا طلبی کے لیے سیکھا جائے گا۔
- ⑤ مرد اپنی بیوی کی اطاعت کرنے لگے گا۔
- ⑥ اور اپنی ماں کی نافرمانی کرنے لگے گا۔
- ⑦ اور آدمی اپنے دوست کے ساتھ نیک سلوک کرے گا اور اپنے باپ کے ساتھ سختی اور بد اخلاقی سے پیش آئے گا۔
- ⑧ اور مسجد میں شور و غل ہونے لگے گا۔
- ⑨ جب قبیلہ کا سردار بدترین شخص بن جائے گا۔
- ⑩ اور قوم کا سربراہ ذلیل ترین شخص ہوگا۔
- ⑪ آدمی کا عزا و اکرام اس کے شر سے بچنے کے لیے کیا جائے گا۔
- ⑫ لوگ کثرت سے شراب پینے لگیں گے۔
- ⑬ مرد بھی ریشم کے کپڑے پہننے لگیں گے۔
- ⑭ ناچنے گانے والی عورتوں اور گانے بجانے کی چیزوں کو اپنا لیا جائے گا۔
- ⑮ اس امت کے پچھلے لوگ اگلوں پر لعنت بھیجیں گے۔

تو اس وقت سرخ آندھی، زلزلہ، زمین کے دھنس جانے، شکل بگڑ جانے اور پتھروں کے برسنے کا انتظار کرو۔ اور ان نشانیوں کا انتظار کرو جو یکے بعد دیگرے اس طرح آئیں گی جیسے کسی ہار کی لڑی ٹوٹ جانے سے اس کے دانے یکے بعد دیگرے بکھرتے چلے جاتے ہیں۔ (ترمذی شریف: ۴۴۱۲)

### (۹۰) پانچ چیزوں کی محبت پانچ چیزوں کو بھلا دے گی

ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جس میں لوگوں کو پانچ چیزوں سے محبت ہوگی اور پانچ چیزوں کو بھلا دیں گے۔

- ① دنیا سے محبت کریں گے اور آخرت کو بھلا دیں گے۔
- ② مال سے محبت کریں گے اور حساب و کتاب کو بھلا دیں گے۔

① ان دونوں باتوں کا تذکرہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت میں نہیں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے جو ترمذی شریف میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت کے بعد ہے (عما میں پانچ پوری)

﴿۹۰﴾ مخلوق سے محبت کریں گے اور خالق کو بھلا دیں گے۔

﴿۹۱﴾ گناہ کی چیزوں سے محبت کریں گے، توبہ کو بھلا دیں گے۔

﴿۹۲﴾ بڑے بڑے محل اور کوشیوں سے محبت کریں گے اور قبر کو بھلا دیں گے۔ (مکاشفۃ القلوب ص ۳۴)

### ﴿۹۱﴾ اندھیری رات میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی سوئی مل گئی

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کثر اعمال میں ایک حدیث مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت حفصہ بنت رواحہ رضی اللہ عنہا سے عاریت پر ایک سوئی لے رکھی تھی، اس سے میں حضور اقدس ﷺ کا کپڑا سیا کرتی تھی۔ اندھیری رات میں وہ سوئی میرے ہاتھ سے گر گئی، بہت تلاش کی نہیں ملی۔ جب حضور اکرم ﷺ گھر میں تشریف لائے تو آپ ﷺ کے چہرہ انور کے نور کی شعاؤں سے سوئی دکھائی دینے لگی۔ میں نے اس کو سوئی اٹھالی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں:

لَنَا شَمْسٌ وَلِلْآفَاقِ شَمْسٌ

وَشَمْسِيْ أَفْضَلُ مِنْ شَمْسِ السَّمَاءِ

”ہمارے ایک سورج ہے اور دنیا والوں کا بھی ایک سورج ہے، اور میرا سورج آسمان کے سورج سے افضل ہے۔“

(منتخب از کثر اعمال علی ہاشم سند احمد: ۲۹/۳)

### ﴿۹۲﴾ بے عمل عالم جنت کی خوشبو سے محروم رہے گا

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ

بِهِ عَرْضًا مِنَ الدُّنْيَا كَمَا يَجِدُ عُرْفَ الْجَنَّةِ الْبَيْمَةِ يُعْنِي رِيْحَهَا) (رواہ احمد و ابوداؤد و ابن ماجہ)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ وہ علم جس سے اللہ کی رضا چاہی جاتی ہے (یعنی دین اور کتاب و سنت کا علم) اگر اس کو کوئی شخص دنیا کی دولت کمانے کے لیے حاصل کرے تو وہ قیامت میں جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا۔“

(عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ لِغَيْرِ اللَّهِ أَوْ لِرَادِهِ غَيْرَ اللَّهِ فَلَيْتَبَوَّأُ مَقْعَدًا مِنَ

النَّارِ) (رواہ الترمذی)

ترجمہ: ”حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس کسی نے علم دین اللہ کی رضا کے لیے

نہیں بلکہ غیر اللہ کے لیے (یعنی دنیوی اور نفسانی اغراض کے لیے) حاصل کیا وہ جہنم میں اپنا ٹھکانا بنا لے۔“

اللہ تعالیٰ نے دین کا علم انبیاء علیہم السلام کے ذریعہ اور آخر میں سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین ﷺ اور اپنی آخری مقدس کتاب

قرآن مجید کے ذریعے اس لئے نازل فرمایا ہے کہ اس کی روشنی اور رہنمائی میں اس کے بندے اللہ کی رضا کے راستے پر چلتے ہوئے اس

کے دابر رحمت یعنی جنت تک پہنچ جائیں۔ اب جو بد نصیب آدمی اس مقدس علم کو اللہ تعالیٰ کی رضا و رحمت کے بجائے اپنی نفسانی خواہشات

کی تکمیل اور دنیوی دولت کمانے کا وسیلہ بناتا ہے اور اس کے واسطے اس کو حاصل کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نازل فرمائے ہوئے اور رسول

اللہ ﷺ کے لئے ہوئے اس مقدس علم پر ظلم عظیم کرتا ہے، اور یہ شدید ترین معصیت ہے۔ اور ان حدیثوں میں رسول اللہ ﷺ نے

اطلاع دی ہے کہ اس کی سزا جنت کی خوشبو تک سے محرومی اور جنت کا عذاب الیم ہے۔



قَالَهُمْ أَحْفَظْنَا (عَنْ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْعَالِمِ الَّذِي يُعَلِّمُ النَّاسَ  
الْمَعْمُورَ وَيُنْبِئُ نَفْسَهُ كَمَثَلِ السِّرَاجِ يَضِيءُ النَّاسَ وَيُحْرِقُ نَفْسَهُ) (رواه الطبرانی و إمام المقدسی)

ترجمہ: ”حضرت جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اس عالم کی مثال جو دوسرے لوگوں کو  
نیک کی تعلیم دیتا ہے اور اپنے کو بھولے رہتا ہے اس چراغ کی سی ہے جو آدمیوں کو تو روشنی فراہم کرتا ہے لیکن اپنی ہستی کو جلاتا  
رہتا ہے۔“

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَالِمٌ لَمْ يَنْفَعَهُ عِلْمُهُ)

(رواه الطحاوی فی مسندہ وصعید بن منصور فی مسندہ وابن عدی فی الکامل و الصحیح فی شعب اللایمان)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے سخت عذاب اس  
عالم کو ہوگا جس کو اس کے علم نے نفع نہیں پہنچایا (یعنی اس نے اپنی علمی زندگی کو علم کے تابع نہیں بنایا)۔“

بعض گناہ ایسے ہیں جن کو بلا تفریق مومن و کافر سب ہی انسان شدید و سنگین جرم اور سخت سزا کا مستوجب سمجھتے ہیں جیسے ڈاکہ زنی،  
خون ناحق، زنا بالجبر، چوری، رشوت ستانی، قیاموں اور بیواؤں اور کمزوروں پر ظلم و زیادتی اور ان کی حق تلفی جیسے ظالمانہ گناہ۔ لیکن بہت سے  
گناہ ایسے ہیں جن کو عام انسانی نگاہ اس طرح شدید و سنگین نہیں سمجھتی، لیکن اللہ کے نزدیک اور فی الحقیقت وہ ان کبار و فواحش ہی کی طرح  
یا ان سے بھی زیادہ شدید و سنگین ہیں، شرک و کفر بھی ایسے ہی گناہ ہیں، اور علم دین جو نبوت کی میراث ہے (اس کی بجائے دینی مقاصد کے  
دینی اغراض کے لیے سیکھنا اور دنیا کمانے کا وسیلہ بنایا، علیٰ ہذا اپنی علمی زندگی کو اس کے تابع نہ بنانا بلکہ اس کے خلاف زندگی گزارنا بھی اسی  
قبیل سے ہیں۔

پہلی قسم کی مصیبتوں میں مخلوق کا مخلوق پر ظلم ہوتا ہے، اس لیے اس کو خدا آشنا کافر بھی محسوس کرتا ہے، اور ظلم و باپ سمجھتا ہے۔ لیکن  
دوسری قسم کے گناہوں میں اللہ و رسول اور ان کی ہدایت و شریعت اور اس مقدس علم کی حق تلفی اور ان پر ایک طرح کا ظلم ہوتا ہے، اس کی  
سنگینی اور شدت کو وہی بندے محسوس کر سکتے ہیں جن کے قلوب اللہ و رسول اور دین و شریعت اور ان کے علم کی عظمت سے آشنا ہوں۔  
حقیقت یہ ہے کہ علم دین کو بجائے رضائے الہی اور اجر اخروی کے دینی اغراض کے لیے سیکھنا اور اس کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنانا، اسی طرح  
خود اس کے خلاف زندگی گزارنا، شرک و کفر اور نفاق کی قبیل کے گناہ ہیں، اس لیے ان کی سزا وہ ہے جو مندرجہ بالا حدیثوں میں بیان فرمائی  
گئی ہے (یعنی جنت کی خوشبو تک سے محروم رہنا، اور دوزخ کا عذاب)۔ اللہ تعالیٰ حاطین علم دین کو توفیق عطا فرمائیں کہ رسول اللہ ﷺ  
کے یہ ارشادات و تنبیہات ہمیشہ ان کے سامنے رہیں۔

### (۹۳) اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہزار قسم کی مخلوقات پیدا کی ہیں

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں ایک سال ٹڈیاں کم ہو گئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے  
ٹڈیوں کے بارے میں بہت پوچھا لیکن کہیں سے کوئی خبر نہ ملی۔ وہ اس سے بہت پریشان ہوئے، چنانچہ انہوں نے ایک سوار یمن بھیجا،  
دوسرا شام اور تیسرا عراق بھیجا تاکہ یہ سوار پوچھ کر آئیں کہ کہیں ٹڈی نظر آئی ہے یا نہیں۔ جو سوار یمن گیا تھا وہاں سے ٹڈیوں کی ایک ٹھی  
لے کر آیا، اور لا کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے ڈال دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب ٹڈیوں کو دیکھا تو تین دفعہ اللہ اکبر کہا۔ پھر فرمایا:  
میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہزار مخلوق پیدا کی ہے، چھ سو سمندر میں اور چار سو خشکی میں، اور  
ان میں سے سب سے پہلے ٹڈی ختم ہوگی، جب ٹڈیاں ختم ہو جائیں گی تو پھر اور مخلوقات بھی ایسے آگے پیچھے ہلاک ہونی شروع ہو جائیں

### (۹۴) دیہاتیوں کے عجیب و غریب سوالات

حضرت سلیم بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال میں کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیہاتی لوگوں کے سوالات سے بڑا نفع پہنچاتے ہیں:

۱) ایک دن ایک دیہاتی آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک ایسے درخت کا ذکر کیا ہے جس سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: وہ کون سا درخت ہے؟ اس نے کہا: بیری کا درخت، کیونکہ اس میں تکلیف دہ کانٹے ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا:

﴿فِي بَيْتٍ مِّنْضَوْءٍ﴾ (سورۃ واقعہ: ۲۸)

ترجمہ: ”وہاں اُن باغوں میں ہوں گے جہاں بے خار بیریاں ہوں گی۔“

اللہ تعالیٰ نے اس کے کانٹے دور کر دیئے ہیں، اور ہر کانٹے کی جگہ پھل لگا دیا ہے۔ اس درخت میں ایسے پھل لگیں گے کہ ہر پھل میں بہتر (۷۲) قسم کے ذائقے ہوں گے اور ہر ذائقہ دوسرے سے مختلف ہوگا۔

۲) حضرت عقبہ بن عبد سلیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں ایک دیہاتی آدمی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت میں ایک ایسے درخت کا ذکر سنا ہے کہ میرے خیال میں اس سے زیادہ کانٹے والا درخت کوئی اور نہیں ہوگا یعنی بول کا درخت۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے اس کے ہر کانٹے کی جگہ بھرے ہوئے گوشت والے بکرے کے خصبہ کے برابر پھل لگا دیں گے اور اس پھل میں ستر (۷۰) قسم کے ذائقے ہوں گے ہر ذائقہ دوسرے سے مختلف ہوگا۔

۳) حضرت عقبہ بن عبد سلیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حوض کے بارے میں پوچھا اور جنت کا تذکرہ کیا، پھر اس دیہاتی نے کہا کیا جنت میں پھل بھی ہوں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں! اس میں ایک درخت ہے جسے طوبیٰ کہا جاتا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور چیز کا بھی ذکر کیا لیکن مجھے معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کیا چیز تھی؟ اس دیہاتی نے کہا: ہمارے علاقہ کے کس درخت کے مشابہ ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہارے علاقہ کے کسی درخت کے مشابہ نہیں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تم شام گئے ہو؟ اس نے کہا: نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ شام کے ایک درخت کے مشابہ ہے جس کو اخروٹ کہا جاتا ہے، ایک تنے پر اُگتا ہے اور اس کے اوپر والی شاخیں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں۔ پھر اس دیہاتی نے کہا: گچھا کتنا بڑا ہوگا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سیاہ سفید داغوں والا کوا بغیر زکے ایک مہینہ مسلسل اُڑ کر جتنا فاصلہ طے کرتا ہے وہ گچھا اس فاصلے کے برابر ہوگا۔ پھر اس دیہاتی نے کہا اس درخت کی جڑ کتنی موٹی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہارے گھر والوں کے اونٹوں میں سے ایک جوان اونٹ چلنا شروع کرے اور چلتے چلتے بوڑھا ہو جائے، اور بوڑھا ہونے کی وجہ سے اس کی ہانسی کی ہڈی ٹوٹ جائے پھر بھی وہ اس کی جڑ کا ایک چکر نہیں لگا سکے گا۔

۴) پھر اس دیہاتی نے پوچھا کیا جنت میں انگور ہوں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں۔ اس نے پوچھا: انگور کا دانہ کتنا بڑا ہوگا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تیرے باپ نے کبھی اپنی بکریوں میں سے بڑا بکر اذبح کیا ہے؟ اس نے کہا: جی ہاں! کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پھر اس نے اس کی کھال اتار کر تیری ماں کو دی ہو اور اس سے کہا ہو کہ اس کھال کا ہمارے لیے ڈول بنا دے؟

اس دیہاتی نے کہا: جی ہاں۔ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: وہ دانہ اس ڈول کے برابر ہوگا۔ پھر اس دیہاتی نے کہا: (جب دانہ ڈول کے برابر ہوگا) پھر تو ایک دانے سے میرا اور میرے گھر والوں کا پیٹ بھر جائے گا۔ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: ہاں! بلکہ تیرے سارے خاندان کا پیٹ بھر جائے گا۔ (حیاء الصحابہ: ۳/۶۶، ۶۷)

۵ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی نے آ کر نبی کریم ﷺ کی خدمت میں عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ قیامت کے دن مخلوق کا حساب کون لے گا؟ حضور ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ۔ اس دیہاتی نے کہا: رب کعبہ کی قسم پھر تو ہم نجات پاگئے۔ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: اے دیہاتی کیسے؟ اس نے کہا: کیونکہ کریم ذات جب کسی پر قابو پالیتی ہے تو معاف کر دیتی ہے۔

(حیاء الصحابہ: ۳/۴۱)

### (۹۵) چھ چیزوں کے ظہور سے پہلے موت بہتر ہے

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے سامنے چھ چیزیں ظاہر ہونے لگیں تو تمہارے لیے دنیا میں زندہ رہنے سے موت بہتر ہوگی۔

(عَنْ عَبَسَ الْغِفَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ بَأْسٌ بِالْمَوْتِ سِتًّا ① بُرْمَةٌ أَسْفَهَاءٍ ② وَكَثْرَةُ الشُّرْطِ ③ وَبَيْعُ الْحُكْمِ ④ وَاسْتِخْفَانًا بِالْذَّمِّ ⑤ وَكَطْعَمَةُ الرَّحِمِ ⑥ وَنَشَأُ يَتَخَذُونَ الْقُرْآنَ مَزَامِيرًا يُقَدِّمُونَهُ يُغْنِيهِمْ وَإِنْ كَانَ أَقْلٌ مِنْهُمْ فَلَهَا) (مسند احمد: ۳/۴۹۴)

ترجمہ: ”حضرت عبدغفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ چھ چیزوں پر موت کے ذریعہ سبقت کر جاؤ یعنی ان سے پہلے مر جاؤ۔ ① بے وقوفوں اور نادانوں کی امارت اور سربراہی پر۔ ② پولیس کی کثرت پر۔ ③ فیصلہ کی فردختگی پر۔ ④ خون ریزی کی معمولی سمجھے جانے پر۔ ⑤ رشتہ نانا توڑے جانے پر۔ ⑥ ایسی نسل پر جو قرآن کریم کو باجا گانا بنائے گی، وہ تلاوت کرنے والے کو آگے کریں گے جو ان کو قرآن گانے کی نئی نئی سنائے گا اگرچہ وہ دین کے فہم میں ان سے کم تر ہوگا (مگر محض خوش الحانی کی وجہ سے آگے بڑھایا جائے گا)۔“

اس حدیث پاک میں جناب رسالت مآب ﷺ نے چھ قسم کی جاہ کن چیزوں کی پیشین گوئی فرمائی ہے جن سے امت کا حال بد سے بدتر ہو جائے گا، معاشرہ نہایت خراب ہو جائے گا، اسلام کا پورا حلیہ بدل جائے گا۔ اس وقت کے لیے آپ ﷺ نے فرمایا کہ ایسی زندگی سے موت بہتر ہو جائے گی۔

نبی کریم ﷺ کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جس میں نا اہل اور نادان لوگ حاکم سربراہ ہوں گے، ان کی امارت و حکومت میں زندہ رہنے سے موت بہتر ہوگی۔

ترمذی شریف کی ایک حدیث میں آیا ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے حکام اور لیڈر تم میں سب سے گھٹیا اور بدترین ہوں گے، اور بخیل تمہارے مالدار ہوں گے، اور تمہارے معاملات عورتوں کے مشوروں سے طے ہونے لگیں گے تو تمہارا دنیا میں زندہ رہنے سے مر کر قبروں میں دفن ہو جانا زیادہ بہتر ہوگا۔ (ترمذی شریف: ۵۷/۲)

حضور اکرم ﷺ کے زمانہ میں پولیس والے ایسے نہیں تھے جیسے اب ہیں، پولیس کی ضرورت صرف مقامی حالات بہتر کرنے اور لوگوں کو ظلم و زیادتی سے روک تھام کرنے کے لیے پڑتی ہے۔ لیکن اب ظلم و زیادتی کو روکنے کے بجائے پولیس والوں کی طرف سے جو ظلم و زیادتی ہوتی ہیں، ان کی انتہا نہیں رہی۔ راستوں میں گاڑی گھوڑوں کی ڈاکوؤں اور پوروں سے حفاظت کے لیے کتنی ہی پولیس کو متعین

کر دیا جائے مگر بجائے حفاظت کرنے کے خود ہی مسافروں اور گاڑی والوں کو پریشان کرتے ہیں اور خوب رشوت لیتے ہیں، آج کل پولیس کی کس قدر کثرت ہے سب دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ جب ایسی رذیل ترین پولیس کی کثرت ہو جائے تو دنیا میں زندہ رہنے سے موت بہتر ہے۔

ایک حدیث میں آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ دو قسم کے لوگ اس وقت دنیا میں موجود نہیں ہیں، وہ آئندہ چل کر پیدا ہوں گے۔  
 ① وہ عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود نکلی ہوں گی اور راستہ میں نہایت سنور کر بے پردہ چلیں گی، ننگے سر ہونے کی وجہ سے چلتے وقت ان کے سر اونٹوں کی کوہان کی طرح ہلے رہیں گے۔ ایسی عورتوں کو جنت کی بونک نصیب نہ ہوگی۔

② وہ پولیس، پی۔ اے۔ سی جن کے ہاتھوں میں جانوروں کی دم کی طرح ڈنڈے ہوں گے، ان سے غریبوں اور نہتوں کو ماریں گے، ان کو بھی جنت نصیب نہ ہوگی۔ (مسلم شریف: ۲۰/۲، مشکوٰۃ ص ۳۰۲)

نیز آپ ﷺ نے فرمایا کہ ایک زمانہ آنے والا ہے جس میں حاکموں اور قاضیوں کے فیصلے فروخت ہوں گے، جس کے پاس پیسہ ہوگا وہ رشوت دے کر اپنے حق میں فیصلہ کروالے گا، عدل و انصاف نام کا بھی نہیں رہے گا، حق و انصاف کا فیصلہ نہیں ہوگا بلکہ رشوت کا فیصلہ ہوا کرے گا، حاکم و قاضی خود کہے گا کہ ہمارا قلم تو یہ بتا رہا ہے کہ ہم اس کے حق میں فیصلہ لکھیں گے جو موٹا لٹافہ پیش کرے۔

بھائیو! پہلے تو حاکم و قاضی کا پیش کار، کلرک وغیرہ چھپ چھپا کر رشوت کی بات کیا کرتے تھے، مگر اب تو سرعام حاکم و قاضی کی کرسی پر ہی معاملہ طے کیا جاتا ہے۔ اس لیے نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ جب ایسا وقت آجائے تو دنیا میں زندہ رہنے سے موت بہتر ہے۔  
 بھائیو! خوب اچھی طرح سن لو! نبی کریم ﷺ نے تین لوگوں پر لعنت فرمائی ہے:

① رشوت لینے والے پر۔

② رشوت دینے والے پر۔

③ ان دونوں کے درمیان ترجمانی کرنے والے پر۔

مسند احمد میں حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ:

(لَعْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّائِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ وَالرَّاهِسَ الَّذِي يُعْشِي بَيْنَهُمَا) (مسند احمد: ۲۰۵/۳)

ترجمہ: ”رسول اللہ ﷺ نے رشوت دینے والے، رشوت لینے والے اور ان دونوں کے درمیان ترجمانی کرنے والے پر لعنت فرمائی ہے۔“

نیز آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ایسا زمانہ آنے والا ہے جس میں قتل و عارت گری اور بات بات پر خون خرابہ کرنا کوئی اہم بات نہ ہوگی، ذرا ذرا اسی بات پر چاقو، تلوار، بندوق نکل آئیں گی، منٹوں میں قتل و خون ریزی ہونے لگے گی۔ کون کس پر حملہ کر رہا ہے کس کی گردن ماز رہا ہے، اس کی کوئی پروا نہ ہوگی۔ جب ایسا فتنہ و فساد کا زمانہ آجائے تو دنیا میں زندہ رہنے سے موت بہتر ہوگی۔

آپ ﷺ نے حجۃ الوداع کے موقع پر ہر خطبہ میں بار بار یہ فرمایا ہے کہ تم میرے بعد ایک دوسرے کی گردن نہ مارنا اس سے تم پر خطرہ ہے کہ کفار و مرتد بن کر اسلام سے ہی پھر جاؤ۔

آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ایسا زمانہ آنے والا ہے جس میں عزیز و اقارب کے ساتھ ہمدردی صلہ رحمی سب ختم ہو جائیں گی۔ لوگ اپنے رشتہ داروں اور قرابتداروں سے دور رہنے میں عافیت اور خیر سمجھنے لگیں گے۔ کچھ تو اس لیے دور رہنے لگیں گے کہ ان کو قرابت داروں سے بجائے ہمدردی کے تکلیف اور ایذا پہنچتی ہے، اور کچھ اس لیے دوری اختیار کریں گے تاکہ بددینہ کرنی پڑے۔

ایک حدیث شریف میں آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تین قسم کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ بہت سخت ناراض ہیں، وہ ابغض الناس الی اللہ ہیں۔

- ① اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے۔
  - ② قرابت داروں کے ساتھ بے دردی سے نانا توڑنے والے۔
  - ③ منکر اور برائی کا حکم کرنے والے اور بھلائی سے روکنے والے۔ (ترغیب و ترہیب: ۳/۲۷۷)
- ایک حدیث شریف میں دو کام کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تین چیزوں کی بشارت ہے، وہ دو کام یہ ہیں۔
- ① اللہ تعالیٰ کا خوف غالب رہے تقویٰ و ورع اختیار کرے۔
  - ② رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کرے۔
- جو یہ دو کام کرے گا اس کے لیے یہ تین بشارتیں ہیں:
- ① اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے گا، حیات دراز کرے گا۔
  - ② اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں فراوانی کرے گا۔
  - ③ بری موت سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا۔

(عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ سَرَّ أَنْ يَمُدَّ لَهُ فِي عُمُرِهِ وَيُوسَعَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُدْفَعَ عَنْهُ مَهْمَةُ السُّوءِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلْيُصِلْ رَحِمَةً) (رواه لمصعب بن شيبة الايمان)

ترجمہ: ”حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جو شخص یہ چاہے کہ اس کی عمر دراز کی جائے، اور اس کے رزق میں وسعت پیدا کر دی جائے، اور اس سے بری موت کو دور کر دیا جائے تو چاہیے کہ اللہ سے ڈرے تقویٰ اختیار کرے اور چاہیے کہ صلہ رحمی کا عادی بن جائے۔“

آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس میں لوگ قرآن کریم کو گانا اور باجا بنالیں گے یعنی قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا گانے کی طرز پر پڑھے گا، اور لوگ کھیل تماشہ کی طرح دیکھنے اور سننے کے لیے جمع ہو جائیں گے، ان میں سے کسی فرد میں یہ داعیہ نہ ہوگا کہ قرآن سن کر اس کو سمجھے اور اس کے مطابق عمل کرے۔ آج کل ہونٹوں اور چوراہوں اور ڈکانوں میں عمدہ ترین قاری کی قرأت کیسٹوں میں چالو کر دی جاتی ہے اور دور دور تک اس کی آواز پہنچتی ہے، اور وہیں پر کوئی سگریٹ پی رہا ہے، اور کوئی چائے پی رہا ہے، اور کوئی باتیں کر رہا ہے، اور کوئی واہ واہ کر رہا ہے، کیا یہ قرآن کریم کی سخت ترین بے ادبی اور گستاخی اور توہین نہیں ہے؟ ایک صاحب ایمان مسلمان اس کو کیسے برداشت کر رہا ہے؟ اسی لیے جناب رسالت مآب ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب ایسا زمانہ آجائے تو تمہارے لیے دنیا میں زندہ رہنے سے موت بہتر ہوگی۔

## ﴿۹۶﴾ نماز کی برکت سے حضرت آدم علیہ السلام کی گردن کا پھوڑا ٹھیک ہو گیا

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی گردن میں پھوڑا نکل آیا، انہوں نے نماز پڑھی تو وہ پھوڑا نیچے اتر کر سینے پر آ گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پھر نماز پڑھی تو وہ کوکھ میں آ گیا۔ انہوں نے پھر نماز پڑھی تو ٹخنے میں آ گیا۔ انہوں نے پھر نماز پڑھی تو انگوٹھے میں آ گیا۔ انہوں نے پھر نماز پڑھی تو وہ چلا گیا۔ (حیاء الصحابہ: ۳/۱۰۷)

## (۹۷) نماز کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ارشادات

- ① حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تک تم نماز میں ہوتے ہو بادشاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہو، اور جو بادشاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اس کے لیے دروازہ ضرور کھلتا ہے۔
- ② حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اپنی ضرورتیں فرض نمازوں پر اٹھا رکھو یعنی فرض نمازوں کے بعد اپنی ضرورتیں اللہ تعالیٰ سے مانگو۔
- ③ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تک آدمی کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے گا اس وقت تک ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک کے درمیان جتنے گناہ کئے ہوں گے وہ سارے گناہ نماز سے معاف ہو جائیں گے۔
- ④ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نمازیں بعد والے گناہوں کے لیے کفارہ ہوتی ہیں۔
- ⑤ حضرت آدم علیہ السلام کے پاؤں کے انگوٹھے میں ایک پھوڑا نکل آیا تھا پھر وہ پھوڑا چڑھ کر پاؤں کی جڑ یعنی ایزی میں آ گیا، پھر چڑھ کر گھٹنوں میں آ گیا پھر کھوکھ میں آ گیا، پھر چڑھ کر گردن میں آ گیا، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی تو وہ پھوڑا کندھوں سے نیچے آ گیا، انہوں نے پھر نماز پڑھی تو وہ نکل کر ان کی کھوکھ پر آ گیا، پھر نماز پڑھی تو اتر کر گھٹنوں پر آ گیا، پھر نماز پڑھی تو اتر کر قدموں میں آ گیا، پھر نماز پڑھی تو وہ پھوڑا ختم ہو گیا۔ (حیاء الصحابہ: ۱۰۷/۳)

## (۹۸) ایک عورت کا عجیب قصہ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت میرے پاس آئی اور اس نے مجھ سے پوچھا: کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ میں نے زنا کیا تھا جس سے میرے ہاں بچہ پیدا ہوا، پھر میں نے اس بچہ کو قتل کر ڈالا، میں نے کہا نہیں (تم نے دو بڑے گناہ کئے ہیں اس لیے) نہ تو تمہاری آنکھ کبھی ٹھنڈی ہو، اور نہ تجھے شرافت و کرامت حاصل ہو۔ اس پر وہ عورت افسوس کرتی ہوئی اٹھ کر چلی گئی۔ پھر میں نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی، اور اس عورت نے جو کچھ کہا تھا اور میں نے اسے جو جواب دیا تھا وہ سب حضور ﷺ کو بتایا، حضور اکرم ﷺ نے فرمایا، تم نے اسے برا جواب دیا، کیا تم یہ آیت نہیں پڑھتے:

﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَمًا يُضْعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ (سورۃ الفرقان: ۷۶-۷۸)

ترجمہ: ”اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور معبود کی پرستش نہیں کرتے، اور جس شخص کے قتل کرنے کو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے اس کو قتل نہیں کرتے ہاں مگر حق پر، اور وہ زنا نہیں کرتے، اور جو شخص ایسے کام کرے گا تو سزا سے اس کو سابقہ پڑے گا کہ قیامت کے روز اس کا عذاب بڑھتا چلا جائے گا اور وہ اس (عذاب) میں ہمیشہ ہمیشہ ذلیل (دخوار) ہو کر رہے گا، مگر جو (شرک اور معاصی سے) توبہ کر لے اور (ایمان) بھی لے آوے اور نیک کام کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے (گزشتہ) گناہوں کی جگہ نیکیاں عنایت فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔“

پھر میں نے یہ آیتیں اس عورت کو پڑھ کر سنائیں، اس نے کہا تمام تعزیریں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میری خلاصی کی صورت بنا دی۔ ابن جریر کی ایک روایت میں ہے کہ وہ افسوس کرتے ہوئے ان کے پاس سے چلی گئی اور وہ کہہ رہی تھی ہائے افسوس! کیا یہ حسن

جہنم کے لیے کیا گیا ہے؟ اس روایت میں آگے یہ ہے کہ حضور اکرم ﷺ کے پاس سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما واپس آئے اور انہوں نے مدینہ کے تمام محلوں اور گھروں میں اس عورت کو ڈھونڈنا شروع کیا، اسے بہت ڈھونڈنا تھا لیکن وہ عورت کہیں نہ ملی، اگلی رات کو وہ خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کے پاس آئی تو حضور اکرم ﷺ نے جو جواب دیا تھا وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما نے اُسے بتا دیا، وہ فوراً سجدہ میں گر گئی اور کہنے لگی۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میرے لیے خلاصی بنا دی، اور جو گناہ مجھ سے سرزد ہو گیا تھا اس سے توبہ کا راستہ بتا دیا اور اس عورت نے اپنی ایک باندی اور اس کی بیٹی آزادی، اور اللہ کے سامنے سچی توبہ کی۔ (تفسیر ابن کثیر ۴/۲۷)

### (۹۹) ایک ہزار برس تک جہنم میں یا حِثَّانُ یا مِثَّانُ کہنے والے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ

رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ ایک جہنمی ایک ہزار سال تک جہنم میں چلانا رہے گا: یا حِثَّانُ یا مِثَّانُ! تب اللہ تعالیٰ جبرئیل علیہ السلام سے فرمائے گا: ”جاؤ! دیکھو! یہ کیا کہہ رہا ہے؟“ جبرئیل علیہ السلام آ کر دیکھیں گے کہ سب جہنمی برے حال میں سر جھکائے آہ وزاری کر رہے ہیں، جا کر جناب باری تعالیٰ میں خبر کریں گے۔ اللہ فرمائے گا: ”پھر جاؤ! فلاں فلاں جگہ یہ شخص ہے، جاؤ! اسے لے آؤ۔“ حضرت جبرئیل علیہ السلام حکم خدا تعالیٰ جائیں گے اور اسے لاکر خدا کے سامنے کھڑا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس سے دریافت فرمائے گا کہ تو کیسی جگہ ہے؟ یہ جواب دے گا کہ خدایا! ظہرنے کی بھی بری جگہ اور سونے بیٹھنے کی بھی بدترین جگہ ہے۔

خدا تعالیٰ فرمائے گا: اچھا اب اسے اس کی جگہ واپس کر آؤ، گو یہ گڑ گڑائے گا، عرض کرے گا کہ اے میرے ارحم الراحمین خدا! جب تو نے مجھے اس سے باہر نکالا تو تیری ذات ایسی نہیں کہ تو پھر مجھے اس میں داخل کر دے، مجھے تجھ سے رحم و کرم ہی کی امید ہے۔ خدایا! بس اب مجھ پر کرم فرما! جب تو نے مجھے جہنم سے نکالا تو میں خوش ہو گیا تھا کہ اب تو اس میں نہیں ڈالے گا۔ اس مالک درحمان و رحیم خدا کو بھی رحم آجائے گا اور فرمائے گا: ”اچھا میرے بندے کو چھوڑ دو۔“ (تفسیر ابن کثیر ۴/۱۹)

### (۱۰۰) سب سے آخر میں جہنم سے نکلنے والے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ

حضور ﷺ فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کو پہچانتا ہوں جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا اور سب سے آخر میں جنت میں جائے گا۔ یہ ایک گناہ گار بندہ ہوگا جسے خدا کے سامنے لایا جائے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا: اس کے بڑے بڑے گناہ چھوڑ کر چھوٹے چھوٹے گناہوں کی نسبت اس سے باز پرست کرو، چنانچہ اس سے سوال ہوگا کہ فلاں دن تو نے فلاں کام کیا تھا؟ یہ ایک کا بھی انکار نہ کر سکے گا، اقرار کرے گا۔ آخر میں کہا جائے گا کہ تجھے ہم نے ہر گناہ کے بدلے نیکی دی۔ اب تو اس کی باجھیں کھل جائیں گی، اور کہے گا: اے میرے پروردگار! میں نے اور بھی بہت سے اعمال کئے تھے جنہیں یہاں پانہیں رہا۔ یہ فرما کر حضور اقدس ﷺ اس قدر نئے کہ آپ ﷺ کے مسوڑھے دیکھے جانے لگے۔ (مسلم، بحوالہ ابن کثیر ۴/۲۱)

### (۱۰۱) جب انسان سوتا ہے تو فرشتہ ایک ایک نیکی کے بدلے دس دس گناہ مٹا دیتا ہے

نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں کہ جب انسان سوتا ہے تو فرشتہ شیطان سے کہتا ہے کہ مجھے اپنا صحیفہ جس میں اس کے گناہ لکھے ہوئے ہیں دے۔ وہ دے دیتا ہے تو ایک ایک نیکی کے بدلے میں دس دس گناہ وہ اس کے صحیفے سے مٹا دیتا ہے اور انہیں نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ پس تم میں سے جو بھی سونے کا ارادہ کرے تو وہ ”تینتیس دفعہ سُبْحَانَ اللَّهِ“ ”تینتیس دفعہ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ“ اور چونتیس دفعہ ”اللَّهُ أَكْبَرُ“ کہے۔ یہ لکھ کر سوتیہ ہو گیا۔ (ابن ابی الدنیا بحوالہ ابن کثیر ۴/۲۱)

## (۱۰۲) قیامت کے دن نیک لوگوں کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا جائے گا

حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کو قیامت کے دن نامہ اعمال دیا جائے گا۔ وہ پڑھنا شروع کرے گا تو اس میں اس کی برائیاں درج ہوں گی، جنہیں پڑھ کر یہ کچھ ناامید سا ہونے لگے گا۔ اس وقت اس کی نظریچے کی طرف پڑے گی تو اپنی نیکیاں لکھیں ہوئی پائے گا۔ جس سے کچھ ڈھارس بندھے گی، اب دوبارہ اوپر کی طرف دیکھے گا تو وہاں اس کی برائیوں کو بھی بھلائیوں سے بدلا ہوا پائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ خدا کے سامنے آئیں گے جن کے پاس بہت کچھ گناہ ہوں گے، پوچھا گیا وہ کون سے لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ جن کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ بھلائیوں سے بدل دے گا۔ (تفسیر ابن کثیر: ۴/۱۷۱)

## (۱۰۳) ہر شر سے حفاظت کا بہترین نسخہ

حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ عنہ صحابی روایت کرتے ہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بارش کی رات اور سخت اندھیرے میں تلاش کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم پا گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین بار ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ اور تین بار ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ اور تین مرتبہ ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ صبح شام پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے ہر شر سے کافی ہو جائے گا۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۱۸۸)

یہ وظیفہ ہر شر سے بچانے کے لیے کافی ہے یعنی نفس و شیطان اور جنات و آسیب جادو، حاسد و دشمنوں کے ہر شر اور بری نظر کے شر سے حفاظت کا بہترین نسخہ ہے، نیز یہ وظیفہ ہر وظیفہ کی طرف سے بھی کافی ہے۔

## (۱۰۴) ہر غم سے نجات کا بہترین نسخہ

﴿حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ (سورہ توبہ: ۱۲۹)

ترجمہ: ”کافی ہے مجھ کو اللہ تعالیٰ نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔“

ابوداؤد شریف میں ہے کہ جو شخص اس کو سات مرتبہ صبح اور سات مرتبہ شام پڑھ لیا کرے، اللہ تعالیٰ اس کے دنیا اور آخرت کے ہر غم اور فکر کے لیے کافی ہو جائے گا۔ مشہور مفسر علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ورد اس فقیر کا بھی ہے۔ (تفسیر روح المعانی)

## (۱۰۵) حضرت معاذ اور ان کی اہلیہ میں نوک جھونک

حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو قبیلہ بنو کلاب میں صدقات وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے وہاں جا کر صدقات وصول کر کے ان میں ہی تقسیم کر دیے اور اپنے لیے کوئی چیز نہ چھوڑی، اور اپنا جوٹا لے کر گئے تھے اسے ہی اپنی گردن میں رکھے ہوئے واپس آئے، تو ان کی بیوی نے ان سے پوچھا کہ صدقات وصول کرنے والے اپنے گھر والوں کے لیے جو ہدیہ لایا کرتے ہیں وہ کہاں ہیں؟

حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا: میرے ساتھ مجھے دبا کر رکھنے والا ایک نگران تھا۔ اس لیے ہدیے نہیں لاسکا۔ اس کی بیوی نے کہا: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاں تو آپ امین تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کے ساتھ دبا کر رکھنے والا ایک نگران بھی بھیج دیا؟ وہ آپ کو امین نہیں سمجھتے۔ ان کی بیوی نے اپنے خاندان کی عورتوں میں اس کا بڑا شور مچایا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شکایت کی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ خبر پہنچی تو انہوں نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو بلا کر پوچھا: کیا میں نے تمہارے ساتھ کوئی نگران بھیجا تھا؟ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا: مجھے اپنی بیوی سے معذرت کرنے کے لیے اور کوئی بہانہ نہ ملا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہنسے اور انہیں کوئی چیز دی، اور



فرمایا: یہ دے کر اسے راضی کر لو۔ ابن جریر کہتے ہیں کہ عمر اس سے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی مراد اللہ تعالیٰ ہیں۔ (حیاء الصحابہ: ۳/۴۲)

### ﴿۱۰۶﴾ محبت بڑھانے کیلئے میاں بیوی کا آپس میں جھوٹ بولنا جائز ہے

حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن رواحہ رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کے پہلو میں لیٹے ہوئے تھے، ان کی باندی گھر کے کونے میں (سورہی) تھی۔ یہ اٹھ کر اس کے پاس چلے گئے اور اس میں مشغول ہو گئے۔ ان کی بیوی گھبرا کر اٹھی، اور ان کو بستر پر نہ پایا تو وہ اٹھ کر باہر چلی گئی اور انہیں باندی میں مشغول دیکھا، وہ اندر واپس آئی اور چھری لے کر باہر نکلی۔ اتنے میں یہ فارغ ہو کر کھڑے ہو چکے تھے، اور اپنی بیوی کو راستے میں ملے۔ بیوی نے چھری اٹھائی ہوئی تھی۔ انہوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ بیوی نے کہا: ہاں! کیا بات ہے؟ اگر میں تمہیں وہاں پالیتی جہاں میں نے تمہیں دیکھا تھا تو میں تمہارے کندھوں کے درمیان یہ چھری گھونپ دیتی۔ حضرت ابن رواحہ رضی اللہ عنہ نے کہا: تم نے مجھے کہاں دیکھا تھا؟ انہوں نے کہا: میں نے تمہیں باندی کے پاس دیکھا تھا۔ حضرت ابن رواحہ رضی اللہ عنہ نے کہا: تم نے مجھے وہاں نہیں دیکھا تھا (میں باندی کے پاس نہیں گیا، میں نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا، اگر میں نے اس کے ساتھ کچھ کیا ہوتا تو میں چھپی ہوتا) اور حضور اکرم ﷺ نے حالت جنابت میں قرآن پڑھنے سے ہمیں منع فرمایا ہے (اور میں ابھی قرآن پڑھ کر تمہیں سنا دیتا ہوں)۔ ان کی بیوی نے کہا: اچھا قرآن پڑھو۔ انہوں نے یہ اشعار پڑھے:

آتَانَا رَسُولُ اللَّهِ يَتْلُو كِتَابَهُ  
كَمَا لَأَحْمَشُهُ مِنَ الْفَجْرِ سَاطِعُ

ترجمہ: ”ہمارے پاس اللہ کے رسول ﷺ آئے جو اللہ کی ایسی کتاب پڑھتے ہیں جو کہ روشن اور چمک دار صبح کی طرح چمکتی ہے۔“

أَنَّى بِاللَّهِ بَعْدَ الْعَمَى فَنَلُّونَا  
بِهِ مَوْقِعَاتٍ أَنْ مَا قَالَ وَآيُهُ

ترجمہ: ”آپ ﷺ لوگوں کے اندھے پن کے بعد ہدایت لے کر آئے اور ہمارے دلوں کو یقین ہے کہ آپ ﷺ نے جو کچھ کہا ہے وہ ہو کر رہے گا۔“

يَبِيتُ يُجَانِسُ جَنْبَهُ عَنْ فَرْشِهِ  
إِذَا اسْتَقَلَّتْ بِالْمُشْرِكِينَ الْمَضَاجِعُ

ترجمہ: ”جب مشرکین بستروں پر گہری نیند میں سو رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ ﷺ عبادت میں ساری رات گزار دیتے ہیں اور آپ ﷺ کا پہلو بستر سے دور رہتا ہے۔“

یہ اشعار سن کر ان کی بیوی نے کہا: میں اللہ پر ایمان لاتی ہوں اور میں اپنی نگاہ کو غلط قرار دیتی ہوں۔ پھر صبح کو حضرت ابن رواحہ رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم ﷺ کی خدمت میں جا کر یہ واقعہ سنایا تو رسول اللہ ﷺ تانے سے کہ آپ ﷺ کے دندان مبارک نظر آنے لگے۔

### ﴿۱۰۷﴾ مسجد میں ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں ڈالنا شیطانی حرکت ہے

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کے غلام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں (اپنے آقا) حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا، وہ حضور اکرم ﷺ کے ساتھ جا رہے تھے، اتنے میں ہم لوگ مسجد میں داخل ہو گئے، تو ہم نے دیکھا کہ مسجد کے چھینچھینچے میں ایک آدمی پیٹھ اور ٹانگوں کو

کپڑے سے باندھ کر بیٹھا ہوا ہے، اور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں ڈال رکھی ہیں۔ حضور اکرم ﷺ نے اسے اشارے سے سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ سمجھ نہ سکا، تو حضور ﷺ نے حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہما کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی مسجد میں ہو تو اپنی انگلیاں ہرگز ایک دوسرے میں نہ ڈالے، کیونکہ یہ شیطانی حرکت ہے، اور جب تم میں سے کوئی آدمی مسجد میں ہوتا ہے تو وہ مسجد سے باہر جانے تک نماز ہی میں ہوتا ہے۔ (حیاء الصحابہ: ۱۳۲/۳)

### ﴿۱۰۸﴾ ایک بڑے عالم کی گمراہی کا عبرت ناک واقعہ

﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الضَّالِّينَ﴾ (سورہ اعراف: ۱۷۵)

ترجمہ: ”اور سنا دیجئے آپ ﷺ ان کو اس شخص کا حال جس کو ہم نے اپنی آیتیں دی تھیں پھر وہ ان کو چھوڑ نکلا، پھر اس کے پیچھے شیطان لگ گیا تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔“

مذکورہ بالا آیت میں جس شخص کا قصہ بیان کیا گیا ہے، چونکہ قرآن کریم میں اس کا کوئی نام اور شخص مذکور نہیں ہے اس لیے اس کی تعین کے بارے میں ائمہ تفسیر صحابہ اور تابعین کے درمیان اختلاف ہے، اور متعدد روایات اس سلسلہ میں وارد ہوئی ہیں، سب سے زیادہ قابل اعتماد اور مشہور روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی ہے، جس کو حضرت ابن مردویہ نے نقل کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس شخص کا نام بلعم بن باعورا تھا، بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑا عالم اور مشہور مقتدا تھا، وسیع علم اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ملکہ رکھتا تھا، بڑا عابد و زاہد اور مستجاب الدعوات تھا، اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم جانتا تھا، مگر جب نفسانی خواہشات و اغراض اور دنیا کی طرف میلان کا غلبہ ہوا اور ہوا پرستی میں مبتلا ہوا تو سب علم و معرفت ختم ہو گیا، اور دفعۃً عروج اور ہدایت کے بعد گمراہی میں پھنس گیا، اور عند اللہ تمام محبوبیت و مقبولیت زائل ہو کر ذلیل و خوار ہو گیا۔

جناب رسول کریم ﷺ کو ان آیات میں حکم ہوتا ہے کہ آپ اپنی قوم کے سامنے اس عبرت ناک قصہ کو سنائیے تاکہ آپ کی قوم اس کو سن کر عقل و فہم سے کام لے اور عبرت حاصل کر لے اور ایمان لے آئے۔

### ﴿۱۰۹﴾ بلعم بن باعورا کا واقعہ

جب فرعون مع اپنے لشکر کے غرق ہو گیا اور مصر فتح ہو کر بنی اسرائیل کے ساتھ آ گیا، اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو قوم جبارین سے جہاد کرنے کا حکم ہوا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام مجاہدین کفر شکن کو لے کر وہاں پہنچے، کھان کی زمین میں مجاہدین کے خیمے استادہ کر دیئے اور شہر بقاء پر حملہ کا ارادہ کیا۔

قوم جبارین نے جب یہ دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام مع بنی اسرائیل کے حملہ کرنے والے ہیں، چونکہ ان کو معلوم تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ میں فرعون اور اس کا لشکر شکست کھا گیا اور غرق ہو کر تباہ و برباد ہو گیا، اور ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے قوم کے سر آوردہ اور معزز لوگ جمع ہو کر بلعم بن باعورا کے پاس آئے اور کہا موسیٰ علیہ السلام بہت تند مزاج ہیں، بڑی قوت اور شوکت و دبدبہ والے آدمی ہیں، بہت بڑا لشکر لے کر ہمارے ملک پر حملہ کرنے والے ہیں، وہ ہم پر غلبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور ہم کو ہمارے ملک سے نکال دینا چاہتے ہیں، آپ سے ہماری یہ التجا ہے کہ آپ دعا کر دیں کہ وہ واپس چلے جائیں اور ہم سے مقابلہ نہ کریں۔ بلعم بن باعورا نے جواب دیا:

(دِينُهُ وَدِينِي وَاحِدٌ وَهَذَا شَيْءٌ لَا يَكُونُ)

ترجمہ: ”ایسا نہیں ہو سکتا وہ تو میرے ہم مذہب ہیں جو ان کا دین ہے وہی میرا دین ہے۔“

میں ان کے حق میں بددعا کیسے کر سکتا ہوں؟ میں جانتا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور ان کی مدد کے لیے اللہ کے فرشتے اور ایمان والے ان کے ساتھ ہیں، اگر میں نے بددعا کر دی تو دنیا اور آخرت میں برباد ہو جاؤں گا، دونوں جہانوں میں رسوائی و ذلت ہوگی۔

جب لوگوں نے بہت اصرار کیا تو بلعم نے کہا: اچھا! میں رب سے ان کے بارے میں معلوم کر لوں کہ ان کے لیے بددعا کرنے کی اجازت ہے یا نہیں۔ حسب معمول بلعم نے استخارہ یا کوئی عمل کیا، خواب میں بلعم کو بتایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے کفر شکن مجاہدین کے لیے ہرگز ہرگز بددعا نہ کرے۔ بلعم نے استخارہ کے بعد صاف انکار کر دیا کہ مجھے بددعا کرنے سے سختی کے ساتھ روک دیا گیا ہے۔

بعض روایات میں آتا ہے کہ شاہ بلقاء نے دھمکی دی کہ اگر بددعا نہ کی تو تم کو سولی دے دی جائے گی، جب کہ بعض مفسرین اس کے قائل ہیں کہ قوم نے ایک بہت بڑی رقم رشوت کی ہدایا کے نام پر اس کی بیوی کو دے کر اس کو آمادہ اور تیار کیا۔ بلعم کو بیوی سے بے انتہا محبت تھی، بیوی نے اس کو بددعا کے لیے تیار کر لیا۔ بادشاہ کو تحریف اور قوم کی آہ و زاری اور تضرع بہت زیادہ ہوئی، نیز بیوی کی ہٹ حد سے زیادہ ہوئی، اور بیوی کی محبت اور مال کی طلب میں بالکل اندھا ہو گیا اور اپنے گدھے پر سوار ہوا، مقام "حسان" جہاں مسلمانوں کا لشکر پڑا ہوا تھا۔ اس کی طرف بددعا کرنے کے لیے جا رہا تھا تو راستہ میں گدھا گر پڑا۔ بلعم جبر سے اس کو آگے چلانا چاہتا تھا، سواری کے رکنے اور اس کے گرنے سے اس کو کوئی شبہ نہ ہوئی تو بحکم قادر مطلق گدھا بولا کہ اے بلعم! تمہارے لیے خرابی و بربادی ہو! تم سوچتے اور دیکھتے نہیں ہو، میرے سامنے فرشتے موجود ہیں جو مجھے آگے نہیں جانے دیتے، پیچھے کی طرف مجھے لوٹا رہے ہو۔ یہ سن کر بلعم کچھ جھجکا، مگر شیطان نے اس کو بہکا دیا، بالآخر وہ آگے بڑھا اور بددعا کرنے میں مشغول ہو گیا۔

اس وقت قدرت الہی کا عجیب و غریب کرشمہ ہوا کہ بلعم بددعا کے جو الفاظ و کلمات حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا وہ سب قوم جبارین ہی کے لیے اس کی زبان سے نکل رہے تھے اور اپنی قوم کے لیے جو دعائیہ الفاظ بولنا چاہتا تھا، وہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لشکر کے لیے بولنے لگا۔ قوم جبارین نے جب یہ دیکھا تو وہ چلا اٹھے اور کہنے لگے کہ تم تو ہمارے لیے بددعا کر رہے ہو۔ بلعم نے جواب دیا کہ میری زبان میرے اختیار سے باہر ہے۔ یہ سب کچھ جو میں کر رہا ہوں اس کے کہنے پر قادر نہیں ہوں، بے اختیار نکل رہے ہیں۔ اس بددعا کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ بلعم کی زبان اس کے سینے پر لٹک گئی اور اس کی قوم تباہی و بربادی میں مبتلا ہو گئی۔ جب بلعم نے دیکھ لیا کہ میری تو دنیا و آخرت برباد ہو گئی تو اس نے اپنی قوم سے کہا کہ میں ایک حیلہ کرتا ہوں اور ایک مکر فریب تمہیں بتاتا ہوں، تم اس کو اختیار کر لو، شاید تم موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم پر غالب آ جاؤ۔ بلعم نے اپنی قوم کو موسیٰ علیہ السلام اور اس کے لشکر پر غالب آنے کے لیے ایک چال بتائی۔

### ﴿۱۱۰﴾ بلعم کی بتائی ہوئی چال

بلعم نے اپنی قوم کے سامنے یہ تجویز پیش کی کہ تم اپنی حسین اور خوبصورت لڑکیوں کو تاجروں کی شکل میں مجاہدین کے لشکر میں بھیج دو، اور ان لڑکیوں سے یہ کہو کہ اگر بنی اسرائیل کا کوئی آدمی تم کو کچھ کہے، چھیڑ خانی کرے تو تم ان کو منع نہ کرنا، وہ جو چاہیں کرنے دینا۔ بلعم سمجھ رہا تھا کہ یہ مجاہدین بڑی لمبی مدت سے اپنی بیوی بچوں سے الگ ہیں، مسافر ہیں، وطن سے نکلے ہوئے طویل عرصہ گزر گیا، ان کا بدکاری میں مبتلا ہو جانا اس کو آسان معلوم ہو رہا تھا، وہ جانتا تھا کہ یہ لوگ بدکاری اور زنا کاری میں پھنس گئے تو وہ ہرگز کامیاب اور کامران نہیں ہو سکیں گے۔ چنانچہ لڑکیوں کو تیار کر کے بھیج دیا، اور سوئے اتفاق کہ ان کی یہ چال کچھ کام آگئی، اور ایک اسرائیلی ایک لڑکی کے ساتھ زنا کاری کے گناہ میں ملوث ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بہت روکا مگر نہ مانا۔ بالآخر نتیجہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیل میں ایک طاعون پھیلا اور ایک ہی دن میں ستر ہزار اسرائیلی مر گئے، یہاں تک کہ اس زانی اسرائیلی اور اس لڑکی کو قتل کیا گیا، اور ان کی لاشوں کو منظر عام پر لٹکا

دیا گیا، پھر وہ طاعون رشح ہوا۔

### (۱۱۱) بلعم کی مثال

انسان بلکہ ہر جاندار اس دنیا میں زندہ رہنے کے لیے اس کا محتاج ہے کہ اندر کی گرم اور زہریلی ہوا کو باہر پھینکے اور باہر سے سرسبز اور تازہ ہوا کو ناک کے نتھنوں اور گلے کے ذریعہ اندر لے جائے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ زندگی ہر جاندار کی اسی پر موقوف ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہوا کی اس آمد و رفت کو ہر جاندار پر اتنا آسان اور آہل کر دیا ہے کہ وہ بلا محنت اور مشقت کے اندر آتی ہے، اور اندر سے باہر نکلتی ہے، قدرتی طور پر یہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے، کوئی زور اور طاقت یا کسی اختیار کی عمل کی اس کے لیے ضرورت نہیں ہے۔

لیکن کتا ایسا جانور ہے کہ وہ اپنے ضعف قلب کی وجہ سے اس ہوا کی آمد و رفت پر ہانپتا کا ہنپتا رہتا ہے، اور اس کو سانس لینے کے لیے زبان باہر نکالتی اور محنت و مشقت اٹھانی پڑتی ہے، دوسرے جانوروں کی یہ حالت بعض مخصوص حالت میں ہو جاتی ہے کہ وہ بھی زور لگا کر سانس لیتے ہیں مگر یہاں عارض ہے جس کا اعتبار نہیں۔

اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس کی مثال کتے جیسی بیان کی ہے کہ کتے پر حملہ کرو اور اس کو جھڑکو، تب بھی زبان نکالتا ہے اور ہلاتا ہے اور اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے اس کو کچھ نہ کہا جائے تب بھی وہ زبان کو نکالے ہوئے رہتا ہے۔ بس یہی حال بلعم کا بھی ہوا کہ احکام خداوندی کی خلاف ورزی کرنے اور اتباع ہوا کی وجہ سے اس کی زبان سینہ پر لٹک گئی، اور وہ بھی کتے کی طرح زبان نکالے ہوئے ہانپتا رہتا تھا۔ حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ آیت کریمہ میں گو خاص طور پر اس کی مثال بیان کی گئی ہے، مگر اس آیت میں ہر اس شخص کی مذمت اور برائی بیان کی گئی ہے، جس کو اللہ رب العزت علم عطا فرمائے اور اپنی معرفت سے سرفراز فرمائے اور پھر وہ ان کو چھوڑ کر دنیا کا طلب گار ہو جائے، اور نفسانی خواہشات کے حصول میں لگ جائے۔ نیز اس میں اہل نظر و فکر کے لیے بہت سی عبرتیں اور نصیحتیں ہیں، چند کی نشاندہی کی جاتی ہے جو بہت ہی اہم ہیں:

① انسان کو اپنے علم و فضل اور زہد و تقویٰ پر ناز اور غرور نہیں کرنا چاہئے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر اور استقامت کی دعا کرتے رہنا چاہئے، اور اس سے ڈرتے رہنا چاہئے کہ کہیں ناز اور غرور کرنے کی صورت میں اس کا حشر بلعم کی طرح نہ ہو جائے۔

② بلعم کو یہ سزا فرمانوں اور گمراہ لوگوں کے ہدایا قبول کرنے کی وجہ سے ملی ہے، لہذا خالموں اور گمراہ لوگوں کے ساتھ تعلقات اور ان کی دعوت اور ہدایا وغیرہ قبول کرنے سے انتہائی احتیاط برتنی چاہیے۔

③ نیکی اور بدی کا اثر دنیا میں دوسروں کے اوپر بھی ہوتا ہے، چند فقرہ و مساکین اور اللہ، اللہ کرنے والوں کی برکت سے ہزاروں بلائیں اور مصائب دور ہو کر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور چند گناہ گاروں کی شامت اعمال اور ان کی نحوست کی وجہ سے شہر کے شہر برباد ہو جاتے ہیں۔ ایک اسرائیلی کے بے حیائی کا کام کرنے کی وجہ سے ستر ہزار بنی اسرائیل ہلاک و برباد ہو گئے۔ لہذا جو قوم اپنے آپ کو جانی اور بربادی سے بچانا چاہیے اس پر لازم ہے کہ وہ بے حیائی اور بری باتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ جس قوم میں زنا کاری پھیل جاتی ہے وہ قوم خدا کے غضب اور قہر کی مستحق ہو جاتی ہے۔ قحط سالی اور فقر و فاقہ میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما حضور اکرم ﷺ کا ارشاد نقل کرتے ہیں:

(لَا تَطْهَرُ الْأُمَّةَ إِلَّا بِكَافِي قُرْبَةٍ فَقَدْ أَحْلَوْا بِأَنْفُسِهِمْ عَذَابَ اللَّهِ)

ترجمہ: ”جب کسی ایسی قوم میں زنا کاری اور سوئی لین دین ظاہر ہو جائے تو انہوں نے اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو حلال کر لیا۔“

(الترغیب والترہیب)

حضرات مفسرین نے اور بھی قیمتی نصیحتیں مذکورہ بالا واقعہ سے اخذ کی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔  
مسئلہ: عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے سچے قصے اور حکایات بیان کرنا اور سننا مستحب ہے، اور دنیاوی فائدے حاصل کرنے کے قصے بیان کرنا مباح ہے، لہذا وہب کی غرض سے بیان کرنا تصبیح اوقات کی وجہ سے منع ہے۔ (تفسیر رازی، ابن کثیر وغیرہ وغیرہ)

### (۱۱۲) ضیاع وقت خودکشی ہے

سچ یہ ہے کہ وقت ضائع کرنا ایک طرح کی خودکشی ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ خودکشی ہمیشہ کے لیے زندگی سے محروم کر دیتی ہے، اور تصبیح اوقات ایک محدود زمانے تک زندہ کو مردہ بنا دیتی ہے۔ یہی منٹ، گھنٹہ اور دن جو غفلت اور بے کاری میں گزر جاتا ہے، اگر انسان حساب کرے تو ان کی مجموعی تعداد مہینوں بلکہ برسوں تک پہنچتی ہے۔ اگر کسی سے کہا جائے کہ آپ کی عمر میں سے دس پانچ سال کم کر دیئے گئے تو یقیناً اس کو سخت صدمہ ہوگا، لیکن وہ معطل بیٹھا ہوا خود اپنی عمر عزیز کو ضائع کر رہا ہے، مگر اس کے زوال پر اس کو کچھ افسوس نہیں ہوتا۔  
نیز وقت ضائع کرنے میں بہت بڑا نقصان اور خسارہ ہے کہ بے کار آدمی طرح طرح کے جسمانی و روحانی عوارض میں مبتلا ہو جاتا ہے، حرص و طمع، غلم و ستم، قمار بازی، زنا کاری اور شراب نوشی عموماً وہی لوگ کرتے ہیں جو معطل اور بے کار رہتے ہیں۔ جب تک انسان کی طبیعت، دل و دماغ نیک اور مفید کام میں مشغول نہ ہوگا اس کا میلان ضرور بدی اور معصیت کی طرف رہے گا، پس انسان اسی وقت صحیح انسان بن سکتا ہے، جب وہ اپنے وقت پر نگرہاں رہے، ایک لمحہ بھی فضول نہ کھوئے، ہر کام کے لیے ایک وقت اور ہر وقت کے لیے ایک کام مقرر کر دے۔

وقت خام مسالے کی مانند ہے جس سے آپ جو کچھ چاہیں بنا سکتے ہیں، وقت وہ سرمایہ ہے جو ہر شخص کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یکساں عطا کیا گیا ہے، جو حضرات اس سرمایہ کو مناسب موقع پر کام میں لاتے ہیں ان ہی کو جسمانی راحت اور روحانی مسرت نصیب ہوتی ہے، وقت ہی کے صحیح استعمال سے ایک وحشی مہذب بن جاتا ہے، اس کی برکت سے جاہل، عالم، مفلس، تو نگر..... نادان، دانا بن جتے ہیں۔  
وقت ایسی دولت ہے جو شاہ و گدا، امیر و غریب، طاقتور اور کمزور سب کو یکساں ملتی ہے، جو اس کی قدر کرتا ہے وہ عزت پاتا ہے، جو ناقدری کرتا ہے وہ رسوا ہوتا ہے۔

اگر آپ غور کریں گے تو نوے فیصد لوگ صحیح طور پر یہ نہیں جانتے کہ وہ اپنے وقت کا زیادہ حصہ کہاں اور کیوں صرف کرتے ہیں؟ جو شخص دونوں ہاتھ اپنی جیبوں میں ڈال کر وقت ضائع کرتا ہے تو وہ بہت جلد اپنے ہاتھ دوسروں کی جیب میں ڈالے گا۔  
آپ کی کامیابی کا واحد علاج یہ ہے کہ آپ کا وقت کبھی فارغ نہیں ہونا چاہیے۔ سستی نام کی کوئی چیز نہ ہو، کیونکہ سستی نسوں (رگوں) کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح لوہے کو زنگ۔ زندہ آدمی کے لیے بے کاری زندہ درگور ہوتا ہے۔

### (۱۱۳) جس مسلمان کی بھلائی کی شہادت دو آدمی دیں وہ جنتی ہے

مسند احمد میں ہے ابو الاسود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ میں آیا، یہاں بیماری تھی، لوگ بکثرت مر رہے تھے۔ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ ایک جنازہ نکلا اور لوگوں نے مرحوم کی نیکیاں بیان کرنی شروع کیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اس کے لیے واجب ہوگئی۔ اتنے میں دوسرا جنازہ نکلا، لوگوں نے اس کی برائیاں بیان کیں، آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس کے لیے واجب ہوگئی۔ میں نے کہا امیر المؤمنین! کیا واجب ہوگئی؟ آپ نے فرمایا: میں نے وہی کہا جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس مسلمان کی بھلائی کی شہادت چار شخص دین اللہ سے جنت میں داخل کرتا ہے۔ ہم نے کہا حضور! اگر تین دیں؟ آپ نے فرمایا: تین بھی۔ ہم نے کہا: اگر دو

دیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: دو بھی۔ پھر ہم نے ایک کی بابت سوال نہ کیا۔

ابن مردویہ کی ایک حدیث میں ہے کہ تم اپنے بھلوں اور بڑوں کو پہچان لیا کرو۔ لوگوں نے کہا: حضور! کس طرح؟ آپ ﷺ نے فرمایا: اچھی تعریف اور بری شہادت سے، تم زمین پر خدا کے گواہ ہو۔ (تفسیر ابن کثیر: ۱/۲۲۰)

### (۱۱۴) اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ماں سے زیادہ مہربان ہے

صحیح حدیث میں ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے ایک قیدی عورت کو دیکھا جس سے اس کا بچہ چھوٹ گیا تھا، وہ اپنے بچے کو باؤلوں کی طرح تلاش کر رہی تھی، اور جب وہ نہیں ملا تو قیدیوں میں سے جس بچہ کو دیکھتی اسی کو گلے لگاتی، یہاں تک کہ اس کا اپنا بچہ مل گیا، خوشی خوشی لے کر اسے گود میں اٹھالیا، سینے سے لگا کر پیار کیا اور اس کے منہ میں دودھ دیا۔ یہ دیکھ کر حضور اکرم ﷺ نے جو کچھ فرمایا: بتلاؤ! یہ اپنا بس چلتے ہوئے اس بچہ کو آگ میں ڈال دے گی؟ لوگوں نے کہا: یا رسول اللہ ﷺ! ہرگز نہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ کی قسم! جس قدر یہ ماں اپنے بچہ پر مہربان ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رؤف ورحیم ہیں۔ (تفسیر ابن کثیر: ۱/۲۲۱)

### (۱۱۵) حلال لقمہ کھاتے رہو اللہ دعا قبول کرے گا

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾

(سورہ بقرہ: ۱۶۸)

ترجمہ: ”اے لوگو! زمین میں جتنی بھی حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ اور شیطانی راہ نہ چلو وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔“ صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ میں نے جو مال اپنے بندوں کو دیا ہے اسے ان کے لیے حلال کر دیا ہے، میں نے اپنے بندوں کو موجد پیدا کیا، مگر شیطان نے دین حنیف سے انہیں ہٹا دیا اور میری حلال کردہ چیزوں کو ان پر حرام کر دیا۔

حضور اکرم ﷺ کے سامنے جس وقت اس آیت کی تلاوت ہوئی تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا: حضور ﷺ! میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میری دعاؤں کو قبول فرمایا کرے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اے سعد! پاک چیزیں اور حلال لقمہ کھاتے رہو اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول فرماتا رہے گا قسم ہے اس خدا کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے! حرام لقمہ جو انسان اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے اس کی نحوست کی وجہ سے چالیس دن اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی، جو گوشت پوست حرام سے پلاوا چھنی ہے۔

(تفسیر ابن کثیر: ۱/۲۲۵)

### (۱۱۶) عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو

صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حجۃ الوداع کے خطبہ میں فرمایا:

”لوگو! عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، تم نے اللہ کی امانت سے انہیں لیا ہے، اور اللہ کے کلمہ سے ان کی شرم گاہوں کو اپنے لیے حلال کیا ہے۔ عورتوں پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے فرش پر کسی ایسے کوند آنے دیں جس سے تم ناراض ہو، اگر وہ ایسا کریں تو انہیں مارو لیکن ایسی مارو کہ ظاہر ہو۔ ان کا تم پر حق ہے کہ انہیں اپنی بساط کے مطابق کھلاؤ، پلاؤ، پہناؤ، اڑھاؤ۔“ (ابن کثیر)

## (۱۱۷) بیوی کو خوش کرنے کیلئے شوہر کو زینت کرنی چاہیے

﴿وَكُنْ مِثْلَ الَّذِي عَلَيْهَا بِالْمَعْرُوفِ﴾ (سورہ بقرہ: ۲۲۸)

ترجمہ: ”اور عورتوں کا بھی حق ہے جیسا کہ مردوں کا ان پر حق ہے دستور کے مطابق۔“

ایک شخص نے حضور اکرم ﷺ سے دریافت کیا کہ ہماری عورتوں کے ہم پر کیا حق ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: جب تم کھاؤ تو اسے بھی کھاؤ، جب تم پہنو تو اسے بھی پہناؤ، اس کے منہ پر نہ مارو، اسے گالیاں نہ دو، اس سے روٹھ کر اور کہیں نہ بھیج دو، وہاں گھر میں ہی رکھو۔ اسی آیت کو پڑھ کر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے کہ میں پسند کرتا ہوں کہ اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے میں بھی اپنی زینت کروں جس طرح وہ مجھے خوش کرنے کے لیے اپنا بناؤ سنگھار کرتی ہے۔ (تفسیر ابن کثیر: ۳۱۳/۱)

## (۱۱۸) مردوں کو عورتوں پر فضیلت سے

﴿وَكُلُّ رَجَالٍ عَلَيْهَا دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (سورہ بقرہ: ۲۲۸)

ترجمہ: ”اور مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے، اور اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔“

پھر فرمایا کہ فردوں کو ان پر فضیلت ہے، جسمانی حیثیت سے بھی، اخلاقی حیثیت سے بھی مرتبہ کی حیثیت سے بھی، حکمرانی کی حیثیت سے بھی، خرچ اخراجات کی حیثیت سے بھی دیکھ بھال اور نگرانی کی حیثیت سے بھی۔ غرض دنیوی اور اخروی فضیلت کے ہر اعتبار سے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں سے بدلہ لینے پر غالب ہے اور اپنے احکام میں حکومت والا ہے۔ (تفسیر ابن کثیر: ۳۱۳/۱)

## (۱۱۹) حضور ﷺ بہت رحم دل تھے

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم ﷺ بہت رحم دل تھے، جو بھی آپ ﷺ کے پاس آتا (اور سوال کرتا اور آپ ﷺ کے پاس کچھ نہ ہوتا) تو اس سے آپ وعدہ کر لیتے (کہ جب کچھ آئے گا تو تمہیں ضرور دوں گا) اور اگر کچھ پاس ہوتا تو اسی وقت اسے دے دیتے۔ ایک مرتبہ نماز کی اقامت ہو گئی، ایک دیہاتی نے آ کر آپ ﷺ کے کپڑے کو پکڑ لیا، اور کہا کہ میری تھوڑی سی ضرورت باقی رہ گئی ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ میں اسے بھول جاؤں گا، چنانچہ حضور اقدس ﷺ اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے جب اس کی ضرورت سے فارغ ہوئے تو پھر آگے بڑھ کر نماز پڑھائی۔ (حیاء اصحاب: ۱۵۰/۳)

## (۱۲۰) ظہر کی چار رکعت سنت تہجد کے برابر ہیں

حضرت عبدالرحمن بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ ظہر سے پہلے نماز پڑھ رہے تھے، میں نے پوچھا یہ کون سی نماز ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”یہ نماز تہجد کی نماز کی طرح ہے۔“ حضرت اسود، حضرت مرہ اور حضرت مسروق رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: دن کی نمازوں میں سے صرف ظہر کی نماز سے پہلے کی چار رکعتیں رات کی تہجد کے برابر ہیں، اور دن کی تمام نمازوں پر ان چار رکعتوں کو ایسی فضیلت ہے جیسے نماز باجماعت کو اکیلے کی نماز پر۔ (حیاء اصحاب: ۱۱۳/۳)

## (۱۲۱) نوجوان کے بدن سے مشک وغنبر کی خوشبو

حضرت علامہ عبداللہ بن اسحاق رضی اللہ عنہ نے فن تصوف میں ایک کتاب لکھی ہے اس کا نام ”الترغیب والترہیب“ ہے، اس میں

انہوں نے ایک نوجوان کا واقعہ نقل فرمایا ہے کہ ایک نوجوان سے ہمیشہ مشک اور عطر کی خوشبو مہکتی تھی، اس کے کسی متعلق نے اس سے کہا کہ آپ ہمیشہ اتنی عمدہ ترین خوشبو میں معطر رہتے ہیں، اس میں کتنا پیسہ بلاوجہ خرچ کرتے رہتے ہیں؟ اس پر نوجوان نے جواب دیا کہ میں نے زندگی میں کوئی خوشبو نہیں خریدی اور نہ ہی کوئی خوشبو لگائی۔ سائل نے کہا: تو پھر یہ خوشبو کہاں سے کیسے مہکتی ہے؟ نوجوان نے کہا کہ یہ ایک راز ہے جو بتلانے کا نہیں۔ سائل نے کہا: آپ بتلا دیجئے شاید اس سے ہم کو بھی فائدہ ہوگا۔

نوجوان نے اپنا واقعہ سنایا کہ میرے باپ تاجر تھے، گھریلو سامان فروخت کیا کرتے تھے، میں ان کے ساتھ دوکان میں بیٹھا تھا، ایک بوڑھی عورت نے آکر کچھ سامان خریدا، اور والد صاحب سے کہا کہ آپ لڑکے کو میرے ساتھ بھیج دیجئے، تاکہ میں اس کے ساتھ سامان کی قیمت بھیج دوں۔ میں اس بوڑھی عورت کے ساتھ گیا تو ایک نہایت خوبصورت گھر میں پہنچا، اور اس میں ایک نہایت خوبصورت کمرے میں ایک مسہری پر ایک نہایت خوبصورت لڑکی موجود تھی، وہ مجھ کو دیکھتے ہی میری طرف متوجہ ہوئی، کیونکہ میں بھی نہایت حسین ہوں۔ میں نے اس کی خواہش پوری کرنے سے انکار کیا، تو اس نے مجھے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا، فوراً اللہ پاک نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی۔ میں نے کہا کہ مجھے قضاے حاجت کے لیے بیت الخلاء جانے کی ضرورت ہے۔ اس نے فوراً اپنی باندیوں اور خادموں سے کہا کہ جلدی سے بیت الخلاء ان کے لیے صاف کر دو میں نے بیت الخلاء میں داخل ہو کر خود اجابت کر کے نجاست کو اپنے بدن اور کپڑوں پر مل لیا اور اسی حالت میں باہر آیا۔ جب مجھے اس حالت میں دیکھا تو اس نے کہا: اسے فوراً یہاں سے باہر نکال دو! یہ مجنون ہے۔

میرے پاس ایک درہم تھا۔ میں نے اس سے ایک صابن خریدا کہ ایک نہر میں جا کر غسل کیا، اور کپڑے بھی دھو کر پہن لیے اور میں نے یہ راز کسی کو بتلایا نہیں۔ جب میں اسی رات میں سویا تو خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ نے آکر مجھ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم کو جنت کی بشارت ہے، اور معصیت سے بچنے کے لیے جو تدبیر تم نے اختیار کی تھی اس کے بدلہ میں تم کو یہ خوشبو پیش کی جا رہی ہے۔ چنانچہ میرے پورے بدن پر وہ خوشبو لگائی گئی جو میرے بدن اور کپڑوں سے ہر وقت مہکتی رہتی ہے جو آج تک لوگ محسوس کرتے ہیں۔ واللہ تعالیٰ رب العالمین۔

### (۱۲۲) کاپی میں اپنے گناہ تحریر کیجئے پھر توبہ کیجئے

علامہ یاقوتی رحمۃ اللہ علیہ نے ”الترغیب والترہیب“ میں ایک واقعہ یہ بھی تحریر فرمایا ہے کہ ایک نوجوان نہایت بدکار تھا لیکن وہ جب بھی کسی معصیت کا ارتکاب کرتا اس کو ایک کاپی میں نوٹ کر لیتا تھا۔

ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک عورت نہایت غریب، اس کے بچے تین دن سے بھوکے تھے، بچوں کی پریشانی نہیں برداشت کر سکی تو اس نے اپنے پڑوسی سے ایک عمدہ ریشم کا جوڑا عاریت پر لیا اور اسے پہن کر نکلی تو اس نوجوان نے دیکھ کر اپنے پاس بلایا، جب اس کے ساتھ بدکاری کا ارادہ کیا تو عورت روتی ہوئی تڑپنے لگی، اور کہا میں فاحشہ زانیہ نہیں ہوں، میں بچوں کی پریشانی کی وجہ سے اس طرح نکلی ہوں، جب تم نے مجھے بلایا تو مجھے خیر کی امید ہوئی، اس نوجوان نے اسے کچھ درہم روپے دے کر چھوڑ دیا اور خود رونے لگا، اور اپنی والدہ سے آکر پورا واقعہ سنا دیا۔

اس کی والدہ اس کو ہمیشہ معصیت سے روکتی اور منع کرتی تھی۔ آج یہ خبر سن کر بہت خوش ہوئی اور کہا بیٹا! تو نے زندگی میں یہی ایک نکلی کی ہے، اس کو بھی اپنی کاپی میں نوٹ کر لے۔ بیٹے نے کہا کہ کاپی میں اب کوئی جگہ باقی نہیں ہے۔ والدہ نے کہا کہ کاپی کے حاشیہ پر نوٹ کر لے۔ چنانچہ حاشیہ پر نوٹ کر لیا اور نہایت تمکین ہو کر سویا، جب بیدار ہوا تو دیکھا کہ پوری کاپی سفید اور صاف کاغذوں کی ہے، کوئی چیز لکھی ہوئی باقی نہیں رہی، صرف حاشیہ پر جو آج کا واقعہ نوٹ کیا تھا، وہی باقی ہے۔ اور کاپی کے اوپر کے حصہ میں یہ آیت لکھی ہوئی تھی:



﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ (سورہ ہود: ۱۱۳)

”بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔“

اس کے بعد اس نے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی اور اسی پر قائم رہ کر مرا۔

### (۱۲۳) ساتھیوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے

حضور اکرم ﷺ نے جب بھی کہیں کوئی لشکر روانہ فرماتے تو اس لشکر کے امیر کو تاکید سے یہ ہدایت فرماتے تھے کہ اپنے زیر دستوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا، ان کو تنگی میں مبتلا نہ کرنا۔ ان کو بشارت اور خوشخبری دیتے رہنا۔ اسی طرح جب کسی کو کسی علاقہ یا قوم کا گورنر اور امین بنا کر بھیجتے تو ان کو ہدایت فرمادیتے کہ قوم کے ساتھ عدل و انصاف اور ہمدردی کا معاملہ کرنا، اور ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا، انہیں تنگی اور سختی میں مبتلا نہ کرنا ان کو دنیا و آخرت میں کامیابی کی بشارت دینا، اور آخرت کی رغبت دلاتے رہنا اور ان میں نفرت نہ پھیلانا۔ اور ان کے درمیان موافقت اور اتحاد پیدا کرنا اور اختلاف نہ پھیلانا۔ حدیث شریف کے الفاظ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے:

”حضرت ابو بردہ بن ابی موسیٰ فرماتے ہیں حضور اکرم ﷺ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اور ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو یمن روانہ فرمایا، اور روانگی کے وقت یہ ہدایت فرمائی کہ تم دونوں نرمی اور آسانی کا معاملہ کرتے رہنا، اور لوگوں کے ساتھ تنگی اور سختی کا معاملہ نہ کرنا، اور لوگوں کو دنیا و آخرت کی کامیابی کی بشارت دیتے رہنا، اور لوگوں میں شفر نہ پیدا کرنا کہ جس سے لوگ فرار کا راستہ اختیار کریں، اور آپس میں محبت و شفقت کا معاملہ کرتے رہنا اور اختلاف و پھوٹ کی باتیں نہ کرنا۔“

(بخاری شریف: ۱/۳۲۶، حدیث نمبر ۲۹۳۲)

نوٹ: امام غزالی رضی اللہ عنہ نے لکھا ہے کہ کلام میں نرمی اختیار کیجئے، کیونکہ الفاظ کی بہ نسبت لہجہ کا اثر زیادہ پڑتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ حرام کتنا ہی تھوڑا ہو حلال پر ہمیشہ غالب رہے گا۔ صحیح مسلم شریف میں ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے بددعا فرمائی اے اللہ! جو میری امت کا دالی ہوا گروہ امت پر سختی کرے تو تو بھی اس کے ساتھ سختی کا معاملہ کرنا، اور اگر وہ نرمی کرے تو تو بھی اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا۔ اس لئے ہر جگہ ذمہ دار اپنے ماتحتوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں۔ (سیرۃ عائشہ سیدہ سلیمان ممدوی رضی اللہ عنہا ص ۱۳۲)

### (۱۲۴) عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی تین نصیحتیں

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کے انتقال کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے فرمایا: اے میرے بیٹو! میں تمہیں تین باتوں سے روکتا ہوں، انہیں اچھی طرح یاد رکھنا:

- ① حضور اکرم ﷺ کی طرف سے حدیث صرف معتبر اور قابل اعتماد آدمی ہی سے لینا کسی اور سے نہ لینا۔
- ② قرضہ کی عادت نہ بنالینا چاہے چوغہ بہن کر گزارہ کرنا پڑے۔
- ③ اشعار کہنے میں نہ لگ جانا اور نہ ان میں تمہارے دل ایسے مشغول ہو جائیں گے کہ قرآن سے رہ جاؤ گے۔ (حیاء الصحابہ: ۳/۲۳۶)

### (۱۲۵) حضرت ذوالکفل کا عجیب واقعہ

مجاہد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک نیک بزرگ تھے جنہوں نے اپنے زمانہ کے نبی سے عہد و پیمانہ کئے اور ان پر قائم رہے، قوم میں عدل و انصاف کیا کرتے تھے۔

مروی ہے کہ حضرت یسح بہت بوڑھے ہو گئے تو ارادہ کیا کہ میں اپنی زندگی میں ہی اپنا خلیفہ مقرر کر دوں اور دیکھ لوں کہ وہ کیسے عمل

کرتا ہے؟ چنانچہ لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ میں باتیں جو شخص منکور کرے میں اسے خلافت سونپتا ہوں:

① دن بھر روزہ سے رہے۔ ② رات بھر قیام کرے۔ ③ اور کبھی کبھی غصہ نہ ہو۔

کوئی اور تو کھڑا نہ ہوا، ایک شخص جسے لوگ بہت ہلکے درجے کا سمجھتے تھے کھڑا ہوا اور کہنے لگا: میں اس شرط کو پورا کر دوں گا۔ آپ نے پوچھا: کیا تو دنوں کو روزہ سے رہے گا، اور راتوں کو تہجد پڑھتا رہے گا، اور کسی پر غصہ نہ کرے گا؟ اس نے کہا: ہاں۔ حضرت مسیح نے فرمایا: اچھا اب کل سہی۔

دوسرے روز بھی آپ نے اسی طرح مجلس عام میں سوال کیا لیکن اس شخص کے علاوہ اور کوئی کھڑا نہ ہوا، چنانچہ انہی کو خلیفہ بنا دیا گیا۔ اب شیطان نے چھوٹے چھوٹے شیاطین کو اس بزرگ کو بہکانے کے لیے بھیجا شروع کر دیا، مگر کسی کی کچھ نہ چلی۔ ابلیس خود چلا، دوپہر کو قیلوے کے لیے آپ لیٹے ہی تھے کہ خبیث نے کندھیاں پٹنی شروع کر دیں۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا شروع کیا کہ میں ایک مظلوم ہوں، فریادی ہوں، میری قوم مجھے ستا رہی ہے، میرے ساتھ اس نے یہ کیا، یہ کیا اب جو لمبا قصہ سنانا شروع کیا تو کسی طرح ختم ہی نہیں کرتا، نیند کا سارا وقت اس میں چلا گیا، اور حضرت ذوالکفل دن رات میں بس اسی وقت ذرا اسی دیر کے لیے سوتے تھے۔ آپ نے فرمایا: اچھا شام کو آنا، میں تمہارے ساتھ انصاف کروں گا۔ اب شام کو جب آپ فیصلے کرنے لگے ہر طرف اسے دیکھتے ہیں لیکن ان کا کہیں پتہ نہیں یہاں تک کہ خود جا کر ادھر ادھر بھی تلاش کیا مگر اسے نہ پایا۔

دوسری صبح کو بھی وہ نہ آیا، پھر جہاں آپ دوپہر کو دو گھنٹی آرام کرنے کے ارادہ سے لیٹے تو یہ خبیث آ گیا، اور دروازہ ٹھونکنے لگا۔ آپ نے کھلوادیا اور فرمانے لگے میں نے تو تم سے شام کو آنے کو کہا تھا، میں منتظر رہا لیکن تم نہ آئے۔ وہ کہنے لگا حضرت! کیا ہلاؤں؟! جب میں نے آپ کی طرف آنے کا ارادہ کیا تو وہ کہنے لگے تم نہ جاؤ ہم تمہارا حق ادا کر دیتے ہیں، میں رُک گیا۔ پھر انہوں نے اب انکار کر دیا، پھر لمبے چوڑے واقعات بیان کرنے شروع کر دیے اور آج کی نیند بھی کھوئی۔ اب شام کو پھر انتظار کیا لیکن نہ اسے آنا تھا نہ آیا۔ تیسرے دن آپ نے آدمی مقرر کیا کہ دیکھو کوئی آدمی دروازے پر نہ آنے پائے، مارے نیند کے میری حالت غیر ہو رہی ہے۔ آپ ابھی لیٹے ہی تھے کہ وہ مردود پھر آ گیا۔ چونکہ دار نے اسے روکا یہ ایک طاق میں سے اندر گھس گیا اور اندر سے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کیا۔ آپ نے اٹھ کر پہرے دار سے کہا کہ میں نے تمہیں ہدایت کر دی تھی پھر بھی دروازے پر آنے سے نہیں روکا؟ اس نے کہا: نہیں! میری طرف سے کوئی نہیں آیا۔ اب جو غور سے دیکھا تو دروازہ کو بند پایا اور اس شخص کو اندر موجود پایا۔ آپ پہچان گئے کہ یہ شیطان ہے۔ اس وقت شیطان نے کہا: اے اللہ کے ولی! میں تجھ سے ہارا، نہ تو تو نے رات کا قیام ترک کیا، نہ تو اس نوکر پر ایسے موقع پر غصہ ہوا۔ پس خدانے ان کا نام ذوالکفل رکھا اس لئے کہ جن باتوں کی انہوں نے کفالت لی تھی انہیں پورا کر دکھایا۔ (تفسیر ابن کثیر ۳/۳۹۲)

### ﴿۱۲۶﴾ نبی کریم ﷺ اور زکات نہ پہلوان کی کشتی

عرب میں ایک پہلوان تھا، زکات نہ ان کا نام تھا، وہ بڑے زبردست پہلوان تھے اور مشہور یہ تھا کہ یہ ایک آدمی ایک ہزار آدمیوں سے مقابلہ کر سکتا ہے، بہت ہی قوی تھے، ان کے بدن کے وزن کی کیفیت تھی کہ اونٹ ذبح کر کے اس کی کھال بچھادی جاتی، اور زکات نہ اس پر بیٹھے اور نو جوانان عرب اس کھال کو کھینچتے تو وہ کھال ٹوٹ جاتی پھٹ جاتی مگر وہ حصہ جنبش نہیں کرتا تھا جس پر زکات نہ بیٹھے ہوتے تھے۔

حضور اکرم ﷺ نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا اور فرمایا: زکات نہ! آخرت آنے والی ہے، کیوں اپنی عمر ضائع کر رہے ہو؟ اسلام قبول کر لو اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ اے محمد! میں نہ تو کوئی عالم و فقیہ ہوں نہ سمجھدار۔ میں تو ایک پہلوان ہوں، مجھ سے کشتی لڑو، اگر آپ نے مجھے پھاڑ دیا تو میں آپ کا دین قبول کر لوں گا۔ آپ نے فرمایا: بسم اللہ۔ وہ لنگوٹ کس کر آ گیا، اور حضور

اکرم ﷺ بھی آستین چڑھا کر میدان تستی میں آگئے۔ ایک دو داؤ پیچ کے بعد حضور اکرم ﷺ نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا، اور ایک ہاتھ سے اس طرح اٹھایا جیسے کوئی چڑیا کو اٹھاتا ہے، اور آہستہ سے زمین پر رکھ کر چھاتی پر بیٹھ گئے اور فرمایا: ”زکانہ! اب کہو۔“ مگر زکانہ کو یقین نہیں آیا کہ میں کچھڑ گیا ہوں کیونکہ کسی نے آج تک اُسے پچھاڑا ہی نہیں تھا اور حضور اکرم ﷺ نے اس طرح پچھاڑا کہ اتنی وزنی لاش کو ایک ہاتھ سے اٹھا کر نچایا اور آہستہ سے رکھ دیا۔ اس نے کہا میں کچھڑ گیا ہوں، مجھے تو یقین نہیں آیا، ایک دفعہ اور کشتی لڑو۔

حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: بسم اللہ۔ پھر آپ نے ایک دو داؤ پیچ کے بعد کمر میں ہاتھ ڈال کر اٹھا کر نچایا، اور آہستہ سے زمین پر رکھ دیا۔ فرمایا: اب بتاؤ، یہی شرط تو ظہری تھی کہ اگر تم کچھڑ گئے تو اسلام قبول کر لو گے۔ اس نے کہا کہ محمد! یہ تو آپ کے بدن کی قوت تو ہے نہیں کہ میری لاش کو چڑیا کی طرح اٹھا کر نچا دے۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے اندر کوئی چیز ہے۔ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا کہ میں اُس اندر والی چیز ہی کی دعوت دے رہا ہوں، بدن کی دعوت نہیں دے رہا ہوں۔ چنانچہ زکانہ نے اسلام قبول کر لیا اور اسلام میں پختہ ہو گئے اور بڑے بڑے کام بھی کئے۔

ایک مرتبہ بہت سے چور آئے اور رات کو بہت سے اونٹ بیت المال سے چرا کر چلتے بنے، صبح کو پتہ چلا تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ لوگو! ان کے پیچھے دوڑو۔ زکانہ نے کہا کہ میں تنہا کافی ہوں۔ چور رات میں ہی نکل کھڑے ہوئے تھے اور تیزی سے بھاگے جا رہے ہوں گے۔ معلوم نہیں کتنے دور چلے جا چکے ہوں گے۔ زکانہ دوڑ پڑے اور راستہ میں اُن کو تھام لیا اور کہا کہ سامان اور اونٹ لے کر واپس چلو۔ چنانچہ ان کو پکڑ کر لائے تو حضور اکرم ﷺ نے ان کو سزائیں دیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کے دل میں حق آجاتا ہے اگر تعصب نہ ہو اور واقعی حق طلبی ہے تو حق ضرور کھل جاتا ہے۔ (مجلس تحفیم الاسلام ص ۱۶۲)

### ﴿۱۲۷﴾ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کی عجیب و غریب فضیلت

ابن مردویہ میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ مجھ پر ایک آیت اتری ہے کہ کسی نبی پر سوائے سلیمان علیہ السلام کے ایسی آیت نہیں اتری، وہ آیت ﴿بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ﴾ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری:

① بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے۔ ② ہوائیں ساکن ہو گئیں۔ ③ سمندر ٹھہر گیا۔ ④ جانوروں نے کان لگائے۔ ⑤ شیاطین پر آسمان سے شعلے نرے۔

⑥ پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جہنم کے انیس داروں سے جو پچنا چاہے وہ ﴿بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ﴾ پڑھے، اس کے بھی انیس حروف ہیں، ہر حرف ہر فرشتہ سے بچاؤ بن جائے گا۔ اسے ابن عطیہ نے بیان کیا ہے، اور اس کی تائید ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں ہے کہ میں نے تیس سے اوپر اوپر فرشتوں کو دیکھا کہ وہ جلدی کر رہے تھے۔ اور حضور اکرم ﷺ نے اس وقت فرمایا تھا جب ایک شخص نے ”رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَوِيلًا مُّبِينًا“ پڑھا تھا۔ اس میں بھی تیس سے اوپر اوپر حروف ہیں اتنے ہی فرشتے اترے۔ اسی طرح ﴿بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ﴾ میں بھی انیس حروف ہیں اور وہاں فرشتوں کی تعداد بھی انیس ہے۔

مسند احمد میں ہے کہ نبی کریم ﷺ کی سواری پر آپ کے پیچھے جو صحابی سوار تھے ان کا بیان ہے کہ حضور اکرم ﷺ کی اونٹنی ذرا پھسلی تو میں نے کہا شیطان کا ستیاناس ہو۔ آپ نے فرمایا یہ نہ کہو، اس سے شیطان پھولتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ گویا اس نے اپنی قوت سے گرایا۔ ہاں! بسم اللہ کہنے سے وہ مکھی کی طرح ذلیل و پست ہو جاتا ہے۔

ایک حدیث میں ہے کہ جس کام کو ﴿بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ﴾ سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت ہوتا ہے۔ (ابن کثیر: ۲۸/۱)

## ﴿ ۱۲۸ ﴾ پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں نبی کریم ﷺ کے ارشادات

انسان کا اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور قرہبی رشتہ داروں کے علاوہ ایک مستقل واسطہ اور تعلق ہمسایوں اور پڑوسیوں سے بھی ہوتا ہے، اور اس کی خوشگواہی اور ناخوشگواہی کا زندگی کے چین و سکون پر اور اخلاق کے بناؤ بگاڑ پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے اپنی تعلیم و ہدایت میں ہمسائیگی اور پڑوس کے اس تعلق کو بڑی عظمت بخشی ہے، اور اس کے احترام و رعایت کی بڑی تاکید فرمائی ہے، یہاں تک کہ اس کو جزو ایمان اور جنت میں داخلہ کی شرط، اور اللہ و رسول کی محبت کا معیار قرار دیا ہے۔ اس سلسلہ میں نبی کریم ﷺ کے درج ذیل ارشادات پڑھئے:

① ایک انصاری صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے گھر سے چلا، وہاں پہنچ کر دیکھا ہوں کہ ایک صاحب کھڑے ہیں اور حضور ﷺ پھلان کی طرف متوجہ ہیں، میں نے خیال کیا کہ شاید انہیں آپ ﷺ سے کام ہوگا۔ حضور اکرم ﷺ کھڑے ہیں اور ان سے باتیں ہو رہی ہیں۔ بڑی دیر ہو گئی، یہاں تک کہ مجھے آپ ﷺ کے تھک جانے کے خیال نے بے چین کر دیا، بہت دیر کے بعد آپ ﷺ لوٹے اور میرے پاس آئے۔ میں نہ کہا حضور! اس شخص نے تو آپ کو بہت دیر تک کھڑا رکھا، میں تو پریشان ہو گیا، آپ کے پاؤں تھک گئے ہوں گے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اچھا تم نے ان کو دیکھا؟ میں نے کہا: ہاں! خوب اچھی طرح دیکھا۔ فرمایا: جانتے ہو وہ کون تھے؟ وہ جبرئیل علیہ السلام تھے، مجھے پڑوسیوں کے حقوق کی تاکید کرتے رہے، یہاں تک ان کے حقوق بیان کئے کہ مجھے کھٹکا ہوا کہ غالباً آج تو پڑوسی کو وارث ٹھہرا دیں گے۔ (مسند امام احمد)

② بزار میں حضور اکرم ﷺ نے فرمایا پڑوسی تین قسم کے ہیں:

◆ ایک وہ پڑوسی جس کا صرف ایک ہی حق ہے، اور وہ (حق کے لحاظ سے) سب سے کم درجہ کا پڑوسی ہے۔

◆ دوسرا وہ پڑوسی جس کے دو حق ہیں۔

◆ اور تیسرا وہ پڑوسی جس کے تین حق ہیں۔

ایک حق والا وہ مشرک (غیر مسلم) پڑوسی ہے جس سے کوئی رشتہ داری نہ ہو، اس کا صرف پڑوسی ہونے کا حق ہے۔

اور دو حق والا وہ پڑوسی ہے، جو پڑوسی ہونے کے ساتھ مسلمان بھی ہو، اس کا ایک حق مسلمان ہونے کی وجہ سے ہے، اور دوسرا پڑوسی

ہونے کی وجہ سے۔

اور تین حق والا پڑوسی وہ ہے جو پڑوسی بھی ہو، مسلمان بھی ہو اور رشتہ دار بھی ہو، تو اس کا ایک حق مسلمان ہونے کا ہوگا، دوسرا پڑوسی

ہونے کا اور تیسرا حق رشتہ داری کا ہوگا۔

تشریح: اس حدیث میں صراحت اور وضاحت فرمادی گئی ہے کہ پڑوسیوں کے جو حقوق قرآن و حدیث میں بیان کئے گئے ہیں

اور ان کے اکرام اور رعایت و حسن سلوک کی جو تاکیدیں فرمائی گئی ہیں، ان میں غیر مسلم پڑوسی بھی شامل ہیں، اور ان کے بھی وہ سب حقوق ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ ﷺ کی تعلیم سے یہی سیکھا۔ جامع ترمذی وغیرہ میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کے متعلق

روایت کیا گیا ہے کہ ایک دن ان کے گھر بکری ذبح ہوئی، وہ تشریف لائے تو انہوں نے گھر والوں سے کہا:

”تم لوگوں نے ہمارے یہودی پڑوسی کے لیے بھی گوشت کا ہدیہ بھیجا؟ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے: آپ ﷺ

فرماتے تھے کہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں مجھے جبرئیل علیہ السلام (اللہ کی طرف سے) برابر وصیت اور تاکید

کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے خیال ہونے لگا کہ وہ اس کو وارث بھی قرار دے دیں گے۔“

انسوں ہے کہ عہد نبوی سے جتنا بعد ہوتا گیا، اُمت آپ ﷺ کی تعلیمات اور ہدایات سے اُسی قدر دور ہوتی چلی گئی، رسول اللہ ﷺ نے پڑوسیوں کے بارے میں جو وصیت اور تاکید اُمت کو فرمائی تھی، اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بعد بھی اس پر اُمت کا عمل رہا ہوتا تو یقیناً آج دنیا کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔

اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو توفیق دے کہ نبی کریم ﷺ کی تعلیم و ہدایت کی قدر و قیمت سمجھیں اور اس کو اپنا دستور العمل بنائیں۔

(معارف الہدیٰ: ۱۰۰/۶)

① مسند احمد میں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا کہ میرے دو پڑوسی ہیں، میں ایک کو ہدیہ بھیجنا چاہتی ہوں تو کسے بھجواؤں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: جس کا دروازہ قریب ہو۔ (ابن کثیر)

② طبرانی میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے وضو کیا۔ لوگوں نے آپ ﷺ کے وضو کے پانی کو لینا اور ملنا شروع کیا۔ آپ نے پوچھا: ایسا کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا: اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی محبت میں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: جسے یہ خوش لگے کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کریں تو اسے چاہیے کہ جب بات کرے تو سچ بولے، جب کوئی امانت اس کے سپرد کی جائے تو امانت داری کے ساتھ اس کو ادا کرے، اور اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔

③ مسند احمد میں ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جو جھگڑا خدا کے سامنے پیش ہوگا وہ دو پڑوسیوں کا ہوگا۔

④ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ مجھے جبرئیل رضی اللہ عنہ پڑوسیوں کے بارے میں یہاں تک وصیت و نصیحت کرتے رہے کہ مجھے لگان ہوا کہ شاید یہ پڑوسیوں کو وارث بنا دیں گے۔

⑤ آپ ﷺ فرماتے ہیں، بہتر سا مٹی اللہ کے نزدیک وہ ہے جو اپنے ہمراہیوں کے ساتھ خوش سلوک زیادہ ہو، اور پڑوسیوں میں سب سے بہتر خدا تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے جو ہمسایوں سے نیک سلوک زیادہ ہو۔

⑥ ایک مرتبہ آپ ﷺ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے سوال کیا کہ زنا کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ لوگوں نے کہا: وہ حرام ہے، اللہ اور اس کے رسول ﷺ نے اسے حرام کیا ہے، اور قیامت تک وہ حرام ہی رہے گا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: سنو! اس عورتوں سے زنا کرنے والا اس شخص کے گناہ سے کم گنہگار ہے جو اپنی پڑوسی کی عورت سے زنا کرے۔ پھر دریافت فرمایا: تم چوری کی نسبت کیا کہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ اسے بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ نے حرام کیا ہے، اور وہ بھی قیامت تک حرام ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: سنو! اس گھروں سے چوری کرنے والے کا گناہ اس شخص کے گناہ سے ہلکا ہے جو اپنے پڑوسی کے گھر سے کچھ چرائے۔

⑦ صحیحین کی حدیث میں ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ﷺ کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: یہ کہ تو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے حالانکہ اسی ایک نے تجھے پیدا کیا ہے۔ میں نے پوچھا: پھر کون سا؟ فرمایا: تو اپنی پڑوسن سے زنا کرے۔

⑧ مسند عبد بن حمید میں ہے، حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص عوالی مدینہ سے آیا، اس وقت رسول اللہ ﷺ اور حضرت جبرئیل رضی اللہ عنہ اس جگہ نماز پڑھ رہے تھے جہاں جنازوں کی نماز پڑھی جاتی تھی۔ جب آپ ﷺ فارغ ہوئے تو اس شخص نے کہا: حضور ﷺ کے ساتھ یہ دوسرا کون سا شخص نماز پڑھ رہا تھا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: تم نے انہیں دیکھا؟ اس نے کہا: ہاں۔ فرمایا: تم نے بہت بڑی بھلائی دیکھی، یہ جبرئیل رضی اللہ عنہ تھے، مجھے پڑوسی کے بارے میں وصیت کرتے رہے یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ عنقریب اسے وارث بنا دیں گے۔ (تفسیر ابن کثیر: ۵۱۱/۱)

### (۱۲۹) پڑوسی کے یہاں کھانا بھیجنا

مسلم میں ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور وصیت کے حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ سے فرمایا: جب کھانے کی ہڈیا تیار کرو تو اس میں ذرا شوربہ زیادہ کر دیا کر دنا کہ تم اپنے پڑوسی کے پاس بھی کچھ بھیج سکو۔ (مسلم شریف: ۱۹/۲) نوٹ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کو جو وصیت فرمائی اور پوری امت کے لیے ہے، تمہا ان کے لیے نہیں۔

### (۱۳۰) پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا کمال ایمان کی علامت ہے

بخاری شریف میں ایک روایت ہے جو بخاری میں چار مقامات پر مذکور ہے۔ حضور اکرم نے اس روایت کے اندر پڑوسی کے ساتھ ہمدردی اور رواداری کو کمال ایمان کی علامت قرار دیا، جو شخص پڑوسیوں کے ساتھ خنواری و ہمدردی کا معاملہ نہیں کرتا ہے وہ مؤمن کامل نہیں ہے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ ہرگز اپنے پڑوسی کو ایذا نہ پہنچائے، اور جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ ضرور اپنے پڑوسی کے ساتھ ہمدردی اور اکرام کا معاملہ کرے، اور جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ ضرور مہمانوں کی مہمانداری اور ان کے ساتھ عزت و اکرام کا معاملہ کرے۔ (بخاری شریف: ۷۷۹/۲، حدیث نمبر ۲۹۹۹)

جب پڑوسی کے ساتھ ہمدردی اور رواداری کا معاملہ کرنا کمال ایمان کی علامت ہے تو یہی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت ہوگی، جس شخص کے اندر یہ صفات موجود ہیں اس کا اللہ اور رسول سے محبت کا دعویٰ سچا ہوگا۔ اور جس شخص کے اندر پڑوسی کی ہمدردی نہیں ہے اس کا اللہ اور رسول سے محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے۔

### (۱۳۱) پڑوسیوں کی دل شکنی سے بچتے رہو

حضرت امام ابو حامد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں نقل فرمایا ہے کہ تم اپنے گھر کی عمارت کو اتنی اونچی نہ کرو جس سے پڑوسی کا گھر ڈھک جائے اور اس کے گھر میں ہوا اونچنے سے رکاوٹ بن جائے۔ البتہ پڑوسی تمہارے گھر کے اونچا کرنے پر راضی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اونچی اونچی عمارتوں کے ذریعہ عرب پڑوسی کو مت ستایا کرو کہ اس کا گھر بے کار نہ ہو جائے، اور اس کے گھر میں دھوپ اور ہوا داخل نہ ہو۔ اور جب تم بازار سے پھل فروٹ خرید کر لاؤ تو پڑوسی کے یہاں بھی اس میں سے بھیج دو، ورنہ اس کو اپنے گھر میں خفیہ طور پر داخل کر لو، اور تمہارے بچے پھل لے کر باہر نہ نکلیں کہ اس سے پڑوسی کے بچے کبیدہ خاطر ہوں گے۔ اور اپنی کچی ہوئی ہانڈی سے اور اپنے پکوان کی خوشبو سے پڑوسی کو مت ستاؤ۔ ہاں! البتہ پڑوسی کے یہاں اس میں سے کچھ بھیجنے کا ارادہ ہے تو کوئی حرج نہیں۔

(احیاء العلوم: ۱۱۹/۲)

### (۱۳۲) پڑوسیوں کے بعض متعین حقوق

حضرت معاویہ بن حیدر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پڑوسی کے حقوق تم پر یہ ہیں:

- ① اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت اور خبر گیری کرو۔
- ② اور اگر انتقال کر جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جاؤ (اور تدفین کے کاموں میں ہاتھ بٹاؤ)۔
- ③ اور اگر وہ (اپنی ضرورت کے لیے) قرض مانگے تو (بشرط استطاعت) اس کو قرض دو۔

۴ اور اگر وہ کوئی برا کام کر بیٹھے تو پردہ پوشی کرو۔

۵ اور اگر اُسے کوئی نعمت ملے تو اس کو مبارک باد دو۔

۶ اور اگر کوئی مصیبت پہنچے تو تعزیت کرو۔

۷ اور اپنی عمارت اس کی عمارت سے اس طرح بلند نہ کرو کہ اس کے گھر کی ہوا بند ہو جائے۔

۸ اور (جب تمہارے گھر کوئی اچھا کھانا پکے تو اس کی کوشش کرو کہ تمہاری ہانڈی کی مہک اس کے لیے (اور اس کے بچوں کے لیے) باعثِ ایذا نہ ہو) یعنی اس کا اہتمام کرو کہ ہانڈی کی مہک اس کے گھر تک نہ جائے (الّا یہ کہ اس میں سے تھوڑا سا کچھ اس کے گھر بھی بھیج دو) (اس صورت میں کھانے کی مہک اس کے گھر تک جانے میں کوئی مضائقہ نہیں)۔ (مجموع کبیر طبرانی)

تشریح: اس حدیث میں ہمسایوں کے جو متعین حقوق بیان کئے گئے ہیں، ان میں سے آخری دو خاص طور سے قابلِ غور ہیں:

ایک یہ کہ اپنے گھر کی تعمیر میں اس کا لحاظ رکھو اور اس کی دیواریں اس طرح نہ اٹھاؤ کہ پڑوسی کے گھر کی ہوا بند ہو جائے اور اس کو تکلیف پہنچے۔

اور دوسرے یہ کہ گھر میں جب کوئی اچھی مرغوب چیز پکے تو اس کو نہ بھولو کہ ہانڈی کی مہک پڑوسی کے گھر تک جائے گی اور اس کے یا اس کے بچوں کے دل میں اس کی طلب اور طمع پیدا ہوگی جو ان کے لیے باعثِ ایذا ہوگی، اس لیے یا تو اپنے پر لازم کر لو کہ اس کھانے میں سے کچھ تم پڑوسی کے گھر میں بھی بھیجو گے، یا پھر اس کا اہتمام کرو کہ ہانڈی کی مہک پڑوسی کے گھر تک نہ جائے جو ظاہر ہے کہ مشکل ہے۔

رسول اللہ ﷺ کی ان دو ہدایتوں سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ پڑوسیوں کے بارے میں کتنے نازک اور باریک پہلوؤں کی رعایت کو آپ ﷺ نے ضروری قرار دیا ہے۔

قریب قریب اسی مضمون کی ایک حدیث ابن عدی نے ”کامل“ میں اور خرائطی نے ”مکارم الاخلاق“ میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے بھی روایت کی ہے، اور اس میں یہ اضافہ ہے:

۹ اور اگر تم کوئی پھل خرید کر لاؤ تو اس میں سے پڑوسی کے ہاں بھی ہدیہ بھیجو۔

۱۰ اور اگر ایسا نہ کر سکو تو اس کو چھپا کر لاؤ (کہ پڑوس والوں کو خبر نہ ہو اور اس کے بھی احتیاط کرو کہ) تمہارا کوئی بچہ وہ پھل لے کر گھر سے باہر نہ نکلے کہ پڑوسی کے بچے کے دل میں اُسے دیکھ کر جلن پیدا ہوگی۔ (کنز العمال)

اللہ تعالیٰ اُمت کو توفیق دے کہ وہ اللہ کے رسول اللہ ﷺ کی ان ہدایتوں کی قدر و قیمت کو سمجھیں اور اپنی زندگی کا معمول بنا کر ان کی بیش بہا برکات کا دنیا ہی میں تجربہ کریں۔ (معارف اللہ، ص ۹۷/۹۸)

### ﴿۱۳۳﴾ پڑوسیوں کے بارے میں دو حدیثیں اور پڑھ لیجئے

۱ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! فلاں عورت کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ کثرت سے روزہ نماز اور صدقہ خیرات کرنے والی ہے (لیکن) اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان سے تکلیف دیتی ہے یعنی برا بھلا کہتی ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”وہ دوزخ میں ہے۔“

پھر اس شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! فلاں عورت کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ فحش روزہ، صدقہ خیرات اور نماز تو کم کرتی ہے بلکہ اس کا صدقہ و خیرات پیر کے چند ٹکڑوں سے آگے نہیں بڑھتا لیکن اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان سے کوئی تکلیف نہیں دیتی رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”وہ جنت میں ہے۔“ (مسند احمد)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے دریافت کیا یا رسول اللہ ﷺ مجھے کیسے معلوم ہوا کہ میں نے یہ کام اچھا کیا ہے اور یہ کام برا کیا ہے؟ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جب تم اپنے پڑوسیوں کو یہ کہتے ہوئے سنو کہ تم نے اچھا کیا تو یقیناً تم نے اچھا کیا اور جب تم اپنے پڑوسیوں کو یہ کہتے ہوئے سنو کہ تم نے برا کیا تو یقیناً تم نے برا کیا۔ (رواہ ابن ماجہ، مشکوٰۃ ص ۳۳۳)

### ﴿۱۳۲﴾ کن حالات میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری ساقط ہو جاتی ہے

حضرت محمد ﷺ نے ارشاد فرمایا جس کا حاصل یہ ہے کہ اپنے دین کی فکر کے ساتھ دوسرے بندگانِ خدا کے دین کی فکر اور اس سلسلہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی دینی فریضہ اور خداوندی مطالبہ ہے، اس لیے اس کو برابر کرتے رہو، ہاں! جب امت میں مندرجہ ذیل رذائل آجائیں:

- ① دولت کی پوجا ہونے لگے۔
- ② بخل، کنجوسی امت کا مزاج بن جائے۔
- ③ خواہشاتِ نفسانی کا اتباع کیا جانے لگے۔
- ④ آخرت کو بھلا کر دنیا ہی کو مقصود بنا لیا جائے۔
- ⑤ خود رانی، خود بینی کی دباہ عام ہو جائے۔

تو اس بگڑی ہوئی فضا میں چونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تاثیر و افادیت اور عوام کی اصلاح پذیری کی امید نہیں ہوتی اس لیے چاہیے کہ بندہ عوام کی فکر چھوڑ کر بس اپنی ہی اصلاح اور معصیت سے حفاظت کی فکر کرے۔

آخر میں حضور اکرم ﷺ نے فرمایا کہ بعد میں ایسے دور بھی آئیں گے جب دین پر قائم رہنا اور اللہ و رسول کے احکام پر چلنا ہاتھ میں آگ لینے کی طرح تکلیف دہ اور صبر آزما ہوگا۔

ظاہر ہے کہ ایسے حالات میں خود دین پر قائم رہنا ہی بہت بڑا جہاد ہوگا، دوسروں کی اصلاح کی فکر اور اس سلسلے میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی ذمہ داری باقی نہیں رہے گی اور ایسی ناموافق فضا اور سخت حالات میں اللہ و رسول کے احکام پر صبر و ثابت قدمی کے ساتھ عمل کرنے والوں کے بارے میں آپ ﷺ نے فرمایا کہ ان کو تمہارے جیسے پچاس افراد کے عمل کے برابر اجر و ثواب ملے گا۔

(معارف الحدیث: ۱۰۳/۸)

### ﴿۱۳۵﴾ پیر کے دن چھ خصوصیتیں

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ پیر کے دن کو آقائے نامدار تاجدار مدینہ ﷺ کی سیرت کے ساتھ ایک خاص مناسب اور خصوصیت ہے، وہ یہ ہے کہ:

- ① پیر کے دن آپ ﷺ کی ولادت باسعادت ہوئی۔
- ② پیر ہی کے دن آپ ﷺ کو نبوت ملی۔
- ③ آپ ﷺ نے پیر کے دن حجرِ اسود کو اپنی جگہ رکھا۔
- ④ پیر کے دن آپ ﷺ نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کے لیے غار ثور سے سفر کی ابتداء فرمائی۔
- ⑤ پیر کے دن آپ ﷺ نے پہلے مدینہ منورہ پہنچے۔

⑥ پیر ہی کے دن آپ ﷺ کی وفات کا سانحہ پیش آیا۔ (مسند احمد: ۱/۲۷۷، رقم حدیث: ۲۵۰۶)



(۱۳۶) نبی کریم ﷺ کے زمانہ کے درخت بھی حضور ﷺ

### کو پہچانتے تھے مگر آج کا امتی حضور ﷺ کو نہیں پہچانتا

حدیث کی متعدد کتابوں میں صحیح سندوں کے ساتھ مروی ہے کہ حضرت سیدالکوین ﷺ ایک سفر میں تھے۔ اثنائے سفر ایک دیہاتی آپ ﷺ کے سامنے سے گزرا۔ آپ ﷺ نے اس کو اپنے پاس بلا کر فرمایا کہ تم کہاں جانا چاہتے ہو؟ اس دیہاتی نے کہا: میں اپنے گھر جا رہا ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ اگر تم اپنے گھر جا رہے ہو تو ہمارے پاس سے ایک خیر کی بات لے کر جاؤ۔ اس دیہاتی نے کہا: وہ کون سی خیر کی بات ہے جو آپ ﷺ پیش کرنا چاہتے ہیں؟ آپ ﷺ نے کلمہ شہادت کے یہ الفاظ سنا دیئے:

(أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ)

”تم اس بات کی شہادت دے دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ تنہا ہے اس کا کوئی سا جہمی نہیں اور محمد ﷺ اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔“

اس پر اس دیہاتی نے کہا کہ اس کی سچائی پر کون گواہی دے گا؟ وہاں سے کچھ دوری پر وادی کے کنارے ایک درخت تھا۔ آقائے نامدار تاجدار مدینہ ﷺ نے فرمایا کہ یہ درخت شہادت دے گا۔ چنانچہ آپ ﷺ نے اس درخت کو اپنے پاس بلایا تو وہ درخت زمین پھاڑتا ہوا حضرت خاتم الانبیاء ﷺ کی بارہ گاہ میں حاضر ہوا، اور اس نے کلمہ شریف کی تین مرتبہ شہادت دی، اس کے بعد وہ درخت جیسے آیا تھا ویسے ہی اپنی جگہ واپس پہنچ گیا۔

سرکارِ دو عالم ﷺ کا یہ معجزہ جب اس دیہاتی نے دیکھا تو بے ساختہ پکار اٹھا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، میں آپ ﷺ پر ایمان لے آیا ہوں۔ میں یہاں سے جا کر اپنے قبیلے کے سامنے یہ کلمہ پیش کر دوں گا۔ اگر وہ لوگ اس کو قبول کریں گے تو میں ان کو لے کر آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا اور اگر وہ لوگ قبول نہیں کریں گے تو میں اپنے قبیلے کو چھوڑ کر اکیلے آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ ہی کے ساتھ رہوں گا۔ (مجمع الزوائد: ۸/۲۹۲، حدیث نمبر ۵۲۳۶)

### (۱۳۷) ہجری اور اسلامی سنہ کی اہمیت اور اس کی تاریخ

اسلام سے پہلے صرف عیسوی سال اور مہینوں سے تاریخ لکھی جاتی تھی اور مسلمانوں میں تاریخ لکھنے کا دستور نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دورِ خلافت ۷ ہجری میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس خط لکھا کہ آپ کی طرف سے حکومت کے مختلف علاقوں میں خطوط جاری ہوتے ہیں مگر آپ کے ان خطوط میں تاریخ لکھی ہوئی نہیں ہوتی اور تاریخ لکھنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے کہ کس دن آپ کی طرف سے حکم جاری ہوا، اور کب پہنچا اور کب اس پر عمل ہوا۔ ان سب باتوں کے سمجھنے کا مدار تاریخ لکھنے پر ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو نہایت معقول بات سمجھا اور فوری طور پر اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک میٹنگ بلائی اس میں مشورہ دینے والے اکابر صحابہ کی طرف سے چار قسم کی رائیں سامنے آئیں:

- ① اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت کی یہ رائے ہوئی کہ آپ ﷺ کی ولادت کے سال سے اسلامی سال کی ابتداء کی جائے۔
- ② دوسری جماعت کی یہ رائے ہوئی کہ نبوت کے سال سے اسلامی سال کی ابتداء کی جائے۔
- ③ تیسری جماعت کی رائے یہ ہوئی کہ ہجرت سے اسلامی سال کی ابتداء کی جائے۔
- ④ چوتھی جماعت کی یہ رائے ہوئی کہ آپ ﷺ کی وفات سے اسلامی سال کی ابتداء کی جائے۔

ان چاروں قسم کی رائے سامنے آنے کے بعد ان پر باضابطہ بحث ہوئی، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ سنایا کہ ولادت یا نبوت سے اسلامی سال کی ابتداء کرنے میں اختلاف سامنے آسکتا ہے۔ اس لیے کہ آپ ﷺ کی ولادت کا دن اسی طرح آپ ﷺ کی بعثت کا دن قطعی طور پر اس وقت متعین نہیں ہے بلکہ اختلاف ہے، اور وفات سے شروع کرنا اس لیے مناسب نہیں ہے کہ وفات کا سال اسلام اور مسلمانوں کے غم اور صدمہ کا سال ہے، اس لیے مناسب یہ ہوگا کہ ہجرت سے اسلامی سال کی ابتداء کی جائے، اس میں چار خوبیاں ہیں:

① حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہجرت نے حق و باطل کے درمیان واضح امتیاز پیدا کر دیا۔

② یہی وہ سال ہے جس میں اسلام کو عزت اور قوت ملی۔

③ یہی وہ سال ہے جس میں نبی کریم ﷺ اور مسلمان امن و سکون کے ساتھ بغیر خوف و خطرے کے اللہ کی عبادت کرنے لگے۔

④ اسی سال مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی۔

ان تمام خوبیوں کی بناء پر تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اتفاق اور اجماع اس بات پر ہوا کہ ہجرت کے سال ہی سے اسلامی سال کی ابتداء ہوئی۔ (بخاری شریف: ۱/۵۶۰، حدیث نمبر ۲۷۹۳۔ فتح الباری، عمدۃ القاری، الروض الملاف: ۳/۲۵۶)

پھر اسی مجلس میں دوسرا مسئلہ اٹھا کہ سال میں بارہ مہینے ہیں ان میں چار ماہ حرمت والے ہیں ① ذیقعدہ ② ذی الحجہ ③ محرم اور ④ رجب، جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان میں ہے۔ (بخاری شریف: ۳/۶۳۲، حدیث نمبر ۴۲۱۸)

سال کے مہینے کی ابتداء میں بھی اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم کی مختلف آراء سامنے آئیں کہ سال کے مہینے کی ابتداء کس مہینے سے کی جائے۔ چنانچہ اس سلسلہ میں اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرف سے چار قسم کی رائے سامنے آئیں:

① ایک جماعت نے یہ مشورہ دیا کہ رجب کے مہینے سے سال کے مہینے کی ابتداء کی جائے، اس لیے کہ رجب سے ذی الحجہ تک چھ مہینے ہوتے ہیں، پھر محرم سے رجب کی ابتداء تک چھ مہینے ہوتے ہیں۔

② دوسری جماعت نے یہ مشورہ دیا کہ رمضان کے مہینے سے سال کے مہینے کی ابتداء کی جائے، اس لیے کہ رمضان سب سے افضل ترین مہینہ ہے جس میں پورا قرآن کریم نازل ہوا ہے۔

③ تیسری جماعت نے یہ مشورہ دیا کہ محرم کے مہینے سے سال کے مہینے کی ابتداء کی جائے، اس لیے کہ ماہ محرم میں حجاج کرام حج کر کے واپس آتے ہیں۔

④ چوتھی جماعت نے یہ مشورہ دیا کہ ربیع الاول سے سال کے مہینے کی ابتداء کی جائے، اس لیے کہ اسی مہینے میں حضور اکرم ﷺ نے ہجرت فرمائی کہ شروع ربیع الاول میں مکہ مکرمہ سے سفر شروع فرمایا، اور ۸/ربیع الاول کو مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب کی رائے نہایت احترام کے ساتھ سنی۔ پھر آخر میں یہ فیصلہ دیا کہ محرم کے مہینے سے سال کے مہینے کی ابتداء ہونی چاہیے۔ اس کی دو خوبیاں سامنے ہیں:

◆ حضرات انصار رضی اللہ عنہم نے بیعت عقبہ کے موقع پر حضور اکرم ﷺ کو مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لانے کی دعوت پیش فرمائی تھی اور آپ نے انصار کی دعوت قبول فرمائی اور یہ ذی الحجہ کے مہینے میں حج کے بعد پیش آیا تھا اور حضور اکرم ﷺ نے محرم کے شروع سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ہجرت کے لیے روانہ کرنا شروع فرمادیا تھا، لہذا ہجرت کی ابتداء محرم کے مہینے سے ہوئی اور اس کی تکمیل ربیع الاول میں آپ ﷺ کی ہجرت سے ہوئی۔

◆ حج اسلام کی ایک تاریخی عبادت ہے جو سال میں صرف ایک مرتبہ ہوتی ہے اور حج سے فراغت کے بعد محرم کے مہینے میں حاجی لوگ

اپنے گھر واپس آتے ہیں ان خوبیوں کی بناء پر سال کے مہینے کی ابتداء محرم سے مناسب ہے۔ اس پر تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اتفاق اور اجماع ہوا کہ سال کے مہینے کی ابتداء محرم سے ہو۔ لہذا اسلامی سال کی ابتداء ہجرت سے اور اسلامی مہینہ کی ابتداء محرم الحرام سے مان لی گئی اور اسی پر اُمت کا عمل جاری ہے۔

نوٹ: ہمارے پروگرام، ہماری شادی بیاہ کی تاریخیں، سفر کی تاریخیں، کاروبار شروع کرنے کی تاریخیں اور معاملات و معاشرت میں جو بھی پروگرام طے ہو اس پر عمل اسلامی سال اور اسلامی تاریخوں کے مطابق ہونا چاہیے، اس لیے کہ اسلامی سال اور اسلامی مہینہ کے مطابق پروگرام بنانے سے اس پروگرام میں روحانیت و نورانیت آئے گی۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ اُمت کا بہت بڑا طبقہ اسلامی سال اور اسلامی مہینوں کو جانتا ہی نہیں، لہذا اپنے بچوں کو اسلامی سال اور اسلامی مہینہ کی اہمیت بتلایا کرو۔ اللہ نے روزہ، عید، حج کا مدار اسلامی سال و اسلامی تاریخوں پر رکھا ہے، عیسوی تاریخوں پر نہیں رکھا۔ عیسوی تاریخ تابع ہے اسلامی تاریخ کے اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین!

### ﴿۱۳۸﴾ علم اور مال میں فرق (ایک خط کا جواب)

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ علم اور مال میں فرق ہے، وہ یہ کہ مال کو جتنا خرچ کر دو گھنٹا ہے اور علم کو جتنا خرچ کرو اتنا بڑھتا ہے۔ اگر علم کہیں گھٹ جایا کرنا تو جو حافظ قرآن شریف پڑھانے بیٹھتا تو اتنی آیتیں، بچوں کو سکھلایا کرنا خود بھول جایا کرتا۔ اس کا علم دوسرے کے پاس منتقل ہو جایا کرنا، حالانکہ جتنا پڑھاتا ہے اتنا استاد کا حفظ پختہ ہو جاتا ہے، اس کا علم ترقی کر جاتا ہے۔ غرض علم کو جتنا خرچ کر دو بڑھتا ہے، دولت کو جتنا خرچ کر دو گھنٹتی ہے۔

دوسرا فرق یہ ہے کہ مال کی حفاظت مالک کو کرنی پڑتی ہے۔ چار پیسے ہوں گے تو آپ کو فکر ہوگی کہ کہیں چور نہ لے جائے، تالا لاؤں، تجوری میں رکھوں، گھر کی کوٹھڑی میں رکھوں، اور سو رہے ہوں تو فکر ہے کہ رات کو کوئی چور نہ آجائے تو آپ کو خود مال کی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ اور علم عالم کی حفاظت کرتا ہے۔ عالم کو ضرورت نہیں۔ علم خود بتائے گا کہ یہ خطرہ کاراستہ ہے، یہ نجات کا۔ تو علم اپنے عالم کی خود حفاظت کرتا ہے، مگر مال اپنے مالک کی حفاظت نہیں کرتا، مالک کو حفاظت کرنی پڑتی ہے۔

اب ظاہر بات ہے کہ مال آئے تو سو مصیبتیں ساتھ لے کر آئے گا کہ حفاظت کرو چور سے اور ڈاکو وغیرہ سے۔ اور علم آئے تو احسان جلتا ہوا آئے گا کہ میں تیرا محافظ ہوں، میں تیری خدمت کروں گا، میں تجھے نجات کا راستہ بتلاؤں گا۔ لہذا اگر کوئی علم سکھائے تو وہ سب سے بڑا احسن ہے کہ اس نے دنیا اور آخرت کا راستہ کھول دیا۔

دولت سے راستے نہیں کھلتے اس سے تو آدمی بہکتا ہے، ہاں! اگر کوئی علم کے مطابق کمائے اور علم کے مطابق خرچ کرے تو دولت کام دے گی، اور اگر جاہلانہ طریقے سے کمائے حلال و حرام کا امتیاز نہ کرے اور خرچ کرنے میں حلال و حرام کا امتیاز نہ ہو تو دولت مصیبت بن جاتی ہے۔

اب تک تو ہم عقیدے سے سمجھتے تھے کہ دولت کو بے جا طریقے سے کماد تو مصیبت بن جاتی ہے مگر آج تو دنیا میں مشاہدہ ہو رہا ہے یعنی جن کے پاس ناجائز طریقے سے کمائی ہو دولت تھی آج وہ مصیبت میں مبتلا ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خدا کے لیے دولت نکلے، جان تو ہماری بیچ جائے، کوئی پہاڑوں میں چھپا رہا ہے، کوئی سمندر میں ڈال رہا ہے، مگر گورنمنٹ ہے کہ کھوج کر ان چیزوں کو نکال رہی ہے تو مالداروں پر ایک عجیب مصیبت گزر رہی ہے۔

یہ اللہ میاں کا فضل ہے کہ اس وقت ہم جیسے لوگ جو یہ کہا کرتے تھے کہ تمہوڑے پیسے کافی ہیں، جو غریب یا زاہد تھے آج انہیں یہ کہنے کا

موقع ہے کہ آرام میں تو ہم ہیں تمہاری دولت نے تمہیں فائدہ نہیں دیا۔ ہماری غربت نے ہمیں فائدہ دیا۔ فقیر کے گھر گورنمنٹ کا کوئی آدمی نہیں آئے گا کہ ٹیکس ادا کرو۔ وہ کہے گا کہ میرے پاس کچھ نہیں ملے کہاں سے ادا کروں، وہ آرام سے ہے، اور جس کے پاس کچھ ہے وہ مصیبت میں مبتلا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ ہم کچھ نہیں رکھتے، اس لیے غم بھی کچھ نہیں رکھتے۔ ہم دستار بھی نہیں رکھتے، پیچ کا غم کہاں سے رکھتے؟ جس پر دستار ہو وہ پیچ و خم کی فکر کرے یہاں تو دستار ہی ندارد ہے، یہاں کپڑا ہی ندارد ہے تو کھلی اور دامن کی فکر کیوں ہوگی؟

بہر حال جو لوگ آج کم یعنی بقدر ضرورت رکھتے ہیں وہ آرام میں ہیں اور جو زیادہ رکھتے ہیں وہ مصیبت میں مبتلا ہیں مگر کیوں مبتلا ہیں، محض زیادہ رکھنے کی وجہ سے نہیں، اسلام نے یہ نہیں کہا کہ تم مفلس اور قلاش بنو، ناجائز طریقے پر زیادہ رکھتے ہیں، اس لیے پریشان ہو، جس کے پاس جائز طریقہ سے ہے وہ آج بھی پریشان نہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ جائز راستہ پر چلنا ہمیشہ راحت کا باعث بنتا ہے، ناجائز راستہ پر چلنا ہمیشہ مصیبت کا موجب ہوتا ہے، خواہ وہ قانوناً ناجائز ہو یا شرعاً ناجائز ہو۔ جب کسی ناجائز چیز کا آدمی ارتکاب کرے گا تو مصیبت میں مبتلا ہوگا۔

نوٹ: ایک صاحب جن کے پاس کافی مال تھا اور کافی رقم تھی، اچانک ان پر نامناسب حالات آئے اور راتوں رات اس کا سارا مال ضائع ہو گیا، چونکہ وہ عالم بھی تھے اور مال والے بھی تھے، انہوں نے خط لکھا، اس کے جواب میں مندرجہ بالا مضمون لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نامناسب حالات سے سب کی حفاظت فرمائیں۔ آمین۔



## ﴿ ۱۳۹ ﴾ مجربات

حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ

ساٹھ روحانی نسخے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خاص الماری سے ملے

غَمَمْتُ كَرًا

(۱) ناسور یا داغ دھبہ کا روحانی علاج:

﴿ مُسَلِّمَةٌ لِأَشِيَةِ فِيهَا ﴾ (سورہ بقرہ: ۷۱)

اگر آپ کے بدن پر ناسور ہو، یا کوئی داغ دھبہ ہو تو یہ آیت اکتالیس (۳۱) بار دوایا مرہم پر پڑھ کر پھونکیں پھر استعمال کریں، انشاء اللہ داغ دھبہ دور ہو جائے گا۔

غَمَمْتُ كَرًا

(۲) گردے اور پتے کی پتھری کا روحانی علاج:

﴿ وَإِنَّ مِنَ الْجِبَارِكِ لَمَاءَ يُنْفَجِرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَاءٌ يَشَقُّ فَيُخْرِجُ مِنْهُ الْمَاءَ ط وَإِنَّ مِنْهَا لَمَاءٌ يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ

اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ (سورہ بقرہ: ۷۴)

اگر آپ کو گردے اور پتے کی پتھری پریشان کرتی ہو تو یہ آیت اکتالیس (۳۱) بار پڑھ کر پانی پر دم کریں اور اس وقت تک پیتے رہیں جب تک کامیابی نہ ہو۔ انشاء اللہ خدا تعالیٰ شفاء عطا فرمائیں گے۔

غَمَمْتُ كَرًا

(۳) موذی جانور یا دشمن سے حفاظت کا نسخہ:

﴿ صَمِّ بِكُمْ عَمِي فَهُمْ لَا يَذُرُّكُمْ ﴾ (سورہ بقرہ: ۱۸)

اگر راستہ میں کسی موذی جانور یا دشمن سے خوف محسوس ہو تو سات (۷) دفعہ اس پر مذکورہ آیت پڑھ کر پھونکیں۔

غَمَمْتُ كَرًا

(۴) غفلت دور کرنے کا نسخہ:

﴿ أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ (سورہ بقرہ: ۵)

اگر آپ دین سے غافل اور سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، یا برے افعال میں مبتلا ہیں، تو مذکورہ آیت کو پانی پر ایک سو ایک (۱۰۱) مرتبہ پڑھ کر دم کر دیں اور اکتالیس (۳۱) دن تک پیتے رہیں۔

غَمَمْتُ كَرًا

(۵) ہر درد سے شفاء حاصل کرنے کا نسخہ:

﴿وَإِنْ يَسْأَلُكَ اللَّهُ بَعْضُ أَلْسِنَةٍ فَمَا تُجِبْ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُسْأَلْكَ بِبَعْضِ شَيْءٍ قَدِيرٍ﴾ (سورہ انعام: ۱۷۴)  
 اگر آپ کو ہر قسم کی تکلیف اور درد سے شفا حاصل کرنی ہو تو سات (۷) یا گیارہ (۱۱) دفعہ مذکورہ آیت کو جس جگہ تکلیف ہو وہاں ہاتھ رکھ کر پڑھیں اور دم کریں۔

غَمَمْتُ كَرًا

(۶) تنگی سے نجات حاصل کرنے کا نسخہ:

﴿رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عَيْدًا لِّأَوْلِيَانَا وَأَحْرَقَنَا وَأَهْلَ مَنكٍ وَأَنْتَ خَبِيرُ الرِّزْقِ﴾ (سورہ مائدہ: ۱۱۳)  
 اگر آپ رزق کی تنگی سے پریشان ہیں یا کسی خاص چیز کی حاجت ہو تو مذکورہ آیت کو سات (۷) دفعہ پڑھ کر آسمان کی طرف پھونکیں۔

غَمَمْتُ كَرًا

(۷) اولاد کے رشتہ کیلئے مجرب عمل:

﴿أَمِنْ يَجِبُ الْمَضْطَرُّ لِنَا دَعَاةً وَيُكْشِفُ السُّوءَ﴾ (سورہ نمل: ۶۲)  
 اگر آپ کی اولاد کا رشتہ نہیں ملتا تو اٹھتے بیٹھتے مذکورہ آیت کا ورد جاری رکھیں۔

غَمَمْتُ كَرًا

(۸) مقدمہ میں کامیابی حاصل کرنے کا نسخہ:

﴿وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴾ (سورہ نبأ: ۸۱)  
 اگر آپ کو مقدمہ میں کامیابی حاصل کرنی ہو تو روزانہ کسی نماز کے بعد ایک سو تینتیس (۱۳۳) دفعہ مذکورہ آیت پڑھ لو اگر حق پر ہو تو تب، ورنہ ناحق پڑھنے والا خود مصیبت میں گرفتار ہو سکتا ہے۔

غَمَمْتُ كَرًا

(۹) غصہ کو دور کرنے کا نسخہ:

﴿وَالْكَاظِمِينَ الْفَيْضَ وَالْعَاقِبِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ (سورہ آل عمران: ۱۳۳)  
 اگر آپ کا غصہ شدید ہے اور آپ سے باہر ہو جاتے ہیں تو ایک سو ایک (۱۰۱) دفعہ مذکورہ آیت اکیس (۲۱) دن تک چینی یا شکر پر پڑھیں پھر اس کو چائے یا پانی میں ڈال کر پی جائیں۔

غَمَّ مَتَّ كَرًا

(۱۰) دل کی گھبراہٹ اور بیماری سے نجات کا نسخہ:

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ (سورہ رعد: ۲۸)  
 اگر آپ کو دل کی گھبراہٹ اور بیماری دور کرتی ہو تو یہ آیت اکتالیس (۳۱) بار پانی پر دم کر کے پی لو۔

غَمَّ مَتَّ كَرًا

(۱۱) لڑکی کے رشتہ کیلئے ایک مجرب عمل:

﴿رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ﴾ (سورہ نھص: ۲۴)  
 اگر آپ کی لڑکی کے لیے رشتہ نہ آتا ہو، یا آتا ہو مگر رشتہ پسند نہ آتا ہو تو ایک سو بارہ (۱۱۴) مرتبہ اس دعا کو اور تین (۳) دفعہ سورہ فتحی پڑھیں، ہر مہینہ گیارہ (۱۱) دن تک پڑھیں اور تین مہینہ یہ عمل جاری رکھیں۔

غَمَّ مَتَّ كَرًا

(۱۲) تنگی اور پریشانی دور کرنے کا نسخہ:

﴿وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ﴾ (سورہ اعراف: ۱۰)  
 اگر آپ کے پاس رہنے کی جگہ یا مکان نہ ہو، یا روز کا ذریعہ نہ ہو، یا آپ رزق سے تنگ ہیں، یا مسافر ہیں اور سامان آپ کے پاس کچھ نہیں، تو مذکورہ آیت کو ایک سو اکاون (۱۵۱) مرتبہ روزانہ پڑھ لو جب تک کامیابی نہ ہو۔ انشاء اللہ کامیابی ہوگی۔

غَمَّ مَتَّ كَرًا

(۱۳) عزت حاصل کرنے کا نسخہ:

﴿فَسُبْحٰنَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ (سورہ یسین: ۸۳)  
 اگر آپ لوگوں کی نظروں سے گر گئے ہو اور چاہتے ہو کہ آپ کی عزت قائم ہو جائے تو آپ مذکورہ آیت کو گیارہ (۱۱) دفعہ پڑھ کر اپنے اوپر پھونک لو، انشاء اللہ آپ کامیاب ہو جاؤ گے۔

غَمَّ مَتَّ كَرًا

(۱۴) زرینہ اولاد کے حصول اور رزق کی تنگی دور کرنے کیلئے بہترین نسخہ:

﴿وَيُؤَدِّدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَيُنِيبُ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا﴾ (سورہ نوح: ۱۴)  
 اگر آپ کے یہاں اولاد زرینہ نہیں ہے تو حاصل ٹھہرتے ہی نو مہینے تک گیارہ (۱۱) مرتبہ روزانہ یہ آیت پڑھئے۔ رزق کی تنگی کو دور کرنے کے لیے بھی اس آیت کو روزانہ سات مرتبہ پڑھئے۔

غَمَمَتْ كَرًا

(۱۵) میاں بیوی میں محبت پیدا کرنے کا نسخہ:

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ (سورہ روم: ۲۱)

اگر آپ کو اپنی بیوی سے اختلاف ہے، آپس میں محبت نہیں ہے تو اس آیت کو نواہے (۹۹) دفعہ کسی بیٹھالی پر تین (۳) دن پڑھ کر دم کریں اور دونوں کھائیں۔

غَمَمَتْ كَرًا

(۱۶) جادو کار روحانی علاج:

﴿ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ ۝ وَآتَىٰ مَائِي بِمِثْلِكَ تَلْفَ مَا صَنَعُوا ۚ إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدٌ سِحْرٌ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ ﴾ (سورہ طہ: ۶۸، ۶۹)

اگر آپ کو شک ہے کہ آپ پر جادو کیا گیا ہے، یا علامتیں محسوس ہو رہی ہوں تو جادو کے اثر کو ختم کرنے کے لیے گیارہ (۱۱) دن تک سو (۱۰۰) دفعہ مذکورہ آیت پڑھ کر اپنے اوپر پھونکیں یا اور کسی پر شک ہو تو اس پر پڑھ کر پھونکیں۔ اس عمل کے دوران کوئی دوسرا عمل نہ پڑھیں۔

غَمَمَتْ كَرًا

(۱۷) خاوند کو راہ راست پر لانے کا نسخہ:

﴿ قُلْ لَا يَسْتَوِي الْغَيْبُ وَالظَّهْبُ ۚ وَكَوْا عَجَبَكَ كَثْرَةُ الْغَيْبِ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾

(سورہ بقرہ: ۱۰۰)

اگر کسی کا خاوند دوسری عورت سے ناجائز تعلق رکھتا ہو یا حرام کی کمائی گھر میں لاتا ہو تو اسے باز رکھنے کے لیے گیارہ (۱۱) دن تک ایک سو اکتالیس (۱۳۱) مرتبہ مذکورہ آیت کو کسی کھانے کی چیز پر پڑھ کر دم کر کے کھلائیں۔ انشاء اللہ کامیابی ہوگی۔

غَمَمَتْ كَرًا

(۱۸) ہر جائز مراد کے لیے مجرب عمل:

﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَبْ لَكُمْ أَنْتَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ (سورہ انفال: ۹)

مسلمانوں پر واجب ہے کہ تمام امور میں اللہ پر توکل کریں، اس کے سوا کسی اور پر بھروسہ نہ کریں، مدد اور کامیابی اسی کے ہاتھ میں ہے جو سب کا پیدا کرنے والا ہے۔ ہر جائز مراد کے لیے چودہ (۱۴) دفعہ مذکورہ آیت گیارہ (۱۱) دن تک پڑھیں۔

غَمَمَتْ كَرًا

(۱۹) عزت، نیک نامی اور صحت بدن کے لیے مجرب عمل:

﴿ قِيلَ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۚ وَكَهَ الْكَبِيرِ ۚ يَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ



الْحَكِيمُ ﴿ (سورہ جاثیہ: ۳۶، ۳۷)

اگر آپ کو عزت و آبرو اور وقار حاصل کرنا ہو یا بخار کو دور کرنا ہو، یا زخم کو ٹھیک کرنا ہو، یا اچھے کاموں میں نام پیدا کرنا ہو، یا عمل کا وزن بھاری کرنا ہو تو روزانہ مذکورہ آیت سات (۷) دفعہ پڑھیں۔

غَمَمْتُ كُرًا

(۲۰) کندز ہن کارو حافی علاج:

﴿ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴾ (سورہ نساء: ۱۱۳)

اگر آپ کا بچہ یا کوئی طالب علم کندز ہن ہو تو ایک سو اکیس (۱۲۱) مرتبہ یہ آیت پانی پر دم کر کے روزانہ پلائیں، انشاء اللہ اس کی برکت سے عالم فاضل ہو جائے گا۔

غَمَمْتُ كُرًا

(۲۱) ہرن نخ و غم دور کرنے کا بہترین نسخہ:

﴿ وَأَنفُوسُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴾ (سورہ مؤمن: ۴۳)

عشاء کی نماز کے بعد ایک سو ایک (۱۰۱) دفعہ پڑھنے سے ہرن نخ و غم دور کرنے کے لیے غیب سے مدد کا دروازہ کھلتا ہے۔

غَمَمْتُ كُرًا

(۲۲) امتحان وغیرہ میں کامیابی کیلئے مجرب عمل:

﴿ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي آتَاكَ بِبَصِيرَةٍ وَالْمُؤْمِنِينَ ﴾ (سورہ انفال: ۶۲)

نخ اور کامیابی کے لیے، یا امتحان میں آسان پرچوں کے لیے جانے سے پہلے سات (۷) دفعہ یہ آیت پڑھیں۔

غَمَمْتُ كُرًا

(۲۳) اپنی اور اولاد کی اصلاح کیلئے مجرب عمل:

﴿ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي دِينِي ﴾

﴿ إِنِّي تَبَتُّ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ (سورہ انفال: ۱۵)

اگر آپ اپنی اولاد کی فرمانبرداری چاہتے ہیں اور خدا کے لیے پسندیدہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو مذکورہ آیت تین (۳) دفعہ روزانہ پڑھیں، انشاء اللہ تعالیٰ مفید ثابت ہوگی۔

غَمَمْتُ كُرًا

(۲۴) دل اور چہرے کو نورانی بنانے کا مجرب عمل:

﴿ اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِ مِثْلُ نُورٍ كَيْشْكُورٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ

دُرِّيُّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ

يَهْدِي اللَّهُ لِنُورٍ مِّنْ نَّشَاءٍ ۖ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ (سورہ نور: ۳۵)

اگر آپ کو اپنے دل میں اور چہرے میں نور پیدا کرنا ہے تو روزانہ مذکورہ آیت ایک مرتبہ اپنے اوپر پڑھ کر پھونکیں۔

غَمَمْتُ كَرًا

(۲۵) بھٹکے ہوئے کو راہِ راست پر لانے کا نسخہ:

﴿ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾ (سورہ مفت: ۱۱۸)

اگر آپ سیدھی راہ سے بھٹک جائیں، اچھائی برائی کی تمیز نہ رہے تو آپ تین سو تیرہ (۳۱۳) دفعہ مذکورہ آیت پانی پر دم کر کے اس وقت تک پیتے رہیں جب تک آپ کی حالت سدھرنہ جائے۔

غَمَمْتُ كَرًا

(۲۶) معذور کیلئے بہترین عمل:

﴿ اللَّهُمَّ ارْجُلُ يَمْشُونَ بِهَا زَأْمٌ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا زَأْمٌ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُّبْصِرُونَ بِهَا زَأْمٌ لَهُمْ أَذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ﴾ (سورہ اعراف: ۱۹۵)

اگر کوئی ہاتھ، پیر، کان، آنکھ یا ٹانگہ وغیرہ سے معذور ہے تو اس آیت کو کثرت سے پڑھیں اور پانی پر دم کر کے معذور کو پلائیں۔

غَمَمْتُ كَرًا

(۲۷) یرقان کا روحانی علاج:

اگر کسی کو یرقان ہو گیا ہو تو پہلے سورہ فاتحہ ایک بار، پھر سورہ، حشر سات (۷) دفعہ، پھر ایک بار سورہ قریش پڑھ کر پانی پر دم کریں، اور مریض کو جب تک فائدہ نہ ہو پلاتے رہیں۔

غَمَمْتُ كَرًا

(۲۸) لاعلاج بیماری اور ظالم کے ظلم و ستم سے نجات حاصل کرنے کا بہترین نسخہ:

﴿ فَذَعَارَبَهُ أَتَى مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرَ ﴾ (سورہ قمر: ۱۰)

اگر آپ کو کوئی بیماری ہو اور ڈاکٹر کی سمجھ سے باہر ہو، یا کوئی دوا اثر نہ کرتی ہو، یا کوئی شخص مظلوم ہو اور ظالم کا ظلم انتہا تک پہنچ چکا ہو تو روزانہ تین سو تیرہ مرتبہ (۳۱۳) مذکورہ آیت پڑھ کر آسمان کی طرف منہ کر کے پھونکیں اور مریض کو پانی پر دم کر کے پلائیں، یہ عمل اکیس

(۲۱) روز تک کریں۔

غَمَمْتُ كَرًا

(۲۹) رزق میں برکت اور کام میں آسانی کیلئے مجرب عمل:

رزق میں ترقی اور برکت کے لیے یا کوئی کام بس سے باہر ہو اور کوئی وسیلہ نظر نہ آتا ہو، یا کسی کام میں آسانی اور جلدی مطلوب ہو تو سورہ مزمل ایک بیٹھک میں اکتالیس (۴۱) مرتبہ تین (۳) دن تک پڑھیں، انشاء اللہ مقصد میں کامیابی ہوگی۔ لیکن اس عمل سے دوسروں

کو نقصان پہنچانا مقصود نہیں ہونا چاہیے۔

غَمَّ مَتَّ كَرًا

(۳۰) حج کی استطاعت حاصل کرنے کیلئے مجرب عمل:

﴿لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا﴾ (سورہ فتح: ۲۷)

اگر آپ گونج پر جانے کی طلب ہے اور کوئی وسیلہ جانے کا نہ ہو تو کثرت سے مذکورہ آیت کا ورد کریں، اس وقت تک جب تک امید

پوری نہ ہو۔

غَمَّ مَتَّ كَرًا

(۳۱) اُلفت و محبت پیدا کرنے کا بہترین طریقہ:

﴿وَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَالِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلْفَتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (سورہ انفال: ۶۳)

اگر آپ کسی کے دل میں اُلفت و محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، یا خاندان میں نا اُفتالی ہو تو اُفتاق پیدا کرنے کے لیے یہ آیت گیارہ

(۱۱) مرتبہ روزانہ پڑھیں۔

غَمَّ مَتَّ كَرًا

(۳۲) ظالم کو دفع کرنے کیلئے جلالی عمل:

﴿فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (سورہ انعام: ۲۵)

ظالم کو دفع کرنے کے لیے یہ آیت تین (۳) دن تک آگیں (۲۱) دفعہ پڑھنا مفید ہے، یہ آیت بڑی جلالی ہے اس کو ناجائز موقع پر

پڑھنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ جب ظالم کا ظلم ناقابل برداشت ہو تب یہ عمل کریں۔

غَمَّ مَتَّ كَرًا

(۳۳) طالب اولاد کیلئے مجرب عمل:

﴿وَاللَّهُ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (سورہ الباقہ: ۱۷)

اگر آپ اولاد سے محروم ہیں تو یہ آیت اکٹالیس (۴۱) دن تک روزانہ تین سو (۳۰۰) دفعہ کسی بیٹھی چیز پر دم کر کے آدمی خاوند اور

آدمی بیوی کھائے۔

غَمَّ مَتَّ كَرًا

(۳۴) رزق میں کسادگی اور کاروبار کی ترقی کیلئے مجرب عمل:

﴿لِلَّهِ مَالِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ (سورہ لقمان: ۲۶)

رزق میں کشادگی کے لیے، کاروبار کی ترقی کے لیے، یا نیا کاروبار شروع کرنے سے پہلے اس آیت کو روزانہ ایک سو اکتالیس (۱۳۱)

دفعہ پڑھیں۔

غَمَمْتُ كَرًا

(۳۵) دشمن کے شر سے حفاظت کا بہترین نسخہ:

﴿قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ (سورہ توبہ: ۵۱)

اگر کسی شخص کو دشمن سے تکلیف یا نقصان پہنچے تو امدادِ الہیہ ہو، یا تکلیف پہنچا تا ہو تو اس آیت کو روزانہ سات (۷) دفعہ پڑھے، انشاء اللہ

اس کی اذیت سے محفوظ رہے گا۔

غَمَمْتُ كَرًا

(۳۶) حضور اکرم ﷺ کی زیارت کیلئے مجرب عمل:

﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ (سورہ احزاب: ۵۶)

جو حضور ﷺ سے ہم کلام ہونے کا یا ان کی زیارت کا خواہش مند ہو وہ رات کو سوتے وقت اس کی تسبیح پڑھے۔ انشاء اللہ جلد ہی نبی

کریم کی زیارت ہوگی۔

غَمَمْتُ كَرًا

(۳۷) اولاد کی حیات اور مصیبت سے نجات کا نسخہ:

﴿وَنَجِّنُهُمُ وَلَهُهُ مِنَ الْكُفْرِ الْعَظِيمِ﴾ (سورہ صافات: ۷۶)

اگر کسی شخص کی اولاد مر جاتی ہو زندہ نہ رہتی ہو، یا وہ کسی سخت مصیبت میں مبتلا رہتا ہو تو اس آیت کو روزانہ صبح و شام گیارہ دفعہ

پڑھے۔

غَمَمْتُ كَرًا

(۳۸) جنت الفردوس کا وارث بننے کے لیے مجرب عمل:

﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ

لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۝ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۝

فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَفْتَنِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ

صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۝ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَارُوقُونَ ۝ الَّذِينَ يَرْتُفُونَ الْفِرْدَوْسِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝﴾ (سورہ مؤمنون: ۱۱۱)

رات کو سوتے وقت مذکورہ آیتیں ضرور پڑھیں۔ کیونکہ یہ آیتیں عزت کی حفاظت کرتی ہیں..... بے نمازیوں کو نماز کی رغبت دلاتی

ہیں..... بے ہودہ اور بری باتوں سے روکتی ہیں..... اور جنت الفردوس کا وارث بنا دیتی ہیں۔

غَمَمْتُ كَرًا

(۳۹) محروم اولاد کیلئے مجرب عمل:

﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُخَلِّقُ مَا يَشَاءُ يُهَبُّ لِمَنْ يَشَاءُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ كُودٌ﴾ (سورہ شوری: ۴۹)  
جس کے ہاں اولاد نہ ہوتی ہو وہ یہ آیتیں ایک سو تینتیس (۱۳۳) مرتبہ پانی پر دم کر کے فجر کی نماز کے بعد میاں بیوی دونوں تکس۔

غَمَمْتُ كَرًا

(۴۰) بیماری یا کمزوری کو دور کرنے کا نسخہ:

﴿وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُوا مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ (سورہ یوسف: ۵۶)

اگر کوئی بچہ یا شخص بیمار ہو، یا کمزور ہو، یا سوکھتا چلا جا رہا ہو اور بظاہر کوئی بیماری نظر نہ آتی ہو تو اول و آخر تین مرتبہ درود شریف پڑھے اور اکیس (۲۱) دن تک ایک سو اکتالیس (۱۳۱) دفعہ یہ آیت پڑھے، اور مریض پر دم کرے۔

غَمَمْتُ كَرًا

(۴۱) اولاد سے محروم حضرات کیلئے بہترین تحفہ:

اگر آپ اولاد سے محروم ہیں تو روزانہ ایک سو ایک (۱۰۱) دفعہ سورۃ الکواثر بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں۔ انشاء اللہ آپ کی مراد ضرور پوری ہوگی۔

غَمَمْتُ كَرًا

(۴۲) رزق میں کشادگی کیلئے مجرب عمل:

﴿اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (سورہ عبوت: ۲۲)

اگر آپ کو رزق میں کشادگی مطلوب ہے تو مذکورہ آیت گیارہ (۱۱) دفعہ فجر کی نماز کے بعد پڑھیں۔

غَمَمْتُ كَرًا

(۴۳) جنون اور جادو وغیرہ کا شہ زائل کرنے کا نسخہ:

﴿ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ۝ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ ۝ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ ۝ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ ۝  
وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَبِينٍ ۝ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ ۝ فَأَمَّا تَدْبِيرُهُمْ ۝ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ۝ لِمَنْ شَاءَ  
مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ ۝ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ (سورہ تکویر: ۲۰، ۲۹)

اگر کسی پر شہ ہو کہ اس کا دماغی توازن بگڑتا جا رہا ہے، یا اپنی اصل حالت میں نہیں ہے، یا شہ ہو کہ کسی نے اس پر کچھ کر دیا ہے تو اس آیت کو اکتالیس (۳۱) دفعہ پانی پر دم کر کے پلائیں۔

غَمَمْتُ كَرًا

(۲۴) بخاری کی تیزی، غصہ اور ضد کو ختم کرنے کیلئے نہایت مفید عمل:

﴿يُنَادُ كُونِي بَرًّا أَوْ سَلْمًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾ (سورۃ انبیاء: ۶۹)

بخاری کی تیزی ختم کرنے کے لیے یہ دعاء بار بار پڑھ کر مریض پر دم کریں، اور غصہ اور ضد کو ختم کرنے کے لیے بھی اس دعا کا استعمال کریں۔

غَمَمْتُ كَرًا

(۲۵) جھوٹے مقدموں، تہمتوں اور بے عزتی سے نجات پانے کا نسخہ:

﴿وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ﴾ (سورۃ یونس: ۸۲)

اگر کوئی جھوٹے مقدمہ میں پھنس گیا ہو یا کسی نے کسی پر جھوٹی تہمت لگائی ہو یا کسی کی عزت پر کوئی حرف آیا ہو وہ اس آیت کو اٹھتے بیٹھتے کثرت سے پڑھے۔ انشاء اللہ اسے کامیابی حاصل ہوگی۔

غَمَمْتُ كَرًا

(۲۶) حصول نعمت کیلئے مجرب عمل:

﴿قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ (سورۃ آل عمران: ۷۳، ۷۴)

اگر آپ کو اللہ کی ہر نعمت حاصل کرنی ہے تو یہ دعاء صبح و شام روزانہ سات (۷) دفعہ پڑھیں اور ہر حال میں اللہ کا شکر کرتے رہیں۔

غَمَمْتُ كَرًا

(۲۷) نافرمان اولاد کی اصلاح کیلئے مجرب عمل:

﴿إِنِّي نَوَّكْتُ عَلَىٰ اللّٰهِ نَبِيًّا وَرَبِّكُمْ مَكِينٌ ۝ ذَا بَقَاءٍ ۝ اَلَا هُوَ اِخْتَدٰٓ بِمَا صَيَّرْتُمَا ۝ اِن رَّبِّي عَلٰٓى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ﴾

(سورۃ یوسف: ۵۶)

اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے تو ان کی پیشانی کے بال پکڑ کر گیارہ (۱۱) مرتبہ یہ دعاء پڑھیں اور ان پر دم کریں۔

غَمَمْتُ كَرًا

(۲۸) مرتے دم تک صحیح سلامت رہنے کا نسخہ:

﴿فَالِقَهُ وُجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۝ فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۝ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ۝ ذٰلِكَ الدِّينُ الْقَوِيْمُ ۝ وَلٰكِنَّا اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ﴾ (سورۃ روم: ۳۰)

جو شخص چاہے کہ مرتے دم تک اس کے تمام اعضاء درست رہیں، اور وہ تندرست رہے تو یہ آیت روزانہ تین (۳) دفعہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے۔

(۴۹) اولاد سے محروم حضرات کیلئے بہترین ورد:

﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ۝ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ ۝ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۗ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ﴾ (سورہ سجدہ: ۷، ۸، ۹)  
 اگر آپ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں تو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے کثرت سے ان آیات کا ورد کریں۔

(۵۰) نامعلوم اور لاعلاج بیماری سے شفاء کیلئے مجرب عمل:

﴿إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ (سورہ انبیاء: ۸۳)  
 اگر آپ ایسی بیماری میں مبتلا ہیں جو سمجھ میں آنے والی نہیں، یا لاعلاج ہے تو مریض بذات خود اس آیت کو کثرت سے ورد کرے۔

(۵۱) بیٹے یا بیٹی کے نکاح کیلئے بہترین عمل:

﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَوَسْطًا ۚ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا﴾ (سورہ فرقان: ۵۴)  
 اگر آپ کے بیٹے یا بیٹی کا عقد نہ ہوتا ہو تو آپ اپنی اس مراد کے لیے یہ آیت اکیس (۲۱) دن تک تین سو تیرہ (۳۱۳) دفعہ پڑھیں۔

(۵۲) ہر مشکل کی آسانی کیلئے مجرب عمل:

﴿يَلْعَنُ الْمُؤْمِنُونَ ۝ بَصُرَ اللَّهُ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾ (سورہ روم: ۵۴)  
 ہر جائز مراد کے لیے اور ہر مشکل کی آسانی کے لیے ان آیتوں کو ایک سو تیرہ دفعہ پڑھیں۔

(۵۳) استخارہ میں درست بات معلوم کرنے کا نسخہ:

﴿وَلَيْسَ وَالِقَوْمِ كُمْ أَوْ أَجْهَرُ وَأَبْ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ۚ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ (سورہ ملک: ۱۳، ۱۴)

عشاء کی نماز کے بعد دو رکعت نفل استخارہ کی نیت سے پڑھیں اس کے بعد ان آیتوں کو ایک سو ایک (۱۰۱) بار پڑھ کر بغیر بات کئے سو جائیں۔ انشاء اللہ درست بات معلوم ہو جائے گی۔

(۵۴) دشمن سے حفاظت کا نسخہ:

﴿إِنَّ اللَّهَ يُدْخِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّافٍ كَلْبٍ﴾ (سورہ حج: ۳۸)

اگر کسی شخص کو ہر وقت دشمن سے خوف رہتا ہو، یا اس کی دشمنی بڑھتی جا رہی ہو تو دشمن سے حفاظت اس آیت کو گیارہ (۱۱) دفعہ روزانہ پڑھے۔

غَمَّ مَتَّ كُرًا

(۵۵) سرطان، طاعون اور پھوڑے پھنسی سے بچنے کیلئے مجرب عمل:

﴿ يَا مَلِكُ، يَا قُدُّوسُ، يَا سَلَامُ ﴾

ہر شخص کو چاہیے کہ سرطان یا طاعون یا پھوڑے پھنسی کی بیماری سے بچنے کے لیے اس دعا کو صبح و شام گیارہ (۱۱) مرتبہ پڑھے۔ انشاء اللہ آپ محفوظ رہیں گے۔

غَمَّ مَتَّ كُرًا

(۵۶) گناہوں میں مبتلا اور غافل کو راہِ راست پر لانے کا نسخہ:

﴿ وَاهْدِنَا رَبَّنَا صِرَاطَكَ الَّذِي نَحْنُ عَلَيْكَ بِغَضَابِكَ وَرَحْمَتِكَ وَأَعِزَّنَا فِي نِعْمَتِكَ ﴾ (سورہ نازعات: ۱۹)

جو سیدھی راہ سے بھٹک گیا ہو یا برے افعال میں پڑ گیا ہو، یا اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا ہو تو اس آیت کو روزانہ ایک سو ایک (۱۰۱) مرتبہ پانی پر دم کر کے اسے پلائیں۔

غَمَّ مَتَّ كُرًا

(۵۷) مصائب سے نجات کا بہترین نسخہ:

﴿ سَلِّمْ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَبِعَمَلِ عَمَلِكُمْ ﴾ (سورہ مد: ۴۳)

اگر کسی شخص کو حادثہ روزگار نے ستا رکھا ہو، یا کسی شخص سے ڈکھ پہنچا ہو تو وہ اس دعا کو پڑھے۔ انشاء اللہ اس کے لیے دین و دنیا میں فتوحات کے دروازے کھل جائیں گے۔

غَمَّ مَتَّ كُرًا

(۵۸) بدنامی سے بچنے کا عمدہ نسخہ:

﴿ وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ ۚ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ۗ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ (سورہ بقرہ: ۱۶)

اگر کوئی کسی کو بدنام کرنے پر حلا ہے اور اس کو اپنی عزت کا خطرہ ہے تو وہ اس دعا کو صبح و شام اکتالیس (۴۱) مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر پھونک دے۔

غَمَّ مَتَّ كُرًا

(۵۹) غم اور پریشانی کو دور کرنے اور مالی حالت کو درست کرنے کا نسخہ:

﴿ الْارْحَمَةُ مِنْ رَبِّكَ ۗ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَهِبًا ﴾ (سورہ بنی اسرائیل: ۸۷)

اگر کوئی شخص غم میں یا اور کسی پریشانی میں ہو یا اس کی مالی حالت بگڑتی جا رہی ہو تو اٹھتے بیٹھتے اس آیت کا ورد جاری رکھے۔



(۶۰) دنیا اور آخرت کی نعمتوں کو حاصل کرنے کا شاندار نسخہ:

﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرَ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذِيَّةٍ لِلشَّرْبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ﴾ (سورہ محمد: ۱۵)

اگر کوئی شخص چاہتا ہو کہ دنیا میں بھی وہ ہر نعمت سے نوازا جائے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو نعمت سے محروم نہ کریں تو وہ اس آیت کو صبح و شام تین مرتبہ پڑھے۔ انشاء اللہ وہ دین و دنیا کی نعمتوں سے مالا مال رہے گا۔

### ﴿۱۴۰﴾ شرک کی ابتداء تصویر سے ہوئی اس لیے تصویر سے بچئے

حضرت لوح علیہ السلام جس قوم میں مبعوث ہوئے تھے اس قوم میں پانچ بزرگ تھے، ان کی مجلسوں میں لوگ بیٹھ کر خدا کو یاد کرتے تھے اور مسائل سنتے تھے، اس سے ان کے دین کو تقویت پہنچتی تھی۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو قوم پریشان ہوئی کہ اب نہ وہ مجالس رہیں اور نہ وہ مسائل رہے، اب ہم کہاں بیٹھیں گے؟ اس وقت شیطان نے ان کے دل میں یہ پھونک ماری کہ ان بزرگوں کی تصویریں بنا کر اپنے پاس رکھ لو، جب ان تصویروں کو دیکھو گے ان کا زمانہ یاد آ جائے گا اور وہ کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ تو ان پانچوں کے مجسمے بنائے گئے، ان کے نام: ﴿۱﴾ ذر ﴿۲﴾ سواع ﴿۳﴾ یغوث ﴿۴﴾ یعوق ﴿۵﴾ اور نسر ان کا قرآن کریم میں ذکر ہے۔ یہ پانچ بت بنا کر رکھے گئے، ان کا مقصد محض تذکیر تھا کہ ان تصویروں کے ذریعہ یاد دہانی ہو جائے گی، ان تصویروں کو پوجنا مقصد نہیں تھا، ابتداء میں جب تک لوگوں کے دلوں میں معرفت ربی اور ان بزرگوں کے اثرات رہے، قوم توحید پر رقرار رہی اور کسی نے ان مجسموں کو معبود نہیں جانا۔

لیکن جب دوسری نسل آئی تو ان کے دلوں میں وہ معرفت نہیں رہی ان کے سامنے تو یہی بت تھے، چنانچہ وہ کچھ خدا کی طرف متوجہ ہوئے اور کچھ بتوں کی طرف متوجہ ہوئے، اس طرح ان کا دین مخلوط ہو گیا۔ اور جب تیسری نسل آئی تو ان کے دلوں میں اتنی بھی معرفت نہیں رہی، ان کے سامنے بت ہی بت رہ گئے، لوگ انہیں سجدہ کرنے لگے، ان کے سامنے نذر و نیاز گزارنے لگے اور شرک کرنے لگے۔

الغرض شرک کی ابتداء تصویر سے ہوئی اس لیے تصویر سے بچنا چاہیے، کیونکہ تصویر کے دلدادہ یا تو مذہبی لوگ ہوتے ہیں جو بزرگوں کی یادگار کے طور پر تصویر بناتے ہیں مگر آگے چل کر یہ تصویر شرک کا ذریعہ بن جاتی ہے، یا تصویروں سے دل بہلانے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ لوگ صورتوں میں الجھ کر حقیقت سے دور ہو جاتے ہیں، اس دور میں تصویروں کا غلبہ ہے۔ دیکھا جاتا ہے کہ تصویروں کی وہ قدر و منزلت ہے جو اصلی انسان کی تو نہیں، جو تصویریں پرانی ہوتی ہیں وہ شاہکار سمجھی جاتی ہیں، مالدار لوگ دس دس ہزار روپیہ دے کر خریدتے ہیں کہ یہ ایک نایاب چیز ہے، اور پرانے زمانے کی ہے، آدمی کے دام اتنے نہیں اٹھتے جتنے ان تصویروں کے اٹھتے ہیں۔

آج کل سینما میں تصویریں ہی تو ہیں جو گاتی ناچتی نظر آتی ہیں، اس پر لاکھوں اور کروڑوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے۔ انسان چاہے بھوکا مرے مگر ان تصویروں کی بڑی عظمت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ اصل کو فراموش کر گئے اور صورتوں میں الجھ گئے۔ حضرات صوفیائے محققین لکھتے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ خاتمہ بالخیر ہو تو صورتوں کی طرف توجہ مت کرو۔ انسان کی صورت جو خدا تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے ان میں مت الجھو، بلکہ ان کی سیرتوں کو دیکھو۔ اس لیے کہ صورت پسندوں سے سیرت پسندی ختم ہو جاتی ہے، اور اصل مقصود ہے سیرتوں کا اتباع، تاکہ اخلاق آئیں، علم آئے، عقل اور عمل آئے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ تمام انبیائے کرام نے توحید کی تعلیم دی ہے اور شرک سے روکا ہے، مگر پیغمبر اسلام ﷺ نے اسباب شرک سے

بھی روک دیا کہ بعید سے بعید سبب جو شرک تک پہنچ سکتا ہے اس سے بھی بچو، چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں اس کا اہتمام تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا، طواف ہو رہا تھا، لوگ حجر اسود پر گر رہے تھے اور عوام الناس یہ سمجھتے تھے کہ اگر حجر اسود کو بوسہ نہ دیا تو حج ہی مکمل نہ ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی طواف میں شریک تھے۔ آپ نے با آواز بلند یہ اعلان کیا اور حجر اسود کو مخاطب کر کے فرمایا:

(اِنِّیْ اَعْلَمُ اَنَّكَ حَجْرٌ لَا تَنْفَعُ وَلَا تَضُرُّ لَوْلَا اِنِّیْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَبْلَكَ مَا قَبَّلْتُكَ )

”میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ تجھ میں نفع پہنچانے کی قدرت ہے نہ نقصان پہنچانے کی قدرت ہے، اگر میں حضور اکرم ﷺ کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھتا تو تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔“

مطلب یہ ہے کہ تیری تقبیل سنت کی وجہ سے ہے، اس وجہ سے نہیں کہ تجھ میں نفع اور ضرر پہنچانے کی طاقت ہے، اس قول سے شرک کا مادہ ختم کرنا مقصود تھا۔

### ﴿۱۲۱﴾ رحمت خداوندی سے محرومی

آج دوسروں کی طرح مسلمانوں میں بھی گھروں کو تصویروں سے مزین کرنے اور سجانے کا رواج عام ہوتا جا رہا ہے، حالانکہ گھر میں کسی بھی جاندار کی تصویر رکھنا رحمت خداوندی سے محرومی کا سبب ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(لَا تَدْخُلُ الْمَلٰٓئِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ كَلْبٌ وَعَلَا تَصَاوِرٌ) (متفق علیہ، مشکوٰۃ ص ۲۸۵)

ترجمہ: ”اس گھر میں (رحمت کے) فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہوتا ہے، نہ اس گھر میں داخل ہوتے ہیں جس میں تصویریں ہوتی ہیں۔“

ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ:

(اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَدِيْكَ يَتْرُكُ فِيْ بَيْتِهِ شَيْئًا فِيْهِ تَصَالِيْبٌ اِلَّا لَقَضٰهُ) (رواہ البخاری، مشکوٰۃ ص ۲۸۵)

ترجمہ: ”نبی کریم ﷺ اپنے گھر میں کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑتے تھے جس میں تصویریں ہوں مگر اس کو توڑ دیتے تھے۔“

نیز حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے ایک چھوٹا سا تکیہ خریدا جس میں تصویریں تھیں، جب رسول اکرم ﷺ نے اس کو دیکھا تو دروازہ پر کھڑے ہوئے اور گھر میں داخل نہیں ہوئے۔ میں نے چہرہ انور میں ناگواری کے آثار پہچان کر عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرتی ہوں (یعنی گناہ سے توبہ کرتی ہوں مگر آپ یہ بتائیں کہ) میں نے کیا گناہ کیا ہے کہ آپ گھر میں تشریف نہیں لاتے؟ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: یہ تکیہ کیسا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا: اس کو میں نے آپ کے لیے خریدا ہے تاکہ آپ اس پر بیٹھیں اور ٹیک لگائیں۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: یہ صورتیں بنانے والوں کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا: زندہ کرو اس چیز کو جس کو تم نے بنایا تھا۔ پھر نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جس گھر میں تصویر ہوتی ہے اس میں (رحمت کے) فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ (بخاری، مسلم، مشکوٰۃ ص ۲۸۵)

### ﴿۱۲۲﴾ برے لٹریچر کا اثر

پاکیزہ مضامین اور دینی کتابوں کے دیکھنے اور پڑھنے سننے سے اخلاق و عادات سنورتے ہیں اور نظریات و خیالات میں جلا پیدا ہوتی ہے، اس کے برخلاف برے اور گندے لٹریچر سے بد اخلاقی، بے حیائی اور گندے خیالات کو فروغ ملتا ہے، اس لیے برے اور گندے لٹریچر سے خود کو اور معاشرے کو بچانا چاہیے، اور قرآن و حدیث کی تعلیمات کو معاشرے میں زیادہ سے زیادہ پھیلا نا چاہیے۔ حضرت جابر

نبی ﷺ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک خطبہ میں عمرو ثمالی کے بعد ارشاد فرمایا کہ:

(فَإِنَّ عُمَرَ الْخَضِرِيَّ كِتَابُ اللَّهِ، وَعُمَيْرُ الْهَدْيِيِّ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّنَاتُهَا، وَكُلُّ بَدْعٍ ضَلَالَةٌ)

(رواہ مسلم، مشکوٰۃ ص ۲۷)

ترجمہ: ”بہترین بات اللہ کا کلام (قرآن کریم) ہے اور بہترین طریقہ زندگی محمد (ﷺ) کا طریقہ زندگی ہے اور بدترین باتیں بدعات (اور خرافات) ہیں اور ہر بدعت گمراہی ہے۔“

### (۱۴۳) ماحول کا اثر

اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو سلیم الفطرت بنایا ہے، لیکن ماحول انسان کو خراب کر دیتا ہے، اور سلامت روی سے محروم کر دیتا ہے، اس لیے جہاں تک ہو سکے بروں کی صحبت سے بچنا چاہیے، اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ خصوصاً بچوں کو بری صحبت سے بچانا بہت ہی ضروری ہے، ورنہ لا ابا لی بن کی وجہ سے وہ اپنی عاقبت خراب کر بیٹھیں گے، اور معاشرے کے لیے مصیبت بن جائیں گے۔

آج معاشرے میں جو خرابیاں پھیل رہی ہیں اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ماں باپ شروع میں بچوں کو بہت ہی پیار و محبت سے رکھتے ہیں، اور ان کو کسی حرکت پر کوئی روک ٹوک نہیں کرتے، پھر جب وہ بگڑ جاتے ہیں اور ماں باپ کے لیے مصیبت بن جاتے ہیں تو روتے پھرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ:

(مَكِينٌ مَوْلُودٌ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبْوَابُهُ يَهُودِيَّةٌ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ أَوْ مَجَسَانِيَّةٌ) (متفق علیہ، مشکوٰۃ شریف ص ۸۱)

ترجمہ: ”ہر بچہ صحیح اسلامی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اس کو یہودی بنادیتے ہیں یا عیسائی بنادیتے ہیں یا پارسی بنادیتے ہیں۔“

یعنی بچہ جس ماحول میں پلتا بڑھتا ہے وہی رنگ اس پر چڑھتا ہے، اس لیے بچوں کو بری صحبت سے بچانا سب سے زیادہ ضروری ہے، صرف بڑوں کا نیک اور اچھا ہونا معاشرے کو ہمیشہ صالح اور پاکیزہ نہیں رکھ سکتا، بڑے آج ہیں کل نہیں ہوں گے، اور یہی بچے دنیا کے مالک ہوں گے، اگر یہ نیک اور صالح نہیں ہوں گے تو معاشرہ کبھی صالح اور پاکیزہ نہیں رہ سکتا۔

### (۱۴۴) مغربی تہذیب کا اثر

آج پوری دنیا مغربی تہذیب پر فریفتہ ہے، ہر شخص مغربی لباس، مغربی وضع قطع اور مغربی طور و طریقہ کو اپنانے میں فخر محسوس کرتا ہے اور اسلامی تہذیب کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور مسلمانوں کی اکثریت وضع قطع اور لباس میں مغربی قوموں کے نقش قدم پر چلنا اپنے لیے قابل فخر سمجھتی ہے، اور سرکارِ دو عالم ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نقش قدم پر چلنا باعث ننگ و عار خیال کرتی ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے۔

وضع میں تو ہوں نصلائی تو تمدن میں یہود  
یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں ہنود  
ایک اور شاعر کہتا ہے۔

ٹوپ ٹوپی کی جگہ، کوٹ بجائے اچکن  
داڑھی بالکل صفا، مونچھیں ہیں، کرزن فیشن  
عورتیں پھرتی ہیں انداز سے بازاروں میں  
لڑکیاں کھانے ہوا جاتی ہیں گلزاروں میں

ان لادینی ماحول میں سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ مسلمان غیروں کی مشابہت چھوڑ کر اسلامی تہذیب اپنائیں، لباس، وضع قطع، چال ڈھال نشست و برخاست، اسلام و کلام اور زندگی کے تمام شعبوں میں سرکارِ دو عالم ﷺ کی سنتوں اور ہدایتوں پر عمل کریں، اور غیروں کی

مشابہت سے بچنے کی پوری جدوجہد کریں، ورنہ رہی کسی عزت خاک میں مل جائے گی، اور نصرت خداوندی سے مسلمان محروم ہو جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

(مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ) (رواہ احمد و ابوداؤد، مشکوٰۃ ص ۳۷۵)

ترجمہ: ”جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ ان میں سے ہے۔“

یعنی جو شخص کافروں، فاجروں اور فاسقوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے، وہ فاسقوں اور فاجروں میں سے ہے، اور جو شخص نیک لوگوں اور اللہ والوں کے مشابہت اختیار کرتا ہے وہ نیکوں اور اللہ والوں میں سے ہے۔

اس حدیث میں ان لوگوں کے لیے بہت بڑی بشارت ہے جو لباس، وضع قطع، چال ڈھال اور دیگر طور و طریق میں صالحین اور نیک لوگوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ اور ان کے لیے سخت ترین وعید ہے، جو کافروں، فاجروں اور فاسقوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ اسی طرح جو مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں یا جو عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں ان کے لیے بھی احادیث میں سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

(لَعْنَ اللّٰهِ الْمُتَشَبِهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ ، وَ الْمُتَشَبِهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ) (رواہ البخاری، مشکوٰۃ ص ۳۸۰)

ترجمہ: ”اللہ کی لعنت ہے ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں۔“

نیز حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ:

(لَعْنَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم الْمُخْتَلِفِينَ مِنَ الرِّجَالِ ، وَ الْمُتَعَرِّجَاتِ مِنَ النِّسَاءِ ، وَ كَالْأَخْرِجُوهُمْ مِنْ بَيْتِهِمْ) (رواہ البخاری، مشکوٰۃ ص ۳۸۰)

(۳۸۰)

ترجمہ: ”نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ان مردوں پر جو عورتوں کے مشابہت بنتے ہیں، اور ان عورتوں پر جو مردوں کے مشابہت بنتی ہیں، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ان کو اپنے گھروں سے نکال دو!“

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ جو لوگ غیروں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں یا جو مرد عورتوں کی اور جو عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں ملعون ہیں، اور رحمت خداوندی سے محروم ہیں۔ لیکن جو خوش نصیب اس لادینی ماحول میں طعن و تشنیع کے سینکڑوں تیرکھا کر سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں ان کو سو (۱۰۰) شہیدوں کا ثواب ملتا ہے وہ جنت میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

(مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِي عِنْدَ فِسَادِ أُمَّتِي فَلَهُ أَجْرُ مِائَةِ شَهِيدٍ) (مشکوٰۃ شریف ص ۳۰)

ترجمہ: ”جس نے میرے طریقے کو مضبوطی سے تھام لیا میری امت کے فساد اور بگاڑ کے وقت اس کے لیے سو (۱۰۰) شہیدوں کا ثواب ہے۔“

اور حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

(مَنْ أَحَبَّ سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي ، وَمَنْ أَحَبَّنِي كَأَنَّ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ) (رواہ الترمذی، مشکوٰۃ ص ۳۰)

ترجمہ: ”جس نے میرے طریقے سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔“

ان احادیث کو غور سے پڑھئے اور سوچئے کہ اس زمانے میں اسلامی تہذیب اپنانے میں کتنا بڑا اثواب ہے، اور مغربی تہذیب کو اختیار کرنے میں کتنی بڑی وعید ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو مغربی تہذیب کے سیلاب سے بچائیں۔ اور اسلامی تہذیب اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین!

### (۱۳۵) فضول بحثوں سے احتراز کیجئے

آج کل انگریزی تعلیم یافتہ حضرات جو دینی تعلیم سے نا آشنا ہیں وہ بحث و تحقیق میں شریعت کی حدود کا پاس دلچسپی نہیں کرتے، چاہے مسئلہ قابل فہم ہو یا نہ ہو، ہر شخص اس کی حقیقت جاننا چاہتا ہے، حالانکہ بحث و تحقیق کا ایک دائرہ ہے جس سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، اور کوئی باہر نکلنے کی کوشش کرے تو اس کو روک دینا چاہیے۔ لوگوں نے نبی کریم ﷺ سے روح کی حقیقت دریافت کی تھی، قرآن کریم نے اجماعی جواب دیا کہ وہ میرے رب کے حکم سے ایک چیز ہے، اس کے بعد یہ کہہ کر تفصیل پیش کرنے سے انکار کر دیا کہ تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ بہت ہی تھوڑا ہے، یعنی تم اس بحث کو نہیں سمجھ سکتے۔ قرآن کریم کی متعدد سورتوں کے شروع میں حروف مقطعات ہیں جن کے مطلب کے درپے ہونے سے روک دیا گیا ہے اور مومن کو عملی طور پر مشق کرائی گئی ہے کہ:

نہ ہر جانے مرکب تو انا تاقضن کہ جاہا سپر باید انداختن  
ترجمہ: ”ہر جگہ بحث کا گھوڑا نہیں دوڑانا چاہیے، کسی جگہ تحقیق کے ہتھیار ڈال دینے چاہئیں۔“

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ لوگ برابر ایک دوسرے سے پوچھتے رہیں گے، یہاں تک کہ کہا جائے گا کہ کائنات کو تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ جو شخص ایسی بات محسوس کرے اس کو کہنا چاہیے کہ:

(أَمَنْتُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ) (بخاری، مسلم، مشکوٰۃ ص ۱۸)

ترجمہ: ”میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہوں۔“

### (۱۳۶) حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا عجیب واقعہ

سلمان آپ کا نام ہے، ابو عبد اللہ آپ کی کنیت ہے، سلمان الخیر کے لقب سے مشہور ہیں۔ گویا سلمان کیا تھے؟ خیر مجسم تھے۔ ملک فارس کے رام ہرمز کے مضافات میں قصبہ ”جٹی“ کے رہنے والے تھے۔ شاہان فارس کے خاندان سے تھے۔ جب کوئی شخص سلمان سے پوچھتا: (لَیْنُ مَنْ أَنْتَ؟) ”آپ کس کے بیٹے ہیں؟“ تو یہ جواب دیتے: (أَنَا سَلْمَانَ بْنِ الْإِسْلَامِ) ”میں سلمان کا بیٹا اسلام کا ہوں۔“ (الاستیعاب بر حاشیہ ص ۵۶/۲)

یعنی میرے روحانی وجود کا سبب اسلام ہے اور وہی میرا مربی ہے۔

(فَبِعَمَّ الْأَبُ وَبِعَمَّ الْإِیْنُ)

”پس کیا اچھا باپ ہے اور کیا اچھا بیٹھا!“

حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی عمر بہت زیادہ ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام کا زمانہ پایا، اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت مسیح کا زمانہ تو نہیں لیکن حضرت مسیح علیہ السلام کے کسی حواری اور وصی کا زمانہ پایا ہے۔ حافظ ذہبی کہتے ہیں کہ جس قدر اقوال بھی ان کی عمر کے بارے میں پائے جاتے ہیں وہ سب اس پر متفق ہیں کہ آپ کی عمر ڈھائی سو سال سے تجاوز ہے۔ ابوالشیخ طبقات الاصبہارین میں لکھتے ہیں کہ اہل علم یہ کہتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ساڑھے تین سو سال زندہ رہے، لیکن ڈھائی سو سال

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ مجھ سے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے اپنے اسلام لانے کا واقعہ خود اپنی زبان سے اس طرح بیان کیا کہ میں ملک فارس میں سے قریب ”جئی“ کا رہنے والا تھا۔ میرا باپ اپنے شہر کا چوہدری تھا، اور سب سے زیادہ مجھ کو محبوب رکھتا تھا۔ جس طرح کنواری لڑکیوں کی حفاظت کرتے ہیں اسی طرح میری حفاظت کرتا تھا، اور مجھ کو گھر سے باہر نہیں جانے دیتا تھا۔ ہم مذہباً مجوسی تھے۔ میرے باپ نے مجھے آتش کدہ کا محافظ اور نگہبان بنا رکھا تھا کہ کسی وقت آگ بجھنے نہ پائے۔ ایک مرتبہ میرا باپ تعمیر کے کام میں مشغول تھا، اس لیے بہ مجبوری مجھ کو کسی زمین اور کھیت کی خبر گیری کے لیے بھیجا اور یہ تاکید کی کہ دیر نہ کرنا۔ میں گھر سے نکلا۔ راستہ میں ایک گرجا پڑتا تھا۔ اندر سے کچھ آواز سنائی دی۔ میں دیکھنے کے لیے اندر گھسا۔ دیکھا تو نصاریٰ کی ایک جماعت ہے جو نماز میں مشغول ہے۔ مجھ کو ان کی عبادت پسند آئی، اور اپنے دل میں یہ کہا کہ یہ دین، ہمارے دین سے بہتر ہے۔ میں نے ان لوگوں سے دریافت کیا کہ اس دین کی اصل کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ ملک شام میں۔ اسی میں آفتاب غروب ہو گیا۔ باپ نے انتظار کر کے تلاش میں قاصد دوڑائے۔ جب گھر واپس آیا تو باپ نے دریافت کیا: اے بیٹے! تو کہاں تھا؟ میں نے تمام واقعہ بیان کیا۔ باپ نے کہا: اس دین (نصرانیت) میں کوئی خیر نہیں۔ تیرے ہی باپ دادا کا دین (آتش پرستی) بہتر ہے۔ میں نے کہا: ہرگز نہیں۔ خدا کی قسم! نصرانیوں ہی کا دین ہمارے دین سے بہتر ہے۔ باپ نے میرے پیر میں بیڑیاں ڈال دیں اور گھر سے باہر نکلنا بند کر دیا، جیسے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا:

﴿لَئِن آتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُورِينَ﴾ (سورہ شعراء: ۲۹)

ترجمہ: ”اگر تو نے میرے سوا کوئی معبود بنایا تو میں تجھے قید کر دوں گا۔“

میں نے پوشیدہ طور پر نصاریٰ سے کہلا بھیجا کہ جب کوئی قافلہ شام کو جائے تو مجھ کو اطلاع کرنا۔ چنانچہ انہوں نے مجھ کو ایک موقع پر اطلاع دی کہ نصاریٰ کے تاجروں کا ایک قافلہ شام واپس جانے والا ہے۔ میں نے موقع پا کر بیڑیاں اپنے پیر سے نکال پھینکیں، اور گھر سے نکل کر ان کے ساتھ ہولیا۔ شام پہنچ کر دریافت کیا کہ عیسائیوں کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ لوگوں نے ایک پادری کا نام بتلایا۔ میں اس کے پاس پہنچا اور اس سے اپنا تمام واقعہ بیان کیا اور یہ کہا کہ میں آپ کی خدمت میں رہ کر آپ کا دین سیکھنا چاہتا ہوں۔ مجھ کو آپ کا دین مرغوب اور پسند ہے۔ آپ اجازت دیں تو آپ کی خدمت میں رہ پڑوں اور دین سیکھوں اور آپ کے ساتھ نمازیں پڑھا کروں۔ اس نے کہا: بہتر ہے۔ لیکن چند روز کے بعد تجربہ ہوا کہ وہ اچھا آدمی نہ تھا۔ بڑا ہی حریص اور طامع تھا۔ دوسروں کو صدقات اور خیرات کا حکم دیتا اور جب لوگ روپیہ لے کر آتے تو جمع کر کے رکھ لیتا اور فقراء و مساکین کو نہ دیتا۔ اسی طرح اس نے اشرافیوں کے ساتھ ملنے جمع کر لیے۔ جب وہ مر گیا اور لوگ حسن عقیدت کے ساتھ اس کی تجھیز کے لیے جمع ہوئے تو میں نے لوگوں سے اس کا حال بیان کیا اور وہ سات ننگے دکھلائے۔ لوگوں نے یہ دیکھ کر کہا: خدا کی قسم! ہم ایسے شخص کو ہرگز دفن نہ کریں گے۔ بالآخر اس پادری کو سولی پر لٹکا کر سنگسار کر دیا اور اس کی جگہ کسی اور عالم کو بٹھا دیا۔

حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے زائد کسی کو عالم اور اس سے بڑھ کر کسی کو عابد و زاہد، دنیا سے بے تعلق اور آخرت کا شائق اور طلب گار نمازی اور عبادت گزار نہیں دیکھا۔ اور جس قدر مجھ کو اس عالم سے محبت ہوئی، اس سے بیشتر کبھی کسی سے اس قدر محبت نہیں ہوئی۔ میں برابر اس عالم کی خدمت میں رہا۔ جب ان کا اخیر وقت آ گیا تو میں نے عرض کیا کہ آپ مجھ کو وصیت کیجئے اور بتلائیے کہ آپ کے بعد کس کی خدمت میں جا کر رہوں۔ کہا کہ موصل میں ایک عالم ہے تم اس کے پاس چلے جانا۔

چنانچہ میں ان کے پاس گیا اور ان کے بعد ان کی وصیت کے مطابق نصیبین میں ایک عالم کے پاس جا کر رہا، اور ان کی وفات کے بعد ان کی وصیت کے مطابق شہر عموریہ میں ایک عالم کے پاس رہا۔ جب ان کا بھی انتقال ہونے لگا تو میں نے کہا کہ میں فلاں فلاں عالم

کے پاس رہا۔ اب آپ بتلائیں کہ میں کہاں جاؤں؟

اس عالم نے کہا: میری نظر میں اس وقت کوئی ایسا علم نہیں جو صحیح راستہ پر ہو اور میں تم کو اس کا پتہ بتاؤں۔ البتہ ایک نبی کے ظہور کا وقت قریب آ گیا ہے جو دین ابراہیمی پر ہوگا۔ عرب کی سرزمین پر اس کا ظہور ہوگا۔ ایک نخلستانی زمین کی طرف ہجرت کرے گا۔ اگر تم سے وہاں پہنچنا ممکن ہو تو ضرور پہنچنا۔ ان کی علامت یہ ہوگی کہ وہ صدقہ کا مال نہ کھائیں گے، ہدیہ قبول کریں گے، دونوں شانوں کے قریب مہر نبوت ہوگی، جب تم ان کو دیکھو گے تو پہچان لو گے۔

اس اثناء میں میرے اس کچھ گائیں اور بکریاں بھی جمع ہو گئی تھی۔ اتفاق سے ایک قافلہ عرب کو جانے والا مجھ کو مل گیا۔ میں نے ان سے کہا کہ تم لوگ مجھ کو ساتھ لے چلو۔ یہ گائیں اور بکریاں سب کی سب تم کو دے دوں گا۔ ان لوگوں نے اس کو قبول کیا اور مجھ کو ساتھ لے لیا۔ جب وادی قری میں پہنچے تو میرے ساتھ یہ بدسلوکی کی کہ غلام بنا کر ایک یہودی کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ جب اس کے ساتھ آیا تو کھجور کے درخت دیکھ کر خیال ہوا کہ شاید یہی وہ سرزمین ہے، لیکن ابھی پورا اطمینان نہیں ہوا تھا کہ نبی قریظہ کا ایک یہودی اس کے پاس آیا اور مجھ کو اس سے خرید کر مدینہ لے آیا۔ جب میں مدینہ پہنچا تو خدا کی قسم مدینہ کو دیکھتے ہی پہچان لیا اور یقین کیا کہ یہ وہی شہر ہے جو مجھ کو بتلایا گیا ہے۔

صحیح بخاری میں خود حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں اس طرح دس مرتبہ سے زیادہ فروخت ہوا ہوں (لوگوں نے سلمان کو بار بار بے رغبتی کے ساتھ دراہم محدودہ (چند درہم) میں خرید لیا لیکن اس کی اصلی قیمت کو کسی نے نہ پہچانا) میں مدینہ میں اس یہودی کے پاس رہا اور بنو قریظہ میں اس کے درختوں کا کام کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں مبعوث فرمایا مگر مجھ کو غلامی اور خدمت کی وجہ سے مطلق علم نہ ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے اور قباء میں بنی عمرو بن عوف کے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، میں اس وقت ایک کھجور کے درخت پر چڑھا ہوا کام کر رہا تھا، اور میرا آقا درخت کے نیچے بیٹھا تھا کہ ایک یہودی آیا جو میرے آقا کا چچا زاد بھائی تھا، اور یہ کہنے لگا خدائی قبیلہ یعنی انصار کو ہلاک کر کے کہ قباء میں ایک شخص کے ارد گرد جمع ہیں جو مکہ سے آیا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص نبی اور پیغمبر ہے۔ سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: خدا کی قسم! یہ سننا تھا کہ مجھ کو لڑا اور کچی نے پکڑا اور مجھ کو یہ غالب گمان ہو گیا کہ اپنے آقا پر اب گرا، وہ دونوں یہودی ان کی اس حالت اور کیفیت کو دیکھ کر سخت متعجب تھے، اور سلمان کی زبان حال یہ شعر پڑھ رہی تھی۔

خَلِيلِي لَا وَاللَّهِ مَا آتَا مِنْكُمْ

إِنَّا عَلِمْنَا مِنْ آلِ لَيْلَى بَدَلِيَا

ترجمہ: "اے میرے دوست! خدا کی قسم! میں اب تم میں سے نہیں رہا، جب کہ مجھ کو دیار لیلیٰ کا کوئی پہاڑ نظر آ گیا۔"

بہر حال دل کو تمام کر درخت سے اتر اور اس آنے والے یہودی سے پوچھنے لگا، بتاؤ تو سہی، تم کیا بیان کر رہے تھے؟ وہ خبر ذرا مجھ کو بھی تو سناؤ۔ یہ دیکھ کہ میرا آقا کو غصہ آ گیا اور زور سے ایک طمانچہ میرے رسید کیا اور کہا تجھ کو اس سے کیا مطلب؟ تو اپنا کام کر۔ جب شام ہوئی اور کام سے فراغت ہوئی تو جو کچھ میرے پاس جمع تھا، وہ ساتھ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قباء میں تشریف فرما تھے۔ میں نے عرض کیا کہ مجھ کو معلوم ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقاء کے پاس کچھ نہیں ہے۔ آپ سب حضرات صاحب حاجت ہیں، اس لیے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کے رفقاء کے لیے صدقہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات مطہرہ کے لیے صدقہ قبول کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ میں صدقہ نہیں کھاتا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اجازت دی کہ تم لے لو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں کہا خدا کی قسم! یہ ان تین علامتوں میں سے ایک ہے۔ میں واپس ہو گیا، اور پھر کچھ جمع کرنا شروع کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو میں پھر حاضر خدمت ہوا اور عرض کیا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ

آپ ﷺ کی خدمت میں کچھ پیش کروں۔ صدقہ تو آپ ﷺ قبول نہیں فرماتے، یہ ہدیہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ ﷺ نے قبول فرمایا، اور خود بھی اس میں سے کھایا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی کھلایا۔ میں نے اپنے دل میں کہا: یہ دوسری علامت ہے۔

میں واپس آ گیا اور دو چار روز کے بعد پھر آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ ﷺ اس وقت ایک جنازے کے ہمراہ بیچ میں تشریف فرماتے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت آپ ﷺ کے ہمراہ تھی۔ آپ ﷺ اور میان میں تشریف فرماتے۔ میں نے اسلام کیا اور سامنے سے اٹھ کر پیچھے آ بیٹھا تاکہ مہربوت دیکھوں۔ آپ ﷺ سمجھ گئے، پشت مبارک سے چادر اٹھادی۔ میں نے دیکھتے ہی پہچان لیا اور اٹھ کر مہربوت کو بوسہ دیا اور رو پڑا۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: سامنے آؤ۔ میں سامنے آیا۔ اور جس طرح اے ابن عباس! میں نے اپنا یہ واقعہ بیان کیا اسی طرح میں نے تفصیل کے ساتھ یہ تمام واقعہ رسول اللہ ﷺ کے سامنے آپ ﷺ کے صحابہ کی مجلس میں بیان کیا، اور اسی وقت مشرف باسلام ہوا۔ آپ ﷺ بہت مسرور ہوئے۔

اس کے بعد اپنے آقا کی خدمت میں مشغول ہو گیا۔ اسی وجہ سے غزوہ بدر اور غزوہ احد میں شریک نہ ہوسکا۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اے سلمان! اپنے آقا سے کتابت کرو۔ سلمان رضی اللہ عنہ نے اپنے آقا سے کہا: آقا نے یہ جواب دیا کہ تم چالیس اوقیہ سونا ادا کرو اور تین سو درخت کھجور کے لگا دو۔ جب وہ بار آور ہو جائیں تو تم آزاد ہو۔ سلمان قاری رضی اللہ عنہ نے آپ ﷺ کے ارشاد سے یہ عقد کتابت قبول کیا اور آپ ﷺ نے لوگوں کو ترغیب دی کہ سلمان رضی اللہ عنہ کی کھجور کے پودوں سے امداد کرو۔ چنانچہ کسی نے تیس پودوں سے اور کسی نے بیس پودوں سے اور کسی نے پندرہ اور کسی نے دس پودوں سے امداد کی۔ جب پودے جمع ہو گئے تو مجھ سے فرمایا: اے سلمان! ان کے لئے گڑھے تیار کرو۔ جب گڑھے تیار ہو گئے تو آپ ﷺ نے خود دست مبارک سے ان تمام پودوں کو لگایا اور برکت کی دعا فرمائی۔ ایک سال گزرنے نہ پایا کہ سب کو پھل آ گیا، اور کوئی پودا ایسا نہ رہا کہ جو خشک ہو گیا ہو۔ سب کے سب سرسبز و شاداب ہو گئے اور سب پر پھل آ گیا۔ درختوں کا قرض تو ادا ہو گیا، صرف درہم باقی رہ گئے۔ ایک روز ایک شخص آپ ﷺ کے پاس ایک بیضہ کی مقدار سونا لے کر آیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا وہ مسکین مکاتب یعنی سلمان قاری رضی اللہ عنہ کہاں ہے؟ اس کو بلاؤ۔ تو آپ ﷺ نے وہ بیضہ کی مقدار سونا عطا فرما دیا اور یہ ارشاد فرمایا کہ اس کو لے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ تمہارا قرض ادا فرمائے گا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ یہ سونا بہت تھوڑا ہے۔ اس سے میرا قرض کہاں ادا ہوگا؟! آپ ﷺ نے فرمایا: جاؤ اللہ اسی سے تمہارا قرض ادا کر دے گا۔ چنانچہ میں نے اس کو تولا تو پورا چالیس اوقیہ تھا۔ میرا قرض ادا ہو گیا، اور غلامی سے آزاد ہوا اور آپ ﷺ کے ساتھ غزوہ خندق میں شریک ہوا۔ اس کے بعد تمام غزوات میں آپ ﷺ کے ہمراہ رہا۔ (میرۃ ابن ہشام: ۷۳۸)

نوٹ: حافظ ابن قیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

- ① سلمان کا اگر نام پوچھو تو عبد اللہ ہے۔
- ② سرمایہ اور دولت پوچھو تو فقر ہے۔
- ③ کمائی ان کا صبر ہے۔
- ④ نکیہ ان کا بیداری ہے۔
- ⑤ نسبت پوچھو تو ابن الاسلام یعنی اسلام کا فرزند ارجمند ہے۔
- ⑥ دکان ان کی مسجد ہے۔
- ⑦ لباس ان کا تقویٰ ہے۔

ان کا خاص اعزاز حضور اکرم ﷺ کا سَلْمَانٌ مِّنْ اَهْلِ الْبَيْتِ (سلمان ہمارے گھرانہ کا ایک فرد ہے) فرمانا ہے۔

اور اگر ان کا قصد اور ارادہ پوچھتے ہو تو اللہ کی ذات اور اس کی خوشنودی ہے۔

اور اگر یہ پوچھتے ہو کہ کہاں جا رہے ہیں تو سمجھ لو کہ جنت کی طرف جا رہے ہیں۔

اور اگر یہ پوچھتے ہو کہ اس سفر میں ان کا ہادی اور رہنما کون ہے تو خوب جان لو کہ وہ امام المستعین ہادی الخلائق الی رب العالمین



الاولین والآخرین خاتم الانبیاء والمرسلین ﷺ ہیں۔ (کذابی الفوائد لابن القیم ص ۴۱)

### ﴿۱۴۷﴾ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا حافظہ قوی تھا اس کی وجہ

① حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم ﷺ نے مجھ سے فرمایا جس طرح تیرے ساتھی مجھ سے مال غنیمت مانگتے ہیں تم نہیں مانگتے، میں نے عرض کیا میں تو آپ ﷺ سے یہ مانگتا ہوں کہ جو علم اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو عطا فرمایا ہے آپ ﷺ اس میں سے مجھ بھی سکھائیں۔ اس کے بعد میں نے کمر سے دھاری دار چادر اُتار کر اپنے اور حضور اکرم ﷺ کے درمیان بچھادی، اور یہ منظر مجھے ایسا یاد ہے کہ اب بھی مجھ کو اس پر جوئیں چلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ پھر آپ ﷺ نے مجھے حدیث سنائی، جب میں نے وہ حدیث پوری سن لی تو حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: اس چادر کو سمیٹ کر اپنے جسم سے باندھ لو (میں نے ایسا ہی کیا) اس کے بعد حضور اکرم ﷺ جو بھی ارشاد فرماتے میں اس میں سے ایک حرف بھی نہیں بھولتا تھا۔

② حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیثیں بہت زیادہ بیان کرتا ہے، خدائے پاک کی قسم! ہم سب کو اللہ کے پاس جانا ہے (اگر میں غلط حدیث بیان کروں گا تو اللہ میری پکڑ فرمائیں گے اور جو میرے بارے میں غلط گمان رکھتے ہیں اللہ ان سے بھی پوچھیں گے)۔ اور لوگ یہ بھی کہتے ہیں: دوسرے مہاجرین اور انصاری صحابہ رضی اللہ عنہم ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جتنی حدیثیں بیان نہیں کرتے (تو اس کا جواب یہ ہے کہ) میرے مہاجر بھائی تو بازاروں میں خرید و فروخت میں مشغول رہتے تھے، اور میرے انصاری بھائیوں کو اپنی زمینوں اور مویشیوں کی مشغولی تھی، اور میں ایک مسکین نادار آدمی تھا۔ پھر بھی حاضر خدمت رہتا جب کہ دیگر صحابہ کرام کام کاج کی وجہ سے غائب رہتے، اور جو حضرات موجود ہوتے تھے وہ حضور اکرم ﷺ سے سن کر اپنے کاموں میں لگ کر بھول جاتے، میں سب کچھ یاد رکھتا۔

③ ایک دن حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: تم میں سے جو آدمی بھی اپنا کپڑا میرے سامنے پھیلائے گا اور جب میں اپنی بات پوری کر لوں وہ اسے سمیٹ کر اپنے سینے سے لگائے گا وہ کبھی بھی میری کوئی بات نہیں بھولے گا۔ میں نے فوراً اپنی دھاری دار چادر بچھادی، میری کمر پر اس کے علاوہ اور کوئی کپڑا نہیں تھا۔ پھر جب حضور اکرم ﷺ نے اپنی وہ بات پوری فرمائی تو میں نے چادر سمیٹ کر اپنے سینے سے لگائی، اس ذات کی قسم! جس نے آپ ﷺ کو حق دے کر بھیجا ہے میں اس میں سے ایک بات بھی آج تک نہیں بھولا۔ اللہ کی قسم! اگر اللہ کی کتاب (قرآن) میں یہ دو آیتیں نہ ہوتیں (جن میں علم کو چھپانے کی ممانعت ہے) تو آپ لوگوں کو کبھی کوئی حدیث بیان نہ کرتا۔ وہ دو آیتیں یہ ہیں:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا آتَاهُم مِّنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ الْعَالَمُونَ ۝ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنَّاهُ لَكُمْ فِي الْكِتَابِ وَإِنَّا لَتَوَّابٌ رَّحِيمٌ﴾

(سورہ بقرہ: ۱۵۹، ۱۶۰)

ترجمہ: ”جو لوگ اخیفاء کرتے ہیں ان مضامین کا جن کو ہم نے نازل کیا ہے جو کہ (اپنی ذات میں) واضح ہیں اور (دوسروں کے لیے) ہادی ہیں اس کے بعد کہ ہم ان (مضامین) کو کتاب الہی (تورات و انجیل) میں عام لوگوں پر ظاہر کر چکے ہیں ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ مگر جو لوگ توبہ کر لیں اور (آئندہ کے لیے) اس کی اصلاح کر لیں، اور (ان مضامین کو) ظاہر کر دیں تو ایسے لوگوں پر میں متوجہ ہو جاتا ہوں اور میری توبہ بکثرت عادت ہے۔ توبہ قبول کر لینا اور مہربانی فرمانا۔“

④ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بہت زیادہ حدیثیں بیان کرتا ہے، اصل بات یہ ہے کہ میں

ہر وقت حضور اکرم ﷺ کے ساتھ رہتا تھا اور صرف پیٹ بھر کھانے پر گزارہ کر لیتا تھا، ان دنوں میں نہ خمیری روئی مجھے ملتی تھی، اور نہ سینے کو ریشم اور نہ خدمت کرنے والا کوئی مرد میرے پاس تھا اور نہ کوئی عورت، اور بعض مرتبہ میں بھوک کی شدت کی وجہ سے اپنا پیٹ ٹنگریوں کے ساتھ چماتا رہتا تھا (تا کہ ٹنگریوں کی ٹھنڈک سے بھوک کی گرمی میں کمی آجائے) اور کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ قرآن کی آیت مجھے معلوم ہوتی تھی لیکن میں کسی آدمی سے کہتا کہ یہ آیت مجھے پڑھا دو، تا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ گھر لے جائے، اور مجھے کچھ کھلا دے۔ اور مساکین کے حق میں سب سے بہتر حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ تھے وہ ہمیں گھر لے جاتے اور جو کچھ گھر میں ہوتا وہ سب کچھ ہمیں کھلا دیتے، یہاں تک کہ بعض دفعہ وہ شہدیا بھی کی کچی ہی ہمارے پاس باہر لے آتے، اسی کچی میں کچھ ہوتا نہیں تھا تو ہم اُسے پھاڑ کر اس کے اندر جو ہوتا اُسے چاٹ لیتے۔ (حیاء الصحابہ: ۱۸۹/۳)

### (۱۳۸) ایک مریض کی تسلی کیلئے خط اور شفاء کیلئے چودہ روحانی نسخے

حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ قیامت کے دن حق تعالیٰ بعضے بندوں سے پوچھیں گے کہ اے بندے! میں بیمار ہوا تو مجھے پوچھنے نہ آیا؟ میں مریض ہوا، تو میری مزاج پرستی کونہ حاضر ہوا؟ بندہ کہے گا: اے اللہ! آپ تو رب العالمین ہیں، آپ کو بیماری سے کیا تعلق؟ بیماری تو عیب اور نقص کی چیز ہے۔ آپ ہر نقص اور برائی سے بری ہیں۔

اللہ تعالیٰ فرمائیں گے: میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا، اگر تو بیمار پرستی کے لیے جاتا مجھے اس کے پاس موجود پاتا۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۱۳۲) کسی تندرست کے بارے میں حق تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تندرست تھا تو میرے پاس کیوں نہیں آیا۔ بیمار کے بارے میں فرمایا کہ میں بیمار ہوا تو مجھے پوچھنے نہ آیا۔ اس کا مقصد بیمار کو تسلی دینا اور یہ خوشخبری سنانا ہے کہ بیماری میں اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی معیت اور قرب نصیب فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔

حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہما جلیل القدر صحابی ہیں، ایک ناسور پھوڑے کے اندر تیس برس جتلا رہے۔ جو پہلو میں تھا اور چت لینے رہتے تھے کروٹ نہیں لے سکتے تھے۔ تیس برس تک چت لینے کھانا بھی، پینا بھی، عبادت کرنا بھی، قضائے حاجت کرنا بھی۔ آپ اندازہ کیجئے تیس برس ایک شخص ایک پہلو پر پڑا رہے اس پر کتنی عظیم تکلیف ہوگی؟ کتنی بڑی بیماری ہے؟

یہ تو بیماری کی کیفیت تھی، لیکن چہرہ اتنا شاش بٹاش کہ کسی تندرست کو وہ چہرہ میسر نہیں، لوگوں کو حیرت تھی کہ بیماری اتنی شدید کہ برسوں گزر گئے کروٹ نہیں بدل سکتے اور چہرہ دیکھو تو ایسا کھلا ہوا کہ تندرستوں کو بھی نصیب نہیں۔ لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت! یہ کیا بات ہے کہ بیماری تو اتنی شدید اور اتنی طویل اور لمبی چوڑی، اور آپ کے چہرے پر اتنی بٹاش اور تازگی کہ کسی تندرست کو بھی نصیب نہیں۔

فرمایا: جب بیماری میرے اوپر آئی میں نے صبر کیا، میں نے یہ کہا کہ اللہ کی طرف سے میرے لیے عطیہ ہے، اللہ نے میرے لیے یہی مصلحت سمجھی، میں بھی اس پر راضی ہوں، اس صبر کا اللہ نے مجھے یہ پھل دیا کہ میں اپنے بستر پر روزانہ ملائکہ علیہم السلام سے مصافحہ کرتا ہوں، مجھے عالم غیب کی زیارت نصیب ہوتی ہے، عالم غیب میرے اوپر کھلا ہوا ہے۔

تو جس بیمار کے اوپر عالم غیب کا انکشاف ہو جائے، ملائکہ کی آمد و رفت محسوس ہونے لگے، اسے کیا ضرورت ہے کہ وہ تندرستی چاہے؟ اس کے لیے تو بیماری ہزار درجے کی نعمت ہے۔

حاصل یہ کہ اسلام کی یہ خصوصیت ہے کہ اس نے تندرست کو تندرستی میں تسلی دی، بیمار کو کہا کہ تیری بیماری اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے تو اگر اس حالت پر صابر اور راضی رہے گا تو تیرے لیے درجات ہی درجات ہیں۔

پھر یہ بھی نہیں فرمایا کہ تو علاج مت کر، علاج کر اور دوا دارو بھی کر، مگر نتیجہ جو بھی نکلے اس پر راضی رہ، اپنی جدوجہد کئے جا، باقی افعال خداوندی میں مداخلت مت کر، تیرا کام دوا کرنا ہے، تیرا یہ کام نہیں ہے کہ دوا کے اوپر نتیجہ بھی مرتب کر دے اور صحت یاب ہو جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، تو اپنا کام کر، اللہ کے کام میں دخل مت دے، دوا دارو کر، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ ہو جائے اس پر راضی رہ کر جو کچھ ہو رہا ہے۔ میرے لیے خیر ہو رہا ہے۔ اس پر صبر کرو گے تو بیماری ترقی درجات اور اخلاق کی بلندی کا ذریعہ بنتی جائے گی، اس سے آدمی کے روحانی مقامات ملے ہوں گے۔ تندرست کو روحانیت کے وہ مقامات نہیں ملتے جو بیمار کو ملتے ہیں، ان روحانی ترقیوں اور مقامات کی وجہ سے بیمار یوں کہے گا: مجھے میری بیماری مبارک، مجھے تندرستی کی ضرورت نہیں۔ تندرستی میں مجھے یہ مقامات مل نہیں سکتے تھے جو بیماری میں ملے۔

تو اسلام نے تندرست کو تندرستی میں تسلی دی کہ تو اس کو مجھ تک پہنچنے کا ذریعہ بنا، تو بیماری کی وجہ سے محروم نہیں رہ سکتا۔ یہ خیال مت کر کہ جو کچھ ملنا تھا، تندرست کو مل گیا، میرے واسطے کچھ نہیں رہا۔ تیری بیماری میں تیرے لیے سب کچھ ہے۔ الغرض ہر حال میں ایک کو اپنے دائرے اور اپنے مقام پر تسلی دینا یہ اسلام کا کام ہے۔

نوٹ:

- ◆ سورہ فاتحہ اکیس مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کیجئے۔
- ◆ سورہ فاتحہ اکیس مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیا کیجئے۔
- ◆ یا سَلَامُ اِیْکَ سُوْنِیْنِ اَلِیْسَ مَرْتَبَہُ پڑھ کر دم کر لیا کیجئے۔
- ◆ صدقہ کیجئے۔
- ◆ خالص شہدا استعمال کیا کیجئے۔
- ◆ آپ جیسی بیماری میں کوئی دوسرا مبتلا ہو تو اس کے لیے دعا کیجئے۔
- ◆ جو بھی ساتھی آپ کی عیادت کے لیے آئے اسے دین پر ثابت قدم رہنے کی دعوت دیجئے۔
- ◆ آپ کے لیے زہم روانہ کر رہا ہوں اس کو شفاء کی نیت سے استعمال کیجئے۔
- ◆ اپنے رشتے داروں کے ساتھ صلہ رحمی کیجئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ صلہ رحمی شفاء ہے۔
- ◆ حدیث میں آتا ہے کہ قرآن میں شفاء ہے اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو خود پڑھیں اور نہ پڑھ سکتے ہوں تو اپنے بیٹے یا بیٹی سے سنیں۔
- ◆ کوئی سنانے والا موجود نہ ہو تو صرف قرآن مجید کی طرف دیکھ لیا کریں۔
- ◆ کلونجی آپ کے لیے بھیج رہا ہوں، اس کو استعمال کیجئے۔
- ◆ حدیث میں آتا ہے کہ بیمار کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، آپ کی دعا ہماری نسبت زیادہ قبول ہوگی، اس لیے اپنے لیے گریہ و زاری کے ساتھ خوب دعا کریں۔

◆ حدیث شریف میں ہے: ”سفر کرو صحت یاب ہو گے۔“

بندہ دعا کرتا ہے کہ اللہ پاک آپ کو شفاء کا ملہ عاجلہ نصیب فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین! اپنے گھر میں درجہ بدرجہ سب کو سلام

(۱۳۹) حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے حکمت سے دین پھیلایا

عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا واقعہ لکھا ہے کہ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں علماء اس قدر کس پرسی میں مبتلا ہوئے کہ انہیں کوئی پوچھنے

والا نہیں رہا۔ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ چونکہ خود عالم تھے، اہل علم کی عظمت کو جانتے تھے، انہوں نے کوئی بیان وغیرہ اخبارات میں شائع نہیں کرایا کہ علماء کی قدر کرنی چاہیے۔

بلکہ یہ تدبیر اختیار کی کہ جب نماز کا وقت آ گیا تو عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ہم چاہتے ہیں کہ آج فلاں والی ملک جو دکن کے نواب ہیں وہ ہمیں وضو کرائیں، چنانچہ جو دکن کے والی تھے انہوں نے سات سلام کئے کہ بڑی عزت افزائی ہوئی کہ بادشاہ سلامت نے مجھے حکم دیا کہ میں وضو کراؤں، وہ سمجھے کہ اب کوئی جاگیر ملے گی۔ بادشاہ بہت راضی ہے، نواب صاحب فوراً پانی کا لونا بھر لائے اور آ کر وضو کرنا شروع کر دیا۔ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ وضو میں فرض کتنے ہیں؟ انہوں نے ساری عمر کبھی وضو کیا ہوتا تو انہیں خبر ہوتی۔ اب وہ حیران، کیا جواب دیں۔ پوچھا واجبات کتنے ہیں؟ کچھ پتہ نہیں۔ پوچھا سنتیں کتنی ہیں؟ جواب نداد۔

عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بڑے افسوس کی بات ہے کہ لاکھوں کی رعیت کے اوپر تم حاکم ہو، لاکھوں کی گردنوں پر حکومت کرتے ہو اور مسلم تمہارا نام ہے، تمہیں یہ بھی پتہ نہیں کہ وضو میں فرض، واجب، سنتیں کتنی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ میں آئندہ ایسی صورت نہ دیکھوں۔

ایک کے ساتھ یہ برتاؤ کیا کہ رمضان المبارک کے مہینہ میں ان سے کہا: آپ ہمارے ساتھ افطار کریں۔ اس نے کہا: جہاں پناہ ایہ تو عزت افزائی ہے، ورنہ فقیر کی ایسی کہاں قسمت کہ بادشاہ سلامت یاد کریں۔ جب افطار کا وقت ہوا تو عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ مفسدات صوم جن سے روزہ فاسد ہوتا ہے، کتنے ہیں؟ انہوں نے اتفاق سے روزہ ہی نہیں رکھا تھا۔ انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ روزے کے مفسدات کیا ہیں۔ اب چپ ہیں، کیا جواب دیں؟

عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا: بڑی بے غیرتی کی بات ہے کہ تم مسلمانوں کے امیر، والی ملک اور نواب کہلاتے ہو، ہزاروں آدمی تمہارے حکم پر چلتے ہیں، تم مسلمان، ریاست اسلامی اور تمہیں یہ بھی پتہ نہیں کہ روزہ فاسد کن کن چیزوں سے ہوتا ہے؟ اسی طرح کسی سے زکوٰۃ کا مسئلہ پوچھا تو زکوٰۃ کا مسئلہ نہ آیا۔ کسی سے حج وغیرہ کا۔ فرض سارے نفل ہوئے اور عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے سب کو یہ کہا کہ آئندہ میں ایسا نہ دیکھوں۔

پس جب یہاں سے امراء واپس ہوئے، اب انہیں مسائل معلوم کرنے کی ضرورت پڑی تو مولویوں کی تلاش شروع ہوئی۔ اب مولویوں نے نخرے شروع کئے۔ کسی نے کہا: ہم پانچ سو روپے تنخواہ لیں گے۔ انہوں نے کہا: حضور! ہم ایک ہزار روپیہ تنخواہ دیں گے اس لیے کہ جاگیریں جانے کا اندیشہ تھا۔ ریاست چھن جاتی، پھر بھی مولوی نہ ملے، تمام ملک کے اندر مولویوں کی تلاش شروع ہوئی۔ جتنے علماء طلباء تھے سب ٹھکانے لگ گئے، بڑی بڑی تنخواہیں جاری ہو گئیں، اور ساتھ ہی یہ کہ جتنے امراء تھے انہیں مسائل معلوم ہو گئے اور دین پر انہوں نے علم شروع کر دیا۔

### (۱۵۰) ریاست بھوپال کا ایک قابل تقلید دستور

بھوپال میں ایک عام دستور تھا کہ اگر کسی غریب آدمی سے اپنے بچے کو کتب میں بٹھا دیا تو آج مثلاً اس نے آٹھ کا پارہ شروع کیا تو ریاست کی طرف سے ایک روپیہ ماہوار اس کا وظیفہ مقرر ہو گیا، جب دوسرا پارہ لگا تو دو روپے ماہوار ہو گئے، تیسرا پارہ لگا تو تین روپے ماہوار ہو گئے، یہاں تک کہ جب تیس پارے ہوتے تو تیس روپے ماہوار بچے کا وظیفہ ہوتا۔

اور اس زمانے میں، ساٹھ برس پہلے تیس پارے ماہوار ایسے تھے جیسے تین سو روپے ماہوار، بہت بڑی آمدنی تھی۔ ستا ز ماہ تھا، ارزانی تھی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جتنے غریب لوگ تھے جنہیں کھانے کو نہیں ملتا تھا وہ بچوں کو مدرسہ میں داخل کر دیتے تھے کہ قرآن کریم حفظ کرے گا تو اسی دن سے وظیفہ جاری، ہزاروں ایسے گھرانے تھے اور ہزاروں حافظ پیدا ہو گئے، ساری مسجدیں حافظوں سے آباد ہو گئیں۔

## (۱۵۱) علم دین سکھانے والے عالم کے آداب و فضائل اور طالب علم کا اعزاز و اکرام

### حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ارشادات

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا (تمہیں سکھانے والے) عالم کا یہ حق ہے کہ:

- ◆ تم اس سے سوال زیادہ نہ کرو اور اسے جواب دینے کی مشقت میں نہ ڈالو، یعنی اسے مجبور نہ کرو۔
- ◆ اور جب وہ تم سے منہ دوسری طرف پھیر لے، تو پھر اس پر اصرار نہ کرو۔
- ◆ اور جب وہ تھک جائے تو اس کے کپڑے نہ پکڑو۔
- ◆ اور نہ ہاتھ سے اس کی طرف اشارہ کرو، اور نہ آنکھوں سے۔
- ◆ اور اس کی مجلس میں کچھ نہ پوچھو۔
- ◆ اور اس کی لغزش تلاش نہ کرو۔
- ◆ اور اگر اس سے کوئی لغزش ہو جائے تو تم لغزش سے رجوع کا انتظار کرو۔
- ◆ اور جب وہ رجوع کر لے تو تم اسے قبول کر لو۔
- ◆ اور یہ بھی نہ کہو کہ فلاں نے آپ کی بات کے خلاف بات کہی۔
- ◆ اور اس کے کسی راز کو افشاء نہ کرو۔
- ◆ اور اس کے پاس کسی کی غیبت نہ کرو۔
- ◆ اس کے سامنے اور اس کی پیٹھ پیچھے دونوں حالتوں میں اس کے حق کا خیال کرو۔
- ◆ اور تمام لوگوں کو سلام کرو، لیکن اسے بھی خاص طور سے کرو۔
- ◆ اور اس کے سامنے بیٹھو۔
- ◆ اگر اسے کوئی ضرورت ہو تو دوسرے سے آگے بڑھ کر اس کی خدمت کرو۔
- ◆ اور اس کے پاس جتنا وقت بھی تمہارا گزر جائے تنگ دل نہ ہونا، کیونکہ یہ عالم کھجور کے درخت کی طرح ہے جس سے ہر وقت کسی نہ کسی فائدے کے حاصل ہونے کا انتظار رہتا ہے۔ اور یہ عالم اس روزہ دار کے درجہ میں ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہو۔
- ◆ جب ایسا عالم مرجاتا ہے تو اسلام میں ایسا شکاف پڑ جاتا ہے جو قیامت تک پر نہیں ہو سکتا۔
- ◆ اور آسمان کے ستر ہزار مقرب فرشتے طالب علم کے ساتھ اکرام کے لیے چلتے ہیں۔ (حیاء الصحابہ: ۳/۳۳۲)

## (۱۵۲) واعظ مدینہ کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی تین اہم نصیحتیں

- حضرت شعبی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے مدینہ والوں کے واعظ حضرت ابن ابی سائب رضی اللہ عنہ سے فرمایا: تین کاموں میں میری بات مانو، ورنہ میں تم سے سخت لڑائی کروں گی۔
- حضرت ابن ابی سائب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، وہ تین کام کیا ہیں؟ اُمّ المؤمنین! میں آپ کی بات ضرور مانوں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا:
- ◆ پہلی بات یہ ہے کہ تم دعا میں بہ تکلف قافیہ بندی سے بچو۔ کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح قصداً

نہیں کیا کرتے تھے۔

- ◆ دوسری بات یہ ہے کہ ہفتہ میں ایک دفعہ لوگوں میں بیان کیا کرو، اور زیادہ کرنا چاہو تو دو دفعہ، ورنہ زیادہ سے زیادہ تین دفعہ کیا کرو، اس سے زیادہ نہ کرو ورنہ لوگ (اللہ کی) اس کتاب سے اکتا جائیں گے۔
- ◆ تیسری بات یہ ہے کہ ایسا ہرگز نہ کرنا کہ تم کسی جگہ جاؤ اور وہاں والے آپس میں بات کر رہے ہوں اور تم ان کی بات کاٹ کر اپنا بیان شروع کر دو، بلکہ انہیں اپنی بات کرنے دو اور جب وہ تمہیں موقع دیں اور کہیں تو پھر ان میں بیان کرو۔ (حیاء الصحابہ: ۳/۱۳۹)

### (۱۵۳) تصوف کی حقیقت

تصوف کے کئی نام ہیں: علم القلب، علم الاخلاق، احسان، سلوک اور طریقت، یہ سب ایک ہی چیز کے نام ہیں، قرآن و سنت میں اس کے لیے زیادہ تر ”احسان“ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور ہمارے زمانہ میں لفظ ”تصوف“ زیادہ مشہور ہو گیا ہے۔ بہر حال حقیقت ان سب کی ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سے افعال جس طرح ہمارے ظاہری اعضاء سے انجام پاتے ہیں، اسی طرح بہت سے اعمال ہمارا قلب انجام دیتا ہے، جن کو ”اعمال باطنہ“ کہا جاتا ہے، جس طرح ہمارے ظاہری افعال شریعت کی نظر میں کچھ اچھے اور فرض و واجب ہیں، اور کچھ ناپسندیدہ اور حرام و مکروہ۔ اسی طرح باطنی اعمال قرآن و سنت کی نظر میں کچھ پسندیدہ اور فرض و واجب ہیں، جیسے تقویٰ، اللہ کی محبت، اخلاق، توکل، صبر و شکر، تواضع، قناعت، حلم، سخاوت، حیاء و رحم دلی وغیرہ۔ ان باطنی پسندیدہ اخلاق کو ”فضائل“ اور ”اخلاق حمیدہ“ کہا جاتا ہے۔ اور کچھ باطنی اعمال برے اور حرام ہیں۔ (رد المحتار مع الدر المختار: ۱/۴۰) جیسے: تکبر، عجب، غرور، ریاء، حب مال، حب جاہ، بخل، بزدلی، لالچ، دشمنی، حسد، کینہ، سنگدلی اور بے رحمی یا حد سے زیادہ غصہ وغیرہ۔ ان کو ”رذائل یا اخلاق رذیلہ“ کہا جاتا ہے۔ ”فضائل“ اور ”رذائل“ دونوں کا تمام تر تعلق قلبی احوال اور نفس کی اندرونی کیفیتوں سے ہے، مگر ذرا غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ہمارے یہی قلبی احوال اور اندرونی کیفیتیں درحقیقت ہمارے تمام ظاہری افعال کی بنیاد اور اساس ہیں، ظاہری اعضاء سے ہم اچھا یا برا جو بھی کام کرتے ہیں، درحقیقت وہ انہی باطنی ”فضائل یا رذائل“ کا نتیجہ ہوتا ہے۔

مثلاً تقویٰ (خوف خدا) اور اللہ کی نیت، یہ قلب کی اندرونی کیفیتیں ہیں، مگر ان کا اثر ہمارے تمام ظاہری اعمال پر پڑتا ہے، ہماری ہر عبادت، روزہ، نماز وغیرہ انہی دو باطنی اخلاق کی پیداوار ہے، ہم نفسانی اور شیطانی تقاضوں کے باوجود اگر بد نظری، لڑائی، جھگڑے اور جھوٹ وغیرہ گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں، تو اس اجتناب کا اصل محرک بھی یہی تقویٰ اور اللہ کی محبت ہے۔ اسی طرح ظاہری اعضاء سے جو بھی گناہ کرتے ہیں اس کا سبب بھی کوئی نہ کوئی باطنی خصلت ہوتی ہے۔ مثلاً مال کی محبت یا جاہ پسندی یا عداوت یا حسد یا غصہ یا آرام طلبی یا تکبر وغیرہ۔ تمام ظاہری اعمال کا حسن و قبح اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا مقبول یا مردود ہونا بھی ہمارے باطنی اخلاق پر موقوف ہے۔ مثلاً: اخلاق و ریاء یہ قلب ہی کے تضاد اعمال ہیں، مگر ہمارے تمام ظاہری اعمال کا حسن و قبح ان سے وابستہ ہے، کوئی بھی عبادت، نماز، حج وغیرہ جو محض ریاء کے طور پر دنیا کی شہرت حاصل کرنے کے لیے کی جائے عبادت نہیں رہتی، اور تجارت و مزدوری جو اپنی اصل کے اعتبار سے دنیا داری کا کام ہے مگر حکم خداوندی کی تعمیل میں اللہ کی رضا کی نیت سے کی جائے تو یہی تجارت و مزدوری باعشہ اجر و ثواب اور عبادت بن جاتی ہے، یہ ریاء اور اخلاق ہی کا کرشمہ ہے کہ جس نے عبادت کو دنیا داری، اور دنیا داری کو اللہ کی عبادت بنا دیا ہے۔ یہی مطلب ہے رسول اللہ ﷺ کے اس ارشاد کا کہ:

(أَمَّا الْأَعْمَالُ بِالرِّيَاءِ) ●

”تمام اعمال کا ثواب نیتوں پر موقوف ہے۔“

تقریباً یہی حال تمام باطنی ”فضائل و رذائل“ کا ہے کہ ہمارے ظاہری اعمال کے حسن و قبح، مردود قبول اور اجر و ثواب، بلکہ بہت سے

اعمال کا وجود بھی انہی کارہین منت ہے، یہی وہ حقیقت ہے جس کی نشاندہی رسول اللہ ﷺ نے ارشاد میں فرمائی ہے کہ:  
 (الَا إِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْفَةً، إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ) ﴿۱﴾  
 ترجمہ: ”ہوشیار رہو کہ بدن میں گوشت کا ایک ٹکڑا ایسا ہے کہ جب وہ درست ہو تو سارا بدن درست ہوتا ہے اور جب وہ خراب ہو تو سارا بدن خراب ہو جاتا ہے، ہوشیار رہو کہ وہ دل ہے۔“

اسی لیے تمام علماء و فقہاء کا اس پر اتفاق ہے کہ ”رذائل“ سے بچنا اور ”فضائل“ کو حاصل کرنا ہر عاقل، بالغ پر فرض ہے۔ (رد المحتار مع الدر المختار: ۲۰/۱) یہی فریضہ ہے جس کو اصلاح نفس یا تزکیہ نفس اور تزکیہ اخلاق یا تہذیب اخلاق کہا جاتا ہے، اور یہی تصوف کا حاصل و مقصود ہے۔ ﴿۲﴾  
 دل کی پاکی، روح کی صفائی اور نفس کی طہارت ہر مذہب کی جان اور نبوتوں کا مقصود رہا ہے۔ رسول اللہ ﷺ کی بعثت کے جو چار مقاصد قرآن حکیم میں بتائے گئے ہیں ان میں دو سرا یہ ہے کہ:

﴿ وَيُزَكِّيهِمْ ﴾ (سورہ بقرہ، آل عمران، جمع)

ترجمہ: ”آپ مسلمانوں (کے اخلاق و اعمال) کا تزکیہ فرماتے رہیں۔“

قرآن نے ہر انسان کی کامیابی و نامرادی کا مدار بھی اسی تزکیہ نفس پر رکھا ہے:

﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهُ ۖ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهُ ﴾ (سورہ الشمس: ۱۰، ۹)

ترجمہ: ”یقیناً وہ مراد کو پہنچا جس نے نفس کو پاک کر لیا، اور نامراد ہوا وہ شخص جس نے اسے (رذائل میں) دھنسا دیا۔“

اور بتایا گیا ہے کہ گناہ ظاہری اعضاء ہی سے نہیں ہوتے بلکہ باطن کے بھی گناہ ہیں، دونوں سے بچنا فرض عین ہے، اور ہر گناہ موجب عذاب، خواہ ظاہر کا ہو یا باطن کا۔ ارشاد ربانی ہے:

﴿ وَذُرِّقُوا ظَاهِرًا لِأَنَّهُمْ وَيَخْتَفُونَ ۗ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْأَثْمَ سَجِزُونَ مِمَّا كَانُوا يَقْتَرُونَ ﴾ (سورہ انعام: ۱۲۰)

ترجمہ: ”تم ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ کو بھی، بلاشبہ جو لوگ گناہ (ظاہر یا باطن کا) کر رہے ہیں ان کو ان کے کئے کی سزا عنقریب ملے گی۔“

باطنی گناہ قلب کے وہی گناہ ہیں جن کے متعلق پیچھے عرض کیا گیا ہے کہ وہ ہمارے تمام ظاہری گناہ کا منبع ہیں، ہمارے ہر گناہ کا سونٹا وہیں سے پھوٹتا ہے، تصوف کی اصطلاح میں انہی کو ”رذائل یا اخلاق رذیلہ“ کہا جاتا ہے۔ ان کے بالمقابل دل کی نیکیاں اور عبادتیں ہیں جو ہماری تمام ظاہری عبادتوں اور نیکیوں کا سرچشمہ ہیں، ہر عبادت اور ہر نیکی انہی کا مرہون منت ہے، قلب کے ان نیک اعمال کو تصوف کی اصطلاح میں ”فضائل یا اخلاق حمیدہ“ کہا جاتا ہے۔

جس طرح اچھے برے ظاہری اعمال کی ایک طویل فہرست ہے جن کے شرعی احکام فقہ میں بتائے جاتے ہیں، اسی طرح باطنی اعمال یعنی ”رذائل یا فضائل“ کی تعداد بھی بہت ہے جو تصوف کا موضوع ہے۔ یہاں چند فضائل اور چند رذائل بطور مثال ذکر کئے جاتے ہیں، جن سے اندازہ ہوگا کہ قرآن و سنت سے فضائل کی تاکید اور رذائل کی ممانعت کتنے شدومد سے کی ہے، اور یہ تاکید کسی طرح اس تاکید سے کم نہیں جو ظاہری اعمال کی اصلاح کے لیے قرآن و سنت میں کی گئی ہے۔

﴿ یہ مشکوٰۃ شریف کی سب سے پہلی حدیث ہے۔

﴿ صحیح بخاری، کتاب ایمان، باب من استعبر الدنیا وصحیح مسلم، باب اغذا الحلال وترك الشہات

﴿ تصوف کے مشہور امام حضرت عبدالقادر سروردی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ”عوارف العارف“ میں تصوف کی جو حقیقت تفصیل سے بیان فرمائی ہے اس کا خلاصہ یہی ہے، دیکھئے ”عوارف العارف“ ۲۹/۱، حاشیہ احیاء العلوم للعلوی رحمۃ اللہ علیہ۔

## (۱۵۴) فضائل کی ترغیب و تاکید

### تقویٰ کی تاکید:

ایک باطنی نمل "تقویٰ" ہے قرآن حکیم نے اپنی دوسری سورت میں اعلان کیا ہے کہ اس کی تعلیم سے وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو تقویٰ والے ہیں۔ ارشاد ہے:

﴿هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ (سورہ بقرہ: ۲)

ترجمہ: "یہ کتاب (قرآن) تقویٰ والوں کو راہ دکھاتی ہے۔"

تقویٰ والوں کے لیے آخرت کی لازوال نعمتوں کی جگہ جگہ بشارت ہے۔ مثلاً:

﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ﴾ (سورہ طور: ۱۷)

ترجمہ: "بے شک تقویٰ والے باغوں میں اور نعمتوں میں ہوں گے۔"

قرآن نے جا بجا تقویٰ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس کے حاصل کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے کہ سچے لوگوں کی معیت اور صحبت اختیار کرو:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ (سورہ توبہ: ۱۱۹)

ترجمہ: "اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ یعنی ایسے لوگوں کے ساتھ رہو جو نیت اور بات میں سچے ہیں۔"

اللہ کے نزدیک ہر عزت و برتری کا معیار بھی یہی تقویٰ ہے۔ ارشاد ہے:

﴿إِنَّا كُوفِّمُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَّكُمُ﴾ (سورہ حجرات: ۱۳)

ترجمہ: "اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقویٰ والا ہے۔"

یہ چند آیات بطور نمونہ ہیں، سب آیات جمع کی جائیں تو کئی ورق درکار ہوں گے۔

### اخلاص کی تاکید:

اسی طرح "اخلاق" دل کا نمل ہے، قرآن حکیم نے اس کی تاکید میں بھی کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا۔ رسول اللہ ﷺ کو حکم دیا گیا ہے کہ:

﴿فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ﴾ (سورہ زمر: ۲)

ترجمہ: "سو آپ اللہ کی عبادت کیجئے، اسی کے لیے عبادت کو خالص کرتے ہوئے۔"

﴿قُلْ لِي أُبْرِتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ﴾ (سورہ زمر: ۱۱)

ترجمہ: "آپ کہہ دیجئے کہ مجھ کو حکم ہوا ہے کہ میں اللہ کی اس طرح عبادت کروں کہ عبادت کو اسی کے لیے خالص رکھوں۔"

قرآن پاک میں سات جگہ یہ ارشاد ہے:

﴿مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ (سورہ اہزاب: ۵)

ترجمہ: "اطاعت گزاروں کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے۔"

### توکل کی ترغیب:

اسی طرح "توکل" جو نفس کا اندرونی نمل ہے، اس کے متعلق رسول اللہ ﷺ کو حکم دیا گیا اور ساتھ ہی بشارت سنائی گئی کہ:



﴿فَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾ (سورہ آل عمران: ۱۵۹)

ترجمہ: ”تو آپ اللہ پر بھروسہ کریں، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔“

سب مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ:

﴿وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ (سورہ آل عمران: ۱۲۲)

ترجمہ: ”پس مسلمان تو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھیں۔“

قرآن پاک نے بتایا کہ پچھلے انبیاء کرام علیہم السلام بھی اپنی امت کو توکل کی تعلیم دیتے رہے۔ مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب فرمایا کہ:

﴿يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (سورہ بقرہ: ۱۷۶)

ترجمہ: ”اے میری قوم! اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اسی پر توکل کرو، اگر تم (اس کی) اطاعت کرنے والے ہو۔“

اللہ تعالیٰ نے اپنے اس اصول کا اعلان عام فرمایا دیا ہے کہ:

﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ (سورہ طلاق: ۳)

ترجمہ: ”جو شخص اللہ پر توکل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔“

صبر کی تلقین:

اسی طرح ”صبر“ باطنی فضائل میں سے ہے، جس کے معنی ہیں ”طبیعت کے خلاف باتیں پیش آنے پر نفس کا اضطراب اور گھبراہٹ سے روکنا، اور ثابت قدم رکھنا۔“ رسول اللہ ﷺ کی پوری حیات طیبہ میں اس صبر کا جیتا جاگتا نمونہ ہے۔ قرآن حکیم میں آپ کو ہدایت کی گئی ہے کہ:

﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعِزِّ مِنَ الرُّسُلِ﴾ (سورہ انفال: ۲۵)

ترجمہ: ”تو آپ ﷺ (دبیانی) صبر کیجئے جیسا امت والے رسولوں نے صبر کیا تھا۔“

﴿وَلَكِنْ صَبِرْتُ لِمَا كُنتُمُ لَهَا صَابِرِينَ﴾ (سورہ نحل: ۱۲۶)

ترجمہ: ”صبر کرو تو یہ صبر کرنے والوں کے حق میں بہت ہی اچھا ہے۔“

اور حکم کے ساتھ بشارت دی گئی کہ:

﴿وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ (سورہ انفال: ۴۶)

ترجمہ: ”اور صبر کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔“

جنت کی نعمت عظمیٰ بھی صبر کرنے والوں کا حصہ ہے۔ ارشاد ہے:

﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْعَلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ﴾ (سورہ آل عمران: ۱۴۲)

ترجمہ: ”کیا تم خیال کرتے ہو کہ جنت میں داخل ہو گئے حالانکہ ابھی اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کو (آزماکر) نہیں دیکھا

جنہوں نے خوب جہاد کیا، اور صبر کرنے والے ہوں۔“

یہ صرف چار فضائل کے متعلق آیات قرآنیہ کی چند مثالیں ہیں، تمام آیات و احادیث جمع کی جائیں تو ضخیم کتاب تیار ہو جائے، ان

مثالوں سے بتانا یہ مقصود ہے کہ شرعی فرائض صرف ظاہری اعمال پر منحصر نہیں، فضائل کا حاصل کرنا بھی نماز، روزہ وغیرہ کی طرح فرض ہے،

بلکہ خود نماز، روزہ وغیرہ بھی ان کے بغیر مکمل نہیں ہوتے۔

## (۱۵۵) رذائل کی قباحت و ممانعت

### تکبر کی مذمت:

رذائل وہ ناپاک باطنی اخلاق و اعمال ہیں جن کو قرآن و سنت میں حرام قرار دیا گیا ہے، ان کی یہاں فہرست دینا نہ ممکن ہے نہ مقصود۔ چند مثالیں یہ ہیں:

﴿إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ﴾ (سورہ نمل: ۲۳)

ترجمہ: ”بے شک اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔“

اور جسے اللہ پسند نہ کرے اس کا ٹھکانہ جہنم کے سوا کہاں ہوگا۔ چنانچہ ارشاد ہے:

﴿الَّذِينَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّمُتَكَبِّرِينَ﴾ (سورہ زمر: ۶۰)

ترجمہ: ”کیا ان متکبرین کا ٹھکانا جہنم میں نہیں ہے؟“

شافع محشر رحمۃ للعالمین رضی اللہ عنہ نے بھی صاف صاف بتا دیا ہے کہ:

(لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ) (مسلم شریف، کتاب الایمان، باب تحریم الکبر و بیانہ: ۶۵/۱)

ترجمہ: ”جس شخص کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔“

### ریا کاری کی شناخت:

ریاء، ایسا خطرناک باطنی رذیلہ ہے کہ وہ انسان کی بہتر سے بہتر عبادت کو تباہ کرتا بلکہ الٹا عذاب میں گرفتار کرا کے چھوڑتا ہے۔ قرآن حکیم کا ارشاد ہے کہ:

﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۚ الَّذِينَ هُمْ يُرَآؤْنَ﴾ (سورہ ماعون: ۴، ۵)

ترجمہ: ”بڑا عذاب ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز کو بھلا بیٹھے ہیں جو ریا کاری کرتے ہیں۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریا کو ”چھوٹی قسم کا شرک“ قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ:

(إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الشِّرْكَ الْأَصْغَرَ، قَالُوا: وَمَا الشِّرْكَ الْأَصْغَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قَالَ: الْرِيَاءُ،

يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: إِنَّا جَازَى الْعِبَادَ بِأَعْمَالِهِمْ، إِنهَبُوا إِلَيَّ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَرَاءُونَ فِي الدُّنْيَا،

فَانظُرُوا هَلْ تَجِدُون عِنْدَهُمُ الْجَزَاءَ) (مسند احمد، طبرانی، معنی، شعب الایمان)

ترجمہ: ”تمہارے متعلق جن چیزوں کا مجھے ڈر ہے ان میں سب سے زیادہ خوفناک ”چھوٹا شرک“ ہے۔ صحابہ نے دریافت

کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! ”چھوٹا شرک“ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ریاء“۔ قیامت کے دن جب اللہ عزوجل اپنے

بندوں کو ان کے کاموں کا ثواب عطا فرمائے گا تو دکھادے کے لیے کام کرنے والوں سے فرمادے گا کہ جاؤ ان لوگوں کے

پاس جنہیں دکھانے کے لیے تم دنیا میں کام کرتے تھے، اور دیکھو ان سے تمہیں ثواب ملتا ہے کہ نہیں۔“

### حسد کی قباحت:

حسد، وہ باطنی بیماری ہے کہ اس کا بیمار، دنیا میں تو چین پاتا ہی نہیں، اس کی آخرت بھی برباد ہو کر رہتی ہے۔ قرآن پاک کے بیان

حافظ زین العابدین رضی اللہ عنہ نے شرح احیاء العلوم میں کہا ہے کہ اس حدیث کے سب راوی ثقہ ہیں، دیکھئے احیاء العلوم مع شرح: ۳/۲۵۲

کردہ واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب سے پہلا گناہ ہے جو آسمان میں کیا گیا، اور سب سے پہلا گناہ ہے جو زمین پر کیا گیا۔ (احیاء العلوم و تفسیر معارف القرآن: ۸/۸۷۵، بحوالہ تفسیر قرطبی) کیونکہ آسمان پر ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا اور زمین پر سب سے پہلا قتل جو قاتل نے ہاتھل کا کیا تھا وہ بھی اسی حسد کا شاخسانہ تھا۔ حسد کا شر اتنا خطرناک ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو بھی تلقین کی گئی کہ آپ ﷺ اس کے شر سے پناہ مانگیں:

﴿وَمَنْ شَرَّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴾ (سورہ بقرہ: ۵)

ترجمہ: ”اور (آپ کہنے کہ میں پناہ مانگتا ہوں) حسد کرنے والے کے شر سے۔“

رسول اللہ ﷺ نے ہدایت فرمائی کہ:

(ابن ماجہ و الحسَد، فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ) (ابن ماجہ، کتاب الادب باب فی الحسد: ۱۶۷۲/۳، ص ۱۶۷۲)

ترجمہ: ”تم حسد سے بچو، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے (برباد کر دیتا ہے) جس طرح آگ لکڑی کو کھاتی ہے۔“

بخل کی برائی:

اسی طرح بخل باطن کی وہ رذیل خصلت ہے جو انسان کو ہر مالی ایثار قربانی سے روکتی ہے، اس باطنی بیماری کا ذکر قرآن حکیم نے ان خصلتوں کے ساتھ کیا ہے جو کافروں کا خاصہ ہیں۔ ارشاد ہے:

﴿وَأَمَّا مَنْ يَبْخُلْ وَاسْتَفْتَىٰ ۖ وَكَذَّبَ بِالْحَسَنَىٰ ۖ فَنَسِيْرًا لِلْعُسْرَىٰ ۖ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ﴾ (سورہ الليل: ۱۱، ۸)

ترجمہ: ”اور جس نے بخل کیا اور بے پروائی اختیار کی اور اچھی بات کو جھٹلایا، ہم اس کو رفتہ رفتہ سختی میں پہنچادیں گے، اور اس کا

مال اس کے کچھ کام نہ آئے گا۔ جب وہ (جہنم کے) گڑھے میں گرے گا۔“

جس شخص کا بخل اس حد تک پہنچ گیا ہو کہ شریعت نے جو مالی واجبات اس کے ذمہ کیے ہیں، ان کی ادائیگی سے بھی محروم ہو جائے،

اس کے لیے قرآن حکیم میں سخت عذاب کی خبر دی گئی ہے:

﴿وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا أَنَّهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ عَمْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ

يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ (سورہ آل عمران: ۱۸۰)

ترجمہ: ”جو لوگ ایسی چیز میں بخل کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے دی ہے، وہ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ یہ بات

ان کے لیے کچھ اچھی ہوگی، بلکہ یہ بات ان کے لیے بہت ہی بری ہے، ان لوگوں کو قیامت کے دن اس مال کا (سانپ بنا

کر) طوق پہنایا جائے گا، جس میں انہوں نے بخل کیا تھا۔“

بخل کا بیمار دوسروں کے ساتھ نہیں بلکہ درحقیقت وہ خود اپنے ساتھ بخل کرتا ہے، وہ اس کی بدولت اس دنیا میں اپنے آپ کو ہر

دلچسپی اور نیک نامی بلکہ جائز آرام و راحت تک سے اور آخرت میں ثواب کی نعمت سے محروم رکھتا ہے، قرآن حکیم نے اسی حقیقت کی

طرف توجہ دلائی ہے کہ:

﴿فَبِمَنْ كُمْ مِّنْ يَّبْخُلُ ۖ وَمَنْ يَّبْخُلْ فَإِنَّمَا يَبْخُلْ عَنِ نَفْسِهِ﴾ (سورہ محمد: ۳۸)

ترجمہ: ”پس تم میں سے بعض وہ ہیں جو بخل کرتے ہیں، اور جو بخل کرتا ہے وہ اپنے آپ ہی سے بخل کرتا ہے۔“

بخل ہی کے بدترین درجہ کا نام ”شح“ ہے۔ قرآن پاک نے بتایا کہ فلاح و کامیابی انہی لوگوں کا مقدر ہے جو شح سے محفوظ ہوں:

﴿وَمَنْ يُوقِ شَحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (سورہ حشر: ۹۰)

ترجمہ: ”اور جو شخص اپنی طبیعت کے نکل سے محفوظ رکھا جائے تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔“

### (۱۵۶) تصوف اور علم تصوف کی اصطلاحی تعریف

غرض ”فضائل اور رذائل“ کی ایک طویل فہرست ہے، تمام باطنی خصلتوں کا الگ الگ بیان، ہر ایک کی حقیقت و ماہیت، اس کے اسباب و علامات، فضائل حاصل کرنے کے طریقے، اور رذائل سے چھٹکارا پانے کی تدابیر۔ یہ تفصیلات تو تصوف کی کتابوں اور صوفیاء کرام کی مجلسوں میں ملیں گی، یہاں ان مثالوں سے صرف یہ واضح کرنا مقصود ہے کہ جس طرح ظاہر کے کچھ اعمال فرض عین اور کچھ حرام ہیں، اسی طرح باطن کے اعمال میں بھی کچھ فرض عین ہیں، اور کچھ حرام اور ان باطنی فرائض پر عمل کرنا اور باطن کی حرام خصلتوں سے اجتناب کرنا ہی تصوف ہے۔ چنانچہ علم تصوف کی اصطلاحی تعریف جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل سے بیان کی ہے۔ (دیکھئے احیاء العلوم: ۱/۱۹۔ مطبوعہ مصر) اس کا جامع مانع خلاصہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ:

(هُوَ عِلْمٌ يُعْرِفُ بِهِ أَنْوَاعَ الْفُضَائِلِ وَكَيْفِيَّةَ اِكْتِسَابِهَا وَأَنْوَاعَ الرِّذَائِلِ وَكَيْفِيَّةَ اِكْتِسَابِهَا) (رد المحتار مع الدر المختار: ۳۰/۱)

ترجمہ: ”تصوف وہ علم ہے جس سے اخلاق حمیدہ کی قسمیں اور ان کے حاصل کرنے کا طریقہ اور اخلاق رذیلہ کی قسمیں اور ان سے بچنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے۔“

### (۱۵۷) فقہ کی طرح علم تصوف کا بھی ایک حصہ فرض عین اور پورا علم حاصل کرنا فرض کفایہ ہے

جس طرح ہر مرد و عورت پر اپنے اپنے حالات و مشاغل کی حد تک ان کے فقہی مسائل جاننا فرض ہے اور پورے فقہ کے مسائل میں بصیرت و مہارت حاصل کرنا اور مفتی بننا سب پر فرض نہیں بلکہ فرض کفایہ ہے، اسی طرح جو اخلاق حمیدہ کسی میں موجود نہیں انہیں حاصل کرنا اور جو رذائل اس کے نفس میں چھپے ہوئے ہیں ان سے بچنا، تصوف کے علم پر موقوف ہے، اس کا علم حاصل کرنا فرض عین ہے اور پورے علم تصوف میں بصیرت و مہارت پیدا کرنا کہ دوسروں کی تربیت بھی کر سکے، یہ فرض کفایہ ہے۔

(رد المحتار مع الدر المختار: ۳۰/۱۔ تفسیر معارف القرآن: ۳/۳۹۰، سورہ توبہ: ۱۲۳)

### (۱۵۸) صوفی و مرشد کی تعریف

جس طرح فقہ کے ماہر کو ”فقہ“، ”مفتی“ اور ”مجتہد“ کہتے ہیں اسی طرح تصوف و سلوک کے ماہر کو ”صوفی“، ”مرشد“، ”شیخ“ اور عام زبان میں ”پیر“ کہا جاتا ہے۔ جس طرح قرآن و سنت سے فقہی مسائل اور احکام نکالنا اور حسب حال شرعی حکم معلوم کرنا ہر ایک کے بس کا کام نہیں، بلکہ رہنمائی کے لیے استاد یا ”فقہ اور مفتی“ کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے، اسی طرح باطنی اخلاق کو قرآن و سنت کے

﴿شلا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی ”احیاء العلوم جلد ثالث“ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ”التعريف“ اور ”تعليم الدين“ اور ”روح تصوف“ اور ”تصد السبيل“ وغیرہ

﴿فرض کی دو قسمیں ہیں: فرض عین اور فرض کفایہ، فرض عین اس فرض کو کہا جاتا ہے جس کا ادا کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر ضروری ہے، بعض مسلمانوں کے کر لینے سے باقی مسلمان سبکدوش نہیں ہوتے۔ جیسا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ..... اور فرض کفایہ وہ فرض ہے جو بعض لوگوں کے بقدر ضرورت ادا کرنے سے باقی مسلمانوں کے ذمہ سے ساقط ہو جاتا ہے، جیسے مسلمان میت کے کنن دفن کا انتظام، نماز جنازہ اور جہاد وغیرہ پورے فقہ اور پورے علم تصوف میں بصیرت و مہارت پیدا کرنا بھی فرض کفایہ ہے کہ اگر کسی بستی میں کوئی ایک شخص بھی ایسا ہو جو وہاں کے مسلمانوں کو پیش آنے والے شرعی مسائل بتا سکے اور ان کے تزکیہ اخلاق کا کام بقدر ضرورت کر سکے تو اس بستی کے باقی مسلمانوں کے ذمہ سے یہ فرض ساقط ہو جاتا ہے اور اگر اس شہر میں ایک شخص بھی ایسا موجود نہ ہو تو وہاں کے لوگوں پر فرض ہے کہ ایسا عالم اپنے یہاں تیار کریں یا کہیں اور سے بلا کر رکھیں ورنہ سب اہل شہر گناہگار ہوں گے۔ (تفسیر معارف القرآن: ۳/۳۹۰ تا ۳۸۷)

مطابق ڈھالنا ایک نازک اور قدرے مشکل کام ہے، جس میں بسا اوقات مجاہدوں، ریاضتوں اور طرح طرح کے نفسیاتی علاجوں کی ضرورت پیش آتی ہے، اور کسی ماہر کی رہنمائی کے بغیر چارہ کار نہیں ہوتا، اس نفسیاتی علاج اور رہنمائی کا فریضہ شیخ و مرشد انجام دیتا ہے۔ اسی لیے ہر عاقل و بالغ مرد و عورت کو اپنے تزکیہ اخلاق کے لیے ایسے شیخ و مرشد کا انتخاب کرنا پڑتا ہے جو قرآن و سنت کا قیاس ہو، اور باطنی اخلاق کی تربیت کسی مستند شیخ کی صحبت میں رہ کر حاصل کر چکا ہو۔ ﴿

### (۱۵۹) بیعت فرض و واجب نہیں

بیعت کی حقیقت یہ ہے کہ وہ مرشد اور اس کے شاگرد (مرید) کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے، مرشد یہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ اس کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنا سکھائے گا، اور مرید وعدہ کرتا ہے کہ مرشد جو بتلائے گا اس پر عمل ضرور کرے گا، یہ بیعت فرض و واجب تو نہیں، اس کے بعد بھی مرشد کی رہنمائی میں اصلاح نفس کا مقصد حاصل ہو سکتا ہے، لیکن بیعت چونکہ رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سنت ہے، اور معاہدہ کی وجہ سے فریقین کو اپنی ذمہ داری کا احساس بھی قوی رہتا ہے، اس لیے بیعت سے اس مقصد کے حصول میں بہت برکت اور آسانی ہو جاتی ہے۔

### (۱۶۰) کشف و کرامات مقصود نہیں

جب اصلاح نفس کا مقصد ضروری حد تک حاصل ہو جاتا ہے، یعنی اپنے ظاہری اور باطنی اعمال قرآن و سنت کے سامنے میں ڈھل جاتے ہیں، اور رسول اللہ ﷺ کی سنت کی پیروی زندگی کے ہر گوشہ میں ہونے لگتی ہے، تو ایسے بعض لوگوں پر بعض حالات میں کشف اور الہام اور کرامات کا ظہور بھی ہو جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا انعام ہوتا ہے، جیسا کہ متعدد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور اولیاء اللہ کے واقعات مشہور ہیں، مگر یہ کشف و کرامات نہ فقہ کا مقصود ہیں نہ تصوف کا، نہ ان پر دین کا کامل موقوف ہے، نہ علم دین کا، بلکہ بعض پوشیدہ آئندہ پیش آنے والی باتیں معلوم ہو جانا، عجیب و غریب واقعات کا پیش آ جانا تو کمال دین کی بھی دلیل نہیں کیونکہ اس کی چیزیں تو مشق کرنے سے بعض اوقات ایسے لوگوں کو بھی پیش آ جاتی ہیں جو دین کے پابند نہ ہوں۔ سمریزم اور جادو کرنے والوں کی شعبدہ بازیاں بھی دیکھنے میں تو عجیب و غریب ہی ہوتی ہیں، مگر ان کے لیے مسلمان ہونا بھی شرط نہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ کشف و کرامات شعبدہ بازی نہیں ہوتی، بلکہ محض اللہ جل شانہ کا عطیہ ہے، جو وہ اپنے کسی نیک بندے کو بعض حالات میں دے دیتا ہے، مگر یہ تصوف کا مقصود نہیں، اور دین کا کوئی کمال اس پر موقوف نہیں۔

### (۱۶۱) مقصود صرف اتباع شریعت اور اللہ کی رضا ہے

دین کا کمال تو اپنے ظاہر و باطن میں شریعت پر ٹھیک ٹھیک عمل کرنے میں ہے، اسی سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور یہی فقہ اور تصوف کا حاصل و مقصود ہے۔ یہ مقصود نہ فقہ پر عمل کے بغیر حاصل ہو سکتا ہے نہ تصوف کے بغیر۔ تصوف کا مقصود نہ بیعت سے نہ ریاضتیں اور مجاہدے ہیں، اور نہ کشف و کرامات، بیعت اور مجاہدے مقصود حاصل کرنے کے ذرائع ہیں، اور کشف و کرامات مقصود حاصل ہونے کے بعد اللہ کی طرف سے ایک قسم کا مزید انعام ہیں، کسی کو یہ انعام ملتا ہے، کسی کو کسی اور انعام سے نوازا جاتا ہے۔ بالفرض جسے مجاہدوں اور ریاضتوں کے بغیر ہی اپنی ظاہر و باطن کی اصلاح نصیب ہو جائے اور زندگی بھر ایک بار بھی سچا خواب نظر نہ آئے، نہ کسی کشف و کرامات کا ظہور ہو، اس کے بھی ولی اللہ اور مومن کامل ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ جس سے کشف و کرامات کا ظہور

﴿ شیخ میں کن شراکدا پایا جانا ضروری ہے، اس کے لئے ملاحظہ فرمائیے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رضی اللہ عنہ کا رسالہ "تصد السبیل" ہدایت سوم، ص ۵

ہونا ہو وہ اس کے مقابلے میں زیادہ کامل و افضل ہو، مدار کمال و افضلیت تو صرف اور صرف تکلوی پر ہے، جس میں زیادہ تکلوی ہے وہی زیادہ افضل، اور اللہ عز و جل کا زیادہ مقرب ہے۔ قرآن مجید کا فیصلہ ہے کہ:

﴿إِنَّا أَكْرَمُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقُومُونَ﴾ (سورہ حجرات: ۱۳)

ترجمہ: ”اللہ کے نزدیک تم سب میں بڑا شریف وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔“

تصوف کی حقیقت جو ان صفحات میں بیان کی گئی، تصوف کی تمام مستند کتابیں اسی اجمال کی تفصیل ہیں، تمام فقہاء اور صوفیائے کرام اس کی تعلیم و تربیت کرتے رہے، رسول اللہ ﷺ کی پوری حیات طیبہ اسی تصوف اور اسی فقہ پر عمل کا کامل نمونہ ہے، اور یہی ایمان کے بعد قرآن و سنت کی تعلیمات کا حاصل ہے۔ (نور اللہ: ۱/۵۹۲۳۲)

### (۱۶۲) باپ اور بیٹے کا عجیب واقعہ

قرطبی نے اپنی اسناد متصل کے ساتھ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص رسول کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور شکایت کی کہ میرے باپ نے میرا مال لے لیا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ اپنے والد کو بلا کر لاؤ۔ اسی وقت جبرئیل امین علیہ السلام تشریف لائے اور رسول اللہ ﷺ سے کہا کہ جب اس کا باپ آجائے تو اس سے پوچھئے کہ وہ کلمات کیا ہیں جو اس نے دل میں کہے ہیں، خود اس کے کانوں نے بھی ان کو نہیں سنا۔ جب یہ شخص اپنے والد کو لے کر پہنچا تو آپ ﷺ نے اس کے والد سے کہا کہ کیا بات ہے؟ آپ کا بیٹا آپ کی شکایت کرتا ہے، کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس کا مال چھین لیں۔ والد سے عرض کیا کہ آپ اسی سے یہ سوال فرمائیں کہ میں اس کی پھوپھی، خالہ یا اپنے نفس کے سوا کہاں خرچ کرتا ہوں؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ”یٰٰہ“ (جس کا مطلب یہ تھا کہ بس حقیقت معلوم ہوگئی، اب وہ کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں)۔

اس کے بعد اس کے والد سے دریافت کیا کہ وہ کلمات کیا ہیں جن کو ابھی تک خود تمہارے کانوں نے بھی نہیں سنا۔ اس شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ ہر معاملہ میں اللہ تعالیٰ آپ پر ہمارا ایمان اور یقین بڑھادیتے ہیں (جو بات کسی نے نہیں سنی اس کی آپ کو اطلاع ہوگئی جو ایک معجزہ ہے)۔

پھر اس نے عرض کیا کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ میں نے چند اشعار دل میں کہے تھے جن کو میرے کانوں نے بھی نہیں سنا۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ وہ ہمیں سناؤ۔ اس وقت اس نے یہ اشعار سنائے:

غَدَّ وَتَكَ مَوْلُوْنَا وَ مَتَكَ يَكْتَا تَعَلَّ بِمَا أَجْبِيْ عَلَيْكَ وَ تَهْمَلُ

ترجمہ: میں نے تجھے بچپن میں غذا دی اور جوان ہونے کے بعد بھی تمہاری ذمہ داری اٹھائی، تمہارا سب کھانا پینا میری ہی کمانی سے تھا۔

إِنَّا لِنَيْتُهُ صَانِتَكَ بِالسُّعْمِ لَمْ نَبْتُ لِسَعْمِكَ إِلَّا سَاهِرًا أَتَمَلُّمَلُ

ترجمہ: جب کسی میں تمہیں کوئی بیماری پیش آگئی تو میں نے تمام رات تمہاری بیماری کے سبب بیداری اور بے قراری میں گزاری۔

كَلْبِيْ إِنَّا لَمَطْرُوْقٌ دُونَكَ بِالْبَيْتِ طُرُقَتْ بِهِ دُونِيْ فَعَيْنِيْ تَهْمَلُ

ترجمہ: گویا کہ تمہاری بیماری مجھے ہی لگی ہے، تمہیں نہیں، جس کی وجہ سے میں تمام شب روتا رہا۔

تَخَافُ الرَّدِّيْ نَفْسِيْ عَلَيْكَ وَ لَهَا لَتَعْلَمَنَّ أَنَّ الْمَوْتَ وَ قْتَهُ مُوجَلُ

ترجمہ: میرا دل تمہاری ہلاکت سے ڈرتا رہا، حالانکہ میں جانتا تھا کہ موت کا ایک دن مقرر ہے پہلے پیچھے نہیں ہو سکتی۔

فَلَمَّا بَلَغْتَ السَّنَّ وَالْغَايَةَ إِلَيْهَا مَدَى مَا كُنْتُ فِيكَ أَوْ مِثْلَ

ترجمہ: پھر جب تم اس عمر اور اس حد تک پہنچ گئے جس کی میں تمنا کرتا تھا۔

جَعَلْتِ جَزَائِي غِلْظَةً وَفِطَاظَةً كَمَا أَنَّكَ أَنْتِ الْمُنْعَمُ الْمُنْتَفِعُ

ترجمہ: تو تم نے میرا بدلہ سختی اور سخت کلامی بنا دیا گویا کہ تم ہی مجھ پر احسان و انعام کر رہے ہو۔

فَلَيْتَكَ إِذْ لَمْ تُدْرَعْ حَقَّ ابْنِ تَيْبِي فَعَلْتِ كَمَا الْجَارُ الْمُصَاقِبُ يَفْعَلُ

ترجمہ: کاش! اگر تم سے میرے باپ ہونے کا حق ادا نہیں ہو سکتا تو کم از کم ایسا ہی کر لیتے جیسا کہ ایک شریف پڑوسی کیا کرتا ہے۔

فَأُولَئِكَ حَقُّ الْجَوَاكِرِ وَلَمْ تَكُنِّي عَلَيَّ بِمَالٍ دُونَ مَالِكَ تَبْخُلُ

ترجمہ: تو کم از کم مجھے پڑوسی کا حق تو دیا ہوتا اور خود میرے ہی مال میں میرے حق میں بخل سے کام نہ لیا ہوتا۔

رسول کریم ﷺ نے یہ اشعار سننے کے بعد بیٹے کا گریبان پکڑ لیا اور فرمایا:

(أَنْتِ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ) (قرطبی، بحوالہ معارف القرآن: ۵/۳۶۸)

یعنی ”جا تو بھی اور تیرا مال بھی سب تیرے باپ کا ہے۔“

### (۱۶۳) میاں بیوی میں محبت پیدا کرنے کا آسان نسخہ

میاں بیوی میں محبت پیدا کرنے کا آسان نسخہ یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ انشاء اللہ چند دنوں میں

ایسی عجیب محبت پیدا ہو جائے گی کہ جس کا دونوں کو وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔

یاد رکھئے! اینٹ کو اینٹ سے ملانے کے لیے سینٹ کی ضرورت ہے، لکڑی کو لکڑی سے ملانے کے لیے کیل کی ضرورت ہے، کاغذ کو

کاغذ سے ملانے کے لیے گوند کی ضرورت ہے۔ لیکن دونوں کو ملانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے خاص فضل کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے

ظاہری تدبیر بیوی کی طرف سے جائز کاموں میں شوہر کی پوری اطاعت اور درج ذیل الفاظ کہنا ہے:

① جی ہاں! جی ہاں! جی ہاں! - ② اچھا! اچھا! اچھا!

③ آئندہ نہیں ہوگا، آئندہ نہیں ہوگا۔ ④ جیسے آپ کہیں گے ویسے ہی کروں گی، جیسے آپ کہیں گے ویسے ہی کروں گی۔

⑤ معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے۔ ⑥ آپ صحیح فرما رہے ہیں، آپ صحیح فرما رہے ہیں۔

اور باطنی تدبیر یہ ہے کہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے دل سے دعائیں کریں۔ ایک دوسرے کو خوب معاف کر کے ایک

دوسرے کو اپنے حالات سے مجبور سمجھ کر بے قصور سمجھیں۔ اس کی غلطیوں پر دل میں اس کے خلاف اٹھنے والے غم و غصہ کے جذبات کو پیار و

محبت، شفقت اور رحمت کی تھکی دے کر سلا دیں۔

### (۱۶۴) بے خوابی کا بہترین علاج

طبرانی میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ راتوں کو میری نیند اچاٹ ہو جایا کرتی تھی، تو میں نے نبی کریم ﷺ سے

اس امر کی شکایت کی۔ آپ ﷺ نے فرمایا یہ دعا پڑھا کرو۔

(اللَّهُمَّ غَارِبِ النُّجُومِ وَهَدَاتِ الْعَبَّوْنَ وَأَنْتَ حَيٌّ يَا قَوْمَ آدَمَ عَشِيٍّ وَكَهْدِي لَيْلِي) (تفسیر ابن کثیر: ۳/۱۶۸)

ترجمہ: ”میں نے جب یہ دعا کو پڑھا تو نیند نہ آنے کی بیماری، بفضل اللہ دور ہو گئی۔“

### (۱۶۵) چار صفیں پیدا کیجئے

مسند احمد میں فرمان رسول اللہ ﷺ ہے کہ چار باتیں جب تجھ میں ہوں پھر اگر ساری دنیا بھی فوت ہو جائے تو تجھے نقصان نہیں:

۱) امانت کی حفاظت۔  
۲) بات کی صداقت۔  
۳) حسن اخلاق۔  
۴) حلال روزی۔ (تفسیر ابن کثیر: ۳/۱۸۴)

### (۱۶۶) دو سو کنوں کا تقویٰ

بغداد میں ایک بڑا سوداگر رہتا تھا۔ یہ بڑا ہی دیانت دار و ہوشیار تھا۔ خدا نے اس کا کاروبار بھی خوب ہی چمکایا تھا۔ دور دور سے خریدار اس کے یہاں پہنچتے اور اپنی ضرورت کا سامان خریدتے۔ اسی کے ساتھ ساتھ خدا نے اس کو گھریلو سکھ بھی دے رکھا تھا۔ اس کی بیوی نہایت خوبصورت، نیک، ہوشیار اور سلیقہ مند تھی۔ سوداگر بھی دل و جان سے اس کو چاہتا تھا اور بیوی بھی سوداگر پر جان چھڑکتی تھی، اور نہایت عیش و سکون اور میل محبت کے ساتھ ان کی زندگی بسر ہو رہی تھی۔

سوداگر کاروباری ضرورت سے کبھی کبھی باہر بھی جاتا، اور کئی کبھی دن گھر سے باہر سفر میں گزارتا۔ بیوی یہ سمجھ کر کہ یہ گھر سے غائب رہنا کاروباری ضرورت سے ہوتا ہے، مطمئن رہتی۔ لیکن جب سوداگر جلدی جلدی سفر پر جانے لگا اور زیادہ زیادہ دنوں تک گھر سے غائب رہنے لگا، تو بیوی کو شبہ ہوا اور اس نے سوچا ضرور کوئی راز ہے۔

گھر میں ایک بوڑھی ملازمہ تھی۔ سوداگر کی بیوی کو اس پر بڑا بھروسہ تھا، اور اکثر باتوں میں وہ اس ملازمہ کو اپنا راز دار بنا لیتی۔ ایک دن اس نے بڑھیا سے اپنے شبہ کا اظہار کیا اور بتایا کہ مجھے بہت بے چینی ہے۔ بڑھیا بولی: اے بی بی! آپ پریشان کیوں ہوتی ہیں؟ پریشان ہوں آپ کے دشمن۔ آپ نے اب کہا ہے، دیکھئے میں چنگی بجانے میں سب راز معلوم کئے لیتی ہوں۔ اور بڑھیا تو وہ میں لگ گئی۔ اب جو سوداگر گھر سے چلے تو یہ بھی پیچھے لگ گئی، اور آخر کار اس نے پتہ لگا لیا کہ سوداگر صاحب نے دوسری شادی کر لی ہے اور یہ گھر سے غائب ہو کر اس نئی بیوی کے پاس عیش کرتے ہیں۔

بڑھیا یہ راز معلوم کر کے آئی اور بی بی کو سارا قصہ سنایا۔ سننے ہی بی بی کی حالت غیر ہو گئی۔ سوکن کی جلن مشہور ہی ہے، لیکن جلد ہی اسی بی بی نے اپنے کو سنبھال لیا، اور سوچا کہ جو کچھ ہونا تھا ہو ہی چکا ہے، اب میں پریشان ہو کر اپنی زندگی کیوں اجیرن بناؤں۔ اور اس نے میاں پر قطعاً ظاہر نہ ہونے دیا کہ وہ اس راز سے واقف ہے، وہ ہمیشہ کی طرح سوداگر کی خدمت کرتی رہی، اور اپنے برتاؤ اور خلوص و محبت میں ذرا فرق نہ آنے دیا۔

دوسری طرف شریف سوداگر نے بھی اپنی بیوی کے حقوق میں کوئی کمی نہ کی، اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہ آنے دی اور ہمیشہ کی طرح اسی خلوص و محبت سے بیوی کے ساتھ سلوک کرتا رہا۔ شوہر کے اس نیک برتاؤ نے بیوی کو سوچنے پر مجبور کر دیا، اور اس نے یہ طے کر لیا کہ وہ شوہر کے اس جائز حق میں ہرگز روڑا نہ بنے گی۔ اس نے سوچا کہ آخر میاں مجھ سے ظاہر کر کے بھی تو دوسرا نکاح کر سکتا تھا۔ میاں نے اس طرح چھپا کر یہ نکاح کیوں کیا؟ اسی لئے کہ میرے دل کو تکلیف ہو گئی۔ میں سوکن کے جلاپے کو برداشت نہ کر سکوں گی۔

کتنا پیارا ہے میرا شوہر! اس نے میرے نازک جذبات کا کیسا خیال رکھا۔ پھر اس نے اس نئی دلہن کی محبت میں مست ہو کر میرا کوئی حق تو نہیں مارا۔ اس کے سلوک اور محبت میں بھی تو کوئی فرق نہیں آیا۔ آخر مجھے کیا حق ہے کہ میں اس کو اس حق سے روکوں جو خدا نے اس کو دے رکھا ہے۔ مجھ سے زیادہ ناشکر اور نالائق کون ہوگا۔ جو ایسے مہربان شوہر کے جائز جذبات کا لحاظ نہ کرے، اور اس کے دل کو تکلیف پہنچائے۔ بیوی یہ سوچ کر بالکل ہی مطمئن ہو گئی۔



سودا گر اپنی بیوی کا خوش گوار سلوک اور محبت کا برتاؤ دیکھ کر یہی سمجھتے رہے کہ شاید خدا کی اس بندی کو یہ راز معلوم نہیں ہے، اور پوری احتیاط کرتے رہے کہ کسی طرح معلوم نہ ہونے پائے۔ اور دونوں ایسی خوشی پیار و محبت کی زندگی گزارتے رہے۔ آخر کچھ سالوں کے بعد سودا گر کی زندگی کے دن پورے ہوئے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ سودا گر نے چونکہ دوسری شادی شہر سے دور بہت خاموشی سے کی تھی، اس لیے اس کے رشتہ داروں میں سے کسی کو بھی یہ راز معلوم نہ تھا۔ سب یہی سمجھتے رہے کہ سودا گر کی بس یہی ایک بیوی تھی۔

چنانچہ جب ترکے کی تقسیم کا وقت آیا تو لوگوں نے یہی سمجھ کر ترکے تقسیم کیا اور اس نیک بیوی کو اس کا حصہ دے دیا۔ سودا گر کی بیوی نے بھی حصہ لے لیا، اور یہ پسند نہ کیا کہ اپنے مرے ہوئے شوہر کے اس راز کو فاش کرے جو زندگی بھر سودا گر نے لوگوں سے چھپایا۔ لیکن اس نیک بی بی نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ وہ سودا گر کی دوسری بیوی کا حق مار بیٹھے۔ بے شک کسی کو یہ خبر نہ تھی اور نہ اس کی طرف سے کوئی دھواہی کرنے والا تھا۔ لیکن اس خدا کو تو سب کچھ معلوم تھا جس کے حضور ہر انسان کو کھڑے ہو کر اپنے اچھے برے اعمال کا جواب دینا ہے۔ سودا گر کی بیوہ یہ سوچ کر کانپ گئی اور اس نے یہ طے کر لیا کہ جس طرح بھی ہو گا وہ اپنے حصے میں سے آدمی رقم ضرور اپنی سوکن بہن کو بھجوائے گی، اور اس نے ایک نہایت معتبر آدمی کو یہ ساری بات بتا کر اپنے حصہ میں سے آدمی رقم حوالے کی اور اپنی سوکن کے پاس روانہ کیا، اور اس کے یہاں کھلوا بھیجا کہ انیسویں آپ کے شوہر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ مجھے ان کی جائیداد اور ترکے میں سے جو کچھ ملا ہے، اسلامی قانون کی رو سے آپ اس میں برابر کی شریک ہیں۔ میں اپنے حصے کی آدمی رقم آپ کو بھیج رہی ہوں، امید ہے کہ آپ قبول فرمائیں گے۔ یہ پیغام اور رقم بھیج کر نیک بی بی بہت مطمئن تھیں، ان کو ایک روحانی سکون تھا۔ کچھ ہی دنوں میں وہ شخص واپس آ گیا اور اس نے وہ ساری رقم واپس لاکر سودا گر کی بیوی کو دی۔ سودا گر کی بیوہ فخر مند ہوئی اور وہ پوچھی۔ قاصد نے جیب سے ایک خط نکالا اور کہا اس کو پڑھ لیجئے، اس میں سب کچھ لکھا ہے، آپ فخر مند نہ ہوں۔

### (۱۶۷) سوکن کا سبق آموز خط

بیاری بہن! آپ کے خط سے یہ معلوم کر کے بڑا رنج ہوا کہ آپ کے اچھے شوہر کا انتقال ہو گیا اور آپ ان کی سرپرستی سے محروم ہو گئیں۔ خدا ان کی مغفرت فرمائے اور ان پر اپنی رحمتوں اور عنایتوں کی بارش فرمائے۔ میں کس دل سے آپ کے خلوص و ایثار کا شکر یہ ادا کروں کہ آپ نے ان کے ترکے میں سے اپنے حصے کی آدمی رقم مجھ کو بھیجی۔ میں آپ کی اس نیک روش سے بہت ہی متاثر ہوئی۔ حقیقت یہ ہے کہ سودا گر کے اس راز سے کوئی واقف نہ تھا۔ میرا نکاح بہت ہی پوشیدہ طریقے پر ہوا تھا، مجھے تو یقین تھا کہ آپ کو بھی اس کی خبر نہیں ہے۔ اور میں کیا، خود سودا گر مرحوم بھی یہی سمجھتے رہے کہ آپ کو اس دوسری شادی کی اطلاع نہیں ہے۔ اب آپ کے اس خط سے یہ راز کھلا کہ آپ ہمارے راز سے واقف تھیں۔ سوکن کی جملن طبعی بات ہے۔ آپ کو ضرور اس واقعے سے تکلیف پہنچی ہوگی۔ لیکن اللہ اکبر! آپ کا صبر و ضبط حقیقت یہ ہے کہ آپ نے جس صبر و ضبط سے کام لیا اس کی نظیر نہیں مل سکتی۔ کبھی اشارے کنائے سے بھی تو آپ نے یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ آپ ہماری اس خفیہ شادی سے واقف ہیں۔ آپ کا یہ ایثار اور صبر و تحمل واقعی حیرت انگیز ہے، میں تو آپ کے اس کمال سے انتہائی متاثر ہوں۔ دولت کسی کو کتنی ہے۔ دولت کے لیے لوگ کیا کچھ نہیں کرتے۔ لیکن آفریں آپ کی ایمانداری کو، یہ جانتے ہوئے کہ میرا نکاح راز میں ہے، اور وہاں کوئی ایک بھی ایسا نہیں جس کو اس کی خبر ہو، اور جو میری طرف سے وکالت کرے، مگر آپ نے محض خدا کے خوف سے میرے حق کا خیال رکھا اور اپنے حصے میں سے آدمی رقم مجھے بھیج دی۔ خدا کے حاضر و ناظر ہونے کا یقین ہو تو ایسا ہو، اور خدا کے بندوں کے حقوق ادا کرنے کا جذبہ ہو تو ایسا ہو۔

اچھی بہن! میں آپ کی اس دیانت، خلوص اور حق شناسی سے بہت متاثر ہوں، خدا آپ کو خوش رکھے اور دنیا و آخرت میں سرخرو

فرمائے۔ لیکن بہن! میں اب اس حصے کی مستحق نہیں رہی ہوں، خدا آپ کا یہ حصہ آپ ہی کو مبارک کرے۔ یہ صحیح ہے کہ سوداگر مرحوم نے مجھ سے نکاح کیا تھا اور یہ بھی صحیح ہے کہ وہ میرے پاس آکر کئی کئی دن رہتے تھے۔ بے شک ہم نے بہت دنوں عیش و مسرت کی زندگی بسر کی، لیکن ادھر کچھ دنوں سے یہ سلسلہ ختم ہو گیا تھا۔ سوداگر مرحوم نے مجھے طلاق دے دی تھی اس راز کی آپ کو خبر نہیں ہے۔ میں اس خط کے ساتھ آپ کی بے مثال محبت، عنایت، ایثار، خلوص اور ہمدردی کا پھر شکریہ ادا کرتی ہوں۔

والسلام

آپ کی بہن

سوداگر کی بیوہ نے اس خاتون کا یہ خط پڑھا تو بہت متاثر ہوئی اور اس کی سچائی دیانت اور نیکی نے اس کے دل میں گھر کر لیا، اور پھر دونوں میں مستقل طور پر خلوص و محبت اور رفاقت کا رشتہ قائم ہو گیا۔ (مدنیہ المصنوعۃ، اسلامی معاشرہ ص ۱۵۱)

### (۱۶۸) حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تین عجیب سوال اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے عجیب جواب

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے فرمایا: اے ابوالحسن! کئی مرتبہ آپ حضور اقدس ﷺ کی مجلس میں موجود ہوتے تھے اور ہم غائب ہوتے تھے اور کبھی ہم موجود ہوتے تھے اور آپ غیر حاضر۔ تین باتیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ کو وہ معلوم ہیں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا: وہ تین باتیں کیا ہیں؟

① حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک آدمی کو ایک آدمی سے محبت ہوتی ہے حالانکہ اس میں کوئی خیر کی بات نہیں دیکھی ہوتی، اور ایک آدمی کو ایک آدمی سے دوری ہوتی ہے حالانکہ اس میں کوئی بری بات نہیں ہوتی، اس کی کیا وجہ ہے.....؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ہاں! اس کا جواب مجھے معلوم ہے۔ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا ہے کہ انسانوں کی رو میں ازل میں ایک جگہ اکٹھی رکھی ہوئی تھیں، وہاں وہ ایک دوسرے کے قریب آکر آپس میں ملتی تھیں، جن میں وہاں آپس میں تعارف ہو گیا ان میں یہاں دنیا میں الفت ہو جاتی ہے، اور جن میں وہاں اجنبیت رہی وہ یہاں دنیا میں ایک دوسرے سے الگ رہتے ہیں..... حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ایک بات کا جواب مل گیا۔

② دوسری بات یہ ہے کہ آدمی حدیث بیان کرتا ہے، کبھی اسے بھول جاتا ہے، کبھی یاد آ جاتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے.....؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اللہ وجہہ نے فرمایا: میں نے حضور اکرم ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جیسے چاند کا بادل ہوتا ہے ایسے ہی دل کے لیے بھی بادل ہے، چاند خوب چمک رہا ہوتا ہے، بادل اس کے سامنے آ جاتا ہے تو اندھیرا ہو جاتا ہے، اور جب بادل ہٹ جاتا ہے چاند بھی چمکنے لگتا ہے، ایسے ہی آدمی ایک حدیث بیان کرتا ہے وہ بادل اس پر چھا جاتا ہے تو وہ حدیث بھول جاتا ہے، اور جب اس سے وہ بادل ہٹ جاتا ہے تو اسے وہ حدیث یاد آ جاتی ہے۔..... حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: دو باتوں کا جواب مل گیا۔

③ تیسری بات یہ ہے کہ آدمی خواب دیکھتا ہے تو کوئی خواب سچا ہوتا ہے کوئی جھوٹا، اس کی کیا وجہ ہے.....؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا: جی ہاں! اس کا جواب بھی معلوم ہے۔ میں نے حضور اقدس ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو بندہ یا بندی گہری نیند سو جاتا ہے تو اس کی روح کو عرش تک چڑھایا جاتا ہے، جو روح عرش پر پہنچ کر جاگتی ہے اس کا خواب تو سچا ہوتا ہے اور جو اس سے پہلے جاگ جاتی ہے اس کا خواب جھوٹا ہوتا ہے۔..... حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں ان تین باتوں کی تلاش میں ایک عرصہ سے لگا ہوا تھا، اللہ کا شکر ہے کہ میں نے مرنے سے پہلے ان کو پایا۔ (حیا، صحابہ ص ۳/۱۳۹)

### (۱۶۹) اُمّ سلیم رضی اللہ عنہا کا آپ ﷺ سے عجیب و غریب سوال

حضرت اُمّ سلیم رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں حضور اقدس ﷺ کی زوجہ محترمہ حضرت اُمّ سلمہ رضی اللہ عنہا کی پڑوسن تھی، میں نے (ان کے گھر میں جا کر) عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ! ذرا یہ بتائیں کہ جب عورت خواب میں یہ دیکھے کہ اس کے خاوند نے اس سے صحبت کی ہے تو کیا

اسے غسل کرنا پڑے گا؟..... یہ سن کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا: اے ام سلیم! تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں، تم نے اللہ کے رسول کے سامنے عورتوں کو رسوا کر دیا۔ میں نے کہا: اللہ تعالیٰ حق بات کرنے سے حیا نہیں کرتے، ہمیں جب مسئلہ میں مشکل پیش آئے تو اسے نبی کریم ﷺ سے پوچھ لینا اس سے بہتر ہے کہ ہم ایسے ہی اندھیرے میں رہیں۔ پھر حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: اے ام سلیم! تمہارے ہاتھ میں خاک آلود ہوں، اگر اسے (کپڑوں پر یا جسم پر) پانی نظر آئے تو غسل کرنا پڑے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا: کیا عورت کا بھی پانی ہوتا ہے؟ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: تو پھر بچہ ماں کے کیسے مشابہ ہو جاتا ہے؟ عورتیں حزان اور طبیعت میں مردوں جیسی ہیں۔ (حیاء الصحابہ: ۱۵۴/۳)

### (۷۰) ایک دیہاتی کا نہایت عمدہ اور قابل تعریف سوال اور حضور اکرم ﷺ کا جواب

دوران سفر ایک دیہاتی کا حضور اکرم ﷺ کی اونٹنی کی مہار پکڑ کر کھڑا ہو جانا اور ”دوزخ سے دور اور جنت کے قریب کرنے والی بات“ پوچھنا، اور نبی کریم ﷺ کا انتہائی شفقت کے ساتھ جواب دینے کے بعد فرمانا کہ اچھا اب ہماری اونٹنی کی مہار چھوڑ دو۔ (عَنْ أَبِي أَيُّوبَ بْنِ سَلَمَةَ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا عَرَضَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِي سَفَرٍ فَأَخَذَ بِحِطَاةِ نَاقَتِهِ - أَوْ بِرَمْلِيهَا - ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ! أَوْيَا مُحَمَّدًا - أَخْبِرْنِي بِمَا يَقْرَبُنِي مِنَ الْجَنَّةِ وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ؟ قَالَ: فَكَيْفَ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ نَظَرَ فِي أَصْحَابِهِ ثُمَّ قَالَ: لَقَدْ وَفَّقَ - أَوْلَقَدْ هَدَى - قَالَ كَيْفَ قُلْتَ؟ فَأَعْلَفَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتَكْتُمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصِلُ الرَّجْعَ دَعِ النَّاقَةَ) (رواه مسلم: ۲۱/۱)

ترجمہ: ”حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ایک سفر میں تھے کہ ایک دیہاتی سامنے آکر کھڑا ہوا، اور اس نے آپ ﷺ کی اونٹنی کی مہار پکڑ لی، پھر کہا اے اللہ کے رسول! مجھے وہ بات بتاؤ جو مجھے جنت سے قریب اور آتش دوزخ سے دور کر دے؟ راوی کا بیان ہے کہ نبی کریم ﷺ نے اس کی طرف اپنی رفقہ کی طرف آپ ﷺ نے دیکھا اور (ان کو متوجہ کرتے ہوئے) فرمایا: اس کو اچھی توفیق ملی۔ پھر آپ ﷺ نے اس دیہاتی سے فرمایا: ہاں! ذرا پھر کہنا! تم نے کس طرح کہا: سائل نے اپنا وہی سوال پھر دہرایا (مجھے وہ بات بتا دو! جو مجھے جنت سے نزدیک اور دوزخ سے دور کر دے) تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا: صرف اللہ کی بندگی کرتے رہو، اور کسی چیز کو اس کے ساتھ شریک نہ کرو، نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور صلہ رحمی کرتے رہو۔ اب اونٹنی کی مہار چھوڑ دو۔“ (مسلم شریف)

مسلم شریف ہی کی اسی حدیث کی دوسری روایت کے آخر میں ایک فقرہ یہ بھی ہے کہ ”جب وہ دیہاتی چلا گیا تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ اگر یہ مضبوطی سے ان احکام پر عمل کرتا رہا تو یقیناً جنت میں جائے گا۔“ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو نبی کریم ﷺ کی اس وصیت پر عمل کرنے کی توفیق اور جنت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین!

فائدہ: اس حدیث سے نبی کریم ﷺ کی شفقت و پیغمبرانہ کا کچھ اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ آپ ﷺ سفر میں ہیں، اونٹنی پر سوار چلے جا رہے ہیں، اثنائے راہ میں ایک بالکل نا آشنا دیہاتی سامنے آ کر اچانک اونٹنی کی مہار پکڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اور پوچھتا ہے کہ مجھے جنت سے قریب اور دوزخ سے دور کرنے والی بات بتلاؤ! آپ ﷺ اس کے طرز عمل سے ناراض نہیں ہوتے بلکہ اس کی دینی حرم کی ہمت افزائی فرماتے ہیں، اور اپنے رفقہ کو متوجہ کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو اچھی توفیق ملی۔ پھر اپنے ان رفیقوں کو بھی سائل کی زبان ہی سے اس کا سوال سنانے کے لیے اُسے فرماتے ہیں: ذرا پھر کہو! تم نے کیسے کہا؟ اس کے بعد جواب دیتے ہیں، اور آخر میں فرماتے ہیں: اچھا اب ہماری اونٹنی کی مہار چھوڑ دو۔ اللہ اکبر! بخیر کیا ہے؟! شفقت و رحمت کا ایک مجسم پیکر ہے۔

يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْنَا أَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ مُحَمَّدٍ خَلْقِ كَلِمِهِم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تصحیح و اضافہ شدہ

حصہ سوم

# بکھرتی

حضرت مولانا محمد یونس پانپوری رحمۃ اللہ علیہ

انتخاب و ترتیب

صاحبزادہ محترم حضرت مولانا مبلغ اعظم محمد سعید صاحب پانپوری رحمۃ اللہ علیہ

حضرت مولانا مفتی محمد امین صاحب پانپوری رحمۃ اللہ علیہ

تصحیح و نظر ثانی

حق سٹریٹ اردو بازار لاہور  
مکتبہ عالیہ شبلیہ

## جملہ حقوق محفوظ ہیں

نام کتاب	.....	بکھرے موتی
انتخاب و ترتیب	.....	حضرت مولانا محمد یونس پالپوری مدظلہ العالی
تصحیح و عمر ثانی	.....	صاحبزادہ محترم حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالپوری <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>
با اہتمام	.....	محمد قیصر محمود مہاروی
مطبع	.....	لعل سار پرنٹرز
ناشر	.....	<b>مکتبہ عائشہ</b>

حق سٹریٹ اردو بازار لاہور 042-7360541

..... ملنے کے پتے .....

ادارہ اسلامیات انارکلی لاہور	حق پہلی کیشنرز اردو بازار لاہور
شمع بک ایجنسی اردو بازار لاہور	کتب خانہ رشید یہ راجہ بازار راولپنڈی
ملت پہلی کیشنرز اسلام آباد	مکتبہ رشید یہ کمیٹی چوک راولپنڈی
احمد بک کارپوریشن راولپنڈی	دارالمطالعہ نزد پرانی ٹیکلی حاصل پور منڈی
کتابستان شاہی بازار بہاول پور	اقبال بک سنٹر جہانگیر پارک صدر کراچی
مکتبہ دارالقرآن اردو بازار کراچی	قدیمی کتب خانہ آرام باغ کراچی
دارا خلاص محلہ جنگلی، پشاور	ادارہ الانور بنوری ٹاؤن کراچی
مکتبہ قاسمیہ ملتان	مکتبہ القرآن بنوری ٹاؤن کراچی
کتاب خانہ مظہری گلشن اقبال کراچی	ادارۃ المعارف دارالعلوم کراچی
مکتبہ رشید یہ سرکی روڈ کوئٹہ	مکتبہ امدادیہ ملتان
مکتبہ حقانیہ ملتان	مکتبہ اسلامیہ کوتوال روڈ فیصل آباد

## فہرست (سوم)

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
243	پناہ مانگنی چاہیے		تقریظ: حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب
243	شیطان سے حفاظت کا عجیب نسخہ	233	پالن پوری دامت برکاتہم
244	قسطوں میں زیادہ قیمت پر فروخت کرنا جائز ہے		تعارف و تبصرہ: از حضرت مولانا شمس الحق
244	ظالم اور مظلوم کے درمیان اللہ صلح کرائے گا	234	صاحب ندوی زید محمد ہم
244	سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی وفات کا عجیب قصہ	235	تقریظ: مولانا مفتی محمد امین صاحب پالن پوری
245	بیوی کیسی ہونی چاہیے؟	236	حمد باری تعالیٰ
247	کام کاج سویرے شروع کرو	237	مناجات باری تعالیٰ
	کسی قوم کا سردار اگر تمہارے پاس آئے تو اس	238	پریشانیوں سے نجات کا نبوی نسخہ
247	کا اکرام کرنا چاہیے	238	زبان کی تیزی کا نبوی علاج
248	دنیا کی تکلیف میں پانچ چیزیں بہت سخت ہیں	238	نیت میں بھی اجر ہے
	حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے اخلاق	238	سب سے زیادہ محبوب عمل
248	حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کے ساتھ	239	بازار میں بھی دُعا قبول ہوتی ہے
	خودکشی کرنے والا کافر نہیں ہے، اس کی بھی	239	جنات کے شر سے حفاظت کا بہترین نسخہ
249	مغفرت ہو سکتی ہے	239	اپنی گورتوں کو سورہ نور سکھاؤ
250	دس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجئے گناہوں سے محفوظ رہو گے	239	شادی سادی ہونی چاہیے
	شب معراج میں فرشتوں نے پچھنا لگانے کی تاکید	240	ایک تاریخی شادی
250	فرمانی تھی مگر آج لوگوں نے اسے بالکل چھوڑ دیا ہے		آسمان کی طرف سر اٹھا کر استغفار کیجئے اللہ سکرا
250	جناب کے شر سے بچنے کا بہترین نسخہ	242	کر معاف کر دیں گے
250	جہنم کی آگ سے بچنے کا بہترین نسخہ		حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا گھر کے
250	ترک خواہش آدمی کو امیر بنا دیتی ہے	243	تمام کونوں میں آیت الکرسی پڑھنے کا معمول تھا
251	ایک عورت نے اپنا خواب حضور ﷺ کے سامنے بیان کیا	243	چند نصیحت آموز اشعار
	کھانے میں شیطانی تصرفات کے واقعات		فتنوں سے نہیں بلکہ گمراہ کرنے والے فتنوں سے

262	مسلمان کے دل کو چانگ خوش کرو	252	حقیقت پر مبنی ہیں
262	باخبر ہو کر بے خبر ہونا عبداللہ بن مبارک کی چھپی ہوئی نیکی	253	سورہ بقرہ کی آخری دو آیتوں کی عجیب و غریب فضیلت
	ابن مبارک <small>رضی اللہ عنہ</small> کئی لوگوں کو اپنے خرچے	254	مسلمان کو کپڑا پہنانے والا اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے
263	سے حج کراتے تھے		قرآن کی ایک دُعا جس کے ہر جملے کے جواب میں اللہ
	ابن مبارک <small>رضی اللہ عنہ</small> نے ایک ساتھی کو دروہرا اٹھا لکھا کہ	254	تعالیٰ فرماتے ہیں: ”میں نے قبول کیا، اچھا میں نے دیا“
263	تم خود مجنون ہو گئے جب کہ تم مجنوںوں کے معالج تھے		مرگی کی بیماری پر صبر کرنے والی خاتون کو حضور <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small>
264	ابن مبارک <small>رضی اللہ عنہ</small> کے استقبال کے لیے پورا شہر ٹوٹ پڑا	255	کی بشارت
264	خواص کے بگاڑ سے عوام میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے		قبر سے آواز آئی کہ اے عمر <small>رضی اللہ عنہ</small> خدا نے
264	کیا عورتیں مکرو فریب کی پیکر ہیں؟	255	مجھے دونوں جنتیں بخشیں ہیں
	دین میں زیادہ باریکیاں نکالنا کس کے لیے		دُنیا قیامت کے دن خطرناک بڑھیا کی
265	مناسب ہے اور کس کے لیے نامناسب	255	شکل میں لائی جائے گی
265	ایک پیچیدہ مقدمہ اور اس کا فیصلہ	256	یہ بتا کہ تجھ سے طوں کہاں؟
	یہودیوں کے شر سے بچنے کے لیے حضرت جبرئیل <small>علیہ السلام</small>	256	بے حقیقت نام
266	نے حضرت عیسیٰ <small>علیہ السلام</small> کو ایک دُعا سکھائی	257	آدمی محبت کا انجام
	کافر سات آیتوں میں کھاتا ہے اور مومن	257	نماز جنازہ دیکھو اور پڑھو
266	ایک آیت میں کھاتا ہے	258	نماز کب گناہوں سے روکتی ہے؟
267	فتنوں کے دور میں اُمت کو کیا کرنا چاہیے		جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر میں
	زبان کا عالم دل کا جاہل اس اُمت کے لیے	258	شیطان قدم نہیں رکھ سکتا
268	خطرناک ہے	260	ایک دُعا جس کا ثواب اللہ نے چھپا رکھا ہے
268	حضرت لقمان <small>علیہ السلام</small> کی حکمت کا عجیب قصہ	260	مجامعت کی رکاوٹ دور کرنے کے لیے مجرب عمل
268	ایک دینی پیشوا کی ایک گناہ کی وجہ سے گھر بیٹھے رسوائی	261	حضرت ابراہیم <small>علیہ السلام</small> کو خیل اللہ کا لقب کیوں ملا؟
	ایک دیہاتی کے بچوں کے سوالات اور	261	حضرت عبداللہ بن مبارک <small>رضی اللہ عنہ</small> کے احوال و اقوال
269	نبی کریم <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> کے جوابات		مہمان کے ساتھ جو کھانا کھایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ
271	اسمائے حسنیٰ کا تذکرہ	261	اس کا حساب نہیں لیتا
273	اسمائے حسنیٰ پڑھنے والوں کے لیے اہم ہدایات		صرف ایک قلم لوٹانے کے لیے ابن مبارک
274	صفات خداوندی کا جاننا کیوں ضروری ہے	261	نے سینکڑوں میل کا سفر کیا

289	الرَّافِعُ کے معنی اور اس کے خواص	275	اسمائے حسنیٰ کی تعداد اور ان کو یاد کرنے کا عظیم ترین فائدہ
289	الْمَعْرُوفُ کے معنی اور اس کے خواص	275	ترمذی شریف کی روایت اور اس کا ترجمہ
290	الْمُنِذِرُ کے معنی اور اس کے خواص	277	اسمائے حسنیٰ کے معانی و خواص
290	السَّيِّدُ کے معنی اور اس کے خواص	277	اللہ کے معنی اور اس کے خواص
290	الْبَصِيرُ کے معنی اور اس کے خواص	278	الرَّحْمَنُ کے معنی اور اس کے خواص
291	الْحَكِيمُ کے معنی اور اس کے خواص	278	الرَّحِيمُ کے معنی اور اس کے خواص
291	الْعَدْلُ کے معنی اور اس کے خواص	279	الْمَلِكُ کے معنی اور اس کے خواص
291	الْكَافِرُ کے معنی اور اس کے خواص	279	الْقُدُّوسُ کے معنی اور اس کے خواص
292	الْخَبِيرُ کے معنی اور اس کے خواص	280	السَّلَامُ کے معنی اور اس کے خواص
292	الْحَلِيمُ کے معنی اور اس کے خواص	280	الْمُؤْمِنُ کے معنی اور اس کے خواص
293	الْعَظِيمُ کے معنی اور اس کے خواص	281	الْمُهَيَّبُ کے معنی اور اس کے خواص
293	الْمَغْفُورُ کے معنی اور اس کے خواص	281	الْعَزِيزُ کے معنی اور اس کے خواص
293	الشَّكُورُ کے معنی اور اس کے خواص	282	الْمُجِيبُ کے معنی اور اس کے خواص
294	الْعَلِيُّ کے معنی اور اس کے خواص	282	الْمُتَكَبِّرُ کے معنی اور اس کے خواص
294	الْمَكْبُورُ کے معنی اور اس کے خواص	283	الْخَالِقُ کے معنی اور اس کے خواص
295	الْحَفِيفُ کے معنی اور اس کے خواص	283	الْمُبَارِكُ کے معنی اور اس کے خواص
295	الْمُعْتَمِدُ کے معنی اور اس کے خواص	284	الْمُصَوِّرُ کے معنی اور اس کے خواص
296	الْحَسِيبُ کے معنی اور اس کے خواص	284	الْمُغْفَرُ کے معنی اور اس کے خواص
296	الْجَلِيلُ کے معنی اور اس کے خواص	284	الْمُهَيَّبُ کے معنی اور اس کے خواص
297	الْمَكْرِيمُ کے معنی اور اس کے خواص	285	الْوَهَّابُ کے معنی اور اس کے خواص
297	الرَّقِيبُ کے معنی اور اس کے خواص	286	الرِّزَّاقُ کے معنی اور اس کے خواص
297	الْمُجِيبُ کے معنی اور اس کے خواص	286	الْقَتَّاعُ کے معنی اور اس کے خواص
298	الْوَاسِعُ کے معنی اور اس کے خواص	287	الْعَلِيمُ کے معنی اور اس کے خواص
298	الْحَكِيمُ کے معنی اور اس کے خواص	287	الْقَابِضُ کے معنی اور اس کے خواص
298	الْوَدُودُ کے معنی اور اس کے خواص	288	الْبَاسِطُ کے معنی اور اس کے خواص
299	الْمَجِيدُ کے معنی اور اس کے خواص	288	الْخَانِضُ کے معنی اور اس کے خواص



311	الْبَاطِنُ کے معنی اور اس کے خواص	299	الْبَاطِنُ کے معنی اور اس کے خواص
312	الْوَالِيُّ کے معنی اور اس کے خواص	300	الشَّهِيدُ کے معنی اور اس کے خواص
312	الْمُتَعَالِيُّ کے معنی اور اس کے خواص	300	الْحَقُّ کے معنی اور اس کے خواص
313	الْبِرُّ کے معنی اور اس کے خواص	300	الْوَكِيلُ کے معنی اور اس کے خواص
313	التَّوَابُ کے معنی اور اس کے خواص	301	الْقَوِيُّ کے معنی اور اس کے خواص
314	الْمُنْتَقِمُ کے معنی اور اس کے خواص	301	الْمَتِينُ کے معنی اور اس کے خواص
314	الْعَفْوُ کے معنی اور اس کے خواص	302	الْوَكِيُّ کے معنی اور اس کے خواص
314	الرِّءُوفُ کے معنی اور اس کے خواص	302	الْحَمِيدُ کے معنی اور اس کے خواص
315	مَالِكُ الْمَلِكِ کے معنی اور اس کے خواص	303	الْمُحْصِيُّ کے معنی اور اس کے خواص
315	ذُو الْجَلَلِ وَالْإِكْرَامِ کے معنی اور اس کے خواص	303	الْمُبْدِيُّ کے معنی اور اس کے خواص
315	الْمُقِطُ کے معنی اور اس کے خواص	304	الْمُعِيدُ کے معنی اور اس کے خواص
316	الْجَامِعُ کے معنی اور اس کے خواص	304	الْمُحْيِيُّ کے معنی اور اس کے خواص
316	الْغَيْبِيُّ کے معنی اور اس کے خواص	305	الْمُهَيْتُ کے معنی اور اس کے خواص
317	الْمَغْنِيُّ کے معنی اور اس کے خواص	305	الْحَيُّ کے معنی اور اس کے خواص
317	الْمَانِعُ کے معنی اور اس کے خواص	305	الْقَيُّومُ کے معنی اور اس کے خواص
318	الضَّارُّ کے معنی اور اس کے خواص	306	الْوَاجِدُ کے معنی اور اس کے خواص
318	الْمَنَافِعُ کے معنی اور اس کے خواص	306	الْمَاجِدُ کے معنی اور اس کے خواص
319	النُّورُ کے معنی اور اس کے خواص	307	الْأَحَدُ کے معنی اور اس کے خواص
319	الْهَادِيُّ کے معنی اور اس کے خواص	307	الْمُصَدِّقُ کے معنی اور اس کے خواص
320	الْبَدِيحُ کے معنی اور اس کے خواص	308	الْقَائِدُ کے معنی اور اس کے خواص
320	الْبَاقِيُّ کے معنی اور اس کے خواص	308	الْمُقْتَدِرُ کے معنی اور اس کے خواص
321	الْوَارِثُ کے معنی اور اس کے خواص	309	الْمُقَدِّمُ کے معنی اور اس کے خواص
321	الرَّشِيدُ کے معنی اور اس کے خواص	309	الْمُؤَيَّرُ کے معنی اور اس کے خواص
321	الْمُصَبِّرُ کے معنی اور اس کے خواص	310	الْأَوَّلُ کے معنی اور اس کے خواص
323	کر خاتمہ سب کا ایمان پر	310	الْآخِرُ کے معنی اور اس کے خواص
324	آپ ﷺ کی ہوگی سب کو ضرورت	311	الظَّاهِرُ کے معنی اور اس کے خواص

## تقریظ

مفسر قرآن، محدث کبیر، فقیہ انفس  
حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری دامت برکاتہم  
استاذ حدیث دارالعلوم دیوبند اور شارح حجۃ اللہ البالغہ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ، وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ  
أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ!

”بکھرے موتی“ میں جناب مکرم مولانا محمد یونس صاحب پالن پوری نے گلہائے رنگ رنگ جن کر حسین گل دستہ تیار کیا ہے۔ یہ کتاب مولانا زید محمد ہم کاشکول ہے۔ اس میں آپ نے قیمتی موتی اکٹھے کئے ہیں۔ ایک حسین دسترخوان ہے جس پر انواع واقسام کے لذیذ کھانے چنے گئے ہیں۔ اس کتاب میں جہاں تفسیری فوائد و نکات ہیں، حدیثی نصح و ارشادات بھی ہیں۔ دعوتی اور تبلیغی چاشنی لیے ہوئے صحابہ اور بعد کے اکابر کے واقعات بھی ہیں، جن سے دل جلد اثر پذیر ہوتا ہے۔ نیز ایسی دعائیں بھی شامل کتاب کی گئی ہیں جو ایک گونہ عملیات کارنگ لیے ہوئے ہیں۔ اس طرح کتاب بہت دلچسپ بن گئی ہے۔

نیز مولانا مفتی محمد امین صاحب پالن پوری استاذ حدیث و فقہ دارالعلوم دیوبند کی نظر ثانی نے اس کی اعتباریت میں اضافہ کیا ہے، گویا کتاب میں چار چاند لگائے ہیں۔ اس لیے امید ہے کہ کتاب لوگوں کے لیے بے حد مفید ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں اور مصنف کے لیے ذخیرہ آخرت بنائیں اور امت کو اس سے فیض یاب بنائیں۔

والسلام سعید احمد عفا اللہ عنہ پالن پوری

خادم دارالعلوم دیوبند

۱۶/صفر ۱۴۲۶ھ

☆.....☆☆☆.....☆

## تعارف و تبصرہ

— از —

### حضرت مولانا شمس الحق صاحب ندوی زید مجدہم

مولانا محمد یونس صاحب پالن پوری، دعوت و تبلیغ کے نامور خطیب و دعاغظ حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری (جنہوں نے اپنی پوری عمر دعوت و تبلیغ کے لیے وقف فرمادی تھی، جو حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاص تربیت یافتہ تھے، اور حضرت جی کی وفات کے بعد تو بڑے اجتماعات کو عموماً مولانا ہی خطاب فرماتے تھے، مولانا کی تقریر بڑی موثر اور عام فہم ہوتی تھی، دعا بھی طویل فرماتے تھے، مولانا یونس صاحب انہیں) کے فرزند ارجمند ہیں اور مولانا کی وفات کے بعد اپنے وقت کا بڑا اہم مرکز نظام الدین میں گزارتے ہیں، مولانا کو مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت و خلافت کا شرف بھی حاصل ہے جس کی وجہ سے حضرت کی تصنیفات کا بھی ذوق و شوق کے ساتھ مطالعہ فرماتے ہیں۔ بڑے اجتماعات میں شرکت کا پورا اہتمام رہتا ہے، جس وقت یہ سطریں لکھی جاتے ہیں دو اہم اجتماعات میں شرکت کے بعد اس وقت یعنی ۱۹/ ذی الحجہ کو عشق و سرمستی کے عالم میں عرفات میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ حج مبرور نصیب فرمائے، یہ ایک دور افتادہ کی دعا ہے۔ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔

مولانا اپنی تقاریر میں احادیث شریفہ اور تقاریر اور بزرگوں کے تذکروں میں مذکور موثر واقعات و حکایات اور نصائح و حکم کو بیان کرتے اور سامعین کے دلوں کو گرماتے اور دینی غیرت و حمیت کو جگاتے ہیں۔ مولانا عرصہ سے ایسے موثر واقعات تعلیمات اور بعض ضروری مسائل و فتاویٰ کی بیاض بھی تیار کرتے جاتے ہیں جو واقعی بکھرے موتیوں کا بڑا خوبصورت و دلکش ہار ہے، جو پڑھنے والے کے دل کو کھینچتا ہے اور روح کو بالیدگی عطا کرتا ہے۔ خصوصاً رمضان المبارک میں مولانا موصوف کا تراویح کے بعد بمبئی میں دو جگہ وعظ اور تفسیر قرآن پاک بیان کرنے کا معمول ہے، جس کا سلسلہ بارہ بجے رات تک جاری رہتا ہے اور اختتام گلوگیر آواز میں طویل دعا پڑھتا ہے۔ لوگوں نے دو در دو کنکشن لے رکھے ہیں جس سے گھروں میں مستورات بھی شوق کے ساتھ مولانا کے موثر وعظ کو سنتی ہیں، ان تقریروں اور بیان میں مولانا انہیں بکھرے موتیوں کو موقع و مناسبت سے زینت بیان و تقریر بناتے جاتے ہیں، جو اب کتابی شکل میں آگئے ہیں، ان بکھرے موتیوں کا مطالعہ بڑا مفید اور دل کو گرمانے والا ہے، زبان و بیان آسان و رواں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچائے۔ (تفسیر حیات۔ ۲۵/ جنوری ۲۰۰۵ء صفحہ ۲۶)

☆.....☆☆☆.....☆

## تقریظ

مولانا مفتی محمد امین صاحب پالن پوری  
استاذ حدیث و فقہ دارالعلوم دیوبند

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ، أَمَّا بَعْدُ!

مولانا محمد یونس صاحب پالن پوری، حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری قدس سرہ کے بڑے صاحبزادے ہیں، موصوف نے ۱۲۹۳ ہجری مطابق ۱۹۷۳ء میں مظاہر علوم سہارن پور سے علوم متداولہ سے فراغت حاصل کی ہے، طالب علمی کے زمانے سے آپ کا محبوب مشغلہ اسلاف و اکابر کی کتابوں کا مطالعہ اور پسندیدہ باتوں کو کاپی میں محفوظ کرنا ہے۔

علوم متداولہ سے فراغت کے بعد ایک طویل عرصہ تک والد محترم کے زیر سایہ دعوت و تبلیغ کے کام میں شب و روز لگے رہے، اور والد محترم کے اوصاف و کمالات کو جذب کرتے رہے، جن حضرات نے حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری قدس سرہ کے بیانات سنے ہیں اور ان کو قریب سے دیکھا ہے، وہ اس بات کی کھلے دل سے گواہی دیں گے کہ مولانا محمد یونس صاحب زید مجدہم اخلاق و عادات اور اوصاف و کمالات میں عمر ثانی ہیں۔

دعوت و تبلیغ کے کام سے مولانا زید مجدہم جو دلچسپی رکھتے ہیں وہ اظہار من الشمس ہے، اور رمضان المبارک میں تراویح کے بعد بسینے میں موصوف کے جو بیانات ہوتے ہیں ان سے آپ کی علوم قرآن کے ساتھ مناسبت عیاں ہے۔ ہزاروں آدمی اپنے گھروں میں نکلشن صرف مولانا کے بیانات سننے کے لیے رکھتے ہیں۔ اس طرح مردوں کے ساتھ مستورات بھی آپ کے بیانات سے خوب استفادہ کرتی ہیں۔ دوسری طرف مولانا زید مجدہم ان پسندیدہ باتوں کو جو آپ طالب علمی کے زمانے سے اب تک منتخب و محفوظ فرما رہے ہیں ”بکھرے موتی“ کے نام سے شائع فرما کر پوری امت مسلمہ کو فیض پہنچا رہے ہیں، بلاشبہ یہ کتاب اسم بامسئسی ہے، جو خوش قسمت اس کو دیکھتا ہے، ختم کئے بغیر دم نہیں لیتا۔

اس کتاب کے دو حصے نظر ثانی اور مفید اضافوں کے بعد شائع ہو چکے ہیں اور اب تیسرا حصہ پہلی بار ”مکتبہ مدینہ“ سے شائع ہو رہا ہے۔ اس حصے کے تمام مضامین نہایت قیمتی ہیں، خصوصاً اسمائے حسنیٰ کے تعلق سے موصوف نے بڑی کارآمد باتیں جمع کر دی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کتاب کو امت کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ بنائے اور موصوف کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین!

محمد امین پالن پوری  
خادم حدیث و فقہ دارالعلوم دیوبند  
۱۵/رجب ۱۴۲۶ ہجری

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

## حمد باری تعالیٰ

تو اخلاقی جہاں یا رب! ہے مخلوق آسمان تیرا  
فلک پر صوفشاں وہ کاروان کہکشاں تیرا  
طیوران چمن تیرے ، نظام گلستان تیرا  
بہر سو ہیں تیرے جلوے، ہر ایک شے میں نشاں تیرا  
وحوشِ دشت کی یارتِ زباں پر ہے بیاں تیرا  
اُجالا ظلمتوں میں ہر طرف ہے صوفشاں تیرا  
حقیقت یہ ہے کہ بے شک عیاں تیرا نہاں تیرا  
گلوں میں خار بھی پایا گیا تسبیحِ خواں تیرا  
تیری رحمت میری کشتی ہے بحرِ بے کراں تیرا  
بیاں ہو وصف کیسے اے کمین لامکاں تیرا  
میر دید آقا نام ہو وردِ زباں تیرا

زمین تیری زماں تیرا ، ہے امر کن فکاں تیرا  
شجر تیرے ثمر تیرے ہے اور آبِ رواں تیرا  
تو متاعِ گل خنداں ، گلوں میں بوئے گل تیری  
بہر گوشہ بہر جانب تجلی عام ہے تیری  
ہیں اوصاف و ثناء تیرے لبِ خارِ بیاباں پر  
درخشاں کوکب و شمس و قمر ہیں نور سے تیرے  
تو پوشیدہ میں ہے ظاہر ، تو ظاہر میں ہے پوشیدہ  
ثناء خواں صرف گلشن میں عنا دل ہی نہیں تیرے  
حوادثِ موج و طوفان و بھنور گرداب ہیں تیرے  
قلم میں ہے نہ وہ قوت ، زباں میں ہے نہ وہ طاقت  
بوقتِ مرگ راغب ہے یہ تجھ سے التجا یارت

لُغَات:

حمد: تعریف..... امر: حکم، فرمان..... کُنْ فِکَانَ: ہو جا تو ہو گیا (اس میں اس آیت کی طرف اشارہ ہے: ﴿وَإِنَّا قَطَطْنَا مَرِأً فَآلَمْنَا بِقَوْلٍ لَّهٗ كُنْ فِکَانَ﴾ (سورہ بقرہ: ۱۱۷) اور جب حکم کرتا ہے تو کسی کام کا تو یہی فرماتا ہے کہ ہو جا، پس ہو جاتا ہے)..... خَلَّاقِ جہاں: دنیا کو پیدا کرنے والا..... شَجَرٌ: درخت..... شَمْرٌ: پھل..... آبِ رواں: بہتا ہوا پانی..... فَلَکٌ: آسمان..... صوفشاں: روشن، روشنی دینے والا..... کارواں: قافلہ..... کہکشاں: باریک باریک ستاروں کی لمبی سفیدی جو آسمان پر رات کے وقت لمبی گلی کے مانند معلوم ہوتی ہے..... متاع: پونجی..... گل خنداں: کھلا ہوا پھول..... بوئے گل: پھول کی خوشبو..... طیورانِ چمک: باغ کے پرندے..... تجلی: روشنی، چمک، جلوہ..... جَلْوَةٌ: روشن..... شے: چیز..... اوصاف: خوبیاں..... ثناء: تعریف..... لب: ہونٹ..... خارِ بیاباں: جنگل کے کانٹے..... وحوشِ دشت: جنگلی جانور..... درخشاں: چمکتا ہوا، روشن..... کوکب: ستارہ..... شمس: آفتاب، سورج..... قمر: چاند..... عیاں: ظاہر، کھلا ہوا..... نہاں: پوشیدہ، چھپا ہوا..... ثنا خواں: تعریف کرنے والا..... گلشن: چمن، باغ..... عتادل: بلبلیں..... خار: کاٹنا..... تسبیحِ خواں: پاکی بیان کرنے والا..... بحرِ بے کراں: نہایت وسیع سمندر..... کمین لامکان: ایسا مالک جو کسی جگہ میں نہیں یعنی اللہ تعالیٰ..... مرگ: موت..... راغب: شاعر کا نام ہے..... التجاء: گزارش، درخواست..... مہمسر: دستیاب، حاصل..... دید آقا: خدا تعالیٰ کا دیدار..... وردِ زباں: زباں پر چڑھا ہوا، وہ بات جو ہر وقت زباں پر جاری رہے۔ (محمد امین پالن پوری)

## مناجاتِ باری تعالیٰ

ہے سفر لبا، نہیں دامن میں کچھ نقد عمل اے خدائے عزوجل  
 آدمیت کی حدوں سے جا رہا ہے یہ نکل، اے خدائے عزوجل  
 موت بڑھتی آرہی ہے لمحہ لمحہ، پل بہ پل، اے خدائے عزوجل  
 دور اپنے آپ سے ہونے لگا ہے آج کل، اے خدائے عزوجل  
 بے یقینی کو مرے ایمان کامل سے بدل، اے خدائے عزوجل  
 ذہن ہے مفلوج، جذبات و احساسات شل، اے خدائے عزوجل  
 جی دیار ہند میں لگتا نہیں ہے آج کل، اے خدائے عزوجل  
 ابرہہ والے ہیں پھر آمادہ شر آج کل، اے خدائے عزوجل  
 اور ہوتی بھی رہی کوتاہی فکر و عمل، اے خدائے عزوجل  
 تو نے دی ہے جو نقاہت تو ہی دے گا مجھ کو بل، اے خدائے عزوجل  
 ہیں سدا محو ثنا ارض و سما، دشت و جبل، اے خدائے عزوجل

دھل گیا دن زندگی کا آگنی شام اجل، اے خدائے عزوجل  
 آدمی ہی آدمی کو کر رہا ہے اب ذلیل، اے میرے رب جلیل  
 ہوتے ہوتے زندگی ساری کی ساری کٹ گئی بے عمل آگہی  
 آدمی مختار بھی ہے آدمی مجبور بھی، پاس بھی ہے دور بھی  
 دولت علم و یقین سے مجھ کو مالا مال کر، مجھے خوشحال کر  
 بند ہیں سوچوں کے دروازے، درتے پچے فکر کے یا الہی کھول دے  
 ہو سفر کے کا منزل ہو مدینہ آخری، آرزو ہے ایک یہی  
 بھیج دے ایک بار ابا بیلوں کا لشکر بھیج دے، اپنے کعبے کے لیے  
 میں نے پابندی ہمیشہ تیرے احکام کی کی ہے، اور دن رات کی  
 میری ہمت، میری قوت جو بھی کچھ ہے سب تیرا، کچھ نہیں اس میں میرا  
 کیا کرے تیری ثنا؟! ہے راہی بے نقط و نوا، اس کی پھر اوقات کیا؟

لغات:

مناجات: دعا، وہ نظم جس میں خدا کی تعریف اور اپنی عاجزی کا اظہار کر کے دعا مانگی جائے..... اجل: موت، قضا..... ذلیل:  
 رسوا..... جلیل: بزرگ..... بے آگہی: بے خبری..... دریچہ: چھوٹا دروازہ، کھڑکی..... مفلوج: بے حس..... شل: بے حس..... نقاہت:  
 کمزوری..... بل: طاقت..... راہی: شاعر کا تخلص ہے..... نطق: گویائی..... نوا: آواز، صدا..... اوقات: حیثیت..... سدا: ہمیشہ ہر وقت  
 ..... محو ثنا: تعریف میں منہمک..... ارض: زمین..... سما: آسمان..... دشت: جنگل..... جبل: پہاڑ۔ (محمد امین پالن پوری)

☆☆☆.....☆

## (۱) پریشانیوں سے نجات کا نبوی نسخہ

حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص کسی مصیبت یا پریشانی میں گرفتار ہو اُسے چاہیے کہ اذان کے وقت مختصر رہے اور اذان کا جواب دینے کے بعد مندرجہ ذیل دعاء پڑھے اور اس کے بعد اپنی حاجت اور خوش حالی کی دعا کرے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ دعائے مبارک یہ ہے:

(اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ الصَّادِقَةِ الْمُسْتَجَابِ لَهَا دَعْوَةُ الْحَقِّ وَكَلِمَةُ الْعَقُولِ أَحِبَّنَا عَلَيْهَا وَآمِنْنَا عَلَيْهَا وَابْعَثْنَا عَلَيْهَا وَاجْعَلْنَا مِنْ بَحْبَاهِ أَهْلِهَا أَحْيَاءَ وَأَمْوَاتًا) (حسن حسن ص ۱۱۸)

## (۲) زبان کی تیزی کا نبوی علاج

ابونعیم نے حلیہ میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی یہ روایت نقل کی ہے کہ میں نے حضور اکرم ﷺ سے اپنی زبان کی تیزی کی شکایت کی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: تم استغفار سے کہاں غفلت میں پڑے ہو؟! میں تو روزانہ سو (۱۰۰) مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ ابونعیم کی دوسری روایت میں ہے کہ میں نے حضور اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میری زبان گھروالوں کے بارے میں تیز ہو جاتی ہے جس سے مجھے ڈر ہے کہ یہ مجھے آگ میں داخل کر دے گی، آگے تجھلی حدیث جیسا مضمون ذکر کیا ہے کہ ”میں روزانہ سو (۱۰۰) مرتبہ استغفار کرتا ہوں، تم بھی استغفار کرو! استغفار کی کثرت سے زبان کی تیزی زائل ہو جائے گی۔ (حیاۃ الصحابہ جلد ۳ صفحہ ۲۳۹)

## (۳) نیت میں بھی اجر ہے

ایک صاحب نے گھر تعمیر کروایا اور اس میں روشن دان بھی رکھے، پھر اپنے گھر ایک بزرگ کو حصول برکت اور دعا کی غرض سے لے گئے۔ بزرگ نے پوچھا: مکان میں روشن دان کیوں بنوائے؟ انہوں نے جواب دیا ان کے ذریعہ روشنی اندر آتی ہے۔ بزرگ نے کہا یہ نیت کیوں نہ کی کہ اس کے ذریعہ اذان کی آواز آئے گی، روشنی اور ہوا تو یوں ہی آ جاتی ہے۔ (حکایات دہلی صفحہ ۸۹)

## (۴) سب سے زیادہ محبوب عمل

حضرت عصمہ رضی اللہ عنہا کہتے ہیں کہ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عمل سُبْحَةُ الْحَدِيثِ ہے، اور اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند عمل تحریف ہے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ سُبْحَةُ الْحَدِيثِ کیا ہے؟ فرمایا: سُبْحَةُ الْحَدِيثِ یہ ہے کہ لوگ باتیں کر رہے ہوں اور ایک آدمی تسبیح و تہلیل اور اللہ کا ذکر کر رہا ہو۔ پھر ہم نے پوچھا: یا رسول اللہ ﷺ تحریف کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: تحریف یہ ہے کہ لوگ خیریت سے ہوں، اچھے حال میں ہوں اور کوئی پڑوسی یا ساتھی پوچھے تو یوں کہہ دے کہ ہم برے حال میں ہیں۔ حضرت ابو اور لیس خولانی رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تم لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہو تو لوگ لامحالہ باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ لہذا جب تم دیکھو کہ لوگ اللہ سے غافل ہو گئے ہیں تو تم اس وقت اپنے رب کی طرف پورے ذوق و شوق سے متوجہ ہو جاؤ۔ ولید راوی کہتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمن بن یزید بن جابر رضی اللہ عنہ کے سامنے اس حدیث کو ذکر کیا گیا تو انہوں نے کہا یہ بات ٹھیک ہے اور مجھے حضرت ابو طلحہ حکیم بن دینار رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہا کرتے تھے کہ مقبول دعا کی نشانی یہ ہے کہ جب تم لوگوں کو غافل دیکھو تو اس وقت تم اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ (حیاۃ الصحابہ جلد ۳ صفحہ ۲۳۳)

### (۵) بازار میں بھی دعا قبول ہوتی ہے

حضرت ابو قتلابہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: بازار میں دو آدمیوں کی آپس میں ملاقات ہوئی، ایک نے دوسرے سے کہا لوگ اس وقت (اللہ سے) غافل ہیں، آؤ! ہم اللہ سے مغفرت طلب کریں۔ چنانچہ ہر ایک نے ایسا کیا، پھر دونوں میں سے ایک کا انتقال ہو گیا۔ دوسرے دن اسے خواب میں دیکھا تو اس نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ جب شام کو بازار میں ہماری ملاقات ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت ہماری مغفرت کر دی تھی۔ (حیاء الصحابہ جلد ۳ صفحہ ۳۳۳)

### (۶) جنات کے شر سے حفاظت کا بہترین نسخہ

حضرت عبداللہ بن یسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں خمس سے چلا اور رات کو زمین کے ایک خاص کلمے میں پہنچا تو اس علاقہ کے جنات میرے پاس آ گئے اس پر میں نے سورہ اعراف کی یہ آیت آخر تک پڑھی:

﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا، وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسْتَخِرَاتٍ مِّمَّ بِأَمْرِهِ، أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ، تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾

(سورہ اعراف: آیت ۵۴)

اس پر ان جنات نے ایک دوسرے سے کہا، اب تو صبح تک اس کا پہرہ دو (چنانچہ انہوں نے ساری رات میرا پہرہ دیا) صبح کو میں سواری پر سوار ہو کر وہاں سے چل دیا۔ (حیاء الصحابہ جلد ۳ صفحہ ۳۲۶)

### (۷) اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ

حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا: سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ حج اور سورہ نور ضرور سیکھو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو اعمال فرض کیے ہیں وہ سب ان سورتوں میں مذکور ہیں۔

حضرت حارث بن مغرب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہمیں خط میں یہ لکھا کہ سورہ نساء، سورہ احزاب اور سورہ نور سیکھو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: سورہ برأت سیکھو اور اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ اور انہیں چاندی کے زیور پہناؤ۔ (حیاء الصحابہ جلد ۳ صفحہ ۳۶۰)

### (۸) شادی سادی ہونی چاہیے

حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ہم لوگ طواف کر رہے تھے، میں نے طواف کے دوران حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو ان کی بیٹی سے شادی کا پیغام دیا تو وہ خاموش رہے اور میرے پیغام کا کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے کہا: اگر یہ راضی ہوتے تو کوئی نہ کوئی جواب ضرور دیتے۔ اب اللہ کی قسم! میں ان سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کروں گا۔ اللہ کی شان وہ مجھ سے پہلے مدینہ واپس پہنچ گئے۔ میں بعد میں مدینہ آیا۔ چنانچہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں داخل ہوا اور جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کرنے کی کوشش کی۔ پھر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے خوش آمدید کہا اور فرمایا کب آئے ہو؟ میں نے کہا: ابھی پہنچا ہوں۔ انہوں نے فرمایا: ہم لوگ طواف کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں کے سامنے ہونے کا دھیان جماد ہے تھے، اُس وقت تم نے مجھے سے (میری بیٹی) سوہ بنت عبداللہ کا ذکر کیا تھا، حالانکہ تم مجھ سے اس بارے میں کسی اور جگہ بھی مل سکتے تھے۔ میں نے کہا: ایسا ہونا مقدر تھا، اس لیے ایسا ہو گیا۔ انہوں نے فرمایا: اب تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے



کہا: اب تو پہلے سے بھی زیادہ تقاضا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں حضرت سالم اور حضرت عبداللہ کو بلا کر میری شادی کر دی۔  
(حیاء الصغیرہ جلد ۲ صفحہ ۲۵۲)

### (۹) ایک تاریخی شادی

ایک باپ جب اپنی لڑکی کو کسی کے حوالے کرتا ہے تو یہ اس کے لیے نازک ترین وقت ہوتا ہے، اس کا اندازہ شاید وہی لوگ کر سکتے ہیں جو خود اس تجربے سے گزرنے ہوں۔ بڑے بڑے لوگوں کے قدم اس مقام پر آ کر پھسل جاتے ہیں۔

ان حالات میں بظاہر یہ ناممکن معلوم ہوتا ہے کہ ایک باپ اپنی لڑکی کے نکاح کے لیے امیر کبیر شہزادے کے بجائے ایک غریب طالب علم کو پسند کرے۔ موجودہ زمانے میں تو اس کو سوچا بھی نہیں جاسکتا۔ مگر تاریخ کا ایک دور ایسا بھی گزرا ہے جب یہ ناممکن چیز نہ تھی بلکہ وقوع پر آئی تھی۔ سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ ایک جلیل القدر تابعی گزرے ہیں۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دوسرے سال مدینہ کے ایک صحابی کے گھر میں پیدا ہوئے، اور پچھتر (۷۵) برس کی عمر میں ۹۴ ہجری میں انتقال فرمایا:

سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کو بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فیض حاصل کرنے کا موقع ملا۔ مشہور حافظ حدیث صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان کے خسر تھے۔ اس وجہ سے خصوصیت کے ساتھ ان سے استفادہ کا موقع ملا۔ چنانچہ سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کی مرویات کا بڑا حصہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی کی احادیث پر مشتمل ہے، وہ اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ اور عالم تھے۔ میمون بن مہران رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں جب مدینہ گیا اور وہاں کے سب سے بڑے فقیہ کو پوچھا تو لوگوں نے مجھے سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچا دیا۔ ابن حبان کے الفاظ ہیں: ”وہ تمام اہل مدینہ کے سردار تھے۔“ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ جیسے بزرگ کو جب کسی مسئلہ میں اشکال پیش آتا تو وہ ان کے پاس لکھ بیٹھتے تھے۔ زہد و تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے آپ کے بارے میں فرمایا: ”اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو دیکھتے تو بہت خوش ہوتے۔“ نماز باجماعت کا اتنا اہتمام تھا کہ چالیس سال تک ایک وقت کی بھی نماز باجماعت نماندہ نہیں ہوئی۔ مدینہ کی تاریخ میں ”حرہ“ کا واقعہ نہایت مشہور واقعہ ہے۔ یہ واقعہ یزید اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کے اختلاف کے زمانے میں پیش آیا۔ اہل مدینہ نے جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی حمایت میں عبداللہ بن حظلہ رضی اللہ عنہ کو سردار بنا کر یزید کی بیعت توڑ دی، اس وقت یزید کی فوجیں تین دن تک برابر مدینہ الرسول میں قتل عام کرتی رہیں اور اس کو لوٹتی رہیں۔ اس پر آشوب زمانہ میں کوئی شخص گھر سے باہر قدم رکھنے کی ہمت نہ کرتا تھا۔ مسجدوں میں بالکل سناٹا رہتا تھا۔ ایسے نازک وقت میں بھی سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ مسجد ہی میں جا کر نماز پڑھتے تھے۔ لوگ انہیں دیکھ کر کہتے: ”ذرا اس بوڑھے مجنون کو دیکھو کہ اس حالت میں بھی مسجد نہیں چھوڑتا۔“

اموی حکومت کا بانی مروان بن حکم اپنے بعد علی الترتیب عبدالملک اور اس کے بھائی عبدالعزیز کو خلیفہ بنا گیا تھا۔ مروان کے بعد عبدالملک کی نیت میں فتور ہوا۔ اس نے عبدالعزیز کو ولی عہدی سے خارج کر کے اپنے لڑکوں ولید اور سلیمان کو ولی عہد بنانا چاہا، لیکن پھر قبیعہ بن ذویب کے سمجھانے سے رُک گیا۔ عبدالملک کی خوش قسمتی کہ جلد ہی عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا۔

اب عبدالملک کے لیے میدان صاف تھا اس نے ولید اور سلیمان کو ولی عہد بنا کر ان کی بیعت کے لیے صوبیداروں کے نام فرمان جاری کر دیئے۔ ہشام بن اسماعیل جو مدینہ کا ولی تھا، اس نے اہل مدینہ سے بیعت کے لیے سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ انہوں نے جواب دیا: ”میں عبدالملک کی زندگی میں دوسری بیعت نہیں کر سکتا۔“

یہ ایک بہت سنگین معاملہ تھا، کیونکہ سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کی مخالفت کے معنی یہ تھے کہ مدینہ سے ایک بھی ہاتھ بیعت کے لیے نہ بڑھے۔ چنانچہ ہشام نے سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کو کوڑے سے پٹوایا اور ان کو سخت سزائیں دیں۔ اس کے بعد ابو بکر بن عبدالرحمن کو ان سے گفتگو کے لیے بھیجا گیا۔ واپسی کے بعد ہشام نے پوچھا: ”کیا سعید مار کے بعد کچھ نرم پڑے؟“ ابو بکر نے جواب دیا: ”تمہارے اس سلوک کے بعد خدا کی قسم وہ پہلے سے زیادہ سخت ہو گئے ہیں، اپنا ہاتھ روک لو۔“

اب عبدالملک نے تدبیر سوچی اور جو شخص کوڑوں کی مار سے راضی نہیں ہوا تھا، اس کو دنیا کے لالچ سے رام کرنے کا منصوبہ بنایا۔ سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کی ایک لڑکی جو صورت اور سیرت دونوں میں بہت ممتاز تھی اور اس کے ساتھ اعلیٰ تعلیم (یاقتہ) بھی تھی۔ اس نے سوچا کہ ولی عہد سے اس کا نکاح کر کے اس کو اپنی بہو بنا لے۔ اس طرح باپ خود نرم پڑ جائے گا۔ اس نے امیر مدینہ ہشام بن اسماعیل المخزومی (جو سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کے عزیز بھی تھے) کے ذمہ سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کو راضی کرنے کا کام سپرد کیا۔

ہشام کو اپنی ناکامی کی پوری امید تھی لیکن خلیفہ کے حکم کی تعمیل میں سعید بن مسیب رحمۃ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے لیکن ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ اس کے بعد کہا: ”جیسا کہ آپ کو علم ہے، عبدالملک بن مروان نے اپنے دونوں بیٹوں ولید اور سلیمان کے لیے عوام سے بیعت لینے کا ارادہ کیا ہے، بیعت لینے سے قبل امیر المومنین یہ بھی چاہتے ہیں کہ ولید کو آپ اپنی دامادی کا شرف بخشیں۔“ یہ سنتے ہی سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کے چہرے کا رنگ غصہ سے متغیر ہو گیا۔ انہوں نے کہا: ”مجھے ان دونوں میں سے کچھ بھی منظور نہیں۔“

اس انکار کے نتیجے میں سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کو دوبارہ مختلف قسم کی سختیاں جھیلنی پڑیں اور طرح طرح سے ان پر دباؤ ڈالے گئے، مگر وہ اپنے انکار پر برابر قائم رہے۔ اور دوسری طرف یہ سوچتے رہے کہ کوئی مناسب رشتہ سامنے آئے تو لڑکی کا عقد کر دیا جائے، اس کے بعد قریش کے ایک گنہگار اور غریب آدمی ابو دواعہ کے ساتھ اس کی شادی کر دی۔

مشہور مؤرخ ابن خلکان نے خود ابو دواعہ کی زبانی یہ واقعہ نہایت تفصیل سے نقل کیا ہے۔ جس کا ترجمہ حسب ذیل ہے: ”میں سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کے حلقہ میں پابندی سے بیٹھا کرتا تھا، ایک مرتبہ کچھ مدت تک حاضر نہ ہوسکا۔ اس کے بعد جب گیا تو انہوں نے پوچھا اتنے دنوں تم کہاں تھے؟ میں نے جواب دیا کہ میری بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے حاضر نہ ہوسکا۔ انہوں نے کہا: پھر ہمیں کیوں نہ تم نے خبر کی؟ ہم بھی اس جھنجھوٹے غم میں شریک ہوتے۔ اس کے بعد جب میں اٹھنے لگا تو انہوں نے کہا: تم نے دوسری بیوی کا کوئی انتظام کیا۔ میں نے کہا: خدا آپ پر رحم فرمائے، کون مجھ سے ساتھ شادی کرے گا جبکہ میں دو چار درہم سے زیادہ کی حیثیت کا آدمی نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا: اگر میں کروں تو تم کرنے کے لیے تیار ہو؟ میں نے کہا: بہت خوب! اس سے بہتر کیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اللہ کی حمد بیان کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا اور اسی وقت دو یا تین درہم پر میرے ساتھ اپنی لڑکی کا نکاح پڑھا دیا۔

ابو دواعہ کہتے ہیں کہ میں اس کے بعد وہاں سے اٹھا اور میری خوشی کا عالم یہ تھا کہ میری بچھ میں نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں؟ میں اپنے مکان پر پہنچا اور اس لگڑ میں پڑ گیا کہ اب رخصتی وغیرہ کے لیے قرض کہاں سے حاصل کروں؟ میں نے مغرب کی نماز پڑھی اور اس دن میں روزہ سے تھا۔ نماز کے بعد میں نے چاہا کہ کھانا کھاؤں، جو کی روٹی تھی اور زیتون کا تیل۔ اتنے میں دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی۔ میں نے پوچھا کون ہے؟ آواز آئی سعید۔ میں نے سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر اس نام کے ہر شخص کو تصور کیا، کیونکہ سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ تو چالیس برس سے اپنے گھر اور مسجد کے علاوہ کہیں دیکھے نہیں گئے۔ اٹھ کر دروازہ کھولا تو وہاں سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کھڑے تھے۔ ان کو دیکھ کر معاذ خیاں ہوا کہ شاید ان کا خیال بدل گیا ہے اور وہ فتح نکاح کرانے آئے ہیں۔ میں نے کہا: اے ابو محمد (ابن

میتب رضی اللہ عنہ کی کنیت) آپ نے کیوں زحمت فرمائی، مجھے بلا بھیجا ہوتا۔ انہوں نے کہا: نہیں! اس وقت مجھی کو تمہارے پاس آنے کی ضرورت تھی۔ میں نے کہا: پھر کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا: مجھے خیال آیا کہ تم اپنے گھر میں تھا ہو گے، حالانکہ اب تو تمہاری شادی ہو چکی ہے۔ مجھے گوارا نہیں ہوا کہ تم تمہارات بسر کرو اور یہ ہے تمہاری بیوی۔ اس وقت ابن میتب رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ٹھیک ان کے پیچھے کھڑی تھیں، انہوں نے صاحبزادی کو دروازہ کے اندر کر کے باہر سے خود ہی دروازہ بند کر دیا اور واپس چلے گئے۔

میری بیوی شرم کے مارے گر پڑی، پھر میں نے اندر سے دروازہ بند کیا، اور اس کے بعد چھت پر چڑھ کر پڑوسیوں کو آواز دی۔ وہ لوگ جمع ہوئے اور پوچھا کیا قصہ ہے؟ میں نے کہا: سعید بن میتب رضی اللہ عنہ نے آج اپنی لڑکی کا عقد میرے ساتھ کر دیا اور آج ہی اچانک وہ اسے میرے گھر بھی پہنچا گئے، اور یہاں وہ گھر میں موجود ہے۔ لوگوں نے آکر اسے دیکھا اور میری ماں کو خبر ہوئی تو وہ بھی آگئیں اور انہوں نے کہا اس کو چھو تا تمہارے لیے حرام ہے جب تک میں حسب دستور تین دن تک اسے بنا سنوار نہ لوں۔ چنانچہ میں تین دن تک رُکارا۔ اس کے بعد اس کے پاس گیا، میں نے پایا کہ وہ ایک حسین و جمیل خاتون ہے، کتاب اللہ کی حافظہ اور سنت رسول اللہ کی عالمہ ہے اور حقوق شوہری کو خوب پہچاننے والی ہے۔

ابو دادم بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد ایک ماہ تک میں گھر ہی پر رہ گیا۔ اس دوران میں سعید بن میتب رضی اللہ عنہ کا نہ کوئی حال معلوم ہوا، اور نہ ان سے ملاقات ہوئی، پھر ایک مہینہ کے بعد میں ان کی صحبت میں حاضر ہوا، اس وقت وہاں مجلس قائم تھی۔ میں نے سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ اس کے بعد کوئی بات چیت نہ کی، یہاں تک کہ جو لوگ مسجد میں تھے سب چلے گئے۔ اس کے بعد جب میرے سوا کوئی وہاں نہیں رہ گیا تو انہوں نے پوچھا: تمہارے ساتھی کا کیا حال ہے؟ میں نے کہا: بہترین حال ہے۔ انہوں نے کہا:

(إِنَّ رَبَّكَ شَيْءٌ فَالْعَصَا)

یعنی ”وہ کوئی ناپسندیدہ حرکت کرے تو اس کو مارو۔“

پھر میں اپنے گھر لوٹ آیا، اور یہ سعید بن میتب رضی اللہ عنہ کی لڑکی تھی جس کے لیے خلیفہ عبد الملک بن مروان نے اپنے لڑکے ولید کا پیغام دیا تھا، جب اس نے اس کو ولی عہد بنایا تھا تو سعید بن میتب رضی اللہ عنہ نے شہزادہ ولید سے رشتہ کرنے سے انکار کیا، جس کی وجہ سے عبد الملک، سعید بن میتب رضی اللہ عنہ کے پیچھے پڑ گیا۔ یہاں تک کہ سخت سردی کے دن میں انہیں کوڑے سے پینا گیا اور ٹھنڈا پانی ڈالا گیا۔

(ماہنامہ رضوان، لکھنؤ، اکتوبر ۱۹۶۶ء، ص ۸، ۱۱)

## (۱۰) آسمان کی طرف سر اٹھا کر استغفار کیجئے اللہ مسکرا کر معاف کر دیں گے

حضرت علی بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے پیچھے بٹھایا اور حرہ کی طرف لے گئے، پھر آسمان کی طرف سر اٹھا کر فرمایا: اے اللہ! میرے گناہوں کو معاف فرما! کیونکہ تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف نہیں کرتا۔ پھر میری طرف متوجہ ہو کر مسکرانے لگے۔ میں نے کہا: اے امیر المؤمنین! پہلے آپ نے اپنے رب سے استغفار کیا پھر میری طرف متوجہ ہو کر مسکرانے لگے، یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے فرمایا: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مجھے اپنے پیچھے بٹھایا تھا، پھر مجھے ”حرہ“ کی طرف لے گئے تھے۔ پھر آسمان کی طرف سر اٹھا کر فرمایا: اے اللہ! میرے گناہوں کو معاف فرما، کیونکہ تیرے علاوہ اور کوئی گناہوں کو معاف نہیں کرتا۔ پھر میری طرف متوجہ ہو کر مسکرانے لگے تھے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آپ نے اپنے رب سے استغفار کیا پھر میری طرف متوجہ ہو کر مسکرانے

گئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا: میں اس وجہ سے مسکرا رہا ہوں کہ میرا رب اپنے بندے پر تجب کر کے مسکراتا ہے (اور کہتا ہے) اس بندے کو معلوم ہے کہ میرے علاوہ اور کوئی گناہوں کو معاف نہیں کرتا۔ (حیاء الصحابہ جلد ۳ صفحہ ۳۵۰)

### (۱۱) حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا گھر کے تمام کونوں میں آیت الکرسی پڑھنے کا معمول تھا

حضرت عبداللہ بن عبید بن عمیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ عنہ جب اپنے گھر میں داخل ہوتے تو اس کے تمام کونوں میں آیت الکرسی پڑھتے۔ (حیاء الصحابہ جلد ۳ صفحہ ۳۲۷)

### (۱۲) چند نصیحت آموز اشعار

عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللَّهِ إِنْ كُنْتَ غَائِلًا      يَا نَيْكَ بِالْأَرْزَاقِ مِنْ حَيْثُ لَا تَدْرِي

ترجمہ: ضروری ہے کہ تم تقوی اختیار کرو اگر تم غفلت میں ہو، وہ تمہیں اسکا جگہ سے روزی دے گا جس کی تمہیں خبر بھی نہیں۔

فَكَيْفَ تَخَافُ الْفَقْرَ وَاللَّهُ رِزْقًا      فَقَدْ رَزَقَ الطَّيْرَ وَالْحَوْتَ فِي الْبَحْرِ

ترجمہ: جب اللہ رازق ہے تو تمہیں فقر کا خوف کیوں ہے؟ وہ تو پرندے کو اور مچھلی کو دریا میں کھلاتا ہے۔

وَمَنْ ظَنَّ أَنَّ الرِّزْقَ يَأْتِيهِ بَلْوًا      مَا أَكَلَ الْعُصْفُورُ شَيْئًا مَعَ النَّسْرِ

ترجمہ: اور جو یہ سمجھے کہ روزی طاقت سے ملتی ہے (اگر یہ بات ہوتی تو) گدھ کے ہوتے ہوئے گوریا کو کچھ بھی نہ ملتا۔

تَزُوْدُ مِنَ السُّدِّ مَا فَيْتَكَ لَا تَدْرِي      إِنْ جَنَّ عَلَيْكَ الْهَلُّ هَلْ تَعِيْشُ إِلَى الْفَجْرِ

ترجمہ: دنیا کو بقدر تو شہ حاصل کرو اس لیے کہ تمہیں خبر نہیں کہ جب رات کی تار کی تم پر چھاگئی تو تم صبح تک زندہ رہ سکو گے۔

فَكَمْ مِنْ صَوْبٍ مَاتَ مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ      وَكَمْ مِنْ سَعِيدٍ عَاشَ حِينًا مِنَ الدَّهْرِ

ترجمہ: کتنے صحت مند بلا کسی مرض کے موت کے منہ میں چلے گئے اور بہت سے بیمار لوگوں زندہ رہے۔

وَكَوْ مِنْ قَسِيٍّ أَمْسَى وَأَصْبَحَ ضَاحِكًا      وَأَكْفَانُهُ فِي الْقَبْرِ تَسْمَعُ وَهُوَ لَا يَدْرِي

ترجمہ: اور کتنے ہی نوجوان صبح و شام ہنستے رہتے ہیں لیکن انہیں خبر نہیں کہ ان کے کفن کی تیاری اوپر ہو رہی ہے۔

فَمَنْ عَاشَ أَلْفًا وَ أَلْفَيْنِ      فَلَا بُدَّ مِنْ يَوْمٍ يَجْمَعُ إِلَى الْقَبْرِ

ترجمہ: جو ہزار دو ہزار سال تک زندہ رہا اس کو بھی ضرور ایک نہ ایک دن قبر میں جانا ہے۔ (دیوان حضرت علی رضی اللہ عنہ)

### (۱۳) فتنوں سے نہیں بلکہ گمراہ کرنے والے فتنوں سے پناہ مانگنی چاہیے

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو سنا کہ فتنہ سے پناہ مانگ رہا تھا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اے اللہ! اس کی دعا کے الفاظ سے تیری پناہ چاہتا ہوں، پھر اس آدمی نے کہا: کیا تم اللہ سے یہ مانگ رہے ہو کہ وہ تمہیں بیوی بچے اور مال نہ دے؟ (کیونکہ قرآن میں مال اور اولاد کو فتنہ کہا گیا ہے) تم میں سے جو بھی فتنہ سے پناہ مانگنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ گمراہ کرنے والے فتنوں سے پناہ مانگے۔

(حیاء الصحابہ جلد ۳ صفحہ ۳۲۰)

### (۱۴) شیطان سے حفاظت کا عجیب نسخہ

حضرت فضی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جو رات کو کسی گھر میں سورہ بقرہ کی دس آیتیں پڑھے گا اس

گھر میں صبح تک کوئی شیطان داخل نہیں ہوگا۔ وہ دس آیتیں یہ ہیں: سورہ بقرہ کی شروع کی چار آیتیں، آیت الکرسی، اس کے بعد دو آیتیں اور سورہ بقرہ کی آخری تین آیتیں۔ (حیاء الصحابہ جلد ۳ صفحہ ۲۲۵)

### (۱۵) قسطوں میں زیادہ قیمت پر فروخت کرنا جائز ہے

آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو دکان دار قسطوں میں اشیاء فروخت کرتے ہیں وہ عام بازاری قیمت سے زیادہ قیمت پر فروخت کرتے ہیں۔ مثلاً ایک موٹر سائیکل کی قیمت عام بازار میں تیس ہزار روپے ہے، لیکن قسطوں پر فروخت کرنے والے پینتیس ہزار روپے اس کی قیمت لگائیں گے، اب اگر اس کی قیمت طے ہو جائے اور قسطیں ہو جائیں کہ کتنی قسطوں میں اس کی ادائیگی کی جائے گی تو یہ صورت جائز ہے۔ البتہ اگر خریدار نے کوئی قسط وقت پر ادا نہ کی تو اس کی وجہ سے قیمت میں اضافہ نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ جب ایک مرتبہ قیمت متعین ہوگئی تو اس میں اضافہ کرنا بعد میں جائز نہیں۔ (درس ترمذی جلد ۳ صفحہ ۱۰۲، مولانا تقی عثمانی)

### (۱۶) ظالم اور مظلوم کے درمیان اللہ صلح کرائے گا

حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک دفعہ نبی کریم ﷺ کو دیکھا کہ آپ سکرارہے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ ﷺ! کون سی چیز ایسی کا سبب ہوئی؟ فرمایا کہ میرے دوا امتی خدا کے سامنے گھٹنے ٹیک کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ ایک خدا سے کہتا ہے کہ یارب! اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے، میں بدلہ چاہتا ہوں۔ اللہ پاک اس (ظالم) سے فرماتا ہے کہ اپنے ظلم کا بدلہ ادا کر دو۔ ظالم جواب دیتا ہے، یارب! اب میری کوئی نیکی باقی نہیں رہی کہ ظلم کے بدلے میں اُسے دے دوں۔ تو وہ مظلوم کہتا ہے کہ اے خدا! میرے گناہوں کا بوجھ اس پر لا دو۔ یہ کہتے ہوئے نبی کریم ﷺ آبدیدہ ہو گئے اور فرمانے لگے کہ وہ بڑا ہی سخت دن ہوگا۔ لوگ اس بات کے حاجت مند ہوں گے کہ اپنے گناہوں کا بوجھ کسی اور کے سر دھر دیں۔

اب اللہ پاک طالب انتقام سے فرمائے گا کہ نظر اٹھا کر جنت کی طرف دیکھو۔ وہ سر اٹھائے گا، جنت کی طرف دیکھے گا اور عرض کرے گا یارب! اس میں تو چاندی اور سونے کے ٹل ہیں، موتیوں کے بنے ہوئے ہیں یارب! یہ کسی نبی اور کسی صدیق اور شہید کے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جو اس کی قیمت ادا کرتا ہے اس کو دے دیئے جاتے ہیں۔ وہ کہے گا کہ یارب! کون اس کی قیمت ادا کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو اس کی قیمت ادا کر سکتا ہے۔ اب وہ عرض کرے گا یارب! کس طرح؟ اللہ جل شانہ ارشاد فرمائے گا: اس طرح کہ تو اپنے بھائی کو معاف کر دے۔ وہ کہے گا: یارب! میں نے معاف کیا۔ اللہ پاک فرمائے گا: اب تم دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس کے بعد آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”خدا سے ڈرو، آپس میں صلح قائم رکھو، کیونکہ قیامت کے روز اللہ پاک بھی مؤمنین کے درمیان آپ میں صلح کرانے والا ہے“ (تفسیر ابن کثیر جلد ۲ صفحہ ۲۶۹)

### (۱۷) سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی وفات کا عجیب قصہ

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب (مشہور انصاری صحابی) سعد بن معاذ کی وفات ہوئی، تو ہم لوگ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ اُس کے جنازے پر گئے، پھر جب رسول اللہ ﷺ نے نماز جنازہ پڑھائی اور ان کو قبر میں اتار کر قبر برابر کر دی گئی تو رسول اللہ ﷺ نے سبحان اللہ، سبحان اللہ کہا (آپ کو دیکھ کر آپ کی اتباع میں) ہم بھی دیر تک سبحان اللہ، سبحان اللہ کہتے رہے۔ پھر آپ ﷺ نے اللہ اکبر، اللہ اکبر کہا شروع کیا، تو ہم بھی آپ ﷺ کی اتباع میں اللہ اکبر، اللہ اکبر کہنے لگے۔ پھر آپ ﷺ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ

ﷺ اس وقت آپ کی اس تسبیح اور تکبیر کا کیا خاص سبب تھا؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ کے اس نیک بندے پر اس کی قبر تک ہو گئی تھی (جس سے اس کو کوئی تکلیف تھی) یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے تنگی کی اس کیفیت کو دور فرما کر کشادگی پیدا فرمادی اور اس کی تکلیف دور کر دی۔ (مسند امیر)

**توضیح:** سعد بن معاذ رضی اللہ عنہما انصاری رسول اللہ ﷺ کے مشہور و ممتاز صحابہ میں سے تھے:

- ① غزوہ بدر میں شرکت کی فضیلت و سعادت انہیں حاصل تھی۔
- ② ستر ہزار فرشتوں نے ان کے جنازے میں شرکت کی۔
- ③ آسمان کے دروازے ان کے لیے کھولے گئے۔
- ④ ان کی وفات پر رخصن کا عرش حرکت میں آ گیا۔
- ⑤ حضور ﷺ کے سینہ یا ران پر ان کا وصال ہوا۔
- ⑥ حضور ﷺ نے اپنے ہاتھوں سے ان کے لیے قبر کھودی۔
- ⑦ ہر پھاڑے کی چوٹ پر ان کی قبر سے مفک کی خوشبو نکلتی تھی۔
- ⑧ بنو قریظہ کے بارے میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہما نے جو فیصلہ کیا، اس فیصلہ پر حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: اے سعد! تو نے جو فیصلہ کیا ہے یہی فیصلہ اللہ نے آسمانوں کے اوپر کیا ہے۔
- ⑨ قبر سے مفک کی خوشبو جب نکلتی تھی آپ ﷺ فرماتے جاتے تھے، واہ! واہ! کتنی اچھی ہے مرد مومن کی قبر کی خوشبو۔
- ⑩ جس کمرے میں سعد بن معاذ رضی اللہ عنہما کی نعش رکھی ہوئی تھی وہ کمرہ فرشتوں سے کچھ کھج بھرا ہوا تھا، ایک فرشتہ نے پر ہٹایا، تب جا کر حضور اکرم ﷺ کو بیٹھنے کی جگہ ملی۔
- ⑪ جب جنازہ اٹھا حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: فرشتے اس کے جنازے کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ باوجود اس کے قبر کی تنگی کی تکلیف سے اُن کو بھی واسطہ پڑا (اگرچہ فوراً ہی وہ اٹھالی گئی) اس میں ہم جیسوں کے لیے بڑا انتباہ اور بڑا سبق ہے۔

(اللَّهُمَّ ارْحَمْنَا، اللَّهُمَّ احْفَظْنَا)

”اے اللہ! ہم پر رحم فرما، اے اللہ! ہماری عذاب قبر سے حفاظت فرما۔“

رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں دومتہ الجندل کے امیر نے ایک ریشمی جبہ بھیجا تھا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ایسا قیمتی اور شاندار جبہ کبھی نہ دیکھا تھا۔ صحابہ اس کو بار بار چھوتے اور اس کی نرمی و زراکت پر تعجب کا اظہار کرتے تھے۔ آپ ﷺ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اس عمل کو دیکھ کر فرمایا: کیا تم کو یہ بہت اچھا معلوم ہو رہا ہے؟! جنت میں سعد بن معاذ رضی اللہ عنہما کے رومال اس سے بہت زیادہ بہتر اور نرم و نازک ہے۔

(سیر اعلام النبلاء، ص ۲۸۲، ۲۹۶، ۳۰۳، ۳۰۴، سنن نسائی فی البدایہ، جامع الترمذی فی اللہاس، حیاة الصحابہ)

## ﴿۱۸﴾ بیوی کیسی ہونی چاہیے

عورت میں درج ذیل عمدہ خصلتوں کا ہونا ضروری ہے، اس سے نکاح میں مداومت اور خیر و برکت ہوتی ہے:

- ① عورت نیک بخت اور دیندار ہو، یہ خصلت بہت ہی ضروری ہے، اگر عورت اپنی ذات میں اور شرمگاہ کی حفاظت میں ہنسی ہوگی تو معاملہ بگڑ جائے گا، اسی لیے حضور اکرم ﷺ نے فرمایا:

(تَنَكُّهُ الْمَرْأَةُ لَا رَيْحَ لِمَا لَهَا وَكَحْسَبِهَا وَكِبَدِهَا فَكُلْفَرُ بِنَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ)

(بخاری و مسلم، بروایت ابو ہریرہ، مشکوٰۃ، ص ۲۶۷)

ترجمہ: ”عورت سے چار چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے ① اس کے مال کی وجہ سے ② اس کے خاندان کی وجہ سے

﴿۱۶﴾ اس کے جمال کی وجہ سے ﴿۱۷﴾ اور اس کے دین کی وجہ سے۔ پس تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، تو دیندار کو اختیار کر۔“  
 ﴿۱۸﴾ عورت خوش خلق ہو، جو شخص فارغ البال رہنے کا طالب اور دین پروردگار کا خواہاں ہو اس کے لیے خوش خلق عورت کا ہونا ضروری ہے،  
 مل جائے تو بسا غنیمت!

کسی عورت نے کہا ہے، چھ قسم کی عورتوں سے نکاح نہ کرو:

◆ **مَنَانَةٌ**: وہ عورت جو ہر وقت کراہتی رہے، تھوڑی سی پریشانی پر داویلا شروع کر دے۔

◆ **مَنَانَةٌ**: وہ عورت ہے جو خاندان پر ہر وقت احسان جتلائے کہ میں نے تیری خاطر یہ کیا اور وہ کیا۔

◆ **حَنَانَةٌ**: وہ عورت جو پہلے شوہر پر یا پہلے شوہر کی اولاد پر فریفتہ ہو۔

◆ **حَدَّائَةٌ**: وہ عورت جو ہر چیز کی خواہش رکھے اور اپنے شوہر سے مانگے۔

◆ **بَرَّائَةٌ**: وہ عورت جو ہر وقت بناؤ سنگھار میں لگی رہے۔

◆ **شَدَائَةٌ**: وہ عورت جو زیادہ بکتی رہے۔

ان چھ قسم کی عورتوں سے نکاح نہ کرے۔ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا ہے کہ

(إِنَّ اللَّهَ يَبْغِضُ الشَّرَّائِينَ الْمُتَشَدِّقِينَ) (ترمذی بروایت جابر رضی اللہ عنہما)

ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ بغض رکھتے ہیں زیادہ بکنے والوں اور منہ پھیلا پھیلا کر باتیں کرنے والوں سے۔“

﴿۱۹﴾ خوب صورت عورت سے نکاح کرے، عورت خوب صورت ہوگی تو کسی اور طرف نگاہ نہیں جائے گی۔ اس لیے نکاح سے پہلے دیکھ

لینا مستحب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کی حوروں کی تعریف میں فرمایا ہے: ﴿مُحْسِنَاتٌ جِسَانٍ﴾ یعنی ”خوش خلق اور خوبصورت

عورتیں“ اور ﴿فَاَصْرَاتُ الطَّرِيفِ﴾ ”نہی نگاہ رکھنے والی عورتیں۔“ لہذا جس عورت میں یہ خوبیاں ہوں گی وہ جنت کی حور ہے۔

﴿۲۰﴾ مہر تھوڑا ہو۔ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا کہ عمدہ بیبیاں وہ ہیں جو خوبصورت ہوں اور ان کا مہر تھوڑا ہو۔ اور فرمایا کہ عورت میں زیادہ

برکت والی عورت وہ ہے جس کا مہر کم ہے۔ جس طرح عورت کی جانب سے مہر میں زیادتی کا ہونا مکروہ ہے اسی طرح مرد کا عورت

کے مال کا حال دریافت کرنا اور اس سے مال حاصل کرنا بھی برا ہے۔ مال کی خاطر عورت سے نکاح نہ کرنا چاہیے۔ حضرت سفیان

رحمۃ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی نکاح کرے اور یہ پوچھے کہ عورت کے پاس کیا ہے؟ کتنا مال ہے؟ تو جان لو کہ وہ چور ہے،

اور جب مرد کچھ تحفہ سسرال میں بھیجے تو یہ نیت نہ کرے کہ ان کے یہاں سے اس کے بدلہ میں زیادہ ملے، اسی طرح لڑکی والے یہ

نیت نہ کریں کہ لڑکے والوں کے ہاں سے زیادہ ملے۔ یہ نیت خراب ہے۔ باقی رہا یہ بھیجنا تو یہ دوستی کا سبب ہوتا ہے نبی کریم

ﷺ کا فرمان ہے: (تَهَا دَوَانِعُهُمْ) یعنی ”ایک دوسرے کو ہدیہ دیتے رہو باہم محبت ہوگی۔“

﴿۲۱﴾ عورت بانجھ نہ ہو، اگر اس کا بانجھ ہونا معلوم ہو جائے تو اس سے نکاح نہ کرے۔ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا کہ (عَلَيْكُمْ بِالنَّوْءِ

النَّوْءِ) یعنی ”نکاح ایسی عورت سے کرو جس سے اولاد ہوتی ہو اور شوہر سے محبت رکھتی ہو۔“

﴿۲۲﴾ عورت کنواری ہو، کنواری ہونے سے شوہر کو عورت کے ساتھ محبت کامل ہو جاتی ہے۔

﴿۲۳﴾ عورت حسب نسب والی ہو، یعنی ایسے خاندان والی ہو جس میں دیانت اور نیک بختی پائی جائے۔ کیونکہ ایسے خاندان کی عورت اپنی

اولاد کی اچھی تربیت کر سکتی ہے، کم ظرف خاندان کی عورت نہیں کر سکتی۔ (مختصر مذاق العارفین جلد ۲ صفحہ ۱۳۲)

### (۱۹) کام کاج سویرے شروع کرو، انشاء اللہ برکت ہوگی

صحیح البخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی: ”اے اللہ! سویرے میں میری امت کے لیے برکت عطا فرما۔“ چنانچہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی لشکر جہاد کے لیے روانہ فرماتے تو صبح سویرے روانہ کرتے۔ کہتے ہیں کہ حضرت صحیح رحمۃ اللہ علیہ ایک تاجر آدمی تھے، وہ اپنا تجارتی مال ہمیشہ صبح سویرے بھیجا کرتے تھے۔ اس کی برکت سے وہ خوش حال اور سرمایہ دار ہو گئے۔

(ابن ماجہ، ترجمان السنن جلد ۳ صفحہ ۷۷۷)

### (۲۰) کسی قوم کا سردار اگر تمہارے پاس آئے تو اس کا اکرام کرنا چاہیے

حضرت جریر رضی اللہ عنہ کے فضائل و احوال

حضرت جریر رضی اللہ عنہ اگرچہ بہت تاخیر سے اسلام لائے لیکن ان کا شمار ایمان صحابہ رضی اللہ عنہم میں ہوتا ہے یہ اپنی قوم کے سردار تھے۔ ان کے مدینہ طیبہ حاضر ہونے سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آمد کی اطلاع دے دی تھی۔ ان کے ایمان لانے کے واقعہ سے بھی ان کی عظمت اور جلالت کا پتہ چلتا ہے، یہ جس وقت مسجد نبوی میں حاضر ہوئے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور مسجد بھری ہوئی تھی، ان کو بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ملی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اپنی چادر مبارک، جس کو آپ زینب تن فرمائے ہوئے تھے، بچھادی۔ اور فرمایا: اس پر بیٹھو۔ انہوں نے وہ چادر اٹھا کر اپنے سینے سے لگائی اور عرض کیا:

(اَكْرَمَكَ اللَّهُ كَمَا اَكْرَمْتَنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ)

ترجمہ: ”یا رسول اللہ! اللہ آپ کو بھی ایسے ہی اکرام و اعزاز سے نوازے جیسے کہ آپ نے مجھے اکرام و اعزاز سے نوازا ہے۔“  
اس مجلس میں حضرت جریر رضی اللہ عنہ اسلام لے آئے ہیں۔ اس واقعہ کی بعض روایات میں یہ بھی ذکر ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ کے اس غیر معمولی اکرام کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

(اَلَا اِنَّكُمْ كَرِمَةٌ قَوْمًا فَكُرِمُوْا)

ترجمہ: ”اگر کسی قوم کا سردار تمہارے پاس آئے تو اس کا اکرام کرنا چاہیے۔“

بعد میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ان کے اکرام و اعزاز ہی کا رہا ہے۔ خود حضرت جریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

(مَا حَجَبَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْذُ اسَلَّمْتُ وَلَا رَأَيْتُ إِلَّا تَبَسَّ)

ترجمہ: ”اسلام لانے کے بعد جب بھی میں حاضر خدمت ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر حاضر ہونے کی اجازت چاہتا، آپ

صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مجھے اندر آنے کی اجازت دے دیتے اور ہمیشہ مجھے دیکھ کر تبسم فرماتے۔“

زمانہ جاہلیت میں المل یمن نے اپنے یہاں ایک نقلی کعبہ بنا لیا تھا۔ جس کا نام ”کوالخلصۃ“ تھا، اس کو وہ لوگ کعبہ یمانیہ کہتے تھے۔ اس میں کچھ بت رکھ چھوڑے تھے جن کی پوجا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں اس کی طرف سے مسلسل غلش رہتی تھی۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جریر رضی اللہ عنہ سے فرمایا: ”تم اس جھوٹے اور نقلی کعبہ کو منہدم کر دو تو میرے دل کو سکون نصیب ہو جائے۔“

حضرت جریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں ایک سو پچاس (۱۵۰) طاقتور شہسواروں کو لے کر یمن کے سفر کا ارادہ کر لیا، لیکن میرا حال یہ تھا کہ گھوڑے کی سواری سے واقف نہ تھا اور گھوڑے پر سے گر جایا کرتا تھا۔ میں نے اپنا یہ حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم



سے عرض کر دیا۔ آپ ﷺ نے اپنا دست مبارک میرے سینے پر مارا اور دعا کی:

(اللَّهُمَّ قَبِّتْهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًا)

ترجمہ: ”اے اللہ! جریر رضی اللہ عنہ کو گھوڑے کی کمر پر جمادے اور اس کو ہدایت دینے والا اور ہدایت یافتہ بنا دیجئے۔“

حضرت جریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دعا کی برکت سے میں ایسا شہسوار ہو گیا کہ پھر کبھی بھی گھوڑے سے نہیں گرا، اور پھر میں نے اور میرے ساتھیوں نے جا کر اس ”ذوالخليفة“ یعنی نعلی کعبہ کو منہدم کر دیا اور اس میں آگ لگا کر اس کو خاکستر کر دیا۔ جب رسول اللہ ﷺ کو میری کامیابی کی اطلاع ہوئی تو آپ ﷺ نے میرے لیے اور میرے ساتھیوں کے لیے پانچ مرتبہ برکت کی دعا فرمائی۔

حضرت جریر رضی اللہ عنہ حجۃ الوداع میں بھی آپ ﷺ کے ساتھ شریک ہوئے ہیں اور آپ ﷺ نے خطبہ (یہاں خطبہ سے جمعہ یا عید کا خطبہ مراد نہیں یہاں خطبہ سے مراد تقریر ہے) (محمد امین) کے وقت فرمایا تھا کہ لوگوں کو خاموش کر دو۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانہ میں ان کو عراق کی جنگوں میں شرکت کے لیے بھیج دیا تھا۔ انہوں نے ان جنگوں میں کارہائے نمایاں انجام دیئے۔ فتح قادسیہ میں بھی ان کا بڑا دخل تھا۔ ان جنگوں سے فارس ہو کر وہ کوفہ میں ہی قیام پذیر ہو گئے تھے اور وہیں ان کی وفات ہوئی ہے۔

حضرت جریر رضی اللہ عنہ کو اہل مدینہ خصوصاً انصاری صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بڑی محبت تھی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں، میں حضرت جریر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا، وہ راستہ میں میری خدمت کرتے تھے۔ میرے منع کرنے پر فرمانے لگے میں نے حضرات انصار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا جو طرز عمل رسول اللہ ﷺ کے ساتھ دیکھا ہے اس کے بعد سے میں نے قسم کھالی ہے کہ جب بھی مجھے کسی انصاری صحابی کی صحبت کا موقع نصیب ہوگا میں ان کی خدمت ضرور کروں گا۔ صحیح مسلم میں اس روایت کے راوی محمد بن انس اور محمد بن بشار رضی اللہ عنہما نے روایت نقل کرنے کے بعد یہ بھی ذکر کیا ہے کہ حضرت جریر رضی اللہ عنہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے عمر میں بڑے تھے۔ باطنی کمالات کے ساتھ اللہ نے (ان کو) حسن ظاہری سے بھی بہت نوازا تھا۔ وہ انتہائی حسین و جمیل تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کو یوسف ہذیلہ الامۃ کہتے تھے۔ مطلب یہ تھا کہ وہ اس اُمت میں حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح حسین و جمیل ہیں۔ (معارف اللہ یث جلد ۸ صفحہ ۲۸۲)

## (۲۱) دنیا کی تکلیف میں پانچ چیزیں بہت سخت ہیں

دانش مندوں نے کہا ہے کہ ہم نے دنیا کی تکلیف اور مصیبت کو دیکھا تو پانچ چیزوں بہت سخت نظر آئیں:

- ① پردیس میں بیماری۔
- ② بڑھاپے میں مفلسی۔
- ③ جوانی کی موت۔
- ④ پینائی کے بعد آنکھوں کی روشنی کا چلا جانا۔
- ⑤ وصل کے بعد جدائی۔ (کتوبات مدنی صفحہ ۲۵۹)

## (۲۲) حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے اخلاق حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کے ساتھ

حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے ان کو ”حضرموت“ میں زمین کا ایک ٹکڑا بطور جاگیر عطا فرمایا، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو حضور اقدس ﷺ نے ان کے ساتھ بھیجا تھا کہ وہ زمین ان کے حوالے کر دیں۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ ”حضرموت“ کے بڑے نواب اور بڑے سردار تھے، واقعہ لکھا ہے کہ جب حضور اقدس ﷺ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو ان کے ساتھ

”حضرموت“ کی طرف روانہ کیا تو حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہما اونٹ پر سوار تھے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی سواری نہیں تھی، اس لیے وہ پیدل ان کے ساتھ روانہ ہوئے۔ راستے میں جب صحرا (ریگستان) میں دھوپ تیز ہو گئی اور گرمی بڑھ گئی تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاؤں جلنے لگے، انہوں نے حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہما سے فرمایا کہ گرمی بہت ہے اور میرے پاؤں جل رہے ہیں، تم مجھے اپنے اونٹ پر پیچھے سوار کر لو، تاکہ میں گرمی سے بچ جاؤں۔ تو انہوں نے جواب میں کہا:

(لَسْتُ مِنْ أَرْكَافِ الْمَلُوكِ)

”تم بادشاہوں کے ساتھ ان کے پیچھے بیٹھنے کے قابل نہیں ہو۔“

لہذا تم ایسا کرو کہ میرے اونٹ کا سایہ زمین پر پڑ رہا ہے، تم اس سایہ میں چلتے ہوئے میرے ساتھ آ جاؤ۔ چنانچہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ سے یمن تک پورا راستہ اسی طرح قطع کیا۔ اس لیے کہ حضور اقدس ﷺ نے ساتھ جانے کا حکم دیا تھا۔ چنانچہ وہاں پہنچ کر ان کو زمین دی پھر واپس تشریف لے آئے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خود خلیفہ بن گئے۔ اس وقت یہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہما، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما سے ملاقات کے لیے یمن سے دمشق تشریف لائے تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما نے باہر نکل کر ان کا استقبال کیا اور ان کا بڑا اکرام کیا اور حسن سلوک فرمایا۔ (درس ترمذی جلد ۲ صفحہ ۳۲۷)

### (۲۳) خودکشی کرنے والا کافر نہیں ہے، اس کی بھی مغفرت ہو سکتی ہے

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ طفیل بن عمرو والدہی رضی اللہ عنہما (اپنے قبیلہ کی ہجرت کرنے کی درخواست لے کر) رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ کیا آپ ﷺ ایک مضبوط قلعہ اور محافظ جماعت کی طرف ہجرت کرنا منظور فرما سکتے ہیں؟ راوی کہتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں قبیلہ دوس کے پاس ایک قلعہ تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے اس خوش نصیبی کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے انصار کے لیے مقدر فرمادی تھی، ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔

جب نبی کریم ﷺ نے مدینہ ہجرت کی تو طفیل بن عمرو رضی اللہ عنہما اور ان کی قوم کے ایک اور شخص نے بھی ساتھ ساتھ ہجرت کی۔ اتفاق یہ کہ مدینہ کی آب و ہوا انہیں موافق نہ آئی، ان کا رفق بیمار پڑ گیا اور تکلیف برداشت نہ کر سکا۔ اس نے اپنے تیر کا پیکان (بھالا) نکال کر اپنی انگلیوں کے جوڑ کاٹ ڈالے۔ اس کے ہاتھوں سے خون بہہ نکلا یہاں تک کہ اس کی وفات ہو گئی۔

طفیل بن عمرو رضی اللہ عنہما نے انہیں خواب میں دیکھا تو صورت ان کی بہت اچھی تھی مگر ہاتھ ڈھکے ہوئے تھے۔ دریافت کیا کہ تمہارے پروردگار نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ نبی کریم کے ساتھ ہجرت کرنے کی برکت سے مجھے بخش دیا گیا۔ پھر اس سے پوچھا کہ تم اپنے ہاتھ ڈھانکے ہوئے کیوں نظر آرہے ہو؟ اس نے کہا: مجھ سے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ تم نے جو خود بگاڑا، ہم اسے نہیں سنواریں گے۔ طفیل رضی اللہ عنہما نے یہ خواب رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں عرض کیا۔ آپ ﷺ نے دعا فرمائی: اے اللہ! اس کے ہاتھوں کی بھی بخشش فرما دے۔

**توضیح:** اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مغفرت میں بھی تجزیہ (تقسیم و ہنوارہ) ہو سکتا ہے، یہاں مغفرت نے طفیل کے رفق کے سارے جسم کو تو گھیر لیا تھا مگر امانت الہیہ میں بے جا دست اندازی کی وجہ سے ان کے ہاتھوں کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ شخص کیا ہی خوش نصیب تھا کہ اس کا مقدمہ رحمۃ للعالمین ﷺ کے سامنے آ گیا اور آپ ﷺ کے مبارک ہاتھ اس کی سفارش کے لیے اٹھ گئے، پھر کیا تھا رحمت نے اس کی رگ رگ کو گھیر لیا۔ (مسلم ترجمان جلد ۲ صفحہ ۱۲۳)

## (۲۴) دس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجئے گناہوں سے محفوظ رہو گے

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو صبح کی نماز کے بعد دس مرتبہ

﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ (یعنی سورہ اخلاص) پڑھے گا وہ سارا دن گناہوں سے محفوظ رہے گا۔ چاہے شیطان کتنا ہی زور لگائے۔

نبی کریم ﷺ نے فرمایا: صبح اور شام تین مرتبہ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ (یعنی سورہ اخلاص) اور معوذتین (سورہ بقرہ اور سورہ

الناس) پڑھ کر، ان کا پڑھنا ہر چیز سے کفایت کرے گا۔ (حیاء الصحابہ جلد ۳ صفحہ ۳۲۲)

## (۲۵) شب معراج میں فرشتوں نے پچھنا لگانے کی تاکید فرمائی تھی مگر آج لوگوں نے اسے بالکل چھوڑ دیا ہے

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے معراج میں پیش آنے والی جو باتیں بیان فرمائیں ان میں

ایک بات یہ بھی تھی کہ آپ ﷺ فرشتوں کی جس جماعت پر بھی گزرے، انہوں نے کہا کہ آپ اپنی امت کو حجامت یعنی پچھنے لگانے کا حکم

دیتے۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۲۸۹)

عرب میں پچھنے لگانے کا بہت رواج تھا، اس سے زائد خون اور فاسد خون نکل جاتا ہے۔ بلڈ پریشر کا مرض جو عام ہو گیا ہے، اس کا

بہت اچھا علاج ہے۔ لوگوں نے اسے بالکل ہی چھوڑ دیا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے اپنے سر پر اور موٹھوں کے درمیان پچھنے لگوائے

تھے۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۲۸۹)

## (۲۶) جنات کے شر سے بچنے کا بہترین نسخہ

موطا امام مالک میں بروایت یحییٰ بن سعید رضی اللہ عنہ (مرسل) نقل کیا ہے کہ جس رات رسول اللہ ﷺ کو سیر کرائی گئی تو آپ ﷺ نے

جنات میں سے ایک عفریت کو دیکھا جو آگ کا شعلہ لیے ہوئے آپ ﷺ کا پیچھا کر رہا تھا۔ آپ جب بھی (دائیں بائیں) التفات

فرماتے وہ نظر پڑ جاتا تھا۔ جبرئیل رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: کیا میں آپ کو ایسے کلمات نہ بتا دوں کہ ان کو آپ پڑھ لیں گے تو اس کا شعلہ بجھ

جائے گا اور یہ اپنے منہ کے بل گر پڑے گا۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ہاں! بتا دو۔ اس پر جبرئیل امین نے کہا کہ یہ کلمات پڑھیں:

(أَعُوذُ بِوَجْهِ اللَّهِ الْكَرِيمِ وَبِكَلِمَاتِ اللَّهِ الْعَلَمَاتِ اللَّاتِي لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَلَا فَاجِرٌ مِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ

وَشَرِّ مَا يَعْرُجُ فِيهَا وَشَرِّ مَا فِدَا فِي الْأَرْضِ وَشَرِّ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا، وَمِنْ فِتَنِ الْبَيْلِ وَالنَّهَارِ وَمِنْ طَوَارِقِ الْبَيْلِ وَالنَّهَارِ

إِلَّا طَارِقًا يَطْرُقُ بِخَيْرٍ يَا رَحْمَانُ)

## (۲۷) جہنم کی آگ سے بچنے کا بہترین نسخہ

رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں: جو شخص بیماری میں مندرجہ ذیل کلمات پڑھے پھر وہ مر جائے تو جہنم کی آگ اسے چمکے گی بھی نہیں:

(لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَلِكُ وَالْقَدِيمُ، لَا

إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ) (ترمذی شریف حدیث نمبر ۳۳۳۰)

## (۲۸) ترک خواہش آدمی کو امیر بنا دیتی ہے اور خواہش کی پیروی امیر کو امیر بنا دیتی ہے

♦ خواہش سے منہ پھیر لینا سرداری کی باتیں ہیں۔ ♦ خواہش کا ترک کرنا پیغمبری کی طاقت ہے۔

◆ جب تیری طبیعت کا گھوڑا تیرا فرمانبردار ہو جائے تو اخلاص کا سکہ تیرے نام ہو جائے گا۔

خواہش کی دو قسمیں ہیں: ایک لذت و شہوت کی خواہش، دوسری مرتبہ و عہدہ اور ریاست کی خواہش۔ جس کو لذت و شہوت کی خواہش ہوتی ہے وہ میخانے میں مقیم ہوتا ہے اور دوسرے لوگ اس کے فتنہ و شر سے محفوظ رہتے ہیں۔ مگر جس کو ریاست و منصب کی خواہش ہوتی ہے وہ عبادت گاہوں، خانقاہوں اور داروں میں رہتا ہے اور مخلوق کے لیے فتنہ ہوتا ہے۔ خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور مخلوق کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ جس کے تمام افعال خواہش کے مطابق ہوں اور نفس کی رضا مندی ہی اس کا مقصود ہو، وہ اگر آسان پر بھی پہنچا جائے تو وہ خدا سے دور رہے گا۔ (جب تیری گڈری میں سینکڑوں بت چھپے ہوئے ہیں تو خود کو لوگوں کے سامنے صوفی کیوں ظاہر کرتا ہے؟) اور جو کوئی خواہش سے دور ہوگا اور نفس کی متابعت سے کنارہ کشی اختیار کرے گا وہ اگر بت خانے میں بھی ہوگا تو خدا کے ساتھ ہوگا، (جس نے اس کتے کو بھاری زنجیر میں جکڑ لیا، اس کی خاک دوسروں کے خون سے بہتر ہے)۔

خواجہ ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: میں نے ایک دن سنا کہ روم کا ایک راہب ساٹھ برس سے رہبانیت کے طریقہ پر قائم ہے۔ مجھ کو تعجب ہوا کہ رہبانیت کی شرط تو چالیس سال سے زیادہ نہیں ہے، وہ کس مقصد کو لے کر اب تک دیر (گر جا) میں ٹھہرا ہوا ہے۔ میں نے اس سے ملنے کا ارادہ کیا۔ جب اُس کے پاس پہنچا تو اس نے کھڑکی کھولی اور کہا: ”اے ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ! تم جس کام کے لیے آئے ہو میں جانتا ہوں۔ میں یہاں رہبانیت کے لیے نہیں بیٹھا ہوں بلکہ میرے پاس شوریہ (بری) خواہشات رکھنے والا ایک کتا ہے اُس کو یہاں بند کر کے اس کی نگہبانی کر رہا ہوں، تاکہ اس کی شرارت مخلوق تک نہ پہنچے۔ ورنہ میں وہ نہیں جیسا تم نے سمجھا، سمجھے“ (یہ نفس کا فرسخت نافرمان ہے، اس کا مار ڈالنا کوئی آسان کام نہیں ہے)۔

خواجہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کی یہ باتیں سن کر میں نے کہا:

”خداوند! تو ایسا قادر مطلق ہے کہ عین گمراہی میں بندے کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے اور یہ درجہ عنایت فرماتا ہے۔“

اُس نے مجھ سے کہا: ”اے ابراہیم! تو کب تک آدمیوں کو ڈھونڈ کرے گا، جا اپنے آپ کو تلاش کر اور جب پا جائے تو خود اپنا نگہبان ہو جا۔“ یہی ہوئے (خواہش) نفس روزانہ الوہیت کے تین سو ساٹھ لباس پہن کر سامنے آتی ہے اور بندوں کو گمراہی کی طرف بلاتی ہے:

﴿اَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ الْاِلٰهَہٗ هَوٰیہٗ﴾ (سورہ ہاشمہ: ۲۳)

”کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا جو اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں؟“

یہی راز ہے کہ عزیزوں کے دل اس میں خون ہو کر رہ گئے ہیں۔ ہزاروں دل اس غم سے کشتہ ہو گئے مگر یہ کافر خونخوار کتا ایک ساعت بھی نہ مرا۔ ترک خواہش بندے کو امیر بنا دیتی ہے اور خواہش کی پیروی امیر کو امیر بنا دیتی ہے۔ جس طرح زلیخانے خواہش کی پیروی کی امیر تھی، امیر ہو گئی۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے خواہش کو ترک کیا، امیر تھے امیر ہو گئے۔ (کتوبات صدی: ۳۹۷)

**(۲۹) ایک عورت نے اپنا خواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا**

مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب پسند تھا۔ بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھالیا کرتے تھے کہ کسی نے خواب دیکھا ہے؟ اگر کوئی ذکر کرتا اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب سے خوش ہوتے تو اُسے بہت اچھا لگتا۔

ایک مرتبہ ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آج ایک خواب دیکھا ہے کہ گویا میرے پاس کوئی آیا اور مجھے مدینہ لے چلا اور جنت میں پہنچا دیا، پھر میں نے ایک دھماکہ سنا جس سے جنت میں مل چل گئی۔ میں نے جو نظر اٹھا کر دیکھا

تو فلاں بن فلاں کو دیکھا۔ بارہ شخصوں کے نام لیے۔ انہی بارہ شخصوں کا ایک لشکر بنا کر نبی کریم ﷺ نے کئی دن ہوئے ایک مہم پر روانہ کیا ہوا تھا۔ فرماتی ہیں انہیں لایا گیا۔ یہ اطلس (ریٹم) کے کپڑے پہنے ہوئے تھے ان کی رگیں جوش مار رہی تھیں۔ حکم ہوا کہ انہیں نہر ”بیدخ“ میں لے جاؤ..... یا نہر بیدخ کہا..... جب ان لوگوں نے اس نہر میں غوطہ لگایا تو ان کے چہرے چودھویں رات کے چاند کی طرح چمکنے لگ گئے۔ پھر ایک سونے کی سینی (تھالی) میں گدڑی (نیم پختہ) بھجوری آئیں جو انہوں نے اپنی حسب منشاء کھائیں اور ساتھ ہی ہر طرح کے میوے جو چاروں طرف چنے ہوئے تھے، جس میوے کو ان کا جی چاہتا تھا لیتے تھے اور کھاتے تھے۔ میں نے بھی ان کے ساتھ شرکت کی اور وہ میوے کھائے۔

مدت کے بعد ایک قاصد آیا اور کہا فلاں بن فلاں اشخاص جنہیں آپ ﷺ نے لشکر میں بھیجا تھا شہید ہو گئے۔ ٹھیک بارہ شخصوں کے نام لیے اور یہ وہی نام تھے جنہیں اس بی بی صاحبہ نے اپنے خواب میں دیکھا تھا۔ حضور اکرم ﷺ نے ان نیک بخت صحابیہ کو پھر بلوایا اور فرمایا اب اپنا خواب دوبارہ بیان کرو اس نے پھر بیان کیا اور انہی لوگوں کے نام لیے جن کے نام قاصد نے لیے تھے۔ (تفسیر ابن کثیر، جلد ۵ صفحہ ۱۵۱)

﴿۳۰﴾ کھانے میں شیطانی تصرفات کے واقعات حقیقت پر مبنی ہیں مندرجہ ذیل مضمون ضرور پڑھیں

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے خود سنا کہ تمہارے ہر کام کے وقت یہاں تک کہ کھانے کے وقت بھی شیطان تم میں سے ہر ایک کے ساتھ رہتا ہے۔ لہذا جب کھانا کھاتے وقت، کسی کے ہاتھ سے لقمہ گر جائے تو اسے چاہیے کہ اس کو صاف کر کے کھالے اور شیطان کے لیے چھوڑ نہ دے۔ پھر جب کھانے سے فارغ ہو تو اپنی انگلیوں کو بھی چاٹ لے کیونکہ وہ نہیں چانتا کہ کھانے کے کس جز میں برکت ہے۔ (صحیح مسلم)

حدیث کے آخری حصہ میں تو کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹ کر صاف کر لینے کی ہدایت فرمائی گئی ہے، جس کے بارے میں ابھی عرض کیا جا چکا ہے، اور ابتدائی حصہ میں فرمایا گیا ہے کہ اگر کھاتے وقت کسی کے ہاتھ سے لقمہ گر جائے تو اس کو مستغنی اور متکبر لوگوں کی طرح نہ چھوڑ دے بلکہ ضرورت مند اور قدر دان بندہ کی طرح اس کو اٹھالے، اور اگر نیچے گر جانے کی وجہ سے اس پر کچھ لگ گیا ہو تو صاف کر کے اس لقمہ کو کھالے۔ اس میں مزید یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ کھانے کے وقت بھی شیطان ساتھ ہوتا ہے، اگر گرا ہوا لقمہ چھوڑ دیا جائے گا تو وہ شیطان کے حصہ میں آئے گا۔

جیسا کہ عرض کی جا چکا ہے فرشتے اور شیاطین اللہ کی وہ مخلوق ہیں جو یقیناً اکثر اوقات میں ہمارے ساتھ رہتے ہیں لیکن ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ رسول اللہ نے ان کے بارے میں جو کچھ بتلایا ہے اللہ تعالیٰ کے بخشے ہوئے علم سے بتلایا ہے اور وہ بالکل حق ہے، اور آپ کو کبھی کبھی ان کا اس طرح مشاہدہ بھی ہوتا تھا جس طرح ہم اس دنیا کی مادی چیزوں کو دیکھتے ہیں، جیسا کہ بہت سی احادیث سے معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے ایسی حدیثوں کو جن میں مثلاً کھانے کے وقت شیاطین کے ساتھ ہونے، اور کھانے پر اللہ کا نام نہ لیا جائے تو اس میں شیاطین کے شریک ہو جانے، یا گرے ہوئے لقمہ کا شیطان کا حصہ ہو جانے کا ذکر ہے، تو ان حدیثوں کو مجاز پر محمول کرنے کی بالکل ضرورت نہیں۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے حجۃ اللہ الباقیہ میں یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک دن ہمارے دوست (شاگرد یا مرید) ہمارے ہاں آئے، ان کے لیے کھانا لایا گیا۔ وہ کھا رہے تھے کہ ان کے ہاتھ سے ایک کڑا گر گیا اور لڑھک کر زمین میں چلا گیا۔ انہوں نے اس کو اٹھالینے کی کوشش کی اور اس کا پیچھا کیا مگر وہ ان سے اور دور ہوتا چلا گیا یہاں تک کہ جو لوگ وہاں موجود تھے (اور اس تماشے کو دیکھ رہے تھے) انہیں اس پر تعجب ہوا، اور وہ صاحب جو کھانا کھا رہے تھے انہوں نے جدوجہد کر کے آخر

کار اس کو پکڑ لیا اور اپنا نوالہ بنا لیا۔ چند روز کے بعد کسی آدمی پر ایک جنی شیطان مسلط ہو گیا اور اس آدمی کی زبان سے ہاتھیں کیں اور ہمارے اس مہمان دوست کا نام لے کر یہ بھی کہا کہ فلاں آدمی کھانا کھا رہا تھا، میں اس کے پاس پہنچا، مجھے اس کا کھانا بہت اچھا معلوم ہوا مگر اس نے مجھے نہیں کھلایا تو میں نے اس کے ہاتھ سے اچک لیا (اور گرا دیا) لیکن اُس نے مجھ سے پھر بھی چھین لیا۔

اسی سلسلہ میں دوسرا واقعہ اپنے گھر ہی کا شاہ صاحب نے یہ بیان فرمایا ہے کہ ایک دفعہ ہمارے گھر کے کچھ لوگ گاجریں کھا رہے تھے۔ ایک گاجران میں سے گر گئی۔ ایک آدمی اس پر چھپا اور اس نے جلدی سے اٹھا کر اس کو کھالیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے پیٹ اور سینہ میں سخت درد اٹھا، پھر اُس پر شیطانی جن کا اثر ہو گیا تو اس نے اس آدمی کو زبان میں بتایا کہ اس آدمی نے میری گاجری کھا کر کھالی تھی۔

یہ واقعات بیان فرمانے کے بعد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس طرح کے واقعات ہم نے بکثرت سنے ہیں، اور ان سے ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ یہ احادیث (جن میں کھانے، پینے وغیرہ کے سلسلہ میں شیاطین کی شرکت اور ان کے افعال و تصرفات کا ذکر آیا ہے) مجاز کی قبیل سے نہیں ہیں، وہی حقیقت ہے۔ واللہ اعلم۔ (معارف الحدیث جلد ۶، صفحہ ۲۱۹)

### (۳۱) سورہ بقرہ کی آخر دو آیتوں کی عجیب و غریب فضیلت

- ① صحیح بخاری میں ہے کہ جو شخص ان دونوں آیتوں کو رات کو پڑھے اُسے یہ دونوں کافی ہیں۔
- ② مسند احمد میں ہے کہ میں سورہ بقرہ کے خاتمہ کی آیتیں عرشِ تلی کے خزانہ سے دیا گیا ہوں، مجھ سے پہلے کوئی نبی یہ نہیں دیا گیا۔
- ③ صحیح مسلم شریف میں ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہیٰ تک پہنچے، جو ساتویں آسمان میں ہے..... جو چیز آسمان کی طرف چڑھتی ہے وہ ہمیں تک پہنچتی ہے پھر یہاں سے لے لی جاتی ہے..... اسے سونے کی ٹڈیاں ڈھکے ہوئے تھیں۔ وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تین چیزیں دی گئیں:
  - ◆ پانچوں وقت کی نمازیں۔
  - ◆ سورہ بقرہ کی خاتمہ کی آیتیں۔
  - ◆ اور توحید والوں کے تمام گناہوں کی بخشش۔
- ④ مسند احمد میں ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سورہ بقرہ کی ان دونوں آخری آیتوں کو پڑھتے رہا کرو، میں انہیں عرش کے نیچے کے خزانوں سے دیا گیا ہوں۔
- ⑤ ابن مردویہ میں ہے کہ ہمیں لوگوں پر تین فضیلتیں دی گئی ہیں، میں سورہ بقرہ کی یہ آخری آیتیں عرشِ تلی کے خزانوں سے دیا گیا ہوں جو یہ مجھ سے پہلے کسی کو دی گئیں نہ میرے بعد کسی کو دی جائیں گی۔
- ⑥ ابن مردویہ میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نہیں جانتا کہ اسلام کے جاننے والوں میں سے کوئی شخص آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھے بغیر سو جائے۔ یہ وہ خزانہ ہے جو تمہارے نماز صلی اللہ علیہ وسلم عرشِ تلی کے خزانہ سے دیئے گئے ہیں۔
- ⑦ ترمذی کی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان وزمین کو پیدا کرنے سے دو ہزار برس پہلے ایک کتاب لکھی، جس میں سے دو آیتیں اتار کر سورہ بقرہ ختم کی۔ جس گھر میں یہ تین راتوں تک پڑھی جائے اُس گھر کے قریب بھی شیطان نہیں جاسکتا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اسے غریب بتلاتے ہیں، لیکن حاکم اپنی مستدرک میں اسے صحیح کہتے ہیں۔
- ⑧ ابن مردویہ میں ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بقرہ کا خاتمہ اور آیت الکرسی پڑھتے تو اس دہیتے اور فرماتے کہ یہ دونوں رحمن کے عرشِ تلی کے خزانہ ہیں، اور جب آیت ﴿مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَجْحَدْ بِآيَاتِ رَبِّهِ﴾ (سورہ نساء: آیت ۱۲۳) ﴿وَإِنَّ أَلْسِنَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ﴾ (سورہ العنکبوت: آیت ۲۱) ﴿وَأَلْمَسُوا نَفْسَهُ﴾ (سورہ العنکبوت: آیت ۲۱) پڑھتے زبان سے ﴿إِنَّ إِلَهًا لَّهُمْ إِلَهًا وَاحِدًا﴾ (سورہ آل عمران: آیت ۱۷) جانتا اور ست

ہو جاتے۔

④ ابن مردویہ میں ہے کہ مجھے سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں عرش کے نیچے سے دی گئی ہیں، اور مفصل کی سورتیں اور زیادہ ہیں۔  
 ⑤ حدیث میں ہے کہ ہم حضور اکرم ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، حضرت جبرئیل امین علیہ السلام بھی تھے کہ اچانک ایک دہشت ناک بہت بڑے دھماکہ کی آواز آسمان سے آئی، حضرت جبرئیل امین علیہ السلام نے اوپر کو آنکھیں اٹھائیں اور فرمایا کہ آسمان کا یہ وہ دروازہ کھلا ہے جو آج تک کبھی نہیں کھلا تھا۔ اس سے ایک فرشتہ اتر آیا، اس نے نبی کریم ﷺ سے کہا: آپ خوش ہو جائیے! آپ کو وہ دو نور دیئے جاتے ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیئے گئے، سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔ ان میں سے ایک ایک حرف پر آپ کو نورا یا جائے گا۔ (مسلم)

پس یہ دس حدیثیں ان مبارک آیتوں کی فضیلت میں ہیں۔ (تفسیر ابن کثیر: جلد ۲ صفحہ ۲۸۳)

### ﴿۳۲﴾ مسلمان کو کپڑا پہنانے والا اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس ایک سائل آیا (اور اس نے کچھ مانگا) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس سے کہا: کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد (ﷺ) اللہ کے رسول ہیں؟ اس نے کہا: جی ہاں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے پوچھا: رمضان کے روزے رکھتے ہو؟ اس نے کہا: جی ہاں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا: تم نے مانگا ہے اور مانگنے والے کا حق ہوتا ہے، اور یہ ہم پر حق ہے کہ تم تمہارے اوپر احسان کریں۔ پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اسے کپڑا دیا اور فرمایا:

”میں نے حضور اکرم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو مسلمان بھی کسی مسلمان کو کپڑا پہناتا ہے تو جب تک اس کے جسم پر اس کپڑے کا ایک ٹکڑا رہے گا اس وقت تک وہ پہنانے والا اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔“ (حیاء: ص ۲۷۲ جلد ۲ صفحہ ۲۷۲)

### ﴿۳۳﴾ قرآن کی ایک دعا جس کے ہر جملے کے جواب میں

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ”میں نے قبول کیا، اچھا میں نے دیا“

حضرت ابو بزرہ اسلمی رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ رہا ہوں، آپ ﷺ کی آسانیاں بخشنے کا خوب مشاہدہ کر چکا ہوں۔ اگلی اُمتوں میں بڑی سختیاں تھیں، اس اُمت پر وہ احکام ہلکے کر دیئے گئے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم ﷺ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اُمت سے دل کے خیالات اور ارادوں پر گرفت نہیں کرتا جب تک وہ زبان سے بول نہ چکے یا عمل نہ کر چکے۔ فرمایا کہ میری اُمت سے خطا اور نسیان معاف کر دیا گیا۔ بھول چوک سے اگر کچھ ہو یا بحالت جبر کیا ہو تو اس کو قائل معافی سمجھا گیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے مانگنے کی ہدایت فرمائی ہے:

﴿ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَسِينَا اَوْ اٰخَطَاْنَا ، رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلٰى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ، رَبَّنَا وَلَا تَجْعَلْنَا مَثَلًا لِّقَوْمٍ ؕ وَاَعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَقِفْهُ وَكَرِّهْنَا وَقِفْهُ اَنْتَ مَوْلَانَا فَلْتُصِرْنَا عَلٰى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ ﴾ (سورہ بقرہ کی آخری آیت)

ترجمہ: ﴿اے ہمارے رب! ہم پر دارو گیر نہ فرمائیے اگر ہم بھول جائیں یا چوک جائیں۔ ﴿اے ہمارے رب! اور ہم پر کوئی سخت حکم نہ بھیجے جیسے ہم سے پہلے لوگوں پر آپ نے بھیجے تھے۔ ﴿اے ہمارے رب! اور ہم پر کوئی ایسا بار نہ ڈالنے

جس (کے اٹھانے) کی ہم میں سکت نہ ہو۔ (۳۱) اور درگزر کیجئے ہم سے (۳۰) اور بخش دیجئے ہم کو (۲۹) اور رحم کیجئے ہم پر (۲۸) اور آپ ہمارے کارساز ہیں، سو مدد کیجئے ہماری (اور غالب کیجئے ہم کو) کافر لوگوں پر۔“  
صحیح مسلم سے ثابت ہے کہ اس دعا کے ذریعہ خدا سے مانگا جاتا ہے تو ہر سوال پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”اچھا میں نے دیا، میں نے قبول کیا۔“ (تفسیر ابن کثیر جلد ۲ صفحہ ۲۳۱)

### (۳۳) مرگی کی بیماری پر صبر کرنے والی خاتون کو حضور ﷺ کی بشارت

کہتے ہیں کہ ایک عورت نبی کریم ﷺ کے پاس آئی اس کو مرگی کی بیماری تھی۔ حضور اکرم ﷺ کے پاس آ کر عرض کرنے لگی! یا رسول اللہ ﷺ! خدا تعالیٰ سے میری شفاء کے لیے دعا فرمائیے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اگر یہی تیری مرضی ہے تو میں خدا سے دعا کرتا ہوں وہ تجھے شفاء دے گا، اور اگر تو چاہے تو صبر کر اور بروز قیامت حسبِ تجھ پر سے اٹھ جائے۔ وہ کہنے لگی: اچھا میں بیماری پر صبر کر لوں گی جب کہ مجھے حساب سے آزاد کیا جاسکتا ہے۔ وہ یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے مرگی کی بیماری ہے۔ ہوش و حواس رخصت ہو جاتے ہیں جسم پر سے کپڑا کھل جاتا ہے، برہنہ ہو جاتی ہوں۔ بیماری دور نہ ہو تو نہ ہو دعا کیجئے کہ کم از کم میرا کپڑا نہ کھلنے پائے۔ آپ ﷺ نے دعا فرمائی اور پھر کبھی بحالت مرگی کپڑا اس کے جسم سے نہ ہٹا۔ (تفسیر ابن کثیر جلد ۲ صفحہ ۲۳۲)

### (۳۵) قبر سے آواز آئی کہ اے عمر رضی اللہ عنہ! خدا نے مجھے دونوں جنتیں بخشی ہیں

کہتے ہیں کہ ایک نوجوان ایک مسجد میں بیٹھا عبادت کرتا رہتا تھا۔ ایک عورت اس کی دیوانی ہو گئی، اُس کو اپنی طرف مائل کرتی رہتی تھی، حتیٰ کہ ایک دن وہ اس کے گھر آئی گیا، اب فوراً اس کو یہ آیت یاد آ گئی:  
﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَآءِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ﴾ (سورہ اعراف: آیت ۲۰۱)  
ترجمہ: ”جو لوگ خدا ترس ہیں جب اُن کو کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آ جاتا ہے تو وہ (فوراً خدا کی) یاد میں لگ جاتے ہیں، سو یکایک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔“

اور ساتھ ہی وہ خوش کھا کر گر پڑا۔ جب ہوش آیا تو پھر یہی آیت پڑھنے لگا، پڑھتے پڑھتے جان دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے اُس کے باپ سے تعزیت کی، وہ رات کو دفن کر دیا گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے بعض ساتھیوں کو لے کر اُس کی قبر پر گئے اُس کی نماز مغفرت پڑھی پھر قبر سے مخاطب ہو کر یوں بولنے لگے:

﴿وَكَمِنٌ خَآفٍ مَّقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ﴾ (سورہ زمر: ۴۶)

ترجمہ: ”اے نوجوان! جو خدا تعالیٰ سے ڈر گیا اس کے لیے خدا تعالیٰ کی طرف سے دو جنتیں ہیں۔“

اس آیت کریمہ کو سن کر قبر کے اندر سے آواز آئی کہ اے عمر رضی اللہ عنہ! خدا نے مجھے دونوں جنتیں بخشی ہیں۔ (تفسیر ابن کثیر جلد ۲ صفحہ ۲۳۲)

### (۳۶) دنیا قیامت کے دن خطرناک بڑھیا کی شکل میں لائی جائے گی

حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: دنیا قیامت کے دن ایسی بڑھیا کی شکل میں لائی جائے گی جس کے سر کے بال کچھڑی ہو رہے ہوں گے، جس کی آنکھیں نیلگوں ہوں گی، جو دانت پھاڑ رہی ہوگی، جو نہایت بد شکل ہوگی اور مخلوقات کو جھانک کر دیکھے گی۔ لوگوں سے دریافت کیا جائے گا: اسے جانتے ہو؟ لوگ جواب دیں گے، پناہ بخدا! جو ہم اسے جانیں۔



انہیں جتلیا جائے گا کہ وہ دنیا ہے جس کی خاطر تم باہم جھگڑتے تھے، رشتوں کو توڑتے تھے، ایک دوسرے پر جیتے تھے، اور باہم بغض و نفرت رکھتے تھے اور دھوکے میں رہتے تھے، پھر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ وہ پکارے گی: ”میرے رب! میرے پیر اور میرے چیلے کہاں ہیں؟“ اللہ عزوجل حکم دیں گے کہ ”اس کے مریدوں اور چیلوں کو اس کے ساتھ ملا دو۔“ (رحمۃ اللہ الولدہ جلد ۱ ص ۸۲)

### (۳۷) یہ بتا کہ تجھ سے ملوں کہاں؟

تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر	یہ میری نظر کا قصور ہے
تیری راہ گزر میں قدم قدم	کہیں عرش ہے کہیں طور ہے
یہ بجا ہے مالک بندگی	میری بندگی میں قصور ہے
یہ خطا ہے میری خطا مگر	تیرا نام بھی تو غفور ہے
یہ بتا کہ تجھ سے ملوں کہاں؟	مجھے تجھ سے ملنا ضرور ہے
کہیں دل کی شرط نہ ڈالنا	ابھی دل نگاہوں سے دور ہے

### (۳۸) بے حقیقت نام

حضرت ہود علیہ السلام نے جب تبلیغ کا آغاز کیا تو قوم کے افراد نے ان کو یہ یوقوف اور جھوٹا کہا۔ قوم کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اللہ واحد کی عبادت کے کیا معنی؟ صرف ایک ہستی اتنے بڑے نظام کائنات کا انتظام کیونکر کر سکتی ہے؟ ان لوگوں کا خیال تھا کہ کائنات کے لاکھوں شعبوں کے لیے ایک خدا کی کارساز ممکن نہیں، اس لیے انہوں نے دنیا کے مختلف امور کے لیے الگ الگ معبود قرار دے لیے تھے اور ان کے مختلف نام بھی گھڑ لیے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کی اس تجویز پر بار بار اعتراض کیا کہ اے قوم! کیا تم مجھ سے ان ناموں پر جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں۔ جن کے لیے اللہ نے کوئی سند و دلیل نازل نہیں کی ہے۔

یعنی یہ صرف نام ہی نام ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو، ان ناموں کے پیچھے کوئی طاقت و اقتدار نہیں۔ تم کسی کو بارش کا رب اور کسی کو ہوا کا، کسی کو پانی کا، کسی کو دولت کا، کسی کو صحت و بیماری کا خدا کہتے ہو، حالانکہ ان میں سے کوئی بھی فی الحقیقت کسی چیز کا بھی رب نہیں ہے۔ لیکن قوم اس حقیقت کو تسلیم کرنے پر قطعاً آمادہ نہیں ہوئی۔ انہیں کسی طرح بھی یقین نہ آتا کہ صرف ایک ہستی اتنے بڑے نظام کائنات کو کیونکر قائم رکھ سکتی ہے؟ کائنات کے لیے تقسیم کار ضروری ہے۔ یہ قوم اللہ تعالیٰ کے لیے اہل کار تجویز کرتی تھی، مگر اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتی تھی۔ کائنات کے لیے اللہ کا وجود جاننے و ماننے ہوئے بھی فرضی ہستیوں کو حاجت روائی کے لیے پکارا کرتی تھی، ان کے نام پر نذر و نیاز بھی کی جاتی تھی، ان سے ڈکھ درد میں استغاثہ و فریاد بھی کرتے تھے اور خوشی و مسرت میں ان کے نام کا و خلیفہ بھی پڑھتے تھے، اور یہ اتنا قدیم طریقہ تھا کہ اس کو چھوڑنا ان کے لیے تقریباً ناممکن ہو گیا تھا۔ اس طریقے پر ان کی پشتیں گزر گئی تھیں۔

موجودہ زمانے میں بھی بعض لوگ کسی انسان کو ”مشکل کشا“ کہتے ہیں حالانکہ مشکل کشائی کی کوئی طاقت اس کے پاس نہیں ہوتی ہے۔ کسی کو ”گنج بخش“ کے نام سے یاد کرتے ہیں، حالانکہ اس کے پاس کوئی گنج نہیں کہ کسی کو بخشے۔ کسی کو ”داتا“ کہتے ہیں حالانکہ وہ کسی شے کا مالک ہی نہیں کہ داتا بن سکے۔ کسی کو ”غریب نواز“ کہا جاتا ہے حالانکہ وہ غریب اس اقتدار میں کوئی حصہ نہیں رکھتا کہ کسی

غریب کو نواز سکے..... کسی کو ”غوث“ (فریاد رس) کہا جاتا ہے، حالانکہ وہ کوئی زور نہیں رکھتا کہ کسی کی فریاد کو پہنچ سکے..... کسی کو ”بندہ نواز“ سمجھا جاتا ہے، حالانکہ وہ خود بندہ ہے، بندگی کے بندھنوں میں کسا ہوا..... کسی کو ”دبگیر“ کہا جاتا ہے باوجود یہ کہ وہ خود دست نگر (حاجت مند) تھا کسی کی کیا دبگیری کرتا؟ درحقیقت یہ اور ایسے سب نام محض نام ہی نام ہیں جن کے پیچھے کوئی اقتدار، قدرت اور طاقت نہیں۔ جو ان کے لیے جھگڑا کرتا ہے وہ دراصل صرف ناموں کے لیے جھگڑتا ہے نہ کسی حقیقت کے لیے۔ سیدنا داؤد علیہ السلام نے اپنے قوم کو یہی حقیقت سمجھانی چاہی لیکن اتنی کھلی حقیقت سمجھی نہ گئی۔ یہ دنیا کا عجوبہ نہیں تو اور کیا ہے کہ مجبور اور بے بس انسانوں نے اپنے ہی وہم و گمان سے خدائی کا جتنا حصہ جس کو چاہا اور اس کو اپنا مذہب و ایمان بھی بنا لیا۔ فَسُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ (ہدایت کے چراغ جلد ۱ ص ۱۷۷)

### (۳۹) بُرِّی صِحْبَتِ كَا اِنْجَام

برِّی صِحْبَتِ زہر سے زیادہ مہلک ہوتی ہے جس کا انجام ذلت و رسوائی کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ اسی طرح نیک صحبت تریاق ہوتی ہے جو سینکڑوں برائیوں سے حفاظت کا ذریعہ بنتی ہے۔ عقل مند انسان کو جیسے نیکی کی تلاش رہتی ہے ویسے ہی بدی سے اجتناب (پرہیز) رہتا ہے۔ انسان کو جس طرح نیکی کی ضرورت ہے اُس سے کہیں زیادہ نیک صحبت کی ضرورت ہے، اور جس طرح بدی سے بچنا ضروری ہے اس سے کہیں زیادہ بروں کی صحبت سے بچنا ضروری ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جس نے آغوش نبوت میں پرورش پائی اور بیوی جو زندگی بھر رفیقہ حیات رہی دونوں کا کافروں کی صحبت سے کفر پر خاتمہ ہوا۔

شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مضمون کو اپنی رباعی میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس طرح ادا کیا ہے:

پہر نوح بابتاں بہ نسبت	خاندان نبوتش گم شد
سگ اصحاب کہف روزے چند	پے نیکاں گرفت مردم شد
صحبت صالح ترا صالح کند	صحبت طالح تر طالح کند

ترجمہ

- ① حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بروں کے ساتھ بیٹھا تو اس سے نبوت کا خاندان چھوٹ گیا۔
- ② اصحاب کہف کے کتے نے چند روز نیکیوں کی صحبت اختیار کی تو آدمی بن گیا۔
- ③ نیکیوں کی صحبت تمھ کو نیک بنا دیتی ہے، بروں کی صحبت تجھے برا بنا دیتی ہے۔

### (۴۰) نماز جنازہ سیکھو اور پڑھو

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
مکرم و محترم مولانا محمد یونس صاحب مدظلہ العالی  
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

بعد سلام مسنون و تحیات عرض ہے کہ بندہ کو ایک بات پوچھنی ہے کہ جب کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو شریعت میں اس کے اولیاء میں جو قریب ترین ہوتا ہے اس کو نماز جنازہ پڑھانے کا حق ہے، مثلاً بیٹا ہے یا باپ وغیرہ ہے، تو سوال ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ مطلع فرما کر ممنون و مشکور فرمائیں۔

آپ نے جو سوال کیا ہے کہ ولی اقرب کو زیادہ حق ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو میرے ذہن میں اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ نماز میں مرحوم کے لیے مغفرت کی دعا ہوتی ہے تو ولی اقرب جس در دروغم اور دل سے دعا کرے گا، اتنا کوئی اور نہیں کر سکتا، اور جب کوئی دعا دل سے کی جاتی ہے تو قبول ہوتی ہے۔ علماء نے اور بھی وجوہات لکھی ہوں گی لیکن بندہ کے ذہن میں یہ وجہ ہے۔ آج کل بہت سے لوگ نماز جنازہ نہیں جانتے، ان کو نماز جنازہ سیکھنی چاہیے۔ تاکہ وقت آنے پر مرحوم آپ کی دعائے مغفرت سے محروم نہ رہے۔

### ﴿۴۱﴾ نماز کب گناہوں سے روکتی ہے؟

بعد سلام یہ عرض ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں اور گناہوں سے بچاؤ نہیں ہوتا۔ حالانکہ قرآن میں ہے کہ نماز بے حیائیوں اور برائیوں سے روکتی ہے؟

اس کو ایک مثال سے سمجھئے کہ جس طرح دواؤں کی مختلف تاثیرات ہیں کہا جاتا ہے کہ فلاں دوا فلاں بیماری کو روکتی ہے اور واقعہ ایسا ہوتا ہے لیکن کب؟ جب دوا تون کا التزام کیا جائے۔

① دوا کو پابندی سے اس طریقہ اور شرائط کے ساتھ استعمال کیا جائے جو حکیم یا ڈاکٹر بتلائے۔

② پرہیز یعنی ایسی چیزوں سے اجتناب کیا جائے جو اس دوا کے اثرات کو زائل کرنے والی ہوں۔

اسی طرح نماز کے اندر بھی یقیناً اللہ نے ایسی روحانی تاثیر کر رکھی ہے کہ یہ انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، لیکن اسی وقت جب نماز کو سنت نبوی کے مطابق ان آداب و شرائط کے ساتھ پڑھا جائے جو اس کی صحت و قبولیت کے لیے ضروری ہیں۔

### ﴿۴۲﴾ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر میں شیطان قدم نہیں رکھ سکتا

کافی عرصہ سے پریشان ہوں، گھر میں جنات بہت پریشان کرتے ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا حل بتائیے؟

اس کا حل یہ ہے کہ:

① نماز کی پابندی، قرآن شریف کی تلاوت، صبح و شام کی مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں۔

② گھر میں داخل ہو کر گھر کے چاروں کونوں میں آیت الکرسی پڑھ کر دم کریں۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ گھر میں داخل ہوتے ہی گھر کے چاروں کونوں میں آیت الکرسی پڑھ کر دم کرتے تھے۔

③ سورہ بقرہ گھر میں پڑھیں، اس کی تائید میں تیرہ (۱۳) حدیثیں نقل کرتا ہوں۔ غور سے حدیثوں کو پڑھئے اور ان پر عمل کیجئے:

◆ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سورہ بقرہ قرآن کی کوہان ہے اور اس کی بلندی ہے۔ اس کی ایک ایک آیت کے ساتھ اتنی (۸۰) فرشتے نازل ہوتے تھے اور بالخصوص آیت الکرسی تو خاص عرشِ تلے سے نازل ہوئی اور اس سورت کے ساتھ ملائی گئی۔ سورہ یسین قرآن کا دل ہے جو شخص اسے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی اور آخرت طلبی کے لیے پڑھے اسے بخش دیا جاتا ہے۔ اس سورت کو مرنے والوں کے سامنے پڑھا کرو۔

◆ مسند احمد، صحیح مسلم ترمذی اور نسائی میں حدیث ہے کہ اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے وہاں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔

◆ ایک اور حدیث ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔

◆ ابن مردودہ میں ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: میں تم میں سے کسی کو ایسا نہ پاؤں کہ پیر پر پیر چڑھائے بڑھتا چلا جائے لیکن سورہ بقرہ نہ پڑھے۔ سنو! جس گھر میں یہ مبارک سورت پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ کھڑا ہوتا ہے، سب گھروں میں بدترین اور ذلیل ترین گھر وہ ہے جس میں کتاب اللہ کی تلاوت نہ کی جائے۔

◆ سند دارمی میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر سے شیطان گوز مارتا ہوا بھاگ جاتا ہے۔ ہر چیز کی اونچائی ہوتی ہے اور قرآن کی اونچائی سورہ بقرہ ہے۔ ہر چیز کا لباب ہوتا ہے اور قرآن کا لباب مفصل کی سورتیں ہیں۔

◆ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کا فرمان ہے کہ جو شخص سورہ بقرہ کی چار پہلی آیتیں اور آیت الکرسی اور دو آیتیں اس کے بعد کی اور تین آیتیں سب سے اخیر کی۔ یہ جملہ دس آیتیں رات کے وقت پڑھ لے اس گھر میں شیطان اس رات نہیں جاسکتا اور اس کے گھر والوں کو اس دن شیطان یا کوئی اور بری چیز ستا نہیں سکتی۔ یہ آیتیں مجنون پر پڑھی جائیں تو اس کا دیوانہ پن بھی دور ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم ﷺ فرماتے ہیں: جس طرح ہر چیز کی بلندی ہوتی ہے قرآن کی بلندی سورہ بقرہ ہے۔ جو شخص رات کے وقت اسے اپنے گھر میں پڑھے تین راتوں تک شیطان اس گھر میں نہیں جاسکتا اور دن کو اگر گھر میں پڑھ لے تو تین دن تک شیطان اس گھر میں قدم نہیں رکھ سکتا۔

◆ طبرانی، ابن حبان، ابن مردودہ، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ میں ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے ایک چھوٹا سا لشکر ایک جگہ بھیجا اور اس کی سرداری آپ ﷺ نے انہیں دی جنہوں نے فرمایا تھا کہ مجھے سورہ بقرہ یاد ہے۔ اس وقت ایک شریف شخص نے کہا: میں بھی اسے یاد کر لیتا ہوں، لیکن مجھے ڈر لگا کہ ایسا نہ ہو میں اس پر عمل نہ کر سکوں۔ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: قرآن سیکھو، قرآن کو پڑھو۔ جو شخص اسے سیکھتا ہے پھر اس پر عمل بھی کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے مشک بھرا ہوا برتن جس کی خوشبو ہر طرف مہک رہی ہے۔ اسے سیکھے ہوئے سو جانے والے کی مثال اس برتن کی سی ہے جس میں مشک تو بھری ہوئی ہے لیکن اوپر سے منہ بند کر دیا گیا ہے۔

◆ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ حضرت اُسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ رات کو سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی۔ اُن کا گھوڑا جوان کے پاس ہی بندھا ہوا تھا، اس نے اچھلنا کودنا بدکنا شروع کیا۔ آپ نے قرأت چھوڑ دی، گھوڑا بھی سیدھا ہو گیا۔ آپ نے پھر پڑھنا شروع کیا، گھوڑے نے پھر بدکنا شروع کیا۔ آپ نے پھر پڑھنا موقوف کیا، گھوڑا بھی ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ تیسری مرتبہ بھی یہی ہوا۔ چونکہ ان کے صاحبزادے یحییٰ گھوڑے کے پاس ہی لیٹے ہوئے تھے اس لیے ڈر معلوم ہوا کہ کہیں بچہ کو چوٹ نہ آجائے، قرآن کا پڑھنا بند کر کے اُسے اٹھالیا۔ آسمان کی طرف دیکھا کہ جانور کے بدکنے کی کیا وجہ ہے؟ صحیح حضور اکرم ﷺ کی خدمت میں آکر واقعہ بیان کرنے لگے۔ آپ سنتے جاتے اور فرماتے جاتے ہیں: اُسید! پڑھتے چلے جاؤ۔ حضرت اُسید نے کہا: حضور! تیسری مرتبہ کے بعد تو یحییٰ کی وجہ سے پڑھنا میں نے بالکل بند کر دیا۔ اب جو نگاہ اٹھی تو دیکھتا ہوں کہ ایک نورانی چیز سایہ دارا بر (بادل) کی طرح ہے اور اس میں چراغوں کی طرح کی روشنی ہے۔ بس میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ اوپر کو اٹھ گئی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: آپ جانتے ہو یہ کیا چیز تھی؟ یہ فرشتے تھے جو تمہاری آواز کو سن کر قریب آگئے تھے، اگر تم پڑھنا موقوف نہ کرتے تو وہ صبح تک یوں ہی رہتے اور ہر شخص انہیں دیکھ لیتا کسی سے نہ چھپتے۔

◆ اس کے قریب قریب واقعہ حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہما کا ہے کہ ایک مرتبہ لوگوں نے حضور اکرم ﷺ سے کہا کہ گذشتہ رات ہم نے دیکھا کہ ساری رات حضرت ثابت رضی اللہ عنہما کا گھر نور کا بقعہ (مکان) بنا رہا ہے اور چمکدار روشن چراغوں سے جگمگا رہا۔ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: شاید انہوں نے رات کو سورہ بقرہ پڑھی ہوگی۔ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا: سچ ہے، رات کو

میں سورہ بقرہ کی تلاوت میں مشغول تھا۔

◆ نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ سیکھو، اس کا لینا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت ہے۔ جادوگر اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ پھر کچھ دیر چپ رہنے کے بعد فرمایا: سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران سیکھو، یہ دونوں نورانی سورتیں ہیں اپنے پڑھنے والے پر سائبان یا بادل یا پرندوں کے جھنڈ کی طرح قیامت کے روز سایہ کریں گی۔

◆ مسند احمد کی ایک اور حدیث میں ہے کہ قرآن اور قرآن پڑھنے والوں کو قیامت کے دن بلوایا جائے گا، آگے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہوں گی بادل کی طرح یا سائبان کی طرح، یا پرندوں کے جھنڈ کی طرح۔ یہ دونوں پروردگار سے ڈٹ کر سفارش کریں گی۔

◆ ایک شخص نے اپنی نماز میں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھی، اس کے فارغ ہونے کے بعد حضرت کعب نے فرمایا: خدا کی قسم! جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان میں خدا کا وہ نام ہے کہ اس نام کے ساتھ جب کبھی اُسے پکارا جائے تو وہ قبول فرماتا ہے۔ اب اس شخص نے حضرت کعب سے عرض کیا کہ مجھے بتلائیے کہ وہ نام کون سا ہے؟ حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے اسے انکار کیا اور فرمایا: اگر میں بتا دوں تو خوف ہے کہ کہیں تو اس نام کی برکت سے ایسی دعا نہ مانگ لے جو میری اور تیری ہلاکت کا سبب بن جائے۔

◆ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: تمہارے بھائی کو خواب میں دکھلایا گیا کہ گویا لوگ ایک بلند وبالا پہاڑ پر تڑھ رہے ہیں، پہاڑ کی چوٹی پر دوسرے درخت ہیں، اور ان میں سے آوازیں آرہی ہیں کہ کیا تم اس سے کوئی سورہ بقرہ کا پڑھنے والا ہے، جب کوئی کہتا ہے کہ ہاں تو وہ دونوں درخت اپنے پھلوں سمیت اس کی طرف جھک آتے ہیں اور یہ اس کی شاخوں پر بیٹھ جاتا ہے، اور وہ اسے اوپر لے لیتے ہیں۔ (تفسیر ابن کثیر جلد ۱ صفحہ ۵۹)

### (۲۳) ایک دعا جس کا ثواب اللہ نے چھپا رکھا ہے

ابن ماجہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ایک شخص نے ایک مرتبہ کہا: (رَبِّ لَكَ الْفَعْدُ كَمَا بَدَيْتُنِي لِجَلَالِ وَجْهِكَ وَعَظِيمِ سُلْطَانِكَ) فرشتے گھبرا گئے کہ ہم اس کا اکتنا اجر لکھیں۔ اخیر اللہ تعالیٰ سے انہوں نے عرض کیا کہ تیرے ایک بندے نے ایک ایسا کلمہ کہا ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ اسے کس طرح لکھیں؟ پروردگار نے باوجود جاننے کے ان سے پوچھا کہ اس نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے بیان کیا کہ اس نے یہ کلمہ کہا ہے۔ فرمایا: تم یونہی اسے لکھ لو میں آپ سے اپنی ملاقات کے وقت اس کا اجر دے دوں گا۔ (تفسیر ابن کثیر جلد ۱ صفحہ ۳۶)

### (۲۴) مجامعت کی رکاوٹ دور کرنے کیلئے مجرب عمل

■ ایک خفیہ مرض میں مبتلا ہوں، کسی کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتا، اور ظاہر کرتے ہوئے بھی شرم محسوس ہوتی ہے، اور زندگی بہت پریشانی میں گزر رہی ہے۔ آپ براہ کرم میرا نام نہ بتائیں اور اس کا حل بتائیں۔ وہ خفیہ مرض یہ ہے کہ بیوی سے روک دیا گیا ہوں۔ ڈاکٹری بہت علاج کر دیا، مرض نہیں ہے، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مجھ پر جادو کا اثر ہے۔

■ بندہ عاجل نہیں ہے، مگر حدیث شریف میں یا اقوال سلف میں کوئی بات بندہ کو مل جاتی ہے، بندہ بنا دیتا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے: حضرت وہب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بیری کے سات پتے لے کر سل بٹے پر کوٹ لیے جائیں اور پانی ملا لیا جائے پھر آیت الکرسی پڑھ کر اس پر دم کر دیا جائے اور جس پر جادو کیا گیا ہے اُسے تین گھونٹ پلا دیا جائے، اور باقی پانی سے غسل کر دیا جائے، انشاء اللہ جادو کا

اثر جاتا رہے گا۔ یہ عمل خصوصیت سے اس شخص کے لیے بہت ہی اچھا ہے جو اپنی بیوی سے روک دیا گیا ہو۔

جادو کو دور کرنے اور اس کے اثر کو زائل کرنے کے لیے سب سے اعلیٰ چیز ﴿قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ اور ﴿قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ کی سورتیں ہیں۔ حدیث میں ہے کہ ان جیسا کوئی تعویذ نہیں۔ اسی طرح آیت الکرسی بھی شیطان کو دفع کرنے میں اعلیٰ درجہ کی چیز ہے۔ (تفسیر ابن کثیر جلد ۱ صفحہ ۱۷۷)

### (۲۵) حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب کیوں ملا؟

ابن ابی حاتم میں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت تھی کہ مہمانوں کے ساتھ کھائیں۔ ایک دن آپ مہمان کی جھوٹی لکھی۔ کوئی نہ ملا، واپس آئے، گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک شخص کھڑا ہوا ہے۔ پوچھا اے اللہ کے بندے! تجھے میرے گھر میں آنے کی اجازت کس نے دی؟ اس نے کہا: اس مکان کے حقیقی مالک نے۔ پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں ملک الموت ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کے پاس اس لیے بھیجا ہے کہ اُسے یہ بشارت سنادوں کہ خدا نے اُسے اپنا خلیل کر لیا ہے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا: پھر تو مجھے ضرور بتائیے کہ وہ بزرگ کون ہیں؟ خدا کی قسم گو وہ زمین کے کسی دور کے گوشے میں ہوں، میں ضرور ان سے جا کر ملاقات کروں گا۔ پھر اپنی ہاتھی زندگی ان کے قدموں میں ہی گزار دوں گا۔ یہ سن کر حضرت ملک الموت نے کہا: وہ شخص خود آپ ہیں۔ آپ نے پھر دریافت فرمایا: کیا سچ کچ میں ہی ہوں؟ فرشتے نے کہا: ہاں! آپ ہی ہیں آپ نے پھر دریافت کیا کہ کیا آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ کس بنا پر کن امور پر اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل بنایا؟ فرشتے نے فرمایا: اس لیے کہ تم ہر ایک کو دیتے رہتے ہو اور کسی سے خود طلب نہیں کرتے۔ اور روایت میں ہے کہ جب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل خدا کے ممتاز اور مبارک لقب سے خدا نے ملقب کیا تب سے ان کے دل میں اس قدر خوف خدا اور بیعت رب سامگی کہ ان کے دل کا اچھلنا دور سے اس طرح سنا جاتا تھا جس طرح فضا میں پرندوں کی پرواز کی آواز۔ (تفسیر ابن کثیر جلد ۱ صفحہ ۱۷۷)

### (۲۶) حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ کے احوال و اقوال

① مہمان کے ساتھ جو کھانا کھایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا حساب نہیں لیتا:

مہمان نوازی اسلامی زندگی کی ایک امتیازی خصوصیت ہے، اس میں عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ معروف تھے، ان کا دسترخوان ان کے احباب، اعزہ، پڑوسی اور اجنبی سب کے لیے خوان یعنی کھانا تھا۔ وہ کبھی بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے، اس بارے میں کسی نے ان سے پوچھا تو فرمایا کہ مہمان کے ساتھ جو کھانا کھایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا حساب نہیں لیتا۔ سال کے پندرہ حصہ میں وہ روزہ رکھتے تھے۔ جس دن وہ روزہ سے ہوتے اس دن دوسروں کو عمدہ عمدہ کھانا پکوا کر کھلاتے۔ ابواسحاق کا بیان ہے کہ کسی سفر جہاد یا حج میں جا رہے تھے تو ان کے ساتھ دو اونٹنیوں پر بھنی ہوئی مرغیاں لدی ہوئی تھیں۔ یہ سب سامان ان مسافروں کا تھا جو ان کے ہم سفر تھے۔ (سیر صحابہ: جلد ۸ صفحہ ۲۱۹)

② صرف ایک قلم لوٹانے کیلئے ابن مبارک رضی اللہ عنہ نے سینکڑوں میل کا سفر کیا:

حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ نے ایک بار شام میں کسی شخص سے قلم مستعار لیا۔ اتفاق سے قلم اس شخص کو واپس کرنا بھول گئے۔ جب ”مرو“ پہنچے تو قلم پر نظر پڑی۔ ”مرو“ سے شام پھر واپس گئے اور قلم صاحب قلم کو واپس کیا۔  
تہا یہ واقعہ ان کی اخلاقی زندگی کا بہترین مظہر ہے، اور دنیا کی اخلاقی تاریخ کا غیر معمولی واقعہ ہے۔ ”مرو“ شام سے سینکڑوں میل

دور ہے اور پھر یہ واقعہ اس زمانہ کا ہے جب رسل رسال کے ذرائع صرف گھوڑے اونٹ اور خچر ہوتے تھے۔ (سیر صحابہ جلد ۸ صفحہ ۳۱۸)

﴿۳﴾ مسلمان کے دل کو اچانک خوش کرو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ بخش دے گا:

ایک شخص سات سو (۷۰۰) درہم کا مقروض تھا۔ کچھ لوگوں نے عبد اللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ اس کا قرض ادا کر دیں۔ انہوں نے منشی کو لکھا کہ فلاں شخص کو سات ہزار درہم دے دیئے جائیں۔ یہ تحریر لے کر مقروض ان کے منشی کے پاس پہنچا، اس نے خط پڑھ کر حامل رقعہ سے پوچھا کہ تم کو کتنی رقم چاہیے، اس نے کہا: میں سات سو کا مقروض ہوں، اور اسی رقم کے لیے لوگوں نے ابن مبارک رضی اللہ عنہ سے میری سفارش کی ہے۔ منشی کو خیال ہوا کہ عبد اللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ سے سبقت قلم ہوگئی ہے، اور وہ سات سو کے بجائے سات ہزار لکھ گئے ہیں۔ منشی نے حامل رقعہ سے کہا کہ خط میں کچھ غلطی معلوم ہوئی ہے، تم بیٹھو! میں ابن مبارک رضی اللہ عنہ سے دوبارہ دریافت کر کے تم کو رقم دیتا ہوں۔ اس نے عبد اللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ خط لانے والا تو صرف سات سو درہم کا طالب ہے اور آپ نے سات ہزار دینے کی ہدایت کی ہے، سبقت قلم تو نہیں ہوگئی ہے؟ انہوں نے جواب میں لکھا کہ جس وقت تم کو یہ خط ملے اسی وقت اس شخص کو تم چودہ ہزار درہم دے دو۔ منشی نے ازراہ ہمدردی ان کو دوبارہ لکھا کہ اگر اسی طرح آپ اپنی دولت لٹاتے رہے تو جلد ہی سارا سرمایہ ختم ہو جائے گا۔ منشی کی یہ ہمدردی اور خیر خواہی ان کو ناپسند ہوئی اور ذرا سخت لہجہ میں لکھا کہ اگر تم میرے ماتحت و مامور ہو تو میں جو حکم دیتا ہوں اس پر عمل کرو، اور اگر تم مجھے اپنا مامور و محکوم سمجھتے ہو تو پھر تم آ کر میری جگہ پر بیٹھو، اس کے بعد جو تم حکم دو گے میں اس پر عمل کروں گا۔ میرے سامنے مادی دولت و ثروت سے زیادہ قیمتی سرمایہ آخرت کا ثواب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد گرامی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ:

”جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کو اچانک اور غیر متوقع طور پر خوش کر دے اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا۔“

اس نے مجھ سے سات سو درہم کا مطالبہ کیا تھا، میں نے سوچا کہ اس کو سات ہزار ملیں گے تو یہ غیر متوقع رقم پا کر بہت زیادہ خوش ہوگا، اور فرمان نبوی کے مطابق میں ثواب کا مستحق ہوں گا۔ دوبارہ رقعہ میں چودہ ہزار انہوں نے اس لیے کرایا کہ غالباً لینے والے کو سات ہزار کا علم ہو چکا تھا، اس لیے اب زائد ہی رقم اس کے لیے غیر متوقع ہو سکتی ہے۔ (سیر صحابہ جلد ۸ صفحہ ۳۲۲)

﴿۴﴾ باخبر ہو کر بے خبر ہونا عبد اللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ کی چھپی ہوئی نیکی:

محمد بن عیسیٰ کا بیان ہے کہ عبد اللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ طرطوس (شام) اکثر آیا کرتے تھے، راستہ میں ”رقہ“ پڑتا تھا (خلفائے عباسیہ عموماً ”رقہ“ میں گرمی گزارتے تھے، یہ مقام نہایت ہی سرسبز اور شاداب ہے)۔

یہاں جس سرائے میں وہ قیام کرتے تھے، اس میں ایک نوجوان بھی رہا کرتا تھا، جب تک ان کا قیام رہتا یہ نوجوان ان سے سماع حدیث کرتا اور ان کی خدمت میں لگا رہتا تھا۔ ایک بار یہ پہنچے تو اس کو نہیں پایا۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ قرض کے سلسلہ میں قید کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے قرض کی مقدار اور صاحب قرض کے بارے میں معلوم کیا تو پتہ چلا کہ وہ فلاں شخص کا دس درہم کا مقروض تھا۔ اس نے دعویٰ کیا تھا اور عدم ادائیگی کی صورت میں وہ قید کر دیا گیا۔

عبد اللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ نے قرض خواہ کو تنہائی میں بلایا اور اس سے کہا کہ بھائی اپنے قرض کی رقم مجھ سے لے لو اور اس نوجوان کو رہا کر دو۔ یہ کہہ کر اس سے یہ قسم بھی لی کہ وہ اس کا تذکرہ کسی سے نہ کرے گا۔ اس نے اسے منظور کر لیا۔ ادھر آپ نے اس کی رہائی کا انتظام کیا اور اسی رات رخت سفر باندھ کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ نوجوان رہا ہو کر سرائے میں پہنچا تو اس کو آپ کی آمد و رفت کی اطلاع ملی۔ اس کو ملاقات نہ ہونے کا اتنا رنج ہوا کہ اسی وقت طرطوس کی طرف روانہ ہو گیا۔ کئی منزل کے بعد آپ سے ملاقات ہوئی تو آپ نے اس کا

حال دریافت کیا۔ اس نے اپنے قید ہونے اور رہا ہونے کا ذکر کیا۔ آپ نے پوچھا: رہائی کیسے ہوئی؟ بولا کہ کوئی اللہ کا بندہ سرانے میں آکر ٹھہرا تھا، اسی نے اپنی طرف سے قرض ادا کر کے مجھے رہا کر دیا، مگر میں اسے جانتا نہیں فرمایا کہ اللہ کا شکر کرو اس مصیبت سے تمہیں نجات ملی۔ محمد بن عیسیٰ کا بیان ہے کہ ان کی وفات کے بعد قرض خواہ نے اس واقعہ کو لوگوں سے بیان کیا۔ (سری صحابہ جلد ۸ صفحہ ۲۲۳)

۵ ابن مبارک رضی اللہ عنہ کئی لوگوں کو اپنے خرچے سے حج کراتے تھے:

ان کی زندگی کا یہ خاص معمول زیارت حرمین شریف بھی تھا۔ قریب قریب ہر سال اس سعادت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے۔ سفر حج کے موقع پر ان کا معمول تھا کہ سفر سے پہلے اپنے تمام رفقاء سفر سے کہتے کہ اپنی اپنی رقم سب لوگ میرے حوالہ کر دیں۔ جب وہ لوگ حوالہ کر دیتے تو ہر ایک کی رقم کو الگ الگ ایک تھیلی میں ہر ایک کا نام لکھ کر صندوق میں بند کر دیتے، اور پورے سفر میں جو کچھ خرچ کرنا ہوتا وہ اپنی جیب سے کرتے۔ ان کو اچھے سے اچھا کھانا کھلاتے، ان کی دوسری ضرورت پوری کرتے۔ جب فریضہ حج ادا کر کے مدینہ منورہ پہنچتے تو رفقاء سے کہتے کہ اپنے اہل و عیال کے لیے جو چیزیں پسند ہوں خرید لیں۔ سفر حج ختم کر کے جب گھر واپس آتے تو تمام رفقاء سفر کی دعوت کرتے، پھر وہ صندوق کھولتے جس میں لوگوں کی رقمیں رکھی ہوئی تھیں اور جس تھیلی پر جس کا نام ہوتا اس کے حوالہ کر دیتے۔ راوی کا بیان ہے کہ زندگی بھر ان کا یہی معمول رہا۔ (سری صحابہ جلد ۸ صفحہ ۲۲۳)

۶ ابن مبارک رضی اللہ عنہ نے ایک ساتھی کو درد بھرا خط لکھا کہ تم خود مجنون ہو گئے جبکہ تم مجنوںوں کے معالج تھے:

ابن علیہ رضی اللہ عنہ اس وقت کے ممتاز محدث اور امام تھے۔ وہ عبد اللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ کے خاص احباب میں تھے۔ تجارت میں بھی وہ ان کے شریک تھے۔ اٹھنا بیٹھنا بھی ساتھ تھا، مگر انہوں نے بعض امراء کی مجالس میں جانا شروع کر دیا تھا۔ عبد اللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا، اور ایک روز مجلس میں آئے تو ان سے مخاطب نہیں ہوئے۔ ابن علیہ رضی اللہ عنہ بہت پریشان ہوئے، مجلس میں تو کچھ نہ کہہ سکے۔ گھر پہنچے تو بڑے اضطراب کی حالت میں عبد اللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ کو یہ خط لکھا:

”اے میرے سردار! مدتوں سے آپ کے احسانات میں ڈوبا ہوا ہوں۔ قسم ہے خدا کی! ان احسانات کو میں اپنے متعلقین کے حق میں برکت شمار کرتا تھا۔ آپ نے مجھ کو نہ جانے کیوں اپنے سے جدا کر دیا؟ اور مجھ کو میرے ہم نشینوں میں کم رتبہ بنا دیا۔ میں آپ کے دولت کدہ پر حاضر ہوا، لیکن آپ نے میری طرف توجہ تک نہ کی۔ اس عدم توجہی سے مجھے آپ کی ناراضگی کا علم ہوا اور مجھے اب تک معلوم نہیں ہو سکا کہ میری کون سی غلطی آپ کے غضب و غصہ کو سبب بنی ہے۔

اے میرے محترم! میری آنکھوں کے نور! میرے استاذ! خدا کی قسم! آپ نے کیوں نہیں بتلایا کہ وہ کیا خطا ہوئی جس کی بنا پر میں آپ کی ان تمام نوازشوں اور کرم فرمائیوں سے جو میری غایت تمنا تھیں محروم ہو گیا۔“

عبد اللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ نے یہ پراثر خط پڑھا مگر ان پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ چند اشعار جو اب ان کے پاس لکھ کر بھیج دیئے۔ ان اشعار کا ترجمہ درج ذیل ہے:

- ◆ اے علم کو ایک ایسا بازمانے والے جو فریبوں کا مال سمیٹ کر کھا جاتا ہے۔
- ◆ تم نے دنیا اور اس کی لذتوں کے لیے ایسی تدبیر کی ہے جو دین کو مٹا کر رکھ دے گی۔
- ◆ تم خود مجنون ہو گے جبکہ تم مجنوںوں کا علاج کرتے تھے۔
- ◆ وہ تمام روایتیں آپ کی کیا ہوئیں جو ابن عوف اور ابن سیرین رضی اللہ عنہما سے آپ بیان کرتے ہیں۔



◆ وہ روایتیں کہاں گئیں جن میں سلاطین سے ربط و ضبط رکھنے کی وعید آئی ہے۔ اگر تم کہو میں اس پر مجبور کیا گیا تو ایسا کیوں ہوا؟  
ابن علیہ رضی اللہ عنہ کے پاس قاصد یہ اشعار لے کر پہنچا اور انہوں نے پڑھا تو ان پر رقت طاری ہو گئی اور اسی وقت اپنے عہدہ سے استعفیٰ لکھ کر بھیج دیا۔ (سیر صحابہ جلد ۸ ص ۳۲۷)

۴ ابن مبارک رضی اللہ عنہ کے استقبال کے لیے پورا شہر ٹوٹ پڑا:

ایک بار عبداللہ مبارک رضی اللہ عنہ رقد (خلفائے عباسیہ عوامارۃ میں گرمی گزارتے تھے، یہ مقام نہایت ہی سرسبز و شاداب ہے) آئے، اس کا علم ہوا تو پورا شہر استقبال کے لیے ٹوٹ پڑا۔ ہارون رشید کی ایک لونڈی محل سے یہ تماشہ دیکھ رہی تھی، اس نے لوگوں سے دریافت کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ لوگوں نے اسے بتایا کہ خراسان کے ایک عالم عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ یہاں آئے ہیں، انہی کے استقبال کے لیے یہ مجمع اُٹا آیا ہے۔ اس نے بے ساختہ کہا کہ:

(هُوَ الْمَلِكُ لَا مَلِكَ هَارُونَ الَّذِي لَا يَجْتَمِعُ النَّاسُ عَلَيْهِ إِلَّا بِشُرُوطٍ وَأَعْوَابٍ)

ترجمہ: ”حقیقت میں خلیفہ وقت یہ ہیں، ہارون نہیں، اس لیے کہ اس کے گرد کوئی مجمع بغیر پولیس، فوج اور اعوان و انصار اکٹھا نہیں ہوتا۔“ (سیر صحابہ جلد ۸ ص ۳۲۹)

۵ خواص کے بگاڑ سے عوام میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے:

امت محمدیہ صلوات اللہ علیہا کے پانچ طبقے ہیں جب ان میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے تو سارا ماحول بگڑ جاتا ہے ایک روز مسیب بن واضح نے عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تم کو معلوم ہے کہ عام بگاڑ اور فساد کیسے پیدا ہوتا ہے؟ مسیب نے کہا کہ مجھے علم نہیں۔ فرمایا کہ خواص کے بگاڑ سے عوام میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے پھر فرمایا کہ امت محمدیہ کے پانچ طبقے ہیں، جب ان میں فساد اور خرابی پیدا ہو جاتی ہے تو سارا ماحول بگڑ جاتا ہے۔

۱ علماء: یہ انبیاء کے وارث ہیں مگر جب دنیا کی حرص و طمع میں پڑ جائیں تو پھر کس کو اپنا مقتدا بنایا جائے؟

۲ تجار: یہ اللہ کے امین ہیں جب یہ خیانت پر آئیں تو پھر کس کو امین سمجھا جائے؟

۳ مجاہدین: یہ اللہ کے مہمان ہیں جب یہ مال غنیمت کی چوری شروع کر دیں تو پھر دشمن پر فتح کس کے ذریعے حاصل کی جائے۔

۴ زہاد: یہ زمین کے اصل بادشاہ ہیں، جب یہ لوگ برے ہو جائیں تو پھر کس کی بیروی کی جائے؟

۵ حکام: یہ مخلوق کے نگران ہیں، جب یہ گلہ بان ہی بھیریا صفت ہو جائے تو گلہ کو کس کے ذریعے بچایا جائے۔

(۴۷) کیا عورتیں مکرو فریب کی پیکر ہیں؟

بعد اسلام یہ عرض ہے کہ بہت سے لوگ عورتوں کو طعنہ دیتے ہیں اور مکرو فریب کی پیکر بتلاتے ہیں اور دلیل میں قرآن کی آیت ﴿إِنَّ كَيْدَ كُنَّ عَظِيمًا﴾ (سورہ یوسف: ۲۸) (بے شک تمہاری چال بازی بہت بڑی ہے) پیش کرتے ہیں۔ کیا یہ صحیح ہے؟ برائے کرم مطلع فرمائیں۔ (ایک دینی بہن)

یہ عزیز مصر کا قول ہے جو اس نے اپنی بیوی کو حرکت قیوم (بری حرکت) دیکھ کر عورتوں کی بابت کہا ہے، اللہ نے سورہ یوسف میں اس کا ذکر کیا ہے۔ یہ نہ اللہ کا قول ہے اور نہ ہر عورت کے بارے میں صحیح ہے، اس لیے اسے ہر عورت پر چسپاں کرنا اور اس بنیاد پر عورت

کو مکرو فریب کا پتلا باور کرنا قرآن کا ہرگز منشاء نہیں ہے۔ واللہ اعلم

### (۲۸) دین میں زیادہ باریکیاں نکالنا کس کیلئے مناسب ہے اور کس کیلئے نامناسب

یہاں ایک بات سمجھ لینی ضروری ہے اور وہ یہ کہ شہادت کے بارے میں زیادہ باریکیاں نکالنا اس شخص کے لیے مناسب ہے۔ جس کے اور حالات بھی بلند ہوں۔ اس کے ورع و تقویٰ کا معیار بھی اونچا ہو۔ لیکن جو شخص کھلم کھلا محرمات کا ارتکاب کرے اس کے بعد باریکیاں نکال نکال کر متقی بننے کا شوق رکھے تو اس کے لیے یہ صرف ناموزوں ہی نہیں بلکہ قابل مذمت ہوگا۔

ایک مرتبہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ایک عراقی شخص نے پوچھا کہ اگر حالت احرام میں پھر مار دے تو اس کی کیا جزا دینی چاہیے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو تو شہید کر ڈالا، اب مجھ سے پھر کے خون کا تلوای پوچھنے چلے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ دنیا میں وہ میرے دو پھول ہیں۔

اسی طرح بشر بن الحارث سے مسئلہ پوچھا گیا کہ ایک شخص کی والدہ یہ کہتی ہے کہ تو اپنی بی بی کو طلاق دے دے۔ اب اسے کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا: اگر وہ شخص اپنی والدہ کے تمام حقوق ادا کر چکا ہے اور اس کی فرماں برداری اس معاملہ کے سوا اور کوئی بات باقی نہیں رہی تو اسے طلاق دے دینی چاہیے، اور اگر ابھی کچھ اور مراطل بھی باقی ہیں تو طلاق نہ دینی چاہیے۔ (ترجمان السنہ جلد ۲ صفحہ ۳۳۳)

### (۲۹) ایک پیچیدہ مقدمہ اور اس کا فیصلہ

یہ واقعہ امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے دور مبارک کا ہے۔ دو مسافر کافی چلنے کے بعد تھک گئے تو انہیں شدت سے بھوک محسوس ہوئی۔ دونوں ایک سایہ دار درخت کے نیچے اطمینان سے بیٹھ گئے اور اپنے اپنے توشے دسترخوان پر رکھ دیے۔ ایک کے پاس پانچ روٹیاں تھیں اور دوسرے کے پاس تین۔ ابھی کھانا شروع بھی نہیں کیا تھا کہ ایک تیسرا مسافر پاس سے گزرا، اس نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا اور اسے کھانے کی دعوت دی، وہ بے تکلف ہو کر شریک ہو گیا۔ تینوں نے روٹیاں برابر کھائیں۔ کھانا ختم ہونے کے بعد وہ صاحب کھڑے ہوئے اور ان دونوں کے پاس آٹھ درہم رکھتے ہوئے کہا: میں نے آپ دونوں صاحبان کا جو کھانا تناول کیا ہے اس کے عوض یہ درہم رکھ لیجئے۔

وہ صاحب تو دام دے کر چلے گئے مگر ان دونوں حضرات کے درمیان ہزارے کو لے کر تنازع (جھگڑا) شروع ہو گیا۔ جن صاحب کی پانچ روٹیاں تھیں ان کا کہنا تھا کہ ”پانچ درہم میرے اور تین تمہارے۔“ انہوں نے یہ فیصلہ شاید اس لیے کیا کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ رقم دینے والے نے آٹھ درہم اسی لیے دیئے کہ ہر روٹی کے عوض ایک درہم دیا جائے۔ اس لیے پانچ روٹی کے مالک اپنے حق میں پانچ درہم رکھنا چاہتے تھے اور دوسرے صاحب کو تین روٹی کے عوض تین درہم دینا چاہتے تھے۔

مگر دوسرے صاحب تین درہم لینے کے لیے تیار نہیں تھے، ان کا کہنا تھا کہ یہ رقم چونکہ دونوں کو ایک ساتھ دی ہے، اس لیے اس کے برابر حصے کیجئے اس طرح میرے حصے میں چار درہم آنے چاہئیں۔ وہ چار درہم لینے کے لیے بھند تھے۔

آخر باہمی گفت و شنید (کہنے سننے) سے مسئلہ حل نہ ہو سکا تو وہ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں فیصلے کے لیے حاضر ہوئے۔ دونوں نے پورا واقعہ تفصیلاً بیان کر دیا۔ پورا واقعہ سننے کے بعد آپ نے تین روٹی والے سے فرمایا کہ جب تمہارا ساتھی تین درہم تمہیں دینے کے لیے تیار ہے تو تم تین درہم پر راضی ہو جاؤ۔ لیکن وہ چار پر ہی اڑ گیا۔ آپ نے اس سے فرمایا: ویسے وہ تمہیں تین درہم

دے کرتم پر احسان ہی کرنا چاہتا ہے، ورنہ انصاف کا تقاضہ یہ ہے کہ تمہیں ایک ہی درہم ملنا چاہیے۔ اس شخص نے بہت ہی ادب سے کہا: سبحان اللہ! اگر انصاف کا یہی تقاضہ ہے تو مجھے اس کی وجہ بتائیے میں اسے قبول کر لوں گا۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے سمجھاتے ہوئے فرمایا: روٹیاں آٹھ تھیں، اور کھانے والے تین۔ ظاہر ہے کہ تین پر آٹھ برابر تقسیم نہیں ہو سکتے۔ اس لیے مانا یہ جائے گا کہ سب نے برابر روٹیاں کھائی ہیں تو سب کو مساوی کرنے کے لیے روٹیوں کے حصہ یا کٹڑے مانے جائیں۔ ہر روٹی کو تین کٹڑوں میں تقسیم کیا جائے۔ اس طرح آٹھ روٹیوں کے چوبیس (۲۴) کٹڑے ہوئے۔ اس حساب سے ہر شخص نے روٹی کے آٹھ کٹڑے کھائے۔ اب چونکہ تمہاری تین روٹیاں تھیں، اس لیے اس کے نو (۹) کٹڑے ہوئے، جس میں سے آٹھ کٹڑے تم نے کھائے، باقی بچا ایک کٹڑا جو تیسرے شخص نے کھایا۔ تمہارے ساتھی کے پاس پانچ روٹیاں تھیں، ان کے پندرہ کٹڑے ہوئے جن میں سے آٹھ کٹڑے اس نے کھائے، باقی بچے سات کٹڑے جو تیسرے صاحب نے کھائے۔ تو معلوم ہوا کہ اس شخص نے تمہاری روٹی کا صرف ایک کٹڑا ہی کھایا، اس لیے تمہارا حق صرف ایک درہم ہے، اور تیسرے نے اس ساتھی کی روٹی کے سات کٹڑے کھائے اس لیے اس کا حق سات درہم ہے۔ وہ شخص اس فیصلہ پر راضی ہو گیا۔ غور فرمائیے! مقدمہ کتنا پیچیدہ تھا اور کتنی آسانی سے فیصلہ ہو گیا۔ (تاریخ اطفال المسیوٹی ص ۵۹)

(۵۰) یہودیوں کے شر سے بچنے کے لئے حضرت جبرئیل علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک دعاء سکھائی

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ جب یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے جمع ہوئے تو حضرت جبرئیل علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے فرمایا کہ یہ دعا پڑھو:

(اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الْوَاحِدِ الْأَحَدِ الْأَعْوَجِ، اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ الصَّمَدِ أَدْعُوكَ، اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ الْعَظِيمِ  
الْوَتْرِ الَّذِي مَلَأَ الْأَرْضَ كَانَتْ كُلُّهَا إِلَّا مَا فَرَجْتَ عَنِّي مَا أَسَمَيْتُ فِيهِ وَمَا أَصْبَحْتُ فِيهِ)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دعاء مانگی تو حضرت جبرئیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ میرے بندے کو میرے پاس لے آؤ۔ (الاربع فی الفرج للمسیوٹی ص ۴۱)

### (۵۱) کافر سات آنتوں میں کھاتا ہے اور مؤمن ایک آنت میں کھاتا ہے

حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک سال قحط پڑا تو دیہاتی لوگ مدینہ منورہ آنے لگے۔ حضور اکرم ﷺ کے فرمانے پر ہر صحابی ان میں سے ایک آدمی کا ہاتھ پکڑ کر لے جاتا اور اسے اپنا مہمان بنا لیتا، اور اسے رات کا کھانا کھلاتا۔ چنانچہ ایک رات ایک دیہاتی آیا (اسے حضور اکرم ﷺ نے ہاں لے آئے)۔ حضور اکرم ﷺ کے پاس تھوڑا سا کھانا اور کچھ دودھ تھا وہ دیہاتی یہ سب کچھ کھاپی گیا اور اس نے حضور اکرم ﷺ کے لیے کچھ نہ چھوڑا۔ حضور اکرم ﷺ ایک یا دو راتیں اور اس کو ساتھ لاتے رہے اور وہ ہر روز سب کچھ کھا جاتا۔ اس پر میں نے عرض کیا: اے اللہ! اس دیہاتی میں برکت نہ کر کیونکہ یہ حضور ﷺ کا سارا کھانا کھا جاتا ہے اور حضور اکرم ﷺ کے لیے کچھ نہیں چھوڑتا۔ پھر وہ مسلمان ہو گیا اور اسے پھر حضور اکرم ﷺ نے ایک رات ساتھ لے کر آئے، اس رات اس نے تھوڑا سا کھانا کھایا۔ میں نے حضور اکرم ﷺ سے عرض کیا یہ وہی آدمی ہے (جو پہلے سارا کھانا کھالیا کرتا تھا)؟ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: (ہاں! یہ وہی ہے لیکن پہلے کافر تھا اور اب مسلمان ہو گیا ہے) کافر سات آنتوں میں کھاتا ہے اور مؤمن ایک آنت میں کھاتا ہے۔ (حیاء الصحابہ جلد ۲ صفحہ ۲۶۳)

## (۵۲) فتنوں کے دور میں امت کو کیا کرنا چاہیے کامیابی کا راز جوش کے ساتھ ہوش میں چھپا ہوا ہے

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ زمانہ قریب ہے جبکہ مسلمان کے لیے سب سے بہتر چند بکریاں ہوں گی، جنہیں لے کر وہ اپنے دین کو فتنوں سے بچانے کے لیے پہاڑوں کی چوٹیوں اور جنگلوں میں بھاگ جائے گا۔

(بخاری و مسلم)

مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو فتنوں سے محفوظ رہا وہ بڑا خوش نصیب ہے (تین بار فرمایا) اور جو شخص ان میں پھنس گیا پھر اس نے ان پر صبر کیا اس کے تو کیا ہی کہنے۔ (ابوداؤد)

تشریح: فتنوں کی ذات میں بڑی کشش ہوتی ہے۔ بے دین نا سمجھی سے اُن کو دین سمجھ کر ان کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں، اور جو دین دار ہیں وہ ان میں شرکت کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں۔ مثلاً ان کی مثال ان متعدی امراض کی سی ہوتی ہے جو فضائے عالم میں ذرعتہ پھیل جائیں۔ ایسی فضاء میں جا جا کر گھسنا صحت کی قوت کی علامت نہیں، بلکہ اس سے لاپرواہی کی بات ہے، عافیت اسی میں ہوتی ہے کہ اس فضاء ہی سے نکل بھاگے۔ اس حقیقت پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مستقل باب قائم کر کے متنبہ کیا ہے۔ اس کے بعد گزشتہ فتنوں کی تاریخ پر نظر ڈالو گے تو تم کو سلف صالح کا یہی طرز عمل نظر آئے گا کہ جب کبھی ان کے دور میں فتنوں نے منہ نکالا، اگر وہ ان کو کچل نہیں سکے، تو ان میں کودنے کے بجائے ہمیشہ اُن سے کنارہ کش ہو گئے۔

اگر امت اسی ایک حدیث کو سمجھ لیتی ہے تو کبھی فتنے زور نہ پکڑتے اور اگر بے دین اس میں مبتلا ہو جاتے تو کم از کم دینداروں کا دین تو ان کی معذرتوں سے محفوظ رہ جاتا۔ مگر جب اس حدیث کی رعایت نہ رہی تو بے دینوں نے فتنوں کو ہوا دی اور دینداروں نے اصلاح کی خاطر ان میں شرکت کی، پھر ان کی اصلاح کرنے کے بجائے خود اپنا دین بھی کھو بیٹھے۔ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ۔

امت میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا ہے، اس کے بارے میں یہ خاص طور پر تاکید کی گئی ہے کہ کوئی شخص اس کو دیکھنے کے لیے نہ جائے کہ اس کے چہرے کی نحوست بھی مومن کے ایمان پر اثر انداز ہوگی۔

یہ یاد رکھنا چاہیے کہ زبان اور لہجہ دونوں کا جہاد اس امت کے فرائض میں سے ہے۔ مگر یہاں وہ زمانہ مراد ہے جبکہ خود مسلمانوں میں انتشار پیدا ہو جائے۔ حق و باطل کی تمیز باقی نہ رہے اور اصلاح کا قدم اٹھانا اُلٹا فساد کا باعث بن جائے۔

چنانچہ جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے صحابہ کے اندرونی مشاجرات میں جنگ کی شرکت کے لیے کہا گیا اور ان کے سامنے یہ آیت پڑھی گئی:

﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ﴾ (سورہ انفال: ۳۹)

ترجمہ: ”کافروں سے اس وقت تک جنگ کرتے رہو جب تک کہ فتنہ نہ رہے۔“

تو انہوں نے فرمایا: فتنوں کے فرو کرنے کے لیے جو جنگ تھی وہ ہم کر چکے، اب تم اُس جنگ کا آغاز کر رہے ہو جس سے اور فتنے پیدا ہوں گے۔ اپنی مادی اور روحانی طاقت کا اندازہ کئے بغیر فتنوں سے زور آزمائی کرنا صرف ایک جذبہ ہے اور فتنوں کو کچلنے کے لیے پہلے سامان مہیا کر لینا عقل اور شریعت کا حکم ہے۔ جذبات جب انجام نبی سے یکسر خالی ہوں تو وہ بھی صرف دماغی فلسفہ میں مبتلا ہو کر رہ جاتے ہیں، کامیابی کا راز جوش کے ساتھ ہوش میں چھپا ہوا ہے۔ (ترجمان القرآن جلد ۲ صفحہ ۲۳۰)

### (۵۳) زبان کا عالم دل کا جاہل اس امت کیلئے خطرناک ہے

حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بصرہ کا وفد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا۔ ان میں اخف بن قیس رضی اللہ عنہ بھی تھے، سب کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جانے دیا، لیکن حضرت اخف بن قیس رضی اللہ عنہ کو روک لیا اور انہیں ایک سال روک رکھا۔ اس کے بعد فرمایا: تمہیں معلوم ہے میں نے تمہیں کیوں روکا تھا؟ میں نے اس وجہ سے روکا تھا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس منافق سے ڈرایا جو عالمانہ زبان والا ہو، مجھے ڈر ہوا کہ شاید تم بھی ان میں سے ہو، لیکن (میں نے ایک سال پرکھ کر دیکھ لیا کہ) انشاء اللہ تم ان میں سے نہیں۔

حضرت ابو عثمان نہدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو منبر پر فرماتے ہوئے سنا کہ اس منافق سے بچو جو عالم ہو۔ لوگوں نے پوچھا: منافق کیسے عالم ہو سکتا ہے؟ فرمایا: بات تو حق کہے گا لیکن عمل منکرات پر کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ہم یہ بات کہا کرتے تھے کہ اس امت کو وہ منافق ہلاک کرے گا جو زبان کا عالم ہو۔

حضرت ابو عثمان نہدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو منبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ”اس امت پر سب سے زیادہ ڈر اس منافق سے ہے جو عالم ہو۔“ لوگوں نے پوچھا: ”امیر المؤمنین! منافق کیسے عالم ہو سکتا ہے؟“ فرمایا: ”وہ زبان کا تو عالم ہوگا لیکن دل اور عمل کا جاہل ہوگا۔“ (حیاء الصحابہ جلد ۳ صفحہ ۲۰۴)

### (۵۴) حضرت لقمان علیہ السلام کی حکمت کا عجیب قصہ

قرآن پاک میں ہے:

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ إِذِ اشْكُرْ لِلَّهِ﴾ (سورہ لقمان: ۱۲)

”اور ہم نے یقیناً لقمان کو حکمت دی تھی کہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر کر۔“

حضرت لقمان علیہ السلام اللہ کے نیک بندے تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے حکمت یعنی عقل و فہم اور دینی بصیرت میں ممتاز مقام عطا فرمایا تھا۔ ان سے کسی نے پوچھا: تمہیں یہ فہم و شعور کس طرح حاصل ہوا؟ انہوں نے فرمایا: راست بازی، امانت داری اختیار کرنے اور بے فائدہ باتوں سے اجتناب کی وجہ سے۔

ان کی حکمت کا ایک واقعہ یہ بھی مشہور ہے کہ یہ غلام تھے ان کے آقا نے کہا کہ بکری ذبح کر کے اس کے دو بہترین حصے لاؤ۔ چنانچہ وہ زبان اور دل نکال کر لے گئے۔ ایک مدت کے بعد پھر آقا نے اس سے کہا کہ بکری ذبح کر کے اس کے سب سے بدترین حصے لاؤ، وہ پھر وہی زبان اور دل لے کر آئے۔ پوچھنے پر انہوں نے بتلایا کہ زبان اور دل اگر گھج ہوں تو یہ سب سے بہترین ہیں، اور اگر یہ گھڑ جائیں تو ان سے بدتر کوئی چیز نہیں۔ (تفسیر ابن کثیر)

### (۵۵) ایک دینی پیشوا کی ایک گناہ کی وجہ سے گھر بیٹھے رسوائی

ایک عورت بکریاں چرایا کرتی تھی اور ایک راہب کی خانقاہ تلے رات گزارا کرتی تھی، اس کے چار بھائی تھے۔ ایک دن شیطان نے راہب کو گدگدایا، وہ اس سے زنا کر بیٹھا، اسے حمل رہ گیا۔ شیطان نے راہب کے دل میں (یہ بات) ڈالی کہ اب بڑی رسوائی ہوگی، اس سے بہتر یہ ہے کہ اسے مار ڈال اور کہیں دفن کر دے، تیرے تقدس کو دیکھتے ہوئے تیری طرف تو کسی کا خیال بھی نہ جائے گا اور اگر بالفرض پھر بھی کچھ پوچھ گچھ ہو تو جھوٹ موٹ کہہ دینا، بھلا کون ہے جو تیری بات کو غلط جانے؟ اس کی سمجھ میں بھی یہ بات آگئی۔ ایک روز رات

کے وقت موقع پر اس عورت کو جان سے مار ڈالا اور کسی اُجڑی جگہ زمین میں دبا آیا۔

اب شیطان اس کے چاروں بھائیوں کے پاس پہنچا، اور ہر ایک کے خواب میں اے سارا واقعہ کہہ سنایا، اور اس کے ذہن کی جگہ بھی بتادی۔ صبح جب یہ جاگے تو ایک نے کہا کہ آج کی رات تو میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے، ہمت نہیں پڑتی کہ آپ سے بیان کروں، دوسرے نے کہا نہیں کہو تو سہی، چنانچہ اس نے اپنا پورا خواب بیان کیا کہ اس طرح فلاں عابد نے اس (کی بہن) سے بدکاری کی، پھر جب حمل ٹھہر گیا تو اسے قتل کر دیا اور فلاں جگہ اس کی لاش دبا آیا۔ ان تینوں میں سے ہر ایک نے کہا: مجھے بھی یہی خواب آیا ہے۔ اب تو انہیں یقین ہو گیا کہ سچا خواب ہے۔

چنانچہ انہوں نے جا کر حکومت کو اطلاع دی اور بادشاہ کے حکم سے اس راہب کو خانقاہ سے ساتھ لیا، اور اس جگہ پہنچ کر زمین کھود کر اس کی لاش برآمد کی۔ کامل ثبوت کے بعد اب اسے شاہی دربار میں لے چلے۔ اس وقت شیطان اس کے سامنے ظاہر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سب میرے کئے کو تیک (کرتوت) ہیں، اب بھی اگر تو مجھے راضی کر لے تو جان بچا دوں گا۔ اس نے کہا: جو تو کہے۔ کہا مجھے سجدہ کر لے۔ اس نے یہ بھی کر دیا۔ پس پورا بے ایمان بنا کر شیطان کہتا ہے: ”میں تجھ سے بری ہوں، میں تو اللہ تعالیٰ سے جو تمام جہانوں کا رب ہے ڈرتا ہوں۔“ چنانچہ بادشاہ نے حکم دیا اور پادری صاحب کو قتل کر دیا گیا۔ (تفسیر ابن کثیر جلد ۵ صفحہ ۳۳۲، ۳۳۳)



## (۵۶) ایک دیہاتی کے پچیس سوالات

از

### نبی کریم ﷺ کے جوابات

- |   |   |                                    |   |
|---|---|------------------------------------|---|
| فرمایا قناعت اختیار کرو، امیر ہو جاؤ گے۔                | ■ | میں امیر (غنی) بننا چاہتا ہوں؟     | ■ |
| تقویٰ اختیار کرو عالم بن جاؤ گے۔                        | ■ | میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں؟ | ■ |
| خلق کے سامنے ہاتھ پھیلانا بند کر دو با عزت بن جاؤ گے۔   | ■ | عزت والا بننا چاہتا ہوں؟           | ■ |
| لوگوں کو نفع پہنچاؤ۔                                    | ■ | اچھا آدمی بننا چاہتا ہوں؟          | ■ |
| جسے اپنے لیے اچھا سمجھتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو۔ | ■ | عادل بننا چاہتا ہوں؟               | ■ |
| اللہ پر توکل (بھروسہ) کرو۔                              | ■ | طاقت ور بننا چاہتا ہوں؟            | ■ |

- سوال اللہ کے دربار میں خاص درجہ چاہتا ہوں؟ جواب کثرت سے ذکر کرو۔
- سوال رزق کی کشادگی چاہتا ہوں؟ جواب ہمیشہ با وضو ہو۔
- سوال دعاؤں کی قبولیت چاہتا ہوں؟ جواب حرام نہ کھاؤ۔
- سوال ایمان کی تکمیل چاہتا ہوں؟ جواب اخلاق اچھے کر لو۔
- سوال قیامت کے روز اللہ سے گناہوں سے پاک ہو کر ملنا چاہتا ہوں؟ جواب جنابت کے بعد فوراً غسل کیا کرو۔
- سوال گناہوں میں کمی چاہتا ہوں؟ جواب کثرت سے استغفار کرو۔
- سوال قیامت کے روز نور میں اٹھنا چاہتا ہوں؟ جواب ظلم کرنا چھوڑ دو۔
- سوال میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ پر رحم کرے؟ جواب اللہ کے بندوں پر رحم کرو۔
- سوال میں چاہتا ہوں کہ اللہ میری پردہ پوشی کرے؟ جواب لوگوں کی پردہ پوشی کرو۔
- سوال رسوائی سے بچنا چاہتا ہوں؟ جواب زنا سے بچو۔
- سوال میں چاہتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کا محبوب بن جاؤں؟ جواب جو اللہ اور اس کے رسول کو محبوب ہو اسے اپنا محبوب بنا لو۔
- سوال اللہ کا فرمانبردار بننا چاہتا ہوں۔ جواب فرانس کا اہتمام کرو۔
- سوال احسان کرنے والا بننا چاہتا ہوں؟ جواب اللہ کی اس طرح بندگی کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو یا جیسے وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔
- سوال یا رسول اللہ ﷺ کیا چیز گناہوں سے معافی دلائے گی؟ جواب آنسو..... عاجزی..... اور بیماری۔
- سوال کیا چیز دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کرے گی؟ جواب دنیا کی مصیبتوں پر صبر۔
- سوال اللہ کے غصہ کو کیا چیز ٹھنڈا کرے گی؟ جواب چپکے چپکے صدقہ..... اور صلہ رحمی۔
- سوال سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ جواب برے اخلاق..... اور بخل۔
- سوال سب سے بڑی اچھائی کیا ہے؟ جواب اچھے اخلاق..... تواضع..... اور صبر۔
- سوال اللہ کے غصے سے بچنا چاہتا ہوں؟ جواب لوگوں پر غصہ کرنا چھوڑ دو۔ (کنز العمال، منہاج)



## اسمائِ حسنیٰ کا تذکرہ

اس میں اس کے ناموں کے ساتھ ان کے فضائل اور اہمیت کے بارے میں بھی اور ان کے ناموں کے ساتھ ان کے فضائل اور اہمیت کے بارے میں بھی

۴

### انتخاب و ترتیب

حضرت مولانا محمد یونس صاحب پالن پوری

خلف الرشید

سیخ اعظم حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری

### تصحیح و نظر ثانی

حضرت مولانا مفتی محمد امین صاحب پالن پوری

استاذ حدیث و فقہ دارالعلوم دیوبند



سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا﴾ (سورہ اعراف: ۱۸۰)

”اور اللہ کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، سو تم (ہمیشہ) اس کو اچھے ناموں سے پکارو۔“



بخاری اور مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

(إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا: مِائَةٌ إِلَّا وَاحِدَةً، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ)

”بے شک اللہ تعالیٰ کے ننانوے (۹۹) یعنی ایک کم سو (۱۰۰) نام ہیں، جس نے ان کو محفوظ کر لیا (یعنی ان کو یاد کیا اور ان پر ایمان لایا) وہ جنت میں پہنچ گیا۔“



## اسمائِ حسنیٰ پڑھنے والوں کیلئے اہم ہدایات

① انسان اپنی فطری کمزوری کی وجہ سے ترغیب کا محتاج ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جب اسے پتہ چلتا ہے میرے پیارے رب کے پیارے نام ہیں اور اس نے ان ناموں کے ذریعہ خود کو پکارنے اور مانگنے کا حکم دیا ہے اور حضور اکرم ﷺ نے فرمایا ہے کہ جو ان ناموں کو یاد کر لے گا، جنت میں جائے گا۔ تو فوراً ان ناموں (اسما حسنیٰ) میں لگن ہو جاتا، اور اپنی زندگی کے ہر سانس کو ان ناموں کے ذکر سے معطر کر کے ان خزانوں کو پالیتا جو ان ناموں کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ مگر اکثر انسان ایسا نہیں کرتے۔ ان ہی کی ترغیب کے لیے اسماءِ حسنیٰ کے کچھ خواص جمع کر دیئے گئے ہیں، یہ خواص قرآن و سنت سے ماخوذ نہیں ہیں، بلکہ ماضی میں اللہ تعالیٰ نے ان پیارے ناموں سے جو منافع کمائے انہوں نے ان کو لکھ دیا، تاکہ دوسرے لوگ بھی ان منافع کو حاصل کر سکیں۔ یہ خواص اسماءِ حسنیٰ کے فوائد کا احاطہ نہیں کر سکتے، بلکہ یہ تو ایسا ہے جس طرح جنت کے پھلوں کو سونگھا کر جنت کی ترغیب دی جائے، خوشبو اپنی جگہ مگر ذائقہ یقیناً اس سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ پس یہ خواص خوشبو کی طرح ہیں، مگر جو یقین و ایمان کے ساتھ ان اسماء کو پڑھے گا وہ انشاء اللہ اس ذائقے کو پائے گا، جو خوشبو سے بہت افضل و اعلیٰ ہے۔

② اسمائِ حسنیٰ کے بعض خواص کو دیکھ کر لوگ حیرانی سے پوچھتے ہیں کہ چند بار یہ نام پڑھ کر اتنا بڑا فائدہ کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ ایسے لوگوں کے لیے بس اتنی گزارش ہے کہ وہ دوبارہ اپنے کو یہ بات یاد دلائیں کہ آخر یہ نام کس ذات کے ہیں؟ کیا اس سے بڑھ کر یا اس سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ نہیں! ہرگز نہیں! تو پھر شک، شبہ اور خلجان کی کیا بات ہے؟ بے شک اسماءِ حسنیٰ کے ورد سے ان خواص سے بڑھ کر فوائد ملتے ہیں، کوئی کر کے تو دیکھے۔

③ عدد اور تعداد کا اپنا ایک اثر ہے۔ حکیم کا نسخہ پڑھیں، چھٹانک، تولے اور ماشے کے فرق سے دوا کی تاثیر بدل جاتی ہے، حالانکہ چیز وہی ہوتی ہے مگر مقدار اور وزن اس کے اثر کو تبدیل کر دیتے ہیں۔

ایک انسان کوئی بات ایک بار سن کر یاد کر لیتا ہے مگر دوسرے انسان کو یہی بات تین بار سننے سے یاد ہوتی ہے۔ حالانکہ زبان اور کان ایک جیسے ہیں، ایک شخص کتنی قوت برداشت رکھتا ہے، اس کا تعلق بھی بعض اوقات عدد اور مقدار سے ہوتا ہے۔ اسی طرح گرمی، سردی، آگ اور پانی کے درجہ حرارت اور درجہ برودت (ٹھنڈک) کے اپنے آثار ہوتے ہیں۔ آج کل کے ریڈیائی آلات بھی عدد اور مقدار کے اثر کا برملا اعلان کرتے ہیں۔ حضور اکرم ﷺ نے بعض دعاؤں اور کلمات کے ساتھ ان کی تعداد بھی متعین فرمائی، جو عدد اور مقدار کے مؤثر ہونے کی قوی، مضبوط اور معتبر دلیل ہے۔

④ انسانوں نے دین و دنیا کو الگ الگ کر دیا جبکہ اسلام میں یہ دونوں اکٹھے چلتے ہیں۔ پس جن اسماء کے خواص میں کچھ دنیاوی فوائد لکھے ہیں ان کے ساتھ ان اسماء میں بے شمار دینی فوائد بھی ہیں۔ اسی طرح جن اسماء کے دینی خواص لکھے ہیں ان کے ورد میں بے شمار دنیاوی فوائد بھی ہیں۔

⑤ اللہ تعالیٰ مؤمن کو وہ دین دیتا ہے جس میں دنیا کی بھلائی بھی ہوتی ہے اور اسے وہی دنیا دیتا ہے جو اس کے دین کے لیے نافع ہوتی ہے۔  
⑥ نفع دینا اور نقصان سے بچانا یہ سب صرف اور صرف اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اس لیے وہی ورد، وظیفہ اور دعا پڑھا کر ہوتی ہے جس کا مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہو باقی خواص کا درجہ ثانوی ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہوگا تو سارے خواص و فوائد نصیب ہوں گے، لیکن

اگر وہ راضی نہ ہو تو پھر کیا اور؟ کیا وظیفہ؟ اور کیا خواص؟

④ پاک چیزوں کو ناپاک مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے تو سوائے ہلاکت کے اور کچھ ہاتھ نہیں آتا، کھانا کتنا ہی قیمتی کیوں نہ ہو، اگر ناک میں ڈالا جائے یا کان میں گھسایا جائے تو وہ فائدہ نہیں نقصان دے گا۔ اسی طرح اسماء حسنیٰ کے ذریعے ناپاک مقاصد حاصل کرنے والے اپنی تباہی کے سوا اور کچھ نہیں پاتے۔ لہذا اس بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور اس کے ناموں کے ذریعے اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔

⑤ خاص خاص مقاصد کے لیے خاص خاص اسماء پڑھنا کچھ برائیاں، لیکن کام کی بات یہ ہے کہ پہلے ان اسماء کو اختیار کیا جائے جو نفس کی اصلاح، مخلوق سے بے نیازی اور محبت الہی کے خصوصی خواص رکھتے ہیں، پھر باقی اسماء کو پڑھا جائے اور اس بات کو ہرگز نہ بھلایا جائے کہ یہ سارے اسماء اعلیٰ وارفع ہیں اس لیے ان تمام کے ورد سے غفلت نہ کی جائے بلکہ نثر یا نظم کی صورت میں تمام اسماء کے ورد کو معمول بنایا جائے۔

⑥ یہ سارے اسماء گھر کے بچوں کو بھی یاد کرائے جائیں اور ان کے ذکر سے اپنے گھروں اور محفلوں کو ایمانی نور اور روحانی سکون بخشا جائے۔

⑦ گناہوں کے مارے اور مصیبتوں کے پےسے ہوئے، پریشان حال، دکھی اور زخم خوردہ مسلمان جنہیں ایک طرف ان کا اثر دھا صفت نفس امارہ ہر گھڑی ڈستا ہے اور انہیں ذلت و پستی کے گڑھوں میں ہر آن گھسیٹتا ہے، دوسری طرف شیطان ان پر ہر دم اپنے سوار اور پیادہ دستوں کے ذریعے حملہ آور ہوتا ہے اور ان کو اسلام اور انسانیت کے سیدھے راستے سے ہٹا کر ظلم، تکبر، شہوت پرستی، بد فعلی، حرام خوری، حرام کاری اور حرام نبی کے جہنمی راستوں کی طرف کھینچتا ہے، اور انہیں اپنی خلقت و فطرت تک تبدیل کرنے اور حزب الشیطان کے ناری ٹولے میں شامل ہونے کی دعوت دیتا ہے، نفس اور شیطان کی مار سے خستہ حال ان مسلمانوں کو دنیاوی مصائب، پریشانیاں، فقر و فاقہ اور ذلت بھی اپنا شکار بناتی ہے..... یہ بے چارے کہاں جائیں؟

یہ مجموعہ اسی سوال کا جواب ہے۔ انسان کو پیدا کرنے والا اور اس سے محبت کرنے والا اللہ جل شانہ جو رحیم بھی ہے اور کریم بھی ہے، قوی بھی ہے اور رحمان بھی ہے، وود بھی ہے اور قیوم بھی ہے، اس در ماندہ پریشان حال، زخم خوردہ، دکھی اور خستہ حال انسان کو تھام سکتا ہے۔ بندہ ذرا ادھر توجہ کرے تو دیکھے اور اسماء حسنیٰ کے خوبصورت باغ کی سیر تو کرے، انشاء اللہ ہر قدم پر چوکنے گا اور خوشی سے مست ہو کر اس باغ کے پھلوں، پھولوں اور سیر گاہوں سے سکون پائے گا، ہر لمحہ سیر ہو گا اور جتنا سیر ہوتا جائے گا، اسی قدر اس کی روحانی تشنگی بڑھتی چلی جائے گی۔ کاش بندے اسماء حسنیٰ کو یاد کریں!!

### صفات خداوندی کا جاننا کیوں ضروری ہے؟

قرآن کریم میں اسماء حسنیٰ اور صفات خداوندی کو جگہ جگہ نہایت وضاحت اور شرح و بسط کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، کیونکہ اس کے بغیر خالق کائنات کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی جو انسانوں کی اصلاح کے لیے سب سے زیادہ سود مند اور مفید چیز ہے۔ مثلاً جو لوگ یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ رزاق ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو ماننے کے باوجود بہت سی چیزوں کو رزاق سمجھنے لگتے ہیں۔ کوئی باپ کو، کوئی شوہر کو، کوئی بادشاہ کو رزاق خیال کرتا ہے، تو کوئی کھیتی اور دکاں کو رزاق سمجھتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ شَدِيدُ الْعِقَابِ اور ذُو الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے کے باوجود جرائم پیشہ ہو جاتے ہیں اور گناہوں سے باز نہیں آتے، اور جو لوگ یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ غَفُورٌ رَحِيمٌ اور اَرْحَمُ الرَّحِمِينَ ہیں، وہ رحمت خداوندی سے نا امید اور مایوس ہو جاتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اتنے بڑے پاپی ہیں کہ ہماری ہرگز بخشش نہیں ہو سکتی، پھر وہ بے لگام ہو جاتے ہیں۔ الغرض اسماء الہی اور صفات خداوندی کی معرفت کے بغیر انسانوں

کی اصلاح اور نفوس کا تزکیہ نہیں ہو سکتا، اس لیے صفات خداوندی کا جاننا نہایت ضروری ہے۔

### اسمائے حسنیٰ کی تعداد اور ان کو یاد کرنے کا عظیم ترین فائدہ

بخاری اور مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

(إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا: مِائَةً إِلَّا وَاحِدَةً، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ) (مشکوٰۃ شریف ص ۱۹۹)

ترجمہ: ”بے شک اللہ تعالیٰ کے نانوںے (۹۹) یعنی ایک کم سو (۱۰۰) نام ہیں، جس نے ان کو محفوظ کر لیا (یعنی ان کو یاد کیا اور ان پر ایمان لایا) وہ جنت میں پہنچ گیا۔“

یہاں یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے صرف نانوںے (۹۹) نام نہیں ہیں، قرآن و حدیث میں ان ناموں کے علاوہ اور بہت سے اچھے اچھے نام ہیں، نیز دیگر آسمانی کتابوں میں بھی اللہ تعالیٰ کے کئی نام بیان کئے گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے کچھ نام ایسے ہیں جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بخاری اور مسلم شریف کی مذکورہ بالا روایت میں صرف ان ناموں کا اجمالی تذکرہ ہے جن کو محفوظ کرنے والا جنت کا مستحق بن جاتا ہے، اس لیے یہ مانتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کے بے شمار نام اور صفات ہیں ان ناموں کو محفوظ کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے، یعنی سمجھ کر ان ناموں کو یاد کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کو ان اوصاف و کمالات کے ساتھ متصف جانتا اور ماننا چاہئے تاکہ آپ کا عقیدہ درست ہو، نیز ان ناموں کو بار بار پڑھنا چاہیے اور ان کا خوب ورد کرنا چاہیے تاکہ آپ فضائل اور اوصاف حمیدہ سے آراستہ اور رذائل و گناہوں سے پاک صاف ہو جائیں۔ یہی ان ناموں کو یاد کرنے کا سب سے بڑا فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو رذائل سے پاک اور فضائل سے آراستہ فرما کر جنت الفردوس نصیب فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین!

### ترمذی شریف کی روایت اور اس کا ترجمہ

بخاری اور مسلم شریف کی روایت میں اللہ تعالیٰ کے جن ناموں کا اجمالی تذکرہ ہے اس کی تفصیل ترمذی شریف کی روایت میں ہے،

اس لیے پہلے ترمذی شریف کی روایت اور اس کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے، پھر نام کے معنی اور اس کے خواص ذکر کئے جائیں گے۔ انشاء اللہ العزیز:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم

إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا، مِائَةً غَيْرَ وَاحِدَةٍ مِنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ۔ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ، الرَّحِيمُ، الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ، السَّلَامُ، الْمُؤْمِنُ، الْمُهِيبُ، الْعَزِيزُ، الْجَبَّارُ، الْمُتَكَبِّرُ، الْخَالِقُ، الْبَارِئُ، الْمُصَوِّرُ، الْغَفَّارُ، الْفَهَّارُ، الْوَهَّابُ، الرَّزَّاقُ، الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ، الْغَابِضُ، الْبَاسِطُ الْخَافِضُ، الرَّافِعُ، الْمُعِزُّ، الْمُنِذِرُ، السَّمِيعُ، الْبَصِيرُ، الْحَكِيمُ، الْعَدْلُ الْخَلِيفُ الْخَبِيرُ، الْحَلِيمُ، الْعَظِيمُ، الْغَفُورُ، الشَّكُورُ، الْعَلِيُّ، الْكَبِيرُ، الْحَفِيفُ الْمَقِيتُ الْحَسِيبُ الْجَلِيلُ، الْكَرِيمُ، الرَّقِيبُ الْمَجِيبُ، الْوَاسِعُ الْحَكِيمُ، الْوَدُودُ الْمَجِيدُ الْبَاقِعُ الشَّهِيدُ الْحَقُّ، الْوَكِيلُ، الْقَوِيُّ الْمَتِينُ، الْوَلِيُّ، الْحَمِيدُ الْمُحْسِنُ، الْمُبْدِي، الْمُعِيدُ، الْمَحْيِ، الْمُمِيتُ الْحَيُّ، الْقَيُّومُ، الْوَاحِدُ الْمَاجِدُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ الْقَائِدُ الْمُقْتَدِرُ الْمُقَدِّمُ، الْأَوَّلُ، الْآخِرُ، الظَّاهِرُ، الْبَاطِنُ، الْوَالِي، الْمُتَعَالَى، الْبَرُّ، الْعَوَابُ، الْمُنْتَقِمُ، الْعَفْوُ، الرَّؤُوفُ، مَالِكُ الْمَلِكِ، ذُو الْجَلْلِ وَالْإِكْرَامِ، الْمُقْسِطُ، الْجَامِعُ، الْغَنِيُّ، الْمَغْنِيُّ، الْمَالِعُ، الْضَارُّ، النَّافِعُ، النَّوَّارُ، الْهَادِي، الْبَدِيعُ، الْبَاقِي، الْوَكِيلُ الرَّشِيدُ، الْعَبِيدُ) (ترمذی شریف جلد ۲ صفحہ ۱۸۹)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ کے ننانوے (۹۹) ایک کم سو (۱۰۰) نام ہیں، جس نے ان ناموں کو محفوظ کیا وہ جنت میں پہنچ گیا۔

① یعنی اللہ یعنی حقیقی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ② بڑا مہربان ہے ③ نہایت رحم والا ہے ④ تمام جہانوں کا بادشاہ ہے ⑤ نہایت پاک ہے ⑥ اور تمام عبود و کمزوریوں سے سالم ہے ⑦ اسن و ایمان دینے والا ہے ⑧ تمام مخلوق کی نگہبانی کرنے والا ہے ⑨ کامل غلبہ والا ہے، کبھی کسی سے مغلوب نہیں ہوتا ⑩ بگڑے ہوئے کاموں اور حالات کو درست کرنے والا ہے ⑪ بڑی عظمت والا ہے ⑫ جان ڈالنے والا ہے ⑬ اور پیدا کرنے والا ہے ⑭ صورت بنانے والا ہے ⑮ بہت معاف کرنے والا ہے ⑯ سب کو قابو میں رکھنے والا ہے ⑰ بہت دینے والا ہے ⑱ خوب روزی پہنچانے والا ہے ⑲ فتح بخش اور رزق و رحمت کے دروازے کھولنے والا ہے ⑳ خوب جاننے والا ہے ㉑ روزی تنگ کرنے والا ㉒ روزی کو کشادہ کرنے والا ہے ㉓ (اور نیکو کاروں کو) بلند کرنے والا ہے ㉔ (نافرمانوں کو) پست کرنے والا ہے ㉕ (مسلمانوں کو) عزت دینے والا ㉖ (اور کافروں کو) ذلیل و رسوا کرنے والا ہے ㉗ خوب سننے والا ㉘ سب کو دیکھنے والا ㉙ اور سب کا حاکم ہے ㉚ نہایت انصاف پرور ㉛ بڑا باریک بین اور بندوں پر نرمی کرنے والا ہے ㉜ بڑا باخبر ㉝ بڑا بردبار ㉞ اور عظمت والا ہے ㉟ بہت بخشے والا ㊱ اور بڑا قدر دان یعنی تھوڑے عمل پر بہت زیادہ ثواب دینے والا ㊲ بہت بلند ㊳ اور بہت بڑا ہے ㊴ سب کی حفاظت کرنے والا ㊵ اور غذا بخش ہے ㊶ حساب لینے والا ㊷ بڑی شان والا ㊸ بڑی سختی ㊹ اور خوب نگہبانی کرنے والا ہے ㊺ سب کی دعائیں سننے اور قبول کرنے والا ہے ㊻ بڑی وسعت والا ㊼ اور بڑی حکمت والا ہے ㊽ (نیک بندوں سے) بے حد محبت کرنے والا ㊾ بڑا بزرگ ㊿ اور مردوں کو زندہ کرنے والا ہے ۱۰۱ حاضر و ناظر ۱۰۲ اور ثابت و برحق ہے ۱۰۳ بڑا کارساز ۱۰۴ بڑی قوت والا ۱۰۵ اور مضبوط اقتدار والا ہے ۱۰۶ (نیکو کاروں کا) مددگار ۱۰۷ تمام خوبیوں کا مالک ۱۰۸ خوب شمار کرنے والا اور گھیرنے والا ہے ۱۰۹ پہلی بار پیدا کرنے والا ۱۱۰ اور دوبارہ زندہ کرنے والا ہے ۱۱۱ زندگی بخشنے والا ۱۱۲ اور موت دینے والا ہے ۱۱۳ ہمیشہ زندہ رہنے والا ۱۱۴ اور خوب تھانے والا ہے ۱۱۵ ایسا غنی و بے نیاز ہے کہ کسی چیز کا محتاج نہیں ۱۱۶ بزرگی والا ۱۱۷ اپنی ذات و صفات میں یکساں ۱۱۸ بڑا بے نیاز ۱۱۹ اور بڑی قدرت والا ہے ۱۲۰ قدرت کاملہ رکھنے والا ۱۲۱ (نیکو کاروں کو) آگے کرنے والا ۱۲۲ (اور بدکاروں کو) پیچھے کرنے والا ۱۲۳ سب سے پہلا ۱۲۴ سب سے پچھلا ۱۲۵ خوب نمایاں ۱۲۶ اور نہایت پوشیدہ ہے ۱۲۷ سب پر حکومت کرنے والا ۱۲۸ بہت بلند و برتر ۱۲۹ اور نیک سلوک کرنے والا ۱۳۰ توبہ قبول کرنے والا ۱۳۱ بدلہ لینے والا ۱۳۲ بہت معاف کرنے والا ۱۳۳ اور خوب شفقت کرنے والا ۱۳۴ سارے جہاں کا مالک ۱۳۵ عظمت و جلال اور انعام و اکرام والا ہے ۱۳۶ عدل و انصاف کرنے والا ہے ۱۳۷ (قیامت کے دن) سب کو جمع کرنے والا ہے ۱۳۸ بڑا بے نیاز ۱۳۹ (اور بندوں کو) بے نیاز کرنے والا ہے ۱۴۰ (ہلاکت کے اسباب کو) روکنے والا ۱۴۱ نقصان پہنچانے والا ۱۴۲ اور نفع پہنچانے والا ہے ۱۴۳ نہایت روشن اور سارے جہاں کو روشن کرنے والا ہے ۱۴۴ ہدایت دینے والا ۱۴۵ بغیر نمونہ کے پیدا کرنے والا ۱۴۶ اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے ۱۴۷ تمام چیزوں کا وارث مالک ہے ۱۴۸ سب کا راہ نما اور سب کو راہ راست دکھانے والا ہے ۱۴۹ بہت برداشت کرنے والا اور بڑا بردبار ہے۔“

نوٹ: اگر کوئی عربی اسماء حسنیٰ پڑھنے سے عاجز ہو تو ان کا ترجمہ سمجھ کر پڑھ لیا کرے، اور اللہ تعالیٰ کو ان اوصاف کے ساتھ

متصف جانے اور مانے انشاء اللہ آپ کو بھی اسماء حسنیٰ کے فوائد و برکات حاصل ہو گے۔ (محمد امین پان پوری)

## اسمائِ حسنیٰ کے معنی اور خواص

ترمذی شریف کی روایت میں جو اسمائِ حسنیٰ اور صفات خداوندی مذکور ہیں اور اللہ تعالیٰ کے جن ناموں کے بارے میں رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے کہ جس نے ان مبارک ناموں کو یاد کیا وہ جنت میں پہنچ گیا، ان میں سے ہر ایک کے معنی اور خواص الگ الگ لکھتا ہوں، تاکہ آپ ان ناموں کے فوائد و برکات جان کر انکا خوب ورد کریں اور جنت میں پہنچ جائیں۔

☆.....☆☆☆.....☆

ترمذی شریف میں ننانوے (۹۹) نام ہیں لیکن مشکوٰۃ شریف کے بعض نسخوں میں الواحِدُ اور بعض نسخوں میں الْاَحَدُ ہے اس لیے میں نے الْاَحَدُ کے معنی اور اس کے خواص بھی لکھ دیئے ہیں تاکہ پورے سو (۱۰۰) نام ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ناموں کے فوائد و برکات سے نوازے۔ آمین یا رب العالمین!

☆.....☆☆☆.....☆

نوٹ: اسماءِ حسنیٰ کے فوائد و برکات سے وہی حضرات پورے طور پر فائدہ اٹھاتے ہیں جو ان اسماء کے معنی جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ان اوصاف کے ساتھ متصف جانتے اور مانتے ہیں اور ذات و صفات میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اسی لیے تمام اسماءِ حسنیٰ کے معنی لکھے گئے ہیں تاکہ آپ ان اسماءِ حسنیٰ کے معنی جان کر اللہ تعالیٰ کو ان اوصاف کے ساتھ متصف مانیں اور اپنا ایمان مضبوط کریں، اور شرک جلی و خفی سے اپنا ایمان کو پاک رکھیں۔



### اللہ کے معنی اور اس کے خواص

#### (۱) اللہُ جَلَّ جَلَالُهُ

(یہ ذاتی نام ہے، معبود برحق، خدا تعالیٰ، معبود حقیقی)

- ① روزانہ ایک ہزار (۱۰۰۰) بار پڑھنے سے کمال یقین نصیب ہوتا ہے۔
- ② جمعہ کے دن نماز جمعہ سے پہلے پاک و صاف ہو کر خلوت میں پڑھنے سے مقصود آسان ہو جاتا ہے خواہ کیسا ہی مشکل ہو۔
- ③ جس مرض کے علاج سے اطباء عاجز آگئے ہوں اس پر پڑھا جائے تو اچھا ہو جاتا ہے، بشرطیکہ موت کا وقت نہ آگیا ہو۔
- ④ ہر نماز کے بعد سو (۱۰۰) بار پڑھنے والا صاحبِ باطن و صاحبِ کشف ہو جاتا ہے۔
- ⑤ چھیاسٹھ (۲۶) بار لکھ کر دھو کر مریض کو پلانے سے اللہ تعالیٰ شفاء عطا فرماتا ہے، خواہ آسب کا اثر کیوں نہ ہو۔
- ⑥ آسب زدہ کے لیے کسی برتن پر ﴿اللہ﴾ اس برتن کی گنجائش کے بقدر لکھ کر اس کا پانی آسب زدہ پر چھڑکیں تو اس پر مسلط شیطان جل جاتا ہے۔
- ⑦ جو شخص ﴿اللہ﴾ کا محبت الہی کی وجہ سے ذکر کرے گا اور شک نہیں کرے گا وہ صدیقین میں سے ہوگا۔

۱۵ جو ہر نماز کے بعد سات (۷) بار ﴿هُوَ اللَّهُ الرَّحِيمُ﴾ پڑھتا رہے گا اس کا ایمان سلب نہیں ہوگا، اور وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا۔

۱۶ جو شخص ایک ہزار (۱۰۰۰) بار ﴿يَا اللَّهُ يَا هُوَ﴾ پڑھے گا اس کے دل میں ایمان اور معرفت کو مضبوط کر دیا جائے گا۔

۱۷ جو شخص جمعہ کے دن عصر کی نماز پڑھ کر قبلہ رخ بیٹھ کر مغرب تک ﴿يَا اللَّهُ يَا رَحْمَنُ﴾ پڑھتا رہے گا، پھر اللہ تعالیٰ سے جو چیز مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو فرمائیں گے۔

## الرَّحْمَنُ کے معنی اور اس کے خواص

### (۲) الرَّحْمَنُ جَلَّ جَلَالُهُ

(بڑا مہربان، زبردست رحمت والا..... یہ صرف اللہ تعالیٰ کا وصف خاص ہے، غیر اللہ کے لیے یہ وصف جائز نہیں)

خواص چھ ہیں:

- ۱ ہر نماز کے بعد سو (۱۰۰) بار یہ اسم مبارک پڑھنے سے قلب کی غفلت اور نسیان دور ہو جاتا ہے، اور دنیا کے معاملات میں مدد کی جاتی ہے۔
- ۲ اس اسم کو کثرت سے پڑھنے والا ہر امر مکروہ سے محفوظ رہتا ہے۔
- ۳ اسے لکھ کر اور دھو کر پلانے سے گرم بخار سے شفاء نصیب ہوتی ہے۔
- ۴ جو کوئی اس اسم کو صبح کی نماز کے بعد دو سو اٹھانوے (۲۹۸) بار پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر بہت رحم فرمائے گا۔
- ۵ جو کوئی اکتالیس (۴۱) دن تک روزانہ اکتالیس (۴۱) بار ﴿يَا رَحْمَنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَا رَحِيمَهُمَا﴾ پڑھے گا اس کی ضروری حاجت پوری ہو جائے گی۔

۶ جو کوئی جابر حاکم کے پاس جاتے وقت ﴿يَا رَحْمَنُ يَا رَحِيمُ﴾ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ظالم کے شر سے بچا لیتے ہیں اور خیر عطا فرماتے ہیں۔

## الرَّحِيمُ کے معنی اور اس کے خواص

### (۳) الرَّحِيمُ جَلَّ جَلَالُهُ

(نہایت رحم والا)

خواص دس ہیں:

- ۱ جو ہر روز سو (۱۰۰) بار پڑھنے کا معمول بنائے اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت نصیب ہوتی ہے اور لوگوں کے قلوب اس کے لیے نرم ہو جاتے ہیں۔
- ۲ جو اس کا کثرت سے ورد کرتا ہے وہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے اور زمانے کے مصائب سے محفوظ رہتا ہے۔
- ۳ جو کسی جابر حکمراں کے پاس جاتے وقت ﴿يَا رَحْمَنُ يَا رَحِيمُ﴾ پڑھتا جائے، اللہ تعالیٰ اسے ظالم کے شر سے بچا لیتے ہیں، اور خیر عطا فرماتے ہیں۔

۴ جو کوئی ہر روز یہ اسم پانچ سو (۵۰۰) بار پڑھے گا، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق اس پر مہربان و شفیع ہوگی۔

۵ جو اس اسم کو صبح کی نماز کے بعد (۱۰۰) بار پڑھے اس پر اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق مہربانی اور شفقت کرے گی۔

۶ جو اسے صبح کی نماز کے بعد پانچ سو پچیس (۵۵۵) بار پڑھتا رہے وہ ہر حاجت سے غنی رہے گا۔

- ① جو ﴿يَا رَحْمَنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ اکتالیس (۲۱) روز تک پڑھے اس کی حاجت پوری ہوگی۔
- ② جو کوئی اسے روزانہ سو (۱۰۰) بار پڑھے اس کے دل میں رقت اور شفقت پیدا ہو جاتی ہے، یعنی یہ دل کی قساوت (سختی) کا علاج ہے۔
- ③ جس کسی کو کسی ناگوار کام کا اندیشہ ہو وہ ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ کو کثرت سے پڑھے، انشاء اللہ محفوظ رہے گا۔
- ④ اگر اسے لکھ کر پانی سے دھو کر پانی کسی درخت کی جڑ میں ڈالا جائے تو پھل میں برکت ہوتی ہے۔

## الْمَلِكُ کے معنی اور اس کے خواص

### (۴) الْمَلِكُ جَلَّ جَلَالُهُ

(سارے جہان کا بادشاہ)

خواص سات ہیں:

- ① جو شخص اس اسم کو ذوال کے وقت ایک سو بیس (۱۲۰) بار پڑھے اللہ تعالیٰ اس کو صفائی قلب اور غنا عطا فرماتا ہے، خواہ غنا ظاہری ہو خواہ باطنی۔
- ② جو شخص اس اسم کو پڑھتا ہے اس کا نفس اس کی اطاعت کرتا ہے اور اسے عزت و حرمت حاصل ہوتی ہے۔
- ③ جو سورج نکلنے کے وقت تین ہزار (۳۰۰۰) بار یہ اسم مبارک پڑھے گا، وہ جو مراد مانگے گا حاصل ہو جائے گی۔
- ④ مال و ملک والا آدمی (حکمران یا بڑا عہدیدار) اگر یہ اسم ﴿الْقُدُّوسُ﴾ کے ساتھ ملا کر پڑھے گا تو اس کا مال و ملک قائم رہے گا۔
- ⑤ جو اس اسم کو فجر کے بعد ایک سو بیس (۱۲۰) بار پڑھنے کا معمول بنائے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی عنایات کے ذریعہ فنی فرمادیتا ہے۔
- ⑥ اگر حکمران اسے پڑھنے کا معمول بنائیں تو بڑے بڑے فرائض (سرکش و منکر لوگ) ان کے مطیع و فرمانبردار بن جائیں۔
- ⑦ جو کوئی روزانہ صبح کی نماز کے بعد ﴿يَا مَلِكُ﴾ کثرت سے پڑھا کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے غنی فرمادے گا۔

## الْقُدُّوسُ کے معنی اور اس کے خواص

### (۵) الْقُدُّوسُ جَلَّ جَلَالُهُ

(نہایت پاک)

خواص نو (۹) ہیں:

- ① جو کوئی ہزار (۱۰۰۰) بار اس اسم کو پڑھے گا سب سے بے پروا ہوگا (یہاں تک کہ نا جائز شہوات سے بھی)۔
- ② جو شخص دشمن سے بچنے کے لیے بھاگتے وقت اس کو کثرت سے پڑھے گا وہ محفوظ رہے گا۔
- ③ جو سفر میں اس کی عبادت کرے گا کبھی نہیں تھکے گا۔
- ④ جو اس کو تین سو انیس (۳۱۹) بار شیرینی پر پڑھ کر دشمن کو کھلائے تو دشمن مہربان ہو جائے گا۔
- ⑤ جو ذوال کے بعد ایک سو ستر (۱۷۰) بار یہ اسم مبارک پڑھے اس کا دل منور ہوگا اور روحانی امراض سے پاک ہو جائے گا۔
- ⑥ جو کوئی چالیس (۴۰) دن تک غلوت میں ایک ہزار (۱۰۰۰) بار یہ اسم مبارک پڑھے اس کا مقصد حاصل ہوگا، اور دنیا میں اس کی قوت و تاثیر ظاہر ہو جائے گی۔
- ⑦ اگر کوئی اس کو رات کے آخری حصہ میں ایک ہزار (۱۰۰۰) بار پڑھے تو بیماری اور بلا اس کے جسم سے دور ہو جاتی ہے۔



۱ نماز جمعہ کے بعد ایک سو پچاس (۱۵۰) بار ﴿سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ﴾ کہہ کر پھر اس کو ایک روٹی پر لکھ کر جو شخص کھائے وہ تمام آفات سے محفوظ رہے اور اسے عبادت کی توفیق حاصل ہو۔

۲ جو جمعہ کی نماز کے بعد ﴿سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ﴾ روٹی کے ٹکڑے پر لکھ کر کھاتا رہے فرشتہ صفت ہو جائے۔

## السَّلَامُ کے معنی اور اس کے خواص

### ﴿۶﴾ السَّلَامُ جَلَّ جَلَالُهُ

(سب عیوب و آفات سے سالم، سب نقائص اور کمزوریوں سے پاک، سلامت و بے عیب ذات)

خواص دس ہیں:

- ۱ جو ہمیشہ صبح کی نماز کے بعد ہزار (۱۰۰۰) بار اس اسم کو پڑھے گا، اس کا علم زیادہ ہوگا۔
- ۲ اگر کوئی اس اسم کو ایک سو اکتیس (۱۳۱) بار یا ایک سو اکتیس (۱۶۱) بار پڑھ کر بیمار پر دم کرے تو بیمار صحت پائے۔
- ۳ جو اس اسم کو کثرت سے پڑھے یا لکھ کر پاس رکھے وہ دشمن سے بے خوف رہے گا۔
- ۴ بیمار یا خائف اگر ایک سو گیارہ (۱۱۱) بار پڑھ کر دم کرے تو بیماری اور خوف سے محفوظ رہے گا۔
- ۵ یہ اسم مبارک چھ سو نوے (۶۹۰) بار شیرینی پر پڑھ کر دشمن کو کھلائے تو دشمن مہربان ہو جائے۔
- ۶ اگر کوئی ایک سو اکتیس (۱۳۱) بار یہ اسم اور ﴿سَلَّمَ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَجِيمٍ﴾ کسی مرض پر پڑھے تو مریض شفا پائے گا، یا کم از کم مرض میں تخفیف ہو جائے گی۔

۷ اگر کوئی شخص مریض کے پاس اس کے سر ہانے بیٹھ کر دونوں ہاتھ اٹھا کر یہ اسم ایک سو چھتیس (۱۳۶) بار اتنی بلند آواز سے پڑھے کہ مریض سن لے تو انشاء اللہ اس کو شفاء ہوگی۔

۸ ہر فرض نماز کے بعد پندرہ (۱۵) مرتبہ ﴿اللَّهُمَّ يَا سَلَامُ سَلِّمْ﴾ پڑھنا ہر طرح کی سلامتی کے لیے مفید ہے۔

۹ جو کوئی کثرت سے اس اسم کو پڑھتا رہے گا، انشاء اللہ تمام آفتوں سے محفوظ رہے گا۔

۱۰ جو کوئی ایک سو پندرہ (۱۱۵) مرتبہ یہ اسم پڑھ کر بیمار پر دم کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی صحت و شفاء عطا فرمائے گا۔

## الْمُؤْمِنُ کے معنی اور اس کے خواص

### ﴿۷﴾ الْمُؤْمِنُ جَلَّ جَلَالُهُ

(امن و امان دینے والا)

خواص نو ہیں:

- ۱ جو کثرت سے اس کا ورد کرے اس کا ایمان قائم رہے اور مخلوق اس کی مطیع و معتقد ہو جائے۔
- ۲ جو کوئی روزانہ تین (۳) بار یہ اسم مبارک پڑھنے کا معمول رکھے اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا۔
- ۳ جو کوئی ایک سو چھتیس (۱۳۶) بار یہ اسم مبارک پڑھا کرے ظالموں کے ظلم اور جملہ آفات سے محفوظ رہے گا۔

① خوف زدہ آدمی اگر فرضوں کے بعد چھتیس (۳۶) بار اس اسم کا ورد رکھے تو اس کی جان و مال محفوظ رہیں گے۔  
 ② جس پر زعب اور خوف طاری ہو وہ ﴿يَا سَلَامُ يَا مُؤْمِنُ﴾ کا ورد رکھے، خصوصاً مسافر اگر اس کا ورد رکھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امن و سلامتی نصیب ہو۔

③ جو شخص کسی خوف کے وقت چھ سو تیس (۶۳۰) بار اس اسم کو پڑھے گا انشاء اللہ العزیز ہر طرح کے خوف اور نقصان سے محفوظ رہے گا۔  
 ④ جو اس اسم کو ایک سو پندرہ (۱۵) بار پڑھے اور اپنے اوپر دم کرے گا انشاء اللہ ہر طرح کے خوف اور نقصان سے محفوظ رہے گا۔  
 ⑤ جو کوئی کسی خوف کے وقت دو سو تیس (۲۳۰) بار اس اسم کو پڑھے گا انشاء اللہ ہر طرح کے خوف اور نقصان سے محفوظ رہے گا۔  
 ⑥ جو شخص اس اسم کو پڑھے یا لکھ کر پاس رکھے اس کا ظاہر و باطن اللہ تعالیٰ کی امان میں رہے گا۔

### الْمُهَيِّمُ کے معنی اور اس کے خواص

﴿۸﴾ الْمُهَيِّمُ جَلَّ جَلَالُهُ

(سب کی نگہبانی کرنے والا)

#### خواص تین ہیں:

① جو کوئی غسل کرے پھر خلوت میں توجہ کے ساتھ نماز پڑھے اور سو (۱۰۰) بار یہ اسم پڑھے، اس کے دل میں نور پیدا ہوگا اور اس کی مراد پوری ہو جائے گی اور عالی ہمت ہو جائے گا۔  
 ② جو کوئی اسے آتیس (۲۹) بار پڑھے گا اس کو کوئی غم نہ ہوگا۔  
 ③ جو یہ اسم ہمیشہ پڑھتا رہے گا تمام بلاؤں سے محفوظ رہے گا۔

### الْعَزِيزُ کے معنی اور اس کے خواص

﴿۹﴾ الْعَزِيزُ جَلَّ جَلَالُهُ

(ایسا غالب و طاقتور جو کسی سے مغلوب نہ ہو)

#### خواص دس ہیں:

① جو شخص چالیس (۴۰) دن تک چالیس (۴۰) مرتبہ اس اسم کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو معزز و مستغنی بنا دیں گے۔  
 ② جو شخص نماز فجر کے بعد آتیس (۳۱) مرتبہ پڑھتا رہے وہ انشاء اللہ کسی کا محتاج نہ ہو اور ذلت کے بعد عزت پائے۔  
 ③ اگر لوگ رات کے آخری حصے میں جمع ہو کر دو سو ہزار بار یہ اسم مبارک پڑھیں تو رحمت کی بارش ہوگی۔  
 ④ جو ﴿يَا عَزِيزُ مِنْ كُلِّ عَزِيزٍ بِحَقِّ يَا عَزِيزُ﴾ پڑھے تو تمام مخلوق میں عزیز ہو۔  
 ⑤ جو اس اسم کو چورانوے (۹۴) دن تک چورانوے (۹۴) مرتبہ پڑھ لیا کرے وہ معزز و کامران رہے۔  
 ⑥ جو اس کو چار سو گیارہ (۴۱) دن تک دو سو (۲۰۰) بار اول و آخر و در شریف کے ساتھ پڑھے گا اس کے سب کام درست ہو جائیں گے۔  
 ⑦ جو آتیس (۳۱) بار صبح کو روز حاکم کے پاس جانے کے وقت ﴿يَا عَزِيزُ﴾ پڑھ لیا کرے حاکم مہربان رہے۔

۱۵ جو عشاء کے بعد دو سو (۲۰۰) بار ﴿يَا عَزِيزُ يَا عَزِيزُ مِنْ كُلِّ عَزِيزٍ أَدْعُو بِطُغْيَانِكَ يَا عَزِيزُ﴾ پڑھ لیا کرے اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جائے۔

- ۱۶ جو متواتر سات (۷) دن تک ایک ہزار بار یہ اسم مبارک پڑھے اس کا دشمن ہلاک ہو جائے۔  
 ۱۷ جو کسی (دشمن کے) لشکر کی طرف ہاتھ کا اشارہ کر کے ستر (۷۰) بار یہ اسم مبارک پڑھے وہ لشکر اللہ تعالیٰ کے حکم سے شکست کھا جائے۔

### الْجَبَّارُ کے معنی اور اس کے خواص

﴿۱۰﴾ الْجَبَّارُ جَلَّ جَلَالُهُ

(بگڑے ہوئے کاموں اور حالات کو درست کرنے والا)

#### خواص چار ہیں:

- ۱ جو شخص روزانہ صبح و شام دو سو چھبیس (۲۲۶) مرتبہ اس اسم کو پڑھے گا انشاء اللہ ظالموں کے ظلم و قہر سے محفوظ رہے گا۔  
 ۲ اگر کوئی بادشاہ اس کو پڑھا کرے تو دوسرا بادشاہ اس پر غالب نہ ہوگا۔  
 ۳ جو کوئی اس اسم کو ہمیشہ پڑھتا رہے وہ مخلوق کی غیبت اور بدگوئی سے محفوظ رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی ہر ظالم و جاہل سے حفاظت فرماتا ہے۔  
 ۴ اس اسم کے ساتھ ﴿ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ ملا کر پڑھنا بھی حفاظت کے لیے بہت مفید ہے۔

### الْمُتَكَبِّرُ کے معنی اور اس کے خواص

﴿۱۱﴾ الْمُتَكَبِّرُ جَلَّ جَلَالُهُ

(بڑی عظمت والا)

#### خواص سات ہیں:

- ۱ جو بغیر تھکے اسے کثرت سے پڑھتا رہے اسے بلند قدر و منزلت نصیب ہوتی ہے اور کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔  
 ۲ کسی کو بے حیائی سے روکنے کے لیے اس کا دس (۱۰) بار اس پر پڑھنا مفید ہے۔  
 ۳ جو کوئی ہم بستری سے پہلے دس (۱۰) بار یہ اسم مبارک پڑھے اللہ جل شانہ اسے پرہیزگار اور نیک فرزند عطا فرمائے گا۔  
 ۴ جو اسے ہر کام کے آغاز میں کثرت سے پڑھے گا اس کے کام میں کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئے گی۔  
 ۵ جو اس کو اکیس (۲۱) بار پڑھے گا، انشاء اللہ خواب میں نہیں ڈرے گا۔  
 ۶ جو اس کو چھ سو بائیس (۶۱۳) دن تک چھ سو بائیس (۶۱۳) مرتبہ روزانہ پڑھے گا، صاحب صولت و سیاست ہوگا۔  
 ۷ جو دشمن سے ڈرتا ہو اس اسم کی مداومت کرے وہ دشمن بدگوئی سے باز آ جائے گا۔

## الْخَالِقُ کے معنی اور اس کے خواص

﴿۱۲﴾ الْخَالِقُ جَلَّ جَلَالُهُ

(پیدا کرنے والا)

خواص چھ ہیں:

- ① جو شخص آدمی رات کے بعد ایک گھنٹہ یا اس سے زیادہ اس اسم مبارک کا ورد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل اور چہرے کو منور فرمادے گا۔
- ② جس کا مال یا بیٹا گم ہو گیا ہو اگر وہ پانچ ہزار (۵۰۰۰) بار اس کا ورد کرے تو گمشدہ واپس آجائے گا۔
- ③ جو سات (۷) روز تک متواتر اس کو سو (۱۰۰) بار پڑھے تمام آفات سے سالم رہے۔
- ④ جو اسے ہزار (۱۰۰۰) بار پڑھا کرے اسے اولاد ذریعہ نصیب ہو۔
- ⑤ اگر کوئی شخص ہمیشہ ﴿الْخَالِقُ﴾ پڑھتا رہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا کر دیتے ہیں جو اس کی طرف سے عبادت کرتا ہے اور اس کا چہرہ منور رہتا ہے۔

⑥ جو کوئی لڑائی میں تین سو (۳۰۰) بار اس کو پڑھے گا اس کا دشمن مغلوب ہوگا۔

## الْبَارِئُ کے معنی اور اس کے خواص

﴿۱۳﴾ الْبَارِئُ جَلَّ جَلَالُهُ

(جان ڈالنے والا)

خواص سات ہیں:

- ① اگر طیب اس اسم کو پابندی سے ہمیشہ پڑھے تو اس کے ہاتھ میں شفا ہوگی۔
- ② جو کوئی ہفتہ کے دن اس کو سو (۱۰۰) بار پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس کی طرف لے جائے گا۔
- ③ جو کوئی اس اسم کو دو سو چالیس (۲۴۴) بار پڑھے اس کی جو بھی مراد ہوگی وہ پوری ہوگی۔
- ④ جو کوئی اس اسم کی مداومت کرے گا حق تعالیٰ اس کے لیے ایک مونس پیدا کرے گا۔
- ⑤ اگر بانجھ عورت سات (۷) روز روزے رکھے اور پانی سے افطار کرنے کے بعد اکیس (۲۱) مرتبہ ﴿الْبَارِئُ الْمُنْصَوِّرُ﴾ پڑھے تو انشاء اللہ اولاد ذریعہ نصیب ہو۔
- ⑥ اس کا بکثرت ذکر کرنے سے ضائع عجیبہ کا ایجاد آسان ہو جاتا ہے۔
- ⑦ جو شخص سات (۷) دن تک روزانہ اس کو سو (۱۰۰) بار پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے امراض سے شفاء اور آفات سے سلامتی عطا فرمائے گا۔

## المُصَوِّرُ کے معنی اور اس کے خواص

﴿۱۴﴾ الْمُصَوِّرُ جَلَّ جَلَالُهُ

(صورت بنانے والا)

خواص چھ ہیں:

- ① اگر کوئی شخص سات (۷) دن تک روزہ رکھے اور غروب آفتاب کے بعد اظہار سے پہلے اکیس (۲۱) بار یہ اسم مبارک پڑھ کر دم کرے اور پانی بانجھ عورت کو پلائے تو انشاء اللہ اس کا بانجھ پن دور ہو جائے گا۔
- ② جو اپنے بستر پر آکر سات (۷) بار یہ اسم پڑھے، پھر ہم بستری کرے تو اللہ تعالیٰ اسے نیک اولاد عطا فرمائے گا۔
- ③ اس کا بکثرت ذکر کرنے سے ضائع عجیبہ کا ایجاد آسان ہو جاتا ہے۔
- ④ جو اس کا بکثرت ورد کرے اس کے لیے مشکل کام آسان ہو جاتے ہیں۔
- ⑤ جو کوئی وضو کرنے کے بعد شہادت کی انگلی سے اس کی اپنی پیشانی پر لکھے تو جس سے ملاقات کرے وہ اس کا دوست ہو جائے۔
- ⑥ جو اسے پانی پر پڑھ کر دم کرے اور پی لے تو اعلیٰ مرتبہ پائے۔

## الْغَفَّارُ کے معنی اور اس کے خواص

﴿۱۵﴾ الْغَفَّارُ جَلَّ جَلَالُهُ

(بہت معاف کرنے والا)

خواص پانچ ہیں:

- ① جو کوئی ﴿يَا غَفَّارُ﴾ کی مدد و استغاثہ کرے گا اس کے تمام گناہ بخش دیئے جائیں گے اور اس کے نفس کی بری خواہشات دور ہوں گی۔
- ② جو ﴿يَا غَفَّارُ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي﴾ جمعہ کی نماز کے بعد سو (۱۰۰) بار پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا اور آخرت میں لطف و مغفرت کا امیدوار بنائے گا۔
- ③ جو شخص نماز عصر کے بعد روزانہ ﴿يَا غَفَّارُ اغْفِرْ لِي﴾ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو انشاء اللہ بخشے ہوئے لوگوں کے زمرہ میں داخل کرے گا۔
- ④ جو اس اسم کو جمعہ کے بعد سو (۱۰۰) بار پڑھے گا تو مغفرت کے آثار پیدا ہوں گے، تنگی رفع ہوگی اور بے گمان رزق ملے گا۔
- ⑤ غصہ کرنے والوں پر یہ اسم پڑھا جائے تو ان کا غصہ زائل ہو جاتا ہے۔

## الْقَهَّارُ کے معنی اور اس کے خواص

﴿۱۶﴾ الْقَهَّارُ جَلَّ جَلَالُهُ

(سب کو قابو میں رکھنے والا، وہ ذات جو سب پر غالب ہو اور اس کے غلبہ کو کوئی طاقت نہ روک سکے)

خواص نو ہیں:

- ① جس شخص کی کوئی حاجت ہو وہ اپنے گھر یا مسجد میں سرنگا کر کے ہاتھ اٹھا کر سو (۱۰۰) بار ﴿يَا قَهَّارُ﴾ کہے انشاء اللہ اس کی حاجت پوری ہو جائے گی۔

- ① جو اشراق کی نماز کے بعد سجدہ کر کے سات (۷) بار ﴿يَا قَهَّارُ﴾ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے غنی فرما دے گا۔
- ② جس شخص کو دشمنوں سے خطرہ ہو وہ سورج نکلنے وقت اور رات کے آخری حصہ میں دشمنوں کی ہلاکت کے لیے سو (۱۰۰) بار یہ پڑھے: ﴿يَا جَبَّارُ يَا قَهَّارُ يَا كَابُطُشَ الشَّدِيدِ﴾ پھر کہے: ﴿عُدُّ حَقِّي مَعَن ظَنِّي وَعُدَّ عَلَيَّ﴾۔
- ③ بکثرت اس کا ذکر کرنے سے دنیا کی محبت اور مادی اللہ کی عظمت دل سے جاتی رہے، اور دشمنوں پر غلبہ ہو۔
- ④ اگر چینی کے برتن پر لکھ کر ایسے شخص کو پلایا جائے جو بوجہ سحر کے عورت پر قادر نہ ہو، سحر دفع ہو۔
- ⑤ جو شخص دنیا کی محبت میں گرفتار ہو وہ کثرت سے اس اسم کو پڑھے، انشاء اللہ دنیا کی محبت جاتی رہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے گی اور اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا۔
- ⑥ جو کوئی کسی ظالم سے ڈرتا ہو وہ اس اسم کو فرض نماز کے بعد تین سو چھ (۳۰۶) بار پڑھا کرے اللہ تعالیٰ اسے امن و امان میں رکھے گا، اور دشمن پر غالب ہوگا، حاکم مہربان ہوگا اور خوف دل سے جاتا رہے گا۔
- ⑦ جو کسی مشکل کے واسطے اس کو سو (۱۰۰) بار پڑھے مشکل حل ہو۔
- ⑧ دشمن کو مغلوب کرنے کے فرض و سنت کے درمیان سو (۱۰۰) بار اس اسم کا پڑھنا بہت مفید ہے۔

### الْوَهَّابُ کے معنی اور اس کے خواص

#### ﴿۱۷﴾ الْوَهَّابُ جَلَّ جَلَّالُهُ

(بڑا فیاض، بہت دینے والا)

خواص بارہ ہیں:

- ① جو سات (۷) بار اس کو روز پڑھے گا، مستجاب الدعوات ہوگا۔
- ② جو اس اسم کو عشاء کی نماز کے بعد چودہ سو چودہ (۱۴۱۴) بار پڑھے گا اسے رزق کی فراخی نصیب ہوگی۔
- ③ جو کوئی فقر و فاقہ سے پریشان ہو وہ اس اسم کی مداومت کرے اللہ تعالیٰ اسے ایسی راحت عطا فرمائے گا کہ حیران رہ جائے گا۔
- ④ جو چاشت کی نماز کے بعد سجدہ کی آیت پڑھ کر سجدہ میں سات (۷) بار ﴿الْوَهَّابُ﴾ پڑھے گا، مخلوق سے بے پروا ہو جائے گا۔
- ⑤ جو کوئی رزق کی فراخی چاہتا ہو، چاشت کے وقت چار رکعت نماز پڑھے، پھر سلام کے بعد سجدے میں جا کر ﴿الْوَهَّابُ﴾ ایک سو چار (۱۰۴) بار اور اگر فرصت نہ ہو تو پچاس (۵۰) بار پڑھے مالدار ہو جائے گا۔
- ⑥ کوئی بھی حاجت پیش آئے تو آدمی رات کے وقت گھر یا مسجد کے گھن میں تین (۳) بار سجدہ کر کے ہاتھ اٹھا کر سو (۱۰۰) بار اس کو پڑھے۔ یہ عمل تین (۳) یا سات (۷) رات کرے، انشاء اللہ العزیز حاجت پوری ہو جائے گی۔
- ⑦ جو اسے عشاء کے بعد ساڑھے گیارہ سو (۱۱۵۰) بار پڑھے مقروض نہ رہے گا۔
- ⑧ جو شخص فقر و فاقہ میں گرفتار ہو وہ کثرت سے اس اسم کو پڑھا کرے یا لکھ کر اپنے پاس رکھے یا چاشت کی نماز کے آخری سجدہ میں چالیس (۴۰) بار پڑھا کرے تو اللہ تعالیٰ اسے فقر و فاقہ سے انشاء اللہ حیرت انگیز طریق پر نجات دے دیں گے۔
- ⑨ حفاظت ایمان کے لیے ہر نماز کے بعد سات (۷) بار یہ آیت پڑھنا مجرب ہے:

﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾ (سورہ آل عمران: ۸)

- ① برکت کے لیے اس اسم کو ﴿الْكَوْبُ دُوَالطُّوْل﴾ کے ساتھ ملا کر پڑھنا مفید ہے۔
- ② ہر چیز میں برکت کے لیے اس کو اسم کو ﴿الْكَافِي﴾ کے ساتھ ملا کر پڑھنا مفید ہے۔
- ③ جب کوئی مشکل پیش آئے کسی میدان میں جا کر دعا کی طرف ہاتھ اٹھا کر سو (۱۰۰) بار ﴿يَا وَهَّابُ﴾ پڑھے، انشاء اللہ مشکل آسان ہو جائے گا۔

### الرِّزْقُ کے معنی اور اس کے خواص

#### ﴿۱۸﴾ الرِّزْقُ جَلَّ جَلَالُهُ

(خوب روزی پہنچانے والا)

خواص نو ہیں:

- ① جو اس کو نہار منہ بیس (۲۰) مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائے اللہ تعالیٰ ایسا ذہن عطا فرماتا ہے جو ہار کیوں اور مشکلات کو سمجھ لیتا ہے۔
- ② جو شخص اپنے مکان کے چاروں کونوں میں نماز صبح سے پہلے دس دس مرتبہ یہ اسم پڑھ کر دم کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس پر رزق کے دروازے انشاء اللہ کھول دیں گے، بیماری اور مفلسی اس کے گھر میں ہرگز نہ آئے گی۔ پڑھنے کا آغاز دہانے کونہ سے کرے اور منہ قبلہ کی طرف رکھے۔
- ③ جو فجر کے فرض و سنت کے درمیان اکتالیس (۳۱) دن تک ساڑھے پانچ سو (۵۵۰) مرتبہ یہ اسم روز پڑھے گا، دولت مند ہوگا۔ اس میں فجر کی نماز جماعت سے پڑھنا اور اسم مبارک کے اوّل و آخر گیارہ گیارہ بار درود شریف پڑھنا شرط ہے۔
- ④ جو عشاء کی نماز کے بعد سرنگا کر کے ﴿يَا رِزْقُ تَرِزُقُ مَنْ تَشَاءُ يَا رِزْقُ﴾ گیارہ (۱۱) بار اوّل و آخر درود شریف کے ساتھ اکتالیس (۳۱) روز پڑھا کرے گا اس کے لیے رزق کے دروازے کھلیں گے۔
- ⑤ جو کوئی اس کو پانچ سو پینتالیس (۵۲۵) بار روز پڑھے گا، رزق اس کا کشادہ ہوگا اور کوئی دشواری اور درماندگی نہ آئے گی۔
- ⑥ جو اسم کو روزانہ تنہائی میں ایک ہزار (۱۰۰۰) بار پڑھے گا، انشاء اللہ خاص روحانی مقام پائے گا۔
- ⑦ جو ہر نماز کے بعد اس کے پڑھنے کا معمول بنائے گا غیب سے روزی پائے گا۔
- ⑧ جو شخص اس اسم کو سترہ (۱۷) بار اس شخص کے سامنے پڑھے جس سے کوئی حاجت ہو، انشاء اللہ وہ حاجت پوری ہو جائے گی۔
- ⑨ جو اللہ اسم کو سو (۱۰۰) بار قیدی کی رہائی کے لیے پڑھے گا اسے خلاصی ملے گی، اور اگر بیمار کی صحت یابی کے لیے پڑھے گا اسے شفاء ملے گی، انشاء اللہ (مغرب ہے)۔

### الْفَتْحُ کے معنی اور اس کے خواص

#### ﴿۱۹﴾ الْفَتْحُ جَلَّ جَلَالُهُ

(فتح بخشش، رزق و رحمت کے دروازے کھولنے والا)

خواص چار ہیں:

- ① جو کوئی اپنا ہاتھ سینے پر رکھ کر نماز فجر کے بعد اکہتر (۱۷) بار یہ اسم پڑھے گا اس کا دل پاک اور منور ہو جائے گا اور حق کے راستے کا

حجاب اس سے ہٹا لیا جائے گا اور اسے انشاء اللہ تمام امور میں آسانی اور رزق میں برکت عطا کی جائے گی۔

۱۴ اگر کند ذہن چینی کی رکابی پر اس کو لکھ کر زبان سے چائے، ذہین ہو جائے گا۔

۱۵ جو اسے سات (۷) بار پڑھے گا دل کی تاریکی جاتی رہے گی۔

۱۶ جو اس کا بکثرت دردر رکھے، اس کے دل کی کدورت دور ہو جائے گی اور فتوحات کے دروازے اس پر کھل جائیں گے۔

### الْعَلِيمُ کے معنی اور اس کے خواص

(۲۰) الْعَلِيمُ جَلَّ جَلَالُهُ

(وسیع علم والا، خوب جاننے والا)

خواص سات ہیں:

۱ جو کثرت سے ﴿يَا عَلِيمُ﴾ کا ورد کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر انشاء اللہ علم و معرفت کے دروازے کھول دے گا اور اللہ تعالیٰ سے مانگے گا جلد ملے گا اور حافظہ قوی ہوگا۔

۲ جو کوئی اس اسم کو دل میں پڑھے، صاحب معرفت ہو جائے۔ اور اگر فرض نماز کے بعد ڈیڑھ سو (۱۵۰) بار پڑھا کرے، صاحب یقین ہو جائے۔

۳ جو کوئی نماز کے بعد سو (۱۰۰) بار ﴿يَا عَلِيمُ الْغَيْبِ﴾ پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو صاحب کشف بنا دے گا۔

۴ جو استخارہ کرنا چاہے شب جمعہ کو نماز کے بعد سو (۱۰۰) بار مسجد میں یہ اسم مبارک پڑھ کر سو رہے، مطلوبہ حال سے آگاہی پالے گا۔

۵ جو کوئی نامعلوم امر در یافت کرنا چاہے ازل دو (۲) رکعت نماز پڑھے پھر درود شریف، پھر ﴿سُبْحَانَكَ لَا إِلَهَ إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾ ستر (۷۰) بار پڑھے ﴿يَا عَلِيمُ عَلَّمْنِي يَا غَيْبُورُ اغْمِرْنِي يَا مَبِينُ يَعْنِ لِي﴾ سو سو بار پڑھ کر اپنا مطلب تصور کر کے لیٹ جائے، اگر نیند نہ آئے تو اٹھ کر کسی مجمع میں چلا جائے، وہاں لوگوں کی باتوں سے بطریق اشارہ مطلب معلوم کرے۔

۶ جو ہر نماز کے بعد ایک سو (۱۰۰) بار ﴿يَا عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ﴾ کو معمول بنائے گا انشاء اللہ صاحب کشف ہو جائے گا۔

۷ اگر کوئی شخص ﴿يَا عَلِيمُ الْغُيُوبِ﴾ کو اس قدر پڑھے کہ اس پر حال طاری ہو جائے تو اس کی روح کو عالم بالا کی سیر نصیب ہوگی۔

### الْقَابِضُ کے معنی اور اس کے خواص

(۲۱) الْقَابِضُ جَلَّ جَلَالُهُ

(روزی تک کرنے والا)

خواص تین ہیں:

۱ جو اس اسم کو ہر روز تیس (۳۰) بار پڑھے انشاء اللہ دشمن پر فتح پائے گا۔

۲ جو کوئی اسے چالیس (۴۰) دن تک ہر روز چار (۴) یا چالیس (۴۰) نواہوں پر لکھ کر کھالیا کرے گا، وہ بھوک اور قہر کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح زخم اور درد وغیرہ کی تکلیف سے بھی محفوظ رہے گا۔ انشاء اللہ۔

۳ جو کوئی اس کو آدمی رات کے وقت پڑھا کرے دشمن اس کا مقہور ہوگا۔



**تنبیہ:** بعض علماء کہتے ہیں کہ ﴿الْقَابِضُ﴾ کو ﴿الْبَاسِطُ﴾ کے ساتھ ﴿الْمُذِلُّ﴾ کو ﴿الْمُعِزُّ﴾ کے ساتھ، ﴿الْمُهَيِّبُ﴾ کو ﴿الْمُحْيِي﴾ کے ساتھ، ﴿الْمَوْخِرُ﴾ کو ﴿الْمُقَدِّمُ﴾ کے ساتھ، ﴿الْمَانِعُ﴾ کو ﴿الْمُعْطِي﴾ کے ساتھ، اور ﴿الضَّارُّ﴾ کو ﴿الِّنَّافِعُ﴾ کے ساتھ ملا کر ذکر کرنا زیادہ مناسب ہے، اور ان میں ہر پہلے اسم (مثلاً الْمُذِلُّ) کو دوسرے اسم (مثلاً الْمُعِزُّ) کے ساتھ ملائے بغیر پڑھنا مناسب نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

## الْبَاسِطُ کے معنی اور اس کے خواص

### ﴿۲۲﴾ الْبَاسِطُ جَلَّ جَلَالُهُ

(روزی کشادہ کرنے والا)

**خواص دس ہیں:**

- ۱ جو اس اہم کو چاشت کی نماز کے بعد دس (۱۰) بار پڑھے گا، اسے ہر معاملے میں کشادگی نصیب ہوگی اور انشاء اللہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔
- ۲ جو دس (۱۰) بار آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر یہ اسم پڑھے اور پھر ہاتھ اپنے چہرے پر پھیرے تو اس کے لیے غنا کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔
- ۳ جو اسے چالیس (۴۰) بار پڑھے گا، انشاء اللہ مخلوق سے بے پروا ہوگا۔
- ۴ مشکلات سے نجات کے لیے ہر نماز کے بعد ایک سو چالیس (۱۴۰) بار ہر روز اس کا پڑھنا مفید ہے۔
- ۵ کشائش کے لیے بہتر (۷۲) دن تک روزانہ بارہ ہزار (۱۲۰۰۰) بار یہ اسم پڑھے۔
- ۶ جو کوئی تین رات میں سو الاکھ (۱۲۵۰۰۰) بار ﴿بِسْمِ الْبَاسِطِ﴾ ختم کرے اور اول و آخر سو سو بار درود شریف پڑھے، اسے انشاء اللہ غیب سے روزی ملے گی۔ تین راتوں کے بعد روزانہ سو (۱۰۰) بار پڑھ لیا کرے۔
- ۷ جو کوئی سحر کے وقت آنکھیں بند کر کے تیارہ (۱۱) مرتبہ یہ اسم پڑھے اور ہاتھ پر دم کر کے منہ پر پھیرے پھر آنکھیں کھول کر ہاتھوں کو دیکھے پھر بہتر (۷۲) بار پڑھ کر یہ دعاء مانگے: (اللَّهُمَّ زِدْنِي زِدًا تَنْقِصُ وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصِوْهَا ط إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ) انشاء اللہ اس دن بھوکا نہ رہے گا۔
- ۸ جو بہتر (۷۲) بار روزانہ اس اسم کو پڑھا کرے اسے حق تعالیٰ تمام آفتوں اور بلاؤں سے محفوظ رکھے گا۔
- ۹ جو کوئی اس اسم کو رات کے آخری حصہ میں ہاتھ اٹھا کر دس (۱۰) بار کہے، ہمیشہ خوش دل رہے، کوئی غم و الم نہ ہو، اور ایسی جگہ سے نفع ہو جس کی امید نہ ہو۔
- ۱۰ جو اس اسم کو ہر روز پڑھا کرے اور لکھ کر اپنے پاس رکھے اس کو انشاء اللہ غم نہیں پہنچے گا اور وہ غیب سے روزی پائے گا، کسی کا محتاج نہ ہوگا۔

## الْخَافِضُ کے معنی اور اس کے خواص

### ﴿۲۳﴾ الْخَافِضُ جَلَّ جَلَالُهُ

(پست کرنے والا)

**خواص چھ ہیں:**

- ۱ جو اس اسم کو پانچ سو (۵۰۰) بار پڑھے گا انشاء اللہ اس کی حاجت پوری ہوگی اور کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ دشمن کے صدمہ سے بچ

جائے گا اور حفاظت الہی اس کے شامل حال رہے گی۔

- ① جو اسے ایک ہزار (۱۰۰۰) بار پڑھے گا، انشاء اللہ تمام دشمنوں سے محفوظ ہو جائے گا۔
- ② اگر کوئی تین روزے رکھے پھر چوتھے دن ایک مجلس میں چند آدمی ستر ہزار (۷۰۰۰۰) بار اس کو پڑھیں تو دشمن پر فتح نصیب ہوگی۔
- ③ انشاء اللہ۔ اسی مقصد کے لیے تین روزے رکھ کر ستر (۷۰) بار پڑھنا بھی مفید ہے۔
- ④ جو کوئی اس اسم کو بہت پڑھے، حاکم وقت اس سے رضامند رہے۔
- ⑤ اگر کوئی مشکل پیش آئے تو ہر نماز کے بعد ایک ہزار چار سو اکیاسی (۱۳۸۱) بار اس کا پڑھنا بہت مفید ہے۔
- ⑥ جو کوئی ظالم سے ڈرتا ہو اس اسم کو ستر (۷۰) بار پڑھا کرے اس کے ظلم سے بچا رہے گا۔

### الرَّافِعُ کے معنی اور اس کے خواص

﴿۲۴﴾ الرَّافِعُ جَلَّ جَلَالُهُ

(بلند کرنے والا)

خواص چھ ہیں:

- ① جو کوئی صبح کے دن یا جمعہ کی رات مغرب یا عشاء کے بعد چار سو چالیس (۴۴۰) مرتبہ اس اسم کا ورد کرے گا اسے مخلوق کے درمیان ایک رعب نصیب ہوگا۔
- ② جو کوئی اسے آدمی رات یا دو پہر کو سو (۱۰۰) بار پڑھے گا تو حق تعالیٰ شانہ اس کو برگزیدہ کرے گا اور وہ تو انگر اور بے نیاز ہوگا۔
- ③ جو کوئی اس اسم کو ہر روز تیس (۳۰) بار پڑھے گا، انشاء اللہ مراد پائے گا۔
- ④ جو کوئی ہر مہینہ کی چودھویں رات کو آدمی رات میں (۱۰۰) مرتبہ ﴿الرَّافِعُ﴾ پڑھے، اللہ تعالیٰ اسے انشاء اللہ مخلوق سے بے نیاز اور تو انگر بنا دے گا۔
- ⑤ جو کوئی اسے تین سو اکیاون (۳۵۱) بار پڑھے گا مخلوق کے درمیان عزیز ہوگا۔
- ⑥ جو اسے ستر (۷۰) بار پڑھے گا ظالموں سے امن میں رہے گا اور انشاء اللہ سرکشوں سے محفوظ رہے گا۔

### الْمُعِزُّ کے معنی اور اس کے خواص

﴿۲۵﴾ الْمُعِزُّ جَلَّ جَلَالُهُ

(عزت دینے والا)

خواص تین ہیں:

- ① جو شخص صیر یا جمعہ کی رات میں مغرب کے بعد چالیس (۴۰) بار یہ اسم مبارک پڑھے گا، انشاء اللہ خدا تعالیٰ اس کی بیعت مخلوق کے دل میں ڈال دے گا۔
- ② جو شخص نماز عشاء کے بعد صیر یا جمعہ کی رات میں ایک سو چالیس (۱۴۰) بار پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی بیعت و حرمت مخلوق کے دل میں ڈال دے گا اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں ڈرے گا اور اسی کی پناہ میں رہے گا۔

جو ایک سو چالیس (۱۴۰) دن تک اکتالیس (۴۱) بار ہر روز بلا تاغہ اس کو پڑھے گا دنیا و آخرت میں عزت پائے گا۔ پڑھنے کا آغاز پیر یا جمعہ کی شب سے کرے۔

## المُذِلُّ کے معنی اور اس کے خواص

﴿۲۶﴾ الْمُذِلُّ جَلَّ جَلَالُهُ

(ذلت دینے والا)

خواص چار ہیں:

- ① جو اس اسم کو پچھتر (۷۵) بار پڑھ کر سجدے میں دعا کرے تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔
- ② جو کوئی کسی ظالم یا حاسد سے ڈرتا ہو تو پچھتر (۷۵) بار یا اکیس (۴۱) بار ﴿يَا مُذِلُّ﴾ یا ﴿الْمُذِلُّ﴾ پڑھ کر سجدہ کرے اور کہے "یا الہی! فلانے ظالم کے شر سے مجھے محفوظ رکھ" حق تعالیٰ اس کو امان دے گا اور اپنی حفاظت میں رکھے گا۔
- ③ جو سات سو ستر (۷۷۰) بار روزانہ کوئی وقت مقرر کر کے ﴿يَا مُذِلُّ﴾ کُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ بِهٖ عَزِيْزٍ سُلْطٰنِيْكَ﴾ پڑھ لیا کرے تو وہ دشمن دفع ہوگا۔
- ④ جس کا کوئی حق کسی کے ذمہ ہو اور وہ ادا کرنے سے ٹال مٹول کر رہا ہو تو اس اسم کو بکثرت پڑھنے سے وہ اس کا حق انشاء اللہ ادا کر دے گا۔

## السَّمِيْعُ کے معنی اور اس کے خواص

﴿۲۷﴾ السَّمِيْعُ جَلَّ جَلَالُهُ

(خواب سننے والا)

خواص چار ہیں:

- ① جو کوئی اس اسم کو جمعرات کے دن چاشت کی نماز کے بعد پانچ سو (۵۰۰) بار پڑھے گا، انشاء اللہ مستجاب الدعوات بن جائے گا۔
- ② جو اسے کثرت سے پڑھے کم سننے کے مرض سے انشاء اللہ شفاء پائے گا۔
- ③ اگر کوئی جمعرات کے دن چاشت کی نماز کے بعد پانچ سو (۵۰۰) بار ﴿السَّمِيْعُ﴾ پڑھے گا، اور ایک قول کے مطابق ہر روز سو (۱۰۰) بار پڑھے گا، اور پڑھتے وقت بات چیت نہیں کرے گا اور پڑھ کر دعا مانگے گا تو جو مانگے گا انشاء اللہ پائے گا۔
- ④ جو شخص جمعرات کے دن فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان اس کو سو (۱۰۰) مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو نظر خاص سے نوازے گا۔

## البَصِيْرُ کے معنی اور اس کے خواص

﴿۲۸﴾ البَصِيْرُ جَلَّ جَلَالُهُ

(خوب دیکھنے والا)

خواص پانچ ہیں:

- ① جو کوئی نماز جمعہ سے پہلے یا بعد میں سو (۱۰۰) مرتبہ ﴿يَا بَصِيْرُ﴾ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی نگاہ میں انشاء اللہ روشنی اور دل میں نور پیدا

فرمادے گا اور اسے صالح احوال و اعمال کی توفیق عطا فرمائے گا۔

- ① جو کوئی جمعہ کے دن فجر کی سنتوں اور فضوں کے درمیان سو (۱۰۰) بار یہ اسم مبارک پڑھے گا سے اللہ تعالیٰ خصوصی نظر عنایت عطا فرمائے گا۔
- ② جو اس کا بکثرت ورد کرے گا آنکھوں کے امراض سے انشاء اللہ محفوظ رہے گا۔ اس کے لیے یہ دعا بھی مفید ہے:  
(اللَّهُمَّ يَا سَمِيعٌ يَا بَصِيرٌ مَتَّعْنِي بِسَمْعِي وَبَصَرِي وَاجْعَلْهُمَا الْوَارِثَ مِنِّي)
- ③ جو کوئی اس اسم کو ہر روز عصر کے وقت سات (۷) بار پڑھ لیا کرے گا، ناگہانی موت سے امن میں رہے گا۔
- ④ جو اس اسم کو جمعہ کے خطبہ سے پہلے سو (۱۰۰) بار پڑھ لیا کرے گا، انشاء اللہ منظور نظر الہی ہوگا۔

### الْحَكْمُ کے معنی اور اس کے خواص

﴿۲۹﴾ الْحَكْمُ جَلَّ جَلَالُهُ

(حاکم مطلق)

خواص چار ہیں:

- ① جو کوئی اخیر شب میں ننانوے (۹۹) مرتبہ با وضو یہ اسم پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو انشاء اللہ نکل اسرار و انوار بنا دے گا۔
- ② جو کوئی جمعہ کی رات یہ اسم اس قدر پڑھے گا کہ بے حال و بے خود ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو انشاء اللہ کشف الہام سے نوازے گا۔
- ③ جو کوئی شب جمعہ میں آدھی رات کو یہ اسم پڑھے گا حق تعالیٰ اس کا باطن پاک صاف کر دے گا۔
- ④ جو پانچوں وقت ہر نماز کے بعد اسی (۸۰) بار ﴿الْحَكْمُ﴾ پڑھ لیا کرے گا کسی کا محتاج نہ ہوگا۔

### الْعَدْلُ کے معنی اور اس کے خواص

﴿۳۰﴾ الْعَدْلُ جَلَّ جَلَالُهُ

(خوب انصاف کرنے والا)

خواص تین ہیں:

- ① جو اس اسم کو پڑھے اور روٹی کے بیس (۲۰) تقویوں پر شب جمعہ کو لکھ کر کھالے تو اس کے لیے دلوں کو مسخر کر دیا جاتا ہے۔
- ② جو کوئی اس اسم کو ہر نماز کے بعد پڑھے غیب سے روزی پائے اور اسے نیک عمل کی توفیق نصیب ہو۔
- ③ جو کوئی مغرب کی نماز کے بعد ایک ہزار (۱۰۰۰) بار یہ اسم مبارک پڑھے گا آسمانی بلاؤں سے نجات پائے گا۔

### الْلَطِيفُ کے معنی اور اس کے خواص

﴿۳۱﴾ الْلَطِيفُ جَلَّ جَلَالُهُ

(باریک بین، بندوں پر نرمی کرنے والا)

خواص آٹھ ہیں:

- ① جو شخص ایک سو تینتیس (۱۳۳) مرتبہ ﴿الْلَطِيفُ﴾ پڑھا کرے، انشاء اللہ اس کے رزق میں برکت ہوگی اور اس کے سب کام بخوبی

پورے ہوں گے۔

④ جو شخص فقر وفاقہ، دُکھ بیماری، تنہائی، کمپرسی یا کسی اور مصیبت میں گرفتار ہو وہ اچھی طرح وضو کر کے دو گانہ پڑھے اور اپنے مقصد اور مطلب کو دل میں رکھ کر سو (۱۰۰) مرتبہ یہ اسم پڑھے، انشاء اللہ مقصد پورا ہوگا۔

⑤ جو اس اسم کو روزانہ ایک سو تہتر (۱۷۳) بار پڑھے، اس کو اسباب معیشت نصیب ہوں گے اور حاجات پوری ہوں گی۔

⑥ بیٹیوں کے رشتے اور نصیب کھلنے اور امراض سے صحت کے لیے ہر روز تحیۃ الوضو (وضو کی نماز) کے بعد سو (۱۰۰) بار اس کا پڑھنا مفید ہے۔

⑦ ہردینی اور دنیوی ہم کے لیے خالی جگہ پر دعا کی شرائط کے ساتھ سولہ ہزار چھ سو اکتالیس (۱۶۶۴۱) بار اس کا پڑھنا مفید ہے۔

⑧ جو ایک سو ساٹھ (۱۶۰) بار ﴿الْخَبِيرُ﴾ پڑھے اور اس کے ساتھ یہ آیت پڑھے: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ وَهُوَ الْخَبِيرُ﴾ وہ خوف سے انشاء اللہ امن پائے گا۔

⑨ بیماریوں سے شفاء کے لیے اس اسم کے ساتھ کوئی آیت شفاء پڑھ لی جائے تو فائدہ ہوگا۔

⑩ پریشانیوں اور مصیبتوں سے نجات کے لیے اس اسم کا ورد بہت مفید ہے۔

### الْخَبِيرُ کے معنی اور اس کے خواص

﴿۳۲﴾ الْخَبِيرُ جَلَّ جَلَالُهُ

(بڑا باخبر، ہر بات سے آگاہ)

خواص چار ہیں:

① جو سات (۷) دن متواتر اس کا ورد کرے اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے روحانیت نصیب ہوتی ہے جو مطلوبہ امور میں اس کی رہنمائی کرتی ہے۔

② جو نفس امارہ کے ہاتھ گرفتار ہو کثرت سے اس کا ورد کرے، انشاء اللہ نجات پائے گا۔

③ استحارہ کے واسطے اکتالیس (۴۱) دن تک روزانہ تین تین سو (۳۰۰) بار ﴿يَا خَبِيرُ﴾ پڑھے، پھر جب ضرورت پڑے تین

سو (۳۰۰) بار پڑھ کر سو جائے نیک و بد حال کی ان شاء اللہ اطلاع ہو جائے گی۔

④ جو کسی موزی کے پنچے میں گرفتار ہو، اس اسم کو بکثرت پڑھے، انشاء اللہ خلاصی نصیب ہوگی۔

### الْحَلِيمُ کے معنی اور اس کے خواص

﴿۳۳﴾ الْحَلِيمُ جَلَّ جَلَالُهُ

(بڑا بردبار)

خواص نو ہیں:

① جو اس کا ہر وقت ورد رکھے گا انشاء اللہ فتح مندر ہے گا اور ہر آفت سے بچا رہے گا۔

② جو کوئی اس اسم کو ہر روز ظہر کی نماز کے بعد نو (۹) دفعہ پڑھا کرے گا انشاء اللہ تمام خلقت میں سرخورد ہے گا۔

③ جو دشمن یا مدعی یا حاکم کے سامنے ہوتے ہی پانی سے ہاتھ بھگو کر گیارہ (۱۱) دفعہ ﴿يَا حَلِيمُ﴾ پڑھ کر منہ پر مل لیا کرے انشاء اللہ دشمن

خشتی نہ کر سکے گا اور حاکم نرمی و مہربانی سے پیش آئے گا۔

جو کوئی اس کاغذ پر لکھ کر پھر اس کو دھوئے اور پانی اپنی ہمتی پر چھڑک دے تو انشاء اللہ زراعت کی ہر آفت سے حفاظت رہے گی اور کمال کو پہنچے گی اور اس میں برکت ہوگی۔

- ① جو کوئی اس اسم کو بادشاہ کے روبرو پڑھے گا انشاء اللہ اس کے غصہ سے محفوظ رہے گا۔
- ② جو کوئی اس اسم کو پڑھے، حلیم الطبع ہو جائے اور صبر و سکون اس کے دل میں آجائے۔
- ③ جو کوئی درخت بوتے وقت اٹھائیس (۲۸) بار یہ اسم مبارک پڑھے تو درخت سرسبز ہو اور خزاں سے محفوظ رہے۔
- ④ اگر رئیس آدمی اس کو بکثرت پڑھے اس کی سرداری خوب جمے اور راحت سے رہے۔
- ⑤ اگر اس اسم مبارک کو کاغذ پر لکھ کر پانی سے دھو کر اپنے پیشے کے آلات و اوزار پر ملے تو اس پیشے میں برکت ہوگی۔

### الْعَظِيمُ کے معنی اور اس کے خواص

﴿۳۴﴾ الْعَظِيمُ جَلَّ جَلَالُهُ

(بزرگی والا، عظمت والا)

خواص تین ہیں:

- ① جو کوئی حکمراں سے خوفزدہ ہو وہ بارہ (۱۲) بار اس اسم کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے، انشاء اللہ محفوظ رہے گا اور نرمی پائے گا۔
- ② اس کا بکثرت ذکر کرنے سے عزت نصیب ہوگی اور ہر مرض سے شفاء ملتی ہے۔
- ③ جو اس اسم مبارک کو سات (۷) دفعہ پانی پر پڑھ کر دم کر لے پانی پی لے تو انشاء اللہ اس کے پیٹ میں درد نہ ہوگا۔

### الْغُفُورُ کے معنی اور اس کے خواص

﴿۳۵﴾ الْغُفُورُ جَلَّ جَلَالُهُ

(بہت بخشنے والا)

خواص تین ہیں:

- ① جو اس اسم کو بکثرت پڑھے گا اس کے دل سے انشاء اللہ سیاہی گھٹے گی۔
- ② تپ یا درد سر کا مریض یا سنگین آدمی اگر اس اسم کو کاغذ پر لکھ کر روٹی پر اس کا نقش جذب کر کے کھائے تو حق تعالیٰ شانہ اس کو شفا اور خلاصی بخشے گا۔
- ③ جو اس کو بکثرت پڑھے گا، برے اخلاق اور روحانی امراض اور ظاہری بیماریوں سے انشاء اللہ محفوظ رہے گا اور اس کے مال و اولاد میں برکت ہوگی۔

### الشُّكُورُ کے معنی اور اس کے خواص

﴿۳۶﴾ الشُّكُورُ جَلَّ جَلَالُهُ

(قدر دان یعنی تھوڑے عمل پر بہت زیادہ ثواب دینے والا)

خواص چھ ہیں:

- ① جو کوئی یہ اسم اتالیس (۳۱) بار پانی پر پڑھے اور وہ پانی اپنی آنکھوں پر چھڑکے اس کی نظر تیز ہو جائے گی۔

① جس کو ضیقِ انفس (دمہ) یا تکان یا گرہنی اعضاء ہو اس کو لکھ کر بدن پر پھیر دے اور پانی پر دم کر کے پانی پی لے تو نفع ہو۔ اور اگر کمزور نظر والا اپنی آنکھ پر پھیرے، نگاہ میں انشاء اللہ ترقی ہو۔

② جو شخص معاشی تنگی یا کسی اور دکھ درد یا رنج و غم میں مبتلا ہو اور اس اسم کو اتالیس مرتبہ روزانہ پڑھے، انشاء اللہ اس سے رہائی نصیب ہوگی۔

③ جس شخص کی آنکھوں کی روشنی جاتی رہی ہو وہ اس اسم کو اتالیس (۳۱) بار ہر روز پڑھا کرے، اور لعابِ دہن اپنی آنکھوں پر لگا دے اور پانی پر دم کر کے پئے، انشاء اللہ روشنی برقرار ہو جائے گی۔

④ جو کوئی مفلس ہو اس اسم کو اکیس (۲۱) بار پڑھے، انشاء اللہ غنی ہو جائے گا۔ اور جو کوئی بہت پڑھے، خلق میں باعزت رہے۔

⑤ جو کوئی اس اسم مبارک کو پانچ ہزار (۵۰۰۰) بار روز پڑھے گا، انشاء اللہ قیامت کے دن بلند مرتبہ پائے گا۔

### الْعَلِيُّ کے معنی اور اس کے خواص

﴿۳۷﴾ الْعَلِيُّ جَلَّ جَلَالُهُ

(بہت بلند و برتر)

#### خواص پانچ ہیں:

① جو شخص اس اسم کو ہمیشہ پڑھتا رہے اور لکھ کر اپنے پاس رکھے، انشاء اللہ اسے رتبہ کی بلندی خوشحالی اور مقصد میں کامرانی نصیب ہوگی۔

② جو اس اسم کو درم یعنی سو جن پر تین بار پڑھ کر پھونکے گا انشاء اللہ صحت پائے گا۔

③ اگر فقیر اسے ایک سو دس (۱۱۰) بار پڑھے تو غنی ہو جائے اور دنیا میں عزت پائے۔

④ اگر یہ اسم مبارک لکھ کر بچے کو باندھ دیا جائے تو جلدی جو ان ہو۔ اگر مسافر اپنے پاس رکھے تو جلدی اپنے عزیزوں سے آٹے۔

اگر محتاج ہو تو غنی ہو جائے۔

⑤ یہ اسم مشائخ، بزرگوں، طلبہ اور سالکین کے لیے ایک روحانی خزانہ ہے، اگر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا نام ﴿الْعَلِيُّ﴾ بھی ملا لیا جائے

تو یہ بڑے اذکار میں شمار ہوتا ہے۔

### الْكَبِيرُ کے معنی اور اس کے خواص

﴿۳۸﴾ الْكَبِيرُ جَلَّ جَلَالُهُ

(بہت بڑا)

#### خواص سات ہیں:

① اس کا بکثرت ذکر کرنے سے علم و معرفت کا دروازہ کھلتا ہے۔

② اگر یہ اسم مبارک کھانے کی چیز پر پڑھ کر میاں بیوی کو کھلایا جائے تو باہمی الفت پیدا ہو۔

③ جو شخص اپنے عہدہ سے معزول ہو گیا ہو، وہ سات (۷) روزے رکھے اور روزانہ ایک ہزار (۱۰۰۰) مرتبہ ﴿الْكَبِيرُ﴾ پڑھے، انشاء

- اللہ اپنے عہدہ پر بحال ہو جائے گا اور اسے بزرگی و برتری نصیب ہوگی۔  
 ④ جو کوئی اس اسم کو پڑھے مخلوق کی نظروں میں ممتاز ہو اور بلند مرتبہ پائے۔  
 ⑤ یہ بادشاہوں اور حکام کا وظیفہ ہے وہ اگر اس کا اہتمام کریں تو ان کا رعب رہے اور مہمات بخوبی سرانجام پائیں۔  
 ⑥ جو اسے نو (۹) دفعہ کسی بیمار پر پڑھ کر دم کرے، انشاء اللہ بیمار تندرست ہو۔  
 ⑦ جو اسے سو (۱۰۰) بار پڑھے گا مخلوق میں عزیز رہے گا۔

### الْحَفِیْظُ کے معنی اور اس کے خواص

﴿۳۹﴾ الْحَفِیْظُ جَلَّ جَلَالُهُ

(سب کا محافظ)

خواص چھ ہیں:

- ① جو شخص بکثرت ﴿يَا حَفِیْظُ﴾ کا ورد رکھے گا اور لکھ کر اپنے پاس رکھے گا وہ انشاء اللہ ہر طرح کے خوف و خطر اور نقصان و ضرر سے محفوظ رہے گا۔  
 ② یہ اسم مبارک خوفناک سفر میں حفاظت کے لیے بے حد مفید اور سریع الاثر ہے حتیٰ کہ اگر اسے پڑھ کر درندوں کے درمیان سو جائے تو انشاء اللہ نقصان نہیں پہنچائیں گے، اس اسم کے ذکر کے بعد تین بار یہ دعا پڑھے: ﴿يَا حَفِیْظُ اِحْفَظْنِي﴾۔  
 ③ جو اس اسم کو ہر روز سولہ (۱۶) بار پڑھے گا، انشاء اللہ ہر طرح سے نڈر رہے گا۔  
 ④ جو مغرب کے بعد اکتالیس (۴۱) بار قبلہ کی طرف چہرہ کر کے ﴿يَا حَفِیْظُ يَا حَفِیْظُ يَا رَقِیْبُ يَا مُجِیْبُ يَا اَللّٰهُ يَا اَللّٰهُ﴾ پڑھے گا انشاء اللہ غیب سے روزی پائے گا۔  
 ⑤ جو یہ اسم مبارک کسی بیمار پر چالیس (۴۰) ہفتہ تک ستر (۷۰) ستر (۷۰) بار روز پڑھ کر دم کرے گا، انشاء اللہ تندرست ہو جائے گا۔  
 ⑥ اس کو پڑھنے اور اپنے پاس لکھ کر رکھنے والا ڈوبنے، جلنے، دیو، پری اور نظر بند سے انشاء اللہ محفوظ رہے گا۔

### الْمُقِیْتُ کے معنی اور اس کے خواص

﴿۴۰﴾ الْمُقِیْتُ جَلَّ جَلَالُهُ

(وہ کامل القدرت ذات جو ہر چیز کو اس کی خوراک عطا کرتی ہے، غذا بخش)

خواص چھ ہیں:

- ① اگر کوئی خالی آنخورے میں سات (۷) مرتبہ یہ اسم پڑھ کر دم کرے اور اس میں خود پانی پئے یا کسی دوسرے کو پلائے تو انشاء اللہ مقصد حاصل ہوگا۔ یہ عمل سفر میں امن کے لیے بھی مفید ہے، خاص طور پر جب اس کے ساتھ سورہ قریش کو ملا کر صبح و شام پڑھا جائے۔  
 ② جس کی آنکھ سرخ ہو اور درد کرتی ہو وہ اس اسم کو دس (۱۰) بار پڑھ کر دم کرے۔  
 ③ جو کسی کو غریب دیکھے یا خود اس کو غریبی پیش آئے یا کوئی لڑکا بد خوئی کرے یا بہت روئے سات (۷) بار خالی آنخورے پر یہ اسم



مبارک پڑھ کر دم کرے اور اس میں پانی ڈال کر خود پئے یا دوسرے کو پلائے، انشاء اللہ فائدہ ہوگا۔

۴ اگر روزہ دار کو ہلاکت کا خوف ہو تو سو (۱۰۰) بار پھول پر پڑھ کر اسے سو گھنٹے، انشاء اللہ قوت پائے گا اور ہر روز روزہ رکھ سکے گا۔

۵ جو اس اسم کو ﴿الْحَسْبُ﴾ کے ساتھ ملا کر ہر نماز کے بعد سات (۷) بار پڑھے گا، سو (۱۰۰) دائمی امراض سے انشاء اللہ شفاء پائے گا۔

۶ جو اس اسم کو ہر روز سات (۷) بار پانی پر دم کر کے پئے گا، انشاء اللہ غیب سے روزی پائے گا اور کبھی بھوکا نہ رہے گا۔

### الْحَسْبُ کے معنی اور اس کے خواص

﴿۴۱﴾ الْحَسْبُ جَلَّ جَلَالُهُ

(خوب حساب لینے والا)

خواص چھ ہیں:

۱ جو کوئی چور یا حاسد یا ہمسایہ یا دشمن یا چشم زخم یا نظر بد سے ڈرنا ہو ایک ہفتہ تک صبح (طلوع آفتاب سے پہلے) اور شام (غروب آفتاب سے پہلے) ستر (۷۰) بار ﴿حَسْبِيَ اللَّهُ الْحَسْبُ﴾ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے ہفتہ گزرنے سے پہلے امن عطا فرمائے گا اور انشاء اللہ تمام کام درست ہو جائیں گے۔ پڑھائی کا آغاز جمعرات کے دن سے کرے۔

۲ جو روزانہ ﴿حَسْبِيَ اللَّهُ الْحَسْبُ﴾ پڑھے گا، انشاء اللہ ہر آفت سے محفوظ رہے گا۔

۳ جو کوئی اس اسم کو ستر (۷۰) بار پڑھے گا، انشاء اللہ دشمنوں کے شر سے محفوظ رہے گا۔

۴ اگر کوئی مشکل پیش آئے تو ایک ہفتہ تک روزانہ صبح و شام ایک سو پینتالیس (۱۳۵) بار یہ اسم مبارک پڑھے، انشاء اللہ مشکل آسان ہو جائے گی۔

۵ اگر کسی سے حساب میں تشدد کا اندیشہ ہو، یا کسی بھائی برادری سے کسی معاملہ میں خوف ہو تو سات (۷) روز تک طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے بیس (۲۰) بار یہ اسم مبارک پڑھ لیا کرے۔

۶ ﴿الْحَسْبُ﴾ میں اسم اعظم کی طرف اشارہ ہے۔ (واللہ اعلم)

### الْجَلِيلُ کے معنی اور اس کے خواص

﴿۴۲﴾ الْجَلِيلُ جَلَّ جَلَالُهُ

(بڑی شان والا)

خواص تین ہیں:

۱ جو کوئی اس اسم کو تہتر (۴۳) بار پڑھا کرے انشاء اللہ صاحب وقار ہو۔

۲ جو کوئی اس کو دس (۱۰) بار اپنے اسباب پر پڑھے چوری سے محفوظ و سلامت رہے۔

۳ جو بکثرت اس کا ورد رکھے گا اور مشک و زعفران سے لکھ کر پئے گا اور اپنے پاس رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو انشاء اللہ عزت و عظمت اور قدر و منزلت عطا فرمائے گا۔

## الْكَرِيمُ کے معنی اور اس کے خواص

﴿۲۳﴾ الْكَرِيمُ جَلَّ جَلَالُهُ

(بڑائی اور فیاض)

خواص دو ہیں:

- ① جو شخص روزانہ سوتے وقت ﴿يَا كَرِيمُ﴾ پڑھتے پڑھتے سو جایا کرے اللہ تعالیٰ اس کو علماء و صلحاء میں عزت فرمائیں گے اور غیب سے روزی عطا فرمائیں گے۔
- ② جو شخص ﴿الْكَرِيمُ ذُو الطَّوْلِ الْوَهَّابِ﴾ کو کثرت سے پڑھے اس کے اسباب و احوال میں برکت ظاہر ہوگی۔

## الرَّقِيبُ کے معنی اور اس کے خواص

﴿۲۴﴾ الرَّقِيبُ جَلَّ جَلَالُهُ

(خوب نگہبانی کرنے والا)

خواص سات ہیں:

- ① اس اسم کا ذکر کرنے سے مال و عیال محفوظ رہتے ہیں۔
- ② اگر کسی کی کوئی چیز گم ہوئی ہو تو بکثرت اس کا ورد کرنے سے انشاء اللہ واپس مل جاتی ہے۔
- ③ اگر استقامتِ حمل کا خطرہ ہو تو حاملہ عورت پر سات (۷) مرتبہ یہ اسم مبارک پڑھنا مفید ہے۔
- ④ سفر میں جاتے وقت اپنے الہ و اولاد میں سے جس پر کوئی خطرہ یا فکر ہو اس کی گردن پر ہاتھ رکھ کر سات (۷) بار یہ اسم مبارک پڑھے، انشاء اللہ وہ مامون رہے گا۔
- ⑤ جو کوئی اس اسم کو سات (۷) بار یا ستر (۷۰) بار اپنی بیوی فرزند یا مال پر پڑھ کر دم کرے جنات اور تمام دشمنوں اور آفتوں سے انشاء اللہ محفوظ رہے اور اس کا رعب بھی بڑھ جائے گا۔
- ⑥ جو کوئی پھوڑے یا پھنسی پر تین بار یہ اسم مبارک پڑھ کر پھونک دے، انشاء اللہ شفاء حاصل ہوگی۔
- ⑦ جو کوئی اپنا مال اسباب (گاڑی وغیرہ) کہیں چھوڑتے وقت اس اسم کو پڑھ لے تو انشاء اللہ چوری سے حفاظت رہے گی۔ مجرب ہے۔

## الْمُجِيبُ کے معنی اور اس کے خواص

﴿۲۵﴾ الْمُجِيبُ جَلَّ جَلَالُهُ

(دعائیں سننے اور قبول کرنے والا)

خواص چار ہیں:

- ① جو کوئی کثرت سے ﴿يَا مُجِيبُ﴾ پڑھا کرے، انشاء اللہ اس کی دعائیں بارگاہِ الہی میں قبول ہونے لگیں گی۔
- ② جو یہ اسم مبارک اپنے پاس لکھ کر رکھے گا اللہ تعالیٰ کی امان میں رہے گا۔

- ۱۳ جو کوئی در دوسرے کے لیے یہ اسم مبارک تین بار پڑھ کر دم کر لے، انشاء اللہ در دوسرے دور ہوگا۔  
 ۱۴ جو اس اسم کو طلوع آفتاب کے وقت پچپن (۵۵) بار پڑھنے کا معمول بنائے گا، انشاء اللہ مستجاب الدعوات ہوگا۔

### الْوَاسِعُ کے معنی اور اس کے خواص

﴿۳۶﴾ الْوَاسِعُ جَلَّ جَلَالُهُ

(وسعت والا)

خواص پانچ ہیں:

- ۱ جو اس کا کثرت سے ذکر کرے گا ظاہری اور باطنی غنا نصیب ہوگا، نیز اسے عزت، حوصلہ، بردباری، وسعت قلبی اور دل کی صفائی نصیب ہوگی، اور اللہ تعالیٰ معاملات میں کشادگی اس کے لیے عطا فرمائے گا۔  
 ۲ جو کوئی اس اسم کو پڑھتا ہے اس پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔  
 ۳ جو اس اسم کو پڑھنے کا معمول بنالے اسے انشاء اللہ روزی ملے گی اور مفلس نہیں ہوگا۔  
 ۴ جس کو بچھو کاٹ لے وہ یہ اسم مبارک ستر (۷۰) بار پڑھ کر دم کرے، انشاء اللہ ہر اثر نہ کرے گا۔  
 ۵ جو کشائش (کشادگی) کے واسطے اس کا جتنا ورد پڑھائے گا اتنا مالدار ہو جائے گا۔

### الْحَكِيمُ کے معنی اور اس کے خواص

﴿۳۷﴾ الْحَكِيمُ جَلَّ جَلَالُهُ

(بڑی حکمت والا)

خواص پانچ ہیں:

- ۱ جو کوئی کثرت سے ﴿يَا حَكِيمُ﴾ پڑھا کرے اللہ تعالیٰ اس پر انشاء اللہ علم و حکمت کے دروازے کھول دیں گے۔  
 ۲ جس کسی کا کوئی کام پورا نہ ہوتا ہو وہ پابندی سے اس اسم کو پڑھا کرے انشاء اللہ کام پورا ہو جائے گا۔  
 ۳ جو ظہر کے بعد نوے (۹۰) بار اس اسم کو پڑھ لیا کرے تمام مخلوق میں سرخورد رہے گا۔  
 ۴ جو اس کو بہتر (۷۲) بار پڑھا کرے، انشاء اللہ اسے کوئی مشکل پیش نہ آئے اور سب حاجتیں برآئیں۔  
 ۵ جو کوئی اس کا کثرت در رکھے گا علم و حکمت کے چشمے اس کی زبان سے پھونکیں گے اور وہ لطیف اشارات اور معانی کے اسرار کو بھی سمجھ لے گا۔

### الْوَدُودُ کے معنی اور اس کے خواص

﴿۳۸﴾ الْوَدُودُ جَلَّ جَلَالُهُ

(نیک بندوں سے بے حد محبت کرنے والا)

خواص چار ہیں:

- ۱ جو کوئی ایک ہزار (۱۰۰۰) مرتبہ ﴿يَا وَدُودُ﴾ پڑھ کر کھانے پر دم کرے گا اور بیوی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے گا تو انشاء اللہ میاں بیوی

کا جھڑا ختم ہو جائے گا اور باہمی محبت پیدا ہو جائے گی۔

① جس کا بیٹا برائیوں میں مبتلا ہو وہ جمعہ کے بعد ایک ہزار ایک (۱۰۰۱) بار یہ اسم مبارک معطر و لطیف شیرینی پر پڑھ کر دم کرے اور دو رکعت نماز ادا کرے اور وہ شیرینی اس کو کھلائے، انشاء اللہ صالح ہو جائے گا۔

② اس کا ورد تسخیر کے لیے بھی مفید ہے۔

③ جو شخص کسی پریشانی میں پڑ جائے وہ دو رکعت نماز پڑھ کر یہ دعا کرے، انشاء اللہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ دعا یہ ہے۔

اللَّهُمَّ يَا وَدُودُ (تین بار) يَا ذَا الْعَرْشِ الْمَجِيدِ يَا مُبْدِيَّ يَا مُعِيدُ يَا فَاعِلُ لِمَا يُرِيدُ لَسْنَا لَكَ بِدُورٍ وَجْهَكَ الَّذِي مَلَأَ أَرْكَانَ عَرْشِكَ وَبَعْدُوكَ أَلَيْسَ قَدَّرْتَ بِهَا عَلَيَّ جَمِيعَ خَلْقِكَ وَبِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ﴿يَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيثِينَ أَغِيثِي﴾ (آخری جملہ تین بار)

### الْمَجِيدُ کے معنی اور اس کے خواص

﴿۲۹﴾ الْمَجِيدُ جَلَّ جَلَالُهُ

(بڑا بزرگ)

خواص پانچ ہیں:

① جو کوئی کسی موذی مرض مثلاً برص، آتشک، جذام وغیرہ میں گرفتار ہو وہ چاند کی ۱۳، ۱۴، ۱۵ تاریخ کو روزے رکھے اور افطار کے بعد بکثرت اس اسم کو پڑھا کرے اور پانی پر دم کر کے پئے انشاء اللہ وہ مرض دور ہو جائے گا۔

② بیس (۲۰) دن تک روزہ رکھ کر افطار کے وقت ستاون (۵۷) بار اس اسم کا پڑھنا موذی امراض کے لیے مفید ہے۔

③ جس کو اپنے ساتھیوں میں عزت و حرمت نہ ہو، وہ ہر صبح کو ننانوے (۹۹) بار یہ اسم پڑھ کر اپنے اوپر پھونکے، انشاء اللہ عزت و حرمت حاصل ہوگی۔

④ جو گرمیوں میں اس اسم کو پڑھے گا تشنگی سے مامون رہے گا۔

⑤ جو اس اسم پر مداومت کرے گا، بزرگ ہوگا۔

### الْبَاعِثُ کے معنی اور اس کے خواص

﴿۵۰﴾ الْبَاعِثُ جَلَّ جَلَالُهُ

(مردوں کو زندہ کرنے والا)

خواص چار ہیں:

① جو کوئی روزانہ سوتے وقت سینے پر ہاتھ رکھ کر ایک سو (۱۰۰) مرتبہ ﴿يَا بَاعِثُ﴾ پڑھا کرے، انشاء اللہ اس کا دل علم و حکمت سے زندہ ہو جائے گا۔

② جو اس اسم کو سو بار (۱۰۰) روزانہ پڑھنے کا معمول بنائے گا اس سے انشاء اللہ نیکیاں سرزد ہوں گی اور برائیوں سے بچا رہے گا۔

③ جو اس کا بکثرت ورد رکھے گا خوف الہی اس پر غالب رہے گا۔

## الشَّهِيدُ کے معنی اور اس کے خواص

### (۵۱) الشَّهِيدُ جَلَّ جَلَالُهُ

(حاضر و ناظر، حاضر و باخبر جس کے علم سے کوئی چیز پوشیدہ نہ ہو)

خواص تین ہیں:

- ① جس شخص کی بیوی یا اولاد نا فرمان ہو وہ صبح کے وقت اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر اکیس (۲۱) مرتبہ ﴿یا شَهِيدُ﴾ پڑھ کر دم کرے، انشاء اللہ فرمانبردار ہو جائے گی۔ بعض علماء کے نزدیک اکیس (۲۱) کے بجائے اکتیس (۳۱) بار پڑھنا مفید ہے۔
- ② جو اس اسم کو پابندی سے پڑھے گا اسے انشاء اللہ گناہوں سے پرہیزگاری نصیب ہوگی۔
- ③ اہل مراقبہ اور شہادت کے متمنی حضرات کے لیے یہ اسم بہت مناسب اور مفید ہے۔

## الْحَقُّ کے معنی اور اس کے خواص

### (۵۲) الْحَقُّ جَلَّ جَلَالُهُ

(ثابت و برحق)

خواص پانچ ہیں:

- ① جو روزانہ ایک ہزار (۱۰۰۰) بار اس کا ورد کرے اس کے اخلاق اچھے ہو جائیں گے اور اس کی طبیعت کی اصلاح ہو جائے گی۔ انشاء اللہ۔
- ② جو روزانہ سو (۱۰۰) بار ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِينُ﴾ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے فقر سے غنا عطا فرمائیں گے اور انشاء اللہ اس کے معاملات آسان ہو جائیں گے۔
- ③ جو کوئی اس اسم کو بکثرت پڑھے گا مخلوق میں عزیز ہو جائے گا۔
- ④ اگر کوئی چیز گم ہو جائے تو ایک پاک چوکور کاغذ لے کر کونے پر اس اسم کو لکھے اور آدھی رات کو ہتھیلی پر کاغذ رکھ کر آسمان کے نیچے کھڑا ہو جائے اور یہ اسم ایک سو ننانوے (۱۹۹) بار پڑھے، انشاء اللہ گمشدہ چیز مل جائے گی۔
- ⑤ اگر قیدی آدھی رات کو سرنگا کر کے ایک سو آٹھ (۱۰۸) بار یہ اسم پڑھے تو انشاء اللہ قید سے خلاصی نصیب ہوگی۔

## الْوَكِيلُ کے معنی اور اس کے خواص

### (۵۳) الْوَكِيلُ جَلَّ جَلَالُهُ

(بڑا کارساز)

خواص سات ہیں:

- ① جو کوئی کسی بھی آسانی آفت کے خوف کے وقت ﴿یا وَكِيْلُ﴾ کا ورد کرے گا اور اس اسم کو اپنا وکیل بنا لے گا وہ انشاء اللہ ہر آفت سے محفوظ رہے گا۔

۱۲ جو کوئی ہر روز عصر کے وقت سات (۷) بار یہ اسم مبارک پڑھے گا، وہ اللہ کی پناہ میں رہے گا۔  
 ۱۳ جو بڑے کاموں سے نہ بچ سکے دس (۱۰) بار یہ اسم مبارک پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے اور لکھ کر اس کا پانی پئے انشاء اللہ بڑے کام سے نجات ملے گی۔

۱۴ جو اسے بہت پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کا مددگار ہوگا، اور اس کو اس کی خواہشوں کے حوالے نہیں فرمائے گا۔  
 ۱۵ جو کوئی اس اسم کو ایک سو چھیانوے (۱۹۶) بار ہر روز پڑھ لے عالم کے ظلم سے انشاء اللہ بچا رہے گا اور کسی سے نہیں ڈرے گا۔  
 ۱۶ یہ اسم ”اسم اعظم“ کے مطابق ہے۔  
 ۱۷ ہر حاجت کے لیے اس کی کثرت مفید ہے۔

### الْقَوِيُّ کے معنی اور اس کے خواص

﴿۵۴﴾ الْقَوِيُّ جَلَّ جَلَالُهُ

(بڑی طاقت و قوت والا)

خواص چھ ہیں:

- ۱ اگر اسے کم ہمت پڑھے باہمت ہو جائے، اگر کمزور پڑھے زور آور ہو، اگر مظلوم اپنے ظالم کو مغلوب کرنے کے لیے پڑھے تو انشاء اللہ مغلوب ہو جائے گا۔
- ۲ ظالم کی ہلاکت یا اس کے شر سے حفاظت کے لیے اس اسم کو ایک ہزار (۱۰۰۰) بار پڑھنا بہت مفید ہے۔
- ۳ جس کا رزق تنگ ہو وہ ایک ہزار (۱۰۰۰) بار یہ اسم مبارک پڑھے اور اس کے ساتھ اس آیت کا ورد کرے ﴿اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ﴾ انشاء اللہ اس کے ساتھ لطف و کرم کا معاملہ ہوگا اور خیر کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا جائے گا۔
- ۴ جو اس اسم کو بکثرت سے پڑھے گا انشاء اللہ صاحب قوت ہوگا اور جلد بڑے منصب تک پہنچے گا۔
- ۵ جس کا دشمن طاقتور ہو اور یہ اس کو دفع کرنے سے عاجز ہو تو تھوڑا سا خمیری آٹا لے کر اس کی ایک ہزار ایک سو (۱۱۰۰) چپنے کے برابر یا اس سے بھی چھوٹی گولیاں بنا لے پھر ہر ایک گولی پر ﴿يَا قَوِيُّ﴾ پڑھ کر دشمن کے دفع کی نیت سے مرغ کے آگے ڈالے یہاں تک کہ سب اسی طرح ختم کر دے اللہ تعالیٰ اس کے دشمن کو انشاء اللہ مغلوب و مقہور کر دے گا۔ بے محل اور ناحق یہ عمل نہ کرے ورنہ اپنا نقصان ہوگا۔

۶ اگر جمعہ کی دوسری ساعت میں یہ اسم بہت پڑھے گا تو نسیان جاتا رہے گا۔

### الْمَتِينُ کے معنی اور اس کے خواص

﴿۵۵﴾ الْمَتِينُ جَلَّ جَلَالُهُ

(قوت و اقتدار والا)

خواص پانچ ہیں:

- ۱ جس عورت کا دودھ کم ہو یا نہ ہو اس کو ﴿الْمَتِينُ﴾ کاغذ پر لکھ کر دھو کر پلائیں انشاء اللہ خوب دودھ ہوگا۔

- ① جس بچے کا دودھ چھڑایا گیا ہو اور وہ صبر نہ کرتا ہو اسے بھی یہ اسم مبارک دس (۱۰) بار لکھ کر پلایا جائے انشاء اللہ صبر کرے گا۔
- ② جو کوئی ننگی منصب چاہتا ہو وہ اتوار کے دن اول ساعت میں اسی نیت سے تین سو ساٹھ (۳۶۰) بار یہ اسم مبارک پڑھے، انشاء اللہ وہ منصب پالے گا۔
- ③ جو اس کا بکثرت ورد کرے گا، اس کی مشکل آسان ہو جائے گی اور انشاء اللہ حاجات پوری ہوں گی۔
- ④ جو کوئی فاسق و فاجر لڑکے یا لڑکی پر دس (۱۰) بار ﴿الْقَوِيُّ الْمَتِينُ﴾ پڑھے گا تو اس کی اصلاح ہو جائے گی اور انشاء اللہ وہ غلطی سے باز رہے گا۔

## الْوَلِيُّ کے معنی اور اس کے خواص

﴿۵۶﴾ الْوَلِيُّ جَلَّ جَلَالُهُ

(مددگار اور حمایتی)

خواص چار ہیں:

- ① جو اس اسم کو بکثرت پڑھے گا محبوب ہو جائے گا اور اسے ولایت عظمیٰ کا مقام نصیب ہوگا، اور اس پر اشیاء کے حقائق کھول دیئے جائیں گے۔
- ② جس کو کوئی مشکل پیش آئے وہ شب جمعہ میں ایک ہزار (۱۰۰۰) بار یہ اسم مبارک پڑھے، انشاء اللہ مشکل دور ہو جائے گی اور وہ اولیاء اللہ میں شامل کیا جائے گا۔
- ③ اگر بیوی کے پاس جانے کے وقت اس اسم کو پڑھے گا تو دونوں ایک دوسرے کے لیے کارآمد بن جائیں گے۔
- ④ جو شخص اپنی بیوی کی عادتوں اور خصلتوں سے خوش نہ ہو وہ جب اس کے سامنے جائے اس اسم کو پڑھا کرے، انشاء اللہ نیک خصلت ہو جائے گی۔

## الْحَمِيدُ کے معنی اور اس کے خواص

﴿۵۷﴾ الْحَمِيدُ جَلَّ جَلَالُهُ

(قابل تعریف، تمام خوبیوں کا مالک)

خواص آٹھ ہیں:

- ① جو شخص پینتالیس دن تک متواتر ترانوے (۹۳) مرتبہ تجہائی میں ﴿الْحَمِيدُ﴾ پڑھا کرے گا، اس کی تمام بڑی خصلتیں اور عادتیں انشاء اللہ دور ہو جائیں گی۔
- ② جو کوئی اس اسم مبارک کو بہت پڑھے گا پسندیدہ افعال ہوگا۔
- ③ جو شخص اور بری باتیں کرنے کا عادی ہو اور اس سے نہ بچ سکے، وہ پیالہ پر ﴿الْحَمِيدُ﴾ لکھے، پھر نوے (۹۰) بار پڑھ کر دم کرے اور ہمیشہ اس پیالہ میں پانی پیا کرے، انشاء اللہ شخص گوئی سے امان پائے گا۔

- ۱۴ اگر کوئی گونگا اس اسم کو گھول کر پئے، زبان سے صاف باتیں کرے۔  
 ۱۵ جو فجر کے بعد نانوے (۹۹) بار یہ اسم مبارک پڑھ کر ہاتھ پر دم کر کے چہرے پر پھیر لیا کرے، اللہ تعالیٰ اسے عزت، نصرت اور انشاء اللہ چہرے کا نور عطا فرمائے گا۔  
 ۱۶ جو اس اسم کو فرض نماز کے بعد سو (۱۰۰) بار پڑھنے کا معمول بنالے انشاء اللہ صالحین میں سے ہو جائے گا۔  
 ۱۷ جو اس اسم کو فجر اور مغرب کے بعد چھیاسٹھ (۲۶) بار پڑھنے کا معمول بنالے اسے انشاء اللہ اقوال و افعال حمیدہ حاصل ہوں گے۔  
 ۱۸ سورہ فاتحہ کے بعد یہ اسم لکھ کر کسی مریض کو پلانے سے انشاء اللہ شفاء ہوگی۔

### المُحْصِيُّ کے معنی اور اس کے خواص

#### ﴿۵۸﴾ الْمُحْصِيُّ جَلَّ جَلَالُهُ

(شمار کرنے والا، احاطہ کرنے والا)

#### خواص پانچ ہیں:

- ۱ جو شب جمعہ میں ایک ہزار (۱۰۰۰) بار یہ اسم مبارک پڑھے اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے حساب و کتاب سے نجات عطا فرمادے گا۔  
 ۲ جو روٹی کے دس ٹکڑے لے کر ہر ٹکڑے پر بیس (۲۰) بار یہ اسم مبارک پڑھ کر کھائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مخلوق کو سخر فرمادیں گے۔  
 ۳ جو اس کا بکثرت ذکر کرے گا اسے مراقبہ نصیب ہوگا، اور اگر اسے اللہ تعالیٰ کے نام ﴿الْمُحْصِيُّ﴾ کے ساتھ ملا کر پڑھ لیا جائے تو اسے بے شمار علوم عطا کئے جائیں گے۔  
 ۴ جو کوئی اس اسم کو بہت پڑھا کرے، انشاء اللہ گناہ سے بچا رہے۔  
 ۵ جو کوئی دس (۱۰) بار یہ اسم مبارک پڑھ کرے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت اور پناہ میں رہے۔

### المُبْدِيُّ کے معنی اور اس کے خواص

#### ﴿۵۹﴾ الْمُبْدِيُّ جَلَّ جَلَالُهُ

(پہلی بار پیدا کرنے والا)

#### خواص پانچ ہیں:

- ۱ اگر کوئی اس اسم کا درور رکھے تو اس کی زبان سے صحیح اور درست بات جاری ہوگی۔  
 ۲ جس کی بیوی کو حمل ہو اور اسقاط حمل سے ڈرتا ہو وہ سحر کے وقت نوے (۹۰) بار یہ اسم مبارک پڑھ کر شہادت کی انگلی بیوی کے پیٹ کے گرد یا شکم پر پھیر دے حمل انشاء اللہ ساقط نہ ہوگا۔  
 ۳ جو کئی اس اسم کو بہت پڑھے افعال نیک اس سے سرزد ہوں، گناہوں سے بچا رہے۔  
 ۴ جس شخص کا مال چوری ہو گیا ہو وہ اس کو پڑھے، انشاء اللہ مال مل جائے گا۔  
 ۵ جو کوئی اس کو لکھ کر اپنے پاس رکھے گا، حق تعالیٰ شانہ اسے تمام بلیات سے نجات دے گا۔



## المُعِيدُ کے معنی اور اس کے خواص

(۶۰) الْمُعِيدُ جَلَّ جَلَالُهُ

(دو بارہ زندہ کرنے والا)

خواص تین ہیں:

- ① گمشدہ شخص کو واپس بلانے کے لیے جب گھر کے تمام آدمی سو جائیں تو گھر کے چاروں کونوں میں ستر ستر مرتبہ ﴿يَا مُعِيدُ﴾ پڑھے، انشاء اللہ گم شدہ سات روز میں واپس آجائے گا یا پتہ چل جائے گا۔
- ② جو کوئی کسی معاملہ میں متحیر ہو وہ ایک ہزار (۱۰۰۰) بار یہ اسم مبارک پڑھے، غلجبان دور ہو جائے گا اور انشاء اللہ درست سمت کی طرف رہنمائی ہوگی۔
- ③ اگر کوئی بات یا چیز بھول گیا ہو تو ﴿يَا مُعِيدُ﴾ کا ورد کرنے سے انشاء اللہ یاد آجائے گی۔ نیز اس کے پڑھنے سے مخفی امور کی طرف بھی رہنمائی ہوتی ہے۔

## المُعِي کے معنی اور اس کے خواص

(۶۱) الْمُعِي جَلَّ جَلَالُهُ

(زندگی دینے والا)

خواص آٹھ ہیں:

- ① جو اس اسم کو ایک ہزار (۱۰۰۰) بار پڑھنے کا معمول بنائے گا، انشاء اللہ اس کا دل زندہ ہو جائے گا اور بدن میں تقویت پیدا ہوگی۔
- ② جو شخص بیمار ہو وہ بکثرت ﴿المُعِي﴾ کا ورد رکھے، یا کسی دوسرے پر یہ اسم مبارک بکثرت پڑھ کر دم کر دے، انشاء اللہ بدن صحت یاب ہو جائے گا۔
- ③ جو شخص نو اسی (۸۹) بار ﴿المُعِي﴾ پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے گا وہ ہر طرح کی قید و بند سے انشاء اللہ محفوظ رہے گا۔
- ④ جو کوئی درد یا کسی عضو کے ضائع ہونے سے خائف ہو وہ ﴿المُعِي﴾ سات (۷) بار پڑھے انشاء اللہ محفوظ رہے گا۔
- ⑤ جو صفت انجام کے درد کو دور کرنے کے لیے ساتھ (۷) روز تک سات بار پڑھ کر دم کرے گا تندرست ہو جائے گا۔
- ⑥ جس کو کسی سے جدائی کا اندیشہ ہو یا قید کا خوف ہو اس اسم مبارک بکثرت پڑھے۔
- ⑦ جو اس اسم کو بکثرت پڑھے گا انشاء اللہ اس کا دل منور ہو جائے گا۔
- ⑧ جو کسی کے قبر سے ڈرتا ہو روٹی کے ایک ٹکڑے پر اٹھاون (۵۸) بار یہ اسم پڑھ کر کھالے انشاء اللہ محفوظ رہے گا۔

## الْمِیَّتُ کے معنی اور اس کے خواص

### (۶۲) الْمِیَّتُ جَلَّ جَلَالُهُ

(موت دینے والا)

خواص چار ہیں:

- ① جو کوئی یہ اسم اس قدر پڑھے کہ اس پر حال طاری ہو جائے پھر وہ ظالموں فاسقوں میں سے کسی کی ہلاکت کی دعاء کرے تو اسی وقت ہلاک ہو جائے گا۔
- ② جو اس اسم کو بکثرت پڑھے گا اس کا نفس انشاء اللہ مغلوب ہو جائے گا۔
- ③ جس کو اسراف کی عادت ہو یا اس کا نفس عبادت پر آمادہ نہ ہوتا ہو وہ اس اسم کو بکثرت پڑھے، اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ سوتے وقت سینہ پر ہاتھ رکھ کر ﴿الْمِیَّتُ﴾ پڑھتے پڑھتے سو جائے تو انشاء اللہ اس کا نفس مطیع ہوگا۔
- ④ جو اس اسم کو سات (۷) بار پڑھ کر دم کرے گا، انشاء اللہ اس پر جادو اثر نہ کرے گا۔

## الْحَىُّ کے معنی اور اس کے خواص

### (۶۳) الْحَىُّ جَلَّ جَلَالُهُ

(ہمیشہ زندہ رہنے والا)

خواص پانچ ہیں:

- ① جو کوئی روزانہ تین بار ﴿الْحَىُّ﴾ کا ورد رکھے گا، وہ انشاء اللہ کبھی بیمار نہ ہوگا۔
- ② اگر کوئی اس اسم کو چینی کے برتن پر مشک اور گلاب سے لکھ کر شیریں (میٹھے) پانی سے دھو کر پئے یا کسی دوسرے بیمار کو پلائے تو انشاء اللہ شفا کے کامل نصیب ہوگی۔
- ③ جو ایک ہزار (۱۰۰۰) بار یہ اسم مبارک کسی بیمار پر پڑھے گا اس کی عمر انشاء اللہ دراز ہوگی اور قوت روحانی اس میں زیادہ ہوگی۔
- ④ کسی سخت حاجت کے وقت اگر کوئی اپنے نام کے اعداد کے موافق مع اول و آخر درود شریف ایک وقت مقرر کر کے ﴿يَا حَىُّ يَا قَيُّوْمُ يَا اَللّٰهُ يَا رَحْمٰنُ يَا رَحِيْمُ﴾ پڑھا کرے تو اس کی حاجت پوری ہو جائے گی۔
- ⑤ اگر کوئی اس اسم کو ایک سو بیس (۱۲۰) دفعہ کاغذ پر لکھ کر دروازہ پر لٹکا دے تو اس گھر میں جتنے لوگ رہتے ہوں گے وہ انشاء اللہ بڑے امراض سے محفوظ رہیں گے۔

## الْقَيُّوْمُ کے معنی اور اس کے خواص

### (۶۴) الْقَيُّوْمُ جَلَّ جَلَالُهُ

(سب کو قائم رکھنے والا اور تھامنے والا)

خواص نو ہیں:

- ① جو اس اسم کو ہر روز تنہائی میں ستر (۷۰) بار پڑھے گا، انشاء اللہ کندہنی سے نجات پائے گا اور اس کا حافظ قوی اور دل منور ہو جائے گا۔

① جس آدمی کو نیند نہ آتی ہو وہ یہ دو آیتیں پڑھے: ﴿وَتَحْسَبُهُمْ آيَاتًا وَهُوَ رِقْدٌ﴾ (سورہ کہف: آیت ۱۸) ﴿فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكُهْفِ﴾ (سورہ کہف: آیت ۱۱) انشاء اللہ نیند آ جائے گی۔ یہ عمل دوسرے پڑھی کیا جاسکتا ہے۔ اور جو زیادہ سونے کا عادی ہو اس کے سر پر ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْهَى الْقِيَوْمُ﴾ پڑھ کر دم کیا جائے انشاء اللہ اس کی نیند بھاگ جائے گی۔

② اگر کوئی چاہے کہ اس کا دل زندہ ہو جائے اور کبھی نہ مرے تو وہ ہر دن چالیس (۴۰) بار یہ پڑھا کرے۔ ﴿يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ﴾ جاننا چاہیے کہ ﴿يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ﴾ دونوں عظیم نام ہیں اور حضور کی کیفیت رکھنے والے لوگوں کا ذکر ہے۔ حضور اکرم ﷺ نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ وہ یہ دعا صبح و شام پڑھا کریں: ﴿يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ أَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ وَلَا تَكَلِّبْنِي إِلَىٰ نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ﴾

③ جو شخص بکثرت ﴿يَا قَيُّوْمُ﴾ کا ورد رکھے گا انشاء اللہ لوگوں میں اس کی عزت زیادہ ہوگی۔

④ جو تنہائی میں بیٹھ کر اس کا ورد کرے گا، انشاء اللہ خوش حال ہو جائے گا۔

⑤ جو شخص صبح کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک ﴿يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ﴾ کا ورد کرے گا، انشاء اللہ اس کی سستی و کالی دور ہو جائے گی۔

⑥ سحر کے وقت جو کوئی بلند آواز سے اس کو پڑھے گا اس کا تصرف دلوں میں ظاہر ہوگا یعنی لوگ اسے دوست رکھیں گے۔

⑦ جو اتالیس (۴۱) بار روزیہ دعا مانگے گا انشاء اللہ اس کا مردہ دل زندہ ہو جائے گا:

﴿يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تَحْيِيَ قَلْبِي بِنُورِ مَعْرِفَتِكَ أَبَدًا﴾

### الْوَاجِدُ کے معنی اور اس کے خواص

﴿٦٥﴾ الْوَاجِدُ جَلَّ جَلَالُهُ

(وہ جس کے پاس ہر چیز ہے، وہ نئی ذات جو کبھی مفلس و محتاج نہ ہو)

خواص چھ ہیں:

① جو شخص کھانا کھاتے وقت ﴿يَا وَاجِدُ﴾ کا ورد رکھے، غذا اس کے قلب کی طاقت و قوت اور نورانیت کا باعث ہوگی۔ انشاء اللہ۔

② جو تنہائی میں بکثرت اس اسم کو پڑھے گا مالدار ہوگا۔

③ جو کوئی کھانا کھانے کے وقت ہر نوالے کے ساتھ اس کو پڑھے گا، وہ کھانا انشاء اللہ پیٹ میں نور ہوگا اور بیماری دور ہوگی۔

④ جو اس اسم کو بہت پڑھے گا، اس کا دل انشاء اللہ سنی ہوگا۔

⑤ جو اس اسم کو پڑھے گا، انشاء اللہ ظالم کے ظلم سے بچا رہے گا۔

⑥ جو اسے اس قدر پڑھے گا کہ اس پر حال طاری ہو جائے اور اپنے باطن میں ایسی معرفت پائے گا جس کا اس نے پہلے مشاہدہ نہیں کیا ہوگا۔

### الْمَاجِدُ کے معنی اور اس کے خواص

﴿٦٦﴾ الْمَاجِدُ جَلَّ جَلَالُهُ

(بزرگی اور بڑائی والا)

خواص چار ہیں:

① جو تنہائی میں یہ اسم اس قدر پڑھے کہ بے خود ہو جائے تو انشاء اللہ اس کے قلب پر انوار الہیہ ظاہر ہونے لگیں گے۔

- ① اگر کوئی اس اسم کو پانی پر دم کر کے مریض کو پلائے تو انشاء اللہ مریض شفا پاے۔  
 ② جو اس اسم کو دس (۱۰) بار شربت پر پڑھ کر پی لیا کرے گا وہ انشاء اللہ بیمار نہ ہوگا۔  
 ③ جو اس کو بکثرت پڑھے گا مخلوق کی نگاہ میں عزیز و بزرگ ہوگا۔

### الْوَاحِدُ کے معنی اور اس کے خواص

﴿۶۷﴾ الْوَاحِدُ جَلَّ جَلَالُهُ

(اپنی ذات و صفات میں یکتا، لائانی)

خواص تین ہیں:

- ① جو کوئی روزانہ ایک ہزار (۱۰۰۰) مرتبہ ﴿الْوَاحِدُ الْوَاحِدُ﴾ پڑھا کرے، اس کے دل سے انشاء اللہ مخلوق کی محبت اور خوف جاتا رہے گا۔  
 ② جس شخص کی اولاد نہ ہوتی ہو وہ ﴿الْوَاحِدُ الْوَاحِدُ﴾ کو لکھ کر اپنے پاس رکھے، انشاء اللہ اس کو اولاد صالح نصیب ہوگی۔  
 ③ جو کوئی تنہائی سے ہر اس ماں ہو وہ با وضو ایک ہزار (۱۰۰۰) بار اس اسم کو پڑھے، انشاء اللہ اس کے دل سے خوف جاتا رہے گا اور اس کے عجائبات ظاہر ہوں گے۔

### الْأَحَدُ کے معنی اور اس کے خواص

﴿۶۸﴾ الْأَحَدُ جَلَّ جَلَالُهُ

(ایک اکیلا اپنی ذات و صفات میں یکتا)

خواص سات ہیں:

- ① جو کوئی روزانہ ایک ہزار (۱۰۰۰) مرتبہ ﴿الْوَاحِدُ الْوَاحِدُ﴾ پڑھا کرے اس کے دل سے انشاء اللہ مخلوق کی محبت اور خوف جاتا رہے گا۔  
 ② جس شخص کی اولاد نہ ہوتی ہو وہ ﴿الْوَاحِدُ الْوَاحِدُ﴾ کو لکھ کر اپنے پاس رکھے، انشاء اللہ اس کو اولاد صالح نصیب ہوگی۔  
 ③ حضور اکرم ﷺ نے ایک شخص کو یہ دعا مانگتے ہوئے سنا:  
 (اللَّهُمَّ إِنِّي نَسَلْتُكَ يَا نَسِيبُ أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ)  
 تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: "اس شخص نے اللہ تعالیٰ سے اس اسم اعظم کے ذریعہ دعا کی ہے جس کے ذریعے جب مانگا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔" (ابوداؤد، ترمذی)

④ جو کوئی اس اسم کو پڑھے گا انشاء اللہ ظالم کے ظلم سے بچا رہے گا۔

⑤ جو کوئی اس اسم کو نو (۹) مرتبہ پڑھ کر حاکم کے آگے جائے گا، انشاء اللہ عزت و سرفرازی پائے گا۔

⑥ جو کوئی سانپ کے کانٹے پر ایک سو ایک (۱۰۱) بار ﴿الْوَاحِدُ الْوَاحِدُ﴾ پڑھ کر دم کرے، انشاء اللہ سانپ کا کاٹا ہوا مریض تندرست ہو جائے گا۔

⑦ جو تنہائی میں اسے ایک ہزار (۱۰۰۰) بار پڑھے گا انشاء اللہ فرشتہ خصلت ہو جائے گا۔

## الصُّدُّ کے معنی اور اس کے خواص

﴿۶۹﴾ الصُّدُّ جَلَّ جَلَالُهُ

(ہر چیز سے بے نیاز)

خواص پانچ ہیں:

- ① جو کوئی سحر کے وقت سجدہ میں سر رکھ کر ایک سو پندرہ (۱۱۵) یا ایک سو پچیس (۱۲۵) مرتبہ اس اسم کو پڑھے گا، انشاء اللہ ظاہری و باطنی سحائی نصیب ہوگی، اور کسی ظالم کے ہاتھ میں گرفتار نہ ہوگا۔
- ② جو شخص بادضوا اس اسم کا ورد جاری رکھے وہ انشاء اللہ مخلوق سے بے نیاز ہو جائے گا۔
- ③ جو کوئی یہ اسم ایک سو چونتیس (۱۳۴) بار پڑھے، آثار صدیقی ظاہر ہوں اور انشاء اللہ کبھی بھوکا نہ رہے۔
- ④ جو کوئی اس اسم کو بکثرت پڑھے اس کی مشکلیں آسان ہوں۔
- ⑤ جو اسے ایک ہزار (۱۰۰۰) بار پڑھا کرے گا، دشمن پر انشاء اللہ فتح پائے گا۔

## الْقَائِدُ کے معنی اور اس کے خواص

﴿۷۰﴾ الْقَائِدُ جَلَّ جَلَالُهُ

(قدرت والا)

خواص چار ہیں:

- ① اگر کوئی وضو میں ہر عضو کو دھونے وقت ﴿الْقَائِدُ﴾ پڑھے گا تو کسی ظالم کے ہاتھ انشاء اللہ گرفتار نہ ہوگا اور کوئی دشمن اس پر فتح نہ پائے گا۔
- ② اگر کوئی مشکل پیش آئے تو اکتالیس (۴۱) بار یہ اسم پڑھے، انشاء اللہ وہ کام آسان ہو جائے گا۔
- ③ جو اس کو لکھ کر اپنے پاس رکھے انشاء اللہ جمع آفات سے بچا رہے۔
- ④ جو شخص دو رکعت نماز پڑھ کر سو (۱۰۰) مرتبہ ﴿الْقَائِدُ﴾ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے دشمن کو ذلیل و رسوا فرمادے گا، اگر وہ حق پر ہوگا۔ اور ظاہری طاقت کے علاوہ اسے عبادت کی باطنی طاقت بھی عطا فرمائے گا۔

## الْمُقْتَدِرُ کے معنی اور اس کے خواص

﴿۷۱﴾ الْمُقْتَدِرُ جَلَّ جَلَالُهُ

(پوری قدرت رکھنے والا)

خواص پانچ ہیں:

- ① جو کوئی سو کرانٹھنے کے بعد بکثرت ﴿الْمُقْتَدِرُ﴾ کا ورد کرے یا کم از کم بیس (۲۰) مرتبہ پڑھا کرے انشاء اللہ اس کے تمام کام آسان اور درست ہو جائیں گے۔

- ۱ جو کوئی اس اسم کو پڑھا کرے، انشاء اللہ اس کا دشمن مغلوب ہوگا۔
- ۲ جو اس کا روزانہ بیس (۲۰) مرتبہ ورد رکھے گا، انشاء اللہ رحمت الہی میں رہے گا۔
- ۳ جو اس نام کو توجہ کے ساتھ پڑھتا رہے، انشاء اللہ اس کی فحلت دور ہو جائے گی۔
- ۴ جو شخص حقیقتاً مظلوم ہو وہ سینے کی آخری رات میں اندھیرے کمرے میں تنگی زمین پر دو رکعت نماز پڑھے اور اس دوسری رکعت کے آخری سجدے میں ﴿الْمُقَدِّمُ الشَّدِيدُ الْقَوِيُّ الْغَايِرُ﴾ پڑھ کر ظالم کے خلاف دعا کرے، انشاء اللہ قبول ہوگی۔

### الْمُقَدِّمُ کے معنی اور اس کے خواص

﴿۷۲﴾ الْمُقَدِّمُ جَلَّ جَلَالُهُ

(آگے کرنے والا)

خواص چار ہیں:

- ۱ جو شخص جنگ کے وقت ﴿الْمُقَدِّمُ﴾ کثرت سے پڑھتا رہے گا، انشاء اللہ اسے پیش قدمی کی قوت عطا فرمائے گا اور دشمنوں سے محفوظ رکھے گا، زخم ورنج نہیں پہنچے گا۔
- ۲ جو شخص ہر وقت ﴿الْمُقَدِّمُ﴾ کا ورد رکھے گا انشاء اللہ وہ اللہ تعالیٰ کا مطیع و فرماں بردار بن جائے گا۔
- ۳ جو کوئی اس اسم کو کثرت سے پڑھے گا وہ دشمن پر انشاء اللہ غالب رہے گا اور اطاعت الہی میں اس کا نفس فرمانبردار ہوگا۔
- ۴ جو اس کو نو (۹) دفعہ شیرینی پر پڑھ کر کسی کو کھلائے گا تو انشاء اللہ وہ اس سے محبت کرے گا۔ غلط اور ناجائز مقصد کے لیے یہ عمل کرنا حرام ہے اور سخت نقصان دہ ہے۔

### الْمُوخِرُ کے معنی اور اس کے خواص

﴿۷۳﴾ الْمُوخِرُ جَلَّ جَلَالُهُ

(پچھے رکھنے والا)۔

خواص سات ہیں:

- ۱ جو شخص کثرت سے ﴿الْمُوخِرُ﴾ کا ورد رکھے گا اسے انشاء اللہ سچی توبہ نصیب ہوگی۔
- ۲ جو شخص روزانہ سو (۱۰۰) مرتبہ اس اسم کو پابندی سے پڑھا کرے، اس کو انشاء اللہ حق تعالیٰ کا ایسا قرب نصیب ہوگا کہ اس کے بغیر چین نہ آئے گا۔
- ۳ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ﴿الْمُقَدِّمُ﴾ اور ﴿الْمُوخِرُ﴾ کو ایک ساتھ پڑھتا رہے، جب کوئی مشکل پیش آئے اکیس (۲۱) بار اس اسم کو پڑھے، انشاء اللہ مشکل آسان ہو جائے گی۔
- ۴ جواز تالیس (۲۸) دن تک روزانہ تین ہزار (۳۰۰۰) بار یہ اسم پڑھ لیا کرے انشاء اللہ جو چاہے گا پائے گا۔
- ۵ جواز تالیس (۲۱) بار یہ اسم مبارک پڑھے گا، اس کا نفس انشاء اللہ مطیع ہوگا۔

- ① جو ہر روز سو (۱۰۰) بار یہ اسم مبارک پڑھتا رہے گا انشاء اللہ اس کے سب کام انجام کو پہنچیں گے۔  
 ② حضور اکرم ﷺ سے یہ دعا منقول ہے:

(اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا كُنْتُ وَمَا آخَرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ أَنْتَ الْمَقْدِمُ وَأَنْتَ الْمَوْجِبُ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)  
 (بخاری شریف)

## الْأَوَّلُ کے معنی اور اس کے خواص

﴿۷۴﴾ الْأَوَّلُ جَلَّ جَلَالُهُ

(سب سے پہلا)

### خواص پانچ ہیں:

- ① جو مسافر ہو وہ جمعہ کے دن ایک ہزار (۱۰۰۰) مرتبہ اس اسم کو پڑھے، انشاء اللہ جلد بخیریت وطن واپس پہنچے گا۔  
 ② جس شخص کے لڑکانہ ہو وہ چالیس (۴۰) مرتبہ روزانہ ﴿الْأَوَّلُ﴾ پڑھا کرے، انشاء اللہ اس کی مراد پوری ہوگی اور سب مشکلیں آسان ہوں گی۔  
 ③ جو چالیس (۴۰) شب جمعہ کو عشاء کی نماز کے بعد ایک ہزار (۱۰۰۰) بار یہ اسم مبارک پڑھے اس کی انشاء اللہ تمام حاجتیں پوری ہوں گی۔  
 ④ جو ہر روز گیارہ (۱۱) بار یہ اسم مبارک پڑھے گا، تمام خلقت انشاء اللہ اس پر مہربانی کرے گی۔  
 ⑤ جو سو (۱۰۰) بار یہ اسم مبارک پڑھے گا، انشاء اللہ اس کی بیوی اس سے محبت کرے گی۔

## الْآخِرُ کے معنی اور اس کے خواص

﴿۷۵﴾ الْآخِرُ جَلَّ جَلَالُهُ

(سب سے پچھلا)

### خواص پانچ ہیں:

- ① جو شخص روزانہ ایک ہزار (۱۰۰۰) مرتبہ ﴿الْآخِرُ﴾ پڑھا کرے اس کے دل سے غیر اللہ کی محبت دور ہو جائے گی اور انشاء اللہ ساری عمر کی کوتاہیوں کا کفار ہو جائے گا، اور خاتمہ بالخیر ہوگا اور نیک اعمال مرزد ہوں گے۔  
 ② جس کی عمر آخر کو پہنچ گئی ہو اور نیک اعمال نہ رکھتا ہو وہ اس اسم کا ورد کرے، حق تعالیٰ اس کی عاقبت انشاء اللہ بہتر کرے گا۔  
 ③ جو کوئی کسی جگہ جائے اور اس اسم کو پڑھے لے وہاں عزت اور توقیر پائے گا۔  
 ④ جو اس اسم کو دفع دشمن کے لیے پڑھے گا انشاء اللہ کامیاب ہوگا۔  
 ⑤ جو عشاء کے بعد ایک سو (۱۰۰) مرتبہ یہ اسم پڑھنے کا معمول بنائے اس کی آخری عمر انشاء اللہ پہلی عمر سے بہتر ہوگی۔

## الظَّاهِرُ کے معنی اور اس کے خواص

﴿۷۶﴾ الظَّاهِرُ جَلَّ جَلَالُهُ

(نمایاں، واضح)

خواص چھ ہیں:

- ① جو شخص نماز اشراق کے بعد پانچ سو (۵۰۰) مرتبہ ﴿الظَّاهِرُ﴾ کا ورد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں میں روشنی اور دل میں نور عطا فرمائے گا۔ انشاء اللہ۔
- ② اگر بارش وغیرہ کا خوف ہو تو یہ اسم مبارک بکثرت پڑھے، انشاء اللہ امان پائے گا۔
- ③ اگر کوئی گھر کی دیوار پر یہ اسم مبارک لکھے، انشاء اللہ دیوار سلامت رہے۔
- ④ جو کوئی سرمہ پر گیارہ (۱۱) بار یہ اسم مبارک پڑھ کر آنکھوں میں لگائے لوگ اس پر مہربانی کریں۔
- ⑤ جو جمعہ کے دن پانچ سو (۵۰۰) بار یہ اسم مبارک پڑھے گا اس کا باطن پر نور ہوگا اور انشاء اللہ دشمن مغلوب ہوگا۔
- ⑥ یہ ارباب مکاشفات کا ذکر ہے۔

## الْبَاطِنُ کے معنی اور اس کے خواص

﴿۷۷﴾ الْبَاطِنُ جَلَّ جَلَالُهُ

(پوشیدہ، پنہاں)

خواص آٹھ ہیں:

- ① جو شخص روزانہ تینتیس (۳۳) بار ﴿الْبَاطِنُ﴾ پڑھا کرے انشاء اللہ اس پر باطنی اسرار ظاہر ہونے لگیں گے اور اس کے قلب میں انس و محبت الہی پیدا ہوگی۔
- ② جو شخص دو رکعت نماز ادا کرے اس کے بعد ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ ایک سو پینتالیس (۱۳۵) بار پڑھے انشاء اللہ اس کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی۔
- ③ جو کوئی اس اسم کو اکتالیس (۴۱) بار پڑھے، انشاء اللہ اس کا قلب نورانی ہو جائے گا۔
- ④ جو اس اسم کو ہر نماز کے بعد تینتیس (۳۳) بار پڑھنے کا معمول بنائے تو اس کو جو دیکھے گا محبت کرے گا۔
- ⑤ جو کوئی ہر روز اپنے دل میں یا زبان سے تین سو ساٹھ (۳۶۰) بار اس کا ورد عشاء یا فجر یا کسی بھی نماز کے بعد کرے گا صاحب باطن اور واقف اسرار الہی ہوگا۔
- ⑥ جو کسی کو امانت سونپے، یا زمین میں دفن کرے وہ کاغذ پر ﴿الْبَاطِنُ﴾ لکھ کر اس کے ساتھ رکھ دے، انشاء اللہ کوئی اس میں خیانت نہ کرے گا۔
- ⑦ جو ہر روز اتنی (۸۰) بار کسی نماز کے بعد اس کو پڑھے گا واقف اسرار الہی ہوگا۔ انشاء اللہ۔



۵ جو ہر روز تین بار ایک گھنٹہ تک اس کو پڑھے اس کو انیت الہی نصیب ہوگی۔

## الْوَالِيُّ کے معنی اور اس کے خواص

### ﴿۷۸﴾ الْوَالِيُّ جَلَّ جَلَالُهُ

(متولی و متصرف، حاکم و فرمانروا، کارساز و مالک)

خواص سات ہیں:

- ۱ جو کوئی اپنا یا کسی اور کا گھر ہر بلا اور بربادی سے بچانا چاہتا ہے تین سو (۳۰۰) بار ﴿الْوَالِيُّ﴾ پڑھے، انشاء اللہ وہ گھر محفوظ رہے گا۔
- ۲ اگر کسی کو تسخیر کرنے کی نیت سے گیارہ (۱۱) بار پڑھے گا وہ آدمی اس کا مطیع و منقاد ہوگا۔ انشاء اللہ
- ۳ بالکل نئے اور کورے آنخورے پر ﴿الْوَالِيُّ﴾ لکھ کر اور پڑھ کر اس میں پانی بھرے، پھر پانی کو گھر کے دروازے پر چھڑکے تو وہ گھر انشاء اللہ آفات سے محفوظ رہے گا۔
- ۴ جو کوئی اس اسم کو بہت پڑھے مخلوق میں انشاء اللہ ذی مرتبہ ہوگا۔
- ۵ جو شخص کثرت سے ﴿الْوَالِيُّ﴾ کا ورد رکھے گا وہ انشاء اللہ گہانی آفتوں سے محفوظ رہے گا۔
- ۶ اسے کثرت سے پڑھنا بچلی کی کڑک سے حفاظت کے لیے مفید ہے۔
- ۷ اس اسم کا ذکر ان لوگوں کے لیے بہت مفید ہے جن کو لوگوں پر بالادستی حاصل ہے۔ مثلاً حاکم، افسر، شیخ وغیرہ۔

## الْمُتَعَالِيُّ کے معنی اور اس کے خواص

### ﴿۷۹﴾ الْمُتَعَالِيُّ جَلَّ جَلَالُهُ

(بہت بلند و برتر)

خواص سات ہیں:

- ۱ جو شخص کثرت سے ﴿الْمُتَعَالِيُّ﴾ کا ورد رکھے انشاء اللہ اس کی تمام مشکلات رفع ہوں گی۔
- ۲ جو عورت حالت حیض میں کثرت سے اس اسم کا ورد رکھے، انشاء اللہ اس کی تکلیف رفع ہوگی
- ۳ جو بدکردار عورت ایام کی حالت میں اس اسم کو بہت پڑھے گی وہ اپنی بد فعلی سے نجات پائے گی۔
- ۴ جو شخص اتوار کی رات کو غسل کر کے آسمان کی طرف منہ کر کے اس کو تین بار پڑھ کر جو دعائے مانگے گا انشاء اللہ قبول ہوگی۔
- ۵ اس کا بکثرت ذکر کرنے سے رفعت (بلندی) حاصل ہوتی ہے۔
- ۶ جو حاکم کے پاس جاتے وقت یہ اسم پڑھے لے اسے حجت اور غلبہ نصیب ہوگا۔ انشاء اللہ
- ۷ دشمن کی ہلاکت کے لیے سات دن تک روزانہ ایک ہزار بار پڑھنا مفید ہے۔

## الْبِرِّ کے معنی اور اس کے خواص

(۸۰) اَلْبِرُّ جَلٌّ جَلَّالُهُ

(نیکو کار، نیک سلوک کرنے والا)

خواص نو ہیں:

- ① جو کوئی شراب خوری یا زنا کاری جیسے گناہوں میں گرفتار ہو وہ روزانہ سات بار یہ اسم پڑھے، انشاء اللہ اس کا دل گناہوں سے ہٹ جائے گا۔
- ② جو اس کو آندھی وغیرہ کی آفتوں کے ڈر سے پڑھے انشاء اللہ امن میں رہے گا۔
- ③ جو شخص حب دنیا میں مبتلا ہو وہ اس اسم کو بکثرت پڑھے، انشاء اللہ دنیا کی محبت اس کے دل سے جاتی رہے گی۔
- ④ جو کوئی اس اسم مبارک کو ایک سانس میں سات بار اپنے لڑکے پر پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے سپرد کرے گا، وہ بچہ انشاء اللہ بلوغ تک تمام آفات سے محفوظ رہے گا۔
- ⑤ جو کوئی اس اسم کو پڑھے گا عزیز خلائق ہوگا۔ انشاء اللہ
- ⑥ یہ اسم خشکی اور سمندر کے مسافر کے لیے امان ہے۔
- جو اس اسم کو اپنے بچے کے سر پر پندرہ (۱۵) بار پڑھ کر یہ دعا مانگے: ﴿اللَّهُمَّ بِهَذِهِ اسْمِ رَبِّهِ لَا يَتِيمًا وَلَا لَيْتِمًا﴾ تو انشاء اللہ یہ دعا قبول ہوگی اور بچہ نہ یتیم ہوگا اور نہ لیتیم۔
- ⑧ گناہ کبیرہ کا مرتکب اگر سات سو (۷۰۰) بار یہ اسم مبارک پڑھے تو انشاء اللہ گناہوں سے توبہ کی توفیق پائے گا۔
- ⑨ اگر اس کے ساتھ ﴿الرَّحِيمُ﴾ ملا کر ﴿يَا بَرُّ يَا حَمِيدُ﴾ پڑھا جائے تو یہ قبولیت کے زیادہ قریب ہے۔

## التَّوَابُ کے معنی اور اس کے خواص

(۸۱) التَّوَابُ جَلٌّ جَلَّالُهُ

(توبہ قبول کرنے والا، توبہ کی توفیق دینے والا)

خواص چھ ہیں:

- ① جو کوئی نماز چاشت کے بعد تین سو ساٹھ (۳۶۰) مرتبہ اس اسم کو پڑھا کرے گا، انشاء اللہ اسے سچی توبہ نصیب ہوگی۔
- ② جو شخص کثرت سے اس اسم کو پڑھا کرے گا، انشاء اللہ اس کے تمام کام آسان ہوں گے اور نفس کی طاعت میں خوشی ہوگی۔
- ③ اگر کسی ظالم پر دس (۱۰) مرتبہ یہ اسم پڑھ کر دم کیا جائے تو انشاء اللہ اس سے خلاصی نصیب ہوگی۔
- ④ جو کوئی چاشت کی نماز کے بعد ﴿اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ﴾ پڑھے اس کے گناہ انشاء اللہ بخشے جائیں گے۔
- ⑤ جو اکتالیس (۴۱) دن تک آٹھ سو (۸۰۰) بار یہ اسم مبارک پڑھے گا، انشاء اللہ ظاہر و باطن کی نعمتوں سے نوازا جائے گا۔
- ⑥ جو کوئی اس اسم کو لکھے اور بارش کے پانی سے دھو کر شراب کے عادی کو پلائے تو اس کی عادت چھوٹ جائے گی اور وہ انشاء اللہ تابع

## الْمُنْتَقِمُ کے معنی اور اس کے خواص

(۸۲) الْمُنْتَقِمُ جَلَّ جَلَالُهُ

(بدلہ لینے والا)

خواص چار ہیں:

- ① جو شخص حق پر ہو اور دشمن سے بدلہ لینے کی اس میں قدرت نہ ہو وہ تین جمعہ تک بکثرت ﴿يَا مُنْتَقِمُ﴾ پڑھے، اللہ تعالیٰ دشمن سے خود انشاء اللہ انتقام لے لیں گے۔
- ② جو کوئی آدمی رات کو یہ اسم مبارک جس نیت سے پڑھے گا وہ کام انشاء اللہ سرانجام ہوگا۔
- ③ جو کوئی عشاء یا فجر کی نماز کے بعد چالیس (۴۰) دن تک روزانہ ایک ہزار ایک (۱۰۰۱) بار ﴿يَا قَهَّارُ يَا مُنْتَقِمُ﴾ پڑھے گا انشاء اللہ ظالم ہلاک ہوگا۔
- ④ جو اس اسم کو بکثرت پڑھے گا انشاء اللہ اس کی آنکھ ہرگز نہیں دکھے گی۔

## الْعَفْوُ کے معنی اور اس کے خواص

(۸۳) الْعَفْوُ جَلَّ جَلَالُهُ

(بہت معاف کرنے والا)

خواص پانچ ہیں:

- ① جو شخص کثرت سے ﴿الْعَفْوُ﴾ پڑھے گا انشاء اللہ اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا اور اچھے اعمال کی توفیق بخشنے گا۔
- ② جو تین ہفتہ تک اس اسم کا ورد رکھے گا، سب دشمن اس کے دوست بن جائیں گے اور نوٹوں میں معزز ہوگا۔
- ③ جو کوئی کسی شخص سے ڈرتا ہو اس اسم مبارک کو بہت پڑھے، انشاء اللہ خوف دور ہوگا۔
- ④ اگر اس اسم کے ساتھ ﴿الْفُورُ﴾ کو بھی ملا لیا جائے تو یہ قبولیت کے زیادہ قریب ہوگا۔
- ⑤ جو اسے ایک سو چھپن (۱۵۶) بار پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے خوف سے امن عطا فرمائے گا۔

## الرَّءُوفُ کے معنی اور اس کے خواص

(۸۴) الرَّءُوفُ جَلَّ جَلَالُهُ

(بڑا مہربان، انتہائی شفقت)

خواص تین ہیں:

- ① جو کسی مظلوم کو ظالم کے ہاتھ سے چھڑانا چاہے ﴿الرَّءُوفُ﴾ دس بار پڑھے وہ ظالم اس کی شفاعت قبول کرے گا۔

- ① جو کوئی اسے بکثرت پڑھے گا، ظالم کا دل اس پر مہربان ہوگا اور سب لوگ اس کو دوست رکھیں گے، اور انشاء اللہ اس پر مہربان ہوں گے۔  
 ② جو شخص دس (۱۰) مرتبہ درود شریف اور دس (۱۰) مرتبہ اس اسم کو پڑھے گا، انشاء اللہ اس کا غصہ رفع ہو جائے گا، دوسرے غضب ناک شخص پر دم کرے تو اس کا غصہ بھی دور ہو جائے گا۔

### مَالِكُ الْمَلِكِ كے معنی اور اس کے خواص

(۸۵) مَالِكُ الْمَلِكِ جَلَّ جَلَالُهُ

(سارے جہاں کا مالک)

خواص چار ہیں:

- ① جو شخص ﴿يَا مَالِكُ الْمَلِكِ﴾ کو ہمیشہ پڑھتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کو غنی اور لوگوں سے بے نیاز فرمادے گا اور انشاء اللہ وہ کسی کا محتاج نہیں رہے گا۔  
 ② جو بادشاہ کسی ملک کو فتح کرنا چاہتا ہو وہ اس اسم کو بہت پڑھے گا، انشاء اللہ کامیاب ہوگا۔  
 ③ جو ﴿يَا مَالِكُ الْمَلِكِ يَا كَا الْجَللِ وَالْاِكْرَامِ﴾ بہت پڑھے گا، وہ اگر فقیر ہوگا تو غنی ہو جائے گا۔ مگر یہ اسم کمال جلال رکھتا ہے۔  
 ④ جو بادشاہ اپنی حکومت کا استحکام چاہتا ہو، وہ اس اسم کو بکثرت پڑھے۔

### ذُو الْجَللِ وَالْاِكْرَامِ كے معنی اور اس کے خواص

(۸۶) ذُو الْجَللِ وَالْاِكْرَامِ جَلَّ جَلَالُهُ

(عظمت و جلال اور انعام و اکرام والا)

خواص تین ہیں:

- ① جو شخص کثرت سے ﴿ذُو الْجَللِ وَالْاِكْرَامِ﴾ پڑھتا رہے اللہ تعالیٰ اس کو عزت و عظمت اور مخلوق سے استغناء عطا فرمائیں گے۔  
 ② بعد اس کو اسم اعظم کہتے ہیں۔ جو شخص ﴿ذُو الْجَللِ وَالْاِكْرَامِ بِبَيْدِكَ الْغَيْبُ وَأَنْتَ عَلِيٌّ كُلُّ شَيْءٍ بِوَقْدِيدٍ﴾ سو (۱۰۰) بار پڑھ کر پانی پر دم کرے اور وہ پانی بیمار کو پلائے تو انشاء اللہ بیمار شفاء پائے گا۔ اگر دل مملین ہوگا تو اس عمل سے انشاء اللہ سرور ہوگا۔  
 ③ جو کوئی روزانہ پابندی سے تین سو تینتیس (۳۳۳) بار ﴿يَا مَالِكُ الْمَلِكِ يَا كَا الْجَللِ وَالْاِكْرَامِ﴾ پڑھے گا، دنیا اس کی فرمانبرداری ہے گی۔

### الْمُقْسِطُ كے معنی اور اس کے خواص

(۸۷) الْمُقْسِطُ جَلَّ جَلَالُهُ

(عدل و انصاف کرنے والا)

خواص پانچ ہیں:

- ① جو کوئی روزانہ اس اسم کو پڑھا کرے، وہ انشاء اللہ شیطانی دوسوں سے محفوظ رہے گا۔

- ۱۰ اگر کوئی شخص کسی خاص اور جائز مقصد کے لیے سات سو (۷۰۰) مرتبہ اس اسم کو پڑھے گا تو انشاء اللہ وہ مقصد پورا ہوگا۔
- ۱۱ جو کسی رنج میں مبتلا ہو وہ ہر روز ستر (۷۰) بار یہ اسم مبارک پڑھے، انشاء اللہ رنج سے نجات پائے گا۔
- ۱۲ جو کوئی اس اسم کو سو (۱۰۰) بار پڑھے گا، شیطان کے شر اور دوسوں سے بے خوف ہوگا۔
- ۱۳ اس اسم کی کثرت عبادت میں دوسوں سے بچنے کا بہترین علاج ہے۔

### الْجَامِعُ کے معنی اور اس کے خواص

#### ﴿۸۸﴾ الْجَامِعُ جَلَّ جَلَالُهُ

(سب کو جمع کرنے والا)

خواص چار ہیں:

- ۱ جس شخص کے رشتہ دار اور احباب منتشر ہو گئے ہوں وہ چاشت کے وقت غسل کرے اور آسمان کی طرف منہ کر کے دس (۱۰) مرتبہ ﴿يَا جَامِعُ﴾ پڑھے، اور ایک انگلی بند کر لے، اسی طرح ہر دس (۱۰) مرتبہ پر ایک ایک انگلی بند کرتا جائے، جب ساری انگلیاں بند ہو جائیں تو آخر میں دونوں ہاتھ منہ پر پھیرے، انشاء اللہ جلد سب جمع ہو جائیں گے۔
- ۲ اگر کوئی چیز گم ہو جائے تو ﴿اللَّهُمَّ يَا جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا دُوبَ فِيهِ اِجْمَعُ ضَالَّتِي﴾ پڑھا کرے وہ چیز انشاء اللہ مل جائے گی۔
- ۳ جائز محبت کے لیے بھی مذکورہ بالا دعا بے مثال ہے۔
- ۴ اپنے پچھڑے ہوئے اقارب سے ملنے کے لیے اس اسم کا ایک سو چودہ (۱۱۴) بار کھلے آسمان کے نیچے پڑھنا مفید ہے۔

### الْغَنِيُّ کے معنی اور اس کے خواص

#### ﴿۸۹﴾ الْغَنِيُّ جَلَّ جَلَالُهُ

(بڑا بے نیاز)

خواص آٹھ ہیں:

- ۱ جو شخص ستر (۷۰) بار روزانہ ﴿يَا غَنِيُّ﴾ پڑھا کرے، اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت عطا فرمائے گا اور انشاء اللہ کسی کا محتاج نہ رہے گا۔
- ۲ جو شخص کسی ظاہری یا باطنی مرض یا بلا میں گرفتار ہو وہ اپنے تمام اعضاء اور جسم پر ﴿يَا غَنِيُّ﴾ پڑھ کر دم کیا کرے، انشاء اللہ نجات پائے گا۔ یہ مرض طبع (لاج) کا بھی علاج ہے۔
- ۳ جو کوئی اس اسم کو ایک ہزار (۱۰۰۰) بار پڑھا کرے وہ انشاء اللہ مالدار ہو جائے گا اور محتاج نہ ہوگا۔
- ۴ جو اس کو لکھ کر اپنے پاس رکھے گا مفلس نہ ہو۔
- ۵ جو کوئی اس کو لکھ کر اپنے مال میں رکھے، انشاء اللہ اس میں برکت ہوگی۔
- ۶ جو کوئی اس اسم کا ورد رکھے گا اس کے اعضاء کا درد جاتا رہے گا۔
- ۷ جو کوئی جمعرات کے دن ہزار (۱۰۰۰) بار یہ اسم مبارک پڑھے گا انشاء اللہ دولت پائے گا۔

جو شخص جمعہ کی نماز کے بعد ستر (۷۰) بار پابندی سے یہ دعا مانگا کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے غنی فرمادے گا۔

(اللَّهُمَّ يَا غَنِيَّ يَا حَمِيدُ يَا مُبْدِيَّ يَا مُعِيدُ يَا فَعَالَ لِمَا يَرِيدُ يَا كَرِيمُ يَا وَدُودُ اٰكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَبَطَا عَتِكَ عَنْ مَعْصِيَتِكَ وَبِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ)

### الْمَغْنِيُّ کے معنی اور اس کے خواص

﴿۹۰﴾ الْمَغْنِيُّ جَلَّ جَلَالُهُ

(غنی اور بے نیاز کرنے والا)

خواص گیارہ ہیں:

- ۱ جو شخص اذیل اور آخر میں گیارہ گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھ کر گیارہ سو (۱۱۰۰) مرتبہ وظیفہ کی طرح یہ اسم پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو ظاہری و باطنی غنا عطا فرمائے گا۔ یہ عمل فجر یا عشاء کی نماز کے بعد کرے اور اس کے ساتھ سورہ مزمل بھی تلاوت کرے۔
- ۲ جو کوئی اس اسم کو ایک ہزار دو سو ستر (۱۲۶۷) بار ہر روز بلا ناغہ پڑھے گا، انشاء اللہ غنی ہو جائے گا۔
- ۳ جو کوئی اسم مبارک کو لکھ کر اپنے پاس رکھے کبھی فقیر نہ ہو۔
- ۴ جو کوئی دس جمعوں تک ہر جمعہ کو ایک ہزار (۱۰۰۰) بار یا دس (۱۰) بار یہ اسم پڑھے گا انشاء اللہ مخلوق سے بے نیاز ہوگا۔
- ۵ جو کوئی قربت سے پہلے ستر (۷۰) بار یہ اسم پڑھے تو بہت اسماں ہوگا۔
- ۶ جو بہت مفلس ہو فجر کے وقت فرض دست کے درمیان دو سو (۲۰۰) بار اور ظہر، عصر اور مغرب کے بعد دو سو (۲۰۰) بار اور عشاء کے بعد تین سو (۳۰۰) بار یہ اسم مبارک پڑھے انشاء اللہ غنی ہوگا۔
- ۷ جو کوئی اس اسم مبارک کو گیارہ سو (۱۱۰۰) بار روزانہ پڑھا کرے، اسے صفائی قلب حاصل ہوگی۔
- ۸ جو گیارہ سو (۱۱۰۰) مرتبہ ﴿يَا مَغْنِيَّ﴾ اور بسم اللہ کے ساتھ گیارہ سو (۱۱۰۰) بار ﴿لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾ اور بسم اللہ کے سو (۱۰۰) بار درود شریف اور دو (۲) دفعہ سورہ مزمل پڑھے گا اس کی روزی میں خوب وسعت ہوگی۔
- ۹ جس جگہ تکلیف ہو یہ اسم پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے اس جگہ ملنے سے انشاء اللہ تندرست ہو جائے گا۔
- ۱۰ جو شخص روزانہ گیارہ سو اکیس (۱۱۲۱) بار یہ اسم پڑھتا رہے انشاء اللہ کبھی محتاج نہیں ہوگا۔
- ۱۱ اگر کوئی سورہ واقعی پڑھ کر یہ اسم پڑھے گا پھر کہے گا: ﴿اللَّهُمَّ يَسِّرْ لِي لِلْمَسْرِ الَّذِي يَسِّرْتَهُ لِكَلْبٍ مِّنْ خَلْقِكَ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ﴾ تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے غیب سے مددگار بھیجے گا۔

### الْمَانِعُ کے معنی اور اس کے خواص

﴿۹۱﴾ الْمَانِعُ جَلَّ جَلَالُهُ

(ہلاکت و تباہی کو روکنے والا)

خواص پانچ ہیں:

- ۱ اگر بیوی سے جھگڑا یا ناجاتی ہو تو بستر پر لیٹتے وقت بیس (۲۰) مرتبہ یہ اسم پڑھا کرے، انشاء اللہ جھگڑا ختم اور ناجاتی دور ہو جائے گی

اور باہمی انس و محبت پیدا ہو جائے گی۔

- ① جو کوئی بکثرت اس اسم کا ورد رکھے گا انشاء اللہ وہ ہر شر سے محفوظ رہے گا۔
- ② اگر کسی خاص اور جائز مقصد کے لیے یہ اسم مبارک پڑھے گا تو انشاء اللہ مقصد میں کامیابی ہوگی۔
- ③ جو کوئی اس اسم کو سو (۱۰۰) بار پڑھے گا انشاء اللہ وہ مخصوص کے درمیان لڑائی ختم ہو جائے گی۔
- ④ جو اپنی مراد تک نہ پہنچ سکے وہ اس کو صبح و شام پڑھا کرے، انشاء اللہ مراد حاصل ہوگی۔

### الضَّارُّ کے معنی اور اس کے خواص

﴿۹۲﴾ الضَّارُّ جَلَّ جَلَالُهُ

(ضرر پہنچانے والا)

خواص پانچ ہیں:

- ① جو شخص شب جمعہ میں سو (۱۰۰) مرتبہ ﴿الضَّارُّ﴾ پڑھا کرے، وہ انشاء اللہ تمام ظاہری اور باطنی آفتوں سے محفوظ رہے گا، اور قرب خداوندی اسے حاصل ہوگا۔
- ② جو کوئی اس اسم پاک کو پڑھے اور ظالم کا نام لے، انشاء اللہ اس کو ضرر پہنچے گا اور پڑھنے والا اس کے ظلم سے محفوظ رہے گا۔
- ③ جس کو ایک حال و مقام میسر ہو سو (۱۰۰) بار شب جمعہ میں اس اسم کو پڑھنے کا معمول بنائے، اللہ تعالیٰ اس کو مقام میں ثابت رکھے گا اور اہل قربت کے مرتبہ تک پہنچا دے گا۔ اس مرتبہ کے آگے ظاہری کمال کی کچھ اصل نہیں۔
- ④ جس کی عزت کم ہو، ہر شب جمعہ اور ایام بیض میں سو (۱۰۰) بار نماز عشاء کے بعد یہ اسم مبارک پڑھا کرے، انشاء اللہ محترم رہے گا۔
- ⑤ جو ہر شب جمعہ سو (۱۰۰) بار ﴿الضَّارُّ النَّافِعُ﴾ پڑھا کرے، انشاء اللہ اپنی قوم میں معزز اور جسمانی طور پر باعافیت رہے گا۔

### النَّافِعُ کے معنی اور اس کے خواص

﴿۹۳﴾ النَّافِعُ جَلَّ جَلَالُهُ

(نفع پہنچانے والا)

خواص سات ہیں:

- ① جو کوئی کشتی وغیرہ سواری میں سوار ہونے کے بعد ﴿النَّافِعُ﴾ کثرت سے پڑھتا رہے انشاء اللہ تمام آفات سے محفوظ رہے گا۔
- ② جو شخص کسی کام کو شروع کرتے وقت اکتالیس (۳۱) مرتبہ ﴿النَّافِعُ﴾ پڑھا کرے، انشاء اللہ وہ کام حسب نشاء ہوگا۔
- ③ جو شخص بیوی سے جماع کرتے وقت یہ اسم پہلے پڑھ لیا کرے تو انشاء اللہ اولاد صالح نصیب ہوگی۔
- ④ جو کوئی اس اسم کو پڑھ کر مریض پر دم کرے انشاء اللہ وہ شفاء پائے گا۔
- ⑤ جو ماور جب میں اس کا ورد کرے گا انشاء اللہ اسرار الہی سے آگاہ ہوگا۔
- ⑥ جو چار (۴) روز جہاں تک ہو سکے پڑھے گا، انشاء اللہ کبھی کسی غم میں نہ پھنسے گا۔

④ جس سفر حج میں اسے پڑھا کرے، انشاء اللہ بغیر گھرواپس آئے گا۔

## النُّورُ کے معنی اور اس کے خواص

﴿۹۴﴾ النُّورُ جَلَّ جَلَالُهُ

(نہایت روشن، روشن کرنے والا)

خواص چار ہیں:

① جو شخص شب جمعہ میں سات (۷) مرتبہ سورہ نور اور ایک ہزار (۱۰۰۰) بار اس اسم کو پڑھا کرے انشاء اللہ اس کا دل نور الہی سے منور ہو جائے گا۔

② جو کوئی اس اسم کو ﴿النَّافِعُ﴾ کے ساتھ ملا کر پڑھے اور مریض پر دم کرے تو انشاء اللہ شفا ہوگی۔

③ صبح کے وقت اس کے ذکر کو لازم پکڑے گا اس کا دل روشن ہوگا۔

④ جو کوئی اندھیرے کمرے میں آنکھیں بند کر کے اس اسم کا اس قدر ذکر کرے کہ حال طاری ہو جائے وہ عجیب و غریب انوار کا مشاہدہ کرے گا، اور اس کا دل نور سے بھر جائے گا۔ یہ اسم اہل بصیرت و مکاشفات کے لیے بہت مناسب ہے۔

## الْهَادِي کے معنی اور اس کے خواص

﴿۹۵﴾ الْهَادِي جَلَّ جَلَالُهُ

(ہدایت دینے والا)

خواص آٹھ ہیں:

① جو شخص ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف منہ کر کے بکثرت ﴿يَا هَادِي﴾ پڑھے اور آخر میں چہرے پر ہاتھ پھیر لے اس کو انشاء اللہ کامل ہدایت نصیب ہوگی اور اہل معرفت میں شامل ہو جائے گا۔

② جو کوئی گیارہ سو (۱۱۰۰) بار ﴿يَا هَادِي يَا هِدْيَا الْعِرَاطِ الْمُسْتَقِيمَةِ﴾ عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیا کرے وہ انشاء اللہ کسی کا محتاج نہ رہے گا، اور سید سے راستے کی ہدایت نصیب ہوگی۔

③ جب کسی کو کوئی مشکل پیش آئے وہ دو رکعت نماز پڑھے، اور دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھے اور سلام کے بعد یہ اسم ایک سانس میں جس قدر ہو سکے پڑھے، جب سانس ٹوٹ جائے تو دعا مانگے گا، انشاء اللہ قبول ہوگی۔

④ جو کوئی سفر پر ہو اور اسے راستہ نہ ملے تو وہ کہے ﴿يَا هَادِي اِهْدِنِي﴾ انشاء اللہ راستہ مل جائے گا۔

⑤ اس کے ذکر سے یا لکھ کر پاس رکھنے سے بصیرت اور فہم صحیح پیدا ہوتا ہے۔ اس کا ذکر اہل حکومت کے لیے بھی مناسب ہے۔

⑥ جو فرائض کے بعد چار سو (۴۰۰) بار اس کا ورد کرے گا، اسے مدد عظیم حاصل ہوگی۔

⑦ اگر بادشاہ اس کا اس قدر ذکر کریں کہ حال طاری ہو جائے تو رعایا ان کی فرمانبرداری ہوگی۔

⑧ سالکین کی سیر علوی (عالم بالا کی سیر) کے لیے اس کا ذکر مفید ہے۔



## الْبَدِيعُ کے معنی اور اس کے خواص

### ﴿۹۶﴾ الْبَدِيعُ جَلَّ جَلَالُهُ

(نیا پیدا کرنے والا، بغیر مثال کے پیدا کرنے والا)

خواص پانچ ہیں:

- ۱) جس شخص کو کوئی غم یا مصیبت یا کوئی بھی مشکل پیش آئے وہ ایک ہزار (۱۰۰۰) مرتبہ ﴿يَا بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ پڑھے، انشاء اللہ کشائش (کشادگی) نصیب ہوگی۔
- ۲) جو شخص اس اسم کو با وضو پڑھتے ہوئے سو جائے تو جس کام کا ارادہ ہو انشاء اللہ خواب میں نظر آ جائے گا۔
- ۳) جو کوئی نماز عشاء کے بعد ﴿يَا بَدِيعُ الْعَجَابِ بِالْخَيْرِ يَا بَدِيعُ﴾ بارہ سو (۱۲۰۰) مرتبہ بارہ (۱۲) دن پڑھے گا تو جس کام کا یا مقصد کے لیے پڑھے گا وہ انشاء اللہ پورا عمل ختم ہونے سے پہلے حاصل ہو جائے گا۔
- ۴) کسی غم یا اہم حاجت کے لیے ستر ہزار (۷۰۰۰۰) مرتبہ ﴿يَا بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ پڑھے، انشاء اللہ غم رفع ہوگا اور حاجت پوری ہوگی۔
- ۵) جو اس اسم کا بکثرت ورد کرے گا اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم و حکمت عطا کی جائے گی اور اللہ تعالیٰ اس کی زبان سے ان علوم کو جاری فرمائے گا جن کو وہ پہلے نہ جانتا ہو۔

## الْبَاقِيُ کے معنی اور اس کے خواص

### ﴿۹۷﴾ الْبَاقِيُ جَلَّ جَلَالُهُ

(ہمیشہ باقی رہنے والا)

خواص پانچ ہیں:

- ۱) جو شخص اس اسم کو ایک ہزار (۱۰۰۰) مرتبہ جمعہ کی رات میں پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ہر طرح کے ضرر و نقصان سے محفوظ رکھے گا اور انشاء اللہ اس کے تمام نیک اعمال مقبول ہوں گے اور اسے غم سے خلاصی نصیب ہوگی۔
- ۲) جو سورج نکلنے سے پہلے سو (۱۰۰) بار روزیہ اسم پڑھے گا، انشاء اللہ مرتے دم تک کچھ دکھ نہ پائے گا اور عاقبت (آخرت) میں بخشا جائے گا۔
- ۳) جو اس اسم کو پابندی سے ہفتہ کے دن کسی وقت دشمن کی مغلوبی کی نیت سے با وضو بعد دو رکعت نفل سو (۱۰۰) بار پڑھے گا انشاء اللہ دشمن اس کے مطیع و فرمانبردار ہوں گے۔
- ۴) جو اس اسم کو ہر فرض نماز کے بعد ایک سو تیرہ (۱۱۳) بار پڑھنے کا معمول بنائے گا، اسے اس کے منصب سے کوئی معزول نہیں کر سکے گا، خواہ اس کے خلاف جن و انس جمع ہو جائیں۔
- ۵) جو ایک سو (۱۰۰) بار ﴿يَا بَاقِيُ﴾ پڑھتا رہے گا، انشاء اللہ اس کے اعمال مقبول ہوں گے

## الْوَارِثُ کے معنی اور اس کے خواص

### ﴿۹۸﴾ الْوَارِثُ جَلَّ جَلَالُهُ

(تمام چیزوں کا حقیقی مالک، وہ ذات جو قائم و دائم ہے اور ہر چیز کے فنا ہونے کے بعد زمین اور اس کی تمام چیزوں کا اصلی مالک ہے)

خواص تین ہیں:

- ① جو شخص طلوع آفتاب کے وقت سو (۱۰۰) مرتبہ ﴿يَا وَاكِثُ﴾ پڑھے گا، انشاء اللہ دنیا و آخرت میں ہر نفع و نعم اور سختی سے محفوظ رہے گا، اور خاتمہ بالخیر ہوگا۔ یہ خفیہ رازوں میں سے ہے۔
- ② جو کوئی مغرب و عشاء کے درمیان ایک ہزار (۱۰۰۰) مرتبہ یہ اسم مبارک پڑھے ہر طرح کی حیرانی و پریشانی سے انشاء اللہ محفوظ رہے گا۔
- ③ جو کوئی اس اسم کو کثرت سے پڑھتا رہے گا اس کے مال میں برکت ہوگی، اس کے سب کام برآئیں گے اور وہ امن میں رہے گا اور انشاء اللہ اس کی عمر دراز ہوگی۔

## الرَّشِيدُ کے معنی اور اس کے خواص

### ﴿۹۹﴾ الرَّشِيدُ جَلَّ جَلَالُهُ

(سب کا راہ نما، سب کو راہ راست دکھانے والا)

خواص پانچ ہیں:

- ① جس کو اپنے کسی کام پر مقصد کی تدبیر سمجھ میں نہ آئے، وہ مغرب و عشاء کے درمیان ایک ہزار (۱۰۰۰) بار ﴿يَا رَشِيدُ﴾ پڑھے، انشاء اللہ خواب میں تدبیر نظر آئے گی، یا دل میں اس کا لقاء ہو جائے گا۔
- ② اگر روزانہ اس اسم کا ورد رکھے تو انشاء اللہ تمام مشکلات دور ہو جائیں گی اور کاروبار میں خوب ترقی ہوگی۔
- ③ جو اس اسم مبارک کو مباشرت سے پہلے پڑھے انشاء اللہ فرزند صالح و پرہیزگار پیدا ہوگا۔
- ④ درست فیصلے کی طرف رہنمائی کے لیے اس اسم کو عشاء کے بعد ایک سو (۱۰۰) بار پڑھنا مفید ہے۔
- ⑤ جو عشاء کے بعد سو (۱۰۰) بار یہ اسم مبارک پڑھے گا انشاء اللہ اس کا عمل قبول ہوگا۔

## الصَّبُورُ کے معنی اور اس کے خواص

### ﴿۱۰۰﴾ الصَّبُورُ جَلَّ جَلَالُهُ

(بہت برداشت کرنے والا، بڑا بردبار)

خواص سات ہیں:

- ① جو شخص طلوع آفتاب سے پہلے سو (۱۰۰) مرتبہ اس اسم کو پڑھے وہ انشاء اللہ ہر مصیبت سے محفوظ رہے گا، اور دشمنوں، حاسدوں کی زبانیں بند رہیں گی۔

۴ جو کوئی کسی بھی مصیبت میں گرفتار ہو وہ ایک ہزار بیس (۱۰۲۰) مرتبہ اس اسم کو پڑھے گا، انشاء اللہ اس سے نجات پائے گا اور اطمینان قلب نصیب ہوگا۔

۵ جو کوئی اس اسم کو بہت پڑھے اس کا رنج دور ہو اور سرور حاصل ہو۔

۶ تمام حاجات کے لیے اس کو دوسواٹھانوے (۲۹۸) بار ہر روز پڑھے۔

۷ جس کو درد، رنج یا مصیبت پیش آئے تینتیس (۳۳) بار اس اسم کو پڑھے، انشاء اللہ اس کی پریشانی دور ہوگی۔

۸ جو آدمی رات میں یاد دہرے کو اس اسم کو پڑھنے کی عادت کرے گا اس کو دشمنوں کی زبان بندی، خوشنودی اور بادشاہ کی رضامندی حاصل ہوگی۔ یہ اسم دلوں کے غضب اور رنج و غم دور کرنے کی خاصیت رکھتا ہے۔

۹ یہ اسم مبارک اہل مجاہدہ کا ورد ہے کہ اس کے ذریعے انہیں ثابت قدمی نصیب ہوتی ہے۔



## ..... کر خاتمہ سب کا ایمان پر

خدا ہم ترے در پر آئے ہوئے      زمانے کے ہیں ہم ستائے ہوئے  
تجھی سے ہیں بس لو لگائے ہوئے      کرم ہم پہ کر دے تو رب کریم

گَرِیْمٌ ، گَرِیْمٌ ، گَرِیْمٌ ، گَرِیْمٌ

پڑھیں علم دیں ہم بڑے شوق سے      کریں تختیں ہم بڑے ذوق سے  
رہیں بچتے ہم جہل کے طوق سے      ہمیں دو لہجہ علم دے اے علیم

عَلِیْمٌ ، عَلِیْمٌ ، عَلِیْمٌ ، عَلِیْمٌ

کریں عمر بھر ہم اطاعت تری      رہے دل پر قائم جلالت تری  
ہمہ وقت بس عنایت تری      حفاظت میں رکھ اپنی ہم کو حفیظ

حَفِیْظٌ ، حَفِیْظٌ ، حَفِیْظٌ ، حَفِیْظٌ

خفا کار ہیں ہم گنہ گار بھی      سیہ کار ہیں اور بدکار ہیں  
معافی کے ہیں ہم طالب گار بھی      تو کر رحم ہم پر کہ ہے تو رحیم

رَحِیْمٌ ، رَحِیْمٌ ، رَحِیْمٌ ، رَحِیْمٌ

خفاؤں، گناہوں سے کر درگزر      معافی سے ہم کو بچا عمر بھر  
بھکتے رہیں اب نہ ہم در بدر      تجھے سب یہ حاصل ہے قدرت قدر

قَدِیْرٌ ، قَدِیْرٌ ، قَدِیْرٌ ، قَدِیْرٌ

رہیں ہم عمل پیرا قرآن پر      مریں آپ کے حکم و فرمان پر  
تو کر خاتمہ سب کا ایمان پر      معافی ہیں وارث کے بے حد غفور

عَفُوْرٌ ، عَفُوْرٌ ، عَفُوْرٌ ، عَفُوْرٌ



## آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی سب کو ضرورت

بعد خدا ہے سب سے برتر  
 شافعِ محشر، شافعِ محشر  
 کالی کالی اوزھنے والا خلق خدا میں سب سے اعلیٰ  
 دونوں جہاں میں جس سے اُجالا ماوِ درخشاں ، مہر منور

بعد خدا ہے سب سے برتر  
 شافعِ محشر، شافعِ محشر  
 رب کا دلارا ، جگ کا پیارا دل کا کلڑا ، آنکھ کا تارا  
 ارض و سما اور عالم سارا سب ہیں اس سے اسفل و کتر

بعد خدا ہے سب سے برتر  
 شافعِ محشر، شافعِ محشر  
 سوتی بستی جس نے جگا دی ڈوبتی کشتی ، پار لگا دی  
 پسماندوں کی شان بڑھا دی گمراہوں کا ہادی و رہبر

بعد خدا ہے سب سے برتر  
 شافعِ محشر، شافعِ محشر  
 ظلم و تشدد سہنے والا کچھ نہ زباں سے کہنے والا  
 بلکہ دعائیں دینے والا رحم و کرم کا یکتا پیکر

بعد خدا ہے سب سے برتر  
 شافعِ محشر، شافعِ محشر  
 مہر رسالت ، ماوِ نبوت روز قیامت وقت صعوبت  
 آپ کی ہوگی سب کو ضرورت شافعِ وارث ساقی کوثر

بعد خدا ہے سب سے برتر  
 شافعِ محشر، شافعِ محشر



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تصحیح و اضافہ شدہ

حصہ چہارم

# بکھرتی

حضرت مولانا محمد یونس پانپوری رحمۃ اللعالمی

انتخاب و ترتیب

صاحبزادہ محترم حضرت مولانا مبلغ اعظم محمد صاحب پانپوری رحمۃ اللعالمی

حضرت مولانا مفتی محمد امین صاحب پانپوری رحمۃ اللعالمی

تصحیح نظر ثانی

حق سٹریٹ اردو بازار لاہور  
مکتبہ عالیہ

## جملہ حقوق محفوظ ہیں

نام کتاب	.....	بکھرے موتی
انتخاب و ترتیب	.....	حضرت مولانا محمد یونس پالنپوری مدظلہ العالی
تصحیح و عمر ثانی	.....	صاحبزادہ محترم حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>
با اہتمام	.....	محمد قیصر محمود مہاروی
مطبع	.....	للعل شار پرنٹرز
ناشر	.....	<b>مکتبہ عائشہ</b>

حق سٹریٹ اردو بازار لاہور 042-7360541

..... ملنے کے پتے

ادارہ اسلامیات انارکلی لاہور	حق پہلی کیشنرز اردو بازار لاہور
شمع بک ایجنسی اردو بازار لاہور	کتب خانہ رشید یہ راجہ بازار راولپنڈی
ملت پہلی کیشنرز اسلام آباد	مکتبہ رشید یہ کمیٹی چوک راولپنڈی
احمد بک کارپوریشن راولپنڈی	دارالمطالعہ نزد پرانی بیگلی حاصل پور منڈی
کتابستان شامی بازار بہاول پور	اقبال بک سنٹر جہانگیر پارک صدر کراچی
مکتبہ دار القرآن اردو بازار کراچی	قدیمی کتب خانہ آرام باغ کراچی
دار اخلاص محلہ جنگلی، پشاور	ادارہ الانور بنوری ٹاؤن کراچی
مکتبہ قاسمیہ ملتان	مکتبہ القرآن بنوری ٹاؤن کراچی
کتاب خانہ مظہری گلشن اقبال کراچی	ادارۃ المعارف دارالعلوم کراچی
مکتبہ رشید یہ سرکی روڈ کوئٹہ	مکتبہ امدادیہ ملتان
مکتبہ حقانیہ ملتان	مکتبہ اسلامیہ کوتوال روڈ فیصل آباد

## فہرست (چہارم)

صفحہ نمبر	موضوع	صفحہ نمبر	موضوع
345	بے نمازی کی نحوست	331	آپ کے گھر میں رحمتوں اور برکتوں کی بارش
346	ماں کی شان گستاکی کرنے والے کی سزا		کریم و شریف شوہر بیویوں کے ناز و نخرے
346	پہلوان امام بخش کا قصہ	331	برداشت کرتے ہیں
346	چنگیز خاں اور سکندر اعظم کی قبریں کہاں ہیں؟		امت کے لیے معافی کی دُعا کیجئے سارے مسلمانوں
347	شیخ عبدالقادر جیلانی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کے نوانی ارشادات	333	کے برابر نیکیاں ملیں گی
347	حکم رسول <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> پر عمل کرنے کا پھل	333	شیطان کے چند دشمن
347	قرآن پر عمل کرنے اور اس سے روگردانی کرنے والوں کا انجام	333	جو شخص اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے
353	حضرت عائشہ <small>رضی اللہ عنہا</small> فقیر کو مال بھی دیتی تھیں اور دُعا بھی	334	منگبرین کا انجام
353	عورتوں کی کمزوری	334	سمندر میں گم شدہ سوئی دُعا کی برکت سے مل گئی
353	لغت کا جملہ کثرت سے زبان پر جاری ہو جانا	334	خواتین اپنے گھر کی زینت بن کر زندگی گزاریں
354	اپنے شوہر کی ناشکری کرنا	336	جو عورت آنکھ کو نہ لگے وہ وہ دل کو کیا لگے گی
354	عورتوں میں آپ <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> کا وعظ	337	حضرت علی <small>رضی اللہ عنہ</small> کے ساتھ خدا کی خصوصی قدرت کا مظاہرہ
355	میاں بیوی رفیق نہیں، فریق نہیں	338	موت کا آنا جتنا یقینی ہے آدمی اس سے اتنا ہی غافل ہے
356	پڑوسی کے شر سے بچنے کا نبوی نسخہ	339	اپنی عبادت پر ناز نہیں کرنا چاہیے
	صرف آنکھیں ہی اندھی نہیں ہوتیں بلکہ	340	لا یعنی باتوں سے پرہیز کیجئے
357	دل بھی اندھا ہوتا ہے	340	توکل کی حقیقت
358	سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہونے کا نبوی نسخہ	340	حضرت قتادہ <small>رضی اللہ عنہ</small> نے حضور <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> سے تین چیزیں مانگیں
358	لوگوں کے عیب نہ ٹٹو اور نہ اللہ تعالیٰ رسوا کر دے گا	341	حضور <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> کا بچوں کے ساتھ عجیب معاملہ
358	ایک نوجوان صحابی کی حضور <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> سے عجیب محبت	341	نبی کریم <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> کی چند اہم نصیحتیں
359	جنت کی نعمتوں اور بکھرے موتیوں کا تذکرہ	342	امام بخاری <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> اور امیر بخاری کا واقعہ
	جنت میں پردے گر گئے، شام ہو گئی جنت میں	343	مولانا روم کے والد اور بادشاہ کا واقعہ
362	پردے ہٹ گئے، صبح ہو گئی	344	قاتل حسین <small>رضی اللہ عنہ</small> عبید اللہ بن زیاد کا حشر
362	جنت میں نوجوان کنواری لڑکیوں کی بھی بارش ہوگی	344	حضرت سعد بن اسود <small>رضی اللہ عنہ</small> کا حوروں سے نکاح



376	کاواسطہ دے کر دُعا کیجئے	362	جنت میں دودھ، پانی، شہد اور شراب کے سمندر ہیں
377	اچھے کاموں کی طرف سبقت اور حرام کاموں سے پرہیز کیجئے	363	جنت میں چھ چیزیں نہ ہوں گی
377	اللہ تعالیٰ سے برابر دُعا مانگتے رہو	363	حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے جنتیوں کی دھوم دھام کے متعلق عجیب و غریب آٹھ سوالات
378	دُعا قبول نہ ہو تو پھر بھی دُعا مانگتے رہو	363	جنت میں حوروں کی دھوم دھام حورنازک، نورانی، ناز اور کرشمہ والی ہو
378	دُعا کے وقت ظاہر و باطن پاک صاف ہونا چاہیے	364	جنت کی عورتیں اپنے خاوند کا دل مٹھی میں رکھیں گی
379	پہلے اپنے لئے پھر دوسروں کے لیے دُعا کیجئے	365	آئیے! جنت عدن کی سیر کریں جس کے پانچ ہزار دروازے ہیں اور ہر دروازے پر پانچ ہزار فرشتے ہیں
379	امام کو جامع اور جمع کے صیغوں کے ساتھ دُعا مانگنی چاہیے	365	عبادتوں کی تکلیف جاتی رہی، مزے لوٹنے کے دن آگئے جو چاہو مانگو پاؤ گے
379	دُعا میں تنگ نظری سے پرہیز کیجئے	366	آئیے! طوبی درخت اور جنت کی سیر کریں
379	دُعا میں یہ تکلف قافیہ بندی سے پرہیز کیجئے	366	عبرت کی باتیں
380	دُعا کا آغاز اللہ کی حمد و ثنا اور صلوة و سلام سے کیجئے	367	جہالت کی نحوست
380	قبولیت دُعا کے خاص اوقات اور حالات	369	بڑھا پاؤ فادار ہوتا ہے
381	قبولیت دُعا کے مخصوص مقامات	371	انسان کن کن ایشیئوں سے گزرتا ہے
381	منقول دعاؤں کا اہتمام کیجئے	371	حلال مال سے دیا ہوا صدقہ اللہ تعالیٰ اپنے داہنے ہاتھ میں رکھ کر پالتے ہیں
382	چند جامع دعائیں	372	حضرت لقمان کی نصیحتیں
383	پریشانیوں سے نجات اور رزق میں برکت کے لیے آسان نبوی نسخہ	372	دیندار فقراء جنت کے بادشاہ
383	بسم اللہ کے خواص	373	دُعا مانگنے کے آداب
386	ایک قیمتی بچے کا درد بھرا قصہ	373	دعا صرف خدا تعالیٰ سے مانگنی چاہیے
387	قیامت کے دن حملہ جحیم کی رائیں ہرن کی رائیوں کی طرح ہوں گی	373	ناجائز اور نامناسب باتوں کی دُعا نہ مانگو
387	حضرت جبرئیل علیہ السلام نے حضور ﷺ کو پریشانیوں سے نجات کی دُعا سکھلائی	374	دُعا اخلاص اور یقین کے ساتھ مانگنی چاہیے
387	گھر کے ملازم اور پڑوسیوں کے شر سے بچنے	374	دعا پوری توجہ اور حضور قلب سے مانگنی چاہیے
389	عورت کا حسن کردار روح کی پاکیزگی ہے	374	دعا انتہائی عاجزی اور خشوع کے ساتھ مانگنی چاہیے
391	غصہ پی جائیے جو کسی خور چاہیے لے لیجئے	375	دُعا چکے چکے دھیمی آواز سے مانگنی چاہیے
391	حبیب اپنے حبیب کو عذاب نہیں کرتا	375	دُعا کرنے سے پہلے کوئی نیک کام کیجئے یا نیک کام
391	اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے حیا کھینچ لیتا ہے	376	
391	یہ قدیل حیا یارب! رہے فانوس کے اندر		
391	خلوت کے گناہوں کی وجہ سے مومنین کے دلوں		

405	حرام لقمہ کی وجہ سے چالیس دن تک عبادت قبول نہیں ہوتی	391	میں نفرت ڈال دی جاتی ہے
405	مانگی روٹی اور ملے چالیس ہزار دینار	392	ایک کھمی کی وجہ سے آدی جنت میں اور ایک آدی روزخ میں گیا
406	اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جب تک روح زخروے میں نہ آجائے	392	عاشورہ کے دن پیش آنے والے اہم واقعات حضور اکرم ﷺ نے حضرت تمیم داری سے فرمایا اگر میری لڑکی ہوتی تو تجھے اپنا داماد بنا لیتا
406	صغیرہ گناہوں کو بھی تغیر نہ سمجھ، یہ صغیرہ کل کبیرہ ہو جائیں گے	393	اللہ کا وعدہ ہے "اے محمد ﷺ! ہم تم کو تمہاری امت کے بارے میں راضی کر دیں گے
407	کوئی تدبیر موت کو ٹال نہیں سکتی	394	ہیں اہم نصیحتیں
408	بہت بڑا مجرم اور مفرور شخص ایک آیت سن کر صالح ہو گیا	394	سانپ بچھو وغیرہ سے بچنے کی نبوی دُعا پیشاب کی بندش اور پتھری کا نبوی علاج ہر بلا سے حفاظت کا نبوی نسخہ
408	دجال کے بارے میں آنحضرت ﷺ کا درد بھرا بیان	395	ایک چیونٹی کی دُعا سے سلیمان علیہ السلام کو پانی ملا
410	دجال کے فتنے اور قیامت کی نشانیاں	395	درد وغیرہ دور کرنے کا نبوی نسخہ
410	قیامت کے دن متکبر لوگ چیونٹیوں کی شکل میں جمع کئے جائیں گے	395	آٹھ آیتوں کا ثواب ایک ہزار آیتوں کے برابر تو اضع کی چند عظیم مثالیں پہلی صف والوں سے دو گنا اجر و ثواب
412	بادلوں سے آواز آئی	396	رمضان المبارک میں تلاوت قرآن کا خصوصی اہتمام کیجئے
412	نیک اور ریندار کی موت پر دھوم دھام عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے	396	حضرت داؤد علیہ السلام کی موت کا عجیب و غریب قصہ خدا کی نظر میں بدترین آدی ہر مومن اپنے بھائی کا آئینہ ہے
413	میت پر آنسو بہانا جائز ہے مگر میت پر نوحہ اور ماتم نہیں کرنا چاہیے	397	گناہوں سے توبہ کرنے والے بندے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں
414	اللہ تعالیٰ کی شاندار تعریف پر مشتمل ایک دیہاتی کی دُعا اور آنحضرت ﷺ کا قیمتی ہدیہ	397	بہترین راز دار بنو دوستوں کے درمیان ہشاش بشاش رہو لڑکیوں کی پیدائش کو بوجھ مت سمجھئے
416	اللہ تعالیٰ کا وہ نام کہ اس کے وسیلہ سے جب دعا کی جاتی ہے تو ضرور قبول ہوتی ہے	398	نواہم نصیحتیں
416	حضور ﷺ کی دُعا کی برکت سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طبیعت ٹھیک ہو گئی	400	تعجب ہے چار قسم کے آدمیوں پر جو چار باتوں سے غافل ہیں
417	پریشانی اور غم دور کرنے کا ایک نبوی نسخہ	401	اسلامی سلام میں سلامتی ہی سلامتی ہے
418	اپنے بیوی بچوں کو اللہ کی حفاظت میں دینے کا ایک نبوی نسخہ	402	شہید کو چھ انعامات ملتے ہیں
418	شیطان کے شر سے بچنے کا ایک نبوی نسخہ	403	
418	ابن آدم! غصے کے وقت مجھے یاد کر لیا کر میں بھی	405	
418	غضب کے وقت تجھے معافی عطا کروں گا		
418	مندرجہ ذیل دُعا جو پڑھے گا وہ آزمائش میں مبتلا نہیں ہوگا		

431	اللہ تعالیٰ کی چند نعمتوں کا تذکرہ	418	گھبراہٹ اور وحشت دور کرنے کا نبوی تعویذ
	پردے کا حکم علماء کا ایجاد کردہ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا	419	ولایت کے لباس مختلف ہوتے ہیں
432	حکم ہے جو قرآن سے ثابت ہے	420	رمضان کی پہلی رات میں ہی مسلمانوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے
433	کسی کا نام لے کر سلام کرنا قیامت کی علامت ہے		دعا کی قبولیت کے لیے حضرت جبرئیل علیہ السلام نے
	بنی امیہ کے بعض مکانات میں چاندی کا ایک ڈبہ	420	حضرت یعقوب علیہ السلام کو وظیفہ سکھایا
433	ملا جس پر سونے کا تالا لگا ہوا تھا	421	سخت ترین مقدمہ میں کامیابی حاصل کرنے کا بہترین وظیفہ
	ماں باپ اپنی اولاد کے ساتھ تین سلوک کریں	421	معمولی نیکی بھی مغفرت کا سبب بنتی ہے
433	ان شاء اللہ اولاد کبھی ناراض نہ ہوگی	421	ایک بیوہ کا عجیب قصہ
434	سلطان ملک شاہ کا مثالی انصاف	423	مناجات
434	قسم کھانے سے سامان تو بک جاتا ہے لیکن برکت ختم ہو جاتی ہے		اللہ تعالیٰ جب کسی طالب علم یا عالم سے خوش ہوتا
	جس کے پاس ایمان کی دولت ہے اس سے بڑھ	423	ہے تو اس کے لیے جنت میں شہر آباد کر دیتا ہے
435	کر کوئی دولت مند نہیں ہو سکتا	424	امام مالک کی صاحبزادیوں کا علمی معیار
436	امتحان عاشق کا ہوتا ہے منافق کا نہیں	426	ہر فلکرو پریشانی سے نجات حاصل کرنے کا علمی معیار
437	دین کے کام میں آؤ نہیں دیا جاتا بلکہ ماحول بنایا جاتا ہے	426	ہر فلکرو پریشانی سے نجات حاصل کرنے کا نبوی نسخہ
437	قیامت کے دن ہر حاکم کی گردن میں طوق ہوگا	426	قیامت کے دن تنگی سے بچنے کا ایک نبوی نسخہ
438	آنحضرت ﷺ نے انتقال کے وقت فرمایا	426	زبان اچھی بھی ہے اور مدنی بھی
438	قیامت کے دن گنہگار کی آنکھ تین میل لمبی اور تین میل چوڑی ہوگی	427	مرد تین قسم کے ہوتے ہیں
438	امام احمد بن حنبل علیہ السلام کی آزمائش	427	پریشانی اور تنگدستی دور کرنے کا نبوی علاج
439	امام احمد بن حنبل علیہ السلام کی کرامت	427	دل کی سختی دور کرنے کا نبوی علاج
439	واقعہ کی تفصیلات امام احمد علیہ السلام کی زبان سے		ایک دینی بہن پر تہمت لگی رجم کا حکم ہو گیا مگر اللہ
441	بے نظیر عزیمت و استقامت	428	نے اپنی قدرت سے اسے بچایا
441	امام احمد علیہ السلام کا کارنامہ اور اس کا صلہ		ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے گھر سے تہجد کے وقت ایک
	امام شافعی علیہ السلام نے امام احمد بن حنبل علیہ السلام کی	428	خاص آواز آتی تھی
442	تھیں کو دھوکا اس کا پانی پیا	428	ایک شرابی کے نام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خط
	اللہ نے امام احمد بن حنبل علیہ السلام سے فرمایا: ”یہ		آپ ڈراؤ نا خواب دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں تو مندرجہ
442	میرا چہرہ ہے تو جی بھر کے دیکھ لے	429	ذیل نبوی نسخہ استعمال کریں
	اللہ تعالیٰ نے حضرت امام احمد بن حنبل علیہ السلام کی لاش	429	کعبہ پر پردے کی ابتداء کیسے ہوئی؟
442	کی حفاظت فرمائی	430	ہر غم سے نجات حاصل کرنے کا بہترین حضری نسخہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ○

## (۱) آپ کے گھر میں رحمتوں اور برکتوں کی بارش

اگر آپ رحمتوں اور برکتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو درج ذیل باتوں کا اہتمام کریں:

① گھر کے تمام مرد و خواتین اپنے جسم و لباس کی پاکی اور طہارت کا خوب اہتمام رکھیں، اس اہتمام کے ساتھ رات کو سوتے وقت وضو کا معمول بھی بنالیا جائے تو بلاشبہ نفع ہی نفع ہوگا۔

② اپنے گھر کو پاک صاف رکھنے کا اہتمام کریں، نا بچھ اور چھوٹے بچوں کو مقرر جگہ پر حواج ضرور یہ سے فارغ ہونے کا عادی بنایا جائے۔ بچہ اگر غیر مقرر جگہ پر غلاظت کر دے تو اس جگہ کو فوراً اچھی طرح پاک صاف کرنا چاہیے۔ بچوں کے جسم اور لباس وغیرہ کی صفائی کا خاص خیال رکھا جائے۔

③ گھروں کی سجاوٹ میں جانداروں کی تصاویر سے سخت پرہیز کیا جائے، گانے بجانے اور موسیقی وغیرہ اور تفریح کے لیے نا جائز آلات سے اپنے گھر کو پاک رکھیں کہ ان تمام باتوں سے تمام اہل خانہ رحمت خداوندی سے محروم ہو جاتے ہیں۔

④ گھر میں قرآن کریم کی تلاوت ذکر و اذکار اور دین کی باتوں کا بطور خاص اہتمام کیا جائے۔ قرآن کریم کی تلاوت سے گھر سے بلائیں، نحوستیں، بیماری اور پریشانیاں دور بھاگتی ہیں اور گھر میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور سکون و اطمینان کی دولت نصیب ہوتی ہے، جس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے از روئے حدیث ایسا گھر آسمانوں میں خصوصی توجہات کا مرکز بن جاتا ہے اور فرشتوں کو ایسے گھر آسمانوں میں اس طرح نمایاں اور چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں جس طرح زمین میں انسانوں کو تارے جگمگاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔

یہ کس قدر خوش بختی اور سعادت کی بات ہے اور کون صاحب ایمان ایسی خوش بختی اور سعادت سے محروم ہونا چاہے گا؟ لہذا ہر گھر کا سربراہ نماز فجر کے بعد خود بھی اور گھر کے دیگر افراد کو بھی تلاوت کا پابند ہونے کی کوشش کرے اور تمام اہل خانہ مل کر گھر میں پاکی اور صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ انشاء اللہ آپ کے گھر میں رحمتوں اور برکتوں کی بارش ہوگی۔

## (۲) کریم و شریف شوہر بیویوں کے ناز و نخرے برداشت کرتے ہیں

بعض لوگ اپنی بیویوں کو ستاتے ہیں، بیوی سے ذرا سی گستاخی ہو جائے تو بیوی کو ڈٹالے کر پٹائی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم کو ناز کرنے کا کیا حق ہے؟

لیکن سنئے! سرور عالم ﷺ سے زیادہ کون غیرت مند ہو سکتا ہے، آپ ﷺ نے فرمایا اے عائشہ! جب تیرا روٹھ جاتی ہے، ناز بنے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ عرض کیا۔ اے میرے پیارے نبی! میرے ماں باپ آپ ﷺ پر قربان! آپ ﷺ کو کیسے معلوم ہوتا ہے کہ میں آج کل روٹھی ہوئی ہوں؟ فرمایا کہ جب تو مجھ سے روٹھ جاتی ہے تو قسم اس طرح کھاتی ہے: ”وَرَبِّ اَبْرٰهِيْمَ!“ (ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم!) اور جب خوش رہتی ہے تو کہتی ہے: ”وَرَبِّ مُحَمَّدٍ!“ (محمد ﷺ کے رب کی قسم!) اور آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اے دنیا والو! اس لوجو لوگ اپنی بیویوں کو پیٹ پیٹ کر سیدھا کر رہے ہیں وہ کہنے لوگ ہیں۔

تفسیر روح المعانی (ج ۵ ص ۱۴) میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کریم و شریف اور لائق شوہروں پر یہ عورتیں غالب آجاتی ہیں کیونکہ جانتی ہیں کہ یہ ناز اٹھالے گا۔ اور کمینے شوہر ڈنڈے کے زور سے کالی گلوچ سے ان پر غالب آجاتے ہیں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں پسند کرتا ہوں کہ میں کریم رہوں چاہے مغلوب رہوں۔ اور میں یہ پسند نہیں کرتا کہ کمینہ اور بد اخلاق بن کر ان پر غالب آجاؤں۔

حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت سے اپنے شوہر کے کھانے میں نمک تیز ہو گیا، وہ غریب آدمی تھا، چھ مہینے کے بعد مرغی لایا تھا، چھ مہینہ تک دال کھا کھا کر اس کی زبان مرغی کھانے کے لیے بے چین تھی مگر نمک تیز کر دیا لیکن اس نے بیوی کو کچھ نہیں کہا، چپ چاپ کھا لیا اور کہا کہ یا اللہ! اگر میری بیٹی سے نمک تیز ہو جاتا تو میں یہ پسند کرتا کہ میرا مادا اس کو معاف کر دے، میرے کلچے کے ٹکڑے کو کچھ نہ کہے تو یہ میری بیوی بھی کسی کے کلچے کا ٹکڑا ہے، کسی ماں باپ کی بیٹی ہے اور اسے خدا! تیری بندی ہے، بس میں تیری رضا کے لیے اس کو معاف کرتا ہوں۔

حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وعظ میں بیان فرماتے ہیں کہ جب اس کا انتقال ہو گیا تو اسے ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا، پوچھا بھائی تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا: اللہ نے مجھ سے فرمایا کہ تو نے یہ گناہ کیا، میں سمجھا کہ اب دوزخ میں جاؤں گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ تم کو معاف کرتا ہوں اس نیک عمل پر کہ تم نے میری بندی کی ایک خطا معاف کی تھی اور اس کو ڈنڈا نہیں مارا، اس کو گالی نہیں دی، جس دن میری بندی سے نمک تیز ہو گیا تھا، تو تم نے اس کی خطا کو معاف کر دیا تھا، اس کے بدلہ میں آج میں تم کو معاف کرتا ہوں۔ جتنا زیادہ تہجد پڑھنے والے اور زیادہ ذکر کرنے والے ہیں، میرا تجربہ ہے کہ اگر اہل اللہ کی صحبت یافتہ نہ ہوں تو اکثر ان میں غصہ پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھ پر ذکر کا جلال چڑھا ہوا ہے۔ ارے میرے بھائی! تجھ پر تو شیطان کا وبال چڑھا ہوا ہے، ذکر سے تو اللہ کی مخلوق پر اور مہربان ہونا چاہیے، مگر تو اتنا گرم ہو گیا کہ اپنے کو ہر وقت فرشتہ سمجھتا ہے۔ اپنی بیٹی کو کوئی ستا دے تو فوراً عاملوں کے پاس جائیں گے کہ حضور تعویذ دے دیں، میری بیٹی کو میرا مادا ستار ہا ہے۔ اور خود اپنی بیویوں کو ڈنڈے لگاتے ہیں اور گالیاں سناتے ہیں۔ مخلوق خدا کو جو ستائے گا، ہرگز اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ ایک لاکھ حج و عمرہ کر لے ایک لاکھ ذکر کر لے لیکن جو اللہ کی مخلوق کو ستائے گا، ہرگز وہ مومن کامل نہیں ہو سکتا:

(اَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ اِيْمَانًا اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا) (مشکوٰۃ ص ۲۸۲)

ترجمہ: ”کامل ترین مومن وہ ہے جو بہترین اخلاق والا ہے۔“

حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے خود یہ واقعہ سنایا کہ بڑی پیرانی صاحبہ نے حضرت صاحب سے کہا کہ مولانا ذرارہ رشتہ داری میں جارہی ہوں، یہ مرغیاں جو ہم نے پالی ہیں آٹھ بجے دن میں ان کو ڈربہ سے نکال دینا اور دانہ پانی دے دینا۔ اب اتنا بڑا مجدد زمانہ حکیم الامت جو ساٹھ خطوط کا روزانہ جواب لکھے اور پندرہ سو کتابیں لکھنے والا اس کو بھلا مرغیاں کہاں یاد رہیں؟ حضرت بھول گئے، مرغیاں ڈربہ میں بند رہیں۔ اب خطوط کا جواب نہ ارد، تفسیر بیان القرآن کے لیے قلم اٹھایا، سارے علوم ختم، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ دل میں اندھیرا آ گیا، سارے علوم و معارف غائب ہو گئے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سجدہ میں گر کر رونے لگے کہ یا اللہ مجھ سے کیا خطا ہو گئی؟ کیا گناہ ہے کہ جس سے آج تیری نگاہ کرم میرے دل پر سے ہٹ گئی اور میرے دل سے سارے علوم غائب ہو گئے؟ میں تو آج دل کو بالکل خالی پارہا ہوں۔ آسمان سے زور سے آواز آئی کہ اشرف علی! میری مخلوق، مرغیاں ڈربہ میں بند ہیں، آج وہ اندر ہی اندر کڑھ رہی ہیں، میری مخلوق کو مستاکر علوم و معارف کا انتظار کرتے ہو! جاؤ جلدی مرغیوں کو کھولو۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کانپ گئے، بھاگے ہوئے گئے، مرغیوں کو کھولا اور دانہ پانی رکھ دیا۔ جب واپس آئے تو دل میں فوراً سارے علوم کا دریا بہنے لگا۔ ایک جانور پر ظلم کا تو یہ عذاب ہے اور ہمارا کیا حال ہے؟

سگا بھائی سگے بھائی کو ستارہ ہے، شوہر بیوی کو ستارہ ہے، ماں باپ سے لڑائی، محلہ میں پڑوسیوں کو ستایا جا رہا ہے، ذرا ذرا سی بات پر ڈنڈا چل رہا ہے، کیا حال ہے اس وقت؟

### (۳) اُمت کیلئے معافی کی دعا کیجئے سارے مسلمانوں کے برابر نیکیاں ملیں گی

امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی معجم کبیر میں ایک حدیث شریف نقل فرمائی ہے جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص روزانہ کم از کم ایک مرتبہ (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ وَ الْمُؤْمِنَاتِ پڑھے گا اس کو دنیا کے تمام مسلمانوں میں سے ہر ایک کی جانب سے ایک ایک حسد اور نیکی ملے گی:

(عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَالَ كُلَّ يَوْمٍ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ وَ الْمُؤْمِنَاتِ الْحَقَّ بِهِ مِنْ كُلِّ مُؤْمِنٍ حَسَنَةً) (المعجم الكبير للطبرانی: ۲۳/۳۷۰، حدیث ۸۷۷)

ترجمہ: ”حضرت اُم سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص روزانہ (یہ دعا) ﴿اے اللہ! میری مغفرت فرما اور تمام مؤمنین اور مؤمنات کی مغفرت فرما﴾ کہا کرے گا اس کو ہر مومن کی طرف سے ایک حسد اور نیکی کا تحفہ ملے گا۔“

### (۴) شیطان کے پندرہ دشمن

حضرت فقیہ ابواللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تہذیب الغالین میں وہب بن منہب رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نقل فرمائی ہے۔ اس میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان سے پوچھا کہ اے ملعون! تیرے کتنے دشمن ہیں؟ تو شیطان نے جواب دیا کہ پندرہ قسم کے لوگ میرے دشمن ہیں:

- ① ”أَوْلَاهُمْ قَتْلٌ“ سب سے پہلے دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ② ”إِمَامٌ عَادِلٌ“ عادل بادشاہ اور عادل حکام۔
- ③ ”غَنِيٌّ مُتَوَاضِعٌ“ متواضع مالدار۔ ④ ”تَاجِرٌ صَادِقٌ“ سچا تاجر۔
- ⑤ ”عَالِمٌ مُتَخَشِعٌ“ خشوع کرنے والا عالم۔ ⑥ ”مُؤْمِنٌ نَاصِحٌ“ خیر خواہی کرنے والا مومن۔
- ⑦ ”مُؤْمِنٌ رَحِيمٌ الْقَلْبِ“ رحم دل مومن۔ ⑧ ”تَاجِبٌ ثَابِتٌ عَلَى التَّوْبَةِ“ توبہ کر کے ثابت قدم رہنے والا۔
- ⑨ ”مُتَوَرِّعٌ عَنِ الْحَرَامِ“ حرام سے پرہیز کرنے والا۔ ⑩ ”مُؤْمِنٌ يَدِينُهُمْ عَلَى الطَّهَارَةِ“ ہمیشہ طہارت پر رہنے والا مومن۔
- ⑪ ”مُؤْمِنٌ كَثِيرٌ الصَّدَقَةِ“ کثرت سے صدقہ کرنے والا مومن۔
- ⑫ ”مُؤْمِنٌ حَسَنُ الْخُلُقِ مَعَ النَّاسِ“ لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا مومن۔
- ⑬ ”مُؤْمِنٌ يَنْفَعُ النَّاسَ“ لوگوں کو نفع پہنچانے والا مومن۔
- ⑭ ”حَامِلٌ الْقُرْآنِ يَدِينُهُمْ عَلَى تِلَاوَتِهِ“ قرآن کریم کی ہمیشہ تلاوت کرنے والا عالم و حافظ۔
- ⑮ ”قَائِمٌ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ يَهْكُمُ“ رات میں ایسے تہجد اور نفل پڑھنے والا جس وقت سب لوگ سو چکے ہوں۔ (تہذیب الغالین: ص ۳۷۹)

### (۵) جو شخص اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے

حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ نے بوقت انتقال اپنی اہلیہ سے وصیت کی کہ جب مجھے دفن کر چکو تو میری دونوں بیٹیوں کو فلاں پہاڑ پر لے جانا اور آسمان کی طرف منہ کر کے کہنا کہ اے خداوند! فضیل نے مجھے وصیت کی ہے کہ جب تک میں زندہ رہا اپنی لڑکیوں کو اپنی طاقت

کے مطابق اپنے پاس رکھا، اب جب تو نے قبر کے قید خانے میں مجھے قید کر دیا ہے تو میں اپنی لڑکیوں کو تیرے حوالے کرتا ہوں اور تجھے واپس دیتا ہوں۔ بعد میں آپ ﷺ کی اہلیہ نے وصیت کے مطابق عمل کیا اور مناجات کر کے اپنی بے بسی پر بہت روئی۔ اس اثناء میں امیر یمن مع اپنے دونوں بیٹوں کے اس جگہ پہنچ گیا اور اس نالہ وزاری کو سنا اور حال پوچھا۔ آپ ﷺ کی اہلیہ نے تمام حالت بیان کی۔ امیر یمن نے سب باتیں سن کر کہا کہ میں ان دونوں لڑکیوں کو اپنے دونوں بیٹیوں سے بیاہ دیتا ہوں۔ چنانچہ ان کو اپنے ہمراہ یمن لے گیا اور بزرگوں کو جمع کر کے دس دس ہزار مہر پر ان کا نکاح کر دیا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے، حق تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے۔ (مخزن اخلاق صفحہ ۲۵۳)

### (۶) متکبرین کا انجام

تکبر ایک ایسے مہلک مرض کا نام ہے جو چشمِ زدن میں اعمال کو رازِ یگانہ کر دیتا ہے۔ تکبر سے انسان تباہی کے دھانے پر پہنچ جاتا ہے۔ تکبر سے دنیا میں بربادی ہوتی ہے، آخرت میں بھی ناکامی مقدر بن جاتی ہے۔ تکبر سے انسانی زندگی میں نفرت اور بیزاری پیدا ہوتی ہے، وہیں اللہ تعالیٰ بھی سخت ناراض ہوتا ہے۔

متکبر اس انسان کو کہتے ہیں جو اپنے گمان میں اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھے چاہے وہ اپنے آپ کو علم و عمل کے اعتبار سے بڑا جانے یا جمال و نسب یا قوت اور مال کی کثرت کی وجہ سے۔ تکبر ایک مہلک مرض ہے، عالم بہت جلد علم کی جہت سے مغرور بنتا ہے اور اپنے جی میں کمال علم سے واقف ہو کر اپنے آپ کو بڑا اور لوگوں کو حقیر و جاہل جانتا ہے اور اس بات کا متوقع ہوتا ہے کہ اس کی تعظیم کی جائے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما نے کہا کہ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا کہ ”جس شخص کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔“ گھمنڈ اور تکبر ہلاکت و تباہی کو دعوت دیتا ہے، تواضع و انکساری مؤمن کی شان اور نجات کا سبب ہے۔ پس جو متکبر و مغرور ہوگا بربادی و ہلاکت اس کا مقدر ہوگی اور جو متواضع اور منکسر المزاج ہوگا، دنیا میں بھی کامرانیوں کی منازل سے ہمکنار ہوگا اور آخرت میں بھی کامیابی اس کے قدم چومے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہر حال میں ہمیں متواضع بنائے، تکبر اور گھمنڈ سے دور رکھے۔ آمین!

### (۷) سمندر میں گمشدہ سوئی دعا کی برکت سے مل گئی

قبیلہ بنو سعد کے غلام حضرت عمرو بن لہیعہؓ کہتے ہیں کہ حضرت ابو یحیٰ بنہؓ ایک مرتبہ سمندر کا سفر کر رہے تھے، وہ اپنی کچھ کاپیاں سی رہے تھے، اچانک ان کی سوئی سمندر میں گر گئی اور انہوں نے اسی وقت یوں دعا مانگی اے میرے رب! میں تجھے قسم دیتا ہوں کہ تو میری سوئی ضرور واپس کر دے۔ چنانچہ اسی وقت وہ سوئی (سلحہ سمندر پر) ظاہر ہوئی اور حضرت ابو یحیٰ بنہؓ نے وہ سوئی پکڑ لی۔

(حیاء الصحابہ جلد ۲ صفحہ ۶۷۸)

### (۸) خواتین اپنے گھر کی زینت بن کر زندگی گزاریں

کرم و محترم مولا نا صاحب!

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

امید ہے کہ مزاج گرامی بخیر ہوں گے، دل میں یہ شوق ہو رہا ہے کہ میں بھی میرے شوہر کی طرح تجارت کروں یا کسی جگہ ملازمت کروں تاکہ گھریلو ضرورتیں پوری ہو سکیں اور شوہر پر بھی غالب رہوں۔ شوہر کی کمائی پر زندگی گزارنا یہ میری سمجھ میں نہیں آتا جب کہ میں پڑھی لکھی ہوں۔ خلاصہ یہ ہے کہ عورتوں کو بھی کاروبار کرنے کی اجازت ہونی چاہیے تاکہ مرد کے شانہ بشانہ چل سکیں۔ بیٹیاں بھی جوان ہیں رشتے نہیں آرہے ہیں۔ امید ہے کہ ایسا جواب تحریر فرمائیں گے جس سے میں اور میرا شوہر مطمئن ہو جائیں۔ میرے

ذہن پر مغربیت چھائی ہوئی ہے۔ دعاؤں کی درخواست۔ والسلام..... ایک دینی بہن۔

عورت ماں بھی ہے، بیٹی بھی ہے اور بیوی بھی۔ ماں کی حیثیت سے وہ ایک عظیم اور بے انتہا شفیق ہستی ہے، بیٹی کے روپ میں اطاعت گزار اور فرمانبردار جبکہ بیوی کے روپ میں ایک وفادار رفیقہ حیات ہے۔ مغرب فخریہ کہ سکتا ہے کہ مغربی ثقافت و تہذیب نے بہترین خواتین سائنس داں، پولیس، وکیل اور حساب داں پیدا کیں۔ لیکن اس سے انکار نہیں کہ مغربی ثقافت و تہذیب نے شفیق ماں، اطاعت گزار بیٹیاں اور وفادار بیویاں کم ہی پیدا کی ہیں۔

یہ طرہ امتیاز تو صرف اسلام ہی کو حاصل ہے۔ اسلام مرد و عورت کو مساوی حقوق دیتا ہے لیکن جہاں تک فرائض کا تعلق ہے وہ حدود کا مقرر کرتا ہے۔ چونکہ مرد کی جسمانی ساخت مضبوط ہوتی ہے، اس لیے اسے باہر کے کاموں کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ محنت و مشقت، دوڑ دوپ، بیوی بچوں کے اخراجات کی ذمہ داری مرد پر فرض کی گئی ہے۔ عورت کو نازک اندام، نہایت شفیق، صابرہ اور ایثار و قربانی کا مجسمہ بنا کر گھریلو کام کاج، بچوں کی نگہداشت و تربیت، شوہر کی خدمت اور اطاعت کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ عورت گھر کی ملکہ ہے۔ نیز نبی کریم ﷺ نے نیک پاکیزہ بیوی کو مرد کا بیش بہا سرمایہ قرار دیا اور ماں کے پیروں تلے جنت کی بشارت دی۔

ہر دور اور دنیا کے ہر مذہب میں جب تک عورت گھر کی چار دیواری میں رہ کر اپنے فرائض بخوبی انجام دیتی رہی معاشرے میں سکون ہی سکون رہا۔ مرد گھر کی ساری ذمہ داریوں کو عورت کے سپرد کر کے اطمینان کے ساتھ باہر کی دنیا میں کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہوتا رہا اور ترقی اس کے قدم چومتی رہی۔ ماں کی شفیق گود میں پروان چڑھ کر بچہ اپنے وطن کا جاننا سپاہی، اپنی قوم کا خادم اور اپنے دین و دھرم کا علمبردار اور مجاہد بنا رہا۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تابعین، بزرگان دین، مجاہدین اسلام وغیرہ کی ماؤں نے گھر کی چار دیواری میں رہ کر ہی اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا بہترین انتظام کیا۔ مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ کی امی جان کی نصیحت بقیامت ہر دور میں گونجتی رہے گی:

”بولیں اماں محمد علی کی، جان بیٹا خلافت پر دے دو۔“

چودہ سو سال پہلے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے سفاک حجاج بن یوسف کے خلاف تلوار اٹھائی اور اپنی بوڑھی مایا ماں حضرت اسماء رضی اللہ عنہا بنت ابوبکر سے رخصت لینے لگے تو سو (۱۰۰) سالہ مایا ماں نے بدن کو چھو اور پچھتر (۷۵) سالہ عبداللہ رضی اللہ عنہ کے بدن پر زہر بکتر محسوس کیا تو فرمایا: ”اللہ کی راہ میں جہاد پر جا رہے ہو تو تمہارے بدن پر زہر بکتر زیب نہیں دیتا، اس کو اتار دو اور جاؤ اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤ۔ یہ تمہیں گل کی مائیں گل کی عظیم فروری عورتیں!

آج کی عورت کیا گل کھلا رہی ہے؟ مغربی تہذیب کی اندھی تھلید میں اپنے اعلیٰ وارفع فرائض کو بھول چکی ہے، مردوں کی برابری کے چکر میں اپنی بربادی کی طرف رواں دواں ہے، کہ اس پر عائد کی گئی ذمہ داریاں ہی کافی تھیں۔ لیکن نادان عورت نے باہر کی دنیا میں قدم رکھ کر اپنے بوجھ کو بڑھا لیا ہے۔ مرد کے شانہ بشانہ چلنے کے چکر میں مردوں کی ہوس بھری نظروں کا نشانہ بن کر اپنے آپ کو ذلیل کر رہی ہے۔ گھر میں پوری عزت و وقار اور سکون کے ساتھ رانی بن کر بیٹھنے کے بجائے سوسائٹی کی تلی بن گئی ہے۔ مرد بہت خوش ہیں کہ عورت نے مرد کی ذمہ داریوں کا آدھا بوجھ اپنے سر لے لیا ہے، حالانکہ عورت کے بنیادی فرائض میں وہ حصہ دار نہیں بنتے۔

کماؤ عورت کی حالت دن بدن بدتر ہوتی جا رہی ہے، لیکن افسوس! اسے ہوش نہیں۔ اس کی کمائی سے معیار زندگی (Standard of Living) ضرور بڑھ گیا ہے، مگر عیش و عشرت کے سامان سے بھر رہا ہے، لیکن فیملی لائف اور ازدواجی زندگی منتشر ہو رہی ہے۔ بچے نوکروں اور پالنے گھروں (بے بی سینٹرز) کے حوالے ہو رہے ہیں اور ماؤں کی محبت، لاڈ پیار اور لوریوں سے محروم ہو رہے ہیں، محرومی اور پڑمردگی کا شکار ہو رہے ہیں۔ ماؤں کی غیر حاضری میں درسی کتابوں کی پڑھائی کم اور ٹی وی زیادہ دیکھتے ہیں۔



ایک تھکی ہوئی کماؤ بیوی شوہر کے جائز حقوق پورے نہیں کر پاتی۔ اس لیے شوہر شاک اور اپنی ازدواجی زندگی سے غیر مطمئن رہتا ہے۔ اپنی پریشانی اور جھنجھلاہٹ کو سگریٹ اور شراب میں ڈبو دیتا ہے۔ بیوی سے جنسی آسودگی نہ ملنے کے نتیجے میں ذہنی عیاشی اور بدکاری میں مبتلا ہو جاتا ہے، زندگی میں تلخیاں بڑھنے لگتی ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے پر الزام تراشی لگتے ہیں۔ چونکہ عورت کماؤ ہوتی ہے اس لیے وہ شوہر کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں ہوتی۔ انارستی کے چکر میں یا تو طلاق کی نوبت آ جاتی ہے یا مرد زنا کاری یا دوسری بیوی کے چکر میں پڑ جاتا ہے۔ ان چکروں میں معصوم بچوں کا مستقبل تاریک ہو جاتا ہے۔ کماؤ بیوی کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ بے چارہ شوہر کماؤ بیوی کے آگے پیچھے اسے منانے اور اس کے موڈ کو ٹھیک کرنے کے لیے گھومتا رہتا ہے، اس کے برعکس آفس میں میڈم اپنے آفس کے آگے پیچھے ایس سر! ایس سر! کہتی ہوئی گھومتی رہتی ہے۔ کالج کی طالبات میں آوارگی، بے حیائی، عریانیت عام ہو رہی ہے۔ بوائے فرینڈز رکھنا باعث فخر سمجھا جاتا ہے۔ کالج سینٹر میں تباہی ہی تباہی ہے، حوا کی بیٹیوں کی عزت و عفت ہمارا ہورہی ہے۔

آج کل شریف گھرانے کی لڑکیوں کو رشتہ ملنے میں دشواری پیش آرہی ہے۔ ان عیش پرست ادارہ مزاج پریمی لکھی لڑکیوں کا چلن دیکھ کر اکثر لڑکے کم پریمی لکھی، کم عمر، دیندار اور خوبصورت لڑکیوں سے شادی کرنے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ دن دہاڑے زنا بالجبر اور اغواء کے واقعات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، نیم عریاں بے حیا لڑکیوں کو دیکھ کر مرد کہاں تک اپنی نظروں اور جنسی جذبات پر قابو پائیں گے؟ ان سب کے باوجود عورت مردوں کے شانہ بشانہ چلنے کے لیے، ان کی شاباشی حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تباہ کر رہی ہے، اپنے آپ پر ظلم کر رہی ہے۔ ہماری نظر میں ظالم وہ ہے جو عزت کی چار دیواری کو چھوڑ کر ذلت کے بازار میں جا بیٹھی ہے۔

## (۹) جو عورت آنکھ کو نہ لگے وہ دل کو کیا لگے گی

عورت کو شوہر کیلئے بننا سنورنا اسلام میں پسندیدہ فعل ہے

ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ خواتین دن بھر کے کام کاج کو انجام دے کر اس قدر تھک جاتی ہیں کہ شام ہوتے ہی ذہنی اور جسمانی تھکن سے چور ہو جاتی ہیں۔ صبح سویرے اٹھنا، بچوں کے لیے، شوہر کے لیے ناشتا بنانا، بچوں کو کھلانا پلانا، انہیں تیار کر کے اسکول بھیجنا، پھر صفائی کرنا، دوسرے کام نمٹانا، دوپہر کے وقت سے پہلے پہلے ان کاموں کو نمٹا کر دوپہر کا کھانا بنانا تاکہ بچوں کو اسکول سے لوٹنے ہی کھانا تیار ملے۔ غرضیکہ کاموں کی ایک طویل فہرست ہوتی ہے۔ بچوں کی آمد کے بعد بھی کئی کام ہوتے ہیں جو خواتین کو انجام دینے ہوتے ہیں۔ اگر کچھ وقت دوپہر سے سہ پہر کے بیچ میں مل گیا تو آرام کر لیتی ہیں ورنہ پھر شام کے کام۔ شوہر کے گھر لوٹنے کا وقت ہو جاتا ہے اور کام ہے کہ پھر بھی تکمیل کو نہیں پہنچتا۔ ایسے میں شوہر گھر تشریف لاتے ہیں اور گھر میں چاروں طرف بکھرے کپڑے، کھلونے اور دیگر سامان کو دیکھ کر ان کا موڈ کچھ بگڑ جاتا ہے۔ بچوں کا بے ہنگم شورنا گواری کا احساس پیدا کرتا ہے۔ کچن سے نکلتی ہوئی اپنی بیگم کو گلے سے لباس، الجھے الجھے بالوں اور تھکے تھکے سے چہرے کو دیکھ کر موڈ مزید بگڑ جاتا ہے۔ وہ ایک کپ چائے کی فرمائش کرنا چاہتے ہیں، مگر بیگم کی بیزاری صورت انہیں ایسا کرنے سے روک دیتی ہے۔ نتیجتاً شوہر کا دل چاہتا ہے کہ چلو بھاگ چلو، کہیں دور صاف ستھری جگہ پر، جہاں بچوں کا شور نہ ہو، کوئی بیزاری شکل نہ ہو، کوئی مسکرا کر اس کا استقبال کرنے والا ہو، بہت خوشگوار ماحول میں جہاں چائے کا لطف دو بالا ہو اور جہاں سکون کے چند لمحے آسکیں مگر یہ سب کچھ ممکن نہیں ہوتا، اس لیے شوہر چڑچڑاسا ہو جاتا ہے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ خواتین مردوں کے مقابلے میں زیادہ محنتی اور جفاکش ہوتی ہیں، زیادہ ذمہ دار ہوتی ہیں، گھر گریہستی کے کام میں ان کی دلچسپی نہ ہو تو گھر، گھر نہیں رہتا۔ خواتین صبح سے شام تک گھر کی ذمہ داریاں پوری تنہا ہی کے ساتھ انجام دیتی ہیں، مگر خواتین سوچ کر بتائیں کہ آپ کے جسم کا آپ پر کوئی حق نہیں ہے؟ کیا آپ کے شوہر کا آپ پر کوئی حق نہیں ہے؟ آپ شوہر کے لیے بناؤ

سنگار کیوں نہیں کرتیں؟ شوہر کے لیے بنا سنورنا اسلام میں پسندیدہ فعل ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک غزوہ سے واپسی کے بعد ہم اپنے گھر جانے لگے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ابھی رُک جاؤ اور رات کو اپنے اپنے گھر جاؤ تاکہ جس عورت نے کنگھی چوٹی نہیں کی ہے، وہ کنگھی چوٹی کر لے اور جس عورت کا شوہر غائب تھا وہ نہادھو کر صاف ستھری ہو جائے۔“

(بخاری، کتاب النکاح، باب الولد۔ مسلم، کتاب الرضا، باب استحباب نکاح الکر)

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عورتوں کا کتنا خیال تھا کہ لاعلمی میں وہ اُلھے بالوں اور گندے میلے لباس میں اپنے شوہروں کے سامنے نہ آجائیں، اس لیے انہیں نہادھو کر کنگھی چوٹی کرنے کی مہلت دینا چاہتے تھے، تاکہ شوہر کے دل میں بیزاری یا نفرت کا جذبہ نہ پیدا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں عورتیں اپنے خاندانوں کی خاطر زیب و زینت کا سامان کیا کرتی تھیں۔ اس کا ثبوت اس واقعہ سے بھی ملتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی بیوی کو دیکھا کہ اسباب زینت سے یا جن سے اس دور کی عورت شوہر کی موجودگی میں بالعموم آراستہ ہوتی تھی، خالی تھیں۔ آپ نے فوراً دریافت کیا ”کیا عثمان رضی اللہ عنہ کہیں سفر پر گئے ہوئے ہیں؟“

(مسند احمد جلد ۶ صفحہ ۱۰۶)

یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بیوی کو تمام لوازمات سے آراستہ نہیں دیکھا، تو انہیں یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کہیں باہر گئے ہوئے ہیں، گھر پر موجود نہیں ہیں۔

خواتین کو شوہروں کی دل بستگی کے لیے، اپنے آپ کا، اپنی صحت کا، اپنے رہن سہن کا، اپنے لباس و زینت کا خیال رکھنا چاہیے۔ دن بھر کے کام کا ٹائم ٹیبل اس طرح ترتیب دیں کہ سارا کام شوہر کے لیے آنے سے پہلے نمٹ جائے، اگر کچھ باقی بھی رہ جائے تو حرج نہیں ہے۔ آپ اسے بعد میں بھی کر سکتی ہیں۔ آپ نہادھو کر تیار ہو جائیں اور جب صبح کے گئے تھکے ماندے شوہر گھر آئیں تو انہیں ایک اچھا، خوشگوار سامان دیں، ان کا مسکرا کر استقبال کریں، آپ کی مسکراہٹ دیکھ کر ویسے ہی ان کی آدمی تھکن دور ہو جائے گی۔ خوش کن باتیں کریں، دن بھر کے کم توڑ کام کا رد و نمانہ ردئیں۔ آپ کی محنت و مشقت ان سے چھپی تو نہیں رہتی، وہ آپ کی جانفشانی کا دل میں اعتراف کرتے ہیں، دل ہی دل میں تعریف بھی کرتے ہیں۔ ہاں! کچھ مرد تعریف کے معاملے میں کجخوش ہوتے ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ کی خدمات کے معترف نہیں ہیں۔ اگر مرد حضرات بھی اپنی بیوی کی محنت اور لگن، زندگی کے تئیں ان کی ایمانداری اور سنجیدگی کا کھلے دل سے اعتراف کریں تو بیوی کے لیے شوہر کے چند پیار بھرے الفاظ قوت بڑھانے کی ٹانگ ثابت ہوں گے۔

﴿۱۰﴾ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ خدا کی خصوصی قدرت کا مظاہرہ نہ انہیں سردی لگتی تھی، نہ انہیں گرمی لگتی تھی

حضرت عبدالرحمن بن ابی سلمیٰ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کریم اللہ وجہ سردیوں میں ایک لنگی اور ایک چادر اوڑھ کر باہر نکلا کرتے تھے، اور یہ دونوں کپڑے پتلے ہوتے تھے، اور گرمیوں میں مونے کپڑے اور ایسا جبہ پہن کر نکلا کرتے تھے جس میں روئی بھری ہوتی تھی۔ لوگوں نے مجھ سے کہا: آپ کے ابا جان رات کو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے باتیں کرتے ہیں، آپ اپنے ابا جان سے کہیں کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اس بارے میں پوچھیں۔ میں نے اپنے والد سے کہا: ”لوگوں نے امیر المؤمنین کا ایک کام دیکھا ہے جس سے وہ حیران ہیں۔“ میرے والد نے کہا: وہ کیا ہے؟ میں نے کہا: ”وہ سخت گرمی میں روئی والے کپڑوں اور مونے کپڑوں میں باہر آتے ہیں اور انہیں گرمی کی کوئی پروا نہیں ہوتی اور سخت سردی میں پتلے کپڑوں میں باہر آتے ہیں نہ انہیں سردی کی کوئی پروا ہوتی ہے اور نہ وہ سردی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کیا آپ نے ان سے اس بارے میں کچھ سنا ہے؟ لوگوں نے مجھے کہا ہے کہ جب آپ رات کو ان سے باتیں کریں تو یہ بات بھی ان سے پوچھ لیں۔“ چنانچہ جب رات کو میرے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو ان سے کہا: ”اے امیر المؤمنین! لوگ آپ

سے ایک چیز کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں۔“ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کہا: وہ کیا ہے؟ میرے والد نے کہا: ”آپ سخت گرمی میں روئی والا جبہ اور موٹے کپڑے پہن کر باہر آتے ہیں اور سخت سردی میں دوپٹے کپڑے پہن کر باہر آتے ہیں، نہ آپ کو سردی کی پروا ہوتی ہے اور نہ اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔“ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا: ”اے ابولہیٰ! کیا آپ خیبر میں ہمارے ساتھ نہیں تھے؟“ میرے والد نے کہا: اللہ کی قسم میں آپ لوگوں کے ساتھ تھا۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا: ”حضور ﷺ نے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھیجا وہ لوگوں کو لے کر قلعہ پر حملہ آور ہوئے لیکن قلعہ فتح نہ ہوسکا، واپس آگئے۔ حضور اکرم ﷺ نے پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بھیجا، وہ لوگوں کو لے کر حملہ آور ہوئے لیکن قلعہ فتح نہ ہوسکا، وہ بھی واپس آگئے۔ اس پر حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: ”اب میں جھنڈا ایسے آدی کو دوں گا جسے اللہ اور اس کے رسول سے بہت محبت ہے، اللہ اس کے ہاتھوں فتح نصیب فرمائے گا اور وہ بھگوڑا بھی نہیں ہے۔“ چنانچہ حضور اکرم ﷺ نے آدی بھیج کر مجھے بلا یا۔ میں آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا، میری آنکھ ڈکھری تھی، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ حضور اکرم ﷺ نے میری آنکھوں پر لعاب لگایا اور یہ دعا کی ”اے اللہ! گرمی اور سردی سے اس کی حفاظت فرما!“ اس کے بعد مجھے نہ کھی گرمی لگی اور نہ کھی سردی۔“..... ابو نعیم حلی کی روایت میں یہ ہے کہ حضور ﷺ نے اپنی دونوں ہتھیلیوں پر لعاب لگایا اور پھر دونوں ہتھیلیاں میری آنکھوں پر مل دیں اور دعا فرمائی کہ اے اللہ! اس سے گرمی اور سردی سے دور کر دے!..... اس ذات کی قسم جس نے حضور اکرم ﷺ کو حق دے کر بھیجا ہے اس کے بعد سے آج تک سردی اور گرمی نے مجھے کچھ تکلیف نہیں پہنچائی۔

طبرانی رحمہ اللہ کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت سوید بن غفلہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہماری حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سردیوں میں ملاقات ہوئی، انہوں نے صرف دو کپڑے پہن رکھے تھے۔ ہم نے ان سے کہا کہ آپ ہمارے علاقہ سے دھوکہ نہ کھائیں ہمارا علاقہ آپ کے علاقہ جیسا نہیں ہے، یہاں سردی بہت زیادہ پڑتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: مجھے سردی بہت لگا کرتی تھی جب حضور اکرم ﷺ مجھے خیبر بھیجنے لگے تو میں نے عرض کیا کہ میری آنکھیں ڈکھری ہیں۔ آپ ﷺ نے میری آنکھوں پر لعاب لگایا اور اس کے بعد نہ مجھے کھی گرمی لگی اور نہ کھی سردی اور نہ کھی میری آنکھیں ڈکھری آئیں۔ (حیاء الصحابہ جلد ۲ صفحہ ۲۷۷)

## (۱۱) موت کا آنا جتنا یقینی ہے آدی اس سے اتنا ہی غافل ہے

### یاد رکھئے! روزانہ ملک الموت اپنے شکار کو دیکھتا رہتا ہے

ابن ابی حاتم میں ہے کہ ایک انصاری کے سرہانے ملک الموت کو دیکھ کر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ملک الموت! میرے صحابی کے ساتھ آسانی کیجئے۔ ملک الموت نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی ﷺ تسکین خاطر رکھئے اور دل خوش کیجئے۔ واللہ میں خود با ایمان کے ساتھ نہایت نرمی کرنے والا ہوں۔ سنو یا رسول اللہ ﷺ قسم ہے خدا کی! تمام دنیا کے ہر کچے پکے گھر میں خواہ وہ خشکی میں ہو یا تری میں، ہر دن میں میرے پانچ پھیرے ہوتے ہیں۔ ہر چھوٹے بڑے کو میں اس سے بھی زیادہ جانتا ہوں، جتنا وہ خود اپنے آپ کو جانتا ہے۔ یا رسول اللہ! یقین مانئے کہ میں تو ایک ٹھہر کی جان قبض کرنے کی بھی قدرت نہیں رکھتا جب تک کہ مجھے خدا تعالیٰ کا حکم نہ ہو جائے۔

حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ملک الموت علیہ السلام کا دن میں پانچ وقت ایک ایک شخص کو ڈھونڈ بھال کر تا بھی ہے کہ آپ علیہ السلام پانچوں نمازوں کے وقت دیکھ لیا کرتے ہیں، اگر وہ نمازوں کی حفاظت کرنے والا ہے تو فرشتے اس کے قریب رہتے ہیں اور شیطان اس سے دور رہتا ہے، اور اس کے آخری وقت فرشتہ اسے ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ“ کی تلقین کرتا ہے۔

مجاہد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر دن ہر گھر پر ملک الموت دو دفعہ آتے ہیں۔ کب احبار اس کے ساتھ ہی یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہر دروازے پر ٹھہر کر دن بھر میں سات دفعہ نظر مارتے ہیں کہ اس میں کوئی وہ تو نہیں جس کا روح نکالنے کا حکم ہو چکا ہے۔ (تفسیر ابن کثیر جلد ۲ صفحہ ۲۰۴)

### (۱۲) اپنی عبادت پر ناز نہیں کرنا چاہیے پانچ سو سال کی عبادت ایک نعمت کے بدلے میں ختم

امام حاکم شہید نے مستدرک حاکم میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے ایک لمبی روایت نقل فرمائی ہے جو صحیح سند کے ساتھ مروی ہے، اور اس حدیث کو امام منذری رضی اللہ عنہ نے الترغیب والترہیب میں نقل کیا ہے۔ عربی عبارت کافی لمبی ہے اس لیے صرف اس کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے، شاید کسی کو فائدہ ہو۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ گھر سے باہر تشریف لا کر فرمایا کہ ابھی ابھی میرے دوست حضرت جبرئیل علیہ السلام تشریف لائے اور یہ فرمایا کہ پچھلی امتوں میں سے اللہ کا ایک بندہ نے اپنے گھریلو، عزیز و اقارب، مال دولت سب کچھ چھوڑ کر سمندر کے بیچ میں پہاڑ نما ایک ٹہلی تھا، اس میں جا کر عبادت کرنا شروع کر دی۔ وہ سمندر اتنا وسیع تھا کہ اس ٹہلی کی ہر جانب چار چار ہزار فرسخ دوری تک سمندر تھا۔ وہاں پر کوئی کھانے کی چیز نہیں تھی اور سمندر کا پانی بھی بالکل نمکین تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس میں ایک اتار کا درخت اُگادیا اور انگی کے برابر بیٹھے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ یہ عابد دن رات چوبیس گھنٹہ اپنی عبادت میں گزارتا تھا اور چوبیس گھنٹے میں اتار کا ایک پھل کھا لیتا تھا اور بیٹھے پانی کے چشمہ سے ایک گلاس پانی نوش فرمایا۔ اسی حالت میں پانچ سو سال گزر گئے۔ پانچ سو سال کے بعد جب اس عابد کی موت کا وقت آیا تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ مجھ کی حالت میں اس کی روح پرواز کر جائے اور اس کی نعش مٹی وغیرہ ہر چیز پر حرام کر دی جائے اور قیامت تک مجھ کے بدلے کی حالت میں صحیح سالم رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمائی مجھ کے بدلے کی حالت میں اس کی موت ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے وہاں ایسا انتظام رکھا ہے کہ قیامت تک وہاں کسی انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی۔

قیامت کے دن اس عابد کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر کیا جائے گا تو اللہ پاک فرشتوں سے فرمائے گا کہ میرے اس بندے کو میرے فضل سے جنت میں داخل کرو، تو وہ عابد کہے گا کہ اے میرے رب! بلکہ میرے عمل کے بدلے میں جنت میں داخل کر دیجئے، کیونکہ میں نے پانچ سو سال تک ایسی عبادت کی ہے جس میں کسی قسم کی ریا کاری کا شائبہ بھی نہیں تھا۔ تو اللہ پاک پھر فرمائے گا کہ میری رحمت سے داخل کر دو۔ تو یہ بندہ کہے گا کہ میرے عمل کے بدلے میں داخل کیجئے، تو اس پر اللہ فرمائے گا کہ اس کے عمل اور میری دی ہوئی نعمتوں کا موازنہ کرو۔ تو موازنہ کر کے دیکھا جائے گا کہ اللہ نے جو اس کی بیٹائی عطا فرمائی ہے صرف بیٹائی کی نعمت اس کی پانچ سو سال کی عبادت کا احاطہ کر لے گی۔ اس کے بعد پورے جسم میں کان کی نعمت، زبان کی نعمت، ہاتھ کی نعمت، ناک کی نعمت، پیر کی نعمت، دل و دماغ کی نعمت، ان سب کا بدلہ باقی رہ جائے گا۔ پھر ان کے علاوہ جو پانچ سو سال تک اللہ نے بیٹھا پانی پلایا ہے اور اتار کا پھل کھلایا ہے ان تمام کا بدلہ باقی رہ جائے گا۔ تو اللہ پاک فرمائے گا کہ اس کی پانچ سو سال کی عبادت تو صرف ایک نعمت کے بدلے میں ختم ہو گئی ہماری باقی نعمتوں کا بدلہ کہاں ہے؟ لہذا اس کو جہنم میں داخل کر دو۔ تو فرشتے اسے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جانے لگیں گے تو وہ چلانے لگے گا کہ اے میرے رب! محض اپنی رحمت سے مجھے جنت میں داخل فرما دیجئے تو اللہ کی طرف سے اسے کہا جائے گا کہ تجھے تو اپنی پانچ سو سال کی عبادت پر بڑا ناز تھا، اب تیری عبادت کہاں چلی گئی؟ اور خطرناک سمندر کے بیچ میں نے تجھے اتار کے پھل کھلائے اور پانچ سو سال تک مسلسل بیٹھا پانی پلایا، میری ان نعمتوں کے بدلے تم کیا لائے ہو؟ تو وہ کہے گا: اے اللہ! تو اپنی رحمت سے مجھے جنت میں داخل فرما تیری رحمت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ پھر آخر میں جب حجت تمام ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میری رحمت و فضل کے ذریعہ اس کو جنت میں داخل کر دو تو پھر وہ اللہ کی رحمت ہی کے ذریعے جنت میں داخل ہو سکے گا۔

### (۱۳) لایعنی باتوں سے پرہیز کیجئے

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ) (مشکوٰۃ ص ۴۳)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لایعنی باتوں کو ترک کر دے۔“

اگر کوئی اچھا مسلمان بننا چاہتا ہے تو وہ لایعنی اور فضول باتوں سے احتراز کرے اور لایعنی باتوں میں بکواس کرنا، خواہ مخواہ چوراہوں پر بھینٹ لگانا، ہوٹل بازی کرنا، یہ تمام باتیں شامل ہیں۔ مسلمانوں کو ان سے احتراز کرنا لازم ہے۔ جو شخص لایعنی اور فضول باتوں میں پڑھ جاتا ہے وہ اپنی ذمہ داری کی ادائیگی سے لاپرواہ ہو جاتا ہے، اور لوگوں کی نگاہوں سے گرجاتا ہے۔ اس کی معاشرہ میں کوئی عزت نہیں ہوتی۔

### (۱۴) توکل کی حقیقت

”اسلام اور تربیت اولاد“ کے نام سے ایک کتاب ہے۔ اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک ایسی قوم سے ملے جو کچھ کام کاج نہ کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم لوگ کیا ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم تو متوکلین ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم جھوٹ کہتے ہو، متوکل تو درحقیقت وہ شخص ہے جو اپنا غلہ زمین میں ڈال کر اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور فرمایا تم میں سے کوئی شخص کام کاج سے ہاتھ کھینچ کر بیٹھ کر یہ دعا نہ کرے کہ اے اللہ! مجھ رزق عطا فرمادے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ آسمان سے سونا چاندی نہیں برسا کرتے۔

اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہی وہ بزرگ ہیں جنہوں نے غرباء و فقراء کو اس بات سے روکا کہ وہ کام کاج چھوڑ کر لوگوں کے صدقات و خیرات پر تکیہ کر کے بیٹھ جائیں۔ چنانچہ آپ نے فرمایا: اے غرباء و فقراء کی جماعت! اچھائیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ اور مسلمانوں پر بوجھ نہ بنو۔ (اسلام اور تربیت اولاد: ۲/۲۲۳)

### (۱۵) حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تین چیزیں مانگیں

۱) آنکھ کی بیانی

۲) بیوی کی محبت

۳) اور جنت

### ان کی آنکھ کے ساتھ خدا کی خصوصی قدرت کا مظاہرہ

بہیقی اور ابن اسحاق رضی اللہ عنہما نے روایت کی ہے جنگ اُحد میں حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ کی آنکھ میں تیر لگا جس سے آنکھ نکل کر زخار پر آگئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اگر چاہو کہ یہ آنکھ اچھی ہو جائے تو میں اس کو اس کی جگہ پر رکھ دوں اچھی ہو جائے گی، اور اگر چاہتے ہو کہ جنت ملے تو صبر کرو۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت تو بڑا اچھا انعام ہے لیکن مجھے کانا ہونا برا معلوم ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھ کو اچھی کر دیجئے اور جنت کے لیے بھی میرے واسطے دعا فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھ کا ڈھیلا اٹھا کر اس کے حلقے میں رکھ دیا، اس کی روشنی دوسری آنکھ سے بھی تیز ہو گئی اور ان کے لیے جنت کی بھی دعا فرمادی۔

(رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تین سو معجزات صفحہ ۱۰۱)

ایک روایت میں ہے کہ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ اپنی آنکھ کی پتلی کو ہاتھ میں لیے ہوئے حضور اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اگر تو صبر کرے تو تیرے لیے جنت ہے اور اگر چاہے تو اسی جگہ رکھ کر تیرے لیے دعا کروں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میری ایک بیوی ہے جس سے مجھ کو بہت محبت ہے مجھ کو یہ اندیشہ ہے کہ اگر بے آنکھ رہ گیا تو کہیں وہ میری بیوی مجھ سے نفرت نہ کرنے لگے۔ آپ ﷺ نے دست مبارک سے آنکھ اس کی جگہ پر رکھ دی اور یہ دعا فرمائی: (اللَّهُمَّ اَعْطِهِ جَمَالًا) "اے اللہ اس کو حسن و جمال عطا فرما۔" (الاصابہ جلد ۳ صفحہ ۲۷۵)

حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں احد کے دن آپ ﷺ کے چہرے کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اپنا چہرہ دشمنوں کے مقابل کر دیا تاکہ دشمنوں کے تیر میرے چہرے پر پڑیں اور آپ ﷺ کا چہرہ انور محفوظ رہے۔ دشمنوں کا آخری تیر میری آنکھ پر ایسا لگا کہ آنکھ کا ڈھیلا باہر نکل پڑا جس کو میں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا اور لے کر حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ رسول اللہ ﷺ یہ دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے اور میرے لیے دعا فرمائی کہ اے اللہ! جس طرح قتادہ نے تیرے نبی کے چہرہ کی حفاظت فرمائی اسی طرح تو اس کے چہرہ کو محفوظ رکھ اور اس کی آنکھ کو دوسری آنکھ سے بھی زیادہ خوبصورت اور تیز نظر بنا، اور آنکھ کو اسی جگہ رکھ دیا۔ اسی وقت آنکھ بالکل صحیح اور سالم بلکہ پہلے سے بہتر اور تیز ہو گئی۔ (رداء الممرانی ابوالعزم والد دارالمنی خواہ)

### (۱۶) حضور ﷺ کا بچوں کے ساتھ عجیب معاملہ

بارہا ایسا ہوا ہے کہ آپ ﷺ نے عبد اللہ بن عباس، عبید اللہ بن عباس، کثیر بن عباس رضی اللہ عنہم کو بلایا اور ان سے فرمایا: بچو! تم میں سے جو دوڑ کر مجھ کو سب سے پہلے ہاتھ لگائے گا میں اس کو فلاں چیز دوں گا۔ بیٹوں بھائی دوڑ کر آپ ﷺ کی طرف جاتے۔ کوئی آپ ﷺ کے سینے سے چمٹ جاتا، کوئی پشت مبارک پر چڑھ جاتا۔ آپ ﷺ سب کو سینہ سے لگاتے اور خوب پیار کرتے۔ اور حضور اکرم ﷺ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو دعا دیتے تھے: (اللَّهُمَّ عَلِّمَهُ الْكِتَابَ وَفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ) "اے اللہ! اس کو کتاب اللہ کا علم اور دین کی سمجھ عطا فرما۔" (سرور کائنات ﷺ کے بچوں کا صحابہ، تذکرہ حضرت عبید اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ: صفحہ ۲۶۲)

### (۱۷) نبی کریم ﷺ کی چند اہم نصیحتیں

- حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک دن آنحضرت ﷺ کے پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا تھا کہ آپ ﷺ نے فرمایا: اے لڑکے! تو اللہ کے حق کی حفاظت کر اللہ تیری حفاظت فرمائیں گے۔ تو اللہ کے حقوق کی حفاظت کر تو ہر وقت اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔
- ① جب تو مانگے تو اللہ ہی سے مانگ۔
  - ② جب مدد طلب کرے تو اللہ تعالیٰ ہی سے مدد طلب کر۔
  - ③ اور اس بات کو اچھی طرح جان لے کہ تمام اُمت اکٹھا ہو کر تجھے نفع پہنچانا چاہے تو اس کے علاوہ کوئی نفع نہیں پہنچا سکتی جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے مقدر کر دیا ہے۔
  - ④ اور تمام لوگ جمع ہو کر تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہیں تو اس کے سوا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ (ترمذی ۷/۳۷۸)
  - اس حدیث شریف میں جناب رسول اللہ ﷺ نے حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو مخاطب کر کے پانچ باتوں کی نصیحت فرمائی۔
- ① اللہ کے حق کی حفاظت کرو:

تم اللہ کے حق کی حفاظت اور نگرانی کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کے احکام کی تعمیل کرو، شریعت اور سنت

نبوی تمہاری زندگی سے ظاہر ہوتی ہو، نماز میں، روزہ میں، زکوٰۃ و صدقہ خیرات میں، اخلاق میں، گفتگو میں، معاشرہ میں اللہ کے حکام اور نبی کریم ﷺ کی سنت کے تم پابند ہو جاؤ اللہ تعالیٰ بھی دنیا و آخرت کی ہر مشقت اور ہر پریشانی سے تمہاری حفاظت اور تمہاری دستگیری کرتا رہے گا۔ نیز تم اللہ کے حق کی حفاظت کرو، شریعت کے پابند ہو جاؤ گے تو تم ہر وقت اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ جب اللہ تعالیٰ ہر وقت تمہارے سامنے ہے تو تم کو پھر کسی اور کا محتاج ہونے کی ضرورت نہیں اور جب اللہ کی طاقت تمہارے ساتھ ہے تو تمہارا کون کیا باز رکھتا ہے۔

﴿۲﴾ صرف خدا سے مانگو:

دوسری نصیحت آپ ﷺ نے یہ فرمائی کہ جب تمہیں کچھ مانگنے کی ضرورت پیش آجائے تو صرف اللہ سے مانگو اللہ تعالیٰ کی دولت کا سمندر اتنا وسیع ہے کہ انسانی عقل حیران اور ششدر ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سب کو اس کی تمنا اور آرزوؤں کے مطابق دے دے تو اس کی دولت میں سے اتنا بھی نہیں جاتا جتنا سمندر میں سے سوئی کی ٹوک میں آسکتا ہے۔ اور وہ صاحب دولت بھی خوش نصیب ہے کہ ادھر تم اللہ سے مانگتے ہو اور ادھر اللہ پاک اس کے دل میں ڈال دیتا ہے اور بے چین ہو کر تمہارے پاس لے کر آتا ہے اور اگر تم اس کو قبول کر لیتے ہو تو وہ اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہے۔ تم بھی مقبول بارگاہ ہوئے اور اس کی دولت کو بھی عند اللہ شرف قبولیت حاصل ہوا تم نے تھوڑی اختیار کیا اور اس کا مال ایک متقی کو پہنچ گیا۔ جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تم مومن کے علاوہ کسی دوسرے کو اپنا دوست ہرگز مت بناؤ اور تمہارے یہاں کا کھانا متقی لوگوں کے علاوہ کوئی دوسرا کھانے نہ پائے۔ لہذا تمہارا دوست بھی کامل ہونا چاہیے اور تمہارے مہمان بھی متقی لوگ ہونے چاہئیں۔ (ترمذی: ۲۵/۲)

﴿۳﴾ صرف اللہ سے مدد مانگو:

تیسری نصیحت آپ ﷺ نے یہ فرمائی ہے کہ جب تم کسی مصیبت، دشواری میں مبتلا ہو جاؤ۔ کسی پریشانی میں، بیماری میں، دشمنوں کے زہرے میں آ جاؤ اور ہر طرف سے تمہیں ستایا جا رہا ہو تو ایسے حالات میں تمہارا دستگیر صرف اللہ تعالیٰ ہے، اس لیے صرف اسی سے فریاد کرو اور اسی سے مدد مانگو۔

﴿۴﴾ مخلوق تم کو نفع نہیں پہنچا سکتی:

چوتھی نصیحت یہ فرمائی کہ اگر دنیا کے تمام انسان اور تمام امت مل کر تم کو کسی بات کا نفع پہنچانا چاہیں تو اس سے زیادہ ایک پیسہ کا بھی نفع نہیں پہنچا سکتے جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے، لہذا مخلوق سے زیادہ امیدیں مت باندھا کرو، یہ فضول خیالات ہیں۔ تمہیں اپنی محنت خود کرنی ہے جو تمہارے مقدر میں ہے وہ تم کو اس بہانہ سے ملتا رہے گا اور ہر وقت خدا کی یاد تمہارے اندر غالب رہے گی۔

﴿۵﴾ مخلوق تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی:

پانچویں نصیحت جناب رسول اللہ ﷺ نے یہ فرمائی کہ اگر دنیا کے تمام انسان اس بات پر متفق ہو کر جمع ہو جائیں کہ تم کو نقصان پہنچائیں تو اس سے زیادہ ایک ڈھیلے کے برابر بھی تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے، کسی کو کوئی طاقت نہیں جو تمہیں نفع پہنچائے یا تمہیں کچھ نقصان پہنچائے۔ اس لیے سارا بھروسہ خدا پر کرو، اور اللہ تعالیٰ کے ہی نیاز مند بن جاؤ۔

﴿۱۸﴾ امام بخاری اور امیر بخاری کا واقعہ

جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ملک شام و عراق وغیرہ سے ہو کر نیشاپور تشریف لانے لگے تو نیشاپور کے مشہور محدث محمد بن یحییٰ ذہلی نے

متعلقین سے کہا کہ میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استقبال کے لیے جا رہا ہوں جس کا جی چاہے استقبال کرے۔ اس اعلان کے بعد نیشاپور سے دو دو تین تین میل دور تک جا کر لوگوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا استقبال کیا، اور جب نیشاپور پہنچ کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے درس حدیث کا سلسلہ شروع فرمایا تو کئی ہزار طلبہ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں شرکت کی۔

مگر چند ہی دن کے بعد کسی نے خلق قرآن کا ایک اختلافی مسئلہ اٹھا کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر الزام لگایا اور بہت جلد ان کا حلقہ درس ختم ہو گیا۔ صرف امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھ رہے۔ آخر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مایوس ہو کر اپنے وطن بخاری کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نیشاپور سے روانہ ہونے کی اطلاع اہل بخاری کو ملی تو بڑی شان و شوکت کے ساتھ لوگوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا استقبال کیا، اور بخاری آ کر درس حدیث کا سلسلہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے شروع فرمایا، ہزاروں طلبہ ان کے درس میں شرکت کرنے لگے۔

مگر حاسدین کو یہ گوارا نہ ہو سکا۔ انہوں نے یہ ترکیب نکالی کہ امیر بخاری خالد بن احمد ذہلی کو کسی طرح اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو حکم کریں کہ وہ امیر کے صاحبزادوں کو بخاری شریف اور تاریخ کبیر کا درس دیں۔ امیر بخاری کی سمجھ میں بات آئی تو امیر نے کہا کہ آپ دربار شامی میں تشریف لا کر مجھے اور میرے صاحبزادوں کو بخاری اور تاریخ کبیر کا درس دیں۔ مگر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی قاصد کی زبانی کہا، مجھ کو علم دین کو سلاطین کے دروازوں پر لے جا کر ذلیل نہیں کروں گا جسے پڑھنا ہو میرے پاس آ کر پڑھے۔

امیر بخاری نے دوبارہ کہلوا یا کہ اگر آپ نہیں آسکتے ہیں تو صاحبزادوں کے لیے مخصوص کوئی وقت عنایت فرمادیں کہ ان کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہ ہو۔ اس پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے لیے یکساں ہیں، ان کی سماعت سے میں کسی کو محروم نہیں کر سکتا۔ اگر میرا یہ جواب ناگوار معلوم ہو تو آپ میرے درس روکنے کا حکم دے دو تا کہ میں خدا کے دربار میں عذر پیش کر سکوں۔ اس پر امیر بخاری سخت ناراض ہوا اور حاسدوں نے امیر کے اشارے پر امام کو بددین اور بدعتی ہونے کا الزام لگایا۔ پھر حاکم نے بخاری سے نکال جانے کا حکم دیا تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت کبیدہ خاطر ہو کر ان مخالفین کے لیے بددعا کی: "اے اللہ! جس طرح اس امیر نے مجھے ذلیل کیا ہے، اسی طرح اس کو بھی اپنی ذات اور اپنی اولاد اور اپنے اہل و عیال کی بے عزتی و ذلت دکھا دے۔"

(نور الباری: ۴۳/۱، مقدمہ فتح الباری پاکستانی سوم ۴۹۳)

چنانچہ ابھی ایک ماہ بھی نہیں گزر پایا تھا کہ خلیفہ المسلمین نے اس امیر کی کسی غلطی پر سخت ناراض ہو کر اس کو معزول کر دیا اور اس کا منہ کالا کر کے گدھے پر سوار کر کے پورے شہر بخاری میں اس کی تذلیل کروائی اور اس کو جیل میں ڈال دیا گیا اور انتہائی ذلت و رسوائی سے چند دن کے بعد مر گیا اور اس امیر کے معاونین مختلف بلاؤں میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو گئے۔

آج تمام امت دیکھ رہی ہے کہ بخاری، سمرقند وغیرہ جو علمائے دین کے مرکز رہے ہیں، وہاں پر علمائے دین کی ناقدری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہاں سے علم اور علماء کو ایسا اٹھالیا کہ صدیوں تک وہاں کوئی کلمہ سکھانے والا نہیں رہا۔ اَللّٰهُمَّ احْفَظْنَا مِنْ غَضَبِكَ وَسَخَطِ اَوْلِيَّكَ "اے اللہ! ہم کو اپنے غضب اور اپنے اولیاء کی ناراضگی سے محفوظ فرما۔"

### (۱۹) مولانا روم کے والد اور بادشاہ کا واقعہ

مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے والد اپنے زمانے کے بڑے پایہ کے بزرگ تھے۔ ان کی خدمت میں بادشاہ وقت بھی آتا تھا۔ جب بادشاہ وقت نے دیکھا کہ مجلس کا عجیب حال ہے کہ وزیر اعظم بھی وہاں موجود ہے، اور دوسرے تیسرے نمبر کے وزراء بھی وہاں موجود ہیں اور سلطنت کے بڑے بڑے حکام و سرکردہ لوگ سارے وہاں موجود ہیں، اور دوسری طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو بڑے بڑے تاجر بھی وہاں موجود ہیں تیسری طرف دیکھتے ہیں تو علماء اور صلحاء بھی وہاں بیٹھے ہیں تو بادشاہ کو حیرت ہوئی کہ میرے دربار میں تو یہ لوگ آتے نہیں



ہیں اور ان کے یہاں اس شان اور اتنی قدر کے ساتھ آکر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہر ایک کی صورت سے سراپا محبت اور عظمت چمک رہی ہے اور ان کی بزرگی سب پر چھائی ہوئی ہے۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد بادشاہ کو بجائے حیرت کے غیرت پیدا ہونا شروع ہو گئی تو بادشاہ نے یہ تدبیر سوچی کہ ان کو مال اور خزانہ میں پھانس دیا جائے۔ چنانچہ یہ کہہ کر ان بزرگ کے پاس خزانہ کی کھجیاں بھیج دیں کہ میرے پاس اور کچھ تو رہا نہیں سب آپ کے پاس ہے، پس خزانہ کی کھجیاں بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ رومی رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے کھجیاں یہ کہہ کر واپس کر دیں کہ آج بدھ کا دن ہے اور کل تک مجھے مہلت دیجئے۔ پرسوں جمعہ ہے میں جمعہ کی نماز پڑھ کر آپ کا شہر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ سب چیزیں آپ کو مبارک ہوں۔ یہ خبر لوگوں کے درمیان اُڑ گئی تو وزیروں کی طرف سے استغنیٰ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایک وزیر کا استغنیٰ آیا پھر دوسرے کا آیا پھر تیسرے کا آیا کہ جب حضرت یہاں سے جا رہے ہیں تو ہم بھی جا رہے ہیں۔ شہر کے جو بڑے معزز باوقار لوگ تھے وہ بھی چلے جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب بادشاہ نے یہ منظر دیکھا تو کہنے لگا کہ اگر یہ سب چلے جائیں گے تو شہر کی جان اور شہر کی روح نکل جائے گی اور شہر کی جتنی رونق ہے سب ختم ہو جائے گی۔ اس لیے خود حاضر ہو کر مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے والد سے معافی مانگی کہ مجھ سے گستاخی ہو گئی، میں معافی چاہتا ہوں، آپ یہاں سے تشریف نہ لے جائیں۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم نے ہر چیز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے مقابلہ میں قربان کر دیا تھا، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے دل میں ان کی محبت پیدا فرمادی تھی اور اللہ نے ان کو کامل ولایت عطا فرمائی۔ ”مَنْ عَادَى لِيُؤَدِّ عَادَتِي وَلِيَا فَقَدْ آذَنَنِي بِالْحَرْبِ“ (جو میرے دوست سے دشمنی رکھتا ہے میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں) کا پورا منظر نظر آ رہا تھا۔

### (۲۰) قاتل حسین رضی اللہ عنہ عبید اللہ بن زیاد کا حشر

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک یعنی حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے اہل بیت کے قاتلوں کے سردار عبید اللہ بن زیاد کا حشر اس زمانہ کے لوگوں نے دیکھ لیا کہ ابراہیم بن اشتر نے اس کے اور اس کے ساتھیوں کے سروں کو کاٹ کر ایک مسجد کے گھن میں مولیٰ، گاجر کی طرح ڈھیر لگا دیا۔ ترمذی شریف کے اندر حضرت عمارہ بن عمیر سے ایک روایت مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب عبید اللہ بن زیاد اور اس کے ساتھیوں کے سروں کو مسجد کے گھن میں کاٹ کر ڈھیر لگا دیا گیا تو اس منظر کو دیکھنے کے لیے لوگوں کی ایک بھڑنگی ہوئی تھی تو میں بھی گیا۔ جس وقت میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد لوگوں میں شور ہونا اور شور اس بات کا ہو رہا تھا کہ ان سروں میں ایک سانپ گشت کر رہا تھا اور گشت کرنا ہوا عبید اللہ بن زیاد کی ناک میں گھس جاتا تھا۔ تھوڑی دیر اس کی ناک میں ٹھہرنے کے بعد پھر نکل کر غائب ہو جاتا تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد آ کر اسی کی ناک میں گھستا تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر مسلسل دو تین مرتبہ دیکھا۔

(ترمذی شریف: ۲۸۱۲، البدایہ والنہایہ: ۲۸۱/۸)

جس نے اللہ تعالیٰ کے ولی کے ساتھ عداوت کی اس کا یہ حشر دنیا میں بھی لوگوں نے دیکھا لیا ہے، اب آخرت میں کیا ہوگا وہ اللہ کو زیادہ معلوم ہے۔

### (۲۱) حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا حوروں سے نکاح

حضرت سعد رضی اللہ عنہ ایک جوان قابل قدر صحابی تھے، ان کا واقعہ سیرت کی کتابوں میں عجیب و غریب انداز سے نقل کیا گیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے امام اعز الدین ابن الاثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اُسد الغابہ کے اندر مفصل طور پر نقل فرمایا ہے۔ اس مفصل روایت کا خلاصہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نہایت کالے اور نہایت بد صورت تھے۔ انہوں نے اپنی شادی کے لیے مدینہ منورہ کے ہر قبیلہ میں پیغام پیش کیا اور بڑی کوششیں کیں مگر ان کی بد صورتی اور ان کے زیادہ کالے ہونے کی وجہ سے کسی نے اپنی لڑکی ان کو

دینا پسند نہیں کیا۔ حضرت سعد اسود رضی اللہ عنہ حضور اکرم ﷺ کی خدمت میں آ کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ﷺ کیا میرا کالا پن اور بد صورتی مجھے جنت میں داخل ہونے سے روک سکتی ہے؟ تو حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ اور رسول اللہ ﷺ پر ایمان لا چکے ہو اور تقویٰ اور پرہیزگاری کا راستہ اختیار کر چکے ہو تو ایسا ہرگز نہ ہوگا، بلکہ اللہ کے یہاں تمہارا بہت بلند مقام ہوگا۔ تو حضرت سعد اسود رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھ کر اپنا ایمان ثابت کیا اور حضور ﷺ کے سامنے اپنی پریشانی کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ جو لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور جو آپ کی مجلس میں نہیں آتے ہیں دونوں قسم کے لوگوں کے یہاں میں نے اپنی شادی کا پیغام دیا ہے۔ لیکن میری بد صورتی کی وجہ سے کوئی اپنی لڑکی دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو حضور اکرم ﷺ نے ان کے لیے مدینہ منورہ کی سب سے خوبصورت اور سب سے باعزت گھرانے کی پڑھ لکھی بھھدار لڑکی منتخب فرمائی۔ حضور ﷺ نے فرمایا تم عمیر بن وہب ثقفی رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ اور ان کی لڑکی جو سب سے زیادہ خوبصورت سب سے زیادہ بھھدار ہے اس کے ساتھ میں نے تمہارا نکاح کر دیا اور تم جا کر عمیر بن وہب ثقفی رضی اللہ عنہ کو میرا پیغام سنا دینا کہ ان کی لڑکی کے ساتھ میں نے تمہارا نکاح کر دیا ہے۔

جب حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے جا کر لڑکی کے ماں باپ کو اطلاع دی تو ماں باپ نے ان کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور واپس کر دیا۔ جب لڑکی نے یہ منظر دیکھا تو ماں باپ سے کہنے لگی کہ اللہ کی طرف سے تمہارے خلاف وحی نازل نہ ہو جائے۔ اللہ اور اس کے رسول اللہ ﷺ کے غضب سے بچنے میں تو اپنے لیے اسے کو پسند کرتی ہوں۔ جس کو اللہ اور رسول اللہ ﷺ نے پسند فرمایا ہے۔ اس لڑکی کے بھی کمال ایمان کی انتہا ہوگئی کہ اس نے دلوں کو دیکھا صورت کو نہیں دیکھا۔ اور اللہ اور رسول اللہ کی خوشی کو دیکھا۔ جب لڑکی کے ماں باپ حضور ﷺ کی مجلس میں گئے تو حضور ﷺ نے پوچھا کہ تم نے میرا بیجا ہوا آدمی واپس کر دیا تو انہوں نے شرمندگی کا اظہار کیا اور توبہ کی اور عرض کیا کہ ہم کو شہہ ہوا کہ انہوں نے کہیں جھوٹ نہ کہا ہو۔ ہم تو آپ کے تابع ہیں ہم ان کو اپنی لڑکی دیتے ہیں۔ چنانچہ ماں باپ نے اپنی چھٹی بیٹی کو حضرت سعد اسود رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا۔ لڑکی نے ماں باپ سے کہا تھا کہ جب اللہ اور رسول اللہ ﷺ کا کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو اس میں کسی کو اختیار نہیں رہتا، اور لڑکی نے یہ آیت پڑھ کر سنائی:

﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مَوَدَّةٍ إِلَّا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلًّا مُّبِينًا ﴾ (سورہ احزاب: آیت ۳۶ پارہ ۲۴)

ترجمہ: ”اور کسی مرد مؤمن اور عورت کے لیے جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ کر دیں تو ان کو اپنی طرف سے کوئی اختیار نہیں رہتا اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہو جائے گا۔“

اس کے بعد حضرت سعد اسود رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کے لیے بازار سے کچھ سامان خریدنے کے لیے تشریف لے گئے، اسی اثناء میں جنگ کا اعلان ہوا تو انہوں نے بیوی کے لیے سامان خریدنے کے بجائے اسی پیسہ سے تلوار، نیزہ، گھوڑا وغیرہ جنگی سامان خرید لیا اور جنگ میں جا کر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ تو حضور ﷺ نے ان کے سر مبارک کو اپنی گود میں لیا اور پھر ان کی تلوار اور گھوڑا وغیرہ ان کی بیوی کے پاس بیجا۔ ان کے سسرال والوں سے کہلا بیجا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری لڑکی سے زیادہ خوبصورت لڑکیوں سے آخرت میں اس کی شادی کرا دی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ظاہری خوبصورتی کو نہیں دیکھتا بلکہ اندرونی سیرت اور قلوب کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت سعد اسود رضی اللہ عنہ کو اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے۔ (اسدالغاب: ۱۸۴/۲۳)

## (۲۲) بے نمازی کی نحوست

ایک بزرگ صاحب کشف تھے، ایک بار کسی اکرام کرنے والے نے ان کی دعوت کی، دسترخوان پر کھانا رکھا گیا، جس میں روٹیاں

بھی نہیں اور روٹیاں دو عورتوں نے بنائی تھیں۔ جب بزرگ دسترخوان پر تشریف فرما ہوئے تو روٹی کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، ہاتھ روک لیے اور روٹیوں کو دو حصوں میں الگ کیا۔ ایک حصہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ روٹی جس نے بھی بنائی ہے وہ بے نمازی ہے۔

### (۲۳) ماں کی شان میں گستاخی کرنے والے کی سزا

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المفرد میں لکھا ہے کہ ایک قبرستان میں مغرب کے بعد ایک قبر بھٹکتی تھی، اس میں سے ایک شخص نکلا، جس کا سر گدھے کے مانند تھا، گدھے کی آواز نکال کر چند لمحے بعد قبر میں چلا جاتا تھا۔ کسی نے لوگوں سے پوچھا کہ آخر اس قبر والے کے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ بتانے والے نے بتایا کہ یہ آدمی شراب پیتا تھا، جب اس کی ماں اسے ڈانٹتی تو کہتا تھا کیوں گدھے کی طرح چلاتی ہے؟

فائدہ:

ماں کا ادب بہت ضروری ہے۔ حدیث میں ہے ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔

### (۲۴) پہلوان امام بخش کا قصہ

ایک بزرگ کا پڑوس میں قبرستان میں جانا ہوا، جہاں انہیں فاتحہ پڑھنی تھی، وہ فاتحہ پڑھ کر آگے بڑھنے لگے۔ اچانک ایک بوسیدہ قبر کو دیکھا گویا وہ کہہ رہی ہے حضرت! ہمیں بھی کچھ عطیہ اور تحفہ دیتے جائیے، ہم بھی محتاج ہیں۔ وہ بزرگ اس قبر پر آئے اور جو اللہ نے توفیق دی آپ نے پڑھا۔ اچانک ان کی نظر کتبہ پر پڑی جو قبر کے قریب پڑا ہوا تھا، اس کتبہ کو اٹھا کر انہوں نے صاف کیا جس پر لکھا ہوا تھا رستم ہند بام بخش۔ یہ وہ پہلوان تھے جنہیں راجہ مہاراجہ ہاشمی بھیج کر گھر بلاتے تھے اور قالین پر بٹھاتے تھے۔ آج ایک سبحان اللہ کے محتاج ہیں۔

### (۲۵) چنگیز خاں اور سکندر اعظم کی قبریں کہاں ہیں؟

تاریخ اسلام میں ہے جب چنگیز خاں کا انتقال ہونے لگا تو اس نے اپنے ساتھیوں سے وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو فلاں درخت کے نیچے مجھے دفنادینا۔ انتقال ہوا، درخت کے نیچے دفنایا گیا، اتفاق سے دوسرے روز سے بارش شروع ہوئی اور چھ ماہ تک بارش ہوتی رہی، وہ جگہ جنگل میں تبدیل ہو گئی اور وہ درخت اس جنگل میں مل گیا۔ لوگوں کو پتہ نہ رہا کہ چنگیز خاں کو کس درخت کے نیچے دفنایا گیا تھا۔ وہ عالم قوم جنہوں نے بیک وقت بیس بیس لاکھ انسانوں کو قتل کیا جو گھوڑے کی پشت سے تین تین روز تک اترتے نہیں تھے، پیاس لگتی تو گھوڑے کی پشت پر نخر مارتے، کٹورا ساتھ ہوتا، کٹورے کو خون سے بھرتے اور اسے پی جاتے یہ ان کا پانی تھا آج ان کے سردار کی قبر کا ٹھکانہ نہیں۔

خطبات حکیم الاسلام میں مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سکندر اعظم کی قبر عراق کے بابل کے کھنڈرات میں ہے، لیکن قبرستان میں کوئی صحیح قبر نہیں بتا سکتا۔ جب کوئی سیاح سیر کو یا تفریح کو جاتا ہے تو وہاں کے گائیڈ کچھ قبروں کی طرف اشارہ کر کے بتاتے ہیں کہ انہیں قبروں میں ایک قبر سکندر اعظم کی ہے۔

فائدہ:

جس انسان نے دنیا فتح کی آج اس کی قبر کی نشاندہی مشکل ہے، اس لیے انسان اپنے ایمان اور اعمال بنانے کی فکر کرے اور اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہو جائے کہ لوگ اس کے لیے دعا کریں۔

## (۲۶) شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نورانی ارشادات

- ① علم کا تقاضا عمل ہے، اگر تم علم پر عمل کرتے تو دنیا سے بھاگتے کیونکہ علم میں کوئی چیز ایسی نہیں جو حُکب دنیا پر دلالت کرتی ہو۔
- ② علم اگر زاہد نہ ہو تو اپنے زمانے والوں پر عذاب ہے۔
- ③ مومن اپنے اہل و عیال کو اللہ پر چھوڑتا ہے اور منافق زرو مال پر۔
- ④ اپنی مصیبتوں کو چھپاؤ اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔
- ⑤ بہترین عمل لوگوں کو دینا ہے، لوگوں سے لینا نہیں۔
- ⑥ ظالم اپنے ظلم سے مظلوم کی دنیا خراب کرتا ہے اور اپنی آخرت۔
- ⑦ وہ روزی جس پر شکر نہ ہو اور وہ تنگی جس پر صبر نہ ہو فتنہ ہے۔
- ⑧ جس کو کوئی ایذا نہ پہنچے اس میں کوئی خوبی نہیں۔
- ⑨ مسکینوں کو ناخوش رکھ کر اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنا ممکن نہیں۔
- ⑩ میں ایسے مشائخ کی صحبت میں رہا ہوں کہ ان میں کسی ایک کی دانست کی سفیدی میں نے نہیں دیکھی۔
- ⑪ دنیا دار دنیا کے پیچھے دوڑتے ہیں اور دنیا اہل اللہ کے پیچھے۔

## (۲۷) حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کا پھل

جو انسان دین میں عقلی گھوڑے دوڑتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال فرماتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا علی! اتنی رات گئے گھر سے کیوں نکلے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! بھوک نے گھر سے نکالا، نیند نہیں آرہی تھی۔ کچھ دور آگے بڑھے تو دیکھا کہ کچھ صحابہ بھی بیٹھے ہیں، ان سے جب دریافت کیا تو انہوں نے بھی یہی عذر پیش کیا، سامنے ایک کھجور کا درخت تھا، سردی کا موسم تھا، حالانکہ سردی کے موسم میں کھجور نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا: ”اے علی! اس درخت سے کہو کہ اللہ کا رسول اللہ کہتا ہے کہ ہمیں کھجوریں کھلاؤ۔“

حضرت علی رضی اللہ عنہ درخت کے قریب گئے اور فرمایا اے درخت! اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے کہ ہمیں کھجور کھلاؤ۔ حدیث میں ہے کہ درخت کے پتوں سے کھجوریں گرنے لگیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دامن بھر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔

## (۲۸) قرآن پر عمل کرنے اور اس سے روگردانی کرنے والوں کا انجام

حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ:

(أَنَّ اللَّهَ يَرَفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ الْأَعْيُنَ) (مسلم شریف، مشکوٰۃ: ص ۱۸۴)

ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ اس کتاب (قرآن کریم) کے ذریعہ بہت سی قوموں کو اونچا اٹھاتے ہیں، اور دوسری قوموں کو اس (پر عمل نہ کرنے) کی وجہ سے نیچے گراتے ہیں۔“

تاریخ شاہد ہے کہ جب تک مسلمان قرآن پاک کی پاکیزہ تعلیمات اور ارشادات نبوی پر زندگی کے تمام شعبوں میں عمل کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسی ترقی اور ایسا عروج عطا فرمایا جس کی نظیر پیش کرنے سے تمام اقوام عالم عاجز ہیں، اور آج مسلمان

کتاب و سنت کو چھوڑ کر ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔

(عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَلَا إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ فَقُلْتُ مَا الْمَخْرُجُ مِنْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ كِتَابُ اللَّهِ ① فِيهِ نَبَأُ مَا قَبْلَكُمْ ② وَخَبْرُ مَا بَعْدَكُمْ ③ وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ ④ هُوَ الْفُضْلُ ⑤ لَيْسَ بِالْهَزْلُ ⑥ مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جِبَارٍ قَصَمَهُ اللَّهُ ⑦ وَمَنْ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ ⑧ وَهُوَ جِبِلُّ اللَّهِ الْمَتِينُ ⑨ وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ ⑩ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ ⑪ وَهُوَ الَّذِي لَا يُرِيدُ بِهِ الْأَهْوَاءُ ⑫ وَلَا تَلْتَمِسُ بِهِ الْأَلْسِنَةُ ⑬ وَلَا تَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ ⑭ وَلَا يَخْلُقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّيِّ ⑮ وَلَا تَنْقُضُ عِبَادِيهِ ⑯ هُوَ الَّذِي لَمْ تَنْتَهِ الْجَنُّ إِذَا سَمِعَتْهُ حَتَّى قَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ ⑰ مَنْ قَالَ بِهِ صِدْقًا ⑱ وَمَنْ عَيْلَ بِهِ أَجْرًا ⑲ وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدْلًا ⑳ وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هُدًى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ)

(ترمذی شریف: ۳۳/۲، مشکوٰۃ شریف: ۱۸۶/۱)

ترجمہ: ”حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بے شک میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے“ اے لوگو! آگاہ ہو جاؤ عنقریب ایک عظیم ترین فتنہ برپا ہونے والا ہے۔“ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا: ”یا رسول اللہ ﷺ اس فتنہ سے چھٹکارے کی راہ اور مفر کیا ہے؟“ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ”اس سے حفاظت کا ذریعہ قرآن کریم ہے، اس کے اندر تم سے پہلے لوگوں کے حالات کا ذکر ہے اور تمہارے بعد قیامت تک آنے والے امور اور حالات کی خبر ہے، اور تمہارے باہمی معاملات کے فیصلہ کا حکم اس میں موجود ہے اور قرآن کریم حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی کتاب ہے، اس میں کوئی بات مذاق کی نہیں ہے جو شخص غرور اور فخر کی وجہ سے قرآن کو ترک کر دیتا ہے اللہ اس کو ہلاک اور برباد کرتا ہے اور اس کی گردن توڑ کر رکھ دیتا ہے اور جو شخص قرآن کے علاوہ کسی اور چیز میں ہدایت ڈھونڈتا ہے اللہ اس کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی مضبوط ترین رسی ہے اور وہ حق تعالیٰ کو یاد دلانے والی کتاب ہے، حکمت و دانائی عطا کرنے والی ہے اور وہی سیدھا راستہ ہے اور وہ ایسی کتاب ہے کہ اس کے اتباع کے ساتھ خواہشات نفسانی حق سے ہٹا کر دوسری طرف مائل نہیں کر سکتیں۔ اس کی زبان ایسی ہی کہ اس کے ساتھ دوسری زبانیں مشابہ نہیں ہو سکتیں اور اس کے علوم سے علماء کی تفنگی نہیں بجھتی، وہ کثرت استعمال اور بار بار تکرار سے پرانا نہیں ہوتا اور اس کے عجائبات ختم نہیں ہوتے۔ قرآن ایسا کلام ہے کہ جب جناتوں نے اس کو سنا تو بلا توقف کہا کہ ہم نے ایک عجیب و غریب قرآن سنا ہے جو ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے، لہذا ہم اس پر ایمان لے آئے جو قرآن کے مطابق بات کرے اس کی تصدیق کی جاتی ہے اور جو قرآن پر عمل کرے اس کو عظیم ترین ثواب دیا جاتا ہے اور جس سے قرآن کے مطابق فیصلہ کیا اس نے انصاف کیا، اور جو قرآن کریم کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے اس کو سیدھے راستے کی توفیق بخشی گئی ہے۔“

(۱) فِيهِ نَبَأُ مَا قَبْلَكُمْ:

قرآن کریم کے اندر پچھلی قوموں اور پچھلی امتوں کے اچھے برے واقعات اور احوال کا ذکر ہے، چنانچہ اس میں حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے بیٹے قابیل و ہابیل کا واقعہ، حضرت ادریس علیہ السلام کے احوال، حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے واقعات اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا واقعہ، حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ، حضرت ہود علیہ السلام اور قوم عاد کے واقعات، حضرت صالح علیہ السلام اور قوم ثمود کے واقعات، حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ، حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ، حضرت اسمعیل علیہ السلام کا واقعہ، حضرت اسحاق علیہ السلام کا واقعہ،

حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ، حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا واقعہ، حضرت یوسف علیہ السلام اور عزیز مصر کا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ، حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے احوال، حضرت موسیٰ اور خضر علیہما السلام کا واقعہ، اصحاب کہف اور ذوالقرنین کے واقعات، حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام کے واقعات، قارون و ہامان و شداد اور ظالم بادشاہوں کے واقعات، غرضیکہ ہر قوم کے ہر قسم کے اچھے برے بے شمار واقعات قرآن مجید میں موجود ہیں، جن کو پڑھ کر اور سن کر لوگ عبرت حاصل کر سکتے ہیں۔ کہیں مسلمانوں اور کفار کے واقعات اور اپنی قدرت کاملہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ﴾ (سورۃ النور: آیت ۳۴)

ترجمہ: ”بے شک اس میں بصیرت والوں کے لیے بڑی عبرت کی بات ہے۔“  
اور کہیں حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے واقعات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

﴿لَقَدْ كَانَ فِي قَصصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ (سورۃ یوسف: ۱۱۱)

ترجمہ: ”یقیناً ان کے واقعات اور قصوں میں عقل مند لوگوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔“  
اور کہیں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَى﴾ (سورۃ التازعات: آیت ۲۶)

ترجمہ: ”یقیناً اس میں ڈرنے والوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔“

(۲) وَخَبِّرُوا مَا بَعْدَكُمْ:

اور قرآن کریم کے اندر تمہارے بعد پیش آنے والے واقعات قیامت کی علامات اور قیامت کے احوال کا ذکر ہے، حساب و کتاب، جنت و جہنم کے احوال کا ذکر ہے۔ ان سے عبرت حاصل کر کے اپنے اعمال درست کرنے کی ضرورت ہے۔

(۳) وَحُكْمَ مَا بَيْنَكُمْ:

قرآن کریم کے اندر تمہارے آپس کے معاملات کے طے کرنے اور فیصلہ کرنے کا حکم موجود ہے۔ پورے قرآن کریم میں ۶۶۶۶ آیتیں ہیں، ان میں ۵۰۰ آیتیں احکام اور فیصلوں سے متعلق ہیں۔ بعض علماء نے ان پانچ سو آیتوں کی الگ سے بھی تفسیر لکھی ہے جیسا کہ بادشاہ عالمگیر کے استاذ حضرت ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ کی ”تفسیرات احمدیہ“ ہے اور ان ۵۰۰ کے علاوہ ۶۶۶۶ آیتوں میں کھلی اُمتوں کے احوال و واقعات، قیامت، حساب و کتاب، جنت اور جہنم کے وعدے اور وعید کی باتیں ہیں جن سے انسان عبرت حاصل کر کے اپنی زندگی کو سنوارے۔

(۴) وَهُوَ الْفَصْلُ:

قرآن کریم حق و باطل کے درمیان فیصلہ اور امتیاز پیدا کرنے والی کتاب ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الطارق میں ﴿إِنَّكَ لَقَوْلُ فَصْلٍ﴾ (سورۃ الطارق: آیت ۱۳) سے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم حق و باطل اور صدق و کذب کے درمیان دو ٹوک فیصلہ ہے۔

(۵) لَيْسَ بِالْهَزْلِ:

قرآن کریم میں مذاق، لغو اور لالچ نہیں ہیں، بلکہ جو کچھ قرآن نے کہا ہے وہ حق ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الطارق میں ﴿وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ﴾ (سورۃ الطارق: آیت ۱۳) سے ارشاد فرمایا ہے۔

(۶) مَنْ تَرَسَّكَ مِنْ جِبَارٍ قَصَمَهُ اللَّهُ:

جو شخص قرآن کریم کو غرور و فخر سے چھوڑ دیتا ہے نہ اس پر ایمان لاتا ہے اور نہ اس کی ہدایت پر عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسوں کو ہلاکت و تباہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور اس کی گردن توڑ کر رکھ دیتا ہے اور اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ وہ شیطان کا ساتھی بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ شیطان کو اس کے اوپر مسلط کر دیتا ہے پھر وہ اس سے چھٹکارا نہیں پاتا۔ ایسے لوگوں کی عقلیں مسخ ہو جاتی ہیں، انہیں نیکی اور بدی کی تمیز بھی باقی نہیں رہتی اس کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الزخرف میں ان الفاظ کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے:

﴿وَمَنْ يَعِشْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نَقِيضٌ لَهُ شَيْطَانًا فُؤُو لَهُ قَرِينٌ﴾ (سورۃ الزخرف: آیت ۳۶)

ترجمہ: ”اور جو شخص اللہ کے ذکر اور اس کی یاد سے آنکھیں چرائے اس پر ہم ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں پھر وہی شیطان اس کا ساتھی بنا رہتا ہے یعنی وہی اس کا استاذ ہے جو وہ کہے گا وہی کرے گا۔“

(۷) وَمَنْ ابْتَغَى الْهُدَىٰ فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ:

اور جو شخص قرآن کو چھوڑ کر دوسری چیز سے ہدایت طلب کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے وہ ہدایت پر قائم نہیں رہ سکتا اس کی ایک زندہ مثال دنیا کے سامنے یہ بھی ہے کہ انسانوں کا ایک بڑا طبقہ بزرگوں کے مزارات پر جا کر مرادیں مانگتا ہے وہاں پیشانی ٹیکتا ہے اور بہت سے اوباشوں نے فرضی مزارات بنا لیے اور اسی کو اپنا روزگار بنا بیٹھے، اور یہ طبقہ اپنی گمراہی سے وہاں بھی پھنستا ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر وہاں کچھ دیئے بغیر گزرے تو راستہ میں کچھ واقعات پیش آسکتے ہیں، گاڑی میں خرابی آسکتی ہے۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ”بَابُ صِفَةِ إِبْلِيسَ وَجُنُودِهِ“ کے نام سے ایک باب قائم فرمایا ہے جس میں انسان، شیطان اور اس کے پیلوں کا بھی ذکر ہے۔ جو بخاری شریف، کتاب ”بَدَأُ الْخَلْقِ“ (۳۶۲/۱) میں موجود ہے۔

(۸) وَهُوَ جَبَلُ اللَّهِ الْمَتِينُ:

قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی ایک مضبوط ترین رسی ہے اللہ اور بندوں کے درمیان ایک مضبوط ترین تعلق اور جوڑ پیدا کرنے کی چیز ہے اور قرآن کے ذریعے سے ہی انسان اللہ تعالیٰ کی مرضی حاصل کر سکتا ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان الفاظ سے ارشاد فرمایا ہے:

﴿وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ (سورۃ آل عمران: ۱۰۳)

ترجمہ: ”اللہ کی رسی کو تم سب مل کر ایک ساتھ مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو۔“

(۹) قَهُوَالَّذِي ذُكِرَ الْحَكِيمُ:

وہی حق تعالیٰ کو یاد کرنے کا ذریعہ ہے جو حکمت و دانائی کا اہل بنا تا ہے، اس میں اچھی نصیحتیں ہیں اسی کو اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے:

﴿وَذُكِرْنَا لِلَّذِي ذُكِرَ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ (سورۃ الذاریات: آیت ۵۵)

ترجمہ: ”آپ مؤمنین کو اچھی نصیحتوں سے اللہ کی یاد دہانی کراتے رہا کریں، اس سے مؤمنین کو دینی فائدہ پہنچتا رہے گا۔“

(۱۰) وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ:

قرآن کریم انسان کو سیدھے راستہ اور اعتدال پر قائم رکھتا ہے اور افراط و تفریط سے محفوظ رکھتا ہے، اور صراطِ مستقیم کی جناب رسول

اللہ نے ایک مثال پیش فرمائی کہ ایک لباخط کھینچا، اس کے دائیں اور بائیں طرف سارے خطوط کھینچے اور فرمایا یہ سب کے سب گمراہی اور شیطان کے راستے ہیں جو ان میں پڑے گا گمراہی میں مبتلا ہو جائے گا، اور جو ان سے بچے گا وہ سیدھے راستے پر قائم رہے گا اور جو لباخط کھینچا ہے اس کے بارے میں فرمایا یہ صراطِ مستقیم ہے اسی پر تمہیں قائم رہنا ہے اور بعض روایات میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ صراطِ مستقیم وہی ہے جو قرآن وحدیث کے مطابق ہے اسی پر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم خلفائے راشدین، ائمہ مجتہدین ثابت قدمی سے چلے آ رہے ہیں اور اسی کی بقاء اور اسی کی تبلیغ کے لیے مدارس اسلامیہ کا قیام ہوا ہے اور ان مدارس کے اندر قرآن وحدیث اور فقہ کی جو تعلیم دی جاتی ہے وہ صراطِ مستقیم کے مطابق ہے۔

(۱۱) وَهُوَ الَّذِي لَا يُزِيغُ بِهِ الْأَهْوَاءُ:

جو شخص قرآن کی تعلیمات پر قائم رہے گا تو چاہے کتنی ہی خواہشات اسے ستائیں اور کتنی ہی گمراہی کی باتیں اسے راستے سے ہٹا کر ٹیڑھا کرنے کی کوشش کریں، شیطان اور گمراہ لوگ اسے اپنے راستے پر لے جانے کی کوشش کریں تو قرآن اسے ادھر جانے اور ٹیڑھا ہونے نہیں دے گا۔ جب بھی وہ ٹیڑھا چلنا چاہے گا اور لائن سے ہٹنا چاہے گا، قرآن اسے سیدھا کر دے گا اور لائن سے نیچے اترنے نہیں دے گا۔ ہر طرف سے دائیں بائیں کے سارے راستے جام کر دیتا ہے، مجبوراً سیدھے راستے پر قائم رہے گا۔

(۱۲) وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الْأَلْسِنَةُ:

دنیا کی کوئی زبان قرآن کی زبان کے مشابہ نہیں ہے۔ اہل عرب اگرچہ عربی بولتے ہیں مگر قرآن کے لہجے اور قرآن کے محاورے اور قرآن کی فصاحت و بلاغت اور قرآن کے طرز و سلامت میں سے ان کی زبان کسی بھی چیز کے مشابہ نہیں ہے۔ وہ اپنی گفتگو میں قرآن کی ایک آیت کے مشابہ بھی کوئی جملہ نہیں نکال سکتے۔ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو وہ عرب کے بڑے بڑے شعراء اور خطباء اور اباء کا دور تھا انہوں نے بڑی کوشش کی کہ قرآن کی چھوٹی سے چھوٹی ایک آیت کے مشابہ کوئی جملہ بنا کر پیش کر دیں، مگر سب نے اس سے عاجز آ کر گھٹنے ٹیک دیئے اور سمجھ لیا کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا اس لیے کوئی بھی زبان قرآن کے مشابہ نہیں ہو سکتی۔

(۱۳) وَلَا تَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ:

اور قرآن کریم کے علوم سے علماء کے پیٹ کبھی نہیں بھرتے۔ قرآن کریم میں جتنا غور کرتے جاؤ اس کے اسرار و رموز بڑھتے جاتے ہیں تو ان کی تشنگی بھی بڑھتی جاتی ہے، وہ کبھی آسودہ نہیں ہوتے۔ آج پندرہ سو سال سے علماء قرآن کریم کے اسرار و رموز پر اور اس کے مطالب کی گہرائی پر غور کرتے رہے اور ہزاروں اور لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں کتابیں لکھی جا چکی ہیں مگر قرآن کے علوم اور اس کے اسرار و رموز کے ہزاروں حصہ تک بھی رسائی نہ کر سکے اور نہ ہی رسائی ہو سکتی ہے۔

علامہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے جب وہ اپنی آخری عمر میں مرض الموت میں مبتلا ہو گئے اور دست کی بیماری شروع ہو گئی اور بار بار بیت الخلاء کی ضرورت پڑ گئی جس کی وجہ سے یکسوئی سے کتابیں مطالعہ کرنے کا موقع نہیں مل رہا تھا تو اپنے تلمیذ خاص علامہ ابن لقیم رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ جب میں بیت الخلاء کے اندر داخل ہو جاؤں تو تم باہر کھڑے ہو جانا اور زور زور سے پڑھتے رہنا تاکہ میں بیٹھے بیٹھے سنتا رہوں۔ یہ وہ عالم ہیں جو اپنے زمانہ کے جِبَلُ الْعِلْمِ (علم کا پہاڑ) کہلاتے تھے۔ ان کی تصنیفات سینکڑوں کی تعداد میں ہیں انہوں نے اپنے زمانہ میں جو فتاویٰ لکھے تھے وہ اس وقت شائع ہو کر آ گئے ہیں۔ ہر جلد کئی کئی سو صفحات پر مشتمل ہے۔ ان کے فتاویٰ ۳۷ جلدوں میں شائع ہو کر آئے ہیں۔ اب اندازہ لگا لو کہ وہ کتنے بڑے عالم تھے مگر قرآن کے علوم سے سیرابی حاصل نہ کر سکے اور تشنگی ہی رہ گئے۔



(۱۴) وَلَا يَخْلُقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّيِّ

قرآن کریم بار بار دہرانے کی وجہ سے پرانا نہیں ہوتا، بلکہ تازگی بڑھتی جاتی ہے۔ دنیا کی ہر چیز کثرت استعمال سے پرانی ہو جاتی ہے مگر قرآن کریم بجائے پرانا ہونے کے اس میں تازگی آتی رہتی ہے اور ہر مرتبہ اس میں نئی چیز نظر آتی ہے۔

(۱۵) وَلَا تَنْقُضِي عَجَابِيهِ:

اور قرآن کریم کے عجائبات اور اس کے اسرار و رموز کسی طرح ختم نہیں ہو سکتے اور کوئی انسان قرآن کریم کے اسرار و حکم کی انتہا تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ لقمان میں ان الفاظ کے ساتھ ارشاد فرمایا:

﴿وَكُلُّونَا مَالِي الدُّهْنِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِمْ سَبْعَةُ اَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَتُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (سورہ لقمان: آیت ۲۷)

ترجمہ: ”اور اگر روئے زمین میں جتنے درخت ہیں ان سب کو قلم بنا دیا جائے اور سمندر کو روشنائی بنا دیا جائے اس کے بعد مزید سات سمندر کو روشنائی بنا دیا جائے تب بھی اللہ تعالیٰ کے کلمات کھل اور تمام نہیں ہو سکتے بے شک اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔“

(۱۶) هُوَ الَّذِي لَهٗ تَنْتَهَى الْجِنَّ اِذَا سَمِعَتْهُ حَتّٰى قَالُوْا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا يَهْدِيْٓ اِلَى الرُّشْدِ فَا مَنَّا بِهِ:

بخاری، مسلم اور ترمذی میں ایک ایسی حدیث ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس عبارت کے ذریعے ایک پورے واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ زمانہ اسلام سے پہلے شیاطین آسمانوں میں جا کر وہاں کی باتیں لاکر کاہنوں کو پیش کیا کرتے تھے، پھر کاہن لوگ اس میں کچھ بڑھ چڑھا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے اور کاہن لوگ جو پیشین گوئیاں کیا کرتے تھے، ان میں سے بہت سی باتیں ہو جایا کرتی تھیں۔ اس لیے کاہنوں کو غیبروں کے درجے میں مان رکھا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو مبعوث فرمایا اور قرآن کریم کے نزول کا سلسلہ شروع ہو گیا تو شیاطین پر آسمان میں جانے پر پابندی لگا دی گئی۔ جب شیاطین آسمانوں کے قریب پہنچتے تو ہاں کے حفاظتی فرشتے شہاب ثاقب یعنی آسمانی تیروں اور راکٹوں سے مار کر نیچے گرا دیتے۔ شیاطین اور جنات آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ دنیا میں کوئی نئی بات پیش آئی ہوگی جس کی وجہ سے آسمانوں میں جانے پر پابندی شروع ہو گئی ہے۔ چنانچہ جنات نے یہ فیصلہ کیا کہ پوری روئے زمین میں گشت لگایا جائے تاکہ ہم کو معلوم ہو جائے وہ کیا بات ہے جس کی وجہ سے رکاوٹ پیش آ گئی ہے۔ چنانچہ ہر ملک اور ہر صوبہ میں جنات کی ایک ٹولی نے گشت لگانا شروع کر دیا اور ادھر حجاز مقدس میں مکہ المکرمہ سے شمالی جانب مدینے کی طرف ایک مقام ہے جس کا نام عکاظ ہے۔ جاہلیت کے زمانہ میں خاص خاص ایام میں وہاں بازار لگاتا تھا اور ہر طرف سے عرب قبائل اس بازار میں خرید و فروخت کے لیے جمع ہوتے تھے۔ تو حضور اکرم ﷺ چند صحابہ کو لے کر دعوت اسلام پیش کرنے کی غرض سے عکاظ کے بازار کے لیے روانہ ہو گئے اور اس بازار میں پہنچنے سے کچھ پہلے ایک نخلستان میں آپ ﷺ نے قیام فرمایا اور وہاں رات گزار کر پھر صبح کو فجر کی نماز میں جہری قرأت شروع فرمادی تو جنات کی ایک ٹولی کا وہاں سے گزر ہوا۔ وہ جناب رسول اللہ ﷺ کی قرأت سن کر رک گئی اور کہنے لگی کہ یہی وہ چیز ہے جو ہمارے لیے رکاوٹ بن گئی ہے اور اسی وقت جنات کی اس ٹولی نے ایمان قبول کر لیا اور اپنی قوم کو جا کر کہا ﴿اِنَّ سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا يَهْدِيْٓ اِلَى الرُّشْدِ فَا مَنَّا بِهِ وَكُنْ تَشْرِكْ بِرَبِّنَا اَحَدًا﴾ کہ بے شک ہم نے ایک عجیب و غریب قرآن سنا ہے جو ہدایت کا راستہ بتاتا ہے۔ لہذا ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ اسی کو جناب رسول اللہ ﷺ نے مذکورہ جملہ میں ارشاد

فرمایا ہے۔ (بخاری شریف: ۱۰۶/۱، حدیث ۴۶۳، ۴۳۲/۲، ۴۳۱، ترمذی شریف: ۱۶۹/۲، مسلم: ۱۸۳/۱)

(۱۷) مَنْ قَالَ بِهِ صِدِّيقٍ:

جو شخص قرآن کے مطابق بات کرے گا اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا بلکہ اس کی تصدیق کی جائے گی۔

(۱۸) وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أَجْرًا:

اور جو شخص قرآن پر عمل کرے گا اس کو عظیم ترین اجر و ثواب سے مالا مال کیا جائے گا۔

(۱۹) وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدْلًا:

اور جو شخص قرآن کریم کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے گا وہ کبھی بے انصافی نہیں کر سکتا بلکہ حق کے مطابق عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا۔

(۲۰) وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هُدًى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ:

اور جو شخص لوگوں کو قرآن پر ایمان اور اس کے احکام پر عمل کی دعوت دیتا ہے تو خود اسے صراطِ مستقیم پر چلنے کی توفیق ہوتی ہے اور جن کو وہ دعوت دیتا ہے وہ بھی صراطِ مستقیم پر چلنے لگتے ہیں۔ (مرقات: ۲۵۶-۲۵۷)

(۲۹) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فقیر کو مال بھی دیتی تھیں اور دعا بھی

ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس جب کوئی سائل آتا اور دعائیں دیتا جیسا کہ سابقین کا طریق ہے تو ام المومنین بھی اس فقیر کو دعائیں دیتیں اور بعد میں کچھ خیرات دیتیں کسی نے کہا اے ام المومنین! آپ سائل کو صدقہ بھی دیتی ہو اور جس طرح وہ آپ کو دعا دیتا ہے اسی طرح آپ بھی دعا دیتی ہو۔ فرمایا کہ اگر میں اس کو دعائے دوں اور فقط صدقہ دوں تو اس کا احسان مجھ پر زیادہ رہے اس لیے کہ دعا صدقے سے کہیں بہتر ہے اس لیے دعا کی مکافات دعا سے کرتی ہوں تاکہ میرا صدقہ خالص رہے کسی احسان کے مقابلہ میں نہ ہو۔

(۳۰) عورتوں کی کمزوری

جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب معراج شریف جانا ہوا تو وہاں جنت و جہنم کی بھی سیر کی تو دیکھا کہ جہنم کے عذاب میں جو لوگ مبتلا ہیں ان میں اکثر عورتیں ہیں اور آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں میں دو خامیاں بہت کثرت سے پائی جاتی ہیں جن کی وجہ سے جہنم میں جانا ہوگا۔

لعنت کا جملہ کثرت سے زبان پر جاری ہوتا:

جہنم میں جانے کا ایک سبب یہ ہے کہ عورتیں بہت معمولی معمولی باتوں پر زبان سے لعنت کا جملہ نکالا کرتی ہیں۔ مثلاً دودھ پیتے پچے سے بھی اگر کوئی بات مزاج کے خلاف صادر ہو جائے تو اس سے بھی کہہ دیتی ہیں کہ تو مرنا کیوں نہیں۔ اور جملہ لعنت کا حال یہ ہے کہ زبان سے نکلنے کے بعد وہ کبھی بے کار نہیں جاتا بلکہ ضرور اپنا اثر دکھا دیتا ہے۔ جس پر لعنت کی جاتی ہے اگر وہ واقعی مستحق لعنت ہے تو اس پر پڑ جائے گی اور اگر وہ مستحق نہیں ہے تو جس نے لعنت کی ہے اس پر آ کر گرتی ہے۔ حدیث شریف ملاحظہ فرمائیے۔

”عَنْ نَبِيِّ قَدْرَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَرْمِي رَجُلٌ رَجُلًا بِالْفُسُوقِ وَلَا يَرْمِيهِ

بِالْكَفْرِ إِلَّا لَوَدِدْتُ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبَهُ كَذَلِكَ۔“ (بخاری شریف: ۸۹۳/۲، حدیث: ۵۸۱۰، مستدھام احمد بن حنبل: ۱۸۱/۵) ترجمہ: ”حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے آپ ﷺ کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ ”کوئی آدمی دوسرے آدمی پر فسق و فجور کا الزام نہیں لگا تا اور نہ ہی کفر کی لعنت کرتا ہے۔ مگر وہ لعنت اس کی طرف لوٹتی ہے اگر اس کا ساتھی ایسا نہیں ہے۔“

اپنے شوہر کی ناشکری کرنا:

اکثر جنم میں جانے کا دوسرا سبب یہ ہے کہ شوہر کی ذرا سی بات اپنے مزاج کے خلاف ہو یا شوہر کوئی مطالبہ اس کی مرضی کے مطابق پورا نہ کرے تو پچھلے تمام احسانات پر ایک جملہ سے پانی پھیر دیتی ہے کہ اس مرد نے کبھی میرا حق ادا نہیں کیا، اس مرد نے تو ہمیشہ مجھے ذلیل ہی کیا ہے، میں نے تو کبھی اس میں کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ بس میں ہی ہوں جو اس کے پاس باندی بن کر رہ رہی ہوں وغیرہ وغیرہ یہ سب ایسے جملے ہیں جو شوہر کی زندگی بھر کے احسانات کو فراموش کر دینے والے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو کسی طرح پسند نہیں ہے۔ حدیث پاک ملاحظہ فرمائیے۔

”عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرَيْتُ النَّارَ فَإِذَا أَكْثَرُ نَهْلِهَا النِّسَاءُ يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ وَكُوَأْحَسَّتْ لِي إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ لَمْ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ۔“

ترجمہ: ”حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ آپ ﷺ کا ارشاد ہے کہ ”مجھے جنم دکھائی گئی تو دیکھا کہ اس میں اکثر ایسی عورتیں ہیں جنہوں نے شوہروں کی ناشکری کی، اور ان کے احسانات کو فراموش کر دیا تھا اور اگر تم ان میں سے کسی پر احسان کرو، پھر تم سے کوئی بات خلاف مزاج دیکھ لے تو کہہ دے گی کہ میں نے تو کبھی بھی تم سے کوئی خیر اور بھلائی نہیں دیکھی۔“

(بخاری شریف: ۹/۱، حدیث: ۱۳۳/۱، حدیث: ۱۰۴۲/۲، حدیث: ۸۲/۲، حدیث: ۵۰۰۲)

### (۳۱) عورتوں میں آپ ﷺ کا وعظ

ایک دفعہ آپ ﷺ عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نماز سے فراغت کے بعد عورتوں میں وعظ کے لیے تشریف لے گئے، اس زمانہ میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی۔ اس لیے شوکت اسلام کے مظاہرہ کی غرض سے ہر قسم کی عورتوں کو بھی عید گاہ لے جایا کرتے تھے حتیٰ کہ حیض و نفاس والی عورتوں کو بھی لے جایا کرتے تھے جن کے لیے نماز میں شرکت جائز نہیں ہے اور عورتوں کے لیے بالکل الگ انتظام ہوتا ہے۔ بہر حال آنحضرت ﷺ نے جہاں عورتوں کا نظم تھا وہاں تشریف لے جا کر ایک وعظ فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے۔

”اے خواتین کی جماعت! میں نے تم میں سے اکثروں کو جنم میں دیکھا ہے اور جنم سے حفاظت کا ذریعہ یہی ہے کہ تم کثرت سے صدقہ و خیرات کرو اور استغفار کرو اس لیے کہ استغفار اور صدقہ تمہارے اور جنم کے درمیان دیوار کی طرح حامل بن جائیں گے۔“

جب آپ ﷺ نے یہ ارشاد فرمایا تو ایک نہایت سمجھدار اور ہوشیار قسم کی عورت نے کھڑے ہو کر آپ ﷺ سے سوال کرنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ! کیا بات ہے کہ ہم میں سے اکثر جنم میں ہوں گی؟ تو اس پر آپ ﷺ نے جواب دیا کہ ”دو خرابیوں کی وجہ سے جو تمہارے اندر پائی جاتی ہیں:

① تم کثرت کے ساتھ بات بات پر لعنت کرتی ہو۔ اگر چھوٹے معصوم بچے سے بھی کوئی بات مزاج کے خلاف صادر ہو جائے تو کہہ دیتی ہو کہ تو مرنا کیوں نہیں؟ ایسی اولاد کی ضرورت نہیں وغیرہ وغیرہ۔

② تم شوہروں کی ناشکری کرتی ہو اگر مرضی کے مطابق پوری نہ کرے یا کوئی مطالبہ پورا نہ کرے تو کہہ دیتی ہو کہ اس شوہر سے کبھی کوئی خیر اور بھلائی نہیں دیکھی یہ دونوں باتیں اللہ تعالیٰ کو قطعاً پسند نہیں اس لیے خواتین اسلام! اس کی کوشش کرو کہ یہ دونوں باتیں اپنے

پھر آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”من جانب اللہ تمہارے اندر دو نقص ہیں: ایک تمہارے اندر عقل کی کمی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرمایا کہ دو عورتوں کی شہادت ایک مرد کی شہادت کے برابر ہے۔ یہ عقل کی کمی کی وجہ سے ہے۔ دوسری دین کی کمی ہے وہ یہ ہے کہ ہر مہینے میں چند روز ایسے گزارتی ہو کہ ان ایام میں نہ روزہ رکھ سکتی ہو اور نہ ہی نماز پڑھ سکتی ہو۔ نماز روزہ سے محروم ہو جانا دین کی کمی ہے۔ نیز آپ ﷺ نے فرمایا کہ عقل و دین کی کمی کے باوجود تمہارے اندر ایک مہارت ایسی ہے کہ جو کسی میں نہیں ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ شوہر کتنا ہی ہوشیار اور مجھدار کیوں نہ ہو مگر تم ایک جملہ میں اس کی عقل اڑا کر رکھ دیتی ہو جس سے وہ ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے۔

آپ ﷺ کی اس تقریر کے بعد عورتوں میں سے کسی نے اپنے گلے کا ہار، کسی نے ہاتھ کا نگین، کسی نے پازیب، کسی نے کان کے بندے، غرضیکہ جس کے پاس جو تھا نکال کر دینا شروع کر دیا اور حضرت بلال رضی اللہ عنہما ایک تھیلے میں بھرنے لگے۔ اس حدیث شریف سے دینی کام کے لیے چند کرنا حضور ﷺ سے ثابت ہے۔ حدیث شریف ملاحظہ فرمائیے:

”عَنْ أَبِي سَعِيدٍ بْنِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمُصَلَّى فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَكَلَّمَ يَامَعْشَرَ النِّسَاءِ اتَّصَدَقْنَ، فَإِنِّي أُرِيدُكُمْ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ قُلْنَ بَرَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْ قَالَ تُكْفِرْنَ اللَّعْنُ وَتُكْفِرْنَ الْعَشِيرَ مَا رَأَيْتُ مِنْ نَقِصَاتٍ عَقْلٍ وَبَيْنَ لُذْبٍ لِلْبُرْجُلِ الْحَاظِرِ مِنْ إِحْدَاكُمْ قُلْنَ وَمَا نَقِصَاتُ بَيْنَنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ شَهَادَةِ الرَّجُلِ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكَ مِنْ نَقِصَاتِ عَقْلِنَا قَالَ أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُعْصَلْ وَكَمْ تَصُومُ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكَ مِنْ نَقِصَاتِ بَيْنِنَا“

ترجمہ: ”حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ آپ ﷺ عید الاضحی یا عید الفطر میں عید کا تشریف لے گئے پھر عورتوں میں تشریف لے گئے تو فرمایا: ”اے عورتوں کی جماعت! تم کثرت سے صدقہ کرو اس لیے کہ میں نے تم میں سے اکثر کو جہنم میں دیکھا ہے۔“ تو عورتوں نے کہا یا رسول اللہ! ایسا کیوں؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ: ”تم کثرت سے لعنت کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ دین اور عقل کی کمی کے باوجود عقل مند ہوشیار آدمی کی کھوپڑی کو اڑا کر رکھ دینے والا تم جیسا کسی کو نہیں دیکھا“ تو عورتوں نے کہا ہماری عقل اور دین کی کمی کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا ”کیا ایک عورت کی شہادت ایک مرد کی نصف شہادت کے برابر نہیں ہے؟ یہ ان کی عقل کی کمی کی وجہ سے ہے۔ نیز آپ ﷺ نے فرمایا: کیا عورت جب ماہواری کی حالت میں ہوتی ہے تو نہ نماز پڑھتی ہے اور نہ ہی روزہ رکھتی ہے؟ عورتوں نے کہا کہ جی ہاں۔ آپ ﷺ نے فرمایا ”یہی ان کے دین کی کمی ہے۔“ (بخاری شریف، ۳۳۱۱، حدیث ۳۰۲، مسلم شریف ۲۰۱۱)

### (۳۲) میاں بیوی رفق بنیں، فریق نہیں

دنیا نے انسانیت کی بقاء اور نسل انسانی کا وجود مرد و عورت کے باہمی ارتباط و تعلق سے ہے۔ یہ تعلق جس قدر گہرا اور محبت و الفت سے لبریز ہوگا اسی قدر اس کا نتیجہ بھی بہتر اور نفع بخش ہوگا۔ انسان کی فطرت اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ جب اسے کسی چیز سے محبت اور انس ہوتا ہے تو اس کے دیکھنے اور اس کے پاس رہنے سے راحت اور سکون محسوس کرتا ہے، اور جس چیز سے طبعی طور پر نفرت ہوتی ہے اس سے اس ٹھٹھن اور تکلیف کا احساس ہوتا ہے چونکہ اللہ رب العزت کو دنیا کا نظام اور نسل انسانی کا وجود قیامت تک باقی رکھنا مقصود ہے اس لیے مرد کے اندر عورت کی طرف رغبت و خواہش اور عورت کے اندر مرد کی طرف طبعی میلان و دلچسپی فرمادیا ہے، چنانچہ انسانی زندگی میں ایک ایسا وقت آتا ہے جب مرد و عورت دونوں ایک دوسرے کے سخت محتاج ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کی ضرورت بن جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے

اپنی آخری کتاب قرآن کریم میں اس ضرورت کو نہایت لطیف پیرایہ میں بیان فرمایا ہے، اگر ہم صرف اس پر غور کریں اور اس کے مطالبات کو پورا کرنے کی کوشش کریں تو انشاء اللہ ہماری ازدواجی زندگی اتنی ہی خوشگوار اور اطمینان بخش ہوگی جو ہمارا مطلوب و مقصود ہے۔

اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتا ہے ”وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔“ یہاں اللہ رب العزت نے ایک دوسرے کی احتیاج اور ضرورت کو لباس سے تعبیر کیا ہے اور فرمایا ہے کہ جس طرح انسان کو ہر موسم میں کپڑے کی ضرورت ہوتی ہے اور اس سے زیب و زینت اختیار کرتا ہے، اسی طرح مرد و عورت کو ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے اور کوئی بھی ایک دوسرے سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اس لیے چاہیے کہ دونوں ایک دوسرے کی ضرورت بن کر زندگی گزاریں نہ کہ ایک دوسرے سے بے نیاز ہو کر۔

قرآن کریم کی اس آیت سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جس طرح لباس انسان کے جسم سے جدا نہیں ہوتا وہ پوری زندگی اس کو لباس کی احتیاج ہوتی ہے اسی طرح ایک عورت کو اپنے شوہر کے ساتھ اور شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ دوستانہ تعلق قائم رکھنا چاہیے اس انداز فکر سے ایک دوسرے کی کمی کو نظر انداز کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ محبت کی آنکھیں عیب کو چھپاتی ہیں اور چشم پوشی کرتی ہیں۔ جبکہ نفرت و عداوت کی آنکھیں برائیوں کو تلاش کرتی ہیں اور اس کو ظاہر کرتی ہیں۔ لہذا فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے زوجین کے دل میں ایک دوسرے سے محبت اور جذبہ رحمت پیدا فرمایا تاکہ ان کی زندگی خوشگوار ہو۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مرد کو خواہ مخواہ عورت کی عیب جوئی اور ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اس کی کوئی عادت بری ہے تو اسے ناپسند ہے تو دوسری عادت اور خصلت اچھی بھی ہوگی جو اسے خوش کر دے گی۔“ (مسلم)

ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ”عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے۔ اگر تم اسے سیدھی کرنا چاہو گے تو اسے توڑ ڈالو گے لہذا اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو تو اچھی زندگی گزرے گی۔“ (ابن حبان)

معلوم ہوا کہ عورت کے ساتھ رفاقت کے لیے ضروری ہے کہ اس کی کمزوریوں کو نظر انداز کیا جائے اس کو زیادہ سخت سست نہ کہا جائے اور اس کے ساتھ خوشگوار زندگی گزارنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے۔ اگر اس نیت اور ارادہ سے اس کے ساتھ معاملہ کریں گے تو انشاء اللہ ازدواجی زندگی ہمیشہ خوشگوار ہوگی۔ قرآن کی اس آیت میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ جس طرح لباس انسان کے ظاہری عیوب کی پردہ پوشی کرتا ہے مرد و عورت بھی ایک دوسرے کے لیے لباس کے مانند ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ ایک دوسرے کی پردہ پوشی کریں۔ اگر ایک طرف اللہ اور اس کے پیارے رسول اللہ ﷺ نے مردوں کو تاکید کی ہے کہ وہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور ان کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آئیں تو اس کے ساتھ عورتوں کے لیے بھی کچھ فرائض مقرر فرمائے ہیں۔

### (۳۳) پڑوسی کے شر سے بچنے کا نبوی نسخہ

حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ! میرا پڑوسی مجھے اتنا ستاتا ہے کہ اس نے میری زندگی تلخ کر دی۔ میں نے خوشامدیں کر لیں، سب کچھ کر لیا، مگر ایسا موذی ہے کہ رات دن مجھے ایذا پہنچاتا ہے۔ یا رسول اللہ! میں کیا کروں میں تو عاجز آ گیا۔ فرمایا: ”میں تمہیں بتلاتا ہوں، وہ یہ کہ سارا سامان گھر سے نکال کر سڑک پر رکھ دے اور سامان کے اوپر بیٹھ جا اور جو آ کر پوچھے کہ بھائی گھر کے ہوتے ہوئے سڑک پر کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ کہنا کہ پڑوسی ستاتا ہے۔ اللہ کے رسول اللہ ﷺ نے کہا کہ بھائی گھر چھوڑ دو، اس واسطے میں نے چھوڑ دیا۔“ چنانچہ لوگ آئے پوچھا کہ بھئی! گھر کیوں چھوڑ دیا گھر موجود ہے۔ سامان یہاں کیوں ہے؟ اس نے کہا جی کیا کروں، پڑوسی نے ستانے میں انتہا کر دی۔ اللہ کے رسول اللہ ﷺ نے کہا کہ ابھی گھر چھوڑ دے۔ تو جو سنے وہ کہے لعنت اس پڑوسی کے اوپر، جو آ رہا ہے، واقعہ سن رہا ہے لعنت لعنت کرتا ہے۔ مدینہ میں صبح سے شام تک ہزاروں لعنتیں اس پر ہوئیں۔

لعنتوں کی سیخ پڑھی جائے گی۔

وہ پڑوسی موذی عاجز آیا اس نے آ کے ہاتھ جوڑے اور کہا خدا کے واسطے گھر چل میری زندگی تو تباہ و برباد ہوگئی، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ عمر بھر اب کبھی نہیں ستاؤں گا بلکہ تیری خدمت کروں گا۔ اب انہوں نے نخرے کرنے شروع کر دیئے کہ بتا پھر تو نہیں ستائے گا؟ اس نے کہا حلف اٹھاتا ہوں کبھی نہیں ستاؤں گا۔ الغرض اسے گھر میں لایا سارا سامان خود رکھا اور روزانہ ایذا پہنچانے کے بجائے خدمت شروع کر دی۔

تو تدبیر کار گر ہوئی حضور ﷺ نے یہ تدبیر عقل سے بتلائی تھی۔ وحی کے ذریعہ سے نہیں۔ تو پیغمبر عقل مند بھی اتنے ہوتے ہیں کہ ان کی عقل کے سامنے دنیا کی عقل گرد ہوتی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عقل اللہ سے تعلق قوی ہونے کا نام ہے اللہ سے تعلق ہوگا تو دل کا راستہ سیدھا ہوگا۔ عقلمندی یہی ہے کہ اخیر تک کی بات آدمی کو سیدھی نظر آجائے۔ وہ بغیر تعلق مع اللہ کے نہیں ہوتی۔ تعلق اللہ سے نہ رہے پھر آدمی عقل مند بنے وہ عقل نہیں چالاکی و عیاری ہوتی ہے۔ عیاری اور چیز ہے، عقلمندی اور چیز ہے۔ چالاکی میں دھوکہ دہی ہوتی ہے۔ دھوکہ دہی سے اپنی غرض پوری کی جاتی ہے۔ عقل میں کسی کو دھوکہ نہیں دیا جاتا سیدھی بات تدبیر سے انجام دی جاتی ہے تو انبیاء علیہم السلام کی نسبت اللہ سے کس کا تعلق زیادہ مضبوط ہو سکتا ہے؟ تو ان سے زیادہ عقل بھی کسی کی کامل ہو سکتی ہے؟ (اس حدیث کا مضمون دیکھیے تفسیر ابن کثیر: جلد ۱ صفحہ ۶۵۹)

(۳۳) صرف آنکھیں ہی اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل بھی اندھا ہوتا ہے

﴿ اَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْاَرْضِ فَكُنُوْنَ لَهُمْ قُلُوْبٌ يَعْقِلُوْنَ بِهَا اَوْ اٰذَانٌ يَّسْمَعُوْنَ بِهَا فَاِنَّهَا لَا تَعْمَى الْاَبْصَارُ وَّلٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوْبُ الَّتِي فِي الصُّدُوْرِ ﴾ (سورہ حج: آیت ۴۶، پارہ ۱۷)

ترجمہ: ”کیا انہوں نے زمین میں سیر و سیاحت نہیں کی جو ان کے دل ان باتوں کو سمجھنے والے ہوتے یا کانوں سے ہی ان واقعات کو سن لیتے بات یہ ہے کہ صرف آنکھیں ہی اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔“

تشریح: ”سلف سے منقول ہے کہ فرعون کے خدائی دعوے اور خدا کی پکڑ کے درمیان چالیس سال کا عرصہ تھا۔ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر ظالم کو ڈھیل دیتا ہے پھر جب پکڑتا ہے تو چھٹکارا نہیں۔ پھر آپ ﷺ نے آیت ﴿وَكَذٰلِكَ اَخَذْنَا مِنْكَ اِذَا آخَذَ الْاَرْضِ وَهِيَ ظَالِمَةٌ اِنَّ اَخَذْنَا اِلَيْهِمْ شَدِيْدًا﴾ (سورہ ہود: آیت ۱۰۲) پڑھی۔

پھر فرمایا کہ کئی ایک بستیوں والے ظالموں کو جنہوں نے رسولوں کی تکذیب کی تھی ہم نے عارت کر دیا جن کے عملات کھنڈ بنے پڑے ہیں، اوندھے گرے ہوئے ہیں ان کی منزلیں ویران ہو گئیں ان کی آبادیاں اجڑ گئیں ان کے کنویں خالی پڑے ہیں، جو کل تک آباد تھے آج خالی ہیں ان کے چونچ گچ محل جو دور سے سفید چمکتے ہوئے دکھائی دیتے تھے جو بلند و بالا اور پختہ تھے وہ آج اجڑے پڑے ہیں وہاں الو بول رہا ہے ان کی مضبوطی انہیں نہ بچا سکی ان کی خوبصورتی اور پائیداری بے کار ثابت ہوئی رب کے عذاب نے انہیں تہس نہس کر دیا جیسے فرمایا ہے: ﴿اِنَّ مَتَّكُوْنَ اَوْبَدُكُمْ اَمُوْتُ وَاَنْتُمْ كُنْتُمْ فِيْ بُرُوْجٍ مُّشِيْدًا﴾ (سورہ النساء: آیت ۷۸) یعنی گو تم چونچ گچ کے قلعوں میں محفوظ ہو لیکن موت وہاں بھی تمہیں چھوڑنے کی نہیں۔ کیا وہ خود زمین میں چلے پھرے نہیں؟ نہ ہی کبھی غور و فکر کیا کہ کچھ عبرت حاصل ہوئی۔

امام ابن ابی الدنیا رحمۃ اللہ علیہ، کتاب التفکر والا اعتبار میں روایت لائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ اے موسیٰ! لوہے کی لعلین بہن کر لوہے کی لکڑی لے کر زمین میں چل پھر کر آثار و عبرت کو دیکھو وہ ختم نہ ہوں گی یہاں تک کہ تیری لوہے کی جوتیاں کڑے کڑے ہو جائیں اور لوہے کی لکڑی بھی ٹوٹ پھوٹ جائے۔

اس کتاب میں بعض دانشمندیوں کا قول ہے کہ وعظ کے ساتھ اپنے دل کو زندہ کر، اور غور و فکر کے ساتھ اسے نورانی کر، اور زہد اور دنیا

سے بچنے کے ساتھ اسے مار دے اور یقین کے ساتھ اسے قوی کر لے، اور موت کے ذکر سے اسے ذلیل کر دے، اور فنا کے یقین سے اسے صبر دے، دنیا کی مصیبتیں اس کے سامنے رکھ کر اس کی آنکھیں کھول دے، زمانہ کی تنگی اسے دکھا کر اسے دہشت ناک بنا دے، دنوں کے الٹ پھیر سمجھا کر اسے بیدار کر دے، گزشتہ واقعات سے اسے عبرت ناک بنا، اگلوں کے قصے سنا کر ہوشیار رکھ، ان کے شہروں میں اور ان کے سوانح میں غور و فکر کرنے کا عادی بنا، اور دیکھ کہ گنہگاروں کے ساتھ اس کا معاملہ کیسا کچھ ہوا، کس طرح وہ لوٹ پوٹ کر دیئے گئے۔ پس یہاں بھی یہی فرمان ہے کہ اگلوں کے واقعات سامنے رکھ کر دلوں کو بھدار بناؤ، ان کی ہلاکت کے سچے فسائے سن کر عبرت حاصل کرو۔ سن لو آنکھیں ہی اندھی نہیں ہوتی بلکہ سب سے برا اندھا پادل کا ہے۔ گوا آنکھیں صحیح سالم موجود ہیں۔ دل کے اندھا پنے کی وجہ سے نہ تو عبرت حاصل ہوتی ہے نہ خیر و شر کی تمیز ہوتی ہے۔ ابو محمد ابن حیان اندلسی رحمۃ اللہ علیہ نے جن کا انتقال ۵۱۷ ہجری میں ہوا ہے اس مضمون کو اپنے چند اشعار میں خوب نبھایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں: اے وہ شخص جو گناہوں میں لذت پارہا ہے کیا اپنے بڑھاپے اور برے آپے سے بھی تو بے خبر ہے؟ اگر نصیحت اثر نہیں کرتی تو کیا دیکھنے سننے سے بھی عبرت حاصل نہیں ہوتی؟ سن لے! آنکھیں اور کان اپنا کام نہ کریں تو اتنا برا نہیں جتنا برا یہ ہے کہ واقعات سے سبق حاصل نہ کیا جائے، یاد رکھ نہ تو دنیا باقی رہے گی نہ آسمان نہ سورج نہ چاند، گوجی نہ چاہے مگر دنیا سے تم کو ایک روز بادل ناخواستہ کوچ کرنا ہی پڑے گا کیا امیر ہو کیا غریب شہری ہو کیا دیہاتی۔ (تفسیر ابن کثیر: جلد ۳ صفحہ ۴۳۰، ۴۳۱)

### (۳۵) سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہونے کا نبوی نسخہ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا حضور! جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہوں میرا جی خوش ہو جاتا ہے اور میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام چیزوں کی اصلیت سے خبردار کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ! تمام چیزیں پانی سے پیدا کی گئی ہیں۔ پھر میں نے کہا یا رسول اللہ! مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”لوگوں کو سلام کیا کرو ﴿۱﴾ کھانا کھلایا کرو ﴿۲﴾ صلہ رحمی کرتے رہو ﴿۳﴾ اور رات کو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تم تہجد کی نماز پڑھا کرو تاکہ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔“ (تفسیر ابن کثیر: جلد ۳ صفحہ ۴۷۲)

### (۳۶) لوگوں کے عیب نہ ٹٹو لو ورنہ اللہ تعالیٰ رسوا کر دے گا

حدیث شریف میں ہے بندگان خدا کو ایذا نہ دو عار نہ دلاؤ، ان کی پوشیدگیاں نہ ٹٹولو۔ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے عیب ٹٹولے گا، اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کے پیچھے پڑ جائے گا اور اسے یہاں تک رسوا کرے گا کہ اس کے گھر والے بھی اسے بری نظر سے دیکھنے لگیں گے۔ (تفسیر ابن کثیر: ۴۹۲/۳)

### (۳۷) ایک نوجوان صحابی کی حضور سے عجیب محبت

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت پر جو عادی ہے کسی پر نہیں دی۔ حضرت طلحہ بن براء رضی اللہ عنہ نے آکر کہا کہ حضور! آپ سے مجھے بہت محبت ہے جو حکم دیں کروں گا۔ فرمایا اپنی ماں کا گلا کاٹ لا۔ امتحان تھا فوراً تلوار اٹھا کر ماں کی طرف چلے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس بلا کر کہا کہ میں رشتے کاٹنے کے واسطے نہیں آیا۔ تیری محبت کا امتحان تھا تیری ماں نہیں مروانی، اس سے ذاتی تعلق مروانا ہے ماں سے ملو کہ خدا نے کہا ہے، نہ کہ اپنے ذاتی تعلق کی وجہ سے۔

اس واقعہ کے بعد حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پوچھنے آئے، تعلق والوں کو پوچھ ہوا کرتی ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ بیہوش تھے۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد فرمایا کہ یہ چل دینے والا ہے، اس کے مرنے کی اطلاع مجھے کرنا، یہ کہہ کر آپ

حضرت تشریف لے گئے۔ تشریف لے جاتے ہی انہیں ہوش آیا کہنے لگے حضور ﷺ مجھے پوچھنے نہیں آئے؟ کہا گیا آئے تھے۔ کہنے لگے جب مر جاؤں خود ہی دفن کر دینا۔ حضور ﷺ کو اس کی اطلاع نہ کرنا میرے محلے میں یہودی رہتے ہیں اگر حضور ﷺ میری وجہ سے رات یہاں تشریف لائیں تو ممکن ہے کسی یہودی سے انہیں تکلیف پہنچے۔ میرے نام پر حبیب کو ذرہ کی تکلیف برداشت نہیں ہے۔

چنانچہ انتقال ہوا۔ رشتے داروں نے نہلا دھلا کر کفن پہنا کر دفن کر دیا۔ اس زمانہ میں مرنے والوں کے رشتہ دار سبھی کلکتہ سے آنے کا انتظار کرتے ہیں اور یہاں حضور ﷺ کا بھی انتظار نہیں، مرنے اور دفن میں یوں وقت نہیں لگتا تھا، ارے وہاں تو حکم ہے کہ میت کو جلدی سے لے کر چلو اگر اچھا آدمی ہے تو اسے تاخیر کر کے اس کی نعمتوں سے کیوں محروم کر رہے ہو؟ اور اگر برا آدمی ہے پھر اسے اپنے کندھوں پر کیوں اٹھا رکھا ہے؟ جلدی اس وجہ سے کروائی کہ اس کا عذاب گھر ہی میں شروع نہ ہو جائے۔ تاریخ اس کی شاہد ہے عبید اللہ بن زیاد جس کے حکم پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے وہ قتل ہوا اس کا سر رکھا ہوا تھا، ایک اڑدھا آیا ناک میں گھس کر منہ سے نکل آیا دو مرتبہ ایسا ہی کیا۔ سلیمان (عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ سے پہلے بادشاہ) کی میت کو جب قبر میں رکھا جانے لگا میت ہلی اڑ کے نے کہا میرا باپ زندہ ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا جلدی کر دفن میں خدا کی پکڑ نے آیا ہے۔ الغرض صبح کو حضور ﷺ کو اطلاع ملی، سب معلوم ہوا قبر پر گئے دعا میں یہ بھی کہا: اے اللہ تو اس سے ایسے مل کر تو اسے دیکھ کر نہیں رہا ہو، یہ تجھے دیکھ کر نہیں رہا ہو، یہ محبت کا انعام ہے جس میں انسان کو محبوب کے علاوہ اور کچھ نہیں بھاتا محبت اگر آگئی تو سارے عمل آجائیں گے اس محبت کے واسطے اعمال پر محنت مانگی جاتی ہے۔

(خصوصی نقار حضرت جی مولانا یوسف صاحب: ص ۶۰۵، قصہ بڑا کا مضمون دیکھیے حیا الصحابہ: جلد ۲ ص ۴۳۳)

### ﴿۳۸﴾ جنت کی نعمتوں اور بکھرے موتیوں کا تذکرہ

﴿مَتَكِينِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرْبَابِ لَا يَرُونَ فِيهَا شُمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا ۖ وَدَابَّةً عَلَيْهِمْ ظِلُّهَا وَذَلَّلَتْ قُطُوفُهَا تَذَلُّلًا ۚ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِالسَّبْيِ مِنْ فِضَّةٍ وَالْكَوَابِ ۚ كَانَتْ قَوَارِيرًا ۚ قَوَارِيرًا مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا ۚ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَتْ مِرْجَاهَا زَنْجَبِيلًا ۚ عَيْنًا فِيهَا تُسْمَىٰ سُلَيْبًا ۚ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ ۖ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا ۚ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمْرًا رَأَيْتَ لَيْعِيمًا ۚ وَمَلَكًا كَبِيرًا ۚ عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ سُدُوسٌ ۖ خَضِرُوا فِيهَا وَحَلُّوا أَسَاوِدَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَمُ رِيحِهِمْ شَرَابًا طَهُورًا ۚ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيَكُمْ مَشْكُورًا﴾ (الدھر ۱۳: ۲۲ تا ۲۴)

ترجمہ: ”یہ وہاں تختوں پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھیں گے، نہ وہاں آفتاب کی گرمی دیکھیں گے نہ جاڑے کی سختی۔ ان جنتوں کے سایے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے اور ان کے میوے اور لچھے نیچے لٹکائے ہوئے ہوں گے۔ اور ان پر چاندی کے برتنوں اور ان جاموں کا دور کرایا جائے گا جو شیشے کے ہوں گے۔ شیشے بھی چاندی کے جن کو ساتی نے اندازے سے تاپ رکھا ہوگا اور انہیں وہاں وہ جام پلائے جائیں گے جن کی طوئی زنجبیل کی ہوگی جو جنت کی ایک نہر ہے جس کا نام سلبیل ہے اور ان کے ارد گرد گھومتے پھرتے ہیں وہ کم سن بچے جو ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ جب تو انہیں دیکھے تو سمجھے کہ وہ بکھرے ہوئے سچے موتی ہیں تو وہاں جہاں کہیں بھی نظر ڈالے گا سراسر نعمتیں اور عظیم الشان سلطنت ہی دیکھے گا ان کے جسموں پر سبز مہین اور موٹے ریشمی کپڑے ہوں گے اور انہیں چاندی کے ننگن کا زیور پہنایا جائے گا اور انہیں ان کا رب پاک صاف شراب پلائے گا (کہا جائے گا) یہ وہی تمہارے اعمال کا بدلہ اور تمہاری کوششوں کی قدر دانی ہے۔“

تشریح: جنتیوں کی نعمتوں اور راحتوں کا، ان کے ملک و مال اور جاہ و جمال کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہ لوگ بہ آرام تمام پورے اطمینان اور خوش دلی کے ساتھ جنت کے مرصع اور حزمین جزاؤں تختوں پر بے فکری سے بیٹھے لگائے سرور و راحت سے بیٹھے مزے لوٹ رہے



ہوں گے..... پھر ایک اور نعمت بیان ہو رہی ہے کہ وہاں نہ تو سورج کی تیز شعاعوں سے انہیں کوئی تکلیف پہنچے گی، نہ جاڑے کی بہت سرد ہوائیں انہیں ناگوار گزریں گی، بلکہ بہار کا موسم ہر وقت اور ہمیشہ رہتا ہے۔ گرمی، سردی کے جھیلوں سے الگ ہیں جتنی درختوں کی شاخیں جھوم جھوم کر ان پر سایہ کئے ہوئے ہوں گی اور میوے ان سے بالکل قریب ہوں گے، چاہے لیٹے لیٹے توڑ کر کھالیں، چاہے بیٹھے بیٹھے لے لیں، چاہے کھڑے ہو کر لے لیں، درختوں پر چڑھنے کی اور تکلیف کی کوئی ضرورت نہیں، سردوں پہ میوے دار گچھے اور لدے ہوئے لچھے لٹک رہے ہوں گے، توڑ اور کھالیا۔ اگر کھڑے تو میوے اتنے اونچے ہیں، بیٹھے تو قدرے جھک گئے، لیٹے تو اور قریب آگئے، نہ تو کانٹوں کی رکاوٹ ہے اور نہ دوری کی سردی ہے۔

حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت کی زمین چاندی کی ہے اور اس کی مٹی مشک خالص ہے، اس کے درختوں کے تنے سونے چاندی کے ہیں، ڈالیاں لؤلؤ، زبرجد اور یاقوت کی ہیں۔ ان کے درمیان پتے اور پھل ہیں جن کے توڑنے میں کوئی دقت اور مشکل نہیں چاہو بیٹھے بیٹھے توڑ لو، چاہو کھڑے کھڑے بلکہ اگر چاہیں لیٹے لیٹے۔ ایک طرف خوش خرم، خوش دل، خوبصورت باادب سلیقہ شعار، فرمانبردار خادم، قسم قسم کے کھانے، چاندی کی کشتیوں میں لگائے ہوئے کھڑے ہیں۔ دوسری جانب شراب طہور سے تھلکتے ہوئے بلوریں جام لیے ساقیان مردوش اشارے کے منتظر ہیں، یہ گلاس صفائی میں شیشے جیسے اور سفیدی میں چاندی جیسے ہوں گے۔ دراصل ہوں گے چاندی کے لیکن شیشے کی طرح شفاف ہوں گے کہ اندر کی چیز باہر سے نظر آئے گی۔ جنت کی تمام چیزوں کی یوں ہی سی برائے نام مشابہت دنیا کی چیزوں میں بھی پائی جاتی ہے لیکن ان چاندی کے بلوریں گلاسوں کی مثال نہیں ملتی پھر یہ جام نپے تلے ہوئے ہیں، ساقی کے ہاتھ میں بھی زیب دیں، ان کی تھیلیوں پر بھلے معلوم ہوں اور پینے والوں کی حسب خواہش شراب طہور اس میں سما جائے جو نہ بچے نہ گھٹے۔ ان نایاب گلاسوں میں جو پاک، خوش ذائقہ اور سرد والی بے نشے کی شراب انہیں ملے گی اور جنت کی نہر سلسبیل کے پانی سے مخلوط کر کے دی جائے گی، جیسا اوپر گزر چکا ہے کہ نہر کافور کے پانی سے مخلوط کر کے دی جائے گی تو مطلب یہ ہے کہ کبھی اس ٹھنڈک والے سرد مزاج پانی سے کبھی اس نفیس گرم مزاج انی سے تاکہ اعتدال قائم رہے یہ نیک لوگوں کا ذکر ہے اور خاص مقررین خالص اس نہر کا شربت پییں گے۔ سلسبیل بقول عکرمہ رضی اللہ عنہ جنت کے ایک چشمہ کا نام ہے کیونکہ وہ تیزی کے ساتھ مسلسل روانی سے لہریا چال بہ رہا ہے، اس کا پانی بہت ہلکا نہایت شیریں خوش ذائقہ اور خوش بو ہے جو آسانی سے پیا جائے اور سہتا پچھتا رہے۔

ان نعمتوں کے ساتھ ہی خوبصورت حسین نوخیز کم عمر لڑکے ان کی خدمت کے لیے کمر بستہ ہوں گے، یہ غلمان جتنی جس سن دسال میں ہوں گے اسی میں رہیں گے یہ نہیں کہ سن بڑھ کر صورت بگڑ جائے، یہ نفیس پوشاکیں اور بیش قیمت جڑاؤ زیور پہنے ہوئے بہ تعداد کثیر ادھر ادھر مختلف کاموں پر بٹے ہوئے ہوں گے جنہیں دوڑے بھاگے مستعدی اور چالاکی سے انجام دے رہے ہوں گے ایسا معلوم ہوگا گو یا سفید آبدار موتی ادھر ادھر جنت میں بکھرے پڑے ہیں، حقیقت میں اس سے زیادہ اچھی تشبیہ ان کے لیے کوئی اور نہ تھی کہ یہ صاحب جمال خوش خصال بوٹے سے قد والے سفید نورانی چہروں والے پاک صاف سچی ہوئی پوشاکیں پہنچے ہوئے زیور میں لدے ہوئے اپنے مالک کی فرمانبرداری میں دوڑتے بھاگتے ادھر ادھر پھرتے ایسے بھلے ہوں گے جیسے سچے سجائے پر تکلف فرش پر سفید چمکیلے موتی ادھر ادھر لڑھک رہے ہوں..... حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہر ایک جنتی کے ایک ہزار خادم ہوں گے جو مختلف کام کاج میں لگے ہوئے ہوں گے۔ پھر فرماتا ہے اے نبی! تم جنت کی جس جگہ نظر ڈالو تمہیں نعمتیں اور عظیم الشان سلطنت ہی سلطنت نظر آئے گی، تم دیکھو گے کہ راحت و سرور نعمت و نور سے چہ چہ معمور ہے۔ چنانچہ صحیح حدیث میں ہے کہ سب سے آخر میں جو جنم سے نکالا جائے گا اور جنت میں بھیجا جائے گا اس سے جناب باری تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، جا میں نے تجھے جنت میں وہ دیا جو مثل دنیا کے ہے بلکہ اس سے بھی دس حصے زیادہ دیا اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت سے وہ حدیث بھی پہلے گزر چکی ہے جس میں ہے کہ ادنیٰ جنتی کی ملکیت و ملک دو ہزار

سال کی مسافت کا ہوگا۔ ہر قریب و بعید کی چیز پر اس کی بیک نظر یکساں نکاہیں ہوں گی، یہ حال تو ہے ادنیٰ جنتی کا پھر کچھ لو کہ اعلیٰ جنتی کا درجہ کیا ہوگا؟ اور اس کی نعمتیں کیسی ہوں گی؟

اے خدا! اے بغیر ہماری دعا اور عمل کے ہمیں شیر مادر کے چشے عنایت کرنے والے! ہم یہ عاجزی و الخاح تیری پاک جناب میں عرض گزار ہیں کہ تو ہماری لپٹائی ہوئی طبیعت کے ارمانوں کو پورا کر اور ہمیں بھی جنت الفردوس نصیب فرماتا۔ گو ایسے اعمال نہ ہوں لیکن ایمان ہے تو تیری رحمت اعمال پر ہی موقوف نہیں، آمین۔ (ترجم)

طہرانی کی ایک بہت ہی غریب حدیث میں وارد ہے کہ ایک حبشی دربار رسالت میں حاضر ہوا آپ ﷺ نے اسے فرمایا تمہیں جو کچھ پوچھنا ہو جس بات کو سمجھنا ہو پوچھ لو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ! صورت شکل میں رنگ روپ میں نبوت و رسالت میں آپ ﷺ کو ہم پر فضیلت دی گئی ہے۔ اب تو یہ فرمائیے کہ اگر میں بھی ان چیزوں پر ایمان لاؤں جن پر آپ ایمان لائے ہیں اور جن پر آپ عمل کرتے ہیں اگر میں بھی اسی پر عمل کروں تو کیا جنت میں آپ کے ساتھ ہو سکتا ہوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا ”ہاں قسم ہے اس اللہ کی جس کے ہاتھ میری جان ہے کہ سیاہ رنگ لوگوں کو جنت میں وہ سفید رنگ دیا جائے گا جو ایک ہزار سال کے فاصلے سے دکھائی دے گا۔ پھر حضور نے فرمایا جو شخص لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ..... الخ کہے اس کے لیے خدا کے پاس عہد مقرر ہو جاتا ہے اور جو شخص سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ کہے اس کے لیے ایک لاکھ چوبیس ہزار نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔“ تو ایک شخص نے کہا پھر یا رسول اللہ! ہم کیسے ہلاک ہو جائیں گے؟ آپ ﷺ نے فرمایا سنو! ایک شخص اتنی نیکیاں لائے گا کہ اگر کسی بڑے پہاڑ پر رکھی جائیں تو اس پر بوجھل پڑیں لیکن پھر جو خدا کی نعمتیں اس کے مقابل آئیں گی تو قریب ہوگا کہ سب فنا ہو جائیں مگر یہ اور بات ہے کہ رحمت رب توجہ فرمائے، اس وقت یہ سورت ملنگا کبیرا ایک اتنی جنتی نے کہا کہ اے حضور! جو کچھ آپ کی آنکھیں جنت میں دیکھیں گی کیا میری آنکھیں بھی دیکھیں گی؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں ہاں۔ پس وہ رونے لگا یہاں تک کہ اس کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے مبارک ہاتھ سے اسے دفن کیا (بخاری)۔

پھر اہل جنت کے لباس کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ سبز ہرے رنگ کا مہین اور چمکدار ریشم ہوگا سُنْدُس اعلیٰ درجہ کا خالص نرم ریشم جو بدن سے لگا ہوا ہوگا لَبَسْتُمْ رَقِ عَمَدٍ مِّمَّش بَہَا كَرَامَةً رِشْمِ جَسْمِ چمک دمک ہوگی جو اوپر پہنایا جائے گا، ساتھ ہی چنادی کے کنگن ہاتھوں میں ہوں گے۔ یہ لباس ابرار کا ہے۔ اور مقررین خاص کے بارے میں اور جگہ ارشاد ہے ﴿يُحَلِّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَ لُؤْلُؤًا وَ لَبَاسًا مِّمَّهَا حَرِيرًا﴾ (سورۃ ناطر: آیت ۳۳) انہیں سونے کے کنگن ہیرے جڑے ہوئے پہنائے جائیں گے اور خالص نرم صاف ریشمی لباس ہوگا ان ظاہر جسمانی استعمالی نعمتوں کے ساتھ ہی انہیں پر کیف بالذت، سرور والی، پاک اور پاک کرنے والی شراب پلائی جائے گی جو تمام ظاہری باطنی برائی دور کرے گی حسد کینہ بد خلقی غصہ وغیرہ سب دور کر دے گی۔ جیسے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب اہل جنت، جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو انہیں دو نہریں نظر آئیں گی اور انہیں از خود خیال پیدا ہوگا، ایک کا وہ پانی پیئیں گے تو ان کے دلوں میں جو کچھ تھا سب دور ہو جائے گا۔ دوسری میں غسل کریں گے جس سے چہرے تروتازہ، ہشاش بشاش ہو جائیں گے۔ ظاہری اور باطنی دونوں خوبیاں انہیں بدرجہ کمال حاصل ہوں گی، جس کا بیان یہاں ہو رہا ہے پھر ان سے ان کے دل خوش کرنے کے لیے اور ان کی خوشی دو بالا کرنے کے لیے بار بار کہا جائے گا کہ یہ تمہارے اعمال کا بدلہ اور تمہاری بھلی کوششوں کی قدر دانی ہے جیسے وہ جگہ ہے ﴿كُلُوا وَ اشْرَبُوا وَ لَهَيْنَا مِمَّا اسْلَفْتُمْ فِي الْاَيَّامِ الْخَالِيَةِ﴾ (سورۃ اللہ: آیت ۲۳) دنیا میں جو اعمال تم نے کئے ان کی نیک جزا میں آج تم خوب سہتا چمٹا آرام و اطمینان کھاتے پیتے رہو۔ اور فرمان ہے ﴿وَنُودَعَا اَنْ تِلْكُمْ الْجَنَّةُ اَوْ تَتَمَوَّهَا مِمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (سورۃ الاعراف: آیت ۴۳) یعنی منادی کئے جائیں گے کہ ان جنتوں کا وارث تمہیں تمہاری نیک کرداریوں کی بنا پر بنایا گیا

ہے یہاں بھی فرمایا ہے کہ تمہاری سعی مشکور ہے تمہارے عمل پر بہت اجر ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں سے کرے آمین۔

(تفسیر ابن کثیر: جلد ۵ صفحہ ۴۸۲ سے صفحہ ۴۸۵)

### (۳۹) جنت میں پردے گر گئے، شام ہو گئی جنت میں پردے ہٹ گئے صبح ہو گئی

﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرًا وَعَشِيًّا﴾ (سورہ مریم: آیت ۶۲)

ترجمہ: ”وہاں لوگ کوئی لغو بات نہ سنیں گے صرف سلام ہی سلام سنیں گے ان کے لیے وہاں صبح و شام ان کا رزق ہوگا۔“

جنت میں صبح و شام باعتبار دنیا کے ہے وہاں رات نہیں بلکہ ہر وقت نور کا سماں ہے۔ پردے گر جانے اور دروازے بند ہو جانے سے اہل جنت وقت شام کو اور اسی طرح پردوں کے ہٹ جانے اور دروازوں کے کھل جانے سے صبح کے وقت کو جان لیں گے، ان دروازوں کا کھلنا بند ہونا بھی جنتیوں کے اشارے اور حکموں پر ہوگا، یہ دروازے بھی اس قدر صاف و شفاف آئینہ نما ہیں کہ باہر کی چیزیں اندر سے نظر آئیں۔ چونکہ دنیا میں دن رات کی عادت تھی اس لیے جو وقت جب چاہیں گے پائیں گے۔ چونکہ عرب صبح شام ہی کھانا کھانے کے عادی تھے اس لیے جنتی رزق کا وقت بھی وہی بتلایا گیا ہے ورنہ جنتی جو چاہیں جب چاہیں موجود پائیں گے۔

### (۴۰) جنت میں نوجوان کنواری لڑکیوں کی بھی بارش ہوگی

جنت میں نیک لوگوں کے لیے خدا تعالیٰ کے ہاں جو نعمتیں درحمتیں ہیں ان کا بیان ہو رہا ہے کہ یہ کامیاب مقصد اور نصیب دار ہیں کہ جہنم سے نجات پائی اور جنت میں پہنچ گئے۔ انہیں نوجوان کنواری حوریں بھی ملیں گی جو ابھرے ہوئے سینے والیاں اور ہم عمر ہوں گی۔ ایک حدیث میں ہے کہ جنتیوں کے لباس ہی خدا کی رضا مندی کے ہوں گے۔ بادل ان پر آئیں گے اور ان سے کہیں گے کہ بتاؤ ہم تم پر کیا برسائیں؟ پھر وہ جو فرمائیں گے بادل ان پر برسائیں گے۔ یہاں تک کہ نوجوان کنواری لڑکیاں بھی ان پر برسیں گی۔ (ابن ابی حاتم) انہیں شرابِ طہور کے چھلکتے ہوئے پاک صاف بھر پور جام پر جام ملیں گے، جس میں نشہ نہ ہوگا کہ بے ہودہ گوئی اور لغو باتیں منہ سے نکلیں اور کان میں پڑیں جیسے اور جگہ ہے ﴿لَا لَغْوَ فِيهَا وَلَا تَأْتِيهَا﴾ (سورہ النور: آیت ۲۳) اس میں نہ لغو ہوگا نہ برائی اور نہ گناہ کی باتیں کوئی بات جھوٹ اور فضول نہ ہوگی۔ وہ دارالسلام ہے جس میں کوئی عیب کی اور برائی کی بات ہی نہیں۔ یہ جو کچھ بدلے ان پار سالوگوں کو ملے ہیں یہ ان کے نیک اعمال کے نتیجے میں جو اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کے احسان و انعام کی بنا پر انہیں ملے ہیں۔ جو بے حد کافی دانی ہیں جو بکثرت اور بھرپور ہیں۔ (تفسیر ابن کثیر: ۴۹۹/۵)

### (۴۱) جنت میں دودھ، پانی، شہد اور شراب کے سمندر ہیں

جنت میں پانی کے چشمے ہیں جو کبھی بگڑتا نہیں تغیر نہیں ہوتا، سڑتا نہیں، نہ بد بو پیدا ہوتی ہے، بہت صاف موتی جیسا ہے کوئی گدلا پن نہیں کوڑا کرکٹ نہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنتی نہریں مشک کے پہاڑوں سے نکلتی ہیں۔ اس میں پانی کے علاوہ دودھ کی نہریں بھی ہیں جس کا مزہ کبھی بدلتا نہیں، بہت سفید بہت میٹھا اور نہایت صاف و شفاف اور بامزہ پر ذائقہ۔ ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ یہ دودھ جانوروں کے دھن سے نکلا ہوا نہیں بلکہ قدرتی ہے۔ اور نہریں ہوں گی شراب صاف کی جو پینے والے کا دل خوش کر دیں، دماغ کشادہ کریں جو شراب نہ تو بد بودار ہے نہ تخی والی بد نظر منظر ہے۔ بلکہ دیکھنے میں بہت اچھی پینے میں لذیذ نہایت خوشبودار جس سے نہ عقل میں فتور آئے نہ دماغ میں چکر آئیں نہ بہکیں نہ بھٹکیں نہ نشہ چڑھے نہ عقل جائے۔ حدیث میں ہے کہ یہ شراب بھی کسی کے ہاتھوں سے کشیدی ہوئی نہیں بلکہ خدا کے حکم سے تیار ہوئی ہے۔ خوش ذائقہ اور خوش رنگ ہے۔

جنت میں شہد کی نہریں بھی ہیں جو بہت صاف ہیں اور خوشبودار اور ذائقہ تو کہنا ہی کیا ہے؟ حدیث شریف میں ہے کہ یہ شہد بھی کھیلوں کے پیٹ سے نہیں۔ مسند احمد کی ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ جنت میں دودھ، پانی، شہد اور شراب کے سمندر ہیں جن میں سے ان کی نہریں اور چشمے جاری ہوتے ہیں۔ یہ حدیث ترمذی میں ہے اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اسے حسن صحیح فرماتے ہیں۔ ابن مردودہ کی حدیث یہ ہے کہ نہریں جنت عدن سے نکلتی ہیں پھر ایک حوض میں آتی ہیں وہاں سے بذریعہ اور نہروں کے تمام جنتوں میں جاتی ہیں۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ تم اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس طلب کرو وہ سب سے بہتر اور سب سے اعلیٰ جنت ہے اسی سے جنت کی نہریں جاری ہوتی ہیں اور اس کے اوپر رخصن کا عرش ہے۔

طبرانی میں ہے حضرت لقیط بن عامر رضی اللہ عنہ جب وفد میں آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ جنت میں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: صاف شہد کی نہریں، اور بغیر نشے کے سرد درنہ کرنے والی شراب کی نہریں، اور نہ بگڑنے والی دودھ کی نہریں، اور خراب نہ ہونے والی شفاف پانی کی نہریں، اور طرح طرح کے میوہ جات، عجیب و غریب بے مثل و بالکل تازہ اور پاک صاف بیویاں اور صالحین کو ملیں گی اور خود بھی صالحات ہوں گی، دنیا کی لذتوں کی طرح ان سے لذتیں اٹھائیں گے، ہاں وہاں بال بچے نہ ہوں گے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ خیال کرنا کہ جنت کی نہریں بھی دنیا کی نہروں کی طرح کھدی ہوئی زمین میں اور گڑھوں میں بہتی ہیں، نہیں نہیں قسم خدا کی وہ صاف زمین پر یکساں جاری ہیں ان کے کنارے کنارے لؤلؤ اور موتیوں کے خیمے ہیں، ان کی مٹی مشک خالص ہے، وہاں ان کے لیے ہر طرح کے میوے اور پھول پھل ہیں، جیسے اور جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ﴿يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ شَيْءٍ مُّبِينٍ﴾ (سورۃ الدخان: آیت ۵۵) یعنی وہاں نہایت امن و امان کے ساتھ ہر قسم کے میوے وہ منگوائیں گے اور کھائیں گے، اور آیت میں ہے ﴿فِيهَا مِنْ كُلِّ ثَمَرٍ مَّا شَاءُوا﴾ (سورۃ الرضن: آیت ۵۲) دونوں جنتوں میں ہر قسم کے میووں کے جوڑے ہیں۔ ان تمام نعمتوں کے ساتھ یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ رب خوش ہے عداوتی مغفرت ان کے لیے حلال کر چکا ہے، انہیں نواز چکا ہے، اور ان سے راضی ہو چکا ہے اب کوئی کھٹکا ہی نہیں۔ (تفسیر ابن کثیر: ۱۰۲/۵، ۱۰۳/۱)

## ﴿۲۲﴾ جنت میں چھ چیزیں نہ ہوں گی

جنت میں سب کچھ ہوگا مگر چھ چیزیں نہ ہوں گی:

- |                  |   |
|------------------|---|
| ① موت نہ ہوگی    | ⑥ نیند نہ ہوگی                                  |
| ② حسد نہ ہوگا    | ⑦ نجاست نہ ہوگی                                 |
| ③ بڑھا پانہ ہوگا | ⑧ داڑھی نہ ہوگی بلکہ بغیر داڑھی کے جوان ہوں گے۔ |

(مکتوٰۃ باب صفة الجنۃ، آخرت کی یاد، ملفوظات اقدس مولانا مفتاح الرحمن کاندھلوی: ص ۳۰)

## ﴿۲۳﴾ حضرت اُم سلمہ رضی اللہ عنہا کے جنتیوں کی دھوم دھام کے متعلق

عجیب و غریب آٹھ سوالات اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جوابات

حضرت اُم سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں:

میں نے کہا یا رسول اللہ! حور عین کی خبر مجھے دیجئے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”وہ گورے رنگ کی ہیں بڑی بڑی آنکھوں والی ہیں۔ سخت سیاہ اور بڑے بڑے بالوں والی ہیں جیسے کہ گدھ کا پر۔“

سوال میں نے کہا ﴿لَوْلَوْ مَكْنُونٌ﴾ کی بابت خبر دیجئے۔

جواب آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”ان کی صفائی اور جوت (چمک) مثل اس موتی کے ہے جو سیپ سے ابھی ابھی نکلا ہو جسے کسی کا ہاتھ بھی نہ لگا ہو۔“

سوال میں نے کہا ﴿غَيْرُتِ حِسَانٍ﴾ کی کیا تفسیر ہے؟

جواب فرمایا: ”خوش خلق و خوبصورت۔“

سوال میں نے کہا ﴿بَيْضٌ مَكْنُونٌ﴾ سے کیا مراد ہے؟

جواب فرمایا: ”ان کی نزاکت اور نرمی انڈے کی اس جھلی کے مانند ہوگی جو اندر ہوتی ہے۔“

سوال میں نے ﴿عُرْبًا اَنْزَلْنَا﴾ کے معنی دریافت کئے۔

جواب فرمایا: ”اس سے مراد دنیا کی مسلمان جنتی عورتیں ہیں جو بالکل بڑھیا پھولس تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نئے سرے سے پیدا کیا اور کنواریاں اور خاوندوں کی چیتیاں اور خاوندوں سے عشق رکھنے والیاں اور ہم عمر بنادیں۔“

سوال میں نے پوچھا یا رسول اللہ! دنیا کی عورتیں افضل ہیں یا حور عین؟

جواب فرمایا: ”دنیا کی عورتیں حور عین سے بہت افضل ہیں۔ جیسے آستر سے ابرا بہتر ہوتا ہے۔“

سوال میں نے کہا اس انصافیت کی کیا وجہ ہے؟

جواب فرمایا: نمازیں روزے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے نور سے ان کے جسم ریشم سے سنوار دیئے ہیں۔ سفید ریشم اور سبز ریشم اور زرد سنہرے ریشم اور زرد سنہرے زیور، بخوردان موتی کے، کنگھیاں سونے کی، یہ کہتی رہیں گی:

نَحْنُ الْغَالِدَاتُ فَلَا نَمُوتُ اَبَدًا      وَنَحْنُ الْعَاغِمَاتُ فَلَا نَمِئُسُ اَبَدًا

وَ نَحْنُ الْمُقِيمَاتُ فَلَا نَطْعُنُ اَبَدًا      وَ نَحْنُ الرَّاضِيَاتُ فَلَا نَسْخَطُ اَبَدًا

طُوبَى لِمَنْ كَانَ لَنَا وَكُنَّا

”یعنی ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں کبھی مریں گی نہیں۔ ہم ناز اور نعمت والیاں ہیں کہ کبھی مفلس اور بے نعمت نہ ہوں گی۔ ہم اقامت کرنے والی ہیں کہ کبھی سفر میں نہیں جائیں گی۔ ہم اپنے خاوندوں سے خوش رہنے والیاں ہیں کہ کبھی روٹھیں گی نہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے لیے ہم ہیں اور ہم ان کے لیے ہیں۔“

سوال میں نے پوچھا یا رسول اللہ! بعض عورتوں کے دودو، تین تین، چار چار خاوند ہو جاتے ہیں اس کے بعد اسے موت آتی ہے مرنے کے بعد اگر یہ جنت میں گئی اور اس کے ساتھ خاوند بھی گئے تو یہ کسے ملے گی؟

جواب آپ ﷺ نے فرمایا: ”اسے اختیار دیا جائے گا کہ جس کے ساتھ چاہے رہے چنانچہ یہ ان میں سے اسے پسند کرے گی جو اس کے ساتھ بہترین برتاؤ کرتا رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے کہے گی کہ پروردگار! یہ مجھ سے بہت اچھی بودوباش رکھتا تھا اسی کے نکاح میں مجھے دے۔“ (تفسیر ابن کثیر: ۲۵۵/۵: ۲۵۶)

﴿۲۴﴾ جنت میں حوروں کی دھوم دھام، حور نازک، نورانی، ناز اور کرشمہ والی ہوگی

صور کی مشہور مٹک سؤل حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ تمام مسلمانوں کو جنت میں لے جانے کی سفارش کریں گے جس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے آپ کی شفاعت قبول کی اور آپ کو انہیں جنت میں پہنچانے کی اجازت دی۔ آپ ﷺ فرماتے ہیں پھر میں

انہیں جنت میں لے جاؤں گا، خدا کی قسم! تم جس قدر اپنے گھریار اور اپنی بیویوں سے واقف ہو اس سے بہت زیادہ اہل جنت اپنے گھروں اور بیویوں سے واقف ہوں گے۔ پس ایک ایک جنتی کی بہتر (۷۲) بہتر (۷۲) بیویاں ہوں گی جو خدا کی بنائی ہوئی ہیں اور دودو بیویاں ان عورتوں میں سے ہوں گی کہ انہیں بوجہ اپنی عبادت کے ان سب عورتوں پر فضیلت حاصل ہوگی، جنتی ان میں سے ایک کے پاس جائے گا، یہ اس بالا خانے میں ہوگی جو یا قوت کا بنا ہوا ہوگا، اس پلنگ پر ہوگی جو سونے کے تاروں سے بنا ہوا ہوگا اور جزاؤ جزا ہوا ہوگا۔ ستر (۷۰) جوڑے پہنے ہوئے ہوگی جو سب باریک اور سبز چمکیلے خالص ریشم کے ہوں گے، یہ بیوی اس قدر نازک نورانی ہوگی کہ اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر سینے کی طرف سے دیکھے گا تو صاف نظر آجائے گا۔ کپڑے گوشت، ہڈی کوئی چیز روک نہ ہوگی۔ اس قدر اس کا پنڈا صاف اور آئینہ نما ہوگا جس طرح مردارید میں سوراخ کر کے ڈورا ڈال دیں تو وہ ڈورا باہر سے نظر آتا ہے، اسی طرح اس کی پنڈلی کا گودا نظر آئے گا، ایسا ہی نورانی بدن اس جنتی کا بھی ہوگا۔ الغرض یہ اس کا آئینہ ہوگی اور وہ اس کا آئینہ۔ یہ اس کے ساتھ عیش و عشرت میں مشغول ہوگا نہ یہ تھکے گاندہ تھکے گی۔ نہ اس کا دل بھرے گا نہ اس کا دل بھرے گا۔ جب کبھی نزدیکی کرے گا تو کنواری پائے گا نہ اس کا عضو سست ہونہ اسے گراں گزرے مگر خاص پانی وہاں نہ ہوگا جس سے گھن آئے۔ یہ یوں ہی مشغول ہوگا جو کان میں ندا آئے گی کہ یہ تو ہمیں خوب معلوم ہے کہ نہ آپ کا دل ان سے بھرے گا اور نہ ان کا آپ سے بھرے گا مگر آپ کی دوسری بیویاں بھی ہیں۔ اب یہ یہاں سے باہر آئے گا اور ایک ایک کے پاس جائے گا جس کے پاس جائے گا اسے دیکھ کر بے ساختہ اس کے منہ سے نکل جائے گا کہ رب کی قسم تجھ سے بہتر جنت میں کوئی چیز نہیں نہ میری محبت کسی سے تجھ سے زیادہ ہے۔ (تفسیر ابن کثیر: جلد ۵ صفحہ ۲۵۶)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ! کیا جنت میں جنتی لوگ جماع بھی کریں گے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”ہاں قسم ہے اس خدا کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ خوب اچھی طرح بہترین طریق پر۔ جب الگ ہوگا وہ اسی وقت پھر پاک صاف اچھوٹی باکرہ بن جائے گی۔“ حضور اکرم ﷺ فرماتے ہیں ”مومن کو جنت میں اتنی اتنی عورتوں کے پاس جانے کی قوت عطا کی جائے گی۔“ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے پوچھا حضور! کیا اتنی طاقت رکھے گا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”ایک سو آدمیوں کے برابر اسے قوت ملے گی۔“ طبرانی کی حدیث میں ہے ایک ایک سو کنواریوں کے پاس ایک ایک دن میں ہوائے گا۔ حافظ عبد اللہ مقدسی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ حدیث شرط صحیح پر ہے۔ واللہ اعلم

جنت کی عورتیں اپنے خاوندوں کی محبوبہ ہوں گی یہ اپنے خاوندوں کی عاشق اور خاوندان کے عاشق، جنت کی عورتیں ناز و کرشمہ اور نزاکت والی ہیں۔ (تفسیر ابن کثیر: جلد ۵ صفحہ ۲۵۷)

### (۲۵) جنت کی عورتیں اپنے خاوند کا دل مٹھی میں رکھیں گی

جنت کی عورتیں اپنے خاوند کا دل مٹھی میں رکھیں گی۔ جنت کی عورتیں خوش کلام ہیں اپنی باتوں سے اپنے خاوندوں کا دل موہ لیتی ہیں۔ جب کچھ بولیں یوں معلوم ہوتا ہے کہ بھول جھرتے ہیں اور نور برستا ہے۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ انہیں عرب اس لیے کہا گیا ہے کہ ان کی بول چال عربی زبان میں ہوگی۔ اتراب کے معنی ہیں ہم عمر یعنی تینتیس برس کی، اور یہ معنی بھی ہیں کہ خاوند کی اور ان کی طبیعت، خلق بالکل یکساں ہے جس سے وہ خوش یہ خوش، جو اسے ناپسند سے بھی ناپسند۔ یہ معنی بھی بیان کئے گئے ہیں کہ آپس میں ان میں ہیر پھیر، حسد اور رشک نہ ہوگا۔ یہ سب آپس میں بھی ہم عمر ہوں گی تاکہ بے تکلفی سے ایک دوسری سے ملیں چلیں کھیلیں کودیں۔ ترمذی کی حدیث میں ہے کہ یہ جنتی حوریں ایک روح افزا باغ میں جمع ہو کر نہایت پیارے گلے سے گانا گائیں گی کہ ایسی سریلی اور رسلی آواز مخلوق نے کبھی نہ سنی ہوگی ان کا گنا وہی ہوگا جو پہلے بیان ہوا۔ ابو یعلیٰ میں ہے ان کے گانے میں یہ بھی ہوگا۔

نَعْنُ مُحَمَّدَاتِ حَسَانٍ حُبْنَا لِذَوَاكِ كِرَامٍ

ترجمہ: ”ہم پاک صاف خوش وضع خوبصورت عورتیں ہیں۔ جو بزرگ اور ذی عزت شوہروں کے لیے چھپا کر رکھی گئی تھیں۔“

حضرت ابوسلیمان دارانی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ میں نے ایک رات تہجد کی نماز کے بعد دعا مانگی شروع کی، چونکہ سخت سردی تھی بڑے زور کا پالا پڑ رہا تھا ہاتھ اٹھائے نہیں جاتے تھے اس لیے میں نے ایک ہی ہاتھ سے دعا مانگی اور اسی حالت میں دعا مانگتے مانگتے مجھے نیند آگئی خواب میں میں نے ایک خور کو دیکھا کہ اس جیسی خوبصورت نورانی شکل کبھی میری نگاہ سے نہیں گزری، اس نے مجھ سے کہا اے ابوسلیمان! ایک ہی ہاتھ سے دعا مانگنے لگے اور یہ خیال نہیں کہ پانچ سو سال سے اللہ تعالیٰ مجھے تمہارے لیے اپنی خاص نعمتوں میں پرورش کر رہا ہے۔ (تفسیر ابن کثیر: ۲۵۷/۵)

﴿۲۶﴾ آئیے! جنت عدن کی سیر کریں جس کے پانچ ہزار دروازے ہیں اور ہر دروازے پر پانچ ہزار فرشتے ہیں

ان بزرگوں کی نیک صفیں بیان ہو رہی ہیں اور ان کے بھلے انجام کی خبر دی جا رہی ہے جو آخرت میں جنت کے مالک بنیں گے اور یہاں بھی جو نیک انجام ہیں۔ وہ منافقوں کی طرح نہیں ہوتے کہ عہد شکنی اور غداری اور بے وفائی کریں۔ یہ منافق کی خصلت ہے کہ وعدہ کر کے توڑ دیں، جھگڑوں میں گالیاں بکسیں، باتوں میں جھوٹ بولیں۔ امانت میں خیانت کریں۔

صلہ رحمی کا، رشتہ داروں سے سلوک کرنے کا، فقیر محتاج کو دینے کا، بھلی باتوں کے ناپنے کا جو حکم خدا ہے یہ اس کے عامل ہیں..... رب کا خوف دل میں رچا ہوا ہے۔ نیکیاں کرتے ہیں فرمان خدا سمجھ کر، بدیاں چھوڑتے ہیں نافرمانی خدا سمجھ کر۔ آخرت کے حساب کا کھٹکار کھتے ہیں اسی لیے برائیوں سے بچتے ہیں۔ نیکیوں کی رغبت کرتے ہیں اعتدال کے راستے نہیں چھوڑتے۔ ہر حال میں فرمان خدا کا لحاظ رکھتے ہیں۔ حرام کاموں اور خدا کی نافرمانیوں کی طرف گونفس گھسیٹے لیکن یہ اسے روک لیتے ہیں اور ثواب آخرت یا دولا کر مرضی مولا رضائے رب کے طالب ہو کر نافرمانیوں سے باز رہتے ہیں۔ نماز کی پوری حفاظت کرتے ہیں۔ رکوع سجدہ کے وقت خشوع و خضوع شرعی طور پر بجالاتے ہیں۔ جنہیں دینا خدا نے فرمایا ہے انہیں اللہ کی دی ہوئی چیزیں دیتے رہتے ہیں۔ فقرا محتاج مساکین اپنے ہوں یا غیر ہوں ان کی برکتوں سے محروم نہیں رہتے۔ پچھلے دن رات وقت بے وقت برابر اللہ خرچ کرتے ہیں۔

قباحت کو احسان سے برائی کو بھلائی سے دشمنی کو دوستی سے نال دیتے ہیں۔ دوسرا سرکشی کرے یہ نرمی کرتے ہیں اور دوسرا سرحڑھے یہ سرحھکا دیتے ہیں، دوسروں کے ظلم سے لیتے ہیں اور خود سلوک کرتے ہیں، تعلیم قرآن سے ﴿ادْفَعُوا بِاللُّغَةِ الَّتِي هِيَ اَحْسَنُ﴾ (سورۃ نجم: آیت ۳۳) بہت اچھی طریقے سے نال دو تو دشمن بھی گاڑھا دوست بن جائے گا، صبر کرنے والے صاحب نصیب ہی اس مرتبہ کو پاتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے اچھا انجام ہے۔ وہ اچھا انجام اور بہترین گھر جنت ہے جو نیکی والی اور پائیدار ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جنت کے ایک محل کا نام عدن ہے جس میں بروج اور بالا خانے ہیں جس کے پانچ ہزار دروازے ہیں ہر دروازے پر پانچ ہزار فرشتے ہیں۔ وہ محل مخصوص ہے نبیوں اور صدیقیوں اور شہیدوں کے لیے۔ حضرت ضحاک رحمۃ علیہ کہتے ہیں یہ جنت کا شہر ہے جس میں انبیاء ہوں گے شہداء ہوں گے اور ہدایت کے ائمہ ہوں گے اور ان کے آس پاس اور لوگ ہوں گے اور ان کے ارد گرد جنتیں ہیں وہاں یہ اپنے اور چہیتوں کو بھی اپنے ساتھ دیکھیں گے۔

ان کے بڑے باپ دادا ان کے چھوٹے بیٹے پوتے ان کے جوڑے بھی جو ایمان دار اور نیک کار تھے اس کے پاس ہوں گے اور راحتوں میں مسرور ہوں گے جس سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی یہاں تک کہ اگر کسی کے اعمال اس درجہ بلندی تک پہنچنے کے قابل نہ بھی ہوں گے تو خدائے تعالیٰ ان کے درجے بڑھا دے گا اور اعلیٰ منزل تک پہنچا دے گا۔ ارشاد خداوندی ہے:

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾

جن ایمان داروں کی اولاد ان کی پیروی ایمان میں کرتی ہیں ہم انہیں بھی ان کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ ان کے پاس مبارک باد اور سلام کے لیے ہر ہر روزانے سے ہر ہر وقت فرشتے آتے رہتے ہیں یہ بھی خدا کا انعام ہے تاکہ ہر وقت خوش رہیں اور بشارتیں سنتے رہیں۔ نبیوں صدیقیوں، شہیدوں کا پڑوس فرشتوں کا سلام اور جنت الفردوس مقام۔ (سورۃ الفور: آیت ۲۱)

مسند کی حدیث میں ہے جانتے بھی ہو کہ سب سے پہلے جنت میں کون جائیں گے؟ لوگوں نے کہا خدا کو علم ہے اور اس کے رسول ﷺ کو۔ فرمایا سب سے پہلے جنتی مساکین مہاجرین ہیں جو دنیا کی لذتوں سے دور تھے۔ جو تکلیفوں میں مبتلا تھے۔ جن کی انگلیوں دلوں میں عی رہ گئیں اور قضا آگئی رحمت کے فرشتوں کو حکم خدا ہوگا کہ جاؤ انہیں مبارکباد دو۔ فرشتے کہیں گے خدایا ہم تیرے آسمانوں کے رہنے والے تیری بہترین مخلوق ہیں۔ کیا تو ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم جا کر انہیں اسلام کریں اور انہیں مبارک باد پیش کریں۔ جناب باری جواب دے گا یہ میرے وہ بندے ہیں جنہوں نے صرف میری عبادت کی میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا۔ دنیوی راحتوں سے محروم رہے۔ مصیبتوں میں مبتلا رہے۔ کوئی مراد پوری نہ ہونے پائی اور یہ صابر و صبر کر رہے۔ اب تو فرشتے جلدی جلدی بہ شوق ان کی طرف دوڑیں گے۔ ادھر ادھر کے ہر روزانے سے تمہیں گے اور سلام کر کے مبارک باد پیش کریں گے۔

طہرانی میں ہے کہ سب سے پہلے جنت میں جانے والے تین قسم کے لوگ ہیں فقراء مہاجرین جو مصیبتوں میں مبتلا رہے جب انہیں جو حکم ملا بجالاتے رہے۔ انہیں ضرورتیں بادشاہوں سے ہوتی تھیں لیکن مرتے دم تک پوری نہ ہوئیں۔ جنت کو بروز قیامت اللہ تعالیٰ اپنے سامنے بلائے گا وہ بنی سنوری اپنی تمام نعمتوں اور تازگیوں کے ساتھ حاضر ہوگی۔ اس وقت ندا ہوگی کہ میرے وہ بندے جو میری راہ میں جہاد کرتے تھے میری راہ میں ستائے جاتے تھے۔ میری راہ میں لڑتے بھڑتے تھے وہ کہاں ہیں؟ آؤ بغیر حساب و عذاب کے جنت میں چلے جاؤ۔ اس وقت فرشتے خدا کے سامنے سجدے میں گر پڑیں گے اور عرض کریں گے کہ پروردگار! ہم تو صبح و شام تیری تسبیح و تقدیس میں لگے رہے، یہ کون ہیں جنہیں ہم پر بھی تو نے فضیلت عطا فرمائی، اللہ رب العزت فرمائے گا یہ میرے وہ بندے ہیں جنہوں نے میری راہ میں جہاد کیا میری راہ میں تکلیفیں برداشت کیں اب تو فرشتے جلدی کر کے ان کے پاس ہر ہر روزانے سے جا پہنچیں گے، سلام کریں گے اور مبارک باد پیش کریں گے کہ تمہیں تمہارے مہربان کا بدلہ کتنا اچھا ملا!!۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ مومن جنت میں اپنے تخت پر بہ آرام نہایت شان سے تکیہ لگائے بیٹھا ہوا ہوگا۔ خادموں کی قطاریں ادھر ادھر کھڑی ہوں گی جو روزانے والے خادم سے فرشتہ اجازت مانگے گا وہ دوسرے خادم سے کہے گا، وہ اور سے وہ اور سے یہاں تک کی مومن سے پوچھا جائے گا مومن اجازت دے گا کہ اسے آنے دو۔ یونہی ایک دوسرے کو پیغام پہنچائے گا اور آخری خادم فرشتے کو اجازت دے گا اور روزانہ کھول دے گا وہ آئے گا اور سلام کرے گا اور چلا جائے گا۔ (تفسیر ابن کثیر: جلد ۳ ص ۳۹، ۴۰)

﴿۴۷﴾ عبادتوں کی تکلیف جانی رہی، مزے لوٹنے کے دن آگئے

جو چاہو مانگو پاؤ گے۔ آئیے! طوبی درخت اور جنت کی سیر کریں

حضرت وہب بن مسعود کہتے ہیں کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام طوبی ہے۔ جس کے سائے تلے سوار سوار سال تک چلا رہے گا لیکن ختم نہ ہوگا اس کی ترو تازگی کھلے ہوئے چمن کی طرح ہے اس کے پتے بہترین اور عمدہ ہیں اس کے خوشے خبریں ہیں اس کے نکر یا قوت ہیں اس کی مٹی کا فور ہے، اس کا گارامٹک ہے اس کی جڑ سے شراب کی، دودھ کی اور شہد کی نہریں بہتی ہیں۔ اس کے نیچے جنتیوں کی مجلسیں ہوں گی یہ بیٹھے ہوئے ہوں گے کہ ان کے پاس فرشتے اونٹنیاں لے کر آئیں گے جن کی زنجیریں سونے کی ہوں گی جن کے



چہرے چراغ جیسے چمکتے ہوں گے بال ریشم جیسے نرم ہوں گے جن پر یاقوت جیسے پالان ہوں گے جن پر سونا جڑاؤ ہو رہا ہوگا جن پر ریشمی جھولیں ہوں گی وہ اونٹیاں ان کے سامنے پیش کریں گے اور کہیں گے کہ یہ سواریاں تمہیں بھجوائی گئی ہیں اور دربار خدا میں تمہارا جلاوا ہے۔ یہ ان پر سوار ہوں گے۔ وہ پرندوں کی رفتار سے بھی تیز رفتار ہوں گی۔ جنتی ایک دوسرے سے مل کر چلیں گے۔ اونٹنیوں کے کان سے کان بھی نہ ملیں گے۔ پوری فرمانبرداری کے ساتھ چلیں گی۔ راستے میں جو درخت آئیں گے وہ خود بخود دھت جائیں گے کہ کسی کو اپنے ساتھی سے الگ نہ ہونے پڑے، یوں ہی رحمن و رحیم خدا کے پاس پہنچیں گے۔ خدا تعالیٰ اپنے چہرے سے پردے ہٹا دے گا۔ یہ اپنے رب کو دیکھیں گے اور کہیں گے: "اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ وَحَقُّ لَكَ الْجَلَلُ وَالْإِكْرَامُ" ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ رب العزت فرمائے گا "أَنَا السَّلَامُ وَمِنْ بِي السَّلَامُ" تم پر میری رحمت سابق ہو چکی اور محبت بھی۔ میرے ان بندوں کو مرحبا ہو جو بن دیکھے مجھ سے ڈرتے رہے، میری فرمانبرداری کرتے رہے۔ جنتی کہیں گے باری تعالیٰ نہ تو ہم سے تیری عبادت کا حق ادا ہوا نہ تیری پوری قدر ہوئی۔ ہمیں اجازت دے کہ تیرے سامنے سجدہ کریں۔ اللہ فرمائے گا یہ محنت کی جگہ نہیں نہ عبادت کی یہ تو نعمتوں، راحتوں اور مالا مال ہونے کی جگہ ہے۔ عبادتوں کی تکلیف جاتی رہی۔ مزے لوٹنے کے دن آگئے جو چاہو مانگو پاؤ گے تم میں سے جو شخص جو مانگے اسے دوں گا۔ پس یہ مانگیں گے کم سے کم سوال والا کہے گا کہ خدایا تو نے دنیا میں جو پیدا کیا تھا جس میں تیرے بندے ہائے وائے کر رہے تھے میں چاہتا ہوں کہ شروع دنیا سے آخر دنیا تک دنیا میں جتنا کچھ تھا مجھے عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے کچھ نہ مانگا اپنے مرتبے سے بہت کم چیز مانگی۔ اچھا ہم نے دی۔ میری بخشش اور دین میں کیا کمی ہے؟ پھر فرمائے گا جن چیزوں تک میرے ان بندوں کے خیالات کی رسائی بھی نہیں وہ انہیں دو۔ چنانچہ دی جائیں گی یہاں تک کہ ان کی خواہشیں پوری ہو جائیں گی۔

ان چیزوں میں جو انہیں یہاں ملیں گی تیز رو گھوڑے ہوں گے ہر چار پر یاقوتی تخت ہوگا، ہر تخت پر سونے کا ایک ڈیرا ہوگا۔ ہر ڈیرے پر جنتی فرشتے ہوگا جن پر بڑی بڑی آنکھوں والی دو حوریں ہوں گی، جو دو دو حلے پہنے ہوئے ہوں گی جن میں جنت کے تمام رنگ ہوں گے اور تمام خوشبوئیں، ان خیموں کے باہر سے ان کے چہرے ایسے چمکتے ہوں گے گویا وہ باہر بیٹھی ہیں۔ ان کی پنڈلیوں کے اندر کا گودا باہر سے نظر آ رہا ہوگا جیسے سرخ یاقوت میں ڈورا پرویا ہوا اور وہ اوپر سے نظر آ رہا ہو۔ ہر ایک دوسرے پر اپنی فضیلت ایسی جانتی ہوگی جیسے فضیلت سورج کی پتھر پر اس طرح جنتی کی نگاہ میں بھی دونوں ایسی ہی ہوں گی یہ ان کے پاس جائے گا اور ان سے یوں دکنار میں مشغول ہو جائے گا۔ وہ دونوں اسے دیکھ کر کہیں گی واللہ ہمارے تو خیال میں بھی نہ تھا کہ خداتم جیسا خاوند ہمیں دے گا۔ وہ دونوں اسے دیکھ کر کہیں گی واللہ ہمارے تو خیال میں بھی نہ تھا کہ خداتم جیسا خاوند ہمیں دے گا۔ اب بنگم خدا اسی طرح صف بندی کے ساتھ سوار یوں پر یہ واپس ہوں گے اور اپنی منزلوں میں پہنچیں گے۔ دیکھو تو سہی خدائے وہاب نے انہیں کیا کیا نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں۔

وہاں بلند درجہ لوگوں میں اونچے اونچے بالا خانوں میں جوڑے موتی کے بنے ہوئے ہوں گے جن کے دروازے سونے کے ہوں گے جن کے تخت یاقوت کے ہوں گے جن کے فرشتے نرم اور موٹے ریشم کے ہوں گے۔ جن کے منبر نور کے ہوں گے جن کی چمک سورج کی چمک سے بالاتر ہوگی۔ اعلیٰ علیین میں ان کے محل ہوں گے، یاقوت کے بنے ہوئے نورانی جن کے نور سے آنکھوں کی روشنی جاتی رہے لیکن خدا تعالیٰ ان کی آنکھیں ایسی نہ کرے گا۔ جو محلات یاقوت سرخ کے ہوں گے ان میں سبز ریشمی فرشتے ہوں گے اور جو زرد یاقوت کے ہوں گے ان کے فرشتے سرخ فمائل کے ہوں گے جو زرد اور سونے کے جڑاؤ کے ہوں گے ان تختوں کے پائے جواہر کے ہوں گے۔ ان پر چھتیں لؤلؤ کی ہوں گی۔ ان کے برج مرجان کے ہوں گے ان کے پہنچنے سے پہلے خدائی تختے وہاں پہنچ چکے ہوں گے۔ سفید یاقوتی گھوڑے غلامان لیے کھڑے ہوں گے جن کا سامان چاندی کا جڑاؤ ہوگا۔ ان کے تخت پر اعلیٰ ریشمی نرم دبیر فرشتے بچھے ہوں گے۔

یہ ان سوار یوں پر سوار ہو کر بہ تکلف جنت میں جائیں گے دیکھیں گے کہ ان کے گھروں کے پاس نورانی منبروں پر فرشتے ان کے استقبال کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ ان کا شاندار استقبال کریں گے۔ مبارکباد دیں گے مصافحہ کریں گے پھر یہ اپنے گھروں میں داخل ہوں گے انعامات و خدادا ہاں موجود پائیں گے۔ اپنے محلات کے پاس دو جنتیں ہری بھری پائیں گے اور دو پھلی پھولی جن میں دو جنتیں پوری روانی سے جاری ہوں گے اور ہر قسم کے جوڑ دار میوے ہوں گے اور خیموں میں پاک دامن بھولی بھالی پردہ نشین حوریں ہوں گی جب یہ یہاں پہنچ کر راحت و آرام ہوں گے اس وقت اللہ رب العزت فرمائے گا میرے پیارے بندو! تم نے میرے وعدے سچے پائے؟ کیا تم میرے ثوابوں سے خوش ہو گئے؟ وہ کہیں گے خدایا ہم خوب خوش ہو گئے، بہت ہی رضامند ہیں دل سے راضی ہیں کلی کلی ہوئی ہے، تو بھی ہم سے خوش رہ۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اگر میری رضامندی نہ ہوتی تو میں اپنے اس مہمان خانے میں تمہیں کیسے داخل ہونے دیتا؟ اپنا دیدار کیسے دکھاتا؟ میرے فرشتے تم سے مصافحہ کیوں کرتے؟ تم خوش رہو بآرام رہو تمہیں مبارک ہو تم پھلو پھولو اور سکھ چین اٹھاؤ میرے یہ انعامات گھٹنے اور ختم ہونے والے نہیں۔ اس وقت وہ کہیں گے خدایا کی ذات سزاوار تعریف ہے جس نے ہم سے غم ورنج کو دور کر دیا اور ایسے مقام پر پہنچایا کہ جہاں ہمیں کوئی تکلیف کوئی مشقت نہیں۔ یہ اسی کا فضل ہے۔ وہ بڑا ہی بخشنے والا اور قدر دان ہے۔

اس کے بعض شواہد بھی موجود ہیں۔ چنانچہ صحیحین میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے جو سب سے اخیر میں جنت میں جائے گا فرمائے گا کہ مانگ، وہ مانگا جائے گا اور کریم دیتا جائے گا یہاں تک کہ اس کا سوال پورا ہو جائے گا اب اس کے سامنے کوئی خواہش باقی نہیں رہے گی۔ تو اب اللہ تعالیٰ خود اسے یاد دلانے گا کہ یہ مانگ یہ مانگ، یہ مانگے گا اور پائے گا پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ سب میں نے تجھے دیا اور اتنا ہی اور بھی دس مرتبہ عطا فرمایا۔

صحیح مسلم شریف کی قدسی حدیث میں ہے کہ اے میرے بندو! تمہارے اگلے پچھلے انسان جنات سب ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں اور مجھ سے دعائیں کریں اور مانگیں، میں ہر ایک کے تمام سوالات پورے کروں لیکن میرے ملک میں اتنی بھی کمی نہ آئے جتنی کمی سوئی کو سمندر میں ڈبونے سے سمندر کے پانی میں آئے۔ (تفسیر ابن کثیر: جلد ۳ صفحہ ۴۳، ۴۴)

### (۲۸) عبرت کی باتیں

- ① حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے کیا تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سب عبرت کی باتیں تھیں (مثلاً ان میں یہ مضمون بھی تھا کہ)
- ① مجھے اس آدمی پر تعجب ہے جسے موت کا یقین ہے اور وہ پھر خوش ہوتا ہے۔
- ② مجھے اس آدمی پر تعجب ہے جسے جہنم کا یقین ہے اور وہ پھر ہنستا ہے۔
- ③ مجھے اس آدمی پر تعجب ہے جسے نقدیر کا یقین ہے اور وہ پھر اپنے آپ کو بلا ضرورت تھکاتا ہے۔
- ④ مجھے اس آدمی پر تعجب ہے جس نے دنیا کو دیکھا اور یہ بھی دیکھا کہ دنیا آنی جانی چیز ہے ایک جگہ رہتی نہیں اور پھر مطمئن ہو کر اس سے دل لگاتا ہے۔
- ⑤ مجھے اس آدمی پر تعجب ہے جسے کل قیامت کے حساب کتاب پر یقین ہے اور پھر عمل نہیں کرتا۔ (حیاء الصحاب، جلد ۳: صفحہ ۵۵۶)
- ⑥ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو خط میں یہ لکھا:
- ① ابا بعد تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اسے ہر شر اور فتنے سے بچاتا ہے اور جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کی کفایت کرتا ہے۔

② اور جو اللہ کو قرض دیتا ہے یعنی دوسروں پر اپنا مال اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بہترین بدلہ عطا فرماتا ہے۔

③ اور جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نعمت بڑھاتا ہے۔

④ اور تقویٰ ہر وقت تمہارا نصب العین اور تمہارے اعمال کا سہارا اور ستون اور تمہارے دل کی صفائی کرنے والا ہونا چاہیے۔

⑤ جس کی کوئی نیت نہیں ہوگی اس کا کوئی عمل معتبر نہیں ہوگا۔

⑥ جس نے ثواب لینے کی نیت سے عمل نہ کیا اسے کوئی اجر نہیں ملے گا۔

⑦ جب تک پہلا کپڑا پرانا نہ ہو جائے نیا نہیں پہننا چاہیے۔ (حیاء الصحابہ، جلد ۳، صفحہ ۵۶۳)

⑧ حضرت عقبہ بن ابوصہب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب ابنِ مسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خبر مارا تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ ان کی خدمت میں

حاضر ہوئے حضرت حسن رضی اللہ عنہ رورہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اے میرے بیٹے! کیوں رورہے ہو؟ عرض کیا میں کیوں نہ

روؤں جبکہ آج آپ کا آخرت کا پہلا دن اور دنیا کا آخری دن ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا چار اور چار (کل آٹھ) چیزوں کو پلے

باندھ لو، ان آٹھ چیزوں کو تم اختیار کرو گے تو پھر تمہارا کوئی عمل تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے عرض کیا ابا جان!

وہ چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا:

① سب سے بڑی مالداری عقل مندی ہے یعنی مال سے بھی زیادہ کام آنے والی چیز عقل اور سمجھ ہے۔

② اور سب سے بڑی فقیری حماقت اور بیوقوفی ہے۔

③ سب سے زیادہ وحشت کی چیز اور سب سے بڑی تنہائی عجب اور خود پسندی ہے۔

④ سب سے زیادہ بڑائی اچھے اخلاق ہیں۔

حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا ابا جان! یہ چار چیزیں تو ہو گئیں باقی چار چیزیں بھی بتادیں۔ فرمایا:

◆ بیوقوف کی دوستی سے بچنا کیونکہ وہ فائدہ پہنچاتے پہنچاتے تمہارا نقصان کر دے گا۔

⑤ جھوٹے کی دوستی سے بچنا کیونکہ جو تم سے دور ہے یعنی تمہارا دشمن اسے تمہارے قریب کر دے گا اور جو تمہارے قریب ہے یعنی تمہارا

دوست ہے اسے تم سے دور کر دے گا (یادہ دور والی چیز کو نزدیک والی چیز کو دور بتانے کا اور تمہارا نقصان کر دے گا۔)

⑥ کجوں کی دوستی سے بچنا کیونکہ وہ تمہیں معمولی سی چیز کے بدلے میں بچا کر دے گا۔ (حیاء الصحابہ، جلد ۳، صفحہ ۵۶۶)

⑦ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے لوگوں کے لیے اٹھارہ باتیں مقرر کیں جو سب کی سب حکمت

و دانائی کی باتیں تھیں انہوں نے فرمایا:

① جو تمہارے بارے میں اللہ کی نافرمانی کرے تم اسے اس جیسی اور کوئی سزا نہیں دے سکتے کہ تم اس کے بارے میں اللہ کی اطاعت کرو۔

② اور اپنے بھائی کی بات کو کسی اچھے رخ کی طرف لے جانے کی پوری کوشش کرو ہاں اگر وہ بات ایسی ہو کہ اسے اچھے رخ کی طرف

لے جانے کی تم کوئی صورت نہ بنا سکو تو اور بات ہے۔

③ اور مسلمان کی زبان سے جو بول بھی نکلا ہے اور تم اس کا کوئی بھی خیر کا مطلب نکال سکتے ہو تو اس سے برے مطلب کا گمان مت کرو۔

④ جو آدمی خود ایسے کام کرتا ہے جس سے دوسروں کو بدگمانی کا موقع ملے تو وہ اپنے سے بدگمانی کرنے والے کو ہرگز ملامت نہ کرے۔

⑤ جو اپنے راز کو چھپانے کا اختیار اس کے ہاتھ میں رہے گا۔

⑥ سچے بھائیوں کے ساتھ رہنے کو لازم پکڑوان کے سایہ خیر میں زندگی گزارو کیونکہ وسعت اور اچھے حالات میں وہ لوگ تمہارے لیے

زینت کا ذریعہ اور مصیبت میں حفاظت کا سامان ہوں گا۔

- ④ ہمیشہ سچ بولو چاہے سچ بولنے سے جان ہی چلی جائے۔  
 ⑤ بے فائدہ اور بے کار کاموں میں نہ لگو۔  
 ⑥ جو بات ابھی پیش نہیں آئی اس کے بارے میں مت پوچھو کیونکہ جو پیش آچکا ہے اس کے تقاضوں سے ہی کہاں فرصت ملی سکتی ہے۔  
 ⑦ اپنی حاجت اس کے پاس نہ لے جاؤ جو یہ نہیں چاہتا کہ تم اس میں کامیاب ہو جاؤ۔  
 ⑧ جھوٹی قسم کو ہلکانہ سمجھو ورنہ اللہ تمہیں ہلاک کر دے گا۔  
 ⑨ بدکاروں کے ساتھ نہ رہو ورنہ تم بھی ان سے بدکاری سیکھ لو گے۔  
 ⑩ اپنے دشمن سے الگ رہو۔  
 ⑪ اپنے دوست سے بھی جو کئے رہو لیکن اگر وہ امانتدار ہے تو پھر اس کی ضرورت نہیں اور امانتدار صرف وہی ہو سکتا ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہو۔

⑫ قبرستان میں جا کر خشوع اختیار کرو۔

⑬ اور جب اللہ کی فرمانبرداری کا کام کرو تو عاجزی اور انکساری اختیار کرو۔

⑭ اور جب اللہ کی نافرمانی ہو جائے تو اللہ کی پناہ چاہو۔

⑮ اور اپنے تمام امور میں ان لوگوں سے مشورہ کیا کرو جو اللہ سے ڈرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ (سورہ قاطر: آیت ۲۸)

ترجمہ: ”خدا سے اس کی وہی بندے ڈرتے ہیں جو (اس کی عظمت کا) علم رکھتے ہیں۔“ (حیاء الصحابہ، جلد ۳ صفحہ ۵۶۰، ۵۶۱)

### ﴿۴۹﴾ جہالت کی نحوست

ایک شخص کے دو بیٹے تھے، والد نے اپنی حیات ہی میں اپنی جائیداد تقسیم کر دی۔ والد کے انتقال کے بعد دونوں بھائیوں کے کھیت کے درمیان ایک درخت اُگا، بد قسمتی سے وہ درخت بول کا تھا۔ دونوں بھائیوں کے درمیان جھگڑا شروع ہوا، ایک نے کہا یہ میرا، دوسرے نے کہا یہ میرا، بالآخر یہ جھگڑا عدالت میں پہنچا، تیس سال تک مقدمہ چلتا رہا دونوں کی جائیدادیں بک گئیں، مقدمہ میں یہ فیصلے طے ہوا کہ درخت کو کاٹو اور آدھا اس کے گھر اور آدھا اس کے گھر بھیج دو۔ اللہ تعالیٰ جہالت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔

### ﴿۵۰﴾ بڑھاپا و فادار ہوتا ہے

انسان کن کن اسٹیشنوں سے گزرتا ہے یہ مضمون غور سے پڑھئے

﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ﴾ (سورہ روم: آیت ۵۴)

ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہیں کمزوری کی حالت میں پیدا کیا پھر اس کمزوری کے بعد توانائی دی پھر اس توانائی کے بعد کمزوری اور بڑھاپا کر دیا۔ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے وہ سب سے پورا واقف اور سب پر پورا قادر ہے۔“

تشریح: انسان کی ترقی و تنزلی پر نظر ڈالو! اس کی اصل تو مٹی سے ہے، پھر نطفے سے پھر خون بستہ سے پھر گوشت کے ٹوٹنے سے پھر اسے ہڈیاں پہنائی جاتی ہیں پھر ہڈیوں پر گوشت پوست پہنایا جاتا ہے پھر روح پھوٹی جاتی ہے۔ پھر ماں کے پیٹ سے ضعیف

وخیف ہو کر نکلتا ہے پھر تھوڑا تھوڑا بڑھتا جاتا ہے اور مضبوط ہوتا جاتا ہے پھر بچپن کے زمانے کی بہاریں دیکھتا ہے پھر جوانی کے قریب آ پہنچتا ہے پھر جوان ہوتا ہے آخر نشوونما موقوف ہو جاتی ہے۔ اب قوی پھر مضمحل ہونے شروع ہوتے ہیں، طاقتیں گھٹنے لگتی ہیں اور حیز عمر کو پہنچتا ہے پھر بوڑھا ہوتا ہے پھر بوڑھا پھوس ہو جاتا ہے۔

طاقت کے بعد کی یہ طاقتی بھی قابل عبرت ہوتی ہے کہ ہمت پست ہے، دیکھنا، سننا، چلنا، پھرنا، اٹھنا، اچکنا، پکڑنا غرض ہر طاقت گھٹ جاتی ہے۔ رفتہ رفتہ بالکل جواب دے جاتی ہے اور ساری صفیتیں متغیر ہو جاتی ہیں۔ بدن پر جھریاں پڑ جاتی ہیں، خسار چمک جاتے ہیں، دانٹ ٹوٹ جاتے ہیں، بال سفید ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے قوت کے بعد کی ضعفی اور بڑھا پا۔ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، بنانا، بگاڑنا اس کی زرت کے ادنیٰ کر شے ہیں۔ ساری مخلوق اس کی غلام، وہ سب کا مالک، وہ عالم وہ قادر نہ اس کا سا کسی کا علم نہ اس جیسی کسی کی قدرت۔

(تفسیر ابن کثیر: جلد ۳ صفحہ ۱۸۰)

### ﴿۵۱﴾ حلال مال سے دیا ہوا صدقہ اللہ تعالیٰ اپنے دانے ہاتھ میں رکھ کر پالتے ہیں

صحیح حدیث میں ہے کہ جو شخص ایک کھجور بھی صدقہ میں دے..... لیکن ہو حلال طور سے حلال کی ہوئی..... تو اسے اللہ تعالیٰ رحمن و رحیم اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے اور اس طرح پالتا اور بڑھاتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے یا اونٹ کے بچے کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ وہی ایک کھجور اُحد پہاڑ سے بھی بڑی ہو جاتی ہے۔

اللہ تعالیٰ ہی خالق و رازق ہے، انسان اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا، بے علم، بے کان، بے آنکھ، بے طاقت نکلتا ہے پھر خدا تعالیٰ اسے سب چیزیں عطا فرماتا ہے۔ مال بھی، ملکیت بھی، کمائی بھی، تجارت بھی، غرض بے شمار نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ دو صحابیوں نے پوچھا کہ بیان ہے کہ ہم حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت آپ ﷺ کسی کام میں مشغول تھے ہم نے بھی آپ کا ہاتھ بنا لیا۔ آپ نے فرمایا دیکھو! سر ہٹنے لگے تب تک بھی روزی سے کوئی محروم نہیں رہتا۔ انسان ننگا بھوکا دنیا میں آتا ہے۔ ایک چھلکا بھی اس کے بدن پر نہیں ہوتا، پھر رب تعالیٰ ہی اسے روزیاں دیتا ہے وہ اس حیات کے بعد تمہیں مار ڈالے گا پھر قیامت کے دن زندہ کرے گا خدا تعالیٰ کے سوا تم جن جن کی عبادت کر رہے ہو ان میں سے ایک بھی ان باتوں میں سے کسی ایک پر قابو نہیں رکھتا۔ ان کاموں میں سے ایک بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی تھا خالق رازق اور موت و زندگی کا مالک ہے وہی قیامت کے دن تمام مخلوق کو جلادے گا۔ اس کی مقدس منزہ معظم اور عزت و جلال والی ذات اس سے پاک ہے کہ کوئی اس کا شریک ہو یا اس جیسا ہو یا اس کے برابر ہو یا اس کی اولاد ہو یا ماں باپ ہو۔ وہ اَحَدُ ہے صَمَدُ ہے فرد ہے، ماں باپ سے اولاد سے پاک ہے۔ اس کی کفو کا کوئی نہیں۔ (تفسیر ابن کثیر: ۱۷۵/۳)

### ﴿۵۲﴾ حضرت لقمان کی نصیحتیں

حکمت سے مسکین لوگ بادشاہ بن جاتے ہیں

حضرت لقمان حکیم کا ایک قول یہ بھی مروی ہے کہ خدا تعالیٰ کو جب کوئی چیز سوچ دی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے آپ نے اپنے بیٹے سے یہ بھی فرمایا تھا کہ حکمت سے مسکین لوگ بادشاہ بن جاتے ہیں۔

آپ کا فرمان ہے کہ جب کسی مجلس میں پہنچو پہلے اسلامی طریق کے مطابق سلام کرو پھر مجلس کے ایک طرف بیٹھ جاؤ۔ دوسرے نہ بولیں تو تم بھی خاموش رہو۔ اگر وہ لوگ اللہ کا ذکر کریں تو تم ان میں سب سے زیادہ حصہ لینے کی کوشش کرو اور اگر گپ شپ شروع کر دیں تو تم اس مجلس کو چھوڑ دو۔

مردی ہے کہ آپ اپنے بچے کو نصیحت کرنے کے لیے جب بیٹھے تو رائی کی بھری ہوئی ایک تھیلی اپنے پاس رکھ لی تھی اور ہر نصیحت کے بعد ایک دانہ اس میں سے نکال لیتے یہاں تک کہ تھیلی خالی ہوگئی تو آپ نے فرمایا بچے اگر اتنی نصیحت کسی پہاڑ کو کرنا تو وہ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، چنانچہ آپ کے صاحبزادے کا بھی یہی حال ہوا۔

رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں حبشیوں کو دیکھا کہ ان میں سے تین شخص المل جنت کے سردار ہیں، لقمان حکیم، نجاشی اور حضرت بلال مؤذن رضی اللہ عنہم۔ (تفسیر ابن کثیر: ۴/۱۹۰، ۱۹۱)

### (۵۳) دیندار فقراء جنت کے بادشاہ

حضور ﷺ فرماتے ہیں کہ جنت کے بادشاہ وہ لوگ ہیں جو پراگندہ اور بکھرے ہوئے بالوں والے ہیں، غبار آلود اور گرد سے آئے ہوئے، وہ امیروں کے گھر جانا چاہیں تو انہیں اجازت نہیں ملتی، وہ اگر کسی بڑے گھرانے میں مانگا ڈالیں تو وہاں کی بیٹی انہیں نہیں ملتی۔ ان مسکینوں سے انصاف کے برتاؤ نہیں برتتے جاتے۔ ان کی حاجتیں اور ان کی اُمٹگیں اور مرادیں پوری ہونے سے پہلے ہو خود فوت ہو جاتے ہیں اور آرزوئیں دل کی دل میں ہی رہ جاتی ہیں۔ انہیں قیامت کے دن اس قدر نور ملے گا کہ اگر وہ تقسیم کیا جائے تو تمام دنیا کو کافی ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ کے اشعار میں ہے کہ بہت سے وہ لوگ جو دنیا میں حقیر و ذلیل سمجھے جاتے ہیں کل قیامت کے دن تخت و تاج والے، ملک و منال والے، عزت و جلال والے بنے ہوئے ہوں گے۔ باغات میں، نہروں میں، نعمتوں میں، راحتوں میں مشغول ہوں گے۔

رسول کریم ﷺ فرماتے ہیں کہ جناب باری تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ سب سے زیادہ میرا پسندیدہ ولی وہ ہے جو کم مال والا، کم جانوں والا، نمازی، عبادت و اطاعت گزار، پوشیدہ و علانیہ مطہج ہو، لوگوں میں اس کی عزت اور اس کا وقار نہ ہو، اس کی جانب انگلیاں نہ اٹھتی ہوں اور وہ اس پر صابر ہو۔ پھر حضور ﷺ نے چنگی بجا کر فرمایا: اس کی موت جلدی آ جاتی ہے، اس کی میراث بہت کم ہوتی ہے، اس پر رونے والیاں تھوڑی ہوتی ہیں۔ آنحضرت ﷺ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ محبوب بندے غرباء ہیں جو اپنے دین کو لیے پھرتے ہیں۔ جہاں دین کے کمزور ہونے کا خطرہ ہوتا ہے وہاں سے نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جمع ہوں گے۔ (تفسیر ابن کثیر: ۴/۱۹۰، ۱۹۱)

### (۵۴) دعا مانگنے کے آداب

(۱) دعا صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے:

دعا صرف خدا سے مانگئے، اس کے سوا کبھی کسی کو حاجت روائی کے لیے نہ پکاریے، اس لیے کہ دعا، عبادت کا جوہر ہے اور عبادت کا مستحق تمہا خدا ہے۔ قرآن پاک کا ارشاد ہے:

﴿لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْمَعُونَ لَهُمْ شَيْءٌ إِلَّا كِبَاسٌ مِّن مَّاءٍ لَّيْلَةٍ فَكَانُوا مَوْتًا هُوَ بِهَا كَلِمَةٌ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ﴾ (سورۃ الرعد: آیت ۱۴)

ترجمہ: ”اسی کو پکارنا برحق ہے۔ اور یہ لوگ اس کو چھوڑ کر جن استیوں کو پکارتے ہیں وہ ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ ان کو پکارنا تو ایسا ہے جیسے کوئی شخص اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلا کر چاہے کہ پانی (دور سے) اس کے منہ میں آچنچے، حالانکہ پانی اس تک کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ بس اسی طرح کافروں کی دعائیں بے نتیجہ بھٹک رہی ہیں۔“

یعنی حاجت روائی اور کار سازی کے سارے اختیارات خدا ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ اس کے سوا کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ سب اسی کے محتاج ہیں۔ اس کے سوا کوئی نہیں جو بندوں کی پکار سنے اور اس کی دعاؤں کا جواب دے۔

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ الْفَقْرَ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ (سورۃ الفاطر: آیت ۱۵)

ترجمہ: ”انسانو! تم سب اللہ کے محتاج ہو، اللہ ہی غنی اور بے نیاز اور اچھی صفات والا ہے۔“

نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے:

میرے بندو! میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کر لیا ہے تو تم بھی ایک دوسرے پر ظالم و زیادتی کو حرام سمجھو، میرے بندو! تم میں سے ہر ایک گمراہ ہے سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دوں، پس تم مجھ ہی سے ہدایت طلب کرو میں تمہیں ہدایت دوں۔

میرے بندو! تم میں سے ہر ایک بھوکا ہے سوائے اس شخص کے جس کو میں کھلاؤں۔ پس تم مجھ ہی سے روزی مانگو میں تمہیں روزی دوں گا۔ میرے بندو! تم میں سے ہر ایک تنگا ہے۔ سوائے اس کے جس کو میں پہناؤں، پس تم مجھ ہی سے لباس مانگو میں تمہیں پہناؤں گا۔

میرے بندو! تم رات میں بھی گناہ کرتے ہو اور دن میں بھی اور میں سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ (صحیح مسلم)

اور آپ ﷺ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ ”آدمی کو اپنی ساری حاجتیں خدا سے ہی مانگنی چاہئیں۔ یہاں تک کہ اگر جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو خدا ہی سے مانگے اور اگر نمک کی ضرورت ہو تو وہ بھی اسی سے مانگے۔“ (ترمذی)

مطلب یہ ہے کہ انسان کو اپنی چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کے لیے خدا ہی کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اس کے سوا نہ کوئی دعاؤں کا سننے والا ہے اور نہ کوئی مرادیں پوری کرنے والا ہے۔

(۲) ناجائز اور نامناسب باتوں کی دعا نہ مانگو:

خدا سے وہی کچھ مانگئے جو حلال اور طیب ہو، ناجائز مقاصد اور گناہ کے کاموں کے لیے خدا کے حضور ہاتھ پھیلاتا انتہائی درجے کی بے ادبی، بے حیائی اور گستاخی ہے، حرام اور ناجائز مرادوں کے پورا ہونے کے لیے خدا سے دعائیں کرنا اور فتیں ماننا دین کے ساتھ بدترین قسم کا مذاق ہے۔ اسی طرح ان باتوں کے لیے بھی دعا نہ مانگئے جو خدا نے ازلی طور پر طے فرمادی ہیں اور جن میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ مثلاً کوئی پستہ قد انسان اپنے قد کے دراز ہونے کی دعا کرے، یا کوئی غیر معمولی دراز قد انسان قد کے پست ہونے کی دعا کرے، یا کوئی دعا کرے کہ میں ہمیشہ جوان رہوں اور کبھی بڑھا پانہ آئے وغیرہ۔ قرآن کا ارشاد ہے:

﴿وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوا مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾

ترجمہ: ”اور ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک اسی طرح رکھو اور اسی کو پکارو اس

کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے۔“ (سورۃ اعراف: آیت ۲۹)

خدا کے حضور اپنی ضرورتیں رکھنے والا نافرمانی کی راہ پر چلتے ہوئے ناجائز مرادوں کے لیے دعائیں نہ مانگئے بلکہ اچھا کردار اور پاکیزہ جذبات پیش کرتے ہوئے نیک مرادوں کے لیے خدا کے حضور اپنی درخواست رکھے۔

(۳) دعا اخلاص اور یقین کے ساتھ مانگنی چاہیے:

دعا، گہرے اخلاص اور پاکیزہ نیت سے مانگئے۔ اور اس یقین کے ساتھ مانگئے کہ جس خدا سے آپ مانگ رہے ہیں وہ آپ کے حالات کا پورا پورا یقینی علم رکھتا ہے اور آپ پر انتہائی مہربان بھی ہے، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی پکار سنتا اور ان کی دعائیں قبول کرتا ہے، نمود و نمائش، ریا کاری اور شرک کے ہر شاہے سے اپنی دعاؤں کو بے آمیزہ رکھئے۔ قرآن میں ہے:

﴿فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ (سورۃ المومن: آیت ۱۳)

ترجمہ: ”بس اللہ کو پکارو اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے۔“

اور سورۃ بقرہ میں ہے:

﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۚ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۚ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ (سورۃ البقرۃ: آیت ۱۸۶)

ترجمہ: ”اور اے رسول! جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دیجئے کہ میں اسے قریب ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، لہذا انہیں میری دعوت قبول کرنی چاہیے اور مجھ پر ایمان لانا چاہیے تاکہ وہ راہِ راست پر چلیں۔“

(۴) دعا پوری توجہ اور حضور قلب سے مانگنی چاہیے:

دعا پوری توجہ، یکسوئی اور حضور قلب سے مانگنے اور خدا سے اچھی امید رکھنے اپنے گناہوں کے انبار پر نگاہ رکھنے کے بجائے خدا کے بے پایاں غفور کرم اور بے حد و حساب جو دوسٹا پر نظر رکھنے۔ اس شخص کی دعا درحقیقت دعائی نہیں ہے جو غافل اور لاپرواہ ہو اور لا ابالی پن کے ساتھ محض ٹوک زبان سے کچھ الفاظ بے دلی کے ساتھ ادا کر رہا ہو اور خدا سے خوش گمان نہ ہو۔ حدیث میں ہے۔

”اپنی دعاؤں کے قبول ہونے کا یقین رکھتے ہوئے (حضور قلب سے) دعا کیجئے۔ خدا ایسی دعا کو قبول نہیں کرتا جو غافل اور بے پروا دل سے نکلی ہو۔“ (ترمذی)

(۵) دعا انتہائی عاجزی اور خشوع کے ساتھ مانگنی چاہیے:

دعا انتہائی عاجزی اور خشوع و خضوع کے ساتھ مانگنے۔ خشوع اور خضوع سے مراد یہ ہے کہ آپ کا دل خدا کے بیست اور عظمت و جلال سے لرز رہا ہو اور جسم کی ظاہری حالت پر بھی خدا کا خوف پوری طرح ظاہر ہو، سر اور نگاہیں جھکی ہوئی ہوں، آواز پست ہو، اعضاء ڈھیلے پڑے ہوئے ہوں، آنکھیں نم ہوں، اور تمام انداز و اطوار سے مسکینی اور بے کسی ظاہر ہو رہی ہو، نبی کریم ﷺ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز کے دوران اپنی ڈاڑھی کے بالوں سے کھیل رہا ہے تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے جسم پر بھی خشوع طاری ہوتا۔“ دراصل دعا مانگتے وقت آدمی کو اس تصور سے لرزنا چاہیے کہ میں ایک در ماندہ فقیر ایک بے نوا مسکین ہوں، اگر خدا نخواستہ میں اس در سے ٹھکرادیا گیا تو پھر میرے لیے کہیں کوئی ٹھکانا نہیں، میرے پاس اپنا کچھ نہیں ہے جو کچھ ملا ہے خدا ہی سے ملا ہے اور اگر خدا نہ دے تو دنیا میں کوئی دوسرا نہیں ہے جو مجھے کچھ دے سکے۔ خدایا ہر چیز کا وارث ہے۔ اسی کے پاس ہر چیز کا خزانہ ہے۔ بندہ محض فقیر اور عاجز ہے۔ قرآن پاک میں ہدایت ہے:

﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا﴾ (سورۃ الاعراف: آیت ۵۵)

ترجمہ: ”اپنے رب کو عاجزی اور زاری کے ساتھ پکارو۔“

عبدیت کی شان ہی یہی ہے کہ بندہ اپنے پروردگار کو نہایت عاجزی اور مسکنت کے ساتھ گڑگڑا کر پکارے۔ اور اس کا دل و دماغ، جذبات و احساسات اور سارے اعضاء اس کے حضور جھکے ہوئے ہوں، اور اس کے ظاہر و باطن کی پوری کیفیت سے احتیاج و فریاد لپک رہی ہو۔



(۶) دعا چکے چکے دھیمی آواز سے مانگنی چاہیے:

دعا چکے چکے دھیمی آواز سے مانگئے۔ خدا کے حضور ضرور گڑگڑائیے لیکن اس گریہ وزاری کی نمائش ہرگز نہ کیجئے۔ بندے کی عاجزی اور انکساری اور فریاد صرف خدا کے سامنے ہونی چاہیے۔ بلاشبہ بعض اوقات دعا زور زور سے بھی کر سکتے ہیں لیکن یا تو تنہا کی میں ایسا کیجئے یا پھر جب اجتماعی دعا کر رہے ہوں تو اس وقت بلند آواز سے دعا کیجئے تاکہ دوسرے لوگ آمین کہیں۔ عام حالات میں خاموشی کے ساتھ پست آواز میں دعا کیجئے اور اس بات کا پورا اہتمام کیجئے کہ آپ کی گریہ وزاری اور فریاد بندوں کو دکھانے کے لیے ہرگز نہ ہو۔

﴿وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ﴾

(سورہ اعراف: آیت ۲۰۵)

ترجمہ: ”اور اپنے رب کو دل ہی دل میں زاری اور خوف کے ساتھ یاد کیا کرو اور زبان سے بھی ہلکی آواز سے صبح و شام یاد کرو۔ اور ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔“

حضرت زکریا علیہ السلام کی شان بندگی کی تعریف کرتے ہوئے قرآن میں کہا گیا ہے:

﴿إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا﴾ (سورہ مریم: آیت ۳)

ترجمہ: ”جب اس نے اپنے رب کو چکے چکے سے پکارا۔“

(۷) دعا کرنے سے پہلے کوئی نیک کام کیجئے یا نیک کام کا واسطہ دے کر دعا کیجئے:

دعا کرنے سے پہلے کوئی نیک عمل ضرور کیجئے مثلاً کچھ صدقہ و خیرات کیجئے، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیجئے، یا نفل نماز اور روزوں کا اہتمام کیجئے اور اگر خدا نخواستہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائیں تو اپنے اعمال کا واسطہ دے کر دعا کیجئے جو آپ نے پورے اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کے لیے کئے ہوں۔ قرآن میں ہے:

﴿الَّذِي يُصْعَدُ الْكَلِمَ الطَّوْبَ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾ (سورہ انفطار: آیت ۱۰)

ترجمہ: ”اسی کی طرف پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں اور نیک عمل انہیں بلند مدارج طے کراتے ہیں۔“

نبی کریم ﷺ نے ایک بار تین ایسے اصحاب کا واقعہ سنایا جو ایک اندھیری رات میں ایک غار کے اندر بچھڑ گئے تھے۔ ان لوگوں نے اپنے مخلصانہ عمل کا واسطہ دے کر خدا سے دعا کی اور خدا نے ان کی مصیبت کو دور فرما دیا۔

واقعہ یہ ہوا کہ تین ساتھیوں نے ایک رات غار میں پناہ لی، خدا کا کرنا، پہاڑ سے ایک چٹان پھسل کر غار کے منہ پر آ پڑی اور غار بند ہو گیا۔ دیو قامت چٹان تھی، بھلا ان کے بس میں کہاں تھا کہ اس کو ہٹا کر غار کا منہ کھول دیں۔ مشورہ یہ ہوا کہ اپنی اپنی زندگی کے مخلصانہ عمل کا واسطہ دے کر خدا سے دعا کی جائے، کیا عجب کہ خدا سن لے اور اس مصیبت سے نجات مل جائے۔ چنانچہ ایک نے کہا:

”میں جنگل میں بکریاں چرایا کرتا تھا اور اسی پر گزارہ تھا میرا۔ جب میں جنگل سے واپس آتا تو سب سے پہلے اپنے بوڑھے ماں باپ کو دودھ پلاتا اور پھر اپنے بچوں کو، ایک دن میں دیر سے آیا۔ بوڑھے ماں باپ سو چکے تھے۔ بچے جاگ رہے تھے اور بھوکے تھے۔

لیکن میں نے یہ گوارا نہ کیا کہ ماں باپ سے پہلے بچوں کو پلاؤں اور یہ بھی گوارا نہ کیا کہ والدین کو جگا کر تکلیف پہنچاؤں۔ چنانچہ میں رات بھر دودھ کا پیالہ لئے ان کے سر ہانے کھڑا رہا۔ بچے میرے پیروں میں چٹ چٹ کر روتے رہے لیکن صبح تک اسی طرح کھڑا رہا۔ خدا یا! میں نے یہ عمل خالص تیری خاطر کیا! تو اس کی برکت سے غار کے منہ سے چٹان ہٹا دے۔“ اور چٹان اتنی ہٹی کہ آسمان نظر آنے لگا۔

دوسرے نے کہا: ”میں نے کچھ مزدوروں سے کام لیا اور سب کو مزدوری دے دی لیکن ایک شخص اپنی مزدوری چھوڑ کر چلا گیا۔ کچھ

عرصے کے بعد جب وہ مزدوری لینے آیا تو میں نے اس سے کہا یہ گائیں بکریاں اور یہ نوکر چاکر سب تمہارے ہیں لے جاؤ۔ وہ بولا خدا کے لیے مذاق نہ کرو۔ میں نے کہا مذاق نہیں واقعی یہ سب کچھ تمہارا ہے تم جو رقم چھوڑ کر گئے تھے۔ میں نے اس کو کاروبار میں لگایا۔ خدا نے اس میں برکت دی اور جو کچھ تم دیکھے رہے ہو سب اسی سے حاصل ہوا ہے یہ تم اطمینان کے ساتھ لے جاؤ۔ سب کچھ تمہارا ہے، وہ شخص سب کچھ لے کر چلا گیا۔ خدا یا! یہ میں نے شخص تیری رضا کے لیے کیا۔ خدا یا! تو اس کی برکت سے غار کے منہ سے چٹان کو دور فرما دے۔“ خدا کے کرم سے چٹان اور ہٹ گئی۔

تیسرے نے کہا: ”میری ایک چچا زاد بہن تھی جس سے مجھ کو غیر معمولی محبت ہو گئی تھی۔ اس نے کچھ رقم مانگی۔ میں نے رقم مہیا کر دی، لیکن جب میں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے پاس بیٹھا تو اس نے کہا خدا سے ڈرو اس کام سے باز رہو۔ میں فوراً اٹھ گیا اور میں نے وہ رقم بھی اس کو بخش دی۔ اے خدا! تو خوب جانتا ہے کہ میں نے یہ سب شخص تیری خوشنودی کے لیے کیا۔ خدا یا! تو اس کی برکت سے غار کے منہ کو کھول دے۔“ خدا نے غار کے منہ سے چٹان ہٹا دی اور تینوں کو خدا نے اس مصیبت سے نجات بخشی۔

### (۸) اچھے کاموں کی طرف سبقت اور حرام کاموں سے پرہیز کیجئے:

نیک مقاصد کے لیے دعا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کو خدا کی ہدایت کے مطابق سنوارنے اور سدھارنے کی کوشش کیجئے، گناہ اور حرام سے پوری طرح پرہیز کیجئے۔ ہر کام میں خدا کی ہدایت کا پاس دلچسپی رکھو اور پرہیزگاری کی زندگی گزارو۔ حرام کھا کر، حرام پی کر، حرام پہن کر اور بے باکی کے ساتھ حرام کے مال سے اپنے جسم کو پال کر دعا کرنے والا یہ آرزو کرے کہ میری دعا قبول ہو، تو یہ زبردست نادانی اور ڈھٹائی ہے۔ دعا کو قابل قبول بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کا قول و عمل بھی دین کی ہدایت کے مطابق ہو۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”خدا پاکیزہ ہے اور وہ صرف پاکیزہ مال ہی کو قبول کرتا ہے اور خدا نے مومنوں کو اسی بات کا حکم دیا ہے، جس کا اس نے رسولوں کو حکم دیا ہے چنانچہ اس نے فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا﴾ (سورۃ المؤمن: آیت ۵۱)

ترجمہ: ”اے رسولو! پاکیزہ روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو۔“

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ (سورۃ البقرہ: آیت ۱۷۲)

ترجمہ: ”اے ایمان والو! جو طلال اور پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو بخشی ہیں وہ کھاؤ۔“

پھر آپ ﷺ نے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا جو لمبی مسافت طے کر کے مقدس مقام پر حاضری دیتا ہے، غبار میں اٹا ہوا ہے۔ گرد آلود ہے اور اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف پھیلا کر کہتا ہے اے میرے رب! اے میرے رب! حالانکہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے اور حرام ہی سے اس کے جسم کی نشوونما ہوئی ہے۔ تو ایسے (باغی اور نافرمان) شخص کی دعا کیوں قبول ہو سکتی ہے؟ (صحیح مسلم)

### (۹) اللہ تعالیٰ سے برابر دعا مانگتے رہو:

برابر دعا کرتے رہو۔ خدا کے حضور، اپنی عاجزی اور احتیاج اور عبودیت کا اظہار خود ایک عبادت ہے، خدا نے خود دعا کرنے کا حکم دیا ہے اور فرمایا کہ بندہ جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی سنتا ہوں۔ دعا کرنے سے کبھی نہ اکتائیے۔ اور اس چکر میں کبھی نہ پڑیے کہ دعا سے تقدیر بدلے گی یا نہیں، تقدیر کا بدلنا نہ بدلتا، دعا کا قبول کرنا یا نہ کرنا خدا کا کام ہے، جو عظیم و حکیم ہے۔ بندے کا کام بہر حال یہ ہے کہ وہ ایک فقیر محتاج کی طرح برابر اس سے دعا کرتا رہے اور لمحہ بھر کے لیے بھی خود کو بے نیاز نہ سمجھے۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”سب سے بڑا عاجز وہ

ہے جو دعا کرنے میں عاجز ہے۔" (طبرانی)

اور نبی کریم ﷺ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ "خدا کے نزدیک دعا سے زیادہ عزت و اکرام والی چیز اور کوئی نہیں ہے۔" (ترمذی)

مومن کی شان ہی یہ ہے کہ وہ رنج و راحت، دکھ اور سکھ، تنگی اور خوش حالی، مصیبت و آرام ہر حال میں خدا ہی کو پکارتا ہے، اسی کے حضور اپنی حاجتیں رکھتا ہے اور برابر اس سے خیر کی دعا کرتا رہتا ہے۔ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے "جو شخص خدا سے دعا نہیں کرتا۔ خدا اس پر غضب ناک ہوتا ہے۔" (ترمذی)

(۱۰) دعا قبول نہ ہو پھر بھی دعا مانگتے رہو:

دعا کی قبولیت کے معاملے میں خدا پر بھروسہ رکھئے، اگر دعا کی قبولیت کے اثرات جلد ظاہر نہ ہو رہے ہوں تو مایوس ہو کر دعا چھوڑ دینے کی غلطی بھی نہ کیجئے، قبولیت دعا کی فکر میں پریشان ہونے کے بجائے صرف دعا مانگنے کی فکر کیجئے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں "مجھے دعا قبول ہونے کی فکر نہیں ہے، مجھے صرف دعا مانگنے کی فکر ہے۔ جب مجھے دعا مانگنے کی توفیق ہوگی تو قبولیت بھی اس کے ساتھ حاصل ہو جائے گی۔"

نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: "جب کوئی مسلمان خدا سے کچھ مانگنے کے لیے خدا کی طرف منہ اٹھاتا ہے تو خدا اس کا سوال ضرور پورا کرتا ہے، یا تو اس کی مراد پوری ہو جاتی ہے یا خدا اس کے لیے اس کی مانگی چیز کو آخرت کے لیے جمع فرمادیتا ہے۔"

قیامت کے دن خدا ایک بندہ مومن کو اپنے حضور طلب فرمائے گا اور اس کو اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھے گا "اے میرے بندے! میں نے تجھے دعا کرنے کا حکم دیا تھا اور یہ وعدہ کیا تھا کہ میں تیری دعا کو قبول کروں گا۔ تو کیا تو نے دعا مانگی تھی؟" وہ کہے گا "پروردگار! مانگی تھی۔" پھر خدا فرمائے گا۔ "تو نے مجھ سے جو دعا بھی مانگی تھی میں نے وہ قبول کی، کیا تو نے فلاں دن یہ دعا نہ کی تھی کہ میں تیرا رنج و غم دور کروں جس میں تو مبتلا تھا اور میں نے تجھے اس رنج و غم سے نجات بخشی تھی؟" بندہ کہے گا "بالکل سچ ہے پروردگار!"

پھر خدا فرمائے گا: "وہ دعا تو میں نے قبول کر کے دنیا ہی میں، میں نے تیری آرزو پوری کر دی تھی اور فلاں روز پھر تو نے دوسرے غم میں مبتلا ہونے پر دعا کی کہ خدا یا! اس مصیبت سے نجات دے مگر تو نے اس رنج و غم سے نجات نہ پائی اور برابر اس میں مبتلا رہا۔" وہ کہے گا "بے شک پروردگار! تو خدا فرمائے گا" میں نے اس دعا کے عوض جنت میں تیرے لیے طرح طرح کی نعمتیں جمع کر رکھی ہیں۔" اور اسی طرح دوسری حاجتوں کے بارے میں بھی دریافت کر کے یہی فرمائے گا۔"

پھر نبی کریم ﷺ نے فرمایا: "بندہ مومن کی کوئی دعا ایسی نہ ہوگی جس کے بارے میں خدا یہ بیان نہ فرمادے کہ یہ میں نے دنیا میں قبول کی اور یہ تمہاری آخرت کے لیے ذخیرہ کر کے رکھی اس وقت بندہ مومن سوچے گا کاش میری کوئی دعا بھی دنیا میں قبول نہ ہوتی اس لیے بندے کو ہر حالت میں دعا مانگتے رہنا چاہیے۔" (حاکم)

(۱۱) دعا کے وقت ظاہر و باطن پاک صاف ہونا چاہیے:

دعا مانگتے وقت ظاہری آداب، طہارت، پاکیزگی کا پورا پورا خیال رکھئے اور قلب کو بھی ناپاک جذبات، گندے خیالات اور بے ہودہ معتقدات سے پاک رکھئے۔ قرآن میں ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ (سورۃ البقرہ: آیت ۲۲۲)

ترجمہ: "بے شک خدا کے محبوب بندے وہ ہیں جو بہت زیادہ توبہ کرتے ہیں اور نہایت پاک صاف رہتے ہیں۔"

اور سورۃ مدثر میں ہے:

﴿وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ ۝ وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ﴾ (سورۃ المدثر: آیت ۲۳)

ترجمہ: ”اور اپنے رب کی کبریائی بیان کیجئے اور اپنے نفس کو پاک رکھئے۔“

(۱۱) پہلے سے اپنے لیے پھر دوسرے کیلئے دعا کیجئے:

دوسروں کے لیے بھی دعا کیجئے۔ لیکن ہمیشہ اپنی ذات سے شروع کیجئے۔ پہلے اپنے لیے دعا مانگئے پھر دوسروں کے لیے۔ قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کی دو دعائیں نقل کی گئی ہیں جن سے یہی سبق ملتا ہے:

﴿رَبِّ اجْعَلْنِي مَعَ الصَّالِحِينَ ۝ وَمِنْ فَرِيضِي رَبَّنَا وَقَبِلْ دُعَاءِ ۝ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ﴾ (سورۃ ابراہیم: آیت ۴۰-۳۹)

ترجمہ: ”اے میرے رب! مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی۔ پروردگار! میری دعا قبول فرما۔ اور میرے والدین اور سارے مسلمانوں کو اس دن معاف فرما دے جبکہ حساب قائم ہوگا۔“

﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ (سورۃ نوح: آیت ۲۸)

ترجمہ: ”میرے رب! میری مغفرت فرما، اور میرے ماں باپ کی مغفرت فرما، اور ان مومنوں کی مغفرت فرما جو ایمان لا کر میرے گھر میں داخل ہوئے اور سارے ہی مومن مردوں اور عورتوں کی مغفرت فرما۔“

حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم ﷺ کی شخص کا ذکر فرماتے تو اس کے لیے دعا کرتے اور دعا اپنی ذات سے شروع کرتے۔ (ترمذی)

(۱۳) امام کو جامع اور جمع کے صیغوں کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے:

اگر آپ امامت کر رہے ہیں تو ہمیشہ جامع دعائیں مانگئے اور جمع کے صیغے استعمال کیجئے۔ قرآن پاک میں جو دعائیں نقل کی گئی ہیں، ان میں بالعموم جمع ہی کے صیغے استعمال کیے گئے ہیں۔

(۱۴) دعا میں تنگی نظری سے پرہیز کیجئے:

دعا میں تنگ نظری اور خود غرضی سے بھی بچئے اور خدا کی عام رحمت کو محدود سمجھنے کی غلطی کر کے اس کے فیض و بخشش کو اپنے لیے خاص کرنے کی دعا نہ کیجئے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی میں ایک بدو آیا، اس نے نماز پڑھی، پھر دعا مانگی اور کہا اے خدا! مجھ پر اور محمد ﷺ پر رحم فرما اور ہمارے ساتھ کسی اور پر رحم نہ فرما۔ تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”تو نے خدا کی وسیع رحمت کو تنگ کر دیا۔“ (بخاری)

(۱۵) دعا میں بہ تکلف قافیہ بندی سے پرہیز کیجئے:

دعا میں بہ تکلف قافیہ بندی سے بھی پرہیز کیجئے اور سادہ انداز میں گزرا کر دعا مانگئے گانے اور سر ہلانے سے اجتناب کیجئے۔ البتہ بغیر کسی تکلیف کے کبھی زبان سے موزوں الفاظ نکل جائیں یا قافیہ کی رعایت ہو جائے تو کوئی مضائقہ بھی نہیں ہے۔ نبی کریم ﷺ سے بھی بعض دعائیں ایسی منقول ہیں جن میں بے ساختہ قافیہ بندی اور وزن کی رعایت کی گئی ہے۔ مثلاً آپ ﷺ کی ایک نہایت ہی جامع دعا حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔

”اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُكَ مِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَمِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا“

ترجمہ: ”خدا یا! میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس دل سے جس میں خشوع نہ ہو، اس نفس سے جس میں صبر نہ ہو، اس علم سے جو نفع بخش نہ ہو، اور اس دعا سے جو قبول نہ ہو۔“

(۱۶) دعا کا آغاز اللہ کی حمد و ثنا اور صلوة و سلام سے کیجئے:

دعا کی ابتداء اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور درود و سلام سے کیجئے۔ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے:

”جب کسی شخص کو خدا یا کسی انسان سے ضرورت و حاجت پوری کرنے کا معاملہ درپیش آئے تو اس کو چاہیے کہ پہلے وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھے اور پھر خدا کی حمد و ثنا کرے اور نبی کریم ﷺ پر درود و سلام بھیجے اس کے بعد خدا کی بارگاہ میں اپنی ضرورت کو بیان کرے۔“ (ترمذی)

نبی کریم ﷺ کی شہادت ہے کہ بندہ کی جو دعا خدا کی حمد و ثنا اور نبی کریم ﷺ پر درود و سلام کے ساتھ پہنچتی ہے، وہ شرف قبولیت پاتی ہے۔

حضرت فضالہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ مسجد میں تشریف رکھتے تھے کہ ایک شخص آیا اس نے نماز پڑھی اور نماز کے بعد کہا: ”اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي“ خدا یا! میری مغفرت فرما۔ آپ ﷺ نے یہ سن کر اس سے کہا: ”تم نے مانگنے میں جلد بازی سے کام لیا۔ جب نماز پڑھ کر بیٹھو تو پہلے خدا کی حمد و ثنا کرو پھر درود شریف پڑھو پھر دعا مانگو۔“ آپ ﷺ یہ فرمائی رہے تھے کہ دوسرا آدمی آیا اور اس نے نماز پڑھ کر خدا کی حمد و ثنایاں کی، درود شریف پڑھا۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”اب دعا مانگو، دعا قبول ہوگی۔“ (ترمذی)

(۱۷) قبولیت دعا کے خاص اوقات اور حالات:

خدا سے ہر وقت ہر آن دعا مانگتے رہو اس لیے کہ وہ اپنے بندوں کی فریاد سننے سے کبھی نہیں اکتاتا۔ البتہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ خاص اوقات اور مخصوص حالات ایسے ہیں جن میں خصوصیت کے ساتھ دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں لہذا ان مخصوص حالات میں دعاؤں کا خصوصی اہتمام فرمائیے۔

① رات کے پچھلے حصے کے سنانے میں جب عام طور پر لوگ میٹھی نیند کے مزے میں مست پڑے ہوتے ہیں جو بندہ اٹھ کر اپنے رب سے راز و نیاز کی گفتگو کرتا ہے اور مسکین بن کر اپنی حاجتیں اس کے حضور رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ خصوصی کرم فرماتا ہے۔ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”خدا ہر رات کو آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے یہاں تک کہ جب رات کا پچھلا حصہ باقی رہ جاتا ہے تو فرماتا ہے: کون مجھے پکارتا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، کون مجھ سے مانگتا ہے کہ میں اس کو عطا کروں، کون مجھ سے مغفرت چاہتا ہے کہ میں اسے معاف کروں۔“ (ترمذی)

② شب قدر میں زیادہ سے زیادہ دعا کیجئے کہ یہ رات خدا کے نزدیک ایک ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے اور یہ دعا خاص طور پر پڑھئے۔ (ترمذی)

”اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تَحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي“

ترجمہ: ”خدا یا تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، پس تو مجھے معاف فرما دے۔“

③ میدان عرفات میں جب ۹/ذی الحجہ کو خدا کے مہمان جمع ہوتے ہیں۔

④ جمعہ کی مخصوص ساعت میں جو جمعہ کا خطبہ شروع ہونے سے نماز کے ختم ہونے تک یا نماز عصر کے بعد سے نماز مغرب تک ہے۔

⑤ اذان کے وقت اور میدان جہاد میں جب مجاہدوں کی صف بندی کی جا رہی ہو۔ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”دو چیزیں خدا کے

- دربار میں روٹھیں کی جائیں، ایک اذان کے وقت کی دعا، دوسری جہاد (میں صف بندی) کے وقت کی دعا۔ (ابوداؤد)
- ⑥ اذان اور تکبیر کے درمیانی وقفہ میں۔ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے ”اذان اور اقامت کے درمیانی وقفہ کی دعا روٹھیں کی جاتی“ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے دریافت کیا، یا رسول اللہ! اس وقفے میں کیا دعا مانگا کریں۔ فرمایا: ”یہ دعا مانگا کرو۔“
- اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ  
ترجمہ: ”خدا یا! میں تجھ سے عفو و کرم اور عافیت و سلامتی مانگتا ہوں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔“
- ④ رمضان کے مبارک ایام میں بالخصوص افطار کے وقت۔ (بزر)
- ⑤ فرض نمازوں کے بعد۔ (ترمذی)
- ⑥ سجدے کی حالت میں۔ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب سے بہت ہی قربت حاصل کر لیتا ہے پس تم اس حالت میں خوب خوب دعا مانگا کرو۔“
- ⑦ جب آپ کسی شدید مصیبت یا انتہائی رنج و غم میں مبتلا ہوں۔ (حاکم)
- ⑧ جب ذکر فکر کی کوئی دینی مجلس منعقد ہو۔ (بخاری، مسلم)
- ⑨ جب قرآن پاک کا ختم ہو۔ (طبرانی)
- (۱۸) قبولیت دعا کے مخصوص مقامات:

حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ جب مکہ سے بصرہ جانے لگے تو آپ نے مکہ والوں کے نام ایک خط لکھا جس میں مکہ کے قیام کی اہمیت اور فضائل بیان کئے اور یہ بھی واضح کیا کہ مکہ میں ان پندرہ مقامات پر خصوصیت کے ساتھ دعا قبول ہوتی ہے۔

① ملتزم کے پاس	② میزاب رحمت کے نیچے	③ کعبہ کے اندر
④ چاہ زمزم کے پاس	⑤ صفا و مروہ پر	⑥ صفا و مروہ کے پاس جہاں سعی کی جاتی ہے
⑦ مقام ابراہیم کے پیچھے	⑧ عرفات میں	⑨ مزدلفہ میں
⑩ منیٰ میں	⑪ جمرات کے پاس۔ (حصن صہبن)	

### (۱۹) منقول دعاؤں کا اہتمام کیجئے:

برابر کوشش کرتے رہو کہ آپ کو خدا سے دعا مانگنے کے وہی الفاظ یاد ہو جائیں جو قرآن پاک اور احادیث رسول میں آئے ہیں۔ خدا نے اپنے پیغمبروں اور نیک بندوں کو دعا مانگنے کے جو انداز اور الفاظ بتائے ہیں ان سے اچھے الفاظ اور انداز کوئی کہاں سے لائے گا؟ پھر خدا کے بتائے ہوئے اور رسولوں کے اختیار کئے ہوئے الفاظ میں جو اثر، مٹھاس، جامعیت، برکت اور قبولیت کی شان ہوتی ہے وہ کسی دوسرے کلام میں کیسے ممکن ہے! اسی طرح نبی کریم نے شب و روز کی جو دعائیں مانگی ہیں ان میں بھی سوز، مٹھاس، جامعیت اور عبودیت کاملہ کی ایسی شان پائی جاتی ہے کہ ان سے بہتر دعاؤں، التجاؤں اور آرزوؤں کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔ قرآن و حدیث کی تلائی ہوئی دعاؤں کا ورور کھنے اور ان کے الفاظ اور مفہوم پر غور کرنے سے ذہن و فکر کی یہ تربیت بھی ہوتی ہے کہ مومن کی تمنائیں اور التجائیں کیا ہونی چاہئیں۔ کن کاموں میں اس کو اپنی قوتوں کو کھپانا چاہیے اور کن چیزوں کو اپنا منہجائے مقصود بنانا چاہیے۔

بلاشبہ دعا کے لیے کسی زبان، انداز یا الفاظ کی کوئی قید نہیں ہے۔ بندہ اپنے خدا سے جس زبان اور جن الفاظ میں جو چاہے مانگے۔ مگر یہ خدا کا مزید فضل و کرم ہے کہ اس نے یہ بھی بتایا کہ مجھ سے مانگو اور اس طرح مانگو اور دعاؤں کے الفاظ تلقین کر کے بتادیا کہ مومن کو

دین و دنیا کی فلاح کے لیے کیا نقطہ نظر رکھنا چاہیے۔ اور کن تمناؤں اور آرزوؤں سے دل کی دنیا کو آراستہ رکھنا چاہیے اور پھر دین و دنیا کی کوئی حاجت اور خیر کا کوئی پہلو ایسا نہیں جس کے لیے دعا نہ سکھائی گئی ہو۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ خدا سے ہر آن وسنت کے بتائے ہوئے الفاظ ہی میں دعا مانگیں اور انہیں دعاؤں کا ورد رکھیں جو قرآن میں نقل کی گئی ہیں یا مختلف اوقات میں خود نبی کریم ﷺ نے مانگی ہیں۔ البتہ جب تک آپ کو قرآن وسنت کی یہ دعائیں یاد نہیں ہو جاتیں اس وقت تک کے لیے آپ کم از کم یہی اہتمام کیجئے کہ اپنی دعاؤں میں کتاب وسنت کی بتائی ہوئی دعاؤں کے مفہوم ہی کو پیش نظر رکھیں۔ آگے ہر آن پاک اور نبی کریم ﷺ کی چند جامع دعائیں نقل کی جاتی ہیں، ان مبارک دعاؤں کو دیرے دیرے یاد کیجئے اور پھر انہیں کا ورد رکھئے۔

(۳۰) چند جامع دعائیں:

① ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ (سورہ بقرہ: آیت ۲۰)

ترجمہ: ”اے ہمارے رب! ہم کو دنیا میں بھی بہتری عنایت کیجئے! اور آخرت میں بہتری دیجئے! اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچائیے!“

② ﴿رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا﴾ (سورہ فرقان: آیت ۷۴)

ترجمہ: ”اے ہمارے رب! ہم کو ہماری عورتوں (یا ہمارے شوہروں) اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما! اور ہم کو پرہیزگاروں کا پیشوا بنا دے۔“

③ ﴿رَبَّنَا لَنَا آثِمَةٌ فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ (سورہ آل عمران: آیت ۱۶)

ترجمہ: ”اے ہمارے رب! ہم ایمان لے آئے، سو آپ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے! اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچالیجئے!“

④ ﴿إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ (سورہ فاتحہ: آیت ۵)

ترجمہ: ”بتا ہم کو سیدھی راہ۔“

⑤ ﴿وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا إِنَّتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ (سورہ بقرہ کی آخری آیات)

ترجمہ: ”اور درگزر کیجئے ہم سے! اور بخشش دیجئے ہم کو! اور رحم کیجئے ہم پر! آپ ہمارے کارساز ہیں، سو آپ ہم کو کافر لوگوں پر غالب کیجئے۔“

⑥ ﴿رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ (سورہ یونس: آیت ۸۵-۸۶)

ترجمہ: ”اے ہمارے رب! ہم کو ان ظالم لوگوں کا تختہ مشق نہ بنا، اور ہم کو مہربانی فرما کر ان کافروں سے نجات دے!“

⑦ ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ﴾ (سورہ ابراہیم: آیت ۴۱)

ترجمہ: ”اے ہمارے رب! میری مغفرت کر دیجئے! اور میرے ماں باپ کی اور تمام مومنین کی بھی، حساب قائم ہونے کے دن۔“

⑧ (اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالْتَقَى وَالْغِنَى) (رواہ مسلم، مشکوٰۃ: ص ۲۱۸)

ترجمہ: ”اے اللہ! میں آپ سے ہدایت، پرہیزگاری، پاکدامنی اور بے نیازی طلب کرتا ہوں۔“

⑨ (اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ)

ترجمہ: ”اے اللہ! میں آپ سے بخشش اور عافیت طلب کرتا ہوں دنیا اور آخرت میں۔“ (رواہ الترمذی وابن ماجہ، مشکوٰۃ: ص ۲۱۹)

⑩ (اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الصِّبْغَةَ وَالْبَيْضَةَ وَالْأَمَانَةَ وَحُسْنَ الْخُلُقِ وَالرِّضَا بِالْقُدْرَةِ) (رواہ البیہقی، فی الدعوات الکبیر، مکتوبہ: ص ۲۲۸) ترجمہ: "اے اللہ! میں آپ سے صحت و تندرستی اور پاکدامنی و پارسائی امانت اور اچھی سیرت اور تقدیر پر راضی رہنے کی درخواست کرتا ہوں۔"

⑪ (اللَّهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِي مِنَ النِّفَاقِ وَعَمَلِي مِنَ الرِّيَاءِ وَكَلِمَاتِي مِنَ الْكِبْدِ وَعَيْنِي مِنَ الْخِيَاةِ تَعَلَّمْ حَايَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُغْنِي الصُّدُورُ) (حوالہ بالا)

ترجمہ: "یا الہی! پاک کر دے میرے دل کو نفاق سے، اور میرے عمل کو ریا کاری سے، اور میری زبان کو جھوٹ سے، اور میری نگاہ کو خیانت سے، آپ خوب جانتے ہیں، آنکھوں کی خیانت کو اور ان باتوں کو جن کو دل چھپاتے ہیں۔"

⑫ (اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا وَرِزْقًا طَيِّبًا) (حوالہ بالا)

ترجمہ: "یا الہی! میں آپ سے نفع بخش علم، مقبول علم اور پاکیزہ روزی مانگتا ہوں۔"

⑬ (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَعَافِنِي وَكَوِّزْنِي) (رواہ مسلم، مکتوبہ: ص ۲۱۸)

ترجمہ: "یا الہی! میری مغفرت فرما، اور مجھ پر رحم فرما، اور مجھے ہدایت نصیب فرما، اور مجھے عافیت عطا فرما، اور مجھے روزی عطا فرما۔"

⑭ (اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تَجِبُ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي) (مکتوبہ: ص ۱۸۴)

ترجمہ: "یا الہی! آپ معاف کرنے والے ہیں، معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں۔ پس میری خطائیں معاف فرما!"

⑮ (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَأَعُوذُكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ وَأَعُوذُكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ) (رواہ مسلم، مکتوبہ: ص ۸۷)

ترجمہ: "اے اللہ! میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں دوزخ کے عذاب سے، اور میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں قبر کے عذاب سے،

اور میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں کانے دجال کے فتنے سے، اور میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں زندگی اور موت کے فتنے سے۔"

⑯ (رَبِّ اِعْبَتْنِي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ) (رواہ احمد و ابوداؤد و الترمذی و النسائی مکتوبہ: ص ۸۸)

ترجمہ: "اے میرے رب! میری مدد فرما، تیرا ذکر کرنے، تیرا شکر کرنے اور تیری اچھی عبادت کرنے پر۔"

⑰ (رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا) (سورۃ طہ: آیت ۱۱۴)

ترجمہ: "اے میرے رب! میرے علم و فہم میں اضافہ فرما۔"

## (۵۵) پریشانیوں سے نجات اور رزق میں برکت کیلئے آسان نبوی نسخہ

"مَا شَاءَ اللَّهُ لِأَحْوَالٍ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ"

ترجمہ: "وہی ہوگا جو اللہ چاہے نہ کوئی طاقت ہے نہ قوت سوائے اللہ کے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے"

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "جو شخص صبح میں یہ دعا پڑھ لے تو اس دن بہترین رزق سے نوازا

جائے گا اور برائیوں سے محفوظ رہے گا اور جو شام کو پڑھ لے تو اس رات بہترین رزق سے نوازا جائے گا اور برائیوں سے محفوظ رہے گا۔"

(ابن اسنی، کنز العمال: ۱۰۶/۴، الدعاء بالمسنون: ص ۲۵۴)

## (۵۶) بسم اللہ کے خواص

① مہربان دیر بنی مطبوعہ مصر ص ۴ پر شیخ احمد دیر بنی کبیر فرماتے ہیں کہ بسم اللہ کے بعض خواص میں سے ایک یہ ہے کہ اگر کوئی محرم کی کیم



تاریخ کو بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ایک ورق (کاغذ) پر ایک سو تیرہ (۱۱۳) بار لکھ کر اپنے پاس رکھے تو پوری زندگی اس کو کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے۔

② بعض صالحین سے منقول ہے کہ جو شخص بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کو بارہ ہزار بار پڑھے، اور ہر ایک ہزار کے بعد دو رکعت نماز پڑھے اور نبی کریم ﷺ پر درود بھیجے، اور اس کے ساتھ حق تعالیٰ سے اپنی حاجت کا سوال کرے، پھر دوبارہ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ پڑھے اور ایک ہزار کے بعد دو رکعت نماز اور درود شریف پڑھ کر طلب حاجت کرے، اسی طرح پڑھتا رہے یہاں تک کہ بارہ ہزار عدد پورے ہو جائیں۔ پس جو کوئی اس پر عمل کرے گا، حاجت اس کی جس طرح کی ہوگی باذن اللہ پوری ہوگی۔

(عمرات دیرلی: ص ۴)

③ جو شخص بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ سات سو چھیالیس (۷۸۶) بار متواتر سات دن جس کام کے واسطے پڑھے گا خواہ نفع حاصل کرنے کے واسطے ہو یا مصیبت کو ہٹانے کے واسطے ہو یا کاروبار کے واسطے ہو۔ انشاء اللہ وہ مقصد پورا ہوگا۔ (عمرات دیرلی: ص ۴)

④ خزینۃ الاسرار للنازلی میں لکھا ہے کہ جو شخص رات کو سوتے وقت اکیس (۲۱) دفعہ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ پڑھ کر سوتے وہ تمام انسانی، شیطانی شرارتوں اور جن، بھوت اور آگ سے محفوظ رہے گا۔

⑤ مرگی والے کے کان میں اکتالیس (۴۱) مرتبہ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ پڑھ کر دم کرنے سے وہ ہوش میں آجاتا ہے۔

⑥ درد یا جادو وغیرہ متواتر (کاتار) سات دن سو (۱۰۰) مرتبہ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ پڑھنے سے درد اور جادو دور ہو جاتا ہے۔

⑦ اتوار کی صبح سورج نکلنے ہی تین سو تیرہ (۳۱۳) دفعہ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اور سو (۱۰۰) دفعہ درود شریف پڑھنے سے نبی رزق کا دروازہ کھل جاتا ہے۔

⑧ اکیس (۲۱) مرتبہ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ لکھ کر بچوں کے گلے میں ڈالنے سے بچہ تمام آفات و بلیات سے مامون رہتا ہے۔

⑨ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اکثہ (۶۱) بار کسی کاغذ پر لکھی جائے اور جس عورت کی اولاد زندہ نہ رہتی ہو اور اس کو اپنے پاس بطور تعویذ رکھے۔ انشاء اللہ اس کی اولاد زندہ رہے گی، یہ امر مجرب اور آزمودہ ہے۔ (عمرات دیرلی)

⑩ اگر کوئی شخص بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ایک سو ایک (۱۰۱) بار لکھ کر اپنے کھیت میں دفن کرے تو موجب سرسبزی کھیت و فراوانی غلہ و حفاظت از جملہ آفات و باعث حصول برکت ہوگا۔ (عمرات دیرلی: ص ۶)

⑪ ایک مرد صالح نے کہا کہ جو کوئی بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ چھ سو پچیس (۶۲۵) بار لکھ کر اپنے پاس رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو بیبت عظیم دے گا۔ کوئی شخص اس کو ستانہ سکے گا۔ باذن اللہ۔ (کتاب الداؤد والدار اللطوبہ صدیق حسن خان: ص ۱۷)

⑫ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر جلد اول صفحہ ۱۶۸ پر بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کی برکات بیان فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ فرعون نے دعائے الوہیت کرنے سے پہلے ایک مکان بنایا تھا اور اس کے بیرونی دروازے پر بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ لکھی تھی۔ جب اس نے خدائی دعویٰ کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تبلیغ کی تو اس نے قبول نہ کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے حق میں بددعا کی: ”خداوند! تو نے اس خبیث کو کس لیے مہلت دے رکھی ہے؟“ وحی آئی اے موسیٰ! یہ ہے تو اس قابل کہ اس کو ہلاک کر دیا جائے لیکن اس کے دروازے پر بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ لکھی ہوئی ہے۔ جس کی وجہ سے وہ عذاب سے بچا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے فرعون پر گھر میں عذاب نہیں آیا، بلکہ وہاں سے نکال کر دریا میں غرق کر دیا گیا۔

سبحان اللہ! جب ایک کافر کا گھر بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کی وجہ سے عذاب سے بچ گیا تو اگر کوئی مسلمان اس کو اپنے دل و دماغ اور زبان پر لکھے لے تو کیوں نہ وہ عذاب الہی سے محفوظ رہے۔

③ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر عزیزی میں لکھتے ہیں کہ مفسرین نے کہا ہے کہ جب طوفان نوح نے اس دنیا کو اپنے خوف ناک عذاب کے چنگل میں گھیر لیا اور حضرت نوح علیہ السلام اپنی کشتی میں سوار ہوئے تو وہ بھی خوف غرق سے بہت ہراساں و لرزاں تھے۔ انہوں نے غرق سے نجات پانے اور اسی عذاب خداوندی سے محفوظ رہنے کے لیے **بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرِبَهَا وَمُرْسَهَا** کہا اس کلمہ کی برکت سے ان کی کشتی غرقابی سے محفوظ و سالم رہی۔

مفسرین کہتے ہیں کہ جب اس آدھے کلمے کی وجہ سے اتنے ہیبت ناک طوفان سے نجات حاصل ہوئی، تو جو شخص اپنی پوری زندگی اس پورے کلمے یعنی **بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ** سے اپنے ہر کام کی ابتداء کرنے کا التزام کر لے وہ نجات سے کیونکر محروم رہ سکتا ہے؟  
(تفسیر عزیزی: صفحہ ۱۶۹، تفسیر کبیر: جلد ۱ صفحہ ۱۶۹)

④ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب بلقیس ملکہ یمن کو پہلا خط لکھا تو ”**اِنَّهُ مِنْ سُلَيْمٰنَ وَاِنَّهُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ**“ لکھا تو اس کی برکت سے بلقیس ان کے نکاح میں آئی اور اس کا پورا ملک حضرت سلیمان علیہ السلام کے قبضہ میں آیا۔ (تفسیر کبیر: جلد ۱ صفحہ ۱۶۹)

⑤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک دفعہ قبرستان سے گزر ہوا تو دیکھا کہ ایک شخص کو نہایت شدت کے ساتھ عذاب دیا جا رہا ہے، یہ دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام چند قدم آگے تشریف لے گئے اور وضو اور نہا کر واپس ہوئے۔ اب واپسی پر جو اس قبر کے پاس سے گزرے تو ملا حظہ فرمایا کہ اس قبر میں نور ہی نور ہے اور وہاں رحمت الہی کی بارش ہو رہی ہے۔ آپ بہت حیران ہوئے اور بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ مجھے اس کا راز بتایا جائے۔ ارشاد ہوا کہ روح اللہ! یہ شخص سخت گنہگار و بدکار تھا، اس وجہ سے عذاب میں گرفتار تھا لیکن اس نے اپنی بیوی حاملہ چھوڑی تھی اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوا اور آج اس کو کتب بھیجا گیا، وہاں اس کو **بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ** پڑھائی۔ مجھے حیا آئی کہ زمین کے اندر اس شخص کو عذاب دوں کہ جس کا بچہ زمین پر میرا نام لے رہا ہے۔ (تفسیر کبیر: جلد ۱ صفحہ ۱۷۲)

⑥ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی شخص زہر ہلال (مہلک) کا لبریز پیالہ لایا اور کہا کہ اگر آپ اس زہر کو پی کر صحیح سلامت زندہ رہیں تو ہم جان لیں گے کہ آپ کا مذہب اسلام چاند مذہب ہے۔ آپ نے **بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ** پڑھ کر وہ زہر پی لیا اور خدا کے فضل سے کچھ بھی اثر نہ ہوا۔

⑦ قیصر روم کو بڑی شدت سے در دہر ہوا۔ علاج محالہ سے مایوسی کے بعد اس نے حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں لکھا کہ مجھے در دہر کی شکایت ہے کچھ علاج کیجئے۔ آپ نے اس کے پاس ایک ٹوپی بھیج دی۔ جب بادشاہ ٹوپی اوڑھتا تھا تو درد کا فور ہو جاتا اور جب اتار دیتا تھا تو درد دوبارہ شروع ہو جاتا، اس کو سخت تعجب ہوا۔ اس نے ٹوپی کو کھلوا کر دیکھا تو اس میں ایک پرچہ رکھا ہوا تھا جس میں **بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ** لکھا ہوا تھا۔ (تفسیر کبیر: جلد ۱ صفحہ ۱۷۱)

⑧ نیز علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ دن رات کے چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں۔ پانچ گھنٹوں کے لیے تو پانچ وقت نمازیں مقرر ہیں اور انیس (۱۹) گھنٹوں کے لیے یہ انیس حروف عطا فرمائے گئے تاکہ انیس گھنٹوں میں ہر نشست و برخاست ہر حرکت و سکون اور ہر کام کے وقت ان انیس حروف کے ذریعے برکت و عبادت حاصل ہو۔ یعنی ان حروف (**بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ**) کی برکت سے یہ انیس گھنٹے بھی عبادت میں لکھے جائیں۔ (تفسیر عزیزی: ۱۶/۱)

⑨ **بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ** کی برکات سے ایک یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص بیت الخلاء جانا چاہے تو چاہے کہ وہ **بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ** کہہ کر جائے تاکہ (اس کی وجہ سے) اس کی شرم گاہ اور جنات کے درمیان پردہ واقع ہو جائے۔ یعنی جب کوئی شخص **بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ** کہہ کر بیت الخلاء جاتا ہے تو اس کا خاصہ یہ ہے کہ جنات کی نظر اس کی شرم گاہ کی طرف نہیں جاتی۔ لہذا جب اس کی تاثیر یہ ہے کہ یہ آیت انسان اور اس کے دشمن (جنات) کے درمیان پردہ بن جاتی ہے

تو امید ہے کہ یہ ایک مسلمان اور عذابِ عقبی کے درمیان بھی یقیناً پردہ بن کر حائل ہوگی۔ (تفسیر مزیدی)

حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے پرچہ پر **بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ** لکھی ہوئی زمین پر پائی، اس کو اٹھا لیا۔ ان کے پاس سوائے دو درہم کے اور کچھ نہ تھا۔ خوشبو خرید کر اس پرچہ کو آپ نے خوشبو لگائی اس کے صلہ میں خواب کے اندر حق سبحانہ و تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوئی اور فرمایا: اے بشر! تو نے میرے نام کو خوشبودار بنایا، میں تیرے نام کو دنیا اور آخرت میں خوشبودار بناؤں گا۔

(کتاب الدوام والدوام للعلوَابِ مَدِیْنِیِّ حَسَنِ، تفسیر کبیر: صفحہ ۱۷۱)

## (۵۷) ایک یتیم بچے کا درد بھرا قصہ

وہ خوش نصیب صحابی جن کی قبر میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور فرمایا:

”اے اللہ! میں اس سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہو جا“

ایک یتیم بچہ تھا، اس کا نام عبداللہ تھا۔ چچا نے پرورش کی تھی، جب جوان ہوئے تو چچا نے اونٹ بکریاں غلام دے کر ان کی حیثیت درست کر دی تھی۔ عبداللہ نے اسلام کے متعلق کچھ سنا اور دل میں توحید کا شوق پیدا ہوا لیکن چچا سے اس قدر ڈرتا تھا کہ اظہارِ اسلام نہ کر سکا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے واپس گئے تو عبداللہ نے چچا سے کہا: ”پیارے چچا! مجھے برسوں انتظار کرتے گزر گئے کہ کب آپ کے دل میں اسلام کی تحریک پیدا ہوتی ہے اور آپ کب مسلمان ہوتے ہیں؟ لیکن آپ کا حال وہی پہلے کا سا چلا آتا ہے، میں اپنی عمر پر زیادہ اعتماد نہیں کر سکتا، مجھے اجازت دیجئے کہ میں مسلمان ہو جاؤں۔“ چچا نے جواب دیا: ”دیکھ اگر تو مجھ (صلی اللہ علیہ وسلم) کا دین قبول کرنا چاہتا ہے تو میں سب کچھ تجھ سے چھین لوں گا تیرے بدن پر چادر اور تہبند تک باقی نہ رہنے دوں گا۔“

عبداللہ نے جواب دیا: ”چچا جان! میں مسلمان ضرور بنوں گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع قبول کروں گا، شرک اور بت پرستی سے میں بیزار ہو چکا ہوں، اب جو آپ کا منشاء ہے کیجئے اور جو کچھ میرے قبضہ میں زر و مال وغیرہ ہے سب کچھ سنبھال لیجئے، میں جانتا ہوں کہ ان چیزوں کو آخر ایک روز ہمیں دنیا میں چھوڑ جانا ہے اس لیے میں ان کے لیے سچے دین کو ترک نہیں کر سکتا۔“

عبداللہ نے یہ کہہ کر کپڑے اتار دیئے اور ماں کے سامنے گئے۔ ماں دیکھ کر حیران ہوئی کہ کیا ہوا! عبداللہ نے کہا: ”میں مومن اور موحّد ہو گیا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانا چاہتا ہوں، ستر پوشی کے لیے کپڑے کی ضرورت ہے مہربانی کر کے دے دیجئے۔“ ماں نے ایک کبیل دے دیا، عبداللہ نے کبیل پہنا لیا، آدھے کا تہبند بنا لیا، آدھا اوپر کر لیا اور مدینہ کو روانہ ہو گئے۔ علی الصبح مسجد نبوی میں پہنچ گیا اور مسجد سے تکیہ لگا کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد مبارک میں آئے اسے دیکھ کر پوچھا کہ کون ہو؟ کہا میرا نام عبدالعزیٰ ہے، فقیر و مسافر ہوں، عاشقِ جمال اور طالبِ ہدایت ہو کر در دولت آپ پہنچا ہوں۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”تمہارا نام عبداللہ ہے، ذُو الْبَجَادِیْنِ لقب ہے، تم ہمارے قریب ہی ٹھہراؤ اور مسجد میں رہا کرو۔“ عبداللہ اصحابِ صفہ میں شامل ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھتا اور دن بھر عجب ذوق و شوق اور جوش و نشاط سے پڑھا کرتا۔

ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لوگ تو نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ اعرابی اس قدر بلند آواز سے ذکر کر رہا ہے کہ دوسروں کی قرأت میں حراحت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”عمر! اسے کچھ نہ کہو یہ تو خدا اور رسول کے لیے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آیا ہے۔“

عبداللہ کے سامنے غزوہ تبوک کی تیاری ہونے لگی تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے عرض کیا یا رسول اللہ! دعا فرمائیے کہ میں بھی راہِ خدا میں شہید ہو جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جاؤ کسی درخت کا چھلکا اُتار لاؤ۔ عبداللہ لے آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چھلکا ان کے بازو پر باندھ دیا اور زبان مبارک سے فرمایا: ”اللہ! میں کفار پر اس کا خون حرام کرتا ہوں۔“ عبداللہ نے کہا: ”یا رسول اللہ

ﷺ میں تو شہادت کا طالب ہوں۔“ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”جب اللہ کے راستے میں نکلو اور پھر بخارا آئے اور مر جاؤ تب بھی تم شہید ہی ہو گے۔“ تب تک پہنچ کر یہی ہوا کہ بخار چڑھا اور انتقال کر گئے۔ بلال بن حارث رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے عبد اللہ ﷺ کے دفن کی کیفیت دیکھی۔ رات کا وقت تھا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں چراغ تھا، حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما ان کی لاش کو لحد میں رکھ رہے تھے۔ اپنے بھائی کو مجھ سے قریب کرو، آنحضرت ﷺ نے قبر میں ایشیں بھی اپنے ہاتھ سے رکھیں اور پھر دعا میں فرمایا ”اے اللہ! میں ان سے راضی ہوں تو بھی ان سے راضی ہو جا۔“ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کاش اس قبر میں میں دفن کیا جاتا۔

(مدارج النبوة مترجم: ۳/۹۱، ۹۰/۱، ابن ہشام: ۲/۵۲۷، ۵۲۸)

## (۵۸) قیامت کے دن صلہ رحمی کی رانیں ہرن کی رانوں کی طرح ہوں گی

مسند احمد میں ہے کہ صلہ رحمی قیامت کے دن رکھی جائے گی، اس کی رانیں ہوں گی مثل ہرن کی رانوں کے، وہ بہت صاف اور تیز زبان سے بولے گی پس وہ (رحمت سے) کاٹ دیا جائے گا جو اسے کاٹا تھا اور وہ ملایا جائے گا جو اسے ملا تھا۔

صلہ رحمی کے معنی ہیں: قرابت داروں کے ساتھ بات چیت میں، کام کاج میں سلوک و احسان کرنا اور ان کی مالی مشکلات میں ان کے کام آنا۔ اس بارے میں بہت سی حدیثیں مروی ہیں۔

صحیح بخاری شریف میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو پیدا کر چکا تو رحم (رشتہ داری) کھڑی ہوئی اور رحمن سے چٹ گئی اس سے پوچھا گیا کیا بات ہے؟ اس نے کہا یہ مقام ہے ٹوٹنے سے تیری پناہ میں آنے کا۔ اس پر اللہ عزوجل نے فرمایا: کیا تو اس سے راضی نہیں کہ تیرے ملانے والے کو میں (اپنی رحمت سے) ملاؤں اور تیرے کاٹنے والے کو میں (اپنی رحمت سے) کاٹ دوں؟ اس نے کہا ہاں! اس پر میں بہت خوش ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص کشادہ روزی اور عمر دراز چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ (بخاری، مسلم)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: رحم (رشتہ داری) عرش کے ساتھ لگی ہوئی ہے اور کہتی ہے کہ جو صلہ رحمی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے ملائیں گے، اور جو قطع رحمی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے کاٹیں گے۔ (بخاری، مسلم)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرد نے کہا: یا رسول اللہ! میرے کچھ رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ میں صلہ رحمی کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ قطع رحمی کا معاملہ کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ احسان کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برا برتاؤ کرتے ہیں، میں ان کی غلطیوں کو نظر انداز کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ جاہلانہ برتاؤ کرتے ہیں۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: اگر تو ایسا ہی ہے جیسا تو کہہ رہا ہے تو گویا تو ان کے منہ پر گرم راکھ ڈال رہا ہے۔ (یعنی تو ان کو ذلیل و رسوا کر رہا ہے) اور جب تک تیری یہی حالت رہے گی تیرے ساتھ اللہ کی طرف سے ایک مددگار (فرشتہ) رہے گا۔ (مسلم شریف)

## (۵۹) حضرت جبرئیل علیہ السلام نے حضور ﷺ کو پریشانیوں سے نجات کی دعا سکھائی

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا: جب بھی ہمیں کوئی مصیبت پیش آئی حضرت جبرئیل علیہ السلام تشریف لاتے اور فرماتے یہ دعا پڑھو:

”تَوَسَّلْتُ عَلَىٰ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ لَمْ يَتَعَذَّ وَكُنَّا وَكَلَّمَا وَكَلَّمَا يَكُنُّ لَهُ شَرِيكَ فِي الْمَلِكِ وَكَلَّمَا يَكُنُّ لَهُ وَكَلَّمَا يَكُنُّ لَهُ وَكَلَّمَا يَكُنُّ لَهُ“

ترجمہ: ”بھروسہ کیا میں نے اس ذات پر جو زندہ ہے مرے گی نہیں جس نے نہیں بنایا بیٹانہ اس کا کوئی سلطنت میں شریک ہے نہ کوئی ذلت میں مددگار ہے۔ اس کی بڑائی بیان کیجئے۔“ (کنز العمال: ۲/۴، الدعاء المسنون: ص ۲۱۸، ۲۱۹)

### (۶۰) گھر کے ملازم اور پڑوسیوں کے شر سے بچئے

سارا جہاں جانتا ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ اسی طرح یہ بھی سچ ہے کہ بہو کے ہاتھ میں جنت اور جہنم کی چابی ہے۔ اب یہ بہو کی مرضی پر منحصر ہے کہ وہ کون سی چابی استعمال کرتی ہے۔ معاشرے کا جائزہ لینے پر پتہ چلتا ہے کہ اکثر بہو جہنم کی چابی استعمال کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر گھروں سے سکون اور اطمینان غائب ہو جاتا ہے اور برکت اٹھ جاتی ہے، خوش حالی روٹھ جاتی ہے، گھر جہنم بن جاتا ہے۔ آپ ہمیشہ الجھن کا شکار رہتی ہیں جس کا اثر پورے خاندان پر پڑتا ہے۔ پڑوس اور محلے میں آپ کے چرچے ہونے لگتے ہیں، آپ کو دیکھ کر لوگ ناک سکوزنے لگتے ہیں۔ بیزارگی کے عالم میں آپ سے ملاقات کے وقت مجبوراً مسکراتے ہیں لیکن ان سب باتوں کا آپ کو علم نہیں ہوتا کیونکہ آپ سمجھتی ہیں کہ گھر کی باتیں گھر کا معاملہ ہے، گھر ہی تک محدود ہے۔ لیکن آپ کے نوکر آپ کے پڑوسیوں سے مفت کی چائے پینے کی خاطر آپ کے گھر کی باتیں نمک مرچ لگا کر ان تک پہنچاتے ہیں اور پڑوسی آپ کے معاملہ کو محلے والوں تک پہنچاتے ہیں۔ معمولی سی بات، معمولی سی تلخی، معمولی سی غلط فہمی آپ کی اور آپ کے خاندان کی عزت کی دھجیاں اڑھا دیتی ہے، جس کا اثر آپ کے خاندان پر ہی نہیں پڑتا بلکہ آنے والی نسلیں کو بھی اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ ساتھ ہی بچوں کے ہونے والے رشتوں پر بھی اس کا بہت برا اثر پڑتا ہے۔ آپ اچھے رشتوں کی تلاش میں رہتے ہیں لیکن چاہتے ہوئے آپ ان رشتوں کو حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے ہیں۔ اب وہی پڑوسی انگوٹری کرنے والوں کے ہمدرد بن کر بتاتے ہیں کہ لڑکے کی والدہ نہایت گرم مزاج ہے اپنی ہی ساس سے تو اس کی بھی نہیں بنی۔ اب بتائیے کون بے وقوف والدین ہوں گے جو ایسی رپورٹ ملنے کے بعد اپنی بیٹی کو، آپ کی بہو بنانے کے لیے راضی ہو جائیں گے؟

اسی طرح آپ کے کروت کے پھل آپ کی لاڈلی کے راستے میں بھی رکاوٹ پیدا کرتے ہیں۔ آپ کی تلخ مزاجی، سلوک اور ساس سے آپ کے رویہ کو آپ کی لاڈلی کے مزاج سے جوڑ کر دیکھا جاتا ہے۔ نتیجہ آپ کی بیٹی خوبصورت ہے، خوب سیرت ہے، تعلیم یافتہ ہے، ہنرمند ہے، ہر لحاظ سے وہ ایک کامیاب بہو ثابت ہو سکتی ہے اور اچھے خاندان اسے اپنی بہو بنانے کے متنی ہیں لیکن آپ کے مزاج کے سلسلے میں جو خبریں معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں، آپ کی بیٹی کو اچھا گھر، اچھا شوہر پانے سے جس کی وہ حقدار ہے، محروم کر دیتی ہیں۔ آپ کے سسرال، پڑوس اور معاشرے میں اپنے آپ کو ہر دلعزیز بنانے کے لیے الگ سے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ دین اسلام اور پیارے نبی ﷺ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے اندر موجود باغی پن کو قابو میں رکھنے کی ضرورت ہے۔

لڑکی کو اپنے میکے سے سسرال جانے سے پہلے اپنے آپ کو تیار کر لینا چاہیے کہ اب آپ اپنے حقیقی میکے جا رہی ہیں، جہاں آپ کو تاحیات رہنا ہے اور ذمہ داریوں کو اچھے انداز سے نبھانا ہے۔ میکا تو صرف درس گاہ ہے، جو آپ کو رشتوں اور ذمہ داریوں کو نبھانے کا سلیقہ سکھاتا ہے۔ ساس اور خسر آپ کے حقیقی والدین ہیں۔ دیور اور نندیں آپ کے حقیقی بھائی بہن ہیں۔ جس طرح میکے میں بہن مل کر آپ کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے تھے اور آپ کی خواہش کا احترام کرتے تھے، اسی طرح اب باری آپ کی ہے سسرال میں، آپ کو سب کو خوشی دینی ہے، سب کی خواہشوں کے ساتھ ساتھ جذبات کا بھی احترام کرنا ہے اور یہ سب آپ کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔

اول آپ کو ہر ایک رشتے کو میکے میں جوڑ کر دیکھنا چاہیے۔ دوم اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی سمجھنا ہے، کشادہ دل رکھ کر ہر وقت قربانی کے جذبے سے سرشار رہنا ہے۔ اپنے اندر کے باغیانہ جذبات پر قابو رکھنا ہے، زبان کو ہر حال میں شیریں رکھنا ہے۔ سب کی منشاء اور

امیدوں سے ایک قدم آگے چلنا ہے۔ پھر دیکھئے سرال کا ہر ایک فرد آپ کی دل سے عزت و احترام کرنے لگے گا اور جہاں دو انسانوں کے درمیان عزت و احترام کا پل تعمیر ہو جائے وہاں تمام مشکلیں آسان ہو جاتی ہے۔ خوشیاں در کی غلام بن جاتی ہیں، نیک نامی سایہ فگن رہتی ہے۔ ازدواجی زندگی خوشگوار ہو جاتی ہے۔ آپ کی نیک نامی کے سبب آپ کی اولاد دنیا کے ہر میدان میں کامران رہتی ہے۔ آپ کا بڑھا پامحفوظ اور پرسکون ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ کی زندگی کامیاب ہو جاتی ہے اور گھر جنت کا نمونہ بن جاتا ہے۔

والدین بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ لڑکی ہمیشہ پرانی ہوتی ہے۔ اس لیے اس کی تربیت میں کوئی کمی نہ برتیں۔ بعض اوقات جب لڑکی بیاہ کر سرال جاتی ہے تو نہ اسے سرال کے طور طریقوں کا پتہ ہوتا ہے اور نہ ہی شوہر کی پسند ناپسند کا۔ ایسے حالات میں لڑکی سے بہت سی غلطیاں ہو جاتی ہیں جو گھر ملیں جھگڑوں کا سبب بنتی ہیں۔ اس لیے یہ والدین کا فرض ہے کہ وہ اپنی بچیوں کو اچھی تربیت دیں اور پہلے سے سرال کے طور طریقوں اور سرال میں اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ سکھائیں تو بہت سی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ ساتھ ہی اپنی بچیوں کو یہ تعلیم ضرور دیں کہ وہ اپنی ساس سر کو اپنے والدین کا درجہ دیں۔ بیشتر گھرانوں میں ازدواجی زندگی کے مسائل کی شروعات انہیں مسئلوں کی بناء پر ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بکتی ہے ہم ان سرالیوں سے بھی یہی بات کہیں گے کہ وہ اپنی بہوؤں کو اپنی بیٹیاں جانیں، انہیں نئے ماحول میں رہنے بسنے کی مہلت دیں۔ انہیں وہ محبت و شفقت عطا کریں جو وہ اپنی بچیوں کے لیے پسند کرتے ہیں۔ اکثر گھروں میں جھگڑے کا سبب دوسروں کی باتوں پر کان دھرنے سے بھی ہوتا ہے، جو عام طور پر ساس، بہو کے معاملے میں زیادہ کارگر ہوتا ہے اور یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ دونوں ہی کپے کان کی ہوتی ہیں۔ اس لیے دونوں اس بات کو اپنی گرہ میں اچھی طرح باندھ لیں کہ کسی بھی معاملے میں ایک دوسرے سے بدظن ہونے سے پہلے معاملے کو سمجھیں اور غیروں کی باتوں پر آنکھ مووند کر یقین کرنے سے پہلے آپس میں ایک دوسرے کی غلط فہمی کو دور کر لیں تو زندگی آسان ہو جائے گی۔

### ﴿ ۶۱ ﴾ عورت کا حسن کردار روح کی پاکیزگی ہے

ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ تندرست رہے۔ اسی طرح خواتین بھی تندرست رہنا چاہتی ہیں، مگر خواتین میں ایک اور بھی جذبہ ہوتا ہے اور وہ ہے خوبصورتی بڑھانے اور سنگھار کرنے کا۔ یہ دونوں جذبے ہمارے جسم سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی تندرست رہنے اور خوبصورتی بڑھانے کا جذبہ۔ مگر کیا کبھی آپ نے یہ بھی سوچا ہے کہ اپنی روح کی بالیدگی، روح کی صحت اور روح کے حسن کے لیے آپ کیا کرتی ہیں؟ عموماً دیکھا گیا ہے کہ انسان اچھی غذا استعمال کرتا ہے، ورزش کرتا ہے، خوبصورتی بڑھانے والی مصنوعات کا استعمال کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کے جسم کو تندرست اور خوبصورت بناتی ہیں۔ اس سے جسمانی اعضاء بہتر طور پر کام انجام دیتے ہیں، اچھی غذا اور اچھے میک اپ کے استعمال سے چہرے پر نکھار آ جاتا ہے اور چہرے کے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں اور ہر فرد آپ کی تعریف کرنے لگتا ہے کہ آپ نے کیا حسن و صحت پائی اور خواتین اپنی تعریف سن کر بہت خوش ہوتی ہیں۔ خواتین کو اگر صحت اعلیٰ بھی مل جائے تو انہیں وہ خوشی نہیں ہوتی جو کسی دوسرے سے اپنے حسن اور صحت کی تعریف سن کر ہوتی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حسن و صحت سے روح کا گہرا تعلق ہے۔ آپ کے حسن اور صحت مند جسم میں ایک روح ہے جس کی پاکیزگی اور خوبصورتی زیادہ معنی رکھتی ہے۔ نسبت خوبصورت اور صحت مند جسم کے۔ روح کو پاکیزہ رکھنے والا انسان ظاہری طور پر بھی خوبصورت ہوتا ہے اور باطنی طور پر بھی اپنے حسن اخلاق سے دوسروں کو مطمئن اور خوش رکھتا ہے۔ وہ اپنے برتاؤ سے اپنی عادتوں سے دوسروں میں نہ صرف مقبول ہوتا ہے بلکہ لوگ اس کا احترام اور عزت کرتے ہیں۔

عموماً ایسے لوگوں میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ بڑی سے بڑی مشکلوں میں ہونے کے باوجود اپنی زندگی معمول کے مطابق گزارتے ہیں اور کسی کو احساس تک نہیں ہونے دیتے کہ انہیں کسی بات کی تکلیف ہے، خواہ انہیں کوئی بڑی بیماری ہو، مالی تنگی کا سامنا ہو یا کسی اور

بات کی پریشانی ہو۔ وہ بالکل اپنا کام اسی انداز میں انجام دیتے ہیں جس طرح وہ اپنی صحت مند زندگی میں انجام دیا کرتے تھے۔  
روح کی پاکیزگی رکھنے والے اپنا کام خود کرتے ہیں ہر وقت خوش و خرم نظر آتے ہیں۔ کسی میک اپ کے بغیر ان کا حسن پر نور ہوتا ہے، پیشانی چمکتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کبھی غور کیا ہے آپ نے؟ یہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ وہ روح کی پاکیزگی پر یقین رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنے جسم اور حسن سے زیادہ اپنی روح کی پرورش کرتے ہیں۔ انہیں سنوارتے ہیں سجاتے ہیں۔ روح کی خوبصورتی اور غذا عبادت ہے۔ نیک اور صالح انسان اپنی روح کو غذا کس طرح دیتا ہے یہ بھی غور طلب بات ہے۔ مثلاً ایک ماں اپنے بچے کی صحت اور تعلیم و تربیت سے متعلق ہمیشہ کوشاں رہتی ہے۔ بچہ ذرا سہارا پڑ جائے تو وہ رات بھر بیٹھ کر اس کی تیار داری کرتی ہے۔ خدا کی بارگاہ میں اس کی صحت اور تندرستی کے لیے گڑگڑاتی ہے اور جب بچہ خوش اور صحت مند ہوتا ہے تو اس کی روح کو اپنے آپ غذا مل جاتی ہے۔

اسی طرح روح کی پاکیزگی ہمیں ان لوگوں میں بھی دکھائی دیتی ہے جو اپنے غموں سے زیادہ دوسروں کے دکھ کو اپنا سمجھتے ہیں اور ان کی ہر ممکن مدد کرتے ہیں۔ گویا دوسروں کی مدد کرنا بھی روح کی پاکیزگی کی علامت ہے۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں روح کی پرورش کرنا آتا ہے جو اپنی روح کو دوسروں کی غیبت، جھٹلی، کینہ، جھوٹ، بغض جیسے امراض میں مبتلا نہیں کرتے، جو صرف اپنے نفس کو سکون نہیں پہنچاتے بلکہ اپنے نفس پر قابو پاتے ہوئے دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جو دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے ہیں، دوسروں کی مدد کرتے ہیں، اپنی خوشیوں کا گلا گھونٹ کر دوسروں کو سکھ پہنچاتے ہیں اور اپنے نفس پر ہر ممکن قابو پاتے ہیں وہی انسان پاکیزہ روح رکھتے ہیں۔ نفس انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ نوح انسان پر زلزلے سیلاب وغیرہ جیسے عذاب نازل ہوا کرتے ہیں یہ تب ہوتا ہے جب جسم کی خواہشات روح کی ضرورتوں پر غالب آجاتی ہیں، تباہی اور بربادی کو انسان خود ہی دعوت دیتا ہے۔ مگر ہم یہ ساری باتیں ماننے سے انکار کرتے ہیں اور خواب خرگوش میں جھلا رہتے ہیں۔ جن گناہوں کے سبب ہم پر عذاب آیا ان گناہوں سے ہم پھر بھی توبہ نہیں کرتے۔ میری مخاطب تو خاص خواتین ہیں۔ عورتیں گو کہ ملکہ ہیں، اگر وہ چاہیں کہ ان کا گھر گناہوں سے پاک رہے تو وہ سکتا ہے۔ اب بھی وقت ہے اپنا محاسبہ کریں۔ اپنی بیمار روح کا علاج کریں۔ جتنا ہمارا جسم تندرست ہے روح کو بھی اتنا ہی مستند بنائیں۔  
آپ جانتی ہیں روح کی بالیدگی کے لیے کیا کرنا ہے؟

اس سے پہلے کہ ہم پر کوئی آفت آئے، معافی مانگ کر اپنے آپ کو آنے والے روشن مستقبل کے لیے تیار کر لیں۔ دوسروں سے اپنا مقابلہ نہ کریں۔ دوسروں نے قرآن مجید جیسے لائحہ عمل کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ وہ اسلام کی چاشنی سے روشناس ہی نہیں ہوئے ہیں۔ وہ اگر پیاسے ہیں تو مجبور ہیں، دریا ان سے کافی دور ہے۔ مگر ہم تو دریا کے قریب رہ کر بھی پیاسے ہیں۔ روح کی پیاس بجھانا کوئی بہت بڑا عمل نہیں ہے اور نہ ہی بہت بڑا کام ہے۔ انسان کو اپنی روح کی خوبصورتی اور صحت کے لیے صرف اور صرف اپنے نفس پر قابو پانے کی ضرورت ہے۔ آج اگر ہماری روح زخمی ہے تو اس کی وجہ بھی ہم خود ہی ہیں کہ ہم نے گھروں میں خوشیوں پال رکھی ہیں، انہوں سے ناٹھ توڑ لیا ہے، محبت کو بالائے طاق رکھ دیا ہے، دولت کے پجاری ہیں، روح کبھی خوبصورت اور پاکیزہ نہیں ہو سکتی بھلے ہی وہ جسمانی شکل و صورت میں خوبصورت دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن اس کی کوئی وقعت نہیں ہوتی۔ کیونکہ جس انسان کے دل میں کسی اور کے لیے ہمدردی نہ ہو، دوسروں کے لیے پیار نہ ہو، قربانی کا جذبہ نہ ہو، وہ نہ تو جسمانی طور پر خوبصورت کہلاتا ہے اور نہ روحانی طور پر خوبصورت ہو سکتا ہے۔

روح کا سارا حسن عبادت، تقویٰ اور پرہیزگاری پر منحصر ہوتا ہے، انسان پر جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت فرض ہے وہیں ایک انسان کے لیے دوسرے انسان کے تئیں ہمدردی اور بھائی چارگی اور عزت و احترام کا جذبہ بھی لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اگر یہ ساری خوبیاں انسان میں نہ ہوں تو وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوگا اور آخرت میں بھی۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے جسم اور حسن کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ روح کی مستند اور پاکیزہ بنانے کی کوشش کرے۔

### (۶۲) غصہ پی جائے جو کسی حور چاہیے لے لیجئے

حضور ﷺ فرماتے ہیں: ”جو شخص اپنا غصہ اُتارنے کی طاقت رکھتا ہے، پھر بھی ضبط کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا دل امن وامان سے پر کر دیتا ہے، جو شخص باوجود موجود ہونے کے شہرت کے پکڑنے کو تواضع کر کے چھوڑ دے اسے اللہ تعالیٰ کرامت اور عزت کا جوڑا قیامت کے دن پہنائے گا اور جو کسی کا سر چھپائے اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن بادشاہت کا تاج پہنائے گا۔“ (ابوداؤد)

حضور ﷺ فرماتے ہیں: ”جو شخص باوجود قدرت کے اپنا غصہ ضبط کر لے اسے اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کے ساتھ بلا کر اختیار دے گا کہ جس حور کو چاہے پسند کر لے۔“ (تفسیر ابن کثیر: جلد ۱ صفحہ ۳۵۸)

### (۶۳) حبیب اپنے حبیب کو عذاب نہیں کرتا

ایک مرتبہ رسول خدا ﷺ اپنے اصحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت کے ساتھ راہ سے گزر رہے تھے، ایک چھوٹا سا بچہ راہ میں کھیل رہا تھا۔ اس کی ماں نے جب دیکھا کہ ایک جماعت کی جماعت آرہی ہے تو اسے ڈر لگا کر بچہ روندن میں نہ آجائے۔ میرا بچہ میرا بچہ کہتی ہوئی دوڑی آئی اور جھٹ سے بچے کو گود میں اٹھالیا۔ اس پر صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا: حضور! یہ عورت تو اپنے پیارے بچے کو کبھی بھی آگ میں نہیں ڈال سکتی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ بھی اپنے پیارے بندوں کو ہرگز جہنم میں نہیں لے جائے گا۔“ (تفسیر ابن کثیر: جلد ۱ صفحہ ۷۳۰)

### (۶۴) اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے حیا کھینچ لیتا ہے

حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ برائی اور ہلاکت کا ارادہ فرماتا ہے تو اس سے حیا نکال لیتا ہے۔ جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ بھی اس سے بغض رکھتے ہیں اور وہ بھی لوگوں سے بغض رکھتا ہے۔ جب وہ ایسا ہو جاتا ہے تو پھر اس سے رحم کرنے اور ترس کھانے کی صفت نکال دی جاتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بد اخلاق، اکھڑ طبیعت اور سخت دل ہو جاتا ہے، جب وہ ایسا ہو جاتا ہے تو اس سے امانت داری کی صفت چھین لی جاتی ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں سے خیانت کرتا ہے اور لوگ بھی اس سے خیانت کرتے ہیں، جب وہ ایسا ہو جاتا ہے تو پھر اسلام کا پٹہ اس کی گردن سے اُتار لیا جاتا ہے اور پھر اللہ اور اس کی مخلوق بھی اس پر لعنت کرتی ہے اور وہ بھی دوسروں پر لعنت کرتا ہے۔ (حیاء اصحاب: جلد ۲ صفحہ ۵۷۴، ۵۷۵)

### (۶۵) یہ قذیل حیا یارب! رہے فانوس کے اندر

ابھی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو دینداری دے  
بچا لے مومنہ کو اے خدا مغرب پرستی سے  
یہ قذیل حیا یارب! رہے فانوس کے اندر  
پتہ بجھنے کا دے جاتی ہے شعلہ کی پریشانی  
اللہ العالمین یہ وقت فتنوں کا زمانہ ہے  
سروں میں عقل دے یارب دلوں میں نور ایمانی

### (۶۶) خلوت کے گناہوں کی وجہ سے مومنین کے دلوں میں نفرت ڈال دی جاتی ہے

حضرت سالم بن ابی الجعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا: آدمی کو اس سے بچتے رہنا چاہیے کہ مومنوں کے دل اس



سے نفرت کرنے لگ جائیں اور اسے پتہ بھی نہ چلے، پھر فرمایا: کیا تم جانتے ہو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میں نے کہا: نہیں۔ فرمایا: بندہ خلوت میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی نفرت مومنوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا۔

(حیاء الصحاب: جلد ۳ صفحہ ۳۷۶)

### (۶۷) ایک مکھی کی وجہ سے ایک آدمی جنت میں اور ایک آدمی دوزخ میں گیا

طارق بن شہاب مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ صرف ایک مکھی کی بدولت ایک شخص تو جنت داخل ہو گیا اور دوسرا دوزخ میں۔ لوگوں نے تعجب سے پوچھا یا رسول اللہ! یہ کیسے؟ فرمایا: ”کسی قوم کا ایک بت تھا ان کا دستور یہ تھا کہ کوئی شخص اس پر بھینٹ چڑھائے بغیر ادھر سے گزر نہیں سکتا تھا، اتفاق سے دو شخص ادھر سے گزرے، انہوں نے اپنے دستور کے مطابق ان میں سے ایک شخص سے کہا نیاز چڑھا، وہ بولا اس کے لیے میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، وہ بولے کچھ نہ کچھ تو ضرور چڑھا دے، خواہ ایک مکھی ہی سہی۔ اس نے ایک مکھی چڑھا دی اور اس وجہ سے وہ دوزخ میں گیا۔ انہوں نے اس کو تو چھوڑ دیا۔ اب دوسرے سے کہا کہ تو بھی کچھ چڑھا، وہ بولا اللہ کی ذات کے سوا میں تو کسی اور کے نام کی نیاز نہیں دے سکتا، یہ سن کر انہوں نے اس کی گردن اڑا دی، اس لیے وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ (احمد ترجمان اللہ: جلد ۲ صفحہ ۳۳۳)

### (۶۸) عاشورہ کے دن پیش آنے والے اہم واقعات

یوم عاشورہ بڑا ہی مہتمم باشان اور عظمت کا حامل ہے۔ تاریخ کے عظیم واقعات اس سے جڑے ہوئے ہیں، چنانچہ مورخین نے لکھا ہے کہ:

- ① یوم عاشورہ میں ہی حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔
  - ② اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہولناک سیلاب سے محفوظ ہو کر کوہ جودی پر لنگر انداز ہوئی۔
  - ③ اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ”خلیل اللہ“ بنایا اور ان پر آگ گزاری۔
  - ④ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم و استبداد سے نجات دلائی۔
  - ⑤ اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت ملی۔
  - ⑥ اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کو سخت بیماری سے شفاء ہوئی۔
  - ⑦ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکالے گئے۔
  - ⑧ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات ایک طویل عرصے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام سے ہوئی۔
  - ⑨ اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔
  - ⑩ اور اسی دن یہودیوں کے شر سے نجات دلا کر آسمان پر اٹھائے گئے۔
- بعض علمائے کرام نے مذکورہ بالا اہم واقعات کے علاوہ کچھ اور واقعات بھی بیان کئے ہیں جو یوم عاشورہ سے متعلق ہیں۔ مثلاً:
- ① اسی دن اللہ تعالیٰ نے آسمان وزمین، قلم، حضرت آدم و حوا علیہما السلام کو پیدا کیا۔
  - ② اسی دن قیامت آئے گی۔
  - ③ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی۔
  - ④ اسی دن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔
  - ⑤ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانہ سے رہائی نصیب ہوئی اور مصر کی حکومت ملی۔

- ① اسی دن دنیا میں پہلی بار ان رحمت (رحمت کی بارش) ہوئی۔  
 ④ اسی دن حضور اکرم ﷺ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا۔  
 ⑤ اسی دن ابولولو مجوسی کے ہاتھوں سے مصلیٰ رسول اللہ ﷺ پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے زخمی ہو کر جام شہادت نوش فرمایا۔  
 (۱۱۱۱ء ہجرت)

- ⑥ اسی دن کوئی فریب کاروں نے نواسہ رسول ﷺ اور جگر گوشہ فاطمہ رضی اللہ عنہا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔  
 ⑦ اسی دن قریش خانہ کعبہ پر نیا غلاف ڈالتے تھے۔ (معارف الحدیث: ۱۶۸/۳، پیغام حق و صداقت: ص ۱۶۸)  
 ⑧ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی اور ان کے اوپر سے عذاب نکلا۔ (معارف القرآن: پ ۱۱ آیت ۹۸)  
 ⑨ اسی دن حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب مدظلہ کا انتقال ہوا۔

### ﴿۶۹﴾ حضور اکرم ﷺ نے حضرت تمیم داری سے فرمایا: ”اگر میری لڑکی ہوتی تو تجھے اپنا داماد بنا لیتا“

حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ جب شام سے مدینہ آئے تو آپ اپنے ساتھ کچھ قند بلیں اور تھوڑا سا تیل بھی لیتے آئے مدینہ پہنچ کر قندیلوں میں تیل ڈال کر مسجد نبوی میں لٹکا دیں اور جب شام ہوئی تو انہوں نے انہیں جلادیا اور اس سے پہلے مسجد میں روشنی نہیں ہوتی تھی۔ آنحضرت ﷺ مسجد میں تشریف لائے اور مسجد کو روشن پایا تو دریافت فرمایا کہ مسجد میں روشنی کس نے کی ہے؟ صحابہ نے حضرت تمیم رضی اللہ عنہ کا نام بتایا آپ ﷺ بے حد خوش ہوئے ان کو دعائیں دیں اور فرمایا: اگر کوئی میری لڑکی ہوئی تو میں تمیم سے اس کا نکاح کر دیتا۔ اتفاق سے اس وقت نوفل بن حارث رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ انہوں نے اپنی بیوہ صاحبزادی اُمّ المغیرہ کو پیش کیا آپ نے اسی مجلس میں اُمّ المغیرہ سے حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کا نکاح کر دیا۔

حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ شام کے رہنے والے تھے قبیلہ لخم سے نسبی تعلق تھا اور مذہباً عیسائی تھے۔ اسلام لانے کے بعد جتنے غزوات پیش آئے سب میں شریک ہوئے۔ رسول اللہ ﷺ نے کفاح (گزارہ) کے لیے شام میں قریہ بنو عینو کا ایک حصہ آپ کو دے دیا تھا اس کی تحریری سند بھی لکھ دی تھی مگر دیا محبوب کی محبت نے وطن کی محبت فراموش کر دی چنانچہ عہد نبوی کے بعد خلفائے ثلاثہ کے زمانہ تک آپ مدینہ ہی میں رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ملی فتنہ و فساد شروع ہوا تو آپ ہادل ناخواستہ مدینہ چھوڑ کر اپنے وطن شام چلے گئے۔ فتح الباری میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تراویح باجماعت قائم کی تو مردوں کا امام حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو عورتوں کا امام حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا۔ ایک مرتبہ روح بن زباع رضی اللہ عنہ آپ کی خدمت میں گئے تو دیکھا کہ گھوڑے کے لیے جو صاف کر رہے ہیں اور گھر کے تمام لوگ آپ کے گرد بیٹھے ہیں۔ روح نے عرض کیا کیا ان لوگوں میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اس کام کو کر سکے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ ٹھیک ہے لیکن میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ: ”جب کوئی مسلمان اپنے گھوڑے کے لیے دانہ صاف کرتا ہے اور پھر اس کو کھلاتا ہے تو ہر دانہ کے بدلے اسے ایک نیکی ملتی ہے۔“ اس لیے میں خود اپنے ہاتھ سے کام کرتا ہوں تاکہ ثواب سے محروم نہ رہ جاؤں۔ انہوں نے ایک بہت قیمتی جوڑا خریدا تھا، جس روز ان کو شب قدر کی توفیق ہوتی تھی اسے اس روز پہنتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں ایک مرتبہ مقام حرہ میں آگ لگی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان سے واقعہ بیان کیا۔ حضرت تمیم رضی اللہ عنہ وہاں گئے اور بے خطر آگ میں گھس گئے اور اسے بجھا کر صحیح و سالم واپس چلے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کو خیر اہل المدینہ (مدینہ کے سب سے اچھے اور نیک آدمی) فرمایا کرتے تھے۔ (سیر الصحابہ: ۱۴۰/۳)

(۷۰) اللہ کا وعدہ ہے ”اے محمد ﷺ، ہم تم کو تمہاری اُمت کے بارے میں راضی کر دیں گے“

حضرت محمد ﷺ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اُمت کے لیے یہ دعاء مانگی ”اے اللہ! میری اُمت، اے اللہ! میری اُمت، اے اللہ! میری اُمت“ اور آپ ﷺ نے فرمایا: ”اے جبرئیل! تمہارا رب سب اچھی طرح جانتا ہے۔ لیکن تم محمد کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو کہ وہ کیوں رورہے ہیں؟“ چنانچہ حضرت جبرئیل علیہ السلام نے حاضر ہو کر پوچھا۔ حضور ﷺ نے رونے کی وجہ بتائی (کہ قیامت کے دن میری اُمت کا کیا ہوگا؟) حضرت جبرئیل علیہ السلام نے واپس آ کر اللہ تعالیٰ کو وجہ بتائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”محمد ﷺ کے پاس جاؤ اور ان سے کہو، ہم تم کو تمہاری اُمت کے بارے میں راضی کریں گے اور تمہیں رنجیدہ اور غمگین نہ ہونے دیں گے۔“

(حیاء الصحابہ، ۳/۳۷۲، ۳۷۱)

### (۷۱) بیس اہم نصیحتیں

- ① قیامت اس وقت آئے گی جب زمین پر کوئی اللہ کا نام لینے والا نہ ہوگا۔
- ② جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو سے فرشتے ایک میل دور ہٹ جاتے ہیں۔
- ③ اللہ کی یاد اور عمل صالح کے لیے نیت لازم ہے۔
- ④ ضرورت کی ایک حد ہے مگر حرص کی کوئی حد نہیں۔
- ⑤ بہادری یہ ہے کہ کمزور ہونے کے باوجود دوسروں کو اپنی کمزوری کا احساس مت ہونے دو۔
- ⑥ کامیابی کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ کامیابی حاصل کرنے کا احساس دل میں زندہ رکھا جائے۔
- ⑦ منجھ لوگوں کا سہارا مت لو ورنہ وہ تمہیں بھی منجھ کر دیں گے۔
- ⑧ اللہ والے بات بات پر تکلیف کا اظہار نہیں کرتے۔
- ⑨ جس کا کوئی مقصد نہیں اس کی کوئی منزل نہیں۔
- ⑩ سختیاں انسان کو طاقتور بنا دیتی ہیں اگر انسان کو صبر کرنے کی طاقت حاصل ہو۔
- ⑪ شخصیت کو نشوونما اس وقت رکتی ہے جب انسان اپنے آپ کو کمال سمجھتا ہے۔
- ⑫ کوشش تمہارا کام ہے اور نتیجہ نکالنا خدا کا کام ہے۔
- ⑬ شخی انسان کے دل میں چپکے سے پیدا ہوتی ہے اسے برباد کر دیتی ہے اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا۔
- ⑭ تم جس کام کی ذمہ داری اٹھاؤ گے تمہارا ذہن اس کے لیے ہی کام کرے گا۔
- ⑮ دنیا میں ذلت کی ہزاروں صورتیں ہیں، لیکن ان میں سے ذلت قرض سب سے سخت تر ہے۔
- ⑯ تمہارا قرض خواہ تمہاری صحت چاہے گا اور تمہارا مقروض تمہاری موت۔
- ⑰ بیمار تو سو بھی جاتا ہے مگر مقروض کو نیند نہیں آتی۔
- ⑱ عقل مند وہ ہے جو کم بولے اور زیادہ سنے۔
- ⑲ جو شخص غم رکھتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا وہ اس مریض کے مانند ہے جو دو اتور کھتا ہے، استعمال نہیں کرتا۔
- ⑳ اپنی ضرورت کو محدود کر لینا ہی دولت ہے۔

### (۷۲) سانپ بچھو وغیرہ سے بچنے کی نبوی دعاء

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور شکایت کی کہ مجھے بچھو نے کاٹ لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم شام کو یہ دعا پڑھ لیتے تو وہ تم کو ضرر نہیں پہنچا سکتا تھا:

(أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ)

ترجمہ: ”اللہ کے کلمات نامہ کے ذریعہ مخلوق کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں۔“ (محل ایوم: ص ۳۸۸، مسلم: ص ۳۳۷، ابن ماجہ: ص ۲۵۱)

### (۷۳) پیشاب کی بندش اور پتھری کا نبوی علاج

حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور یہ کہا کہ اس کے والد کا پیشاب رُک گیا ہے اور پیشاب میں پتھری آگئی ہے۔ انہوں نے درج ذیل دعا سکھائی جو انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی تھی۔

(رَبَّنَا الَّذِي فِي السَّمَاءِ تَقَدَّسَ لِسْمُكَ أَمْرُكَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ كَمَا رَحِمْتِكَ فِي السَّمَاءِ فَاجْعَلْ رَحْمَتَكَ فِي الْأَرْضِ وَاعْفِرْ لَنَا حُوبَنَا وَخَطَايَاكَ أَنْتَ رَبُّ الطَّيِّبِينَ فَاقْرَأْ شِفَاءً شِفَاؤَكَ وَرَحْمَةً مِنْ رَحْمَتِكَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ)

ترجمہ: ”ہمارا رب جو آسمان میں ہے، مقدس ہے تیرا نام، تیرا حکم زمین و آسمان میں ہے جس طرح تیری رحمت آسمان میں ہے، پس ڈال دے اپنی رحمت زمین میں، ہمارے گناہ اور ہماری خطائیں معاف فرما، تو ہی پاکیزہ ہستیوں کا رب ہے،

اپنی شفاء سے شفاء اور اپنی رحمت سے رحمت اپنی بیماری پر نازل فرما۔“ (محل ایوم نسائی: ص ۵۶۶، ابو داؤد: ص ۵۳۳)

امام نسائی رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ دو شخص عراق سے کسی کے پیشاب کی شکایت لے کر آئے، لوگوں نے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کی نشانی دہی کی تو حضرت ابو داؤد رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جسے یا جس کے بھائی کو یہ شکایت ہو اسے پڑھے۔

(محل ایوم: ص ۵۶۷)

فائدہ: بیمار اس دعا کو پڑھتا رہے یہ نہ ہو سکے تو کوئی دوسرا شخص پڑھ کر اس پر دم کرے یا کاغذ پر لکھ کر اس کا پانی پلا یا جائے۔

(الدعاء الحسن: ص ۳۳۹)

### (۷۴) ہر بلا سے حفاظت کا نبوی نسخہ

مسند بزار میں اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص شروع دن میں آیت الکرسی اور سورہ مومن کی پہلی تین آیتیں پڑھ لے وہ اس دن ہر برائی سے اور تکلیف سے محفوظ رہے گا۔ اس کو ترمذی نے بھی روایت کیا ہے۔

(معارف القرآن: ۵/۵۸۱، ابن کثیر: ۳/۳۳۹)

سورہ مومن کی پہلی تین آیتیں یہ ہیں:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا سَبِّحُوْا اللّٰهَ الْعَظِيْمَ ۝ غَافِرِ الدَّٰثِمِ ۝ وَكَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ ۝ ذِي الطَّلُوْلِ ۝ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۝ اَللّٰهُ الْمَنَّانُ ۝ (سورہ المومن: آیت ۱-۳)

### (۷۵) ایک چیونٹی کی دعا سے سلیمان علیہ السلام کو پانی ملا

ابن ابی حاتم میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام استسقاء (بارش کی دعاء مانگنے) کے لیے نکلے تو دیکھا کہ ایک چیونٹی اٹنی لیٹی

ہوئی اپنے پاؤں آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے دعاء کر رہی ہے کہ خدایا! ہم بھی تیری مخلوق ہیں۔ پانی برسنے کی ضرورت ہمیں بھی ہے۔ اگر پانی نہ برسا تو ہم ہلاک ہو جائیں گی۔ چیونٹی کی یہ دعائیں کر آپ ﷺ نے لوگوں میں اعلان کیا کہ لوٹ چلو، کسی اور ہی کی دعا سے تم پانی پلائے گئے۔ (تفسیر ابن کثیر: جلد ۳ ص ۶۳)

### (۷۶) درود غیرہ دور کرنے کا نبوی نسخہ

حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آپ ﷺ سے انہوں نے جسم میں کسی درود و تکلیف کی شکایت کی تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ جسم کے جس حصہ میں درد ہو وہاں ہاتھ رکھو اور یہ پڑھو۔ تین مرتبہ بسم اللہ سات مرتبہ یہ دعا:

(أَعُوذُ بِعِزِّ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ)

ترجمہ: "قدرت و عزت خداوندی کے واسطے سے اس کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں جس کی تکلیف اور جس سے ڈر محسوس کرتا ہوں۔" (مسلم: ج ۲۲، ۲۲۳، ذکر: ج ۱۱۳، الدعاء المسنون: ج ۲۳۶)

### (۷۷) آٹھ آیتوں کا ثواب ایک ہزار آیتوں کے برابر

رسول اللہ ﷺ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے خطاب کر کے فرمایا کہ "کیا تم میں سے کوئی آدمی اس کی قدرت نہیں رکھتا کہ ہر روز قرآن کی ایک ہزار آیتیں پڑھا کرے۔" صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ روزانہ ایک ہزار آیتیں کون پڑھ سکتا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ "تم میں کوئی ﴿الْهٰكُمُ التَّنٰكِرُ﴾ نہیں پڑھ سکتا۔" مطلب یہ ہے کہ ﴿الْهٰكُمُ التَّنٰكِرُ﴾ روزانہ پڑھنا ایک ہزار آیتوں کے پڑھنے کے برابر ہے۔ (منہجی، بحوالہ حاکم دہلوی عن ابن عمر رضی اللہ عنہما، معارف القرآن: ۸/۸۱۰)

### (۷۸) تواضع کی چند عظیم مثالیں

- ① عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ رات کو لکھ رہے تھے کہ ان کے پاس ایک مہمان آ گیا، چراغ بجھ رہا تھا مہمان چراغ درست کرنے کے لیے جانے لگا تو عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے کہا: "مہمان سے خدمت لینا کرم و شرف کے خلاف ہے۔" مہمان نے کہا: "میں نوکر کو اٹھا دیتا ہوں۔" عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: "وہ ابھی ابھی سویا ہے، اسے اٹھانا مناسب نہیں ہے۔" چنانچہ خود اٹھے تیل کی بوتل سے چراغ بھر کر روشن کر دیا، جب مہمان نے کہا: "آپ نے خود ہی یہ کام کر لیا ہے؟" تو فرمایا: "میں پہلے بھی عمر تھا اور اب بھی وہی ہوں، میرے اندر کوئی بھی کمی نہیں ہوئی اور انسانوں میں اچھا وہ ہے جو اللہ کے ہاں متواضع ہے۔"
- ② حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے مدینہ کے بازار سے گزر رہے تھے اور ان دنوں مدینہ میں مروان کے قائم مقام تھے اور فرما رہے تھے "امیر (یعنی ابو ہریرہ) آرہا ہے، گزرنے کے لیے راستہ کھلا کر دو، اس لیے کہ وہ لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے ہوئے ہے۔"
- ③ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک دن بائیں ہاتھ میں گوشت اٹھائے ہوئے تھے اور دائیں ہاتھ میں کوڑا تھا اور یہ ان دنوں خلیفہ اور امیر المؤمنین تھے۔
- ④ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے گوشت خریدا اور اپنی چادر میں باندھ لیا، ساتھیوں نے کہا ہم اٹھا لیتے ہیں۔ فرمایا: "جن بچوں کو کھانا ہے ان کا باپ اٹھائے یہ بہتر ہے۔"
- ⑤ سیدنا حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کی لونڈی بھی رسول اللہ ﷺ کو جہاں چاہتی دوسرے لوگوں سے الگ (بات کرنے کے لیے) لے جاتی۔

① ابوسلمہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے کہا: ”لوگوں نے لباس، طعام، سواری اور پینے کی چیزوں کی کیا ایجادات کر لی ہیں؟“ ابوسعید رضی اللہ عنہ نے جواب دیا: ”بھتیجے! آپ کا کھانا، پینا اور پہننا سب اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اس میں اگر خود پسندی، فخر، ریا اور نمائش پیدا ہو جائے تو یہ گناہ اور اسراف ہے۔ تو گھر کے کاموں میں وہ سب کام کر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کو چارا ڈالتے اور اسے باندھتے، گھر میں جھاڑو دیتے، بکری دوہتے، جوتے گانٹھتے، کپڑے پیوند کر لیتے، نوکر کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لیتے، وہ تھک جاتا تو آنا نہیں دیتے، بازار سے چیزیں خرید لاتے اور اس میں کبھی کوئی عار محسوس نہ کرتے اور خریدی ہوئی چیز اپنے ہاتھ میں پکڑے آتے، یا کپڑے میں باندھ کر گھر واپس لے آتے۔ غنی، فقیر، بڑے اور چھوٹے سب سے مصافحہ کرتے اور نمازیوں میں سے جو سامنے آ جاتا چھوٹا یا بڑا، کالا یا گورا، آزاد یا غلام، ہر ایک کو سلام کرنے میں پہل کرتے۔“ (سنن ابوسعید، ج ۱، ص ۲۷۸، ۲۷۹)

② امیر المؤمنین حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ان کی خلافت کے وقت کا ہے۔ غلام کو ساتھ لے کر بازار گئے۔ غلام سے فرمایا کہ مجھ کو کپڑا بنوانا ہے اور تم کو بھی کپڑوں کی ضرورت ہے، تم کپڑے کی دکان پر میرے لیے اور اپنے لیے کپڑے پسند کرو۔ غلام نے دو طرح کے کپڑے خرید لیے۔ ایک قیمتی اور ایک کم قیمت والا۔ امیر المؤمنین جب وہ کپڑا اورزی کو دینے لگے تو سستے کپڑے کے متعلق امیر المؤمنین نے فرمایا یہ میرے لیے اور مہنگے کپڑے کے متعلق فرمایا کہ یہ غلام کے لیے قطع کر دو۔ غلام نے کہا آپ آقا ہیں، امیر المؤمنین ہیں، آپ کو اچھے کپڑوں کی ضرورت ہے اور اچھا لباس چاہیے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”میں بڑھا ہوں، تم جوان ہو، تم کو اچھے لباس کی ضرورت ہے۔“ (عمائے شاہی، ستمبر ۲۰۰۵ء)

### ﴿۷۹﴾ پہلی صف والوں سے دو گنا اجر و ثواب

جمعہ کی نماز جامع مسجد میں پڑھئے اور جہاں جگہ مل جائے وہیں بیٹھ جائیے۔ لوگوں کے سروں اور کندھوں پر سے پھاند پھاند کر جانے کی کوشش نہ کیجئے۔ ان سے لوگوں کو جسمانی تکلیف بھی ہوتی ہے اور قلبی کوفت بھی اور ان کو سکون، یکسوئی اور توجہ میں بھی خلل پڑتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ”جو شخص پہلی صف کو چھوڑ کر دوسری صف میں اس لیے کھڑا ہوا کہ اس کے بھائی مسلمان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ اس کو پہلی صف والوں سے دو گنا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔“ (طبرانی، آداب زندگی، ص ۱۰۱)

### ﴿۸۰﴾ رمضان المبارک میں تلاوت قرآن کا خصوصی اہتمام کیجئے

رمضان کے مہینے کو قرآن پاک سے خصوصی مناسبت ہے۔ قرآن پاک ماہ رمضان میں نازل ہوا اور دوسری آسمانی کتابیں بھی ماہ رمضان میں نازل ہوئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رمضان کی پہلی یا تیسری تاریخ کو صحیفے عطا کئے گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو رمضان کے مہینے کی ۱۲ یا ۱۸ کو زبور دی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رمضان کے مہینے کی ۶ تاریخ کو تورات نازل ہوئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی رمضان المبارک کی ۱۲ یا ۱۳ تاریخ کو انجیل دی گئی۔ اس لیے رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ حضرت جبرئیل علیہ السلام ہر سال رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا قرآن سناتے اور سنتے تھے اور آخری سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بار رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دور فرمایا۔ (آداب زندگی، ص ۱۱۷)

### ﴿۸۱﴾ حضرت داؤد علیہ السلام کی موت کا عجیب و غریب قصہ

مسند امام احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ”حضرت داؤد علیہ السلام بہت ہی غیرت والے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے

باہر جاتے تو دروازے بند کرتے جاتے پھر کسی کو اندر جانے کی اجازت نہ تھی۔ ایک مرتبہ آپ ﷺ اسی طرح باہر تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر بعد ایک بیوی صاحبہ کی نظر اٹھی تو دیکھتی ہیں گھر کے بیچوں بیچ ایک صاحب کھڑے ہیں۔ حیران ہو گئیں، اور دوسروں کو دکھایا، آپس میں سب کہنے لگیں یہ کہاں سے آگئے؟ دروازے بند ہیں یہ داخل کیسے ہوئے؟ خدا کی قسم حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے ہماری سخت رسوائی ہوگی۔ اے میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی آگئے۔ آپ ﷺ نے بھی انہیں کھڑا دیکھا اور دریافت کیا کہ تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا وہ جسے کوئی روک اور دروازہ روک نہ سکے وہ جو کسی بڑے سے بڑے کی مطلق پروا نہ کرے۔ حضرت داؤد علیہ السلام سمجھ گئے اور فرمانے لگے: مَرْحَبًا (خوش آمدید) مَرْحَبًا (خوش آمدید) آپ ملک الموت ہیں۔ اسی وقت ملک الموت نے آپ ﷺ کی روح قبض کی۔

(تفسیر ابن کثیر: جلد ۲ صفحہ ۶۳)

### (۸۲) خدا کی نظر میں بدترین آدمی

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”خدا کی نظر میں بدترین آدمی قیامت کے روز وہ ہوگا جس کی بدزبانی اور فحش کلامی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں۔“ (بخاری و مسلم)

### (۸۳) ہر مومن اپنے بھائی کا آئینہ ہے

اپنے دوستوں کی اصلاح و تربیت سے کبھی غفلت نہ کیجئے اور اپنے دوستوں میں وہ بیماری کبھی نہ پیدا ہونے دیجئے جو اصلاح و تربیت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ یعنی خود پسندی اور کبر۔ دوستوں کو ہمیشہ آمادہ کرتے رہیے کہ وہ اپنی کوتاہیوں اور غلطیوں کو محسوس کریں۔ اپنی خطاؤں کے اعتراف میں جرأت سے کام لیں اور اس حقیقت کو ہمہ وقت نگاہ میں رکھیں کہ اپنی کوتاہی کو محسوس نہ کرنے اور اپنی برأت پر اصرار کرنے سے نفس کو بدترین غذا ملتی ہے۔

دراصل نمائشی عاجزی دکھانا، الفاظ میں اپنے کو حقیر کہنا، رفتار اور انداز میں خشوع کا اظہار کرنا، یہ نہایت آسان ہے لیکن اپنے نفس پر چوٹ سہنا، اپنی کوتاہیوں کو ٹھنڈے دماغ سے سننا اور تسلیم کرنا اور اپنے نفس کے خلاف دوستوں کی تنقیدیں برداشت کرنا انتہائی مشکل کام ہے۔ لیکن حقیقی دوست وہی ہے جو بیدار ذہن کے ساتھ ایک دوسرے کی زندگی پر نگاہ رکھیں اور اس پہلو سے ایک دوسرے کی تربیت و اصلاح کرتے ہوئے کبر اور خود پسندی سے بچاتے رہیں۔ نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں:

تمیں باتیں ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں:

① ایسی خواہش کہ انسان اس کا تابع اور غلام بن کر رہ جائے۔ ② ایسی حرص جس کو پیشوا مان کر آدمی اس کی پیروی کرنے لگے۔

③ اور خود پسندی اور یہ بیماری ان تینوں میں سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ (یعنی، مشکوٰۃ)

تنقید و احتساب ایک ایسا شتر ہے جو اخلاق و وجود کے تمام فاسد مادوں کو باہر نکال پھینکتا ہے اور اخلاقی توانائیوں میں خاطر خواہ اضافہ کر کے فرد اور معاشرے میں نئی روح پھونک دیتا ہے۔ دوستوں کے احتساب اور تنقید پر پھرنا، ناک بھوں چڑھانا اور خود کو اس سے بے نیاز سمجھنا بھی ہلاکت ہے اور اس خوشگوار فریضے کو ادا کرنے میں کوتاہی برتنا بھی ہلاکت ہے۔ دوستوں کے دامن پر گھٹاؤ نہ دیجئے نظر آئیں تو بے چینی محسوس کیجئے اور انہیں صاف کرنے کی حکیمانی تدبیریں کیجئے اور اسی طرح خود بھی فراخ دلی اور عاجزی کے ساتھ دوستوں کو ہر وقت یہ موقع دیجئے کہ وہ آپ کے داغ دھبوں کو آپ پر نمایاں کریں۔ اور جب وہ تلخ فریضہ انجام دیں تو اپنے نفس کو پھیلانے کے بجائے انتہائی عالی ظرفی، خوش دلی اور احسان مندی کے جذبات سے ان کی تنقید کا استقبال کیجئے اور ان کے اخلاق و کرم کا شکر یہ ادا کیجئے۔ نبی کریم ﷺ نے مثالی دوستی کو ایک بلوغت منیل سے اس طرح واضح فرمایا ہے: ”تم میں سے ہر ایک اپنے بھائی کا آئینہ ہے، پس اگر وہ

اپنے بھائی میں کوئی خرابی دیکھے تو اسے دور کرے۔“ (ترمذی)

اس تمثیل میں پانچ ایسے روشن اشارے ملتے ہیں جس کو پیش نظر رکھ کر آپ اپنی دوستی کو واقعی مثالی دوستی بنا سکتے ہیں۔

① آئینہ آپ کے داغ دھبے اسی وقت ظاہر کرتا ہے جب آپ اپنے داغ دھبے دیکھنے کے ارادے سے اس کے سامنے جا کھڑے ہوتے ہیں ورنہ وہ بھی مکمل خاموشی اختیار کر لیتا ہے۔ اسی طرح آپ بھی اپنے دوست کے عیوب اسی وقت واضح کریں جب وہ خود کو تنقید کے لیے آپ کے سامنے پیش کرے اور فراغ دلی سے تنقید و احتساب کا موقع دے اور آپ بھی محسوس کریں کہ اس وقت اس کا ذہن تنقید سننے کے لیے تیار ہے اور دل میں اصلاح قبول کرنے کے لیے جذبات موجزن ہیں اور اگر آپ یہ کیفیت نہ پائیں تو حکمت کے ساتھ اپنی بات کو کسی اور موقع کے لیے اٹھا رکھیں اور خاموشی اختیار کریں، اور اس کی غیر موجودگی میں تو اس قدر اختیار کریں کہ آپ کی زبان پر کوئی ایسا لفظ بھی نہ آئے جس سے اس کے کسی عیب کی طرف اشارہ ہوتا ہو۔ اس لیے کہ یہ غیبت ہے اور غیبت سے دل جڑتے نہیں بلکہ ٹوٹتے ہیں۔

② آئینہ چہرے کے انہیں داغ دھبوں کی صحیح صحیح تصویر پیش کرتا ہے جو فی الواقع چہرے پر موجود ہوتے ہیں، نہ وہ کم بتاتا ہے اور نہ وہ ان کی تعداد بڑھا کر پیش کرتا ہے۔ پھر وہ چہرے کے صرف انہی عیوب کو نمایاں کرتا ہے جو اس کے سامنے آتے ہیں، وہ چھپے ہوئے عیوب کا تجسس نہیں کرتا اور نہ کرید کرید کر عیوب کی کوئی خیالی تصویر پیش کرتا ہے۔ اسی طرح بھی اپنے دوست کے عیوب بے کم و کاست بیان کریں، نہ تو بے جا مروت اور خوشامد میں عیوب چھپائیں اور نہ اپنی خطابت اور روزِ بیان سے اس میں اضافہ کریں۔ اور پھر صرف وہی عیوب بیان کریں جو عام زندگی سے آپ کے سامنے آئیں، تجسس اور ٹوہ میں نہ لگیں۔ پوشیدہ عیوب کو کریدنا کوئی اخلاقی خدمت نہیں بلکہ ایک تباہ کن اور اخلاق سوز عیب ہے۔ نبی کریم ﷺ ایک مرتبہ منبر پر چڑھے اور نہایت اونچی آواز میں آپ ﷺ نے حاضرین کو تنبیہ فرمائی:

”مسلمانوں کے عیوب کے چھپے نہ پڑو۔ جو شخص اپنے مسلمان بھائیوں کے پوشیدہ عیوب کے درپے ہوتا ہے، خدا اس کے پوشیدہ عیوب کو طشت از بام کرنے پر تمل جاتا ہے اور جس کے عیب افشا کرنے پر خدا تمل جائے اس کو رسوا کر کے ہی چھوڑتا ہے۔ اگر چہ وہ اپنے گھر کے اندر گھس کر ہی کیوں نہ بیٹھ جائے۔“ (ترمذی)

③ آئینہ ہر غرض سے پاک ہو کر بے لاگ انداز میں اپنا فرض ادا کرتا ہے اور جو شخص بھی اس کے سامنے اپنا چہرہ پیش کرتا ہے وہ بغیر کسی غرض کے اس کا صحیح نقشہ اس کے سامنے رکھ دیتا ہے نہ وہ کسی سے بغض اور کینہ رکھتا ہے اور نہ کسی سے انتقام لینا ہے۔ آپ بھی ذاتی اغراض، جذبہ انتقام، بغض و کینہ اور ہر طرح کی بدنیتی سے پاک ہو کر بے لاگ احتساب کیجئے اور اس لیے کیجئے کہ آپ کا دوست اپنے کو سنوار لے۔ جس طرح آئینہ کو دیکھ کر آدمی اپنے کو سنوار لیتا ہے۔

④ آئینہ میں اپنی صحیح تصویر دیکھ کر نہ تو کوئی جھنجھلا تا ہے اور نہ غصے سے بے قابو ہو کر آئینہ کو توڑ دینے کی حماقت کرتا ہے۔ بلکہ فوراً اپنے کو بنانے اور سنوارنے میں لگ جاتا ہے اور دل ہی دل میں آئینے کی قدر و قیمت محسوس کرتے ہوئے زبان حال سے اس کا شکریہ ادا کرتا ہے اور کہتا ہے واقعی آئینے نے میرے بننے سنورنے میں میری بڑی مدد کی فطری فریضہ انجام دیا اور پھر نہایت احتیاط کے ساتھ دوسرے وقت کے لیے اس کو بحفاظت رکھ دیتا ہے۔ اسی طرح جب آپ کا دوست اپنے الفاظ کے آئینے میں آپ کے سامنے آپ کی صحیح تصویر رکھے تو آپ جھنجھلا کر دوست پر جوابی حملہ نہ کریں، بلکہ اس کے شکر گزار ہوں کہ اس نے دوستی کا حق ادا کیا اور نہ صرف زبان سے بلکہ دل سے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اسی لمحے اپنی اصلاح و تربیت کے لیے فکر مند ہو جائیں اور انتہائی فراخ



ولی اور احسان مندی کے ساتھ دوست کی قدر و عظمت محسوس کرتے ہوئے اس سے درخواست کریں کہ آئندہ بھی وہ آپ کو اپنے قیمتی مشوروں سے نوازتا رہے۔

۱۵ اور آخری اشارہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں سے ہر ایک اپنے بھائی کا آئینہ ہے اور بھائی بھائی کے لیے اخلاص و محبت کا پیکر ہوتا ہے، وفادار اور خیر خواہ ہوتا ہے، ہمدرد اور غمگسار ہوتا ہے۔ بھائی کو مصیبت میں دیکھ کر تڑپ اٹھتا ہے اور خوش دیکھ کر باغ باغ ہو جاتا ہے۔ اس لیے بھائی اور دوست جو تنقید کرے گا اس میں انتہائی دل سوزی اور غم خواری ہوگی۔ محبت اور خلوص ہوگا۔ بے پایاں درد مندی اور خیر خواہی ہوگی، اور لفظ لفظ جذبہ اصلاح کا آئینہ دار ہوگا۔ اور ایسی تنقید سے دلوں کو جوڑنے اور زندگیوں کو بنانے کی توقع کی جاسکتی ہے۔

### (۸۴) گناہوں سے توبہ کرنے والے بندے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں

۱ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم خطائیں کرتے کرتے زمین و آسمان پر کر دو پھر اللہ سے استغفار کرو تو یقیناً وہ تمہیں بخش دے گا۔ اس کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد ﷺ کی جان ہے، اگر تم خطائیں کرو ہی نہیں تو اللہ عزوجل تمہیں بخشا کر کے ان لوگوں کو لائے جو خطا کر کے استغفار کریں اور پھر خدا انہیں بخشے۔“ (مسند امام احمد رحمہ اللہ)

۲ حضرت ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ اپنے انتقال کے وقت فرماتے ہیں: ایک حدیث میں تم سے آج تک بیان نہیں کی تھی۔ اب بیان کر دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اگر تم گناہ ہی نہ کرتے تو اللہ عزوجل ایسی قوم کو پیدا کرنا جو گناہ کرتی پھر خدا انہیں بخشا۔“ (صحیح مسلم وغیرہ)

۳ حضور ﷺ فرماتے ہیں: ”گناہ کا کفارہ عداوت اور شرمساری ہے۔“ اور آپ ﷺ نے فرمایا: ”اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لانا جو گناہ کریں پھر وہ انہیں بخش دے۔“ (مسند احمد)

۴ آپ ﷺ فرماتے ہیں: ”اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند فرماتا ہے جو کمال یقین رکھنے والا اور گناہوں سے توبہ کرنے والا ہو۔“

(مسند احمد، تفسیر ابن کثیر: ۳/۳۳۶)

فائدہ: ان حدیثوں کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو گناہ پسند ہیں، بلکہ ان حدیثوں کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والے بندے اللہ کو بہت پسند ہیں، لہذا گناہگار بندے اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہوں، گناہوں سے توبہ کریں اللہ تعالیٰ خوش ہو کر معاف فرمائیں گے۔ (عمامین)

### (۸۵) بہترین رازدار بنو

دوست آپ پر اعتماد کر کے آپ سے دل کی بات کہہ دے تو اس کی حفاظت کیجئے اور کبھی دوست کے اعتماد کو ٹھیس نہ لگائیے۔ اپنے سینے کو رازوں کا محفوظ دہنہ بنائیے تاکہ دوست بغیر کسی جھجک کے ہر معاملہ میں آپ سے مشورہ طلب کرے اور آپ دوست کو اچھے مشورے دے سکیں اور تعاون کر سکیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حصہ بنی ہاشم جب بیوہ ہوئیں تو میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ملا اور کہا کہ اگر تم چاہو تو حصہ بنی ہاشم کا نکاح تم سے کر دوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا میں اس معاملہ پر غور کروں گا۔ میں نے کئی راتوں تک ان کا انتظار کیا پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مجھ سے ملے اور بولے میرا بھی شادی کرنے کا خیال نہیں ہے۔ میں پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور کہا اگر آپ پسند فرمائیں تو حصہ کو اپنی زوجیت میں لے سکتے ہیں۔ وہ خاموش رہے اور کوئی جواب نہیں دیا۔ مجھے ان کی خاموشی بہت کھلی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے بھی زیادہ کھلی۔ اسی طرح کئی دن گزر گئے پھر نبی کریم ﷺ نے حصہ بنی ہاشم کا پیغام بھیجا اور میں نے نبی کریم ﷺ سے حصہ کا نکاح کر دیا۔

اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مجھ سے ملے اور فرمایا ”تم نے مجھ سے حصہ رضی اللہ عنہما کا ذکر کیا تھا اور میں نے خاموشی اختیار کی تھی؟ ہو سکتا ہے تمہیں میری خاموشی سے تکلیف ہوئی ہو۔“ میں نے کہا: ”ہاں! تکلیف تو ہوئی تھی۔“ فرمایا: ”مجھے معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ایسا خیال ہے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک راز تھا جس کو میں ظاہر کرنا نہ چاہتا تھا، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حصہ رضی اللہ عنہ کا ذکر نہ فرماتے تو میں ضرور قبول کر لیتا۔“ (بخاری)

حضرت انس رضی اللہ عنہ ایک دن لڑکوں میں کھیل رہے تھے کہ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہمیں سلام کیا پھر اپنی ایک ضرورت بتا کر مجھے بھیجا۔ مجھے اس کام کے کرنے میں دیر لگی۔ کام سے فارغ ہو کر جب گھر گیا تو ماں نے پوچھا: ”اتنی دیر کہاں لگاؤ؟“ میں نے کہا: ”نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک ضرورت سے بھیجا تھا۔“ بولیں: ”کیا ضرورت تھی؟“ میں نے کہا: ”وہ راز کی بات ہے۔“ ماں نے کہا: ”دیکھو! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز کسی کو نہ بتانا۔“ (مسلم)

### (۸۶) دوستوں کے درمیان ہشاش بشاش رہو

دوستوں پر اعتماد کیجئے، ان کے درمیان ہشاش بشاش رہیے۔ انفرادہ رہنے اور دوسروں کو انفرادہ کرنے سے پرہیز کیجئے۔ دوستوں کی صحبت میں بے تکلف اور خوش مزاج رہیے۔ تیوری چڑھانے اور لیے دیئے رہنے سے پرہیز کیجئے۔ دوستوں کے ساتھ ایک بے تکلف ساتھی، خوش مزاج ہم نشین اور خوش طبع رفیق بننے کی کوشش کیجئے۔ آپ کی صحبت سے احباب آگیاں نہیں بلکہ مسرت، فرحت اور خوشی محسوس کریں۔ حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں سو (۱۰۰) مجلسوں سے بھی زیادہ مجلسوں میں بیٹھا ہوں ان مجلسوں میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اشعار بھی پڑھتے تھے اور زمانہ جاہلیت کے قصے کہانیاں بھی سناتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے یہ سب سنتے رہتے تھے بلکہ کبھی کبھی خود بھی ان کے ساتھ ہنسنے میں شریک ہو جایا کرتے تھے۔ (بخاری)

حضرت شریذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ سواری پر بیٹھے بیٹھے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امیہ بن ابی صلت کے سو (۱۰۰) اشعار سنائے ہر شعر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کچھ اور سنا اور میں سنانا۔ (ترمذی)

اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں خود بھی کبھی کبھی قصے سناتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں کو ایک قصہ سنایا۔ ایک عورت نے کہا یہ عجیب و غریب قصہ تو بالکل خرافہ کے قصوں کی طرح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”تمہیں خرافہ کا صحیح قصہ بھی معلوم ہے؟“ اور پھر خود ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرافہ کا اصل قصہ تفصیل سے سنایا۔ اسی طرح ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو گیارہ عورتوں کی ایک بہت ہی دلچسپ کہانی سنائی۔

حضرت بکر بن عبداللہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی بے تکلفی اور خوش طبعی کا حال بیان کرتے ہوئے فرمایا: ”صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہلسی اور تفریح کے طور پر ایک دوسرے کی طرف تریوز کے چمکے پھینکا کرتے تھے۔ لیکن جب لڑنے اور مدافعت کرنے کا وقت آتا تو اس میدان کے شہسوار بھی صحابہ ہی ہوتے تھے۔“ (الادب المفرد)

### (۸۷) لڑکیوں کی پیدائش کو بوجھ مت سمجھئے

لڑکی کی پیدائش پر بھی اسی طرح خوشی منائیے جس طرح لڑکے کی پیدائش پر مناتے ہیں۔ لڑکی ہو یا لڑکا دونوں ہی خدا کا عطیہ ہیں اور خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ آپ کے حق میں لڑکی اچھی ہے یا لڑکا۔ لڑکی کی پیدائش پر ناک بھوں چڑھانا اور دل شکستہ ہونا اطاعت شعار مومن کے لیے کسی طرح زیب نہیں دیتا۔ یہ ناشکری بھی ہے اور ناقدری بھی۔

- ① حدیث میں ہے کہ جب کسی کے یہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو خدا اس کے ہاں فرشتے بھیجتا ہے جو آ کر کہتے ہیں: "اے گھر والو! تم پر سلامتی ہو۔" وہ لڑکی کو اپنے پروں کے سائے میں لیتے ہیں اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں "یہ کمزور جان ہے جو ایک کمزور جان سے پیدا ہوئی ہے، جو اس بچی کی نگرانی اور پرورش کرے گا قیامت تک خدا کی مدد اس کے شامل حال رہے گی۔" (طبرانی)
- ② لڑکیوں کی تربیت و پرورش انتہائی خوش دلی، روحانی مسرت اور دینی احساس کے ساتھ کیجئے اور اس کے صلے میں خدا سے بہشت بریں کی آرزو کیجئے۔ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے کہ "جس شخص نے تین لڑکیوں یا تین بہنوں کی سرپرستی کی، انہیں تعلیم و تہذیب سکھائی اور ان کے ساتھ رحم سلوک کیا۔ یہاں تک کہ خدا ان کو بے نیاز کر دے تو ایسے شخص کے لیے خدا نے جنت واجب فرمادی۔" اس پر ایک آدمی بولا، اگر دعویٰ ہوں تو؟ نبی کریم ﷺ نے فرمایا "دو لڑکیوں کی پرورش کا بھی یہی صلہ ہے۔" حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر لوگ ایک کے بارے میں پوچھتے تو آپ ﷺ ایک کی پرورش پر بھی یہی بشارت دیتے۔ (مشکوٰۃ)
- ③ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن ایک عورت اپنی دو بچیوں کو لپے میرے پاس آئی اور اس نے کچھ مانگا۔ میرے پاس صرف ایک ہی کھجور تھی، وہ میں نے اس کے ہاتھ پر رکھ دی۔ اس عورت نے کھجور کے دو ٹکڑے کئے اور آدمی آدمی دونوں بچیوں میں بانٹ دی اور خود نہ کھائی۔ اس کے بعد وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور باہر نکل گئی۔ اسی وقت نبی کریم ﷺ گھر تشریف لائے۔ میں نے آپ ﷺ کو یہ سارا ماجرا کہہ سنایا۔ آپ ﷺ نے یہ سن کر فرمایا: "جو شخص بھی لڑکیوں کی پیدائش کے ذریعے آزمایا جاتا ہے اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کر کے آزمائش میں کامیاب ہو تو یہ لڑکیاں اس کے لیے قیامت کے روز جہنم کی آگ سے ڈھال بن جائیں گی۔" (مشکوٰۃ)
- ④ لڑکیوں کو حقیر نہ جانئے، نہ لڑکے کو اس پر کسی معاملہ میں ترجیح دیجئے۔ دونوں کے ساتھ یکساں محبت کا اظہار کیجئے اور یکساں سلوک کیجئے۔ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: "جس کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی اور اس نے جاہلیت کے طریقے پر اسے زندہ دفن نہیں کیا اور نہ اس کو حقیر جانا اور نہ لڑکے کو اس کے مقابلے میں ترجیح دی تو ایسے آدمی کو خدا جنت میں داخل کرے گا۔" (ابوداؤد)
- ⑤ جائیداد میں لڑکی کا مقرر حصہ پوری خوش دلی اور اہتمام کے ساتھ دیجئے۔ یہ خدا کا فرض کردہ حصہ ہے اس میں کمی بیشی کرنے کا کسی کو کوئی اختیار نہیں۔ لڑکی کا حصہ دینے میں حیلے کرنا یا اپنی صوابدید کے مطابق کچھ دے دلا کر مطمئن ہو جانا اطاعت شعار مومن کا کام نہیں ہے۔ ایسا کرنا خیانت بھی ہے اور خدا کے دین کی توہین بھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آمین

### (۸۸) نواہم نصیحتیں

- |                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| ① پرہیز..... انتخاب کے ساتھ         | ① غور کریں..... گہرائی کے ساتھ  |
| ② خدمت کریں..... نلگن کے ساتھ       | ② بحث کریں..... دلیل کے ساتھ    |
| ③ بولیں..... اختصار کے ساتھ         | ③ مقابلہ کریں..... جرأت کے ساتھ |
| ④ عبادت کریں..... محبت کے ساتھ      | ④ بات سنیں..... توجہ کے ساتھ    |
| ⑤ زندگی طے کریں..... اعتدال کے ساتھ |                                 |

### (۸۹) تعجب ہے چار قسم کے آدمیوں پر جو چار باتوں سے غافل ہیں ساری پریشانیاں دور کرنے کا قرآن علاج

حضرت جعفر الصادق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ تشریف لائے تو لوگ ان سے علمی استفادہ کے لیے آئے۔ آپ نے لوگوں سے کہا

کہ مجھے تعجب ہے چار قسم کے آدمیوں پر جو چار باتوں سے غافل ہیں:

① مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو مصیبت میں پھنسا ہوا ہو اور ”يَا رَحْمَ الرَّحِيمِينَ“ نہ پڑھتا ہو، حالانکہ قرآن پاک حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ہے:

﴿وَايُوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُسْتَجِيبِينَ وَالَّتِ ارْحَمُ الرَّحِيمِينَ﴾ (سورہ انبیاء: آیت ۸۳)

ترجمہ: ”اور ایوب نے جب اپنے رب کو پکارا کہ میں مصیبت میں پھنسا ہوا ہوں آپ ”يَا رَحْمَ الرَّحِيمِينَ“ ہیں۔“  
اس کا فائدہ خود قرآن کریم میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ:

﴿فَاسْتَجِبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ﴾ (سورہ انبیاء: آیت ۸۴)

ترجمہ: ”پس ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کی تکلیف دور فرمائی۔“

② مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو غم میں پھنسا ہوا ہو اور وہ دعائے پڑھے جو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھی تھی۔ وہ دعایہ ہے:

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾

ترجمہ: ”تیرے سوا کوئی حاکم نہیں، تو بے عیب ہے، میں گناہگار ہوں۔“ (سورہ انبیاء: آیت ۸۷)

اس کا فائدہ قرآن پاک میں یہ بیان کیا گیا ہے:

﴿فَاسْتَجِبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ﴾ (سورہ انبیاء: آیت ۸۸)

ترجمہ: ”پس ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو غم سے نجات دی، اور اسی طرح ہم مومنین کو نجات دیا کرتے ہیں۔“

③ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جس کوئی خوف لاحق ہو اور وہ دعائے پڑھے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے خوف کے وقت پڑھی تھی۔ وہ دعایہ ہے:

﴿حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ (سورہ آل عمران: آیت ۱۷۳)

ترجمہ: ”کافی ہے ہم کو اللہ اور کیا خوب کار ساز ہے!“

اس کا فائدہ قرآن پاک میں یہ بیان کیا گیا ہے:

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ يَنْعَمَ عَلَيْكُمْ وَفَضْلٌ لِّمَنْ يَمْسَسُهُمْ سُوًى﴾

ترجمہ: ”پس لوٹے وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ اور ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔“ (سورہ آل عمران: آیت ۱۷۴)

④ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو دشمنوں کے مکر و فریب میں مبتلا ہو اور وہ دعائے پڑھے جو فرعون کے خاندان کے ایک مومن نے پڑھی تھی..... وہ دعایہ ہے:

﴿أَوْحِىْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ﴾

ترجمہ: ”میں سوچتا ہوں اپنا کام اللہ کو، بے شک اللہ کی نگاہ میں ہیں سب بندے۔“ (سورہ مومن: آیت ۴۴)

اس کا فائدہ قرآن میں یہ بیان کیا گیا ہے:

﴿فَوَكَهَهُ اللَّهُ لِيَلْعَنَهُ الْكَافِرُونَ﴾ (سورہ مومن: آیت ۴۵)

ترجمہ: ”پس اللہ نے اس کو ان کے برے مکر و فریب سے بچالیا۔“

﴿۹۰﴾ اسلامی سلام میں سلامتی ہی سلامتی ہے

سلام ایک ایسی عظیم چیز ہے جو جھگڑوں کو ختم کر دیتی ہے۔ سلام آدمی نہ کرے تو برا سمجھا جاتا ہے اور اگر سلام کر لے تو جاہل بھی جھک

جائیں گے کہ یہ بڑا اچھا آدمی ہے سلام کر رہا ہے۔ اس واسطے فرمایا گیا اگر باہم دشمنیاں بھی ہوں، عداوتیں بھی ہوں، اگر دشمن کو آپ سلام کریں گے تو دشمنیاں ڈھیلی پڑ جائیں گی۔ وہ وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ کہنے پر مجبور ہوگا۔ جس کا مطلب ہے کہ تمہارے لیے بھی سلامتی ہو۔ جب سلامتی کی دعا دے گا تو جھگڑا اٹھائے گا کیوں؟ خود کہہ رہا ہے کہ اللہ تمہیں صحیح سلامت رکھے تو دعا بھی دے اور اوپر سے جھگڑا بھی اٹھائے؟ اس سلام نے ساری دشمنی ختم کر دی۔ اس واسطے حدیث میں فرمایا گیا کہ:

”تَقْرِئُ السَّلَامَ عَلَيَّ مَنْ عَرَفْتَهُ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ“ (بخاری، مسلم)  
ترجمہ: ”سلام کرنے کی عادت ڈالو، خواہ تعارف ہو یا نہ ہو۔“

آج کے زمانہ کا تمدن یہ ہے کہ جب تک تیسرا آدمی تعارف نہ کرائے، نہ بول، نہ چال، نہ سلام، نہ کلام، یہ منگبرانہ تمدن ہے۔ یہ اسلام کا تمدن نہیں ہے۔ اسلام کا تمدن یہ ہے کہ جب ہم میں اور تم میں اسلام کا رشتہ مشترک، اسلامی اخوت اور بھائی بندی پھیلی ہوئی ہے تو کیا ضرورت ہے کہ کوئی تیسرا تعارف کرائے۔ پہلے سے ہی تعارف حاصل ہے۔ یہ ہمارا بھائی مسلمان ہے۔ اس میں اسلام بھرا ہوا ہے۔ ملیں تو یہ انتظار نہ کریں کہ دوسرا مجھے سلام کہے۔ بلکہ سلام کرنے میں پہل کیجئے اس میں زیادہ ثواب ہے۔

حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ یہودیوں کا سلام انگلیوں سے ہے، نصاریٰ کا سلام ہتھیلی سے ہے اور مسلمانوں کا سلام وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ہے۔ یعنی یہودیوں کا سلام صرف اشارہ ہے اور مسلمانوں کا سلام ایک مستقل دعا ہے کہ تم پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں تم پر نازل ہوں، برکتیں تم پر نازل ہوں۔ ہر مسلمان دوسرے کو دعا دے۔ اس سے اس کی خیر خواہی اور محبت ظاہر ہوگی۔ تعلق بھی مضبوط ہو جائے گا۔ قصہ مشہور ہے کہ کسی آدمی کے سامنے جن آ گیا۔ تو اسے خطرہ لاحق ہو گیا کہ یہ تو کھا جائے گا۔ اس نے آگے بڑھ کر کہا ماموں جان! سلام۔ اس نے کہا بھانجے وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ اور کہا کہ میرا ارادہ تھے کھانے کا تھا لیکن تو نے ماموں کہا اور سلام کہا میرے دل میں رحم آ گیا میں نے چھوڑ دیا اب تو آزاد ہے، جہاں چاہے چلا جا، تو نے سلام کر کے جان بچائی۔ یہی صورت دشمن کی بھی ہے۔ اگر کسی سے پکی دشمنی ہے، آپ کہیں وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ وہ سچ جائے گا۔ دشمنی ڈھیلی پڑ جائے گی۔ الغرض یہ بہت بڑی نعمت اور عظیم دعا ہے۔

حضرت طفیل کہتے ہیں کہ میں اکثر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی خدمت میں حاضر ہوتا اور آپ رضی اللہ عنہما کے ہمراہ بازار جایا کرتا۔ جب ہم دونوں بازار جاتے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جس کے پاس سے بھی گزرتے تو اس کو سلام کرتے، چاہے وہ کوئی کباڑیہ ہوتا، چاہے کوئی دکاندار ہوتا، چاہے کوئی غریب اور مسکین ہوتا، غرض کوئی بھی ہوتا آپ اس کو سلام ضرور کرتے۔ ایک دن میں آپ کی خدمت میں آیا تو آپ نے کہا: چلو بازار چلیں۔ میں نے کہا: حضرت! بازار جا کے کیا کیجئے گا؟ آپ نہ تو کسی سودے کی خریداری کے لیے کھڑے ہوتے ہی نہ کسی مال کے بارے میں معلومات کرتے ہیں۔ نہ مول بھاؤ کرتے ہیں۔ نہ بازار کی محفلوں میں بیٹھتے ہیں۔ آئیے۔ ہمیں بیٹھ کر بات چیت کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا: اے بڑے پیٹ والے! ہم تو صرف سلام کرنے کی غرض سے بازار جاتے ہیں کہ ہمیں جو ملے ہم اسے سلام کریں۔ (مؤطا امام مالک)

ہمیشہ زبان سے السَّلَامُ عَلَيْكُمْ کہہ کر سلام کیجئے اور ذرا اونچی آواز سے سلام کیجئے تاکہ وہ شخص سن سکے جس کو آپ سلام کر رہے ہیں۔ البتہ اگر کہیں زبان سے السَّلَامُ عَلَيْكُمْ کہنے کے ساتھ ہاتھ یا سر سے اشارہ کرنے کی ضرورت ہو تو کوئی مضائقہ نہیں۔ مثلاً آپ جس کو سلام کر رہے ہیں وہ دور ہے اور خیال ہے کہ آپ کی آواز اس تک نہ پہنچ سکے گی یا کوئی بہرہ ہے اور آپ کی آواز نہیں سن سکتا، تو ایسی حالت میں اشارہ بھی کیجئے۔ (آداب زندگی، ص ۲۱۸)

بہر حال اس حدیث میں ہدایت کی گئی ہے کہ پہچان پہچان کر سلام نہ کرو۔ اس واسطے کہ تعارف کرانے میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بڑا آدمی ہو، اس کا تعارف ہو گیا اور اگر کوئی چھوٹا موٹا آدمی آئے تو اس کا کوئی تعارف نہیں کراتا۔ گویا آپ کا سلام بڑے آدمی کو تو ہوگا

چھوٹے کو نہیں ہوگا۔ یہ خود ایک تکبر ہے کہ چھوٹوں کو منہ نہ لگایا جائے اور بڑوں کے سامنے جھکے۔

اسی واسطے فقہاء لکھتے ہیں کہ اگر کوئی سواری پر چارہا ہو اور لوگ سڑک پر سامنے بیٹھے ہوئے تو سوار ہونے والے کا فرض ہے کہ وہ بیٹھنے والوں کو سلام کرے۔ اپنے اندر خاکساری پیدا کرے۔ ایسی صورت نہ پیدا ہونے دے جس میں یہ انتظار ہو کہ یہ مجھے سلام کریں کیونکہ یہ میرے سے چھوٹے ہیں یہ چھوٹائی بڑائی کہاں کی؟ آدمی خود ہی چھوٹا ہے۔ بڑا اللہ ہے۔ سب سے بڑی ذات وہ ہے۔ اس کے سامنے چھوٹے ہیں۔ اس لیے ہر شخص یہ سمجھے کہ میں چھوٹا ہوں وہ بڑا ہے۔ جب یہ سمجھے گا تو سلام کی ابتداء کرنے کی کوشش کرے گا۔

### (۹۱) شہید کو چھ انعامات ملتے ہیں

مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ شہید کو چھ انعامات حاصل ہوتے ہیں۔

- ① اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتے ہی اس کے کل گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔
- ② اسے اس کا جنت میں مکان دکھلا دیا جاتا ہے۔
- ③ اور نہایت خوبصورت بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے اس کا نکاح کر دیا جاتا ہے۔
- ④ وہ بڑی گھبراہٹ سے امن میں رہتا ہے۔
- ⑤ وہ عذابِ قبر سے امن میں رہتا ہے۔
- ⑥ اسے ایمان کے زیور سے آراستہ کر دیا جاتا ہے۔

ایک اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ اس کے سر پر وقار کا تاج رکھا جاتا ہے۔ جس میں کا ایک یا قوت تمام دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے گران بہا ہے۔ اسے بہتر (۷۲) حور عین ملتی ہیں اور اپنے خاندان کے ستر (۷۰) شخصوں کے بارے میں اس کی شفاعت قبول کی جاتی ہے۔ یہ حدیث ترمذی اور ابن ماجہ میں بھی ہے۔ صحیح مسلم شریف میں ہے سوائے فرض کے شہیدوں کے سب گناہ بخش دیئے جاتے ہیں۔ شہیدوں کے فضائل کی حدیثیں اور بھی بہت ہیں۔ (تفسیر ابن کثیر: جلد ۵ صفحہ ۹۹-۱۰۰)

### (۹۲) حرام لقمہ کی وجہ سے چالیس دن تک عبادت قبول نہیں ہوتی

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میری دعاؤں کو قبول فرمایا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے سعد! پاک چیزیں اور حلال لقمے کھاتے رہو اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول فرماتا رہے گا، قسم ہے اس خدا کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے حرام لقمہ جو انسان اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے اس کی شوی کی وجہ سے چالیس دن کی اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی، جو گوشت پوست حرام سے پلاوہ جنمی ہے۔ (تفسیر ابن کثیر: ۱۳۵/۱)

### (۹۳) مانگی روٹی اور ملے چالیس ہزار دینار

منقول ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ عنہ کو بھوک لگی تو انہوں نے ایک شخص کو ایک چیز دی جو اس کے پاس موجود تھی اور اس سے کہا اس کو گروی رکھ کر کھانے کا انتظام کرو، جب وہ شخص وہ چیز لے کر وہاں سے نکلا تو اچانک اس کو ایک شخص ملا جو ایک نجر کے ساتھ چلا آ رہا تھا اس نجر پر چالیس ہزار دینار لہے ہوئے تھے اس نے اس شخص سے حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھا اور کہا کہ یہ چالیس ہزار دینار ابراہیم رحمتہ علیہ کی میراث ہیں جو ان تک ان کے والد کے مال سے پہنچی ہے، میں ان کا غلام ہوں میراث کا یہ مال میں ان کی خدمت میں لایا ہوں۔ اس کے بعد وہ شخص حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا اور چالیس ہزار دینار ان کے حوالے کئے۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر تم سچ کہتے ہو کہ تم میرے ہی غلام ہو اور یہ مال بھی میرا ہی ہے تو میں تمہیں خدا کی خوشنودی کے

لیے آزاد کرتا ہوں اور چالیس ہزار دینار بھی تمہیں بخشا ہوں۔ بس تم اب میرے پاس سے چلے جاؤ۔ جب وہ شخص وہاں سے چلا گیا تو حضرت امراہیم بن ادہم رحمۃ علیہ نے کہا کہ ”پروردگار! میں نے تیرے سامنے روٹی کی خواہش کا اظہار کیا تھا تو نے مجھے اتنی مقدار میں دنیا دے دی! پس قسم ہے تیری ذات کی! اب اگر تو مجھے بھوک سے مار بھی ڈالے گا تو تجھ سے کچھ نہیں مانگوں گا۔“ (مظاہر حق جدید: ۱۳۲/۳)

### (۹۴) اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جب تک روح زخروے میں نہ آجائے

① رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جب تک غرغره شروع نہ ہو۔ (ترمذی)  
 ② جو بھی مومن بندہ اپنی موت سے مہینہ بھر پہلے توبہ کر لے اس کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرمالتا ہے یہاں تک کہ اس کے بعد بھی بلکہ موت سے ایک دن پہلے بھی بلکہ ایک ساعت پہلے بھی جو بھی اخلاص اور سچائی کے ساتھ اپنے رب کی طرف جھکے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے۔

③ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جو اپنی موت سے ایک سال پہلے توبہ کرے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے اور جو مہینہ بھر پہلے توبہ کرے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ بھی قبول فرماتا ہے اور جو ہفتہ بھر پہلے توبہ کرے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ بھی قبول فرماتا ہے اور جو ایک دن پہلے توبہ کرے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ بھی قبول فرماتا ہے۔

④ مسند احمد میں ہے کہ چار صحابی جو جمع ہوئے ان میں سے ایک نے کہا میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ جو شخص اپنی موت سے ایک دن پہلے بھی توبہ کرے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ دوسرے نے پوچھا کیا صحیح صحیح تم نے حضور ﷺ سے اسے سنا ہے؟ اس نے کہا: ہاں! تو دوسرے نے کہا: میں نے حضور ﷺ سے سنا ہے کہ اگر آدھا دن پہلے بھی توبہ کرے تو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ تیسرے نے کہا تم نے یہ سنا ہے؟ کہا: ہاں! میں نے خود سنا ہے۔ کہا: میں نے سنا ہے اگر ایک پہر پہلے توبہ نصیب ہو جائے تو وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ چوتھے نے کہا: تم نے یہ سنا ہے؟ اس نے کہا: ہاں۔ کہا میں نے تو حضور ﷺ سے یہاں تک سنا ہے کہ جب تک اس کے زخروے میں روح نہ آجائے توبہ کے دروازے اس کے لیے بھی کھلے رہتے ہیں۔

⑤ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس پر لعنت نازل فرمائی تو اس نے ڈھیل طلب کی اور کہا تیری عزت اور تیرے جلال کی قسم کہ ابن آدم کے جسم میں جب تک روح رہے گی میں اس کے دل سے نہ نکلوں گا۔ اللہ تعالیٰ عزوجل نے فرمایا: مجھے اپنی عزت اور اپنے جلال کی قسم جب تک اس میں روح رہے گی اس کی توبہ قبول کروں گا۔

⑥ ایک مرفوع حدیث میں اس کے قریب قریب مروی ہے۔ بس ان تمام احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب تک بندہ زندہ ہے اور اسے اپنی حیات کی امید ہے تب تک وہ خدا تعالیٰ کی طرف جھکے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے اور اس پر رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ علیم و حکیم ہے۔ ہاں! جب زندگی سے مایوس ہو جائے، فرشتوں کو دیکھ لے اور روح بدن سے نکل کر حلق تک پہنچ جائے پھر اسے گھٹنے لگے مطلق میں اگلے غرغره شروع ہو تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ (تفسیر ابن کثیر: جلد ۱ ص ۵۳۳)

### (۹۵) صغیرہ گناہوں کو بھی حقیر نہ سمجھ، یہ صغیرہ کل کبیرہ ہو جائیں گے

حضور ﷺ فرماتے ہیں: ”صغیرہ گناہ کو بھی ہلکانہ سمجھو خدا کی طرف سے اس کا بھی مطالبہ ہونے والا ہے۔“ (نسائی اور ابن ماجہ وغیرہ) حضرت سلیمان بن مغیرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ مجھ سے ایک گناہ سرزد ہو گیا جسے میں نے حقیر سمجھا، رات کو خواب میں دیکھا ہوں کہ ایک آنے والا آیا اور مجھ سے کہہ رہا ہے اے سلیمان!

لَا تَعْلَمَنَّ مِنَ الذُّنُوبِ صَغِيرًا  
 إِنَّ الصَّغِيرَ غَدًا يَسُودُ كَبِيرًا  
 عِنْدَ اللَّهِ مُسْطَرًّا تَسْطِيرًا  
 صَعَبَ الْعِبَادِ وَشَرَّ النَّاسِ  
 طَارَ الْفُؤَادُ وَالْهَمُّ التَّفَكِيرًا  
 فَاسْئَلْ هِدَايَتَكَ الْإِلَهَ فَتَهْدِيكَ  
 إِنَّ الْمُسِيبَ لَنَا أَحَبُّ إِلَيْنَا  
 فَاسْئَلْ هِدَايَتَكَ الْإِلَهَ فَتَهْدِيكَ  
 فَاسْئَلْ هِدَايَتَكَ الْإِلَهَ فَتَهْدِيكَ

ترجمہ

- ① یعنی صغیرہ گناہوں کو بھی حقیر اور ناچیز نہ سمجھ، یہ صغیرہ کل کبیرہ ہو جائیں گے۔  
 ② گو گناہ چھوٹے چھوٹے ہوں اور انہیں کئے ہوئے بھی عرصہ گزر چکا ہو، اللہ کے پاس وہ صاف صاف لکھے ہوئے موجود ہیں۔  
 ③ بدی سے اپنے نفس کو روکے رکھ اور ایسا نہ ہو جائے کہ مشکل سے نیکی کی طرف آئے بلکہ اونچا دامن کر کے بھلائی کی طرف نپک۔  
 ④ جب کوئی شخص سچے دل سے اللہ سے محبت کرتا ہے، تو اس کا دل اُڑنے لگتا ہے اور اسے خدا کی جانب سے غور و فکر کی عادت الہام کی جاتی ہے۔  
 ⑤ اپنے رب سے ہدایت طلب کر اور نرمی اور ملائمت کر، ہدایت اور نصرت کرنے والا رب تجھے کافی ہوگا۔ (تفسیر ابن کثیر: جلد ۵ صفحہ ۱۷۷)

### (۹۶) کوئی تدبیر موت کو ٹال نہیں سکتی

ابن جریر اور ابن ابی حاتم میں ایک مطول قصہ بزبان حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ مروی ہے کہ اگلے زمانے میں ایک عورت حاملہ تھی جب اسے درد ہونے لگا اور بچی تولد ہوئی تو اس نے اپنے ملازم سے کہا کہ جاؤ کہیں سے آگ لے آؤ۔ وہ باہر نکلا تو دیکھا کہ دروازے پر ایک شخص کھڑا ہے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا لڑکی یا لڑکا؟ اس نے کہا لڑکی ہوئی ہے۔ کہاں یہ لڑکی ایک سو (۱۰۰) آدمیوں سے غلوت کرائے کی پھر اس کے وہاں اب جو شخص ملازم ہے اسی سے اس کا نکاح ہوگا اور ایک کڑی اس کی موت کا باعث بنے گی۔ وہ ملازم یہیں سے پلٹ آیا اور آئے ہی ایک تیز چھری لے کر اس لڑکی کے پیٹ کو چیر ڈالا اور اسے مردہ سمجھ کر وہاں سے بھاگ نکلا، اس کی ماں نے یہ حال دیکھا تو اپنی بچی کے پیٹ میں ٹانگے دیئے اور علاج معالجہ شروع کیا، جس سے اس کا زخم بھر گیا۔ اب ایک زمانہ گزر گیا اور یہ لڑکی بلوغت کو پہنچ گئی اور کسی بھی اچھی شکل و صورت کی، بد چلتی میں پڑ گئی۔ ادھر وہ ملازم سمندر کے راستے کہیں چلا گیا، کام کاج شروع کیا اور بہت رقم پیدا کی، کل مال سمیٹ کر بہت مدت بعد یہ پھر اسی اپنے گاؤں میں آ گیا اور ایک بڑھیا عورت کو بلا کر کہا کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ گاؤں میں بہت خوبصورت عورت ہو اس سے میرا نکاح کرادو۔ یہ عورت گئی اور چونکہ شہر بھر میں اس لڑکی سے زیادہ خوش شکل کوئی عورت نہ تھی یہیں پیغام ڈالا، منظور ہو گیا نکاح بھی ہو گیا اور وداع ہو کر یہ اس کے یہاں آ بھی گئی۔

دلوں میاں بیوی میں بہت محبت ہو گئی ایک دن ذکر اذکار میں اس عورت نے اس سے پوچھا آخر آپ کون ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں یہاں کیسے آگئے؟ وغیرہ۔ اس نے اپنا تمام ماجرایان کر دیا کہ میں یہاں ایک عورت کے ہاں ملازم تھا وہاں سے اس کی لڑکی کے ساتھ یہ حرکت کر کے بھاگ گیا تھا اب اتنے برسوں بعد یہاں آیا ہوں۔ تو اس لڑکی نے کہا جس کا پیٹ چیر کر تم بھاگے تھے میں وہی ہوں۔ یہ کہہ کر اپنے اس زخم کا نشان بھی اسے دکھایا، تب تو اسے یقین آ گیا اور کہنے لگا جب تو وہی ہے تو ایک بات تیری نسبت مجھے اور بھی معلوم ہے وہ یہ کہ تو ایک سو آدمی سے مجھ سے پہلے مل چکی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ کام تو مجھ سے ہوا ہے لیکن گنتی یاد نہیں۔

اس نے کہا کہ مجھے تیری نسبت ایک اور بات بھی معلوم ہے وہ یہ کہ تیری موت کا سبب ایک کڑی بنے گی، خیر چونکہ مجھے تجھ سے



بہت زیادہ محبت ہے میں تیرے لیے ایک بلند و بالا پختہ اور اعلیٰ کل تعمیر کر دیتا ہوں۔ اس میں تو رہنا کہ وہاں تک ایسے کپڑے کوڑے پہننے ہی نہ سکیں۔ چنانچہ ایسا ہی عمل تعمیر ہوا اور یہ وہاں رہے سہنے لگی..... ایک مدت کے بعد ایک روز دونوں میاں بیوی بیٹھے تھے کہ اچانک چھت پر ایک مگڑی دکھائی دی۔ اسے دیکھتے ہی اس شخص نے کہا دیکھو! آج یہاں مگڑی دکھائی دی، عورت بولی اچھا یہ میری جان لیوا ہے؟ جب ہی سہی کہ میں اس کی جان لوں۔ غلام کو حکم دیا کہ اسے زندہ پکڑ کر میرے سامنے لاؤ۔ وہ پکڑ کر لایا، اس نے زمین پر رکھ کر اپنے پیر کے انگوٹھے سے اسے مل ڈالا اور اس کی جان نکل گئی اس سے جو پیپ نکلا اس کا ایک آدھ قطرہ اس کے انگوٹھے کے ناخن اور گوشت کے درمیان اڑ کر پڑا اس کا زہر چھایا سیاہ پڑ گیا اور اسی میں مر گئی۔ (تفسیر ابن کثیر: ۱/۶۰۲، ۶۰۳)

### (۹۷) بہت بڑا مجرم اور مفرور شخص ایک آیت سن کر صالح ہو گیا

سلطنت بنو امیہ کا ایک باغی شخص جس کا نام علی اسدی تھا اس نے لڑائی کی ہر باتے پر کر دیئے، لوگوں کو قتل کیا، مال لوٹا، سالار لشکر اور رعایا نے ہر چند اسے گرفتار کرنا چاہا لیکن یہ ہاتھ نہ لگا۔ ایک مرتبہ جنگ میں تھا کہ ایک شخص کو قرآن پڑھتے سنا وہ اس وقت یہ آیت تلاوت کر رہا تھا:

﴿قُلْ يٰٓعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ﴾ (سورہ زمر: آیت ۵۴)

ترجمہ: ”میری جانب سے کہہ دو کہ اے میرے بندو! جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے تم اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو جاؤ، بالیقین اللہ تعالیٰ سارے گناہ بخش دیتا ہے، واقعی وہ بڑی بخشش، بڑی رحمت والا ہے۔“

یہ اسے سن کر ٹھنک گیا اور اس سے کہا ”اے خدا کے بندے! یہ آیت مجھے دوبارہ سنا۔“ اس نے پھر پڑھی۔ خدا کے اس ارشاد کو سن کر وہ فرماتا ہے ”اے میرے گنہگار بندو! تم میری رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ میں سب گناہوں کو بخشنے پر قادر ہوں، میں غفور و رحیم ہوں۔“ اس شخص نے جھٹ سے اپنی تلوار کو میان میں کر لیا اور اسی وقت سچے دل سے توبہ کی اور صبح کی نماز سے پہلے مدینہ پہنچ گیا، غسل کیا اور مسجد نبوی میں نماز صبح جماعت کے ساتھ ادا کی اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس جو لوگ بیٹھے تھے ان میں ایک طرف یہ بھی بیٹھ گیا۔ جب چاند ناسا ہو گیا تو لوگوں نے اسے پہچان لیا کہ یہ تو سلطنت کا باغی بہت بڑا مجرم اور مفرور شخص علی اسدی ہے۔ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے کہ اسے گرفتار کر لیں، اس نے کہا ”سنو بھائیو! تم مجھے گرفتار نہیں کر سکتے اس لیے کہ تم مجھ پر قابو پاؤ اس سے پہلے ہی میں توبہ کر چکا ہوں بلکہ توبہ کے بعد تمہارے پاس آ گیا ہوں۔“ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ سچ کہتا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر مروان بن حکم کے پاس چلے۔ یہ اس وقت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے مدینہ کے گورنر تھے۔ وہاں پہنچ کر فرمایا یہ علی اسدی ہے یہ توبہ کر چکے ہیں اس لیے اب تم انہیں کچھ نہیں سکتے۔ چنانچہ کسی نے اس کے ساتھ کچھ نہ کیا۔ جب مجاہدین کی ایک جماعت رومیوں سے لڑنے کے لیے چلی تو ان مجاہدوں کے ساتھ یہ بھی ہوئے۔ سمندر میں ان کی کشتی جاری تھی کہ سامنے سے چند کشتیاں رومیوں کی آگئیں یہ اپنی کشتی میں سے رومیوں کی گردنیں مارنے کے لیے ان کی کشتی میں کود گئے۔ ان کی آبدار خارشکاف تلوار کی چمک کی تاب روی نہ لاسکے اور نامردی سے ایک طرف کو بھاگے یہ بھی ان کے پیچھے اسی طرح چلے، چونکہ سارا بوجھ ایک طرف ہو گیا اس لیے کشتی پلٹ گئی جس سے وہ سارے رومی ہلاک ہو گئے اور حضرت علی اسدی رضی اللہ عنہ بھی ڈوب کر شہد ہو گئے (خدا ان پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے)۔ (تفسیر ابن کثیر: جلد ۶ صفحہ ۷۴۸)

### (۹۸) دجال کے بارے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا درد بھرا بیان

صبح مسلم میں ہے ایک دن صبح کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا اور اس طرح اسے بلند و پست کیا کہ ہم سمجھے کہیں مدینہ کے

نکستان میں موجود نہ ہو پھر جب ہم لوٹ کر آپ ﷺ کی طرف آئے تو ہمارے چہروں سے آپ ﷺ نے جان لیا اور دریافت فرمایا کیا بات ہے؟ ہم نے بیان کر دیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: اگر وہ میری موجودگی میں نکلا تو میں خود اسے سمجھ لوں گا اور اگر وہ میرے بعد آیا تو ہر مسلمان اس سے آپ بھگت لے گا۔ میں اپنا خلیفہ ہر مسلمان پر خدا کو بنا تا ہوں، وہ جو ان کو آنگھ اس کی ابھری ہوئی ہوگی، بس یوں سمجھ لو کہ عبدالعزیٰ بن قطن کی طرح ہوگا تم میں سے جو اسے دیکھے اس کو چاہیے کہ سورہ کہف کی ابتدائی آیتیں پڑھے۔ وہ شام و عراق کے درمیانی گوشہ سے نکلے گا اور دائیں بائیں گشت کرے گا۔ اے اللہ کے بندو! خوب ثابت قدم رہنا۔

ہم نے پوچھا حضور! وہ کتنی مدت رہے گا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: چالیس دن۔ ایک دن ایک سال کے برابر، ایک دن ایک مہینے کے برابر، ایک دن ایک ہفتہ کے برابر اور باقی دن تمہارے معمولی دنوں کی طرح..... پھر ہم نے دریافت کیا کہ جو دن سال کے برابر ہوگا اس میں ایک ہی دن کی نمازیں کافی ہوں گی؟ آپ ﷺ نے فرمایا: نہیں! بلکہ اندازہ کر لو۔ ہم نے پوچھا: یا رسول اللہ ﷺ اس کی رفتار کی سرعت کیسی ہوگی؟ فرمایا: ایسی جیسے بادل ہواؤں سے بھاگتے ہیں۔ ایک قوم کو اپنی طرف بلائے گا، وہ مان لیں گے تو آسمان سے ان پر بارش ہوگی، زمین سے کھیتی اور پھل اُگیں گے، ان کے جانور تر و تاز و اور زیادہ دودھ دینے والے ہو جائیں گے۔ ایک قوم کے پاس جائے گا جو اسے جھٹلائے گی اور ان کا انکار کر دے گی، یہ وہاں سے واپس ہوگا تو اس کے ہاتھ میں کچھ نہ رہے گا۔ وہ پھر زمین پر کھڑا ہو کر حکم دے گا کہ اے زمین کے خزانو! نکل آؤ تو وہ سب نکل آئیں گے اور شہد کی مکھیاں کی طرح اس کے پیچھے پیچھے پھریں گے۔ پھر یہ ایک نوجوان کو بلائے گا اور اسے قتل کرے گا اور اس کے ٹھیک دو کلاے کر کے اتنی دور ڈال دے گا کہ ایک تیر کی رفتار ہو، پھر اسے آواز دے گا تو وہ زندہ ہو کر ہنستا ہوا اس کے پاس آجائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ سبحانہ بن مریم علیہا السلام کو بھیجے گا، وہ دمشق کے سفید مشرقی مینارے کے پاس دو چادریں اوڑھے باندھے دو فرشتوں کے پروں پر بازو رکھے ہوئے اتریں گے جب سر جھکائیں گے تو قطرے ٹپکیں گے اور جب اٹھائیں گے تو مثل موتیوں کے وہ قطرے لڑھکیں گے، جس کا فریک ان کا سانس پہنچ جائے گا وہ مر جائے گا اور آپ ﷺ کا سانس وہاں تک پہنچے گا جہاں تک نگاہ پہنچے۔ آپ ﷺ دجال کا پچھا کریں گے اور باب لد کے پاس اسے پا کر قتل کر دیں گے۔ پھر ان لوگوں کے پاس آئیں گے جنہیں خدا نے اس فتنے سے بچایا ہوا ہوگا، ان کے چہروں پر ہاتھ پھیریں گے اور ان کے جنتی درجوں کی انہیں خبر دیں گے۔ اب خدا کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی آئے گی کہ میں اپنے بندوں کو بھیجتا ہوں جن کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، تم میرے ان خاص بندوں کو طور کی طرف لے جاؤ پھر ماجوج و ماجوج نکلیں گے اور وہ ہر طرف سے کودتے پھاندتے آجائیں گے۔ بھیرہ بھیرہ پر ان کا پہلا گروہ آئے گا اس کا سارا پانی پی جائے گا جب ان کے بعد ہی دوسرا گروہ آئے گا تو وہ ایسا سوکھا پڑا ہوگا کہ وہ کہیں گے شاید یہاں کبھی پانی ہوگا۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی مومن وہاں (کوہ طور پر) اس قدر محصور رہیں گے کہ ایک نیکل کا سرا نہیں اس سے بھی اچھا لگے گا جیسے تمہیں آج ایک سو دینار محبوب ہیں۔ اب آپ ﷺ اور مومن خدا سے دعائیں اور التجائیں کریں گے، اللہ تعالیٰ ان (ماجوج و ماجوج) پر گردن کی گٹھی کی بیماری بھیج دے گا جس میں سارے کے سارے ایک ساتھ ایک دم میں فنا ہو جائیں گے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی زمین پر اتریں گے مرکز زمین پر بابت بھر جگہ بھی ایسی نہ پائیں گے جو ان کی لاشوں اور بدبو سے خالی ہو۔ پھر آپ ﷺ اللہ تعالیٰ سے دعائیں اور التجائیں کریں گے تو سختی اونٹوں کی گردنوں کے برابر ایک قسم کے پرند اللہ تعالیٰ بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو جہاں خدا چاہے ڈال آئیں گے۔ پھر بارش ہوگی جس سے تمام زمین دھل دھلا کر آئینہ کی طرح صاف ہو جائے گی۔ پھر زمین کو حکم ہوگا کہ اپنے خزانے نکال اور اپنی برکتیں لوٹا۔ اس دن ایک انار ایک جماعت کو کافی ہوگا اور وہ سب اس کے چھلکے تلے آرام حاصل کر سکیں گے۔ ایک اونٹنی کا دودھ ایک پورے قبیلے سے نہیں پیا جائے گا۔ پھر پروردگار عالم ایک لطیف اور پاکیزہ ہوا چلائے گا جو تمام ایمانداروں مرد عورتوں کے بغل تلے سے نکل جائے گی اور ساتھ ہی ان کی روح بھی پرواز کر جائے گی اور بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے جو آپس

## ﴿۹۹﴾ دجال کے فتنے اور قیامت کی نشانیاں

محدثین نے لکھا ہے کہ درج ذیل حدیث اپنے بچوں کو سکھائیے بلکہ لکھوائیے تاکہ انہیں بھی یاد رہے ابن ماجہ میں ہے کہ حضور ﷺ نے اپنے ایک خطبہ کا مکہ و پیش حصہ دجال کا واقعہ بیان کرنے، اس سے ڈرانے میں صرف کیا۔ جس میں یہ بھی فرمایا کہ دنیا کی ابتداء سے لے کر انتہاء تک کوئی فتنہ اس سے بڑا نہیں۔ تمام انبیاء علیہم السلام اپنی اپنی امتوں کو اس سے آگاہ کرتے رہے ہیں۔ میں سب سے آخری نبی ہوں اور تم سب سے آخری امت ہو، وہ یقیناً تمہیں میں آئے گا۔ اگر میری موجودگی میں آگیا تب تو میں اس سے نمٹ لوں گا اور اگر بعد میں آیا تو ہر شخص کو اپنا آپ اس سے پہچانا پڑے گا۔ میں اللہ تعالیٰ کو ہر مسلمان کا خلیفہ بنا تا ہوں۔ وہ شام و عراق کے درمیان نکلے گا، دائیں بائیں خوب گھومے گا۔ لوگو! اے اللہ تعالیٰ کے بندو! دیکھو! تم ثابت قدم رہنا۔ سنو! میں تمہیں اس کی ایسی صفت سنا تا ہوں جو کسی نبی نے اپنی امت کو نہیں سنائی۔

وہ ابتدا دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، پس تم یاد رکھنا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں..... پھر وہ اس سے بھی بڑھ جائے گا اور کہے گا کہ میں خدا ہوں، پس تم یاد رکھنا کہ خدا کو ان آنکھوں سے کوئی نہیں دیکھ سکتا، ہاں! مرنے کے بعد دیدار باری تعالیٰ ہو سکتا ہے..... اور سنو! وہ کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا۔ جسے پڑھا لکھا اور ان پڑھ غرض ہر ایمان دار پڑھ لے گا۔ اس کے ساتھ آگ ہوگی اور باغ ہوگا۔ اس کی آگ دراصل جنت ہے اور اس کا باغ دراصل جہنم ہے۔ سنو! تم میں سے جسے وہ آگ میں ڈالے وہ اللہ تعالیٰ سے فریادرسی چاہے اور سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے، اس کی وہ آگ اس پر ٹھنڈک اور سلامتی بن جائے گی جیسے کہ خلیل اللہ علیہ السلام پر نمرود کی آگ ہو گئی تھی۔

اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک اعرابی سے کہے گا کہ اگر میں تیرے مرے ہوئے ماں باپ کو زندہ کر دوں، پھر تو مجھے رب مان لے گا۔ وہ اقرار کرے گا۔ اتنے میں دو شیطان اس کی ماں اور باپ کی شکل میں ظاہر ہوں گے اور اسے کہیں گے بیٹے! یہی تیرا رب ہے تو اسے مان لے۔ اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک شخص پر مسلط کر دیا جائے گا۔ اسے آرے سے چڑا کر دو ٹکڑے کر دے گا۔ پھر لوگوں سے کہے گا کہ میرے اس بندے کو دیکھنا اب میں اسے زندہ کر دوں گا۔ لیکن پھر بھی یہ یہی کہے گا اس کا رب میرے سوا اور ہے۔ چنانچہ یہ اسے اٹھائے، بٹھائے گا اور یہ غیبت اس سے پوچھے گا کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دے گا میرا رب اللہ تعالیٰ ہے اور تو خدا کا دشمن دجال ہے خدا کی قسم! اب تو مجھے پہلے سے بھی بہت زیادہ یقین ہو گیا۔ دوسری سند سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: یہ مومن میری تمام امت سے زیادہ بلند درجہ کا امتی ہوگا۔

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو سن کر ہمارا خیال تھا کہ یہ شخص حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہی ہوں گے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت تک ہمارا یہی خیال رہا۔ حضور ﷺ فرماتے ہیں، اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ آسمان کو پانی برسوانے کا حکم دے گا اور آسمان سے بارش ہوگی، وہ زمین کو پیداوار اُگانے کا حکم دے گا اور زمین سے پیداوار ہوگی۔

اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک قبیلے کے پاس جائے گا اور وہ اسے نہ مانیں گے اسی وقت ان کی تمام چیزیں برباد اور ہلاک ہو جائیں گی..... دوسرے قبیلے کے پاس جائے گا جو اسے خدا مان لے گا۔ اسی وقت اس کے حکم سے ان پر آسمان سے بارش برے گی اور زمین پھل اور کھیتی اُگائے گی ان کے جانور پہلے سے زیادہ موٹے تازے اور دودھ والے ہو جائیں گے۔

سوائے مکہ اور مدینہ کے تمام زمین (ممالک) کا دورہ کرے گا۔ جب مدینہ کا رخ کرے گا تو یہاں ہر راہ پر فرشتوں کو کھلی تلواریں

لیے ہوئے پائے گا تو سچہ کی انتہائی حد پر ظریب احمر کے پاس ٹھہر جائے گا۔ پھر مدینہ میں تین بھونچال آئیں گے اس وجہ سے جتنے منافق مرد اور جس قدر منافقہ عورتیں ہوں گی اور سب مدینہ سے نکل کر اس کے لشکر میں مل جائیں گے اور مدینہ ان گندے لوگوں کو اس طرح اپنے میں سے دور پھینک دے گا جس طرح بمبئی لوہے کے نسل کچیل کو الگ کر دیتی ہے۔ اس دن کا نام یوم الخصاص ہوگا۔

ام شریک رضی اللہ عنہما نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ! اس دن عرب کہاں ہوں گے؟ فرمایا: اولاً تو ہوں گے ہی بہت کم اور اکثریت ان کی بیت المقدس میں ہوگی۔ ان کا امام ایک صالح شخص ہوگا جو آگے بڑھ کر صبح کی نماز پڑھا رہا ہوگا، جب حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے۔ یہ امام پچھلے ہیروں پیچھے ہٹے گا، تاکہ آپ علیہ السلام آئے بڑھ کر امامت کرائیں، لیکن آپ علیہ السلام اس کی کسر پر ہاتھ رکھ کر فرمائیں گے کہ آگے بڑھو اور نماز پڑھاؤ، اقامت تمہارے لیے کہی گئی ہے۔ پس ان کا امام ہی نماز پڑھائے گا۔

نماز سے فارغ ہو کر آپ علیہ السلام فرمائیں گے دروازہ کھول دو۔ پس کھول دیا جائے گا، ادھر دجال ستر ہزار یہودیوں کا لشکر لیے ہوئے موجود ہوگا جن کے سر پر تاج اور جن کی تلواروں پر سونا ہوگا۔ دجال آپ علیہ السلام کو دیکھ کر اس طرح گھٹنے لگے گا جس طرح نمک پانی میں گھلتا ہے اور ایک دم پیٹھ پھیر کر بھاگنا شروع کر دے گا۔ لیکن آپ علیہ السلام فرمائیں گے خدا نے مقرر کر دیا ہے کہ تو میرے ہاتھ سے ایک ضرب کھائے گا تو اسے مال نہیں سکتا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام اسے ہائب لُدد کے پاس پکڑ لیں گے اور وہیں اسے قتل کر دیں گے۔ اب یہودی بدحواسی سے منتشر ہو کر بھاگیں گے، لیکن انہیں سر چھپانے کو جگہ نہ ملے گی۔ ہر پتھر، ہر درخت، ہر دیوار اور ہر جانور بولتا ہوگا کہ اے مسلمان! یہاں یہودی ہے، آخر اسے مار ڈال۔ ہاں! بول کا درخت یہودیوں کا درخت ہے یہ نہیں بولے گا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام میری امت میں حاکم ہوں گے، عادل ہوں گے، امام ہوں گے، بالانصاف ہوں گے، صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیے کو ہٹادیں گے، حسد اور بغض بالک جاتا رہے گا، ہرزہ ہریٹے جانور کا زہر ہٹا دیا جائے گا۔ بچے اپنی انگلی سانپ کے منہ میں ڈالیں گے لیکن وہ انہیں کوئی ضرر نہ پہنچائے گا۔ شیروں سے لڑکے کھیلیں گے، نقصان کچھ نہ ہوگا۔ بھیڑے بکریوں کے گلے (ریوز) میں اس طرح پھریں گے جیسے رکھوالا کتا ہو۔ تمام زمین اسلام اور اصلاح سے اس طرح بھر جائے گا جیسے کوئی برتن پانی سے لبا لب بھرا ہوا ہو۔ سب کا کلمہ ایک ہو جائے گا۔ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ ہوگی لڑائی اور جنگ بالکل موقوف ہو جائے گی۔ زمین مثل سفید چاندی کے منور ہو جائے گی۔ ایک جماعت کو ایک انگور کو خوشہ پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہوگا، ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ ایک جماعت کھائے اور سیر ہو جائے۔ نیل اتنی اتنی قیمت پر ملے گا اور گھوڑا چند روپوں پر ملے گا۔ لوگوں نے پوچھا اس کی قیمت گر جانے کی کیا وجہ ہوگی؟ فرمایا: اس لیے کہ لڑائیوں میں اس کی سواری بالکل نہ لی جائے گی۔ دریافت کیا گیا کہ نیل کی قیمت بڑھ جانے کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا: اس لئے کہ تمام زمین میں کھیتیاں ہونی شروع ہو جائیں گی۔

دجال کے ظہور سے تین سال و شتر سخت قحط سالی ہوگی۔ پہلے سال بارش کا تیسرا حصہ بحکم خدا روک لیا جائے گا اور زمین کی پیداوار کا بھی تیسرا حصہ کم ہو جائے گا۔ پھر دوسرے سال خدا آسمان کو حکم دے گا کہ بارش کی دو تہائیاں روک لے اور یہی حکم زمین کو ہوگا کہ اپنی پیداوار دو تہائی کم کر دے۔ تیسرے سال آسمان سے بارش کا ایک قطرہ نہ برے گا نہ زمین سے کوئی روئیدگی پیدا ہوگی۔ تمام جانور اس قحط سے ہلاک ہو جائیں گے، مگر جسے خدا چاہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ پھر اس وقت لوگ زندہ کیسے رہ جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان کی غذا کے قائم مقام اس وقت ان کا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہنا اور سُبْحَانَ اللَّهِ کہنا اور اللَّهُمَّ اللَّهُ کہنا ہوگا۔

امام ابن ماجہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میرے استاد نے اپنے استاد سے سنا وہ فرماتے تھے یہ حدیث اس قابل ہے کہ بچوں کے استاد اسے بچوں کو بھی سکھادیں، بلکہ لکھوائیں تاکہ انہیں بھی یاد رہے۔ (تفسیر ابن کثیر: جلد ۱ صفحہ ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲)

## ﴿ ۱۰۰ ﴾ قیامت کے دن متکبر لوگ چیونٹیوں کی شکل میں جمع کئے جائیں گے

مسند احمد میں ہے کہ قیامت کے دن متکبر لوگ چیونٹیوں کی شکل میں جمع کئے جائیں گے۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ان کے اوپر ہوگی، انہیں جہنم کے جیل خانے میں ڈالا جائے گا اور بھڑکتی ہوئی سخت آگ ان کے سروں پر شعلے مارے گی انہیں جہنمیوں کو لہو پیپ اور پاخانہ پیشاب پلایا جائے گا۔ (تفسیر ابن کثیر: جلد ۲ صفحہ ۴۷۴)

## ﴿ ۱۰۱ ﴾ بادلوں سے آواز آئی

چلو مدینے! عمر نے بلایا ہے، چلو مدینے! عمر نے بلایا ہے

حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب (نور اللہ مرقدہ و برد اللہ مضجعہ) نے پاکستان میں تقریر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دورِ خلافت (۱۸ھ) میں پورے جزیرہ عرب میں ایسا قحط پڑا کہ کھانے پینے کی چیزیں بھی کسی قیمت پر نہیں ملیں، قاقوں کی شدت کی وجہ سے لوگ انتقال کر رہے تھے، اسی دوران حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ اطلاع ملی کہ مصر کے اندر بے شمار پیداوار ہے اور مصر اس سے پہلے فتح ہو چکا تھا اور حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ وہاں کے گورنر تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو خط لکھا کہ:

”یہاں حجاز میں بالکل غلہ نہیں ہے، اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ مصر میں بہت غلہ ہے، لہذا یہاں والوں کے لیے وہاں سے غلہ بھیجو۔“

گورنر صاحب نے جواب تحریر فرمایا:

”آپ مطمئن رہیں میں اتنا بڑا قافلہ غلے سے لدوا کر بھیجوں گا کہ اس کا پہلا اونٹ مدینہ میں اتر رہا ہوگا اور آخری اونٹ مصر میں لد رہا ہوگا۔“

مصر اور حجاز کا ایک مہینہ کا راستہ ہے۔ جو اس زمانے میں اونٹوں کے ذریعے طے کیا جاتا تھا۔ یہ سارا راستہ غلہ کے اونٹوں سے بھر دوں گا۔ چنانچہ غلہ آیا اور اتنا ہی آیا اور مدینہ پاک میں اور اطراف میں منادی کروادی گئی کہ جس کا جی چاہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دسترخوان پر کھانا کھائے اور جس کا جی چاہے اپنا راشن اپنے گھر لے جائے چنانچہ ہزار ہا ہزار لوگوں نے وہیں دسترخوان پر کھانا کھایا اور بہت سے اپنے گھر لے گئے۔ ایک صحابی جو جنگل میں اپنے رضخان (ٹھکانے) پر رہتے تھے، انہوں نے بھی آنے جانے والوں سے سنا کہ مدینہ پاک میں غلہ آ گیا ہے اور تقسیم ہو رہا ہے ان کے پاس ایک بکری تھی، انہوں نے سوچا کہ میں چلا جاؤں گا اور اکیلی بکری کو کوئی جانور وغیرہ کھا جائے گا۔ لاؤ بکری کو ذبح کر لوں اور کھالوں کے چلنے کی طاقت آجائے گی۔ چنانچہ بکری کو ذبح کیا تو ایک قطرہ بھی خون نہ نکلا یہ منظر دیکھ کر وہ صحابی رو پڑے اور سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ ہمارا بھی برا حال ہے اور تو اور ہمارے جانوروں کا بھی خون خشک ہو گیا (بکری میں خون جب ہوتا جب چارہ کھاتی، پانی پیتی، جب نہ چارہ کھایا نہ پانی پیا، تو نہ خون رہا نہ نکلا) وہ صحابی سر پکڑ کر رونے لگے اور روتے روتے گر گئے اور گر کر نیند آ گئی۔ نیند میں انہوں نے دیکھا کہ رسول پاک ﷺ تشریف لائے اور فرمایا کہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ اور میری طرف سے سلام کہہ دو اور کہہ دو کہ تو بڑا عقلمند تھا تیری عقل کو کیا ہوا؟ یہ صحابی اٹھے اور گرتے پڑتے مدینہ طیبہ پہنچے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دروازے پر دستک دی اور کہا: رسول اللہ ﷺ کا قاصد اجازت طلب کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ننگے پیر مکان سے باہر تک آئے۔ پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے خواب کا پورا قصہ بیان کیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سن کر لرز گئے اور کہنے لگے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی؟ اس وقت مدینہ پاک میں جو اہل الرائے تھے ان کو جمع کیا اور ارشاد فرمایا کہ بھائی! بار بار میں تم لوگوں سے کہتا رہا کہ اگر مجھ سے کوئی چوک ہو جائے تو مجھے متنبہ کر دیا جائے مگر تم لوگوں نے مجھے متنبہ نہیں کیا، میرے آقا جناب محمد رسول اللہ ﷺ نے مجھے یہ پیام بھیجا ہے، بتاؤ! مجھ سے کیا غلطی ہوئی؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا کہ ہماری سمجھ میں تو کوئی غلطی نہیں آئی۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ میری سمجھ میں ایک

بات آئی ہے کہ آپ کے ملک میں قحط پڑ رہا تھا اور غلہ نہیں تھا اور لوگ بھوک کی وجہ سے مر رہے تھے، مگر بجائے اس کے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے آپ نے اپنے گورنر اور اپنے ہی جیسے انسان سے درخواست کی، یہ ہے وہ غلطی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: واقعاً یہی غلطی ہے، پھر سب نے کہا کہ واقعی یہی غلطی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس وقت دعا مانگی اپنی خطا کی معافی چاہی دعا کرنا تھا کہی آسمان کے بادلوں میں کھلی گئی اور دوڑ لگ گئی اور ہر بادل ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا:

چلو مدینے عمر رضی اللہ عنہ نے بلایا ہے

چلو مدینے عمر رضی اللہ عنہ نے بلایا ہے

(تاریخ کمال: جلد ۲، صفحہ ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، حضرت انس رضی اللہ عنہ، مولانا افتخار الحسن کا مدخلی ص ۶۰)

## (۱۰۲) نیک اور دیندار کی موت پر دھوم دھام عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے

اس مضمون کو بہت غور سے پڑھیں

اللہ تبارک و تعالیٰ ملک الموت سے فرماتا ہے کہ تو میرے دوست کے پاس جا میں نے اسے آسانی بخشی ہے ہر طرح آزما لیا ہے ہر ایک حالت میں اسے اپنی خوشی میں خوش پایا، تو جا اور اسے میرے پاس لے آ کہ میں اسے ہر طرح کا آرام و عیش دوں۔ ملک الموت اپنے ساتھ پانچ سو فرشتوں کو لے کر چلتے ہیں ان کے پاس جنتی کفن، وہاں کی خوشبو اور ریحان کے خوشے ہوتے ہیں جس کے سر پر بیس رنگ ہوتے ہیں ہر رنگ کی خوشبو الگ الگ ہوتی ہے۔ سفید ریشمی کپڑے میں اعلیٰ مشک بہ تکلف لپیٹی ہوتی ہے۔ یہ سب آتے ہیں، ملک الموت تو اس کے سر ہانے بیٹھ جاتے ہیں اور فرشتے اس کے چاروں طرف بیٹھ جاتے ہیں۔ ہر ایک کے ساتھ جو کچھ جنتی تحفہ ہے وہ اس کے اعضاء پر رکھ دیا جاتا ہے اور سفید ریشم اور مشک اس کی تھوڑی تلے رکھ دیا جاتا ہے۔ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور اس کی روح کبھی جنتی پھولوں سے کبھی جنتی لباسوں سے کبھی جنتی پھولوں سے اس طرح بہلائی جاتی ہے جیسے روتے ہوئے بچے کو لوگ بہلاتے ہیں اس وقت اس کو حوریں ہنس ہنس کر اس کی چاہت کرتی ہیں۔ روح ان مناظر کو دیکھ کر بہت جلد جسمانی قید سے نکل جانے کا قصد کرتی ہے۔ ملک الموت فرماتے ہیں ہاں! اے پاک روح بغیر کانٹے کی بیڑیوں کی طرف اور لدے ہوئے کیلوں کی طرف اور لمبی لمبی چھاؤں کی طرف اور پانی کے جھرنوں کی طرف چل۔ واللہ ماں جس قدر بچے پر مہربان ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ ملک الموت اس پر شفقت و رحمت کرتا ہے اس لیے کہ اسے علم ہے کہ یہ محبوب خدا ہے، اگر اسے ذرا سی بھی تکلیف پہنچی تو میرے رب کی ناراضگی مجھ پر ہوگی۔ بس اس طرح اس روح کو اس جسم سے الگ کر لیتا ہے جیسے گندھے ہوئے آنے میں سے بال۔

ملک الموت کے روح کو قبض کرتے ہی روح جسم سے کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ عزوجل تجھے جزائے خیر دے تو خدا کی اطاعت کی طرف جلدی کرنے والا اور خدا کی معصیت سے دیر کرنے والا تھا۔ تو نے آپ بھی نجات پائی اور مجھے بھی نجات دلوائی۔ جسم بھی روح کو ایسا ہی جواب دیتا ہے۔ زمین کے وہ تمام حصے جن پر وہ عبادت خدا کرتا تھا اس کے مرنے سے چالیس دن تک روتے ہیں۔ اسی طرح آسمان کے وہ کل دروازے جن سے اس کے نیک اعمال چڑھتے تھے اور جن سے اس کی روزیاں اترتی تھیں اس پر روتے ہیں۔

اسی وقت وہ پانچ سو فرشتے اس جسم کے ارد گرد کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کو نہلانے میں شامل رہتے ہیں انسان اس کی کروٹ بدلے، اس سے پہلے خود فرشتے بدل دیتے ہیں اور اسے نہلا کر انسانی کفن سے پہلے اپنا ساتھ لایا ہوا کفن پہنا دیتے ہیں اور ان کی خوشبو سے پہلے اپنی خوشبو لگا دیتے ہیں اور اس کے گھر کے دروازے سے لے کر اس کی قبر تک دو رخ میں باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے لیے استغفار کرنے لگتے ہیں۔ اس وقت شیطان اس روز سے رنج کے ساتھ چیختا ہے کہ اس کے جسم کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں اور کہتا ہے کہ میرے لشکر یو! تم برباد ہو جاؤ ہائے یہ تمہارے ہاتھوں کیسے بچ گیا؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ یہ تو معصوم تھا۔

جب اس کی روح کو لے کر ملک الموت چڑھتے ہیں تو حضرت جبرئیل علیہ السلام ستر ہزار فرشتوں کو لے کر اس کا استقبال کرتے ہیں۔ ہر ایک اسے جداگانہ بشارتِ خداوندی سناتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کی روح عرشِ خدا کے پاس پہنچتی ہے وہاں جاتے ہی جہنم میں گر پڑتی ہے۔ اسی وقت جناب باری تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ میرے بندے کی روح کو بغیر کانٹوں کی بیڑیوں میں اور تہ بہ تہ کیلوں کے درختوں میں اور لمبے سایوں میں اور بہتے پانیوں میں جگہ دو۔ پھر جب اسے قبر میں رکھا جاتا ہے تو دائیں طرف نماز کھڑی ہو جاتی ہے، بائیں جانب روزہ کھڑا ہو جاتا ہے، سر کی طرف قرآن آجاتا ہے، نمازوں کو چل کر جانا بیڑوں کی طرف ہوتا ہے۔ ایک کنارے صبر کھڑا ہو جاتا ہے۔ عذاب کی ایک گرو لگتی آتی ہے لیکن دائیں جانب سے نماز اسے روک دیتی ہے کہ یہ ہمیشہ چوکنار ہا اب اس قبر میں آکر ذرا راحت پائی۔ وہ بائیں طرف سے آتی ہے، یہاں سے روزہ بھی کہہ کر اسے آنے نہیں دیتا۔ سر ہانے سے آتی ہے یہاں سے قرآن اور ذکر بھی کہہ کر آڑے آتے ہیں۔ وہ بیڑوں کی طرف سے آتی ہے یہاں سے اس کا نمازوں کے لیے چل کر جانا اور اسے روک دیتا ہے۔ غرض چو طرف سے محبوب کے لیے روک ہو جاتی ہے اور عذاب کو کہیں سے راہ نہیں ملتی وہ واپس چلا جاتا ہے۔ اس وقت صبر کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ اگر تم سے ہی یہ عذاب دفع ہو جائے تو مجھے بولنے کی کیا ضرورت؟ ورنہ میں بھی اس کی حمایت کرتا اب میں پل صراط پر اور میزان کے وقت اس کے کام آؤں گا۔ اب دو فرشتے بھیجے جاتے ہیں ایک کو نکیر کہا جاتا ہے دوسرے کو منکر۔ یہ اچک لے جانے والی بجلی جیسے ہوتے ہیں۔ ان کے دانت سیاہ جیسے ہوتے ہیں۔ ان کے سانس سے شعلے نکلتے ہیں۔ ان کے بال بیڑوں تلے لٹکے ہوتے ہیں۔ ان کے دونوں کندھوں کے درمیان اتنی اتنی مسافت ہوتی ہے۔ ان کے دل نرمی اور رحمت سے بالکل خالی ہوتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کے ساتھ میں ہتھوڑے ہوتے ہیں کہ اگر قبیلہ ربیعہ اور قبیلہ معز جمع ہو کر اسے اٹھانا چاہیں تو ناممکن ہے۔ وہ آتے ہی اسے کہتے ہیں اٹھ بیٹھ۔ یا اٹھ کر سیدھی طرح بیٹھ جاتا ہے۔ اس کا کفن اس کے پہلو پر آجاتا ہے۔ وہ اس سے پوچھتے ہیں! تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرا نبی کون ہے؟

صحابہ رضی اللہ عنہم سے رہا نہ گیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ! ایسے ڈراؤنے فرشتوں کو کون جواب دے گا؟ آپ ﷺ نے اسی آیت ﴿يُسَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَمْ يَلِدُوا﴾ کی تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ وہ بے حجب جواب دیتا ہے کہ میرا رب اللہ وَحْدًا كَمَا لَا شَرِيكَ لَهُ ہے۔ اور میرا دین اسلام ہے۔ جو فرشتوں کا بھی دین ہے اور میرے نبی محمد ﷺ ہیں جو خاتم النبیین تھے۔

وہ کہتے ہیں آپ نے صحیح جواب دیا اب تو وہ اس کے لیے اس کی قبر کو اس کے دائیں سے اس کے بائیں سے اس کے آگے سے، اس کے پیچھے سے، اس کے سر کی طرف سے، اس کے پاؤں کی طرف سے چالیس چالیس ہاتھ کشادہ کر دیتے ہیں، وہ دوسو ہاتھ کی وسعت کر دیتے ہیں اور چالیس ہاتھ کا احاطہ کر دیتے ہیں اور اس سے فرماتے ہیں اپنی نظریں اوپر اٹھا۔ یہ دیکھتا ہے کہ جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں اے خدا کے دوست! چونکہ تو نے خدا کی بات مان لی ہے تیری منزل یہ ہے۔

حضور ﷺ فرماتے ہیں کہ اس خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد (ﷺ) کی جان ہے، اس وقت جو سرور و راحت اس کے دل کو ہوتی ہے وہ لازوال ہوتی ہے پھر اس سے کہا جاتا ہے اب اپنے نیچے دیکھ۔ یہ دیکھتا ہے کہ جہنم کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ دیکھ اس سے خدا نے تجھے ہمیشہ کے لیے نجات بخشی۔ پھر تو اس کا دل اتنا خوش ہوتا ہے کہ یہ خوشی ابد الابد تک ہمتی نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس کے لیے ستر دروازے جنت کے کھل جاتے ہیں جہاں سے باہر صبا کی لہنیٹیں خوشبو اور ٹھنڈک کے ساتھ آتی رہتی ہیں یہاں تک کہ اللہ عزوجل اس کو اس خواب گاہ سے قیامت کے قائم ہو جانے پر اٹھائے۔ (تفسیر ابن کثیر: جلد ۲ صفحہ ۷۲۷)۔

(۱۰۳) میت پر آنسو بہانا جائز ہے مگر میت پر نوحہ اور ماتم نہیں کرنا چاہیے

زمانہ جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ جب کوئی بڑا آدمی مر جاتا تھا تو وہ وصیت کر کے جاتا کہ چھ مہینے تک یا سال یا دو برس تک مجھے رویا

جائے، اب ظاہر بات ہے کہ اتنے دنوں تک آنکھوں میں کوئی آنسو لے کر بیٹھ جائے تو یہ ہو نہیں سکتا اور نہ روئے تو لوگ کہیں گے بھی کوئی بڑا آدمی نہیں تھا معمولی تھا مگر گیا۔ لہذا چھ مہینے روونا کہ معلوم ہو کہ بڑا آدمی گزرا ہے۔ مگر اب چھ مہینے تک روئے کون؟ تو رونے والیاں کرائے پر لی جاتی تھیں کہ وہ چھ مہینے تک بیٹھ کر روئیں۔ اور وہ عورتیں ہی رکھی جاتی تھیں اس لیے کہ آنسو بہانا انہیں آسانی سے آتا ہے بس ارادہ کیا اور ٹپ ٹپ آنسو ٹپکنے شروع ہو گئے تو رونے اور زلزلانے کے لیے عورتوں سے بہتر دوسرا کرایہ دار نہیں مل سکتا تھا اس لیے عورتوں کو کرایہ پر رکھتے تھے۔ اجرت بھی دی جاتی اور کھانا کپڑا بھی۔ اور ان کا طریقہ کیا تھا؟ گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ کھاپی رہی ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ کوئی تعزیت کے لیے آیا، بس وہ فوراً گھیرا بنا کر بیٹھ گئیں اور انہوں نے ”راں ران“ کر کے رونا شروع کر دیا کہ: **وَاكْبَلَاہَا وَكَبَّلَاہَا** تو تو پہاڑ تھا، تو تو آفتاب تھا، چاند تھا وغیرہ۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ مرخص ہوئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص اور عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم کو ساتھ لئے ہوئے ان کی عیادت کے لیے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اندر تشریف لائے تو ان کو عاشرہ میں یعنی بڑی سخت حالت میں پایا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس حالت میں دیکھا کہ ان کے گرد آدمیوں کی بھیر لگی ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”ختم ہو چکے“ (بطور مایوسی یا حاضرین سے استفسار کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی) تو لوگوں نے عرض کیا ”نہیں حضرت! ابھی ختم نہیں ہوئے“ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی حالت دیکھ کر رونا آ گیا۔ جب اور لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گریہ کے آثار دیکھے تو وہ بھی رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”لوگو! اچھی طرح سن لو اور سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ آنکھ کے آنسو اور دل کے غم پر تو سزا نہیں دیتا کیونکہ اس پر بندے کا اختیار اور قیادہ نہیں ہے۔“ پھر زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ”لیکن اس کی غلطی پر یعنی زبان سے جو حد ماتم کرنے پر سزا بھی دیتا ہے اور پڑھنے پر اور دعا و استغفار کرنے پر رحمت بھی فرماتا ہے۔“ (صحیح بخاری صحیح مسلم، معارف اللہ ص ۷)

حضرت اُم سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ان کے شوہر ابوسلمہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ان کی آنکھیں کھلی رہ گئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بند کیا اور فرمایا ”جب روح جسم نکالی جاتی ہے تو بینائی بھی اس کے ساتھ چلی جاتی ہے اس لیے موت کے بعد آنکھوں کو بند کر دینا چاہیے۔“ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر ان کے گھر کے لوگ چلا چلا کر رونے لگے اور اس رنج و صدمہ کی حالت میں ان کی زبانوں سے ایسی باتیں نکلنے لگیں جو خود ان لوگوں کے حق میں بددعا تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”لوگو! اپنے حق میں خیر اور بھلائی کی دعا کرو اس لیے کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو ملائکہ اس پر آمین کہتے ہیں۔“ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس طرح دعا فرمائی:

”اے اللہ! ابوسلمہ رضی اللہ عنہ کی مغفرت فرما اور اپنے ہدایت یافتہ بندوں میں ان کا درجہ بلند فرما اور اس کے بجائے تو ہی سرپرستی اور نگرانی فرما اس کے پسماندگان کی۔ اور رب العالمین بخش دے ہم کو اور اس کو اور اس کی قبر کو وسیع اور منور فرما۔“

(صحیح مسلم، معارف اللہ ص ۷)

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے جملہ استرجاع **يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا** اور اللہ کی قضا پر راضی رہنا مسنون قرار دیا اور یہ باتیں گریہ چشم اور غم دل کے منافی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق میں سب سے زیادہ راضی بقضائے الہی اور سب سے زیادہ حمد کرنے والے تھے اور اس کے باوجود اپنے صاحبزادے ابراہیم رضی اللہ عنہ پر وفور محبت و شفقت سے رقت کے باعث رو دیئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا و شکر سے بھر پور اور زبان اس کے ذکر و حمد میں مشغول تھی۔ (ذوالعاد)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ابوسیف آہنگر کے گھر گئے، یہ ابوسیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ابراہیم کی دایہ خولہ بنت منذر کے شوہر تھے اور ابراہیم رضی اللہ عنہ اس وقت کے رواج کے مطابق اپنی دایہ کے گھر ہی رہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحبزادے کو اٹھالیا، چوما اور ان کے رخساروں پر ناک رکھی، جیسا کہ بچوں کو پیار کرتے وقت کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کے صاحبزادے صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیماری میں ہم وہاں گئے۔ اس وقت ابراہیم جان دے رہے تھے۔



نزع کے عالم میں تھے۔ ان کی اس حالت کو دیکھ کر رسول اللہ ﷺ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے (جو نادانیت کی وجہ سے سمجھتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ اس قسم کی چیزوں سے متاثر نہیں ہو سکتے) تعجب سے کہا ”یا رسول اللہ! آپ کی بھی یہ حالت؟“ آپ ﷺ نے فرمایا ”اے ابن عوف! یہ کوئی بری بات اور بری حالت نہیں بلکہ یہ شفقت اور دردمندی ہے۔“ پھر دوبارہ آپ ﷺ کی آنکھوں سے آنسو بہے تو آپ ﷺ نے فرمایا ”آگے آنسو بہاتی ہے اور دل مغموم ہے اور زبان سے ہم وہی کہیں گے جو اللہ کو پسند ہے یعنی ﴿يَا لَهِ وَيَا لَئِيْلًا رُجُوعًا﴾ اور اے ابراہیم! تمہاری جدائی کا میں صدمہ ہے۔ (صحیح بخاری صحیح مسلم معارف اللہ ص ۱۰۷، اسوۂ رسول اکرم ﷺ ص ۵۵۹ تا ۵۵۷)

**(۱۰۴) اللہ تعالیٰ کی شاندار تعریف پر مشتمل ایک دیہاتی کی دعا اور آنحضرت ﷺ کا قیمتی ہدیہ**

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ایک دیہاتی کے پاس سے گزرے، وہ اپنی نماز میں دعا مانگ رہا تھا اور کہہ رہا تھا:

◆ اے وہ ذات جس کو آنکھیں دیکھ نہیں سکتیں۔

◆ اے وہ ذات کہ کسی کا خیال و گمان اس تک نہیں پہنچ سکتا۔

◆ اے وہ ذات کہ اوصاف بیان کرنے والے اس کے اوصاف بیان نہیں کر سکتے۔

◆ اے وہ ذات کہ حوادثِ زمانہ اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتے۔

◆ اے وہ ذات کہ اسے گردشِ زمانہ سے کوئی اندیشہ نہیں۔

◆ اے وہ ذات جو پہاڑوں کے وزنوں کو جانتی ہے۔

◆ اے وہ ذات جو دشمنوں کے پیلوں کو جانتی ہے۔

◆ اے وہ ذات جو سمندروں کے قطروں کی تعداد کو جانتی ہے۔

◆ اے وہ ذات جو درختوں کے پتوں کی تعداد کو جانتی ہے۔

◆ اے وہ ذات جو ان تمام چیزوں کو جانتی ہے جن پر رات کی تاریکی چھاتی ہے، اور جن کو دن روشن کرتا ہے۔

◆ اے وہ ذات جس کو آسمان دوسرے آسمان سے چھپا نہیں سکتا۔

◆ اے وہ ذات جس کو زمین دوسری زمین سے چھپا نہیں سکتی۔

◆ اے وہ ذات کہ سمندر کے پیٹ میں کیا ہے وہ بھی تجھے معلوم ہے۔

◆ اے وہ ذات کہ چٹانوں میں کیا چھپا ہے وہ بھی تو جانتا ہے۔

◆ تو میری عمر کے آخری حصہ کو سب سے بہتر بنا دے۔

◆ اور میرے آخری عمل کو سب سے بہتر عمل بنا دے۔

◆ اور میرا بہترین دن وہ بنا جس دن میری تجھ سے ملاقات ہو۔

آپ ﷺ نے ایک آدمی کے ذمہ لگایا کہ جب یہ دیہاتی نماز سے فارغ ہو جائے تو اسے میرے پاس لے آنا چنانچہ وہ نماز کے بعد حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور ﷺ کے پاس ایک کان سے کچھ سونا ہدیہ میں آیا ہوا تھا۔ حضور ﷺ نے اسے وہ سونا ہدیہ میں دیا پھر اسے پوچھا کہ اے اعرابی! تم کون سے قبیلہ کے ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ! منی عامر بن مصلحہ قبیلہ کا ہوں، حضور ﷺ نے فرمایا: کیا تم جانتے ہو میں نے تم کو یہ سونا کیوں ہدیہ کیا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ! ہماری آپ کی جو رشتہ داری ہے اس کی وجہ سے آپ ﷺ نے فرمایا: رشتہ داری کا بھی حق ہوتا ہے لیکن میں نے تمہیں سونا اس وجہ سے ہدیہ کیا ہے کہ تم نے بہت عمدہ طریقے سے اللہ کی شان بیان کی ہے۔ (حیاء الصحابہ: ۳/۳۶۸، ۳۶۹)

**(۱۰۵) اللہ تعالیٰ کا وہ نام کہ اس کے وسیلہ سے جب دعا کی جاتی ہے تو ضرور قبول ہوتی ہے**

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے حضور ﷺ کو یہ دعا مانگتے ہوئے سنا:

”اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الطَّاهِرِ الطَّيِّبِ الْمُبَارَكِ الْأَحَبِّ إِلَيْكَ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَبْتَ وَإِذَا سُئِلَتْ بِهِ أُعْطِيَ وَإِذَا اسْتُرْجِمَتْ بِهِ رَحِمْتَ وَإِذَا اسْتَطْرَجْتُ بِهِ فَرَجْتَ“

ترجمہ: ”اے اللہ! میں تجھ سے تیرے نام کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں جو پاک عمدہ مبارک اور تجھے سب سے زیادہ محبوب

ہے جب تجھے اس کے ذریعہ پکارا جاتا ہے تو ضرور متوجہ ہوتا ہے اور جب تجھ سے اس کے وسیلہ سے مانگا جاتا ہے تو ضرور دیتا ہے اور جب تجھ سے اس کے ذریعہ رحم طلب کیا جاتا ہے تو ضرور رحم فرماتا ہے اور جب اس کے وسیلہ سے تجھ سے کشادگی مانگی جاتی ہے تو ضرور کشادگی دیتا ہے۔“

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ایک دن حضور ﷺ نے فرمایا: ”اے عائشہ! کیا تمہیں پتہ چلا کہ اللہ نے مجھے وہ نام بتا دیا ہے کہ جب اس نام کے وسیلہ سے اس سے دعا کی جاتی ہے تو وہ ضرور قبول فرماتا ہے۔“ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں وہ نام مجھے بھی سکھادیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اے عائشہ! تجھے سکھانا مناسب نہیں“..... وہ فرماتی ہیں میں ایک طرف ہو کر بیٹھ گئی پھر میں کھڑی ہوئی اور حضور ﷺ کے سر کا بوسہ لیا۔ پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے وہ نام سکھادیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا: ”اے عائشہ! تمہارے لیے مناسب نہیں کہ میں تمہیں سکھاؤں کیونکہ تمہارے مناسب نہیں کہ تم اس کے ذریعہ دنیا کی کوئی چیز مانگو۔“ میں وہاں سے اٹھی اور وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھی پھر یہ دعا مانگی:

”اللَّهُمَّ إِنِّي أَدْعُوكَ اللَّهُ وَأَدْعُوكَ الرَّحْمَنَ وَأَدْعُوكَ إِلَهَ الرَّحِيمِ وَأَدْعُوكَ بِاسْمِكَ الْحُسْنَى كُلِّهَا مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا عَلِمَ أَنْ تَفْطُرَ لِي وَتَرْحَمَنِي“

ترجمہ: ”اے اللہ! میں تجھے اللہ کہہ کر پکارتی ہوں، تجھے رحمان کہہ کر پکارتی ہوں، تجھے نیکوکار، رحیم کہہ کر پکارتی ہوں اور تجھے تیرے ان اچھے ناموں سے پکارتی ہوں جن کو میں جانتی ہوں اور جن کو نہیں جانتی ہوں، اور یہ سوال کرتی ہوں کہ تو میری مغفرت فرمادے اور مجھ پر رحم فرمادے۔“

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں حضور ﷺ میری یہ دعا سن کر بہت ہنسے اور فرمایا ”تم نے جن ناموں سے اللہ کو پکارا ان میں وہ خاص نام بھی شامل ہے۔“ (حیاء الصحابہ: جلد ۲ صفحہ ۳۶۹-۳۷۰)

### (۱۰۶) حضور ﷺ کی دعا کی برکت سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طبیعت ٹھیک ہوگی

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں بیمار ہوا، میں نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ ﷺ نے مجھے اپنی جگہ بٹھایا اور خود کھڑے ہو کر نماز شروع فرمادی اور اپنے کپڑے کا ایک کنارہ مجھ پر ڈال دیا۔ پھر نماز کے بعد فرمایا ”اے ابن ابی طالب! اب تم ٹھیک ہو گئے ہو کوئی فکر نہ کرو، میں نے جو چیز بھی اللہ سے اپنے لیے مانگی اس جیسی میں نے اللہ سے تمہارے لیے بھی مانگی، اور میں نے جو چیز بھی اللہ سے مانگی وہ اللہ نے مجھے ضرور دی۔ بس اتنی بات سے مجھ سے یوں کہا گیا ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔“ چنانچہ میں وہاں سے اٹھا تو میں بالکل ٹھیک ہو چکا تھا اور ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میں بیمار ہی نہیں ہوا تھا۔ (حیاء الصحابہ: جلد ۲ صفحہ ۳۷۳)

### (۱۰۷) پریشانی اور غم دور کرنے کا ایک نبوی نسخہ

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم ﷺ جب نماز سے فارغ ہوتے تو دایاں ہاتھ اپنے سر پر پھیرتے اور فرماتے:

”بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ اللَّهُمَّ أَنْهَبْ عَنِّي الْهَمَّ وَالْحُزْنَ“

ترجمہ: ”اللہ کے نام سے (شروع کرتا ہوں) جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں وہ بڑا مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے، اے اللہ! تو ہر فکر اور غم کو مجھ سے دور فرمادے۔“

ایک روایت میں یہ ہے کہ اپنا دایاں ہاتھ اپنی پریشانی پر پھیرتے اور فرماتے:

”اللَّهُمَّ أَنْهَبْ عَنِّي الْهَمَّ وَالْحُزْنَ“

ترجمہ: "اے اللہ! تو ہر فکر اور عمل کو مجھ سے دور فرما دے۔" (حیاء الصحابہ: جلد ۲ صفحہ ۲۸۵، ۲۸۶)

### (۱۰۸) اپنے بیوی بچوں کو اللہ کی حفاظت میں دینے کا ایک نبوی نسخہ

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ! اللہ کی قسم! میں اپنی جان، اپنے اہل و عیال اور مال کے بارے میں بہت ڈرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "صبح اور شام یہ کلمات کہا کرو۔"

"بِسْمِ اللّٰهِ عَلٰی ذَنبِيْ وَ ذَنبِ وَاٰلِيْهِ وَ مَعَالِيْ"

ترجمہ: "میں اپنے دین پر اپنی جان پر، اپنی اولاد پر، اپنے گھر والوں پر اور اپنے مال پر اللہ کا نام لیتا ہوں۔"

اس آدمی نے یہ کلمات کہنے شروع کر دیے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تمہیں جو ڈر لگتا تھا

اس کا کیا ہوا؟ اس نے کہا اس ذات کی قسم! جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر بے جا وہ ڈر بالکل جاتا رہا۔ (حیاء الصحابہ: جلد ۲ صفحہ ۲۸۹)

### (۱۰۹) شیطان کے شر سے بچنے کا ایک نبوی نسخہ

حضرت عبداللہ بن عمرو بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوتے تو یہ کلمات کہتے:

"اَعُوْذُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَ وَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَ سُلْطٰنِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ"

ترجمہ: "میں مردود شیطان سے عظمت والے اللہ کی اس کی کریم ذات کی اور اس کی قدیم سلطنت کی پناہ چاہتا ہوں۔"

### (۱۱۰) ابن آدم! غصے کے وقت مجھے یاد کر لیا کروں گا میں بھی غضب کے وقت تجھے معافی عطا کروں گا

ابن ابی حاتم میں حضرت وہیب بن ورد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ "اے ابن آدم! اپنے غصے کے وقت تو مجھے یاد کر لیا کروں گا میں بھی اپنے غضب کے وقت تجھے معافی عطا فرما دیا کروں گا۔ اور جن پر میرا عذاب نازل ہوگا میں تجھے ان سے بچاؤں گا، برباد ہونے والوں کے ساتھ تجھے برباد نہ کروں گا، اے ابن آدم! جب تجھ پر ظلم کیا جائے تو صبر سہار کے ساتھ کام لے مجھ پر نگاہ رکھ، میری مدد پر بھروسہ رکھ، میری امداد پر راضی رہ، یاد رکھ! میں تیری مدد کروں یہ اس سے بہتر ہے کہ تو آپ اپنی مدد کرے۔" اللہ تعالیٰ ہمیں بھلائیوں کی توفیق دے، اپنی امداد نصیب فرمائے۔ آمین (تفسیر ابن کثیر: جلد ۳ صفحہ ۴۴۳)

### (۱۱۱) مندرجہ ذیل دعا جو پڑھے گا وہ آزمائش میں مبتلا نہیں ہوگا

حضرت بسر بن ابی ارطاة رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا مانگتے ہوئے سنا:

"اللّٰهُمَّ اَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِيْ الْاُمُوْر كُلِّهَا وَاَجِرْنَا مِنْ حِيْزِي الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْاٰخِرَةِ"

ترجمہ: "اے اللہ! تمام کاموں میں ہمارا انجام اچھا فرما اور ہمیں دنیا کی رسوائی سے اور آخرت کے عذاب سے محفوظ فرما۔"

طبرانی کی روایت میں ہے اس کے بعد یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "جو یہ دعا مانگتا رہے گا وہ آزمائش میں مبتلا ہونے سے

پہلے ہی مر جائے گا۔" (حیاء الصحابہ: جلد ۳ صفحہ ۴۰۳)

### (۱۱۲) گھبراہٹ اور وحشت دور کرنے کا نبوی تعویذ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ وہ رات کو کچھ ڈراؤنی چیزیں دیکھتے ہیں جن کی وجہ سے وہ رات کو تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "اے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ! کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھا دوں کہ جب تم

ان کو تین مرتبہ پڑھ لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری یہ تکلیف دور کر دے گا۔” حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں ضرور سکھائیں، میں نے آپ کو اپنی یہ تکلیف اسی لیے تو بتائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”یہ کلمات کہا کرو:“  
 ”أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمْزَاتِ الشَّيْطَانِ وَأَنْ يَأْخُضِرُونِ“  
 ترجمہ: ”میں اللہ کے غصہ اور اس کی سزا سے اور اس کے بندوں کے شر سے اور شیاطین کے وساوس سے اور شیاطین کے میرے پاس آنے سے اس کے کمال کلمات کی پناہ چاہتا ہوں۔“

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں چند راتیں ہی گزری تھیں کہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں اس ذات کی قسم! جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے جو کلمات آپ نے مجھے سکھائے وہ میں نے تین مرتبہ پورے ہی کئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے میری وہ تکلیف دور کر دی اور اب تو میرا یہ حال ہے کہ شیر کے بن (جنگل) میں اس کے پاس رات کو بھی بلا خوف و خطر جاسکتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی نیند میں گھبرائے تو یہ دعا پڑھے اَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ آخر تک۔ نسانی کی روایت میں ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نیند میں گھبرا جابا کرتے تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم لیٹا کرو تو یہ دعا پڑھ لیا کرو: اَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ آخر تک۔ امام مالک رضی اللہ عنہ نے موطا میں لکھا ہے کہ مجھے یہ بات سنبھی ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میں سوتے میں ڈر جاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دعا پڑھ لیا کرو، اور کھجلی دعا ذکر کی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے گھبراہٹ اور وحشت محسوس ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم بستر پر لیٹا کرو تو یہ دعا پڑھا کرو پھر کھجلی دعا ذکر کی۔ (حیا الصحابہ: جلد ۳، صفحہ ۴۰۹، ۴۱۰)

### (۱۱۳) ولایت کے لباس مختلف ہوتے ہیں

حضرت مرزا مظہر جان جاناں رحمۃ اللہ علیہ نقشبندیہ کے اکابر اولیاء میں سے ہیں، لیکن بادشاہوں کی وہ شان نہیں ہوتی تھی جو ان کی شان تھی۔ مسند الگ تھی۔ صفائی ستھرائی الگ، خدام الگ کھڑے ہوئے ہیں، دروازے کے اوپر دربان الگ موجود ہیں۔ اور صفائی کا یہ عالم کہ اگر ایک تنکا بھی سامنے پڑا ہوا ہوتا تھا تو سر میں درد ہو جاتا تھا۔ فرماتے تھے ”کوڑا کہا زگھر کے اندر بھر رکھا ہے۔“ بہت نزاکت تھی۔ بادشاہ وقت نے ملنے کی آرزو کی۔ بہت چاہا کہ مجھے اجازت مل جائے مگر اجازت نہیں تھی۔ آخر حضرت مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خادم خاص کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ تو ان کے دل میں گھر کئے ہوئے ہے، تیرا معاملہ بہت رسوخ کا ہے، تو میرے لیے ایک پانچ منٹ کی مہلت لے لے۔ اس نے کچھ اتار چڑھاؤ کر کے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا تو پانچ منٹ کی اجازت ہو گئی کہ بادشاہ آسکتے ہیں۔ بادشاہ سلامت آئے، بہت ادب کے ساتھ دوڑا نو ایک طرف بیٹھ گئے۔ حضرت مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ نصائح فرمائیں۔ اس دوران میں حضرت مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پیاس معلوم ہوئی تو خادم کو پانی لانے کا اشارہ کیا۔ بادشاہ نے سمجھ لیا کہ پانی چاہتے ہیں تو کھڑے ہو کر ہاتھ جوڑ کر عرض کیا۔ اگر مجھے اجازت ہو؟ اجازت ہو گئی کہ اچھا تم پانی پلاؤ۔ تو بادشاہ پانی لینے گئے تو کھڑے کے اوپر جو بڑولی ڈھکی ہوئی تھی۔ پانی لے کر جو اسے رکھا تو وہ کچھ ٹیڑھی رکھی گئی، بس حراج میں تغیر پیدا ہو گیا۔ فرمایا ”تمہیں پانی پلانا تو آتا نہیں تم بادشاہت کیسے کرتے ہو گے؟ ہٹو یہاں سے۔“ اپنے خادم خاص کو حکم دیا کہ وہی پانی پلائے گا۔ اس شان کے بھی بزرگ گزرے ہیں ان کی ولایت میں کوئی کمی نہیں ولی کامل ہیں۔ ان کی نسبت و تصرف اور تربیت سے ہزاروں اولیاء بن گئے۔ ایک شان یہ ہے۔

اور ایک شان حضرت شاہ غلام علی صاحب کی ہے شاہ غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ حال کہ نہ گھرنہ در نہ کپڑا نہ لٹا۔ زہد و قناعت اور فقر و

فاتے اور اس پر مہمانوں کی یہ کثرت کہ تین تین سو، چار چار سو مہمان ہر وقت ان کے دسترخوان پر ہوتے تھے۔ لیکن ظاہر میں ذریعہ معاش کچھ نہیں ہے۔ ریاست ٹونک کے نواب، نواب میر خاں، وہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ شیخ کے ہاں تین تین سو چار چار سو مہمان ہوتے ہیں۔ آخر کہاں سے آتا ہوگا؟ بڑی تنگی اٹھاتے ہوں گے، بڑی پریشانی ہوتی ہوگی تو ریاست ٹونک کا ایک ضلع جس کی ایک ایک سال کی کئی لاکھ روپے آمدنی تھی، وہ پورے کا پورا حضرت شاہ غلام علی رحمۃ علیہ کی خدمت میں چیل کے پتر پر لکھ کر بھیجا کہ میں آپ کو ہدیہ کرتا ہوں تاکہ مہمانوں اور گھر والوں کا خرچہ چلے۔ آپ اسے خدا کے لیے قبول فرمائیں۔ شاہ غلام علی صاحب رحمۃ علیہ نے اسی پتر پر جواب لکھا اور اس پر ایک شعر لکھ کر بھیج دیا۔ لکھا:

ما آبروئے فقر وقامت نمی بریم با میر خاں بگوئے کہ روزی مقدر است

ہم اپنے فقر و فاقہ کی آبرو کھونا نہیں چاہتے۔ میری طرف سے انہیں کہہ دو کہ روزی مقدر ہے تمہارے ضلع کی ہمیں ضرورت نہیں۔ تو ایک طرف یہ زہد و قناعت اور ایک طرف یہ ٹھاٹھ باٹھ جو مرزا مظہر جان جاناں رحمۃ علیہ کے وہاں ہے۔ ہیں یہ بھی ولی کامل اور وہ بھی ولی کامل۔ ولایت کے لباس مختلف ہوتے ہیں، ولایت کا تعلق کپڑوں سے نہیں، قلب سے ہے۔ جب اللہ رسیدہ بن جائے وہ ولی کامل ہے، اپنے جس نیت سے کوئی لباس فاخرہ پہنتا ہے، اس میں بھی تنگی کی نیت پوشیدہ ہوتی ہے اس میں بھی مصلحت ہے کسی پر زہد و قناعت کا غلبہ ہوتا ہے۔ (خطبات حکیم الاسلام: جلد ۲ صفحہ ۳۳۳ تا ۳۳۵)

### (۱۱۴) رمضان کی پہلی رات ہی میں مسلمانوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب ماہ رمضان قریب آ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کے وقت مختصر بیان فرمایا، اس میں ارشاد فرمایا ”رمضان تمہارے سامنے آ گیا ہے اور تم اس کا استقبال کرنے والے ہو، غور سے سنو! رمضان کی پہلی رات ہی میں اہل قبلہ (مسلمانوں) میں سے ہر ایک کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ (حیاء الصحابہ: جلد ۳ صفحہ ۳۳۹، ۳۴۰)

### (۱۱۵) دعا کی قبولیت کیلئے حضرت جبرئیل علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو وظیفہ سکھایا

تفسیر روح المعانی میں حضرت علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو معاف کر دیا اور تَشْرِبَ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ (سورہ یوسف: آیت ۹۲) کا اعلان کر دیا تو بھائیوں نے کہا اے ابا جان! اور اے ہمارے بھائی! آپ لوگوں نے معاف کر دیا لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو معاف نہ فرمایا تو آپ حضرات کا غم ہم کو کچھ مفید نہ ہوگا اس لیے آپ حضرات اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ ہماری خطاؤں کی معافی بذریعہ وحی نازل فرمادیں۔ چونکہ انبیاء علیہم السلام ارحم الخلق ہوتے ہیں اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا: سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (مغفرت تمہارے لیے اپنے رب سے دعائے مغفرت کروں گا، بے شک وہ غفور و رحیم ہے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام آگے قبلہ رو دعا کے لیے کھڑے ہوئے اور حضرت یوسف علیہ السلام ان کے پیچھے اور ان دونوں کے پیچھے سب بھائی کھڑے ہوئے اور نہایت ذلت اور خشوع کے ساتھ دعا کی لیکن بیس سال تک دعا قبول نہ ہوئی۔ پھر حضرت جبرئیل علیہ السلام تشریف لائے اور یہ دعا سکھائی:

- ① ”يَا جَاءَ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَقَطَعُ رَجَاءَنَا“
- ترجمہ: ”اے ایمان والوں کی امید! ہماری امیدوں کو قطع نہ فرمائیے۔“
- ② ”يَا غِيَاثَ الْمُؤْمِنِينَ اغْنِنَا“
- ترجمہ: ”اے ایمان والوں کے فریادرس! ہماری مدد فرما۔“
- ③ ”يَا مُعِينَ الْمُؤْمِنِينَ اَعْنَا“
- ترجمہ: ”اے ایمان والوں کے مددگار! ہماری مدد کیجئے۔“
- ④ ”يَا مُجِيبَ التَّوَابِينَ تَبَّ عَلَيْنَا“
- ترجمہ: ”اے توبہ کرنے والوں سے محبت کرنے والے! ہمارے بلو پر توجہ فرما۔“

## (۱۱۶) سخت ترین مقدمہ میں کامیابی حاصل کرنے کا بہترین وظیفہ

ایک لاکھ اکیاون ہزار مرتبہ پڑھیں: **يَا حَلِيمُ ، يَا عَلِيُّ ، يَا عَلِيُّ ، يَا عَلِيُّ**  
 مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سخت سے سخت مقدمہ کے لیے ان اسماء کا پڑھنا مفید ہے، کئی مرتبہ کا آزمودہ ہے۔ یہ  
 وظیفہ ایک لاکھ اکیاون ہزار مرتبہ بطور ختم پڑھے۔ انشاء اللہ تعالیٰ کامیاب ہوگا۔ یہ عمل برائے افادہ عام درج ہے۔ انشاء اللہ تعالیٰ تجربہ کے  
 بہت مفید ثابت ہوگا، مکان اور کپڑے پاک ہونے چاہئیں۔ خوشبو لگا دیں۔ وہ اسماء یہ ہیں: **يَا حَلِيمُ ، يَا عَلِيُّ ، يَا عَلِيُّ ، يَا عَلِيُّ**  
 (الطرائف والظرائف: حصہ ۲ صفحہ ۲۶، مکتول معرفت: ص ۲۹)

## (۱۱۷) معمولی نیکی بھی مغفرت کا سبب بنتی ہے

اللہ تعالیٰ شکور ہے اور شکور کی تعریف مرقاۃ میں یہ ہے کہ **”الَّذِي يُعْطِي الْأَجْرَ الْجَزِيلَ عَلَى الْأَمْرِ الْقَلِيلِ“** جو قلیل عمل پر عظیم  
 جزا عطا فرمائے اس کو شکور کہتے ہیں۔

حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص کو خواب میں دیکھا گیا، دریافت کیا گیا کہ حق تعالیٰ نے تمہارے ساتھ  
 کیا معاملہ فرمایا؟ کہا میرا حساب ہوا پس میں ڈر گیا کہ نیکیوں کا پلہ ہلکا تھا۔ اچانک اس میں مٹی کی تھیلی آگری اور وزن نیکیوں کا بڑھ گیا۔  
 میں نے عرض کیا کہ یہ تھیلی کہاں سے آگئی؟ ارشاد ہوا کہ یہ وہ مٹی ہے جو تو نے کسی مسلمان کی قبر پر ڈالی تھی۔ (مکتول معرفت: صفحہ ۶۱، ۶۲)

## (۱۱۸) ایک بیوہ کا عجیب قصہ

اگر بیوہ بچوں کی تربیت کی خاطر دوسرا نکاح نہ کرے تو باقی پوری زندگی اس کو غازی بن کر زندگی گزارنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔  
 (رواہ البخاری، باب السامی علی الامرئۃ، رقم: ۲۰۰۶)

ایک واقعہ سنئے اور دل کے کانوں سے سنئے، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا دور ہے، آپ کی ایک شاگردہ جو باقاعدہ آپ کا درس سننے  
 کے لیے آیا کرتی تھی، عبادت گزار خاتون تھیں، باقاعدہ درس سنتی اور نیکی پر زندگی گزارتی تھی، اس بے چاری کا جوانی میں خاوند چل بسا،  
 اس نے دل میں سوچا کہ ایک بیٹا ہے، اگر میں دوسرا نکاح کر لوں گی تو مجھے خاوند مل جائے گا مگر بچہ کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ پتہ نہیں وہ  
 اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ اب وہ جوان ہونے کے قریب ہے، یہی میرا سہارا سہی۔ لہذا یہ سوچ کر ماں نے جذبات کی قربانی دی،  
 ایسی عورت کے لیے حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو اس طرح اگلی شادی نہ کرے اور بچوں کی تربیت و حفاظت کے لئے اسی طرح زندگی  
 گزارے، تو باقی پوری زندگی اس کو غازی بن کر زندگی گزارنے کا ثواب دیا جائے گا۔ کیونکہ وہ جہاد کر رہی ہے، اپنے نفس کے خلاف۔  
 وہ ماں گھر میں بچہ کا پورا پورا خیال رکھتی تھی لیکن یہ بچہ جب گھر سے باہر نکل جاتا تو ماں سے نگرانی نہ ہو پاتی، اب اس کے پاس مال کی  
 بھی کمی نہیں تھی، اٹھتی ہوئی جوانی بھی تھی، یہ جوانی دیوانی مستانی ہوتی ہے، چنانچہ وہ بچہ بری صحبت میں گرفتار ہو گیا۔ شباب اور شراب کے  
 کاموں میں مصروف ہو گیا۔ ماں برابر سمجھاتی لیکن بچہ پر کچھ اثر نہ ہوتا، چٹکا گڑا بن گیا، وہ ان کو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے لئے کر آتی،  
 حضرت بھی اس کو کئی کئی گھنٹے سمجھاتے، لیکن اس کا نیکی کی طرف دھیان ہی نہیں تھا، کبھی کبھی ماں سے ملنے آتا، ماں پھر سمجھاتی اور پھر اس کو  
 حضرت کے پاس لے جاتی۔ حضرت بھی سمجھاتے دعائیں بھی کرتے مگر اس کے کانوں پر جوں نہ رہتی تھی حتیٰ کہ حضرت کے دل میں یہ بات  
 آئی کہ شاید اب اس کا دل پتھر بن گیا ہے، مہر لگ گئی ہے، ماں تو بہر حال ماں ہوتی ہے دنیا میں ماں ہی تو ہے جو اچھوں سے بھی پیار کرتی  
 ہے، بروں سے بھی پیار کرتی ہے۔ اس کی نظر میں تو اس کے بچے ہی ہوتے ہیں، ماں تو ان کو نہیں چھوڑ سکتی، باپ بھی کہہ دیتا ہے کہ گھر

سے نکل جاؤ اس کو دکھا دو۔ مگر ماں بھی نہیں کہتی، اس کے دل میں اللہ نے محبت رکھی ہے۔ چنانچہ ماں اس کے لیے پھر کھانا بنا کر دیتی ہے۔ اس کے لیے دروازہ کھولتی ہے، اور پھر پیار سے سمجھاتی ہے، میرے بیٹے! نیک بن جا، زندگی اچھی کر لے۔

اب دیکھئے اللہ کی شان کہ کئی سال برے کاموں میں لگ کر اس نے صحت بھی تباہ کر لی اور دولت بھی تباہ کر دی اس کے جسم میں بیماریاں پیدا ہو گئیں، ڈاکٹروں نے بیماری بھی لا علاج بتائی۔ اب اٹھنے کی بھی سکت نہیں رہی، اور بستر پر پڑ گیا۔ اتنا کمزور ہو گیا کہ اب اس کو آخرت کا سفر سامنے نظر آنے لگا۔ ماں پھر پاس بیٹھی ہوئی محبت سے سمجھاتی ہے، میرے بیٹے! اب تو نے جو زندگی کا حشر کر لیا تو کر لیا، اب بھی وقت ہے تو معافی مانگ لے تو بہ کر لے۔ اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ جب ماں نے پھر پیار و محبت سے سمجھایا، اس کے دل میں کچھ اثر ہوا، کہنے لگا کہ ماں میں کیسے توبہ کروں! میں نے بہت بڑے بڑے گناہ کئے ہیں۔ ماں نے کہا بیٹا! حضرت سے پوچھ لیتے ہیں، کہا امی! میں چل کر نہیں جاسکتا، آپ اٹھا کر لے جائیں سکتیں، تو میں کیسے ان تک پہنچوں؟ امی! آپ ایسا کریں کہ آپ خود ہی حسن بھری بیٹے کے پاس جائیں اور حضرت کو بلا کر لے آئیں۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا میں حضرت کے پاس جاتی ہوں۔ بچے نے کہا کہ امی اگر آپ کے آنے تک میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو امی! حسن بھری رحمۃ علیہ سے کہنا کہ میرے جنازے کی نماز وہی پڑھائیں۔

چنانچہ ماں حضرت حسن بھری بیٹے کے پاس گئی، حضرت کھانے سے فارغ ہوئے تھے اور تھکے ہوئے تھے اور درس بھی دینا تھا اس لیے ٹیلور کے لیے لیٹنا چاہتے تھے، ماں نے دروازہ کھٹکھٹایا پوچھا کون؟ عرض کیا حضرت! میں آپ کی شاگردہ ہوں، میرا بچہ اب آخری حالت میں ہے وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، لہذا آپ گھر تشریف لے چلیں اور میرے بچے کو توبہ کرا دیں۔ حضرت نے سوچا کہ اب پھر وہ اس کو دھوکا دے رہا ہے، پھر وہ اس کا وقت ضائع کرے گا اور اپنا بھی کرے گا۔ سالوں گزر گئے اب تک کوئی بات اثر نہ کر سکی اب کیا کرے گی، کہنے لگے میں اپنا وقت کیوں ضائع کروں؟ میں نہیں آتا۔ ماں نے کہا حضرت اس نے توبہ بھی کہا کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازہ کی نماز حضرت حسن بھری بیٹے پڑھائیں۔ حضرت نے کہا میں اس کے جنازہ کی نماز نہیں پڑھاؤں گا اس نے تو کبھی نماز ہی نہیں پڑھی۔ اب وہ شاگردہ بھی چپ کر کے اٹھی مغموں دل سے، ایک طرف بیٹا پیار دوسری طرف سے حضرت کا انکار اس کا غم تو دو گنا ہو گیا تھا۔ وہ بے چاری آنکھوں میں آنسو لیے اپنے گھر واپس آئی، بچے نے ماں کو زار و قطار رو دنا ہوا دیکھا۔ اب اس کا دل اور موم ہو گیا، کہنے لگا امی! آپ کیوں اتنا زار و قطار رہی ہیں؟ ماں نے کہا بیٹا! ایک تیری یہ حالت ہے اور دوسری طرف حضرت نے تیرے پاس آنے سے انکار کر دیا، تو اتنا برا کیوں ہے؟ کہ وہ تیرے جنازے کی نماز بھی پڑھانا نہیں چاہتے۔ اب یہ بات بچے نے سنی تو اس کے دل پر چوٹ لگی، اس کے دل پر صدمہ ہوا، کہنے لگا امی! مجھے مشکل سے سانس آ رہی ہیں، ایسا نہ ہو میری سانس اکٹرنے والی ہو، لہذا میری ایک وصیت سن لیجئے۔ ماں نے پوچھا بیٹا وہ کیا؟

### عجیب وصیت:

کہا امی! میری وصیت یہ ہے کہ جب میری جان نکل جائے تو سب سے پہلے اپنا دوپٹہ میرے گلے میں ڈالنا، میری لاش کو کتے کی طرح مگن میں گھسیٹنا جس طرح مرے ہوئے کتے کی لاش گھسیٹی جاتی ہے۔ ماں نے پوچھا بیٹا وہ کیوں؟ کہا امی! اس لیے کہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ جو اپنے رب کا نافرمان اور ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے اس کا انجام یہ ہوا کرتا ہے..... اور امی! مجھے قبرستان میں دفن نہ کرنا۔ ماں نے کہا بیٹے تجھے قبرستان میں دفن کیوں نہ کروں؟ کہا امی! مجھے اسی مگن میں دفن کر دینا ایسا نہ ہو کہ میرے گناہوں کی وجہ سے قبرستان کے مردوں کو تکلیف پہنچے۔

جس وقت نوجوان نے ٹوٹے دل سے عاجزی کی یہ بات کہی تو پروردگار کو اس کی یہ بات اچھی لگی، روح قبض ہو گئی، ابھی روح نکلی ہی تھی اور ماں اس کی آنکھیں بند کر رہی تھی کہ باہر سے دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، عورت نے اندر سے پوچھا: کون ہے جس نے دروازہ

لکھٹایا؟ جواب آیا میں حسن بھری ہوں۔ کہا حضرت! آپ کیسے؟ فرمایا جب میں نے تمہیں جواب دے دیا میں سو گیا، خواب میں اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوا، پروردگار نے فرمایا حسن بھری تو میرا کیسا ولی ہے؟ میرے ایک ولی کا جنازہ پڑھنے سے انکار کرتا ہے میں سمجھ گیا کہ اللہ نے تیرے بیٹے کی توبہ کو قبول کر لیا ہے، تیرے بیٹے کی نماز جنازہ پڑھنے کے لئے حسن بھری رضی اللہ عنہ کھڑا ہے۔

یارے اللہ! جب تو اتنا کریم ہے کہ مرنے سے چند لمحہ پہلے اگر کوئی بندہ شرمندہ ہوتا ہے تو اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے تو میرے مالک! آج ہم تیرے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آج ہم اپنے جرم کی معافی مانگتے ہیں، اپنی خطاؤں کی معافی مانگتے ہیں، میرے مالک! ہم مجرم ہیں، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ اے اللہ! ہم جھوٹ نہیں بول سکتے، ہماری حقیقت تیرے سامنے کھلی ہوئی ہے، میرے مولیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم سے تو دھوپ کی گرمی برداشت نہیں ہوتی اسے اللہ! جہنم کی گرمی کہاں سے برداشت ہوگی۔ اے پروردگار عالم! ہماری توبہ کو قبول کر لے اور باقی زندگی ایمانی، اسلامی، قرآنی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین (دوائے دل: جلد ۸ سے ۹۱ صفحہ)

### (۱۱۹) مناجات

دل مغموم کو مسرور کر دے	دل بے نور کو پر نور کر دے
فرزوں دل میں شمع طور کر دے	یہ گوشہ نور سے معمور کر دے
مرا ظاہر سنور جائے الہی	میرے باطن کی ظلمت دور کر دے
مئے وحدت پلا معمور کر دے	محبت کے نشے میں چور کر دے
ہے میری گھات میں خود نفس میرا	خدایا اس کو بے مقدر کر دے

### (۱۲۰) اللہ تعالیٰ جب کسی طالب علم یا عالم سے خوش ہوتا ہے تو اس کیلئے جنت میں شہر آباد کر دیتا ہے

ہمارے اسلاف نے علم حاصل کرنے کے لیے بڑی قربانیاں دیں، بڑی محنتیں کیں، بڑی لگن کے ساتھ اپنے کام میں لگن رہے، بس لگے رہتے تھے۔ مدرسہ کو اپنا وطن سمجھتے تھے اور کتابوں کے کاغذ کو اپنا کفن سمجھتے تھے۔ زندگیاں لگا دیتے تھے پڑھنے پڑھانے میں، اسی لیے حضرت سفیان ثوری رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے اگر نیک نیت ہو تو طالب علم سے افضل اور کوئی نہیں ہوتا، اتنی برکت والی یہ شخصیت ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کے فرشتے بھی اس کی تعظیم میں اپنی پرواز روک کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ اللہ رب العزت جب کسی عام مومن سے خوش ہوتا ہے تو اس کے لیے جنت میں ایک محل بنواتا ہے لیکن جب کسی طالب علم یا عالم سے خوش ہوتا ہے تو اس کے لیے جنت میں شہر آباد کر دیتا ہے۔ جیسے دنیا میں لوہے ہوتے ہیں ان کا اپنا ایک علاقہ ہوتا ہے تو اللہ عالم سے خوش ہوا تو جنت کے اندر اس کے لیے شہر آباد فرمائے گا۔ اس کی اپنی اسٹیٹ ہوگی، اس لیے فرمایا: ”مَنْ كَانَ فِيْ طَلَبِ الْعِلْمِ كَانَتْ الْجَنَّةُ فِيْ طَلَبِهِ“ جو انسان علم کی طلب میں لگا رہے گا جنت اس کے طلب میں رہے گی۔

یہ اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے کہ وہ اپنے بندوں کو علم دین کے حصول کے لیے قبول فرمائے گا۔ آپ حضرات بڑے خوش نصیب ہیں اللہ رب العزت کے پسندیدہ بندے ہیں، قرآن اس پر دلیل ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے: ﴿وَلَمَّا أَوْفَّيْنَا الْبَنِيَّانَ الْإِيمَانَ أَصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا﴾ (سورۃ الفاطر - ۳۲) پھر میں نے اس کتاب کا وارث اپنے ان بندوں کو بنا دیا جن کو میں نے چن لیا تھا۔ جو میرے لیے چنے ہوئے بندے تھے، میرے لاڈلے تھے، میرے پیارے تھے، میرے محبوب بندے تھے، تو جو کتاب کا وارث ہوتا ہے وہ اللہ کا پیارا ہوتا ہے۔ کتنی رحمت اللہ رب العزت کی کہ اس نے اس کتاب کے علم کے لیے ہماری زندگیوں کو قبول کر لیا، ہم اللہ رب العزت



کا احسان مانتے ہوئے محبت کے ساتھ علم حاصل کریں نہایت لگن کے ساتھ۔ (دوڑے دل: صفحہ ۴۳)

### (۱۲۱) امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادیوں کا علمی معیار

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ منی کے بازار میں تھا، حج کے ایام میں۔ فرماتے ہیں کہ جمعرات فراغت ہو گئی مجھے ایک بوڑھا آدمی ملا تھوڑی دیر اس نے مجھے دیکھا اور کہنے لگا تجھے اللہ کا واسطہ تو میری دعوت قبول کر لے۔ فرماتے ہیں میں نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا، اور وہ بھی ایسا بے تکلف کہ جو اس کے پاس تھا پیش کر دیا، اس نے روٹی کا ایک ٹکڑا نکالا اور وہی دسترخوان پر رکھ دیا اور کہنے لگا کھاؤ۔ میں نے کھانا شروع کر دیا، وہ مجھے دیکھتا رہا اور کہنے لگا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ تو قریشی ہے۔ میں نے کہا ہاں! لیکن تجھے کیسے پتہ چلا؟ اس نے کہا کہ یہ قریشی دعوت دینے میں بھی بے تکلف ہوتے ہیں اور قبول کرنے میں بھی، پھر باتیں کرتے رہے مجھے پتہ چلا کہ یہ مدینہ سے آیا ہے، فرماتے ہیں میں نے اس سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پوچھا تو اس نے مجھے ان کے کچھ حالات سنائے۔

جب اس نے دیکھا کہ میں بڑے شوق سے ان کے حالات پوچھ رہا ہوں تو وہ کہنے لگا کہ اگر آپ مدینہ جانا چاہتے ہیں تو یہ خالی رنگ کا اونٹ ہمارے پاس خالی ہے۔ یہ ہم آپ کو دے دیں گے آپ مدینہ پہنچ جائیں گے۔ کہنے لگے کہ میں تو پہلے سے ہی تیار تھا، لہذا میں نے حامی بھری۔ فرماتے ہیں میں قافلہ کے ساتھ سوار ہوا، ہمیں راستہ میں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچنے میں سولہ دن لگے، اس دوران میں سولہ قرآن مجید پڑھ لئے۔

آج یہ حال ہے کہ حج کر کے آتے ہیں، دس دس دن مدینہ گزار کر آتے ہیں، ایک قرآن مجید بھی مکمل کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، ہمارے اسلاف جب حج کے لیے آتے تھے تو سینکڑوں لوگ ان کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا کرتے تھے اور آج حج کر کے آتے ہیں خود مسلمان بن کر صحیح طرح سے نہیں آتے واپس آ کر پھر گناہوں کی طرف چل دیتے ہیں۔

الغرض امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حالت سفر میں سولہ دن میں سولہ قرآن مجید پورے کئے۔ فرماتے ہیں، جب ہم مسجد نبوی میں پہنچے تو نماز کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک آدمی اونٹنی کے قدموں پر کھڑا ہے اور اس نے ایک تہ بند باندھا ہے اور ایک چاروںہٹی ہوئی ہے، وہ ایک اونٹنی جگہ بیٹھ گیا اور کہنے لگا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اور لوگ اس کے ارد گرد بیٹھ گئے تو میں سمجھ گیا کہ یہی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہوں گے۔ یہ وہ ایام تھے جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حدیث کا املاء کر رہے تھے، مؤطا امام مالک کی جو احادیث ہیں ان کو لکھوا رہے تھے، میں نے ایک تنکا اٹھالیا اور دل میں یہ سوچا کہ یہ میرا کلم ہے اور ہاتھ سامنے کر لیا اور سوچا کہ یہ میری کاپی ہے، اور میں نے اپنی زبان سے اس تنکے کو لگا کر جیسے میں اس کو سیاہی لگا رہا ہوں اور ہتھیلی پر لکھنا شروع کر دیا۔ اب طلباء کاغذوں پر لکھ رہے ہیں، چنانچہ میں نے بھی ان سے املاء کی نسبت حاصل کرنے کے لیے ہتھیلی پر لکھنا شروع کر دیا، کہنے لگے اس دوران امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے میری طرف دیکھا، انہوں نے اس محفل میں ایک سو ستائیس (۱۲۷) احادیث لکھوائیں، جب اگلی نماز کا وقت ہو گیا تو محفل برخواست ہو گئی، طلباء چلے گئے۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے دیکھا تو اپنی طرف بلا یا اور مجھ سے کہا تو اجنبی معلوم ہوتا ہے، میں نے کہا جی ہاں! میں مکہ مکرمہ سے آیا ہوں، کہنے لگے کہ تو ہتھیلی پر کیا کر رہا تھا؟ میں نے کہا میں احادیث لکھ رہا تھا، کہنے لگے کہ دکھاؤ، میں نے جو دکھایا تو ہتھیلی پر تو کچھ لکھا ہوا ہی نہیں تھا، انہوں نے کہا یہاں تو کچھ نہیں لکھا، میں نے کہا کہ حضرت نہ میرے پاس قلم تھا نہ کاغذ میں تو آپ جو املاء لکھوا رہے تھے اس کی نسبت حاصل کرنے کے لیے ایک تنکے سے بیٹھا ہوا ہتھیلی پر لکھ رہا تھا۔ اس پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ناراض ہوئے کہ یہ تو حدیث پاک کے ادب کے خلاف ہے کہ تم نے اس طرح سے لکھا، میں نے کہا کہ حضرت میں تو ظاہری مناسبت کے لیے ہاتھ پر تنکا چلا رہا تھا حقیقت میں تو حدیث پاک دل میں لکھ رہا تھا۔ کہنے لگے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اچھا اگر تو دل میں لکھ رہا تھا تو مجھ چند

روایتیں اس میں سے سنادے تو میں تجھے جانوں۔ فرمانے لگے میں نے ان کو ایک سے لے کر ایک سو ستائیس (۱۲۷) حدیثیں متن اور سند کے ساتھ سنادیں، یہ ہے علم ۱۲۷ حدیثیں جس ترتیب سے لکھوائی تھیں، تمام اسی ترتیب پر ان کو سنادیں۔

فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے کہ اچھا اے نوجوان، تو میرا مہمان بن جا، اندھے کو کیا چاہیے؟ دو آنکھیں۔ میں تو پہلے ہی سے تیار تھا کہنے لگا کہ حضرت! میں تیار ہوں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ گھر تشریف لے گئے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں ان کی بیٹیاں تھیں اور وہ عالمہ تھیں حدیث کی حافظہ تھیں۔ قرآن مجید کی حافظہ تھیں، بہت مستحیہ پاک صاف زندگی گزارنے والی عورتیں حتیٰ کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اتنا علم رکھتی تھیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کئی مرتبہ حدیث کا درس مسجد نبوی میں دیتے وہ پردے کے پیچھے بیٹھ کر حدیث کے درس میں شریک ہوتیں اور ان کا علمی معیار اتنا اونچا تھا کہ کئی مرتبہ ان کا شاگرد جب کسی حدیث پاک کی تلاوت کرتا اور عبارت میں کہیں غلطی کرتا تو ان کی بیٹیاں لکڑی کے اوپر لکڑی مار کر آواز کرتیں جس سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سمجھ جاتے کہ پڑھنے والے نے غلطی کی ہے۔ آپ نے جا کر گھر میں بتایا کہ آج ایک عالم آرہے ہیں اور وہ بڑے دانا ہیں اور بڑا علم کا شوق ہے، وہ تو بہر حال امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہوں نے گھر میں کھانے کا بڑا اہتمام کیا، بستر لگایا، مصلیٰ بچھایا، لوٹا پانی کا بھر کر رکھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کھانا کھایا، لیٹ گئے، صبح کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مسجد میں آگئے جب اشراق کی نماز پڑھ کر واپس گھر گئے تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ میری بیٹیوں کو آپ پر ایک اعتراض واقع ہوا ہے اور میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ سچے لوگ تھے گھرے لوگ تھے، صاف بات کرتے تھے، فرمایا کہ بچیاں کہہ رہی ہیں کہ ابو! آپ نے تو یہ کہا تھا کہ یہ بڑے نیک اور اچھے انسان ہیں لیکن ہمیں ان پر اشکال واقع ہوا ہے: ① پہلا اعتراض یہ ہے کہ جتنا کھانا ہم نے پکا کر بھیجا تھا وہ تو کئی آدمیوں کے لیے کافی تھا۔ ماشاء اللہ یہ اکیلے مہمان سبحان اللہ بالکل صاف ہو کر برتن واپس آئے کہ ہمیں دھونے کی بھی ضرورت پیش نہ آئی۔

آج دنیا کہتی ہے کہ بچوں کو عالم بناؤ گے تو یہ روٹی کہاں سے کھائیں گے؟! آپ بتائیے آج تک آپ نے کبھی سنا کہ کوئی عالم با عمل ہو یا حافظ با عمل ہو اور وہ بھوک پیاس سے ایڑیاں رگڑتے ہوئے مر گیا ہو؟ کوئی ایک مثال نہیں دے سکتے۔ میں نے دنیا کے کئی ملکوں میں یہ سوال پوچھا کوئی ایک مثال تو بتا دو لیکن ہمیں معلوم ہے کہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر بی ایچ ڈاکٹر کئی ایک ایسے تھے کہ بڑھاپے میں ان کا وہ وقت بھی آیا کہ بھوک پیاس سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گئے تو رزق کس لائن سے زیادہ ملا؟ دینی لائن سے زیادہ۔ ہمارے پاس یہ مثالیں تو ہیں کہ کھانا زیادہ کھالیا اور موت آگئی؟ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ حدیث تلاش کر رہے تھے اور کھجوریں پانی میں رکھی ہوئی تھیں اور حدیث پاک کو ڈھونڈنے کے اندر اتنے منہمک تھے کہ کھاتے رہے حتیٰ کہ زیادہ کھانے کی وجہ سے موت واقع ہوگئی، تو زیادہ کھا کر مر جانے کی مثالیں تو ہیں لیکن بھوک پیاس سے مرنے کی مثالیں اس لائن میں نہیں ہیں۔ الحمد للہ رزق کی اللہ تعالیٰ خوب فراوانی کر دیتا ہے اور دنیا اس رزق سے ڈرتی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ عالم نہیں گئے تو کھائیں گے کہاں سے؟ وہ اللہ کے بندے وہاں سے کھائیں گے جہاں سے اللہ رب العزت اپنے انبیاء کو کھلایا کرتا تھا تو خیر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بات تو انہوں نے یہ پوچھی کہ سارا کھانا تھا کھا گئے۔

② دوسرا یہ کہ ہم نے مصلیٰ بچھا کر رکھا اور پانی کا برتن رکھا لیکن جیسا مصلیٰ بچھا تھا صبح کو ویسا ہی رکھا ملا اور پانی بھی جوں کا توں تھا، تو لگتا ہے کہ تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھی اور پھر مسجد میں تو وضو کا انتظام بھی نہیں لوگ گھروں سے وضو کر کے جاتے ہیں اور یہ اسی طرح آپ کے ساتھ اٹھ کر مسجد میں چلے گئے، پتہ نہیں نماز بھی انہوں نے کیسے پڑھی؟ یہ بات ہماری سمجھ میں سے بالاتر ہے۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ حضرت بات یہ ہے کہ جب میں نے آپ کے یہاں کھانا کھایا تو کھانے میں اتنا نور تھا اتنا نور تھا کہ ہر ہر لقمہ کھانے پر مجھے سینہ نور سے بھرنا نظر آتا تھا، میں نے سوچا کہ ممکن ہے اتنا حلال مال زندگی میں پھر میسر نہ ہو کیوں نہ میں اسے جزو بدن بناؤں! اس لیے میں نے اس سارے کھانے کو اپنے بدن کا جزو بنا لیا۔ اللہ اکبر!

فرماتے ہیں کہ پھر میں لیٹ گیا لیکن اس کھانے کا نور اتنا تھا کہ نیند غائب، تو میں احادیث میں غور کرتا رہا فرمانے لگے کہ ایک حدیث میرے پیش نظر رہی کہ نبی ﷺ نے چھوٹے بچے کو جس کا پرندہ مر گیا تھا پیرا محبت سے کہا تھا: یا ابا عمیر! ما فعل النعیر؟ تو یہ چند الفاظ تھے میں ان کے اندر غور کرتا رہا اور آج کی رات میں نے ان چند الفاظ سے فقہ کے چالیس (۴۰) مسائل اخذ کر لئے، اتنی ہی عبارت یا ابا عمیر! کہ کنیت کیسی ہونی چاہیے؟ بچوں سے اندازِ مخاطب کیسا ہونا چاہیے؟ کسی کے دل کی ملاحظت کے لیے کیسے بات کرنی چاہیے؟ یا ابا عمیر! ما فعل النعیر؟ صرف اس میں غور کر کے میں نے چالیس فقہ کے مسائل اخذ کر لیے اور پھر فرمایا چونکہ میرا وضو باقی تھا اس لیے میں اٹھا اور فجر کی نماز اسی وضو سے ادا کی۔ ہمارے اسلاف کا یہ حال تھا۔ تو سب سے پہلا قدم علم حاصل کرنے اور دوسرا قدم اس علم کے اوپر عمل کرنا لیکن عمل کرنے کے ساتھ کام ختم نہیں ہوتا ایک قدم اور اٹھانا ضروری ہے اس کو کہتے ہیں اخلاص پیدا کرنا۔

(ردائے دل: صفحہ ۳۴ سے صفحہ ۵۰ تک)

### (۱۲۲) ہر فکر و پریشانی سے نجات حاصل کرنے کے لیے نبوی نسخہ

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو آدمی صبح و شام یہ کلمات سات مرتبہ کہے گا:

”حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ“

ترجمہ: ”اللہ مجھے کافی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اس پر میں نے توکل کیا اور وہ عظیم عرش کا رب ہے۔“

اللہ تعالیٰ ہر فکر و پریشانی سے اس کی کفایت کرے گا۔ چاہے سچے دل سے کہے یا جھوٹے دل سے۔ (حیات الصحابہ: جلد ۳ صفحہ ۲۳۲)

### (۱۲۳) قیامت کے دن تنگی سے بچنے کا ایک نبوی نسخہ

ابن ابی حاتم کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت بشیر غفاری رضی اللہ عنہ سے فرمایا تو کیا کرے گا جس دن لوگ خدائے رب العالمین کے سامنے تین سو سال تک کھڑے رہیں گے، نہ تو کوئی خبر آسمان سے آئے گی نہ کوئی حکم کیا جائے گا۔ حضرت بشیر غفاری رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ ہی مددگار ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا سنو! جب بستر پر جاؤ تو اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن کی تکلیفوں سے اور حساب کی برائی سے پناہ مانگ لیا کرو۔ سنن ابوداؤد میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ قیامت کے دن کھڑے ہونے کی جگہ کی تنگی سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ چالیس سال تک لوگ سراونچا کئے کھڑے رہیں گے، کوئی بولے گا نہیں، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ سو سال تک کھڑے رہیں گے۔ (ابن جریر)

ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ میں ہے کہ حضور ﷺ جب رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز کو شروع کرتے تو دس مرتبہ اللہ اکبر کہتے، دس مرتبہ الْحَمْدُ لِلَّهِ کہتے، دس مرتبہ اَسْتَغْفِرُ اللہَ کہتے پھر اللہم اغفر لی وکفیری وکفر قبی وکفر قبی خدا یا مجھے بخش دے، مجھے ہدایت دے، مجھے روزی دے اور عافیت عنایت فرما۔ پھر اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن کے مقام کی تنگی سے پناہ مانگتے تھے۔

### (۱۲۴) زبان اچھی بھی ہے اور بری بھی

یہ مضمون غور سے پڑھیں

مسند احمد میں ہے انسان ایک کلمہ اللہ کی رضامندی کا کہہ گزرتا ہے جسے وہ کوئی بہت بڑا اجر کا کلمہ نہیں جانتا لیکن اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اپنی رضامندی اس کے لیے قیامت تک لکھ دیتا ہے، اور کوئی کلمہ برائی کا خدا کی ناراضگی کا اسی طرح بے پرواہی سے کہ گزرتا ہے جس کی وجہ سے خدا اپنی ناراضگی اس پر اپنی ملاقات کے دن تک لکھ دیتا ہے حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس حدیث نے مجھے بہت سی

باتوں سے بچالیا۔ ترمذی وغیرہ میں بھی یہ حدیث ہے اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اسے حسن بتلاتے ہیں۔

احنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دائیں طرف والا نیکیاں لکھتا ہے اور یہ بائیں طرف والے پر امین ہے۔ جب بندے سے کوئی خطا ہو جاتی ہے تو یہ کہتا ہے ٹھہر جا، اگر اس نے اسی وقت توبہ کر لی تو اسے لکھنے نہیں دیتا، اور اگر اس نے توبہ نہ کی تو وہ لکھ لیتا ہے۔ (ابن ابی حاتم)  
امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت: ﴿وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظُونَ﴾ (سورۃ الانفطار: آیت ۱۰) کی تلاوت کر کے فرماتے تھے اے ابن آدم! تیرے لیے صحیفہ کھول دیا گیا ہے اور دو بزرگ فرشتے تجھے پر مقرر کر دیئے گئے ہیں۔ ایک تیرے داہنے طرف دوسرا بائیں۔ دائیں طرف والا تو تیری نیکیوں کی حفاظت کرتا ہے اور بائیں طرف والا برائیوں کو دیکھتا رہتا ہے، اب تو جو چاہے عمل کر کی کر یا زیادتی کر جب تو مرے گا تو یہ دفتر لپیٹ دیا جائے گا اور تیرے ساتھ تیری قبر میں رکھ دیا جائے گا اور قیامت کے دن جب تو اپنی قبر سے اٹھے گا تو یہ تیرے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ (تفسیر ابن کثیر: جلد ۵ صفحہ ۱۶۴)

### (۱۲۵) مرد تین قسم کے ہوتے ہیں

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مرد تین قسم کے ہوتے ہیں:

- ① پاک دامن، منکسر المزاج، نرم طبیعت، درست رائے والا، اچھے مشورے دینے والا۔ جب اسے کوئی کام پیش آتا ہے تو خود سوچ کر فیصلہ کرتا ہے اور ہر کام کو اس کی جگہ رکھتا ہے۔
- ② وہ مرد ہے جو سمجھدار نہیں اس کی اپنی کوئی رائے نہیں ہے، لیکن جب اسے کوئی کام پیش آتا ہے تو وہ سمجھدار درست رائے والے لوگوں سے جا کر مشورہ کرتا ہے اور ان کے مشورے پر عمل کرتا ہے۔
- ③ وہ مرد جو حیران و پریشان ہو اسے صحیح اور غلط کا پتہ نہیں چلتا یوں ہی ہلاک ہو جاتا ہے، کیونکہ اپنی سمجھ پوری نہیں اور سمجھدار اور صحیح مشورہ دینے والوں کی مانتا نہیں۔ (حیاء الصحابہ: جلد ۳ صفحہ ۵۶۲)

### (۱۲۶) پریشانی اور تنگدستی دور کرنے کا نبوی علاج

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ہم سب گھر میں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے کی دونوں چوکتوں کو پکڑ کر فرمایا: اے یوسف عبدالمطلب! جب تم لوگوں کو کوئی پریشانی سختی یا تنگدستی پیش آئے تو یہ کلمات کہا کرو: **اللَّهُ اللَّهُ رَبُّنَا لَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا۔**

(حیاء الصحابہ: جلد ۳ صفحہ ۴۱۱)

### (۱۲۷) دل کی سختی دور کرنے کا نبوی علاج

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دل کی سختی کی شکایت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو اور مسکین کو کھانا کھلایا کرو۔“

حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر اپنے دل کی سختی کی شکایت کرنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو جائے اور تمہاری یہ ضرورت پوری ہو جائے؟ تم یتیم پر شفقت کیا کرو اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو اور اپنے کھانے میں اسے شریک کیا کرو اس سے تمہارا دل نرم ہو جائے گا اور تمہاری ضرورت پوری ہو جائے گی۔“

حضرت بشیر جنئی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ اُحد کے دن میری حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، میں نے پوچھا میرے والد کا کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شہید ہو گئے اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے۔ میں یہ سن کر رونے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پکڑ کر میرے سر پر ہاتھ پھیرا

اور مجھے اپنے ساتھ سواری پر سوار کر لیا اور فرمایا: کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ میں تمہارا باپ بن جاؤں اور عائشہ رضی اللہ عنہا تمہاری ماں۔

(حیاء الصحابہ جلد ۲ صفحہ ۶۳۸، ۶۳۹)

### (۱۲۸) ایک دینی بہن پر تہمت لگی رجم کا حکم ہو گیا مگر اللہ نے اپنی قدرت سے اسے بچا لیا

ایک واقعہ ابن عساکر میں ہے کہ ایک خوبصورت عورت سے ایک رئیس نے ملنا چاہا لیکن عورت نے نہ مانا اس طرح تین اور شخصوں نے بھی اس سے بدکاری کا ارادہ کیا لیکن وہ ہازر ہی اس پر وہ رؤساء اڑ گئے اور آپس میں اتفاق کر کے حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں جا کر سب نے گواہی دی کہ وہ عورت اپنے کتے سے ایسا کام کراتی ہے۔ چاروں کے متفق بیان پر حکم ہو گیا کہ اسے رجم کیا جائے۔

اسی شام کو حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے ہم عمر لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کر آپ حاکم بنے اور چار لڑکے ان لوگوں کی طرح آپ کے پاس اس مقدمے کو لائے اور ایک عورت کی نسبت یہی کہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ ان چاروں کو الگ الگ کر دو پھر ایک کو اپنے پاس بلایا اور اس سے پوچھا کہ اس کتے کا رنگ کیسا تھا؟ اس نے کہا سیاہ، پھر دوسرے کو تنہا بلایا اور اس سے بھی یہی سوال کیا؟ اس نے کہا سرخ، تیسرے نے کہا خاکی، چوتھے نے کہا سفید۔ آپ نے اسی وقت فیصلہ کر دیا کہ عورت پر زنی تہمت ہے اور ان چاروں کو قتل کر دیا جائے۔

حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے بھی یہ واقعہ بیان کیا گیا آپ نے اسی وقت فی الفور ان چاروں امیروں کو بلایا اور اسی طرح الگ الگ ان سے اس کتے کے رنگ کی بابت سوال کیا۔ یہ گڑ بڑا گئے کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا۔ آپ کو ان کا جھوٹ معلوم ہو گیا اور حکم فرمایا کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ (تفسیر ابن کثیر: جلد ۳ صفحہ ۳۸۸)

### (۱۲۹) ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے گھر سے تہجد کے وقت ایک خاص آواز آتی تھی

حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں آتے تو سنتے کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ خدایا! تو نے پکارا میں نے مان لیا، تو نے حکم دیا میں بجالایا، یہ سحر کا وقت ہے پس تو مجھے بخش دے۔ آپ نے کان لگا کر غور کیا تو معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے گھر سے یہ آواز آرہی ہے۔ آپ نے ان سے پوچھا۔ انہوں نے کہا یہی وہ وقت ہے جس کے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ میں تمہارے لیے تھوڑی دیر بعد استغفار کروں گا۔ حدیث میں ہے کہ یہ رات جمعہ کی رات تھی۔ (تفسیر ابن کثیر: جلد ۳ صفحہ ۱۲)

### (۱۳۰) ایک شرابی کے نام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خط

اگر آپ شراب کے عادی ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ خط پڑھیں، انشاء اللہ آپ کی عادت چھوٹ جائے گی۔ حضرت یزید ابن اہم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں شام کا ایک آدمی بہت طاقت ور اور خوب لڑائی کرنے والا تھا۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آیا کرتا تھا وہ چند دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو نظر نہ آیا تو فرمایا: فلاں ابن فلاں کا کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا اے امیر المؤمنین! اس نے شراب چینی شروع کر دی ہے اور مسلسل پی رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے منشی کو بلا کر فرمایا خط لکھو:

یہ خط عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی طرف سے فلاں بن فلاں کے نام۔

سَلَامٌ عَلَيْكَ

میں تمہارے سامنے اس اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں جو گناہوں کو معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا، سخت سزا دینے والا اور بڑا انعام و احسان کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔

پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا تم لوگ اپنے بھائی کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اپنی طرف متوجہ

فرمادے اور اسے توبہ کی توفیق عطا فرمادے۔ جب اس کے پاس حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خط پہنچا تو وہ اسے بار بار پڑھنے لگا اور کہنے لگا وہ گناہوں کو معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا اور سخت سزا دینے والا ہے (اس آیت میں) اللہ نے مجھے اپنی سزا سے ڈرایا ہے اور معاف کرنے کا وعدہ بھی فرمایا ہے۔ ابو نعیم کی روایت میں مزید یہ بھی ہے کہ وہ اسے بار بار پڑھتا رہا پھر رونے لگا پھر اس نے شراب پینی چھوڑ دی اور کھل طور پر چھوڑ دی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس کی یہ خبر پہنچی تو فرمایا ایسا کیا کرو، جب تم دیکھو کہ تمہارا بھائی پھسل گیا ہے اسے راہِ راست پر لاؤ اور اسے اللہ کی معافی کا یقین دلاؤ اور اللہ سے دعا کرو کہ وہ اسے توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور تم اس کے خلاف شیطان کے مددگار نہ بنو (اور اسے اللہ کی رحمت سے ناامید نہ کرو)۔ (جاء الصحابہ: جلد ۳ صفحہ ۳۶۶، ۳۶۷)

### (۱۳۱) آپ ڈراؤنا خواب دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں تو مندرجہ ذیل نبوی نسخہ استعمال کریں

جب کبھی خدا نخواستہ کوئی ناپسندیدہ اور ڈراؤنا خواب دیکھیں تو ہرگز کسی سے بیان نہ کیجئے اور اس خواب کی برائی سے اللہ کی پناہ مانگئے۔ خدا نے چاہا تو اس کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ناگوار خوابوں کی وجہ سے اکثر بیمار پڑ جایا کرتا تھا ایک روز میں نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے شکایت کی تو آپ رضی اللہ عنہ نے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنائی ”اچھا خواب خدا کی جانب سے ہوتا ہے۔ اگر تم میں سے کوئی اچھا خواب دیکھے تو اپنے ظلمت دوست کے سوا کسی اور سے بیان نہ کرے اور کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو قطعاً کسی کو نہ بتائے بلکہ جاگتے ہی

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

پڑھ کر تین بار بائیں جانب تھمکارے اور کرٹ بدل لے۔ تو وہ خواب کے شر سے محفوظ رہے گا۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام طور پر فجر کی نماز کے بعد پالتی مار کر بیٹھ جاتے اور لوگوں سے فرماتے جس نے جو خواب دیکھا ہو بیان کرو اور خواب سننے سے پہلے یہ فرماتے: خواب کی بھلائی تمہیں نصیب ہو، اور اس کی برائی سے تم محفوظ رہو، ہمارے حق میں خیر ہو اور ہمارے دشمنوں کے لیے وبال ہو، اور حمد و شکر خدا ہی کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔

کبھی خواب میں ڈر جائیں یا کبھی پریشان کن خواب دیکھ کر پریشان ہو جائیں تو خوف اور پریشانی دور کرنے کے لیے یہ دعا پڑھیں اور اپنے ہوشیار بچوں کو بھی یہ دعا یاد کرائیں:

”أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ وَكَأَنِّي مُحْضَرُونَ“

حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب کوئی خواب میں ڈر جانا یا پریشان ہو جاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پریشانی دور کرنے کے لیے یہ دعا تلقین فرماتے:

”أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ وَكَأَنِّي مُحْضَرُونَ“

ترجمہ: ”میں خدا کے کلماتِ کاملہ کی پناہ مانگتا ہوں اس کے غضب و عتاب سے، اس کی سزا سے، اس کے بندوں کی برائی سے، شیاطین کے وسوسوں سے اور اس بات سے کہ وہ میرے پاس آئیں۔“ (ریاض الصالحین، مسلم، آداب زندگی، ص ۵۰، ۵۱)

### (۱۳۲) کعبہ پر پودے کی ابتداء کیسے ہوئی؟

گرامی قدر حضرت مولانا محمد یونس صاحب پالن پوری

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔

بعد سلام عرض گزارش ہے کہ کئی عرصہ سے میرے قلب میں یہ سوال جگہ پکڑے ہوئے کہ کعبہ پر خلاف (پردہ) کی ابتداء کیسے ہوئی؟

کون سا سبب پیش آگیا؟ برائے کرم سلی بخش جواب عنایت فرمائیں عین نوازش ہوگی۔ فقط والسلام۔ آپ کی دینی بہن، بیٹی۔ ۸

ایک بادشاہ کو حاسدوں نے مشورہ دیا کہ اس بیت اللہ کو گرا دو راستہ میں اسے یہودی علماء نے کہا کہ اگر اپنی اور اپنے خاندان کی سلامتی چاہتا ہے تو ایسا مت کر۔ وہ کام کر جو یہاں کئے جاتے ہیں۔ احرام و طواف و سعی و حلق و وزح و نماز، ذکر، رونا، دعا وغیرہ۔ دل اس کا مان گیا۔ حاسدوں کو قتل کرا دیا۔ حج والے سارے کام کئے۔ پھر خواب میں دیکھا کہ اس گھر پر پردہ ڈالا گیا، اس نے پردہ ڈالا۔ دوسرے خواب میں اس سے اچھا پردہ ڈالنے کا حکم ہوا۔ اور اس نے ایسا ہی کیا۔ تیسرے خواب میں اس سے بھی اچھے پردہ کا حکم ہوا، اس نے اس حکم کو پورا کر دیا۔ اس وقت سے پردہ بیت اللہ کا شروع ہوا۔ جس نے بیت اللہ کی حرمت کو قائم رکھا۔ خدا نے اس کی نسل کو باقی رکھا اور جو بیت اللہ کو گرائے گا اس کا حشر جہنم ابرہہ کی طرح ہوگا۔ (ماخذ جواب: خصوصی تقاریر حضرت جی مولانا یوسف صاحب: صفحہ ۱۲۵، ۱۲۶)

### (۱۳۳) ہر غم سے نجات حاصل کرنے کا بہترین حضری نسخہ

امام ابو بکر محمد بن ولید رضی اللہ عنہ کتاب الدعاء میں مطرف بن عبد اللہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں میں خلیفہ منصور کے پاس گیا تو انہیں سخت غمزدہ پایا، وہ اپنے بعض احباب کو کھولنے کی وجہ سے چپ سادھے بیٹھے تھے۔ انہوں نے مجھے کہا اے مطرف! مجھ پر ایسا غم سوار ہو چکا ہے جسے اللہ تعالیٰ کے سوا..... جس نے مجھے آزمائش میں ڈالا ہے..... کوئی دور نہیں کر سکا، کیا کوئی ایسی دعا ہے جسے پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھ سے غم کو دور فرمادے؟ میں نے جواب دیا اے امیر المؤمنین! مجھے محمد بن ثابت رضی اللہ عنہ نے بتایا ہے کہ بھری کے رہنے والے ایک شخص کے کان میں چھ گھس گیا اور اس کے دماغ تک جا پہنچا۔ وہ شخص تکلیف میں مبتلا تھا اور دن رات نیند سے محروم تھا۔ تب اسے حضرت حسن بھری رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں میں سے ایک نے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت علاء بن حضری رضی اللہ عنہ والی دعا پڑھو، جو انہوں نے جنگ اور سمندر میں پڑھی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نصرت فرمائی۔ بیمار شخص نے کہا اللہ جل جلالہ تم پر رحم کرے وہ کون سی دعا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علاء بن حضری رضی اللہ عنہ کو ایک لشکر کے ساتھ بحرین کی طرف بھیجا گیا، میں بھی اس لشکر میں شامل تھا، ہم ایک ویران صحرا میں سے گزرے جہاں سخت پیاس نے ہمیں اتنا ستایا کہ ہمیں ہلاکت کا خوف ہونے لگا، تب حضرت علاء رضی اللہ عنہ سواری سے اترے اور انہوں نے دو رکعت نماز ادا کی پھر کہا: يَا حَلِيمُ يَا عَلِيُّ يَا عَلِيُّ يَا عَظِيمُ لَسْنَا (ہمیں سیراب فرما)، پس اسی وقت ایک بدلی آئی جیسے کسی پرندے کا پر ہو وہ ہم پر خوب برسی یہاں تک کہ ہم نے برتن بھی بھرنے اور اپنے جانوروں کو بھی سیراب کر لیا۔

پھر ہم چل پڑے یہاں تک کہ ایک سمندری طیغ پر پہنچے جو اس قدر گہری تھی کہ اس دن سے پہلے اور نہ اس دن کے بعد اس میں کوئی داخل ہوا، ہمیں وہاں کوئی کشتی نہیں ملی تو حضرت علاء رضی اللہ عنہ نے دو رکعت نماز پڑھی اور فرمایا: يَا حَلِيمُ يَا عَلِيُّ يَا عَلِيُّ يَا عَظِيمُ اَجِدْنَا (ہمیں پار فرما)۔ پھر انہوں نے اپنے گھوڑے کی لگام پکڑی اور فرمایا "اللہ جل جلالہ کے نام سے پار کرو۔" حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم پانی پر چل رہے تھے، بخدا ہم میں سے کسی کے پاؤں یا ہمارے کسی جانور کے گھر تک گئے نہیں ہوئے۔ یہ ہمارا لشکر چار ہزار نفوس پر مشتمل تھا۔ یہ واقعہ سن کر بیمار آدمی نے ان اسماء کے ذریعہ دعا کی اللہ تعالیٰ کی قسم ہم ابھی وہیں تھے کہ پھر اس کے کان سے نکل گیا وہ بھینسا رہا تھا یہاں تک کہ دیوار سے جا لگرایا اور وہ آدمی ٹھیک ہو گیا۔

یہ سن کر خلیفہ منصور قبلہ رو ہوئے اور انہوں نے تموڑی ویران اسماء کے ذریعہ دعا مانگی۔ پھر میری طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے اے مطرف! اللہ تعالیٰ نے میرے غم کو دور فرما دیا ہے۔ پھر انہوں نے کھانا منگوایا اور مجھے اپنے ساتھ بٹھالیا اور میں نے ان کے ساتھ کھانا کھایا۔ (حیوة النبی: جلد ۱ صفحہ ۱۹)

حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت کے آخر میں یہ بھی ہے کہ جہاد سے واپسی پر حضرت علاء رضی اللہ عنہ انتقال فرما گئے، ہم نے انہیں غسل و کفن کے بعد قبر کھود کر دفن کیا۔ دفن کے بعد ایک مقامی شخص آیا اور کہنے لگا یہ (دفن) کون ہیں؟ ہم نے کہا یہ ایک بہترین انسان علاء بن حضری رضی اللہ عنہ ہیں۔ اس نے کہا یہ زمین مردوں کو باہر اُگل دیتی ہے تم لوگ انہیں اگر میل دو میل دور لے جاؤ تو وہاں کی زمین مردوں کو قبول کرتی ہے۔ ہم نے کہا ہمارے ساتھی (حضرت علاء رضی اللہ عنہ) کا کیا تصور ہے کہ ہم انہیں درندوں کا لقمہ بنا کر چھوڑ جائیں؟ چنانچہ ہم نے قبر کھودنے پر اتفاق کر لیا۔ جب ہم نے قبر کھودی تو حضرت علاء رضی اللہ عنہ اس میں موجود نہیں تھے اور قبر تاحد نظر نور سے جگمگاتی تھی۔ ہم نے یہ دیکھ کر واپس مٹی ڈال دی اور اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ (ابن کثیر فی البدایہ والنہایہ)

### ﴿۱۳۴﴾ اللہ تعالیٰ کی چند نعمتوں کا تذکرہ

﴿وَإِذْ لَمَّا مَنَّ السَّمَاءُ مَاءً بَلَدًا فَلَمَّ كُنْهٌ فِي الْأَرْضِ فَأَنبَأَتْ فِيهَا كُلَّ شَيْءٍ حَيًّا﴾ (سورہ مؤمنون: پ ۱۸، آیت ۱۸)

اللہ تعالیٰ کی یوں تو بے شمار اور ان گنت نعمتیں ہیں لیکن چند بڑی بڑی نعمتوں کا یہاں ذکر ہو رہا ہے کہ وہ آسمان سے بقدر حاجت و ضرورت بارش برساتا ہے۔ نہ تو بہت زیادہ کہ زمین خراب ہو جائے اور پیداوار سرنگل جائے، بہت کم کہ پھل اناج وغیرہ پیدا ہی نہ ہو بلکہ اس انداز سے کہ کھیتی سرسبز رہے، باغات ہرے بھرے رہیں، حوض، تالاب، نہریں، ندیاں، نالے، دریا بہہ نکلے، نہ پینے کی کمی ہونے پلانے کی یہاں تک کہ جس جگہ بارش کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے، اور جہاں کم کی، کم ہوتی ہے اور جہاں کی زمین اس قابل ہی نہیں ہوتی وہاں پانی نہیں برستا۔ لیکن ندیوں اور تالوں کے ذریعہ وہاں قدرت برساتی پانی پہنچا کر وہاں کی زمین کو سیراب کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ! اس لطیف و خیر غفور و رحیم خدا کی کیا کیا قدرتیں اور حکمتیں ہیں۔ زمین میں خدا پانی کو ٹھہرا دیتا ہے زمین میں اس کے چوس لینے اور جذب کرنے کی قابلیت خدا تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے تاکہ دانوں کو اور گھلیوں کو اندر ہی اندر وہ پانی پہنچا دے۔

پھر فرمایا ہے ہم اس کے لیے جانے اور دور کر دینے پر یعنی نہ برسانے پر بھی قادر ہیں۔ اگر چاہیں شور سنگلاخ زمین پر اور پہاڑوں اور بے کار بنوں میں برسادیں۔ اگر چاہیں پانی کو کڑوا کر دیں نہ پینے کے قابل رہے نہ پلانے کے نہ کھیت اور باغات کے مطلب کا رہے نہ نہانے دھونے کے مقصد کا۔ اگر چاہیں زمین میں وہ قوت ہی نہ رکھیں کہ وہ پانی کو جذب کر لے چوس لے بلکہ اوپر ہی اوپر تیرتا رہے پھر یہ بھی ہمارے اختیار میں ہے کہ ایسی دور دراز جھیلوں میں پانی پہنچا دیں کہ تمہارے لیے بے کار ہو جائے اور تم کوئی فائدہ اس سے نہ اٹھا سکو۔ یہ خاص خدا کا فضل و کرم اور اس کا لطف و رحم ہے کہ وہ بادلوں سے میٹھا عمدہ ہلکا اور خوش ذائقہ پانی برساتا ہے پھر اسے زمین میں پہنچاتا ہے اور ادھر ادھر ریل پیل کر دیتا ہے کھیتیاں الگ کھیتی ہیں باغات الگ تیار ہوتے ہیں خود پیتے ہو اپنے جانوروں کو پلاتے ہو، نہاتے دھوتے ہو، پاکیزگی اور ستھرائی حاصل کرتے ہو فالحمد للہ! آسمانی بارش سے رب العالمین تمہارے لیے روزیاں اُگاتا ہے لہلاتے ہوئے کھیت ہیں، کھیں سرسبز باغ ہیں جو علاوہ خوشنما اور خوش منظر ہونے کے مفید اور فیض والے ہیں۔ کھجور، انگور، جواہل عرب کا دل پسند میوہ ہے اور اسی طرح ہر ملک والوں کے لیے الگ الگ طرح طرح کے میوے اس نے پیدا کر دیئے ہیں جن کی پوری شکر گزاری بھی کسی کے بس کی نہیں بہت میوے تمہیں اس نے دے رکھے ہیں جن کی خوبصورتی بھی تم دیکھتے ہو اور خوش ذائقگی سے بھی کھا کر فائدہ اٹھاتے ہو۔

پھر جو پاپوں کا ذکر ہو رہا ہے اور ان سے جو فائدہ انسان اٹھا رہے ہیں ان نعمتوں کا اظہار ہو رہا ہے کہ ان کا دودھ پیتے ہیں ان کا گوشت کھاتے ہیں ان کے بالوں اور اون سے لباس وغیرہ بناتے ہیں ان پر سوار ہوتے ہیں ان پر اپنا سامان اسباب لادتے ہیں اور دور دراز تک پہنچتے ہیں کہ اگر یہ نہ ہوتے تو وہاں تک پہنچنے میں جان آدمی رہ جاتی، بے شک اللہ تعالیٰ بندوں پر مہربانی اور رحمت والا ہے جیسے فرمان ہے:

﴿وَأَكْمَرُوا نَا خَلْقًا لَّهُمْ كِرَامًا﴾



کیا وہ نہیں دیکھتے کہ خود ہم نے انہیں جو پایوں کا مالک بنا رکھا ہے کہ یہ ان کے گوشت کھائیں ان پر سوار ہوں اور طرح طرح کے نفع حاصل کریں۔ کیا اب بھی ان پر ہماری شکرگزاری واجب نہیں۔ یہ خشکی کی سواریاں ہیں پھر تری کی سواریاں کشتی جہاز وغیرہ الگ ہیں۔ اے میرے بندو! تم نے میری قدرت کی نہ کر رہے ہو میں نے تمہارے لیے آسمان وزمین بنائے، سورج کو تمہارا باورچی بنایا، چاند کو تمہارا حلوائی بنایا، چاند کی کرنوں سے پھلوں میں مٹھاس پیدا کی، زمین کو حکم دیا کہ میرے بندوں کے لیے نکالتی رہ اپنے پانی کو بھی اپنے خزانوں کو بھی، اپنے ذہنوں کو بھی، ہوا کو حکم دیا ٹھنڈی ہو کے بھی چل، گرم ہو کے بھی چل، آہستہ بھی چل، تیز بھی چل، درختوں کو حکم دیا پھل نکالو، پرندوں کو حکم دیا ان کی ضروریات کا سامان مہیا کرو۔ گائے بھینسوں کو حکم دیا کہ ان کو دودھ پلاؤ، گھوڑے خچر کو حکم دیا ان کے سامان اٹھا کے چلو، تم گائے کو سبز گھاس کھلاتے ہو، اندر خون بنتا ہے سرخ، گوبر بنتا ہے پیلا، گوبر بھی ناپاک خون بھی ناپاک، پیلے اور سرخ گندگی کے درمیان سفید پاک دودھ کا کارخانہ اللہ ہی لگاتا ہے، سارے جہاں کو ہماری خدمت پر لگا دیا ہم سے کہہ دیا کہ میری بھی مان لینا کچھ دنیا میں جا کر مجھے مت بھول جانا۔

(۱۳۵) پردے کا حکم علماء کا ایجاد کردہ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا حکم ہے جو قرآن سے ثابت ہے

قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِيَا زَوْجَاتِ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ﴾ (سورہ احزاب: آیت ۵۹)

ترجمہ: ”اے نبی! اپنی بیویوں سے اور اپنی صاحب زادیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادر لٹکالیا کریں۔“

جَلَابِيبٌ جَلْبَابٌ کی جمع ہے۔ جو ایسی بڑی چادر کو کہتے ہیں جس سے پورا بدن ڈھک جائے، اپنے اوپر چادر لٹکانے سے مراد اپنے چہرے پر اس طرح گھونگھٹ لگانا ہے کہ جس سے چہرے کا بیشتر حصہ بھی چھپ جائے اور نظریں جھکا کر چلنے سے اسے راستہ بھی نظر آتا جائے، پاک و ہند یا دیگر اسلامی ممالک میں برقعہ کی جو مختلف صورتیں ہیں، عہد رسالت میں یہ برقعے عام نہیں تھے پھر بعد میں معاشرت میں وہ سادگی نہیں رہی جو عہد رسالت اور صحابہ و تابعین کے دور میں تھی، عورتیں نہایت سادہ لباس پہنتی تھیں بناؤ سنگھار اور زیب و زینت کے اظہار کا کوئی جذبہ ان کے اندر نہیں ہوتا تھا، اس لیے ایک بڑی چادر سے بھی پردے کے تقاضے پورے ہو جاتے تھے، لیکن بعد میں یہ سادگی نہیں رہی، اس کی جگہ تجمل اور زینت نے لے لی اور عورتوں کے اندر رزق برقع لباس اور زیورات کی نمائش عام ہو گئی جس کی وجہ سے چادر سے پردہ کرنا مشکل ہو گیا اور اس کی جگہ مختلف انداز کے برقعے عام ہو گئے گو اس سے بعض دفعہ عورت کو بالخصوص سخت گرمی میں کچھ دقت بھی محسوس ہوتی ہے لیکن یہ ذرا سی تکلیف شریعت کے تقاضوں کے مقابلہ میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی، تاہم جو عورت برقعے کی بجائے پردے کے لیے بڑی چادر استعمال کرتی ہے اور پورے بدن کو ڈھانکتی اور چہرے پر صبح معنوں میں گھونگھٹ نکالتی ہے، وہ یقیناً پردے کے حکم کو بجالاتی ہے، کیونکہ برقعہ کی کوئی مخصوص شکل ایسی لازمی شے نہیں ہے جسے شریعت نے پردے کے لیے لازمی قرار دیا ہو، لیکن آج کل عورتوں نے چادر کو بے پردگی اختیار کرنے کا ذریعہ بنا لیا ہے، پہلے وہ برقعہ کی جگہ چادر اوڑھنا شروع کرتی ہیں، پھر چادر بھی غائب ہو جاتی ہے صرف دوپٹہ رہ جاتا ہے اور بعض عورتوں کے لیے اس کا لینا بھی گراں ہوتا ہے۔ اس صورت حال کو دیکھتے ہوئے کہنا پڑتا ہے کہ اب برقعہ کا استعمال ہی صحیح ہے کیونکہ جب سے برقعہ کی جگہ چادر نے لی ہے، بے پردگی عام ہو گئی ہے بلکہ عورتیں نیم برقعہ پر بھی فخر کرنے لگی ہیں،

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۝

بہر حال اس آیت میں نبی کریم ﷺ کی بیویوں، بیٹیوں اور عام مومن عورتوں کو گھر سے باہر نکلتے وقت پردے کا حکم دیا گیا ہے جس سے واضح ہے کہ پردے کا حکم علماء کا ایجاد کردہ نہیں ہے جیسا کہ آج کل بعض لوگ باور کراتے ہیں یا اس کو قرآنی اہمیت نہیں دیتے بلکہ یہ

اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو قرآن کریم کی نص سے ثابت ہے اس لیے اعراض انکار اور بے پردگی پر اصرار کفر فسق تک پہنچا سکتا ہے۔

(تفسیر سبہنی: صفحہ ۱۱۹۲، ۱۱۹۳)

### (۱۳۶) کسی کا نام لے کر سلام کرنا قیامت کی علامت ہے

جلس میں جائیں تو پوری مجلس کو سلام کیجئے مخصوص طور پر کسی کا نام لے کر سلام نہ کیجئے۔ ایک دن حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ مسجد میں تھے کہ ایک سائل آیا اور اس نے آپ کا نام لے کر سلام کیا۔ حضرت نے فرمایا خدا نے سچ فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا حقدار کر دیا اور پھر آپ گھر میں تشریف لے گئے لوگ انتظار میں بیٹھے رہے کہ آپ کے فرمانے کا مطلب کیا ہے؟ خیر جب آپ آئے تو حضرت طارق رضی اللہ عنہ نے پوچھا: حضرت! ہم لوگ آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھ سکے، تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے قریب لوگ مجلسوں میں لوگوں کو مخصوص کر کے سلام کرنے لگیں گے۔ (الادب المفرد، آداب زندگی: صفحہ ۲۱۹)

### (۱۳۷) بنی اُمیہ کے بعض مکانات میں چاندی کا ایک ڈبہ ملا جس پر سونے

کا تالا لگا ہوا تھا اور اس پر لکھا ہوا تھا ”ہر بیماری سے شفا اس ڈبہ میں ہے“

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ بنی اُمیہ کے بعض مکانات میں چاندی کا ایک ڈبہ ملا جس پر سونے کا تالا لگا ہوا تھا اور اس پر لکھا ہوا تھا ”ہر بیماری سے شفا اس ڈبہ میں ہے“..... اس میں یہ دعا لکھی ہوئی تھی:

”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ بِسْمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ وَبِاللّٰهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیْمِ اَسْكُنْ اَیْهَا الْوَجْعُ مَسْكِنَتَكَ بِالَّذِیْ یُمِیْسُ السَّمَاءَ اَنْ تَقَعَ عَلٰی الْاَرْضِ اِلَّا بِالَّذِیْ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَّءُوفٌ رَّحِیْمٌ ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ بِسْمِ اللّٰهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیْمِ اَسْكُنْ اَیْهَا الْوَجْعُ مَسْكِنَتَكَ بِالَّذِیْ یُمِیْسُ السَّمَوٰتِ وَالْاَرْضَ اِنَّ تَزُولُ وَلَا وَلِیْنَ زَالَتَا اَنْ اَسْكُمَا مِنْ اَحَدٍ مِنْ بَعْدِیْ اِنَّہُ كَانَ حَلِیْمًا غَفُورًا“

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس دعا کے بعد میں کبھی طیب کا محتاج نہیں ہوا۔ یہ دعا درہم کے لیے مفید و مجرب ہے۔

(حیاء الحجوان: جلد ۱ صفحہ ۴۰)

### (۱۳۸) ماں باپ اپنی اولاد کے ساتھ تین سلوک کریں انشاء اللہ اولاد کبھی ناراض نہ ہوگی

ایک بار حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اخف بن قیس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ بچے اولاد کے سلسلے میں کیا سلوک ہونا چاہیے؟ اخف بن قیس رضی اللہ عنہ نے کہا امیر المومنین! اولاد ہمارے قلوب کا ثمرہ ہیں..... کمر کی ٹیک ہیں..... ہماری حیثیت ان کے لیے زمین کی طرح ہے جو نہایت نرم اور بے ضرر ہے..... ہمارا وجود ان کے لیے سایہ لگن آسمان کی طرح ہے..... ہم انہی کے ذریعے بڑے بڑے کام انجام دینے کی ہمت کرتے ہیں۔

① اگر وہ آپ سے کچھ مطالبہ کریں تو ان کو خوب دیجئے۔

② اگر کبھی گرفتہ دل ہوں تو ان کے دلوں کا غم دور کیجئے نتیجہ میں وہ آپ سے محبت کریں گے آپ کی پدرانہ کوششوں کو پسند کریں گے۔

③ کبھی ان پر ناقابل برداشت بوجھ نہ بنئے کہ وہ آپ کی زندگی سے اکتا جائیں اور آپ کی موت کے خواہاں ہوں، آپ کے قریب آنے سے نفرت کریں۔

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ یہ حکیمانہ باتیں سن کر بہت متاثر ہوئے۔ اور فرمایا: ”احف! خدا کی قسم جس وقت آپ میرے پاس آکر بیٹھے میں یزید کے خلاف غصے میں بھرا بیٹھا تھا۔“

پھر جب حضرت احف رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور یزید سے راضی ہو گئے اور اسی وقت یزید کو دو سو درہم اور دو سو جوڑے بھجوائے۔ یزید کے پاس جب یہ تحفے پہنچے تو یزید نے یہ تحفے دو برابر حصوں میں تقسیم کر کے دو سو درہم اور دو سو جوڑے حضرت احف بن قیس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بھجوادئے۔ (آداب زندگی: جلد ۱۶ ص ۱۶۴)

### (۱۳۹) سلطان ملک شاہ کا مثالی انصاف

سلجوقی سلطنت کا ایک بادشاہ سلطان ملک شامی نامی ہوا ہے۔ ایک دن اصفہان کے جنگل میں شکار کو نکلا ایک گاؤں سے گزر رہا تھا کہ شامی آدمیوں کو بھوک لگی ایک غریب بڑھیا کی گائے بندھی ہوئی تھی جس کے دودھ سے بڑھیا کے تین بچے پلٹے تھے۔ انہوں نے اس کو ذبح کیا اور خوب کباب بنا کر کھائے۔ بڑھیا روٹی پٹی چلائی مگر کسی نے پروا نہ کی۔ دل میں کہنے لگی بادشاہ سے کیوں نہ فریاد کی جائے۔ ایک روز خبر ملی کہ بادشاہ نہر کے پل سے گزرے گا وہاں جا کر کھڑی ہو گئی۔ بادشاہ کی سواری وہاں پہنچی تو اس نے آگے بڑھ کر گھوڑی کی لگام تھام لی، کہنے لگی ”بادشاہ سلامت میرا انصاف نہر کے پل پر کیجئے گا یا پل صراط پر؟ بادشاہ کے ہمراہی بڑھیا کی جرأت دیکھ کر حیران ہو گئے اور اس کو وہاں سے ہٹانا چاہا۔ لیکن بادشاہ گھوڑے پر سے اتر پڑا کہنے لگے ”پل صراط کی طاقت نہیں ہے انصاف کروں گا۔“

بڑھیا نے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ بادشاہ کو بہت افسوس ہوا، جن لوگوں کا قصور تھا ان کو سزا دی اور بڑھیا کو ایک گائے کے عوض ستر گائیں عطا کیں۔ بڑھیا بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی ”اے بادشاہ! تو نے میرے ساتھ انصاف کیا خدا اس کا بدلہ تجھے دے گا۔“ انصاف دالنے والا بادشاہ خدا کی رحمت میں ہوتا ہے۔ (تعمیر حیات: جلد ۳۲ ص ۶۱)

### (۱۴۰) قسم کھانے سے سامان تو بک جاتا ہے لیکن برکت ختم ہو جاتی ہے بیان

میں قسمیں کھانے سے لوگ تو خوش ہو جاتے ہیں مگر روحانیت ختم ہو جاتی ہے

حضرت ابو مہر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں مسجد سے باہر نکلا تو ایک آدمی نے مجھے پیچھے سے آواز دے کر کہا ”اپنی لنگی اونچی کر لے کیونکہ لنگی اونچا کرنے سے پتہ چلے گا کہ تم اپنے رب سے زیادہ ڈرنے والے ہو اور اس سے تمہاری لنگی زیادہ صاف رہے گی اور اپنے سر کے بال صاف کر لے اگر تو مسلمان ہے۔“ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ تھے اور ان کے ہاتھ میں کوڑا بھی تھا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ چلتے چلتے اونٹوں کے بازار میں پہنچ گئے تو فرمایا ”بچو ضرور لیکن قسم نہ کھاؤ کیونکہ قسم کھانے سے سامان تو بک جاتا ہے لیکن برکت ختم ہو جاتی ہے۔“

پھر ایک کھجور والے کے پاس آئے تو دیکھا کہ ایک خادمہ رو رہی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس سے پوچھا کیا بات ہے؟ اس خادمہ نے کہا اس نے مجھے ایک درہم کی کھجوریں دیں لیکن میرے آقا نے انہیں لینے سے انکار کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کھجور والے سے کہا تم اس سے کھجوریں واپس لے لو اور اسے درہم دے دو کیونکہ یہ تو بالکل بے اختیار ہے (اپنے مالک کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی) وہ لینے سے انکار کرنے لگا۔ ابو مہر نے کہا کیا تم جانتے ہو یہ کون ہیں؟ اس آدمی نے کہا نہیں، میں نے کہا یہ حضرت علی امیر المومنین رضی اللہ عنہ ہیں۔ اس نے فوراً کھجوریں لے کر اپنی کھجوروں میں ڈال لیں اور اسے ایک درہم دے دیا اور کہا اے امیر المومنین! میں چاہتا تھا کہ آپ مجھ سے راضی رہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ”جب تم لوگوں کو پورا دو گے تو میں تم سے بہت زیادہ راضی رہوں گا۔“ پھر کھجور والوں

کے پاس سے گزرتے ہوئے فرمایا ”مسکین کو کھلایا کرو اس سے تمہاری کمائی بڑھ جائے گی۔“

پھر مچھلی والوں کے پاس پہنچ گئے تو فرمایا ”ہمارے بازار میں وہ مچھلی نہیں بکھی چاہیے جو پانی میں مر کر اوپر تیرنے لگ گئی ہو۔“  
پھر آپ کپڑے کے بازار میں پہنچ گئے۔ یہ کھدر کا بازار تھا ایک دکاندار سے کہا اے بڑے میاں! مجھے اپنی قمیص تین درہم کی دے دو۔ اس دکاندار نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پہچان لیا تو اس سے قمیص نہ خریدی، پھر دوسرے دکاندار کے پاس گئے جب اس نے بھی پہچان لیا تو اس سے بھی نہ خریدی، پھر ایک نوجوان لڑکے سے تین درہم کی قمیص خریدی (وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نہ پہچان سکا) اور اسے پہن لیا اس کی آستین گئے تک لمبی تھی اور خود قمیص ٹخنے تک تھی..... پھر اصل دکاندار کپڑوں کا مالک آ گیا تو اسے لوگوں نے بتایا کہ تیرے بیٹے نے امیر المومنین کے ہاتھ تین درہم میں قمیص بیچی ہے۔ تو اس نے بیٹے سے کہا تم نے ان سے دو درہم کیوں نہ لیے چنانچہ وہ دکاندار ایک درہم لے کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آیا اور عرض کیا یہ درہم لے لیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ اس قمیص کی قیمت دو درہم تھی میرے بیٹے نے آپ سے تین درہم لے لیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ”اس نے اپنی رضامندی سے تین درہم میں بیچی اور میں نے اپنی خوشی سے تین میں خریدی ہے۔“ (حیاء الصحاب: جلد ۲ صفحہ ۷۱۲، ۷۱۳)

### ﴿۱۴۱﴾ جس کے پاس ایمان کی دولت ہے اس سے بڑھ کر کوئی دولت مند نہیں ہو سکتا

ایک بزرگ جا رہے تھے۔ بزرگوں کا یہی حال ہوتا ہے کہ لباس کی کچھ زیادہ خبر نہیں ہوتی۔ بس جیسا مل گیا پہن لیا، کبھی شاہانہ لباس، کبھی پھٹے پرانے کپڑے۔ وہ بزرگ پھٹے پرانے کپڑوں میں چلے جا رہے تھے، ایک شہر سامنے آیا تو سارے شہر کے دروازے بند۔ اب ہزاروں گاڑیاں اندر جانے والی وہ باہر رکی ہوئی ہیں اور اندر کی اندر، تجارت اور کاروبار بھی سب بند۔ انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ بھئی یہ دروازے کیوں بند ہو گئے۔

لوگوں نے کہا کہ اس شہر کا بادشاہ ہے اس کا باز کھو گیا ہے۔ باز ایک پرندہ ہوتا ہے جس سے چڑیوں کا شکار کرتے ہیں وہ کھو گیا ہے تو بادشاہ نے کہا چونکہ باز کھو گیا، شہر کے دروازے بند کر دو اور اسے کہیں سے پکڑ لاؤ۔

انہوں نے کہا کیسا احمق بادشاہ ہے!! بھئی! پرندے کو اس سے کیا مطلب کہ دروازے بند کئے ہیں۔ وہ اڑ کر باہر نہیں چلا جائے گا؟ اسے دروازے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسا احمق آدمی ہے! پرندے کو اگر پکڑنا تھا تو شہر پر جال لگا دیتا کہ اوپر سے اڑ کر نہ نکلے۔ دروازے بند کرانے کی کوئی تک ہے؟ اور اس بزرگ نے کہا یا اللہ یہ تیری عجیب قدرت ہے کہ اس کندہ ناتراش کو تو نے بادشاہ بنا دیا جس کو یہ بھی تمیز نہیں کہ باز کو روکنے کے لیے جال ڈالنا چاہیے یا شہر کے دروازے بند کرانے چاہئیں اور مجھے جیسے عالم فاضل کو بھیک منگا بنا رکھا ہے کہ جوتیاں چٹختے پھر رہا ہوں۔ کوئی پوچھتا نہیں عجیب تیری قدرت ہے اور تیرا نظام کہ اس احمق کو سلطنت دے دی اور مجھے جوتیاں چٹخانے کے لیے چھوڑ دیا۔

اس بزرگ کے دل میں یہ دوسوہ گزرا۔ حق تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا کہ کیا تم اس کے لیے تیار ہو کہ تمہارے دل کی، ایمان کی دولت اس بادشاہ کو دے دیں اور اس کی سلطنت تمہیں دے دیں۔

تھرا گئے۔ عرض کیا نہیں یا اللہ میں ایمان نہیں دینا چاہتا۔

فرمایا: اتنی بڑی دولت دے دی پھر بھی بے خوف اپنے کو بھیک منگا سمجھ رہا ہے۔ یہ دولت ظاہری جس کے پاس ہے وہ کل کو ختم ہوگی جس کے پاس ایمان ہے وہ دولت ہے جو ابداً آباد تک چلنے والی ہے تو تجھے ابدی دولت دی اور اسے عارضی دولت دی اتوں نے اس کی قدر نہ کی۔

پھر توبہ کی اور کہا کہ یا اللہ! مجھ سے غلطی ہوئی مجھے معاف کرو واقعی تو نے مجھے دولت مند بنا دیا جس کے پاس ایمان کی دولت ہے اس

سے بڑھ کر کون دولت مند ہے؟ یہ دولت آگے تک جانے والی ہے مسلمانوں کو اگر مادی دولت ملے تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایمان کی دولت الگ دی اور دنیا کی دولت بھی دی۔ (خطبات حکیم الاسلام: جلد ۳ ص ۳۲۶، ۳۲۷)

### (۱۴۲) امتحان عاشق کا ہوتا ہے منافق کا نہیں

حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ بھی صحابی رضی اللہ عنہ کے ترجمہ میں یہ واقعہ ذکر کیا ہے کہ آپ کو رومی کفار نے قید کر لیا اور اپنے بادشاہ کے پاس پہنچا دیا۔ اس نے آپ سے کہا کہ تم نصرانی بن جاؤ میں تمہیں اپنے راج پاٹ میں شریک کر لیتا ہوں اور اپنی شہزادی تمہارے نکاح میں دیتا ہوں۔ صحابی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ یہ تو کیا؟ اگر تو اپنی تمام بادشاہت مجھے دے دے اور تمام عرب کا راج بھی مجھے سونپ دے اور یہ چاہے کہ میں ایک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی دین محمدی (صلی اللہ علیہ وسلم) سے بھر جاؤں تو یہ ناممکن ہے۔ بادشاہ نے کہا پھر میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ہاں! یہ تجھے اختیار ہے۔

چنانچہ اسی وقت حکم دیا اور انہیں صلیب پر چڑھا دیا گیا اور تیر اندازوں نے قریب سے بگم بادشاہ ان کے ہاتھ پاؤں اور جسم چھیدنا شروع کیا، بار بار کہا جاتا تھا کہ اب بھی نصرانیت قبول کر لو اگر آپ پورے استقلال اور صبر سے فرماتے جاتے کہ ہرگز نہیں۔ آخر بادشاہ نے کہا اسے سولی سے اتار لو پھر حکم دیا کہ پتیل کی دیگ یا پتیل کی بنی ہوئی گائے خوب تپا کر آگ بنا کر لائی جائے، چنانچہ وہ پیش ہوئی۔ بادشاہ نے ایک اور مسلمان قیدی کی بابت حکم دیا کہ اسے اس میں ڈال دو۔ اسی وقت حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں آپ کے دیکھتے ہوئے اس مسلمان قیدی کو اس میں ڈال دیا گیا وہ مسکین اسی وقت چر مر ہو کر رہ گئے۔ گوشت پوست جل گیا، ہڈیاں چمکنے لگیں۔

پھر بادشاہ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے کہا دیکھو! اب بھی ہماری مان لو اور ہمارا مذہب قبول کر لو، ورنہ اس آگ کی دیگ میں تمہیں بھی ڈال کر جلا دیا جائے۔ آپ نے پھر بھی اپنے ایمان جوش سے کام لے کر فرمایا کہ ناممکن ہے کہ میں خدا تعالیٰ کے دین کو چھوڑ دوں۔ اسی وقت بادشاہ نے حکم دیا کہ انہیں چرخی پر چڑھا کر اس میں ڈال دو۔ جب یہ اس آگ کی دیگ میں ڈالے جانے کے لیے چرخی پر اٹھائے گئے تو بادشاہ نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، اسی وقت اس نے حکم دیا کہ رُک جاؤ انہیں اپنے پاس بلایا اس لیے کہ اسے امید بندھ گئی تھی کہ شاید اس عذاب کو دیکھ کر اب اس کے خیالات پلٹ گئے ہیں میری مان لے گا اور میرا مذہب قبول کر کے میری دامادی میں آکر میری سلطنت کا ساتھی بن جائے گا۔

لیکن بادشاہ کی یہ تمنا اور خیال محض بے سود نکلا، حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں صرف اس وجہ سے روتا تھا کہ آہ! آج ایک ہی جان ہے جسے راہ خدا تعالیٰ میں اس عذاب کے ساتھ میں قربان کر رہا ہوں، کاش کہ میرے روئیں روئیں میں ایک ایک جان ہوتی کہ آج سب جانیں راہ خدا میں اسی طرح ایک ایک کر کے فدا کرتا۔

بعض روایتوں میں ہے کہ آپ کو قید خانہ میں رکھا، کھانا پینا بند کر دیا۔ کئی دن کے بعد شراب اور خنزیر کا گوشت بھیجا لیکن آپ نے بھوک پر بھی اس کی طرف توجہ تک نہ فرمائی۔ بادشاہ نے بلوا بھیجا اور ان سے نہ کھانے کا سبب دریافت کیا، تو آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اس حالت میں یہ میرے لیے حلال تو ہوگا لیکن میں تجھ جیسے دشمن کو اپنے بارے میں خوش ہونے کا موقع دینا چاہتا ہی نہیں ہوں۔ اب بادشاہ نے کہا اچھا تو میرے سر کا بوسہ لے لو میں تجھے اور تیرے ساتھ کے اور تمام مسلمان قیدیوں کو رہا کر دیتا ہوں۔ آپ نے اسے قبول فرمایا اور اس کے سر کا بوسہ لے لیا اور بادشاہ نے بھی اپنا وعدہ پورا کیا اور آپ کو اور آپ کے تمام ساتھیوں کو چھوڑ دیا۔ جب حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ یہاں سے آزاد ہو کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا ہر مسلمان پر حق ہے کہ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کا ماتھا چومے اور میں ابتداء کرتا ہوں۔ یہ فرما کر پہلے آپ نے ان کے سر پر بوسہ دیا۔ (تفسیر ابن کثیر: جلد ۳ ص ۱۱۷، ۱۱۸)

## (۱۴۳) دین کے کام میں آرڈر نہیں دیا جاتا بلکہ ماحول بنایا جاتا ہے

حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ ایک شادی کے سلسلے میں تھانہ بھون تشریف لے گئے۔ تو خیال ہوا کہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر کی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کی زیارت بھی کر لوں۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہو گیا کہ یہ فطرتِ سلیمہ رکھتے ہیں۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ آپ کسی سے بیعت بھی ہوئے یا نہیں؟ آپ نے کہا نہیں۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پھر مجھ سے بیعت ہو جاؤ۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں اس شرط پر بیعت ہوں گا کہ آپ مجھ ذکر و شغل کا حکم نہ فرمائیں۔ حاجی صاحب رحمۃ علیہ نے فرمایا کہ میں نے تو بیعت ہونے کو کہا ہے۔ شغل کا تو میں نے کہا ہی نہیں اور وعدہ بھی فرمایا کہ آئندہ بھی نہیں کہوں گا۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیعت فرمایا اور یہ بھی فرمایا کہ دو تین دن یہاں ٹھہر جاؤ۔ آپ وہیں تھانہ بھون میں تین دن ٹھہرے جب رات کے وقت اڑھائی تین بجے دیکھا کہ سب لوگ اٹھ کر نماز تہجد ادا کر رہے ہیں۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو شرم آئی انہوں نے بھی اٹھ کر نماز تہجد پڑھی پھر جب دوسرے لوگوں کو ذکر و شغل میں دیکھا تو آپ بھی ذکر میں مشغول ہو گئے۔

دوسرے دن پھر یہی حالت ہوئی۔ تیسرے دن خود بخود خوشی سے تہجد پڑھی اور ذکر و شغل میں مشغول ہوئے۔ تیسرے دن حضرت کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ آپ نے تو سب کچھ ہی کر دیا۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے تھوڑا ہی کہا تھا میں نے وعدہ خلافی نہیں کی۔ اب آپ جا سکتے ہیں۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ اب تو میں نہیں جاتا، چالیس دن وہاں ٹھہرے اور اس تھوڑے عرصے کے بعد خلافت لے کر واپس ہوئے۔ پس یہ عبادت پہلے ریاضت ہی پھر عبادت ہوئی پھر عبادت ہو گئی اور ساتھ ہی خلافت بھی مل گئی۔

حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میرا اپنا مشاہدہ ہے کہ جب میری عمر آٹھ برس کی تھی۔ ایک دفعہ میرا گنگوہ جانا ہوا وہاں ذکر و شغل کا ماحول تو تھا ہی گنگوہ کی مسجد میں بہت سے دعویٰ پڑے دعوتے تھے، وہ جب کپڑے کو مارتے تو اللہ بھی ساتھ کہتے۔ یہ ماحول کا اثر تھا اور نہ ان کو پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ مقولہ مشہور ہے ”ہر چہ در کان نمک رفت نمک شد“ پس ماحول کا اثر یہی ہے۔ جو نیکی کے ماحول میں ہوگا اس کا بھی اثر ضرور ہوگا۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا بھی ایک ماحول تھا کہ جو بھی اس میں آتا وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہتا اور ان کا ماحول بھی بہت قوی تھا۔ حتیٰ کہ حضرات انبیاء علیہم السلام کے بعد انہیں کا درجہ تھا۔ اُمت کا اجماع ہے کہ

الصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ عَدُولٌ

وہ معصوم تو نہیں تھے لیکن محفوظ ضرور تھے۔

اُمت کا اتفاق ہے کہ کوئی شخص کتنا بواغوث اور قلب بن جائے لیکن ادنیٰ صحابی کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے کہ جو ماحول ان کو میسر آیا وہ کسی کو میسر نہ آسکا ایسے ماحول سے ابو جہل جیسا بد بخت ہی متاثر ہوئے بغیر رہ سکتا ہے، اور جبری طور پر تو وہ بھی مومن تھا چنانچہ اپنے گھر میں کہتا تھا کہ بات تو ٹھیک ہے لیکن اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیں، تو ان کی غلامی کرنی پڑے گی اسی سے اس کو عارتھی۔ بہر حال اگر ایک گھرانہ یہ عہد کرے کہ ہم گناہ چھوڑ دیں تو ان کے ماحول میں جو داخل ہوگا انہیں کی طرح ہو جائے گا۔ (خطبات حکیم الاسلام: جلد ۲ صفحہ ۱۱۲)

## (۱۴۴) قیامت کے دن ہر حاکم کی گردن میں طوق ہوگا

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”ہر امیر و حاکم خواہ وہ دس ہی آدمیوں کا امیر و حاکم کیوں نہ ہو قیامت کے دن اس طرح لایا جائے گا کہ اس کی گردن میں طوق ہوگا یہاں تک کہ اس کو اس طوق سے یا تو اس کا عدل نجات دلائے گا یا اس کا ظلم ہلاک کرے گا۔“ (داری)

مطلب یہ ہے کہ ایک بار تو ہر حاکم کو خواہ وہ عادل ہو یا ظالم، بارگاہِ رب العزت میں باندھ کر لایا جائے گا اور پھر تحقیق کے بعد اگر وہ عادل ثابت ہوگا، اس کو نجات دے دی جائے گی اور اگر ظالم ثابت ہوگا تو ہلاکت یعنی عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ (مطابق حدیث: جلد ۲ صفحہ ۴۳۱)

### (۱۳۵) آنحضرت ﷺ نے انتقال کے وقت فرمایا

”صرف ابو بکر کا دروازہ کھلا رہنے دو کیونکہ میں نے اس پر نور دیکھا ہے“

حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: ایک مرتبہ (مرضِ وفات میں) مختلف کنوؤں سے سات مشکوں میں (پانی بھر کر) میرے اوپر ڈالواتا کہ (مجھے کچھ افاقہ ہو جائے اور) میں لوگوں کے پاس باہر جا کر انہیں وصیت کروں چنانچہ (پانی ڈالنے سے حضور اکرم ﷺ کو کچھ افاقہ ہوا تو) حضور اکرم ﷺ سر پر پٹی باندھے ہوئے باہر آئے اور منبر پر تشریف فرما ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنایاں کی پھر فرمایا:

”اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ یا تو وہ دنیا میں رہ لے یا اللہ کے ہاں جو اجر و ثواب ہے اسے لے لے۔ اس بندے نے اللہ کے ہاں اجر و ثواب کو اختیار کر لیا۔“ (یہاں اس بندے سے مراد خود حضور ﷺ ہیں اور مطلب یہ ہے کہ آپ ﷺ اس دنیا سے جلد تشریف لے جانے والے ہیں۔)

حضور ﷺ کے اس فرمان کا مطلب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے علاوہ اور کوئی نہ سمجھ سکا اور اس پر وہ رونے لگے اور عرض کیا ہم اپنے ماں باپ اور آلِ اولاد سب آپ ﷺ پر قربان کرتے ہیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا: ”(اے ابو بکر!) ذرا آرام سے بیٹھے رہو (مت روؤ) مال خرچ کرنے اور ساتھ رہنے کے اعتبار سے مجھ پر سب سے زیادہ احسان کرنے والے ابو بکر ہیں۔ مسجد میں جتنے دروازے کھلے ہوئے ہیں سب بند کر دو صرف ابو بکر کا دروازہ کھلا رہنے دو، کیونکہ میں نے اس پر نور دیکھا ہے۔“ (حیاہ الصحابہ: جلد ۳ صفحہ ۴۷۱)

### (۱۳۶) قیامت کے دن گنہگار کی آنکھ تین میل لمبی اور تین میل چوڑی ہوگی

حضرت یزید بن ہارون رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ بیان فرمایا اور اس میں ارشاد فرمایا کہ ایک ایسے بندے کو قیامت کے دن لایا جائے گا جسے اللہ نے دنیا میں بہت نعمتیں دی تھی، اسے رزق میں خوب وسعت دی تھی اور اسے جسمانی صحت بھی دی لیکن اس نے اپنے رب کی ناشکری کی تھی اسے اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور کہا جائے گا تم نے آج کے دن کے لیے کیا کیا؟ اور اپنے لیے کون سے عمل آگے بھیجے؟ وہ کوئی نیک عمل آگے بھیجا ہوا نہ پائے گا اس پر وہ رونے لگے گا اور اتار دئے گا کہ آنسو ختم ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے احکام ضائع کرنے کی وجہ سے اسے شرم دلائی جائے گی اور رسوا کیا جائے گا اس پر خون کے آنسو روئے گا، پھر اسے شرم دلائی جائے گی اور رسوا کیا جائے گا جس پر وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو کہنیوں تک کھا جائے گا، پھر اللہ کے احکام ضائع کرنے پر اسے شرم دلائی جائے گی اور رسوا کیا جائے گا جس پر وہ اونچی آواز سے روئے گا اور اس کی آنکھیں نکل کر اس کے رخساروں پر آگریں گی اور دونوں آنکھوں میں سے ہر آنکھ تین میل لمبی اور تین میل چوڑی ہوگی، پھر اسے شرم دلائی جائے گی اور رسوا کیا جائے گا یہاں تک کہ پریشان ہو کر کہے گا اے میرے رب! مجھے دوزخ میں بھیج دے اور مجھ پر رحم فرما کر مجھے یہاں سے نکال دے۔ (حیاہ الصحابہ: جلد ۳ صفحہ ۴۷۱)

### (۱۳۷) امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کی آزمائش

میمون بن اسحق فرماتے ہیں کہ میں بغداد میں تھا، اچانک شہر کی آواز سنی۔ دریافت کیا کہ یہ کیسا شور و غل ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ آج

امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا امتحان ہو رہا ہے۔

حضرت میمون بن اسحاق فرماتے ہیں کہ میں بھی وہاں پہنچا جب پہلا کوڑا مارا گیا تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:  
بِسْمِ اللّٰهِ۔

جب دوسرا کوڑا مارا گیا تو فرمایا:

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ۔

جب تیسرا کوڑا مارا گیا تو فرمایا: قرآن اللہ کا کلام ہے جو مخلوق نہیں۔

مجھ کو جی بھر کے ستائیں شوق سے  
جب چوتھا کوڑا مارا گیا تو فرمایا:

﴿لَنْ نُجِيبَنَّكَ إِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا﴾ (سورہ توبہ: آیت ۱۵)

یعنی ہم کو ہرگز کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے۔

ہو خوشی یا درد و غم کی داستاں  
ان کی مرضی پر مری قربان جاں  
سب میں شامل ان کا ہے لطف نہاں  
اللہ اللہ میں تھا اس قابل کہاں  
پھر کریں گے کیا میرے نامہراں  
ہے مدد پر جب کیمین لامکاں  
اس طرح سے کل آتیس (۲۹) کوڑے مارے گئے۔

### (۱۳۸) امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت

جس وقت کوڑے لگ رہے تھے آپ کے پا جاے کا ازار بند کپڑے کا تھا جو ٹوٹ گیا اور پا جا مد آپ کے پیڑ (ناف کے نیچے) تک اتر گیا۔ آپ ڈر گئے کہ نیچے گر جائے گا فوراً آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور ہونٹوں کو ہلایا۔ تو پا جا مد بہت تیزی سے اٹھ کر ناف تک پہنچ کر خود بخود بندھ گیا اور گرنے نہیں پایا۔

میسون بن اسحاق کہتے ہیں کہ میں سات دن کے بعد ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا آپ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے اللہ سے کیا کہہ رہے تھے؟ فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ:

”اللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِيْ مَلَنْتَ بِهِ الْعُرْشَ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اِنِّيْ عَلَيَّ الْعَوَاكِبُ فَلَا تُهَيِّئْ لِيْ سِتْرًا“

ترجمہ: ”اے اللہ! میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کے اس نام کے ساتھ جس سے عرش اکظم کو آپ نے بھر دیا ہے، اگر آپ جانتے ہیں کہ میں حق پر ہوں تو آپ میرا ستر نہ کھلنے دیں۔“

### (۱۳۹) واقعہ کی تفصیلات امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعہ کو خود تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، وہ فرماتے ہیں جب اس مقام پر پہنچا جس کا نام ہستانتان ہے تو میرے لیے سواری لائی گئی اور مجھ کو سوار ہونے کا حکم دیا گیا، مجھے اس وقت کوئی سہارا دینے والا نہیں تھا اور میرے پاؤں میں بوجھل بیڑیاں تھیں، سوار ہونے کی کوشش میں کئی مرتبہ اپنے منہ کے بل گرتے گرتے پہا، آخر کسی نہ کسی طرح سوار ہوا اور مستحکم کے محل میں پہنچا۔ مجھے ایک کونھڑی میں داخل کر دیا گیا اور دروازہ بند کر دیا گیا، آدمی رات کا وقت تھا اور وہاں کوئی چراغ نہیں تھا، میں نے نماز کے لیے مسح کرنا چاہا اور ہاتھ بڑھایا تو پانی کا ایک پیالہ اور طشت رکھا ہوا ملا، میں نے وضو کیا اور نماز پڑھی۔



اگلے دن معتمم کا قاصد آیا اور مجھے خلیفہ کے دربار میں لے گیا، معتمم بیٹھا ہوا تھا۔ قاضی القضاة ابن ابی دواد بھی موجود تھا اور ان کے ہم خیالوں کی ایک بڑی جمعیت تھی۔ ابو عبد الرحمن الشافعی بھی موجود تھے، اسی وقت دو آدمیوں کی گردنیں بھی اڑائی جا چکی تھیں، میں نے ابو عبد الرحمن الشافعی سے کہا کہ تم کو امام شافعی سے مسخ کے بارے میں کچھ یاد ہے؟ ابن ابی دواد نے کہا کہ اس شخص کو دیکھو کہ اس کی گردن اڑائی جانے والی ہے اور یہ فقہ کی تحقیق کر رہا ہے! معتمم نے کہا کہ ان کو میرے پاس لاؤ۔ وہ برابر مجھے پاس بلاتا رہا یہاں تک کہ بہت قریب ہو گیا۔ اس نے کہا بیٹھ جاؤ۔ میں بیڑیوں سے تھک گیا تھا اور بوجھل ہو رہا تھا تو بڑی دیر کے بعد میں نے کہا مجھے کچھ کہنے کی اجازت ہے؟ خلیفہ نے کہا کہو۔ میں نے کہا کہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول ﷺ نے کس چیز کی طرف دعوت دی ہے؟ تو بڑی دیر کے بعد اس نے کہا کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی شہادت کی طرف۔ میں نے کہا تو میں اس کی شہادت دیتا ہوں۔ پھر میں نے کہا کہ آپ کے جدا مسجد ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ قبیلہ عبد القیس کا وفد آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ ﷺ نے ان سے سوال کیا تمہیں معلوم ہے کہ ایمان کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول ﷺ کو زیادہ معلوم ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد (ﷺ) اللہ کے رسول ہیں، نماز کی پابندی، زکوٰۃ کی ادائیگی اور رمضان کے روزے رکھنا اور مال غنیمت میں سے پانچویں حصہ کا ٹکالنا..... اس پر معتمم نے کہا کہ اگر تم میرے پیش رو کے ہاتھ میں پہلے نہ آگئے ہوتے تو میں تم سے تعرض نہ کرتا۔ پھر عبد الرحمن بن اسحاق کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ میں نے تم کو حکم نہیں دیا تھا کہ اس آزمائش کو ختم کرو؟ امام احمد رحمۃ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ اکبر! اس میں تو مسلمانوں کے لیے کشائش ہے۔ خلیفہ نے علمائے حاضرین سے کہا کہ ان سے مناظرہ کرو اور گفتگو کرو۔ پھر عبد الرحمن سے کہا کہ ان سے گفتگو کرو (آگے امام احمد رضی اللہ عنہما اس مناظرہ کی تفصیل بیان کرتے ہیں)۔

ایک آدمی بات کرتا اور میں اس کا جواب دیتا، دوسرا بات کرتا اور میں اس کا جواب دیتا۔ معتمم کہتا، احمد تم پر خدا رحم کرے، تم کیا کہتے ہو؟ میں کہتا امیر المؤمنین! مجھے کتاب اللہ یا سنت رسول اللہ ﷺ میں سے کچھ دکھائیے تو میں اس کا قائل ہو جاؤں، معتمم کہتا ہے کہ اگر یہ میری بات قبول کر لیں تو میں اپنے ہاتھ سے ان کو آزاد کر دوں، اور اپنے فوج و لشکر کے ساتھ ان کے پاس جاؤ اور ان کے آستانہ پر حاضری دو۔ پھر کہتا احمد! میں تم پر بہت شفیق ہوں اور مجھے تمہارا ایسا ہی خیال ہے جیسے اپنے بیٹے ہارون کا، تم کیا کہتے ہو؟ میں وہی جواب دیتا کہ مجھے کتاب اللہ یا سنت رسول اللہ ﷺ میں سے کچھ دکھاؤ تو میں قائل ہو جاؤں۔ جب بہت دیر ہو گئی تو وہ اکتا گیا اور کہا جاؤ، اور مجھے قید کر دیا اور میں اپنی پہلی جگہ واپس کر دیا گیا..... اگلے دن پھر مجھے طلب کیا گیا اور مناظرہ ہوتا رہا اور میں سب کا جواب دیتا رہا، یہاں تک کہ زوال کا وقت ہو گیا۔ جب اکتا گیا تو کہا کہ ان کو لے جاؤ۔

تیسری رات کو میں سمجھا کہ کل کچھ ہو کر رہے گا۔ میں نے ڈوری منگوائی اور اس سے اپنی بیڑیوں کو کس لیا اور جس ازار بند سے میں نے بیڑی باندھ رکھی تھی، اس کو اپنے پانچامہ میں پھر ڈال لیا کہ کہیں کوئی سخت وقت آئے اور میں برہنہ ہو جاؤں۔ تیسرے روز مجھے پھر طلب کیا گیا میں نے دیکھا دربار بھر اہوا ہے، میں مختلف دیوڑھیاں اور مقامات طے کرتا ہوا آگے بڑھا، کچھ لوگ تلواریں لیے کھڑے تھے، کچھ لوگ کوزے لیے، اگلے دنوں دن کے بہت سے لوگ آج نہیں تھے۔ جب میں معتمم کے پاس پہنچا تو کہا بیٹھ جاؤ، پھر کہا ان سے مناظرہ کرو اور گفتگو کرو، لوگ مناظرہ کرنے لگے میں ایک کا جواب دیتا، پھر دوسرے کا جواب دیتا۔ میری آواز سب پر غالب تھی، جب دیر ہو گئی تو مجھے الگ کر دیا اور ان کے ساتھ تھلے میں کچھ ہات کئی، پھر ان کو ہٹا دیا اور مجھے بلایا۔ پھر کہا احمد! تم پر خدا رحم کرے، میری بات مان لو میں تم کو اپنے ہاتھ سے رہا کروں گا۔ میں نے پہلا سا جواب دیا۔ اس پر اس نے برہم ہو کر کہا ان کو پکڑو اور کھینچو اور ان کے ہاتھ اکھیر دو۔ معتمم کرسی پر بیٹھ گیا اور جلا دوں اور تازیاں لگانے والوں کو بلایا، جلا دوں سے کہا آگے بڑھو، ایک آدمی آگے بڑھتا اور مجھے دو کوزے لگاتا۔ معتمم کہتا زور سے کوزے لگاؤ، پھر وہ ہٹ جاتا اور دوسرا آتا اور دو کوزے لگاتا، انیس (۱۹) کوزوں کے بعد پھر معتمم میرے پاس آیا اور

کہا کیوں احمد اپنی جان کے پیچھے پڑے ہو؟ بخدا مجھے تمہارا بہت خیال ہے۔ ایک شخص مجھے اپنی تلوار کے دستے سے چھیڑتا ہے اور کہتا کہ تم ان سب پر غالب آنا چاہتے ہو؟ دوسرا کہتا اللہ کے بندے! خلیفہ تمہارے سر پر کھڑا ہے، کوئی کہتا کہ امیر المومنین! آپ روزے سے ہیں، اور آپ دھوپ میں کھڑے ہوئے ہیں۔ معصوم پھر مجھ سے بات کرنا اور میں اس کو دعویٰ جواب دیتا، وہ پھر جلا دوں کو حکم دیتا کہ پوری قوت سے کوڑے لگاؤ۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ پھر اس اثنا میں میرے حواس جاتے رہے، جب میں ہوش میں آیا تو دیکھا کہ بیڑیاں کھول دی گئی ہیں۔ حاضرین میں سے ایک شخص نے کہا کہ ہم نے تم کو اوندھے منہ گرا دیا تم کو روندنا، احمد رحمۃ علیہ کہتے ہیں کہ مجھ کو کچھ احساس نہیں ہوا۔

### (۱۵۰) بے نظیر عزیمت و استقامت

اس کے بعد احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو گھر پہنچا دیا گیا، جب سے وہ گرفتار کئے گئے، رہائی کے وقت تک اٹھائیس مہینے ان کو جس میں گزرے، ان کو ۳۳-۳۳ کوڑے لگائے گئے، ابراہیم ابن مصعب جو سپاہیوں میں سے تھے کہتے ہیں کہ میں نے احمد رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ جری اور دلیر نہیں دیکھا، ان کی نگاہ میں ہم لوگوں کی حقیقت بالکل یکسی کی سی تھی..... محمد بن اسلمیل کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ احمد کو ایسے کوڑے لگائے گئے کہ اگر ایک کوڑا ہاتھی پر پڑتا تو چیخ مار کر بھاگتا..... ایک صاحب جو واقعہ کے وقت موجود تھے، بیان کرتے ہیں کہ امام روزے سے تھے میں نے کہا بھی کہ آپ روزے سے ہیں، اور آپ کو اپنی جان بچانے کے لیے اس عقیدہ کا اقرار کر لینے کی گنجائش ہے لیکن انہوں نے اس کی طرف التفات نہیں کیا..... ایک مرتبہ پیاس کی شدت ہوئی تو پانی طلب کیا، آپ کے سامنے برف کے پانی کا پیالہ پیش کیا گیا، آپ نے اس کو ہاتھ میں لیا اور کچھ دیر اس کو دیکھا پھر بغیر پئے واپس کر دیا۔

آپ کے صاحبزادے کہتے ہیں کہ انتقال کے وقت میرے والد کے جسم پر ضرب کے نشان تھے۔ ابوالعباس الرقی کہتے ہیں کہ احمد جب ”رقہ“ میں محبوس تھے تو لوگوں نے ان کو سمجھانا چاہا اور اپنا پچاؤ کرنے کی حدیثیں سنائیں۔ انہوں نے فرمایا کہ خواب کی حدیث کا کیا جواب ہے؟ جس میں کہا گیا ہے کہ پہلے بعض لوگ ایسے تھے جن کے سر پر آرا رکھ کر چلا دیا جاتا پھر بھی وہ اپنے دین سے ہٹے نہیں تھے۔ یہ سن کر لوگ ناامید ہو گئے اور سمجھ گئے کہ یہ اپنے مسلک سے نہیں ہٹیں گے اور سب کچھ برداشت کریں گے۔

### (۱۵۱) امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا کارنامہ اور اس کا صلہ

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی بے نظیر ثابت قدمی اور استقامت سے یہ فتنہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا اور مسلمان ایک بڑے دینی خطرہ سے محفوظ ہو گئے جن لوگوں نے اس دینی ابتلاء میں حکومت وقت کا ساتھ دیا تھا اور موقع پرستی اور مصلحت شناسی سے کام لیا تھا وہ لوگوں کی نگاہوں سے گر گئے اور ان کا دینی و علمی اعتبار جاتا رہا اس کے بالقابل امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی شان دو بالا ہو گئی۔ ان کی محبت الل سنت اور صحیح العقیدہ مسلمانوں کا شعار اور علامت بن گئی ان کے ایک معاصر قتیبہ کا مقولہ ہے کہ:

”جب تم کسی کو دیکھو کہ اس کو احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے محبت ہے تو سمجھ لو کہ وہ سنت کا قبیح ہے۔“

ایک دوسرے عالم احمد بن ابراہیم الدورقی کا قول ہے:

”جس کو تم احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر برائی سے کرتے سنا اس کے اسلام کو منکوک نظر سے دیکھو۔“

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ حدیث میں امام وقت تھے۔ مسند کی تربیت و تالیف ان کا بہت بڑا علم کا خزانہ ہے۔ وہ مجتہد فی المذہب اور امام مستقل ہیں۔ وہ بڑے زاہد و عابد تھے۔ یہ سب فضیلتیں اپنی جگہ پر مسلم ہیں لیکن ان کی عالمگیر مقبولیت و محبوبیت اور عظمت و امامت کا اصل

رازان کی عزیمت اور استقامت اس فتنہ عالم آشوب میں دین کی حفاظت اور اپنے وقت کی سب سے بڑے بادشاہ کا تھا مقابلہ تھا۔ یہی ان کی قبول عام اور بقائے دوام کا اصل سبب ہے۔

ان کے معاصرین نے جنہوں نے اس فتنہ کی عالم آشوبی دیکھی تھی، ان کے اس کارنامہ کی عظمت کا بڑی فراخ دلی سے اعتراف کیا ہے، اور اس کو دین کی بروقت حفاظت اور مقام صدیقیت سے تعبیر کیا ہے ان کے ہم عصر اور ہم استاد مشہور محدث وقت علی ابن المدینی (جو امام بخاری رحمہ اللہ کے مایہ ناز استاد ہیں) کا ارشاد ہے:

”اللہ تعالیٰ نے اس دین کا غلبہ و حفاظت کا کام دو شخصوں سے لیا ہے جن کا کوئی تیسرا ہمسر نظر نہیں آتا۔ ارتداد کے موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور فتنہ فاطق قرآن کے سلسلہ میں احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ۔“

اس عظمت و مقبولیت کا نتیجہ یہ تھا کہ ۲۴۱ ہجری میں جب اس امام سنت نے انتقال کیا تو سارا شہر اٹمنڈ آیا، کسی کے جنازہ پر خلقت کا ایسا ہجوم اس سے پہلے دیکھنے میں نہیں آیا تھا۔ نماز جنازہ پڑھنے والوں کی تعداد کا اندازہ یہ ہے کہ آٹھ لاکھ مرد اور ساٹھ ہزار عورتیں تھیں۔

(تاریخ دعوت و عزیمت: جلد ۱ ص ۶۶، ۱۰۲۵)

### (۱۵۲) امام شافعی رحمہ اللہ نے امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کی قمیص کو دھو کر اس کا پانی پیا

امام شافعی رحمہ اللہ نے جب یہ خبر سنی کہ آپ کے کوڑے مارے گئے ہیں تو فرمایا کہ مجھے وہ قمیص بھیج دیجئے جو کوڑے مارنے کے وقت آپ کے جسم پر تھی۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ نے وہ قمیص بھجوا دی۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ نے اس قمیص کو دھو کر اس کا پانی پی لیا..... ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ان کے مناقب میں عظیم الشان واقعہ ہے۔ کیونکہ امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد رحمہ اللہ کے استاد تھے۔ جس دن آپ کی وفات ہوئی اور بغداد کی سڑکوں سے آپ کا جنازہ گزر رہا تھا اس دن بیس ہزار غیر مسلم مسلمان ہو گئے۔

عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے

یہ ہے اللہ والوں کے جنازہ کی جان کہ جسے دیکھ کر اتنے کفار مسلمان ہو گئے۔

### (۱۵۳) اللہ نے امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ سے فرمایا: ”یہ میرا چہرہ ہے تو جی بھر کے دیکھ لے“

احمد بن محمد الکندی کہتے ہیں کہ میں نے امام احمد رحمہ اللہ کو خواب میں دیکھا، میں نے دریافت کیا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا اور فرمایا اے احمد! کیا میرے راستے میں تجھے کوڑے مارے گئے تھے؟ میں نے عرض کیا کہ ہاں میرے رب! فرمایا یہ میرا چہرہ ہے تو جی بھر کے دیکھ لے۔ میں نے اپنا دیدار تیرے لئے مباح کر دیا۔

### (۱۵۴) اللہ تعالیٰ نے حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کی لاش کی حفاظت فرمائی

حضرت ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دو سو تیس (۲۳۰) سال کے بعد جب آپ کی قبر کے قریب کسی معزز شہری کو ان کے پہلو میں دفن کیا جا رہا تھا تو ان کی قبر اچانک کھل گئی پس آپ کا کفن بالکل صحیح و سالم پایا گیا اور آپ کے جسم مبارک میں کسی قسم کا تغیر نہیں تھا۔ گویا کہ ابھی اگلی دفن کیا گیا ہے۔ (مکمل معرفت، ص ۲۷۳، ۲۷۵، خطبات جمیل: جلد ۱ ص ۱۶۶)



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تصحیح و اضافہ شدہ

حصہ پنجم

# بکھرتی

حضرت مولانا محمد یونس <sup>رحمۃ اللہ علیہ</sup> پانپوری

انتخاب ترتیب

صاحبزادہ محترم حضرت مولانا <sup>مبلغ اعظم</sup> محمد <sup>رحمۃ اللہ علیہ</sup> صاحب پانپوری

حضرت مولانا مفتی محمد امین <sup>رحمۃ اللہ علیہ</sup> صاحب پانپوری

تصحیح نظر ثانی

مکتبہ عالیہ <sup>۶۷</sup> حق سٹریٹ اردو بازار لاہور

## جملہ حقوق محفوظ ہیں

نام کتاب	.....	بکھرے موتی
انتخاب و ترتیب	.....	حضرت مولانا محمد یونس پالنپوری مدظلہ العالی
تصحیح و عمر ثانی	.....	صاحبزادہ محترم حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری مدظلہ العالی
باہتمام	.....	محمد قیصر محمود مہاروی
مطبع	.....	لعل سٹار پرنٹرز
ناشر	.....	<b>مکتبہ عائشہ</b>

حق سٹریٹ اردو بازار لاہور 042-7360541

..... ملنے کے پتے .....

ادارہ اسلامیات انارکلی لاہور	حق پبلی کیشنز اردو بازار لاہور
شمع بک اینڈ پبلسٹی اردو بازار لاہور	کتب خانہ رشید یہ راجہ بازار راولپنڈی
ملت پبلی کیشنز اسلام آباد	مکتبہ رشید یہ کمیٹی چوک راولپنڈی
احمد بک کارپوریشن راولپنڈی	دارالمطالعہ نزد پرانی ٹینگی حاصل پور منڈی
کتابستان شاہی بازار بہاول پور	اقبال بک سنٹر جہانگیر پارک صدر کراچی
مکتبہ دارالقرآن اردو بازار کراچی	قدیمی کتب خانہ آرام باغ کراچی
دارا خلاص محلہ جنگلی، پشاور	ادارہ الانور بنوری ٹاؤن کراچی
مکتبہ قاسمیہ میان	مکتبہ القرآن بنوری ٹاؤن کراچی
کتاب خانہ مظہری گلشن اقبال کراچی	ادارۃ المعارف دارالعلوم کراچی
مکتبہ رشید یہ سرکی روڈ کوئٹہ	مکتبہ امدادیہ ملتان
مکتبہ حقانیہ ملتان	مکتبہ اسلامیہ کوتوال روڈ فیصل آباد

## فہرست (پنجم)

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
458	فائدہ نہیں آئے گا	451	سب سے پہلے نماز فجر حضرت آدم علیہ السلام نے ادا کی
	خدا کی خصوصی قدرت کا مظاہرہ ایک بچہ کا		سب سے پہلے ظہر کی نماز حضرت ابراہیم علیہ السلام
458	گہوارہ میں بولنا	451	نے ادا کی
459	انہیں (۱۹) اہم نصیحتیں	452	سب سے پہلے عصر کی نماز حضرت یونس علیہ السلام نے ادا کی
460	گنہگار قابل رحم ہیں نہ کہ قابل عقارت		سب سے پہلے مغرب کی نماز حضرت داؤد علیہ السلام
	حضرت علیہ بن زید رضی اللہ عنہما نے اپنی آبرو کا عجیب	452	نے ادا کی
460	صدقہ کیا	452	نماز عشاء کی فرضیت
461	مسلمانوں کی پستی کے اسباب	453	ایک ٹھہرے کا درد بھرا قصہ
463	نافرمان اولاد اور والدین کے حقوق		اللہ کے حکم سے مومنین کے دلوں سے تمام غموں
464	ایک اہم نصیحت..... مجلس میں بیٹھ کر دین کی باتیں سنئے	454	کو نکال دینے والا عجیب فرشتہ
465	حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا مناظرہ	455	بعض وحشی جانوروں کا آنحضرت ﷺ کی عزت کرنا
465	پانچ اہم نصیحتیں	455	حاکم کے شر سے بچنے کا مجرب نسخہ
465	حضرت عبداللہ بن سلام کا عجیب خواب اور اس کی تعبیر		مندرجہ ذیل آیات سیکھ کر دل و دماغ کے سکون
466	دینار کو دینار کیوں کہتے ہیں (وہ تسمیہ)	455	کے لیے پڑھ کر دم کریں
466	جیسی نیت ویسا اللہ کا معاملہ	456	دل رو رہا ہے میرا مگر آنکھ تر نہیں
466	خیانت کرنے والے کا عبرت ناک انجام	456	تیری رحمت تو ہر ایک پر عام ہے
467	ظہن لوگ کون ہیں؟		يٰۤاَيُّهَا اللّٰهُ وَيٰۤاَيُّهَا اللّٰهُ رَاجِعُوْنَ كَا جملہ اس امت کی
469	حضور ﷺ کے موزے میں سانپ کا قصہ	456	خصوصیت ہے اور اس کے بہت سے فضائل ہیں
469	جنت کی چادر اوڑھنے کا نبوی نسخہ		اولاد سے گناہ و خطا ہو جائے تو قطع تعلق کے بجائے
	مشورہ میں امانت کا رنگ ہونا چاہیے سیاست و چالاک	457	ان کی اصلاح کی فکر کرنا چاہیے
469	کانہیں		رات کے وقت گھر میں سورہ واقعہ پڑھ لیجئے

484	حضرت عبداللہ کا زمانہ	470	ہوائیں بھی آپس میں باتیں کرتی ہیں
484	حدیث	470	لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو نصیحت
484	فقہ		حضرت سفیان ثوری <small>رضی اللہ عنہ</small> کا درد بھرا خط ہارون رشید
485	مبارک کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تیرنے لگے	470	ہر نماز کے بعد پڑھتے تھے اور روتے تھے
485	علم کے لیے سفر	473	ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے
486	مشہور اساتذہ	473	بچے کے کان میں اذان و اقامت کی مسنونیت
486	حدیث کا شوق	474	تسخیر کی سنت
487	شہرت	474	یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا
487	مقبولیت	474	بچے کا سر موٹنا
488	امام مالک <small>رضی اللہ عنہ</small> نے اپنی مسند پر ابن مبارک کو بٹھایا	475	نظر بس آپ <small>ﷺ</small> ہی پر ہے شفیع احمد زین میری
488	سوچنے کی بات	476	ولی ہو کر نبی کا کام کرو
488	خدا کا خوف	476	بد نظری سے تو فتن عمل چھن جاتی ہے
489	دین کی صحیح سمجھ	477	بد نظری سے قوت حافظہ کمزور ہوتی ہے
490	عجیب و غریب حج	477	دل و دماغ کو چوٹ پہنچانے والا قصہ
491	عبادت	478	عورت اذان کیوں نہیں دے سکتی
491	حدیث رسول <small>ﷺ</small> سے محبت	479	بد نظری کے تین بڑے نقصانات
492	امیروں سے بے نیازی	480	بد نظری سے پرہیز کا خاص انعام
493	عاجزی اور تواضع		حضرت عبداللہ بن مبارک <small>رضی اللہ عنہ</small> کی عجیب سوانح عمری
493	خلوق کے ساتھ سلوک	480	حضرت عبداللہ <small>رضی اللہ عنہ</small> کے والد کا قصہ
494	دین کی اشاعت	481	حضرت مبارک کی سنگی
495	جہاد کا شوق	482	مبارک کی شادی
496	تجارت	482	حضرت عبداللہ کی پیدائش
496	تجارت کس لیے	482	وطن
496	انمول موتی	483	ابتدائی زندگی
497	چند شعر	483	اللہ کی رحمت نے عبداللہ کا ہاتھ پکڑا

508	دل کی بیماریاں دور کرنے کا مجرب نسخہ	508	ایک نرالا سورج غروب ہوا تو اس کی روشنی کچھ اور پھیل گئی
508	تمام ضرورتوں کو پورا کیے جانے کا مجرب نسخہ	498	حضرت عبداللہ نے فرمایا
508	عیادت کے وقت بیمار کی شفایابی کی دُعا	498	ایک انگریز جج نے فیصلہ کیا کہ مسلمان ہار گئے
508	رزق میں برکت اور ظاہری و باطنی غنا کا مجرب نسخہ	498	اسلام جیت گیا
508	عمل سورا بھلق حاسد کے حسد سے بچنے کا مجرب نسخہ	499	اپنی بیوی کا دل پیار سے جیتنے تکواری سے نہیں
508	دشمن کے شر سے حفاظت کا مجرب نسخہ	499	اپنا گھونسلہ اپنا کچا ہو یا پکا
508	بیماری سے صحت پانے کا مجرب نسخہ	500	گھر میں عافیت اور سلامتی کا مجرب نسخہ
508	محافظین کے شر سے حفاظت کا مجرب نسخہ	500	زبان کی لغزش پاؤں کی لغزش سے بھی زیادہ
508	خارجی اثرات کو ہٹانے اور قوتوں کے شر سے	500	خطرناک ہوتی ہے
509	حفاظت کا مجرب نسخہ	500	نیک بیویاں اپنے خاوند سے نیکی کے کام کروایا کرتی ہیں
509	برائے تسہیل و قہیل نکاح و رشتہ مناسب	501	بیوی اچھی ہو یا بُری فائدہ ہی فائدہ ہے
509	ہر بیماری سے شفا کے لیے	509	ملاح بولا میں نے تو اپنی آدمی عمر کھوئی مگر تم نے
509	دشمنوں کے شر سے حفاظت اور غلبہ کے لیے	502	تو پوری عمر ڈھوئی
509	کام کی تکمیل اور آسانی کے واسطے	503	دنیا کی عجیب مثال
509	خاص زور	503	سانپ کے بچے وفادار نہیں ہو سکتے
509	بدنیت اصلاح حال و ادائے حقوق	504	بیوی کا پیار والا نام رکھنا سنت ہے، مگر ایسا ویسا نام نہ رکھنا
509	شیطان کی کہانی اس کی زبانی..... آغاز تو اچھا ہے	504	بیوی سے محبت کی باتیں سننے
509	انجام خدا جانے	504	نفس کی ہر خواہش پوری نہیں ہو سکتی
514	دساؤں سے دین کا ضرر بالکل نہیں ہوتا اطمینان رکھئے	505	ایک لالچی کا قصہ
515	مال دار یا مال کے چوکیدار	505	حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حکمت یہودی کے ساتھ
515	دینی زندگی کی مثال قرآن نے پانی سے کیوں دی ہے	516	مصیبت میں تقدیر کا سہارا لینا حضرت آدم علیہ السلام
516	دنیا استغناء سے آتی ہے	516	کی سنت ہے
516	شیطان رشوت نہیں لیتا ہے	507	ایک زمانہ آئے گا کہ قبر کی زمین بھی مہنگی ہو جائے گی
516	وضو کی ترتیب میں سنت کو فرض پر مقدم کیوں کیا	508	تہجد کے وقت مندرجہ ذیل کلمات دس دس مرتبہ پڑھیں
516	بہترین مال وہ ہے جو جیب میں ہو دل میں نہ ہو بدترین		



	بے دین عورت کی زبان وہ تلواری ہے جو بگھی	518	مال وہ ہے جو جیب میں نہ ہو دل میں ہو
525	زنگ آلود نہیں ہوتی	518	میاں بیوی کو شیطان جلدی لڑا دیتا ہے
	سلف صالحین کا معمول اپنی کنواری بیٹیوں	518	شیطان کی شرارت
526	کے بارے میں	518	حسد اور حرص دو خطرناک روحانی بیماریاں ہیں
	مکان تو ہاتھ سے بن جایا کرتے ہیں مگر گھر ہمیشہ	519	شیطان کی چالاکیاں
526	دلوں سے بنا کرتے ہیں		موت کے وقت مریض کے قریب جا کر مت کہو کہ
	ایک مرد سال کا عجیب قصہ..... ہمیشہ با وضو رہے	519	مجھے پہچانتے ہو کہ نہیں
527	روزی میں برکت ہوگی	520	شیطان دو سمتیں بھول گیا اس لیے ہم بچ گئے
527	نعمت کی موجودگی میں نعمت کی قدر کرنا سیکھئے	520	ڈاکٹر موت کے وقت نشے کا انجکشن نہ دے
	کل بن دیکھے سودا تھا اس لیے سستا تھا	520	بیت اللہ جائے اور یہ اشعار پڑھئے
528	قصہ غور سے پڑھیے		آٹھ گھنٹہ کی ڈیوٹی آسان ہے آٹھ منٹ کی تہجد
530	عموں سے نجات کا قرآنی اور نبوی نسخہ	521	مشکل ہے
530	فضیلت		آپ کے دل میں آ گیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں
531	والدین کا حق ادا کرنے کی دعا	521	کا شکر ادا نہیں کر سکتا گویا آپ نے شکر ادا کیا
531	حکمت بھرا کلام		اللہ نے آپ کو بہت مال دیا ہے اس میں دوسروں
531	اور دو چیزوں کو فراموش کر دیا کرو	521	کا بھی حق ہے
532	اور دو چیزوں کو ہمیشہ یاد رکھو	521	بندوں سے اللہ کی ایک شکایت
532	ارشاد ربانی	522	رابعہ بصریہ <small>رضی اللہ عنہا</small> کی نصیحت عجیب انداز میں
532	اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتا ہے	522	نعمتوں کی بقا کا آسان نسخہ
532	جب بالغ ہوئے تو کیا دیکھا	522	اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کیجئے
533	خواتین اسلام سے اسلام کے مطالبے	523	ایک اہم نصیحت
534	خود کی حقیقت	523	درخت نے سری سقطی کو نصیحت کی
	کھانے کا مزاج جدا ہے اسی طرح اعمال کا مزاج	524	تکبر کی سزا دنیا میں جلدی ملتی ہے اللہ حفاظت فرمائے
534	بھی جدا جدا ہے	524	زمانہ جاہلیت میں عورت کا کیا مقام تھا؟
535	ہمیں تلاوت قرآن کا لطف کیوں نہیں آتا	525	اچھی عورت کی کیا صفات ہونی چاہئیں؟

546	انکار عالیہ، اللہ کا ذکر ہر حال میں	535	عجیب عبادتیں
546	امت مسلمہ سے قرآن کی شکایت ہے کہ	536	مناجات
546	عجیب قصہ	539	صحت کا فارمولا
548	آسمانی کتابوں میں صرف قرآن اپنی اصلی صورت پر باقی ہے	540	حمد باری تعالیٰ
548	ناجائز عشق سے دنیا و آخرت تباہ ہو جاتی ہے۔	540	مناجات
548	طاعات کا نور سلب ہو جاتا ہے	541	ہر قسم کی بیماری، مصیبت، تجارتی قرض، دشمنوں سے حفاظت کا نسخہ
549	میرادل صاف ہے، میری نظر پاک ہے یہ جملہ	541	سولہ (۱۶) آیات حفاظت
549	کہنا عام طور سے شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے	542	مرض سے شفا یابی کی دُعا
549	انگوٹھی پر تعویذ لکھنا جائز ہے یا نہیں	542	گھروالوں میں اتفاق پیدا کرنے کا نسخہ
551	پاخانہ جاتے وقت تعویذ والی انگوٹھی نکال لے	542	ممکن نہیں
552	چودہ (۱۴) عیوب عام طور پر ماؤں بہنوں میں پائے جاتے ہیں جن سے بچنا بہت ضروری ہے	543	بھروسہ نہیں
552	وضو کے بچا ہوا پانی اپنے بچے کے چہرے پر پھیرے اور عادت کیجئے	543	مت کھا
553	شادی گھر سامنے کے لیے کی جاتی ہے	543	آتی ہے
553	گھریلو زندگی زوجین کے اتحاد سے علیحدگی سکون بنتی ہے	543	تکلیف کھالے
555	خط کی ابتدا ۷۸۶ سے مت کیجئے	543	قبول کر لے
556	بچوں کو بچوں کیوں کہا گیا	543	نیکی اور شرافت
557	شیطان کے چہ ہتھیار	544	شکایت مت کر
558	پانچ چیزوں میں جلدی بازی جائز ہے	544	منتظر رہے
558	تہجد کے لیے توفیق کی دُعا	544	بہتر ہے
558	لفظ "جناب" کسی زمانے میں گالی ہوتی تھی	544	دور بھاگ
558	ایک عورت کا دل ٹوٹا، روئی، سوئی آپ ﷺ کی زیارت ہو گئی	545	آزمایا جاتا ہے
559		545	ظاہر مت کر
			آٹھ آدمیوں پر تعجب ہے!
			کھانے کی کچھ سنتیں

563	منتخب اشعار	559	منتخب اشعار
	اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرا بندہ سچا ہے تیرا قرضہ		ابوزرینہؓ کا ایمان افروز واقعہ میرا کفن وہ دے
563	میں ادا کیوں کروں گا	559	جس نے حکومت عثمانی میں نوکری نہ کی ہو
563	خوشی کا دین سب سے زیادہ بڑا دین ثابت ہوا	560	ایک عورت کا حسن انتخاب
564	ایک قیمتی بات	561	دو عورتوں کا عجیب واقعہ
564	اللہ نے ایک سوتی کو ہدایت دی	562	ایک عورت نے دیوار کے ساتھ جوانی گزار دی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ○

## (۱) سب سے پہلے نماز فجر حضرت آدم علیہ السلام نے ادا کی

ہم جو فجر کی نماز ادا کرتے ہیں اور اس میں دو رکعتیں فرض پڑھتے ہیں اس کی حکمت یہ ہے کہ فجر کی نماز سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے ادا فرمائی، جس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں اتارا، اس وقت دنیا میں رات چھائی ہوئی تھی، حضرت آدم علیہ السلام جنت کی روشنی سے نکل کر دنیا کی اس تاریک اور اندھیری رات میں دنیا میں تشریف لائے، اس وقت ہاتھ کو ہاتھ بھائی نہیں دیتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بڑی تشویش اور پریشانی لاحق ہوئی کہ یہ دنیا اتنی تاریک ہے، یہاں زندگی کیسے گزرے گی؟ نہ کوئی چیز نظر آتی ہے، نہ جگہ سمجھ میں آتی ہے کہ کہاں ہیں اور کہاں جائیں؟ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ چنانچہ خوف محسوس ہونے لگا، اس کے بعد آہستہ آہستہ روشنی ہونے لگی اور صبح کا نور چمکنے لگا صبح صادق ظاہر ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام کی جان میں جان آئی اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے سورج نکلنے سے پہلے دو رکعتیں بطور شکرانہ ادا فرمائیں۔ ایک رکعت رات کی تاریکی جانے کے شکرانہ میں ادا فرمائی اور ایک رکعت دن کی روشنی نمودار ہونے کے شکرانہ میں ادا فرمائی۔ یہ دو رکعتیں اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حضور اقدس ﷺ کی امت پر فرض فرمادیا (حنبل) اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ فجر کی نماز کتنی اہم ہے۔

## (۲) سب سے پہلے ظہر کی نماز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادا کی

اسی طرح ظہر کی چار رکعت جو ہم ادا کرتے ہیں۔ یہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادا فرمائی تھیں اور اس وقت ادا فرمائی تھیں جس وقت وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے امتحان میں کامیاب ہو گئے تھے۔ ایک رکعت تو اس امتحان میں کامیابی پر شکرانہ کے طور پر ادا فرمائی یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ کی مدد سے میں اس مشکل امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ دوسری رکعت اس بات کے شکرانہ میں ادا فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے عوض میں جنت سے ایک مینڈھا اتار دیا چونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک خصوصی انعام تھا اس لیے اس کے شکرانے کے طور پر دوسری رکعت ادا فرمائی۔

تیسری رکعت اس شکرانے میں ادا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر براہ راست حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا:

﴿وَكَذَٰلِكَ أَنبَأْنَا بَرَاءِ هَيْدُ لَا قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كُنَّا لِكَ نَجْوَى الْمُتَعَبِّينَ ○﴾ (سورہ صافات: ۱۰۵)

ترجمہ: ”یعنی ہم نے آواز دی: اے ابراہیم! بلاشبہ تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکو کاروں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔“

اس خطاب کے شکرانے میں تیسری رکعت ادا فرمائی۔ چوتھی رکعت اس بات کے شکرانے میں ادا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا صابر بیٹا عطا فرمایا، جو اس سخت امتحان کے اندر بھی نہایت صابر اور متحمل رہا اور صبر کا پہاڑ بن گیا۔ اگر وہ حزنزل ہو جاتا تو میرے لیے اللہ کا حکم پورا کرنا دشوار ہو جاتا۔ چنانچہ خواب دیکھنے کے بعد بیٹے ہی سے مشورہ کیا کہ اے بیٹے! میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ تم غور کرو، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ بیٹے نے جواب دیا ”ابا جان! آپ کو جو حکم ملا ہے وہ کر گزریے، عنقریب انشاء اللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔“ ایسا صابر اور متحمل بیٹا ملنے کے شکرانے میں چوتھی رکعت ادا فرمائی۔ اس طرح یہ چار رکعتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ظہر کے وقت بطور شکرانے کے ادا فرمائی تھیں۔ اللہ تعالیٰ کو ایسی پسند آئی کہ سرکارِ دو عالم ﷺ کی امت پر فرض فرمادیں۔ (حنبل)

### (۳) سب سے پہلے عصر کی نماز حضرت یونس نے علیہ السلام ادا فرمائی

نماز عصر کی چار رکعتیں سب سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام نے ادا فرمائیں۔ جس وقت وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے وہاں انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا جس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح نقل فرمایا ہے:

﴿فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ۝ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنَجِّي الْمُؤْمِنِينَ ۝﴾ (سورۃ انبیاء: ۸۷-۸۸)

ترجمہ: ”چنانچہ انہوں نے ہمیں تاریکیوں میں پکارا کہ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی، اور ہم نے ان کو اس گھٹن سے نجات دے دی (جو ان کو مچھلی کے پیٹ میں ہو رہی تھی) اسی طرح ہم ایمانداروں کو نجات دیتے ہیں۔“

چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا تو انہوں نے شکرانے کے طور پر چار رکعت نماز ادا کی، اور چار رکعتیں اس لیے ادا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چار تاریکیوں سے نجات عطا فرمائی تھی، ایک مچھلی کے پیٹ کی تاریکی سے، دوسرے پانی کی تاریکی سے، تیسرے بادل کی تاریکی سے اور چوتھے رات کی تاریکی سے، ان چار تاریکیوں سے نجات کے شکرانے میں عصر کے وقت حضرت یونس علیہ السلام نے چار رکعت نماز ادا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چار رکعت اتنی پسند آئیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ان کو فرض فرمادیا۔ (حباب)

### (۴) سب سے پہلے مغرب کی نماز حضرت داؤد علیہ السلام نے ادا کی

مغرب کی تین رکعتیں سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے ادا فرمائیں، اگرچہ انبیاء علیہم السلام سے گناہ سرزد نہیں ہوتے، وہ گناہوں سے مصوم ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات کوئی نامناسب کام یا کوئی لغزش، یا کوئی خلاف ادب کام بھی ان سے ذرہ برابر سرزد ہو جائے تو اس پر بھی انہیں تنبیہ کی جاتی ہے، اور ان کو توبہ دلانی جاتی ہے، اور ان کی اصلاح کی جاتی ہے۔ بہر حال حضرت داؤد علیہ السلام کی کسی لغزش کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے ان کی بخشش کا اعلان فرمایا کہ ”فَقَعَدْنَا لَهُ ذٰلِكَ“ یعنی ہم نے ان کی مغفرت کر دی تو اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کی بخشش کے شکرانے میں مغرب کے وقت چار رکعت کی نیت باندھی۔ جب تین رکعت ادا فرمائیں تو اس کے بعد آپ پر اپنی لغزش کے احساس کا ایسا غلبہ ہوا کہ آپ پر بے ساختہ گری طاری ہو گیا۔ اور ایسا گریہ ہوا کہ اس کی شدت کی وجہ سے چوتھی رکعت نہ پڑھ سکے۔ چنانچہ تین رکعت ہی پر آپ نے اکتفا فرمایا۔ (بذل الحمود) اور چوتھی رکعت پڑھنے کی ہمت نہ رہی، یہ تین رکعت اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ان کو مغرب کے وقت فرض فرمادیا۔

### (۵) نماز عشاء کی فرضیت

عشاء کے وقت جو چار رکعت ہم ادا کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ سب پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ نماز ادا فرمائی۔ جس وقت آپ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس دس سال قیام کرنے کے بعد اپنے اہل و عیال کے ساتھ مصر واپس تشریف لارہے تھے اور آپ کے گھر میں سے امید سے تھیں۔ ولادت کا وقت قریب تھا۔ اور سفر بھی خاصا طویل تھا۔ اس وجہ سے آپ کو بڑی فکر لاحق تھی کہ یہ اتنا لمبا سفر کیسے پورا ہوگا؟ دوسرے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی فکر تھی، تیسرے فرعون جو آپ کا جانی دشمن تھا، اس کا خوف اور اس کی طرف سے فکر لاحق تھی۔ اور چوتھے ہونے والی اولاد کی فکر لاحق تھی۔ ان چار پریشانیوں کے ساتھ آپ سفر

کر رہے تھے۔ پھر سز کے دوران صبح راستے سے بھی ہٹ گئے۔ جس کی وجہ سے پریشانی میں اور اضافہ ہو گیا، اس پریشانی کے عالم میں چلتے چلتے آپ کو طور کے قریب اس کے مغربی اور دہانی جانب پہنچ گئے۔ رات اندھیری ٹھنڈی اور برقانی تھی، اہلیہ سترمہ کو ولادت کی تکلیف شروع ہو گئی، چھماق پتھر سے آگ نکلی اس حیرانی پر پریشانی کے عالم میں دیکھا کہ کوہ طور پر آگ جل رہی ہے۔ آپ نے اپنے گھر والوں سے کہا آپ یہاں ٹھہریں میں کوہ طور سے آگ کا کوئی شعلہ لے کر آتا ہوں۔ جب کوہ طور پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا۔ اور آپ کو بطور خاص ہم کلامی کی نعمت سے نوازا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ فَلَمَّا آتَاهَا نُورًا بَدَأَ يُنْشِئُ مِنْهَا نُورًا بِأَنَّهُ يُرِيدُ يُؤْتِي الرِّبِّيَّ أَنْكَارَ رَبِّكَ فَاعْلَمْ بِمَا تَعْمَلُ إِنَّكَ بِأَلْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى وَ أَنَا أَعْتَرْتُكَ فَكَسَبْتَهُ لِمَا يُوْطَىٰ ۝﴾ (سورۃ طہ: ۱۱-۱۳)

ترجمہ: ”پھر جب وہ آگ کے پاس پہنچے تو ان کو بجانب اللہ آواز دی گئی کہ اے موسیٰ علیہ السلام میں تمہارا رب ہوں آپ اپنے جوئے اتار دیں۔ اس لیے کہ آپ مقدس وادی طوی میں ہیں۔ اور میں نے آپ کو اپنی رسالت کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ لہذا جو جی آپ کی طرف بھیجی جا رہی ہے۔ اس کو غور سے سنیں۔“

بہر حال جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ انعام حاصل ہوا تو آپ کی چار پریشانیوں کا خاتمہ ہو گیا۔ کسی نے بڑا اچھا شعر کہا ہے:

تو طے تو کوئی مرض نہیں نہ طے تو کوئی دوا نہیں

اس موقع پر عشاء کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان چار پریشانیوں سے نجات کے شکرانے میں چار رکعت نماز ادا فرمائی، یہ چار رکعت اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئیں کہ حضور اقدس ﷺ کی امت پر ان کو فرض کر دیا۔ (حادیہ)

دوسری روایت یہ ہے کہ یہ عشاء کی نماز سب سے پہلے جناب محمد رسول اللہ ﷺ نے ادا فرمائی۔ (بذل الحمد) اس لیے یہ نماز بہت اہم عمل ہے۔ (نماز کی بعض کتابیاں، از حضرت مولانا مفتی عبدالرؤف سکھری)

## (۶) ایک چھیرے کا درد بھرا قصہ..... جیسی کرنی ویسی بھرنی..... ظلم سے بچئے

علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب التزاجر میں لکھا ہے کہ ایک شخص نے کہا میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کا ہاتھ کاٹ دھسے سے کٹا ہوا تھا اور وہ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا ”مجھے دیکھ کر عبرت حاصل کرو، اور کسی پڑھ کر ظلم نہ کرو۔“ میں نے آگے بڑھ کر اس سے پوچھا میرے بھائی تیرا کیا قصہ ہے؟ اس شخص نے جواب دیا بھائی میرا قصہ عجیب و غریب ہے۔ دراصل میں ظلم کرنے والوں کا ساتھ دیا کرتا تھا۔ ایک دن کا ذکر ہے میں نے ایک چھیرے کو دیکھا جس نے کافی بڑی مچھلی پلاز رکھی تھی۔ مچھلی مجھے پسند آئی۔ میں اس کے پاس پہنچا اور کہا مجھے یہ مچھلی دے دو، اس نے جواب دیا میں یہ مچھلی تمہیں نہیں دوں گا کیونکہ اسے فروخت کر کے اسکی قیمت سے مجھے اپنے ہال بچوں کا پیٹ پالنا ہے۔ میں نے اسے مارا پٹا اور اس سے زبردستی سے مچھلی چھین لی اور اپنی راہ لی۔ جس وقت مچھلی کو اٹھائے جا رہا تھا، اچانک مچھلی نے میرے انگوٹھے میں زور سے کاٹ لیا۔ میں مچھلی لے کر گھر آیا اور اسے ایک طرف ڈال دیا۔ اب میرے انگوٹھے میں ٹیس اور درد تھا اور اتنی تکلیف ہونے لگی کہ اس کی شدت سے میری نیند اڑ گئی۔ پھر میرا پورا ہاتھ سوج گیا۔ جب صبح ہوئی تو میں طبیب کے پاس آیا اور اس سے درد کی شکایت کی۔ طبیب نے کہا یہ انگوٹھا سڑنا شروع ہو گیا ہے لہذا بہتر ہے کہ اس کو کٹا دو، ورنہ پورا ہاتھ سڑ جائے گا۔ میں نے انگوٹھا کٹوا کر نکلوا دیا، لیکن اس کے بعد سڑنا ہاتھ میں شروع ہوئی اور درد کی شدت سے میں سخت بے چین ہو گیا اور سونہ سا۔ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ مچھلی کاٹ کر نکلوا دو میں نے ایسا ہی کیا۔ اب درد بڑھ کر پہنچوں تک پہنچ گیا۔ میرا چین اور نیند سب اڑ گئی اور میں درد کی شدت سے رونے اور فریاد کرنے لگا۔ ایک شخص نے مشورہ دیا کہ کہنی سے ہاتھ الگ کر دو۔ میں نے ایسا ہی کیا لیکن اب درد موٹھ سے تک پہنچ گیا اور سڑنا دوا ہاں

تک پہنچی تھی۔ لوگوں نے کہا کہ اب تو پورا ہاتھ موٹھ سے کٹا دینا ہوگا ورنہ تکلیف پورے بدن میں پھیل جائے گی۔ اب لوگ مجھ سے پوچھنے لگے کہ آخر یہ تکلیف تمہیں کیوں کر شروع ہوئی۔ میں نے مچھلی کا قصہ نہیں سنایا۔ انہوں نے کہا اگر تم ابتدا میں مچھلی والے کے پاس جا کر اس سے معافی مانگتے، اسے کہہ سن کر راضی کر لیتے اور کسی صورت میں مچھلی کو اپنے لیے حلال کر لیتے تو تمہارا ہاتھ یوں کاٹا نہ جاتا، اس لیے اب بھی جاؤ اور اس کو ڈھونڈ کر اسے خوش کرو، ورنہ تکلیف پورے بدن میں پھیل جائے گی۔ اس شخص نے کہا میں نے یہ سنا تو مچھلی والے کو پورے شہر میں ڈھونڈنے لگا۔

آخر ایک جگہ اس کو پالیا۔ میں اس کے بیروں پر گر پڑا اور انہیں چوم کر رو کر کہا کہ میرے آقا تمہیں اللہ کا واسطہ مجھے معاف کر دو۔ اس نے مجھ سے پوچھا تم کون ہو؟ میں نے بتایا میں وہ شخص ہوں جس نے تم سے مچھلی چھین لی تھی پھر میں نے اس سے اپنی کہانی بیان کی اور اسے اپنا ہاتھ دکھایا۔ وہ دیکھ کر رو پڑا اور کہا میرے بھائی میں نے اس مچھلی کو تمہارے لیے حلال کیا، کیوں کہ تمہارا حشر میں نے دیکھ لیا۔ میں نے اس سے کہا میرے آقا خدا کا واسطہ دے کر میں تم سے پوچھتا ہوں کہ جب میں نے تمہاری مچھلی چھینی تو تم نے مجھے کوئی بد دعا دی تھی۔ اس شخص نے کہا ہاں میں نے اس وقت یہ دعا مانگی کہ اے اللہ یہ اپنی قوت اور زور کے گھمنڈ میں مجھ پر غالب آیا اور تو نے جو رزق دیا اس نے مجھ سے چھین لیا اور مجھ پر ظلم کیا، اس لیے تو میرے سامنے اس پر زور کا کرشمہ دکھا۔ میں نے اسے کہا میرے مالک اللہ نے اپنا زور تمہیں دکھا دیا۔ اب میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ کسی ظالم کی مدد ہرگز نہیں کروں گا۔ نہ کبھی خود ظلم کروں گا۔ نہ ان کے دروازہ پر کبھی جاؤں گا اور انشاء اللہ جب تک زندہ رہوں گا اپنے وعدے پر قائم رہوں گا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے۔

لَا تَظْلِمَنَّ الْإِمَامَ كُفْتًا مُّقْتَدِرًا فَالظُّلْمُ تُرْجَعُ عَلَيْهِ إِلَى النَّبِيِّ

ترجمہ: ”جب تمہیں اقتدار حاصل ہے، کسی پر ہرگز ظلم نہ کرو کیونکہ ظلم کا انجام ندامت اور شرمندگی ہے۔“

تَنَامُ عَيْنَاكَ وَالْمَظْلُومُ مُنْتَبِهٌ يَدْعُوا عَلَيْكَ وَعَيْنُ اللَّهِ لَمْ تَنَمْ

ترجمہ: ”تیری دونوں آنکھیں سوتی ہیں اور مظلوم جاگتا ہے اور تجھے بد دعائیں دیتا ہے اور اللہ کی آنکھ کبھی نہیں سوتی۔“

إِنَّمَا الظُّلْمُ اسْتَوْطَأَ الدُّخَانَ مَرِكِبًا وَكَذَبُوا فِي قُبُورِهِمُ الْجَسَابِ

ترجمہ: ”جب ظالم سوار ہو کر دھرتی کا سینہ روندتا ہے اور ہر کرتوت میں حد سے گزر جاتا ہے۔“

فَكَيْفَ إِلَهِي صَرَفِي الزَّمَانَ فَإِنَّهُ سَيُّدِي لَهُ مَا لَمْ يَكُنْ فِي حِسَابِهِ

ترجمہ: ”تب تم اسے زمانے کی گردش کے حوالے کر دو، کیونکہ زمانہ اس کے سامنے وہ چیز کھول کر رکھ دے گا جو اس کے وہم و

گمان میں بھی نہ ہوگی۔“ (معاشرے کی مہلک بیماریاں: صفحہ ۱۷۶)

## (۷) اللہ کے حکم سے مومنین کے دلوں سے تمام غموں کو نکال دینے والا عجیب فرشتہ

حضرت مروہ بن رومی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے بہت بوزے ہو گئے تھے اور چاہتے تھے کہ انہیں موت آجائے اس لیے یہ دعا کیا کرتے تھے۔ اے اللہ! میری عمر بڑی ہوگئی اور میری ہڈیاں پتلی اور کمزور ہو گئیں لہذا مجھے اپنے پاس اٹھالے۔ حضرت عرباض رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں دمشق کی مسجد میں تھا وہاں مجھے ایک نوجوان نظر آیا جو بہت حسین و جمیل تھا اس نے سبز جوڑا پہنا ہوا تھا اس نے کہا آپ یہ کیا دعا کرتے ہیں؟ میں نے اس سے کہا اے میرے بھتیجے! پھر میں کیا دعا کروں؟ اس نے کہا یہ دعا کریں اے اللہ عمل اچھے کر دے اور مجھے موت تک پہنچا دے۔ میں نے کہا اللہ تم پر رحم کرے تم کون ہو؟ اس نے کہا میں ربیعہ بن کلاب (وہ فرشتہ) ہوں جو مومنوں کے دلوں سے تمام غم نکالتا ہے۔ (حیاء الصحاب: جلد ۳ صفحہ ۲۰۸)

## (۸) بعض وحشی جانوروں کا آنحضرت ﷺ کی عزت کرنا

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے گھر میں ایک جنگلی جانور تھا جب آپ ﷺ کو دیکھا ہر جاتے تو ادھر ادھر دوڑتا اور کھلاڑیاں کرتا اور جہاں آپ ﷺ کی تشریف آوری کی آہٹ محسوس کرتا بس فوراً ایک گوشہ میں دیک کر بیٹھ جاتا اور ذرا آواز نہ نکالتا اس خیال سے کہ مبادا آپ ﷺ کو تکلیف ہو۔ (مسند احمد، ابویعلیٰ، البدایہ والنہایہ ترجمان السنہ: جلد ۴ ص ۱۵۰)

فائدہ: جہاں تک الفاظ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وحشی جانور ہرن تھا۔ جس میں تربیت کا اثر بہت کم ہوتا ہے ہاں بعض اور حیوانات ایسے ہیں جن میں تدریب و تربیت سے کچھ نہ کچھ تہذیب کی حرکات پیدا ہو جاتی ہیں مگر یہ ظاہر ہے کہ اس وقت عرب میں بالعموم ہرن کی تربیت و تہذیب کرنے کی عادت نہ تھی بالخصوص بیت نبوت میں حیوانات کی تربیت کا کیا تصور کیا جاسکتا ہے پر جو جانور گھروں میں گھل مل جاتے ہیں وہ عام طور پر اپنے مالک کو دیکھ کر خوشی میں کودنے اچھلنے لگتے ہیں مگر یہاں صورت اس کے برعکس تھی، یعنی جب آپ ﷺ کو دیکھا ہر تشریف لے جاتے تو وہ کودتا اچھلتا اور جب وہ آپ ﷺ کو دیکھ لیتا بس فوراً خاموش ہو کر ایک گوشہ میں جا بیٹھتا۔

(ترجمان السنہ: جلد ۴ ص ۱۵۰)

## (۹) حاکم کے شر سے بچنے کا مجرب نسخہ

اگر کسی شخص کو کسی حاکم، بادشاہ یا کسی سے بھی شر کا خطرہ ہو یا یہ سمجھے کہ اگر میں اس کے پاس جاؤں گا تو میری جان خطرے میں پڑ جائے گی تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ ڈر اور شر سے بچنے کے لیے یہ عمل کرے۔ عمل یہ ہے کہ ایسے شخص کے پاس جانے سے پہلے یہ کلمات پڑھے: "كَلِمَاتٍ، حَمْدٌ، عَسَقٌ" پھر ان تینوں کلمات کے دس حرفوں کو اس طرح شمار کرے کہ دائیں ہاتھ کے انگوٹھے سے شروع کرے اور بائیں ہاتھ کے انگوٹھے پر ختم کر دے۔ جب اس ترکیب سے شمار کر لے تو دونوں ہاتھ کی مٹھیاں بند کر لے اور دل میں سورہ فیل پڑھے۔ جب "تَرْمِيهٌ" پر پہنچے تو اس لفظ "تَرْمِيهٌ" کو دس مرتبہ پڑھے اور ہر مرتبہ ایک انگلی کھول جائے۔

## (۱۰) مندرجہ ذیل آیات سیکھنے دل و دماغ کے سکون کے لیے پڑھ کر دم کریں

- ① ﴿وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾ (سورہ بقرہ: ۲۴۷)
- ② ﴿إِنزِلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ﴾ (سورہ توبہ: ۲۶)
- ③ ﴿فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ عَلِيمٌ﴾ (سورہ توبہ: ۳۰)
- ④ ﴿هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيُذْكَرُوا بَأِيمَانًا مَّعَ إِيمَانِهِمْ ۗ وَاللَّهُ جُنُودُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ (سورہ فتح: ۳)
- ⑤ ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايَعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا﴾ (سورہ فتح: ۱۷)
- ⑥ ﴿وَإِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ



مَهْدُ كَلِمَةِ النَّبِيِّ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٢٧﴾ (سورہ فتح: ۲۷)

### (۱۱) دل رو رہا ہے میرا مگر آنکھ تر نہیں

اس راز کی کسی کو بھی مطلق خبر نہیں  
غیروں پہ تیری جاتی ہے کس واسطے نظر  
جب میں ہوں انکے ذکر کی دولت سے مالا مال  
تسکین خود وہ آکے مجھے دے رہے ہیں آج  
ہم ہیں مریض عشق نہ ہوگی ہمیں شفا  
الفت میں ان کی عقلوں کو جس نے بہلا دیا  
احمد کس کے عشق میں دیوانہ ہو گیا  
دل رو رہا ہے میرا مگر آنکھ تر نہیں  
واللہ ان کے ہاتھ میں مطیع و ضرر نہیں  
کیوں غم ہو جو اپنے پاس لعل و گوہر نہیں  
صد شکر ہے آہ میری بے اثر نہیں  
تدبیر تیرے بس میں کوئی چارہ گر نہیں  
دونوں جہاں میں پھر اسے خوف و خطر نہیں  
وہ بے خبر بھی ہو کر مگر بے خبر نہیں

### (۱۲) تیری رحمت تو ہر ایک پر عام ہے

جب سے ہونٹوں پہ یارب تیرا نام ہے تیرے پیار کو کافی آرام ہے  
تو نے بخشا ہمیں نورِ اسلام ہے ہم پہ تیرا حقیقی یہ انعام ہے  
جس کو تیری خدائی سے انکار ہے بادشاہت میں رو کر بھی ناکام ہے  
رولتا ہے زمانہ اگر روٹھ جائے راضی کرنا تجھے بس میرا کام ہے  
آسمانوں کی دنیا میں ہے محترم تیری خاطر جو دنیا میں بدنام ہے  
اپنے منکر کو بھی رزق دینا ہے تیری رحمت تو ہر ایک پر عام ہے  
ہاں قدم کا اٹھانا میرا کام ہے پار بڑا لگانا تیرا کام ہے

### (۱۳) اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ کا جملہ اس امت کی خصوصیت ہے اور اس کے بہت سے فضائل ہیں

مندرجہ ذیل احادیث غور سے پڑھے:

① حضرت سعد بن جبیر فرماتے ہیں: اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھنے کی ہدایت صرف اس امت کو کی گئی ہے اس نعت سے پہلی  
اتیس مع اپنے نبیوں سے محروم تھیں۔ دیکھیے حضرت یعقوب علیہ السلام بھی ایسے موقع پر اِنَّا لِلّٰهِ عَلٰی بُرُؤْفَاکَ رَبِّیْ کہتے ہیں۔ آپ کی  
آنکھیں جانی رہی تھیں غم نے آپ کو نابینا کر دیا تھا اور زبان خاموش تھی۔ مخلوق میں سے کسی سے شکایت و شکوہ نہیں کرتے تھے۔ غمگین  
رہا کرتے تھے۔ (تفسیر ابن کثیر جلد ۳ صفحہ ۱۰۰، فی تفسیر قولہ تعالیٰ اِنَّا لِلّٰهِ عَلٰی بُرُؤْفَاکَ رَبِّیْ)

② ایک مرتبہ جناب رسول اللہ ﷺ کے نعل مبارک کا تسمہ ٹوٹ گیا آپ نے اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض  
کیا یا رسول اللہ! یہ بھی مصیبت ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ مومن کو جو امر ناگوار پہنچتا ہے وہی مصیبت ہے۔ اس حدیث کو طبرانی  
نے ابوامامہ سے روایت کیا ہے۔

③ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول ﷺ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کی جوتی کا تسمہ ٹوٹ جایا کرے تو اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا  
اِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا کرو۔ کیونکہ یہ بھی مصیبت ہے۔ (تفسیر مظہری جلد ۲۶۶، تحت قولہ تعالیٰ اِنَّا لِلّٰهِ عَلٰی بُرُؤْفَاکَ رَبِّیْ)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے مصیبت کے وقت **إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ** پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس کی حلائی فرمادیں گے اور اس کی آخرت اچھی کر دیں گے اور اسے ضائع شدہ چیز کے بدلے اچھی چیز عطا فرمائیں گے۔ (درمشورہ بحوالہ ابن ابی عمیر تحت قولہ تعالیٰ: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَوْتُوا حَتَّىٰ تَسْمِعُوا أَوْحَايَٰكُمْ**)

مسند احمد میں ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میرے خاوند ابوسلمہ رضی اللہ عنہ ایک روز میرے پاس حضور ﷺ کی خدمت سے ہو کر آئے اور خوشی خوشی فرمانے لگے، آج تو میں نے ایسی حدیث سنی ہے کہ میں بہت خوش ہوا ہوں وہ حدیث یہ ہے کہ جس کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے اور وہ کہے: **“اللَّهُمَّ أَجِدْنِي فِي مَصِيبَتِي وَكُلِّفْ لِي عَمْرًا مَقْتَلًا”** یعنی خدایا مجھے اس مصیبت میں اجر دے اور مجھے اس سے بہتر بدلہ عطا فرما تو اللہ تعالیٰ اسے اجر اور بدلہ ضرور ہی دیتا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے اس دعا کو یاد کر لیا۔ جب حضرت ابوسلمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو میں نے **إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ** پڑھ کر پھر یہ دعا بھی پڑھ لی لیکن مجھے خیال آیا کہ بھلا ابوسلمہ رضی اللہ عنہ سے بہتر شخص مجھے کون مل سکتا ہے؟ جب میری عدت گزر چکی تو میں ایک روز ایک کھال کو دو باغٹ دے رہی تھی تو آنحضرت ﷺ تشریف لائے اور اندر آنے کی اجازت چاہی، میں نے اپنے ہاتھ دھو ڈالے، کھال رکھ دی۔ اور حضور ﷺ سے اندر تشریف لانے کی درخواست کی اور آپ ﷺ کو ایک گدی پر بٹھا دیا، آپ ﷺ نے مجھ سے اپنا نکاح کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ میں نے کہا حضور ﷺ یہ تو میری خوش قسمتی کی بات ہے لیکن اول تو میں بڑی باغیرت عورت ہوں، ایسا نہ ہو کہ حضور ﷺ کی طبیعت کے خلاف کوئی بات مجھ سے سرزد ہو جائے اور خدا کے یہاں عذاب ہو، دوسرے یہ کہ میں عمر رسیدہ ہوں، تیسرے بال بچوں والی ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا سنو، ایسی بیباغیرت اللہ تعالیٰ دور کر دے گا اور عمر میں میں بھی کچھ چھوٹی عمر کا نہیں اور تمہارے بال بچے میرے ہی بال بچے ہیں۔ میں نے یہ سن کر کہا پھر حضور ﷺ مجھے کوئی عذر نہیں۔ چنانچہ میرا نکاح اللہ کے نبی ﷺ سے ہو گیا اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے میرے میاں سے بہت ہی بہتر یعنی اپنا رسول ﷺ عطا فرمایا۔ **فَالْحَمْدُ لِلّٰهِ**

مسند احمد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس کسی مسلمان کو کوئی رنج و مصیبت پہنچے اس پر گویا وہ وقت گزر جائے پھر اسے یاد آئے اور وہ **إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ** پڑھے تو مصیبت پر صبر کے وقت جو اجر ملا تھا وہی اب بھی ملے گا۔

ابن ماجہ میں ہے کہ حضرت ابوسنان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے ایک بچے کو دفن کیا اچھی میں اس کی قبر میں سے نکلا تھا کہ ابوطمہ خولانی نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے نکالا اور کہا سنو! میں تمہیں خوش خبری سناؤں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملک الموت سے دریافت فرماتا ہے کہ تو نے میرے بندے کی آنکھوں کی خشک اور اس کے کلیجہ کا کھڑا چھین لیا، بتلا اس نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں خدایا تیری تعریف کی اور **إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ** پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس کا نام **بَيْتُ الْعَمْدِ** رکھو۔ (تفسیر ابن کثیر جلد ۲، ص ۲۸۸، تفسیر **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَوْتُوا حَتَّىٰ تَسْمِعُوا أَوْحَايَٰكُمْ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ**)

### (۱۴) اولاد سے گناہ و خطا ہو جائے تو قطع تعلق کے بجائے ان کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے

برادران یوسف علیہم السلام سے جو خطا اس سے پہلے سرزد ہوئی وہ بہت سے کبیرہ اور شدید گناہوں پر مشتمل تھی مثلاً اول جموت بول کر والد کو اس پر آمادہ کرنا کہ یوسف علیہم السلام کو ان کے ساتھ تفریح کے لیے بھیج دیں۔ دوسرے والد سے عہد کر کے اس کی خلاف ورزی، تیسرے چھوٹے معصوم بھائی سے بے رحمی اور شدت کا برتاؤ۔ چوتھے ضعیف والد کی انتہائی دل آزاری کی پروا نہ کرنا۔ پانچویں ایک بے گناہ انسان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنانا۔ چھٹے ایک آزاد انسان کو جبراً اور ظلماً فروخت کرنا، یہ ایسے انتہائی اور شدید جرائم تھے کہ جب یعقوب علیہم السلام پر یہ واضح ہو گیا کہ انہوں نے جموت بولا ہے اور دیدہ دانستہ یوسف علیہم السلام کو ضائع کیا ہے تو اس کا متعفی بظاہر یہ تھا کہ وہ ان

صاحبزادوں سے قطع تعلق کر لیتے ہیں یا ان کو نکال دیتے، مگر حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا بلکہ وہ بدستور والد کی خدمت میں رہے، یہاں تک کہ انہیں مصر سے غلہ لانے کے لیے بھیجا اور اس پر مزید یہ کہ دوبارہ پھر ان کے چھوٹے بھائی کے متعلق والد سے عرض معروض کرنے کا موقع ملا اور بالآخر ان کی بات مان کر چھوٹے صاحبزادے کو بھی ان کے حوالے کر دیا، اس سے معلوم ہوا کہ اگر اولاد سے کوئی گناہ و خطا سرزد ہو جائے تو باپ کو چاہیے کہ تربیت کر کے ان کی اصلاح کی فکر کرے، اور جب تک اصلاح کی امید ہو قطع تعلق نہ کرے۔ جیسا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور بالآخر وہ سب اپنی خطاؤں پر نادم اور گناہوں سے تائب ہوئے ہاں اگر اصلاح سے مایوسی ہو جائے اور ان کے ساتھ تعلق قائم رکھنے میں دوسروں کے دین کا ضرر محسوس ہو تو پھر قطع تعلق کر لینا مناسب ہے۔ (معارف القرآن: جلد ۱۰ صفحہ ۱۰۲)

### (۱۵) رات کے وقت گھر میں سورہ واقعہ پڑھ لیجئے فاقہ نہیں آئے گا

حضرت ابو ظہیرؓ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہؓ مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو حضرت عثمان بن عفانؓ ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے اور فرمایا آپ کو کیا شکایت ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے کہا اپنے گناہوں کی شکایت ہے۔ حضرت عثمان نے فرمایا: آپ کیا چاہتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے ارشاد فرمایا میں اپنے رب کی رحمت چاہتا ہوں۔ حضرت عثمانؓ نے فرمایا کہ میں آپ کے لیے طیب کونہ بلا لاؤں؟ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے کہا طیب ہی نے (یعنی اللہ ہی نے) تو مجھے بیمار کیا ہے۔ حضرت عثمانؓ نے کہا کیا میں آپ کے لیے بیت المال سے عطیہ نہ مقرر کروں؟ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ حضرت عثمانؓ نے فرمایا وہ عطیہ آپ کے بعد آپ کی بیٹیوں کو مل جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے کہا کیا آپ کو میری بیٹیوں پر فاقہ کا ڈر ہے؟ میں نے اپنی بیٹیوں کو کہہ رکھا ہے کہ جو شخص ہرزات میں سورہ واقعہ پڑھے گا اس پر کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ (لہذا عطیہ کی ضرورت نہیں) (حیاء الصحابہ: جلد ۲ صفحہ ۷۷)

### (۱۶) خدا کی خصوصی قدرت کا مظاہرہ ایک بچہ کا گہوارہ میں بولنا

حضرت ابو ہریرہؓ بیان فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا گود کے بچوں میں سے صرف تین ہی بچے بولے ہیں۔ ایک تو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اور ایک جرتج عابد والا لڑکا ہے۔ قصہ یہ ہوا کہ جرتج ایک عابد شخص تھا۔ اس نے اپنی عبادت کے لیے ایک کوٹھڑی بنا رکھی تھی۔ وہ ایک دن اس میں عبادت کر رہا تھا کہ اس کی ماں اس کے پاس آئی اس نے پکارا اے جرتج! جرتج نے خیال کیا، کیا کروں اے اللہ! ادھر خدا کی نماز کا لحاظ، ادھر ماں کا لحاظ۔ پھر نماز ہی کو ترجیح دی اور اسی میں لگا رہا۔ ماں واپس چلی گئی۔ دوسرا دن ہوا تو ماں پھر اس کے پاس آئی اور وہ اس وقت بھی نماز پڑھ رہا تھا۔ اس نے پکارا اے جرتج! اس نے دل میں سوچا یا اللہ! کیا کروں، ادھر ماں ادھر نماز پھر نماز میں ہی لگا رہا، ماں کے بلانے پر نہیں گیا پھر تیسرے دن ماں آئی اور اس نے پکارا اے جرتج! اس نے دل میں سوچا اے اللہ! ادھر ماں ادھر نماز کیا کروں؟ پھر بھی نماز ہی کی طرف متوجہ رہ گیا بس ماں نے جھنجھلا کر بددعا کی اے اللہ! اس کو اس وقت تک موت نہ آئے جب تک کہ اس کو پہلے فاحشہ عورتوں سے پالانہ پڑے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل میں جرتج کی عبادت اور زہد کا شہرہ اڑنے لگا۔ ایک بدکار عورت تھی جس کا حسن و جمال ضرب المثل تھا۔ اس نے بنی اسرائیل سے کہا اگر تم کہو تو میں جا کر اسے لہاؤں۔ یہ کہہ کر وہ ایک دن اس کے پاس آئی۔ جرتج نے اس کی طرف نظر تک نہ اٹھائی، وہ فاحشہ عورت کھسیا کر جذبہ انتقام میں بھر گئی اور ایک گڈریئے کے پاس گئی جو اسی عبادت خانے میں سویا کرتا تھا اور اس گڈریئے کو اپنے اوپر قابو دے دیا اور اس کے ساتھ منہ کالا کیا۔ اس سے حمل ٹھہر گیا۔ جب اس نے بچہ جنا تو اس نے جرتج سے انتقام لینے کے لیے مشہور کیا کہ یہ لڑکا جرتج سے ہوا ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ لوگ جرتج پر ٹوٹ پڑے اس کو عبادت خانے سے نیچے گھسیٹ لائے، اس کا عبات خانہ ڈھا دیا اور لگے اسے مارنے (کہ عابد بن کر حرام کاری کرتا ہے) جرتج نے پوچھا

بتاؤ تو مجھے کیوں مار رہے ہو؟ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ تو نے اس فاحشہ کے ساتھ زنا کیا اور اس نے تیرے نطفہ کا بچہ جتا ہے۔ جرتج نے کہا اچھا تو وہ بچہ کہاں ہے؟ لوگ وہ بچہ لے کر آئے۔ اس نے کہا ذرا مجھے نماز پڑھ لینے دو۔ اجازت ملی۔ اس نے نماز پڑھی پھر وہ جرتج اس بچہ کی طرف متوجہ ہوا اور اس بچے کے پیٹ میں انگلی چھو کر بولا اے بچے! تو سچ سچ بتا تیرا باپ کون ہے؟ تو وہ چند دن کا بچہ قدرت خدا سے بولا کہ فلاں گذریا۔ یہ کرامت دیکھ کر اب وہی لوگ جرتج کے ہاتھ پاؤں چومنے لگے اور اسے تبرک بنا کر چھونے لگے۔ کہنے لگے اب ہم تمہارا عبادت خانہ سونے کا بنائے دیتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں یہ سب رہنے دو جیسا وہ مٹی کا پہلے تھا ویسا بنا دو تو لوگوں نے ویسا ہی بنا دیا۔ (بخاری و مسلم بحوالہ ترجمان السنۃ جلد ۲ صفحہ ۳۵۵)

### ﴿۱۷﴾ خدا کی خصوصی قدرت کا مظاہرہ ایک اور بچہ کا گہوارہ میں بولنا

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما حضور ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بچہ اپنی ماں کی گود میں دودھ پی رہا تھا کہ سامنے سے ایک سوار عمدہ گھوڑے پر اچھے لباس اور اچھی شکل و صورت والا گزرا۔ ماں نے دعا کی کہ یا اللہ میرے بچہ کو اسی سوار جیسا شاندار بنانا۔ بچہ نے ماں کا پستان چھوڑ کر اس سوار پر ایک نظر ڈالی اور صاف الفاظ میں کہا نہیں اے اللہ مجھے اس سوار جیسا مت بنانا یہ کہہ کر پھر پستان چومنے اور دودھ پینے لگا۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ قصہ سناتے وقت آنحضرت ﷺ نے اپنی شہادت کی انگلی (سبابہ) جس طرح اپنے دہن مبارک میں ڈالی اور بچہ کے دودھ پینے کو بتانے کے لیے جس طرح خود اس انگلی کو چوسا وہ منظر اس وقت تک میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ پھر حضور ﷺ نے بقیہ قصہ سنایا کہ تھوڑی دیر بعد کچھ لوگ ایک لڑکی کو پکڑے ہوئے اور اسے مارتے ہوئے سامنے سے گزرے اور کہہ رہے تھے کہ کجخت تو نے زنا کیا اور چوری کی اور وہ بیچاری کہے جا رہی تھی کہ بس میرا سہارا اللہ ہی ہے اور وہ کیسا اچھا کام بنانے والا ہے۔ ماں نے یہ ذلت کا منظر دیکھ کر شفقت سے بچہ کے لیے دعا کی کہ اے اللہ میرے بچہ کو اس لڑکی (لڑکی) کی طرح نہ بنانا۔ بچہ نے پھر دودھ چھوڑ کر ایک نظر اس لڑکی پر ڈالی اور صاف صاف کہا کہ اے اللہ مجھے اسی جیسا بنائے گا۔ اس پر ماں بیٹوں میں حجت ہونے لگی۔ ماں بولی جب ایک آدمی اچھی حالت میں گزرا تو میں نے تیرے لیے دعا کی کہ یا اللہ میرے بچہ کو ایسا شاندار بنانا تو اس پر تو یوں کہنے لگا کہ نہیں یا اللہ مجھے ایسا نہ بنانا اور اب جو لوگ ایک لڑکی کو ذلت کے ساتھ پکڑے مارتے ہوئے جا رہے ہیں اور میں نے یہ دعا کی کہ یا اللہ میرے بچہ کو ایسا نہ بنانا تو تو یوں کہنے لگا کہ اے اللہ مجھے ایسا ہی بنانا یہ کیا بے عقلی ہے؟ تب وہ بچہ پھر بولا سنو بات یہ ہے کہ وہ آدمی بڑا ظالم جا رہا تھا تو میں نے کہا اے خدا مجھے اس کی طرح ظالم جا رہا نہ بنائے گا اور بے چاری یہ لڑکی! لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ تو نے زنا بھی کیا ہے تو نے چوری بھی کی ہے مگر اس بیچاری نے نہ چوری کی ہے نہ زنا کیا ہے تو میں نے کہا اے اللہ مجھے ایسا ہی مظلوم بے گناہ بنائے گا۔

(بخاری و مسلم بحوالہ ترجمان السنۃ جلد ۲ صفحہ ۳۵۷)

### ﴿۱۸﴾ انیس (19) اہم نصیحتیں

- ① محنت سے گھبرانے والے کبھی ترقی نہیں کرتے۔ ② وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو حقیقت کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں۔
- ③ محنت مزدوری کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ ④ حقیقی کامیابی اپنی قربانیوں سے حاصل ہوتی ہے۔
- ⑤ وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ ⑥ اپنے وطن کو جان سے عزیز رکھو اور ہر وقت اپنے ہم وطنوں کی خدمت میں لگے رہو۔
- ⑦ کوئی ملک اس وقت تک غلام نہیں ہو سکتا جب تک اس کے اپنے لوگ خداری نہ کریں کیونکہ اکیلا لوہا جھگول سے ایک لکڑی نہیں کاٹ سکتا
- ⑧ جب تک لکڑی اس سے مل کر کلباڑی نہ بنے۔ ⑨ زبان ایک ایسا درندہ ہے کہ اگر اسے کھلا چھوڑ دیا جائے تو پھاڑ کھائے۔
- ⑩ نیک عمل کرو تمہاری عمر میں برکت ہوگی۔

۱۵) جس گھر میں تعلیم یافتہ نیک ماں ہوتی ہے وہ گھر تہذیب اور انسانیت کی یونیورسٹی ہے۔

۱۶) انسانوں میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔

۱۷) دنیا کی عزت مال سے ہے اور آخرت کی عزت اعمال سے ہے۔ ۱۸) خوش کلامی ایک ایسا پھول ہے جو کبھی نہیں مرجھاتا۔

۱۹) خوش رہنا چاہتے ہو تو دوسروں کو خوش رکھو۔ ۲۰) اپنا انداز گفتگو نرم رکھو، کیونکہ لہجہ کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔

۲۱) کسی سے بدلہ لینے میں جلدی نہ کرو اور کسی سے نیکی کرنے میں تاخیر نہ کرو۔

۲۲) انسان کے اچھے اعمال ہی اسے احسان عطا کرتے ہیں۔

۲۳) قیامت کے دن میزان عمل میں سب سے زیادہ وزن دار چیز جو رکھی جائے گی وہ اچھے اخلاق ہوں گے۔

۲۴) دن بروزہ رکھنے اور رات بھر عبادت کرنے سے انسان جو مرتبہ حاصل کرتا ہے وہی درجہ وہ اچھے اخلاق سے حاصل کر لیتا ہے۔

### ﴿۱۹﴾ گنہگار قابلِ رحم ہیں نہ کہ قابلِ حقارت

﴿إِنَّ عِيسَىٰ بْنِ مَرْيَمَ كَانَ يَقُولُ لَا تُكْفِرُوا الْكَلِمَةَ بغيرِ ذِكْرِ اللَّهِ فَتَقْسُوا قُلُوبَكُمْ فَإِنَّ الْقَلْبَ الْعَالِيَّ يَبْعِدُ مِنَ اللَّهِ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ وَلَا تَنْظُرُونَ فِي ذُنُوبِ النَّاسِ كَأَنْتُمْ عَمِيدٌ فَإِنَّمَا النَّاسُ مَبْتَلَايَ وَمَعَافَى فَارْحَمُوا عَلَىٰ هَذِهِ الْبَلَاءِ وَأَحْمَدُوا اللَّهَ عَلَى الْعَافِيَةِ﴾:

حضور اکرم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوا دوسرے کلام کی کثرت نہ کرو ورنہ اس سے تمہارے دل سخت ہو جائیں گے اور قلب قاسی اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہو جاتا ہے لیکن چونکہ (یہ قرب اور بعد ایک امر معنوی ہے اس لیے) تمہیں اس کا علم بھی نہ ہوگا اور لوگوں کے (یعنی اہل ذنوب کے) گناہوں کو اس طرح نہ دیکھو گویا تم ہی خدا ہو (یعنی اس طرح نظر نہ کرو جس کا غشاء کبر و تحقیر ہو) اپنے گناہوں کو اس طرح دیکھو گویا کہ تم بندے خطا دار ہو (اور یہ) اس لیے کہ لوگ مبتلا (معا صی بھی) ہیں اور اہل عافیت بھی (یعنی اہل طاعت و حفاظت بھی) پس تم کو چاہیے کہ اہل اہلایہ پر رحم کرو اور اپنی عافیت پر اللہ تعالیٰ کی حمد کرو۔ (صحیح الفوائد: جلد ۲ صفحہ ۲۷۸)

### ﴿۲۰﴾ حضرت علیہ بن زید رضی اللہ عنہ نے اپنی آبرو کا عجیب صدقہ کیا

حضرت علیہ بن زید رضی اللہ عنہ کا حضور ﷺ کے ساتھ جانے کا کوئی انعام نہ ہو سکا تو رات کو نکلے اور کافی دیر تک رات میں نماز پڑھتے رہے۔ پھر رو پڑے اور عرض کیا اے اللہ! آپ نے جہاد میں جانے کا حکم دیا ہے اور اس کی ترغیب دی ہے پھر آپ نے نہ مجھے اتنا دیا کہ میں اس سے جہاد میں جاسکوں اور نہ اپنے رسول کو سواری دی جو مجھے (جہاد میں جانے کے لیے) دے دیتے۔ لہذا کسی بھی مسلمان نے مال یا جان یا عزت کے بارے میں مجھ پر ظلم کیا ہو وہ معاف کر دیتا ہوں اور اس معاف کرنے کا اجر و ثواب تمام مسلمانوں کو صدقہ کر دیتا ہوں۔ اور پھر یہ صبح لوگوں میں جا ملے۔ حضور ﷺ نے فرمایا آج رات کو صدقہ کرنے والا کہاں ہے؟ تو کوئی نہ کھڑا ہوا۔ آپ نے دوبارہ فرمایا صدقہ کرنے والا کہاں ہے؟ کھڑا ہو جائے۔ چنانچہ حضرت علیہ رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر حضور ﷺ کو اپنا سارا واقعہ سنایا۔ حضور ﷺ نے فرمایا تمہیں خوشخبری ہو اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے تمہارا یہ صدقہ مقبول خیرات میں لکھا گیا ہے۔

حضرت ابو عیسٰ بن جبر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت علیہ بن زید رضی اللہ عنہ حضور ﷺ کے صحابہ میں سے ہیں۔ جب حضور ﷺ نے صدقہ کرنے کی ترغیب دی تو ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق جو اس کے پاس تھا وہ لانے لگا۔ حضرت علیہ بن زید رضی اللہ عنہ نے کہا اے

اللہ! میرے پاس صدقہ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اے اللہ! تیری مخلوق میں سے جس نے بھی میرے آبروریزی کی ہے میں اسے صدقہ کرتا ہوں (یعنی اسے معاف کرتا ہوں) حضور ﷺ نے ایک منادی کو حکم دیا جس نے یہ اعلان کیا کہ کہاں ہے وہ آدمی جس نے گزشتہ رات اپنی آبرو کا صدقہ کیا؟ اس پر حضرت علیہ السلام کھڑے ہوئے حضور ﷺ نے فرمایا تمہارا صدقہ قبول ہو گیا۔

(حیاء الصحابہ: جلد ۱ صفحہ ۵۸۲)

## (۲۱) مسلمانوں کی پستی کے اسباب

جیسے جیسے دنیا ترقی کرتی جا رہی ہے ویسے ہی اخلاقی قدروں کا معیار گرتا جا رہا ہے۔ جس طرح آج کا انسان تہذیب و تمدن کی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہا ہے اس سے خطرہ یہ ہے کہ معاشرہ تباہی و بربادی کی گہری کھائی میں گر جائے گا۔ جس طرف بھی نگاہ دوڑائے تو شرافت و اخلاق کا جنازہ نکلا جا رہا ہے۔ فیشن کے نام پر عریانیت کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ تعلیم کے حصول کو مشکل سے مشکل بنانے کی سعی کی جا رہی ہے۔ عشرت گاہوں کو آباد کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ ان کی عبادت گاہوں کو نذر آتش کیا جا رہا ہے۔ ہماری ماؤں اور بہنوں کی عصمتوں کو تار تار کیا جا رہا ہے۔ آخر کیوں؟ کیا مسلمانوں کے اندر طاقت کا ذخیرہ ختم ہو گیا ہے؟ کیا مسلمان صرف نام کا مسلمان رہ گیا ہے؟ کیا مسلمانوں کا ضمیر مردہ ہو گیا ہے؟ کیا مسلمانوں کے اندر ایمانی طاقت بالکل ناپید ہو گئی ہے؟ کیا ہم پھر سے جہالت کے دور میں زندگی گزار رہے ہیں؟ نہیں ہرگز نہیں! اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ آج کے اس پر فتن دور میں ہم نے سب کچھ اس دار فانی (دنیا) کو سمجھ لیا ہے۔ آج مسلمانوں کے اندر ایمان کی دولت کم اور مال کی دولت بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ آج ہم نے مخلوق سے محبت کو اپنے اوپر لازم کر لیا اور خالق کو یکسر فراموش کر دیا۔ ایمانی قوت ہی مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے اور اسی سے ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی ملے گی۔ چند کلکتے ہوئے سکوں اور ہرے لوٹوں کے عوض ایمان کو بیچ دینا مسلم معاشرے کا سب سے بڑا الیہ ہے۔ جب ان سارے کاموں میں مسلمان پیش پیش رہیں گے تو بھلا تائیے کہ آخر کیسے ہم دنیا و آخرت میں کامیاب رہیں گے؟ کس طرح مسلم معاشرہ عروج تک پہنچے گا؟ کیسے مسلمان دشمنان اسلام کا خاتمہ کر سکے گا؟ کس طرح ایمان کو بچایا جائے گا؟ مسلمان تو ایسا ہوتا ہے کہ اس کی نگاہ سے باطل تھر تھرا اٹھتا ہے اس کے قدم جہاں بھی پڑتے ہیں اخوت و محبت کا دریا رواں ہو جاتا ہے۔ اس مسلمان کا ہر کردار فیروں کے لیے مشعل راہ ہے اور اسی مسلمان کے لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ۔

ایک ایسی شان پیدا کر کہ باطل تھر تھرا جائے نظر تلوار بن جائے نفس جھنکار ہو جائے

اس لیے مسلمانو! ہوش میں آؤ، اپنے آپ کو پچھانو اور فیروں کو اپنے اخلاق و کردار سے اپنی طرف راغب کرو۔ مسجدوں کو آباد کرو، قرآن کی تعلیمات کو عام کرو، نیک اعمال کرو، بد اعمالیوں سے پرہیز کرو۔ اللہ کے مقدس رسول ﷺ کی سنتوں پر خود بھی عمل کرو اور دوسروں کو بھی تلقین کرو۔ برائیوں سے بچو اور دوسروں کو بھی بچاؤ۔ غرباء و مساکین کی اعانت کرو، یتیموں کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرو۔ اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق کو ادا کرنے میں تساہلی سے کام مت لو۔

اگر ہم نے مندرجہ بالا باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کی تو یہ ہمارے لیے باعث نجات ہے اور ہماری دنیا و آخرت کے سنورنے کی بشارت ہے۔ ورنہ اگر ہم عمل کرنے کے بجائے اسی راہ پر گامزن رہے تو ہماری تباہی و بربادی کے ذمہ دار ہم خود ہوں گے۔ پھر ہمارا کوئی پرسان حال نہ ہوگا۔ پھر سے مسلمانوں کے خون سے خدا کی زمین کو رنگین کیا جائے گا، مسجدوں کو نذر آتش کیا جائے گا، ماؤں بہنوں کی عصمت کو پامال کیا جائے گا اور ہم مسلمان صرف تماشائی بن کر رہ جائیں گے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ۔

وطن کی فکر کرنا داں مصیبت آنے والی ہے تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں

نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو! تمہاری داستان تک نہ ہوگی، داستانوں میں

رسول پاک ﷺ نے فرمایا: ”سب سے اچھے انسان وہ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔“ یہ فرماتے ہوئے آپ ﷺ نے مسلمان ہونے کی شرط بھی نہیں رکھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اخلاق کا درجہ کس قدر بلند ہے۔ آج افراتفری کے اس دور میں والدین کو بچوں کی طرف توجہ دینے کے لیے وقت نہیں ہے۔ اس ذمہ داری کو وہ اسکول پر اور اساتذہ پر چھوڑ دیتے ہیں جو سراسر غلط ہے۔

ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہے، اسی لیے اخلاق و آداب کا درس دینا اس کی ذمہ داری ہے۔ اگر ماں خوش اخلاق ہے تو بچے بھی خود بخود خوش اخلاق ہو جائیں گے۔ پھر بھی کچھ باتوں کی عادت ڈالنا از حد ضروری ہوتا ہے۔ کسی سے ملاقات ہو تو سلام کے لیے پہل کرنا، بڑوں کا احترام اور ان کی عزت کرنا، چھوٹوں سے شفقت اور نرمی سے پیش آنا، کسی نے کوئی احسان کیا ہو تو شکر گزار ہونا۔ اگر کسی نے کوئی چیز طلب کی تو اسے دے دینا۔ اگر آپ کے پاس وہ چیز موجود نہ ہو تو خوش اخلاقی سے معذرت کرنا، چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ رکھنا وغیرہ۔ بظاہر یہ تمام چیزیں معمولی سی لگتی ہیں مگر ان تمام چھوٹی چھوٹی باتوں سے انسان خوش اخلاق بنتا ہے اور خوش اخلاق انسان ہر کسی کا دل جیت لیتا ہے۔ زبان کے ذریعے انسان سب سے زیادہ خوش اخلاق بن جاتا ہے اور اسی زبان سے بدکلامی، غیبت، جھٹل خوری اور گالی گلوچ کر کے بد اخلاقی کے سب سے نچلے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ زبان انسان کو شاہی تخت پر بٹھا سکتی ہے اور زبان ہی انسان کو گدھے پر سوار کر سکتی ہے۔ اکثر گناہ کبیرہ زبان کے ذریعے ہی سرزد ہوتے ہیں اور جھوٹ ان میں سرفہرست ہے۔

اگر بچہ خوش اخلاق ہوگا تو علم حاصل کر کے اونچے سے اونچے مدارج طے کرنا چلا جائے گا۔ کیونکہ اس کی زبان اس سلسلے میں اس کی مددگار ثابت ہوگی۔ کئی مرتبہ دولت سے جو کام نہیں ہو پاتا وہ خوش کلامی سے ہو جاتا ہے۔ خندہ پیشانی سے ملنے والا انسان ہر دلعزیز ہوتا ہے اور مارکیٹنگ کی دنیا میں اس طرح کے لوگوں کی کافی مانگ ہے۔ آج کا دور ہی مارکیٹنگ کا دور ہے اور اگر کامیابی حاصل کرنا ہے تو خوش اخلاقی کو اپنانا بہت ضروری ہے۔ زندگی کے ہر مرحلے میں خوش اخلاقی مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ ایک بچہ جسے والدین نے بہتر تربیت اور خوش اخلاقی کے جذبے سے سرفراز کیا ہے۔ وہ بچہ صحیح اٹھتے ہی بزرگوں کو سلام کرے گا اور بزرگ اسے دعائیں دیں گے۔ پھر وہ ضروریات زندگی کے لیے میٹھی زبان سے گفتگو کرے گا تو جو اس سے چھوٹے ہیں وہ بھی اس کی تقلید کریں گے۔ خوش اخلاقی بچہ نہ کبھی کھلونوں کے لیے ضد کرے گا نہ دوستوں سے لڑے گا اور نہ بری عادتیں اپنائے گا۔ اسکول میں وہ استاد کی خاص توجہ کا مستحق ہوگا۔ غرض وہ جہاں جہاں اور جس کسی سے مخلصانہ برتاؤ کرے گا اور خوش اخلاقی سے پیش آئے گا۔ لوگ اس کے خاندان اور اس کے والدین کے بارے میں مثبت رائے قائم کریں گے۔ لڑکیوں میں خوش اخلاقی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جن گھروں کی لڑکیوں میں خوش اخلاقی اور سلیقہ مندی ہوتی ہے لوگ ان کی عزت کرتے ہیں اور اسی خوش اخلاقی کی بدولت والدین کے لیے ان کی لڑکیوں کے رشتے بہت جلد اچھے گھرانوں میں طے پاتے ہیں۔

سلیقہ مند اور خوش اخلاق عورت اپنے شوہر اور سسرال والوں کے دلوں میں ایسا مقام بنالیتی ہے جس کی مثالیں لوگ دیتے ہیں۔ خوش اخلاق اور سلیقہ مند بیوی کا شوہر جب تک کا ماندہ گھر لوٹتا ہے تو وہ اپنی رفتی حیات کے مسکراتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر اپنی محکم بھول جاتا ہے اور اسے ایک الگ طرح کا سکون اور اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ مگر اب یہ تمام باتیں تو اگلے وقت کی داستان بن کر رہ گئی ہیں۔ ازدواجی زندگی گھریلو ناچاقیوں سے پر ہے۔ ایک طوفان بدتمیزی ہے جس کا گھر شکار ہے۔ کچھ بد اخلاقی ہم نے اس جادو کے پتارے سے سیکھ لی ہے جسے ہم ٹی وی کہتے ہیں اور کچھ بد اخلاقیات ہمیں بھاگتی دوڑتی زندگی نے سکھادی ہیں۔ پہلے لوگ جب کسی کے گھر جاتے تھے تو ساتھ چھوٹا سا تھنہ بھی لے جاتے تھے کچھ کھانے پینے کی اشیاء یا بچوں کے لیے کھلونے وغیرہ۔ اس طرح نہ صرف تعلق، اپنائیت اور تال میل پروان چڑھتا تھا۔ بلکہ بچے بھی کھلونے یا چاکلیٹ پا کر خوش ہو جایا کرتے تھے۔ آج یہ اخلاق کم ہی کم نظر آتے ہیں۔ تھنہ تو چھوڑیے ہم اپنے چہرے پر مسکراہٹ کے پھول بھی میزبان کو تحفہ دینے کے روادار نہیں ہیں، جس پر کچھ خرچ بھی نہیں ہوتا۔

آج ہمارے اخلاق اس قدر بگڑ چکے ہیں کہ ہم اپنے مذہب کو اپنے اخلاق کی بدولت بدنام کر رہے ہیں۔ لہجے میں تو سختی جیسے ہماری پہچان بن چکی ہے۔ آج اپنے اخلاق ہی ایسے ہیں جن کی بدولت ہم بہت ساری کامیابیوں سے محروم ہیں۔ انسان کی کامیابی اور اس کی اپنی شناخت کا معاملہ اس کے اخلاق پر بھی منحصر ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنا اور اپنے بچوں کا نئے سرے سے جائزہ لینا بہت ضروری ہے تاکہ ہم اور ہمارے بچے خوش اخلاقی کو اپنا کر دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو ہوں۔

## (۲۲) نافرمان اولاد اور والدین کے حقوق

انسان پر جو حقوق واجب ہیں ان میں ایک حقوق العباد بھی ہے۔ اس میں سب سے پہلا حق رسول ﷺ کا ہے۔ پھر آپ کے بعد نسبتی اور خوننی رشتہ کا درجہ آتا ہے۔ جس میں ماں باپ، بیٹے بیٹیاں، بہن اور دیگر رشتہ داروں کے حقوق کا درجہ ہے۔ لیکن جب ہم معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ ایسے بہت کم لوگ ہیں جو والدین کے حقوق کا خاطر خواہ خیال رکھتے ہیں۔ والدین کے حقوق کا خیال تو درکنار ہم تو والدین کی نافرمانی اور حکم عدولی میں ذرہ برابر بھی شرم و ندامت محسوس نہیں کرتے۔ بعض تو ایسے ہیں جو اپنی بیوی کے سامنے والدین کی بے عزتی اور ان سے زبان درازی کرتے ہیں اور افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ اسے بہت بڑا کارنامہ سمجھتے ہیں۔ شرعی نقطہ نظر سے اگر دیکھا جائے تو اللہ رب العزت اور اس کے محبوب سرکار دو عالم ﷺ کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ ادب و احترام، حسن و سلوک کے حقدار والدین ہی ہیں۔ قرآن شریف میں اکثر مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ حسن و سلوک، خوش اسلوبی، فرمانبرداری، احسان شناسی اور شکرگزاری کا بھی درس دیا ہے۔ اس سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں والدین کا رتبہ کیا ہے اور ان کا مقام کیا ہے، بلکہ یہاں تک حکم ہے کہ اگر والدین کی کسی تکلیف وہ بات سے اولاد کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے تو انہیں اف تک کہنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔

حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ماں باپ کا فرمانبرداری اور خدمت گزار کوئی بھی فرزند، جب ان کی طرف محبت سے دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر نگاہ کے بدلے ایک حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح والدین کی نافرمانی ایذا رساں اولاد کو دنیا و آخرت میں دردناک عذاب کی بھی خبر دی ہے۔ کتنی خوش نصیب ہے وہ اولاد جن کے والدین باحیات ہیں اور وہ اپنے والدین کی نگہبانی اور خدمت میں اپنا وقت گزارتے ہیں۔ جو اپنے والدین کی معمولی سی تکلیف کا خیال رکھتے ہیں اور ان کی چھوٹی بڑی ضرورتوں کو خوشی خوشی پورا کرنا اپنی خوش قسمتی سمجھتے ہیں، ایسی اولاد کے لیے جنت کی بشارت دی گئی ہے۔

دور حاضر میں اولاد دنیاوی تعلیم حاصل کر کے اعلیٰ عہدہ یا ملازمت پانے کے بعد نہ صرف اپنے عزیز واقارب اور خاندان سے کٹنے لگی ہیں بلکہ جن والدین نے شب و روز محنت و مشقت کر کے لکھا پڑھا یا دعویٰ انہیں اب حقیر لگنے لگے ہیں۔ والدین کی معمولی غلطی، غیر ضروری کلمات یا حرکات جو بڑھاپے اور کمزوری کی وجہ سے قدرتی ہوتے ہیں، اب اولاد کو برگشتہ کرنے لگے ہیں، ماں باپ ان کی نا راضگی کا سبب بننے لگے ہیں اور اس طرح کی دوسری وجوہات کی بناء پر والدین کو الگ کر دیا جاتا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ بعض اولادیں اپنے بیوی بچوں تک کو ان سے ملنے سے منع کر دیتے ہیں۔ بہت سی اولادیں ایسی بھی ہیں جو محض اس لیے والدین سے رشتہ منقطع کر دیتے ہیں کہ جاہل اور کم پڑھے لکھے ماں باپ کی وجہ سے ان کی ماڈرن تہذیب اور اعلیٰ طرز کے رکھ رکھاؤ میں بگاڑ پیدا نہ ہو جائے۔ اس کے علاوہ نہیں چاہتے ہیں کہ والدین ان کی ذاتی زندگی میں دخل انداز ہوں۔ اس لیے وہ انہیں اپنے سے دور رکھنے کو ترجیح دیتے ہیں۔

ادھر ماں باپ اپنے پوتا، پوتیوں کی یاد میں پریشان ہو کر اپنی زندگی کے آخری ایام بڑی کسمپرسی میں گزارتے ہیں۔ یہ ایک ایسا درد ناک پہلو ہے جس سے گھبرا کر دوسری قوموں نے بوڑھوں کا ہاسٹل بنا رکھا ہے، جہاں عمر کے آخری لمحوں میں انہیں وہاں تنہا چھوڑ دیا جاتا



ہے۔ وہاں پہنچ کر بوڑھے بس اپنی موت کا انتظار کرتے نظر آتے ہیں اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ اولاد کی شدید مصروفیات کی وجہ سے وہ دوسروں کے کندھوں کے سہارے اس دار فانی (دنیا) سے رخصت ہوتے ہیں۔

ہمارے معاشرے کے تعلیم یافتہ، نئی تہذیب کے دلدادہ، فیشن پرست نوجوانوں کو اپنے والدین بوجھ نظر آتے ہیں۔ جنہوں نے نہ جانے کن کن تکلیفوں، منتوں، اپنے ارمانوں اور خواہشات کا گلا گھونٹ کر اولاد کو پڑھایا لکھایا اور قابل انسان بنانے میں اپنی پوری پونجی اور طاقت لگا دی، لیکن اس کا بدلہ سوائے عقارت اور نفرت کے کچھ نہ ملا۔

اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی ماں باپ اپنی اولاد کو برا کہنا گوارا نہیں کرتے بلکہ تعریف ہی کرتے ہیں، کیونکہ اولاد ان کے جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے۔ بھلے ہی یہ ٹکڑا کتنا ہی فریبی، احسان فراموش، خود غرض اور مفاد پرست کیوں نہ ہو۔ ماں باپ کی نظر میں وہ محصوم اور بے گناہ ہی ہوتا ہے۔ اولاد کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ ایک مدت ہوتی ہے۔ اگر وہ اس حد سے تجاوز کر جائے تو ماں کے دکھے دل سے نکلی ایک آہ بد دعا بن کر ہتے کھیلتے، پھلے پھولے لگستاں کو جاہ و برباد کر سکتی ہے۔ والدین چاہے کتنے ہی غریب، مظلوم، کمزور لاچار کیوں نہ ہوں وہ ہمیشہ اپنی محنت و مشقت سے اپنا پیٹ کاٹ کر اپنے بچوں کا پیٹ بھرتے ہیں۔ مگر آج معاشرے کا حال یہ ہے کہ پانچ بچے مل کر بھی اپنے والدین کو سہارا دینے میں آنا کافی کرتے ہیں۔ کئی کئی بہانوں سے انہیں اپنے سے الگ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان پانچ بچوں کے لیے ان کے والدین ایک بہت بڑا مسئلہ بلکہ بہت بڑا بوجھ اور مصیبت ہوتے ہیں۔

اسلام میں جب والدین کا اتنا بڑا رجبہ اور مقام ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ (وہ چاہے کیسے بھی ہوں حسن و سلوک سے پیش آئیں تاکہ جنت کے مستحق بن سکیں۔ ماں باپ کو ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کریں اور ان کی مرضی اور مزاج کے خلاف کوئی ایسا کام نہ کریں جو ان کی ناراضگی کا سبب بنے۔ خاص طور پر اس وقت ان کا زیادہ خیال رکھیں جب وہ بڑھاپے کی وجہ سے کمزور اور مزاج کے چڑچڑے ہو جاتے ہیں۔ اس وقت والدین کی خدمت کرنا اور انہیں ہر طرح کا آرام پہنچانا ہی اصل خدمت ہوگی۔

### (۲۳) ایک اہم نصیحت: مجلس میں بیٹھ کر دین کی باتیں سننے

دین کی مجالس میں جو لوگ دور بیٹھ کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ آواز تو یہاں بھی آ رہی ہے۔ یہیں سے بیٹھ کر سن لیں۔ وہ حضرات یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ آواز کو تو فرشتے گھیرتے ہیں اور نہ ہی آواز پر مغفرت کا وعدہ ہے۔ اس لیے وہ حضرات دور بیٹھ کر اپنا نقصان نہ کریں۔ مجلس کے ساتھ مل کر بیٹھ جائیں۔ ہمارے دور میں دین کی خدمت کرنے والی پوری دنیا میں پھیلی ہوئی بڑی بڑی چار جماعتیں ہیں:

- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| ① تبلیغی جماعت                     | ② علماء و طلباء کی جماعت                  |
| ③ مشائخ و اہل اللہ کی جماعت        | ④ دینی کتابیں لکھنے والے مصنفین کی جماعت۔ |
| ان چاروں دینی خدمات کے نام یہ ہیں۔ |   |
| ① تبلیغ                            | ② تدریس                                   |
| ③ تزکیہ                            | ④ تصنیف و تالیف                           |

ان چاروں ناموں کے شروع میں تاہ ہے جو ان چاروں میں اتحاد کی طرف اشارہ کرتا ہے، دوسرا اشارہ تاہ کے دونوں نقطوں سے اس طرف ہے کہ اگر ان چاروں سلسلوں میں اتحاد ہوگا تو پوری امت اوپر آئے گی جیسے تاہ کے نقطے اوپر ہیں، اور اتحاد پیدا کرنے کے لیے تقویٰ اور تعاون کی تاہ کو بھی اپنے اندر شامل کرنا ہوگا جو اہل تقویٰ کی محبت ہی سے مشائخ بنے، پھر ان کے فیوض سے امت کو خوب فائدہ پہنچا، اللہ تعالیٰ ان چاروں سلسلوں میں ایک دوسرے کی قدر دانی، محبت و عظمت عطا فرمادے، باہم تافر و جانفوس (جو عدم اخلاص کی بڑی علامت ہے) اس سے ان چاروں سلسلوں کو بچائے۔ آمین یا رب العالمین۔

## (۲۴) حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا مناظرہ

زید بن اسلم رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ قحط سالی تھی لوگ نمرود کے پاس جاتے تھے اور غلہ لے آتے تھے۔ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام بھی گئے وہاں یہ مناظرہ ہو گیا۔ بد بخت نے آپ علیہ السلام کو غلہ نہ دیا۔ آپ خالی ہاتھ واپس آئے۔ گھر کے قریب پہنچ کر آپ نے دونوں بوریوں میں ریت بھر لی کہ گھر والے سمجھیں کچھ لے آئے۔ گھر آتے ہی بوریاں رکھ کر سو گئے۔ آپ کی بیوی صاحبہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا اٹھیں، بوریوں کو کھولا تو عمدہ اناج سے دونوں پر تھیں۔ کھانا پکا کر تیار کیا۔ آپ کی بھی آنکھ کھلی دیکھا کہ کھانا تیار ہے۔ پوچھا اناج کہاں سے آیا؟ کہا دو بوریاں جو آپ بھر کر لائے انہی میں سے یہ اناج نکالا تھا۔ آپ سمجھ گئے کہ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے برکت اور اس کی رحمت ہے۔ اس ناخوار بادشاہ کے پاس خدا تعالیٰ نے اپنا ایک فرشتہ بھیجا اس نے آ کر اسے توحید کی دعوت دی لیکن اس نے قبول نہ کی دوبارہ دعوت دی لیکن انکار کیا، تیسری مرتبہ خدا تعالیٰ کی طرف بلایا لیکن پھر بھی یہ منکر ہی رہا، اس بار بار کے انکار کے بعد فرشتے نے اس سے کہا اچھا تو اپنا لشکر تیار کر لیں بھی اپنا لشکر لے کر آتا ہوں۔ نمرود نے بڑا بھاری لشکر تیار کیا اور زبردست فوج کو لے کر سورج نکلنے کے وقت میدان میں آڈٹا، ادھر اللہ تعالیٰ نے چھروں کا دروازہ کھول دیا بڑے چمچر اس کثرت سے آئے کہ لوگوں کو سورج بھی نظر نہ آتا تھا، یہ خدائی فوج نمرود یوں پر گری اور تھوڑی دیر میں ان کا خون تو کیا ان کا گوشت پوست سب کھاپی گئی اور سارے کے سارے وہیں ہلاک ہو گئے ہڈیوں کا ڈھانچہ باقی رہ گیا۔ انہیں چھروں میں سے ایک نمرود کے ننھے میں گھس گیا اور چار سو سال تک اس کا دماغ چاٹتا رہتا۔ ایسے سخت عذاب میں وہ رہا کہ اس سے موت ہزاروں درجہ بہتر تھی، اپنا سردیواروں اور پتھروں پر مارتا تھا۔ تھوڑوں سے کچلوانا تھا۔ یونہی ریگ ریگ کر بد نصیب نے ہلاکت پائی۔ اَعَاذَنَا اللّٰهُ (اللہ ہم کو اپنی پناہ میں رکھے) آمین۔ (تفسیر ابن کثیر: جلد ۱ صفحہ ۲۵۶)

## (۲۵) پانچ (۵) اہم نصیحتیں

- ① حقیر سے حقیر پیشہ ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے۔
- ② ہر اچھا کام پہلے ناممکن ہوتا ہے۔
- ③ نفس کی تنہا پوری نہ کرو، ورنہ برباد ہو جاوے گا۔
- ④ جس نعمت کی قدر نہ کی جائے وہ ختم ہو جاتی ہے۔
- ⑤ اس راتے پر چلو جو بندے کو خالق سے ملادیتا ہے۔

## (۲۶) حضرت عبداللہ بن سلام کا عجیب خواب اور اس کی تعبیر

مسند احمد کی ایک حدیث میں ہے کہ حضرت قیس بن عبادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں تھا، ایک شخص آیا جس کا چہرہ خدا ترس تھا۔ دور کعتیں نماز کی اس نے ادا کیں، لوگ انہیں دیکھ کر کہنے لگے یہ جنتی ہیں، جب وہ باہر نکلے تو میں بھی ان کے پیچھے گیا، باتیں کرنے لگا۔ جب وہ متوجہ ہوئے تو میں نے کہا جب آپ تشریف لائے تھے تب لوگوں نے آپ کی نسبت یوں کہا تھا۔ کہا سبحان اللہ! کسی کو وہ نہ کہنا چاہیے جس کا علم اسے نہ ہو، ہاں البتہ اتنی بات تو ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک خواب دیکھا تھا کہ گویا میں ایک لہلہاتے ہوئے سر سبز گلشن میں ہوں اس کے درمیان ایک لوہے کا ستون ہے جو زمین سے آسمان تک چلا گیا ہے اس کی چوٹی پر ایک کڑا ہے مجھ سے کہا گیا کہ اس پر چڑھ جاؤ میں نے کہا میں تو نہیں چڑھ سکتا۔ چنانچہ ایک شخص نے مجھے تھا اور میں باسانی چڑھ گیا اور اس کڑے کو تھام لیا۔ اس نے کہا دیکھو مضبوط پڑے رہنا۔ بس اس حالت میں میری آنکھ کھل گئی کہ وہ کڑا میرے ہاتھ میں تھا۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا یہ خواب بیان کیا کہ تو آپ نے فرمایا گلشن باغ اسلام ہے اور ستون، تون دین ہے اور کڑا عروہ وحی ہے تو مرتے دم تک اسلام پر قائم رہے گا۔ یہ شخص عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ حدیث بخاری و مسلم دونوں میں مروی ہے۔ (تفسیر ابن کثیر جلد ۱ صفحہ ۲۵۲)

## (۲۷) دینار کو دینار کیوں کہتے ہیں (وجہ تسمیہ)

ابن ابی حاتم میں حضرت مالک بن دینار رضی اللہ عنہ کا قول مروی ہے کہ دینار کو اس لیے دینار کہتے ہیں کہ وہ دین یعنی ایمان بھی ہے اور نار یعنی آگ بھی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حق کے ساتھ لو تو دین، ناحق لو تو نار یعنی آتش دوزخ۔ (تفسیر ابن کثیر: جلد ۱ صفحہ ۴۴۳)

## (۲۸) جیسی نیت ویسا اللہ کا معاملہ

(مندرجہ ذیل قصہ بخاری شریف میں سات جگہ آیا ہے)

مسند میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے ایک شخص نے دوسرے شخص سے ایک ہزار دینار ادھار مانگے۔ اس نے کہا گواہ لاؤ۔ جواب دیا کہ خدا تعالیٰ کی گواہی کافی ہے۔ کہا ضمانت لاؤ جو اب دیا کہ خدا تعالیٰ کی ضمانت کافی ہے۔ کہا تو نے سچ کہا ہے۔ ادائیگی کی میعاد مقرر ہو گئی اور اس نے اسے ایک ہزار دینار گن دیئے۔ اس نے تری کا سفر کیا اور اپنے کام سے فارغ ہوا۔ جب میعاد پوری ہونے کو آئی تو یہ سمندر کے قریب آیا کہ کوئی جہاز کشتی ملے تو اس میں بیٹھ کر جاؤں اور رقم ادا کر آؤں لیکن کوئی جہاز نہ ملا جب دیکھا کہ وقت پر نہیں پہنچ سکتا تو اس نے ایک لکڑی لی اور بیچ میں سے کھوکھلی کر لی اور اس میں ایک ہزار دینار رکھ دیئے اور ایک پرچہ بھی رکھ دیا۔ پھر منہ بند کر دیا اور خدا تعالیٰ سے دعا کی ”اے پروردگار! تجھے خوب علم ہے کہ میں نے فلاں شخص سے ایک ہزار دینار قرض لیے اس نے مجھ سے ضمانت طلب کی میں نے تجھے ضامن بنایا اور اس پر وہ خوش ہو گیا، گواہ مانگا میں نے گواہ بھی تجھ ہی کو رکھا۔ وہ اس پر بھی خوش ہو گیا، اب جب کہ وقت مقررہ ختم ہونے کو آیا تو میں نے ہر چند کشتی تلاش کی کہ جاؤں اپنا قرض ادا کر آؤں لیکن کوئی کشتی نہیں ملتی اب میں اس رقم کو تجھے سونپتا ہوں اور سمندر میں ڈالتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ یہ رقم اسے پہنچا دے۔“ پھر اس لکڑی کو سمندر میں ڈال دیا اور خود چلا گیا لیکن پھر بھی کشتی کی تلاش میں رہا کہ مل جائے تو جاؤں۔ یہاں تو یہ ہوا، وہاں جس شخص نے اسے قرض دیا جب اس نے دیکھا کہ وقت پورا ہوا آج اسے آ جانا چاہیے تو وہ بھی دریا کے کنارے آکھڑا ہوا کہ وہ آئے گا اور میری رقم مجھے دے گا یا کسی کے ہاتھ بھجوائے گا مگر جب شام ہونے کو آئی اور کوئی کشتی اس طرف نہیں آئی تو یہ واپس لوٹا۔ کنارے پر ایک لکڑی دیکھی تو یہ سمجھ کر خالی جا ہی رہا ہوں آؤ اس لکڑی کو لے کر چلوں پھاڑ کر سکھالوں گا جلانے کے کام آئے گی، مگر پہنچ کر جب اسے چیرا تو کھٹا کھن بجتی ہوئی اشرفیاں نکلتی ہیں۔ گنتا ہے تو پوری ایک ہزار ہیں۔ وہیں پرچہ پر نظر پڑتی ہے، اسے بھی اٹھا کر پڑھتا ہے۔ پر ایک دن وہی شخص آتا ہے اور ایک ہزار دینار پیش کر کے کہتا ہے کہ یہ لیجئے آپ کی رقم معاف کیجئے گا میں نے ہر چند کوشش کی کہ وعدہ خلافی نہ ہو لیکن کشتی کے نہ ملنے کی وجہ سے مجبور ہو گیا اور دریگ گئی آج کشتی ملی آپ کی رقم لے کر حاضر ہوا۔ اس نے پوچھا کہ کیا میری رقم آپ نے بھجوائی بھی ہے؟ اس نے کہا میں تو کہہ چکا کہ مجھے کشتی نہ ملی۔ اس نے کہا اپنی رقم واپس لے کر خوش ہو کر چلے جاؤ۔ آپ نے جو رقم لکڑی میں ڈال کر اسے تو کلا علی اللہ دریا میں ڈالا تھا اسے خدا تعالیٰ نے مجھ تک پہنچا دیا اور میں نے اپنی پوری رقم وصول کر لی۔ اس حدیث کی سند بالکل صحیح ہے۔ (تفسیر ابن کثیر: جلد ۱ صفحہ ۴۷۷)

## (۲۹) خیانت کرنے والے کا عبرت ناک انجام

① ابن جریر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تم میں سے اس شخص کو پہچانتا ہوں جو چلاتی ہوئی بکری کو اٹھائے ہوئے قیامت کے دن آئے گا اور میرا نام لے لے کر مجھے پکارے گا۔ میں کہہ دوں گا کہ میں خدا کے پاس تیرے کچھ کام نہیں آسکتا میں تو پہنچا چکا ہوں۔

② اسے بھی میں پہچانتا ہوں جو اونٹ کو اٹھائے ہوئے آئے گا جو بول رہا ہو گا یہ بھی کہے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کہوں گا

میں تیرے لیے خدا کے پاس کسی چیز کا مالک نہیں ہوں میں تو تبلیغ کر چکا تھا۔

۱۳) میں اسے بھی پہچانتا ہوں جو اسی طرح گھوڑے کو لادے ہوئے آئے گا جو نہ ہنسا رہا ہوگا، وہ بھی مجھے پکارے گا اور میں کہہ دوں گا کہ میں تو پہنچا چکا تھا آج کچھ کام نہیں آسکتا۔

۱۴) اس شخص کو بھی میں پہچانتا ہوں جو کھالیں لیے ہوئے حاضر ہوگا اور کہہ رہا ہوگا یا محمد ﷺ یا محمد ﷺ! میں کہوں گا میں خدا کے پاس کسی نفع کا اختیار نہیں رکھتا میں تو تجھے ہٹا چکا ہوں۔ (تفسیر ابن کثیر: جلد ۱ ص ۷۳۳)

### (۳۰) عقلمند لوگ کون ہیں؟

﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالدُّرِّ وَاجْتِيَٰبِ الْهٰیْلِ وَالنَّهَارِ لَآٰیٰتٍ لِّاُولِی الْاَلْبَابِ ۝﴾ (سورہ آل عمران: ۱۹۰)

ترجمہ: ”آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات دن کے بہرے پھیر میں یقیناً عقلمندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔“

آیت کا مطلب یہ ہے کہ آسمان جیسی بلند اور وسعت والی مخلوق اور زمین جیسی پست اور سخت لمبی چوڑی مخلوق پھر آسمانوں میں بڑی بڑی نشانیاں مثلاً چلنے پھرنے والے اور ایک جگہ ٹھہرے رہنے والے اور زمین کی بڑی بڑی پیداوار مثلاً پہاڑ اور جنگل اور درخت اور گھاس اور کھیتیاں اور پھل اور مختلف قسم کے جاندار اور کانیں اور الگ الگ ذائقے والے اور طرح طرح کی خوشبوؤں والے میوے وغیرہ، کیا یہ سب آیات قدرت ایک سوچ سمجھ والے انسان کی رہبری خدا تعالیٰ کی طرف نہیں کر سکتیں؟ جو اور نشانیاں دیکھنے کی ضرورت باقی رہے۔ پھر دن رات کا آنا جانا اور ان کا کم زیادہ ہونا پھر برابری ہو جانا یہ سب اس عزیز و عظیم خدا تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی پوری پوری نشانیاں ہیں۔ اسی لیے آخر میں فرمایا کہ ان میں عقلمندوں کے لیے کافی نشانیاں ہیں جو پاک نفس والے ہر چیز کی حقیقت پر نظر ڈالنے کے عادی ہیں اور بیوقوفوں کی طرح آنکھ کے اندھے اور کان کے بہرے نہیں۔ جن کی حالت اور جگہ بیان ہوئی کہ وہ آسمان اور زمین کی بہت سی نشانیاں ہیں جو پاک نفس والے ہر چیز کی حقیقت پر نظر ڈالنے کے عادی ہیں اور بیوقوفوں کی طرح آنکھ کے اندھے اور کان کے بہرے نہیں۔ جن کی حالت اور جگہ بیان ہوئی کہ وہ آسمان اور زمین کی بہت سی نشانیاں بیروں تلے روندتے ہوئے گزر جاتے ہیں اور غور و فکر نہیں کرتے ان میں اکثر باوجود خدا کو ماننے کے پھر بھی شرک سے نہیں چھوٹ سکتے۔ اب ان عقلمندوں کی صفات بیان ہو رہی ہیں کہ:

① وہ اٹھتے بیٹھتے لپٹتے خدا کا نام جپا کرتے ہیں۔

صحیحین کی حدیث میں ہے کہ حضور ﷺ نے حضرات بن حنین رضی اللہ عنہم سے فرمایا کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرو اگر طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر اور یہ بھی نہ ہو سکے تو لیٹے لیٹے ہی سہی۔ یعنی کسی حالت میں ذکر خدا تعالیٰ سے غافل مت رہو۔ دل میں اور پوشیدہ اور زبان سے ذکر خدا کرتے رہا کرو۔ یہ لوگ آسمان اور زمین کی پیدائش میں نظر دوڑاتے ہیں اور ان کی حکمتوں پر غور کرتے ہیں جو اس خالق یکتا کی عظمت و قدرت علم و حکمت اختیار و رحمت پر دلالت کرتی ہے۔

② حضرت شیخ سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ”گھر سے نکل کر جس چیز پر میری نظر پڑتی ہے میں دیکھتا ہوں کہ اس میں خدا تعالیٰ کی ایک نعمت مجھ پر موجود ہے اور میرے لیے وہ باعث عبرت ہے۔“

③ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ ”ایک ساعت غور و فکر کرنا رات بھر کے قیام کرنے سے افضل ہے۔“

④ حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ ”غور و فکر اور مراقبہ ایک ایسا آئینہ ہے جو تیرے سامنے تیری برائیاں بھلائیاں پیش کر دے گا۔“

⑤ حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”غور و فکر ایک نور ہے جو تیرے دل پر اپنا پرتو ڈالے گا۔“ اور بسا اوقات یہ شعر پڑھتے:

إِذَا الْمَرْءُ كَانَتْ لَهُ فِكْرَةٌ فَيَسُّ كُلَّ شَيْءٍ مِنْهُ عِمْرَةً

ترجمہ: ”یعنی جس انسان کو باریک بینی کی اور سوچ سمجھ کر عادت پڑ گئی اسے ہر چیز میں ایک عبرت اور آیت نظر آتی ہے۔“

① حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں: ”خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو بولنا ذکر اللہ اور نصیحت ہو اور اس کا چپ رہنا غور و فکر ہو اور اس کا دیکھنا عبرت اور تمبیہ ہو۔“

② لقمان حکیم کا یہ حکمت آمیز مقولہ بھی یاد رہے کہ ”تمہائی کی گوشہ نشینی جس قدر زیادہ ہو تو اسی قدر غور و فکر اور انجامِ نبی زیادہ ہوتی ہے اور جس قدر یہ بڑھ جائے اسی قدر وہ راستے انسان پر کھل جاتے ہیں جو اسے جنت میں پہنچادیں گے۔“

③ حضرت وہب بن منہ بن سنان فرماتے ہیں ”جس قدر مراقبہ زیادہ ہوگا اسی قدر سمجھ بوجھ تیز ہوگی اور جتنی سمجھ زیادہ ہوگی اتنا علم نصیب ہوگا اور جس قدر علم نصیب ہوگا نیک اعمال بھی بڑھیں گے۔“

④ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہما کا ارشاد ہے کہ ”اللہ عزوجل کے ذکر میں زبان کا چلانا بہت اچھا ہے اور خدا کی نعمتوں میں غور و فکر کرنا افضل عبادت ہے۔“

⑤ حضرت مغیث اسود رضی اللہ عنہما مجلس میں بیٹھے ہوئے فرماتے ہیں کہ ”لوگو! قبرستان ہر روز جایا کرو، تاکہ تمہیں انجام کا خیال پیدا ہو پھر اپنے دل میں اس منظر کو حاضر کرو کہ تم خدا تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو پھر ایک جماعت کو جہنم میں جانے کا حکم ہوتا ہے اور ایک جماعت جنت میں جاتی ہے، اپنے دلوں کو اس حال میں جذب کر دو اور اپنے بدن کو بھی وہیں حاضر جان لو جہنم کو اپنے سامنے دیکھو اس کے ستوروں کو اس کی آگ کے قید خانوں کو اپنے سامنے لا۔“ اتنا فرماتے ہیں کہ دھاڑیں مار مار کر رونے لگتے ہیں یہاں تک کہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔

⑥ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ”ایک شخص نے ایک راہب سے ایک قبرستان اور ایک کوڑا ڈالنے کی جگہ پر ملاقات کی اور اس سے کہا، اے راہب! تیرے پاس اس وقت دو خزانے ہیں ایک خزانہ لوگوں کا یعنی قبرستان، ایک خزانہ مال کا یعنی کوڑا کرکٹ پاخانہ پیشاب ڈالنے کی جگہ۔“

⑦ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کھنڈرات پر جاتے اور کسی ٹوٹے پھوٹے دروازے پر کھڑے رہ کر نہایت حسرت و افسوس کے ساتھ آواز نکالتے اور فرماتے ”اے اجڑے ہوئے گھر! تمہارے رہنے والے کہاں ہیں؟“ پھر خود فرماتے ”سب زیر زمین چلے گئے، سب فنا کا جام پی چکے، صرف ذاتِ خدا کو ہی بقا ہے۔“

⑧ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا ارشاد ہے کہ ”دور کھتیس جو دل بستگی کے ساتھ ادا کی جائیں اس تمام نماز سے افضل ہیں جس میں ساری رات گزار دی لیکن دلچسپی نہ تھی۔“

⑨ خواجہ حسن بصری رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ”اے ابن آدم! اپنے پیٹ کے تیسرے حصہ میں کھا، تیسرے حصے میں پانی پی اور تیسرا حصہ ان سانسوں کے لیے چھوڑ جس میں تو آخرت کی باتوں پر، اپنے انجام پر اور اپنے اعمال پر غور و فکر کر سکے۔“ بعض حکیموں کا قول ہے ”جو شخص دنیا کی چیزوں پر بغیر عبرت حاصل کیے نظر ڈالتا ہے اس غفلت کے انداز سے اس کی دل کی آنکھیں کمزور پڑ جاتی ہیں۔“

⑩ حضرت بشر بن حارث حافی رضی اللہ عنہما کا فرمان ہے کہ ”اگر لوگ خدا تعالیٰ کی عظمت کا خیال کرتے تو ہرگز ان سے نافرمانیاں نہ ہوتیں۔“

⑪ حضرت عامر بن عبد قیس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ”میں نے بہت سے صحابہ سے سنا ہے کہ ایمان کی روشنی غور و فکر اور مراقبہ ہے۔“

⑫ صحابہ کرام میں سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ”ابن آدم! اے ضعیف انسان! جہاں کہیں تو ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا رہ دنیا میں

عاجزی اور مسکینی کے ساتھ رہا، اپنا گھر مسجدوں کو بنا لے، اپنی آنکھوں کو رونا سکھا، اپنے جسم کو صبر کی عادت سکھا، اپنے دل کو غور و فکر کرنے والا بنا، کل کی روزی کی فکر آج نہ کر۔“

④ امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مجلس میں بیٹھے ہوئے روزیے۔ لوگوں نے وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا: ”میں نے دنیا میں اور اس کی لذتوں میں اور اس کی خواہشوں میں غور و فکر کیا اور عبرت حاصل کی جب نتیجہ پر پہنچا تو میری آنکھیں ختم ہو گئیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر شخص کے لیے اس میں عبرت و نصیحت ہے اور وعظ و پند ہے۔“ (تیسرا بیان کثیر: جلد ۱ ص ۲۹۲، ۲۹۳)

### (۳۱) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موزے میں سانپ کا قصہ

(کپڑا پہننے سے پہلے ضرور جھاڑ لیجئے)

کپڑے پہننے سے پہلے ضرور جھاڑ لیجئے۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی موزی جانور ہو اور خدا نخواستہ کوئی ایذا پہنچائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ایک جنگل میں اپنے موزے پہن رہے تھے۔ پہلا موزہ پہننے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا موزہ پہننے کا ارادہ فرمایا تو ایک کوا چھٹا اور وہ موزہ اٹھا کر اڑ گیا اور کافی اوپر لے جا کر اسے چھوڑ دیا۔ موزہ جب اونچائی سے گرا تو گرنے کی چوٹ سے اس میں سے ایک سانپ دور جا پڑا۔ ایک دیکھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کا شکر ادا کیا اور فرمایا: ”ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ جب موزہ پہننے کا ارادہ کرے تو اس کو جھاڑ لیا کرے۔“ (طبرانی، آداب زندگی: ص ۲۹، ۳۰)

### (۳۲) جنت کی چادر اوڑھنے کا نبوی نسخہ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جس شخص نے کسی ایسی عورت کی تعزیت کی جس کا بچہ مر گیا ہو تو اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا اور جنت کی چادر اوڑھائی جائے گی۔“ (ترمذی، آداب زندگی: ص ۶۲)

### (۳۳) مشورہ میں امانت کا رنگ ہونا چاہیے سیاست و چالاک کی کانہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز مشورہ

ترمذی کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ”لوگوں کی آذ بھگت، خیر خواہی اور چشم پوشی کا مجھے خدا کی جانب سے اسی طرح حکم کیا گیا ہے جس طرح فرائض کی پابندی کا۔ چنانچہ اس آیت میں بھی فرمان ہے، تو ان سے درگزر کر، ان کے لیے استغفار کر، اور کاموں کا مشورہ ان سے لیا کر۔“ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے کاموں میں ان سے مشورہ کیا کرتے تھے جیسے:

① بدر والے دن قافلے کی طرف بڑھنے کے لیے مشورہ لیا اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا کہ اگر آپ سمندر کے کنارے پر کھڑے ہو کر ہمیں فرمائیں گے کہ اس میں کود پڑو اور اس پار نکلو تو بھی ہم سر تابی نہ کریں گے اور اگر ہمیں برک اللہماد تک لے جانا چاہیں تو بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم وہ نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے صحابیوں کی طرح کہہ دیں کہ تو اور تیرا رب لڑیں ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم تو آپ کے دائیں بائیں صفیں باندھ کر جم کر دشمنوں کا مقابلہ کریں گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا مشورہ بھی لیا کہ منزل کہاں ہے اور منذر بن عمرو رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ ان لوگوں سے آگے بڑھ کر ان کے سامنے ہو۔

② اسی طرح احد کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ آیا مدینہ میں رہ کر لڑیں یا باہر نکلیں؟ اور جمہور کی رائے یہی ہوئی کہ باہر میدان میں جا کر لڑنا چاہیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا۔

③ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احزاب کے موقع پر بھی اپنے اصحاب سے مشورہ کیا کہ مدینہ کے پہلوں کی پیداوار کا تہائی حصہ دینے کا وعدہ

کر کے منافقین سے مصالحت کر لی جائے تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے اس کا انکار کیا اور آپ ﷺ نے بھی اس مشورہ کو قبول کر لیا اور مصالحت چھوڑ دی۔

④ اسی طرح آپ ﷺ نے حدیبیہ والے دن اس امر کا مشورہ کیا کہ آیا مشرکین کے گھروں پر دھاوا بول دیں؟ تو حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے ہمارا ارادہ صرف عمرہ کا ہے۔ چنانچہ اسے بھی آپ ﷺ نے منظور فرمایا۔

⑤ اسی طرح جب منافقین نے آپ ﷺ کی بیوی صاحبہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی تو آپ ﷺ نے فرمایا اے مسلمانو! مجھے مشورہ دو کہ ان لوگوں کا میں کیا کروں جو میرے گھر والوں کو بدنام کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم میرے علم میں تو میرے گھر والوں میں کوئی برائی نہیں اور جس شخص کے ساتھ تہمت لگا رہے ہیں واللہ! میرے نزدیک تو وہ بھی بھلائی والا ہی ہے اور آپ ﷺ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی جدائی کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے مشورہ لیا۔ غرض لڑائی کے کاموں میں بھی دیگر امور میں بھی حضور ﷺ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ اور روایت میں ہے کہ جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی سے مشورہ لے تو اسے چاہیے کھلی بات کا مشورہ دے۔ (ابن ماجہ تفسیر ابن کثیر: جلد ۱ صفحہ ۴۷۳)

### ﴿ ۳۴ ﴾ ہوا میں بھی آپس میں باتیں کرتی ہیں

یہی ہی کی ”شعب الایمان“ ہی میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ حضرت نعمان رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا ”اے پیارے بیٹے! میں نے چٹان، لوہے اور ہر بھاری چیز کو اٹھایا لیکن میں نے پڑوسی سے زیادہ نفل کسی چیز کو نہیں پایا اور میں نے تمام کڑوی اور تلخ چیزوں کا ذائقہ چکھ لیا لیکن فقر و تنگدستی سے تلخ کوئی چیز نہیں پائی۔ اے بیٹے! جاہل شخص کو ہرگز اپنا قاصد اور نمائندہ مت بنا اور اگر نمائندگی کے لیے کوئی قابل اور عقل مند شخص نہ ملے تو خود اپنا قاصد بن جا۔“

”بیٹے! جھوٹ سے خود کو محفوظ رکھ کیونکہ یہ چڑیا کے گوشت کے مانند نہایت مرغوب ہے۔ تھوڑا سا جھوٹ بھی انسان کو جلا دیتا ہے۔ اے بیٹے! جنازوں میں شرکت کیا کر اور شادی کی تقریبات میں شرکت سے پرہیز کر، کیونکہ جنازوں کی شرکت تجھے آخرت کی یاد دلائے گی اور شادیوں میں شرکت دنیا کی خواہشات کو جنم دے گی۔ آسودہ شلم ہوتے ہوئے دوبارہ شلم میر ہو کر مت کھا کیوں کہ اس صورت میں کتوں کو ڈال دینا کھانے سے بہتر ہے۔ بیٹے نہ اتنا شیریں بن کہ لوگ تجھے نکل جائیں اور نہ اتنا کڑوا کہ تھوک دیا جائے۔“

(جاء النعمان: جلد ۳ صفحہ ۱۵۳)

### ﴿ ۳۵ ﴾ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ عنہ کا درد بھرا خط ہارون رشید ہر نماز کے بعد پڑھتے تھے اور روتے تھے

امام بن بلیان وغزالی نے ذکر کیا ہے کہ جب ہارون رشید خلیفۃ المسلمین بنے تو تمام علماء کرام ان کو مبارک باد دینے کے لیے ان کے پاس گئے، لیکن حضرت سفیان ثوری نہیں گئے حالانکہ ہارون رشید اور سفیان ثوری ایک دوسرے کے ساتھی اور دوست تھے۔ چنانچہ حضرت سفیان کے نہ آنے سے ہارون رشید کو بڑی تکلیف ہوئی اور اس نے حضرت سفیان کے نام ایک خط لکھا جس کا متن یہ ہے:

”شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم والا ہے۔“

عبداللہ ہارون امیر المومنین کی طرف سے اپنے بھائی سفیان ثوری کی طرف۔

بعد سلام مسنون! آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کے درمیان ایسی بھائی چارگی اور محبت ودیعت کی ہے کہ جس میں کوئی غرض نہیں۔ چنانچہ میں نے بھی آپ سے ایسی ہی محبت اور بھائی چارگی کی ہے کہ اب نہ میں اس کو توڑ سکتا ہوں اور نہ اس سے جدا ہو سکتا

ہوں۔ یہ خلافت کا جو طوق اللہ تعالیٰ نے میرے پر ڈال دیا ہے اگر یہ میرے گلے میں نہ ہوتا تو میں ضرور آپ کی محبت کی بنا پر آپ کے پاس خود آتا یہاں تک کہ اگر میں چلنے میں معذور ہوتا تو گھسٹ کر آتا۔ چنانچہ اب جب کہ میں خلیفہ ہوا تو میرے تمام دوست و احباب مجھے مبارک باد دینے کے لیے آئے۔ میں نے ان کے لیے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے اور قیمتی سے قیمتی چیزوں کا عطیہ دے کر اپنے دل اور ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا۔ لیکن آپ تشریف نہیں لائے حالانکہ مجھے آپ کا شدید انتظار تھا۔ یہ خط آپ کو بڑے ذوق و شوق اور محبت کی بنا پر لکھ رہا ہوں۔ اے ابو عبد اللہ! آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ مومن کی زیارت اور مواصلت کی فضیلت ہے اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ جیسے ہی میرا یہ خط آپ کو ملے تو جتنی بھی جلدی ممکن ہو تشریف لائیے۔ ہارون رشید نے یہ خط عباد اللہ القاتی نامی ایک شخص کو دیا اور کہا یہ خط ثوری کو پہنچاؤ اور خاص طور سے یہ ہدایت کی کہ خط سفیان کے ہاتھ میں ہی دینا اور وہ جو جواب دیں اس کو غور سے سننا اور ان کے تمام احوال اچھی طرح معلوم کرنا۔ عباد کہتے ہیں کہ میں اس خط کو لے کر کوفہ کے لیے روانہ ہوا اور وہاں جا کر حضرت سفیان کو ان کی مسجد میں پایا۔ حضرت سفیان نے مجھ کو دور سے دیکھا تو دیکھتے ہی کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے:

﴿أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ السَّمِيطِ الرَّجِيمِ وَأَعُوذُ بِكَ اللَّهُمَّ مِنْ طَارِقٍ يَطْرُقُ إِلَّا بِغَيْرِ﴾

ترجمہ: ”میں مردود شیطان سے اللہ سمیع و علیم کی پناہ چاہتا ہوں اس شخص سے جو رات میں آتا ہے الا یہ کہ وہ کوئی خیر میرے پاس لے کر آئے۔“

عباد فرماتے ہیں کہ جب میں مسجد کے دروازہ پر اپنے گھوڑے سے اترا تو سفیان نماز کے لیے کھڑے ہو گئے حالانکہ یہ کسی نماز کا وقت نہیں تھا۔ چنانچہ میں پھر ان کی مجلس میں حاضر ہوا اور وہاں پر موجود لوگوں کو سلام کیا۔ مگر کسی نے بھی میرے سلام کا جواب نہ دیا اور نہ مجھے بیٹھنے کو کہا حتیٰ کہ کسی نے میری طرف نظر اٹھا کر دیکھنے کی زحمت بھی نہ کی اس ماحول میں مجھ پر کچھ طاری ہو گئی اور بدحواسی میں میں نے وہ خط حضرت سفیان کی طرف پھینک دیا۔ حضرت سفیان کی نظر جیسے ہی خط پر پڑی تو وہ ڈر گئے اور خط سے دور ہٹ گئے گویا وہ کوئی سانپ ہے۔ پھر کچھ دیر بعد سفیان نے اپنی آستین کے کپڑے سے اس خط کو اٹھایا اور اپنے پیچھے بیٹھے ہوئے ایک شخص کی طرف پھینکا اور کہا کہ تم میں سے کوئی شخص اس کو پڑھے کیوں کہ میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کسی ایسی چیز کے چھونے سے جس کو کسی ظالم نے چھور کھا ہو۔

چنانچہ ان میں سے ایک شخص نے اس خط کو کھولا اس حال میں کہ اس کے ہاتھ بھی کانپ رہے تھے۔ پھر اس نے اس کو پڑھا۔ خط کا مضمون سن کر سفیان کسی متوجہ شخص کی طرح مسکرائے اور کہا کہ اس خط کو پلٹ کر اس کی پشت پر جواب لکھ دو۔ اہل مجلس میں سے کسی نے حضرت سفیان سے عرض کیا کہ حضرت وہ خلیفہ ہیں، لہذا اگر کسی کو رے صاف کاغذ پر جواب لکھواتے تو اچھا تھا۔ حضرت سفیان نے فرمایا کہ نہیں اسی خط کی پشت پر جواب لکھو اس لیے کہ اگر اس نے یہ کاغذ حلال کمائی کا استعمال کیا ہے تو اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا اور اگر یہ کاغذ حرام کمائی کا استعمال ہے تو عنقریب اس کو عذاب دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہ دینی چاہیے جسے کسی ظالم نے چھور کھا کیونکہ یہ چیز دین میں خرابی کا باعث ہوگی۔ پھر اس کے بعد سفیان ثوری نے کہا کہ لکھو:

”شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت رحم والا اور بڑا مہربان ہے۔“

سفیان کی جانب سے اس شخص کی طرف جس سے ایمان کی مٹھاس اور قرأت قرآن کی دولت کو چھین لیا گیا۔

بعد سلام مسنون!

یہ خط تم کو اس لیے لکھ رہا ہوں تاکہ تم کو معلوم ہو جائے کہ میں نے تم سے اپنا دینی رشتہ یعنی بھاری چارگی اور محبت کو منقطع کر لیا ہے اور یہ بات یاد رکھنا کہ تم نے اپنے خط میں اس بات کا اقرار کیا ہے کہ تم نے اپنے دوست و احباب کو شاہی خزانہ سے مالا مال کر دیا ہے۔ لہذا اب میں اس بات کا گواہ ہوں کہ تم نے مسلمانوں کے بیت المال کا غلط استعمال کیا ہے اور مسلمانوں کی بغیر اجازت کے اپنے نصاب پر خرچ کیا



اور اس پر طرہ یہ کہ تم نے مجھ سے بھی اس آرزو کا اظہار کیا کہ میں تمہارے پاس آؤں لیکن یاد رکھو میں اس کے لیے بھی راضی نہ ہوں گا۔ میں اور میرے اہل مجلس جس نے بھی تمہارے خط کو سنا وہ سب تمہارے خلاف گواہی دینی کے لیے انشاء اللہ کل قیامت کے دن خداوند قدوس کی عدالت میں حاضر ہوں گے کہ تم نے مسلمانوں کے مال کو غیر مستحق لوگوں پر خرچ کیا۔

اے ہارون! ذرا معلوم کرو کہ تمہارے اس فعل پر اہل علم، قرآن کی خدمت کرنے والے، یتیم بیوہ عورتیں، مجاہدین، عالمین سب راضی تھے یا نہیں؟ کیونکہ میرے نزدیک مستحق اور غیر مستحق دونوں کی اجازت لینی ضروری تھی اس لیے اے ہارون! اب تم ان سوالات کے جوابات دینے کے لیے اپنی کمر مضبوط کر لو۔ کیونکہ عنقریب تم کو اللہ جل شانہ کے سامنے جو عادل و باحکمت ہے حاضر ہونا ہے۔ لہذا اپنے نفس کو اللہ سے ڈراؤ۔ جس نے قرآن کی تلاوت، علم کی مجلسوں کو چھوڑ کر ظالم اور ظالموں کا امام بنا قبول کر لیا۔

اے ہارون! اب تم سر پر بیٹھنے لگے اور حریر تمہارا لباس ہو گیا اور ایسے لوگوں کا لشکر جمع کر لیا جو رعایا پر ظلم کرتے ہیں مگر تم انصاف نہیں کرتے۔ تمہارے یہ لوگ شراب پیتے ہیں مگر تم کوڑے دوسروں پر لگاتے ہو۔ تمہارے یہی لشکر (افسران) چوری کرتے ہیں مگر تم ہاتھ کاٹتے ہو بے قصور لوگوں کے، تمہارے یہ کارندے قتل عام کرتے ہیں۔ مگر تم خاموش تماشائی بنے ہو۔ اے ہارون! کل میدان حشر کیسا ہو گا جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکارنے والا پکارے گا کہ ”ظالموں کو اور ان کے ساتھیوں کو حاضر کرو۔“ تو تم اس وقت آگے بڑھو گے اس حال میں کہ تمہارے دونوں ہاتھ تمہاری گردن سے بندھے ہوں گے اور تمہارے ارد گرد تمہارے ظالم مددگار ہوں گے اور انجام کار تم ان ظالموں کے امام بن کر دوزخ کی طرف جاؤ گے۔ اس دن تم اپنی حسرت تلاش کرو گے تو وہ دوسروں کی میزان میں ہوں گی اور تمہاری میزان میں برائیاں ہی برائیاں نظر آئیں گی اور پھر تم کو کچھ نظر نہیں آئے گا۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہو گا۔ لہذا اب بھی وقت ہے کہ تم اپنی رعایا کے ساتھ انصاف کرو اور یہ بھی یاد رکھو کہ یہ بادشاہت تمہارے پاس ہمیشہ نہیں رہے گی۔ یہ یقیناً دوسروں کے پاس چلی جائے گی۔ چنانچہ یہ امر ایسا ہے کہ بعض اس سے دنیا و آخرت سنوار لیتے ہیں اور بعض دنیا و آخرت دونوں برباد کر لیتے ہیں۔

اور اب خط کے آخر میں یہ بات غور سے سنو کہ آئندہ کبھی مجھ کو خط مت لکھنا اور اگر تم نے خط لکھا تو بھی یاد رکھنا اب کبھی مجھ سے کسی جواب کی امید مت رکھنا۔ والسلام۔“

خط مکمل کرا کے حضرت سفیان نے اس کو قاصد کی طرف بھیج دیا۔ نہ اس پر اپنی مہر لگائی اور نہ اس کو چھوا۔ قاصد (عباد) کہتے ہیں کہ خط کے مضمون کو سن کر میری حالت غیر ہو گئی اور دنیا سے ایک دم التفات جاتا رہا۔ چنانچہ میں خط لے کر کوفہ کے بازار میں آیا اور آواز لگائی کہ ہے کوئی خریدار جو اس شخص کو خرید سکے جو اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہا ہو۔ چنانچہ لوگ میرے پاس درہم اور دینار لے کر آئے۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے مال کی ضرورت نہیں، مجھے تو صرف ایک جہ اور قنطاری عبا چاہیے۔ چنانچہ لوگوں نے یہ چیزیں مجھے مہیا کر دیں۔ چنانچہ میں نے اپنا وہ قیمتی لباس اتار دیا جسے میں دربار میں ہارون کے پاس جاتے وقت پہنتا تھا اور پھر میں نے گھوڑے کو بھی ہنکا دیا۔ اس کے بعد میں ننگے سر پیدل چلا ہوا ہارون رشید کے محل کے دروازہ پر پہنچا۔ محل کے دروازہ پر لوگوں نے میری حالت کو دیکھ کر میرا مذاق اڑایا اور پھر اندر جا کر ہارون سے میری حاضری کی اجازت لی۔ چنانچہ میں اندر گیا۔ ہارون رشید نے جیسے ہی مجھ کو دیکھا کھڑا ہو گیا اور اپنے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہنے لگا وائے بربادی، وائے خرابی، قاصد آ باد ہو گیا اور بیچنے والا برباد ہو گیا اب اسے دنیا کی کیا ضرورت ہے۔ اس کے بعد ہارون نے بڑی تیزی سے مجھ سے جواب طلب کیا۔ چنانچہ جس طرح سفیان ثوری نے وہ خط میری طرف بھیج دیا تھا اسی طرح میں نے وہ خط ہارون رشید کی طرف اچھال دیا۔ ہارون رشید نے فوراً جھک کر ادب سے اس خط کو اٹھا لیا اور کھول کر پڑھنا شروع کیا۔ پڑھتے پڑھتے ہارون رشید کے رخسار آنسوؤں سے تر ہو گئے حتیٰ کہ ہنسی بندھ گئی۔

ہارون رشید کی یہ حالت دیکھ کر اہل دربار میں سے کسی نے کہا کہ امیر المومنین سفیان کی یہ جرأت کہ وہ آپ کو ایسا لٹھیں اگر آپ عم دیں تو ہم ابھی سفیان کو جکڑ کے قید کر لائیں تاکہ اس کو ایک عبرت انگیز سزا مل سکے۔ ہارون نے جواب دیا کہ ”اے مفرور دنیا کے غلام! سفیان کو کچھ مت کہو ان کو ان کی حالت پر رہنے دو۔ بخدا دنیا نے ہم کو دھوکہ دیا اور بد بخت بنا دیا۔ تمہارے لئے میرا یہ مشورہ ہے کہ تم سفیان کی مجلس میں جا کر بیٹھو کیونکہ اس وقت سفیان ہی حضور ﷺ کے حقیقی امتی ہیں۔“

قاصد عباد کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہارون رشید کی یہ حالت تھی کہ سفیان کے اس خط کو ہر وقت اپنے پاس رکھتے اور ہر نماز کے بعد اس کو پڑھتے اور خوب روتے یہاں تک کہ ہارون کا انتقال ہو گیا۔ (حیات النبی: جلد ۳ ص ۲۶۶، ۲۶۷)

### (۳۶) ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”ہر بچہ اپنی فطرت (یعنی اسلام) پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے یہودی یا مجوسی یا نصرانی بنا دیتے ہیں۔“ (صحیح البخاری) فطرت سے مراد اللہ پاک کی توحید اور اسلام کے بلند مرتبہ اصول و مبادی ہیں کیونکہ یہ دین فطرت انسانی اور عقل سلیم کے عین مطابق ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہر بچہ عقائد و اعمال کا ذہن لے کر دنیا میں آتا ہے، اگر والدین اس کی اچھی تربیت اور ذہن سازی کریں تو یہ بلند پایہ اوصاف پر وان چڑھتے ہیں اور یہ انسان ایک بہترین مسلمان بن کر معاشرہ کا مفید فرد بن جاتا ہے لیکن اگر صورت حال اس کے برعکس ہوئی تو والدین کی غلط تربیت اور ماحول کے بد اثرات سے اس کے افکار و اعمال بھی بگڑتے جاتے ہیں۔ جیسے ہم عملی طور پر دیکھتے ہیں کہ مسلمان گھرانوں کے بچے عیسائیوں کے مشنری اسکولوں یا دیگر غیر مسلموں کے مذہبی تعلیمی اداروں میں داخل کر دیئے جاتے ہیں اور پھر وہ ان کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں، اور اسلام کے فطری اور عقلی نظریات اور اعمال سے بے گانہ ہو جاتے ہیں، بچے کی اس روحانی اور اخلاقی تباہی و بربادی میں والدین بابر کے شریک ہوتے ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اپنی اولاد کو دین اسلام کے مطابق تعلیم و تربیت کریں تاکہ وہ اعلیٰ مفید اور مثالی مسلمان بن سکیں۔

### (۳۷) بچے کے کان میں اذان و اقامت کی مسنونیت

بچے کی پیدائش کے بعد ایک سنت عمل یہ ہے کہ اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے، اس سلسلے میں جو احادیث مروی ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں:

- ① حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما رسول کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”جس کے یہاں بچہ پیدا ہو اور وہ اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہے تو وہ بچہ ام الصبیان (سوکڑہ کی بیماری) سے محفوظ رہے گا۔“ (سنن بیہقی)
- ② حضرت امین عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما کے (دائیں) کان میں جس دن وہ پیدا ہوئے اذان دی اور بائیں کان میں اقامت کہی۔ (بیہقی)
- ③ حضرت ابورافع رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کے یہاں پیدا ہوئے تو آپ ﷺ نے ان کے کان میں اذان دی۔ (ابوداؤد ترمذی شریف)

علامہ ابن قیم رضی اللہ عنہ نے لکھا ہے کہ اس اذان اور اقامت کی حکمت یہ ہے کہ اس طرح سے نومولود بچے کے کان میں سب سے پہلے جو آواز پہنچتی ہے، وہ خدائے بزرگ و برتر کی بڑائی اور عظمت والے کلمات اور اس شہادت کے الفاظ ہوتے ہیں، جس کے ذریعہ انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ گویا اسے دنیا میں آتے ہی اسلام اور خدائے واحد کی بڑائی کی تلقین کی جاتی ہے۔ جس کے اثرات ضرور بچے کے دل و دماغ پر پڑتے ہیں۔ اگرچہ وہ ان اثرات کو ابھی سمجھ نہیں پاتا۔

اس کی ایک حکمت یہ بیان کی گئی ہے کہ اذان سے چونکہ شیطان بھاگتا ہے، جو کہ انسان کا ازلی دشمن ہے اس لیے اذان کہی جاتی ہے کہ دنیا میں قدم رکھتے ہی بچے پر پہلے پہل شیطان کا قبضہ نہ ہو، اور اس کا دشمن ابتدا ہی میں بھاگ کر پسا ہو جائے۔

یہ حکمت بھی بیان کی گئی ہے کہ بچے کے کان میں پیدائش کے بعد اذان دی جاتی ہے اور دنیا سے رخصت ہونے کے بعد نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے، گویا جیسے عام نمازوں کے لیے اذان دی جاتی ہے، اور تیاری کے کچھ وقفے کے بعد نماز پڑھی جاتی ہے۔ اس طرح تمام انسانوں کو یہ سمجھانا مقصود ہوتا ہے کہ پیدا ہونے کے بعد اذان دی گئی ہے اور اس اذان کے بعد تمہاری نماز (نماز جنازہ) جلد ہونے والی ہے، لہذا اور میان کے مختصر عرصے میں آخرت کی تیاری کرو، تاکہ مرنے کے بعد پچھتانا نہ پڑے۔ کسی نے خوب کہا ہے۔

آئے ہوئی اذان ، گئے ہوئی نماز ، بس اتنی دیر کا جھگڑا ہے زندگی کیا ہے

### تحسینک کی سنت:

تحسینک کا مطلب یہ ہے کہ کھجور چھو ہار منہ میں چبایا جائے اور اس کا تھوڑا سا حصہ انگلی پر لے کر نومولود کے منہ میں داخل کیا جائے۔ پھر انگلی کو آہستگی کے ساتھ دائیں بائیں حرکت دی جائے، تاکہ چبائی ہوئی چیز پورے منہ میں پہنچ جائے، یہ سنت عمل ہے جس کا ثبوت مندرجہ ذیل احادیث سے ملتا ہے۔

④ حضرت اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، جب عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ان کے شکم میں تھے تو فرماتی ہیں کہ میرے حمل کے دن پورے ہو چکے تھے، میں (ہجرت کر کے) مدینہ آئی اور قباء میں قیام کیا۔ عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ وہیں پیدا ہوئے، میں انہیں حضور ﷺ کے پاس لے گئی اور انہیں آپ ﷺ کی گود میں رکھ دیا۔ آپ ﷺ کا آب دہن تھا، پھر ان کے منہ میں چھو ہارا ڈالنے کے بعد آپ ﷺ نے ان کے لیے برکت کی دعا فرمائی، اسلام میں (ہجرت کے بعد) یہ بچہ کی پہلی پیدائش تھی۔ (بخاری: جلد ۲ صفحہ ۵۷۵)

⑤ حضرت ابوموسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا، میں اسے نبی ﷺ کی خدمت میں لے گیا۔ آپ ﷺ نے اس کا نام ابراہیم رکھا اور کھجور چبا کر اس کے نالوں میں لگائی۔ آپ ﷺ نے اس کے لیے برکت کی دعا فرمائی اور اسے مجھے دے دیا۔

(بخاری: جلد ۲ صفحہ ۶۹۹)

تحسینک کی حکمت حدیث نمبر 4 کی عبارت سے واضح ہو گئی کہ اس سے مراد حصول برکت ہے، جیسے حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ سب سے پہلی چیز جو حضرت عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے شکم میں پہنچی وہ آپ ﷺ کا آب دہن مبارک تھا۔ سبحان اللہ

### (۳۸) یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا

آج ہمارے درمیان حضور اقدس ﷺ کی ذات پاک موجود نہیں ہے مگر آپ ﷺ کی سنت موجود ہے۔ لہذا کسی نیک آدمی سے تحسینک کی سنت ادا کرنی چاہیے۔ طبی اعتبار سے بھی تحسینک ایک فائدہ مند عمل ہے۔ کیونکہ بچہ جب اس دنیا میں نیا نیا آتا ہے تو اس کا منہ پیدائشی بند ہونے کی وجہ سے ابھی کھلنے کا عادی نہیں ہوتا۔ تحسینک کے عمل سے جڑے کھل جاتے ہیں اور منہ ماں کے دودھ کو لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کھجور کارس بدن کے لیے قوت بخش بھی ہے۔

### (۳۹) بچے کا سر موٹنا

اسلام میں نومولود بچے کے بارے میں جو احکام وارد ہوئے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ساتویں روز بچے کے سر کے بال موٹے چائیں اور ان بالوں کے وزن کے برابر چاندی فقیروں اور مسکینوں میں تقسیم کر دی جائے، اس سنت کی تائید مندرجہ ذیل

احادیث مبارک سے ہوتی ہے۔

① حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہم کی پیدائش کے ساتویں دن حکم دیا کہ ان کے سر کے بال موٹے جائیں۔ چنانچہ وہ موٹے دائے گئے اور ان بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کی گئی۔

(تخ: المودود با حکام الملور ص ۵۸)

② محمد بن علی بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی طرف سے عقیقہ میں ایک بکری ذبح کی اور فرمایا اے فاطمہ! اس کے سر کے بال موٹے اور ان کے برابر چاندی خیرات کر دے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے وزن کیا تو ان کا وزن ایک درہم یا اس سے کچھ کم تھا۔

③ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ہر بچہ عقیقہ تک بندھا ہوتا ہے، اس کی طرف سے ساتویں دن (بکریا بکری) ذبح کی جائے اور سر کے بال موٹے جائیں اور اس کا نام رکھا جائے۔“ (ابوداؤد ترمذی سنائی، ص ۱۸۱)

مسئلہ کی رو سے بچہ اور بچی دونوں کے سر کے بال موٹے جانے چاہئیں اور ہر ایک کے سر کے بالوں کے برابر چاندی خیرات کرنی چاہیے۔ کیونکہ بچہ اور بچی دونوں خدا کی نعمت ہیں اور سر کے بال موٹنے کی حکمتیں دونوں سے متعلق ہیں، بال موٹنے میں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ سارے سر کے بال موٹے جائیں، کیونکہ بال موٹنے کا ایک غلط طریقہ یہ ہے کہ سر کے کچھ بال موٹے جائیں اور کچھ چھوڑ دیئے جائیں، اس کو عربی میں قزع کہتے ہیں، جس کو منع کیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے:

④ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قزع سے منع فرمایا ہے۔ (بخاری و مسلم)

سر موٹوانے کی سنت سے جو حکمت معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بچے کے پیدائش و بال مادر شکم میں آلائش وغیرہ کے ساتھ گندے ہو چکے ہوتے ہیں، ان گندے بالوں کو دور کر کے صفائی ستھرائی حاصل ہوتی ہے دوسرے یہ کہ پیدائشی بال انتہائی کمزور ہوتے ہیں جس کے دور کرنے سے نسبتاً طاقت و بال آگ آتے ہیں۔ تیسرے یہ کہ پیدائشی بالوں کو دور کرنے سے سر کے مسام کھل جاتے ہیں، جس کے صحت پر اچھے اثرات پڑتے ہیں، نیز سر کے بال کٹوانے سے دیکھنے، سننے، سونگھنے اور سوچنے کی قوت زیادہ ہوتی ہے۔ اس سنت کا دوسرا جز بالوں کے برابر چاندی کا خیرات کرنا ہے، جس کی حکمت ظاہر ہے کہ بچے کی پیدائش پر جو خوشی ہوتی ہے، اس میں فقراء اور مساکین کو بھی شریک کر لیا جاتا ہے۔ یوں یہ خوشی صرف ایک گھر تک محدود نہیں رہتی بلکہ آس پاس کے غریب لوگ بھی اس میں شریک ہو جاتے ہیں۔ نیز خدا کی طرف سے اولاد کے عطا ہونے پر یہ صدقہ خوشی اور تشکر کا اظہار بھی ہے۔ (ماہنامہ محمود، فروری ۲۰۰۶ء، ص ۲۳)

### (۲۰) نظر بس آپ ﷺ ہی پر ہے شفیع المذنبین میری

طبیعت مضطرب ہے اب نہیں لگتی کہیں میری  
دواؤں سے شفا ہرگز نہیں ہرگز نہیں میری  
دیارِ قدس میں اشکوں سے تر ہو آستیں میری  
خدا کی رحمتوں سے زندگی ہوتی حسین میری  
جہاں ہیں سرورِ عالم بنے تربت وہیں  
خدا کا فضل ہے حالت تو ایسی تھی نہیں میری  
سکوں باقی نہیں ہے، خاطر اندوہیں میری

دواؤں سے طبیعت رو بہ صحت ہے نہیں میری  
نہیں سمجھا کوئی اس درد کو یہ درد کیسا ہے  
علاج اس کا نفع یہ ہے کہ طیبہ ہوٹکا ہوں میں  
دیارِ پاک ہوتا اور ہوتی یہ جبیں میری  
گزر جائے یہ باقی عمر ان کے آستانے پر  
متاعِ دردِ دل جو مل گئی مشکل سے ملتی ہے  
نہ دن میں چمن ملتا ہے نہ شب میں نیند آتی ہے

طلب کرتا ہوں ایسی شے جو قسمت میں نہیں میری  
تصور میں وہ رہتے ہیں نکاہیں ہوں کہیں میری  
کسی سے بات کرنے کی کوئی خواہش نہیں میری  
جو دیکھا غور سے میں نے تو آنکھیں کھل گئیں میری  
نظر بس آپ پر ہی ہے شفیع المذنبین میری

ہوا پیدا اسی تم کے لیے راحت کا طالب ہوں  
وہ نقشہ جم گیا ہے اب تو دل میں ذاتِ اقدس کا  
ہوا دیوانہ جب سے آپ کا خلوت میں رہتا ہوں  
یہ دنیا دار فانی ہے فقط اک خواب ہے شب کا  
کسی لائق نہیں ثاقب مگر بخشش کا طالب ہوں

### (۴۱) ولی ہو کر نبی کا کام کرو

حضرت سلیمان بن یسار رضی اللہ عنہ مشہور محدث ہیں۔ ایک مرتبہ حج کے سفر پر روانہ ہوئے تو جنگل میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ ان کے  
ساتھی کسی کام کے لیے شہر گئے تو وہ اپنے خیمے میں اکیلے تھے اتنے میں ایک خوبصورت عورت ان کے خیمے میں آئی اور کچھ مانگنے کا اشارہ کیا  
۔ انہوں نے کچھ کھانا اس کو دینا چاہا تو اس عورت نے برطا کہا کہ میں آپ سے وہ کچھ چاہتی ہوں جو ایک عورت مرد سے چاہتی ہے دیکھو تم  
نوجوان ہو میں خوبصورت ہوں ہم دونوں کے لطف اندوز ہونے کے لیے تنہائی کا موقع بھی ہے۔ حضرت سلیمان بن یسار رضی اللہ عنہ نے یہ سنا  
تو سمجھ گئے کہ شیطان نے میری عمر بھر کی محنت ضائع کرنے کے لیے اس عورت کو بھیجا ہے۔ وہ خوفِ خدا سے زار و قطار رونے لگے اتنا  
رونے اتنا روئے کہ وہ عورت شرمندہ ہو کر واپس چلی گئی۔ حضرت سلیمان بن یسار رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ مصیبت سے جان  
چھوٹی۔ رات کو سوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا مبارک باد ہو تم نے ولی ہو کر  
وہ کام کر دکھایا جو ایک نبی نے کیا تھا۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک امیر شخص تھا جس کی بیوی رشک تھری اور پری چہرہ تھی۔ اس  
عورت کو اپنے حسن پر بڑا ناز تھا۔ ایک مرتبہ بناؤ سنگھار کرتے ہوئے اس نے نازخڑے سے اپنے شوہر سے کہا کہ کوئی شخص ایسا نہیں جو مجھے  
دیکھے اور میری طمع نہ کرے۔ خاوند نے کہا مجھے امید ہے کہ جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کو آزمائتی ہوں۔ یہ کون سا مشکل کام ہے۔ یہی گھوڑا اور  
یہی گھوڑے کا میدان۔ دیکھ لیتی ہوں جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کتنے پانی میں ہیں۔ خاوند نے اجازت دے دی۔

وہ عورت بن سنور کر جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور ایک مسئلہ پوچھنے کے بہانے چہرے سے نقاب کھول دیا۔ جنید  
بغدادی رضی اللہ عنہ کی نظر بڑی تو انہوں نے زور سے اللہ کے نام کی ضرب لگائی۔ اس عورت کے دل میں یہ نام پیوست ہو گیا۔ اس کے دل کی  
حالت بدل گئی وہ اپنے گھر واپس آئی اور سب نازخڑے چھوڑ دیئے۔ زندگی کی صبح و شام بدل گئی۔ سارا دن قرآن مجید کی تلاوت کرتی اور  
ساری رات مصلے پر کھڑے ہو کر گزار دیتی۔ خشیتِ الہی اور محبتِ الہی کی وجہ سے آنسوؤں کی لڑیاں اس کے رخسار پر بہتی رہتیں۔ اس  
عورت کا خاوند کہا کرتا تھا کہ میں نے جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کا کیا باکاڑا تھا کہ اس نے میری بیوی کو راہبہ بنا دیا اور میرے کام کا نہ چھوڑا۔

### (۴۲) بد نظری سے توفیق عمل چھن جاتی ہے

حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رضی اللہ عنہ فرماتے تھے:

”بد نظری نہایت ہی مہلک مرض ہے۔ ایک تجربہ تو میرا بھی اپنے بہت سے احباب پر ہے کہ ذکرِ شغل کی ابتداء میں لذت و جوش کی  
کیفیت ہوتی ہے مگر بد نظری کی وجہ سے عبادت کی حلاوت اور لذت فنا ہو جاتی ہے اور اس کے بعد رفتہ رفتہ عبادت کے چھٹنے کا ذریعہ بھی  
بن جاتا ہے۔“ (آپ جی: ۶: ۴۱۸)

مثال کے طور پر اگر صحت مند جوان شخص کو بخار ہو جائے اور اترنے کا نام ہی نہ لے تو لاغری اور کمزوری کی وجہ سے اس کے لیے چلنا  
پھرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کوئی کام کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ بستر پر پڑے رہنے کو جی چاہتا ہے۔ اسی طرح جس شخص کو بد نظری کی بیماری لگ

جائے وہ باطنی طور پر کمزور ہو جاتا ہے۔ نیک عمل کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس سے عمل کی توفیق چھین لی جاتی ہے نیک کام کرنے کی نیت بھی کرتا ہے تو بد نظری کی وجہ سے نیت میں فتور آ جاتا ہے۔ بقول شاعر:

تیار تھے نماز کو ہم سن کے ذکر حور جلوہ بتوں کا دیکھ کر نیت بدل گئی

### (۴۳) بد نظری سے قوتِ حافظہ کمزور ہوتا ہے

حضرت مولانا غلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ غیر محرم عورتوں کی طرف یا نو عمر لڑکوں کی طرف شہوت کی نظر ڈالنے سے قوتِ حافظہ کمزور ہو جاتی ہے اس کی تصدیق کے لیے یہ ثبوت کافی ہے کہ بد نظری کرنے والے حافظ کو منزل یا دہلیس رہتی اور جو طلباء حفظ کر رہے ہوں ان کے لیے سبق یاد کرنا مصیبت ہوتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد امام کو امام و کعب رحمۃ اللہ علیہ سے قوتِ حافظہ میں کمی کی شکایت کی تو انہوں نے مصیبت سے بچنے کی وصیت کی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس گفتگو کو شعر کا جامہ پہناتے ہوئے فرمایا:

شَكْوَتٌ إِلَىٰ وَكَيْفِ سَوْءِ حِفْظِي      فَأَوْصَانِي إِلَىٰ تَرْكِ الْمَعَاصِي  
فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَهِي      وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَىٰ لِعَاصِي

(میں نے امام و کعب رحمۃ اللہ علیہ سے اپنے حافظے کی کمی کی شکایت کی۔ انہوں نے یہ وصیت کی کہ اے طالب علم گناہوں سے بچ جاؤ کیونکہ علم اللہ تعالیٰ کا نور ہے اور اللہ تعالیٰ کا نور کسی گنہگار کو عطا نہیں کیا جاتا۔)

### (۴۴) دل و دماغ کو چوٹ پہنچانے والا قصہ

کہتے ہیں کہ اورنگ زیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بہرہ پیا آتا تھا، وہ مختلف روپ بدل کر آتا تھا۔ اورنگ زیب ایک فرزند و تجربہ کار شخص تھے جو اس طویل و عریض ملک پر حکومت کر رہے تھے، اس کو پہچان لیتے، وہ فوراً کہہ دیتے کہ تو فلاں ہے، میں جانتا ہوں۔ وہ ناکام رہتا، پھر دوسرا بھیج دیا اور کہتے میں نے پہچان لیا تو فلاں کا بھیج دیا کہ آیا ہے تو تو فلاں ہے، بہرہ پیا عاجز آ گیا، آخر میں کچھ دنوں تک خاموش رہی، ایک عرصہ تک وہ بادشاہ کے سامنے نہیں آیا، سال دو سال کے بعد شہر میں یہ افواہ گرم ہوئی کہ کوئی بزرگ آئے ہوئے ہیں اور وہ فلاں پہاڑ کی چوٹی پر خلوت نشین ہیں، چلہ کھینچے ہوئے ہیں، بہت مشکل سے لوگوں سے ملتے ہیں۔ کوئی بڑا خوش قسمت ہوتا ہے، جس کا وہ سلام یا نذرانہ قبول کرتے ہیں اور اس کو باریابی کا شرف بخشتے ہیں۔ بالکل یکسو اور دنیا سے گوشہ گیر ہیں۔ بادشاہ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک کے مکتب کے پروردہ تھے، اور ان کو اتباع سنت کا خاص اہتمام تھا۔ وہ اتنی جلدی کسی کے معتقد ہونے والے نہیں تھے، انہوں نے اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا، ان کے اراکین دربار نے کئی بار عرض کیا کہ کبھی جہاں پناہ بھی تشریف لے چلیں اور بزرگ کی زیارت کریں اور ان کی دعائیں، انہوں نے ٹال دیا دو چار مرتبہ کہنے کے بعد بادشاہ نے فرمایا کہ اچھا بھئی چلو کیا حرج ہے، اگر خدا کا کوئی مخلص بندہ ہے اور خلوت گزیر ہے تو اس کی زیارت سے فائدہ ہی ہوگا، بادشاہ تشریف لے گئے اور مودب ہو کر بیٹھ گئے اور دعا کی درخواست کی اور ہدیہ پیش کیا، درویش نے لینے سے معذرت کی۔ بادشاہ وہاں سے رخصت ہوئے تو درویش کھڑے ہو گئے اور آداب بجالائے، فرشی سلام کیا اور کہا کہ جہاں پناہ! مجھے نہیں پہچان سکے، میں وہی بہرہ پیا ہوں جو کئی بار آیا اور سرکار پر میری قلمی کھل گئی، بادشاہ نے اقرار کیا، کہا بھائی بات تو ٹھیک ہے، میں اب کہ نہیں پہچان سکا لیکن یہ بتاؤ کہ میں نے جب تمہیں اتنی بڑی رقم پیش کی جس کے لیے تم یہ سب کمالات دکھاتے تھے، تو تم نے کیوں نہیں قبول کیا؟ اس نے کہا سرکار میں نے جن کا بھیج بدلاتھا ان کا یہ شیوہ نہیں، جب میں ان کے نام پر بیٹھا اور میں نے ان کا کردار ادا کرنے کا بیڑہ اٹھایا تو پھر مجھے شرم آئی کہ میں جن کی نقل کر رہا ہوں، ان کا یہ طرز نہیں کہ وہ بادشاہ کی رقم قبول کریں، اس لیے میں نے نہیں قبول کیا۔ اس واقعہ سے دل و دماغ کو ایک چوٹ لگتی ہے کہ ایک بہرہ پیا یہ کہہ سکتا ہے

تو پھر سنجیدہ لوگ، صاحب دعوت انبیاء علیہم السلام کی دعوت قبول کر کے ان کا مزاج اختیار نہ کریں، یہ بڑے ستم کی بات ہے۔ میں نے یہ لطفہ تفریح طبع کے لیے نہیں بلکہ ایک حقیقت کو ذرا آسان طریقہ پر نشین کرنے کے لیے سنایا۔ ہم داعی و مبلغ ہوں، یادین کے ترجمان یا شارح۔ ہمیں یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ یہ دین اور دعوت ہم نے انبیاء علیہم السلام سے اخذ کی ہے، اگر انبیاء علیہم السلام یہ دعوت لے کر نہ آتے تو ہم کو اس کی ہوا بھی نہ لگتی۔

### (۲۵) عورت اذان کیوں نہیں دے سکتی

عورت کی آواز اگرچہ ستر نہیں ہے بوقت ضرورت وہ غیر محرم مرد سے گفتگو کر سکتی ہے یا فون سن سکتی ہے، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ اس کی آواز میں کشش ہوتی ہے۔ اسی لیے فقہانے عورت کو اذان دینے سے منع کیا چونکہ اذان خوش الحانی کے ساتھ دی جاتی ہے۔ اس سے فتنہ پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس کا ثبوت اس بات سے ملتا ہے کہ ایک ریڈیو اناڈنسر کے کئی نادیدہ عاشق ہوتے ہیں۔ آواز کا جادو بھی اپنا اثر دکھاتا ہے اس لیے غیر محرم سے بات چیت کے دوران مناسب لہجے میں بات چیت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جو عورتیں مجبوری کی وجہ سے خرید و فروخت اور لین دین کا کام خود کرتی ہیں وہ بہت خطرے میں ہوتی ہیں۔ دکاندار، درزی، جیولرز، خیاری والا، رنگریز، ڈاکٹر اور حکیم سے بہت محتاط انداز میں بات کرنی چاہیے۔ مرد لوگ تو پہلے ہی عورت کو شیشے میں اتارنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اگر کوئی عورت ذرا سا ڈھیلا پن دکھائے تو بات بہت دور نکل جاتی ہے۔ جیولرز کا کام تو ویسے ہی زیب و زینت کے متعلق ہوتا ہے۔ کئی عورتیں انگوٹھی اور چوڑیاں خرید کر مرد سے کہتی ہیں کہ پہنا دیں۔ جب ہاتھ ہی ہاتھ میں دے دیا تو پیچھے کیا رہا۔

مجھے سہل ہو گئیں منزلیں تو خزاں کے دن بھی بدل گئے  
ترا ہاتھ ہاتھ میں آ گیا تو چراغ راہ کے جل گئے  
ڈاکٹر یا حکیم کو بیماری کے متعلق کیفیات بتاتی ہوں تو نہایت احتیاط برتی جائے ایسا نہ ہو کہ جسم کا علاج کرواتے کرواتے دل کا روگ لگا بیٹھیں۔ کئی ڈاکٹر حضرات مریضہ کا علاج کرتے ہوئے خود مریض عشق بن جاتے ہیں۔

بعض لوگ اپنی نوجوان بچیوں کو مرد استاد کے پاس ٹیوشن پڑھنے بھیجتے ہیں یا انہیں ٹیوشن پڑھانے اپنے گھر بلاتے ہیں۔ دونوں صورت میں نتائج برے ہوتے ہیں۔ شرع شریف سے غفلت برتنے کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ شاگرد کو استاذ کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے کا موقع ملتا ہے تو شیطان مشورہ دیتا ہے کہ کتابیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کی شخصیات کے بارے میں بھی معلومات حاصل کرو۔ جب پرسن لائف کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں تو حرام کاری کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ٹیوشن پڑھنی تھی ٹینشن پلے پڑ گئی۔ مردوں کو بھی عورتوں سے گفتگو کرتے وقت احتیاط کرنی چاہیے علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ:

هُنَّ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُخَضَّعَ الرَّجُلُ بغيرِ امرِها أَنْ يَلْمُنَ لَهَا بِالْقَوْلِ بَمَا يَطْمَعُهَا مِنْهُ

ترجمہ: ”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا ہے کہ مرد اپنی بیوی کے سوا کسی دوسری عورت کے سامنے نرمی سے بات چیت کرے جس سے عورت کو مرد میں دلچسپی پیدا ہو جائے۔“ (النبہا)

بعض لڑکیاں حالات کی مجبوری کا بہانا بنا کر دفتروں یا کارخانوں میں مرد حضرات کے شانہ بشانہ کام کرتی ہیں۔ شیطان کے لیے ان لڑکیوں کو زنا میں پھنسانا بانیں ہاتھ کا کھیل ہوتا ہے۔ اکثر اوقات تو افسر ہی عزت کا ستیا ناس کر دیتا ہے۔ ورنہ ساتھ مل کر کام کرنے والے لڑکے ہی میل ملاپ کی راہیں ڈھونڈ لیتے ہیں۔ مرد حضرات ایسی صورت حال پیدا کر دیتے ہیں کہ لڑکیوں کو گناہ میں لٹوٹا ہونا پڑتا ہے۔ ایک سختی کرتا ہے کہ تم اچھا کام نہیں کرتی تمہاری چھٹی کروادنی چاہیے۔ لڑکی ڈر جاتی ہے گھبرا جاتی ہے دوسرا نجات دہندہ بن جاتا ہے کہ میں تمہاری مدد کروں گا۔ کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ کچھ عرصہ کے بعد پتہ چلتا ہے کہ لڑکی نجات دہندہ کے پھندے میں پھنس چکی ہوتی ہے۔

دفتر میں کام کرنے والی لڑکیوں کو کم یا زیادہ ایسے ناپسندیدہ واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتیں، وہ نوکری پیشہ خواتین جو کم گو ہوتی ہیں۔ کسی مرد پر اعتبار نہیں کرتیں نہ ہی کسی سے اپنی زندگی کے بارے میں تبادلہ خیالات کرتی ہیں بس کام سے کام رکھتی ہیں۔ جو مردان سے (Loose Talk) یعنی آزاد گفتگو کرنے لگے اسے ڈانٹ پلا دیتی ہیں اگرچہ وہ دفتر میں سڑیل مشہور ہو جائیں مگر کم از کم اپنی عزت بچا لیتی ہیں۔ غیر محرم سے باتیں کرنا بھی زنا کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے حکم دیا ہے عورتوں کو کہ اگر انہیں کسی وقت غیر محرم مرد سے گفتگو کرنے کی ضرورت پیش آجائے تو اپنی آواز میں لوج اور نرمی پیدا نہ ہونے دیں۔ نہ ہی پر تکلف انداز سے چپا چپا کر اور الفاظ کو بنا سنوار کر باتیں کریں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَوَطِّعْنَ أَلْسِنَهُنَّ لِيُنْفِیْ قَلْبَهُنَّ مَرَضًا وَقَلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ (سورہ اتراب: ۳۳)

ترجمہ: ”اور نہیں چپا چپا کر باتیں کرو کہ جس کے دل میں روگ ہو وہ تمنا کرنے لگے اور تم معقول بات کرو۔“

عورت اگر پردے کی اوٹ میں بھی بات کرے تو آواز میں شیرینی اور جاذبت پیدا نہ ہونے دے بلکہ لب و لہجہ خشک ہی رکھے۔ ایسی لگی لٹی باتیں جن کو سن کر مرد کی شہوت بھڑکے ان سے عورت کو اجتناب کرنا ضروری ہے۔ غیر محرم مرد سے گفتگو نرمی اور ادا کے ساتھ نہ کی جائے بلکہ صاف کھلی اور دھلی بات ہو، مختصر ہو، جو بات دو فقروں میں کہی جاتی ہے اس کو ایک میں ہی کہے تو بہتر ہے، مرد کو بھی خواہ مخواہ ایک سے دوسری بات کرنے کی ہمت نہ ہو سکے۔ جب غیر محرم مرد اور عورت کے درمیان بے جھجک بات کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے تو معاملہ ایک قدم آگے اور بڑھتا ہے۔ یعنی ایک دوسرے کو دیکھنے کو دل چاہتا ہے۔ اس کی دلیل قرآن مجید سے ملتی ہے کہ انبیائے کرام تو ایک لاکھ چوبیس ہزار کے لگ بھگ آئے مگر ان میں سے کسی نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش ظاہر نہیں کی، صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا:

﴿رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرَ إِلَيْكَ﴾ (سورہ اعراف: ۱۴۳)

ترجمہ: ”اے میرے پروردگار مجھے اپنا دیدار کرا دیجئے۔“

مفسرین نے لکھا ہے کہ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بطور پر رب کریم سے ہم کلامی کے لیے جایا کرتے تھے۔ لہذا کلیم اللہ ہونے کی وجہ سے ان کے دل میں محبوب حقیقی کو دیکھنے کا شوق پیدا ہوا۔ اس سے ثابت ہوا کہ بات سے بات بڑھتی ہے، پہلے بات کرنے کا مرحلہ طے ہوتا ہے پھر دیکھنے کی نوبت آتی ہے، جب دیکھ لیا جائے تو ملاقات کا شوق پیدا ہوتا ہے دل کہتا ہے کہ۔

نہ تو خدا ہے نہ مرا عشق فرشتوں جیسا دونوں انسان ہیں تو کیوں اتنے تجابوں میں ملیں

جب تجاب اتر جاتا ہے تو میل ملاپ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جس کا نتیجہ ذلت در سوائی کے سوا کچھ نہیں۔

### ﴿۳۶﴾ بد نظری کے تین بڑے نقصانات

بد نظری سے انسان کے اندر نفسانی خواہشات کا طوفان اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور انسان اس سیلاب کی روش بہہ جاتا ہے۔ اس میں تین بڑے نقصانات وجود میں آتے ہیں:

① بد نظری کی وجہ سے انسان کے دل میں خیالی محبوب کا تصور پیدا ہو جاتا ہے۔ حسین چہرے اس کے دل و دماغ پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ وہ شخص چاہتا ہے کہ میں ان حسین شکلوں تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا مگر اس کے باوجود تجاہیوں میں ان کے تصور سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ تو گھنٹوں ان کے ساتھ خیال کی دنیا میں باتیں کرتا ہے معاملہ اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ۔

تم مرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا

بد نظری کے ساتھ ہی شیطان انسان کے دل و دماغ پر سوار ہو جاتا ہے اور اس شخص سے شیطانی حرکتیں کروانے میں جلدی کرتا ہے۔



جس طرح دیران اور خالی جگہ پر تند و تیز آندھی اپنے اثرات چھوڑتی ہے۔ اسی طرح شیطان بھی اس شخص کے دل پر اپنے اثرات چھوڑتا ہے۔ تاکہ اس دیکھی ہوئی صورت کو خوب آراستہ و مزین کر کے اس کے سامنے پیش کرے اور اس کے سامنے ایک خوبصورت بت بنا دے۔ ایسے شخص کا دل رات دن اسی بت کی پوجا میں لگا رہتا ہے وہ خادم آرزوں میں الجھا رہتا ہے۔ اسی کا نام شہوت پرستی، خواہش پرستی، نفس پرستی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَلَا تَطْعَمُ مَنْ أَغْفَلْنَ- اِقْلَبْهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبِعْ هَوْنَهُ وَكَانَ امْرُؤًا فَرُطَانًا﴾ (سورہ کہف: ۲۷)

ترجمہ: ”اور اس کا کہنا نہ مان جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا اور وہ اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے اور اس کا کام حد سے بڑھ گیا ہے۔“

ان خیالی معبودوں سے جان پھرائے بغیر نہ تو ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے نہ قرب الہی کی ہوا لگتی ہے۔ بقول شاعر ع  
بتوں کو توڑ تخیل کے ہوں کہ پتھر کے

① بد نظری کا دوسرا نقصان یہ ہے کہ انسان کا دل و دماغ متفرق چیزوں میں بٹ جاتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ اپنے صالح و منافع کو بھول جاتا ہے۔ گھر میں حسین و جمیل نیکو کار اور وفادار بیوی موجود ہوتی ہے مگر اس شخص کا دل بیوی کی طرف مائل ہی نہیں ہوتا۔ بیوی اچھی نہیں لگتی۔ ذرا ذرا سی بات پر اس سے الجھتا ہے، گھر کی فضا میں بے سکونی پیدا ہو جاتی ہے، جب کہ یہی شخص بے پردہ گھومنے والی عورتوں کو اس طرح لچھائی نظروں سے دیکھتا ہے جس طرح شکاری کتا اپنے شکار کو دیکھتا ہے۔ بسا اوقات تو اس شخص کا دل کام کاج میں بھی نہیں لگتا۔ اگر طالب علم ہے تو پڑھائی کے سوا ہر چیز اچھی لگتی ہے۔ اگر تاجر ہے تو کاروبار سے دل اکتا جاتا ہے۔ کئی گھنٹے سوتا ہے مگر پرسکون نیند سے محروم رہتا ہے۔ دیکھنے والے سمجھتے ہیں کہ سویا ہوا ہے جب کہ وہ خیالی محبوب کے تصور میں کھویا ہوا ہوتا ہے۔

② بد نظری کا تیسرا بڑا نقصان یہ ہے کہ دل حق و باطل اور سنت و بدعت میں تمیز کرنے سے عاری ہو جاتا ہے۔ قوت بصیرت چھن جاتی ہے۔ دین کے علوم و معارف سے محرومی ہونے لگتی ہے۔ گناہ کا کام اس کو گناہ نظر نہیں آتا۔ پھر ایسی صورت حال میں دین کے متعلق شیطان اس کو شکوک و شبہات میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اسے دینی نیک لوگوں سے بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں حتیٰ کہ اسے دینی شکل و صورت والے لوگوں سے ہی نفرت ہو جاتی ہے۔ وہ باطل پہ ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے اور بالآخر ایمان سے محروم ہو کر دنیا سے جہنم رسیدہ ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔

### (۴۷) بد نظری سے پرہیز کا خاص انعام

جو شخص اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لے اسے آخرت میں دو انعامات ملیں گے:

① ہر نگاہ کی حفاظت پر اسے اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔

② ایسی آنکھیں قیامت کے دن رونے سے محفوظ رہیں گی۔ حدیث پاک میں ہے:

نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ہر آنکھ قیامت کے دن رونے کی سوائے اس آنکھ کے جو خدا کی حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے سے بند رہے۔ اور وہ آنکھ جو خدا کی راہ میں جاگی رہے اور وہ آنکھ جو خدا کے خوف سے رونے کو اس میں سے کبھی کے سر کے برابر آنسو نکلتے۔

### (۴۸) حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ کی عجیب سوانح عمری حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے والد کا قصہ

بہت دنوں کی بات ہے۔ شہر حران میں ایک ترکی تاجر رہتا تھا۔ یہ بہت بڑا مالدار تھا۔ اس کے پاس انقور، انار اور سیب کے بڑے بڑے باغ تھے، شاندار کوشیاں تھیں، دولت کی ریل پیل تھی، عیش و آرام کی کون سی چیز تھی جو اس کے پاس نہ تھی۔ لوگ اسے دیکھ کر اس کی

زندگی پر رشک کرتے تھے۔ لیکن ایک فکرمندی جو اسے اندر ہی اندر کھا رہی تھی۔ دن رات وہ اسی فکر میں گھلتا، اپنے دوستوں اور عزیزوں سے مشورہ کرتا لیکن اس کی سمجھ میں کوئی بات نہ آتی اور کوئی فیصلہ نہ کر پاتا۔

بات یہ تھی کہ اس کی ایک نوجوان لڑکی تھی، بڑی ہی خوبصورت، نیک اور سلیقہ والی، ادب، تہذیب علم، ہنر، نیکی اور دینداری سب ہی خوبیاں اللہ نے اسے دے رکھی تھیں۔ گھر گھر سے اس کے پیغام آرہے تھے۔ چونکہ یہ ترکی تاجر ایک اونچے شریف خاندان کا آدمی تھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے مال و دولت بھی دے رکھا تھا۔ طبیعت میں نیکی اور بھلائی بھی تھی۔ اس لیے ہر ایک چاہتا تھا کہ وہ اس کی لڑکی کو بیاہ کر لائے لیکن ترکی تاجر کا دل کسی بھی لڑکے کے لیے نہ نکلتا تھا۔ بڑے بڑے گھرانوں کے پیغام آئے لیکن باپ نہ ہر جگہ انکار ہی کیا وہ جس قسم کے لڑکے سے اپنی بیاری بیٹی کی شادی کرنا چاہتا تھا، ابھی تک اسے ایسا کوئی لڑکا نہ مل سکا تھا۔

حضرت مبارک کی نیکی:

اس تاجر کے ایک باغ کی دیکھ بھال جو صاحب کرتے تھے ان کا نام مبارک تھا۔ تھے وہ بھی واقعی بڑے مبارک بڑے ہی نیک اور دیندار آدمی تھے۔ تاجر کے دل میں بھی ان کی بڑی عزت تھی اور ہر کام میں وہ ان پر بھروسہ کرتا تھا۔

ایک دن اتفاق سے یہ ترکی تاجر اپنے باغ میں گیا۔ مبارک وہاں اپنے کام میں لگے ہوئے تھے۔ مالک کو دیکھ کر جھٹ آئے، سلام کیا اور بات چیت ہونے لگی تھوڑی دیر بعد مالک نے کہا ”میاں مبارک! جاؤ ایک بیٹھا سا اتار توڑ لاؤ۔“ مبارک باغ میں گئے اور ایک خوبصورت بڑا سا اتار توڑ کر لائے؟“ مالک نے خفا ہو کر کہا ”یہ تو بیٹھا نہیں“ مبارک نے کہا ”حضور! اور توڑ لاؤں؟“ مالک نے کہا، ”ہاں جاؤ ذرا بیٹھا سا توڑ کر لاؤ۔ اتنے دن ہو گئے ابھی تک تمہیں یہ نہ معلوم ہوا کہ کس بیڑ کے اتار بیٹھے ہیں؟“ مالک نے کہا۔

”حضور! مجھے کیسے معلوم ہوتا؟ مجھے آپ نے کئے بیٹھے اتار چکے کے لیے تو نہیں مقرر کیا ہے۔ میرا کام تو صرف یہ ہے کہ باغ کی دیکھ بھال کروں، مجھے اس سے کیا مطلب کہ کس بیڑ کے اتار بیٹھے ہیں اور کس کے کئے!“

مبارک کی یہ بات سن کر مالک بہت خوش ہوا، دل ہی دل میں کہنے لگا، مبارک کیسا دیا نندار آدمی ہے! یہ تو آدمی نہیں فرشتہ لگتا ہے، بھلا ایسے لوگوں کا کام باغ کی حفاظت ہے؟ یہ شخص تو اس لائق ہے کہ ہر وقت میرے ساتھ رہے، ہر کام میں اس سے مشورہ لوں اور اس کی محبت میں رہ کر بھلائی اور نیکی سیکھوں۔

یہ سوچ کر اس نے مبارک سے کہا: ”بھائی تم میرے ساتھ کوٹھی پر چلو، آج سے تم وہیں کوٹھی میں میرے ساتھ رہنا، باغ کی حفاظت کے لیے کسی اور آدمی کو مقرر کر دیا جائے گا۔“ مبارک خوشی خوشی اپنے مالک کے ساتھ کوٹھی پر پہنچے اور آرام سے رہنے لگے۔ مالک بھی اکثر آ کر مبارک کی اچھی محبت میں بیٹھا، دین و ایمان کی باتیں سنتا، خدا رسول کا ذکر سنتا اور خوش ہوتا۔

ایک دن مبارک نے دیکھا کہ مالک کچھ سوچ رہا ہے۔ جیسے اسے کوئی بہت بڑی فکر ہو۔ پوچھا: ”بھائی کیا بات ہے؟ آج آپ بڑے فکرمند نظر آ رہے ہیں؟“ مالک جیسے اس سوال کا انتظار ہی کر رہا تھا۔ اس نے اپنی ساری پریشانی کی کہانی سنا ڈالی۔

مالک نے کہا ”مبارک بھائی! یہ بتاؤ، میں اب کیا کروں؟ بے شمار پیغام ہیں، کس سے اقرار کروں، اور کس سے انکار کروں؟ اسی فکر میں دن رات گھلتا ہوں اور کوئی فیصلہ نہیں کر پاتا۔“

مبارک نے کہا ”بے شک یہ فکر کی بات ہے۔ جوان لڑکی جب گھر میں بیٹھی ہو تو ماں باپ کو فکر ہوتی ہے۔ اگر مناسب رشتہ مل جائے تو زندگی بھر سکھ اور چین ہے اور کسی برے سے خدا نخواستہ پالا پڑ جائے تو زندگی بھر کا رونا ہے۔“

”پھر تم ہی کوئی حل بتاؤ“ مالک نے کہا۔

”حضور! میرے نزدیک تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کے لیے آپ دن رات غلیں اور اپنی صحت خراب کریں۔ ہم اور آپ خدا کا شکر ہے مسلمان ہیں، زندگی کے ہر معاملہ میں پیارے رسول ﷺ کی پاک زندگی ہمارے لیے بہترین اسوہ ہے۔ اس اسوہ پر جب بھی ہم عمل کریں گے ان شاء اللہ اچھائی ہی ہمارے سامنے آئے گی۔“ مبارک نے پورے اطمینان سے کہا۔ اچھا تو پھر بتاؤ پیارے رسول ﷺ کے اسوہ کی روشنی میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ یہ تو حقیقت ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان اس سے بہترین اسوہ سے منہ موڑے گا ذلیل ہوگا۔ مالک نے کہا: ”دیکھئے جہاں تک اسلام سے پہلے کے لوگوں کا تعلق ہے، یہ لوگ عزت، شہرت اور خاندانی بڑائی ڈھونڈتے تھے۔ یہودی لوگ مال پر جان چھڑکتے تھے، اور عیسائی خوبصورت اور حسن تلاش کرتے تھے۔ لیکن مسلمانوں کو پیارے رسول نے تاکید کی ہے تم رشتہ کرتے وقت ہمیشہ نیکی اور دین داری کو دیکھنا۔“ مالک یہ سن کر خوشی سے اچھل پڑا اور کہا ”مبارک بھائی! خدا کی قسم تم نے میرا سارا غم دھو دیا۔ جیسے اب مجھے کوئی فکر ہی نہیں ہے۔“

### مبارک کی شادی:

وہ خوشی خوشی گھر پہنچا۔ بیوی کو سارا قصہ سنایا۔ وہ بھی خوش ہوئی اور مبارک کی نیکی اور سوجھ بوجھ کی تعریف کرنے لگی۔ ترکی تاجر نے موقع مناسب پا کر بیوی سے کہا ”پھر ہم کیوں نہ اپنی پیاری بیٹی کا نکاح مبارک ﷺ سے کر دیں۔“

”ہائیں کیا کیا؟ گھر کے نوکر سے اگلام سے! دنیا کیا کہے گی۔“ بیوی چلائی۔

”کیا حرج ہے اگر نوکر ہے؟ پیارے رسول ﷺ نے فرمایا ہے، تم نیکی اور دینداری کو دیکھو۔ خدا کی قسم مجھے تو اس کسوٹی کے لحاظ سے پورے شہر حران میں مبارک سے زیادہ نیک اور دیندار نظر نہیں آتا۔ بڑا ہی سمجھدار اور دیندار آدمی ہے۔ اگر پیارے رسول ﷺ سے ہیں، اور ان کا کہا ماننے میں بھلائی ہے، تو ہمیں دنیا سے بے فکر ہو کر اپنے جگر گوشے کو مبارک کے حوالے کر دینا چاہیے اور اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو گویا ہم خود ہی اپنے عمل سے پیارے رسول ﷺ کی بات کو جھٹلائیں گے۔ ترکی تاجر نے اطمینان اور یقین سے کہا۔

شوہر کا یہ عزم دیکھ کر اور سیدھی اور سچی بات سن کر بیوی بھی دل سے راضی ہو گئی۔ اور حران کے رئیس کی اس چاندی لڑکی کی شادی ایک ایسے غریب سے رچائی گئی، جس کے پاس نہ روپیہ پیسہ تھا نہ کوئی گھر، اور نہ ہی کسی اونچے گھرانے سے اس کا تعلق تھا۔ اس کے پاس اگر کوئی دولت تھی تو ایمان و اسلام کی، نیکی اور تقویٰ کی۔ یہ وہی لڑکی تھی جس کے لیے حران کے بڑے بڑے رئیسوں نے پیغام بھیجے، اونچے اونچے خاندانی لڑکوں نے پیغام بھیجے۔ لیکن مبارک کی نیکی اور تقویٰ کے مقابلے میں ہر ایک نے شکست کھائی۔

### حضرت عبداللہ کی پیدائش:

مبارک کی شادی ہو گئی۔ اور دونوں میاں بیوی خوشی خوشی رہنے لگے۔ مبارک جیسے خود نیک تھے، ویسے ہی ان کی بیوی بھی ہزاروں لاکھوں میں ایک تھی۔ تھوڑے دنوں کے بعد اللہ نے ان کو ایک چاند سا بیٹا دیا۔ ماں باپ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی، بیٹے کا نام عبداللہ رکھا اور وہ واقعی عبداللہ ہی ثابت ہوا۔ یہ وہ عبداللہ ہیں جن کے علم و تقویٰ کی پوری دنیا میں دھوم ہوئی۔ جو مشرق و مغرب کے عالم کہلائے۔ جو اسلام کا چلن پھرتا نمونہ تھے۔ اور عبدالرحمن بن مہدیؒ اور احمد بن حنبلؒ جیسے بزرگ ان کے شاگرد تھے۔ تھوڑے دن کے بعد اس ترکی تاجر کا انتقال ہو گیا، اور اس کے مال و دولت کا ایک بڑا حصہ حضرت عبداللہ کے والد حضرت مبارک کو ملا یہ ساری دولت حضرت عبداللہ کے کام آئی۔ نیک باپ نے بیٹے کی تعلیم پر ساری دولت بہادی، اور خدا کا کرنا کہ حضرت عبداللہؒ حدیث کے امام کہلائے۔

### وطن:

حضرت عبداللہ کا اصلی وطن مرد ہے اسی وجہ سے ان کو مردزی کہتے ہیں۔ مردوخراسان میں مسلمانوں کا بہت پرانا شہر ہے۔ یہاں کبھی

اسلامی تعلیم اور دینداری کا دور دورہ تھا۔ ہر طرف دین و ایمان کے چہرے تھے۔ بڑے بڑے عالم اور بزرگ یہاں پیدا ہوئے۔ جنہوں نے اللہ کے دین اور رسول پاک ﷺ کی احادیث کی خوب خدمت کی۔

### ابتدائی زندگی:

نیک ماں باپ نے حضرت عبداللہ کی تعلیم و تربیت میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ شروع ہی سے انتہائی شفقت و محبت سے ان کی پرورش کی۔ دین و اخلاق کی باتیں سکھائیں۔ نیکی اور بھلائی کی تعلیم دی۔ قرآن شریف سمجھا سبھا کر پڑھایا، پیارے رسول ﷺ کی حدیثیں پڑھائیں اور ہر طرح ایک بھلا انسان بنانے کی کوشش کی۔ ماں باپ خود نیک تھے، اور ان کی یہ دلی تمنا تھی کہ ان کا بیٹا بھی دنیا میں نیک بن کر چکے۔ لیکن شروع میں ان کی تمام کوششیں بے کار گئیں۔ عبداللہ دن رات کھیل کود میں مست رہتے ہر کام میں لاپرواہی برتتے، ہر وقت برائیوں میں پھنسے رہتے، گانا بجانا اور عیش اڑانا ہی ان کا دن رات کا محبوب مشغلہ تھا، اور جوانی میں تو یار دوستوں کے ساتھ پینا پلانا بھی شروع ہو گیا۔ رات رات بھر دوستوں کی مٹھلیں جی رہتیں، ستارہ بجتے، گانا ہونا اور شراب کا دور چلنا۔

### اللہ کی رحمت نے عبداللہ کا ہاتھ پکڑا:

حضرت عبداللہ کی یہ گناہی زندگی دیکھ کر ماں باپ کی بری حالت تھی۔ نہ کھانا اچھا لگتا نہ پینا۔ اندر ہی اندر کڑھتے اور روتے۔ بیٹے کی تربیت کے لیے انہوں نے کیا کچھ نہ کیا تھا لیکن انسان کے بس میں کیا ہے۔ دلوں کا پھیرنا تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ اب بھی جوان سے بن آتا کرتے رہے۔ نذریں ماننے، عہدے دیتے، اللہ سے رورو کر دعائیں کرتے۔

ایک رات عبداللہ کے سارے یار دوست جمع تھے۔ گانے بجانے کی محفل خوب گرم تھی۔ شراب کے دور پر دور چل رہے تھے اور ہر ایک نشے میں مست تھا۔ اتفاق سے حضرت عبداللہ کی آنکھ لگ گئی۔ اور انہوں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا کیا دیکھتے ہیں کہ ایک لمبا چوڑا خوبصورت باغ ہے اور ایک ٹہنی پر ایک بیاری چڑیا بیٹھی ہوئی ہے، اور اپنی سریلی آواز میں قرآن شریف کی یہ آیت پڑھ رہی ہے:

﴿ اَلَمْ يَكُنْ لِلَّذِينَ اٰمَنُوا اَنْ تَغْشَمَ قُلُوْبُهُمْ لِيُنْذِرَ اللّٰهُ ﴾ (سورہ حدید: ۱۶)

ترجمہ: ”کیا ابھی تک وہ گھڑی نہیں آئی کہ اللہ کا ذکر سن کر مسلمانوں کے دل لرز جائیں اور نرم پڑ جائیں۔“

حضرت عبداللہ گھبرائے ہوئے اٹھے۔ ان کی زبان پر یہ بول جاری تھی۔ ”اللہ تعالیٰ وہ گھڑی آگئی ہے۔“ اٹھے شراب کی بوتلیں پک دیں، چنگ و ستارچہ کر دیئے رنگین کپڑے پھاڑ ڈالے اور غسل کر کے سچے دل سے توبہ کی اللہ سے پکا عہد کیا کہ اب کبھی تیری نافرمانی نہ ہوگی۔ پھر کبھی کسی برائی کے قریب نہ پھسکے اور گناہوں سے ایسے پاک ہو گئے کہ گویا کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہ تھا۔ سچ ہے توبہ ہے ہی ایسی چیز۔ اگر آدمی سچے دل سے اللہ سے عہد کر لے اور برائیوں سے بچنے کا پکا ارادہ کر لے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی مدد فرماتا ہے اور نیکی کی راہ سمجھاتا ہے، پھر نیکی کی راہ پر چلنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اور برائی کی راہ پر جانا اتنا مشکل ہو جاتا ہے جتنا دیکتی ہوئی آگ میں کود پڑنا۔ آدمی کو کبھی بھی اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہونا چاہیے۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ عبداللہ رات رات بھر گناہوں میں لت پت رہتے، خدا اور رسول کی نافرمانی کرتے، اور ہر ایک کو ان کی زندگی سے گھن آتی۔ لیکن جب انہوں نے سچے دل سے توبہ کی، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوئے اور اپنے اللہ سے پختہ عہد کیا کہ اب جیتے جی کبھی برائی کے قریب بھی نہ پھنکیں گے تو اللہ کی رحمت نے ان کا ہاتھ پکڑا، نیکی کی راہ پر لگایا اور وہ ایسے نیکیوں کے نیک بنے کہ اپنے زمانے کے تمام علماء نے ان کو اپنا سردار مانا۔ حدیث کے امام کہلائے۔ اور آج تک دنیا ان کی نیکی اور علم سے قائمہ اٹھاتی ہے۔

حضرت عبداللہ 118ھ میں پیدا ہوئے اور 181ھ میں انتقال ہوا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ نہ تو اتنے علوم مرتب ہوئے تھے، نہ سائنس کی یہ تحقیقات سامنے آئی تھیں، نہ اتنے فنون ایجاد ہوئے تھے۔ نہ باقاعدہ اسکول اور کالج تھے نہ بڑی بڑی یونیورسٹیاں تھیں۔ بس جگہ جگہ دین کے کچھ علماء تھے، جو قرآن و حدیث کے ماہر تھے، دین کا گہرا علم رکھتے تھے، اور بغیر کچھ فیس لیے لوگوں کو اللہ کا دین سکھاتے تھے، دور دور سے طالب علم سفر کر کے ان کے پاس پہنچنے ان کی صحبت میں رہتے اور ان سے علم حاصل کرتے۔ اس زمانہ کا علم نہ تو دولت کمانے کے لیے تھا۔ اور نہ ملازمتیں حاصل کرنے کے لیے۔ لوگ اپنے شوق سے پڑھتے، اپنی دولت لٹا کر علم سیکھتے اور پھر پوری بے نیازی کے ساتھ بغیر کسی طلب کے دوسروں کو سکھاتے۔ دوسروں تک دین پہنچانا اور دین کی باتیں سکھانا، اہل نادانی فرض سمجھتے۔

یہ لوگ خوب جانتے تھے کہ دین کا علم حاصل کرنا اور پھیلا کر مسلمانوں کا فرض ہے اور خدا کے نزدیک سب سے اچھا اور پسندیدہ کام بھی ہے کہ آدمی علم کی روشنی حاصل کرے، جہالت کے اندھیروں سے نکلے۔ خود علم کی روشنی میں چلے اور دوسروں کو چلائے۔ اللہ کا دین سیکھ کر لوگوں کو سکھائے، لیکن لوگوں سے کچھ بدلہ نہ چاہے، صرف اللہ سے بدلہ چاہے۔ اسی پاک نیت سے یہ لوگ خود علم حاصل کرتے اور اسی نیت سے دوسروں کو سکھاتے۔ اس زمانہ میں لوگ قرآن، حدیث، فقہ، ادب، شعر، نحو، سب ہی کچھ پڑھتے اور سیکھتے تھے۔ لیکن خاص طور پر حدیث کا بڑا چرچا تھا۔ پیارے رسول ﷺ کی حدیثیں معلوم کرنا، ان کو جمع کرنا، سمجھنا اور یاد رکھنا۔ اسی پر لوگوں کی ساری توجہ رہتی تھی۔ اس کو سب سے بڑا کام سمجھتے تھے اور حقیقت بھی یہ ہے کہ یہ بہت بڑا علمی اور دینی کام تھا جو ان بزرگوں نے انجام دیا۔

حدیث:

پیارے رسول ﷺ نے اپنی مبارک زندگی میں جو کچھ کیا، اور فرمایا، پیارے صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس کو دیکھا۔ سنا، یاد رکھا اور اس پر عمل کیا۔ اسی کا نام حدیث ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم چونکہ دین کی تبلیغ کے لیے مختلف شہروں میں پھیل گئے تھے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے ملکوں ملکوں گھومتے تھے اس لیے حدیث کا شوق رکھنے والے ان کے چہ معلوم کر کے دور دور سے سفر کر کے ان کے پاس پہنچتے، ان سے حدیثیں سنتے، لکھتے اور یاد کرتے۔ صحابہ کرام کو دیکھنے والے ان بزرگوں کو تابعین کہتے ہیں۔ پھر رسول پاک ﷺ کے پیارے صحابہ رضی اللہ عنہم جب دنیا سے رخصت ہو گئے تو تابعین کا زمانہ آیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے خود حدیثیں سنی تھیں، سمجھی تھیں اور خود اپنی آنکھوں سے ان نیک صحابہ رضی اللہ عنہم کا دیدار کیا تھا۔ جن کی زندگی حدیث رسول ﷺ کی جی تصویر تھی۔ یہ لوگ مختلف ملکوں اور شہروں میں پھیلے ہوئے تھے، جگہ جگہ ان کے علم کی شمع روشن تھی اور حدیث رسول ﷺ کے پر دانے دور دور سے سفر کی سختیاں جھیلتے ہوئے ان کے پاس پہنچنے ان کے دیدار سے آنکھیں ٹھنڈی کرتے، پیارے رسول ﷺ کی پیاری باتیں سنتے اور اسی روشنی کو گھر گھر پہنچانے کا عزم لے کر واپس لوٹتے۔ ان لوگوں کو تبع تابعین بھی کہتے ہیں۔

فقہ:

تابعین اور تبع تابعین نے قرآن و حدیث کو سمجھنے میں اپنی پوری پوری عمریں کھپائیں قرآن و حدیث کی باریکیوں کو خوب سمجھا۔ ان کا گہرا علم حاصل کیا اور ان کی تہ تک پہنچنے کے لیے اپنی زندگیاں گزاریں۔ لیکن قرآن و حدیث میں یہ تو ہے نہیں کہ انسان کی ضرورت کے سارے چھوٹے بڑے مسئلے بیان کر دیئے گئے ہوں، ان میں تو موٹی موٹی اصولی باتیں بیان کی گئی ہیں۔ اس لیے ان بزرگوں کا ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے ایک نیا علم ایجاد کیا، اور قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی راہ آسان کی۔

ہماری زندگی کی بے شمار ضرورتیں ہیں، قدم قدم پر ہمیں یہ معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا اور رسول ﷺ کا حکم کیا ہے؟ شریعت کا مسئلہ کیا ہے؟ کس راہ پر چلنا اسلام کے مطابق ہے اور کس راہ پر چلنا اسلام کے خلاف ہے؟ ان بزرگوں نے ہماری ایک ایک ضرورت کو سامنے رکھ کر قرآن و حدیث سے شریعت کے مسئلے اور احکام سمجھنے کے اصول بنائے اور تفصیل کے ساتھ وہ مسئلے اور احکام کتابوں میں جمع کیے۔ اسی علم کا نام ”فقہ“ ہے۔ فقہ کے معنی ہیں ”سوجھ بوجھ“ اس علم کو فقہ اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث سے زندگی کے ہر معاملے کے لیے نکالنا اور قرآن و حدیث کی غشا کو بھٹاننا بڑا سوجھ بوجھ کا کام ہے۔ اس کے لیے دین کے گہرے علم اور انتہائی سوجھ بوجھ کی ضرورت ہے۔ فقہ جاننے والوں اور قرآن و حدیث سے احکام معلوم کرنے والوں کو فقہ کہتے ہیں۔

ان بزرگوں کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ ان ہی کی محنت اور کوشش کا نتیجہ ہے کہ ہم زندگی کے ہر معاملے میں انتہائی آسان اور اطمینان کے ساتھ دین پر عمل کر سکتے ہیں۔ خدا اور رسول ﷺ کی مرضی پر عمل کر سکتے ہیں اور دین و دنیا کے لحاظ سے ایک کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں۔ رہتی زندگی تک مسلمان ان کی محنتوں اور کوششوں سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، ان کی قدر کریں گے، ان کے احسان مند رہیں گے اور ان کے اس کارنامے پر فخر کرتے رہیں گے۔

مبارک کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تیرنے لگے:

حضرت عبداللہ کا وطن مروخرا سان کا ایک مشہور علمی شہر ہے۔ جہاں بڑے بڑے عالم موجود تھے۔ ہر طرف علم کا چرچا تھا۔ پھر ان کے والدین کی انتہائی خواہش بھی یہ تھی کہ ان کا پیارا بیٹا علم کے آسمان پر سورج بن کر چمکے۔ اس کے لیے شروع ہی سے حضرت کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی گئی اور زمانے کے رواج کے مطابق ان کو پڑھانے لکھانے کی پوری پوری کوشش کی گئی۔ دراصل علم کا شوق ان کو جوانی میں ہوا۔ کئی مبارک تھی وہ گھڑی جب حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق بخشی اور ان کی زندگی میں ایک پاکیزہ انقلاب آیا اور ہر طرف سے منہ پھیر کر وہ پوری یکسوئی کے ساتھ دین کا علم حاصل کرنے میں لگ گئے اور پھر تو ان کے شوق کا یہ حال ہوا کہ اپنا سب کچھ علم کی راہ میں لٹا دیا۔ ایک مرتبہ ان کے والد نے کاروبار کے لیے ان کو پچاس ہزار روپے دیئے۔ حضرت نے وہ رقم لی اور سفر پر چل دیئے۔ دور دور ملکوں کے سفر کیے۔ بڑے بڑے عالموں کی خدمت میں پہنچے، ان سے فیض حاصل کیا اور حدیث رسول ﷺ کے دفتر کے دفتر جمع کر کے گھر واپس آئے۔

حضرت مبارک رضی اللہ عنہ بیٹے کی آمد کی خبر سن کر استقبال کے لیے گئے۔ پوچھا ”کو بیٹے تمہاری سفر کیسا رہا؟ کیا کچھ کمایا؟“ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے نہایت اطمینان اور شجیدگی سے جواب دیا ”ابا جان! خدا کا شکر ہے، میں نے بہت کچھ کمایا۔ لوگ تو ایسی تجارتوں میں رقم لگاتے ہیں جن کا نفع بس اس دنیا کی زندگی ہی میں ملتا ہے۔ لیکن میں نے اپنی رقم ایسی تجارت میں لگائی ہے جس کا فائدہ دونوں جہاں میں ملے گا۔“ حضرت مبارک رضی اللہ عنہ بیٹے کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوئے۔ پوچھا: ”وہ کون سی تجارت ہے جس کا نفع تمہیں دونوں جہاں میں ملے گا؟“ حضرت عبداللہ نے حدیث کے دفتروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ”یہ ہے وہ دونوں جہاں میں نفع دینے والا مال، پیارے رسول ﷺ کے علم کا خزانہ۔ میں نے اسی خزانے کو حاصل کرنے میں اپنی ساری دولت لگا دی۔“ حضرت مبارک کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ آنکھوں میں خوشی کے آنسو تیرنے لگے۔ اٹھے بیٹے کو گلے لگایا۔ دعائیں دیں۔ اللہ کا شکر ادا کیا۔ بیٹے کو گھر لے گئے اور تیس ہزار کی اور رقم دے کر کہا ”بیٹے! یہ لو، اور اگر تمہاری کامیاب تجارت میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو اس کو پورا کر لو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تجارت میں برکت دے اور اس کے نفع سے دونوں جہاں میں تمہیں مالا مال کرے۔“ (آمین)

علم کے لیے سفر:

حضرت عبداللہ نے رسول اللہ ﷺ کی حدیثیں جمع کرنے کے لیے بہت دور دور کے سفر کیے، شہر شہر گھومتے، ملک ملک کی خاک

چھانٹے، جہاں کسی بڑے عالم کا ذکر سنتے، بس وہیں پہنچنے کی ٹھان لیتے اور حدیث رسول اللہ ﷺ کے موتیوں سے اپنے دامن کو بھرنے کی کوشش کرتے۔ شام، مصر، کوفہ، بصرہ، یمن، حجاز کون سا ملک تھا جہاں حضرت عبداللہ ﷺ علم کے شوق میں نہ پہنچے ہوں۔ علم کے لیے آپ نے مصیبتیں جھیلیں۔ کیونکہ اس زمانہ کا سفر آج کل کا سا تو تھا نہیں کہ تیز رفتار سوار یوں میں بیٹھ کر چند گھنٹوں میں آدی کہیں سے کہیں پہنچ جائے۔ اس زمانہ میں یا تو لوگ پیدل چلتے یا پھر اونٹوں اور چروں پر سفر کرتے۔ اور ایک شہر سے دوسرے شہر تک پہنچنے میں مہینوں لگ جاتے۔ لیکن حضرت عبداللہ ﷺ حدیث کے شوق میں ان تکلیفوں سے ہرگز نہ گھبراتے، راستے کی دشواریوں نے کبھی ان کے قدم نہ روکے۔ وہ اپنے زمانے کے تمام بڑے اور ممتاز عالموں کے پاس پہنچے، اور حدیث رسول ﷺ کے ان زعمہ چشموں سے علم کی پاس بجھائی۔ حضرت کے مشہور شاگرد امام احمد بن حنبلہ فرماتے ہیں ”دین کا علم حاصل کرنے کے لیے حضرت عبداللہ ﷺ سے زیادہ سفر کرنے والا ان کے زمانہ میں کوئی اور نہ تھا۔“ حضرت عبداللہ ﷺ کا خود اپنا بیان ہے کہ ”میں نے چار ہزار استادوں سے علم حاصل کیا۔“ ظاہر ہے کہ یہ چار ہزار استاد کسی ایک شہر میں تو ہوں گے نہیں۔ ان سب کے پاس پہنچنے کے لیے آپ نے طویل طویل سفر کیے ہوں گے، اور سالوں شقیں برداشت کی ہوں گی۔ ایک مرتبہ کسی نے ان سے پوچھا، آپ کب تک علم حاصل کرتے رہیں گے؟ فرمایا ”موت تک، ہو سکتا ہے کہ وہ بات مجھے اب تک معلوم نہ ہوئی ہو جو میرے کام کی ہو۔“

مشہور اساتذہ:

حضرت کے بعد استاد بہت مشہور ہیں اور سچی بات یہ ہے کہ ان کے بنانے میں ان قلم اساتذہ کی پاک نیت، محنت اور صحبت کو بڑا دخل ہے۔ اپنے تمام اساتذہ میں ان کو سب سے زیادہ محبت امام ابوحنیفہ ﷺ سے تھی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ امام صاحب سے انہوں نے بہت کچھ حاصل کیا۔ فقہ امام صاحب کا خاص مضمون تھا۔ حضرت عبداللہ ﷺ نے امام صاحب ﷺ کی صحبت میں رہ کر فقہ میں بہت کچھ مہارت پیدا کر لی تھی۔ امام مالک ﷺ تو ان کو ”خراسان کا خلیفہ“ کہا کرتے تھے۔ ان کے ایک استاد حضرت سفیان ثوری ﷺ تھے، ان کی صحبت سے بھی حضرت نے بہت کچھ فائدہ اٹھایا تھا۔ خود فرمایا کرتے تھے۔ ”اگر امام ابوحنیفہ ﷺ اور حضرت سفیان ثوری ﷺ سے فائدہ اٹھانے کا موقع اللہ تعالیٰ نہ بخشا تو سچی بات یہ ہے کہ میں بھی عام لوگوں کی طرح ہوتا۔“

پھر جب حضرت امام ابوحنیفہ ﷺ کا انتقال ہو گیا تو وہ مدینہ منورہ پہنچے اور امام مالک ﷺ کی خدمت میں رہنے لگے۔ امام مالک ﷺ ان کو بہت مانتے تھے اور وہ بھی امام مالک ﷺ کا بڑا احترام کرتے تھے۔ ان لوگوں کے علاوہ بھی ان کے بہت سے مشہور استاذ ہیں جن سے انہوں نے فیض حاصل کیا۔

حدیث کا شوق:

یوں تو حضرت عبداللہ ﷺ تمام ہی علوم میں مانے ہوئے تھے لیکن علم حدیث سے ان کو خاص لگاؤ تھا۔ حدیثیں جاننے، یاد کرنے اور جمع کرنے کا ان کو انتہائی شوق تھا اور اسی شوق کی برکت تھی کہ یہ حدیث کے امام کہلائے۔ حج، جہاد اور عبادت سے جو وقت بچتا اس کو علم حدیث حاصل کرنے میں لگاتے۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا کہ گھر سے نکلتے ہی نہیں۔ ایک بار کسی نے پوچھا، آپ اکیلے گھر میں پڑے رہتے ہیں، طبیعت نہیں گھبراتی؟ اس سوال پر ان کو بہت تعجب ہوا، فرمانے لگے: ”تعجب ہے گھر میں جب ہر وقت مجھے پیارے رسول ﷺ اور پیارے صحابہ کرام کی صحبت حاصل ہے تو گھبرانا کیسا؟“ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا کہ رات میں اگر حدیث رسول ﷺ کا ذکر چھڑ جاتا تو پوری پوری رات جاگنے میں کٹ جاتی۔ علی ابن حسن ﷺ ان کے زمانے کے ایک مشہور عالم ہیں ایک دن کا قصہ سناتے ہیں کہ عشاء کی نماز پڑھ کر یہ دونوں بزرگ دروازے سے نکل رہے تھے۔ مسجد کے دروازے پر علی بن حسن ﷺ نے کسی حدیث کے بارے میں پوچھا، پھر

کیا تھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اپنے علم کے دریا بہانے شروع کر دیے رات بھر یہی عالم رہا۔ جب مؤذن نے صبح کی اذان دی تو انہیں محسوس ہوا کہ صبح ہو گئی۔ مسجد کے دروازے پر کھڑے کھڑے ساری رات گزار دی۔ حضرت کی زندگی مجاہدانہ تھی۔ کبھی حج میں ہیں تو کبھی جہاد کے میدان میں، کبھی مصر میں ہیں، تو کبھی حجاز میں، کبھی بغداد میں ہیں تو کبھی رقبہ میں۔ غرض ایک جگہ جم کر کبھی نہیں بیٹھے۔ لیکن جہاں پہنچتے یہی شوق لیے ہوئے پہنچتے اور ہزاروں علم کے بیا سے اس رواں دواں حشے سے میراب ہونے کے لیے جمع ہو جاتے۔ یہی وجہ ہے کہ ان سے فائدہ اٹھانے والوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ شمار میں نہیں آسکتی۔

**شہرت:**

دور دور کے لوگ ان سے فیضاب ہوئے۔ ہر جگہ ان کے علم و فضل کے چرچے ہونے لگے۔ بڑے بڑے علماء کو ان کو دیکھنے کا شوق تھا، ان سے ملنے کی تمنا تھی۔ ہر جگہ ان کی بزرگی اور کمال کے تذکرے تھے۔ ان کے علم و فضل کی قدر تھی۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ عنہ اگرچہ ان کے استاد تھے اور خود حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بھی ان کو بہت مانتے تھے لیکن وہ بھی حضرت کے علم و کمال سے بہت متاثر تھے۔ ایک بار خراسان کے رہنے والے کسی شخص نے حضرت سفیان رضی اللہ عنہ سے کوئی مسئلہ پوچھا، تو فرمایا: "مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ تمہارے یہاں تو خود مشرق و مغرب کے سب سے بڑے عالم موجود ہیں۔ ان سے پوچھو۔ ان کے ہوتے ہوئے ہم سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ انہی سفیان رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ ایک بار کسی نے حضرت عبداللہ کو "مشرق کا عالم" کہہ دیا تو بہت خفا ہوئے اور ڈانٹ کر کہا عبداللہ کو "مشرق و مغرب کا عالم" کہا کرو۔

آپ کی شہرت دور دور پھیل چکی تھی۔ بے دیکھے لوگوں کو آپ سے عقیدت تھی۔ ایک بار حضرت حماد بن زید رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچے۔ یہاں وقت کے بہت بڑے محدث تھے۔ عراق کے شیخ مانے جاتے تھے۔ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ان کے پاس پہنچے تو پوچھا آپ کہاں سے آئے ہیں؟ حضرت نے فرمایا خراسان۔ شیخ عراق رضی اللہ عنہ نے کہا، خراسان تو بہت بڑا ملک ہے، خراسان کے کس شہر سے آئے ہو؟ حضرت نے بتایا کہ "مرو" سے۔ مرو کا نام سنتے ہی شیخ عراق رضی اللہ عنہ بنے پوچھا اب تو آپ حضرت عبداللہ کو جانتے ہوں گے؟ حضرت نے فرمایا، وہ تو آپ کی خدمت میں موجود ہے۔ شیخ عراق حضرت حماد بن زید رضی اللہ عنہ کی نگاہیں عقیدت سے جھک گئیں۔ اٹھ کر حضرت عبداللہ کو گلے سے لگایا، اور نہایت عزت و احترام سے پیش آئے۔

**مقبولیت:**

شہرت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو مقبولیت بھی ایسی بخشی تھی کہ جہاں جاتے لوگ ہاتھوں ہاتھ لیتے۔ عقیدت و محبت سے آپ کی راہ میں آنکھیں بچھاتے اور آپ سے مل کر ایمان میں تازگی محسوس کرتے۔ کوئی ایسی ہستی نہ تھی جہاں کے لوگ آپ کو دل سے نہ چاہتے ہوں اور آپ سے محبت نہ کرتے ہوں۔

ایک مرتبہ آپ شہر رقبہ تشریف لے گئے۔ خلیفہ ہارون الرشید بھی وہاں موجود تھے۔ شہر میں ہر طرف آپ کے آنے کا چرچا تھا، استقبال کی تیاریاں تھیں اور لوگ جوق در جوق آپ کو دیکھنے اور آپ کے دیدار سے آنکھوں کو روشن کرنے کے لیے چلے آ رہے تھے۔ ہر طرف خوشی اور مسرت سے لوگوں کے چہرے دکھ رہے تھے اور ہر ایک بے اختیار کھنچا چلا آ رہا تھا۔

شاعی بالا خانے پر ہارون الرشید کی ایک لوتھی بیٹھی ہوئی یہ منظر دیکھ رہی تھی، بہت حیران ہوئی کہ آخر ایسا کون سا شخص ہے جس کو دیکھنے اور جس سے ملنے کے لیے یہ لوگ اتنے بے تاب ہیں اور دوڑے چلے آ رہے ہیں۔ معلوم کیا تو لوگوں نے بتایا، مشرق و مغرب کے عالم حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ تشریف لا رہے ہیں۔ ان کو دیکھنے کے لیے یہ مخلوق دوڑی چلی آ رہی ہے۔ یہی بادشاہی تو حضرت



عبداللہ ہی کو حاصل ہے کہ لوگ اپنے جذبہ اور شوق سے کھینچے چلے آ رہے ہیں۔ بھلا ہارون کی بھی کوئی بادشاہی ہے، کہ لوگ فوج اور ڈنڈے کے زور سے لائے جاتے ہیں اور سزا کے ڈر سے جمع ہو جاتے ہیں۔

جب موصل کے قریب قصبہ سنت میں ان کی وفات ہوئی تو لوگوں کی اتنی بھیڑ تھی کہ سنت کا حاکم حیران تھا، بہت متاثر ہوا اور فوراً اپنے دارالسلطنت بغداد میں اس کی اطلاع بھجوائی۔

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند پر ابن مبارک کو بٹھایا:

ایک مرتبہ آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور وہاں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے پہنچے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنی شاہانہ شان کے ساتھ طلباء کو حدیث پڑھانے میں مشغول تھے، جو نبی آپ کو دیکھا، فوراً اپنی جگہ سے اٹھے، آپ سے گلے ملے اور نہایت عزت کے ساتھ آپ کو اپنی مسند پر بٹھایا اس سے پہلے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کسی کے لیے مجلس سے نہیں اٹھتے تھے اور نہ ہی کسی کو اس عزت کے ساتھ اپنے قریب مسند پر بٹھایا تھا۔ طلباء کو اس واقعہ پر بڑی حیرت تھی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی طلباء کی اس حیرت کو بھانپ لیا۔ سمجھاتے ہوئے فرمایا: ”عزیزو! یہ خراسان کے فقیہ ہیں۔“

سوچنے کی بات:

سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیوں لوگ حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کو دل و جان سے چاہتے تھے؟ اور کیوں آپ پر جان چڑھتے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے:

ترجمہ: ”جو لوگ (سچے دل سے) ایمان لائے اور (پھر) بھلے کام کیے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل میں ان کی محبت بھر دے گا۔“

حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک زندگی اس آیت کی گہی تصویر تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر آدمی سچے دل سے ایمان لا کر بھلے کاموں سے اپنی زندگی سنوار لے تو واقعی اس لائق ہے کہ دونوں جہاں میں اس کی قدر ہو۔ حضرت کی زندگی کے حالات جب ہم پڑھتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایمان اور عمل صالح کی جیتی جاگتی تصویر تھے۔ نیکی اور بھلائی کا نمونہ تھے۔ اسلام کا ایک نشان تھے، کہ ہمیشہ کے لیے لوگ ان سے رہنمائی حاصل کریں۔ یوں تو آپ کی زندگی سر تا پا بھلائی اور نیکی ہی تھی لیکن چند خوبیاں ابھری ہوئی تھیں کہ ہجرت کا نام سنتے ہی ان خوبیوں کی تصویر آنکھوں میں پھر جاتی ہے:

- |   |                      |                   |
|---|----------------------|-------------------|
| ① خدا کا خوف  | ② دین کی صحیح سمجھ   | ③ عبادت           |
| ④ حدیث رسول <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> سے محبت | ⑤ امیروں سے بے نیازی | ⑥ عاجزی اور تواضع |
| ⑦ مخلوق کے ساتھ سلوک                                  | ⑧ دین کی اشاعت       | ⑨ جہاد کا شوق     |

خدا کا خوف:

خدا کا خوف تمام بھلائیوں کی جڑ ہے۔ اس آدمی سے بھلائی کی کوئی امید نہیں کی جاسکتی جس میں خدا کا خوف نہ ہو۔ بری باتوں سے رکتا، اچھے کاموں کی طرف بڑھتا، لوگوں کے حقوق کا خیال، ذمہ داری کا احساس، غریبوں کے ساتھ حسن سلوک، لیکن دین اور معاملات میں سچائی اور دیانت، غرض ہر نیکی کی جڑ خدا کا خوف ہے۔

قیامت کے دن خدا کے سامنے پیشی ہوگی، وہ ہم سے ہل پل کا حساب لے گا۔ ایک ایک کام کی پوچھ بچھ ہوگی۔ یہ یقین نیکی کی ضمانت ہے، یہ یقین رکھنے والا شخص کبھی کسی کو دھوکہ نہ دے گا، کسی برائی کے قریب نہ پھلے گا، کسی غیر ذمہ داری کی حرکت نہ کرے گا۔ کبھی کسی کا حق نہ مارے گا، کبھی کسی کا دل نہ دکھائے گا۔ ہر آدمی کو اس سے بھلائی کی امید ہوگی اور ہر حال میں وہ سچائی پر قائم رہے گا۔ خدا سے

ڈرنے والا بڑے سے بڑے خطرے سے نہیں ڈر سکتا۔ اس شخص کے دل میں ایمان ہی نہیں ہے جو خدا سے نہیں ڈرتا۔

مدینہ کے مشہور عالم حضرت قاسم بن احمد رحمۃ اللہ علیہ اکثر سفر میں حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہتے تھے۔ ایک بار فرمانے لگے، میں کبھی کبھی یہ سوچتا تھا کہ آخر حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ میں وہ کون سی خوبی ہے جس کی وجہ سے ان کی اتنی قدر ہے۔ اور ہر جگہ پوچھ ہے۔ نماز وہ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، روزہ وہ رکھتے ہیں تو ہم بھی رکھتے ہیں، وہ حج کو جاتے ہیں تو ہم بھی جاتے ہیں وہ خدا کی راہ میں جہاد کرتے ہیں تو ہم بھی جہاد میں شریک ہوتے ہیں۔ کسی بات میں اہم ان سے پیچھے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی جہاں دیکھے لوگوں کی زبان پر انہی کا نام ہے اور انہی کی قدر ہے۔

ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہم لوگ شام کے سفر پر جا رہے تھے، راستے میں رات ہو گئی ایک جگہ ٹھہر گئے۔ کھانے کے لیے جب سب لوگ دسترخوان پر بیٹھے تو اتفاق کی بات کہ یکا یک چراغ بجھ گیا۔ خیر ایک آدمی اٹھا اور اس نے چراغ جلایا۔ جب چراغ کی روشنی ہوئی تو کیا دیکھا ہوں کہ حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہے۔ چراغ بجھنے سے گھبرائے تو ہم سب ہی تھے، لیکن حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ تو کسی اور ہی دنیا میں پہنچ گئے، انہیں قبر کی اندھیریاں یاد آ گئیں اور ان کا دل بھر آیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ خدا کا خوف ہے اور اس کے سامنے حاضری کا ڈر ہے جس نے حضرت کو اس اونچے مقام پر پہنچا دیا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ اس بات میں ہم ان سے پیچھے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ”حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ اونچا مرتبہ اسی لیے ملا کہ وہ خدا سے بہت زیادہ ڈرتے تھے۔“ ذمہ داری کا احساس اتنا تھا کہ ایک مرتبہ شام میں کسی سے لکھنے کے لیے قلم لے لیا اور دینا یاد نہیں رہا۔ جب اپنے وطن مرو واپس آگئے تو یاد آ گیا۔ گھبرا گئے۔ فوراً سفر کا ارادہ کیا۔ شام مرو سے سینکڑوں میل دور ہے۔ سفر کی تکلیفیں اٹھاتے ہوئے شام پہنچے اور جب اس شخص کو قلم دیا تو اطمینان کا سانس لیا۔ فرمایا کرتے تھے ”اگر شہر میں تمہارے پاس کسی کا ایک درہم رہ جائے تو اس کا واپس کرنا لاکھ روپیہ صدقہ کرنے سے زیادہ اچھا ہے۔“ ان ہی کا ایک شعر ہے۔

مَنْ رَقِبَ اللّٰهَ رَجِمَ عَنْ سُوْمَاكٍ مِّنْهُ

ترجمہ: ”جو خدا سے ڈرتا ہے وہ کسی برائی کے قریب نہیں پہنکتا۔“

دنیا سے بے رغبتی اور زہد پر آپ نے ایک کتاب بھی لکھی ہے جس کا نام ”کتاب الزہد“ ہے۔ جب شاگردوں کو یہ کتاب پڑھاتے تو ان کا دل بھر آتا، آنکھوں میں آنسو آ جاتے اور آواز گھسنے لگتی۔

دین کی صحیح سمجھ:

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ”خدا جس کو بھلائی سے لوازنا چاہتا ہے، اس کو دین کی گہری سمجھ عطا فرمادیتا ہے۔“ حقیقت یہ ہے کہ دین کی صحیح سمجھ خدا کی بہت بڑی نعمت ہے اگر دین کی سمجھ سے آدمی محروم ہو تو کبھی دین پر صحیح صحیح عمل نہیں کر سکتا، زندگی کے بہت سے معاملات میں دین کا تقاضا کچھ ہوگا اور وہ کچھ عمل کرے گا اور اس طرح اس کی ذات سے دین کو فائدہ پہنچنے کے بجائے نقصان پہنچے گا۔ بہت سی باتوں کو وہ دیدہ ریزی سمجھ کر اختیار کرے گا حالانکہ وہ باتیں دین کے خلاف ہوں گی۔

خدا کا دین ایک فطری دین ہے وہ انسانی ضرورتوں کا لحاظ کرتا ہے۔ انسان کے جذبات کا لحاظ کرتا ہے اور ہر بات میں اعتدال اور مہمانہ روی کو بڑی اہمیت دیتا ہے۔ وہ بندوں کو خدا کے حقوق بھی بتاتا ہے۔ اور بندوں کے حقوق بھی اور ایسی جامع ہدایت دیتا ہے کہ اگر آدمی ان ہدایات کو ٹھیک ٹھیک سمجھ کر ان کی پیروی کرے تو وہ دنیا کے لیے رحمت کا سایہ بن جاتا ہے۔ وہ دنیا کے معاملات کو روشنی میں دیکھتا ہے اور کبھی کسی کا حق نہیں مارتا۔ مثلاً آپ سوچئے کہ ایک شخص قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے ایک جنگل کا سفر کر رہا ہے، اس کے

ساتھ اس کا ساگھی بھی سفر کر رہا ہے۔ یہ شخص بڑے جذبے کے ساتھ قرآن کی تلاوت میں مشغول ہے۔ آگے ایک عدی آئی عدی میں پانی تھوڑا معلوم ہو رہا ہے اور اس کا ساگھی پار جانے کے لیے بے دھڑک عدی میں کود پڑتا ہے۔ اتفاق کی بات ہے جہاں وہ کودتا ہے وہ گہرا گڑھا ہے، اور وہ ڈوبتے ڈوبتے پچتا ہے۔ جب وہ باہر نکل کر آتا ہے تو اپنے ساگھی سے کہتا ہے کہ آپ تو اکثر و بیشتر اس راستے پر سفر کرتے ہیں، اور آپ کو یہ نہیں معلوم کہ یہاں اتنا گہرا گڑھا ہے۔ اتنی دیر میں وہ قرآن پاک کی سورۃ پوری کر کے اپنے اوپر دم کر لیتا ہے اور کہتا ہے بھائی مجھے تو خوب معلوم تھا کہ یہاں گہرا گڑھا ہے اور خدا نے خیر کر دی کہ تم بچ گئے مگر میں تمہیں کیسے بتاتا میں تو قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا اور سورۃ پوری نہیں ہوئی تھی۔ آپ ہی سوچئے اس شخص کا یہ عمل کیسا ہے؟ بے شک قرآن شریف کی تلاوت ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ لیکن جب اس شخص کی جان جاری ہو تو کیا اس کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ قرآن پڑھتا رہے، اور رک کر اس کو یہ نہ بتائے کہ آگے جان کا خطرہ ہے۔ دراصل یہ دین کی صحیح سمجھ سے محرومی کا نتیجہ ہے۔ یہ دینداری کی غلط مثال ہے۔

اور سوچئے، ایک شخص ہر وقت خدا کی عبادت میں لگا رہتا ہے۔ جب دیکھو نفل پڑھ رہا ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور لوگوں کو دین کی باتیں بھی سمجھا رہا ہے۔ لیکن اس کے بچے اکثر فاقے سے رہتے ہیں، ان کے بدن پر کپڑے نہیں ہیں، وہ بھوک سے بے تاب ہو کر پاس پڑوس سے مانگنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں اور جب اس شخص سے کہا جاتا ہے کہ بھائی تم دن رات وظیفے پڑھنے اور تلاوت کرنے میں مشغول رہتے ہو، آخر کچھ محنت مزدوری کیوں نہیں کرتے؟ تمہارے بچوں کا یہ حال ہے۔ وہ بڑے فخر سے کہتا ہے خدا کے دربار سے فرصت ہی نہیں ملتی۔ اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ بہت سا وقت اس کی عبادت میں گزر جاتا ہے۔ کمانا اور دنیا جمع کرنا تو دنیا داروں کا کام ہے۔ مومن کو تو خدا نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو بتائیے اس شخص کا یہ عمل دین کی ہدایت کے لحاظ سے کتنا غلط ہے؟ لیکن وہ سمجھتا ہے کہ میں دیندار ہوں، اور بچوں کو بھوکا مار کر نفل پڑھتے رہنا بہت بڑی دینداری ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ آدمی اگر دین کی صحیح سمجھ سے محروم ہو تو وہ کبھی بھی دین پر صحیح عمل نہیں کر سکتا اور لوگ اس کو دیکھ کر ہمیشہ دین کے بارے میں غلط تصور قائم کریں گے۔ اگر آدمی دین کی صحیح سمجھ رکھتا ہو تو وہ کبھی ایسی حرکتیں نہیں کر سکتا۔ نبی ﷺ نے ایک بار فرمایا: ”میں نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ نماز لمبی پڑھاؤں کہ اتنے میں کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں۔ مجھے یہ بات سخت ناپسند ہے کہ لمبی نماز پڑھا کر بچے کی ماں کو پریشان کروں۔“

### عجیب و غریب حج:

حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے ماہر تھے۔ نبی ﷺ کے مزاج اور دین کی حقیقت کو خوب سمجھتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ حج دینداری کیا ہے؟ ایک بار آپ حج کو جا رہے تھے۔ سفر میں ایک مقام پر ایک لڑکی کو دیکھا کہ کوڑے پر سے کچھ اٹھاری ہے۔ ذرا اور قریب گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بے چاری ایک مری ہوئی چڑیا کو جلدی جلدی ایک چوہترے میں لپیٹ رہی ہے۔ حضرت وہیں رک گئے اور حیرت و محبت کے ساتھ اس غریب بچی سے پوچھا: ”بٹی تم اس مردار چڑیا کا کیا کرو گی؟“ اور اپنے پھٹے پرانے میلے کپڑوں کو سنبھالتے ہوئے لڑکی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ رندگی ہوئی آواز میں بولی: ”چچا میاں! ہمارے ابا کو کچھ خالموں نے قتل کر دیا۔ ہمارا سب مال چھین لیا اور ساری جائیداد تھمالی۔ اب میں ہوں اور میرا ایک بھائی ہے۔ خدا کے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں۔ اب ہمارے پاس نہ کھانے کے لیے کچھ ہے، اور نہ پہننے کے لیے۔ کئی کئی وقت ہم پر ایسے ہی گزر جاتے ہیں۔ اس وقت بھی ہم چھ وقت کے فاقے سے ہیں۔ بھیا گھر میں بھوک سے بڑھ چلا ہے۔ میں باہر نکل کر شاید کچھ مل جائے۔ یہاں آئی تو یہ مردار چڑیا پڑی ملی۔ ہمارے لیے یہ بھی بڑی نعمت ہے۔“ یہ کہتے ہوئے فاقہ کی ماری بچی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ حضرت کا دل بھر آیا۔ بچی کے سر پر ہاتھ رکھا، اور خود بھی رونے

گئے۔ اپنے خزانچی سے پوچھا ”اس وقت تمہارے پاس تھی رقم ہے؟“ حضرت ایک ہزار اشرفیاں ہیں ”خزانچی نے جواب دیا۔“ میرے خیال میں مرد تک پہنچنے کے لیے میں اشرفیاں کافی ہوں گی۔“ حضرت نے پوچھا۔ ”جی ہاں، میں اشرفیاں گھر تک پہنچنے کے لیے بالکل کافی ہیں۔“ خزانچی نے جواب دیا۔ ”تو پھر تم میں اشرفیاں روک لو اور باقی ساری رقم اس لڑکی کے حوالے کر دو۔ ہم اس سال حج کو نہیں جائیں گے۔ یہ حج کعبہ کے حج سے بھی زیادہ بڑا ہے۔“ حضرت نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ خزانچی نے ساری رقم لڑکی کے حوالے کر دی، غم اور فاقہ سے کملایا ہوا چہرہ ایک دم کھل اٹھا اور لڑکی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تیرنے لگے۔ اور تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی خوشی خوشی اپنے گھر کو لوٹ گئی۔ حضرت نے خدا کا شکر ادا کیا اور خزانچی سے فرمایا: ”چلو اب یہیں سے گھر کو واپس چلیں، خدا نے ہمیں ہمارا حج قبول فرمایا۔“

### عبادت:

عبادت کا شوق مومن کی پہچان ہے۔ مومن ہر وقت بے چین ہوتا ہے کہ اسے خدا سے قریب ہونے کا موقع ملے۔ اس کے دربار میں حاضر ہو۔ اس کی چوکھٹ پر سر جھکانے کی عزت ملے۔ عبادت ہی کے ذریعہ بندہ خدا سے قریب ہوتا ہے اور عبادت کر کے ہی دنیا میں خدا سے ملنے کی تمنا پوری کرتا ہے۔

حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ عبادت میں پیارے صحابہ رضی اللہ عنہم کا سچا نمونہ تھے۔ عبادت گزار اور شب بیداری میں بے مثال تھے۔ حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ عنہ مکہ کے بہت بڑے عالم اور محدث تھے۔ فرماتے تھے جب میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے حالات پڑھتا ہوں اور غور کرتا ہوں تو حضرت عبداللہ کو کسی چیز میں بھی ان سے کم نہیں پاتا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی شان یہ تھی کہ ان کی راتیں نمازوں میں گزرتیں اور دن میدان جہاد میں اور یہی حال حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا ہے۔ لیکن ہاں ایک چیز ایسی ہے جو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو حاصل نہیں ہے اور وہ ”پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت“ ہے۔ ظاہر ہے صحابہ رضی اللہ عنہم کی اس فضیلت کو کون پاسکتا ہے؟ یہ تو اللہ کا ایک انعام ہے کہ اس میں قیامت تک کوئی ان کی برابری نہیں کر سکتا اور یہی وجہ ہے کہ امت میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مرتبہ کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔

حضرت کی عبادت گزار اور بزرگی کا کسی قدر اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ ان کے زمانے کے بڑے بڑے زاہد اور عابد و بزرگ ان کو اپنا سر دار مانتے تھے اور ان سے اس لیے محبت کرتے تھے کہ خدا کا قرب حاصل کریں۔ حضرت ذہبی رضی اللہ عنہ ایک مشہور محدث اور بہت بڑے زاہد و عابد گزرے ہیں۔ فرمایا کرتے تھے ”حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ میں کون سی خوبی نہیں ہے۔ خدا ترسی، عبادت خلوص، جہاد، زیر دست علم، دین میں مضبوطی، حسن سلوک، بہادری۔ خدا کی قسم مجھے ان سے محبت ہے اور ان کی محبت سے مجھے بھلائی کی امید ہے۔“

حج کے شوق کا یہ حال تھا کہ سال کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ چار مہینے حدیث پڑھنے پڑھانے میں گزارتے، چار مہینے جہاد میں رہتے اور چار مہینے حج کے سفر میں رہتے۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے ”میں نے بہت کوشش کی کہ کم از کم ایک سال ہی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی طرح زندگی گزار لوں۔ لیکن کبھی کامیاب نہ ہوا۔“ کبھی کبھی فرماتے ”کاش میری پوری زندگی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے تین دن کے برابر ہوتی۔“

### حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت:

وہ شخص مومن ہی نہیں ہے جس کے دل میں خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو۔ آج ہم میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود تو موجود نہیں ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی کی ہو، ہو تصویر حدیث میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، رہنا سہنا، نماز، روزہ، دعا اور فصیح سب ہی کچھ حدیث میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بھلا کون ہوگا جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے پڑھانے کو اپنی سب سے بڑی خوش قسمتی نہ سمجھتا ہو۔ اور دن رات اس آئینے میں اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت دیکھنے کا خواہش مند نہ ہو۔

حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا حال تو یہ تھا کہ گھر سے نکلنے ہی نہ تھے۔ ہر وقت گھر میں تنہا بیٹھے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مشغول رہتے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت! تنہا گھر میں بیٹھے بیٹھے آپ کی طبیعت نہیں گھبراتی؟ فرمایا: ”خوب! میں تو ہر وقت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم کی مجلس میں ہوتا ہوں، ان کے دیدار سے آنکھیں ٹھنڈی کرتا ہوں اور ان سے بات چیت میں مشغول ہوتا ہوں، پھر گھبراتا کیسا؟“ یہی وجہ ہے حدیث کی مشہور کتابوں میں آپ کی بیان کی ہوئی حدیثیں اکیس ہزار کے لگ بھگ ہیں۔ اور حدیث کے علماء ان کو علم حدیث میں امیر المؤمنین اور امام المسلمین کہا کرتے تھے۔

حضرت فضالہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ”جب کبھی کسی حدیث کے بارے میں علماء میں اختلاف ہوتا، تو کہتے چلو حدیث کی نصوص پہچاننے والے ”طیب حدیث“ سے پوچھیں۔“ یہ طیب حدیث حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ہی تھے۔

جس طرح آپ کو حدیث سے محبت تھی، ایسا ہی آپ حدیث کا ادب بھی کرتے تھے، کبھی اگر کسی کی زبان سے کوئی بے ادبی کی بات سنتے، یا کوئی بے ادبی کرتے دیکھتے تو غصہ سے چہرہ سرخ ہو جاتا اور بہت خفا ہوتے۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ راستہ چلتے لوگ کسی عالم کو روک کر مسئلے پوچھنے لگتے ہیں، آپ اس کو بہت برا سمجھتے تھے۔ ایک بار راستے میں کسی نے حدیث کے بارے میں ان سے کچھ پوچھا۔ غصہ میں چپ ہو گئے اور یہ کہتے ہوئے آگے بڑھ گئے کہ ”یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے کی جگہ نہیں ہے۔“ مطلب یہ تھا کہ حدیث غلی، کوچوں میں پوچھنے کی چیز نہیں ہے۔ ”اگر تمہیں حدیث جاننے کا شوق ہے تو کسی کے پاس جا کر ادب سے پوچھو۔“ یہی بات بھی یہ ہے کہ جو شخص علم کا ادب نہیں کرتا اس کو کبھی علم نہیں آسکتا۔

### امیروں سے بے نیازی:

حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ دنیا دار حکمرانوں اور امیروں سے ہمیشہ دور رہتے تھے۔ وہ ان کے پاس جانا علم کی ناقدری سمجھتے تھے۔ جس کو اللہ نے علم کی ختم نہ ہونے والی دولت دے رکھی ہو، اس کی نظر میں دنیا کی فتاہونے والی دولت کی کیا قدر ہو سکتی ہے؟ مغرور حاکموں کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ علماء ان کی خدمت میں حاضر ہو اور ان کی ہاں میں ہاں ملائیں۔ لیکن دین کے سچے عالموں نے کبھی ان کی طرف توجہ نہیں کی۔ وہ ہمیشہ ان سے بے نیاز رہے۔ ہزار تکلیفیں اٹھائیں لیکن کبھی ان کی چوکھٹ پر حاضری نہ دی۔

حضرت عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے ”بادشاہوں کی ڈیوڑھیوں پر فتنے اس طرح جتے بیٹھے رہتے ہیں جیسے اونٹ اپنی تھانوں پر۔ خدا کی قسم ان کی ڈیوڑھی پر جا کر جتنی دنیا نکلاؤ گے اس سے زیادہ وہ تمہارا دین تم سے لے لیں گے۔“ ایک اور بزرگ حضرت وہب بن منہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے ”مال جمع کرنا اور بادشاہوں کے دربار میں حاضری دینا دونوں ہاتھیں آدمی کے دین کو اس طرح چٹ کر جاتی ہیں جس طرح دو خونخوار بھیڑیے اگر بکریوں کے باڑے میں ایک رات رہ جائیں۔“

حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے ”سب سے برے حاکم وہ ہیں جو عالموں سے دور رہتے ہیں اور سب سے برے عالم وہ ہیں جو حاکموں اور مالداروں کے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں۔“ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ خود تو مالداروں اور مغرور حاکموں سے بچتے ہی تھے اپنے دوستوں اور عزیزوں کو بھی سختی کے ساتھ روکتے تھے۔ ہارون الرشید نے کئی مرتبہ حضرت سے ملنا چاہا لیکن آپ نے ہمیشہ ٹال دیا۔

اسامیل بن علیہ رضی اللہ عنہ حضرت کے عزیز دوست تھے، بہت بڑے عالم اور محدث تھے۔ کاروبار میں بھی حضرت کے شریک تھے۔ جب انہیں صدقات کی وصولی کا اونچا عہدہ ملا تو حاکموں اور امیروں کے پاس آنا جانا بھی شروع ہو گیا۔ ایک دن حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پاس ملنے آئے تو حضرت نے کوئی توجہ ہی نہ دی۔ ان کو بہت رنج ہوا، گھر گئے اور صدمہ میں ایک لمبا خط اپنے استاد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو لکھا۔ اپنے رنج و غم کا اظہار کیا۔ جواب میں حضرت نے چند شعر لکھ کر بھیجے جن کا مطلب یہ تھا:

”تم دین کے علم سے دنیا سینے لگ گئے ہو، دنیا کی لذتوں کے پیچھے پڑ گئے ہو، یہ لذتیں تمہارے دین کو پھونک کر رکھ دیں گی۔ تم تو خود وہ حدیشیں بیان کرتے تھے جن میں دنیا دار حاکموں سے میل بڑھانے سے ڈرایا گیا ہے۔ دیکھو دنیا پرست پادریوں کی طرح دین سے دنیا نہ کماؤ۔“ حضرت اسماعیل یہ اشعار پڑھ کر رونے لگے۔ اسی وقت اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا اور کبھی کسی حاکم کی ڈیوڑھی پر نہیں گئے۔

عاجزی اور تواضع:

حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی شان ایک طرف تو یہ تھی کہ بڑے بڑے حاکموں کو بھی منہ نہ لگاتے تھے اور دوسری طرف حال یہ تھا کہ ہر وقت لوگوں کی خدمت میں لگے رہتے، لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتے، ہر ایک سے خاکساری اور تواضع سے پیش آتے، کبھی اپنی بڑائی کا اظہار نہ کرتے۔ فرمایا کرتے شہرت سے ہمیشہ بچتے رہو۔ گمنامی میں بھلائی ہے۔ لیکن کسی پر یہ بھی نہ ظاہر ہونے دو کہ تم گمنامی کو پسند کرتے ہو، اس سے بھی غرور پیدا ہو سکتا ہے۔

مرد میں آپ کا ایک بہت بڑا مکان تھا۔ اور ہر وقت عقیدت مندوں اور شاگردوں کی بھیڑ رہتی تھی کچھ دنوں تک آپ نے برداشت کیا۔ لیکن جب دیکھا روز بروز زیادتی ہی ہو رہی ہے تو کوفہ چلے گئے اور وہاں ایک چھوٹی سی اندھیری کوٹھڑی میں رہنے لگے۔ لوگوں نے ہمدردی کرتے ہوئے کہا حضرت یہاں اس اندھیر کوٹھڑی میں تو آپ کی طبیعت گھبراتی ہوگی؟ تھوڑی دیر خاموش رہے پھر فرمایا: لوگ عقیدت مندوں کے ہجوم میں رہنا پسند کرتے ہیں اور میں اس سے بھاگتا ہوں اسی لیے تو مرد سے کوفہ بھاگ کر آیا ہوں۔

ایک مرتبہ کسی سہیل پر پانی پینے کے لیے پہنچے۔ وہاں بھیڑ تھی۔ لوگوں کا ریلہ آیا تو دور جا کرے۔ واپسی میں اپنے ساتھی حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے، زندگی ایسی ہی ہو کہ نہ لوگ ہمیں پہچانیں اور نہ ہمیں کوئی بڑی چیز سمجھیں۔ ایک بار لوگوں نے ان سے پوچھا، حضرت تواضع کے کہتے ہیں؟ تو فرمایا تواضع یہ ہے کہ تمہاری خودداری تمہیں مالداروں سے دور رکھے۔

مخلوق کے ساتھ سلوک:

کسی شخص کی نیکی اور دینداری کا صحیح اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ اس کا سلوک کیا ہے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ہر ایک کام آتے اور اپنے پرانے کا خیال کیے بغیر ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرتے۔ وہ غیروں پر اپنی دولت اس طرح لٹاتے کہ کوئی انہوں پر بھی کیا لٹائے گا۔ حج کے لیے تو ہر سال جاتے ہی تھے۔ بہت سے لوگ آپ کے ساتھ ہو لیتے۔ سفر پر جاتے ہوئے۔ آپ صرف اپنے ہی کھانے کا انتظام نہ کرتے۔ بلکہ اپنے ساتھیوں کے لیے بھی کھانے پینے کا انتظام کر کے چلتے۔ ایک سال تو لوگوں نے یہ دیکھا کہ ان کے ساتھ دو اونٹوں پر صرف بھنی ہوئی مرغیاں لدی ہوئی تھیں۔ حج کو روانہ ہونے سے پہلے اپنے تمام ساتھیوں سے کہتے کہ اپنی اپنی رقمیں میرے پاس جمع کرو۔ سب سے رقم لے کر الگ الگ تھیلیوں میں رکھ لیتے اور ہر تھیلی پر دینے والے کا نام اور رقم کی مقدار لکھتے۔ پھر راستہ بھرا اپنے پاس سے خرچ کرتے۔ اچھے سے اچھا کھلاتے لوگوں کے آرام کا خیال رکھتے اور ہر طرح کی سہولت پہنچانے کی کوشش کرتے۔ حج سے فارغ ہو کر مدینہ پہنچتے تو ساتھیوں سے کہتے، اپنے گھر والوں کے لیے ضرورت کی چیزیں لینا چاہو لے لو۔ لوگ اطمینان کے ساتھ اپنی ضرورت کی چیزیں خرید لیتے۔ حج سے واپس آ کر اپنے سارے ساتھیوں کی دعوت کرتے اور پھر ہر ایک کو اس کی تھیلی رقم سمیت واپس کر رہے ہیں۔ فرمایا: اگر پہلے سے لوگوں کو بتا دوں کہ اپنے پاس سے خرچ کر رہا ہوں تو کون آسانی سے تیار ہوگا کہ راستہ بھر میرے مال سے کھائے، اور گھر والوں کے لیے ضرورت کا سامان خریدے اس بہانے مجھے موقع مل جاتا ہے کہ میں اپنا مال ان لوگوں پر خرچ کرنے کی سعادت پاتا ہوں، جو اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں۔

کھانا ہمیشہ مہمان کے ساتھ کھاتے، اور ہمیشہ ان کے دسترخوان پر کوئی نہ کوئی مہمان ضرور ہوتا۔ فرماتے مہمان کے ساتھ جو کھانا

کہایا جاتا ہے اس کا حساب نہیں ہوتا، پیسے سے بھی ہر ایک کی مدد کرتے۔ جہاں کسی کے بارے میں معلوم ہوتا کہ مقرض ہے اور قرض مانگنے والا اس کو پریشان کر رہا ہے۔ بے چین ہو جاتے اور جس طرح بن پڑتا اس کو قرض کے بھاری بوجھ سے چھٹکارا دلاتے۔

شام کے سفر پر اکثر جایا کرتے تھے۔ راستہ میں رتہ کے مقام پر ایک سرائے پڑتی تھی ہمیشہ وہاں ٹھہرتے۔ سرائے میں ایک نوجوان آدمی تھا، وہ جی جان سے آپ کی خدمت کرتا اور آپ سے پیارے رسول ﷺ کی حدیثیں بڑے شوق سے سیکھتا۔ آپ بھی بڑی محبت سے اس کو سکھاتے اور خوش ہوتے۔

ایک بار ایسا ہوا کہ آپ سرائے میں پہنچے تو وہ نوجوان نظر نہیں آیا۔ آپ کو گھر ہوئی پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ گرفتار ہو گیا ہے۔ آپ کو بہت صدمہ ہوا۔ وجہ معلوم کی تو لوگوں نے بتایا کہ اس پر ایک آدمی کا قرضہ تھا۔ قرضہ بہت زیادہ تھا۔ قرض والا تقاضے کرتا اور اس کے پاس دینے کے لیے کچھ تھا نہیں۔ اس لیے اس آدمی نے اس کو پکڑا دیا۔ آپ تلاش کرتے کرتے اس شخص کے پاس پہنچے، جس کا قرضہ تھا۔ اس سے تہائی میں فرمایا: تمہارا کتنا قرض ہے؟ تم قرضہ کی ساری رقم مجھ سے لے لو، اور اس نوجوان کو رہا کر دو، اور اس سے قسم لے لی کہ کسی کو یہ بات بتائے نہیں۔ وہ شخص خوشی خوشی راضی ہو گیا۔ آپ نے اس کو رقم دی اور اسی وقت وہاں سے روانہ ہو گئے۔ جب وہ نوجوان چھوٹ کر سرائے میں آیا تو اسے معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ ﷺ آئے تھے اور اسے پوچھ رہے تھے۔ نوجوان کوندہ ملنے کا بہت افسوس ہوا اور دل میں ٹھانی کہ جیسے بھی ہو حضرت سے ملنا چاہیے، چنانچہ فوراً وہاں سے روانہ ہوا۔ تلاش کرتا کرتا کئی دن کے سفر کے بعد حضرت کی خدمت میں پہنچا۔ حضرت بہت خوش ہوئے اور حالات معلوم کیے۔ نوجوان نے اپنی ساری آپ بیتی سنائی، اور یہ بھی بتایا کہ سرائے میں خدا کا کوئی نیک بندہ آیا تھا اس نے چپکے سے میری طرف سے رقم ادا کر دی اور میں چھوٹ گیا۔ معلوم نہیں کون تھا؟ میرے دل سے ہر وقت اس کے لیے دعائیں نکلتی ہیں۔ حضرت نے فرمایا، خدا کا شکر ہے کہ تم نے معصیت سے نجات پائی۔

جب حضرت کا انتقال ہوا تو اس شخص کو یہ راز لوگوں نے بتایا کہ وہ رقم ادا کرنے والے حضرت عبداللہ ﷺ تھے۔

ایک آدمی پر سات سو کا قرضہ تھا۔ بے چارہ بہت پریشان تھا۔ لوگوں نے حضرت سے ذکر کیا۔ آپ نے اسی وقت اپنے منبر کو رتہ لکھا کہ اس شخص کو سات ہزار درہم دے دو۔ رتہ لے کر یہ شخص منبر کے پاس پہنچا اور زبانی بھی منبر کو بتایا کہ مجھ پر سات سو کا قرضہ ہے، منبر نے کہا آپ ذرا ٹھہریے، اس میں رقم کچھ زیادہ لکھی گئی ہے۔ میں ذرا معلوم کر لوں۔ حضرت کو پرچہ لکھ کر بھیجا کہ اس شخص کو سات سو کی ضرورت ہے اور آپ نے بھولے سے سات ہزار لکھ دیئے ہیں۔ حضرت نے جواب میں لکھا کہ فوراً اس شخص کو چودہ ہزار دے دو۔ منبر نے حضرت کی خیر خواہی میں پھر پرچہ لکھ بھیجا کہ آپ اگر اس طرح دولت لٹاتے رہے تو کچھ ہی دنوں میں یہ سارا خزانہ ختم ہو جائے گا۔

حضرت کو اس بات سے رنج ہوا اور لکھ بھیجا کہ دنیا کی دولت لٹا کر آخرت کی دولت سمیٹنے کی فکر میں ہوں۔ کیا تمہیں پیارے رسول ﷺ کا یہ قول یاد نہیں کہ اگر کوئی آدمی اپنے مسلمان بھائی کو کسی ایسی بات سے اچانک خوش کر دے جس کی اسے امید نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا۔ تاؤ کیا چودہ ہزار میں یہ سودا گھانے کا ہے؟ حضرت نے دوسری مرتبہ سات ہزار کے بجائے چودہ ہزار اس لیے لکھے تھے کہ سات ہزار کی رقم تو اسے معلوم ہو گئی تھی۔ اگر اسے سات ہزار دیتے تو اس کی امید تو اسے تھی ہی۔ اس لیے آپ نے چودہ ہزار کا حکم دیا کہ امید کے خلاف اچانک اتنی بڑی رقم دیکھ کر وہ انتہائی خوش ہوگا۔

دین کی اشاعت:

پیارے صحابہ رضی اللہ عنہم کی زندگی کے حالات جب ہم پڑھتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کو بس ایک دھن تھی کہ اللہ کا دین گھر گھر پہنچ جائے اور ہر ایک خدا کے دین پر چلنے لگے۔ حضرت عبداللہ ان کے سچے پیرو تھے۔ آپ کی زندگی کی کوئی گھڑی اس دھن سے خالی نہ تھی۔

گھر رہتے تو دین سکھانے میں لگے رہتے، سز پر جاتے تو اسی گھر میں رہتے، دولت کھاتے تو اسی لیے کہ اللہ کا دین پھیلانے میں خرچ کریں۔ لوگوں کو دین کا علم حاصل کرتے دیکھتے تو بہت خوش ہوتے، ہر طرح ان کا ساتھ دیتے، ڈھونڈ ڈھونڈ کر ایسے طالب علموں کی مدد کرتے جو علم دین کا شوق رکھتے ہیں لیکن غربت کی وجہ سے پریشان ہوتے، یا جو لوگ دینی علم سکھانے میں لگے رہتے اور روزی کے لیے دوڑ دوڑ کا موقع نہ نکال پاتے۔ ہزاروں روپے ان کے لیے بھیجتے اور فرماتے روپیہ خرچ کرنے کا اس سے اچھا موقع اور کوئی نہیں ہے۔ ایک بار فرمایا: ”میں اپنا روپیہ ان لوگوں پر خرچ کرتا ہوں جو دین کا علم حاصل کرنے میں ایسے لگ گئے ہیں کہ گھر والوں کے لیے روزی کمانے کا وقت نہیں نکال پاتے اور اگر روزی کمانے میں لگیں تو دین کا علم ختم ہو جائے گا۔ میں ان کی مدد اس لیے کرتا ہوں کہ ان کے ذریعے دین کا علم پھیلتا ہے اور نبوت ختم ہو جانے کے بعد نیکی کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ دین کا علم پھیلا یا جائے۔“ اس کام کے لیے شہر جاتے، ہر قسم کے لوگوں سے ملتے، ان کے سدھارنے کی کوشش کرتے اور بڑے سلیقے سے اس کام کو انجام دیتے۔ فرمایا کرتے تھے ”جب امت کے بڑے ذمہ دار لوگ بگڑ جاتے ہیں تو پوری امت میں بگاڑ آ جاتا ہے“ پانچ قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے تو پوری سوسائٹی بگڑ جاتی ہے۔

- ① دین کے علماء: یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء کا لایا ہوا علم ان کے پاس ہے۔ اگر یہی لوگ دنیا کے لالچ میں پھنس جائیں تو پھر عام لوگ کس سے دین سیکھیں؟ اور کس کو اپنے لیے نمونہ بنائیں؟
- ② تاجر: اگر یہی لوگ خیانت کرنے لگیں، ایمانداری چھوڑ دیں اور ناحق لوگوں کی دولت لوٹنے پر کمر باندھ لیں، تو پھر لوگ کس پر بھروسہ کریں گے؟ اور کس کو امانت دیا سمجھیں گے؟
- ③ زاہد لوگ: ان کی زندگیوں کو دیکھ کر لوگ دین پر عمل کرتے ہیں اگر یہی بگڑ جائیں تو لوگ کس کے پیچھے چلیں گے؟
- ④ مجاہد: جب ان کا مقصد غنیمت کا مال جمع کرنا ہو، اور حکومت کا ٹھاٹھ جمانے کے لیے لڑیں گے تو دین کیسے پھیلے گا؟ اور اس کی فتح کیونکر ہوگی؟

- ⑤ حاکم: حاکموں کی مثال ایسی ہے جیسے بھیڑیوں کا چرواہا، چرواہے کا کام بھیڑوں کی دیکھ بھال اور ہر خطرے سے ان کی حفاظت ہے۔ لیکن اگر چرواہا خود بھیڑیا بن جائے تو پھر بھیڑوں کی حفاظت کرنے والا کون ہوگا؟
- مطلب یہ ہے کہ امت کی اصلاح اسی وقت ہو سکتی ہے جب بڑے اور ذمہ دار لوگوں کی اصلاح ہو جائے۔ ان کی زندگیوں میں سدھر جائیں تو سب کی زندگی سدھر سکتی ہے۔ اور اگر ان کا بگاڑ دور ہو جائے تو پوری امت کی زندگی میں ایک اچھا اور پسندیدہ انقلاب آ سکتا ہے، جسے دیکھنے کے لیے آج ہر خیر پسند کی آنکھیں ترس رہی ہیں۔

### جہاد کا شوق:

کفر و شرک کا زور توڑنے اور اسلام پھیلانے کے لیے کبھی کبھی جنگ کے میدان میں بھی اترنا پڑتا ہے۔ مسلمان کی سب سے بڑی تمنا یہی ہوتی ہے کہ اس کی جان و مال اللہ کی راہ میں کام آجائے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی سب سے بڑی تمنا یہی تھی۔ نیکی کے ہر کام میں آگے آگے رہتے۔ راتیں خدا کی یاد میں گزرتیں، دن حدیث پڑھنے پڑھانے میں گزرتے۔ مال و دولت اللہ کی راہ میں خرچ ہوتا اور جہاد کا موقع آتا تو میدان جنگ میں بہادری کے جوہر دکھاتے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ مسلمانوں اور رومی کافروں میں ٹھنسی ہوئی تھی۔ اور آئے دن جھڑپیں ہوتی رہتی تھیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ان مقابلوں میں اکثر شریک ہوتے۔ ایک بار مسلمانوں اور کافروں کی فوجیں آمنے سامنے تھیں اور بڑا سخت مقابلہ تھا۔ ایک کافر اکرٹا ہوا میدان میں اتر اور مسلمان سپاہیوں کو مقابلے کے لیے پکارا۔ مسلمانوں میں سے



ایک مجاہد بھرے ہوئے شیر کی طرح اس پر چھٹنا، اور ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر ایک اور کافر اترانا ہوا میدان میں آیا۔ مجاہد نے اسے بھی ایک ہی وار میں ڈھیر کر دیا۔ اسی طرح کئی کافر مقابلہ پر آئے اور اس نے سب کو جہنم رسید کیا۔ اس بہادر شیر کی یہ بہادری دیکھ کر مسلمان بہت خوش ہوئے اور اس کو دیکھنے کے لیے آگے بڑھے۔ خدا کے اس سپاہی نے بندوں کی تعریف سے بے نیاز ہو کر منہ پر کپڑا ڈال رکھا تھا۔ کپڑا ہٹایا گیا۔ تو دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ ہیں۔

### تجارت:

مال کی بے جا محبت، جمع کرنے کی ہوس اور اس پر اترانا تو بے شک بہت بڑی برائی ہے اور اسلامی زندگی سے اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ لیکن اچھے کاموں میں خرچ کرنے کے لیے مال کمانا ایک پسندیدہ کام ہے۔ اور اسلام نے اس پر ابھارا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے فرمایا ”اگر تم اپنے وارثوں کو خوش حال چھوڑ جاؤ، تو یہ اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں غریب چھوڑ جاؤ، اور وہ تمہارے بعد بھیک مانگتے پھریں۔“ حضرت قیس رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے حضرت حاکم رضی اللہ عنہ سے فرمایا کرتے تھے ”مال جمع کرو۔ کیونکہ مال سے شریفوں کی عزت ہوتی ہے اور وہ کینے لوگوں سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں۔“ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے ”خدا کی قسم وہ آدمی کسی کام کا نہیں ہے جو اپنی عزت و آبرو بچانے کے لیے مال جمع نہیں کرتا۔“

حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے ”بازار میں جم کر کاروبار کرو۔ تم دین پر مضبوطی کے ساتھ جم سکو گے اور لوگوں سے بے نیاز ہو جاؤ گے۔“ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے ”اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو اور میں اس کی زکوٰۃ ادا کرتا رہوں تو مجھے مال سے کوئی خطرہ نہیں۔“ بزرگوں کے ان اقوال سے معلوم ہوتا ہے کہ مال کمانا کوئی برائی نہیں ہے جس سے گھن کی جائے۔ برائی تو اصل میں یہ ہے کہ آدمی مال و دولت کی محبت میں دین سے غافل ہو جائے۔ آخرت کو بھول کر عیاشی میں پڑ جائے۔ ہمارے بزرگوں نے دین کی اونچی سے اونچی خدمت کی ہے۔ لیکن ہمیشہ اپنی روزی خود کھاتے، کاروبار کرتے، یا اور کوئی پیشہ کرتے، دوسروں کے سہارے پر کبھی زندگی نہ گزارتے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بہت بڑے کاروباری تھے۔ ان کی تجارت بہت بڑے پیمانے پر تھی۔ خراسان سے قیمتی سامان لاتے اور حجاز میں بیچتے تھے۔ اللہ نے تجارت میں خوب برکت دی تھی۔ سال میں ایک لاکھ تو غریبوں اور مسکینوں کو خیرات دیتے۔

### تجارت کس لیے؟

ایک مرتبہ ان کے مشہور شاگرد حضرت فضیل رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا حضرت! آپ لوگوں کو تو نصیحت کرتے ہیں کہ دنیا سے دور رہو اور آخرت کمانے کی فکر کرو، اور خود قیمتی قیمتی سامانوں کی تجارت کرتے ہیں؟ فرمایا ”فضیل! تم نے یہ بھی سوچا کہ میں تجارت کس لیے کرتا ہوں۔ میں تجارت صرف اس لیے کرتا ہوں کہ مصیبتوں سے بچ سکوں، اپنی عزت آبرو کی حفاظت کر سکوں، اپنے پرائیوں کے جو حقوق مجھ پر آتے ہیں انہیں اچھی طرح ادا کر سکوں، اور اطمینان کے ساتھ اللہ کی بندگی کر سکوں۔“

### امول موتی:

حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی بہت سی امول باتیں کتابوں میں ملتی ہیں۔ چند یہ ہیں اور اس لائق ہیں کہ ہم ہر وقت انہیں یاد رکھیں:

① ہر کام میں ادب و تہذیب کا خیال رکھو۔ دین کے دو حصے ادب و تہذیب ہیں۔

① مقلی آدی بادشاہ سے زیادہ معزز ہوتا ہے۔ بادشاہ زبردستی لوگوں کو اپنے پاس جمع کرتا ہے اور مقلی آدی لوگوں سے بھاگتا ہے۔ لیکن لوگ اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔

② حق پر جتنے رہنا سب سے بڑا جہاد ہے۔

③ فرور و تکبر یہ ہے کہ آدی دوسروں کو ذلیل سمجھے، اور یہ خیال کرے کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ دوسروں کے پاس نہیں۔

④ وہ شخص ہرگز عالم نہیں ہے جس کے دل میں خدا کا خوف نہ ہو۔ اور جو دنیا کے لالچ میں پھنسا ہوا ہو۔

⑤ دنیا کے مال پر کبھی فرور نہ کرنا چاہیے۔

⑥ ایسا دوست ملنا انتہائی مشکل ہے جو صرف اللہ کے لیے محبت کرے۔

⑦ ایسی چیزوں سے پیٹ بھر جسے ایک مومن کا پیٹ گوارا کر سکے۔

⑧ طالب علم کے لیے پانچ باتیں ضروری ہیں:

① اچھی نیت ② استاد کی باتوں کو دھیان سے سننا ③ استاد کی باتوں پر فرور نظر کرنا

④ استاد کی باتوں کو یاد رکھنا ⑤ استاد کی باتوں کو اچھے لوگوں میں پھیلانا۔

⑥ حسن اخلاق پر اپنا مال خرچ کریں، اور اپنی ذات سے کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچے دیں۔

بندوں پر اپنا مال خرچ کریں، اور اپنی ذات سے کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچے دیں۔

چند شعر:

حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ شاعر بھی تھے۔ آپ اکثر ایک شعر گنگنایا کرتے تھے اور ہے بھی وہ اس لائق کہ بار بار پڑھا جائے۔

۶ اَرَايَ اَنَا سَابَادَتِي الدِّينِ قَدْ قَتَعُوا

ترجمہ: ”دین کی باتوں میں تو لوگ تھوڑے ہی کو بہت سمجھ لیتے ہیں۔“

۶ وَلَا اَرَاهُمْ رَضُوَانِي الْعَيْشِ بِالْذُّوْنِ

ترجمہ: ”لیکن دنیا کے ساز و سامان میں تھوڑے پر راضی رہنے والا کوئی نظر نہیں آتا۔“

جو دنیا میں ”کئی“ کو رو رہے ہیں ”ذرا سے دین“ پر خوش ہو رہے ہیں

(ش۔ نوید)

حضرت کی شان میں بہت سے لوگوں نے قصیدے لکھے۔ ایک قصیدے کے یہ دو شعر بہت مشہور ہیں۔

۶ اِنَّا سَاَرَعْنَا عَمْدَ اللّٰهِ مِنْ مَّرِّ وَ لَيْلَةٍ

ترجمہ: ”جب ایک رات عبداللہ مرو سے چلے۔“

۶ فَقَدْ سَاَرَعْنَا نُورَهَا وَ جَمَالَهَا

ترجمہ: ”تو مرو کی ساری روشنی اور رونق جاتی رہی۔“

۶ اِنَّا ذُكِرْنَا لِعَمْرٍو فِي كُلِّ بَلَدٍ

ترجمہ: ”جب کسی شہر میں نیک عالموں کے تذکرے ہوتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ۔“

۶ فَهُمْ اَنْجَمُوْا فِيْهَا وَ اَنْتَ وِجَالُهَا

ترجمہ: وہ سب تارے ہیں اور آپ ان میں چاند کی طرح چمکتے ہیں۔“

ایک نرالا سورج غروب ہوا تو اس کی روشنی کچھ اور پھیل گئی:

جہاد کے لیے تو حضرت ہر سال ہی جاتے۔ ۱۸۱ھ میں جہاد سے واپس آ رہے تھے۔ موصل کے قریب بیت نامی بستی میں پہنچے تو طبیعت بگڑ گئی۔ آپ سمجھ گئے کہ اب آخری وقت ہے فرمایا:

”مجھے فرشتے سے اٹھا کر زمین پر ڈال دو۔“

نظر مبارک نے آپ کو زمین پر ڈال تو دیا، لیکن مہربان آقا کی یہ حالت دیکھ کر بے اختیار رونے لگے۔ حضرت نے پوچھا روتے کیوں ہو؟ نظر مبارک نے کہا ”حضرت! ایک وہ زمانہ تھا کہ دولت کی ریل پھیل تھی، شان و شوکت تھی، اور جاہ و جلال کی زندگی تھی۔ اور ایک یہ وقت ہے کہ آپ مسافرت میں ہیں۔ عزیز و اقارب دور ہیں غریبی کی زندگی ہے۔ بے بسی ہے، اور پھر آپ خاک پر پڑے ہوئے ہیں، یہ سب دیکھ کر میرا دل بھرا آیا اور بے اختیار میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔“

### (۴۹) حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا

”نہر ارج کی کوئی بات نہیں۔ میں نے ہمیشہ خدا سے یہی دعا کی، کہ خدایا! میری زندگی مالداروں کی سی ہو کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں اور تیری راہ میں کھلے دل سے دولت لٹاؤں اور میری موت غریبوں اور خاکساروں کی سی ہو کہ تیری خدمت میں غریب اور بے بس بن کر پہنچوں کہ تجھے رحم آئے۔ خدا کا شکر ہے کہ میری دعا قبول ہوئی۔“ رمضان کا مبارک مہینہ تھا کہ ابن مبارک رضی اللہ عنہ ایمان و عمل کا تحفہ لیے اپنے رب کے حضور پہنچے اور وہ سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا جس نے 63 سال تک مصر، شام، کوفہ، بصرہ، یمن اور حجاز کو اپنی علمی روشنی سے جگمگایا۔ مگر یہ ایک نرالا ہی سورج تھا۔ غروب ہوا تو اس کی روشنی کچھ اور پھیل گئی۔ آج تک ساری دنیا اس کی روشنی سے جگمگا رہی ہے۔ اور جب تک خدا چاہے گا جگمگاتی رہے گی۔ اللہ کی ہزار ہزار نعمتیں ان پر خدا تو فیض دے کہ ہم بھی ان کی پھیلائی ہوئی روشنی میں چلیں۔

### (۵۰) ایک انگریز جج نے فیصلہ کیا کہ مسلمان ہار گئے اسلام جیت گیا

کاندھلہ میں ایک مرتبہ ایک زمین کا ٹکڑا تھا اس پر جھگڑا چل پڑا، مسلمان کہتے تھے کہ یہ ہمارا ہے، ہندو کہتے تھے کہ یہ ہمارا ہے، چنانچہ یہ مقدمہ بن گیا۔ انگریز کی عدالت میں پہنچا، جب مقدمہ آگے بڑھا تو مسلمان نے اعلان کر دیا۔ کہ زمین کا ٹکڑا اگر مجھے ملا تو میں مسجد بناؤں گا، ہندوؤں نے جب سنا تو انہوں نے ضد میں کہہ دیا کہ یہ ٹکڑا اگر ہمیں ملا تو ہم اس پر مندر بنائیں گے۔ اب بات دو انسانوں کی انفرادی تھی، لیکن اس میں رنگ اجتماعی بن گیا، حتیٰ کہ ادھر مسلمان جمع ہو گئے اور ادھر ہندو اکٹھے ہو گئے اور مقدمہ ایک خاص نوعیت کا بن گیا، اب سارے شہر میں قتل و غارت ہو سکتی تھی، خون خرابہ ہو سکتا تھا، تو لوگ بھی بڑے حیران تھے کہ نتیجہ کیا نکلے گا؟ انگریز جج تھا وہ بھی پریشان تھا کہ اس میں کوئی صلح و صفائی کا پہلو نکالے ایسا نہ ہو کہ یہ آگ اگر جل گئی تو اس کا بجھانا مشکل ہو جائے۔ جج نے مقدمہ سننے کے بجائے ایک تجویز پیش کی کہ کیا کوئی ایسی صورت ہے کہ آپ لوگ آپس میں بات چیت کے ذریعے مسئلہ کا حل نکال لیں، تو ہندوؤں نے ایک تجویز پیش کی کہ ہم آپ کو ایک مسلمان کا نام تنہائی میں بتائیں گے، آپ اگلی پیشی پر ان کو بلا لیجئے اور ان سے پوچھ لیجئے، اگر وہ کہیں کہ یہ مسلمانوں کی زمین ہے تو ان کو دے دیجئے اور اگر وہ کہیں کہ یہ مسلمانوں کی زمین نہیں، ہندوؤں کی ہے تو ہمیں دے دیجئے۔ جب جج نے دونوں فریقوں سے پوچھا تو دونوں فریق اس پر راضی ہو گئے۔ مسلمانوں کے دل میں یہ تھی کہ مسلمان ہو گا جو بھی ہو تو وہ مسجد بنانے کے لیے بات کرے گا، چنانچہ انگریز نے فیصلہ دے دیا اور مہینہ یا چند دنوں کی تاریخ دے دی کہ بھی اس دن آنا اور اس میں اس بڑھے کو بھی بلوا

لوں گا۔ اب جب مسلمان باہر نکلے تو بڑی خوشیاں منارہے تھے، سب کو در ہے تھے، نعرے لگا رہے تھے۔ ہندوؤں نے پوچھا اپنے لوگوں سے کہ تم نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک مسلمان عالم کو حاکم بنا لیا ہے کہ وہ اگلی پیشی پر جو کہے گا اسی پر فیصلہ ہوگا، اب ہندوؤں کے دل مرجھا گئے اور مسلمان خوشیوں سے پھولے نہیں سماتے تھے۔ لیکن انتظار میں تھے کہ اگلی پیشی میں کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ ہندوؤں نے مفتی الہی بخش کا مدعوئی مہینہ کا نام بتایا کہ جو شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے تھے اور اللہ نے ان کو سچی زندگی عطا فرمائی تھی، مسلمانوں نے دیکھا کہ مفتی صاحب تشریف لائے ہیں تو وہ سوچنے لگے کہ مفتی صاحب تو مسجد کی ضرورت بات کریں گے۔ چنانچہ جب انگریز نے پوچھا کہ بتائیے مفتی صاحب یہ زمین کا کھلا کس کی ملکیت ہے؟ ان کو چونکہ حقیقت حال کا پتہ تھا انہوں نے جواب دیا کہ یہ زمین کا کھلا تو ہندوؤں کا ہے۔ اب جب انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہندو کا ہے تو انگریز نے اگلی بات پوچھی کہ کیا اب ہندو لوگ اس کے اوپر مندر تعمیر کر سکتے ہیں؟ مفتی صاحب نے فرمایا جب ملکیت ان کی ہے تو وہ جو چاہیں کریں چاہے گھر بنائیں یا مندر بنائیں، یہ ان کا اختیار ہے۔ چنانچہ فیصلہ دے دیا گیا کہ یہ زمین ہندوؤں کی ہے، مگر انگریز نے فیصلے میں ایک عجیب بات لکھی، فیصلہ کرنے کے بعد لکھا کہ ”آج اس مقدمہ میں مسلمان ہار گئے مگر اسلام جیت گیا۔“ جب انگریز نے یہ بات کہی تو اس وقت ہندوؤں نے کہا کہ آپ نے تو فیصلہ دے دیا ہماری بات بھی سن لیجئے ہم اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں اور آج یہ اعلان کرتے ہیں کہ اب ہم اپنے ہاتھوں سے یہاں مسجد بنائیں گے۔ تو عقل کہہ رہی تھی کہ جھوٹ بولا کہ مسجد بنے گی مگر حضرت مفتی صاحب نے سچ بولا اور سچ کا بول بالا، سچ پروردگار نے اس جگہ مسجد بنا کر دکھلا دی۔ تو کئی مرتبہ نظر آتا ہے کہ جھوٹ بولنا آسان راستہ ہے، جھوٹ بولنا آسان راستہ نہیں ہے یہ کانٹوں بھرارا راستہ ہوا کرتا ہے، جھوٹے سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتے ہیں، انسان نفرت کرتے ہیں، انسان اعتماد دکھو بیٹھتا ہے، ایک جھوٹ کو بولنے کے لیے کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، لہذا جھوٹی زندگی گزارنے کے بجائے سچی زندگی کو آپ اختیار کیجئے اس پروردگار آپ کی مدد فرمائے گا۔

### (۵۱) اپنی بیوی کا دل پیار سے جیتنے تلوار سے نہیں

جو خاوند اپنی بیوی کا دل پیار سے نہیں جیت سکا وہ اپنی بیوی کا دل تلوار سے ہرگز نہیں جیت سکتا۔ دوسرے الفاظ میں جو عورت اپنے خاوند کو پیار سے اپنا نہ بنا سکی وہ تلوار سے بھی اپنے خاوند کو اپنا نہیں بنا سکے گی۔ کئی مرتبہ عورتیں سوچتی ہیں کہ میں اپنے بھائی کو کہوں گی وہ میرے خاوند کو ڈانٹے گا، میں اپنے ابو کو بتاؤں گی وہ میرے خاوند کو سیدھا کر دیں گے، ایسی عورتیں انتہائی بے وقوف ہوتی ہیں بلکہ پرلے درجے کی بے وقوف ہوتی ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے بھائی اور آپ کے باپ ڈانٹیں گے اور آپ کا خاوند ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ تیسرے بندے کے درمیان میں آنے سے ہمیشہ فاصلے بڑھ جاتے ہیں۔ جب آپ نے اپنے اور خاوند کے معاملے میں اپنے ماں باپ کو ڈال دیا تو آپ نے تیسرے بندے کو درمیان میں ڈال کر خود فاصلہ کر لیا، تو جب آپ خود اپنے اور اپنے میاں کے درمیان فاصلہ کر چکیں، تو اب یہ قبر کیسے ہوگا؟ اس لیے اپنے گھر کی باتیں اپنے گھر میں سیٹی جاتی ہیں، لہذا یاد رکھئے:

### (۵۲) اپنا گھونسلہ اپنا کچا ہو یا پکا

خاوند کے گھر میں اگر آپ فاتح سے بھی وقت گزاریں گی تو اللہ رب العزت کے یہاں درجے اور رتبے پائیں گی، اپنے والد کے گھر کی آسائشوں اور ناز و نعمت کو یاد نہ کرنا، ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ بیٹیاں ماں باپ ہی کے گھر میں رہتی رہیں، بالآخر ان کو اپنا گھر بسانا ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف سے جو زندگی کی ترتیب ہے اسی کو اپنانا ہوتا ہے، تو اس لیے اگر خاوند کے گھر میں رزق کی تنگی ہے یا خاوند کی عادتوں میں سے کوئی عادت خراب ہے تو صبر و تحمل کے ساتھ اس کی اصلاح کے بارے میں فکر مند رہیں، سوچ سمجھ کر ایسی باتیں کریں، خدمت کے ذریعے خاوند کا دل جیت لیں۔ تب آپ جو بھی کہیں گی خاوند مان لے گا۔

### (۵۳) گھر میں عافیت اور سلامتی کا مجرب نسخہ

ایک عمل کی اجازت سب مستورات کو دی جاتی ہے وہ پڑھنا شروع کر دیں۔ جتنی عورتیں شادی شدہ ہیں وہ تو ضروری پڑھیں لیکن جو بڑی عمر کی بچیاں ہیں سمجھدار ہیں، وہ بھی پڑھیں، جب اللہ تعالیٰ اپنے وقت پر ان کے گھر آباد کر دیں گے تو انشاء اللہ ان کو خوشیاں نصیب ہوں گی۔ عمل یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی نماز پڑھیں فرض ہو، واجب ہو، نفل ہو، اس کی آخری التحیات میں (یعنی دو رکعت کی تو ایک ہی التحیات ہوتی ہے لیکن چار رکعت میں تو دو مرتبہ التحیات میں بیٹھتے ہیں) تو آخری التحیات جس میں آپ کو سلام پھیرنا ہوتا ہے اس میں جب آپ رینا اتنا ..... العو یا اللہ العی ظلمت نفسی الخ یا کوئی بھی دعا پڑھتی ہیں اور سلام پھیرنے لگتی ہیں اس وقت سلام پھیرنے سے پہلے آپ یہ دعا بھی پڑھا کریں:

﴿ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ۝ ﴾ (سورہ فرقان: ۷۴)

اس دعا کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کے سارے افراد کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیں گے، اس کی اجازت ان تمام عورتوں کو ہے جو یہ آواز سن رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ برکتیں عطا کرے اور گھروں میں سکھ و سکون کی زندگی نصیب ہو۔

### (۵۴) زبان کی لغزش پاؤں کی لغزش سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہے

خاموش رہنا تندرستی کی علامت ہوتی ہے، عقلمندی کی علامت ہوتی ہے، اور انسان کے سمجھدار ہونے کی علامت ہوتی ہے، جب کہ ہر وقت ٹر ٹر کرتے رہنا یہ انسان کی بے وقوفی کی علامت ہوتی ہے، یاد رکھئے گا کہ ”زبان کی لغزش پاؤں کی لغزش سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔“ پاؤں پھسل گیا تو بندہ پھراٹھ سکتا ہے لیکن اگر زبان پھسل گئی تو وہ لفظ پھر واپس نہیں آسکتا اس لیے جس بندے کی زبان بے قابو ہو تو اس بندے کی موت کا فیصلہ وہی کرتی ہے۔

کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت جس کا جتنا طرف ہے اتنا ہی وہ فحش ہے

### (۵۵) نیک بیویاں اپنے خاوند سے نیکی کے کام کروایا کرتی ہیں

ایک خاتون گزری ہیں جن کو حاتم طائی کی بیوی کہا جاتا تھا۔ نیک اور دیندار، مالدار خاوند کی بیوی تھیں، ان کا گھر جس بستی میں تھا اس کے قریب سے ایک عام سڑک گزر رہی تھی، دیہاتوں کے لوگ اپنی بستیوں سے چل کر اس سڑک تک آتے اور بسوں کے ذریعے پھر شہروں میں جاتے۔ کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا کہ وہ جب پہنچتے تو بس کا آخری وقت ختم ہو چکا ہوتا، رات گہری ہو چکی ہوتی اب ان مسافروں کو بس نہ ملنے کی وجہ سے انتظار میں بیٹھنا پڑتا اور بیٹھنے کے لیے کوئی خاص جگہ بھی بنی ہوئی نہیں تھی، اس نیک عورت نے جس کا شوہر خوش حال تھا اپنے خاوند کو یہ تجویز پیش کی کہ کیوں نہ ہم مسافروں کے لیے ایک چھوٹا سا مسافر خانہ بنا دیں تاکہ وہ وقت بے وقت لوگ آئیں اور ان کو سواری نہ ملے تو وہ لوگ ایک کونہ میں بیٹھ کر وقت گزار لیں۔ خاوند نے مسافر خانہ بنا دیا، لوگوں کے لیے بڑی آسانی ہو گئی، جب بھی لوگ آتے تو اس کمرے میں بیٹھ کر تھوڑی دیر انتظار کر لیتے، پھر اس نیک عورت کو خیال آیا کہ کیوں نہ ان مسافروں کے لیے چائے پانی کا تھوڑا سا نظام ہی ہو جائے، چنانچہ اس کو جو جیب خرچ ملتا تھا اس نے اس میں سے مسافروں کے لیے چائے پانی کا نظم کر دیا۔ اب مسافر اور خوش ہو گئے اور اس عورت کو اور زیادہ دعائیں دینے لگے۔ وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں میں یہ بات بہت پسند کی جانے لگی کہ اللہ کی نیک بندی نے لوگوں کی تکلیف کو دور کر دیا حتیٰ کہ اس کو اور چاہت ہوئی اس نے اپنے خاوند سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہوا ہے، ہم اگر کھانے کے وقت میں ان مسافروں کو کھانا بھی کھلا دیا کریں تو اس میں کون سی بڑی بات ہے، اللہ کے دیئے ہوئے میں سے ہم

خرچ کریں گے چنانچہ خاوند مان گیا۔ نیک بیویاں اپنے خاوند سے نیکی کے کام کروایا کرتی ہیں یہ نہیں ہوتا کہ کوئی تو تاج محل بنوائے اور کوئی گلشن آرا کا باغ بنوائے یہ تو بیوقوفی کی باتیں ہیں، کہ دنیا کی چیزیں بنوالیں یہ کیا یادگار ہوئی۔ یادگار تو وہ تھی جو زبیدہ خاتون نے چھوڑی، کہ جن کی نہر سے لاکھوں انسانوں نے پانی پیا اور اپنے نامہ اعمال میں اس کا اجر لکھا گئی، تو نیک بیویاں اپنے خاوندوں سے ہمیشہ نیک کاموں میں خرچ کرواتی ہیں۔ چنانچہ شوہر نے مسافروں کے لیے کھانے کا انتظام بھی کر دیا لہذا جب مسافروں کو کھانا بھی ملنے لگا تو بہت سے مسافرات میں وہاں ٹھہر جاتے اور اگلے روز بس پکڑ کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاتے یہاں تک کہ وہاں پر سوچا اس مسافر رہنے لگ گئے۔ کھانا پکنا لوگ کھاتے اس کے لیے دعائیں کرتے اب کچھ لوگ ضرورت سے زیادہ خیر خواہ بھی ہوتے ہیں، جو خیر خواہی کے رنگ میں بدخواہی کر رہے ہوتے ہیں، دوستی کے رنگ میں دشمنی کر رہے ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایسے آدمیوں میں سے ایک دو نے اس کے خاوند سے بات کی کہ جی تمہاری بیوی تو فضول خرچ ہے، سوچا اس بندوں کا کھانا روز پک رہا ہے، یہ فارغ قسم کے لوگ کھنڈ اور نالائق قسم کے لوگ کھنڈ اور نالائق قسم کے لوگ آ کر یہاں پڑے رہتے ہیں کھاتے رہتے ہیں تمہیں اپنے مال کا بالکل احساس نہیں یہ تو تمہیں ڈبو کر رکھ دے گی۔ انہوں نے ایسی باتیں کہیں کہ خاوند نے کہا کہ اچھا ہم ان کو چائے پانی تو دیں گے البتہ کھانا دینا بند کر دیتے ہیں، چنانچہ کھانا بند کر دیا گیا۔ جب عورت کو پتہ چلا تو اس عورت کے دل پر تو بہت صدمہ گزرا، مگر عورت سمجھدار تھی وہ جانتی تھی کہ موقع پر کمی ہوئی بات سونے کی ڈیلیوں کی مانند ہوتی ہے، اس لیے مجھے اپنے خاوند سے الجھنا نہیں، موقع پر بات کرنی ہے تاکہ میں اپنے خاوند سے بات کہوں اور میرے خاوند کو بات سمجھ میں آ جائے۔ چنانچہ دو چار دن وہ خاموش رہی۔ ایک دن وہ خاموش بیٹھی تھی، خاوند نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ خاموش کیوں بیٹھی ہو؟ کہنے لگی کہ بہت دن ہو گئے گھر میں بیٹھے ہوئے سوچتی ہوں کہ ہم ذرا اپنی زمینوں پر چلیں، جہاں کٹواں ہے، ٹیوب ویل ہے، باغ ہے۔ کہنے لگا بہت اچھا میں تمہیں لے چلا ہوں۔ چنانچہ خاوند اپنی بیوی کو لے کر اپنی زمینوں پر آ گیا۔ جہاں باغ تھا، پھل پھول تھے وہاں ٹیوب ویل بھی لگا ہوا تھا، چنانچہ وہ عورت پہلے تو تھوڑی دیر پھولوں میں، باغ میں، گھومتی رہی اور پھول توڑتی رہی پھر اخیر میں آ کر یہ کنویں کے قریب بیٹھ گئی اور کنویں کے اندر دیکھنا شروع کر دیا۔ خاوند سمجھا کہ ویسے ہی کنویں کی آواز سن رہی ہے پانی نکلتا ہوا دیکھ رہی ہے۔ کافی دیر جب ہو گئی تو خاوند نے کہا کہ نیک بخت چلو گھر چلتے ہیں، کہنے لگی کہ ہاں بس ابھی چلتے ہیں اور بیٹھی رہی۔ کچھ دیر بعد اس نے پھر کہا کہ چلو گھر کہنے لگی کہ ہاں بس ابھی چلتے ہیں اور پھر بیٹھی رہی، تیسری مرتبہ اس نے پھر کہا کہ ہمیں دیر ہو رہی ہے مجھے بہت سے کام سینے ہیں، چلو گھر چلتے ہیں کہنے لگی کہ جی ہاں چلتے ہیں اور کنویں میں دیکھتی رہی، اس پر خاوند قریب آیا اور کہا کہ کیا بات ہے؟ تم کنویں میں کیا دیکھ رہی ہو؟ تب اس عورت نے کہا کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ جتنے ڈول کنویں میں جا رہے ہیں سب کے سب کنویں سے بھر کر واپس آ رہے ہیں لیکن پانی جیسا تھا ویسا ہی ہے، ختم نہیں ہو رہا۔ اس پر خاوند مسکرایا اور کہنے لگا کہ اللہ کی بندی بھلا کنویں کا پانی بھی کبھی کم ہوا ہے یہ تو سارا دن اور ساری رات بھی اگر نکلتا رہے اور ڈول بھر کر آتے رہیں تب بھی کم نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ نیچے سے اور بھیجتے رہتے ہیں۔ جب اس مرد نے یہ بات کہی تب اس سمجھدار خاتون نے جواب دیا کہنے لگی اچھا یہ اسی طرح ڈول بھر کر آتے رہتے ہیں اور پانی ویسا ہی رہتا ہے، نیچے اور آتا رہتا ہے؟ خاوند نے کہا کہ تمہیں نہیں پتہ! بیوی نے کہا کہ میرے دل میں ایک بات آرہی ہے کہ اللہ نے نیکیوں کا ایک کٹواں ہمارے یہاں بھی جاری کیا تھا، مسافر خانہ کی شکل میں۔ لوگ آتے تھے اور ڈول بھر کر لے جاتے تھے تو کیا آپ کو خطرہ ہو گیا تھا کہ اس کا پانی ختم ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اور نہیں بھیجے گا؟ اب جب اس نے موقع پر یہ بات کہی تو خاوند کے دل پر جا لگی، کہنے لگا کہ واقعی تم نے مجھے قائل کر لیا۔ چنانچہ شوہر واپس آیا اور اس نے دوبارہ مسافر خانہ میں کھانا شروع کروا دیا اور جب تک یہ میاں بیوی زندہ رہے، مسافر خانہ کے مسافروں کو کھانا کھلاتے رہے۔ تو یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ نیک بیویاں فوراً ترکی بہ ترکی جواب نہیں دیا کرتیں بلکہ بات کرتی ہیں، موقع پر بات کرتی ہیں اور کئی مرتبہ یہ دیکھا گیا کہ مرد اگر غصہ میں کوئی بات کر بھی جائے تو دوسرے موقع پر آپ نے کوئی

بات کہی، اس پر مرد نے کہا میں ہرگز نہیں کروں گا، آپ خاموش ہو جائیے، دوسرے موقع پر وہ خوشی سے بات مان لے گا یہ غلطی ہرگز نہ کریں کہ ہر بات کا جواب دینا اپنے اوپر لازم کر لیں، اس غلطی کی وجہ سے بات کبھی چھوٹی ہوتی ہے، مگر بات کا بنگلہ بن جاتا ہے اور تفرقہ پیدا ہو جاتا ہے اور میاں بیوی کے اندر جدائیاں واقع ہو جاتی ہیں تو اس لیے نکلند عورت ”پہلے تو لے گی اور پھر بولے گی“ اس لیے کہ اسے پتہ ہے اگر میں موقع پر بات کہوں گی تو اس بات کا نتیجہ اچھا نکلے گا۔

### (۵۶) بیوی اچھی ہو یا بری فائدہ ہی فائدہ ہے

محترم القام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔

بعد سلام، گزارش ہے کہ میں نو جوان ہوں۔ شادی کا تقاضہ ہونے کے باوجود دل گوارا نہیں کرتا کہ شادی کروں۔ پتہ نہیں بد اخلاق بیوی یا خوش اخلاق بیوی سے پالا پڑتا ہے۔ تسلی بخش جواب مرحبت فرمائیے، عین نوازش ہوگی۔ فقط والسلام۔

آپ بہر صورت شادی کر لیجئے۔ ایک نو جوان شادی سے کترار ہاتا تھا۔ سقراط نے اسے نصیحت کرتے ہوئے کہا: ”تم ہر حال میں شادی کر لو۔ اگر تمہاری بیوی نیک رہی تو خوش و خرم رہو گے اور اگر تمہارے نصیب میں بد اخلاق بیوی لکھی ہوگی تب بھی تمہارے اندر حکمت اور دانائی آجائے گی اور یہ دونوں چیزیں انسان کے لیے سود مند ہیں۔“

### (۵۷) ملاح بولا میں نے تو اپنی آدمی عمر کھوئی مگر تم نے پوری عمر ڈبوئی

ایک بار چند طلباء تفریح کے لیے ایک کشتی پر سوار ہوئے، طبیعت موج پر تھی، وقت سہانا تھا ہوا نشا ط انگیز اور کیف آور تھی اور کام کچھ نہ تھا۔ یہ نو عمر طلباء خاموش کیسے بیٹھ سکتے تھے جاہل ملاح دلچسپی کا اچھا ذریعہ اور فقرہ بازی، مذاق و تفریح طبع کے لیے بے حد موزوں تھا۔ چنانچہ ایک تیز طرار صاحبزادے نے اس سے مخاطب ہو کر کہا: ”چچا میاں! آپ نے کون سے علوم پڑھے ہیں؟“

ملاح نے جواب دیا: ”میاں میں کچھ پڑھا لکھا نہیں۔“

صاحبزادے نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا: ”ارے آپ نے سائنس نہیں پڑھی؟“ ملاح نے کہا: ”میں نے تو اس کا نام بھی نہیں سنا۔“ دوسرے صاحبزادے بولے: ”جیومیٹری اور الجبرا تو آپ ضرور جانتے ہوں گے؟“ اب تیسرے صاحبزادے نے شوشہ چھوڑا: ”مگر آپ نے جغرافیہ اور ہسٹری تو پڑھی ہی ہوگی؟“ ملاح نے جواب دیا: ”سرکار یہ شہر کے نام ہیں یا آدمی کے؟“ ملاح کے اس جواب پر لڑکے اپنی اپنی نہ ضبط کر سکے اور انہوں نے قہقہہ لگایا، پھر انہوں نے پوچھا ”چچا میاں تمہاری عمر کیا ہوگی؟“ ملاح نے بتایا ”یہی کوئی چالیس سال“ لڑکوں نے کہا ”آپ نے اپنی آدمی عمر برباد کی اور کچھ پڑھا لکھا نہیں۔“

ملاح بیچارہ خفیف ہو کر رہ گیا اور چپ سادہ لی، قدرت کا تماشا دیکھنے کہ کشتی کچھ ہی دور گئی تھی کہ دریا میں طوفان آ گیا، موجیں منہ پھیلانے ہوئے بڑھ رہی تھیں اور کشتی جھکولے لے رہی تھی معلوم ہوتا تھا کہ اب ڈوبی تب ڈوبی۔ دریا کے سفر کا لڑکوں کو پہلا تجربہ تھا، ان کے اوسان خطا ہو گئے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں، اب جاہل ملاح کی باری آئی، اس نے بڑی سنجیدگی سے منہ بنا کر پوچھا ”بھیا تم نے کون کون سے علم پڑھے ہیں؟“ لڑکے اس بھولے بھالے ملاح کا مقصد نہ سمجھ سکے اور کالج یا مدرسہ میں پڑھے ہوئے علوم کی لمبی فہرست گنوائی شروع کر دی اور جب وہ بہ بھاری بھر کم مرعوب کن نام گنا سکے تو اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا ”ٹھیک ہے، یہ سب تو پڑھا لیکن کیا تیرا کی بھی سیکھی ہے؟ اگر خدا نخواستہ کشتی الٹ جائے تو کنارے کیسے پہنچ سیکھ گے؟“

لڑکوں میں کوئی بھی تیرا نہیں جانتا تھا انہوں نے بہت افسوس کے ساتھ جواب دیا ”چچا جان! یہی ایک علم ہم سے رہ گیا ہے، ہم اسے نہیں سکھ سکے؟“ لڑکوں کا جواب سن کر ملاح زور سے ہنسا اور کہا ”میاں نے تو اپنی آدمی عمر کھوئی مگر تم نے تو آج پوری عمر ڈبوئی، اس

لیے کہ اس طوفان میں تمہارا پڑھا لکھا کام نہ آئے گا، آج تیرا کیسی تمہاری جان بچا سکتی ہے اور وہ تم جانتے ہی نہیں۔“

آج بھی دنیا کے بڑے بڑے ترقی یافتہ ملکوں میں جو بظاہر دنیا کی قسمت کے مالک بنے ہوئے ہیں، صورت حال یہی ہے کہ زندگی کا سفینہ گرداب میں ہے، دریا کی موجیں خونخوار ہنگاموں کی طرح منہ پھیلانے ہوئے بڑھ رہی ہیں، ساحل دور ہے اور خطرہ قریب لیکن کشتی کے معزز و لائق سواروں کو سب کچھ آتا ہے مگر ملاجی کافن اور تیرا کی کا علم نہیں آتا، دوسرے الفاظ میں انہوں نے سب کچھ سیکھا ہے لیکن بھلے مانسوں شریف، خدا شناسی اور انسانیت دوست انسانوں کی طرح زندگی گزارنے کا فن نہیں سیکھا، اقبال نے اپنے اشعار میں اس نازک صورت حال اور اس عجیب و غریب "تضاد" کی تصویر کھینچی ہے جس کا اس بیسویں صدی کا مذہب اور تعلیم یافتہ فرد بلکہ معاشرہ شکار ہے۔

ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزر گاہوں کا      اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا  
اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسا      آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا  
جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا      زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا

(تحدہ کشمیر، صفحہ ۱۰)

## (۵۸) دنیا کی عجیب مثال

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بڑے اچھے انداز میں سمجھائی۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جا رہا تھا۔ ایک شیر اس کے پیچھے بھاگا۔ اس کے قریب کوئی بھی درخت نہیں تھا کہ جس پر وہ چڑھ جاتا۔ اسے ایک کنواں نظر آیا، اس نے سوچا کہ میں کنویں میں چھلانگ لگا دیتا ہوں، جب شیر چلا جائے گا تو میں بھی کنویں سے باہر نکل آؤں گا۔ جب اس نے نیچے چھلانگ لگانے کے لیے دیکھا تو کنویں میں پانی کے اوپر ایک کالا ناگ تیرتا ہوا نظر آیا۔ اب پیچھے شیر تھا اور نیچے کنویں میں کالا ناگ تھا۔ وہ اور زیادہ پریشان ہو کر سوچنے لگا کہ اب میں کیا کروں۔ اسے کنویں کی دیوار پر کچھ گھاس آگی ہوئی نظر آئی۔ اس نے سوچا کہ اس میں گھاس کو پکڑ کر لٹک جاتا ہوں، نہ اوپر رہوں کہ شیر کھائے اور نہ نیچے جاؤں کہ سانپ ڈسے، میں درمیان میں لٹک جاتا ہوں جب شیر چلا جائے گا تو میں بھی باہر نکل آؤں گا۔ تو ہڈی دیر کے بعد اس نے دیکھا کہ ایک کالا اور سفید چوہا دونوں اسی گھاس کو کاٹ رہے ہیں۔ جس گھاس کو پکڑ کر وہ لٹک رہا تھا اب اسے اور زیادہ پریشانی ہوئی۔ اس پریشانی کے عالم میں جب اس نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے قریب ہی شہد کی کھیوں کا ایک چمچہ نظر آیا۔ اس پر کھیاں تو نہیں تھیں مگر وہ شہد سے بھرا ہوا تھا۔ یہ چمچہ دیکھ کر اسے خیال آیا کہ ذرا دیکھوں تو سبھی اس میں کیسا شہد ہے۔ چنانچہ اس نے ایک ہاتھ سے گھاس کو پکڑا اور دوسرے ہاتھ کی انگلی پر جب شہد لگا کر چکھا تو اسے بڑا حرا آیا۔ اب وہ اسے چاٹنے میں مشغول ہو گیا۔ نہ اسے شیر یا درہا ناگ یاد رہا اور نہ ہی اسے چوہے یاد رہے، سوچیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ "اے دوست! تیری مثال اسی انسان کی سی ہے، ملک الموت شیر کی مانند تیرے پیچھے لگا ہوا ہے۔ قبر کا عذاب اس سانپ کی صورت میں تیرے انتظار میں ہے، کالا اور سفید چوہا، یہ تیری زندگی کے دن اور رات ہیں، گھاس تیری زندگی ہے جسے چوہے کاٹ رہے ہیں، اور یہ شہد کا چمچہ دنیا کی لذتیں ہیں جن سے لطف اندوز ہونے میں تو لگا ہوا ہے تجھے کچھ یاد نہیں، سوچ کہ تیرا انجام کیا ہوگا۔" واقعی بات یہی ہے کہ انسان دنیا کی لذتوں میں پھنس کر اپنے رب کو ناراض کر لیتا ہے۔ کوئی کھانے، پینے کی لذتوں میں پھنسا ہوا ہے اور کوئی اچھے عہدے اور شہرت کی لذت میں پھنسا ہوا ہے، یہی لذتیں انسان کو آخرت سے غافل کر دیتی ہیں۔ اس لیے جہاں ترک دنیا کا لفظ آئے گا اس سے مراد ترک لذات ہوگا۔

## (۵۹) سانپ کے بچے وفادار نہیں ہو سکتے

بڑے دوست کے ساتھ دوستی نہ کریں اور اپنے نسب کو دھبہ نہ لگائیں، کڑوے کنویں کبھی پیٹھے نہیں ہو سکتے چاہے تم اس میں لاکھوں



من گڑاں دو، کوے کے بچے بھی ہنس نہیں بنا کرتے چاہے تم ان کو موتیوں کی غذا کھلاتے رہو، سانپ کے بچے وفادار نہیں ہو سکتے چاہے چلو میں دودھ لے کر ان کو کیوں نہ پلا دیں حنظل کبھی تریوز نہیں بنتا ہے چاہے اس پھول کو تم مکہ ہی کیوں نہ لے کے چلے جاؤ۔

### (۶۰) بیوی کا پیار والا نام رکھنا سنت ہے..... مگر ایسا ویسا نام نہ رکھنا

نبی کریم ﷺ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہت ہی محبت کے ساتھ پیش آتے تھے۔ چنانچہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”أَنَا عُمَرُ كُمُّ لِأَهْلِي“ میں تم میں سے اپنے اہل خانہ کے لیے سب سے بہتر ہوں۔“

ایک مرتبہ آپ ﷺ اپنے گھر تشریف لائے۔ اس وقت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پیالے میں پانی پی رہی تھیں۔ آپ ﷺ نے دور سے فرمایا، حمیرا! میرے لیے بھی کچھ پانی بچا دینا۔ ان کا نام تو عائشہ تھا لیکن نبی کریم ﷺ ان کو محبت کی وجہ سے حمیرا فرماتے تھے۔ اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ ہر خاوند کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کا محبت میں کوئی ایسا نام رکھے جو ایسے بھی پسند ہو اور اسے بھی پسند ہو۔ ایسا نام محبت کی علامت ہوتا ہے اور جب اس نام سے بندہ اپنی بیوی کو پکارتا ہے تو بیوی قرب محسوس کرتی ہے، یہ سنت ہے۔

نبی کریم ﷺ نے جب فرمایا کہ حمیرا! میرے لیے بھی کچھ پانی بچا دینا۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کچھ پانی پیا اور کچھ پانی بچا دیا۔ نبی کریم ﷺ ان کے پاس تشریف لے گئے اور انہوں نے پیالہ حاضر خدمت کر دیا۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب نبی کریم ﷺ نے وہ پیالہ ہاتھ میں لیا اور آپ ﷺ نے پانی پینے لگے تو آپ رک گئے اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، ”حمیرا! تو نے کہاں سے لب لگا کر پانی پیا تھا؟ کس جگہ سے منہ لگا کے پانی پیا تھا؟“ انہوں نے نشاندہی کی کہ میں نے یہاں سے پانی پیا تھا۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے پیالے کے رخ کو پھیرا اور اپنے مبارک لب اسی جگہ پر لگا کر پانی نوش فرمایا۔ خاوند اپنی بیوی کو ایسی محبت دے گا تو وہ کیونکر گھراؤ نہیں کرے گی۔ اب سوچئے کہ رحمۃ للعالمین تو آپ ﷺ کی ذات مبارک ہے۔ آپ سید الاولیاء والآخرین ہیں، اس کے باوجود آپ ﷺ نے اپنی اہلیہ کا بچا ہوا پانی پیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ ﷺ کا بچا ہوا پانی وہ تھیں۔ مگر یہ سب کچھ محبت کی وجہ سے تھا۔

### (۶۱) بیوی سے محبت کی باتیں سنئے

ایک مرتبہ نبی کریم ﷺ گھر میں تشریف فرما تھے۔ آپ ﷺ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا: ”حمیرا! تم مجھے کھن اور چھو ہارے ملا کر کھانے سے زیادہ محبوب ہو۔“ وہ مسکرا کر کہنے لگیں ”اے اللہ کے نبی کریم ﷺ مجھے آپ کھن اور شہد ملا کر کھلانے سے زیادہ محبوب ہیں۔“ نبی کریم ﷺ نے مسکرا کر فرمایا ”حمیرا! حیرا جواب میرے جواب سے زیادہ بہتر ہے۔“

نبی کریم ﷺ کے دل میں جتنی خشیت الہی تھی اس کا تو ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے مگر آپ کا اپنے اہل خانہ کی موانست، پیار اور محبت کا تعلق تھا۔ یہ چیزیں مطلوب ہے اور اللہ تعالیٰ بھی اس چیز کو پسند کرتے ہیں۔

سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ جب بھی گھر تشریف لاتے تھے تو ہمیشہ مسکراتے چہرے کے ساتھ تشریف لاتے تھے۔ اس حدیث پاک کے آئینہ میں ذرا ہم اپنے چہرے کو دیکھیں کہ جب ہم اپنے گھر آتے ہیں تو تیوریاں چڑھی ہوتی ہیں۔

### (۶۲) نفس کی ہر خواہش پوری نہیں ہو سکتی

ایک بادشاہ کے ہاں بیٹا نہیں تھا۔ انہوں نے اپنے وزیر سے کہا: ”بھئی! کبھی اپنے بیٹے کو لے آنا۔“ اگلے دن وزیر اپنے بیٹے کو لے کر آیا۔ بادشاہ نے اسے دیکھا اور پیار کرنے لگا۔ بادشاہ نے کہا ”اچھا اس بچے کو آج کے بعد روئے نہ دینا۔“ اس نے کہا ”بادشاہ سلامت! اس کی ہر بات کیسے پوری کی جائے“ بادشاہ نے کہا ”اس میں کون سی بات ہے، میں سب سے کہہ دیتا ہوں کہ بچے کو جس چیز کی ضرورت

ہوا سے پورا کر دیا جائے اور اسے رونے نہ دیا جائے“ وزیر نے کہا ”ٹھیک ہے، جی اب آپ اس بچے سے پوچھیں کیا چاہتا ہے؟ چنانچہ بادشاہ نے بچے سے پوچھا تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا ہاتھی۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ تو بڑی آسان فرمائش ہے۔ چنانچہ اس نے ایک آدمی کو حکم دیا کہ ایک ہاتھی لاکر بچے کو دکھا دو۔ وہ ہاتھی لے آیا۔ بچہ تھوڑی دیر تو کھیلنا ہا لیکن بعد میں پھر رونا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے پوچھا اب کیوں رورہے ہو؟ اس نے کہا ایک سوئی چاہیے۔ بادشاہ نے کہا یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ چنانچہ ایک سوئی منگوائی گئی۔ اس نے سوئی کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس بچے نے پھر رونا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے کہا اب تو کیوں رورہا ہے؟ وہ کہنے لگا، جی اس ہاتھی کو سوئی کے سوراخ میں سے گزاریں۔ جس طرح بچے کی ہر خواہش پوری نہیں کی جاسکتی اسی طرح نفس کی بھی ہر خواہش پوری نہیں کی جاسکتی۔ لہذا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا کوئی علاج ہونا چاہیے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ اس کی اصلاح ہو جائے۔

### (۶۳) ایک لالچی کا قصہ

مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم نے اپنی کتاب تراشے میں ”اشعب طامع“ نامی شخص کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کا غلام تھا اس کے اندر طمع بہت زیادہ تھا، وہ اپنے زمانے کا نامی گرامی طامع تھا حتیٰ کہ اس کی یہ حالت تھی کہ اس کے سامنے اگر کوئی آدمی اپنا جسم کھاتا تو وہ سوچ میں پڑ جاتا تھا کہ شاید یہ کہیں سے کچھ دینار نکال کر مجھے ہدیہ کر دے گا۔ وہ خود کہتا تھا کہ جب میں دو بندوں کو سرگوشی کرتے دیکھتا تو میں ہمیشہ یہ سوچا کرتا تھا کہ ان میں سے شاید کوئی یہ وصیت کر رہا ہو کہ میرے مرنے کے بعد میری وراثت اشعب کو دے دینا۔ جب وہ بازار میں سے گزرتا اور مٹھائی بنانے والوں کو دیکھتا تو ان سے کہتا کہ بڑے بڑے لڈو بیٹے بناؤ۔ وہ کہتے کہ ہم بڑے لڈو کیوں بنائیں؟ یہ کہتا کہ کیا پتہ کوئی خرید کر مجھے ہدیہ میں ہی دے دے۔

ایک مرتبہ لڑکوں نے اس کو گھیر لیا۔ حتیٰ کہ اس کے لیے جان چھڑانا مشکل ہو گیا۔ بالآخر اس کو ایک ترکیب سوچی۔ وہ لڑکوں سے کہنے لگا، کیا تمہیں پتہ نہیں کہ سالم بن عبداللہ کچھ بانٹ رہے ہیں، تم بھی ادھر جاؤ شاید کچھ مل جائے۔ لڑکے سالم بن عبداللہ کی طرف بھاگے تو پیچھے سے اس نے بھی بھاگنا شروع کر دیا۔ جب سالم بن عبداللہ کے پاس پہنچے تو وہ کچھ بھی نہیں بانٹ رہے تھے۔ لڑکوں نے اشعب سے کہا کہ آپ نے تو ہمیں ایسے ہی غلط بات کر دی۔ وہ کہنے لگا کہ میں نے تو جان چھڑانے کی کوشش کی تھی۔ لڑکوں نے کہا کہ پھر تم خود ہمارے پیچھے پیچھے کیوں آگے؟ کہنے لگا کہ مجھے خیال آیا کہ شاید وہ کچھ بانٹ ہی رہے ہوں۔

### (۶۴) حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حکمت یہودی کے ساتھ

سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو اللہ رب العزت نے خوب مال دیا تھا۔ لیکن ان کے دل میں مال کی محبت نہیں تھی۔ وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کبھی دریغ نہیں کرتے تھے۔ بزرگوار ایک کنواں تھا جو ایک یہودی کی ملکیت میں تھا۔ اس وقت مسلمانوں کو پانی حاصل کرنے میں کافی مشکل کا سامنا تھا۔ وہ اس یہودی سے پانی خریدتے تھے۔ جب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ مسلمانوں کو پانی حاصل کرنے میں کافی دشواری کا سامنا ہے تو وہ یہودی کے پاس گئے اور فرمایا کہ یہ کنواں فروخت کر دو۔ اس نے کہا، میری تو بڑی کمائی ہوتی ہے میں تو نہیں بھوکوں گا۔ یہودی کا جواب سن کر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ آدھا بیچ دیں اور قیمت پوری لے لیں۔ وہ یہودی نہ سمجھ سکا۔ اللہ والوں کے پاس فراست ہوتی ہے۔ یہودی نے کہا، ہاں ٹھیک ہے کہ آدھا حق دوں گا اور قیمت پوری لوں گا۔ چنانچہ اس نے قیمت پوری لے لی اور آدھا حق دے دیا اور کہا کہ ایک دن آپ پانی نکالیں اور دوسرے دن ہم پانی نکالیں گے۔

جب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے اسے پیسے دے دیئے تو آپ نے اعلان کر دیا کہ میری باری کے دن مسلمان اور کافر سب بغیر قیمت کے اللہ کے لیے پانی استعمال کریں۔ جب لوگوں کو ایک دن مفت پانی ملنے لگا تو دوسرے دن خریدنے والا کون ہوتا تھا۔ چنانچہ وہ یہودی

چند مہینوں کے بعد آیا اور کہنے لگا، جی آپ آدھا بھی خرید لیں۔ آپ نے باقی آدھا بھی خرید کر اللہ کے لیے وقف کر دیا۔ (طبقات فقیر: جلد ۹ صفحہ ۴۷)

## ﴿ ۶۵ ﴾ مصیبت میں تقدیر کا سہارا لینا حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ایک مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مابین اپنے پروردگار کے سامنے گفتگو ہوئی اس میں حضرت آدم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غالب آگئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی ”آپ وہی آدم علیہ السلام تو ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دست مبارک سے پیدا فرمایا، پھر آپ میں اپنی خاص روح پھونکی، آپ کو فرشتوں سے سجدہ کروایا اور آپ کو اپنی جنت میں بسایا۔ آپ نے یہ کیا کیا کہ اپنی ایک خطا کی بدولت اپنی تمام اولاد کو زمین پر نکلوا پھینکا۔“ آدم علیہ السلام نے فرمایا: ”اچھا تم بھی وہی موسیٰ تو ہو جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت اور شرف ہم کلامی کے لیے منتخب کیا، تورات کی تختیاں عنایت فرمائیں جس میں ہر ہر بات کی تفصیل موجود تھی، پھر تم کو اپنی سرگوشی کے لیے قریب بلایا۔ ذرا بتاؤ تو سبھی اللہ تعالیٰ نے میری پیدائش سے کتنے سال پہلے تو رات لکھ دی تھی؟“ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چالیس سال پہلے آدم علیہ السلام نے فرمایا: ”کیا تم کو اس میں یہ لکھا ہوا بھی ملا:

﴿ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ ﴾ (سورۃ طہ: ۱۲۱)

ترجمہ: ”آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی پس بہک گیا۔“

انہوں نے عرض کیا جی ہاں! آدم علیہ السلام نے فرمایا ”پھر بھلا ایسی بات پر مجھے کیا ملامت کرتے ہو جس کا کرنا اللہ تعالیٰ میری قسمت میں میری پیدائش سے بھی چالیس سال پہلے لکھ چکا تھا۔“ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بس اس بات پر آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آگئے۔“ (مسلم شریف)

تشریح: خلاق عالم نے عالم کو پیدا فرما کر جہاں عالم کو پیدا فرما کر جہاں عالم کے جملہ حوادث طے فرما کر لکھ دیئے تھے۔ اس کے ساتھ ہی نسل انسانی کی سبق آموزی کے لیے تقدیر کے ایک واقعہ کا ذکر بھی کر دیا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری ہی مشیت تھی کہ زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنا لیں، اس لیے ہم نے ہی آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ہم نے ہی ان کو گیہوں کھانے سے منع کیا اور پھر ہم نے ہی ان کو اس کی قدرت دے کر ان سے اس کا ارتکاب بھی کرایا اور اس کے بعد پھر ہم نے ہی آدم علیہ السلام کو مخاطب کر کے یہ سوال کیا ”اے آدم! کیا ہم نے تم کو اس درخت کے پاس پھٹکنے سے بھی منع کر دیا تھا اور کیا اس سے بھی خبردار نہیں کر دیا تھا کہ دیکھو شیطان تمہارا بڑا دشمن ہے اس کے کہے میں نہ آنا پھر تم ان سب باتوں کو فراموش کر کے کیوں گیہوں کھا بیٹھے۔“

اب نسل انسانی کو خوب سن لینا چاہیے کہ اس کے جواب میں حضرت آدم علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ صرف گریہ و زاری تھا اس کے سوا، ایک حرف تک منہ سے نہیں نکلا اور کلمات استغفار بھی اس وقت کہنے کی جرأت کی جب کہ پروردگار ہی کی طرف سے ان کا التواء کیا گیا۔ اس واقعہ میں بھی بڑا سبق تھا کہ جو خالق اور مالک ہو اس سے سوال کرنے کا حق کسی کو نہیں پہنچتا یہ حق صرف اسی کا ہے کہ وہ اپنی مخلوق سے باز پرس کرے۔ یہاں ممکن تھا کہ کسی کے دل میں دوسوہ گزر جاتا کہ شاید حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں اس وقت جواب نہ آسکا ہو گا اس لیے عالم غیب میں اس عقیدہ کے حل کے لیے بھی ایک محفل مکالمہ مرتب فرمائی گئی اور عالم غیب میں کشف اسرار کے لیے یہ بھی ایک طریقہ ہے اور گفتہ آید در حدیث دیگران، کی صورت سے معاملہ کی حقیقت واضح کر دی گئی۔ یہاں ابوالبشر سے مکالمہ کے لیے مشیت الہی نے ان کی اولاد میں سے ایسے فرزند کو منتخب فرمایا جو فطرۃ تیز مزاج اور ناز پروردہ تھے تاکہ ان سے گفتگو کی اہداء کر سکیں اور ان کے سامنے سوال و جواب کے لیے یہی موضوع رکھ دیا اور ضمن میں یہ واضح کر دیا کہ ابوالبشر کے پاس جواب تو تھا اور ایسا تھا کہ حضرت موسیٰ جیسا اولوالعزم پیغمبر بھی ان کے جواب سے عاجز ہو گیا۔ یہاں معاملہ مخلوق کا مخلوق کے سامنے تھا لیکن جب یہی معاملہ خالق کے سامنے پیش آیا تھا تو آدم

ایسے لاجواب تھے کہ گریہ و زاری کے سوا ان کے پاس کوئی اور جواب ہی نہ تھا۔

یہ واضح رہنا چاہیے کہ جو سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جانب سے یہاں حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا وہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے گیہوں کھایا کیوں، بلکہ یہ ہے کہ آپ نے ہم کو اس دابر تکلیف میں رہنے کی مصیبت میں کیوں ڈال دیا، مگر چونکہ یہاں آنا گیہوں کھانے کے نتیجہ میں ہوا تھا اس لیے اس کا ذکر بھی ضمناً آ گیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اپنی مصیبت کے لیے تقدیر کا عذر کرنا کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے چہ جائیکہ نبی کے لیے ورنہ تو پھر تمام بساط شریعت ہی درہم برہم ہو جاتی ہے اور دنیا اپنے تمام معاصی کے لیے تقدیر کا عذر پیش کر کے اپنا بیچھا چھڑا سکتی ہے۔ پس آدم علیہ السلام نے تقدیر کا عذر اپنی مصیبت کے لیے نہیں کیا بلکہ دنیا میں آنے کی جو مصیبت ان کی اولاد کو پیش آ گئی ہے اس کی تسلی و تسفی کے لیے کیا تھا۔ مطلب یہ تھا کہ یہ مصیبت تمہارے لیے پہلے سے مقدر ہو چکی تھی پھر جو بات پہلے سے مقدر ہو چکی تھی اس کا باعث گو میں ہی ہوا لیکن اس پر مجھے ملامت کرنا درست نہیں وہ تو شدنی امر تھا، ہو کر رہا۔ مصیبت میں تقدیر کا ذکر کرنا رضامت بقضاء کی علامت ہے اور گناہ پر تقدیر کی آڑ لینا انتہائی جسارت ہے۔ آج بھی دنیا اس قسم کے مواقع میں تقدیر ہی کا تذکرہ کر کے اپنے دل کی تسلی کا سامان کیا کرتی ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص تجارت کا ایک شعبہ چھوڑ کر دوسرا شعبہ اختیار کر لے اور اس میں اس کو کافی نقصان ہو جائے تو اگر لوگ اس تہدیلی پر اس کو ملامت کریں تو ان سے بیچھا چھڑانے اور اپنے نفس کو تسلی دینے کے لیے وہ تقدیر کا ہی پہلو اختیار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے مقدر کی بات تھی اس لیے نقصان ہونا تھا ہو گیا، حافظ ابن تیمیہ نے اپنی مختلف تصانیف میں اس واقعہ کی بھی توجیہ فرمائی ہے اور یہی سب سے مستحسن اور بے تکلف بھی ہے مگر اس کی پوری وضاحت حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمائی ہے، اس کے علاوہ بھی اور جوابات دیئے گئے ہیں مگر وہ سب تکلف معلوم ہوتے ہیں۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے ان کی تردید بھی فرمائی ہے۔

(دیکھو شفاء العلیل ص ۱۸، و شرح مقیدۃ المحادیہ ص ۹، الہدایۃ والنہایۃ: جلد ۱ ص ۸۵، ترجمان السنۃ: جلد ۳ ص ۶۹، حدیث نمبر ۹۱۳)

## ﴿۶۶﴾ ایک زمانہ آئے گا کہ قبر کی زمین بھی مہنگی ہو جائے گی

ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول ﷺ گدھے پر سوار ہوئے اور مجھے اپنے پیچھے بٹھالیا۔ پھر فرمایا:

① ”اگر کسی زمانہ میں لوگ بھوک کی شدت میں مبتلا ہوں ایسی بھوک کہ اس کی وجہ سے تم اپنے بستر سے اٹھ کر نماز کی جگہ بھی نہ آسکو تو بتاؤ اس وقت تم کیا کرو گے۔“ انہوں نے عرض کیا یہ تو خدا تعالیٰ اور اس کا رسول ہی زیادہ جان سکتے ہیں۔ فرمایا: ”دیکھو اس وقت بھی کسی سے سوال نہ کرنا۔“

② ”اچھا ابو ذر! بتاؤ، اگر لوگوں میں موت کی ایک گرم بازاری ہو جائے کہ ایک قبر کی قیمت ایک غلام کے برابر جا پہنچے، بھلا ایسے زمانہ میں تم کیا کرو گے؟“ یہ بولے کہ اس کو تو اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ﷺ ہی زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا: ”دیکھو صبر کرنا۔“ اس کے بعد آپ ﷺ نے فرمایا:

③ ”اگر لوگوں میں ایسا قتل و قتل ہو کہ خون ”حجازیت“ تک بہہ جائے بھلا اس وقت تم کیا کرو گے؟“ انہوں نے عرض کیا کہ یہ بات تو اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ﷺ ہی زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا ”بس اپنے گھر میں گھسے رہنا اور اندر سے اپنا دروازہ بند کر لینا۔“ انہوں نے عرض کیا اگر اس پر بھی چھوٹ نہ سکوں۔ فرمایا کہ ”پھر جس قبیلے کے ہو وہاں چلے جانا“ انہوں نے عرض کیا اگر میں بھی اپنے ہتھیار سنبھال لوں؟ فرمایا ”تو تم بھی فتنے میں ان کے شریک سمجھے جاؤ گے۔ اس لیے شرکت ہرگز نہ کرنا اور اگر تم کو ڈر ہو کہ تلوار کی چمک تم کو خوفزدہ کر دے گی تو اپنی چادر کا پلہ اپنے منہ پر ڈال لینا اور قتل ہونا گوارا کر لینا تمہارے اور قاتل کے گناہ سب کے سب قاتل ہی کے سر پڑ جائیں گے۔“ (ابن حبان ترجمان السنۃ: جلد ۲ ص ۲۷)

### (۶۷) تہجد کے وقت مندرجہ ذیل کلمات دس دس مرتبہ پڑھیں

دس بار	اللَّهُ أَكْبَرُ
دس بار	الْحَمْدُ لِلَّهِ
دس بار	سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ
دس بار	سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ
دس بار	أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ
دس بار	لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
دس بار	اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ ضَرِيحِ الدُّنْيَا وَضَرِيحِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

(بحوالہ ابوداؤد شریف: جلد ۲ صفحہ ۶۹۴، ابن اسنی: صفحہ ۷۱، ۷۲)

### (۶۸) دل کی بیماریاں دور کرنے کا مجرب نسخہ

”یا قَوِيُّ الْقَائِدِ الْمُقْتَدِرِ قَوْلِي وَقَلْبِي“ ۷ مرتبہ ہر نماز کے بعد داہنا ہاتھ قلب پر رکھ کر پڑھے۔ اگر دوسرا پڑھے تو کہے:

”یا قَوِيُّ الْقَائِدِ الْمُقْتَدِرِ قَوْلِهِ وَقَلْبِهِ“

### (۶۹) تمام ضرورتوں کو پورا کیے جانے کا مجرب نسخہ

”یا اللَّهُ يَا رَحْمَنُ يَا رَحِيمُ“ کثرت سے پڑھا جائے، بغیر قید تعداد۔

### (۷۰) عیادت کے وقت بیمار کی شفا یابی کی دعا

”أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيكَ“ ۷ مرتبہ پڑھنے سے مریض کو شفا ہوتی ہے۔ (مشکوٰۃ شریف: ۱۳۵)

### (۷۱) رزق میں برکت اور ظاہری و باطنی غناء کا مجرب نسخہ

”یا مُغْنِي“ ۱۱۱۱ (گیارہ سو گیارہ) مرتبہ کسی وقت قبل و بعد درود شریف ۱۱۔ ۱۱ مرتبہ پابندی سے پڑھیں۔

### (۷۲) عمل سورہ فلق حاسد کے حسد سے بچنے کا مجرب نسخہ ہے

سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، تین تین مرتبہ بعد فجر اور بعد مغرب پڑھنا بہت نافع ہے۔

### (۷۳) بیماری سے صحت پانے کا مجرب نسخہ

”یا سَلَامُ“ ۱۴۲ مرتبہ روزانہ صبح و شام پڑھیں۔ اول و آخر درود شریف تین تین مرتبہ، متفرق اوقات میں جس قدر پڑھ سکیں پڑھ

لیا کریں

### (۷۴) مخالفین کے شر سے حفاظت کا مجرب نسخہ

”اللَّهُمَّ اكْفِنَا بِمَا شِئْتَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ“ ہر نماز کے بعد ۱۱ مرتبہ پڑھا کریں۔

**(۷۵) خارجی اثرات کو ہٹانے اور فتنوں کے شر سے حفاظت کا مجرب نسخہ**

درود شریف تین بار، سورہ فاتحہ تین بار، آیت الکرسی تین بار، سورہ اخلاص تین بار، سورہ بقرہ تین بار، سورہ ناس تین بار پڑھ کر دم کرنا اور جو پڑھ نہ سکے اس پر دوسرا دم کرے اور پانی پر دم کر کے پلانا، ہر نماز کے بعد درندہ صبح و شام روزانہ امرتبہ پڑھنا بہتر ہے۔

**(۷۶) برائے تسہیل و تعجیل نکاح و رشتہ مناسب**

① والدین یا سرپرست میں سے کوئی پڑھے "یا لَطِيفُ يَا وَدودُ" تعداد گیارہ سو گیارہ مرتبہ بعد عشاء اول و آخر درود شریف گیارہ گیارہ مرتبہ۔  
 ② لڑکائی لڑکی پڑھے "یا جامعُ" گیارہ سو گیارہ مرتبہ اول و آخر درود شریف گیارہ گیارہ مرتبہ۔

**(۷۷) ہر بیماری سے شفا کے لیے**

"الحمد شریف" گیارہ بار روزانہ پانی پر دم کر کے پلاتے رہیں، برابر سلسلہ رکھا جائے، سورہ بقرہ تین بار پڑھا لیں تو بہت اچھا ہے۔

**(۷۸) دشمنوں کے شر سے حفاظت اور غلبہ کے لیے**

﴿ اِنَّا كُنْهِتُكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ﴾ (پارہ ۱۲، رکوع ۳ سورہ حجر: آیت ۹۵) ایک ہزار مرتبہ بعد نماز عشاء الیوم پھر ۱۰۰ مرتبہ یومیہ۔  
 اہم معاملہ میں الیوم سے زیادہ پڑھنا بہتر ہے۔

**(۷۹) کام کی تکمیل اور آسانی کے واسطے**

"یا سُبُوْحُ یا قُدُّوْسُ یا غَفُوْرُ یا وَدودُ" حاکم کے سامنے یا جس سے کام ہو یا جو پریشان کرتا ہو اس کے سامنے جانے پر اس سے بات چیت پر چپکے چپکے پڑھیں۔ بلا تید تعداد پڑھیں۔

**(۸۰) خاص ورد**

اول و آخر درود شریف گیارہ گیارہ مرتبہ: ﴿حَسْبُنَا اللهُ وَنَعْمَ الْوَكِيْلُ﴾

- ① حفاظت از شر و روفن ۳۳۱ مرتبہ
- ② برائے وسعت رزق و ادائے قرض ۳۳۱ مرتبہ
- ③ برائے تکمیل خاص کام ۱۱۱ مرتبہ
- ④ برائے کفالت از مصائب و پریشانی ۱۳۰ مرتبہ

**(۸۱) بہ نیت اصلاح حال و ادائے حقوق**

"یا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ وَاكْا بُصَاْرَ یا خَالِقَ الْاَبْداِ وَاكْثَمَارَ یا عَزِيْزَ یا لَطِيفَ یا غَفَّارَ"

200 مرتبہ چالیس یوم تک کسی وقت، پھر اس کے بعد روزانہ 21-21 مرتبہ اول و آخر 11-11 مرتبہ درود شریف۔

**(۸۲) شیطان کی کہانی اس کی زبانی..... آغاز تو اچھا ہے انجام خدا جانے**

شیطان کے مکر و فریب کے بارے میں حدیث پاک میں بہت ہی عجیب واقعہ آیا ہے۔ ابن عامر نے عبید بن یسار سے لے کر نبی

علینہم تک اس واقعہ کی سند پہنچائی ہے۔ یہ واقعہ تیس ایشی میں بھی نقل کیا گیا ہے۔

نبی اسرائیل میں برصیصا نامی ایک راہب تھا۔ اس وقت بنی اسرائیل میں اس جیسا کوئی عبادت گزار نہیں تھا۔ اس نے ایک عبادت خانہ بنایا ہوا تھا۔ وہ اسی میں عبادت میں مست رہتا تھا۔ اسے لوگوں سے کوئی غرض نہیں تھی۔ نہ تو وہ کسی سے ملتا تھا اور نہ ہی کسی کے پاس آتا جاتا تھا۔ شیطان نے اسے گمراہ کرنے کا ارادہ کیا۔ برصیصا اپنے کمرے سے باہر نکلتا ہی نہیں تھا۔ وہ ایسا عبادت گزار تھا کہ اپنا وقت ہرگز ضائع نہیں کرتا تھا۔ شیطان نے دیکھا کہ جب دن میں کچھ وقت یہ تھکتے ہیں تو کبھی کبھی اپنی کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھ لیتے ہیں۔ ادھر کوئی آبادی نہیں تھی اس کا اکیلا صومعہ تھا۔ اس کے ارد گرد کھیت اور باغ تھے۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ دن میں ایک یا دو مرتبہ کھڑکی سے دیکھتے ہیں تو اس مردود نے انسانی شکل میں آکر اس کھڑکی کے سامنے نماز کی نیت باندھ لی۔ اس کو نماز کیا پڑھنی تھی، فقط شکل بنا کر کھڑا تھا۔ اب دیکھو کہ جس کی جو لائن ہوتی ہے اس کو گمراہ کرنے کے لیے اس کے مطابق (دلکش) بہروپ بناتا ہے۔

چنانچہ جب اس نے کھڑکی میں سے باہر جھانکا تو ایک آدمی کو قیام کی حالت میں دیکھا وہ بڑا حیران ہوا۔ جب دن کے دوسرے حصے میں اس نے دوبارہ ارادۂ باہر دیکھا تو وہ رکوع میں تھا۔ بڑا مبارک رکوع کیا۔ پھر تیسری مرتبہ سجدے کی حالت میں دیکھا۔ کئی دن اسی طرح ہوتا رہا۔ آہستہ آہستہ برصیصا کے دل میں یہ بات آنے لگی کہ یہ تو کوئی بڑا ہی بزرگ انسان ہے جو دن رات اتنی عبادتیں کر رہا ہے۔ وہ کئی مہینوں تک اسی طرح شکل بنا کر قیام، رکوع اور سجدے کرتا رہا۔ یہاں تک کہ برصیصا کے دل میں یہ بات آنے لگی کہ میں اس سے پوچھوں تو سبکی کہ یہ کون ہے؟ جب برصیصا کے دل میں یہ بات آنے لگی تو شیطان نے کھڑکی کے قریب مصلیٰ بچھانا شروع کر دیا۔ جب مصلیٰ کھڑکی کے قریب آ گیا اور برصیصا نے باہر جھانکا تو اس نے شیطان سے پوچھا، تم کون ہو؟ وہ کہنے لگا، آپ کو مجھ سے کیا غرض ہے، میں اپنے کام میں لگا ہوا ہوں، مجھے ڈسٹرب نہ کریں۔ وہ سوچنے لگا کہ عجیب بات ہے کہ کسی کی کوئی بات سننا گوارا ہی نہیں کرتا۔ دوسرے دن برصیصا نے پوچھا کہ آپ اپنا تعارف کروائیں۔ وہ کہنے لگا مجھے اپنا کام کرنے دو۔ اللہ کی شان کہ ایک دن بارش ہونے لگی۔ وہ بارش میں بھی نماز کی شکل بنا کر کھڑا ہو گیا۔ برصیصا کے دل میں بات آئی کہ جب یہ اتنا عبادت گزار ہے کہ اس نے بارش کی بھی کوئی پروا نہیں کی، کیوں نہ میں ہی اچھے اخلاق کا مظاہرہ کروں اور اس سے کہوں کہ میاں! اندر آ جاؤ۔ چنانچہ اس نے شیطان کو پینکشن کی کہ باہر بارش ہو رہی ہے، تم اندر آ جاؤ۔ وہ جواب میں کہنے لگا، ٹھیک ہے، مومن کو مومن کی دعوت قبول کر لینی چاہیے، لہذا میں آپ کی دعوت قبول کر لیتا ہوں۔ وہ تو چاہتا ہی یہی تھا۔ چنانچہ اس نے کمرے میں آ کر نماز کی نیت باندھ لی۔ وہ کئی مہینوں تک اس کے کمرے میں عبادت کی شکل میں بنا رہا۔ وہ دراصل عبادت نہیں کر رہا تھا فقط نماز کی شکل بنا رہا تھا، لیکن دوسرا یہی سمجھ رہا تھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ اس کو نماز سے کیا غرض تھی، وہ تو اپنے مشن پر تھا۔

جب کئی مہینے گزر گئے تو برصیصا نے اسے واقعی بہت بڑا بزرگ سمجھنا شروع کر دیا اور اس کے دل میں اس کی عقیدت پیدا ہونا شروع ہو گئی اتنے عرصے کے بعد شیطان برصیصا سے کہنے لگا کہ اب میرا سال پورا ہو چکا ہے لہذا میں اب یہاں سے جاتا ہوں۔ میرا مقام کہیں اور ہے۔ روانہ ہوتے وقت ویسے ہی دل نرم ہو چکا ہوتا ہے لہذا وہ برصیصا سے کہنے لگا، اچھا میں آپ کو جاتے جاتے ایک ایسا تحفہ دے جاتا ہوں جو مجھے اپنے بڑوں سے ملا تھا۔ وہ تحفہ یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی بھی بیمار آئے تو اس پر یہ پڑھ کر دم کر دیا کرنا، وہ ٹھیک ہو جایا کرے گا۔ تم بھی کیا یاد کرو گے کہ کوئی آیا تھا اور تحفہ دے گیا تھا۔ برصیصا نے کہا، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ کہنے لگا کہ ہمیں یہ نعمت طویل مدت کی محنت کے بعد ملی ہے، میں وہ نعمت تمہیں تحفے میں دے رہا ہوں اور تم انکار کر رہے ہو، تم تو بڑے نالائق انسان ہو۔ یہ سن کر برصیصا کہنے لگا، اچھا جی، مجھے بھی سکھائی دیں۔ چنانچہ شیطان نے اسے ایک دم سکھا دیا اور یہ کہتے ہوئے رخصت ہو گیا کہ اچھا پھر کبھی ملیں گے۔

وہ وہاں سے سیدھا بادشاہ کے گھر گیا۔ بادشاہ کے تین بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ شیطان نے جا کر اس کی بیٹی پر اثر ڈالا اور وہ مجنونہ سی بن گئی۔ وہ خوبصورت اور پڑھی لکھی لڑکی تھی لیکن شیطان کے اثر سے اسے دور سے پڑنا شروع ہو گئے۔ بادشاہ نے اس کے علاج کے لیے

حکیم اور ڈاکٹر بلوائے۔ کئی دنوں تک وہ اس کا علاج کرتے رہے لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔

جب کئی دنوں کے علاج کے بعد بھی کچھ افاقہ نہ ہوا تو شیطان نے بادشاہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ بڑے حکیموں اور ڈاکٹروں سے علاج تو کروالیا ہے، اب کسی دم والے ہی سے دم کروا کر دیکھ لو۔ یہ خیال آتے ہی اس نے سوچا کہ ہاں کسی دم والے کو تلاش کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس نے اپنے سرکاری نمائندے بھیجے تاکہ وہ پتہ کر کے آئیں کہ اس وقت سب سے زیادہ نیک بندہ کون ہے؟ سب نے کہا کہ اس وقت سب سے زیادہ نیک آدمی تو برصیحا ہے اور وہ تو کسی سے ملتا ہی نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر وہ کسی سے نہیں ملتا تو ان کے پاس جا کر میری طرف سے درخواست کرو کہ ہم آپ کے پاس آجاتے ہیں۔

کچھ آدمی برصیحا کے پاس گئے۔ اس نے انہیں دیکھ کر کہا آپ مجھے ڈسٹرب کرنے کیوں آئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بادشاہ کی بیٹی بیمار ہے، حکیموں اور ڈاکٹروں سے بڑا علاج کروایا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا، بادشاہ چاہتے ہیں کہ آپ بے شک یہاں نہ آئیں تاکہ آپ کی عبادت میں خلل نہ آئے، ہم آپ کے پاس پہنچی کو لے کر آجاتے ہیں، آپ ہمیں اس بچی کو دم کر دینا، ہمیں امید ہے کہ آپ کے دم کرنے سے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ ہاں میں نے ایک دم سیکھا تو تھا، اس دم کو آزمانے کا یہ اچھا موقع ہے۔ چلو یہ تو پتہ چل جائے گا کہ وہ دم ٹھیک بھی ہے یا نہیں، چنانچہ اس نے ان لوگوں کو بادشاہ کی بیٹی کو لانے کی اجازت دے دی۔

بادشاہ اپنی بیٹی کو برصیحا کے پاس لے کر آ گیا اس نے جیسے ہی دم کیا وہ فوراً ٹھیک ہو گئی۔ مرض بھی شیطان نے لگایا تھا اور دم بھی اسی نے دیا تھا۔ لہذا دم کرتے ہی شیطان اس کو چھوڑ کر چلا گیا اور وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ بادشاہ کو پکا یقین ہو گیا کہ میری بیٹی اس کے دم سے ٹھیک ہوئی ہے۔ ایک ڈیڑھ ماہ کے بعد اس نے پھر اسی طرح بچی پر حملہ کیا اور وہ اسے پھر برصیحا کے پاس لے آئے۔ اس نے دم کیا تو وہ پھر اسے چھوڑ کر چلا گیا حتیٰ کہ دو چار دن کے بعد بادشاہ کو پکا یقین ہو گیا کہ میری بیٹی کا علاج اس کے دم میں ہے اب برصیحا کی بڑی شہرت ہوئی کہ اس کے دم سے بادشاہ کی بیٹی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ کچھ عرصہ کے بعد اس بادشاہ کے ملک پر کسی نے حملہ کیا۔ وہ اپنے شہزادوں کے ہمراہ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہی کرنے لگا۔ اب بادشاہ سوچ میں پڑ گیا کہ اگر جنگ میں جائیں تو بیٹی کو کس کے پاس چھوڑ کر جائیں۔ کسی نے مشورہ دیا کہ کسی وزیر کے پاس چھوڑ جائیں اور کسی نے کوئی اور مشورہ دیا۔ بادشاہ کہنے لگا کہ اگر اس کو دو بارہ بیماری لگ گئی تو پھر کیا بنے گا؟ برصیحا تو کسی کی بات بھی نہیں سنے گا۔ چنانچہ بادشاہ نے کہا کہ میں خود برصیحا کے پاس اپنی بیٹی کو چھوڑ جاتا ہوں۔ دیکھو شیطان کیسے جوڑ ملا رہا ہے۔ بادشاہ اپنے تینوں بیٹوں اور بیٹی کو لے کر برصیحا کے پاس پہنچ گیا اور کہنے لگا کہ ہم جنگ پر جا رہے ہیں، زندگی اور موت کا پتہ نہیں ہے۔ مجھے اس وقت سب سے زیادہ اعتماد تم ہی پر ہے اور میری بیٹی کا علاج بھی تمہارے ہی پاس ہے لہذا میں چاہتا ہوں کہ یہ بچی تمہارے پاس ہی ٹھہر جائے برصیحا کہنے لگا، تو بہ تو بہ! میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں کہ یہ اکیلی میرے پاس ٹھہرے۔ بادشاہ نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس آپ اجازت دے دیں، میں اس کے رہنے کے لیے آپ کے عبادت خانے کے سامنے ایک گھر بنوادیتا ہوں، اور یہ اسی گھر میں ٹھہرے گی۔ برصیحا نے یہ سن کر کہا، چلو ٹھیک ہے۔ جب اس نے اجازت دی تو بادشاہ نے اس کے عبادت خانے کے سامنے گھر بنوادیا اور بچی کو وہاں چھوڑ کر جنگ پر روانہ ہو گئے۔

اب برصیحا کے دل میں بات آئی کہ میں اپنے لیے تو کھانا بنا تا ہی ہوں، اگر بچی کا کھانا بھی میں ہی بنا دیا کروں تو اس میں کیا حرج ہے۔ کیونکہ وہ اکیلی ہے پتہ نہیں کہ اپنے لیے کھانا پکائے گی بھی یا نہیں پکائے گی۔ چنانچہ وہ کھانا بنا تا اور آدھا خود کھا کر باقی آدھا کھانا اپنے عبادت خانے کے دروازے کے باہر رکھ دیتا اور اپنا دروازہ کھٹکھٹا دیتا۔ یہ اس لڑکی کے لیے اشارہ ہوتا تھا کہ اپنا کھانا اٹھا لو۔ اس طرح وہ لڑکی کھانا اٹھا کر لے جاتی اور کھا لیتی۔ کئی مہینوں تک یہی معمول رہا۔



اس کے بعد شیطان نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ دیکھو، وہ لڑکی اکیلی رہتی ہے، تم کھانا پکا کر اپنے دروازے کے باہر رکھ دیتے ہو اور لڑکی کو وہ کھانا اٹھانے کے لیے گلی میں نکلتا پڑتا ہے۔ اگر کبھی کسی مرد نے دیکھ لیا تو وہ تو اس کی عزت خراب کر دے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ کھانا بنا کر اس کے دروازے کے اندر رکھ دیا کروں تاکہ اس کو باہر نہ نکلتا پڑے۔ چنانچہ برصیصا نے کھانا بنا کر اس کے دروازے کے اندر رکھنا شروع کر دیا۔ وہ کھانا رکھ کر کنڈی کھٹکتا دیتا اور وہ کھانا اٹھا لیتی۔ یہی سلسلہ چلا رہا۔

جب کچھ اور مہینے بھی گزر گئے تو شیطان نے اس کے دل میں ڈالا کہ تم خود تو عبادت میں لگے رہتے ہو۔ یہ لڑکی اکیلی ہے، ایسا نہ ہو کہ تنہائی کی وجہ سے اور زیادہ بیمار ہو جائے، اس لیے بہتر ہے کہ اس کو کچھ نصیحت کر دیا کرو تاکہ یہ بھی عبادت گزار بن جائے اور اس کا وقت ضائع نہ ہو۔ یہ خیال دل میں آتے ہی اس نے کہا کہ ہاں، یہ بات تو بہت اچھی ہے لیکن اس کام کی ترتیب ہونی چاہیے۔ شیطان نے اس بات کا جواب بھی اس کے دل میں ڈالا کہ اس کو کہہ دو کہ وہ اپنے گھر کی چھت پر آ جایا کرے اور تم بھی اپنے گھر کی چھت پر بیٹھ جایا کرو اور اسے وعظ و نصیحت کیا کرو۔ چنانچہ اس نے اسی ترتیب سے وعظ و نصیحت کرنا شروع کر دی اس کے وعظ کا اس لڑکی پر بڑا اثر ہوا۔ اس نے نمازیں اور وظیفے شروع کر دیئے اب شیطان نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ دیکھ، تیری نصیحت کا اس پر کتنا اثر ہوا۔ ایسی نصیحت تو ہر روز ہونی چاہیے۔ چنانچہ اس نے روزانہ نصیحت کرنی شروع کر دی۔ اسی طرح کرتے کرتے جب کچھ وقت گزر گیا تو شیطان نے پھر اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم اپنے گھر کی چھت پر بیٹھتے ہو اور وہ اپنے گھر کی چھت پر بیٹھتی ہے، راستے میں گزرنے والے کیا باتیں سوچیں گے کہ یہ کون باتیں کر رہے ہیں؟ اس طرح تو بہت ہی غلط تاثر پیدا ہو جائے گا اس لیے بہتر یہ ہے کہ چھت پر بیٹھ کر اونچی آواز سے بات کرنے کی بجائے تم دروازے سے باہر کھڑے ہو کر تقریر کرو اور وہ دروازے کے اندر کھڑے ہو کر سن لے، پردہ تو ہو گا ہی سہی۔ چنانچہ اب اس ترتیب سے وعظ و نصیحت شروع ہو گئی۔ کچھ عرصہ تک اسی طرح معمول رہا۔ اس کے بعد شیطان نے پھر برصیصا کے دل میں خیال ڈالا کہ تم باہر کھڑے رہ کر تقریر کرتے ہو، دیکھنے والے کیا کہیں گے کہ پاگلوں کی طرح ایسے ہی باتیں کر رہا ہے، اس لیے اگر تقریر کرنی ہی ہے تو چلو کواڑ کے اندر کھڑے ہو کر کر لیا کرو۔ وہ دور کھڑے ہو کر سن لیا کرے گی۔ چنانچہ اب اس نے دروازے کے اندر کھڑے ہو کر تقریر کرنا شروع کر دی جب اس نے اندر کھڑے ہو کر تقریر کرنا شروع کی تو لڑکی نے اس کو بتایا کہ اتنی نمازیں پڑھتی ہوں اور اتنی عبادت کرتی ہوں۔ یہ سن کر اسے بڑی خوشی ہوئی کہ میری باتوں کا اس پر بڑا اثر ہو رہا ہے۔ اب میں اکیلا ہی عبادت نہیں کر رہا ہوں بلکہ یہ بھی عبادت کر رہی ہے۔ کئی دن تک یہی سلسلہ چلا رہا۔

بالآخر شیطان نے لڑکی کے دل میں برصیصا کی محبت ڈالی۔ اور برصیصا کے دل میں لڑکی کی محبت ڈالی۔ چنانچہ لڑکی نے کہا کہ آپ جو کھڑے کھڑے بیان کرتے ہیں، میں آپ کے لیے چار پائی ڈال دیا کروں گی، آپ اس پر بیٹھ کر بیان کر دیا کرنا اور میں دور بیٹھ کر سن لیا کروں گی۔ اس نے کہا، بہت اچھا۔ لڑکی نے دروازے کے قریب چار پائی ڈال دی۔ برصیصا پر بیٹھ کر نصیحت کرتا رہا اور لڑکی دور بیٹھ کر بات سنتی رہی۔ اس دوران شیطان نے برصیصا کے دل میں لڑکی کے لیے بڑی شفقت و ہمدردی پیدا کر دی۔ کچھ دن گزرے تو شیطان نے عابد کے دل میں بات ڈالی کہ نصیحت سنائی تو لڑکی کو ہوتی ہے دور بیٹھنے کی وجہ سے اونچا بولنا پڑتا ہے۔ گلی سے گزرنے والے لوگ بھی سنتے ہیں، کتنا اچھا ہو کہ یہ چار پائی ذرا آگے کر کے رکھ لیا کریں اور پست آواز میں گفتگو کر لیا کریں۔ چنانچہ برصیصا کی چار پائی لڑکی کی چار پائی کے قریب تر ہو گئی اور وعظ و نصیحت کا سلسلہ جاری رہا۔

کچھ عرصہ اسی طرح گزرا تو شیطان نے لڑکی کو مزین کر کے برصیصا کے سامنے پیش کرنا شروع کر دیا اور وہ یوں اس لڑکی کے حسن و جمال کا گرویدہ ہوتا گیا۔ اب شیطان نے برصیصا کے دل میں جوانی کے خیالات ڈالنا شروع کر دیئے حتیٰ کہ برصیصا کا دل عبادت خانے سے اچاٹ ہو گیا اور اس کا زیادہ وقت لڑکی سے باتیں کرنے میں گزر جاتا۔ سال گزر چکا تھا۔ ایک دفعہ شہزادوں کی خبر گیری کی تو شہزادی کو خوش خرم پایا اور راہب کے گن گاتے دیکھا۔ شہزادوں کو لڑائی کے لیے دوبارہ سفر پر جانا تھا اس لیے وہ مطمئن ہو کر چلے گئے۔ اب شہزادوں

کے جانے کے بعد شیطان نے اپنی کوششیں تیز کر دیں۔ چنانچہ اس نے برصیحا کے دل میں لڑکی کا عشق پیدا کر دیا اور لڑکی کے دل میں برصیحا کا عشق بھر دیا۔ حتیٰ کہ دونوں طرف برائے کی آگ سلگ اٹھی۔

اب جس وقت عابد نصیحت کرتا تو سارا وقت اس کی نگاہیں شہزادی کے چہرے پر جمی رہتیں۔ شیطان لڑکی کو ناز و انداز سکھاتا اور وہ سراپا نازنین رنگ قمر اپنے انداز و اطوار سے برصیحا کا دل لہماتی۔ حتیٰ کہ عابد نے علیحدہ چار پائی پر بیٹھنے کی بجائے لڑکی کے ساتھ ایک ہی چار پائی پر بیٹھنا شروع کر دیا۔ اب اس کی نگاہیں جب شہزادی کے چہرے پر پڑیں تو اس نے اسے سراپا حسن و جمال اور جاذب نظر پایا۔ چنانچہ عابد اپنے شہوانی جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اور اس شہزادی کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ شہزادی نے مسکرا کر اس کی حوصلہ افزائی کی۔ یہاں تک کہ برصیحا زنا کا مرتکب ہو گیا۔ جب دونوں کے درمیان سے حیا کی دیوار ہٹ گئی اور زنا کے مرتکب ہوئے تو وہ آپس میں میاں بیوی کی طرح رہنے لگے۔ اس دوران شہزادی حاملہ ہو گئی۔

اب برصیحا کو فکر لاحق ہوئی کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو کیا بنے گا، مگر شیطان نے اس کے دل میں خیال ڈالا کہ کوئی فکر کی بات نہیں، جب وضع حمل ہوگا تو نو مولود کو زندہ درگور کر دینا اور لڑکی کو سمجھا دینا، وہ اپنا بھی عیب چھپائے گی اور تمہارا عیب بھی چھپائے گی۔ اس خیال کے آنے ہی ڈر اور خوف کے تمام حجاب دور ہو گئے اور برصیحا بے خوف و خطر ہوس پرستی اور نفس پرستی میں مشغول رہا۔

ایک وہ دن بھی آیا جب اس شہزادی نے بچے کو جنم دیا، جب بچے کو وہ دودھ پلانے لگی تو شیطان نے برصیحا کے دل میں ڈالا کہ اب تو ڈیڑھ دو سال گزر گئے ہیں اور بادشاہ اور دیگر لوگ جنگ سے واپس آنے والے ہیں۔ شہزادی ان کو سارا ماجرا سنا دے گی۔ اس لیے تم اس کا بیٹا کسی بہانے سے قتل کر دو تا کہ گناہ کا ثبوت نہ رہے۔

چنانچہ ایک دفعہ شہزادی سوئی ہوئی تھی۔ اس نے بچے کو اٹھایا اور قتل کر کے گھر کے مچن میں دبا دیا۔ اب ماں تو ماں ہی ہوتی ہے۔ جب وہ اٹھی تو اس نے کہا، میرا بیٹا کدھر ہے؟ اس نے کہا، مجھے تو کوئی خبر نہیں ہے۔ ماں نے ادھر ادھر دیکھا تو بیٹے کا کہیں سراغ نہ ملا۔ چنانچہ وہ اس سے خفا ہونے لگی۔ جب وہ خفا ہونے لگی تو شیطان نے برصیحا کے دل میں بات ڈالی کہ دیکھو، یہ ماں ہے، یہ اپنے بچے کو ہرگز نہیں بھولے گی، پہلے تو یہ معلوم بتاتی یا نہ بتاتی اب تو یہ ضرور بتا دے گی لہذا اب ایک ہی علاج باقی ہے لڑکی کو بھی قتل کر دو۔ تاکہ نہ رہے بانس نہ بچے بانسری۔ جب بادشاہ آ کر پوچھے گا تو بتا دینا کہ وہ بیمار ہوئی تھی اور مر گئی تھی جیسے ہی اس کے دل میں یہ بات آئی کہنے لگا کہ بالکل ٹھیک ہے۔ چنانچہ اس نے لڑکی کو بھی قتل کر دیا اور لڑکے کے ساتھ ہی مچن میں دفن کر دیا۔ اس کے بعد وہ اپنی عبادت میں لگ گیا۔

کچھ مہینوں کے بعد بادشاہ سلامت واپس آ گئے۔ اس نے بیٹوں کو بھیجا کہ جاؤ اپنی بہن کو لے آؤ۔ وہ برصیحا کے پاس آئے اور کہنے لگے، جی ہماری بہن آپ کے پاس تھی، ہم اسے لینے آئے ہیں۔ برصیحا ان کی بات سن کر رو پڑا اور کہنے لگا کہ آپ کی بہن بہت اچھی تھی، بڑی نیک تھی اور ایسے ایسے عبادت کرتی تھی، لیکن وہ اللہ کو پیاری ہو گئی یہ مچن میں اس کی قبر ہے۔ بھائیوں نے جب سنا تو وہ رو دھو کر واپس چلے گئے۔ گھر جا کر جب وہ رات کو سوئے تو شیطان خواب میں بڑے بھائی کے پاس گیا اور اس سے پوچھنے لگا، بتاؤ تمہاری بہن کا کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا، ہم جنگ کے لیے گئے ہوئے تھے، اسے برصیحا کے پاس چھوڑ کر گئے تھے، وہ اب فوت ہو چکی ہے۔ شیطان کہنے لگا، وہ تو فوت نہیں ہوئی۔ اس نے پوچھا کہ اگر فوت نہیں ہوئی تو پھر کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا برصیحا نے خود یہ کتوت کیا ہے اور اس نے خود اسے قتل کیا ہے اور فلاں جگہ اسے دفن کیا اور بچے کو اس نے اسی کے ساتھ دفن کیا ہے۔ اس کے بعد وہ خواب میں ہی اس کے درمیانی بھائی کے پاس گیا اور اس کو بھی یہی کچھ کہا اور پھر اس کے چھوٹے بھائی کے پاس جا کر بھی یہی کچھ کہا۔

تینوں بھائی جب صبح اٹھے تو ایک نے کہا میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ دوسرے نے کہا میں نے یہی خواب دیکھا اور تیسرے نے کہا میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے۔ وہ آپس میں کہنے لگے کہ یہ عجیب اتفاق ہے کہ سب کو ایک جیسا خواب آیا ہے۔ سب سے چھوٹے

بھائی نے کہا یہ اتفاق کی بات نہیں ہے بلکہ میں تو جا کر تحقیق کروں گا۔ دوسرے نے کہا، چھوٹا بھائی غصہ میں آ کر چل پڑا۔ اسے دیکھ کر باقی بھائی بھی اس کے ساتھ ہو لیے۔ انہوں نے جب جا کر زمین کو کھودا تو انہیں اس میں بہن کی ہڈیاں بھی مل گئیں اور ساتھ ہی چھوٹے سے بچے کی ہڈیوں کا ڈھانچہ بھی مل گیا۔

جب ثبوت مل گیا تو انہوں نے برصیحا کو گرفتار کر لیا۔ اسے جب قاضی کے پاس لے جایا گیا تو اس نے قاضی کے روبرو اپنے اس گھناؤنے اور کروہ فعل کا اقرار کر لیا اور قاضی نے برصیحا کو پھانسی دینے کا حکم دے دیا۔

جب برصیحا کو پھانسی کے تختے پر لایا گیا اور اس کے گلے میں پھندا ڈالا گیا اور پھر پھندا کھینچنے کا وقت آیا تو پھندا کھینچنے سے عین دو چار لمحے پہلے شیطان اس کے پاس وہی عبادت گزار کی شکل میں آیا۔ وہ اس سے کہنے لگا، کیا مجھے پہچانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ برصیحا نے کہا، ہاں میں تمہیں پہچانتا ہوں تم وہی عبادت گزار ہو جس نے مجھے وہ دم بتایا تھا۔ شیطان نے کہا، وہ دم بھی آپ کو میں نے بتایا تھا۔ لڑکی کو بھی میں نے اپنا اثر ڈال کر بیمار کیا تھا، اسے قتل بھی میں نے تمہ سے کروایا تھا اور اگر اب تو بچنا چاہتا ہے تو میں ہی تجھے بچا سکتا ہوں۔ برصیحا نے کہا، اب تم مجھے کیسے بچا سکتے ہو؟ یہ کہنے لگا، تم میری ایک بات مان لو میں تمہارا یہ کام کر دیتا ہوں۔ اس نے پوچھا کہ میں آپ کی کون سی بات مانوں؟ اس شیطان نے کہا کہ بس یہ کہہ دو کہ خدا نہیں ہے۔ برصیحا کے تو حواس باختہ ہو چکے تھے۔ اس نے سوچا کہ چلو میں ایک دفعہ کہہ دیتا ہوں، پھر پھانسی سے بچنے کے بعد دوبارہ اقرار کر لوں گا۔ چنانچہ اس نے کہہ دیا، خدا موجود نہیں ہے۔ عین اس لمحہ میں کھینچنے والے نے پھندا کھینچ دیا اور یوں اس عبادت گزار کی کفر پر موت آ گئی۔

اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ کتنی لا لگ نزم پلاننگ کر کے انسان کو گناہ کے قریب کرنا چلا جاتا ہے اس سے انسان نہیں بچ سکتا، اللہ ہی اس سے بچا سکتا ہے۔ لہذا اللہ رب العزت کے حضور یوں دعا مانگنی چاہیے:

”اللَّهُمَّ احْفَظْنَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ رَبِّ أَعُوذُكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ وَأَعُوذُكَ رَبَّ أَنْ يَحْضُرُونِ“  
ترجمہ: ”اے اللہ! ہمیں شیطان مردود کے شر سے محفوظ فرما۔ اے پروردگار! میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ شیطان میرے پاس آئیں۔“

### ﴿ ۸۳ ﴾ وساوس سے دین کا ضرر بالکل نہیں ہوتا اطمینان رکھئے

مکرم و محترم جناب مولانا صاحب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

بعد سلام گزارش ہے کہ آج کل میں وسوسوں کا مریض بن چکا ہوں۔ دن بدن وساوس بڑھتے جا رہے ہیں۔ جس سے دل میں شدید بے قراری ہوتی ہے۔ براہ کرم کوئی مناسب علاج میرے لیے تجویز فرمائیے۔

مندرجہ ذیل باتوں کا اہتمام کیجئے:

① وساوس سے دین کا ضرر بالکل نہیں ہوتا، اطمینان رکھئے۔

② کسی دینی یا دنیوی کام میں مشغول ہو جائیے۔

③ وساوس کو دور کرنے کی فکر مت کیجئے، اس سے اور لپٹتے ہیں۔

④ وساوس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کتابھونکتا ہے اس کے بھونکنے کی فکر نہ کی جائے۔

⑤ وساوس آتے ہی ”اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ“ پڑھ لینا کافی ہے۔ یعنی ایمان لایا میں اللہ اور اس کے رسول پر۔ (مصن حسین: صفحہ ۱۲۵)

⑥ "لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ" کا ورد رکھے۔

④ صبح و شام اس دعا کا اہتمام کیجئے:

"اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغُيُوبِ وَالشَّهَادَةِ رَبِّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِكَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرِّ كَيْدِهِ وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي سُوءًا أَوْ أُجْرَةَ إِلَى مُسْلِمٍ"

(ابوداؤد: صحیح ترمذی: جلد ۳ صفحہ ۱۴۲)

⑧ "أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ" پڑھئے۔ دس مرتبہ صبح۔ (حسن حسین: صفحہ ۲۲۵)

④ "اللَّهُ أَحَدٌ، اللَّهُ الصَّمَدُ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ" (اللہ ایک ہے، بے نیاز ہے، نہ اس سے کوئی پیدا

ہو نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے) پڑھئے۔ (حسن حسین: صفحہ ۲۲۵) واللہ اعلم۔ والسلام

اللہ کی رضا کا طالب: محمد یونس پالن پوری

### ﴿۸۴﴾ مال دار یا مال کے چوکیدار

یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ کچھ لوگ مالدار ہوتے ہیں اور کچھ لوگ مال کے چوکیدار ہوتے ہیں۔ مالدار تو وہ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس مال ہو اور اللہ کے راستے میں خوب لگا رہے ہوں اور مال کے چوکیدار وہ ہوتے ہیں جو روزانہ بینک بیلنس چیک کرتے ہیں۔ وہ گنتے رہتے ہیں کہ اب اتنے ہو گئے اب اتنے ہو گئے۔ وہ بچارے چوکیداری کر رہے ہوتے ہیں خود تو چلے جائیں گے اور ان کی اولادیں عیاشیاں کریں گے۔

### ﴿۸۵﴾ دنیوی زندگی کی مثال قرآن نے پانی سے کیوں دی ہے؟

اللہ رب العزت فرماتے ہیں:

﴿وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ﴾ (سورہ کہف: ۴۵)

ترجمہ: "اور ان کو بتادیں کہ دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے ہم نے اتارا پانی آسمان سے۔"

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے زندگی کی مثال پانی سے دی ہے۔ دنیا اور پانی میں آپ کو کئی چیزیں مشترک نظر آئیں گی۔ اس سلسلہ میں

چند مثالیں پیش خدمت ہیں:

① پانی کی صفت ہے کہ وہ ایک جگہ پر کبھی نہیں ٹھہرتا۔ جہاں اسے بہنے کا موقع ملے بہتا ہے۔ جس طرح پانی ایک جگہ پر کبھی نہیں ٹھہرتا۔ اسی طرح دنیا بھی ایک جگہ نہیں ٹھہرتی جہاں موقع ملتا ہے دنیا ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس دنیا ہے اس کے پاس سے دنیا روزانہ کھسک رہی ہوتی ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ آہستہ آہستہ کھسکتی ہے۔ کسی کے پاس سے پچاس سال میں کھسکتی ہے، کسی کے پاس سے ستر سال میں کھسکتی ہے اور کسی کے پاس سے سو سال میں کھسکتی ہے۔ مگر بندے کو پتہ نہیں چلتا۔ یہ ہر بندے کے پاس جاتی ہے مگر یہ کسی کے پاس ٹھہرتی نہیں ہے۔ اس نے کئی لوگوں سے نکاح کئے اور ان سب کو رٹوا کیا۔ ایک بزرگ نے ایک مرتبہ خواب میں دنیا کو ایک کنواری لڑکی کے مانند دیکھا۔ انہوں نے پوچھا تو نے لاکھوں نکاح کیے اس کے باوجود کنواری ہی رہی؟ کہنے لگی، جنہوں نے مجھ سے نکاح کئے، وہ مرد نہیں تھے اور جو مرد تھے وہ مجھ سے نکاح کرنے پر آمادہ ہی نہیں ہوئے۔

اس لیے اللہ والے دنیا کے طرف محبت کی نظر سے نہیں دیکھتے۔ ان کی نظر میں مطلوب حقیقی اللہ رب العزت کی ذات ہوتی ہے۔ لہذا ان کی توجہ اسی کی طرف ہوتی ہے۔ وہ آخرت کی لذتوں کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ بلکہ جب ان کو دنیا کی لذتیں ملتی ہیں تو وہ اس بات

سے گھبراتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ نیک اعمال کا اجر آخرت کی لذتوں کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ بلکہ جب ان کو دنیا کی لذتیں ملتی ہیں تو وہ اس بات سے گھبراتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ نیک اعمال کا اجر آخرت کے بجائے کہیں ہمیں دنیا ہی میں نہ دے دیا جائے۔

④ دوسری صفت یہ ہے کہ جو آدمی بھی پانی میں داخل ہوتا ہے وہ تر ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ اسی طرح دنیا بھی ایسی ہی ہے کہ جو آدمی بھی اس میں گھسے گا وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا۔

⑤ تیسری صفت یہ ہے کہ پانی جب ضرورت کے مطابق ہوا فائدہ مند ہوتا ہے اور جب ضرورت سے بڑھ جائے تو نقصان دہ ہوتا ہے اسی طرح دنیا بھی اگر ضرورت کے مطابق ہو تو بندے کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے اور جب ضرورت سے بڑھ جائے تو پھر یہ نقصان پہنچانا شروع کر دیتی ہے۔ پانی کا سیلاب جب آتا ہے تو بند بھی توڑ دیتا ہے کیونکہ وہ ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جن لوگوں کے پاس بھی ضرورت سے زیادہ مال ہوتا ہے وہ عیاشیاں کرتے ہیں اور شریعت کی حدود کو توڑ دیتے ہیں۔ جو لوگ جوئے کی بازیاں لگاتے ہیں اور ایک ایک رات میں لاکھوں گواتے ہیں وہ ان کی ضرورت کا پیہ توڑ اسی ہوتا ہے۔ انہیں تو بالکل پرواہ ہی نہیں ہوتی۔

### (۸۶) دنیا استغناء سے آتی ہے

ہمارے اکابرین پر ایسے ایسے واقعات پیش آئے کہ انہیں وقت کے بادشاہوں نے بڑی بڑی جاگیریں پیش کیں مگر انہوں نے اپنی ذات کے لیے کبھی قبول نہ کیں۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے پوتے حضرت سالم رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ حرم مکہ میں تشریف لائے۔ مطاف میں آپ کی ملاقات وقت کے بادشاہ ہشام بن عبدالملک سے ہوئی۔ ہشام نے سلام کے بعد عرض کیا حضرت! کوئی ضرورت ہو تو حکم فرمائیں تاکہ میں آپ کی کوئی خدمت کر سکوں۔ آپ نے فرمایا: ہشام! مجھے بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر غیر اللہ کے سامنے حاجت بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے کیونکہ ادب الہی کا تقاضا ہے کہ یہاں فقط اسی کے سامنے ہاتھ پھیلا یا جائے۔ ہشام لا جواب ہو گیا۔ قدرتا جب آپ حرم شریف سے باہر نکلے تو ہشام بھی عین اسی وقت باہر نکلا۔ آپ کو دیکھ کر وہ پھر قریب آیا اور کہنے لگا حضرت! اب فرمائیے کہ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ہشام! بتاؤ میں تم سے کیا مانگوں دین یا دنیا؟ ہشام جانتا تھا کہ دین کے میدان میں تو آپ کا شمار وقت کی بزرگ ترین ہستیوں میں ہوتا ہے، لہذا کہنے لگا، حضرت! آپ مجھ سے دنیا مانگیں۔ آپ نے فوراً جواب دیا کہ ”دنیا تو میں نے کبھی دنیا کے بنانے والے سے بھی نہیں مانگی بھلا تم سے کیا مانگوں گا۔“ یہ سنتے ہی ہشام کا چہرہ لٹک گیا اور وہ اپنا سامنے لے کر رہ گیا۔

### (۸۷) شیطان رشوت نہیں لیتا ہے

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان ہمارا ایسا دشمن ہے کہ جو کبھی رشوت قبول نہیں کرتا باقی دشمن ایسے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی ہدیے، تحفے اور رشوت دے دے تو وہ نرم پڑ جائیں گے اور مخالفت چھوڑ دیں گے اور اگر خوشامد کی جائے تو اسے بھی وہ مان جائیں گے مگر شیطان وہ دشمن ہے جو نہ تو رشوت قبول کرتا ہے اور نہ خوشامد قبول کرتا ہے۔ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم ایک دن بیٹھ کر اس کی خوشامد کر لیں گے اور یہ ہماری جان چھوڑ جائے گا۔ یہ ہرگز نہیں چھوڑے گا اس لیے کہ یہ ایمان کا ڈاکو ہے اور اس کی ہر وقت اس بات پر نظر ہے کہ میں کس طرح انسان کو ایمان سے محروم کر دوں۔

### (۸۸) وضو کی ترتیب میں سنت کو فرض پر مقدم کیوں کیا؟

مکرم و محترم!  
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

بعد سلام، گزارش ہے کہ مجھے ایک طالب علمانہ سوال ہوتا ہے کہ وضو میں چہرے کا دھونا فرض کی رو سے ضروری ہے جب کہ اس کی فر

ضیت کی ادائیگی سے پہلے ہاتھ بھی دھوتے ہیں، کئی بھی کرتے ہیں اور ناک میں بھی پانی ڈالتے ہیں۔ جب کہ یہ سب چیزیں سنت کی قبیل سے ہیں تو وضو کی ترتیب میں حق یہ بنتا ہے کہ فرض پہلے ہو اور سنتیں بعد میں ہوں، لہذا سنت کو فرض پر مقدم کیوں کیا؟

فقہاء نے اس کا بھی جواب دیا ہے کہ جب کوئی آدمی پانی سے وضو کرنے لگے گا اور وہ اپنے ہاتھ میں پانی لے گا تو اسے آنکھوں سے دیکھ کر پانی کے رنگ کا پتہ چلے گا جب منہ میں ڈالے گا تو ذائقہ کا پتہ چلے گا اور جب ناک میں ڈالے گا تو اسے بو کا پتہ چل جائے گا۔ اسی طریقہ سے جب اسے تسلی ہو جائے گی کہ پانی کا رنگ بھی ٹھیک ہے، اس کا ذائقہ بھی ٹھیک ہے اور اس کی بو بھی ٹھیک ہے تو وہ شریعت کا حکم پورا کرنے کے لیے چہرے کو دھوئے گا۔

مکرم و محترم!

بعد سلام، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دنیا کو کھیل تماشا کیوں فرمایا:

قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

﴿وَمَا هَذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلَّا لَهْوٌ وَ لَعِبٌ وَّ اِنَّ الدُّنْيَا الْاٰخِرَةَ كَالْهٰی الْاٰوَّلٰتِ ۗ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُوْنَ ۝﴾ (سورہ عجمت: ۶۳)

دنیا میں سب سے جلدی ختم ہونے والی چیز کھیل تماشا ہے۔ جتنے بھی کھیل تماشے ہیں۔ وہ چند گھنٹوں کے ہوتے ہیں۔ اسکرین پر تماشا دیکھیں تو بھی چند گھنٹوں کا ہوتا ہے۔ سرکس کا تماشا بھی چند گھنٹوں کا ہوتا ہے، ریجنڈ ہنڈر کا تماشا بھی چند گھنٹوں کا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی دنیا کو کھیل تماشے کے ساتھ تشبیہ دی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ دنیا گھڑی دو گھڑی کا معاملہ ہے یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن کہیں گے:

﴿مَالِئْتُمْ اَغْوٰی سَاعَةٍ ۙ﴾ (سورہ مد: ۵۵)

ترجمہ: ”وہ نہیں ٹھہرے مگر ایک گھڑی۔“

حتیٰ کہ کچھ تو یہاں تک کہیں گے:

﴿لَعُدُّ بِكُمْ نُوٰا اِلَّا عَشِيَّةً اَوْ ضُحٰیًا ۝﴾ (سورہ زمر: ۳۶)

ترجمہ: ”وہ دنیا میں نہیں رہے مگر صبح کا تھوڑا سا وقت یا شام کا تھوڑا سا وقت۔“

سوسال کی زندگی بھی تھوڑی سی نظر آئے گی گویا

ع ”خواب تھا جو کچھ دیکھا، جو سنا افسانہ تھا“

دنیا کو کھیل تماشے سے تشبیہ دینے میں دوسری بات یہ تھی کہ عام طور پر کھیل تماشا دیکھنے کے بعد بندے کو افسوس ہی ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بس پیسے بھی ضائع کیے اور وقت بھی ضائع کیا۔ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ جو لوگ کھیل تماشا دیکھتے ہیں۔ وہ بعد میں کہتے ہیں کہ بس ہم ایسے ہی چلے گئے، ہمارے کئی ضروری کام رہ گئے ہیں۔ دنیا دار کا بھی بالکل یہی حال ہوتا ہے کہ اپنی موت کے وقت افسوس کرتا ہے کہ میں نے تو اپنی زندگی ضائع کر دی۔

ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج کے کھیل تماشے نام طور پر سائے کی مانند ہوتے ہیں۔ اسکرین پر تو نظر آتا ہے کہ بندے چل رہے ہیں مگر حقیقت میں ان کا سایہ چل رہا ہوتا ہے اور جوان کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ سائے کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ دنیا کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے جو اس کے پیچھے بھاگتا ہے وہ بھی سایہ کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔

(۸۹) بہترین مال وہ ہے جو جیب میں ہو دل میں نہ ہو، بدترین مال وہ ہے جو جیب میں نہ ہو دل میں ہو

مال کی مثال پانی کی سی ہے۔ کشتی کے چلنے کے لیے پانی ضروری ہے۔ مگر کشتی تب چلتی ہے جب پانی کشتی کے نیچے ہوتا ہے اور اگر نیچے کی بجائے پانی کشتی کے اندر آجائے تو یہی پانی اس کے ڈوبنے کا سبب بن جائے گا۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ اے مومن! تیرا مال پانی کی طرح ہے اور تو کشتی کی مانند ہے، اگر یہ مال تیرے نیچے رہا تو تیرے تیر نے کا ڈوبنے کا اور اگر یہاں سے نکل کر تیرے دل میں آ گیا تو پھر یہ تیرے ڈوبنے کا سبب بن جائے گا۔ اس لیے ثابت ہوا کہ اگر مال جیب میں ہو تو وہ بہترین خادم ہے اور اگر دل میں ہو تو بدترین آقا ہے۔ ملفوظات والد صاحب نور اللہ مرقدہ۔

### (۹۰) میاں بیوی کو شیطان جلدی لڑا دیتا ہے

شیطان خوشگوار ازدواجی زندگی کو قطعاً ناپسند کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میاں بیوی میں رنجش پیدا ہو اور ازدواجی تعلقات میں خرابی پیدا ہو۔ وہ خاص طور پر خاندانوں کے دماغ میں فتور ڈالتا ہے۔ لہذا خاندان باہر دوستوں کے اندر گلاب کا پھول بنا رہتا ہے اور گھر کے اندر کریم نیم چڑھا بن جاتا ہے۔ نوجوان آکر کہتے ہیں، حضرت! پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ گھر میں آتے ہی دماغ گرم ہو جاتا ہے۔ وہ اصل میں شیطان گرم کر رہا ہوتا ہے وہ میاں بیوی کے درمیان الجھنیں پیدا کرنا چاہتا ہے۔

شیطان پہلے میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کروا کے خاندان کے منہ سے طلاق کے الفاظ کہلواتا ہے۔ جب اس کی عقل ٹھکانے آتی ہے تو وہ کہتا ہے میں نے تو غصے میں طلاق کے الفاظ کہہ دیئے تھے۔ چنانچہ وہ بغیر کسی کوہنٹائے میاں بیوی کے طور پر آپس میں رہنا شروع کر دیں گے۔ وہ جتنا عرصہ اسی حال میں ایک دوسرے سے ملتے رہیں گے تب تک انہیں زنا کا گناہ ملتا رہے گا۔ اب دیکھیں کہ کتنا بڑا گناہ کر وا دیا، یہ ایسے کلیدی گناہ کروا تا ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ قرب قیامت کی علامات میں سے ہے کہ خاندان اپنی بیویوں کو طلاق دیں گے اور پھر بغیر نکاح اور رجوع کے ان کے ساتھ اسی طرح اپنی زندگی گزاریں گے۔

### (۹۱) شیطان کی شرارت

ایک مرتبہ ایک آدمی نے شیطان کو دیکھا۔ اس نے کہا مردود! تو بڑا ہی بد معاش ہے، تو نے کیا فساد مچایا ہوا ہے، اگر تو آرام سے ایک جگہ بیٹھ جاتا تو دنیا میں امن ہو جاتا۔ وہ مردود جواب میں کہنے لگا، میں تو کچھ نہیں کرتا، صرف انگلی لگاتا ہوں۔ اس نے پوچھا، کیا مطلب؟ شیطان کہنے لگا، ابھی دیکھنا۔ قریب ہی ایک حلوائی کی دکان تھی، وہاں کسی برتن میں شیرہ پڑا ہوا تھا۔ شیطان نے انگلی شیرہ میں ڈبوئی اور دیوار پر لگا دی۔ کبھی آکر شیرے پر بیٹھ گئی۔ اس کبھی کو کھانے کے لیے ایک چھچھلی آگئی۔ ساتھ ہی ایک آدمی کام کر رہا تھا۔ اس نے چھچھلی کو دیکھا تو اس نے جوتا اٹھا کر چھچھلی کو مارا۔ وہ جوتا دیوار سے ٹکرا کر حلوائی کی مٹھائی پر گرا۔ جیسے ہی جوتا مٹھائی پر گرا تو حلوائی اٹھ کھڑا ہوا اور غصہ میں آکر کہنے لگا، ادے تو نے میری مٹھائی میں جوتا کیوں مارا؟ اب وہ الجھنے لگ گئے۔ ادھر سے اس کے دوست آگئے اور ادھر سے اس کے دوست پہنچ گئے۔ بالآخر ایسا جھگڑا مچا کہ خدا کی پناہ۔ اب شیطان اس آدمی سے کہنے لگا، دیکھ! میں نہیں کہتا تھا کہ میں تو صرف انگلی لگاتا ہوں۔ جب اس کی ایک انگلی کا یہ فساد ہے تو پورے شیطان میں کتنی نخوست ہوگی۔ ملفوظات حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔

### (۹۲) حسد اور حرص دو خطرناک روحانی بیماریاں ہیں

جب حضرت نوح علیہ السلام اپنے امتیوں کو لے کر کشتی میں بیٹھے تو انہیں کشتی میں ایک بوڑھا نظر آیا۔ اسے کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا کشتی میں بٹھایا مگر وہ اکیلا تھا۔ لوگوں نے اسے پکڑ لیا۔ وہ حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھنے لگے کہ یہ بوڑھا کون

ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے اس سے پوچھا بتاؤ تم کون ہو؟ وہ کہنے لگا، جی میں شیطان ہوں۔ آپ نے سن کر فرمایا، تو اتنا چالاک بد معاش ہے کہ کشتی میں آگیا، کہنے لگا، جی مجھ سے غلطی ہوگئی اب آپ مجھے معاف فرمادیں۔ آپ نے فرمایا، تمہیں ہم ایسے ہی نہیں چھوڑیں گے، تو ہمیں اپنا گرتا جاجس سے تو لوگوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچاتا ہے۔ کہنے لگا جی میں سچ سچ بتاؤں گا البتہ آپ وعدہ کریں کہ آپ مجھے چھوڑ دیں گے۔ آپ نے فرمایا، ٹھیک ہے ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ وہ کہنے لگا میں دو باتوں سے انسان کو زیادہ نقصان پہنچاتا ہوں۔

① حسد

② حرص

پھر وہ کہنے لگا کہ حسد ایک ایسی چیز ہے کہ میں خود اس کی وجہ سے برباد ہوا اور حرص وہ چیز ہے جس کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتار دیا گیا۔ اس لیے میں انہی دو چیزوں کی وجہ سے انسان کو سب سے زیادہ نقصان پہنچاتا ہوں۔  
واقعی یہ دونوں ایسی خطرناک بیماریاں ہیں جو تمام بیماریوں کی بنیاد بنتی ہیں۔ آج کے سب لڑائی جھگڑے یا تو حسد کی وجہ سے ہیں یا حرص کی وجہ سے۔ حاسد انسان اندر ہی اندر آگ میں جلتا رہتا ہے۔ وہ کسی کو اچھی حالت میں دیکھ نہیں سکتا۔ دوسرے انسان پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہوتی ہیں۔ اور حاسد کے اندر مروڑ پیدا ہوتے ہیں کہ وہ اچھی حالت میں کیوں ہے۔ مفلحوں کی حالت حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ خصوصی مجلس میں۔

### (۹۳) شیطان کی چالاکیاں

ایک دفعہ شیطان کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوگئی۔ انہوں نے پوچھا، تو کون ہے؟ وہ کہنے لگا، میں شیطان ہوں۔ انہوں نے فرمایا: تو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بڑے ڈورے ڈالتا پھرتا ہے، تیرے تجربے میں کون سی بات آئی ہے؟ وہ کہنے لگا، آپ نے تو بڑی عجیب بات پوچھی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو اپنی ساری زندگی کا تجربہ بتا دوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، پھر کیا ہے بتا دے۔ وہ کہنے لگا، تین باتیں میرے تجربات کا نمونہ ہیں:

① پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ صدقہ کرنے کی نیت کر لیں تو فوراً دے دینا کیونکہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ نیت کرنے کے بعد بندے کو بھلا دوں۔ جب میں کسی کو بھلا دیتا ہوں تو پھر اسے یاد ہی نہیں ہوتا کہ میں نے نیت کی تھی یا نہیں۔  
② دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ کریں تو اسے فوراً پورا کر دینا کیونکہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اس وعدے کو توڑ دوں۔

مثلاً کوئی وعدہ کرے کہ اے اللہ! میں یہ گناہ نہیں کروں گا تو میں خاص محنت کرتا ہوں کہ وہ اس گناہ میں ضرور مبتلا ہو۔

③ تیسری بات یہ ہے کہ کسی غیر محرم کے ساتھ تہائی میں نہ بیٹھنا کیونکہ میں مرد کی کشش عورت کے دل میں پیدا کر دیتا ہوں اور عورت کی کشش مرد کے دل میں پیدا کر دیتا ہوں۔ میں یہ کام اپنے چیلوں سے نہیں لیتا بلکہ میں بذات خود یہ کام کرتا ہوں۔ (تیس اہلس)

### (۹۴) موت کے وقت مریض کے قریب جا کر مت کہو کہ مجھے پہچانتے ہو کہ نہیں

اگر مریض کا ایک دفعہ کلمہ پڑھ لے تو اس کے ساتھ بار بار باتیں مت کرو اور اس کا آخری کلام کلمہ ہی رہنے دیں۔ ایسا نہ ہو کہ بہن آ کر کہے، مجھے پہچان رہے ہو میں کون ہوں؟ اس وقت اس سے اپنی پہچان مت کروائیں اور خاموش رہیں تاکہ اس کا پڑھا ہوا کلمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جائے۔ یہ چیزیں صاحب دل لوگوں کے پاس بیٹھ کر سمجھ میں آتی ہیں ورنہ اکثر رشتہ دار اس پر ظلم کرتے ہیں اور اسے اس وقت کلمہ سے محروم کر دیتے ہیں۔ اللہ کرے کہ موت کے وقت کوئی صاحب دل پاس ہو جو بندے کو اس وقت کلمہ پڑھنے کی تلقین کر دے۔



## (۹۵) شیطان دو کتیں بھول گیا اس لیے ہم بچ گئے

جب شیطان نے کہا کہ اے اللہ! میں اولاد آدم پر دائیں، بائیں، آگے اور پیچھے چاروں طرف سے حملے کروں گا۔ تو فرشتے یہ سن کر بڑے حیران ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”میرے فرشتو! تم متعجب کیوں ہو رہے ہو؟“ فرشتوں نے کہا، اے اللہ! اب تو ابن آدم کے لیے مشکل بن گئی ہے، وہ تو اس مردود کے جھکنڈوں سے نہیں بچ سکیں گے۔ پروردگار عالم نے فرمایا ”تم اتنے متعجب نہ ہو، اس نے چار سمتوں کا نام تو لیا ہے مگر اوپر اور نیچے والی دو سمتوں کو بھول گیا ہے اس لیے میرا گناہ بندہ جب کبھی نام اور شرمندہ ہو کر میرے درپے آ جائے گا اور اپنے ہاتھ مانگنے کے لیے اٹھائے گا تو چونکہ اس کے ہاتھ اوپر کی سمت کو اٹھیں گے اور شیطان اوپر کی سمت سے اثر انداز نہیں ہو سکے گا اس لیے ابھی میرے بندے کے ہاتھ نیچے نہیں جائیں گے کہ میں اس سے پہلے اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔

میرے دوستو! اوپر اور نیچے کی سمتیں محفوظ ہیں اس لیے پروردگار عالم سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیجئے۔ تمہاریوں میں ہاتھ اٹھا کر معافی مانگنے، بچہ میں سر ڈال کر مافی مانگنے۔ پروردگار عالم کی رحمتوں کا مہینہ ہے، بلکہ مغفرت کا مشرہ ہے اور آپ حضرات یہاں اللہ کے در کی چوکھٹ کو پکڑ کر بیٹھے ہیں، کیا بعید ہے کہ ہم میں کسی کی عداوت، اللہ کو پسند آئے اور اس کے اخلاص کی برکت سے اللہ تعالیٰ سب کی توبہ کو قبول فرمائے۔ رب کریم! ہمیں آنے والی زندگی میں شیطان کے جھکنڈوں سے محفوظ فرمائے اور موت کے وقت ایمان کی حفاظت عطا فرمائے۔ (امین ثمین)

## (۹۶) ڈاکٹر موت کے وقت نشے کا انجکشن نہ دے

جب آپ دیکھیں کہ کسی کی موت کا وقت قریب ہے تو اسے ڈاکٹروں سے بچائیں۔ اللہ ان ڈاکٹروں کو ہدایت دے کہ وہ موت کی علامات ظاہر ہونے کے بعد بھی اسے نشے کا ٹیکہ لگا دیتے ہیں۔ نشے کا ٹیکہ لگنے کی وجہ سے اس بچارے کو کلمہ پڑھنے کی توفیق ہی نہیں ملتی اور وہ اسی طرح دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اس لیے جب پتہ چل جائے کہ اب موت کا وقت قریب ہے تو ڈاکٹر کو ڈانٹ کر کہیں کہ خبردار اسے نشے کا انجکشن مت لگانا، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور مومن مرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوتا ہے۔ اس سے کہہ دیں کہ جناب! آپ اپنی طرف سے اس کا علاج کر چکے ہیں، اب چونکہ موت کی علامات ظاہر ہو رہی ہیں اس لیے اسے اللہ کے حضور میں پہنچنے کے لیے تیاری کرنے دیں اور اسے ہوش میں رہنے دیں تاکہ آخری وقت میں کلمہ پڑھ کر دنیا سے رخصت ہو۔

## (۹۷) بیت اللہ جائے اور یہ اشعار پڑھئے

شکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل نہ تھا	تو نے اپنے گھر بلایا، میں تو اس قابل نہ تھا
اپنا دیوانہ بنایا، میں تو اس قابل نہ تھا	گرد کعبے کے پھر دایا، میں تو اس قابل نہ تھا
مدتوں کی بیاس کو سیراب تو نے کر دیا	جام زم زم کا پلایا، میں تو اس قابل نہ تھا
ڈال دی ششک میرے سینے میں تو نے ساقیا	اپنے سینے سے لگایا، میں تو اس قابل نہ تھا
بھا گیا میری زبان کو ذکر الا اللہ کا	یہ سنتی کس نے پڑھایا، میں تو اس قابل نہ تھا
خاص اپنے در کا رکھا تو نے اے مولا مجھے	یوں نہیں در در پھرایا، میں تو اس قابل نہ تھا
میری کوتاہی کہ تیری یاد سے غافل رہا	پر نہیں تو نے بھلایا، میں تو اس قابل نہ تھا
میں کہ تھا بے راہ تو نے دھگیری آپ کی	تو ہی مجھ کو در پہ لایا، میں تو اس قابل نہ تھا
عہد جو روز ازل میں کیا تھا یاد ہے	عہد وہ کس نے نبھایا، میں تو اس قابل نہ تھا



میں یہ بات القا فرمائی کہ اے عطا! ان لوگوں سے کہہ دو کہ اگر ان کو رزق کی تھوڑی سی تنگی پہنچے تو یہ فوراً محفل میں بیٹھ کر میرے شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب کہ ان کے نامہ اعمال گناہوں سے بھرے ہوئے میرے پاس آتے ہیں مگر میں فرشتوں کی محفل میں ان کی شکایتیں بیان نہیں کرتا۔“

### (۱۰۲) رابعہ بصریہ رضی اللہ عنہا کی نصیحت عجیب انداز میں

رابعہ بصریہ رضی اللہ عنہا ایک مرتبہ کہیں کھڑی تھیں۔ ان کے قریب سے ایک نوجوان گزرا۔ اس نے اپنے سر میں پٹی باندھی ہوئی تھی۔ انہوں نے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ اس نے کہا، اماں! میرے سر میں درد ہے جس کی وجہ سے پٹی باندھی ہوئی ہے، پہلے تو کبھی درد نہیں ہوا۔ انہوں نے پوچھا، بیٹا آپ کی عمر کتنی ہے؟ وہ کہنے لگا، جی میری عمر تیس سال ہے۔ یہ سن کر وہ فرمانے لگیں بیٹا! تیرے سر میں تیس سال تک درد نہیں ہوا تو نے شکر کی پٹی تو کبھی نہیں باندھی، تجھے پہلی دفعہ درد ہوا ہے تو تو نے شکوے کی شکایت کی پٹی فوراً باندھ لی ہے۔ ہمارا حال بھی یہی ہے کہ ہم ساہا سال اس کی نعمتیں اور سکون کی زندگی گزارتے ہیں، ہم اس کا تو شکر ادا نہیں کرتے اور جب ذرا سی تکلیف پہنچتی ہے تو فوراً شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔

### (۱۰۳) نعمتوں کی بقا کا آسان نسخہ

اللہ رب العزت فرماتے ہیں: ﴿لَیْسَ شَکْرٌ تَعْمَلُ لَآ زَیْدًا نَّکْمُ﴾ (سورہ ابراہیم: آیت ۷) اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم اپنی نعمتیں ضرور بالضرور اور زیادہ عطا کریں گے۔ گویا شکر ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے نعمتیں باقی رہتی بھی ہیں اور بڑھتی بھی چلی جاتی ہیں۔

ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے      بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے  
اس کے لطف و کرم کا کیا کہنا      لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے

یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ ماتنے والوں کو اپنے ماتنے میں کمی کا شکوہ رہا جب کہ دینے والے کے خزانے بہت زیادہ ہیں اور ماتنے والوں کے دامن چھوٹے ہیں جو جلدی بھر جاتے ہیں۔

### (۱۰۴) اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کیجئے

ایک مرتبہ سلیمان بن حرب رضی اللہ عنہما تشریف فرما تھے۔ وقت کا بادشاہ ہارون الرشید اس وقت ان کے دربار میں موجود تھا۔ ہارون الرشید کو پیاس لگی۔ اس نے اپنے خادم سے کہا کہ مجھے پانی پلاؤ۔ خادم ایک گلاس میں ٹھنڈا پانی لے کر آیا۔ جب بادشاہ نے گلاس ہاتھ میں پکڑ لیا تو سلیمان بن حرب رضی اللہ عنہما نے ان سے کہا کہ بادشاہ سلامت! ذرا رک جائیے۔ وہ رک گئے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے ایک بات بتائیے کہ جیسے آپ کو ابھی پیاس لگی ہے ایسے ہی آپ کو پیاس لگے اور پوری دنیا میں اس پانی کے سوا کہیں اور پانی نہ ہو تو آپ یہ بتائیں کہ آپ اس پیالے کو کتنی قیمت میں خریدنے پڑتی ہے۔ ہو جائیں گے؟ ہارون الرشید نے کہا، میں تو آدمی سلطنت دے دوں گا۔ پھر سلیمان بن حرب رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اگر آپ یہ پانی پی لیں اور یہ آپ کے پیٹ میں چلا جائے، لیکن اندر جا کر آپ کا پیشاب بند ہو جائے اور پھر وہ نکل نہ پائے اور پوری دنیا میں صرف ایک ڈاکٹر یا حکیم ہو جو اسے نکال سکتا ہو تو بتائیے کہ اس کو نکالنے کی فیس کتنی دیں گے؟ سوچ کر ہارون الرشید نے کہا، بقیہ آدمی سلطنت بھی اس کو دے دوں گا۔ وہ کہنے لگے، بادشاہ سلامت! ذرا غور کرنا کہ آپ کی پوری سلطنت پانی کا ایک پیالہ پینے اور پیشاب بن کر نکلنے کے برابر ہے۔ اگر ہم اللہ رب العزت کی نعمتوں پر غور کریں تو پھر دل سے یہ آواز نکلے گی کہ ہمیں اپنے رب کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم پر تو اس کی بڑی نعمتیں ہیں۔ ہم تو واقعی ان کا شکر ادا ہی نہیں کر سکتے۔

مادی اعتبار سے اللہ رب العزت کی جتنی نعمتیں آج ہیں اتنی اس سے پہلے نہیں تھیں۔ آج کا عام بندہ بھی پہلے وقت کے بادشاہوں سے کئی معاملات میں بہتر زندگی گزار رہا ہے۔ پہلے وقت کے بادشاہوں کے گھر میں گھی کے چراغ جلتے تھے جب کہ آج کے غریب آدمی کے گھر میں بھی بجلی کا قندہ جلتا ہے۔ ایسی روشنی پہلے وقت کے بادشاہوں کو بھی نصیب نہیں تھی۔ بادشاہوں کے خادم ان کو ہاتھ سے پکھا کیا کرتے تھے جب کہ آج کے غریب آدمی کے گھر میں بھی بجلی کا پکھا موجود ہے۔ جو ٹھنڈا پانی آج ایک آدمی کو حاصل ہے وہ پہلے وقت کے بادشاہوں کو بھی حاصل نہیں تھا۔ اس پر قیاس کرتے جائیے کہ پہلے وقت کے بادشاہ اگر سفر کرتے تو ان کو گھوڑوں پر سفر کرنا پڑتا تھا اور انہیں ایک ایک مہینہ سفر میں لگ جاتا تھا۔ آپ گھوڑے پر سوار ہو کر دہلی سے بمبئی چلیں تو یہ ایک مہینہ کا سفر بنے گا۔ لیکن آج کا ایک عام انسان اگر ریل گاڑی پر بیٹھ کر بمبئی جانا چاہے تو یہ ایک دن سوار ہوگا اور دوسرے دن سورج ڈوبنے سے پہلے بمبئی پہنچ چکا ہوگا۔ پہلے وقت کے بادشاہوں کو صرف موسم کے پھل ملتے تھے جب کہ آج ایک عام غریب آدمی کو بھی بے موسم کے پھل نصیب ہیں۔ پہلے علاقائی پھل ملا کرتے تھے جب کہ آج آدمی کو دوسرے ملکوں کے پھل بھی حاصل ہو جاتے ہیں اور وہ مزے سے کھا رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی کمزوری کو دیکھتے ہوئے یہ نعمتیں عام کر دی۔

گویا مادی اعتبار سے نعمتوں کی جتنی بارش آج ہے اتنی پہلی کبھی نہیں تھی لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی جتنی ناشکری آج ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں تھی۔ جس کی زبان سے سنو، اس کی زبان پر ناشکری ہے ہر بندہ کہے گا کہ کاروبار اچھا نہیں، گھر میں مشکلات ہیں اور صحت خراب ہے۔ ہزاروں میں سے ایک بندہ ہوگا جس سے بات کریں تو وہ اللہ کا شکر کرے گا آخر وجہ کیا ہے؟ کھانے پینے کی بہتات کا یہ عالم ہے کہ آج فقیر اور بھکاری بھی روٹی نہیں مانگتا بلکہ سگریٹ پینے کے لیے دو روپے مانگتا ہے۔ اس لیے کہ اسے نشہ کرنا ہے اور مزید بات یہ ہے کہ وہی بھکاری موبائل فون اٹھائے پھرنا ہوا ملے گا۔ ناگپاڑہ پر ایک فقیر کو دو روپے دیئے اس نے جیب میں سے 5 روپے نکال کر مجھے دیئے کہ بچوں کو چائے پلا دینا، اب 2 روپے زمانہ نہیں ہے۔

### (۱۰۵) ایک اہم نصیحت

کچھ چیزیں وزن میں اتنی ہلکی ہوتی ہیں وہ پانی کے ساتھ بہہ جاتی ہیں مثلاً کانڈ، لکڑی اور گھاس پھوس وغیرہ۔ لیکن کچھ چٹانیں ہوتی ہیں جو پانی کے ساتھ بہتی نہیں ہیں بلکہ وہ پانی کا رخ موڑ دیتی ہیں۔ ہم مومن ہیں اس لیے ہم گھاس پھوس اور تنکے نہ بنیں بلکہ ہم چٹان بن جائیں اور بہتے ہوئے پانی کا رخ پھیر دیں۔

### (۱۰۶) درخت نے سری سقطی کو نصیحت کی

ایک مرتبہ حضرت سری سقطیؓ جا رہے تھے، دوپہر کا وقت تھا۔ انہیں نیند آئی۔ وہ قیلولہ کی نیت سے ایک درخت کے نیچے سو گئے۔ کچھ دیر لیٹنے کے بعد جب ان کی آنکھ کھلی تو انہیں ایک آواز سنائی دی۔ انہوں نے غور کیا تو پتہ چلا کہ اس درخت میں سے آواز آرہی تھی جس کے نیچے وہ لیٹے ہوئے تھے۔ جی ہاں، جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو ایسے واقعات رونما کر دیتے ہیں۔ درخت ان سے کہہ رہا تھا، يَا سِرِّي اَكُنْ مِثْلِي، اے سری تو میرے جیسا ہو جا۔ وہ آواز سن کر بڑے حیران ہوئے۔ جب پتہ چلا کہ یہ آواز درخت سے آرہی ہے تو آپ نے اس درخت سے پوچھا: كَيْفَ اَكُونُ مِثْلَكَ اے درخت میں تیرے جیسا کیسے بن سکتا ہوں؟ درخت نے جواب دیا: اِنَّ الْاَشْجْنَ يَمُرُّ مَوْتِي بِالْاَحْبَلِ فَارْمِهِ بِالْاَسْمَارِ اے سری! جو لوگ مجھ پر پتھر پھینکتے ہیں میں ان لوگوں کی طرف اپنے پھل لوٹاتا ہوں۔ اس لیے تو بھی میرے جیسا بن جا۔ وہ اس کی بات سن کر اور بھی زیادہ حیران ہوئے۔ مگر اللہ والوں کو فراست ملی ہوتی ہے لہذا ان کے ذہن میں فوراً خیال آیا کہ اگر یہ درخت کی لکڑی کو آگ کی غذا کیوں بنایا؟ انہوں نے پوچھا کہ اے درخت! اگر تو اتنا ہی اچھا ہے تو

فَكَيْفَ مَصِيرُكَ اَلْسِي النَّارُ؟ یہ بتا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے آگ کی غذا کیوں بنا دیا؟ اس پر درخت نے جواب دیا، اے سری! میرے اندر خوبی بھی بہت بڑی ہے مگر اس کے ساتھ ہی ایک خامی بھی بہت بڑی ہے۔ اس خامی نے میری اتنی بڑی خوبی پر پانی پھیر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو میری خامی اتنی ناپسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آگ کی غذا بنا دیا ہے۔ میری خامی یہ ہے کہ فَاَمَلَيْتُ بِاللَّهْوِ اَهْكَذَا هَكَذَا جِدْهِرْ كِي هُوَ اُطْلِقِي هِي فِي مِشْ اَدْهِرْ كُو عِي ذُول جاتا ہوں، یعنی میرے اندر استقامت نہیں ہے۔

### ﴿ ۱۰۷ ﴾ تکبر کی سزا دنیا میں جلدی ملتی ہے اللہ حفاظت فرمائے

ایک بڑا زمیندار آدمی تھا۔ انگریزوں کی حکومت نے اسے اتنی زمینیں دیں کہ ریل گاڑی چلتی تو اگلا اسٹیشن اس کی زمین سے آتا تھا، پھر ریل گاڑی چلتی تو دوسرا اسٹیشن بھی اس کی زمین ہی میں آتا تھا، پھر ریل گاڑی چلتی تو تیسرا اسٹیشن بھی اس کی زمین سے آتا تھا۔ گویا ریل گاڑی کے تین اسٹیشن اس کی زمینوں میں آتے تھے۔ وہ اربوں پتی آدمی تھا۔ اس کا عالی شان گھر تھا۔ خوبصورت بیوی تھی اور ایک بی بیٹا تھا۔ اس کی زندگی ٹھاٹ کی گزر رہی تھی۔ وہ ایک مرتبہ اپنے دوستوں کے ساتھ شہر کے ایک چوک میں کھڑا آؤس کریم کھا رہا تھا۔ اسی دوران اس کے دوستوں نے کہا کہ آج کل کاروبار اچھا نہیں ہے، کچھ پریشانی ہے اور ہم مصروف رہتے ہیں یہ سن کر اس کے اندر ”میں“ آئی اور وہ کہنے لگا، یار! تم بھی کیا ہو، ہر وقت پریشان پھرتے ہو کہ آئے گا کہاں سے؟ لیکن میں تو پریشان پھرتا ہوں کہ لگاؤں گا کہاں یہ۔ میری تو اکیس نسلوں کو بھی کمانے کی پروا نہیں ہے۔ جب اس نے تکبر کی یہ بات کی تو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند آئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ چھ مہینوں کے اندر اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔

### ﴿ ۱۰۸ ﴾ زمانہ جاہلیت میں عورت کا کیا مقام تھا؟

ازدواجی زندگی کے عنوان پر بات کرتے ہوئے اس پس منظر کو ذہن میں رکھنا ضروری ہوگا کہ اسلام سے پہلے دنیا کی مختلف تہذیبوں اور مختلف معاشروں میں عورت کو کیا مقام حاصل تھا؟ تاریخ عالم کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہوتی ہے کہ اسلام سے پہلے دنیا کے مختلف ممالک میں عورت اپنے بنیادی حقوق سے بالکل محروم تھی:

- ① فرانس میں عورت کے بارے میں یہ تصور تھا کہ یہ آدھا انسان ہے اس لیے معاشرے کی تمام خرابیوں کا ذریعہ بنتی ہے۔
- ② چین میں عورت کے بارے میں یہ تصور تھا کہ اس میں شیطانی روح ہوتی ہے لہذا یہ برائیوں کی طرف انسان کو دعوت دیتی ہے۔
- ③ جاپان میں عورت کے بارے میں یہ تصور تھا کہ یہ ناپاک پیدا کی گئی ہے، اس لیے عبادت گاہوں سے اس کو دور رکھا جاتا تھا۔
- ④ ہندو ازم میں جس عورت کا خاندان مر جاتا تھا اس کو معاشرے میں زندہ رہنے کے قابل نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اس لیے ضروری تھا کہ وہ اپنے خاندان کی نفس کے ساتھ زندہ جل کر اپنے آپ کو ختم کر لے، اگر وہ اس طرح نہ کرتی تو اس کو معاشرہ میں عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔

⑤ عیسائی دنیا میں عورت کو معرفت الہی کے راستے میں رکاوٹ سمجھا جاتا تھا۔ عورتوں کو تعلیم دی جاتی تھی کہ کنواری رہ کر زندگی گزاریں۔ جبکہ مرد راہب بن کر رہنا اعزاز سمجھتے تھے۔

⑥ جزیرہ عرب میں بیٹی کا پیدا ہونا عار سمجھا جاتا تھا۔ لہذا ماں باپ خود اپنے ہاتھوں سے بیٹی کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ عورت کے حقوق اس قدر پامال کیے جا چکے تھے کہ اگر کوئی آدمی مر جاتا تو جس طرح دراخت کی چیزیں اس کی اولاد میں تقسیم ہوتی تھیں اسی طرح بیوی بھی اس کی اولاد کے نکاح میں آ جاتی تھی۔

☆ اگر کسی عورت کا خاوند فوت ہو جاتا تو مکہ مکرمہ سے باہر ایک کالی کوٹھڑی میں اس عورت کو دو سال کے لیے رکھا جاتا تھا طہارت کے لیے پانی اور دوسری ضروریات زندگی بھی پوری نہ دی جاتی تھی۔ اگر دو سال یہ جنم کاٹ کر بھی عورت زندہ رہتی تو اس کا منہ کالا کر کے مکہ مکرمہ میں پھرایا جاتا۔ اس کے بعد اسے گھر میں رہنے کی اجازت دی جاتی تھی۔

اب سوچئے تو سہمی کہ خاوند تو مر اپنی قضاء سے، بھلا اس میں بیوی کا کیا قصور؟ مگر یہ مظلوم اتنی بے بس تھی کہ اپنے حق میں کوئی آواز ہی نہیں اٹھا سکتی تھی۔ ایسے ماحول میں جبکہ چاروں طرف عورت کے حقوق کو پامال کیا جا رہا تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی ﷺ کو اسلام کی نعمت دے کر بھیجا۔ آپ ﷺ دنیا میں تشریف لائے اور آپ ﷺ نے آکر عورت کے مقام کو نکھارا۔ بتلایا کہ اے لوگو! اگر یہ بیٹی ہے تو تمہاری عزت ہے، اگر بہن ہے تو تمہارا ناموس ہے، اگر بیوی ہے تو زندگی کی ساتھی ہے، اگر ماں ہے تو اس کے قدموں میں تمہاری جنت ہے۔

### (۱۰۹) اچھی عورت کی کیا صفات ہونی چاہئیں؟

اللہ نے لکھا کہ بیوی میں چار صفات ضروری ہونی چاہئیں:

① پہلی صفت اس کے چہرے پر حیا ہو یہ بات بنیادی حیثیت رکھتی ہو کہ جس عورت کے چہرے پر حیا ہوگی اس کا دل بھی حیا سے لبریز ہو گا۔ مثل مشہور ہے کہ چہرہ انسان کے دل کا آئینہ ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ مردوں میں بھی حیا بہتر ہے مگر عورت میں بہتر ہے۔

② دوسری صفت اس کی زبان میں شیرینی ہو یعنی جو بولے تو کانوں میں رس گھولے۔ یہ نہ ہو کہ ہر وقت خاوند کو جلی کٹی سناتی رہے یا بچوں کو بات بات پر تہمتی رہے۔

③ تیسری صفت یہ کہ اس کے دل میں تنگی ہو۔

④ چوتھی صفت یہ کہ اس کے ہاتھ کام کاج میں مصروف رہیں۔

یہ خوبیاں جس عورت میں ہوں یقیناً وہ بہترین بیوی کی حیثیت سے زندگی گزار سکتی ہے۔

### (۱۱۰) بے دین عورت کی زبان وہ تلوار ہے جو کبھی زنگ آلود نہیں ہوتی

بد زبان بیوی اپنے شوہر کو قبر تک پہنچانے کے لیے گھوڑے کی ڈاک کا کام کرتی ہے، جس کی بیوی بد زبان ہو اس کو ساری زندگی سکون نہیں مل سکتا۔ عورت کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنی زبان کے اندر نرمی اور مٹھاس پیدا کرے اور اچھے انداز سے بات کرے۔ ویسے یہ کئی بات ہے کہ بیٹی سے بیٹی عورت کیوں نہ ہو پھر بھی اس کے اندر تھوڑی بہت تنگی ضرور ہوتی ہے کیونکہ تعلق ہی ایسا ناز و انداز کا ہوتا ہے۔ تاہم عورت کی زبان میں نرمی ہونی چاہیے۔ شریعت نے کہا اپنے خاوند سے نرم انداز میں بات کرے، جہاں کسی غیر مرد سے بات کرنے کا وقت ہو تو سختی سے بات کرے تاکہ اسے دوسری بات پوچھنے کی جرأت نہ ہو۔ آج کل کی فیشن ایبل عورتوں کا معاملہ برعکس ہے۔ خاوند سے بات کرنی ہو تو ساری دنیا کی کڑواہٹ سمٹ آتی ہے اور کسی غیر سے بات کرنی ہو تو ساری دنیا کی شیرینی سمٹ آتی ہے۔ بہر حال یہ مسئلہ حقیقت ہے کہ جن رشتوں کو تلوار نہیں کاٹ سکتی اس کو زبان کاٹ کے رکھ دیتی ہے۔ یہ بھی یاد رکھئے کہ عورت کی زبان وہ تلوار ہے جو کبھی زنگ آلود نہیں ہوتی۔ بعض عورتیں تو اتنی بد زبان ہوتی ہیں کہ اگر عورتیں نہ ہوتیں تو ناقابل برداشت ہوتیں۔ کئی عورتیں تو بد زبانی اور بدگمانی ہی کی وجہ سے گھر برباد کر لیتی ہیں۔ شرع شریف نے حکم دیا کہ محرم مرد سے بات کر دو تو نرمی سے، غیر محرم سے بات کرنی پڑ جائے تو سختی سے کرو، دانا یا ان فرنگ میں سے کسی کا قول ہے کہ اگر عورت سارے دن میں ایک مرتبہ اپنے خاوند سے نرمی سے بات کرے، جس نرمی

سے وہ پڑوسی مرد سے بات کرتی ہے تو گھر آباد رہے۔ اس طرح اگر مرد پورے دن میں ایک مرتبہ بیوی کو اس محبت کی نگاہ سے دیکھے جس نظر سے وہ پڑوسی عورت کو دیکھتا ہے تو بھی گھر آباد رہے۔  
نوٹ: غیر محرم عورت کو دیکھنا یا غیر محرم مرد کو دیکھنا شرعاً ناجائز ہے۔

### (۱۱۱) سلف صالحین کا معمول اپنی کنواری بیٹیوں کے بارے میں

اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ایک پوری سورۃ جسے ”سورۃ النساء“ کہتے ہیں اس میں مرد اور عورت کی ازدواجی زندگی کے احکام بتلائے ہیں۔ سلف صالحین کا یہ معمول تھا کہ وہ اپنی بیٹیوں کو نکاح سے پہلے سورۃ النساء اور سورۃ النور ترجمہ کے ساتھ پڑھا دیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جن کے ہاں بیٹی ہو وہ اس کو اگر پورا قرآن پاک ترجمہ کے ساتھ نہیں پڑھا سکتے تو کم از کم سورۃ النساء اور سورۃ النور کو ترجمہ کے ساتھ پڑھا دیا کریں تاکہ لڑکی اچھی ازدواجی زندگی گزار سکے۔ بعض سلف صالحین کا تو عجیب معمول تھا کہ جب بیٹی پڑھ لکھ جاتی ابھی شادی کا کوئی انتظام نہیں ہوتا تھا (اس وقت پرنٹنگ پریس نہیں ہوتے تھے) تو یہ بیٹی کے ذمہ لگا دیتے کہ بیٹی اپنے لیے ایک قرآن پاک لکھ لو، تو یہ بچہ روزانہ با وضو ہو کر خوش نویسی سے قرآن پاک لکھتی تھی اور جب قرآن پاک مکمل ہو جاتا تو سنہری جلد باندھ کر باپ اپنی بیٹی کو جہیز میں دیا کرتا تھا۔ یہ پہلے وقتوں کا جہیز ہوا کرتا تھا گویا اس کے خاوند کو پیغام مل رہا ہوتا تھا کہ میری بیوی نے گھر میں جو زندگی گزارنی ہے اس کا فارغ وقت اس قرآن پاک کو لکھنے میں گزارا ہے۔

### (۱۱۲) مکان تو ہاتھوں سے بن جایا کرتے ہیں مگر گھر ہمیشہ دلوں سے بنا کرتے ہیں

کہنے والے نے کہا ہے کہ مکان تو ہاتھوں سے بن جایا کرتے ہیں مگر گھر ہمیشہ دلوں سے بنا کرتے ہیں۔ ایشیئس جڑتی ہیں مکان بن جاتے ہیں مگر جب دل جڑتے ہیں تو گھر آباد ہو جایا کرتے ہیں۔ میرے دوستو! ہم ان باتوں کو توجہ کے ساتھ سنیں اور اچھی ازدواجی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ ہم دیار غیر میں بیٹھے ہیں ہماری چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہونے والے جھگڑے جب مقامی انتظامیہ کو پہنچتے ہیں تو وہ اسلام پر ہنستے ہیں۔ وہ نبی کریم ﷺ کی تعلیمات پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، کتھی بدبختی ہے۔ اگر ہم نے اپنی کم ظرفی کی وجہ سے کسی کو اسلام پر انگلی اٹھانے کا موقع دیا، چھوٹی چھوٹی باتیں اپنے گھر میں سمیٹ لیا کریں۔ ایسا جھگڑا نہ بنائیں جو کیونٹی میں ٹاک آف دی ٹاؤں بنا کرے، ہم اپنی ذات کے خول سے باہر نکلیں۔ ہم مسلمانوں کی بدنامی کے بجائے مسلمانوں کی نیک نامی کا ذریعہ بنیں۔ آج ایسی سوچ رکھنے والے اتنے تھوڑے ہیں چراغ رخ زیبالے کر ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔

ایک بھوم اولاد آدم کا جدھر بھی دیکھئے ڈھونڈئے تو ہر طرف اللہ کے بندوں کا کال

عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جب میاں بیوی قریب ہوتے ہیں تو ایک دوسرے سے لڑائیاں ہوتی ہیں۔ اگر اسی حالت میں خاوند فوت ہو جائے تو یہی بیوی ساری زندگی خاوند کو یاد کر کے روتی رہے گی کہ جی اتنا اچھا تھا، میرے لیے تو بہت ہی اچھا تھا۔ اگر بیوی فوت ہو جائے تو یہی خاوند ساری زندگی یاد کر کے روتا رہے گا کہ بیوی اتنی اچھی تھی، میرا کتنا خیال رکھتی تھی۔ ہم بندے کی قدر اس کے قریب رہتے ہوئے کر لیا کریں۔ کئی مرتبہ یہ دیکھا گیا ہے کہ میاں بیوی جھگڑے میں ایک دوسرے کو طلاق دے دیتے ہیں، جب ہوش آتا ہے تو خاوند اپنی جگہ پاگل بنا پھرتا ہے اور بیوی اپنی جگہ پاگل بنی پھرتی ہے۔ پھر ہمارے پاس آتے ہیں کہ مولوی صاحب کوئی ایسی صورت نہیں ہو سکتی کہ ہم پھر سے میاں بیوی بن کر رہ سکیں۔ ایسی صورت حال ہرگز نہیں آنے دینی چاہیے۔ غنودر گزار اور افہام و تفہیم سے کام لینا چاہیے بلکہ ایک روٹھے تو دوسرے کو متا لینا چاہیے۔ کسی شاعر نے کیا اچھی بات کہی ہے۔

اتنے اچھے موسم میں روٹنا نہیں اچھا  
بار جیت کی باتیں کل ہم اٹھا رکھیں  
آج دوستی کر گئیں

اسی مضمون کو ایک دوسرے شاعر نے نئے رنگ سے باءِ حیا ہے:

زندگی یونہی بہت کم ہے محبت کے لیے روٹھ کر وقت گنوانے کی ضرورت کیا ہے

(۱۱۳) ایک مردِ صالح کا عجیب قصہ..... ہمیشہ با وضو رہنے روزی میں برکت ہوگی

حضرت فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کی زمین تھی۔ اس میں خود مل چلاتے تھے۔ خود پانی دیتے تھے، خود کاٹتے، خود بیج نکالتے، پھر وہ گندم گھرا آتی تھی۔ پھر رات کو عشاء کے بعد میاں بیوی اسے پیسا کرتے اور اس آنے سے بنی ہوئی روٹی خانقاہ میں مریدوں کو کھلائی جاتی تھی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ یہ سب کچھ خود کرتے تھے۔ حضرت کی عادت تھی کہ ہمیشہ با وضو رہتے تھے، گھر والوں کی بھی یہی عادت تھی۔ ایک دن حضرت نے کھانا پکوا یا اور خانقاہ میں لے آئے۔ اللہ اللہ کیلئے والے سالکین آئے ہوئے تھے وہ کھانا حضرت نے ان کے سامنے رکھا۔ جب وہ کھانے لگے، آپ نے انہیں کہا ”فقیر و (حضرت قریشی مریدوں کو فقیر کہتے تھے) تمہارے سامنے جو روٹی پڑی ہے اس کے لیے مل چلایا گیا تو وضو کے ساتھ، پھر بیج ڈالا گیا تو وضو کے ساتھ، پھر اس کو پانی دیا تو وضو کے ساتھ، پھر اس کو کاٹا گیا تو وضو کے ساتھ، پھر گندم بھوسے سے الگ کیا گیا تو وضو کے ساتھ، پھر گندم کو پیسا گیا تو وضو کے ساتھ، پھر آپ کے سامنے کھانا لاکر رکھا گیا تو وضو کے ساتھ۔ کاش کہ تم وضو کے ساتھ اسے کھا لیتے۔“ حدیث شریف میں ہے ہمیشہ با وضو رہنے روزی میں برکت ہوگی۔

(اسی حدیث ہے حدیثیں نمبر ۸۹ ص ۸۹)

(۱۱۴) نعمت کی موجودگی میں نعمت کی قدر کرنا سیکھئے

بخاری و مسلم شریف میں مندرجہ ذیل حدیث ہے کہ:

بنی اسرائیل کے تین آدمی تھے۔ ان میں ایک آدمی برص کا مریض تھا اس کے پاس ایک آدمی نے آکر کہا کہ بھائی! کیا آپ کو کوئی پریشانی ہے؟ اس نے کہا، میں کون سی پریشانی آپ کو بتاؤں؟ ایک تو میں برص کا مریض ہوں جس کی وجہ سے لوگ میری شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے اور دوسرا رزق کی بڑی تنگی ہے۔ اس آدمی نے کہا، اچھا اللہ تعالیٰ آپ کی بیماری بھی دور کر دے اور آپ کو رزق میں برکت بھی عطا فرمادے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بیماری بھی دور کر دی اور اللہ تعالیٰ نے اسے ایک اونٹنی عطا فرمائی۔ اس اونٹنی کی نسل اتنی بڑھی کہ وہ ہزاروں اونٹوں اور اونٹنیوں کے ریوڑ کا مالک بن گیا جس کی وجہ سے وہ بڑا امیر آدمی بن گیا اور رہائش کے لیے محلات بنا لیے۔

دوسرا آدمی گنجا تھا، وہ آدمی اس گنجنے کے پاس آیا اور پوچھا کہ کیا تمہاری کوئی پریشانی ہے؟ اس نے کہا، جناب میرے سر پر تو بال ہی نہیں ہیں، جس کے پاس بیٹھوں وہی مذاق کرتا ہے۔ جو کاروبار کرتا ہوں ٹھیک نہیں چلتا۔ اس نے کہا اچھا، اللہ تعالیٰ تجھے سر پر خوبصورت بال بھی عطا فرمائے اور تجھے اللہ تعالیٰ رزق بھی دے دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک گائے عطا کی، اس گائے کی نسل اتنی بڑھی کہ وہ ہزاروں گائیوں کے ریوڑ کا مالک بن گیا۔ وہ بھی عالی شان محل میں بڑے ٹھاٹھ کی زندگی گزارنے لگ گیا۔

تیسرا آدمی اندھا تھا، وہ آدمی اس اندھے کے پاس گیا اور اس سے پوچھا، بھائی آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں؟ اس نے کہا، جی میں تو در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہوں، لوگوں کے گھروں سے جا کر مانگتا ہوں، ہاتھ پھیلاتا ہوں، میری بھی کوئی زندگی ہے، گلے مانگ مانگ کر



کھانا پھرتا ہوں، میں نہ اپنی ماں کو دیکھ سکتا ہوں اور نہ باپ کو اس کے علاوہ رزق کی تلقی بھی ہے۔ اس آدمی نے اس کی بیٹائی کے لیے رزق کی فراخی کے لیے دعا کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بیٹائی بھی دے دی اور اس کو ایک بکری دی۔ اس بکری کا ریوڑ اتنا بڑھا کہ وہ ہزاروں بکریوں کا مالک بن گیا۔ اس طرح وہ بھی عالی شان محل میں عزت کی زندگی گزارنے لگ گیا۔ کئی سالوں کے بعد وہ تینوں اپنے وقت کے سیٹھ کہلانے لگے۔ کافی عرصہ گزرنے کے بعد وہی آدمی پہلے آدمی کے پاس آیا اور اس نے اس سے کہا، میں ایک محتاج ہوں، اللہ کے نام پر مانگنے کے لیے آیا ہوں، اسی اللہ نے آپ کو سب کچھ دیا، آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، آج اتنا کچھ آپ کے پاس ہے، آپ اس میں سے اسی اللہ کے نام پر مجھے بھی کچھ دے دیں۔ جب اس نے سنا کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو اس کا پارہ چڑھ گیا اور کہنے لگا، ذلیل قسم کے لوگ مانگنے کے لیے آجاتے ہیں، خبردار! آئندہ ایسی بات نہ کرنا، میں امیر، میرا باپ امیر اور میرا دادا امیر تھا۔ ہم تو جدی پشتی امیر ہیں، تم کون ہو بات کرنے والے کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، چلو جاؤ یہاں سے ورنہ میں جوتے لگاؤں گا۔ چنانچہ اس نے کہا، اچھا میاں! ناراض نہ ہونا، تم جیسے تھے اللہ تمہیں ویسا ہی کر دے۔ جب یہ کہہ کر چلا گیا تو اس کے جانوروں میں ایک بیماری پڑ گئی اور اس کے سب اونٹ وغیرہ مر گئے اور برس کی بیماری بھی دوبارہ لگ گئی، گویا وہ جس پوزیشن میں تھا اسی پوزیشن میں دوبارہ لوٹ آیا۔

اس کے بعد وہ شخص دوسرے آدمی کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ میں محتاج ہوں، میں اسی اللہ کے نام پر مانگنے آیا ہوں، جس نے آپ کو سب کچھ دیا ہے، آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، آج اتنا کچھ ہے، جب اس نے یہ بات کی تو وہ بڑا غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، تم تو مفت خورے ہو، ہم نے کما کر اتنا کچھ بنایا ہے، میں نے فلاں سودا کیا تو اتنی بچت ہوئی اور فلاں سودا کیا تو اتنے کمائے، لوگ مجھے بڑا بزنس مائنڈ یڈ کہتے ہیں۔ میری تو یہ خون پسینے کی کمائی ہے ایسے ہی درختوں سے توڑ کر نہیں لائے اور نہ یہ چوری کا مال ہے۔ اب چلا جا یہاں سے ورنہ تھپڑ لگاؤں گا۔ جب اس امیر آدمی نے خوب ڈانٹ ڈپٹ کی تو اس نے کہا، بھائی! ناراض نہ ہونا، تم جیسے پہلے تھے اللہ تمہیں دوبارہ ویسا ہی کر دے۔ چنانچہ اس کے سر کے بال بھی غائب ہو گئے اور اللہ رب العزت نے اس کی گائیوں میں ایک ایسی بیماری پیدا کر دی جس سے سب گائیں مرت گئیں، اسی طرح وہ جیسا پہلے تھا ویسا ہی بن گیا۔

اس کے بعد وہ شخص تیسرے آدمی کے پاس گیا اور اس سے کہا، بھائی! میں اللہ کے نام پر مانگنے آیا ہوں، محتاج ہوں، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے آپ کو سب کچھ دیا، اب اسی اللہ کے نام پر مجھے بھی دے دو۔ جب اس نے یہ بات سنی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ کہنے لگا، بھائی! تم نے بالکل سچ کہا ہے، میں تو اندھا تھا، لوگوں کے لیے صرف رات کو اندھیرا ہوتا ہے اور میرے لیے تو دن میں بھی اندھیرا ہوا کرتا تھا، میں تو درور کی ٹھوکریں کھاتا تھا، لوگوں سے مانگ مانگ کر زندگی گزارتا تھا، میری بھی کوئی حالت تھی؟ کوئی خدا کا بندہ آیا، اس نے مجھے دعا دی، اللہ نے مجھے بیٹائی دے دی اور اتنا رزق بھی دے دیا۔ آج آپ اس اللہ کے نام پر مانگنے کے لیے آئے ہیں تو میاں! ان دو پہاڑوں کے درمیان ہزاروں بکریاں پھر رہی ہیں، جتنی چاہو تم اللہ کے نام پر لے جاؤ۔ جب اس امیر آدمی نے یہ بات کی تو مخاطب کہنے لگا، مبارک ہو، میں تو اللہ تعالیٰ کا فرشتہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے تین بندوں کی طرف آزمائش بنا کر بھیجا تھا، دو تو اپنی بنیاد کو بھول گئے ہیں مگر تم نے اپنی بنیاد کو یاد رکھا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں اور زیادہ برکت عطا فرمائے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ وہ آدمی بنی اسرائیل کا سب سے بڑا امیر کبیر آدمی تھا۔ ثابت ہوا کہ بندہ اگر اپنی اوقات اور بنیاد کو یاد رکھے تو اللہ تعالیٰ برکت دے دیتے ہیں۔ الفاظ بندے کے ہیں، حدیث کا مضمون بخاری و مسلم میں ہے۔ (بخاری و مسلم)

﴿۱۱۵﴾ کل بن دیکھے سودا تھا اس لیے سستا تھا قصہ غور سے پڑھئے

ہارون الرشید کے زمانے میں بہلول رضی اللہ عنہ نامی ایک بزرگ گزرے ہیں۔ وہ مجذوب اور صاحب حال تھے۔ ہارون الرشید ان کا

بڑا احترام کرتا تھا۔ ہارون الرشید کی بیوی زبیدہ خاتون بھی ایک نیک اور پارہ سائمت تھی۔ اس نے اپنے محل میں ایک ہزار ایسی خادماںیں رکھی ہوئی تھیں جو قرآن کی حافظہ اور قاریہ تھیں۔ ان سب کی ڈیوٹیاں مختلف شفٹوں میں لگی ہوئی تھیں۔ چنانچہ اس کے محل سے چوبیس گھنٹے ان بچیوں کے قرآن پڑھنے کی آواز آرہی ہوتی تھی۔ اس کا محل قرآن کا گلشن محسوس ہوتا تھا۔

ایک دن ہارون الرشید اپنی بیوی کے ساتھ دریا کے کنارے ٹہل رہا تھا کہ ایک جگہ بہلول دانا پھیلنے کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اس نے کہا، السلام علیکم۔ بہلول دانا پھیلنے نے جواب میں کہا، وعلیکم السلام۔ ہارون الرشید نے کہا، بہلول! کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں ریت کے گھر بنا رہا ہوں۔ پوچھا، کس کے لیے بنا رہے ہو؟ بہلول نے جواب دیا کہ جو آدمی اس کو خریدے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ رب العزت اس کے بدلے اس کو جنت میں گھر عطا فرمادے۔ بادشاہ نے پوچھا، بہلول اس گھر کی قیمت کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک دینار۔ ہارون الرشید نے سمجھا کہ یہ ایک دیوانے کی بڑے لہذا وہ آگے چلا گیا۔

اس کے پیچھے زبیدہ خاتون آئیں۔ اس نے بہلول کو سلام کیا، پھر پوچھا بہلول پھیلنے کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں ریت کے گھر بنا رہا ہوں۔ اس نے پوچھا، کس لیے گھر بنا رہے ہو؟ بہلول پھیلنے نے کہا کہ جو آدمی اس گھر کو خریدے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا کہ یا اللہ! اس کے بدلے اس کو جنت میں گھر عطا فرمادے۔ اس نے پوچھا، بہلول اس گھر کی قیمت کیا ہے؟ بہلول نے کہا ایک دینار۔ زبیدہ خاتون نے ایک دینار نکال کر اس کو دے دیا اور کہا کہ میرے لیے دعا کر دینا۔ وہ دعا کروا کر چلی گئی۔

رات کو جب ہارون الرشید سویا تو اس نے خواب میں جنت کے مناظر دیکھے، آبشاریں، مرغزاریں اور چھل پھول وغیرہ دیکھنے کے علاوہ بڑے اونچے اونچے خوبصورت محلات بھی دیکھے۔ ایک سرخ یا قوت کے بنے ہوئے محل پر اس نے زبیدہ کا نام لکھا ہوا دیکھا۔ ہارون الرشید نے سوچا کہ میں دیکھوں تو سہمی کیونکہ یہ میری بیوی کا گھر ہے۔ وہ محل میں داخل ہونے کے لیے جیسے ہی دروازے پر پہنچا تو ایک دربان نے اسے روک لیا۔ ہارون الرشید کہنے لگا، اس پر تو میری بیوی کا نام لکھا ہوا ہے، اس لیے مجھے اندر جانا ہے۔ اس نے کہا نہیں، یہاں کا دستور الگ ہے، جس کا نام ہوتا ہے اسی کو اندر جانے کی اجازت ہوتی ہے، کسی اور کو اجازت نہیں ہوتی، لہذا آپ کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ جب دربان نے ہارون الرشید کو پیچھے ہٹایا تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ اسے بیدار ہونے پر فوراً خیال آیا کہ مجھے تو لگتا ہے کہ بہلول کی دعا زبیدہ کے حق میں اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہوگئی۔ پھر اسے اپنے آپ پر افسوس ہوا کہ میں بھی اپنے لیے ایک گھر خرید لیتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ وہ ساری رات اسی افسوس میں کروٹیں بدلتا رہا۔ صبح ہوئی تو اس نے دل میں سوچا کہ آج پھر میں ضرور دریا کے کنارے جاؤں گا۔ اگر آج مجھے بہلول ملے تو میں بھی ایک مکان ضرور خریدوں گا۔

چنانچہ وہ شام کو پھر بیوی کو لے کر چل پڑا۔ وہ بہلول کو تلاش کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک جگہ بہلول بیٹھا اسی طرح کا مکان بنا رہا تھا۔ اس نے کہا السلام علیکم! بہلول نے جواب میں وعلیکم السلام کہا۔ ہارون الرشید نے پوچھا، کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے کہا، میں گھر بنا رہا ہوں۔ اس نے پوچھا کس لیے؟ بہلول نے کہا، جو آدمی یہ گھر خریدے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے جنت میں گھر عطا کر دے۔ ہارون الرشید نے پوچھا، بہلول اس کی قیمت کیا ہے؟ بہلول نے کہا، اس کی قیمت پوری دنیا کی بادشاہی ہے۔ ہارون الرشید نے کہا، اتنی قیمت تو میں دے نہیں سکتا، کل تو ایک دینار کے بدلے دے رہے تھے اور آج پوری دنیا کی بادشاہی مانگتے ہو۔ بہلول نے کہا، بادشاہ سلامت! کل بن دیکھے معاملہ تھا اور آج دیکھا ہوا معاملہ ہے۔ کل بن دیکھے سودا تھا اس لیے سستا مل رہا تھا اور آج چونکہ دیکھ کے آئے ہو اس لیے اب اس کی قیمت زیادہ دینی پڑے گی۔

ہماری مثال ایسی ہی ہے کہ آج ہم نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کو بن دیکھے مانا تھا اس لیے جنت بڑی سستی ہے۔ لیکن

جب موت کے وقت آخرت کی نشانیاں دیکھ لیں گے تو اس کے بعد پھر اس کی قیمت ادا نہیں کر سکیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿يَوْمَ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِهِمْ بِمِثْلِ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۝ وَصَاحِبِهِ وَوَجْهِهِ ۝ وَفَسِيلِهِ الَّتِي تُتَوَكَّلُ ۝ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجَبُونَ ۝﴾ (سورۃ العارجہ: ۱۱-۱۳)

ترجمہ: ”روزِ محشر مجرم یہ تمنا کرے گا کہ کاش میں اپنی سزا کے بدلے میں اپنا پیٹا دے دیتا، بیوی دے دیتا، اپنا بھائی دے دیتا، وہ خاندان والے دے دیتا، جو اسے ٹھکانہ دیتے تھے حتیٰ کہ جو کچھ دنیا میں ہے وہ سب دے دیتا اور میں جہنم سے بچ جاتا۔ فرمایا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔“

### (۱۱۶) غموں سے نجات کا قرآنی اور نبوی نسخہ

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ۝﴾ (پارہ ۱۷، سورۃ انبیاء: ۸۷)

ترجمہ: ”تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے بے شک میں ظالموں میں ہو گیا۔“

### (۱۱۷) فضیلت

① حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ کو اس کی خبر دیتا ہوں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمارے سامنے اول دعا کا ذکر کیا ہی تھا کہ اچانک ایک اعرابی آگیا اور آپ ﷺ کو اپنی باتوں میں مشغول کر لیا، بہت وقت گزر گیا۔ اب حضور ﷺ وہاں سے اٹھے اور مکان کی طرف تشریف لے چلے میں بھی آپ ﷺ کے پیچھے ہو لیا، جب آپ ﷺ گھر کے قریب پہنچ گئے، مجھے ڈر ہوا کہ کہیں آپ ﷺ اندر نہ چلے جائیں اور میں رہ جاؤں تو میں نے زور زور سے زمین پر پاؤں مار کر چلنا شروع کیا، میری جوتیوں کی آہٹ سن کر آپ ﷺ نے میری طرف دیکھا اور فرمایا کون ابوالخس؟ میں نے کہا، جی ہاں یا رسول اللہ ﷺ میں ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا کیا بات ہے؟ میں نے کہا حضور ﷺ آپ ﷺ نے اول دعا کا ذکر کیا پھر وہ اعرابی آگیا اور آپ ﷺ کو مشغول کر لیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا، ہاں ہاں وہ دعا حضرت ذوالنون رضی اللہ عنہ کی ہے جو انہوں نے محلی کے پیٹ میں کی تھی یعنی ”لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ“ سنو جو بھی مسلمان کسی معاملہ میں جب کبھی اپنے رب سے یہ دعا کرے اللہ تعالیٰ ضرور اسے قبول فرماتا ہے۔

② ابن ابی حاتم میں ہے جو بھی حضرت یونس رضی اللہ عنہ کی اس دعا کے ساتھ دعا کرے اس کی دعا ضرور قبول کی جائے گی۔

③ ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسی آیت میں اس کے بعد ہی فرمان ہے ہم اسی طرح مومنوں کو نجات دیتے ہیں۔

④ ابن جریر میں ہے حضور ﷺ فرماتے ہیں خدا کا وہ نام جس سے وہ پکارا جائے تو قبول فرمائے اور جو مانگا جائے وہ حضرت یونس رضی اللہ عنہ کی دعا میں ہے۔

⑤ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ ﷺ وہ دعا حضرت یونس رضی اللہ عنہ کے لیے ہی خاص تھی یا تمام مسلمانوں کے لیے عام جو بھی یہ دعا کرے۔ آپ ﷺ نے فرمایا تو کیا تو نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ ہم نے اس کی دعا قبول فرمائی اسے غم سے چھڑایا اور اسی طرح ہم مومنوں کو چھڑاتے ہیں۔ پس جو بھی اس دعا کو کرے اس سے اللہ کا قبولیت کا وعدہ ہو چکا ہے۔

⑥ ابن ابی حاتم میں ہے کہ کثیر بن سعید فرماتے ہیں میں نے امام حسن بصری رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ابو سعید! خدا کا وہ اسم اعظم کہ جب اس کے ساتھ اس سے دعا کی جائے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور جب اس کے ساتھ اس سے سوال کیا جائے تو عطا فرمائے کیا ہے؟ آپ

نے جواب دیا کہ برادر زادے کیا تم نے قرآن کریم میں خدا کا یہ فرمان نہیں پڑھا پھر آپ نے یہی دو آیتیں تلاوت فرمائیں اور فرمایا، نتیجے! یہی خدا کا وہ اسمِ اعظم ہے کہ جب اس کے ساتھ دعا کی جائے قبول فرماتا ہے اور جب اس کے ساتھ اس سے مانگا جائے وہ عطا فرماتا ہے۔ (تفسیر ابن کثیر: جلد ۳ صفحہ ۳۹۵، ۳۹۶)

﴿۱۱۷﴾ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس مسلمان نے اپنی بیماری کی حالت میں چالیس مرتبہ مذکورہ بالا آیت کریمہ پڑھ لی تو اگر اس بیماری میں وفات پا گیا تو چالیس شہیدوں کا اجر پائے گا اور اگر تندرست ہو گیا تو اس کے تمام گناہ بخش دیئے جائیں گے۔ (صن حسین: صفحہ ۱۳۱)

### ﴿۱۱۸﴾ والدین کا حق ادا کرنے کی دعا

”الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَكَهَّ الْكِبْرِيَاءَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ لِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْعِظَمَةُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ هُوَ الْمَلِكُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ التَّوَكُّلُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ“

علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح بخاری میں ایک حدیث نقل کی ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ مذکورہ بالا دعاء پڑھے اور اس کے بعد یہ دعا کرے کہ یا اللہ اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچا دے، اس نے والدین کا حق ادا کر دیا اور تین مرتبہ قبل ہو اللہ، تین مرتبہ الحمد للہ شریف اور تین مرتبہ درود شریف بھی شامل کر لیں تو والدین کا فرمانبردار نہ ہوگا۔ حدیث میں ہے کہ آدمی اگر کوئی نفل صدقہ کرے تو اس میں کیا حرج ہے کہ اس کا ثواب والدین کو بخش دیا کرے بشرطیکہ وہ مسلمان ہوں اس صورت میں ان کو ثواب پہنچ جائے گا اور صدقہ کرنے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ (کنز)

نوٹ: اوزامی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ جو شخص اپنے والدین کی زندگی میں نافرمان ہو پھر ان کے انتقال کے بعد ان کے لیے استغفار کرے۔ اگر ان کے ذمہ قرض ہو تو اس کو ادا کرے اور ان کو برانہ کہے تو وہ فرمانبرداروں میں شمار ہو جاتا ہے۔ اور جو شخص والدین کی زندگی میں فرمانبردار تھا لیکن ان کے مرنے کے بعد ان کو برا بھلا کہتا ہے، ان کا قرض بھی ادا نہیں کرتا ان کے لیے استغفار بھی نہیں کرتا وہ نافرمان شمار ہوتا ہے۔ (در مشور)

### ﴿۱۱۹﴾ حکمت بھرا کلام

حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا:

- ① اے بیٹے! تم حفاظت کرو نماز میں اپنے دل کی۔  
 ② دوسروں کے گھروں میں اپنی نگاہوں کی۔  
 ③ لوگوں کی محفل میں اپنی زبان کی۔  
 ④ دسترخوان پر اپنے معدہ کی۔

### ﴿۱۲۰﴾ اور دو چیزوں کو فراموش کر دیا کرو

- ① تمہارے ساتھ اوروں کا برادری۔  
 ② تمہارا اوروں کے ساتھ حسن سلوک۔

### (۱۲۱) اور دو چیزوں کو ہمیشہ یاد رکھو

① موت کی تیاری۔

② اللہ کی یاد۔

### (۱۲۲) ارشادِ بانی

- ① میں نے اپنی رضا کو مخالفتِ نفس میں رکھ دیا ہے۔ لوگ اسے موافقتِ نفس میں تلاش کرتے ہیں۔ ..... بھلا وہ کیسے پائیں گے؟  
 ② میں نے آرام کو جنت میں رکھ دیا ہے۔ لوگ اسے دنیا میں تلاش کرتے ہیں۔ ..... بھلا وہ کیسے پائیں گے؟  
 ③ میں نے علم و حکمت کو بھوک میں رکھ دیا ہے۔ لوگ اسے سیری میں تلاش کرتے ہیں ..... بھلا وہ کیسے پائیں گے؟  
 ④ میں نے تو عمری کو قناعت میں رکھ دیا ہے۔ لوگ اسے مال میں تلاش کرتے ہیں۔ ..... بھلا وہ کیسے پائیں گے؟  
 ⑤ میں نے عزت کو اپنی طاقت میں رکھ دیا ہے۔ لوگ اسے بادشاہوں کے دروازوں پر تلاش کرتے ہیں۔ ..... بھلا وہ کیسے پائیں گے؟

### (۱۲۳) اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتا ہے

میری طرف آ کر تو دیکھ متوجہ نہ ہوں تو کہنا  
 میری راہ میں چل کر تو دیکھ راہیں نہ کھول دوں تو کہنا  
 میرے لیے بے قدر ہو کر تو دیکھ قدر کی حد نہ کر دوں تو کہنا  
 میرے لیے ملامت نہ کر تو دیکھ اکرام کی انتہا نہ کر دوں تو کہنا  
 میرے لیے لٹ کر تو دیکھ رحمت کے خزانے نہ لٹا دوں تو کہنا  
 میرے کوچے میں بک کر تو دیکھ تجھے اہمول نہ کر دوں تو کہنا  
 مجھے اپنا رب مان کر تو دیکھ سب سے بے نیاز نہ کر دوں تو کہنا  
 میرے خوف سے آنسو بہا کر تو دیکھ مغفرت کے دریا نہ بہا دوں تو کہنا  
 وفا کی لاج نہما کر تو دیکھ عطا کی حد نہ کر دوں تو کہنا  
 میرے نام کی تعظیم کر کے تو دیکھ حکیم کی انتہا نہ کر دوں تو کہنا  
 میری راہ میں نکل کے تو دیکھ اسرار عیاں نہ کر دوں تو کہنا  
 مجھے حی القیوم مان کر تو دیکھ ابدی حیات کا اثمن نہ بنا دوں تو کہنا  
 اپنی ہستی کو فنا کر کے تو دیکھ جامِ وفا سے سرفراز نہ کر دوں تو کہنا  
 بالآخر میرا ہو کر تو دیکھ ہر کسی کو تیرا نہ بنا دوں تو کہنا

### (۱۲۴) جب بالغ ہوئے تو کیا دیکھا

دولت کی نمائش کرنے والوں کو مفلسی کی آغوش میں دیکھا  
 علم کی نمائش کرنے والوں کو جاہلوں کی مجلس سجاتے دیکھا  
 طاقت کی نمائش کرنے والوں کو کمزوروں کی غلامی کرتے دیکھا

عبادت کی نمائش کرنے والوں کو  
 سخاوت کی نمائش کرنے والوں کو  
 لوگوں کے رحم پر پلنے والوں کو  
 دین سے دنیا کمانے والوں کو  
 صبر و شکر کرنے والوں کو  
 حسد و کینہ میں جھلنے والوں کو  
 جھوٹ بولنے والوں کو  
 غصہ میں رہنے والوں کو  
 لوگوں سے امیدیں رکھنے والوں کو  
 لوگوں سے سوال کرنے والوں کو  
 سچی توبہ کرنے والوں کو !  
 گناہوں میں جینے والوں کو  
 بندوں کے حقوق جھٹلانے والوں کو  
 ناجائز کمائی پر پلنے والوں کو  
 والدین کے فرماں برداروں کو  
 ماں باپ کے نا فرمانوں کو  
 ظلم و ستم کرنے والوں کو  
 اللہ کے حقوق ادا کرنے والوں کو  
 بندوں کے حقوق ادا کرنے والوں کو  
 استاد کی خدمت کرنے والوں کو  
 بے ہوشی میں جینے والوں کو

دین سے منہ موڑتے دیکھا  
 صدقات کی روٹی پر پلنے دیکھا  
 ہمیشہ مفلسی اور محتاجی میں دیکھا  
 چہرے سے رونق اڑتے دیکھا  
 دنیا میں با وقار دیکھا  
 روزی کی تنگدستی میں دیکھا  
 ایمان سے دور ہوتے دیکھا  
 عقل کی محرومی میں دیکھا  
 نا امید اور پریشان دیکھا  
 بے عزتی کے عالم میں دیکھا  
 عبادت میں لذت لیتے دیکھا  
 پریشانی کی دلدل میں دھنستے دیکھا  
 اپنے حق پر روتے دیکھا  
 مصیبتوں کے جال میں پھنستے دیکھا  
 ترقی کی منزل چھوڑتے دیکھا  
 اولاد کے ظلم و ستم سہتے دیکھا  
 مظلوم کی خوشامد کرتے دیکھا  
 اپنے ہی سائے سے ڈرتے دیکھا  
 دنیا میں شہرت پاتے دیکھا  
 خدمت گزاروں کے سائے میں دیکھا  
 جب ہوش میں آئے تو کیا کیا دیکھا

### (۱۲۵) خواتین اسلام سے اسلام کے مطالبے

- ① اپنی زیب و زینت کی چیزوں کا مردوں پر اٹھانہ ہونے دیں۔
- ② اپنے زیورات کی آواز تک، غیر محرموں کے کان تک نہ جانے دیں۔
- ③ خوشبو، عطر وغیرہ لگا کر گھر سے باہر نہ نکلیں۔
- ④ مردوں سے گفتگو کرتے وقت لب و لہجہ اور آواز میں نزاکت پیدا نہ کریں۔
- ⑤ راہ چلتے یا غیر مرد سے باتیں کرتے وقت اپنی نظریں نیچی رکھیں۔
- ⑥ ایسے راستے سے نہ گزریں جہاں مردوں کی ریل ویل ہو بلکہ کنارے کنارے ہو کر گزریں۔
- ⑦ گھر سے باہر نکلنے کے بعد اپنی چال و حال میں حیا کو مقدم رکھیں۔

- ① کسی غیر عورت کی مفت اپنے خاوند سے بیان نہ کریں۔  
 ② کسی غیر محرم کے ساتھ سفر نہ کریں خواہ سفر حج ہی کیوں نہ ہو۔  
 ③ اپنی صحت کی حفاظت کریں۔

### (۱۲۶) خود کی حقیقت

اگر ساری دنیا ہماری تعریف کرے تو اس تعریف سے ہمارا کچھ بھلا نہ ہوگا جب تک کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ نہ فرمادیں کہ میں تم سے راضی ہو گیا۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں اگر بہت سے لوگ تمہاری تعریف کریں تو تم اپنی قیمت نہ لگالینا کیونکہ غلاموں کے قیمت لگانے سے غلاموں کی قیمت نہیں بڑھتی، غلاموں کی قیمت مالک کی رضا سے بڑھتی ہے، لہذا سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے۔

ہم ایسے رہے یا کہ دیسے رہے وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے  
 یہاں ہماری خوب تعریفیں ہو رہی ہیں لیکن وہاں ہماری قیمت کیا ہوگی یہ قیامت کے دن معلوم ہوا۔ ان کا دوسرا شعر ہے۔  
 حیات دو روزہ کا کیا عیش و غم ہے مسافر رہے جیسے تھے رہے  
 کیونکہ عارضی حیات سے بعض وقت آدمی کو دھوکہ لگ جاتا ہے۔

جسے دنیا کا عیش حاصل ہو ضروری نہیں کہ اس کے قلب میں بھی عیش ہو۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔  
 از بروں چو گور کا فر حلل و اندرون قہر خدائے عزوجل  
 اگر کسی کافر بادشاہ کی قبر پر سنگ مرمر لگا دیا جائے اور دنیا بھر کے سلاطین اگر وہاں پھولوں کی چادریں چڑھادیں اور بیٹھا باجے بیچ جائیں اور فوج کی سلامی ہو لیکن قبر کے اندر جو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہو رہا ہے اس کی تلافی قبر کے اوپر سنگ مرمر نہیں کر سکتے اور اوپر کی روشنیاں اور بجلیاں اور دنیا والوں کے سلوٹ اور سلامتی کچھ مفید نہیں ہیں۔ اس لیے اگر اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں کیا، چاہے ائیر کنڈیشن میں بیٹھے ہوں، بیوی بچے بھی ہوں اور خوب خزانہ ہو ہر وقت ریالوں کی گنتی ہو رہی ہو اور بینک میں بھی کافی پیشہ جمع ہو لیکن یہ ظاہر کا آرام ہے۔ یہ جسم ایک قبر ہے، جسم کے اوپر کا ٹھاٹھاٹ باٹھ دل کے ٹھاٹھاٹ باٹھ کے لیے ضروری نہیں ہے۔ ائیر کنڈیشن ہماری کھالوں کو تو ٹھنڈا کر سکتے ہیں مگر دل کی آگ کو نہیں بجھا سکتے۔ اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہیں تو جسم لاکھ آرام میں ہو لیکن دل عذاب میں مبتلا رہے گا اور چین نہیں پاسکتا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں:

دل گلستاں تھا تو ہر شے سے چکتی تھی بہار  
 دل بیاباں ہو گیا عالم بیاباں ہو گیا  
 اور ایک بزرگ کا عربی شعر ہے۔

لِكُلِّ نَفْسٍ وَاذا فارقتہ عوض  
 ولیس اللہ ان فارقت من عوض  
 یعنی ہر شے جس سے تم جدا ہو گے اس کا بدل مل سکتا ہے مگر اللہ تعالیٰ سے تم کو جدائی ہو گئی تو حق سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی ہمسرا اور بدل نہیں۔

### (۱۲۷) کھانے کا مزاجدا جدا ہے اسی طرح اعمال کا مزاج بھی جدا جدا ہے

میرے دوستو! جس طرح ہر کھانے کا مزاجدا جدا ہے اللہ کی قسم ہر نیک عمل کی لذت جدا جدا ہے۔ مثلاً:  
 آم کھائیے اس کا مزاج کچھ اور ہے۔  
 انار کھائیے اس کا مزاج کچھ اور ہے۔

پہنا کھائے اس کا حزا کچھ اور ہے۔ شربت پیجے اس کا حزا کچھ الگ ہے۔  
 ٹھنڈا پانی پیجے اس کا حزا کچھ الگ ہے۔ مختلف نوع کے مشروبات کہ جن کا حزا الگ الگ ہے۔  
 تو جس طرح کھانے پینے کی مختلف چیزوں کا مختلف اور الگ الگ حزا ہے اسی طرح دین کے مختلف شعبوں کے مختلف اعمال کا حزا بھی جدا جدا ہے:

- پر خلوص نماز پڑھے حزا کچھ اور ہے۔
- روزہ رکھے حزا کچھ اور ہے۔
- ایمان میں پیشگی یقین کا حزا کچھ اور ہے۔
- ذکر اللہ کا حزا کچھ اور ہے۔
- چلہ دینے کا حزا کچھ اور ہے۔
- معاملات میں جھوٹ، دھوکہ وغیرہ سے بچنے کا حزا کچھ اور ہے۔
- ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حزا کچھ اور ہے۔
- اولاد کے مابین برابری کرنے کا حزا کچھ اور ہے۔
- انعامات پر شکر کا حزا کچھ اور ہے۔
- فرائض و سنن کی پابندی کا حزا کچھ اور ہے۔
- برائی کا بدلہ بھلائی سے دینے کا حزا کچھ اور ہے۔
- خاتم کا بدلہ خود درگزر سے دینے کا حزا کچھ اور ہے۔
- قیاموں کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرنے کا حزا کچھ اور ہے۔
- بیوہ عورتوں کی فریاد رسی کرنے کا حزا کچھ اور ہے۔
- غیر محرم سے آنکھ بند کرنے کا حزا کچھ اور ہے۔
- سجدہ و جمعاعت میں بیٹھنے کا حزا کچھ اور ہے۔
- کسی مسلمان کی حاجت کے لیے چلنے کا حزا کچھ اور ہے۔
- دوسرے کی خاطر قربانی دینے کا حزا کچھ اور ہے۔

یہی وجہ ہے کہ اللہ والے تلاوت قرآن کے دوران ایک ایک آیت پڑھنے پر حزا محسوس کرتے ہیں جیسے آئس کریم کھانے والا ہر چمچ پر حزا محسوس کرتا ہے۔

تین چلہ پیدل جماعت میں جانے کا حزا کچھ اور ہے۔  
 ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَإِذَا قُلِّبْتُمْ عَلَيْكُمْ فَايْتُوا﴾ (سورہ انفال: ۲)

ترجمہ: ”جب اس کی آیات پڑھی جاتی ہیں ان کا ایمان اور زیادہ ہو جاتا ہے۔“

### (۱۲۸) ہمیں تلاوت قرآن کا لطف کیوں نہیں آتا؟

جب اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے، اللہ والوں کو لطف آتا ہے، ہمیں لطف کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ ہم نے اندر کی مایہ پر محنت نہیں کی ہے۔ آج نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور خیالوں میں بازار میں پھر رہے ہوتے ہیں، تلاوت کر رہے ہوتے ہیں دل و دماغ کسی اور کے خیالات میں لگا ہوا ہوتا ہے، ایسے وقت میں عبادت کی لذت کیسے نصیب ہو سکتی ہے۔

### (۱۲۹) عجیب عبادتیں

آج ہماری عبادت کی حالت عجیب ہے۔ ایسے مواقع آئے کہ امام کو نماز کی رکعتوں میں سو ہوا، بعد میں مقتدیوں سے پوچھا کتنی



رکعات پڑھیں، بھری مسجد میں کوئی بتانے والا نہیں تھی رکعت پڑھیں..... سب غیر حاضر۔ اللہ اکبر۔ یہ نمازوں کی حالت ہے، یہ عبادت کی کیفیت ہے۔ کسی عارف نے کیا پیاری بات کہی، فرماتے ہیں۔

بہ زمین چوں سجدہ کر دم از زمین ندا بر آمد کہ مرا خراب کردی تو بسجدہ ریائی  
جب میں نے زمین پر سجدہ کیا تو زمین سے ندا آئی، اور پاپا کے سجدہ کرنے والے تو نے مجھے بھی خراب کر دیا۔  
میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں  
جب دل صنم خانہ بن چکا ہو بت خانہ بن چکا ہو تو پھر سجدے کی لذت نہیں آیا کرتی۔

وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب  
جن پہ سجدے چلتے تھے وہ پیشانیوں کہاں گئیں۔ جو اللہ کے ڈر سے کانپتے تھے وہ دل کہاں گئے؟ آج زندگی مختلف ہو گئی۔  
تیری محفل بھی گئی چاہنے والے بھی گئے شب کی آہیں بھی گئیں صبح کے نالے بھی گئے  
آئے عشاق گئے وعدہ فر دالے کر اب انہیں ڈھونڈ چرائی رخ زیبالے کر

نہ تلقین غزالی نظر آتی ہے نہ بیچ و تاب رازی نظر آتا ہے کیا وجہ ہے؟ محنت کا رخ جدا ہو گیا۔ اصلی مایہ پر محنت کرنے کی بجائے آج ہم نے نقلی مایہ پر محنت کرنا شروع کر دی ہے۔ اصلی مایہ کو بھلا بیٹھے، جب ہم نے اصلی مایہ کو بھلا دیا تو ہم دنیا کے اندر ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔

بہ زمین چوں سجدہ کر دم از زمین ندا بر آمد غیروں کی کہانی یاد رہی ہم اپنا فسانہ بھول گئے  
منہ دیکھ لیا آئینے میں پر دارغ نہ دیکھے سینے میں جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلاں بھول گئے  
کعبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور جس ضرب سے دل بدل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے  
کہاں گئے وہ نو جوان جو رات کے آخری پہر میں اٹھ کر لا اِلهَ اِلَّا اللهُ کی ضربیں لگایا کرتے تھے۔ ان کے سینوں میں دل کانپتے تھے  
جن کے معصوم ہاتھ اٹھتے تھے تو دنیا میں ایسے انقلاب آجاتے تھے جو انٹیم بھوں سے بھی نہیں برپا ہوتے۔ رات کو اٹھ کر رونے کی لذت  
سے آج ہم نا آشنا ہیں۔ تہجد کا وقت تو قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔

### (۱۳۰) مناجات

یا الہی روز و شب توفیق احساں دے مجھے خوف اپنا ظاہر و باطن میں یکساں دے مجھے  
حسب سنت یا الہی عشق قرآن دے مجھے نعمت دارین یعنی نور ایمان دے مجھے  
میں نہیں کہتا کہ تو تخت سلیمان دے مجھے اپنی الفت دے مجھے بس عزم و ایجاں دے مجھے  
نادم آخر رہوں اسلام پر ثابت قدم استقامت پہنکی ہر لمحہ ہر آن دے مجھے  
عزم دے ایسا پہاڑوں سے بھی جاگراؤں میں توت حیدر دے مجھ کو جذب سلیمان دے مجھے  
مشعل راہ ہدایت اسوۂ فاروق ہو عشق نبیؐ جذبہ صدیق و عثمانؓ دے مجھے  
راہ خدمت میں عی مر مٹنے کی ہے بس آرزو اے مرے اللہ تو اسباب و سامان دے مجھے  
تجھ کو پا کر اے خدا پاؤں حیات جاوداں جو خزاں نا آشنا ہو وہ گلستاں دے مجھے  
بحر خلقت میں بنے میرے لیے جو خضر راہ غیب سے کوئی مرد مسلاں دے مجھے

قلب دے ایسا جو تیری یاد میں پھل جائے  
 کر مجھے یا رب غنائے ظاہر و باطن عطا  
 اہل بدت اور بدکاروں کی صحبت سے بچا  
 کام میرا زندگی بھر خدمت قرآن ہو

راز و احقر کو عطا کر اے خدا اپنی رضا

استقامت تامم آخر اے رحماں دے مجھے

اللَّهُ غَيْبِي اللَّهُ غَيْبِي  
 اللَّهُ غَيْبِي اللَّهُ غَيْبِي  
 وہ حاضر و ناظر قادر مطلق  
 عالم کی ضیا وہ نور فلک  
 اللَّهُ غَيْبِي اللَّهُ غَيْبِي  
 سب کا مالک سب کا خالق  
 سب سے لائق سب سے فائق  
 اللَّهُ غَيْبِي اللَّهُ غَيْبِي  
 ہاتھ پھریں کس کے آگے  
 لینا دینا اس کے قبضے  
 اللَّهُ غَيْبِي اللَّهُ غَيْبِي  
 اس کو منائیں سب من جائیں  
 پھر کیوں نہ اسی کو اپنائیں  
 اللَّهُ غَيْبِي اللَّهُ غَيْبِي

جب حکم قضا آ جائے گا

سب ٹھٹک پڑا رہ جائے گا

اللَّهُ غَيْبِي اللَّهُ غَيْبِي  
 اللَّهُ غَيْبِي اللَّهُ غَيْبِي  
 وہ ہی مارے وہ ہی جلائے  
 وہ ہی جگائے وہ ہی سلائے  
 اللَّهُ غَيْبِي اللَّهُ غَيْبِي  
 کوئی بھی نہیں اس کا ہم سر  
 سب شاہ و گدا اس کے چاکر

اللَّهُ غَيْبِي اللَّهُ غَيْبِي  
 وہ ہی کھلائے وہ ہی پلائے  
 ہے اس سے بڑا پھر کون دہنی  
 ہو پیر و ولی یا پیغمبر  
 پھر کیوں نہ ہو اس سے حسن ظنی

اَللّٰهُ غَيْبِيُّ اَللّٰهُ غَيْبِيُّ  
 جس کو چاہے عزت دے دے  
 صورت دے دے بیرت دے دے  
 اَللّٰهُ غَيْبِيُّ اَللّٰهُ غَيْبِيُّ  
 نوح کا بیڑا پار لگایا  
 فخر جہاں سردار بنایا  
 اَللّٰهُ غَيْبِيُّ اَللّٰهُ غَيْبِيُّ  
 تقدیرِ شکستہ اپنی بنی  
 اَللّٰهُ غَيْبِيُّ اَللّٰهُ غَيْبِيُّ  
 اَللّٰهُ غَيْبِيُّ اَللّٰهُ غَيْبِيُّ

دو چار دنوں کا ڈیرا ہے  
 انسان کو طمع نے گھیرا ہے  
 یہ زندگی آنی جانی ہے  
 بے کار کی آنا کافی ہے  
 اس دنیا میں جو آئے گا  
 یہ جھگڑا کام نہ آئے گا  
 تاروں گیا دولت نہ مہنی  
 انسان کی مگر خصلت نہ مہنی  
 زر زور زمیں، زن زیور سب  
 دنیا کے ہر ایک جھگڑے کا سبب  
 جب روح جدا ہوگی تن سے  
 پھر کیوں یہ تپیا ہے من سے  
 دولت کا شوق ہے حرص آگیاں  
 اتنا نہ مگر بڑھ جائے کہیں  
 عدم سے بشر آئے گا ایک دن  
 لڑکپن کے دن ہوں گے شاہی کے دن

خوشی ان دنوں نور برسائے گی  
 مگر یہ گھڑی بھی گزر جائے گی

پھر آئے گا مدہوش کرنے شباب  
 کبھی جوش مستی کبھی نوش خراب  
 رہے گا خیال شراب و کباب  
 نہ فکر ثواب و نہ خوف عذاب

گھٹا دل پہ پندار کی چھائے کی  
 مگر یہ گھڑی بھی گزر جائے گی  
 سپاہی جواں مرد کھلائے گا لڑائی میں زخم گراں کھائے گا  
 فحش آئے گا سیروں لہو جائے گا کراہے گا تڑپے گا چلائے گا  
 فضا بوند پانی کو ترسائے گی  
 مگر یہ گھڑی بھی گزر جائے گی  
 بشر ہوگا عالم میں ذی احتشام بڑھے گی لیاقت سے شہرت تمام  
 رہے گی نہ شہرت بھی اس کی مدام کہ شہرت کو بھی یاں نہیں ہے قیام  
 یہ شہرت نیا رنگ چکائے گی  
 مگر یہ گھڑی بھی گزر جائے گی  
 زمانہ کرے گا جواں کو ادھیڑ توانائی کا ہوگا پڑمردہ بیڑ  
 لگائے گا اسپ جوانی کو ایز فقاہت کرے گی تو اوس سے چھیڑ  
 طبیعت اس آفت سے گھبرائے گی  
 مگر یہ گھڑی بھی گزر جائے گی  
 بڑھاپے سے ہوگا بڑا انقلاب نہ ہوگی دلیری نہ ہو گا شباب  
 ضعیفی کرے گی کل اعضا خراب یہاں تک کہ بیٹا بھی ہو گا عذاب  
 اجل چیل سی سر پہ منڈ لائے گی  
 مگر یہ گھڑی بھی گزر جائے گی  
 مرض موت کا جب اٹھائے گا سر دوا کر کے ہاریں گے کل چارہ گر  
 گبڑ جائے گا کھیل سب سرسبر بن آئے گی پیار کی جان پر  
 بڑی سختیاں نزع دکھلائے گی  
 مگر یہ گھڑی بھی گزر جائے گی

### (۱۳۱) صحت کا فارمولہ

جہاں تک کام چلا ہو غذا سے  
 وہاں تک چاہے بیٹا دوا سے  
 اگر تھ کو لگے جاڑے میں سردی تو استعمال کر اٹھے کی زردی  
 جو ہو محسوس معدے میں گرانی تو پی لے سونف یا ادراک کا پانی  
 بے مگر خون کم، بلغم زیادہ تو کھا گاجر، چنے، شلغم زیادہ  
 جگر کے ٹل پہ ہے انسان بیٹا اگر ضعف جگر ہے کھا پیٹا

جگر میں ہو اگر گرمی وہی کہا  
تو فوراً دودھ گرم پی لے  
زیادہ گرمی دماغی ہے ترا کام  
اگر ہو قلب پر گرمی کا احساس  
جو دکھتا ہو گلا نزلے کے مارے  
اگر ہے درد سے دانتوں کے بیکل

جو بڑھنسی میں چاہے تو افاقہ  
تو دو ایک وقت کا کر لے تو فاقہ

### (۱۳۲) حمد باری تعالیٰ

تیری ذات پاک ہے اے خدا  
نہیں کوئی تجھ سا بھی دوسرا  
تو خدا غریب و امیر کا  
تو ہے ساری دنیا کا آسرا  
جسے چاہے تو وہ جلیل ہو  
کرے کون تجھ سے مقابلہ  
تیری شان جل جلالہ  
تو سمجھوں کی بھرتا ہے جمولیاں  
ہے مجھے بھی تیرا ہی آسرا  
جسے چاہے زندہ اٹھائے تو

تیرے ہاتھ میں ہے فنا بقا  
تیری شان جل جلالہ

### (۱۳۳) مناجات

اے خالق ارض سا  
تو ابتداء تو انتہا  
سب کا تو ہی حاجت روا  
کرتے ہیں تجھ سے التجا  
جو راہ سیدھی ہو دکھا  
کر علم کی دولت عطا  
رکھ ہر برائی سے پرے

اے مالک روز جزا  
کوئی نہیں تیرے سوا  
مشکل میں تو مشکل کشا  
سن لے ہماری بھی دعا  
رستے صحیح ہم کو چلا  
عزت عطا شہرت عطا  
جب ہے بھلائی میں بھلا

لے کام بھی ہم سے وہی جس میں ہو بس تیری رضا  
 کر سرخ رو دنیا میں بھی عقبنی کے بھی قابل بنا  
 ہر اک کا بیڑا پار کر  
 سب کو ٹھکانے سے لگا

### (۱۳۴) ہر قسم کی بیماری، مصیبت، تجارتی قرض، دشمنوں سے حفاظت کا نسخہ

ہر قسم کی بیماری، مصیبت، تجارتی قرض، دشمنوں سے بچاؤ اور حفاظت میں اللہ تعالیٰ کے چاہنے سے یہ دعا پڑھی جائے تو کبھی کبھی تو شام تک نتیجہ سامنے آ جاتا ہے اور کبھی اللہ کے چاہنے سے تھوڑا انتظار کرنا پڑ سکتا ہے لیکن تاثیر الحمد للہ اپنے وقت پر اثر دکھا کر رہتی ہے۔ دعا کے وقت صرف عربی متن ہی پڑھیں۔ ترجمہ اس لیے لکھا گیا ہے کہ پڑھنے والا یہ سمجھ سکے کہ کیا کچھ پڑھ رہا ہے۔

### (۱۳۵) سولہ (16) آیات حفاظت

﴿ اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ۝ ﴾

﴿ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ ﴾

① ﴿وَكَلَّا يَبْذُوكَ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ۝﴾ (سورہ بقرہ: ۲۵۵)

ترجمہ: ”اور ان سب کی حفاظت کرنے میں کبھی ٹھکانا نہیں، وہ بہت عالی شان اور عظیم الشان ہے۔“

② ﴿فَاِنَّ لِلّٰهِ عِيْدًا حَقِيْبًا ۝ وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّحِيْمِيْنَ ۝﴾ (سورہ یوسف: ۶۴)

ترجمہ: ”بہتر حفاظت کرنے والا تو بس اللہ ہی ہے اور وہی سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔“

③ ﴿وَ حِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ مَّارٍ ۝﴾ (سورہ صافات: ۷)

ترجمہ: ”اور آسمان کو ہم نے ہر مردود شیطان کے شر سے محفوظ کر دیا۔“

④ ﴿وَ حِفْظًا ذٰلِكَ تَلْدِيْزُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ۝﴾ (سورہ حم اسجد: ۱۴)

ترجمہ: ”اور کھل حفاظت ہے۔ یہ اعزاز ہائیکر ہوا ہے غالب علم والے کا۔“

⑤ ﴿وَ حِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ الرَّجِيْمِ ۝﴾ (سورہ حجر: ۱۷)

ترجمہ: ”اور آسمان کی حفاظت کے لیے ہم نے ہر شیطان مردود پرانگاروں کا پتھراؤ جاری کر دیا۔“

⑥ ﴿اِنَّ كُلَّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ۝﴾ (سورہ طارق: ۳)

ترجمہ: ”ایسی کوئی بھی جان نہیں ہے کہ اس پر محافظ مقرر نہ ہو۔“

⑦ ﴿بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌ ۝ فِیْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ ۝﴾ (سورہ برون: ۲۲-۲۱)

ترجمہ: ”بلکہ یہ تو وہ قرآن ہے جو بڑی شان والا ہے جیسا لوح محفوظ میں تھا وہی یہاں آیا ہے۔“

⑧ ﴿وَهٰی رَسُوْلٌ عَلَیْكُمْ حَفِظُوْهُ ۝﴾ (سورہ انعام: ۶۱)

ترجمہ: ”اور اللہ تم پر حفاظت کرنے والے پہریدار بھیجتا ہے۔“

⑨ ﴿اِنَّ رَبِّيْ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ حَافِظٌ ۝﴾ (سورہ زمر: ۵۷)

ترجمہ: ”بے شک میرا رب ہر چیز پر خود ہی تمہیں اور حفاظت فرمانے والا ہے۔“

﴿لَهُ مَعِيبَاتٌ مِّنْ دُونِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ﴾ (سورہ مد: ۱۱)

ترجمہ: ”اللہ نے ہر شخص کے آگے پیچھے لگے ہوئے چوکیدار مقرر کر دیئے ہیں جو اللہ کے حکم سے آدمی کی حفاظت کرتے ہیں۔“

﴿إِنَّا نَحْنُ نُحَفَظُوكَ وَالَّذِي كُرَّ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ (سورہ حجر: ۹)

ترجمہ: ”بے شک اس نصیحت نامہ کو ہم نے نازل فرمایا ہے اور یقیناً ہم اس کی حفاظت کریں گے۔“

﴿وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ﴾ (سورہ انبیاء: ۸۲)

ترجمہ: ”اور ان سب کے لیے حفاظت کرنے والے ہم تھے۔“

﴿وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَافِظٌ﴾ (سورہ سبأ: ۲۱)

ترجمہ: ”اور آپ کا رب ہر چیز کا نگران ہے۔“

﴿اللَّهُ حَافِظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ﴾ (سورہ شوریٰ: ۲)

ترجمہ: ”ان کی حفاظت صرف اللہ کرتا ہے ان کی نگرانی کرنا آپ کی ذمہ داری نہیں۔“

﴿وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَافِظٌ﴾ (سورہ فتح: ۴)

ترجمہ: ”ہمارے پاس حفاظت کا دستور لکھا ہوا موجود ہے۔“

﴿وَإِنَّا عَلَيْهِمْ لَحَافِظِينَ﴾ (سورہ انفطار: ۱۰)

ترجمہ: ”اور بے شک تم پر حفاظت کرنے والے فرشتے مقرر ہیں۔“

### ﴿۱۳۶﴾ مرض سے شفا یابی کی دعا

ایسا مرض جس سے طیب بھی عاجز آچکے ہوں تو اس کے لیے بڑی آسان ترکیب ہے اول و آخر 17.17 مرتبہ آیہ الکرسی (کل 85 مرتبہ) پانی پر دم کر کے مریض یا مریضہ کو پلائیں۔ ان شاء اللہ بحکم ربی جلد یادیرافاقہ ہوگا۔

### ﴿۱۳۷﴾ گھر والوں میں اتفاق پیدا کرنے کا نسخہ

اگر آپس میں گھر والوں میں نا اتفاق ہو تو بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ سات مرتبہ پڑھ کر کھانے پر دم کر کے سب کھا لیا کریں تو انشاء اللہ تعالیٰ آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی۔

### ﴿۱۳۸﴾ ممکن نہیں

- ① جیسی محبت میں بیٹھے ویسا نہ بنے۔
- ② ہر کام میں جلدی کرے اور نقصان نہ اٹھائے۔
- ③ ہمت اور استقلال کو شعار بنائے اور مراد کو پہنچے۔
- ④ عورتوں کی محبت میں بیٹھے اور رسوا نہ ہو۔
- ⑤ دوسروں کے جھگڑوں میں پڑتا پھرے اور آفت میں نہ پھنسے۔
- ⑥ دنیا سے دل لگائے اور پشیمان نہ ہو۔
- ⑦ زیادہ باتیں کرے اور کوفت نہ اٹھائے۔

(۱۳۹) بھروسہ نہیں

- ① ابر کے سایہ کا۔  
 ② خوشامدی کی تعریف کا۔  
 ③ جواری کی مالداری کا۔  
 ④ تندرستی اور زندگی کا۔  
 ⑤ غیر عورت کی محبت کا۔  
 ⑥ غرض مند کی دوستی کا۔  
 ⑦ کھانے پینے کے یاروں کا۔

(۱۴۰) مت کھا

- ① زیادہ۔  
 ② بغیر خوب بھوک کے۔  
 ③ ہر کسی کے سامنے۔  
 ④ بات بات پر قسم۔  
 ⑤ بازار میں کھڑے ہو کر۔  
 ⑥ بخیل کے یہاں دعوت۔  
 ⑦ حرام مال۔

(۱۴۱) آتی ہے

- ① محبت و دیانت اور کفایت شعاری سے دولت۔  
 ② فضول خرچی سے مفلسی۔  
 ③ غیبت کرنے اور سننے سے بیماری۔  
 ④ پیغمبر، بیوہ اور وقف کا مال ناحق کھانے سے بربادی۔  
 ⑤ بے ادبی کرنے سے بد نصیبی۔  
 ⑥ بڑوں کی محبت میں بیٹھنے سے عمل۔  
 ⑦ مصیبت و تکلیف میں مہر کرنے اور شکوہ نہ کرنے سے راحت۔

(۱۴۲) کھست کھالے

- ① علم و ہنر کے اظہار میں استاد سے۔  
 ② ادب کی آواز سے بولنے میں گدھے سے۔  
 ③ کھانے پینے میں ساتھی سے۔  
 ④ لڑائی میں بیوی سے۔  
 ⑤ زبان چلانے میں عورت سے۔  
 ⑥ بحث کرنے میں جاہل سے۔  
 ⑦ مال خرچ کرنے میں سچی خور سے۔

(۱۴۳) قبول کر لے

- ① بھائی کا عذر چاہے دل نہ مانے۔  
 ② دوست کا ہدیہ چاہے حقیر ہو۔  
 ③ غریب کی دعوت چاہے تکلیف ہو۔  
 ④ بیوی کی محبت چاہے بد صورت ہو۔  
 ⑤ نصیحت کی بات چاہے کڑوی ہو۔  
 ⑥ اپنی غلطی چاہے ذلت ہو۔  
 ⑦ ماں باپ کا حکم چاہے ناگوار ہو۔

(۱۴۴) نیکی اور شرافت

- ① اہل و عیال والے مفلس کی خفیہ مدد کرنا۔  
 ② برائی پانے کے باوجود رشتہ داروں کے ساتھ احسان و سلوک کرتے رہنا۔  
 ③ مخفی قرض اور حق کو ادا کر دینا۔



- ④ جہاں کوئی نہ کہہ سکے اور ضرورت ہو وہاں حق بات کہہ دینا۔ ⑤ کمزور اور مظلوم کی حمایت کرنا۔  
⑥ قابو پا کر محاف کر دینا۔

### (۱۳۵) شکایت مت کر

- ① اپنی قسمت کی اور زمانہ کی۔  
② اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی۔  
③ غیر کے سامنے اپنے دوست کی۔  
④ رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی۔  
⑤ اپنے ذاتی مکان کی تنگی کی۔  
⑥ کبھی بھول کر بھی ماں، باپ اور استاد کی۔  
⑦ بیوی کے سامنے اس کے میکے والوں کی۔

### (۱۳۶) منتظر رہے

- ① زیادہ کھانے والا بیماری کا۔  
② چغل خوری کرنے والا زلت و خواری کا۔  
③ ماں باپ کا نافرمان اپنی اولاد کی نافرمانی اور مفلسی کا۔  
④ پڑوسی کو تکلیف پہنچانے والا خدا کے قہر و عذاب کا۔  
⑤ اوباش یاروں والا بربادی کا۔  
⑥ خسرو ساس سے برابر تباؤ کرنے والا اپنے داماد کا۔  
⑦ ظلم کرنے والا اپنی ہلاکت کا۔

### (۱۳۷) بہتر ہے

- ① بدکار اور برے آدمی کی صحبت سے سانپ کی صحبت۔  
② بے غیرتی کی زندگی سے عزت کی موت۔  
③ چھپھورے آدمی کی مدد اور ہدیہ سے قاتل۔  
④ خوف و ذلت کے حلوے سے آزادی کی خشک روٹی۔  
⑤ جھگڑا سول لینے سے غم کھانا۔  
⑥ بے موقع بولنے کی عادت سے گونگا ہو جانا۔  
⑦ حرام مال کی مالداری سے مفلسی۔

### (۱۳۸) دور بھاگ

- ① تہمت کی جگہ سے۔  
② جھگڑے اور مقدمہ بازی سے۔  
③ غیبت کے کرنے اور سننے سے۔  
④ نش ناولوں اور رسالوں سے۔  
⑤ تہمت کی جگہ سے۔  
⑥ نش ناولوں اور رسالوں سے۔  
⑦ بری صحبت سے۔

### (۱۳۹) آزما یا جاتا ہے

- ① بہادر مقابلے کے وقت۔  
② امانت دار مفلسی کے وقت۔  
③ دوست ضرورت کے وقت۔  
④ مرد بار غصہ کے وقت۔  
⑤ مستقل مزاج مصیبت کے وقت۔  
⑥ عورت کی محبت کو قاتل کے وقت۔  
⑦ شریف معاملہ ٹوٹنے کے وقت۔

### (۱۵۰) ظاہر مت کر

- ① کسی کا عیب۔ ② دل کا بھید۔ ③ سز کرنے کی سمت۔ ④ اپنی تجارت کا فائدہ اور نقصان۔  
⑤ امانت کی بات۔ ⑥ پوری طاقت۔ ⑦ زیادہ ضرورت۔

### (۱۵۱) آٹھ آدمیوں پر تعجب ہے!

- ① تعجب ہے اس شخص پر جو موت کو جانتا ہو اور پھر بھی نہسے۔  
② تعجب ہے اس شخص پر جو یہ جانتا ہو کہ یہ دنیا آخر ایک دن ختم ہونے والی ہے پھر بھی اس میں رغبت کرے۔  
③ تعجب ہے اس شخص پر جو یہ جانتا ہو کہ ہر چیز مقدر سے ہے پھر بھی کسی چیز کے جاتے رہنے پر افسوس کرے۔  
④ تعجب ہے اس شخص پر جس کو آخرت میں حساب کا یقین ہو پھر بھی مال جمع کرے۔  
⑤ تعجب ہے اس شخص پر جس کو جہنم کی آگ کا علم ہو پھر بھی گناہ کرے۔  
⑥ تعجب ہے اس شخص پر جو اللہ کو جانتا ہو پھر بھی کسی اور کا ذکر کرے۔  
⑦ تعجب ہے اس شخص پر جس کو جنت کی خبر ہو پھر بھی کسی چیز میں راحت پائے۔  
⑧ تعجب ہے اس شخص پر جو شیطان کو دشمن سمجھے پھر بھی اسی کی اطاعت کرے۔

### (۱۵۲) کھانے کی کچھ سنتیں

- ① دسترخوان بچھانا۔ ② دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا۔  
③ کلی کرنا ضروری نہیں لیکن اگر کوئی منہ کی صفائی کے لیے کرنا چاہے تو منع نہیں ہے البتہ حالت جنابت میں کلی کے بغیر کھانا مکروہ ہے۔  
④ بلند آواز سے بسم اللہ پڑھنا۔ ⑤ داہنے ہاتھ سے کھانا۔  
⑥ کھانے کی مجلس میں جو شخص سب سے زیادہ بزرگ اور بڑا ہو اس سے کھانا شروع کرانا۔  
⑦ کھانا ایک قسم کا ہو تو اپنے سامنے سے کھانا۔ ⑧ اگر کوئی لقمہ گر جائے تو اٹھا کر صاف کر کے کھانا۔  
⑨ ٹیک لگا کر نہ کھانا۔ ⑩ کھانے میں کوئی عیب نہ نکالنا۔  
⑪ جو کچھ کھانا۔  
⑫ کھانے کے وقت اکڑوں بیٹھنا کہ دونوں گھٹنے کھڑے ہوں اور سر زمین پر ہو۔ یا ایک گھٹنا کھڑا ہو اور دوسرے گھٹنے کو بچھا کر اس پر بیٹھے یا دونوں گھٹنے زمین پر بچھا کر قعدہ کی طرح آگے کی طرف ذرا جھک کر بیٹھے۔  
⑬ کھانے کے بعد تین پیالہ دہلیٹ کو اچھی طرح انگلی سے صاف کر لینا، کیونکہ برتن بھی اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے۔  
(مخلوۃ)

⑭ کھانے کے بعد کی دعا پڑھنا:

”الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ“

ترجمہ: ”تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور مسلمان بنایا۔“

- ⑮ پہلے دسترخوان اٹھوانا اور پھر خود اٹھنا۔ ⑯ دونوں ہاتھ دھونا۔ ⑰ کلی کرنا۔

- ۱۵) اگر شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو یوں پڑھے: بِسْمِ اللّٰهِ اَوَّلًا وَاٰخِرًا  
 ۱۶) جب کسی کے یہاں دعوت کھائے تو میزبان کو یہ دعا پڑھے:

### (۱۵۳) افکار عالیہ۔ اللہ کا ذکر ہر حال میں

بِسْمِ اللّٰهِ	جب کوئی بھی کام شروع کرے تو کہے
اِنْ شَاءَ اللّٰهُ	جب کسی کام کے کرنے کا وعدہ کرے تو کہے
سُبْحَانَ اللّٰهِ	جب کسی چیز میں موجود خوبی کی تعریف کرے تو کہے
يَا اللّٰهُ	جب کوئی دکھ تکلیف پیش آئے تو کہے
مَا شَاءَ اللّٰهُ	جب کسی چیز کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھے تو کہے
جَزَاكَ اللّٰهُ	جب کسی کا شکر یہ ادا کرے تو کہے
لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ	جب نیند سے بیدار ہو تو کہے
الْحَمْدُ لِلّٰهِ	جب چھینک آئے تو کہے
بِرَحْمَتِكَ اللّٰهُ	جب کسی دوسرے کو چھینکنا ہو دیکھے تو کہے
اسْتَغْفِرُ اللّٰهُ	جانے انجامے میں کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو کہے
فِي سَبِيلِ اللّٰهِ	جب کسی کو کچھ خیرات کرے تو کہے
فِي اَمَانِ اللّٰهِ	جب کسی کو رخصت کرے تو کہے
تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ	جب کوئی مصیبت یا مشکل درپیش ہو تو کہے
نَعُوذُ بِاللّٰهِ	جب کوئی ناپسندیدہ، نازیبا کلمات سے یا کہے ہوں تو کہے
فَتَبَّرَكَ اللّٰهُ	جب کوئی دل پسند بات کہے یا سنے تو کہے
آمِينَ	جب دعا میں شریک ہو تو کہے
اِنَّ اللّٰهَ وَاَنَا الْيَوْمَ رَاجِعُونَ	جب کسی کی موت کی خبر ملے تو کہے

### (۱۵۴) امت مسلمہ سے قرآن کی شکایت ہے کہ

- ① آپ نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا، اس سے غفلت برتی۔
- ② آپ کے گھر سے بخش گانوں کی آواز تو آتی ہے مگر قرآن کی تلاوت کی نہیں۔
- ③ آپ نے اسے جزا دانوں اور طاقتوں میں سجایا مگر زندگیوں میں نہیں اتارا۔
- ④ آپ کے پاس کیبل ٹی وی اور فلمیں دیکھنے، ریڈیو سننے، ٹیپ ریکارڈ سننے، میوزک سننے، ناول، گندے فلمی رسالوں کے پڑھنے کے لیے وقت ہے لیکن قرآن کی تلاوت پڑھنے کی کتابوں کے مطالعے کے لیے وقت نہیں۔

### (۱۵۵) عجیب قصہ

بادشاہ کی بیوی نے بادشاہ سے کہا تو جہنمی ہے، بادشاہ نے کہا اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے تین طلاق، اب یہ بیوی حلال ہے یا حرام؟

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یا کسی اور فقیہ کے دور کا واقعہ ہے کہ اس وقت کا بادشاہ اپنی بیوی کے ساتھ تھکے میں تھا۔ اس کی بیوی کسی وجہ سے اس سے ناراض تھی، بادشاہ چاہتا کہ محبت و پیار میں وقت گزاریں اور بیوی چلی بیٹھی تھی اور وہ چاہتی تھی کہ اس کی شکل ایک آنکھ بھی نہ دیکھوں۔ ادھر سے ادھر اور ادھر سے انکار۔ جب بہت دیر گزری تو بادشاہ نے محبت میں کچھ اور بات کر دی۔ جب بادشاہ نے بات کر دی تو بیوی نے کہا، جہنمی دفعہ ہو یہاں سے۔ جب بیوی نے اتنی بڑی بات کہہ دی تو بادشاہ کو بھی غصہ آ گیا، چنانچہ کہنے لگا، اچھا اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے بھی تین طلاق۔ اب بادشاہ نے بات تو کہہ دی، مگر وہ دونوں پوری رات متفکر رہے کہ آیا طلاق ہوئی بھی ہے یا نہیں۔

خیر صبح اٹھے تو ان کے دماغ ٹھنڈے ہو چکے تھے۔ چنانچہ فتویٰ لینے کے لیے متفکر ہو گئے۔ کسی مقامی عالم کے پاس پہنچے اور ان کو پوری صورت حال بتائی اور کہا کہ بتائیں کہ طلاق واقع بھی ہوئی یا نہیں کیونکہ مشروط تھی، انہوں نے کہا، میں اس کا فتویٰ نہیں دے سکتا کیونکہ میں نہیں جانتا کہ تم جہنمی ہو یا نہیں۔ کئی اور علماء سے بھی پوچھا گیا مگر ان سب نے کہا کہ ہم اس کا فتویٰ نہیں دے سکتے کیونکہ بات مشروط ہے۔

بادشاہ چاہتا تھا کہ اس قدر خوبصورت اور اچھی بیوی مجھ سے جدا نہ ہو۔ مگر مسئلہ کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اب حلال بھی ہے یا نہیں، چنانچہ بڑا مسئلہ بنا۔ بلکہ بادشاہ کا مسئلہ تو اور زیادہ پھیلتا ہے۔ بالآخر ایک فقیہ کو بلایا گیا اور ان سے عرض کیا گیا کہ آپ بتائیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں جواب تو دوں گا مگر اس کے لیے مجھے بادشاہ سے تنہائی میں کچھ پوچھنا پڑے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ پوچھیں۔ چنانچہ انہوں نے بادشاہ سے علیحدگی میں پوچھا کہ کیا آپ کی زندگی میں کبھی کوئی ایسا موقع آیا ہے کہ آپ اس وقت گناہ کرنے پر قادر ہوں مگر آپ نے اللہ کے خوف سے وہ کبیرہ گناہ چھوڑ دیا ہو۔

بادشاہ سوچنے لگا، کچھ دیر کے بعد اس نے کہا، ہاں! ایک مرتبہ ایسا واقعہ پیش آیا تھا۔ پوچھا، وہ کیسے؟ وہ کہنے لگا، ایک مرتبہ جب میں آ رام کے لے، دوپہر کے وقت اپنے کمرے میں گیا تو میں نے دیکھا کہ محل میں کام کرنے والی لڑکیوں میں سے ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی میرے کمرے میں کچھ چیزیں سنوار رہی تھی۔ جب میں کمرے میں داخل ہوا تو میں نے اس لڑکی کو کمرے میں اکیلے پایا۔ اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر میرا خیال برائی کی طرف چلا گیا، چنانچہ میں نے دروازے کی کنڈی لگا دی اور اس کی طرف آگے بڑھا۔ وہ لڑکی ایک نیک عقیفہ اور پاکدامن تھی۔ اس نے جیسے ہی دیکھا کہ بادشاہ نے کنڈی لگالی ہے اور میری طرف خاص نظر کے ساتھ قدم اٹھا رہا ہے تو وہ فوراً گھبرا گئی، جب میں اس کے قریب پہنچا تو وہ کہنے لگی يَا مَلِكُ اتَّقِ اللّٰهَ اے بادشاہ! اللہ سے ڈرو۔ جب اس نے یہ الفاظ کہے تو اللہ کا نام سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور اللہ کا جلال میرے اوپر غالب آ گیا۔ چنانچہ میں نے اس لڑکی سے کہا، اچھا، چلی جا۔ میں نے دروازہ کھولا اور اسے کمرے سے بھیج دیا۔ اگر میں گناہ کرنا چاہتا تو اس وقت لڑکی سے گناہ کر سکتا تھا، مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا مگر اللہ کے جلال، عظمت اور خوف کی وجہ سے میں نے اس لڑکی کو بھیج دیا اور گناہ سے باز آیا۔

اس فقیہ نے فرمایا کہ اگر تیرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا تو میں فتویٰ دیتا ہوں کہ تو جتنی ہے اور تیری طلاق واقع نہیں ہوئی ہے۔ اب دوسرے علماء نے کہا، جناب! آپ کیسے فتویٰ دے سکتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا: جناب! میں نے اپنی طرف سے فتویٰ نہیں دیا بلکہ یہ فتویٰ تو قرآن دے رہا ہے۔ وہ حیران ہو گئے کہ قرآن نے فتویٰ کہاں دیا۔ انہوں نے جواب میں قرآن کی آیت پڑھی:

﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَيَكُنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ﴾ (سورہ نزع: ۴۰-۴۱)

ترجمہ: ”جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات میں پڑنے سے بچالیا تو ایسے بندے کا ٹھکانہ جنت ہوگی۔“

پھر انہوں نے بادشاہ کو مخاطب کر کے فرمایا، چونکہ تم نے اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہ کو چھوڑا تھا اس لیے میں لکھ کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمادیں گے۔

اللہ تعالیٰ ہمیں معیت کا یہ استحضار نصیب فرمادیں، ہمیں گناہوں کی لذت سے محفوظ فرمادیں اور بقیہ زندگی گناہوں سے پاک ہو کر گزارنے کی توفیق عطا فرمادیں۔ (آمین ثم آمین)

عشق کی چوٹ تو پڑتی ہے سبھی پر یکساں طرف کے فرق سے آواز بدل جاتی ہے

## (۱۵۶) آسمانی کتابوں میں صرف قرآن اپنی اصلی صورت پر باقی ہے

ایک دینی عالمگیر کو بیرون ملک میں ایسی جگہوں پر بیٹھنے کا موقع ملا جہاں عیسائیوں کا پادری بھی بیٹھا ہوتا تھا، یہودیوں کا ربا بھی ہوتا تھا اور ہندوؤں کا پنڈت بھی ہوتا تھا، گویا مختلف مذاہب کے عالم ہوتے تھے اور ہر ایک کو اپنے اپنے مذہب کے بارے میں بات کرنی ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک عیسائی نے پوچھا کہ آئندہ جب ہماری محفل ہوگی تو ہمیں اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ ان عالم صاحب نے کہا کہ ہر مذہب والے کے پاس جو ”اللہ کا کلام“ ہے اس کی تلاوت کرنی چاہیے اور پڑھ کر سمجھنا بھی چاہیے کہ اس کا خلاصہ کیا ہے۔ اس بات پر سب آمادہ ہو گئے۔

چنانچہ جب اگلی دفعہ پہنچے تو انہوں نے سب سے پہلے ان عالم سے کہا کہ آپ ہی ابتداء کریں۔ اس مولانا نے سورہ فاتحہ پڑھی اور اس کا خلاصہ بھی انہیں سمجھایا کیونکہ یہ فاتحہ الکتاب ہے۔ مولانا کے بعد عیسائی کی باری تھی۔ اس نے بائبل پڑھنی شروع کی، جب اس نے بائبل پڑھی تو مولانا نے اس سے کہا کہ مجھے ایک بات کی وضاحت مطلوب ہے۔ وہ کہنے لگا، کیا وضاحت مطلوب ہے؟ مولانا نے کہا، آپ بائبل کس زبان میں پڑھ رہے ہیں؟ کہنے لگا، انگریزی زبان میں۔ مولانا نے کہا، آپ اللہ کا کلام پڑھیں، اللہ کا کلام انگریزی زبان میں تو نازل نہیں ہوا تھا، چونکہ یہ بات طے ہوئی تھی کہ ہر مذہب والے کے پاس جو اللہ کا کلام ہے وہ پڑھیں گے اس لیے آپ اللہ کا کلام پڑھیں۔ وہ کہنے لگا، جی وہ تو ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس تو فقط اس کا انگلش ترجمہ ہے جو کہ انسانوں کے الفاظ ہیں۔ آگے یہودی بیٹھا تھا وہ کہنے لگا کہ پھر تو ہمارے پاس بھی اللہ کا کلام نہیں ہے۔ مولانا نے پوچھا، کیوں؟ وہ کہنے لگا کہ جس زبان میں ہماری یہ کتاب نازل ہوئی آج وہ زبان بھی دنیا میں کہیں موجود نہیں ہے، اس زبان کو پڑھنے اور سمجھنے والے ہی موجود نہیں تو وہ کتاب کیسے پڑھیں؟

بالآخر سب نے اس بات پر اتفاق کیا کہ پوری دنیا کے ادیان میں سے صرف دین اسلام والے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اللہ رب العزت کا کلام اصل شکل میں آج تک موجود ہے۔ جب مولانا نے انہیں بتایا کہ اس کتاب کے ہمارے ہاں حافظ بھی موجود ہیں تو وہ بڑے حیران ہوئے۔ مولانا نے کہا کہ آپ کی کتاب کے کسی ایک صفحہ کا کوئی حافظ ہو تو مجھے دکھائیں۔ اول تو کتاب ہی محفوظ نہیں اور جو کچھ موجود ہے اس کے ایک صفحہ کا بھی کوئی حافظ نہیں۔ یہ شرف اللہ تعالیٰ نے دین اسلام ہی کو بخشا ہے۔

حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا  
 ٹوٹے جو ستارہ تو زمین پہ نہیں گرتا  
 گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا  
 لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا

## (۱۵۷) ناجائز عشق سے دنیا و آخرت تباہ ہو جاتی ہے..... طامعات کا نور سلب ہو جاتا ہے

بدنگاہی کے معضرات اس قدر ہیں کہ بسا اوقات ان سے دنیا و دین دونوں تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، آج کل اس مرض روحانی میں مبتلا ہونے کے اسباب بہت زیادہ پھلتے جا رہے ہیں، اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ اس کے بعض معضرات اور ان سے بچنے کا علاج مختصر طور پر تحریر

کر دیا جائے، تاکہ اس کے مضرات سے حفاظت کی جاسکے، چنانچہ حسب ذیل امور کا اہتمام کرنے سے نظر کی حفاظت سہولت ہو سکے گی۔  
 ① جس وقت مستورات کا گزر ہو، اہتمام سے نگاہ نیچی رکھنا خواہ کتنا ہی نفس کا تقاضا دیکھنے کا ہو۔

جیسا کہ اس پر عارف ہندی حضرت خواجہ عزیز الحسن صاحب مجدد نے اس طور پر تشبیہ فرمائی ہے:

دین کا دیکھ ہے خطر، اٹھنے نہ پائے ہاں نظر کوئے تہاں میں اگر جائے تو سر جھکائے جا

② اگر نگاہ، اٹھ جائے، کسی پر پڑ جائے تو فوراً نگاہ نیچی کر لینا، خواہ کتنی ہی گرانی ہو خواہ دم نکل جانے کا اندیشہ ہو۔

③ یہ سوچنا کہ نگاہ کی حفاظت نہ کرنے سے دنیا میں لذت کا اندیشہ ہے، طاعات کا نور سلب ہو جاتا ہے، آخرت کی تباہی یقینی ہے۔

④ بدنگاہی پر کم از کم چار رکعت نفل پڑھنے کا اہتمام اور کچھ نہ کچھ حسب گنجائش خیرات اور کثرت سے استغفار کرنے کا معمول بنالینا چاہیے۔

⑤ یہ سوچنا کہ بدنگاہی کی غفلت سے قلب کا ستیا ناس ہو جاتا ہے اور یہ غفلت بہت دیر میں دور ہوتی ہے، حتیٰ کہ جب تک بار بار نگاہ کی حفاظت نہ کی جائے، باوجود تقاضے کے اس وقت تک قلب صاف نہیں ہوتا۔

⑥ یہ سوچنا کہ بدنگاہی سے میلان، میلان سے محبت اور محبت سے عشق پیدا ہو جاتا ہے اور ناجائز عشق سے دنیا و آخرت تباہ ہو جاتی ہے۔

⑦ یہ سوچنا کہ بدنگاہی سے طاعات، ذکر، شغل سے رفتہ رفتہ رنجیت کم ہو جاتی ہے۔ حتیٰ کہ ترک کی نوبت آتی ہے پھر نفرت پیدا ہونے لگتی ہے۔

﴿۱۵۸﴾ میرا دل صاف ہے، میری نظر پاک ہے یہ جملہ کہنا عام طور سے شیطان کا دھوکا ہوتا ہے

”كُفْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ..... الخ“ یہ بہترین امت تھی جو تمام کائنات کے لیے بھلائی پھیلانے اور برائی سے روکنے کے لیے پیدا کی گئی تھی، لیکن وہی امت آج خود ہی جرائم کی عادی ہو رہی ہے۔

تو نہیں ہے اس جہاں میں منہ چھپانے کے لیے تو نمونہ بن کے آیا ہے زمانے کے لیے

تو نہیں ہے وقت غفلت میں گنوانے کے لیے تو ہے دنیا بھر کے سوتوں کو جگانے کے لیے

ارشاد فرمایا کہ بے پردگی کے مفاسد کو اہل فتاویٰ سے پوچھئے۔ ایک عورت نے خط لکھا کہ میری بہن بے پردہ آتی جاتی تھی، میرے شوہر کا دل اس پر آیا، مجھے بھگتن کی طرح ذلیل رکھتا ہے، کوئی تعویذ دیجئے۔ بعض لوگ دل صاف اور نظر پاک یا نظر صاف اور دل پاک کا بہانہ کرتے ہیں، ان سے پوچھتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دل اور ان کی نظر کے بارے میں کیا خیال ہے، کہنے لگے، ارے صاحب کیا کہتا ہے ان کا دل تو پاک اور نظر بھی پاک تھی۔ میں نے کہا پھر حضور ﷺ نے ان کو کیوں حکم دیا کہ ارے علی رضی اللہ عنہ! پہلی اچانک نظر معاف ہے، مگر خبردار دوسری نظر مت ڈالنا۔ پھر میں نے پوچھا کہ کیا آپ لوگوں کی نظر اور آپ لوگوں کا دل حضرت علی رضی اللہ عنہ سے زیادہ صاف اور پاک ہے۔ دیکھئے اگر بجلی کا تارنگا ہوا اور پاور ہاؤس سے اس وقت بجلی نہ آ رہی ہو تو بھی اس کو ٹھنڈ نہیں چھوتے، اور کہتے ہیں کہ ارے بھائی پاور ہاؤس سے بجلی آنے میں دیر تھوڑی لگتی ہے۔ بس یہی حال نظر کا ہے، ابھی پاک ہے مگر اسی نامحرم سے جس سے نظر ابھی پاک ہے ذرا تہائی ہو تو ناپاک ہونے میں ایک سیکنڈ کی بھی دیر نہیں لگتی۔ جنہوں نے اپنے نفس پر بھروسہ کیا عمر بھر کا تقویٰ اور دین ذرا سی دیر میں غارت ہو گیا۔

﴿۱۵۹﴾ انگوٹھی پر تعویذ لکھنا جائز ہے یا نہیں

کرم و محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

بعض سلام عرض ہے کہ مجھے انگوٹھی کے بارے میں کچھ سوالات کرنے ہیں، برائے کرم تسلی بخش جواب مرحمت فرمائیں۔

انگوٹھی پر بعض مرتبہ ذکر اللہ یا حکمت کا کلام یا نایاد دیگر تعویذات مثلاً مقطعات قرآنیہ اور دیگر کلمات یا دعائیں وغیرہ لکھنا اور پہننا

درست ہے؟

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے ایک انگوٹھی چاندی کی بنوائی اور اس پر محمد رسول اللہ نقش کرایا۔ (بخاری، صفحہ ۸۷۳)  
ابو اشج کی ایک روایت بواسطہ انس رضی اللہ عنہ ہے کہ آپ کی انگوٹھی پر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ كُتِبَ۔ (فتح الباری، جلد ۱۰، صفحہ ۳۲۹)  
اس سے معلوم ہوا کہ انگوٹھی کے نگینہ پر ذکر اللہ وغیرہ کندہ کرنا درست ہے۔ چنانچہ حضرت صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین رضی اللہ عنہم سے بھی انگوٹھیوں پر کندہ کرنا منقول ہے۔ دیکھئے:

- ① حضرت حذیفہ و حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہما کی انگوٹھیوں پر بِالْحَمْدِ لِلَّهِ۔
- ② حضرت سروق رضی اللہ عنہ کی انگوٹھی پر بِسْمِ اللَّهِ۔
- ③ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی انگوٹھی پر بِالْعِزَّةِ لِلَّهِ۔
- ④ ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ کی انگوٹھی پر بِاللَّهِ لکھا ہوا تھا۔ (فتح الباری، جلد ۱۰، صفحہ ۳۲۸)
- ⑤ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی انگوٹھی پر بَعْدَ الْعَاقِدِ اللَّهُ لکھا تھا۔ (بخاری، صفحہ ۳۰۲)
- ⑥ حضرت عبداللہ بن عمرو قاسم بن محمد رضی اللہ عنہ کی انگوٹھی پر بَعْدَ الْعَاقِدِ اللَّهُ کندہ تھا۔
- ⑦ ابن سیرین نے کہا کہ انگوٹھیوں پر حَسْبِيَ اللَّهُ کا نقش ہونے میں کوئی حرج نہیں۔ (جمع الوسائل، صفحہ ۱۸۳)
- ⑧ حضور ﷺ کی انگوٹھی پر مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ لکھا تھا۔
- ⑨ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی انگوٹھی پر كَفَى بِالْمَوْتِ وَاعْظًا۔
- ⑩ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی انگوٹھی پر لِتَصْبِرَنَّ أَوْ لِتَنْدَمَنَّ۔
- ⑪ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی انگوٹھی پر بِالْمَلِكِ لِلَّهِ۔
- ⑫ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی انگوٹھی پر قُلِ الْخَيْرُ وَالْأَلَا فَاسْكُتْ۔
- ⑬ حضرت امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ کی انگوٹھی پر مَنْ عَمِلَ بِرَأْيِهِ فَقَدْ نَدِمَ۔
- ⑭ حضرت امام محمد رضی اللہ عنہ کی انگوٹھی پر مَنْ صَبَرَ ظَفَرَ۔
- ⑮ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رضی اللہ عنہ کی انگوٹھی پر مَنْ صَبَرَ ظَفَرَ۔
- ⑯ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رضی اللہ عنہ کی انگوٹھی پر از گروہ اولیاء اشرف علی۔ (اشارہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف)

ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ انگوٹھی پر اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام کندہ کرنا اور پہننا جائز ہے۔ علامہ نووی نے بھی جمہور کا قول جواز کا لکھا ہے۔ حافظ نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ کراہت استنجاہ وغیرہ کی صورت میں بے احتیاطی ہی ہو سکتی ہے۔ ورنہ کوئی کراہت نہیں۔ (جلد ۱۰، صفحہ ۳۲۸) ویسے اس قسم کی انگوٹھیوں کو پانچ خانہ پیشاب سے پہلے اتار لینا چاہیے جیسا کہ حدیث پاک میں آپ ﷺ سے منقول ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعض انگوٹھیوں پر جو تعویذات لکھے ہوتے ہیں جیسا کہ سوال مذکورہ میں آپ نے بتایا (مقطعات قرآنیہ یا اور دیگر کلمات یا دعائیں) تو ان کا پہننا درست ہے ان کو ممنوع قرار دینا مطلقاً درست نہیں نہ اس میں کوئی قباحت ہے، البتہ بے ادبی سے بچانا لازم ہے۔ (شامل کبریٰ، جلد ۲، صفحہ ۱۵۲، ۱۵۳)

پتیل اسٹیل اور لوہے کی انگوٹھی پہن سکتے ہیں کہ نہیں؟

مذکورہ آلات کی انگوٹھیاں پہننا ممنوع ہیں:

حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ عنہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ ایک آدمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اس کے ہاتھ میں پتیل کی انگٹھی تھی، آپ ﷺ نے فرمایا، کیا بات ہے میں تم میں بت کی بو پاتا ہوں۔ چنانچہ اس نے اسے پھینک دیا۔ پھر آیا اور اس کے پاس لوہے کی انگٹھی تھی۔ آپ ﷺ نے فرمایا، کیا بات ہے میں تم پر جنہیوں کا زیور پاتا ہوں۔ چنانچہ اس نے اسے بھی پھینک دیا اور پوچھا کہ یا رسول اللہ ﷺ میں کس چیز کی انگٹھی ہواؤں۔ آپ ﷺ نے فرمایا چاندی کی ہواؤ، سونانہ شامل کرنا۔ (ابوداؤد: صفحہ ۵۸۰)

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سونے کی انگٹھی پہنتے تھے۔ آپ ﷺ نے دیکھا تو کراہت محسوس کی، انہوں نے اتار دی، پھر انہوں نے لوہے کی انگٹھی پہنی، آپ ﷺ نے فرمایا، کیا بات ہے میں تم پر جنہیوں کا زیور پاتا ہوں۔ چنانچہ اس نے اسے بھی پھینک دیا اور پوچھا کہ یا رسول اللہ ﷺ میں کس چیز کی انگٹھی ہواؤں۔ آپ ﷺ نے فرمایا چاندی کی ہواؤ، سونانہ شامل کرنا۔ (ابوداؤد: صفحہ ۵۸۰)

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سونے کی انگٹھی پہنتے تھے۔ آپ ﷺ نے دیکھا تو کراہت محسوس کی، انہوں نے اتار دی۔ پھر انہوں نے لوہے کی انگٹھی پہنی، آپ ﷺ نے فرمایا یہ تو اور زیادہ خبیث ہے۔ چنانچہ انہوں نے اسے بھی اتار دیا اور چاندی کی انگٹھی پہنی تو آپ ﷺ خاموش رہے۔ (عمدة القاری: جلد ۲۲، صفحہ ۳۲)

فائدہ: قاضی خاں نے لکھا ہے کہ چاندی کے علاوہ کوئی انگٹھی پہننا مکروہ ہے۔ اسٹیل اور لوہے کی انگٹھی بھی مکروہ ہے۔ کہ یہ دو زخیوں کا پہناوا ہے۔ (جمع، صفحہ ۱۴۸)

بعض لوگ اسٹیل کی خوشنما انگٹھی پہنتے ہیں۔ درست نہیں۔ چاندی کے علاوہ کی انگٹھی مطلقاً ناجائز ہے۔ علامہ عینی نے لکھا ہے کہ پتیل، لوہا اور صام (سیسہ دھات) سب مطلقاً حرام ہے۔ (جلد ۲۲، صفحہ ۳۷، شامل کبریٰ: جلد ۲، صفحہ ۱۵۱، ۱۵۲)

عقیق، یاقوت وغیرہ پتھروں کی انگٹھیاں بنا کر پہن سکتے ہیں۔

عقیق، یاقوت وغیرہ پتھر انگٹھی میں استعمال ہو سکتے ہیں۔ مناسب یہ ہے کہ حلقہ تو چاندی کا ہو اور گینہ پتھر کا۔

حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا رسول پاک سے نقل کرتی ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا جو عقیق کی انگٹھی بنائے گا وہ ہمیشہ بھلائی پائے گا۔

(جمع الزوائد: جلد ۵، صفحہ ۱۵۷، عن الطبرانی)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ خاندان جعفر سے کوئی آپ ﷺ کے پاس آیا اور کہا، آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں، اے اللہ کے رسول آپ میرے ساتھ کسی کو بھیج دیجئے جو چلے یا جو تار انگٹھی خرید دے۔ آپ ﷺ نے حضرت بلال کو بلایا اور فرمایا، بازار چلے جا، چل خرید لو مگر کالا نہ ہو۔ انگٹھی خرید لو جس کا گینہ عقیق کا ہو۔ (جمع، صفحہ ۱۵۸)

فائدہ: ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ حفاظ نے حدیث مذکورہ کو غیر ثابت مانا ہے۔ جمع الوسائل میں ہے کہ ایک ضعیف روایت میں ہے کہ زرد یاقوت کا گینہ طامون سے روکتا ہے۔ (صفحہ ۱۳۹) ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ آپ ﷺ سے عقیق کی انگٹھی پہننا ثابت ہے۔ (صفحہ ۱۳۹)

شرعہ الاسلام کے حوالہ سے کہ چاندی اور عقیق کا گینہ سنت ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ عقیق کی انگٹھی پہنو، یہ مبارک پتھر ہے اس جیسا کوئی پتھر نہیں۔ مناسب یہ ہے کہ حلقہ تو چاندی کا ہو اور گینہ پتھر کا۔ (جمع الوسائل: صفحہ ۱۳۰)

علامہ عینی نے لکھا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس ایک انگٹھی یاقوت پتھر کی تھی۔ قوت قلب کے لیے جس پر لا الہ الا اللہ الحق الہین لکھا تھا۔ (جلد ۲۲، صفحہ ۳۲)

## (۱۶۰) پاخانہ جاتے وقت تعویذ والی انگٹھی نکال لے

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب بیت الخلاء تشریف لے جاتے تو انگٹھی اتار دیتے تھے۔ (ذیل، جلد ۲، صفحہ ۱۳۸، ۱۳۹)



فائدہ: اگر انگوٹھی میں کچھ لکھا ہو تو بیت الخلاء سے مل سے اتار دے۔ آپ نے پیچم کی انگوٹھی میں چونکہ کلمہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا اس احترام کی وجہ سے آپ نے کچھ اتار دیتے تھے۔ (حاشیہ نسائی: صفحہ ۱۸۹)

### ﴿۱۶۱﴾ چودہ (14) عیوب عام طور پر ماؤں، بہنوں میں پائے جاتے ہیں جن سے بچنا بہت ضروری ہے

① ایک عیب یہ ہے کہ بات کا معقول جواب نہیں دیتیں جس سے پوچھنے والے کو تسلی ہو جائے بہت فضول باتیں ادھر ادھر کی اس میں ملا دیتی ہیں اور اصل بات پھر بھی معلوم نہیں ہوتی۔ ہمیشہ یاد رکھو کہ جو شخص جو کچھ پوچھے اس کا مطلب خوب غور سے سمجھ لو پھر اس کا جواب ضرورت کے موافق دے دو۔

② ایک عیب یہ ہے کہ چاہے کسی چیز کی ضرورت ہو یا نہ ہو لیکن پسند آنے کی دیر ہے ذرا پسند آئی اور لے لی، خواہ قرض ہی ہو جائے لیکن کچھ پرواہ نہیں اور اگر قرض بھی نہ ہوا تب بھی اپنے پیسے کو اس طرح بیکار کھونا کون سی عقل کی بات ہے۔ فضول خرچی گناہ بھی ہے جہاں خرچ کرنا ہوا دل خوب سوچ لو یہاں خرچ کرنے میں کوئی دین کا فائدہ یا دنیا کی ضرورت بھی ہے اگر خوب سوچنے سے ضرورت اور فائدہ معلوم ہو تو خرچ کرو نہیں تو پیسہ مت کھو اور قرض تو جہاں تک ہو سکے ہرگز مت لو چاہے تھوڑی سی تکلیف بھی ہو جائے۔

③ ایک عیب یہ بھی ہے کہ جب کہیں جاتی ہیں خواہ شہر کے شہر میں سفر میں نالتے نالتے بہت دیر کر دیتی ہیں کہ وقت تنگ ہو جاتا ہے اگر سفر میں جانا ہے تو منزل پر دیر میں پہنچیں گی۔ اگر راستہ میں دیر ہو گئی تو جان و مال کا اندیشہ ہے، اگر گرمی کے دن ہوئے تو دھوپ میں خود بھی تپیں گی اور بچوں کو بھی تکلیف ہوگی، اگر برسات سے اول تو برسنے کا ڈر، دوسرے گارے کچھڑ میں گاڑی کا چلنا مشکل اور دیر بھی دیر ہو جاتی ہے اگر سویرے سے چلیں، ہر طرح کی گنجائش رہے اور اگر بستی میں ہی جانا ہوا جب بھی رکشہ کو کھڑے کھڑے پریشانی، پھر دیر میں سوار ہونے سے دیر میں لوٹنا ہوگا، اپنے کاموں میں حرج ہوگا کھانے کے انتظام میں دیر ہوگی کہیں جلدی میں کھانا بگڑ گیا کہیں میاں تقاضا کر رہے ہیں، کہیں بچے رورہے ہیں، اگر جلدی سوار ہو جائیں تو یہ مصیبتیں کیوں ہوتیں۔

بعض عورتوں کو آواز کے پردے کا بالکل اہتمام نہیں ہوتا حالانکہ آواز کا پردہ بھی واجب ہے جیسا، صورت کا پردہ، ضروری ہے لہذا گناہ گار ہوتی ہیں، ہر قسم کے پردے کا نہایت سخت اہتمام کرنا چاہیے۔

④ ایک عیب یہ ہے کہ آپس میں دو عورتیں جو باتیں کرتی ہیں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایک کی بات ختم ہونے نہیں پاتی کہ دوسری شروع کر دیتی ہے بلکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دونوں ایک دم سے بولتی ہیں کہ وہ اپنی کہہ رہی ہے اور یہ اپنی ہانک رہی ہے نہ وہ اس کی سنے، نہ یہ اس کی بھلا ایسی بات کرنے ہی سے کیا فائدہ ہمیشہ یاد رکھو کہ جب ایک کی بات ختم ہو جائے، اس وقت دوسری کو بولنا چاہیے۔

⑤ ایک عیب یہ بھی ہے کہ زیور اور کبھی، وہ پیسہ پیسہ بھی بے احتیاطی سے کبھی تکیہ کے نیچے رکھ دیا کبھی کسی طاق میں کھلا رکھ دیا، کبھی غسل خانے میں رکھ دیا۔ تالا ہوتے ہوئے سستی کے مارے اس میں حفاظت سے نہیں رکھتیں، پھر کوئی چیز جاتی رہی تو سب کا نام لگاتی پھرتی ہیں۔

⑥ ایک عیب یہ ہے کہ ان کو ایک کام کے واسطے بھیجو جا کر دوسرے کام میں لگ جاتی ہیں۔ جب دونوں سے فراغت ہو جائے تب لوثی ہیں، اس میں بیچنے والے کو سخت تکلیف اور الجھن ہوتی ہے کیونکہ اس نے تو ایک کام کا حساب لگا رکھا ہے کہ یہ اتنی دیر کا ہے جب اتنی دیر گزر جاتی ہے پھر اس کو پریشانی شروع ہوتی ہے اور عقل مند یہ کہتی ہے کہ آئے تو ہیں ہی لاؤ دوسرا کام بھی لگے ہاتھ کرتے چلیں۔ ایسا مت کرو اول پہلا کام کر۔ کے اس کی فرمائش پوری کر دو پھر اپنے طور پر اطمینان سے دوسرا کام کر لو۔

⑦ ایک عیب سستی کا ہے کہ ایک وقت کے کام کو دوسرے وقت پر اٹھا رکھتی ہیں اس سے اکثر حرج اور نقصان ہو جاتا ہے۔

⑧ ایک عیب یہ ہے کہ کوئی چیز کھو جائے تو بے تحقیق کسی پر تہمت لگا دیتی ہیں یعنی جس نے بھی کوئی چیز چرائی تھی بے دھڑک کہہ دیا کہ بس جی اسی کا کام ہے حالانکہ یہ کیا ضروری ہے کہ سارے عیب ایک ہی آدمی نے کیے ہوں۔ اسی طرح اور بری باتوں میں ذرا سے شبہ سے ایسا پکا یقین کر کے اچھا خاصا گھڑ مڑھ دیتی ہیں۔

⑨ ایک عیب یہ ہے کہ اپنی خطایا غلطی کا کبھی اقرار نہ کریں گی جہاں تک ہو سکے بات کو بنائیں گی خواہ بن سکے یا نہ بن سکے۔

⑩ ایک عیب یہ ہے کہ کہیں سے تھوڑی چیز ان کے حصہ میں آئے یا ادنیٰ درجہ کی چیز آئے تو اس پر ناک ماریں گی، طعنہ دیں گی کہ گھر گئی ایسی چیز بھیجنے کی کیا ضرورت تھی، بھیجے ہوئے شرم نہ آئی۔ یہ بری بات ہے کہ اس کی اتنی ہی ہمت تھی تمہارا تو اس نے کچھ نہیں بگاڑا اور خاوند کے ساتھ بھی ان کی یہی عادت ہے کہ خوش ہو کر چیز کم لیتی ہیں اس کو رد کر کے عیب نکال کر تب قبول کرتی ہیں۔

⑪ ایک عیب یہ ہے کہ ان سے کسی کام کو کہو اس میں جھک جھک کر لیں گی پھر اس کام کو کریں گی، بھلا جب وہ کام کرنا ہے پھر اس واہیات سے کیا فائدہ نکلا، ناحق دوسرے کا بھی جی برا کیا۔

⑫ ایک عیب یہ ہے کہ آنے کے وقت اور چلنے کے وقت مل کر ضرور روتی ہیں چاہے رونا نہ بھی آئے مگر اس ڈر سے روتی ہیں کہ کوئی یوں نہ کہے کہ اس کو محبت نہیں۔

⑬ ایک عیب یہ ہے کہ اکثر تکیہ میں یا ویسے ہی سوئی رکھ کر اٹھ جاتی ہیں اور کوئی بے خبری میں آ بیٹھتا ہے، اس کے سوئی چبھ جاتی ہے۔

⑭ ایک عیب یہ ہے کہ بچوں کو گرمی سردی سے نہیں بچاتیں، اس سے اکثر بچے بیمار ہو جاتے ہیں پھر تعویذ گندے کراتی پھرتی ہیں، علاج یا آئندہ کو احتیاط پھر بھی نہیں کرتیں۔

### ﴿۱۶۲﴾ وضو کا بچا ہوا پانی اپنے بچے کے چہرے پر پھیرے اور دعا دیجئے

حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے یہ دعا فرمائی، اس چھوٹے سے بندے ابو عامر کو درجہ میں قیامت کے دن اکثر لوگوں سے اوپر کر دینا۔

حضرت حسان بن شداد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میری والدہ نے حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ ﷺ میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوئی ہوں تاکہ آپ میرے اس بیٹے کے لیے دعا کر دیں اور اسے بڑا اچھا بنا دیں۔ آپ ﷺ نے وضو کیا اور وضو کے بچے ہوئے پانی کو میرے چہرے پر پھیرا اور یہ دعا مانگی۔ اے اللہ! اس عورت کے لیے اس کے بیٹے میں برکت عطا فرما اور اسے بڑا اور عمدہ بنا۔ (حیاء الصحاب: جلد ۳ صفحہ ۲۸۳)

### ﴿۱۶۳﴾ شادی گھر بسانے کے لیے کی جاتی ہے گھریلو زندگی زوجین کے اتحاد سے ہی پرسکون بنتی ہے

شادی گھر بسانے کے لیے کی جاتی ہے۔ اگر میاں بیوی ایک دوسرے سے زیادہ توقعات وابستہ کرنے اور ضد پراڑ جانے کے بجائے درگزر اور ایثار کا رویہ اپنائیں تو گھر خوشیوں کا گہوارہ بن سکتا ہے۔

انسان کی بقا کے لیے قانونِ فطرت مسلسل مصروفِ عمل ہے۔ اس کی بنیاد ”محبت“ جیسے پاکیزہ جذبے پر رکھی گئی ہے کہ کسی بھی گھر کو برائیوں سے پاک رکھنے کے لیے محبت جیسے پر خلوص جذبے کی ضرورت ہمیشہ رہے گی۔ دین اسلام میں دلوں کو آپس میں جوڑنے اور باہمی آہنگی پیدا کرنے کے لیے شادی جیسا مقدس بندھن موجود ہے۔ شادی ایک ایسا بندھن فریضہ ہے جس کے سبب ایک صحیح مکمل خاندان، گھر اور معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔

یوں بھی زندگی ایک سفر کے مانند ہے اور میاں بیوی اس سفر کے ایسے ساتھی ہیں جس کا راستہ بھی ایک ہے اور منزل بھی ایک، اگر ان کے درمیان مکمل ڈھنی ہم آہنگی اور جذبہ محبت موجود ہو تو یہ سفر نہایت آرام اور سکون سے کٹ سکتا ہے، ویسے جب دور وصال نکاح جیسے پاک بندھن میں بندھتی ہیں تو پھر ان کی یکجائی خاندان کی اکائی کو جنم دیتی ہے، یہی اکائی آگے جا کر بہتر گھر اور صالح معاشرے کی صورت میں ڈھلتی ہے۔ گویا بہترین گھر اور صالح معاشرے کی تعمیر کے لیے خاندان کی اکائی مضبوطی اور خوبصورتی نہایت ضروری ہے۔ یوں سمجھئے پر سکون گھر اور معاشرہ پر سکون ازدواجی زندگی سے مشروط ہے۔ بظاہر تو کوئی بھی لڑکی نئے گھر کی بنیاد اس لیے نہیں رکھتی کہ اسے آباد نہ کیا جائے، گھر کا ماحول خوشگوار نہ ہو، مگر بعض اوقات حالات موافقت نہیں رکھتے۔ بہت کچھ توقعات کے خلاف ہو جاتا ہے تو زندگی کا سکون درہم برہم ہو جاتا ہے۔ ایسا ہونا درست نہیں، یہ طے ہے کہ مردوں کی بہ نسبت خواتین کو زیادہ قربانیاں اور خدمات پیش کرنی پڑتی ہیں لیکن عورت کی قربانی اور ایثار سے ایک خوبصورت گھر اور معاشرہ تخلیق پاتا ہے تو اس سے بڑھ کر اعزاز کیا ہوگا۔ ذیل میں گھر اور بہترین معاشرے کی تشکیل کے لیے چند باتیں درج کی گئی ہیں۔ جو عام سی ہونے کے باوجود بے حد اہم ہیں اور خوشگوار ازدواجی زندگی کی کنجی ہیں:

① دن بھر تھکا ہارا شوہر جب گھر میں داخل ہو تو اس کا استقبال ایک بھر پور مسکراہٹ اور سلام سے کریں، اس طرح وہ ساری تھکن بھول کر اپنے آپ کو ایک دم تروتازہ محسوس کرے گا۔ کوشش کریں کہ شوہر کی آمد سے قبل گھر کی صفائی اور لباس صاف سترا ہونے کا پھلکا تیار ہوں اور بچوں کو بھی صاف سترا رکھیں۔ اس طرح گھر کے ماحول میں خوشگوار ریڑھی بسی رہے گی۔

② ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں، اگر شوہر کی آمدنی کم ہو تو اس بات کا طعنہ کبھی نہ دیں، بلکہ ایسے مرحلے میں ان کا ساتھ دیں۔ ایسے حالات میں کفایت شعاری سے کام لیں، ناشکری نہ کریں۔ حضور ﷺ نے ایک مرتبہ عورتوں سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا تھا کہ میں نے دوزخ میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا ہے۔ وجہ پوچھنے پر بتایا، شوہروں کی نافرمانی اور ناشکری کی وجہ سے۔

③ اپنے غم کو قابو میں رکھیں، کیونکہ زیادہ تر اختلافات غصہ کی وجہ سے ہوتے ہیں اگر شوہر غصہ میں ہو تو خاموش رہیں۔ کچھ وقت گزر جانے کے بعد انہیں اپنی بات نہایت ہی شیریں لہجہ میں سمجھائیں تاکہ وہ آپ کے موقف اچھی طرح سمجھ سکے، اس طرح بات کبھی نہیں بڑھے گی۔ البتہ شوہر کے دل میں آپ کی اہمیت اور عزت مزید بڑھ جائے گی۔

④ آپ سرالی رشتہ داروں کے متعلق کوئی بات اپنے میکے میں نہ کریں۔ اپنے سر، ساس، نند، بیٹھ اور دیور کی عزت دل سے کریں۔ انہیں اس طرح سمجھیں جیسے میکے میں والدین اور بہن بھائیوں کو سمجھتی تھی، معمولی باتوں کو دل پر نہ لیں بلکہ یہ سوچ کر خود کو ذہنی طور پر مطمئن کریں کہ جب شادی سے پہلے بھی کبھی والدین کسی بات پر ڈانٹ دیتے تھے یا بہن بھائیوں سے کسی بات پر اختلاف ہو جاتا تھا تو ہم ایک دوسرے کو جلدی سے منالیا کرتے تھے۔ میکے کی طرح اگر سسرال میں بھی یہی سوچ اور رویہ رکھیں گی تو یقیناً ذہنی طور پر مطمئن رہیں گی جس سے آپ کی طبیعت اور مزاج پر بھی بہت اثر پڑے گا۔

⑤ کوشش کیجئے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر کہیں باہر نہ نکلیں۔ کیونکہ اس طرح تعلقات میں بھی اعتماد کی فضا قائم ہو جاتی ہے۔ بہتر ہے کہ ایک دوسرے کو ہر بات سے آگاہ رکھا جائے تاکہ رشتے میں مضبوطی اور اعتماد پیدا ہو۔

⑥ ماں، بہن اور بیوی کا احترام کریں، کسی ایک فریق کی بات سن کر دوسرے کو بے عزت کبھی نہ کریں، بلکہ پوری بات جان کر انصاف کریں اور ہر حال میں احتیاط کا دامن تھامے رہیں۔

⑦ بیوی کی خدمات کو سراہیں، اس کے کاموں کی تعریف کریں، ہر وقت تقصیر نہ نکالیں، بلکہ غلطی ہو جانے پر اسے اطمینان سے سمجھائیں کہ پیار سے تو سنگ دل کو بھی نرم کیا جاسکتا ہے۔

- ۱۴ اپنے لہجے کو شیریں بنائیں، آپ کا شیریں لہجہ بیوی کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔
- ۱۵ بیوی پر بلاوجہ تنقید نہ کریں، ہر معاملے میں خود کو اس سے بہتر تصور نہ کریں۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ باتوں کی سمجھا سے آپ سے بہتر ہو۔ اس سے ہر بات شیریں کریں، کیونکہ بیوی آپ کی شریک حیات ہی نہیں اچھی دوست بھی ہوتی ہے۔ آپ کے ہر سکھ دکھ کی ساتھی ہوتی ہے۔ اس لیے اپنی بیوی کی قدر کیجئے اور اسے ہمیشہ عزت کی نگاہ سے دیکھئے، ایک دوسرے سے بہت زیادہ توقعات وابستہ کر لی جائیں تو عمر گزر جاتی ہے توقعات پوری نہیں ہوتیں۔ اس لیے زیادہ نہیں چند ایک چھوٹی چھوٹی باتوں ہی کا خیال رکھ لیا جائے تو چھوٹا سا گھر ہنسی مسکرائی، جیتی جاگتی جنت کا نمونہ بن سکتا ہے۔

### (۱۶۴) خط کی ابتداء ۷۸۶ سے مت کیجئے

- ۱ خط کی ابتداء ہمیشہ ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ سے کیجئے، اختصار کرنا چاہیں تو بسم اللہ تعالیٰ لکھئے۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا جس کام کے شروع میں بسم اللہ نہیں کی جاتی وہ ادھورا اور بے برکت رہتا ہے۔ بعض لوگ الفاظ کے بجائے ۷۸۶ لکھتے ہیں، اس سے پرہیز کیجئے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے تلقین کیے ہوئے الفاظ میں بھی برکت ہے۔
- ۲ اپنا پتہ ہر خط میں ضرور لکھئے۔ یہ سوچ کر پتہ لکھنے میں ہرگز سستی نہ کیجئے کہ آپ مکتوب الیہ کو اپنا پتہ اس سے پہلے لکھ چکے ہیں یا اس کو یاد ہوگا۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ کا پتہ مکتوب الیہ کے پاس محفوظ اور یہ بھی ضروری نہیں کہ مکتوب الیہ کا آپ کا پتہ یاد ہی ہو۔
- ۳ اپنا پتہ دائیں جانب ذرا سا حاشیہ چھوڑ کر لکھئے۔ پتہ ہمیشہ صاف اور خوش خط لکھئے اور پتے کی صحت اور املا کی طرف سے ضرور اطمینان کر لیجئے۔
- ۴ اپنے پتے کے نیچے یا بائیں جانب سرنوشت پر تاریخ ضرور لکھ دیا کیجئے۔
- ۵ تاریخ لکھنے کے بعد مختصر القاب و آداب کے ذریعے مکتوب الیہ کو مخاطب کیجئے۔ القاب و آداب ہمیشہ مختصر اور سادہ لکھئے، جس سے خلوص و قربت محسوس ہو، ایسے القاب سے پرہیز کیجئے جن سے تصنع اور بناوٹ محسوس ہو۔ القاب و آداب کے ساتھ ہی یا القاب کے نیچے دوسری سطر میں سلام مسنون یا السلام علیکم یا سلام مسنون لکھنے کے بجائے آداب و تسلیمات وغیرہ جیسے الفاظ لکھئے۔
- ۶ غیر مسلم کو خط لکھ رہے ہوں تو السلام علیکم یا سلام مسنون لکھنے کے بجائے آداب و تسلیمات وغیرہ جیسے الفاظ لکھئے۔
- ۷ القاب و آداب کے بعد اپنا وہ اصل مطلب و مدعا لکھئے جس غرض سے آپ خط لکھنا چاہتے ہیں۔ مطلب اور مدعا کے بعد مکتوب الیہ سے اپنا تعلق ظاہر کرنے والے الفاظ کے ساتھ اپنا نام لکھ کر خط کو ختم کیجئے۔ مثلاً آپ کا خادم، دعا کا طالب، خیر اندیش، دعا گو، اللہ کی رضا کا طالب وغیرہ وغیرہ۔
- ۸ خط نہایت صاف، سادہ اور خوش خط لکھئے کہ آسانی سے پڑھا اور سمجھا جاسکے اور مکتوب الیہ کے دل میں اس کی وقعت ہو۔
- ۹ خط میں نہایت شستہ، آسان اور سلجھی ہوئی زبان استعمال کیجئے۔
- ۱۰ خط مختصر لکھئے اور ہر بات کھول کر وضاحت سے لکھئے، محض اشاروں سے کام نہ لیجئے۔
- ۱۱ پورے خط میں القاب و آداب سے لے کر خاتمہ تک مکتوب الیہ کے مرتبہ کا لحاظ رکھئے۔
- ۱۲ نیا پیرا گراف شروع کرتے وقت لفظ کی جگہ چھوڑ دیجئے۔
- ۱۳ خط میں ہمیشہ سنجیدہ انداز رکھئے، غیر سنجیدہ باتوں سے پرہیز کیجئے۔
- ۱۴ خط کبھی غصہ میں نہ لکھئے اور نہ کوئی سخت، است بات لکھئے۔ خط ہمیشہ نرم لہجہ میں لکھئے۔

- ۱۵) عام خط میں کوئی راز کی بات نہ لکھئے۔
- ۱۶) جملے کے آخر میں ڈیش (-) ضرور لگائیے۔
- ۱۷) کسی کا مکتوب بغیر اجازت ہرگز نہ پڑھئے۔ یہ زبردست اخلاقی خیانت ہے، البتہ گھر کے بزرگوں اور سرپرستوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ چھوٹوں کے خطوط پڑھ کر ان کی تربیت فرمائیں، اور انہیں مناسب مشورے دیں۔ لڑکیوں کے خطوط پر خصوصی نظر رکھنی چاہیے۔
- ۱۸) رشتہ داروں اور دوستوں کو خیر و عافیت کے خطوط برابر لکھتے رہئے۔
- ۱۹) کوئی بیمار ہو جائے، خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو جائے یا کسی اور مصیبت میں کوئی شخص جائے تو اس کو ہمدردی کا خط ضرور لکھئے۔
- ۲۰) کسی کے یہاں کوئی تقریب ہو، کوئی عزیز آیا ہو، یا خوشی کا کوئی اور موقع ہو تو مبارک باد کا خط ضرور لکھئے۔
- ۲۱) خطوط ہمیشہ نئی یا سیاہ روشنائی سے لکھیں، پنسل یا سرخ روشنائی سے ہرگز نہ لکھئے۔
- ۲۲) کوئی شخص ڈاک میں ڈالنے کے لیے خط دے تو نہایت ذمہ داری کے ساتھ بروقت ضرور ڈال دیا کیجئے، لا پرواہی اور تاخیر ہرگز نہ کیجئے۔
- ۲۳) غیر متعلق لوگوں کو جواب طلب باتوں کے لیے جوابی کارڈ یا کٹ بھیج دیا کیجئے۔
- ۲۴) لکھ کر کاٹنا چاہیں تو بلکہ ہاتھ سے اس پر خط کھینچ دیا کیجئے۔
- ۲۵) خط میں، صرف اپنی دلچسپی اور اپنے ہی مطلب کی باتیں نہ لکھئے۔ بلکہ مخاطب کے جذبات و احساسات اور دلچسپیوں کا بھی خیال رکھئے۔ صرف اپنے ہی متعلقین کی خیر و عافیت نہ بتائیے بلکہ مخاطب کے متعلقین کی خیر و عافیت بھی معلوم کیجئے اور یاد رکھئے: خطوط میں بھی کسی سے زیادہ مطالبے نہ کیجئے، زیادہ مطالبے کرنے سے آدمی کی وقعت نہیں رہتی۔ آج کل موبائل اور فون کی سہولتوں کی وجہ سے خط و کتابت میں کافی کمی آئی ہے ایسا نہ کیجئے بلکہ خط و خطابت کی عادت رکھئے۔

### (۱۶۵) مجنوں کو مجنوں کیوں کہا گیا؟

انسان میں شہوانی محبت جنون کی حد تک پیدا ہو جاتی ہے حتیٰ کہ وہ اس محبت میں پاگل ہو جاتا ہے۔ عرب میں قیس نامی ایک آدمی تھا۔ اس کو کسی خاتون سے تعلق ہو گیا۔ اگرچہ وہ خاتون رات کی طرح کالی تھی اور اس کے ماں باپ نے بھی اس کا نام لیلیٰ رکھ دیا تھا لیکن قیس اس کی محبت میں دیوانہ ہو گیا۔ سیدنا حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی آپس میں صلح ہوئی۔ حدیث پاک میں بھی ان دونوں کے لیے فرمایا گیا۔ فتنین عظیمین۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں خلافت سے دستبرداری کا اعلان کیا۔ اگلے دن سیدنا حسن رضی اللہ عنہ جا رہے تھے کہ راستہ میں ان کو قیس مل گیا۔ اس کو سلام کیا، پھر سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا: قیس! یہ میں نے اچھا کیا ہے ناں کہ میں حکومت انہی کے سپرد کر دی ہے جو اس کے زیادہ اہل تھے۔ قیس خاموش رہا۔ انہوں نے پھر پوچھا۔ قیس! تم جواب کیوں نہیں دیتے؟ قیس کہنے لگا، جی جی بات تو یہ ہے کہ حکومت لیلیٰ کو بجتی ہے۔ یہ سن کر سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا: انت مجنون (تو پاگل ہے) اس وقت سے اس کا نام مجنوں پڑ گیا۔ اس کا یہ نام اتنا مشہور ہوا کہ اس کے اصل نام سے بہت لوگ ناواقف ہیں۔ مجنوں کے والد نے ایک مرتبہ اسے کہا کہ تیری وجہ سے میری بڑی بدنامی ہوتی ہے۔ چل تجھے بیت اللہ شریف لے جاتا ہوں اور وہاں جا کر اس تعلق سے توبہ کرنا ہوں۔ چنانچہ وہ اپنے والد کے ساتھ مقام ابراہیم پر پہنچ گیا۔ وہاں کھڑے ہو کر اس کے والد نے اس سے کہا کہ اب دعا کرو کہ اے اللہ! میں لیلیٰ کی محبت سے توبہ کرنا ہوں۔ اس نے والد کے کہنے پر ہاتھ تو اٹھا لیے مگر دعا کرتے ہوئے کہنے لگا:

إِلهي تبت من كل المعاصي ولكن حب ليلي لا أتوب

ترجمہ: "اے اللہ! میں سب گناہوں سے توبہ کرتا ہوں لیکن لیلیٰ کی محبت سے توبہ نہیں کرتا ہوں۔"

ایک آدمی نے سوچا کہ لیلیٰ کا بڑا نام سنا ہے، ذرا دیکھوں تو سہی کہ وہ حور پری کون سی ہے۔ جس کی مجنوں کے ساتھ اتنی باتیں مشہور ہیں۔ اس نے دیکھا تو وہ عام لوگوں سے بھی گئی گزری تھی۔ لہذا اس نے دیکھتے ہی اس سے کہا: ”ازدگر خوباں تو انزوں نیستی۔“  
 (اے خاتون! کیا بات ہے کہ تو دوسری حسین عورتوں سے بڑھی ہوئی تو نہیں ہے)۔ وہ کہنے لگی؟ گفت خامش چوں تو مجنون نیستی۔  
 (اے خاتون! کیا بات ہے کہ تو دوسری حسین عورتوں سے بڑھی ہوئی تو نہیں ہے)۔ وہ کہنے لگی؟ گفت خامش چوں تو مجنون نیستی۔  
 (اس نے کہا تو چپ ہو جا کیونکہ تو مجنوں نہیں ہے) یعنی اگر تو مجھے مجنوں کی نظر سے دیکھے گا تو ساری دنیا کی حسین عورتوں سے زیادہ میں تجھے حسین نظر آؤں گی۔ ایسی محبت کو محبت نہیں کہتے بلکہ پاگل پن کہتے ہیں۔ ایک دفعہ مجنوں کے کو بیٹھا چوم رہا تھا، کسی نے کہا، ارے مجنوں! تو کتے کو چوم رہا ہے۔ کہنے لگا، ہاں میں اسے اس لیے چوم رہا ہوں کہ یہ اس دیار سے ہو کر آیا ہے، جہاں لیلیٰ رہتی ہے۔

### (۱۶۶) شیطان کے چھ ہتھیار

شیطان مختلف طریقوں سے فتنہ میں ڈالتا ہے:

- ① علماء نے لکھا ہے کہ یہ سب سے پہلے انسان کو طاعات سے روکتا ہے۔ یعنی انسان کے دل سے طاعات کی اہمیت نکال دیتا ہے جس کی وجہ سے بندہ کہتا ہے کہ اچھا، میں نماز پڑھ لوں گا، حالانکہ دل میں پڑھنے کی نیت نہیں ہوتی۔
- ② اگر انسان شیطان کے کہنے سے بھی نیکی سے نذر کے اور وہ نیت کر لے کہ مجھے یہ نیکی کرنی ہے تو پھر وہ دوسرا ہتھیار استعمال کرتا ہے کہ وہ اس نیک کام کو نالانے کی کوشش کرتا ہے۔ مثلاً کسی کے دل میں یہ بات آئی کہ میں توبہ کر لیتا ہوں تو یہ اس کے دل میں ڈالتا ہے کہتا ہے اچھا، پھر کل سے توبہ کر لینا، کسی کے دل میں یہ بات آئی کہ میں نماز پڑھوں گا تو کہتا ہے کہ کل سے نماز شروع کر دینا۔ یوں شیطان اسے نیکی کے کام سے نالانے کی کوشش کرتا ہے اور یاد رکھیں کہ جو کام نال دیا جاتا ہے وہ کام نل جایا کرتا ہے۔
- ③ اگر کوئی بندہ شیطان کے اکسانے پر بھی نیک کام کرنے سے نہ نلے اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے تو پھر وہ دل میں ڈالتا ہے کہ جلدی کر لو۔ مثلاً کسی جگہ پر کھانا بھی کھانا ہو اور نماز بھی پڑھی ہو تو دل میں ڈالتا ہے کہ جلدی کر لو۔ مثلاً کسی جگہ پر کھانا بھی کھانا ہو اور نماز بھی پڑھتی ہو تو دل میں ڈالتا ہے کہ جلدی سے نماز پڑھ لے پھر کھانا کھانا۔ نہیں بھائی نہیں یوں کہنا چاہیے کہ بھائی! جلدی جلدی کھانا کھا لو، پھر تسلی سے نماز پڑھ لیں گے۔
- ④ اگر کوئی آدمی جلدی میں کوئی نیک کام کر لیتا ہے تو پھر وہ اس میں ریاء کروا دیتا ہے اور یوں وہ ریاء کے ذریعے اس کے کیے ہوئے عمل کو برباد کروا دیتا ہے۔ وہ دل میں سوچنے لگتا ہے کہ ذرا دوسرے بھی دیکھ لیں کہ میں کیسا نیک عمل کر رہا ہوں۔
- ⑤ اگر اس میں کام کرتے وقت ریاء پیدا نہ ہو تو وہ اس کے دل میں عجب ڈالتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ میں دوسروں سے بہتر ہوں۔ مثلاً یہ کہتا ہے کہ میں تو پھر بھی نماز پڑھ لیتا ہوں لیکن فلاں تو نماز ہی نہیں پڑھتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں تو آخر پڑھا لکھا ہوں، حافظ ہوں، قاری ہوں، عالم ہوں، اور میں نے اتنے حج کیے ہیں۔ جب اس طرح اس میں تکبر آ جاتا ہے تو یہی عجب اس کی بربادی کا سبب بن جاتا ہے۔
- ⑥ اگر اس کے دل میں عجب بھی پیدا نہ ہو تو وہ آخری حربہ یہ استعمال کرتا ہے کہ وہ اس کے دل میں شہرت کی تمنا پیدا کر دیتا ہے۔ وہ زبان سے شہرت پسندی کی باتیں نہیں کرے گا بلکہ اس کے دل میں یہ بات ہوگی کہ لوگ میری تعریفیں کریں اور جب لوگ اس کی تعریف کریں گے تو وہ خوش ہوگا۔ شیطان ان چھ ہتھکنڈوں سے انسان کے نیک اعمال برباد کر دیتا ہے۔

### (۱۶۷) پانچ چیزوں میں جلد بازی جائز ہے

- ① جب لڑکی جوان ہو جائے تو جتنی جلدی اس کا رشتہ مل سکے اتنا اچھا ہے، جب مل جائے تو پھر اس کی شادی میں جلدی کرنی چاہیے۔
- ② اگر کسی کے ذمہ قرض ہو تو اس قرض کو ادا کرنے میں جلدی کرنی چاہیے۔
- ③ جب کوئی بندہ فوت ہو جائے تو اس مرحوم کو دفن کرنے میں جلدی کرنی چاہیے۔
- ④ جب کوئی مہمان آجائے تو اس کی مہمان نوازی میں جلدی کرنی چاہیے۔ ہم نے وسط ایشیا کی ریاستوں میں دیکھا ہے کہ جیسے ہی مہمان گھر میں آتا ہے تو فوراً کم از کم پانی تو ضروری مہمان کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اس کے بعد مشروبات اور کھانے پیش کیے جاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ پانی پلانا بھی مہمان نوازی میں شامل ہے لہذا جس نے مہمان کے سامنے پانی کا کٹورا بھر کر رکھ دیا اس نے گویا مہمان نوازی کر لی۔
- ⑤ جب کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس سے توبہ کرنے میں جلدی کرنی چاہیے۔

### (۱۶۸) تہجد کے لیے توفیق کی دعا

جب یہ امت راتوں کو رو یا کرتی تھی تو دن کو ہنسا کرتی تھی۔

ایک نکتہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ اگر آپ تھکے ہوئے ہیں۔ میند غالب ہے اور اٹھ نہیں سکتے، تو کئی مرتبہ انسان کی رات میں آنکھ کھلتی ہے۔ کسی تقاضے کی وجہ سے کروٹ لیتے ہوئے آنکھ ضرور کھلتی ہے۔ جن حضرات کو تہجد کی توفیق نہیں ملتی وہ جب کروٹ لینے کے لیے بیدار ہوں تو اس ایک لمحہ میں اللہ رب العزت سے تہجد کی توفیق کی دعا ضرور مانگ لیا کریں۔ یہ ایک چھوٹی سی بات ہے لیکن اس کا آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ اس لمحے کی مانگی ہوئی دعا بھی آپ کو اللہ رب العزت کا مقبول بنا دے گی۔ ہمارے مشائخ توں یہاں تک فرماتے ہیں کہ جو عورتیں فجر کی اذان سے پہلے اٹھ کر گھروں کو صاف کرتی ہیں یا چائے بنا لیتی ہیں وہ بھی اللہ کی رحمت سے فائدہ پالیتی ہیں۔

### (۱۶۹) لفظ ”جناب“ کسی زمانے میں گالی ہوتی تھی

اردو زبان کے کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ ان کا ہر حرف بڑا با معنی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک جگہ پر کچھ انگریزی خواں لوگ تھے۔ وہ دینی طلبہ کو بہت تنگ کرتے تھے۔ وہ عربی مدارس کے طلباء کو بھی قربانی کا مینڈھا کہتے، کبھی کچھ کہتے، کبھی کچھ کہتے۔ ایک دن وہ سب طلبہ مل بیٹھے اور کہنے لگے کہ انگریزی خواں لوگوں کے لیے کوئی ایسا لفظ بنا لیں جس میں ان کی ساری صفات آجائیں۔ انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ ان میں ہونا کیا ہے۔ ایک نے کہا کہ ان میں بڑی جہالت ہوتی ہے۔ دوسرے نے کہا کہ یہ لوگ بڑے نالائق ہوتے ہیں۔ تیسرے نے کہا کہ یہ بڑے احمق ہوتے ہیں۔ چوتھے نے کہا کہ یہ تو بڑے بے وقوف ہوتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ سب باتیں ٹھیک ہیں، ہم ان چاروں الفاظ کے پہلے حرف کو لے کر ایک لفظ بناتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ایک لفظ بنایا ”جناب“ آج سے جاہل، ن سے نالائق، الف سے احمق، ب سے بے وقوف۔ اس کے بعد انہوں نے ہر انگریزی خواں کو جناب کہنا شروع کر دیا۔ یہ لفظ ایسا مشہور ہوا کہ آج کسی کو پتہ ہی نہیں کہ یہ بنا کیسے تھا۔ سب ایک دوسرے کو جناب کہتے پھرتے ہیں۔ آج عرف عام میں جناب بمعنی بارگاہ ہے جیسا کہ حضرت بمعنی بارگاہ ہے۔ جناب اور حضرت یہ دونوں الفاظ اعزازی بن گئے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج کل انگریزی پڑھے لکھے بھی خوب دینداری میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ اَللّٰهُمَّ زِدْ دُفْرًا: (خطبات فقیر، جلد ۹، ص ۱۹)

## (۱۷۰) ایک عورت کا دل ٹوٹا، روئی، سوئی آپ ﷺ کی زیارت ہو گئی

کتابوں میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہے کہ ایک خاتون نہایت ہی پاک دامن اور نیک تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ مجھے نبی اکرم ﷺ کی زیارت نصیب ہو۔ وہ درود شریف بھی بہت پڑھتی تھی لیکن زیارت نہیں ہوتی تھی۔ ان کے خاوند بڑے اللہ والے تھے۔ ایک دن انہوں نے اپنے خاوند سے اپنی یہی تمنا ظاہر کی کہ میرا دل تو چاہتا ہے کہ مجھے نبی کریم ﷺ کی زیارت نصیب ہو، لیکن کبھی یہ شرف نصیب نہیں ہوا، اس لیے آپ مجھے کوئی عمل ہی بتادیں جس کے کرنے سے میں خواب میں نبی کریم ﷺ کی زیارت کی سعادت حاصل کر لوں۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو عمل تو بتاؤں گا لیکن آپ کو میری بات ماننا پڑے گی۔ وہ کہنے لگی کہ آپ مجھے جو بات کہیں گے وہ مانوں گی۔ وہ کہنے لگے کہ اچھا تم بن سنور کر دہن کی طرح تیار ہو جاؤ۔ اس نے کہا، بہت اچھا۔ چنانچہ اس نے غسل کیا، دہن والے کپڑے پہنے، زیور پہنے اور دہن کی طرح بن سنور کر بیٹھ گئی، جب وہ دہن کی طرح بن سنور کر بیٹھ گئی تو وہ صاحب ان کے بھائی کے گھر چلے گئے اور جا کر اس سے کہا کہ دیکھو، میری کتنی عمر ہو چکی ہے اور اپنی بہن کو دیکھو کہ وہ کیا بن کر بیٹھی ہوئی ہے۔ جب بھائی گھر آیا، اور اس نے اپنی بہن کو دہن کے کپڑوں میں دیکھا تو اس نے اسے ڈانٹنا شروع کیا کہ تم کو شرم نہیں آتی، کیا یہ عمر دہن بننے کی ہے، تمہارے بال سفید ہو چکے ہیں، تمہاری کمر سیدھی نہیں ہوتی، اور بیس سال کی لڑکی بن کر بیٹھی ہوئی ہو۔ اب جب بھائی نے ڈانٹ پلائی تو اس کا دل ٹوٹا اور اس نے رونا شروع کر دیا۔ حتیٰ کہ وہ روتے روتے سو گئی۔ اللہ کی شان دیکھئے کہ اللہ رب العزت نے اسے اسی نیند میں اپنے محبوب ﷺ کی زیارت کروادی۔ وہ زیارت کرنے کے بعد بڑی خوش ہوئی، لیکن خاوند سے پوچھنے لگی کہ آپ نے وہ عمل بتایا ہی نہیں جو آپ نے کہا تھا اور مجھے زیارت تو ویسے ہی ہو گئی ہے۔ وہ کہنے لگا، اللہ کی بندی! یہی عمل تھا، کیونکہ میں نے تیری زندگی پر غور کیا، مجھے تیرے اندر ہر نیکی نظر آئی، تیری زندگی شریعت و سنت کے مطابق نظر آئی، البتہ میں نے یہ محسوس کیا کہ میں چونکہ آپ سے پیار محبت کی زندگی گزارتا ہوں اس لیے آپ کا دل کبھی نہیں ٹوٹا، اس وجہ سے میں نے سوچا کہ جب آپ کا دل ٹوٹے گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اترے گی اور آپ کی تمنا کو پورا کر دیا جائے گا۔ اسی لیے تو میں نے ایک طرف آپ کو دہن کی طرح بن سنور کر بیٹھنے کو کہا اور دوسری طرف آپ کے بھائی کو بلا کر لے آیا، اس نے آ کر آپ کو ڈانٹ پلائی جس کی وجہ سے آپ کا دل ٹوٹا اور اللہ رب العزت کی ایسی رحمت اتری کہ اس نے آپ کو اپنے محبوب ﷺ کی زیارت کروادی۔ اللہ اکبر

## (۱۷۱) منتخب اشعار

دل کی محرابوں پہ لکھی ہیں وفا کی آستیں	دیکھتے تو ہیں بظاہر ان کو پڑھتا کون ہے
محبت کے مسافر کی مہک صدیوں نہیں جاتی	یہاں سے کون گزرا ہے یہ رستہ بول دیتا ہے
کشاں کشاں وہ میرے دل پہ جمائے جاتے ہیں	بھلا رہا ہوں مگر یاد آئے جاتے ہیں
چراغوں کو لہو دینا پڑے گا	اندھیروں کی حکومت ہو رہی ہے
مجھ میں برائیاں تو برابر تلاش کر	لیکن کمی کچھ اپنے بھی اندر تلاش کر
انہیں کیا خوف طوفانوں کا ہو گا	جو طوفانوں میں پالے جا رہے ہیں

## (۱۷۲) ابوذر رضی اللہ عنہ کا ایمان افروز واقعہ میرا کفن وہ دے جس نے حکومت عثمانی میں نوکری نہ کی ہو

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ جنگل میں رہتے تھے، موت کا وقت آ گیا، ان دنوں وہاں کوئی نہیں تھا، صرف حج کے دنوں میں عراق کے حاجی وہاں سے جاتے تھے، اس وقت حج کا موسم نہیں تھا، ان کی صرف ایک بیوی اور ایک بیٹی تھی، اب ان کو کفن و دفن کون کرے گا، غسل



کون دے گا، جنازہ کون پڑھے گا، قبر کون کھودے گا؟ بیوی کہنے لگی کہ اب کیا بنے گا ہمارا، تمہارا مسئلہ یہ ہو گیا، ہم کیا کریں؟ تو کہنے لگے مَا كَذَبْتُ مَا كَذَبْتُ نہ تم سے جھوٹ کہوں گا، نہ مجھ سے جھوٹ کہا گیا۔ میں ایک محفل میں بیٹھا تھا، میرے آقا نے فرمایا کہ تم میں سے ایک آدمی ایسا ہے، اکیلا مرے گا، اکیلا اٹھے گا، جنازہ مسلمانوں کی ایک جماعت پڑھے گی، جتنے آدمی اس محفل میں تھے۔ وہ سارے مر گئے، شہروں میں، میں اکیلا بیچ گیا ہوں جنگل میں، معلوم نہیں کون آئے گا، کہاں سے آئے گا، اور خبر سچی ہے، لہذا غم نہ کرو، میرا جنازہ پڑھنے کوئی آئے گا۔ یہ تقویٰ کی ایسی نشانی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا علم ان کے دلوں میں اترا ہوا تھا، دیکھو بسبتی کے بازار والوں سے پوچھو کہ اللہ کا دین کیا کہتا؟ اس تجارت میں تمہیں پتہ ہے؟ کس طریقہ سے یہ کاروبار چلایا جائے گا کہ اللہ اور اس کا حبیب ناراض نہ ہو جائے، کوئی نہیں بنا سکتا، اسی طرح زمینداروں سے پوچھ لو، کہ بھائی! کس طرح زمینداری کرنی ہے؟ کہ اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے اور ناراض نہ ہوں، جو سارے تاجر کر رہے ہیں وہ یہ بھی کر رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، اور وہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں، وہ سود پہ چل رہا ہے، یہ بھی سود پہ چل رہے ہیں، لیکن ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ پر ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرے دن ان پر موت کے آثار آ گئے، بیٹی کو بلایا کہ بیٹی، آج مہمان ضرور آئیں گے میرے جنازے میں! روٹی پکاؤ تاکہ مہمانوں کی خدمت میں کی نہ آئے، میں ضرور مر جاؤں گا، ان کو کھانا پکانے میں لگا دیا اور بیوی سے کہا کہ تو جا راستہ میں بیٹھ، کوئی نہ کوئی ضرور آئے گا، وہ جا کے بیٹھ گئیں راستے میں، اللہ اکبر! کافی عرصہ گزر گیا، امید ناامیدی میں بدل گئی کہ اچانک عراق کی سرک سے غبار اٹھتا ہوا نظر آیا، جب غبار کا پردہ پٹھا تو میں (۲۰) اونٹنیوں کے سوار نمودار ہوئے۔ ان کی بیوی نے سامنے سے کھڑے ہو کر اشارہ کیا، جب انہوں نے عورت کو جنگل اور تہائی میں دیکھا تو اپنی سواریاں موڑ لیں، تو اس عورت نے کہا کہ ایک اللہ کا بندہ مر رہا ہے، اس کا جنازہ پڑھ لو تو تمہیں اجر ملے گا؟ انہوں نے کہا کہ وہ کون ہے؟ کہا کہ اللہ کے حبیب کا ساتھی ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ ہے۔ سارے ایک دم رونے لگے اور کہا، ہمارے ماں باپ ابوذر رضی اللہ عنہ پر قربان۔ یہ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تھے اور ان کے 19 ساتھی۔ نبی نظام کیسے چلا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حج پر پہنچے ہوئے ہیں، حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مشورہ طلب کوئی چیز تھی، تو ان سے ہلوا بھیجا کہ بیٹھے ہوتے کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو تو چل پڑو، ہر حال میں مکہ آ کر مجھ سے ملو، تم سے مشورہ کرنا ہے، حج ملے یا نہ ملے اس کی فکر نہ کرو، لیکن فوراً مکہ پہنچ جاؤ۔ ظاہری سبب تو یہ بنا لیکن اندر کا سبب ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کا جنازہ بنا کہ ان کا جنازہ کون آئے گا؟ ان حضرات نے عمرے کا احرام باندھا ہوا تھا، تو یہ حضرات سواریوں سے اترے اور دوڑتے ہوئے آئے۔ ابوذر رضی اللہ عنہ اسی اطمینان میں ہیں۔ پہلے ہی پتہ تھا کہ کوئی آئے گا، لیکن ابوذر رضی اللہ عنہ تقویٰ کے اتنے بڑے مقام پر پہنچے ہوئے ہیں کہ فرماتے ہیں، جس نے عثمان رضی اللہ عنہ کی حکومت کی نوکری کی ہو وہ مجھے نہ کفن دے۔ ان 19 میں سے ہر ایک نے حکومت میں ملازمت کی تھی، البتہ ان میں سے ایک نوجوان کھڑے ہوئے کہ میں نے آج تک حکومت کی نوکری نہیں کی ہے اور یہ احرام بھی میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، کہا بس ٹھیک ہے تو میرا سارا انتظام کرے گا۔ پھر ان کا انتقال ہو گیا، یہ سارے ان کو دفن کر کے چلنے لگے، بیٹی نے کہا: اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہ اے چچا کھانا تیار ہے۔ کہا یہ کھانا پہلے سے کیسے تیار ہو گیا۔ کہا میرے بابا نے کہا تھا کہ آج میرے مہمان آئیں گے میرا جنازہ پڑھنے کے لیے، ان کی خدمت میں غفلت نہ ہو، اس لیے پہلے سے کھانا تیار کر کے رکھنا۔ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، واہ رے واہ! ابوذر رضی اللہ عنہ سے زندہ بھی تھی اور مر کر بھی تھی۔

نوٹ: یہ قصہ ابوذر رضی اللہ عنہ کا مختلف الفاظ سے اکثر تاریخی کتابوں میں موجود ہے۔ (دیکھئے سیرۃ الصحابہ، اسد الغابہ، حیاۃ الصحابہ)

### (۱۷۳) ایک عورت کا حسن انتخاب

حاج کے دربار میں کس آیا، تین آدمی تھے، ان کے قتل کا حکم دیا، ایک خاتون بھی ساتھی، اس نے کہا چھوڑ دے، تیری بڑی مہربانی

ہوگی۔ حجاج کہنے لگا، تینوں میں سے ایک جن لے (اس ایک کوچھوڑ دوں گا، باقی روکوئل کروں گا) ایک بیٹا تھا، ایک خاوند تھا، ایک بھائی تھا۔ عورت نے کہا، خاوند دوسرا بھی مل جائے گا، بچے اور بھی پیدا ہو جائیں گے، میرے ماں باپ مر گئے، بھائی اب کوئی نہیں ملے گا، میرا بھائی چھوڑ دے باقی سب کوئل کر دے۔ حجاج نے کہا، میں تیرے حسن انتخاب پر تینوں کوچھوڑتا ہوں۔ (اصلاحی واقعات، ص ۱۳۳)

### (۱۷۴) دو عورتوں کا عجیب واقعہ

ایک بزرگ ہیں، ان کا نام ہاشم <sup>رضی اللہ عنہ</sup> کہتے ہیں میں سفر میں تھا تو میں ایک خیمے میں اترا، مجھے بھوک لگی ہوئی تھی، اس خیمے میں ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی، میں نے کہا کہ بہن بھوک لگی ہے، کھانا مل جائے گا؟ کہنے لگی کہ میں مسافروں کے لیے کھانا پکانے بیٹھی ہوں؟ جا اپنا راستہ لے۔ کہنے لگے کہ بھوک ایسی تھی کہ میں اٹھ نہ سکا، میں نے سوچا کہ یہی سستا کر چلا جاؤں گا۔ اتنے میں اس کا خاوند آ گیا۔ اس نے مجھے دیکھا اور کہا:

مرحبا کون ہیں؟

کہا، میں مسافر ہوں۔

کھانا کھایا؟

نہیں کھایا۔

کیوں؟

مانگا تھا لیکن ملا نہیں۔

اس نے اپنی بیوی سے کہا، ظالم تو نے اسے کھانا ہی نہ کھلایا، اس نے کہا کہ میں کوئی مسافروں کے لیے بیٹھی ہوں۔ مسافروں کو کھانا کھلا کھلا کر اپنا گھر خالی کر لوں۔

ایسی بد اخلاقی میں خاوند نے بیوی سے کوئی بد تمیزی نہیں کی۔ کہا کہ اللہ تجھے ہدایت دے۔ آپ <sup>صلی اللہ علیہ وسلم</sup> نے فرمایا کہ بہترین مرد وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ انہوں نے کہا، اچھا تو اپنا گھر بھر لے، پھر اس نے بکری ذبح کی، اس کو کاٹا اور گوشت بنایا، پکایا، کھلایا، اور ساتھ ہی معذرت بھی کی اور ان کو روانہ کیا، چلتے چلتے آگے ایک جگہ پہنچے، اگلی منزل پر بھی ایک خیمہ آیا وہاں پڑا ڈاڈا لا تو ایک خاتون بیٹھی تھی، کہا، بہن، مسافر ہوں کھانا مل جائے گا۔ اس نے کہا مرحبا، اللہ کی رحمت آگئی، اللہ کی برکت آگئی، اب میں آپ کو سچ بتاؤں۔ کسی زمانہ میں بوڑھیاں، دادیاں، کوئی مہمان آتا تو وہ خوش ہو کر کہتیں، اللہ کی برکت آگئی، نوکرانیوں کو ہٹا کر خود کام کرنا شروع کر دیتیں۔ اور اب جب ساری بھولتیں ہیں اس وقت یہی کہتی ہیں کہ یہ بے وقت آ گیا، ان کو وقت کا احساس نہیں ہوتا اور آ جاتے ہیں۔ تو اس خاتون نے کہا ماشاء اللہ مہمان آ گیا، برکت آگئی، جلدی سے بکری ذبح کی، پکائی اور پکا کر اس کے سامنے رکھی تو اس پر اس کا خاوند آ گیا۔

اس نے کہا کون ہے تو؟

کہاجی میں مہمان ہوں۔

یہ انگوٹھی کہاں سے لی؟

جی آپ کی بیگم نے دی۔

تو اس نے اپنی بیگم پر چڑھائی کر دی۔ تجھے شرم نہیں آتی، مہمانوں کو کھلا کر میرا گھر خالی کر دے گی۔ تو ان کو ہنسی آگئی، زور سے قہقہہ لگایا تو وہ کہنے لگا کیوں ہنستے ہو؟ کہنے لگا کہ پیچھے اس کا اللہ دیکھا تھا، کہنے لگا کہ جانتے بھی ہو وہ کون ہے۔ کہا کہ وہ میری بہن ہے یہ اس کی

ہن ہے۔ یعنی ایک بھائی، بہن بھیل، ایک بھائی، بہن بھی۔ (اسلامی واقعات: صفحہ ۵۰)

### ﴿۱۷۵﴾ ایک عورت نے دیوار کے ساتھ جوانی گزار دی

فروخ تابعین میں سے ہیں، بیوی حاملہ تھی کہنے لگے اللہ کے راستہ میں جانے کی آواز لگ رہی ہے، چلا نہ جاؤں؟ بیوی کہنے لگی میں تو حاملہ ہوں، میرا کیا بنے گا؟ کہا تو اور تیرا حمل اللہ کے حوالے۔ ان کو تیس ہزار درہم دے کر گئے کہ یہ تو خرچہ رکھ اور میں اللہ کے راستے میں جاتا ہوں۔ کتنی خزاںیں اور بہاریں آئیں اور کتنے دن صبح سے شام میں بدلے، شام ڈھل کر میں بدلی، پر فروخ نہ آیا، دو، تین، چار، پانچ، دس، بیس، پچیس، ستائیس، تیس سال گزر گئے، ایک عورت نے دیوار کے ساتھ جوانی گزار دی۔ فروخ لوٹ کے نہ آیا، تیس سال گزر گئے، ایک دن ایک بڑے میاں مدینے کی گلیوں میں داخل ہوئے، پراگندہ شکستہ حال، بڑھاپے کے آچار اور اپنے گھوڑے پہ چلے آ رہے ہیں، تیس برس میں تو ایک نسل ختم ہو جاتی ہے، اب یہ پریشان ہیں کوئی مجھے پہچانے گا کہ نہیں پہچانے گا؟ وہ مرگئی یا زندہ ہے؟ کیا ہوا؟ کیا بنا؟ گھر وہی ہے کہ بدل گیا؟ انہیں پریشانیوں میں غلطاں دیکھاں گھر کے دروازے پر پہنچے۔ پہچانا کہ وہی ہے۔ اندر جو داخل ہوئے تو گھوڑے کی آواز، اپنی آواز، ہتھیاروں کی آواز، بیٹا بیدار ہو گیا، دیکھا تو ایک بڑے میاں چاند کی چاندنی میں کھڑے ہوئے ہیں۔ تو ایک دم جھپٹے اور اس پر لپکے اور گریبان سے پکڑا، جان کے دشمن، تجھے شرم نہیں آئی؟ بڑھاپے میں مسلمان کے گھر میں بن اجازت داخل ہوئے ہو؟ ایک دم جھٹکا دیا، جھنجھوڑا، وہ ڈر سے گھبرا گئے، وہ سمجھے کہ شاید میں غلط گھر میں آ گیا ہوں، میرا گھر بک گیا، کوئی اور اس میں آ گیا، کہنے لگے بیٹا! معاف کرنا، غلطی ہو گئی، میں سمجھا میرا ہی گھر ہے، تو ان کو لہجہ غصہ چڑھ آیا، کہنے لگے اچھا، ایک غلطی کی، اور اب گھر ہونے کا دعویٰ بھی، چلو، میں ابھی تجھے قاضی کے پاس لے چلتا ہوں، تیرے غمے وہ سزا تجویز کر دے گا، اب وہ چڑھ رہے ہیں اور یہ دب رہے ہیں، ادھر بڑھاپا، ادھر جوانی، ادھر سفروں نے مار دیا، ہڈیاں کھلی ہو گئیں، اور پھر شک بھی ہے کہ پتہ نہیں میرا گھر ہے یا کسی اور کا؟ اسی کشمکش میں اوپر سے ماں کی آنکھ کھلی، اس نے کھڑکی سے دیکھا تو فروخ کا چہرہ بیوی کی طرف اور بیٹے کی پشت بیوی کی طرف، تو تیس سال کے دریتے کھل گئے، اور بڑھاپے کی جھڑپوں میں سے فروخ کا چہرہ نظر آنے لگا اور اس کی ایک چیخ نکل، اے ربیعہ! اور ربیعہ کے تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، یہ نہیری ماں کو کیا ہوا؟ دیکھا تو اوپر کھڑی ہوئی، اے ربیعہ!

کیا ہوا ماں؟

کون ہے؟

پتہ نہیں!

اے ظالم! باپ سے لڑ پڑا، تیرا باپ ہے، جس کے لیے تیری ماں کی جوانی گزر گئی، اور اس کی رات دن میں ڈھل گئی، بال جس کے چاندی بن گئے یہ وہ ہے، تیرا باپ! جس کے لیے میں نے ساری زندگی کاٹ لی۔ ربیعہ رو دینے، معافی مانگے ہو رہے ہیں، رات کا گزارا میں گزار گئی۔ فجر کی اذان پہ اٹھے، کہنے لگے، ربیعہ کہاں ہے؟ کہا وہ تو افان سے پہلے چلا جاتا ہے، یہ گئے تو نماز ہو چکی تھی۔ اپنی نماز پڑھی، روضہ اطہر مسجد سے باہر ہوتا تھا، آ کے صلوٰۃ و سلام پڑھنے لگے، پڑھتے پڑھتے جو مسجد کی طرف نظر پڑی تو یوں مجمع بھرا پڑا اور ایک نوجوان حدیث پڑھا رہے ہیں، دور سے دیکھا، نظر کمزور تھی۔ پتہ نہ چلا کون ہے؟ ادھر ہی پیچھے بیٹھ گئے اور سننا شروع کر دیا۔ حدیث پاک کا درس ہو رہا ہے، جب فارغ ہو گئے تو برابر والے سے کہنے لگے: بیٹا! کون تیرا کون تھا جو درس دے رہا تھا؟

اس نے کہا، آپ جانتے نہیں، آپ مدینے کے نہیں ہیں؟

کہنے لگے، بیٹا میں مدینے کا ہوں، آیا بڑی دیر سے ہوں۔

کہا، یہ ربیعہ ہیں، مالک کے استاذ، سفیان ثوری کے استاذ، ابو حنیفہ کے استاذ، وہ اپنے جوش میں تھا، تو سنتے سنتے کہنے لگے، بیٹا! تو نے یہ نہیں بتایا، بیٹا کس کا ہے؟ کہا، اس کے باپ کا نام فروخ تھا، اللہ کے راستے میں چلا گیا۔

ان مشقت کی وادیوں میں اسلام نے سفر کیا ہے۔ (تاریخ بغداد، جلد ۸ صفحہ ۴۲۰)

### (۱۷۶) منتخب اشعار

کہنے کو ایک ذرہ نا چیز ہیں مگر  
اس لیے آرزو ہے جینے کی  
ستارے کا ڈو بننا، شبنم کا رونا، شمع کا بھجنا  
عجب کیا؟ شانِ رحمت ڈھانپنے میرے گناہوں کو  
چھڑا کچھ اس ادا سے کہ رُت ہی بدل گئی  
شکر یہ اے قبر تک پہنچانے والو، شکر یہ  
اے شمع! تجھ پہ رات یہ بھاری ہے جس طرح  
چھپ گیا آفتاب، شام ہوئی  
راقم الحروف کو مندرجہ ذیل شعر نہایت پسند ہے۔ بقول شاعر۔

تعمیر کائنات کے کام آ رہے ہیں ہم  
دیکھ لوں پھر زمین دینے کی  
ہزاروں مرحلے ہیں صبح کے ہنگامے سے پہلے  
خطا کی ہے، مگر تیری عطا کو دیکھ کر کی ہے  
اک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا  
اب اکیلے ہی چلے جائیں گے اس منزل سے ہم  
ہم نے تمام عمر گزارا ہے اس طرح  
اک مسافر کی رہ تمام ہوئی

### (۱۷۷) اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرا بندہ سچا ہے..... تیرا قرضہ میں ادا کروں گا

حضرت محمد ﷺ فرماتے ہیں کہ ایک قرض دار کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بلا کر اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھے گا کہ تو نے قرض کیوں لیا اور کیوں رقم ضائع کر دی؟ جس سے لوگوں کے حقوق برباد ہوئے وہ جواب دے گا کہ خدایا! تجھے خوب علم ہے میں نے نہ یہ رقم کھائی، نہ پی، اور نہ اڑائی بلکہ میرے ہاں سے مثلاً چوری ہو گئی یا آگ لگ گئی یا کوئی اور آفت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرا بندہ سچا ہے آج تیرے قرض کے ادا کرنے کا سب سے زیادہ مستحق میں ہی ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ کوئی چیز منگوا کر اس کی نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دے گا، جس سے نیکیاں برائیوں سے بڑھ جائیں گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے فضل و رحمت سے جنت میں لے جائے گا۔

(مسند احمد، تفسیر ابن کثیر، جلد ۲ صفحہ ۳۷۲)

### (۱۷۸) خوشی کا دن سب سے زیادہ برادن ثابت ہوا

یزید بن ملک اموی خلیفہ گزرے ہیں، یہ نئے خلیفہ تھے، عمر بن عبدالعزیز کے بعد آئے تھے، ایک دن وہ کہنے لگے کہ کون کہتا ہے کہ بادشاہوں کو خوشیاں نصیب نہیں ہوتیں؟ میں آج کا دن خوشی کے ساتھ گزار کر دکھاؤں گا، اب میں دیکھتا ہوں کہ کون مجھے روکتا ہے؟ کہا آج کل بغاوت ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، تو مصیبت بنے گی، کہنے لگا، آج مجھے کوئی ٹلکی خبر نہ سنائی جائے، چاہے بڑی سے بڑی بغاوت ہو جائے، میں کوئی خبر سننا نہیں چاہتا، آج کا دن خوشی کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ اس کی بڑی خوبصورت لوٹھی تھی، اس کے حسن و جمال کا کوئی مثل نہ تھا، اس کا نام حبابہ تھا، بیویوں سے زیادہ اسے پیار کرتا تھا، اس کو لے کر محل میں داخل ہو گیا، پھل آگئے، چیزیں آ گئیں، مشروبات آگئے، آج کا دن امیر المومنین خوشی سے گزارنا چاہتے ہیں، آدھے سے بھی کم دن گزارا ہے، حبابہ کو گود میں لیے ہوئے ہے، اس کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہا ہے، اور اسے انگو رکھلا رہا ہے، اپنے ہاتھ سے توڑ توڑ کر اس کو کھلا رہا ہے، ایک انگو رکھلا دانا لیا اور اس کے

منہ میں ڈال دیا، وہ کسی بات پر ناس پڑی تو وہ انکور کا دانہ سیدھا اس کی سانس کی نالی میں جا کر اٹکا اور ایک جھٹکے کے ساتھ اس کی جان نکل گئی، جس دن کو وہ سب سے زیادہ خوشی کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا، اس کی زندگی کا ایسا بدترین دن بنا کہ دیوانہ ہو گیا، پاگل ہو گیا، تین دن تک اس کو دفن کرنے نہیں دیا، تو اس کا جسم گل گیا، سڑ گیا، زبردستی بنوامیہ کے سرداروں نے اس کی میت کو چھینا اور دفن کیا، اور دو ہفتے کے بعد یہ دیوانگی میں مر گیا۔ (جہاد النجیران)

### (۱۷۹) ایک قیمتی بات

حاکم وقت ایک دریا کی مانند ہے اور رعایا چھوٹی ندیاں، اگر دریا کا پانی بیٹھا ہوگا تو ندیاں بھی بیٹھا پانی دیں گی، اور اگر دریا کا پانی تلخ ہوگا تو لازماً ندیوں کا پانی بھی تلخ ہوگا۔

### (۱۸۰) اللہ نے ایک موتی کو ہدایت دی

سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جب سکھوں کے خلاف جہاد کیا تھا تو دہلی کے کوٹھے پر ایک بہت مشہور قاصد تھی، موتی اس کا نام تھا۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ عشاء کی نماز پڑھ کر نکلے اور بازار حسن میں پہنچے اور موتی کے گھر پر دستک دی، وہاں سے ان کو خیرات دی جانے لگی، تو انہوں نے کیا فقیر پہلے صدا لگاتا ہے، پھر خیرات لیتا ہے، تم میری صدا سن لو۔ سب لوگ جمع ہو گئے تو قرآن کی آیات تلاوت کیں۔  
 والثین والثینون ..... الخ ”قسم ہے تین (انجیر) کی اور زیتون کی اور طور سینین کی اور پاک شہر کی۔ سب سے بہترین ہم نے انسان کو بتایا، پھر اسی کو ہم نے سب سے ذلیل بنا کر بیچے بھی لوٹایا۔“ سب سے بہترین اور سب سے ذلیل کی تشریح بیان کرنی شروع کی تو موتی کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے اور ان آنسوؤں سے اس کی گھجلی زندگی کے سب داغ اللہ نے دھو دیئے اور اس نے توبہ کی اور کہا اب میں ساتھ جاؤں گی۔ اس کا نکاح ایک شخص کے ساتھ کر لیا اور پھر وہ مجاہدین کے لیے آنا بیٹھی تھی، اور مجاہدین کی خدمت کرتے ہوئے شہید ہو گئی۔ اس موتی کا کوٹھا کس نے چھڑایا؟ اللہ نے۔ وہ کون سی حلاوت تھی، لذت تھی، وہ قرآن کی حلاوت تھی، کاش ہم اس مٹھاس سے باخبر ہو جائیں۔ اللہ نور السموات والارض اللہ ہی کا نور ہے کائنات میں۔ اللہ کی قسم! اللہ کہتا ہے کہ جو آنکھوں کے پردے حرام سے گر لیتا ہے، اللہ اسے چپے چپے پر اپنا نور دکھاتا ہے۔ کائنات کا ایک ایک ذرہ اللہ کی تسبیح پڑھ رہا ہے۔ اور اللہ کی قسم اللہ سنا تا ہے اور جو اپنے کانوں کو گانے بجانے سے محفوظ کر لیتا ہے۔ اللہ اسے سنا تا ہے، جس کی آنکھوں نے حرام دیکھنا چھوڑا، جس کے کانوں نے حرام سنانا چھوڑا، اللہ اس کو دنیا ہی میں دکھا دیتا ہے۔ اللہ پر ایمان لاؤ، سب کچھ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے حکموں پر تجارت کرو، میں تمہاری تجارت کے منافع کی گارنٹی دیتا ہوں۔ کوئی شے اپنی ذات میں کچھ نہیں۔ جو ہے میرے اللہ کا امر ہے۔ (اسلامی واقعات: صفحہ ۵۶)

الحمد للہ یہ کتاب بکھرے موتی جلد پنجم (۵) مکہ المکرمہ حرم شریف میں رات کے وقت پونے ایک بجے (12:45) پوری ہوئی۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے۔

20 جون 2006ء بمطابق ۲۳ جمادی الاولیٰ

۱۴۲۷ بروز منگل۔



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تصحیح و اضافہ شدہ



حصہ ہفتم

# بکھرتی

حضرت مولانا محمد یونس پانپوری رحمۃ اللہ علیہ

انتخاب و ترتیب

صاحبزادہ محترم حضرت مولانا مبلغ اعظم محمد صاحب پانپوری رحمۃ اللہ علیہ

حضرت مولانا مفتی محمد امین صاحب پانپوری رحمۃ اللہ علیہ

تصحیح و نظر ثانی

مکتبہ عالیہ ۹۷۲ حق سٹریٹ اردو بازار لاہور

## جملہ حقوق محفوظ ہیں

بکھرے موتی	.....	نام کتاب
حضرت مولانا محمد یونس پالنپوری مدظلہ العالی	.....	انتخاب و ترتیب
صاحبزادہ محترم حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>	.....	تصحیح و ترمیمی
حضرت مولانا مفتی محمد امین صاحب پالنپوری <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>	.....	باہتمام
محمد قیصر محمود مہاروی	.....	مطبع
لعل سار پرنٹرز	.....	ناشر
<b>مکتبہ عائشہ</b>	.....	

حق سٹریٹ اردو بازار لاہور 042-7360541

..... ملنے کے پتے .....

حق پیلی کیشنز اردو بازار لاہور	ادارہ اسلامیات انارکلی لاہور
کتب خانہ رشید یہ راجہ بازار راولپنڈی	شمع بک ایجنسی اردو بازار لاہور
مکتبہ رشید یہ کمیٹی چوک راولپنڈی	ملت پیلی کیشنز اسلام آباد
دارالمطالعہ نزد پرانی نیکی حاصل پور منڈی	احمد بک کارپوریشن راولپنڈی
اقبال بک سنٹر جہانگیر پارک صدر کراچی	کتابستان شاہی بازار بہاول پور
قدیمی کتب خانہ آرام باغ کراچی	مکتبہ دار القرآن اردو بازار کراچی
ادارہ الانور بنوری ٹاؤن کراچی	دارا خلاص محلہ جنگی، پشاور
مکتبہ القرآن بنوری ٹاؤن کراچی	مکتبہ قاسمیہ ملتان
ادارۃ المعارف دارالعلوم کراچی	کتاب خانہ مظہری گلشن اقبال کراچی
مکتبہ امدادیہ ملتان	مکتبہ رشید یہ سرکی روڈ کوئٹہ
مکتبہ اسلامیہ کوتوال روڈ فیصل آباد	مکتبہ حقانیہ ملتان

## فہرست (ششم)

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
583	چو کتا ہو کر چلو		تقریظ: حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب
583	مومن چار حالتوں کے درمیان رہتا ہے	572	پالن پوری زید مجدہم
583	فتنہ تین آدمیوں کے ذریعہ سے آتا ہے	573	تعارف و تبصرہ: حضرت مولانا شمس الحق صاحب ندوی
584	فتنہ جب آتا ہے تو بالکل حق جیسا لگتا ہے	574	تقریظ: حضرت مولانا مفتی احمد امین صاحب پالن پوری
584	دل چار قسم کے ہوتے ہیں	575	دعا کی قبولیت کا مجرب نسخہ
	حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کا درد بھرا خط حضرت سلمان	575	حضرات بدر بین مہاجرین رضی اللہ عنہم
584	کے نام	576	حضرات بدر بین انصار رضی اللہ عنہم
585	اپنی مصیبت کا کسی سے شکوہ نہ کرو		اللہ کے راستے میں نکلے سورج غروب ہوتے ہی
585	زندگی بھر خیر کو تلاش کرتے رہو	580	آپ کے گناہ معاف
585	جنازہ ایک زبردست اور موثر نصیحت ہے	581	نمازی کی نماز کا اثر سارے جہاں پڑتا ہے
585	وہ قوم جس کے گھر قبر میں بدل گئے	581	حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زبان پر فرشتے بات کرتے تھے
586	جو لوگوں کے عیب تلاش کرے گا اس کا غم لسا ہوگا		حضرت جبرئیل علیہ السلام نے ابی بن کعب
	زمین کسی کو پاک نہیں بناتی، انسان تو اپنے عمل	581	رضی اللہ عنہ کو شاندار مناجات سکھائی
586	سے پاک اور مقدس بنتا ہے	582	مومن کی موت پر فرشتے کی نری
	تین آدمیوں پر ہنسی آتی ہے اور تین چیزوں سے		يَا اَرْحَمَ الرَّحِيمِينَ کہہ کر دعائے نکلے ظالم کے ظلم
586	رونا آتا ہے	582	سے نجات ملے گی
586	حق وزنی ہوتا ہے اور باطل ہلکا ہوتا ہے	582	دشمن پر غالب ہونے کا نبوی نسخہ
587	دُنیا کا صاف حصہ چلا گیا اور گدلا حصہ رہ گیا	582	لوگ چار قسم کے ہوتے ہیں
587	سب سے زیادہ ڈر عورتوں کی آزمائش کا ہے		اے گناہ کرنے والے، گناہ کے بُرے انجام سے
587	اپنے ذمہ داروں کی خیر خواہی کرو ان کو دھوکہ نہ دو	583	مطمئن نہ ہو جانا
587	پرانے گناہوں کو نئی نیکیوں کے ذریعے سے ختم کرو		دشمن سے کنارہ کش رہو اور دوست کے ساتھ



599	منورات باطنی	588	اپنی رائے کو جی کی طرح حق نہ سمجھتے
	بارش کو بارش کے ان راستوں سے طلب کرو	588	علمائے کرام اس مضمون کو ضرور پڑھیں
599	جو آسمانوں میں ہیں		عنقریب بچے حاکم بن جائیں گے اور لوگوں میں
599	استغفار سے متعلق کچھ احادیث پڑھ لیجئے	588	اپنی مرضی اور خواہش کے فیصلے کریں گے
	مرد بیوی سے بے پناہ پیار کرتا ہے یہ اللہ کی		دُنیا نے اپنے ختم ہونے کا اعلان کر دیا ہے اور
601	ایک نشانی ہے	589	پہنچے پھیر کر تیزی سے جا رہی ہے
	دُنیا میں انتی زبانوں کا پیدا کرنا بھی اللہ کی	589	سانپ مارنے کی عجیب فضیلت
601	قدرت کی ایک بڑی نشانی ہے	589	لوگوں میں لگ کر اپنے سے غافل نہ ہو جاؤ
	آپ ﷺ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو قرض ادا	590	آپس کا جوڑا سر رحمت ہے اور آپس کا توڑ عذاب ہے
602	کرنے کی دُعا سکھائی	590	فرض نمازوں کے پانچ ہونے کی حکمت
602	بہترین ہدیہ سلام ہے	592	غم ہلکا کرنے کا مجرب عمل
	جس کے دل خواہشوں کے پھیر میں رہتے ہیں		خط - مسجد کی خدمت کیجئے، اللہ آپ کو نیک
603	ان کی عقلوں پر پردے پڑ جاتے ہیں	593	خادمہ بیوی دے گا
	شب معراج میں آپ ﷺ نے ایک	593	دل ہلا دینے والی دُعا
603	عجیب تسبیح آسمانوں میں سنی		حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہما کو ایک دھوینے نے
603	کھانا بھی ذکر کرتا ہے	595	توحید سکھائی
	شہد کی کھبیوں کو خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک	595	دینی پیشوا اگر پھسل جائے تو قوم کا کیا ہوگا
604	عجیب بات سمجھائی گئی ہے	596	مردوں کا فتنہ جمال ہے، عورتوں کا فتنہ مال ہے
604	”ہوا“ کا خدا کا نظام پڑھ لیجئے	597	رابعہ بصریہ نے فرمایا ”الْبَعْدُ لِلدَّارِ“
	حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دریافت کیا		بھنو، بہر اور چھوٹے بچے جنت میں جائیں گے
604	کہ تیرا شکر کیسے ادا کروں؟	597	یا جنہم میں
605	قیامت کے دن انسان کے تین دیوان نکلیں گے		سورۃ کہف پڑھنے سے گھر میں سکینت و
	اے اللہ! روٹنے روٹنے پر زبان ہو تو بھی تیری	598	برکت نازل ہوتی ہے
605	ایک نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا	598	دن اور رات یہ دونوں اللہ کی بہت بڑی نعمتیں
	عبداللہ بن سلام مکہ مکرمہ عید منانے گئے	598	دل کی بیماریاں

621	نہرز بیدہ کا درد بھر واقعہ	606	داعی کی حیات اسلام کی حیات ہے
623	کھجوروں میں برکت		حضرت انس رضی اللہ عنہ ہر رات حضور ﷺ کو
624	۴ آیات سجدہ کو ایک مجلس میں پڑھ کر دعا کی قبولیت	608	خواب میں دیکھتے تھے
626	ایک عورت کی بہادری کا واقعہ	608	جنت اور جہنم کی آپس میں گفتگو
628	ماں نے فرمایا: ”بیٹا حق پر جان دے دو“	608	ایک آدمی کا عجیب مدد
630	نبی کریم ﷺ کے زمانہ میں دو عورتوں میں جھگڑا ہو گیا		آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے، صبر کر لیجئے، اللہ آپ
630	حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کے پاس آپ ﷺ کی قمیص تھی	608	کے درجے بڑھا دے گا
	حضرت ابو داؤد رضی اللہ عنہ نے عجیب دل ہلانے	609	خدا یا تو سلام ہے اور میں اسلام ہوں
632	والی نصیحت کی	609	منافقین کے بارے میں کچھ پڑھ لیجئے
632	شیطان ٹٹی کی آڑ میں شکار کھیلنا جانتا ہے	611	حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا عجیب خواب اور اس کی تعبیر
633	مندرجہ ذیل گیارہ آیتوں پر جو جمع کیا وہ جنتی ہے		سات بیٹیوں کی برکت سے ایک آدمی جہنم سے نجات
633	رسول اللہ ﷺ کی عجیب و غریب دعا	611	کیا تاریخ میں ایک دلچسپ واقعہ
633	نافرمان بیوی کے لیے ایک مجرب عمل	612	باون لاکھ درہم پھر بھی زکوٰۃ واجب نہیں
	جس کی اصلاح مشائخ سے نہیں ہوتی اس کی	613	شادی کے بعد معلوم ہوا کہ وہ لنگڑی ہے
634	اصلاح نافرمان نبوی سے ہوتی ہے	613	نہایت ذہین بیوی
	خواب میں کسی کے سر پر تاج رکھ دیا جائے تو	613	حضرت جلیپب رضی اللہ عنہ کی عجیب شادی اور عجیب شہادت
634	وہ بادشاہ نہیں بن جاتا	615	بہترین عورت کی خوبیاں
	معاف کر دینے والا باآرام ٹیٹھی نیند سو جاتا ہے	615	کبھی کبھی بیوی اپنے شوہر پر خرچ کرے
	اور بدلے کی	616	ایک عورت کو مرگی کے دورے پڑتے تھے مگر وہ جنتی تھی
635	دُھن والادن رات متشکر رہتا ہے اور توڑ جوڑ سوچتا ہے		ہمیشہ دُھن بن کر رہو سر بن کر نہ ہو، کیونکہ سب سے
635	معاف کرنے میں جو لذت ہے بدلہ لینے میں نہیں ہے	617	پہلے مار ہمیشہ سر پر پڑا کرتی ہے
	اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے خوب		تقاضے حاجات کے لیے مولانا مدنی رضی اللہ عنہ کا
636	خوش ہوتا ہے	619	بتایا ہوا مجرب عمل
	آخرت کی بھلائیاں صرف ان کے لیے ہیں جو دنیا میں	619	پروردگار عالم! میرا رزق تیرے ذمے ہے
636	چھوٹک چھوٹک کر قدم رکھتے رہے	620	عورت کا حسن اس کے ٹیڑھے پن میں ہے

645	نہر کوڑکا تذکرہ پڑھ لیجئے	637	ہر دوستی قیامت کے دن دشمنی سے بدل جائے گی
645	جنت میں بڑے بڑے شاپنگ سینٹر اور مول ہوں گے	637	مگر پرہیزگاروں کی دوستی قائم رہے گی
646	عرش کے اٹھانے والے فرشتے مندرجہ ذیل تسبیح پڑھتے رہتے ہیں	638	سب سے نیچے درجہ کا جنتی اس کی نگاہ سو سال کے راستے تک جائے گی
646	ایک بزرگ کو ایک جن نے بری عجیب نصیحت کی	639	آپ ﷺ کی عجیب مناجات
646	ایک بڑے میاں نے حضور ﷺ سے عجیب سوال کیا	639	حق کے مطابق فیصلہ کیجئے، دو فرشتے ساتھ رہیں گے اور آپ کی رہبری کریں گے
647	چہرہ پردہ میں داخل ہے یا نہیں؟	640	امارت کے خواہش مند اپنی خواہش کے انجام کو سوچیں
649	اے اللہ ہماری زبان اور دل کو مسلمان بنادے	640	شیطان کی تصویر بنا دیجئے
649	حرام بستر کے علاوہ سب کچھ کر لیا اب میں کیا کروں	640	میاں بیوی کی شکر رنجی اگر ہو تو باوقار ہو
650	زیبیدہ کی ایک نیکی پر مغفرت	641	باندی کی حاضر دماغی سے سیٹھ بچ گیا
650	اذان کا ادب کیجئے، خاص طور پر مائیں نہیں	642	ہر ہر قدم پر سال بھر کے روزے اور سال بھر تہجد کا ثواب لینے کا نبوی نسخہ
651	زیادہ نیند انسان کو قیامت کے دن فقیر بنا دیتی ہے	642	بچوں کے ساتھ جھوٹا وعدہ کبھی مت کیجئے
642	حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اپنے بچوں کو مندرجہ ذیل دعا سکھاتے تھے	642	دو جمعہ یعنی ایک ہفتے کے گناہ معاف کرانے کا نبوی نسخہ
651	مناجات ابراہیم بن ادھم رضی اللہ عنہ	642	اپنے دل کی محراب کو رذائل سے بچائیے
651	رنگ برنگی باتیں جن سے خوشبو آئے	643	حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک آیت سن کر بہینہ بھر بیمار رہے
652	جو اہر پارے	643	قیامت کے دن آسمان تھر تھرائے گا، پھٹ جائے گا، چکر کھانے لگے گا
652	قرآن	643	اسلام قبول کرنے کے بعد کیا زمانہ کفر کی نیکیاں قبول ہو سکتی ہیں یا نہیں
653	مسجد میں اللہ کے ذکر و عبادت میں خلل ڈالنے والا	644	اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے بندے مجھے ڈھونڈتا کہ تو مجھے پالے
653	سب سے بڑا ظالم ہے	644	جہنم کا خطرناک ساحل
653	نمازیوں کی توجہ ہٹانے والا سزا کا مستحق ہے	645	مسجدوں کو دلہن نہ بنائیے
653	مسجد میں دنیا کی باتیں کرنے والوں کے لیے سخت وعید		
654	مسجد میں دنیا کی باتیں کرنے لیے بیٹھنا ناجائز ہے		
654	اپنی گمشدہ چیز کے لیے مسجد میں اعلان کرنے کی مذمت		
654	حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مسجد سے باہر چہوڑا بنانا		

	654	اللہ نے کان دودئیے ہیں (یعنی زیادہ سنو) زبان	654	مسجد کی عظمت ارشاد خداوندی کی روشنی میں
667	654	ایک دی ہے (یعنی ڈھنگ کا بولو اور کم بولو)	654	ایک عام غلطی کی اصلاح
667	654	سخت بات سے اصلاح نہیں ہوتی	654	ہر محلہ میں مسجد بنانے کا حکم حدیث شریف کی روشنی میں
667	655	اللہ تک پہنچنے کے لیے بے شمار راستے ہیں	655	ذمہ دار علماء کرام سے درخواست
667	655	طلب مجنوں کی طرح	655	سادگی بذات خود حسن ہے
668		اصلی اور نقلی مجنوں	655	روزی میں برکت کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کی
668	656	محبت الہی کے ساتھ محبت نبوی	656	دعا بہت نفع بخش ہے
	656	عرش جب میدان محشر میں اترے گا سارے فرشتے	656	واہ رے واہ اللہ! سبحان تیری قدرت
668	657	عجیب تسبیح پڑھیں گے وہ تسبیح مندرجہ ذیل ہے	657	ایک لڑکی نے کہا کہ میں طلحہ بنتی بنتی سے شادی کروں گی
669	658	عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو	658	کن کن وقتوں میں دعا قبول ہوتی ہے
669	658	آپ ﷺ بہت روئے	658	دعا کی قبولیت کے لیے بہت مجرب عمل
670	659	مہمان کو کھلائیے، اللہ کے مقرب بن جاؤ گے	659	ایک جیب کترے نے عجیب نصیحت کی
	659	تو بکی پختگی کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا یہ بہت	659	جس اللہ کو زمین کے اوپر بھول نہ سکی تو زمین
670	659	بڑا ذریعہ ہے	659	کے نیچے کیسی بھول سکتی ہوں
671	659	آپ ﷺ نے قبرستان میں عجیب بیان کیا	659	گنجائش والا اسلام نبی کا اور قربانی والا اسلام چلے گا
	661	آسمان کے فرشتے ذرات زمین سے زیادہ تعداد	661	حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات کا منظر
672	665	میں ہیں	665	حل مشکلات کا نبوی نسخہ
	665	ایک آیت اتری اور سارے جنات شہروں سے	665	ہر رنج و غم دور کرنے کا نبوی نسخہ
672	665	نکل پڑے	665	فقر دور کرنے کا نبوی نسخہ
673		اللہ کی قدرت	665	امام حسن رضی اللہ عنہ کو آپ ﷺ نے خواب میں عجیب
	665	محمد بن قاسم کا ایک گھرا جڑ گیا اور لاکھوں	665	دعا سکھائی
674	666	کروڑوں انسان اسلام میں آ گئے	666	نعت ازقاری محمد طیب رضی اللہ عنہ
674	666	جو حد سے زیادہ خرچ کرتا ہے وہ تھک کر بیٹھ جاتا ہے	666	یار ہے یارب تو میرا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

## تفریط

مفسر قرآن، محدث کبیر، فقیہ انفس

حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری دامت برکاتہم

استاذ حدیث دارالعلوم دیوبند اور شارح حجۃ اللہ البالغہ

﴿ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِیْنَ، وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ، وَعَلٰی اٰلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِیْنَ، اَمَّا بَعْدُ ﴾

”بکھرے موتی“ میں جناب مکرم مولانا محمد یونس صاحب پالن پوری نے گلہائے رنگ جن کر حسین گلدرستہ تیار کیا ہے۔ یہ کتاب مولانا زید مجدہم کا شکل ہے جس میں آپ نے قیمتی موتی اکٹھے کئے ہیں۔ ایک حسین دسترخوان ہے جس پر انواع و اقسام کے لذیذ کھانے چنے گئے ہیں۔ اس کتاب میں جہاں تفسیری فوائد و نکات ہیں، حدیثی نصائح و ارشادات بھی ہیں۔ دعوتی اور تبلیغی چاشنی لئے ہوئے صحابہ اور بعد کے اکابر کے واقعات بھی ہیں، جن سے دل جلد اثر پذیر ہوتا ہے۔ نیز ایسی دعائیں بھی شامل کتاب کی گئی ہیں جو ایک گونہ عملیات کا رنگ لئے ہوئے ہیں۔ اس طرح کتاب بہت دلچسپ بن گئی ہے۔

نیز مولانا مفتی محمد امین صاحب پالن پوری استاذ حدیث و فقہ دارالعلوم دیوبند کی نظر ثانی نے اس کی اعتباریت میں اضافہ کیا ہے، گویا کتاب میں چار چاند لگائے ہیں۔ اس لئے اُمید ہے کہ کتاب لوگوں کے لیے بے حد مفید ثابت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں اور مصنف کے لیے ذخیرہ آخرت بنائیں اور اُمت کو اس سے فیض یاب بنائیں۔

والسلام

کتبہ سعید احمد عفا اللہ عنہ پالن پوری

خادم دارالعلوم دیوبند

16 صفر 1426ھ

☆.....☆☆☆.....☆

## تعارف و تبصرہ

حضرت مولانا شمس الحق صاحب ندی زید مجدہم

مولانا محمد یونس صاحب پالن پوری، دعوت و تبلیغ کے نامور خطیب و واعظ حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری (جنہوں نے اپنی پوری عمر دعوت و تبلیغ کے لیے وقف فرمادی تھی، جو حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاص تربیت یافتہ تھے، اور حضرت جی کی وفات کے بعد تو بڑے اجتماعات کو عموماً مولانا ہی خطاب فرماتے تھے، مولانا کی تقریر بڑی موثر اور عام فہم ہوتی تھی، دُعا بھی طویل فرماتے تھے، مولانا یونس صاحب انہیں) کے فرزند ارجمند ہیں اور مولانا کی وفات کے بعد اپنے وقت کا بڑا حصہ مرکز نظام الدین میں گزارتے ہیں، مولانا کو مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت و خلافت کا شرف بھی حاصل ہے جس کی وجہ سے حضرت کی تصنیفات کا بھی ذوق و شوق کے ساتھ مطالعہ فرماتے ہیں۔ بڑے اجتماعات میں شرکت کا پورا اہتمام رہتا ہے، جس وقت یہ سطرین لکھی جارہی ہیں دواہم اجتماعات میں شرکت کے بعد اس وقت یعنی 9 ذی الحجہ کو دمشق دہرستی کے عالم میں عرفات میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ حج نصیب فرمائے، یہ ایک دور افتادہ کی دُعا ہے۔

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ -

مولانا اپنی تقاریر میں احادیث شریفہ اور تقاریر اور بزرگوں کے تذکروں میں مذکور موثر واقعات و حکایات اور نصح و حکم کو بیان کرتے اور سامعین کے دلوں کو گرماتے، اور دینی غیرت و حمیت کو جگاتے ہیں۔ مولانا عمر صہ سے ایسے موثر واقعات تعلیمات اور بعض ضروری مسائل و فتویٰ کی بیاض بھی تیار کرتے جاتے ہیں جو واقعی بکھرے موتیوں کا بڑا خوبصورت و دلکش ہار ہے، جو پڑھنے والے کے دل کو کھینچتا ہے اور روح کو بالیدگی عطا کرتا ہے۔ خصوصاً رمضان المبارک میں مولانا موصوف کا تراویح کے بعد بمبئی میں دو جگہ وعظ اور تفسیر قرآن پاک بیان کرنے کا معمول ہے، جس کا سلسلہ بارہ بجے رات تک جاری رہتا ہے اور اختتام گلوگیر آواز میں طویل دُعا پڑھتا ہے۔ لوگوں نے دور دور کلکشن لے رکھے ہیں جس سے گھروں میں مستورات بھی شوق کے ساتھ مولانا کے موثر وعظ کو سنتی ہیں، ان تقریروں اور بیان میں مولانا انہیں بکھرے موتیوں کو موقع مناسبت سے زینت بیان و تقریر بناتے جاتے ہیں، جو اب کتابی شکل میں آگئے ہیں۔ ان بکھرے موتیوں کا مطالعہ بڑا مفید اور دل کو گرمانے والا ہے، زبان و بیان آسان و رواں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دُعا ہے کہ اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچائے۔ (تعمیرات۔ 25 جنوری 2005ء، صفحہ 26)

☆.....☆☆☆.....☆

## تفریظ

حضرت مولانا مفتی محمد امین صاحب پالن پوری دامت برکاتہم

استاذ حدیث و فقہ دارالعلوم دیوبند

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ مِنْ لَائِسِيَّ بَعْدَهُ، أَمَا بَعْدُ﴾

مولانا محمد یونس صاحب پالن پوری، حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری قدس سرہ کے بڑے صاحب زادے ہیں، موصوف نے 1339ھ مطابق 1973ء میں بظاہر علوم سہارن پور سے علوم متداولہ سے فراغت حاصل کی ہے، طالب علمی کے زمانہ سے آپ کا محبوب مشغلہ اسلاف و اکابر کی کتابوں کا مطالعہ اور پسندیدہ باتوں کو کاپی میں محفوظ کرنا ہے۔

علوم متداولہ سے فراغت کے بعد ایک طویل عرصہ تک والد محترم کے زیر سایہ دعوت و تبلیغ کے کام میں شب و روز لگے رہے، والد محترم کے اوصاف و کمالات کو جذب کرتے رہے، جن حضرات نے حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری قدس سرہ کے بیانات سنے ہیں اور ان کو قریب سے دیکھا ہے، وہ اس بات کی کھلے دل سے گواہی دیں گے کہ مولانا محمد یونس صاحب زید مجدہم اخلاق و عادات اور ادب و کمالات میں عمر ثانی ہیں۔

دعوت و تبلیغ کے کام سے مولانا زید مجدہم جو دلچسپی رکھتے ہیں وہ اظہار میں الشمس ہے، رمضان المبارک میں تراویح کے بعد بھی میں موصوف کے جو بیانات ہوتے ہیں ان سے آپ کی علوم قرآن کے ساتھ مناسبت عیاں ہے ہزاروں آدمی اپنے گھروں میں کنکشن صرف مولانا کے بیانات سننے کے لیے رکھتے ہیں۔ اس طرح مردوں کے ساتھ مستورات بھی آپ کے بیانات سے خوب استفادہ کرتی ہیں۔

دوسری طرف مولانا زید مجدہم ان پسندیدہ باتوں کو جو آپ طالب علمی کے زمانہ سے اب تک منتخب و محفوظ فرما رہے ہیں ”بکھرے موتی“ کے نام سے شائع فرما کر پوری امت مسلمہ کو فیض پہنچا رہے ہیں، بلاشبہ یہ کتاب اسم باسکی ہے۔ جو خوش قسمت اس کو دیکھتا ہے، ختم کئے بغیر دم نہیں لیتا۔ یہ کتاب صحابہ کرام، ائمہ عظام اور بزرگان دین کے عبرت آموز واقعات، پریشان حال لوگوں کے لیے مجرب و طائف اور نبوی، تبلیغی اور اصلاحی بیانات اور عمدہ نصیحتوں کا حسین گلدستہ ہے۔

چھٹا حصہ پہلی بار شائع ہو رہا ہے، سابقہ حصوں کی طرح اس حصہ میں بھی مولانا نے عبرت آموز واقعات، نہایت مفید مضامین اور کارآمد باتیں جمع کر دی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کتاب کو امت لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ بنائے اور موصوف کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین!

محمد امین پالن پوری

خادم حدیث و فقہ دارالعلوم دیوبند

10 محرم 1427 ہجری

## (۱) دعاء کی قبولیت کا مجرب نسخہ

ائمہ حدیث اور علماء میر نے اپنی اپنی تصانیف میں اسامہ بدرین کے ذکر کا خاص اہتمام فرمایا ہے۔ مگر حروفِ حجی کے لحاظ سے سب سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسامہ بدرین کو مرتب فرمایا اور اہل بدرین سے صرف چوالیس (44) نام اپنی جامع صحیح میں ذکر فرمائے جو ان کی شرائطِ صحت و استناد کے مطابق تھے۔ علامہ دوانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”ہم مشائخ حدیث سے سنا ہے کہ صحیح بخاری میں منقول اسامہ بدرین کے ذکر کے وقت دعا قبول ہوتی ہے اور بار بار اس کا تجربہ ہو چکا ہے۔“

## (۲) حضرات بدرین مہاجرین رضی اللہ عنہم

سید المہاجرین، امام بدرین، اشرف المخلوق، جمین، خاتم الانبیاء والرسولین  
سیدنا مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ اجمعین

ابو حفص عمر بن الخطاب <small>رضی اللہ عنہ</small>	ابو بکر صدیق <small>رضی اللہ عنہ</small>
ابو الحسن علی بن ابی طالب <small>رضی اللہ عنہ</small>	ابو عبد اللہ عثمان بن عفان <small>رضی اللہ عنہ</small>
زید بن حارثہ <small>رضی اللہ عنہ</small>	حزہ بن عبد المطلب <small>رضی اللہ عنہ</small>
ابو کبشہ قاری مولیٰ رسول اللہ <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small>	انسہ حبشی مولیٰ رسول اللہ <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small>
مرشد بن ابی مرید <small>رضی اللہ عنہ</small> یعنی کنار بن حصین کے بیٹے	ابو مرید کنار بن حصین <small>رضی اللہ عنہ</small>
عبیدہ بن حارث <small>رضی اللہ عنہ</small>	ابو سنان بن حصین <small>رضی اللہ عنہ</small>
حصین بن حارث <small>رضی اللہ عنہ</small>	طفیل بن حارث <small>رضی اللہ عنہ</small>
ابو حذیفہ بن عتبہ بن ربیعہ <small>رضی اللہ عنہ</small>	مسلم عوف بن اثابہ <small>رضی اللہ عنہ</small>
صبیح مولیٰ ابی العاص امیہ <small>رضی اللہ عنہ</small>	سالم مولیٰ ابی حذیفہ <small>رضی اللہ عنہ</small>
عکاشہ بن حصین <small>رضی اللہ عنہ</small>	عبد اللہ بن قحش <small>رضی اللہ عنہ</small>
عتبہ بن وہب <small>رضی اللہ عنہ</small>	شجاع بن وہب <small>رضی اللہ عنہ</small>
حرز بن نھلہ <small>رضی اللہ عنہ</small>	یزید بن رقیش
حرز بن نھلہ <small>رضی اللہ عنہ</small>	ربیعہ بن اکثم <small>رضی اللہ عنہ</small>
مدح بن عمرو <small>رضی اللہ عنہ</small>	مالک بن عمرو <small>رضی اللہ عنہ</small>
عتبہ بن غزو ان <small>رضی اللہ عنہ</small>	سوید بن قحش <small>رضی اللہ عنہ</small>
زبیر بن عوام <small>رضی اللہ عنہ</small>	جناب مولیٰ عتبہ بن غزو ان <small>رضی اللہ عنہ</small>
سعد کلبی مولیٰ حاطب بن ابی ہتبعہ <small>رضی اللہ عنہ</small>	حاطب بن ابی ہتبعہ <small>رضی اللہ عنہ</small>
سویہ بن سعد <small>رضی اللہ عنہ</small>	مصعب بن عمیر <small>رضی اللہ عنہ</small>
سعد بن ابی وقاص <small>رضی اللہ عنہ</small>	عبدالرحمن بن عوف <small>رضی اللہ عنہ</small>



عمر بن ابی وقاص <small>رضی اللہ عنہ</small>	عیسر بن ابی وقاص <small>رضی اللہ عنہ</small>
عبد اللہ بن مسعود <small>رضی اللہ عنہ</small>	عبد اللہ بن مسعود <small>رضی اللہ عنہ</small>
زوالشمالین بن عبد عمرو <small>رضی اللہ عنہ</small>	زوالشمالین بن عبد عمرو <small>رضی اللہ عنہ</small>
بہال بن رباح موی <small>رضی اللہ عنہ</small>	بہال بن رباح موی <small>رضی اللہ عنہ</small>
صہیب بن سنان رومی <small>رضی اللہ عنہ</small>	صہیب بن سنان رومی <small>رضی اللہ عنہ</small>
ابو سلمہ بن عبد الاسد <small>رضی اللہ عنہ</small>	ابو سلمہ بن عبد الاسد <small>رضی اللہ عنہ</small>
ارقم بن ابی الارقم <small>رضی اللہ عنہ</small>	ارقم بن ابی الارقم <small>رضی اللہ عنہ</small>
حصب بن عوف <small>رضی اللہ عنہ</small>	حصب بن عوف <small>رضی اللہ عنہ</small>
عمرو بن سراقہ <small>رضی اللہ عنہ</small>	عمرو بن سراقہ <small>رضی اللہ عنہ</small>
واند بن عبد اللہ <small>رضی اللہ عنہ</small>	واند بن عبد اللہ <small>رضی اللہ عنہ</small>
مالک بن ابی خولی <small>رضی اللہ عنہ</small>	مالک بن ابی خولی <small>رضی اللہ عنہ</small>
عامر بن کبیر <small>رضی اللہ عنہ</small>	عامر بن کبیر <small>رضی اللہ عنہ</small>
خالد بن کبیر <small>رضی اللہ عنہ</small>	خالد بن کبیر <small>رضی اللہ عنہ</small>
سعید بن زید بن عمرو بن نفیل <small>رضی اللہ عنہ</small>	سعید بن زید بن عمرو بن نفیل <small>رضی اللہ عنہ</small>
سائب بن عثمان <small>رضی اللہ عنہ</small>	سائب بن عثمان <small>رضی اللہ عنہ</small>
عبد اللہ بن مظعون <small>رضی اللہ عنہ</small>	عبد اللہ بن مظعون <small>رضی اللہ عنہ</small>
حنیس بن حذافہ <small>رضی اللہ عنہ</small>	حنیس بن حذافہ <small>رضی اللہ عنہ</small>
عبد اللہ بن خزیمہ <small>رضی اللہ عنہ</small>	عبد اللہ بن خزیمہ <small>رضی اللہ عنہ</small>
عمیر بن عوف موی <small>رضی اللہ عنہ</small>	عمیر بن عوف موی <small>رضی اللہ عنہ</small>
ابو عبیدہ عامر بن الجراح <small>رضی اللہ عنہ</small>	ابو عبیدہ عامر بن الجراح <small>رضی اللہ عنہ</small>
سہیل بن وہب <small>رضی اللہ عنہ</small>	سہیل بن وہب <small>رضی اللہ عنہ</small>
عمرو بن ابی سرح <small>رضی اللہ عنہ</small>	عمرو بن ابی سرح <small>رضی اللہ عنہ</small>
حاطب بن عمرو <small>رضی اللہ عنہ</small>	حاطب بن عمرو <small>رضی اللہ عنہ</small>

(۳) حضرات بدرین انصار رضی اللہ عنہم

سعد بن معاذ <small>رضی اللہ عنہ</small>	سعد بن معاذ <small>رضی اللہ عنہ</small>
حارث بن انس <small>رضی اللہ عنہ</small>	حارث بن انس <small>رضی اللہ عنہ</small>
سلمہ بن سلامہ بن قش <small>رضی اللہ عنہ</small>	سلمہ بن سلامہ بن قش <small>رضی اللہ عنہ</small>
سلمہ بن ثابت بن قش <small>رضی اللہ عنہ</small>	سلمہ بن ثابت بن قش <small>رضی اللہ عنہ</small>
حارث بن خزیمہ <small>رضی اللہ عنہ</small>	حارث بن خزیمہ <small>رضی اللہ عنہ</small>
عمرو بن معاذ <small>رضی اللہ عنہ</small>	عمرو بن معاذ <small>رضی اللہ عنہ</small>
سعد بن زید <small>رضی اللہ عنہ</small>	سعد بن زید <small>رضی اللہ عنہ</small>
عباد بن بشر بن قش <small>رضی اللہ عنہ</small>	عباد بن بشر بن قش <small>رضی اللہ عنہ</small>
راع بن یزید <small>رضی اللہ عنہ</small>	راع بن یزید <small>رضی اللہ عنہ</small>
محمد بن سلمہ <small>رضی اللہ عنہ</small>	محمد بن سلمہ <small>رضی اللہ عنہ</small>

ابو اسیم بن التیمیان <small>رضی اللہ عنہ</small>	سلمہ بن اسلم <small>رضی اللہ عنہ</small>
عبداللہ بن اسلم <small>رضی اللہ عنہ</small>	عبید بن التیمیان <small>رضی اللہ عنہ</small>
عبید بن اوس <small>رضی اللہ عنہ</small>	قناہ بن النعمان <small>رضی اللہ عنہ</small>
مغیب بن عبید <small>رضی اللہ عنہ</small>	نصر بن الحارث <small>رضی اللہ عنہ</small>
مسعود بن سعد <small>رضی اللہ عنہ</small>	عبداللہ بن طارق <small>رضی اللہ عنہ</small>
ابو بردہ ہانی بن نیار <small>رضی اللہ عنہ</small>	ابو یحییٰ بن جبیر <small>رضی اللہ عنہ</small>
مغیب بن قشیر <small>رضی اللہ عنہ</small>	عاصم بن ثابت <small>رضی اللہ عنہ</small>
اسلم بن حنیف <small>رضی اللہ عنہ</small>	عمر بن معبد <small>رضی اللہ عنہ</small>
رفاعہ بن عبدالمعز <small>رضی اللہ عنہ</small>	بشر بن عبدالمعز <small>رضی اللہ عنہ</small>
عویم بن ساعدہ <small>رضی اللہ عنہ</small>	سعد بن عبید بن النعمان <small>رضی اللہ عنہ</small>
عبید بن ابی عبید <small>رضی اللہ عنہ</small>	رافع بن عنبجہ <small>رضی اللہ عنہ</small>
ابولبابہ بن عبدالمعز <small>رضی اللہ عنہ</small>	ثعلبہ بن حاطب <small>رضی اللہ عنہ</small>
حاطب بن عمرو <small>رضی اللہ عنہ</small>	حارث بن حاطب <small>رضی اللہ عنہ</small>
انیس بن قناہ <small>رضی اللہ عنہ</small>	عاصم بن عدی <small>رضی اللہ عنہ</small>
ثابت بن اقرم <small>رضی اللہ عنہ</small>	معن بن عدی <small>رضی اللہ عنہ</small>
زید بن اسلم <small>رضی اللہ عنہ</small>	عبداللہ بن سلمہ <small>رضی اللہ عنہ</small>
عبداللہ بن جبیر <small>رضی اللہ عنہ</small>	ربیع بن رافع <small>رضی اللہ عنہ</small>
ابوضیاء بن ثابت <small>رضی اللہ عنہ</small>	عاصم بن قیس <small>رضی اللہ عنہ</small>
حارث بن النعمان <small>رضی اللہ عنہ</small>	سالم بن عمیر <small>رضی اللہ عنہ</small>
منذر محمد <small>رضی اللہ عنہ</small>	خوات بن جبیر بن النعمان <small>رضی اللہ عنہ</small>
سعد بن خثیمہ <small>رضی اللہ عنہ</small>	ابوعقیل بن عبداللہ <small>رضی اللہ عنہ</small>
مالک بن قدامہ <small>رضی اللہ عنہ</small>	منذر بن قدامہ <small>رضی اللہ عنہ</small>
حمیم مولیٰ سعد بن خثیمہ <small>رضی اللہ عنہ</small>	حارث بن عرقبہ <small>رضی اللہ عنہ</small>
مالک بن نمیانہ <small>رضی اللہ عنہ</small>	بہر بن عتیق <small>رضی اللہ عنہ</small>
خارجہ بن زید <small>رضی اللہ عنہ</small>	نعمان بن عصر <small>رضی اللہ عنہ</small>
عبداللہ بن رواحہ <small>رضی اللہ عنہ</small>	سعد بن ربیع <small>رضی اللہ عنہ</small>
بشیر بن سعد <small>رضی اللہ عنہ</small>	خالد بن سوید <small>رضی اللہ عنہ</small>
سلیح بن قیس <small>رضی اللہ عنہ</small>	سماک بن سعد <small>رضی اللہ عنہ</small>
عبداللہ بن یحییٰ <small>رضی اللہ عنہ</small>	عباد بن قیس <small>رضی اللہ عنہ</small>

یزید بن حارث رضی اللہ عنہ	خضیب بن اساف رضی اللہ عنہ
عبداللہ بن زید بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ	حریث بن زید بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ
سفیان بن بشر رضی اللہ عنہ	تمیم بن یحییٰ رضی اللہ عنہ
عبداللہ بن عمیر رضی اللہ عنہ	زید بن المزین رضی اللہ عنہ
عبداللہ بن عرفطہ رضی اللہ عنہ	عبداللہ بن ربیع رضی اللہ عنہ
عبداللہ بن عبداللہ بن ابی ذر رضی اللہ عنہ	اوس بن خولیٰ رضی اللہ عنہ
زید بن ودیعہ رضی اللہ عنہ	عقبہ بن وہب رضی اللہ عنہ
رقاعہ بن عمرو رضی اللہ عنہ	عامر بن سلمہ رضی اللہ عنہ
معبد بن عباد رضی اللہ عنہ	عامر بن البکیر رضی اللہ عنہ
نوفل بن عبداللہ رضی اللہ عنہ	عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ
اوس بن الصامت رضی اللہ عنہ	نعمان بن مالک رضی اللہ عنہ
ثابت بن ہزال رضی اللہ عنہ	مالک بن عشم رضی اللہ عنہ
ربیع بن ایاس رضی اللہ عنہ	ورقہ بن ایاس رضی اللہ عنہ
عمرو بن خشخاش رضی اللہ عنہ	مجذربن زیاد رضی اللہ عنہ
عماد بن خشخاش رضی اللہ عنہ	نحاب بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ
عبداللہ بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ	عتبہ بن ربیعہ رضی اللہ عنہ
ابودجانہ سماک بن خرشہ رضی اللہ عنہ	منذر بن عمرو رضی اللہ عنہ
ابواسید مالک بن ربیعہ رضی اللہ عنہ	مالک بن مسعود رضی اللہ عنہ
عبدربہ بن حق رضی اللہ عنہ	کعب بن جہاز رضی اللہ عنہ
ضمیرہ بن عمرو رضی اللہ عنہ	زیاد بن عمرو رضی اللہ عنہ
بسبس بن عمرو رضی اللہ عنہ	عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ
قراش بن صمہ رضی اللہ عنہ	حباب بن منذر رضی اللہ عنہ
عمیر بن الحمام رضی اللہ عنہ	تمیم مولیٰ خراش رضی اللہ عنہ
عبداللہ بن عمرو بن حرام رضی اللہ عنہ	معاذ بن عمرو الجوح رضی اللہ عنہ
معوذ بن عمرو بن الجوح رضی اللہ عنہ	خلاد بن عمرو بن الجوح رضی اللہ عنہ
عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ	حییب بن اسود رضی اللہ عنہ
ثابت بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ	عمیر بن الحارث رضی اللہ عنہ
بشر بن البراء رضی اللہ عنہ	طفیل بن مالک رضی اللہ عنہ
طفیل بن النعمان رضی اللہ عنہ	شان بن صفی رضی اللہ عنہ

- |                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| عبد اللہ بن جند بن قیس رضی اللہ عنہ   | عبد اللہ بن جند بن قیس رضی اللہ عنہ   |
| جبار بن صخر رضی اللہ عنہ              | عبد اللہ بن حمیر رضی اللہ عنہ         |
| عبد اللہ بن حمیر رضی اللہ عنہ         | مفضل بن المنذر رضی اللہ عنہ           |
| مفضل بن المنذر رضی اللہ عنہ           | ضحاک بن حارث رضی اللہ عنہ             |
| ضحاک بن حارث رضی اللہ عنہ             | معبد بن قیس رضی اللہ عنہ              |
| معبد بن قیس رضی اللہ عنہ              | عبد اللہ بن مناف رضی اللہ عنہ         |
| عبد اللہ بن مناف رضی اللہ عنہ         | خلید بن قیس رضی اللہ عنہ              |
| خلید بن قیس رضی اللہ عنہ              | ابو المنذر یزید بن عامر رضی اللہ عنہ  |
| ابو المنذر یزید بن عامر رضی اللہ عنہ  | قطبہ بن عامر رضی اللہ عنہ             |
| قطبہ بن عامر رضی اللہ عنہ             | عیس بن عامر رضی اللہ عنہ              |
| عیس بن عامر رضی اللہ عنہ              | ابو ایسر کعب بن عمرو رضی اللہ عنہ     |
| ابو ایسر کعب بن عمرو رضی اللہ عنہ     | عمرو بن طلحہ رضی اللہ عنہ             |
| عمرو بن طلحہ رضی اللہ عنہ             | قیس بن محسن رضی اللہ عنہ              |
| قیس بن محسن رضی اللہ عنہ              | جیر بن ایاس رضی اللہ عنہ              |
| جیر بن ایاس رضی اللہ عنہ              | عقبہ بن عثمان رضی اللہ عنہ            |
| عقبہ بن عثمان رضی اللہ عنہ            | مسعود بن خلدہ رضی اللہ عنہ            |
| مسعود بن خلدہ رضی اللہ عنہ            | اسعد بن یزید رضی اللہ عنہ             |
| اسعد بن یزید رضی اللہ عنہ             | معاذ بن ماعص رضی اللہ عنہ             |
| معاذ بن ماعص رضی اللہ عنہ             | مسعود بن سعد رضی اللہ عنہ             |
| مسعود بن سعد رضی اللہ عنہ             | خلاد بن رافع رضی اللہ عنہ             |
| خلاد بن رافع رضی اللہ عنہ             | زیاد بن لبید رضی اللہ عنہ             |
| زیاد بن لبید رضی اللہ عنہ             | خالد بن قیس رضی اللہ عنہ              |
| خالد بن قیس رضی اللہ عنہ              | عطیہ بن نویرہ رضی اللہ عنہ            |
| عطیہ بن نویرہ رضی اللہ عنہ            | غمارہ خرم رضی اللہ عنہ                |
| غمارہ خرم رضی اللہ عنہ                | حارث بن العثمان رضی اللہ عنہ          |
| حارث بن العثمان رضی اللہ عنہ          | سہیل بن قیس رضی اللہ عنہ              |
| سہیل بن قیس رضی اللہ عنہ              | مسعود بن اوس رضی اللہ عنہ             |
| مسعود بن اوس رضی اللہ عنہ             | رافع بن حارث رضی اللہ عنہ             |
| رافع بن حارث رضی اللہ عنہ             | عقبہ بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ         |
| عقبہ بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ         | خارجہ بن حمیر رضی اللہ عنہ            |
| خارجہ بن حمیر رضی اللہ عنہ            | یزید المنذر رضی اللہ عنہ              |
| یزید المنذر رضی اللہ عنہ              | عبد اللہ بن العثمان رضی اللہ عنہ      |
| عبد اللہ بن العثمان رضی اللہ عنہ      | سعاد بن زریق رضی اللہ عنہ             |
| سعاد بن زریق رضی اللہ عنہ             | عبد اللہ بن قیس رضی اللہ عنہ          |
| عبد اللہ بن قیس رضی اللہ عنہ          | جابر بن عبد اللہ بن ریاب رضی اللہ عنہ |
| جابر بن عبد اللہ بن ریاب رضی اللہ عنہ | نعمان بن شان رضی اللہ عنہ             |
| نعمان بن شان رضی اللہ عنہ             | سلیم بن عمرو رضی اللہ عنہ             |
| سلیم بن عمرو رضی اللہ عنہ             | عمرہ مولیٰ سلیم بن عمرو رضی اللہ عنہ  |
| عمرہ مولیٰ سلیم بن عمرو رضی اللہ عنہ  | ثعلبہ بن غشمہ رضی اللہ عنہ            |
| ثعلبہ بن غشمہ رضی اللہ عنہ            | سہل بن قیس رضی اللہ عنہ               |
| سہل بن قیس رضی اللہ عنہ               | معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ              |
| معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ              | حارث بن قیس رضی اللہ عنہ              |
| حارث بن قیس رضی اللہ عنہ              | سعد بن عثمان رضی اللہ عنہ             |
| سعد بن عثمان رضی اللہ عنہ             | ذکوان بن عبد قیس رضی اللہ عنہ         |
| ذکوان بن عبد قیس رضی اللہ عنہ         | عباد بن قیس رضی اللہ عنہ              |
| عباد بن قیس رضی اللہ عنہ              | فاکہ بن بشر رضی اللہ عنہ              |
| فاکہ بن بشر رضی اللہ عنہ              | عائذ بن ماعص رضی اللہ عنہ             |
| عائذ بن ماعص رضی اللہ عنہ             | رفاعہ بن رافع رضی اللہ عنہ            |
| رفاعہ بن رافع رضی اللہ عنہ            | عبید بن زید رضی اللہ عنہ              |
| عبید بن زید رضی اللہ عنہ              | فروہ بن عمرو رضی اللہ عنہ             |
| فروہ بن عمرو رضی اللہ عنہ             | جبلہ بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ            |
| جبلہ بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ            | خلقہ بن عدی رضی اللہ عنہ              |
| خلقہ بن عدی رضی اللہ عنہ              | سراقہ بن کعب رضی اللہ عنہ             |
| سراقہ بن کعب رضی اللہ عنہ             | سلیم بن قیس رضی اللہ عنہ              |
| سلیم بن قیس رضی اللہ عنہ              | عدی بن زغبہ رضی اللہ عنہ              |
| عدی بن زغبہ رضی اللہ عنہ              | ابو خزیمہ بن اوس رضی اللہ عنہ         |
| ابو خزیمہ بن اوس رضی اللہ عنہ         | عوف بن حارث رضی اللہ عنہ              |
| عوف بن حارث رضی اللہ عنہ              |                                       |

- |   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| معاذ بن حارث رضی اللہ عنہ                   | معوذ بن حارث رضی اللہ عنہ         |
| عامر بن محمد رضی اللہ عنہ                   | نعمان بن عمرو رضی اللہ عنہ        |
| عصیمہ انجمی رضی اللہ عنہ                    | عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ       |
| ابوالحرأء مولیٰ حارث بن اعرفاء رضی اللہ عنہ | ودیقہ بن عمرو رضی اللہ عنہ        |
| سہیل بن عقیق رضی اللہ عنہ                   | ثعلبہ بن عمرو رضی اللہ عنہ        |
| ابی بن کعب رضی اللہ عنہ                     | حارث بن صمہ رضی اللہ عنہ          |
| اوس بن ثابت رضی اللہ عنہ                    | انس بن معاذ رضی اللہ عنہ          |
| حارث بن سراقہ رضی اللہ عنہ                  | ابوظلمہ بن سہل رضی اللہ عنہ       |
| سلیط بن قیس رضی اللہ عنہ                    | عمرو بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ        |
| حاجت بن خضاء رضی اللہ عنہ                   | ابوسلیط بن عمرو رضی اللہ عنہ      |
| حرز بن عامر رضی اللہ عنہ                    | عامر بن اُمیہ رضی اللہ عنہ        |
| ابوزید قیس بن سکین رضی اللہ عنہ             | سواد بن غزویہ رضی اللہ عنہ        |
| سلیم بن ملحان رضی اللہ عنہ                  | ابوالاعور بن حارث رضی اللہ عنہ    |
| قیس بن ابی صعصعہ رضی اللہ عنہ               | حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ        |
| عصمہ اسدی رضی اللہ عنہ                      | عبداللہ بن کعب رضی اللہ عنہ       |
| سراقہ بن عمرو رضی اللہ عنہ                  | ابوداؤد عمیر بن عامر رضی اللہ عنہ |
| نعمان بن عبد عمرو رضی اللہ عنہ              | قیس بن محمد رضی اللہ عنہ          |
| سلیم بن حارث رضی اللہ عنہ                   | حماک بن عبد عمرو رضی اللہ عنہ     |
| سعد بن سہیل رضی اللہ عنہ                    | جابر بن خالد رضی اللہ عنہ         |
| بحیر بن ابی بحیرہ رضی اللہ عنہ              | کعب بن زید رضی اللہ عنہ           |
| ملیل بن درہ رضی اللہ عنہ                    | عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ        |
| بلال بن المعلیٰ رضی اللہ عنہ                | عصمہ بن الحسین رضی اللہ عنہ       |

(سیرۃ المصطفیٰ، جلد دوم، صفحہ 136-145)

### (۴) اللہ کے راستے میں نکلنے، سورج غروب ہوتے ہی آپ کے گناہ معاف

﴿رَوَى عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا رَأَى مُسْلِمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ مُجَاهِدًا أَوْ حَاجًّا مُهْلًا أَوْ مُلْتَبِئًا إِلَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ بِذُنُوبِهِ﴾ (الترغيب والترهيب، جلد ۲ صفحہ ۲۶۹)

ترجمہ: ”سہیل بن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان بھی اللہ کے راستے میں شام کرتا ہے اس حال میں کہ وہ جہاد کر رہا ہو یا حج کرتے ہوئے تہلیل (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) پڑھ رہا ہو یا تلبیہ (لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ..... الخ) پڑھ رہا ہو تو سورج اس مسلمان کے گناہوں کو لے کر ڈوبتا ہے۔“

## (۵) نمازی کی نماز کا اثر سارے جہاں پر پڑتا ہے

جس طرح بچے کے رونے کا اثر پورے گھر کے ماحول میں پڑتا ہے، اسی طرح نمازی کی نماز کا اثر سارے جہاں پر پڑتا ہے۔ بارش نہ ہونے کی صورت میں نماز استسقاء پڑھنا، سورج گرہن کے وقت نماز کسوف پڑھنا اور چاند گرہن کے وقت نماز خسوف پڑھنا اس کی واضح دلیل ہے۔

انسانی زندگی کے مختلف مراحل کو اوقات نماز کے ساتھ خصوصی مناسبت ہے۔ مثلاً:

● نماز فجر کو بچپن کے ساتھ مناسبت ہے۔ (دن کی ابتداء ہوتی ہے)

● نماز ظہر کو جوانی کے ساتھ مناسبت ہے۔ (سورج اپنے عروج پر ہوتا ہے)

● نماز عصر کو بڑھاپے کے ساتھ مناسبت ہے۔ (دن ڈھل جاتا ہے)

● نماز مغرب کو موت کے ساتھ مناسبت ہے۔ (زندگی کا سورج ڈوب جاتا ہے)

● نماز عشاء کو عدم کے ساتھ مناسبت ہے۔ (انسان کا دنیا سے نام و نشان مٹ جاتا ہے)

اس لئے نماز عشاء کو ٹلٹ لیل تک پڑھنا مستحب ہے، چونکہ روشنی کا نام و نشان مٹ جاتا ہے، اور رات کے بعد پھر دن ہوتا ہے اسی لیے قیامت کے دن کا تذکرہ ہے۔ یوم الدین اور یوم القیامت کے الفاظ استعمال کئے گئے ہیں۔ لیل القیامت نہیں کہا گیا۔

(نماز کے اسرار و رموز، صفحہ ۸۳)

## (۶) حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زبان پر فرشتے بات کرتے تھے

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جس نے عمر رضی اللہ عنہ سے بغض کیا، اس نے مجھ سے بغض کیا اور جس نے عمر رضی اللہ عنہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ اور عرفات کی شام کو اللہ نے مسلمانوں پر عام طور سے نحر کیا لیکن عمر رضی اللہ عنہ پر خاص طور سے نحر کیا اور اللہ نے جو نبی بھی بھیجا اس کی امت میں ایک محدث ضرور پیدا کیا اور اگر میری امت میں کوئی محدث ہوگا تو وہ عمر رضی اللہ عنہ ہوں گے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا! محدث کون ہوتا ہے؟ حضور ﷺ نے فرمایا: جس کی زبان پر فرشتے بات کرتے ہیں۔ (حیاء الصحابہ، جلد ۳، صفحہ ۶۱۰)

## (۷) حضرت جبرئیل علیہ السلام نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو شاندار مناجات سکھائی

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا مسجد میں جاؤں گا اور اللہ کی ایسی تعریف کروں گا کہ وہی تعریف کسی نے نہیں کی ہوگی۔ چنانچہ جب وہ نماز پڑھ کر اللہ کی حمد و ثناء بیان کرنے کے لیے بیٹھے تو انہوں نے اچانک اپنے پیچھے سے ایک بلند آواز سنی کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے۔ اے اللہ! تمام تعریفیں تیرے لئے ہیں اور ساری بادشاہت تیری ہے اور ساری خیریں تیرے ہاتھ میں ہیں اور سارے چھپے اور پوشیدہ امور میری طرف ہی لوٹتے ہیں، ساری تعریفیں تیرے لئے ہیں تو ہر چیز پر قادر ہے، میرے پچھلے سارے گناہ معاف فرما اور آئندہ زندگی میں ہر گناہ اور ہر ناگواری سے میری حفاظت فرما اور ان پاکیزہ اعمال کی مجھے توفیق عطا فرما جن سے تو مجھ سے راضی ہو جائے اور میری توبہ قبول فرما۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا واقعہ سنایا۔ آپ ﷺ نے فرمایا یہ حضرت جبرئیل علیہ السلام تھے۔ (حیاء الصحابہ، جلد ۳، صفحہ ۶۱۰)

## (۸) مومن کی موت پر فرشتے کی نرمی

حضرت سلمہ بن عطیہ اسدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، حضرت سلمان رضی اللہ عنہ ایک آدمی کی عیادت کے لئے گئے۔ وہ نزع کی حالت میں تھا تو حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اے فرشتے! ان کے ساتھ نرمی کرو۔ اس بیمار آدمی نے کہا: وہ فرشتہ کہہ رہا ہے میں ہر مومن کے ساتھ نرمی کرتا ہوں۔ (حیاء الصحابہ، جلد ۳، صفحہ ۲۰۹)

## (۹) ”يَا رَحِمَ الرَّحِيمِينَ“ کہہ کر دُعائے ظالم کے ظلم سے نجات ملے گی

حضرت لیث بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے اپنا واقعہ اس طرح سنایا کہ میں نے طائف میں ایک آدمی سے کرایہ پر نچر لیا، کرایہ پر دینے والے نے شرط لگائی کہ وہ راستہ میں جس منزل پر چاہے گا مجھے ٹھہرائے گا۔ چنانچہ وہ مجھے ایک ویرانے کی طرف لے کر چل پڑا اور وہاں پہنچ کر اس نے کہا: یہاں اتر جاؤ۔ میں وہاں اتر گیا تو: دیکھا کہ بہت سے لوگ وہاں قتل ہوئے پڑے تھے۔ جب وہ مجھے قتل کرنے لگا تو میں نے کہا: مجھے ذرا دو رکعت نماز پڑھنے دو اس نے کہا، پڑھ لو، تم سے پہلے ان لوگوں نے بھی نماز پڑھی تھی لیکن نماز سے انہیں کوئی فائدہ نہ ہوا تھا جب میں نماز پڑھ چکا تو وہ مجھے قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا تو میں نے کہا: يَا رَحِمَ الرَّحِيمِينَ تو اس نے ایک آواز سنی کہ اسے قتل نہ کرو، وہ ایک دم ڈر گیا اور اس آواز سے کہا يَا رَحِمَ الرَّحِيمِينَ اس طرح تین مرتبہ ہوا پھر اچانک گھوڑے پر ایک سوار نمودار ہوا، اس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک نیزہ تھا، اس نیزے کے سرے سے آگ کا شعلہ نکل رہا تھا۔ اس سوار نے اس کو اس زور سے نیزہ مارا کہ پار ہو کر کمر کی طرف نکل آیا اور وہ مرکز میں گر گیا۔ پھر مجھ سے کہا، جب تم پہلی دفعہ يَا رَحِمَ الرَّحِيمِينَ کہہ کر پکارا تو میں اس وقت ساتویں آسمان پر تھا، جب تم نے دوبارہ پکارا تو میں آسمان دنیا پر تھا، جب تم نے تیسری بار پکارا تو میں اس وقت ساتویں آسمان پر تھا، جب تم نے دوبارہ پکارا تو میں آسمان دنیا پر تھا، جب تم نے تیسری بار پکارا تو میں آپ کے پاس پہنچ گیا۔ (حیاء الصحابہ، جلد ۳، صفحہ ۱۰۶)

## (۱۰) دشمن پر غالب ہونے کا نبوی نسخہ

حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک غزوہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ دشمن سے مقابلہ ہوا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دُعا کرتے ہوئے سنا:

﴿ يَا مَلِكُ يَوْمَ الدِّينِ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾

ترجمہ: ”اے روز جزا کے مالک! ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔“

میں نے دیکھا کہ دشمن کے آدمی گرتے چلے جا رہے ہیں اور فرشتے انہیں آگے سے پیچھے سے مار رہے ہیں۔ (حیاء الصحابہ، جلد ۳، صفحہ ۱۰۲)

## (۱۱) لوگ چار قسم کے ہوتے ہیں

حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لوگ چار قسم کے ہوتے ہیں:

- ① ایک تو وہ جسے بھلائی میں سے بہت حصہ ملا لیکن اس کے اخلاق اچھے نہیں۔
- ② وہ جس کے اخلاق تو اچھے ہیں لیکن بھلائی کے کاموں میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔
- ③ وہ جس کے نہ اخلاق اچھے ہیں اور نہ بھلائی کے کاموں میں اس کا کوئی حصہ ہے۔ (یہ تمام لوگوں میں سب سے برا ہے)۔

⑤ چوتھا وہ جس کے اخلاق بھی اچھے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں اس کا حصہ بھی خوب ہے، یہ لوگوں میں سب سے افضل ہے۔

(حیاء الصحابہ، جلد ۳، صفحہ ۵۹۰)

### ﴿۱۲﴾ اے گناہ کرنے والے، گناہ کے بُرے انجام سے مطمئن نہ ہو جانا

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، اے گناہ کرنے والے، گناہ کے بُرے انجام سے مطمئن نہ ہو جانا، گناہ کرنے کے بعد بعض ایسی باتیں ہوتی ہیں جو گناہ سے بھی بڑی ہوتی ہیں۔ گناہ کرتے ہوئے تمہیں اپنے دائیں بائیں کے فرشتوں سے شرم نہ آئی، تم نے جو گناہ کیا ہے یہ اس سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کیا کریں گے اور پھر تم ہنستے ہو تمہارا یہ ہنسنا گناہ سے بھی بڑا ہے اور جب تمہیں گناہ کرنے میں کامیابی حاصل ہو جاتی ہے اور تم اس گناہ پر خوش ہوتے ہو تو تمہاری یہ خوشی اس گناہ سے بھی بڑی ہے اور جب تم گناہ نہ کر سکو اور اس پر تم غمگین ہو جاؤ تو تمہارا یہ غمگین ہونا اس گناہ کے کر لینے سے زیادہ بڑا ہے۔ گناہ کرتے ہوئے ہوا کے چلنے سے تمہارے دروازہ کا پردہ مل جائے، اس سے تم ڈرتے ہو اور اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اس سے تمہارا دل پریشان نہیں ہوتا تو یہ کیفیت اس گناہ کے کر لینے سے بڑا گناہ ہے۔ (حیاء الصحابہ، جلد ۳، صفحہ ۵۸۸)

### ﴿۱۳﴾ دشمن سے کنارہ کش رہو اور دوست کے ساتھ چوکنا ہو کر چلو

ایک آدمی نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عرض کیا، اے ابوالمزدرا! آپ مجھے کچھ وصیت فرمادیں۔ فرمایا: لایعنی والے کام میں ہرگز نہ لگو اور دشمن سے کنارہ کش رہو۔ اور دوست کے ساتھ چوکنے ہو کر چلو (دوستی میں تم سے غلط کام نہ کروالے) زندہ آدمی کی انہیں باتوں پر رشک کرو جن باتوں پر مر جانے والے پر رشک کرتے ہو یعنی نیک اعمال اور اچھی صفات پر اور اپنی حاجت اس آدمی سے نہ طلب کرو جسے تمہاری حاجت پوری کرنے کی پروا نہیں۔ (حیاء الصحابہ، جلد ۳، صفحہ ۵۸۷)

### ﴿۱۴﴾ مومن چار حالتوں کے درمیان رہتا ہے

حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مومن چار حالتوں کے درمیان رہتا ہے، اگر کسی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو صبر کرتا ہے اور اگر کوئی نعمت ملتی ہے تو شکر کرتا ہے اور اگر بات کرتا ہے تو سچ بولتا ہے اور اگر کوئی فیصلہ کرتا ہے تو انصاف والا فیصلہ کرتا ہے اور ایسے مومن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿نُورٌ عَلٰی نُورٍ﴾ (سورہ نور، آیت: ۳۵)

مومن پانچ قسم کے نوروں میں چلتا پھرتا ہے اس کا کلام نور ہے اور اس کا علم نور ہے۔ مومن اندر جاتا ہے تو نور میں اور باہر آتا ہے تو نور سے اور قیامت کے دن یہ نور کی طرف لوٹ کر جائے گا۔ اور کافر پانچ قسم کی ظلمتوں (اندھیروں) میں چلتا پھرتا ہے۔ اس کا کلام ظلمت ہے، اس کا عمل ظلمت ہے، کافر اندر جاتا ہے تو ظلمت میں اور باہر آتا ہے تو ظلمت سے اور قیامت کے دن یہ بے شمار ظلمتوں کی طرف لوٹ کر جائے گا۔ (حیاء الصحابہ، جلد ۳، صفحہ ۵۸۶)

### ﴿۱۵﴾ فتنہ تین آدمیوں کے ذریعہ سے آتا ہے

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، فتنہ تین آدمیوں کے ذریعے سے آتا ہے۔ ایک تو اس ماہر اور طاقتور عالم کے ٹکڑے ہو جانے کے ذریعے سے جو اٹھنے والی ہر چیز کا تلواریں کے ذریعہ سے قلع قمع کر دیتا ہے، دوسرے اس بیان والے کے ذریعے جو فتنہ کی دعوت دیتا ہے، تیسرے سردار اور حاکم کے ذریعے سے۔ عالم اور بیان کرنے والے کو تو فتنہ منہ کے بل گر دیتا ہے البتہ سردار کو فتنہ خوب کر دیتا ہے اور پھر جو کچھ اس کے پاس ہوتا ہے اس سب کو فتنہ میں مبتلا کر دیتا ہے۔ (حیاء الصحابہ، جلد ۳، صفحہ ۵۸۵)



## ﴿۱۶﴾ فتنہ جب آتا ہے تو بالکل حق جیسا لگتا ہے

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، فتنوں سے بچ کر رہو اور کوئی آدمی خود اٹھ کر فتنے کی طرف نہ جائے کیونکہ اللہ کی قسم! جو بھی از خود اٹھ کر فتنوں کی طرف جائے گا اسے فتنے ایسے بہا کر لے جائیں گے جیسے سیلاب کوڑے کے ڈھیر کو بہا کر لے جاتا ہے۔ فتنہ جب آتا ہے تو بالکل حق جیسا لگتا ہے یہاں تک کہ جاہل کہتا ہے کہ یہ تو حق جیسا ہے (اس وجہ سے لوگ فتنہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں) لیکن جب جاتا ہے تو اس وقت صاف پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تو فتنہ تھا۔ لہذا جب تم فتنہ کو دیکھو تو اس سے بچ کر رہو اور گھروں میں بیٹھ جاؤ اور گلواریں توڑ ڈالو اور کمان کی تانت کے ٹکڑے کر دو۔ (حیاء الصحابہ، جلد ۳، صفحہ ۵۸۵)

## ﴿۱۷﴾ دل چار قسم کے ہوتے ہیں

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دل چار قسم کے ہوتے ہیں:

- ① ایک وہ دل جس پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ یہ تو کافر کا دل ہے۔
- ② دوسرا دمنہ والا دل یہ منافق کا دل ہے۔
- ③ تیسرا وہ صاف سترا دل ہے جس میں چراغ روشن ہے یہ مؤمن کا دل ہے۔
- ④ چوتھا وہ دل جس میں نفاق بھی ہے اور ایمان بھی۔ ایمان کی مثال درخت جیسی ہے جو عمدہ پانی سے بڑھتا ہے اور نفاق کی شان پھوڑے جیسی ہے جو پیپ اور خون سے بڑھتا ہے۔ ایمان اور نفاق میں سے جس کی صفات غالب آجائیں گی وہی غالب آجائے گا۔ (حیاء الصحابہ، جلد ۳، صفحہ ۵۸۲)

## ﴿۱۸﴾ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کا درد بھرا خط

حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے نام

حضرت معمر بن عبد اللہ اپنے ایک ساتھی سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو درداء نے حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ کو خط میں لکھا کہ اے میرے بھائی! اپنی صحت اور فراغت کو اس بلاء کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو جس کو تمام بندے مل کر نہیں ٹال سکتے (اس بلا سے مراد موت ہے) اور مصیبت زدہ کی دعا کو غنیمت سمجھو۔ اور اے میرے بھائی! مسجد تمہارا گھر ہونا چاہئے، یعنی مسجد میں زیادہ وقت اعمال میں گزرے کیونکہ میں نے حضور ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مسجد ہر متقی کا گھر ہے اور مسجد جن لوگوں کا گھر ہوگی ان کے لئے اللہ نے یہ ذمہ داری لے رکھی ہے کہ انہیں خوشی اور راحت نصیب ہوگی اور وہ پل صراط کو پار کر کے اللہ کی رضامندی حاصل کریں گے اور اے میرے بھائی! جہنم پر رحم کرو اسے اپنے قریب کر دو اور اسے اپنے کھانے میں سے کھلاؤ کیونکہ ایک مرتبہ ایک آدمی نے حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے دل کی سختی کی شکایت کی تو حضور ﷺ نے فرمایا، کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو جائے۔ اس نے کہا، جی ہاں۔ حضور ﷺ نے فرمایا، کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو جائے۔ اس نے کہا، جی ہاں۔ حضور ﷺ نے فرمایا، جہنم کو اپنے سے قریب کر دو اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرو اور اسے اپنے کھانے میں کھلاؤ، اس سے تمہارا دل نرم ہو جائے گا اور تمہاری ہر ضرورت پوری ہوگی۔ اے میرے بھائی! اتنا جمع نہ کرو جس کا تم شکر ادا نہ کر سکو کیونکہ میں نے حضور ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ وہ دنیا والا انسان جس نے اس دنیا کے خرچ کرنے میں اللہ کی اطاعت کی تھی اسے قیامت کے دن اس حالت میں لایا جائے گا کہ وہ آگے آگے ہوگا اور اس کا مال پیچھے ہوگا، وہ جب بھی پل صراط پر لڑکھڑائے گا تو اس کا مال اس سے کہے گا کہ تم بے فکر ہو کر چلتے رہو (تم جہنم میں نہیں گر سکتے کیونکہ) مال کا جو حق تمہارے ذمہ تھا وہ تم نے

ادا کیا تھا۔ پھر حضور ﷺ نے فرمایا: جس آدمی نے اس دنیا کے بارے میں اللہ کی اطاعت نہیں کی تھی اسے اس حال میں لایا جائے گا کہ اس کا مال اس کے کندھوں کے درمیان ہوگا اور اس کا مال اسے ٹھوکر مار کر کبے گا، تیرا ناس ہو تو نے میرے بارے میں اللہ کے حکم پر کیا کیوں نہیں کیا؟ یہ مال اس کے ساتھ بار بار ایسا ہی کرتا رہے گا، یہاں تک کہ وہ ہلاکت کو پکارنے لگے گا اور اے میرے بھائی! مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ تم نے ایک خادم خریدا ہے، حالانکہ میں نے حضور ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بندہ کا اللہ سے اور اللہ کا بندے سے تعلق اس وقت تک رہتا ہے جب تک کہ اس کی خدمت نہ کی جائے اپنے کام وہ خود کرے اور جب اس کی خدمت ہونے لگتی ہے تو اس پر حساب واجب ہو جاتا ہے۔ ام درداہ رضی اللہ عنہا نے مجھ سے ایک خادم مانگا تھا اور میں ان دنوں مالدار بھی تھا لیکن میں نے چونکہ حساب والی حدیث اس رکھی تھی اس وجہ سے مجھے خادم خریدنا پسند نہ آیا اور اے میرے بھائی! میرے لئے اور تمہارے لئے کون اس بات کی ضمانت دے سکتا ہے کہ ہم قیامت کے دن ایک دوسرے سے مل سکیں گے اور ہمیں حساب کا کوئی ڈرنہ ہوگا؟ اور اے میرے بھائی! حضور ﷺ کے صحابہ کے ہونے کی وجہ سے دھوکے میں مت آ جانا کیونکہ ہم نے حضور ﷺ کے بعد بہت لمبا عرصہ گزار لیا ہے اور اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ ہم نے حضور ﷺ کے بعد کیا کیا ہے۔ (حیاء الصحابہ، جلد ۳، صفحہ ۵۸۰)

### (۱۹) اپنی مصیبت کا کسی سے شکوہ نہ کرو

حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تین کام ایسے ہیں جن کو کرنے سے ابن آدم کے سارے کام قابو میں آ جائیں گے۔  
 ① تم اپنی مصیبت کا کسی سے شکوہ نہ کرو۔  
 ② اپنی بیماری کسی کو مت بتاؤ اور اپنی زبان سے اپنی خوبیاں بیان نہ کرو۔  
 ③ اپنے آپ کو مقدس اور پاکیزہ مت سمجھو۔ (حیاء الصحابہ، جلد ۳، صفحہ ۵۸۰)

### (۲۰) زندگی بھر خیر کو تلاش کرتے رہو

حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا، زندگی بھر خیر کو تلاش کرتے رہو۔ اللہ کی رحمت کے جھونکوں کے سامنے خود کو لاتے رہو، کیونکہ اللہ کی رحمت کے جھونکے چلتے رہتے ہیں، جنہیں اللہ اپنے جن بندوں پر چاہتے ہیں بھیج دیتے ہیں اور اللہ سے یہ مال کرو کہ وہ تمہارے عیبوں پر پردہ ڈالے اور تمہاری خوف کی جگہوں کو امن والا بنائے۔ (حیاء الصحابہ، جلد ۳، صفحہ ۵۷۹)

### (۲۱) ایک زبردست اور موثر نصیحت

حضرت شرجیل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ جب کوئی جنازہ دیکھتے تو فرماتے، تم صبح کو جا رہے ہو، شام کو ہم بھی تمہارے پاس آ جائیں گے، یا تم شام کو جا رہے ہو صبح کو ہم بھی آ جائیں گے۔ جنازہ ایک زبردست اور موثر نصیحت ہے۔ لیکن لوگ کتنی جلدن غافل ہو جاتے ہیں، نصیحت حاصل کرنے کے لیے موت کافی ہے۔ ایک ایک کر کے لوگ جا رہے ہیں اور آخر میں ایسے لوگ رہتے جا رہے ہیں جنہیں کچھ سمجھ نہیں ہے۔ (جنازہ دیکھ کر پھر اپنے دنیوی کاموں میں لگے رہتے ہیں) (حیاء الصحابہ، جلد ۳، صفحہ ۵۷۸)

### (۲۲) وہ قوم جس کے گھر قبر میں بدل گئے

حضرت ابو الدرداء فرماتے تھے، اے دمشق والو! کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ اتنا مال جمع کر رہے ہو جسے تم کھا نہیں سکتے اور اتنے گھر بنا رہے ہو جن میں تم رہ نہیں سکتے اور اتنی بڑی امیدیں لگا رہے ہو جن تک تم پہنچ نہیں سکتے اور تم سے پہلے کی قومیں مال جمع کر کے محفوظ کر لیتی تھیں اور انہوں نے بڑی لمبی امیدیں لگا رکھی تھیں اور بڑی مضبوط عمارتیں بنائی تھیں لیکن اب وہ سب ہلاک ہو چکی ہیں اور ان کی امیدیں دھوکہ ثابت ہوئیں اور ان کے گھر قبر بن چکے ہیں۔ یہ ”قوم عاد“ ہے جن کے مال و اولاد سے عدن سے عمان تک کا سارا علاقہ بھرا ہوا تھا

لیکن اب مجھ سے ”عاد“ کا سارا ترکہ دو درہم میں خریدنے کے لیے کون تیار ہے؟ (حیاء الصحابہ، جلد ۳، صفحہ ۵۷۷)

﴿۲۳﴾ جو لوگوں کے عیب تلاش کرے گا اس کا غم لمبا ہوگا

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم لوگوں کو ان چیزوں کا مکلف نہ بناؤ جن کے وہ (اللہ کی طرف سے) مکلف نہیں ہیں، لوگوں کا رب تو ان کا محاسبہ نہ کرے اور تم ان کا محاسبہ کرو، یہ ٹھیک نہیں۔ اے ابن آدم! تو اپنی فکر کر کیونکہ جو لوگوں میں نظر آنے والے عیوب تلاش کرے گا، اس کا غم لمبا ہوگا اور اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو سکے گا۔ (حیاء الصحابہ، جلد ۳، صفحہ ۵۷۶)

﴿۲۴﴾ زمین کسی کو پاک نہیں بناتی، انسان تو اپنے عمل سے پاک اور مقدس بنتا ہے

حضرت یحییٰ بن سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ (دمشق میں رہتے تھے، انہوں نے) حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو خط میں لکھا کہ آپ (دمشق کی) پاک سرزمین میں تشریف لے آئیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے انہیں جواب میں لکھا کہ زمین کسی کو پاک نہیں بناتی انسان تو اپنے عمل سے پاک اور مقدس بنتا ہے اور مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ آپ کو وہاں طیب (یعنی قاضی) بنا دیا گیا ہے، اگر آپ کے ذریعہ سے بیماروں کو صحت مل رہی ہے یعنی آپ عدل و انصاف والے فیصلے کر رہے ہیں تو پھر تو بہت اچھی بات ہے، شاباش ہو کہ آپ کو اور اگر آپ کو طب نہیں آتی اور زبردستی حکیم و طبیب سے بنے ہوئے ہیں تو پھر آپ کسی انسان کو (غلط فیصلہ کر کے) مار ڈالنے سے بچیں ورنہ آپ کو جہنم میں جانا ہوگا۔ چنانچہ حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ جب بھی دو آدمیوں میں فیصلہ کرتے اور وہ دونوں پشت پھیر کر جانے لگتے تو انہیں دیکھ کر فرماتے، میں تو اللہ کی قسم! اناڑی حکیم ہوں، تم دونوں میرے پاس واپس آ کر اپنا سارا واقعہ دوبارہ سناؤ (یعنی بار بار تحقیق کر کے فیصلہ کرتے) (حیاء الصحابہ، جلد ۳، صفحہ ۵۷۵)

﴿۲۵﴾ تین آدمیوں پر ہنسی آتی ہے اور تین چیزوں سے رونا آتا ہے

حضرت جعفر بن برقان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے تین آدمیوں پر ہنسی آتی ہے اور تین چیزوں سے رونا آتا ہے۔ ایک تو اس آدمی پر ہنسی آتی ہے جو دنیا کی امیدیں لگا رہا ہے حالانکہ موت اُسے تلاش کر رہی ہے۔ دوسرے اس آدمی پر جو غفلت میں پڑا ہوا ہے اور اس سے غفلت نہیں برتی جا رہی۔ یعنی فرشتے اس کا ہر برا عمل لکھ رہے ہیں اور اسے ہر عمل کا بدلہ ملے گا۔ تیسرے منہ بھر کر ہنسنے والے پر جسے معلوم نہیں ہے کہ اس نے اپنے رب کو خوش کر رکھا ہے یا ناراض۔ اور مجھے تین چیزوں سے رونا آتا ہے۔ پہلی چیز محبوب دوستوں یعنی حضرت محمد ﷺ اور ان کی جماعت کی جدائی، دوسری موت کی سختی کے وقت آخرت کے نظر آنے مناظر کی ہولناکی۔ تیسری اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا جبکہ مجھے یہ معلوم نہیں ہوگا کہ میں جہنم میں جاؤں گا یا جنت میں۔ (حیاء الصحابہ، جلد ۳، صفحہ ۵۷۴)

﴿۲۶﴾ حق وزنی ہوتا ہے اور باطل ہلکا ہوتا ہے

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: حق (نفس پر) ہماری ہوتا ہے لیکن اس کا انجام اچھا ہوتا ہے اور باطل ہلکا لگتا ہے لیکن اس کا انجام برا ہوتا ہے اور انسان کی بہت سی خواہشیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے نتیجے میں انسان کو بڑے لمبے عُم اٹھانے پڑتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کبھی دلوں میں نیک اعمال کا بڑا شوق اور جذبہ ہوتا ہے اور کبھی شوق اور جذبہ بالکل نہیں رہتا تو جب دل میں شوق اور جذبہ ہو تو اسے تم لوگ غنیمت سمجھو اور جب شوق اور جذبہ بالکل نہ ہو تو دل کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ (حیاء الصحابہ، جلد ۳، صفحہ ۵۷۱)

## (۲۷) دُنیا کا صاف حصہ چلا گیا اور گدلا حصہ رہ گیا

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے اس آدمی پر بہت غصہ آتا ہے جو مجھے فارغ نظر آتا ہے، نہ آخرت کے کسی عمل میں لگا ہوا ہے اور نہ دُنیا کے کسی کام میں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے تم میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں ملنا چاہیے جو رات کو مردہ پڑا رہے اور دن کو "قطرب" کینزے کی طرح پھد کتا پھرے یعنی رات بھر تو پڑا سو تار ہے اور دن میں دُنیا کے کاموں میں خوب بھاگ دوڑ کرے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا دُنیا کا صاف حصہ تو چلا گیا اور گدلا حصہ رہ گیا ہے، لہذا آج تو موت ہر مسلمان کے لیے تھم ہے۔

(خوبیہ ابو نعیم، جلد ۱، صفحہ ۱۳۱)

ایک روایت میں یہ ہے کہ دنیا تو پہاڑ کی چوٹی کے تالاب کی طرح ہے جس کا صاف حصہ جا چکا ہے اور گدلا حصہ رہ گیا ہے۔

(خوبیہ ابو نعیم، جلد ۱، صفحہ ۱۳۱)

## (۲۸) سب سے زیادہ ڈر عورتوں کی آزمائش کا ہے

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا تین کام ایسے ہیں جو انہیں کرے گا وہ اپنے آپ کو بے زاری اور نفرت کے لئے پیش کرے گا یعنی لوگ اس سے بے زار ہو کر نفرت کریں گے، غیر تعجب کی بات پر ہنسا اور بغیر جاگے رات بھر سونا اور بغیر بھوک کے کھانا۔

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جنگلہ سستی کی آزمائش سے تم لوگوں کا امتحان لیا گیا۔ اس میں تو تم کامیاب ہو گئے، تم نے صبر سے کام لیا، اب خوشحالی کی آزمائش میں ڈال کر تمہارا امتحان لیا جائے گا اور مجھے تم پر سب سے زیادہ ڈر عورتوں کی آزمائش کا ہے۔ جب وہ سونے، چاندی کے کنگن پہن لیں گی اور ملک شام کی باریک اور یمن کی پھول دار چادریں پہن لیں گی تو وہ مالدار مرد کو تھکا دیں گی اور فقیر مرد کے ذمہ ایسی چیز لگا دیں گی جو اُسے میسر نہیں ہوں گی۔ (اخرجہ ابو نعیم، جلد ۱، صفحہ ۲۳۷)

## (۲۹) اپنے ذمہ داروں کی خیر خواہی کرو ان کو دھوکہ نہ دو

حضرت سعید بن ابی سعید مقبری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی قبر اُردن میں ہے، جب وہ طاعون میں مبتلا ہوئے تو وہاں جتنے مسلمان تھے ان سب کو بلا کر فرمایا، میں تمہیں وصیت کرنے لگا ہوں اگر تم اسے قبول کرو گے تو ہمیشہ خیر پر رہو گے۔ نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، صدقہ خیرات دو، حج اور عمرہ کرتے رہو، ایک دوسرے کو وصیت کرو، اپنے امیروں کی خیر خواہی کرو، ان کو دھوکہ نہ دو، اور دُنیا تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کرنے پائے، اگر کسی آدمی کو ہزار برس کی زندگی بھی مل جائے تو آخر اسے اسی جگہ جانا ہوگا جہاں آج تم مجھے جاتا ہوا دیکھ رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمام بنی آدم پر موت کو لکھ دیا ہے۔ لہذا ان سب کو مرنے اور ان میں سب سے زیادہ غفلت نہ ہے جو اپنے رب کی سب سے زیادہ اطاعت کرنے والا اور اپنی آخرت کے لیے سب سے زیادہ عمل کرنے والا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے معاذ بن جبل! آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں اور پھر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ پھر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے لوگوں میں کھڑے ہو کر فرمایا: اے لوگو! تم اللہ کے سامنے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرو کیونکہ جو بندہ بھی گناہوں سے توبہ کرے گا اللہ کے سامنے حاضر ہوگا تو اس کا اللہ پر یہ حق ہوگا کہ اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے لیکن اس توبہ سے قرض معاف نہیں ہوگا وہ تو ادا ہی کرنا ہوگا کیونکہ بندہ اپنے قرضہ کے بدلے میں گروی رکھ دیا جائے گا، تم میں سے جس نے اپنے بھائی کو چھوڑا ہوا ہے۔ اسے چاہئے کہ وہ خود جا کر اپنے بھائی سے ملاقات کرے اور اس سے مصافحہ کرے، کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو تین دن سے زیادہ نہ ہو چھوڑے کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ (اخرجہ ابن عساکر کذا فی منتخب المعز، جلد ۵، صفحہ ۷۲)

حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مومن کے دل کی مثال چڑیا جیسی ہے جو ہر دن نامعلوم کتنی مرتبہ ادھر ادھر پلٹتا رہا ہے (اس لئے آدمی مشورہ کے تابع ہو کر چلے) (ارخا ابو نعیم فی اہلیہ، جلد ۱، صفحہ ۱۰۲)

### (۳۰) پرانے گناہوں کو نئی نیکیوں کے ذریعے سے ختم کرو

حضرت نیراں بن حمر ابو الحسن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ لشکر میں چلے جا رہے تھے۔ فرمانے لگے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے کپڑوں کو تو خوب اجلا اور سفید کر رہے ہیں، لیکن اپنے دین کو میلا کر رہے ہیں، یعنی دین کا نقصان کر کے دنیا اور ظاہری شان و شوکت حاصل کر رہے ہیں۔ غور سے سنو! بہت سے لوگ دیکھنے میں تو اپنے نفس کا اکرام کرنے والے ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ اپنے نفس کی بے عزتی کرنے والے ہوتے ہیں، پرانے گناہوں کو نئی نیکیوں کے ذریعہ سے ختم کرو اگر تم میں سے کوئی اتنے گناہ کر لے جس سے زمین و آسمان کے درمیان کا خلا بھر جائے اور پھر وہ ایک نیکی کر لے تو یہ نیکی ان سب گناہوں پر غالب آ جائے گی۔ (عند ابن اسماعیل کذا فی المکنز، جلد ۸، صفحہ ۲۳۶)

### (۳۱) اپنی رائے کو وحی کی طرح حق نہ سمجھئے

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا: اے ابو الحسن! مجھے کچھ نصیحت کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا:

- ① آپ اپنے یقین کو شک نہ بنائیں (یعنی مثلاً روزی کا ملنا یقینی ہے، اس کی تلاش میں اس طرح اور اتنا نہ لگیں کہ گویا آپ کو اس میں کچھ شک ہے)۔
- ② اور اپنے علم کو جہالت نہ بنائیں (جو علم پر عمل نہیں کرتا وہ اور جاہل دونوں برابر ہوتے ہیں)۔
- ③ اور اپنے گمان کو حق نہ سمجھیں (یعنی آپ اپنی رائے کو وحی کی طرح حق نہ سمجھیں) اور یہ بات آپ جان لیں کہ آپ کی دنیا تو صرف اتنی ہے کہ جو آپ کو ملی اور آپ نے اسے آگے چلا دیا یا تقسیم کر کے برباد کر دیا یا پہن کر پرانا کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اے ابو الحسن! آپ نے سچ کہا۔ (خواب ابن مساکر کذا فی المکنز، جلد ۸، صفحہ ۲۳۱)

### (۳۲) علمائے کرام اس مضمون کو ضرور پڑھیں

ہمارے اس زمانہ میں ایک نہایت ہی اہم دینی ضرورت یہ ہے کہ ہمارے جید الاستعداد علماء کرام چھوٹے چھوٹے بچوں کو انگلش اور ہندی اور مقامی زبان سکھانے کے لئے اسلامی طرز پر ایک کورس تیار کریں، جس میں جانداروں کی تصاویر بالکل نہ ہوں اور غیر اسلامی ناموں کے بجائے اسلامی نام ہوں، اور اسکولوں میں رائج کورس میں جو غیر اسلامی مضامین ہوتے ہیں ان سے بھی وہ کورس پاک و صاف ہو، بلکہ اسلامی عقائد اور ہمارے اسلاف کے واقعات و کارناموں سے وہ آراستہ ہو، جس سے بچے زبان دانی کے ساتھ اسلام کے عقائد و آداب سے بھی واقف ہوں، بلکہ ہمارے اسلاف کے کارناموں سے بھی آگاہ ہوں۔ چنانچہ کچھ حساس بیدار مغز علماء نے اس دینی ضرورت کو محسوس کر کے اسلامی طرز پر مقامی زبان سکھانے والی ابتدائی و بنیادی کتابیں تالیف کرنا شروع بھی کر دیا ہے اور کچھ حضرات نے ایسی ہی کچھ کتابیں شائع بھی کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مبارک محنتوں کو قبول فرمائے اور تکمیل تک پہنچائے اور ہمارے عوام کو ان کی قدر دانی نصیب فرمائے۔ آمین

اس کام کی بڑی اہمیت اس بنا پر ہے کہ اسکولوں میں رائج کورس کو پڑھ کر ہمارے بچوں کا ذہن غیر اسلامی بنتا ہے۔ مثلاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کی تصویر دیکھ کر اور ابن کو سولی دینے کا مضمون پڑھ کر بچوں کا ذہن قرآن کے خلاف بنتا ہے، قرآن تو صاف الفاظ

میں کہتا ہے: ﴿وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ﴾ (سورۃ النساء، آیت: ۱۵۷) یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے دشمنوں نے قتل نہیں کیا اور نہ سولی دی۔ اسی طرح دوسرے غیر اسلامی مضامین پڑھ کر عقائد خراب ہوتے ہیں، حالانکہ عقائد ہی اصل ایمان ہے۔

### (۳۳) عنقریب بچے حاکم بن جائیں گے اور لوگوں میں اپنی مرضی اور خواہش کے فیصلے کریں گے

حضرت ابو زید مدنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر کھڑے ہو کر بیان فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کھڑے ہونے کی جگہ سے ایک میٹر می نیچے کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا، تمام تعریفیں اُس اللہ کے لیے ہیں جس نے ابو ہریرہ کو اسلام کی ہدایت دی اور تمام تعریفیں اُس اللہ کے لئے ہیں جس نے ابو ہریرہ کو قرآن سکھایا اور تمام تعریفیں اُس اللہ کے لیے ہیں جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے کا موقع عنایت فرما کر ابو ہریرہ پر بڑا احسان فرمایا۔ تمام تعریفیں اُس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے خمیری روٹی کھلائی اور اچھا کپڑا پہنایا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے بشتِ غردان سے میری شادی کرادی۔ حالانکہ پہلے میں پیٹ بھر کھانے کے بدلے اس کے پاس مزدوری پر کام کرتا تھا اور وہ مجھے سواری دیا کرتی تھی اور اب میں اسے سواری دیتا ہوں جیسے وہ دیا کرتی تھی۔ پھر فرمایا عربوں کے لیے ہلاکت ہو کہ ایک بہت بڑا شتر قریب آ گیا ہے اور ان کے لیے ہلاکت ہو کہ عنقریب بچے حاکم بن جائیں گے اور لوگوں میں اپنی مرضی اور خواہش کے فیصلے کریں گے اور غصہ میں آ کر لوگوں کو ناحق قتل کریں گے۔ (حیۃ اصحاب، جلد ۳، صفحہ ۵۲۵)

### (۳۴) دُنیا نے اپنے ختم ہونے کا اعلان کر دیا ہے اور پیٹھ پھیر کر تیزی سے جا رہی ہے

حضرت خالد بن عمیر عدوی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، حضرت عتبہ بن غزوآن رضی اللہ عنہ بصرہ کے گورنر تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے ہم لوگوں میں بیان کیا تو پہلے اللہ کی حمد و ثناء بیان کی، پھر فرمایا انا بعد! دُنیا نے اپنے ختم ہو جانے کا اعلان کر دیا ہے اور پیٹھ پھیر کر تیزی سے جا رہی ہے اور دُنیا میں سے بس تھوڑا سا حصہ باقی رہ گیا جیسے برتن میں پانی اخیر میں تھوڑا سا رہ جاتا ہے۔ اور آدی اسے چوس لیتا ہے اور تم یہاں سے منتقل ہو کر ایسے جہاں میں چلے جاؤ گے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، لہذا جو اچھے اعمال تمہارے پاس موجود ہیں ان کو لے کر اگلے جہاں میں جاؤ، ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جہنم کے کنارے سے ایک پتھر پھینکا جائے گا جو ستر (70) سال تک جہنم میں گرتا رہے گا لیکن پھر بھی اس کی تہہ تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اللہ کی قسم! یہ جہنم بھی ایک دن انسانوں سے بھر جائے گی، کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہو رہا ہے؟ اور ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جنت کے دروازے کے دو پتوں کے درمیان چالیس سال کا فاصلہ ہے۔ لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ جنتوں کے جہنم کی وجہ سے اتنا چوڑا دروازہ بھی بھرا ہوا ہوگا اور میں نے وہ زمانہ بھی دیکھا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف سات آدمی تھے اور میں بھی ان میں شامل تھا اور ہمیں کھانے کو صرف درختوں کے پتے ملتے تھے جنہیں مسلسل کھانے کی وجہ سے ہمارے جڑے بھی زخمی ہو گئے تھے اور مجھے ایک گری پڑی چادر ملی تھی، میں نے اس کے دو کلاے کئے، ایک ٹکڑے کو میں نے لنگی بنا لیا اور ایک کو حضرت سعد بن مالک رضی اللہ عنہ نے۔ ایک زمانہ میں تو ہمارا فقر و فاقہ کا یہ حال تھا اور آج ہم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی شہر کا گورنر بنا ہوا ہے اور میں اس بات سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی نگاہ میں تو بڑا ہوں اور اللہ کے یہاں چھوٹا ہوں۔ (اخرج مسلم کذا فی الترغیب، جلد ۵، صفحہ ۱۷۹)

حاکم کی روایت کے آخر میں یہ مضمون بھی ہے کہ ہر نبوت کی لائن دن بدن کم ہوتی چلی گئی ہے اور بالآخر اس کی جگہ بادشاہت نے لے لی ہے اور میرے بعد تم اور گورنروں کا تجربہ کر لو گے۔ (اخرج الحاکم فی المستدرک، جلد ۳، صفحہ ۲۶۱)

### (۳۵) سانپ مارنے کی عجیب فضیلت

حضرت ابوالاحوص حشمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک دن حضرت ابن مسعود بیان فرما رہے تھے کہ اتنے میں انہیں دیوار پر سانپ چلتا ہوا نظر

آیا، انہوں نے بیان چھوڑ کر چھڑی سے اسے اتا مارا کہ وہ مر گیا۔ پھر فرمایا میں نے حضور ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے کسی سانپ کو مارا تو گویا اس نے ایسے مشرک آدمی کو مارا ہے جس کا خون بہانا حلال ہو گیا ہے۔ (اخر جلد، جلد ۱، صفحہ ۴۲۱)

### ﴿ ۳۶ ﴾ لوگوں میں لگ کر اپنے سے غافل نہ ہو جاؤ

ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو یہ نصیحت فرمائی کہ لوگوں میں لگ کر اپنے آپ سے غافل نہ ہو جاؤ کیونکہ تم سے اپنے بارے میں پوچھا جائے گا لوگوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ ادھر ادھر پھر کردن نہ گزار دیا کرو کیونکہ تم جو بھی عمل کرو گے وہ محفوظ کر لیا جائے گا۔ جب تم سے کوئی برا کام ہو جایا کرے تو اس کے بعد فوراً کوئی نیکی کا کام کر لیا کرو کیونکہ جس طرح نئی نیکی پرانے گناہ کو بہت زیادہ تلاش کرتی ہے اور اسے جلدی سے پالتی ہے اسی طرح اس سے زیادہ تلاش کرنے والی میں نے کوئی چیز نہیں دیکھی۔ (اخر جلد، یزدی کنز، جلد ۸، صفحہ ۴۰۸)

### ﴿ ۳۷ ﴾ آپس کا جوڑ سراسر رحمت ہے اور آپس کا توڑ عذاب ہے

حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے منبر پر ارشاد فرمایا جو تھوڑے پر شکر نہیں کرتا وہ زیادہ پر بھی نہیں کر سکتا اور جو انسانوں کا شکر نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی نہیں کر سکتا اور اللہ کی نعمتوں کو بیان کرنا بھی شکر ہے اور انہیں بیان نہ کرنا ناشکری ہے۔ آپس کا جوڑ سراسر رحمت ہے اور آپس کا ڈر عذاب ہے۔ راوی کہتے ہیں حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ نے کہا تم سوا عظیم کو چٹھے رہو یعنی نساء حق سے جڑے رہو۔ (حیاء الصحابہ، جلد ۳، صفحہ ۴۵۶)

### ﴿ ۳۸ ﴾ فرض نمازوں کے پانچ ہونے کی حکمت

سوال نمازیں پانچ ہی کیوں فرض ہوئیں، کیا حکمت ہے؟

جواب دستور یہ ہے کہ فَعَلَ الْحَكِيمُ لَا يَخْلُوَ عَنِ الْحِكْمَةِ (دانا کا فعل دانائی سے خالی نہیں ہوتا) پانچ نمازوں کی چند حکمتیں درج ذیل ہیں۔

حکمت (۱):

جب نبی کریم ﷺ معراج کے لیے تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ ﷺ کے لیے پچاس نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ پھر نبی کریم ﷺ کی بار بار شفاعت پر پینتالیس (45) نمازیں معاف کر دی گئیں۔ مگر اصول بنا دیا گیا کہ:

﴿ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ امْتِثَالِهَا ﴾ (سورہ سبأ، آیت: ۱۳)

ترجمہ: ”جو ایک نیکی لایا اسے دس گنا اجر دیا جائے گا۔“

اللہ رب العزت کی شان رحمت کا اندازہ لگائے کہ امت پانچ نمازیں پڑھے گی مگر پچاس کا اجر و ثواب پائے گی۔

عربی زبان میں صفر کو نکتہ کی مانند لکھتے ہیں۔ پروردگار عالم نے نکتہ ہٹا دیا اور امت کے لیے آسانی پیدا کر دی۔ قیامت کے دن رب کریم کی نکتہ نوازی کا ظہور ہوگا۔ رحمت کا نکتہ شامل کر کے پانچ کے بجائے پچاس نمازوں کا ثواب ہوگا۔ اردو زبان میں نکتہ کی سخاوت بیان کرنے کے لئے نکتہ نوازی کا ہی وہ شاید اسی واقعہ سے مشہور ہوا ہے۔ اگر پچاس نمازیں ہوتیں تو ہزاروں میں کوئی ایک نمازی ہوتا۔ پانچ کی وجہ سے کمزوروں کے لئے بھی آسانی ہوگی۔ ہزاروں لوگ نمازی بن گئے۔ بڑا بوجھ گردنوں سے اٹھ گیا۔

حکمت (۲):

انسان کے جسم میں حواس خمسہ موجود ہیں۔

- ① دیکھنے کی حس (قوت باصرہ)      ② سننے کی حس (قوت سامعہ)      ③ سونگھنے کی حس (قوت شامعہ)

④ چکھنے کی حس (قوت ذائقہ) ⑤ چھونے کی حس (قوت لامس)  
اللہ تعالیٰ نے پانچ حواس کے بدلے پانچ نمازیں عطا فرمائیں تاکہ ہر حس عطا ہونے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جاسکے۔  
حکمت (3):

انسانی زندگی کی پانچ نعمتیں نمایاں ہیں:

- ① کھانا پینا ② لباس ③ مکان ④ بیوی بچے ⑤ سواری  
جان کا شکر یہ ایمان لانا اور لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا اقرار کرنا جبکہ بقیہ پانچ نعمتوں کے شکرانے کے طور پر پانچ نمازیں عطا کر دی گئیں۔  
جو شخص پانچ نمازیں باقاعدگی سے ادا کرتا ہے وہ شخص اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندوں میں سے ہے۔  
روایت ہے کہ ایک شخص طواف کے دوران دُعا مانگ رہا تھا کہ اے اللہ! مجھے قلیل لوگوں میں سے بنا دے۔ کسی نے پوچھا کہ قلیل لوگوں میں سے کا کیا مطلب ہے؟ اس نے جواب دیا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے:  
﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرُونَ﴾ (سورہ سبأ، آیت: ۱۳)  
ترجمہ: ”میرے بندوں میں تھوڑے شکر گزار ہیں۔“

حکمت (4):

- حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جس شخص کو پانچ نعمتیں مل گئیں وہ سمجھ لے کہ مجھے دنیا کی سب نعمتیں مل گئیں۔  
① شکر کرنے والی زبان۔ ② ذکر کرنے والا دل۔ ③ مشقت اٹھانے والا بدن۔  
④ نیک بیوی۔ ⑤ سہولت کی روزی۔  
پانچ نمازیں ان پانچ نعمتوں کا شکر یہ ادا کرنے کے لیے کافی ہیں۔

حکمت (5):

انسانی زندگی کی پانچ حالتیں ممکن ہیں:

- ① کھڑا ہونا ② بیٹھنا ③ لیٹنا ④ جاگنا ⑤ سونا  
ان پانچ حالتوں میں انسان پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور نعمتوں کی بارش ہو رہی ہوتی ہے۔ اگر انسان ہر نعمت کا حق ادا کرنا چاہے تو وہ حق ادا کر ہی نہیں سکتا۔ سوچنے کی بات ہے کہ جب ہم نعمتوں کو گن ہی نہیں سکتے تو ان کا شکر یہ کیسے ادا کر سکتے ہیں۔ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گن ہی نہیں سکتے تو ان کا شکر یہ کیسے ادا کر سکتے ہیں۔ انسان کے لئے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ظاہر آنا ممکن نظر آتا ہے۔ پروردگار عالم نے احسان فرمایا کہ انسان پر پانچ نمازیں فرض فرمادیں۔ پس جو شخص اہتمام کے ساتھ پانچ نمازیں ادا کرے وہ زندگی کی ہر حالت میں ہونے والی اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرنے والا بن جائے گا۔

حکمت (6):

شریعت محمدیہ میں نجاست سے پاکی حاصل کرنے والے غسل پانچ ہیں:

- ① جنابت کا غسل ② حیض کا غسل ③ نفاس کا غسل  
④ اسلام لانے کا غسل ⑤ میت کا غسل



یہ پانچ غسل ہر قسم کی حقیقی نجاستوں اور حلی نجاستوں کو دور کرنے کے لیے کافی ہیں۔ سے ادا کر لے وہ ہر قسم کی باطنی نجاستوں سے پاک ہو جائے۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: پانچ نمازوں کی مثال ایک نہر کی مانند ہے جو مؤمن کے سامنے جاری ہو۔ پھر وہ مؤمن اس میں روزانہ پانچ مرتبہ غسل کرے۔ کیا اس کے جسم پر میل کچیل باقی رہ سکتا ہے؟ صحابہؓ نے عرض کیا کہ ہرگز نہیں۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا، اسی طرح جو شخص پانچ نمازیں ادا کر لیتا ہے اس کے ذمہ گناہوں کا میل کچیل نہیں رہ سکتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذُوبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ (سورہ ہود، آیت: ۱۱۴)

ترجمہ: "بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔"

حکمت (7):

قبلے پانچ طرح کے ہیں:

- ① بیت اللہ۔ اُمت محمدیہ کا قبلہ
- ② بیت المقدس۔ یہودیوں کا قبلہ
- ③ مکا شرقیہ یعنی مشرقی سمت، نصاریٰ کا قبلہ
- ④ بیت المعمور۔ ملائکہ کا قبلہ
- ⑤ وجہ اللہ۔ راہ گم متحیر انسان کا قبلہ۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

﴿فَأَيُّ مَنَاطٍ لَّوَأْتَمَّتْ وَجْهَ اللَّهِ﴾ (سورہ البقرہ، آیت: ۱۱۵)

گویا عبادت کرنے والے پانچ قسم کے لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے اُمت محمدیہ ﷺ پر پانچ نمازیں فرض کیں تاکہ ان کو تمام عبادت گزاروں سے مناسبت ہو اور سب کی عبادت کے بقدر ان کو عبادت کرنے کا اجر و ثواب حاصل ہو۔

حکمت (8):

انسان کی دنیاوی زندگی ختم ہونے پر اسے پانچ مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا:

- ① سکرات موت
- ② عذاب قبر
- ③ روزِ محشر نامہ اعمال کا ملنا
- ④ پل صراط سے گزرنا
- ⑤ جنت کے دروازے سے گزرنا

جو شخص پانچ نمازیں ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی پانچ مصیبتوں کو آسان فرمادیں گے۔

حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے زواجر میں مدیث نقل کی ہے:

﴿وَمَنْ حَافِظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ كَرَّمَهُ اللَّهُ بِخَمْسِ خِصَالٍ - يَرْفَعُ عِنْدَ ضَيْقِ الْمَوْتِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَيُعْطِيهِ اللَّهُ بِمِيزَانِهِ وَيَمُرُّ عَلَى الصِّرَاطِ كَالْبَرْقِ وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾

ترجمہ: "جس نے نمازوں کی حفاظت کی، اللہ تعالیٰ پانچ نعمتوں سے اس کا اکرام فرمائے گا۔ اول موت کی سختی سے بچائے گا، دوسرے قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے گا، تیسرے حشر کے دن نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، چوتھے پل صراط سے بجلی کی طرح پار ہو جائے گا، پانچویں جنت میں بلا حساب داخل کر دیا جائے گا۔" (نماز کے اسرار و رموز، صفحہ ۸۴)

﴿۳۹﴾ غم ہلکا کرنے کا مجرب عمل

نبی کریم ﷺ ایک مرتبہ کفار کی ایذا رسانوں کی وجہ سے بڑے غموم تھے۔ اللہ رب العزت نے کتنے پیارے انداز میں فرمایا:

﴿ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَلُوقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ ۝ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ﴾ (سورہ نحل: آیت ۱۲۷، ۱۲۸)

کبھی آپ بہت پریشان ہوں تو اس آیت کو ذرا چند بار پڑھ کر دیکھا کیجئے، آزمودہ چیز ہے، بڑے بڑے غم اور مصیبتیں اللہ رب العزت اس آیت کے پڑھنے سے بندے کے سر سے دور فرمائیں گے، دل میں ٹھنڈک آجائے گی، اللہ کے اس کلام میں عجیب تاثیر ہے۔ پریشان بندے کو خوش کرنے کے لیے یہ آیت اکسیر ہے، اس پر آپ خود بھی عمل کر لیجئے گا کبھی بھی کوئی پریشانی آئے آپ اس آیت کو پڑھیے۔ دیکھئے پھر اللہ تعالیٰ دل کی حالت کو کیسے بدلتے ہیں۔

### ﴿ ۴۰ ﴾ خط۔ مسجد کی خدمت کیجئے، اللہ آپ کو نیک خادمہ بیوی دے گا

مکرم..... بندہ بہت دنوں سے بیوی ڈھونڈ رہا ہے، کوئی لڑکی دینے کے لئے تیار نہیں ہوتا، کوئی وظیفہ بتائیے۔

۱ استغفار کی کثرت کرو۔

۲ یکجا بیچ ۵۰۰ مرتبہ پڑھا کرو۔

۳ علماء نے لکھا ہے کہ جس نوجوان کی شادی میں رکاوٹ ہو۔ اگر وہ مسجد میں جھاڑو دے اور خدمت کرے تو اس خدمت کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو خادمہ عطا فرمادیتے ہیں۔

۴ اگر آپ ایسی بیوی کی تلاش میں ہیں کہ جس میں کوئی عیب نہ ہو تو آپ کو بیوی ملنا مشکل ہے۔ وہ تو انشاء اللہ جنت میں ملے گی اس لئے اس کی بندی مل جائے تو اسے اپنی شریک حیات بنا لیجئے۔

۵ سورہ احزاب لکھ دیجئے اور گھر میں رکھئے۔

۶ اگر عورت کو شوہر کی ضرورت ہو تو بھائی کو مسجد کی صفائی کے لیے بھیجئے۔

﴿ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ - ﴿ رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴾

### ﴿ ۴۱ ﴾ دل ہلا دینے والی دُعا

رب کریم ہم ظاہر میں بندے ہیں حقیقت میں نہایت گندے ہیں، اللہ ہمارے اندر کی گندگیوں کو دور فرما، ہمارے دلوں کی ظلمت کو دور فرما۔ ہمارے دلوں کی سختی کو دور فرما، اللہ ہمارے دلوں کو منور فرما، ہمارے دل کی دُنیا کو آباد فرما، میرے مالک ہماری نگاہوں کو پاک فرما۔ ہمارے دلوں کو صاف فرما، ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما۔

اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما۔ ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئیں روئیں سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہماری ہڈی ہڈی، بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما۔ اے مالک ہمارے عمل میں اخلاص پیدا فرما، رزق میں برکت پیدا فرما، صحت میں برکت پیدا فرما، کاموں میں برکت پیدا فرما، قدم قدم پر اپنی برکتیں شامل حال فرما۔

اے مالک! ہماری جسمانی بیماریوں کو دور فرما، ہماری روحانی بیماریوں کو دور فرما، نفس و شیطان کے مکر و فریب سے حفاظت فرما۔ بُرا چاہنے والوں کی برائی سے محفوظ فرما، اے اللہ! ہمیں دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ فرما، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اے مالک! ہمیں برے کاموں سے محفوظ فرما، بُرے دن سے محفوظ فرما، بُری رات سے محفوظ فرما، بُرے وقت سے محفوظ فرما،

بڑے کاموں سے محفوظ فرما، اے اللہ! ہمیں بڑے انجام سے محفوظ فرما، بڑے دستوں سے محفوظ فرما، بڑے حالات سے محفوظ فرما۔

رب کریم ہمارے حال پر رحمت کی نافر فرما، اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرمایا، مسجدوں کا سرور نصیب فرما، قرآن پاک پڑھنے کا لطف نصیب فرما، رات کے آخری پہر مناجات کی لذت نصیب فرما، اے مالک! ایمان حقیقی کی لذت نصیب فرما، رب کریم! ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما، اے اللہ! جس طرح ماں باپ اپنے کمزور بچے کا زیادہ لحاظ کرتے ہیں، اے اللہ ہم آپ کے کمزور بندے ہیں ہمارا زیادہ لحاظ فرما، ہم پر خصوصی رحمت کی نظر فرمادیجئے۔

اللہ تری اک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے آپ کی ایک رحمت کی نظر ہوگی ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، اے اللہ! آپ کو اسی وقت تک ماننا ضروری ہے جب تک کہ آپ راضی نہیں ہو جاتے، اے اللہ! ہم سے راضی ہو جائیے، اے مالک رضا عطا فرمادیجئے، اے مالک! ہمارے گناہوں کے سبب ہم سے ناراض نہ ہوئے، ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمادیجئے، اے اللہ! جب بچہ پریشان ہوتا ہے، اپنے ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے، جب بندے پریشان ہوتے ہیں اپنے پروردگار کے در پر آتے ہیں، اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے زخمی دلوں پر مرہم رکھنے والے، اور غمزدہ دلوں کے غموں کو دور کرتے والے، اے پھیلے ہوئے دامنوں کو بھر دینے والے، اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما۔

اے مالک! ہماری دعاؤں کو کہیں پھٹے پھڑے کی طرح منہ پر نہ مار دینا، اللہ ہم آپ کی شان بے نیازی سے ڈرتے ہیں، اے مالک! جب آپ کی بے نیازی کی نگاہ اٹھتی ہے تو بلعم باعورا کی چار سو سال کی عبادت کو ٹھوکر لگا دیتے ہیں، اللہ ہمارے پلے تو عبادتیں بھی نہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں، اللہ ہم تو گناہوں کے گھر لے کر آگے کھڑے ہیں، اے مالک! اس امید کے ساتھ کہ جب کوئی شہنشاہ کے دروازے پر جاتا ہے تو شہنشاہ یہ نہیں پوچھتا کہ تم کیا لے کر آئے ہو، ہمیشہ یہ پوچھتا ہے کیا لینے کے لئے آئے ہو، اے مولیٰ! ہمارے پاس کوئی ایسا عمل نہیں کہ جو آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ ہم تو لینے کے لیے آئے ہیں، مانگنے کے لیے آئے ہیں، رب کریم! رحمت کی نظر کردیجئے، اے مالک! ہم پر احسان فرمادیجئے، اے اللہ! جب کوئی ماں بچے کو نجاست میں لتھڑا دیکھتی ہے، وہ بچے کو پھینک نہیں دیتی، نفرت نہیں کرتی، سمجھتی ہے یہ نادان ہے، نجاست میں لتھڑا پڑا ہے اس کو دھو لیتی ہے سینے سے لگاتی ہے، مولیٰ! ہم بھی گناہوں کی نجاست میں لتھڑے ہوئے ہیں، مولیٰ ہم بڑے نادان، بڑے جاہل بن کر زندگی گزارتے پھر رہے ہیں، مگر بندے تو آپ ہی کے ہیں، اے اللہ! اپنی رحمت کی نظر کردیجئے، اور ہمارے گناہوں کی نجاست کو دھو دیجئے اور اپنی رحمت کی چادر میں چھپالیجئے۔

اے مالک! ہمارے جیسے تو آپ کے ربوں، کھربوں، بندے ہیں، لیکن ہمارا تو تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اے اللہ! ہم قسم کھا کر کہتے ہیں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، ہمیں تو آپ ہی کے در سے مانگنا ہے، اللہ! اپنے دروازے کھول دیجئے، رحمت کی نظر ڈال دیجئے، اے مالک! ہمارے لئے رحمت کا معاملہ فرمادیجئے، اے اللہ! یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا، آپ تو ان سے زیادہ کریم ہیں، آپ اپنے بندوں کو معاف فرمادیجئے، میرے مالک! کریم کا معاملہ فرمادیجئے۔

رب کریم! احسان کا معاملہ فرمادیجئے اور ہماری زندگی کے پچھلے گناہوں کو معاف فرمادیجئے، یہاں جتنی بچیاں تعلیم حاصل کرنے کے لئے آئی ہیں جتنی معلمات ہیں، یا خادما ہیں، اللہ سب کی محنتوں کو قبول فرما، سب کو اپنے مقرب بندوں میں شامل کر لیجئے، رب کریم ہم نے تو یہ معمول دیکھا کہ اگر کسی سے کوئی لڑا ہو اور کسی کی عورتیں معافی مانگنے گھر پر آ جائیں تو دنیا دار لوگ بھی چل کر آنے والی عورتوں کا لحاظ کر لیتے ہیں۔ قتل کے مقدمے تک معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ جب لوگ عورتوں کے چل کر آنے کا اتنا لحاظ کرتے ہیں، آپ کی یہ بندیاں اپنے گھروں سے چل کر یہاں آئی بیٹھی ہیں، دامن پھیلائے بیٹھی ہیں، اللہ رحمت کی سوالی ہیں، آپ سے آپ کی رحمت

ماتنی ہیں، مولیٰ ان کے گناہوں کو بخش دیتے، ان کی خطاؤں کو معاف کر دیتے، رب کریم! احسان فرمادیجئے۔

اے اللہ! ہم نے علماء سے یہ مسئلہ سنا ہے کہ جب باپ کوئی چیز کھانے، پینے کی خرید کر لائے اس کے بیٹے بھی ہوں، بیٹیاں بھی ہوں، وہ بیٹی کو پہلے دے، اس عزت کی وجہ سے جو آپ نے بیٹی کو عطا کی ہے، اے اللہ! جب آپ نے ہمیں یہ حکم دیا، ہم بیٹیوں کا اکرام کریں، اے اللہ! آپ کی بندیاں آپ کے سامنے ہیں، دامن پھیلائے بیٹھی ہیں، آپ ان پر کرم فرمادیجئے۔ میرے مولیٰ! یہ اپنے دل کے غم کس کے سامنے کھولیں، مولیٰ آپ تو سینے کے بھید جاننے والے ہیں، اے اللہ! انہیں شیطانی وسوسوں سے بچالیجئے۔ نفسانی وسوسوں سے بچالیجئے، ان کو عزت و پاک دامنی کی زندگی عطا کر دیجئے، اے اللہ! ان کی عزت و ناموس کی حفاظت فرمائیے، رب کریم! احسان فرمائیے اور ان کو نیکو کاری کی زندگی عطا فرمادیجئے، زیور علم سے ان کو آراستہ فرمادیجئے، ان کے سینوں کو قرآن و حدیث کے نور سے منور فرمادیجئے، زندگی اور آخرت کے ہر امتحان میں کامیاب فرمادیجئے، اے اللہ! یہ اپنے ماں باپ سے دور، عزیز و اقارب سے دور تیرے دین کا علم حاصل کرنے کے لئے، اللہ ان جامعات میں آئی ہیں، پروردگار! آپ تو مسافر کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، اے اللہ! ان طالبات کی دعاؤں کو قبول کر لیجئے، اے اللہ! ان کے جو نیک مقاصد ہیں ان کو پورا فرمادیجئے، اور جو ان کی مشکلات ہیں ان کو آسان کر دیجئے، اے اللہ! اغا نیت والا پاکیزہ رزق عطا فرمادیجئے، دوغلی دورنگی زندگی سے محفوظ فرمادیجئے، اے اللہ! ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائیے۔

﴿ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ۖ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۚ وَتُبَّ عَلَيْنَا يَا مَوْلَانَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۖ وَصَلَّى اللَّهُ

تَعَالَى عَلَى عِبْدِهِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ۖ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّحِيمِينَ ۝﴾

(۴۲) حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ کو ایک دھوبن نے توحید سکھائی

حضرت حسن بصری فرماتے تھے کہ مجھے ایک دھوبن نے توحید سکھائی کسی نے پوچھا حضرت وہ کیسے؟ فرمانے لگے کہ میرے ہمسایہ میں ایک دھوبی رہتا تھا۔ میں ایک مرتبہ اپنے گھر کی چھت پر بیٹھا گرمی کی رات میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ ہمسایہ سے میں نے ذرا اونچا اونچا بولنے کی آواز سنی، پوچھا کہ بھائی خیریت تو ہے، کیوں اونچا بول رہے ہو؟ جب غور سے سنا تو مجھے پتہ چلا کہ بیوی اپنے میاں سے جھگڑ رہی تھی، وہ اپنے خاوند کو کہہ رہی تھی کہ دیکھ تیری خاطر میں نے نکلیں گزاریں، فاقے کاٹے، سادہ لباس پہنا، مشقتیں اٹھائیں، ہر ڈکھ سکھ تیری خاطر میں نے برداشت کیا اور میں تیری خاطر ہر ڈکھ برداشت کرنے کے لیے اب بھی تیار ہوں۔ لیکن اگر تو چاہے کہ میرے سوا کسی اور سے نکاح کر لے، تو پھر میرا تیرا گزارا نہیں ہو سکتا۔ میں تیرے ساتھ کبھی نہیں رہ سکتی۔ فرماتے ہیں کہ یہ بات سن کر میں نے قرآن پر نظر ڈالی تو قرآن مجید کی آیت سامنے آئی:

﴿ إِنَّ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونُ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ ﴾ (سورہ النساء، آیت: ۱۱۶)

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے بندے تو جو بھی گناہ لے کر آئے گا میں چاہوں گا سب معاف کر دوں گا، لیکن میری محبت میں کسی

کو شریک بنانے کا تو پھر میرا تیرا گزارا نہیں ہو سکتا۔ (تمنا، دل، صفحہ ۳۸)

(۴۳) دینی پیشوا اگر پھسل جائے تو قوم کا کیا ہوگا

حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ مجھے کچھ واقعات زندگی میں بڑے عجیب لگے، لوگوں نے پوچھا کہ حضرت وہ کون سے؟ کہنے لگے کہ:

① ایک مرتبہ دس بارہ سال کی ایک لڑکی آ رہی تھی اس کی بات نے مجھے حیران کر دیا۔ بارش ہوئی تھی میں مسجد جا رہا تھا اور وہ بازار سے

کوئی چیز لے کر آ رہی تھی۔ جب ذرا میرے قریب آئی تو میں نے کہا کہ بچی ذرا سنبھل کر قدم اٹھانا کہیں پھسل نہ جانا تو جب میں نے یہ کہا تو اس نے آگے سے یہ جواب دیا، حضرت! میں پھسل گئی تو مجھے نقصان ہوگا آپ ذرا سنبھل کر قدم اٹھانا اگر آپ پھسل گئے تو قوم کا کیا بنے گا؟ کہنے لگے کہ اس لڑکی کی بات مجھے آج تک یاد ہے، اس لڑکی نے کہا تھا کہ آپ سنبھل کر قدم اٹھانا آپ پھسل گئے تو قوم کا کیا بنے گا۔

⑤ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا اس کے سامنے سے ایک عورت روتی ہوئی کھلے چہرے اور کھلے سر کے ساتھ آگے سے گزری، اس نے سلام پھیرا تو اس عورت پر بڑا ناراض ہوا، کہنے لگا کہ تجھے شرم نہیں آتی، دھیان نہیں ننگے سر اور کھلے چہرے کے ساتھ اس حال میں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو میرے آگے سے گزری۔ اس عورت نے پہلے تو معافی مانگی اور معافی مانگ کر کہنے لگی کہ دیکھو میرے میاں نے مجھے طلاق دے دی اور میں اس وقت غم زدہ ہوں، مجھے پتہ نہیں چلا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا نہیں، میں اس حالت میں آپ کے سامنے سے گزری مگر حیران اس بات پر ہوں کہ میں خاوند کی محبت میں اتنی گرفتار کہ مجھے سامنے سے گزرنے کا پتہ نہ چلا اور تم اللہ کی محبت میں کیسے گرفتار ہو کہ کھڑے پروردگار کے سامنے ہو اور دیکھو میرا چہرہ رہے ہو۔ حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس عورت کی یہ بات مجھے آج تک یاد ہے اور واقعی ہماری نمازوں کا یہی حال ہے، نیچے کی منزل پر اگر نماز پڑھ رہے ہوں اور اوپر کی منزل میں اگر کوئی ہمارا نام لے دے تو ہمیں نماز میں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا نام پکارا گیا، ہماری نماز کی توجہ کا یہ عالم ہوتا ہے۔ (تمنائے دل ص ۴۰)

### ﴿۲۲﴾ مردوں کا فتنہ جمال ہے، عورتوں کا فتنہ مال ہے

اللہ تعالیٰ کی محبت کے حاصل ہونے میں دو چیزیں رکاوٹ سبب بنتی ہیں:

① جمال ② مال

جمال کیسے رکاوٹ بنتا ہے؟ یہ ہر ایک کو پتہ ہے، مسجد میں نماز پڑھی، باہر نکلتے ہیں تو آنکھ قابو میں نہیں رہتی۔ ادھر بھی ہوس سے نگاہ پڑ رہی ہے اور ادھر بھی ہوس کی نگاہ پڑ رہی ہے۔ ادھر ادھر ہوس کی نگاہوں کا اٹھنا اس بات کی دلیل ہے کہ جمال اس کے لیے پھندہ بن گیا ہے، آنکھیں غیر محرم سے قابو میں نہیں رہتیں، آج کل مردوں کے لیے یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔

دوسرا فتنہ مال ہے اور یہ مردوں کی نسبت عورتوں کے لیے زیادہ بڑا فتنہ ہے۔ مال کی محبت عورت کے دل میں شدید ہوتی ہے اور جمال کی محبت مرد کے دل میں شدید ہوتی ہے اور آج کے نوجوانوں کو مال اور جمال کے پھندوں نے پھنسا دیا اور اللہ سے دور کر دیا، اس لئے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں دو چیزوں سے نظریں ہٹانے کا حکم دیا ہے۔

ارشاد فرمایا:

﴿وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ (سورہ طہ: آیت ۱۳۱)

ترجمہ: ”اے محبوب! آپ ان کافروں کے مال کو نہ دیکھیں، ان سے اپنی نگاہوں کو ہٹا لیجئے، یہ چند دن کی چاندنی ہے، ان سے اپنی نگاہیں ہٹا لیجئے تو ایک تو مال سے نگاہیں ہٹانے کا حکم دیا اس کی طرف دیکھو ہی نہیں۔“

اور دوسرا غیر محرم کی طرف سے نگاہیں ہٹانے کا حکم فرمایا:

﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَفْضُلُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾ (سورہ نور: آیت ۳۰)

ترجمہ: ”ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں (یعنی جمال سے اور مال سے نگاہوں کا پرہیز کرنے کا حکم دیا۔)“ اور ایک چیز ایسی ہے جس کی طرف نگاہیں جمانے کا حکم دیا۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں:

﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدْوَةِ وَالْعَفْشِ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنُكَ عَنْهُمْ﴾

(سورۃ الکہف، آیت: ۲۸)

ترجمہ: ”اے محبوب! اپنے آپ کو صبر دیجئے، اپنے آپ کو بٹھائیے، اپنے آپ کو تھیں رکھئے ان لوگوں کے ساتھ جو صبح و شام اللہ کی رضا کے لیے اس کو یاد کرتے ہیں اور اے محبوب! آپ کی نگاہیں ان کے چہروں سے ادھر ادھر ہٹنے نہ پائیں، ان پر نگاہیں جمائے رکھے۔“

تو ایک چیز پر نگاہیں جمانے کا حکم دیا۔ قرآن عظیم الشان میں یہ سبق دے رہا ہے کہ ﴿وَلَا تَعْدُ عَيْنُكَ عَنْهُمْ﴾ تمہاری نگاہیں ان کے چہروں سے ہٹیں نہیں ہر وقت ان کی طرف نگاہیں لگی ہوئی ہوں۔ معلوم ہوا کہ یہ نگاہیں اگر اللہ والوں کے چہروں پر لگی رہیں گی تو پھر بندے کا راستہ بھی سیدھا رہے گا، وہ خود بھی اللہ کے قریب ہوتا چلا جائے گا، تو دو چیزوں سے نگاہیں ہٹانے کا حکم دیا، ایک مال سے اور ایک جمال سے، اور ایک چیز پر نگاہ جمانے کا حکم دیا اور وہ ہے اللہ والوں کے چہروں پر نگاہیں جمانے کا حکم ﴿وَلَا تَعْدُ عَيْنُكَ عَنْهُمْ﴾ اگر آپ نگاہیں ہٹائیں گے ﴿تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ پھر آپ دنیا کی زینت کے چاہنے والے بن جائیں گے۔

(۲۵) رابعہ بصریہ نے فرمایا: ”الْجَارُ ثُمَّ الدَّارُ“

کسی نے رابعہ بصریہ کو یہ ذمہ داری تھی کہ: ”اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں گھر عطا کر دے۔“ کہنے لگیں کہ ”الْجَارُ ثُمَّ الدَّارُ“ پہلے پڑوسی کی بات کرو بعد میں گھر کی بات کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے پڑوسی کی جگہ عطا فرمادے۔

(۲۶) مجنون، بہرا اور چھوٹے بچے جنت میں جائیں گے یا جہنم میں

مکرم و محترم حضرت مولانا صاحب!

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

بعد سلام عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا بھائی کانوں سے بہرا ہے، اسی طرح ہمارے چچا زاد بہن دماغ سے معذور ہے، اب بتائیے مرنے کے بعد ایسے لوگوں کا کہاں ٹھکانا ہوگا، جنت میں یا جہنم میں۔ جواب سے مطلع فرمائیے اور خوشی کا موقع دیجئے۔ فقط والسلام

(۲۷) جواب خط

دیکھئے بھائی! اللہ کے یہاں یقیناً کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا، اس لیے بہرا، پاگل، قاتر العقل اور زمانہ فترت یعنی دونوں کے درمیان زمانے میں فوت ہونے والے لوگوں کا مسئلہ ہے، ان کی بابت بعض روایات میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کی طرف فرشتے بھیجے گا اور وہ انہیں کہیں گے کہ جہنم میں داخل ہو جاؤ، اگر وہ اللہ کے اس حکم کو مان کر جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو جہنم ان کے لیے گزار بن جائے گی، بصورت دیگر انہیں گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ (مسند احمد، جلد ۴، صفحہ ابن حبان، جلد ۹، صفحہ ۲۲۶)

چھوٹے بچوں کی بابت اختلاف ہے۔ مسلمانوں کے بچے تو جنت میں ہی جائیں گے، البتہ کفار و مشرکین کے بچوں میں اختلاف ہے، کوئی توقف کا قائل ہے، کوئی جنت میں جانے کا اور کوئی جہنم میں جانے کا قائل ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ میدان محشر میں ان کا امتحان لیا جائے گا، جو اللہ کے حکم کی اطاعت اختیار کرے گا، وہ جنت میں اور جو نافرمانی کرے گا جہنم میں جائے گا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی قول کو ترجیح دی ہے اور کہا ہے کہ اس سے متضاد روایات میں تطبیق بھی ہو جاتی ہے، (تفصیل کے لیے تفسیر ابن کثیر ملاحظہ کیجئے)۔ مگر صحیح بخاری کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین کے بچے بھی جنت میں جائیں گے۔ (دیکھئے صحیح بخاری، ۳۲۸:۱۶:۵۱:۲، تفسیر سید نبوی، صفحہ ۷۷)

## (۲۸) سورہ کہف پڑھنے سے گھر میں سکینت و برکت نازل ہوتی ہے

سورہ کہف پڑھنے سے گھر میں سکینت و برکت نازل ہوتی ہے، ایک مرتبہ ایک صحابی چنانچہ نے سورہ کہف پڑھی، گھر میں ایک جانور بھی تھا، وہ بد کننا شروع ہو گیا، انہوں نے غور سے دیکھا کہ کیا بات ہے؟ تو انہیں ایک بادل نظر آیا، جس نے انہیں ڈھانپ رکھا تھا، صحابی چنانچہ نے اس موقع کا ذکر جب نبی کریم ﷺ سے کیا، تو آپ ﷺ نے فرمایا، اسے پڑھا کرو، قرآن پڑھتے وقت سکینت نازل ہوتی ہے۔ (صحیح بخاری: فضل سورہ الکہف مسلم: کتاب الصلوٰۃ، باب نزول السکینۃ بقراءۃ القرآن، تفسیر مجہد نبوی، ص ۹۹)

## (۲۹) دن اور رات یہ دونوں اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں

دن اور رات، یہ دونوں اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ رات کو تارک بنایا تاکہ سب لوگ آرام کر سکیں۔ اس اندھیرے کی وجہ سے ہر مخلوق سونے اور آرام کرنے پر مجبور ہے۔ ورنہ اگر آرام کرنے اور سونے کے اپنے اپنے اوقات ہوتے تو کوئی بھی مکمل طریقے سے سونے کا موقع نہ پاتا، جب کہ معاشی تنگ و دو اور کاروبار جہاں کے لئے نیند کا پورا کرنا ضروری ہے۔ اس کے بغیر توانائی بحال نہیں ہوتی۔ اگر کچھ لوگ سو رہے ہوتے اور کچھ جاگ کر مصروف تک و تازہ ہوتے، تو سونے والوں کے آرام و راحت میں خلل پڑتا، نیز لوگ ایک دوسرے کے تعاون سے بھی محروم رہتے۔ جبکہ دنیا کا نظام ایک دوسرے کے تعاون و تناصر کا محتاج ہے اس لیے اللہ نے رات کو تارک کر دیا تاکہ ساری مخلوق بیک وقت آرام کرے اور کوئی کسی کی نیند اور آرام میں خلل نہ ہو سکے۔ اسی طرح دن کو روشن بنایا تاکہ روشنی میں انسان اپنا کاروبار بہتر طریقے سے کر سکے۔ دن کی یہ روشنی نہ ہوتی تو انسان کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا، اسے ہر شخص باسانی سمجھتا اور اس کا ادراک رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کے حوالے سے اپنی توحید کا اثبات فرمایا ہے کہ تبارک و تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ دن اور رات کا یہ نظام ختم کر کے ہمیشہ کے لیے تم پر رات ہی مسلط کر دے تو کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ایسا ہے جو تمہیں دن کی روشنی عطا کر دے؟ یا اگر وہ ہمیشہ کے لیے دن ہی دن رکھے تو کیا کوئی تمہیں رات کی تاریکی سے بہرہ ور کر سکتا ہے، جس میں تم آرام کر سکو نہیں، یقیناً نہیں۔ یہ صرف اللہ کی کمال مہربانی ہے کہ اس نے دن اور رات کا ایسا نظام قائم کر دیا ہے کہ رات آتی ہے تو دن کی روشنی ختم ہو جاتی ہے اور تمام مخلوق آرام کر لیتی ہے اور رات جاتی ہے تو دن کی روشنی سے کائنات کی ہر چیز نمایاں اور واضح تر ہو جاتی ہے اور انسان کسب و محنت کے ذریعے سے اللہ کا فضل (روزی) تلاش کرتا ہے۔ (تفسیر مجہد نبوی، ص ۹۳)

## (۵۰) دل کی بیماریاں

یعنی دل کی وہ دس باتیں جن کی اصلاح سے دل کی دوسری بیماریاں دور ہو جاتی ہیں:

- |                       |                        |                |             |
|-----------------------|------------------------|----------------|-------------|
| ① زیادہ کھانے کی ہوس  | ② زیادہ بولنے کی فکر   | ③ بے جا غصہ    | ④ حسد کرنا  |
| ⑤ بکل اور مال کی مذمت | ⑥ شہرت اور جاہ کی محبت | ⑦ دنیا کی محبت | ⑧ تکبر کرنا |
| ⑨ عجب یعنی خود پسندی  | ⑩ ریاء یعنی دکھلاوا    |                |             |

## (۵۱) منوراتِ ظاہری

یعنی وہ دس اعمال جن کا انسان کے ظاہری اعضاء سے تعلق ہے ان کا اہتمام کرنے سے دوسرے حکموں پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے:

- |             |                 |                             |      |                  |
|-------------|-----------------|-----------------------------|------|------------------|
| ① نماز      | ② زکوٰۃ و خیرات | ③ روزہ                      | ④ حج | ⑤ تلاوت قرآن پاک |
| ⑥ کثرتِ ذکر | ⑦ طہنہ و حلال   | ⑧ مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت |      |                  |

### (۵۲) منورات باطنی

یعنی وہ دس اعمال جن کا تعلق انسان کے قلب سے ہے۔ ان کا اہتمام کرنے سے دل کے دوسرے احکام پر عمل کرنا اہل ہو جاتا ہے۔

- ① توبہ ② خوف ③ زہد ④ صبر ⑤ شکر  
⑥ اخلاص و صدق ⑦ توکل ⑧ اللہ کی محبت ⑨ رضا بر قضا ⑩ سرفروطن کی اصلی تیاری

### (۵۳) بارش کو بارش کے ان راستوں سے طلب کرو جو آسمانوں میں ہیں

﴿فَقُلْتُ لَسْتَ تَسْتَغْفِرُ وَارْتَبِكُمْ أَنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ۝ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ۝ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَأَنْهَارٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا ۝﴾ (سورہ نوح، پارہ: ۲۹، آیت: ۱۲۴-۱۲۷)

ترجمہ: ”اور میں نے کہا کہ اپنے رب سے اپنے گناہ بخشواؤ (اور معافی مانگو) وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان کو خوب برستا ہوا چھوڑ دے گا، اور تمہیں خوب پے در پے مال اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہیں باغات دے گا اور تمہارے لئے نہریں نکال دے گا۔“

بعض علماء اسی آیت کی وجہ سے نماز استسقاء میں سورہ نوح کے پڑھنے کو مستحب سمجھتے ہیں۔ مردی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہما بھی ایک مرتبہ نماز استسقاء کے لئے منبر پر چڑھے تو صرف آیات استغفار (جن میں یہ آیات بھی تھیں) پڑھ کر منبر سے اتر آئے اور فرمایا کہ میں نے بارش کو بارش کے ان راستوں سے طلب کیا ہے، جو آسمانوں میں ہیں، جن سے بارش زمین پر اترتی ہے۔ (ابن کثیر)

حضرت حسن بصری کے متعلق مردی ہے کہ ان سے آ کر کسی نے قحط سالی کی شکایت کی تو انہوں نے اسے استغفار کی تلقین کی، کسی دو سرے شخص نے قحط و فاقہ کی شکایت کی، اسے بھی انہوں نے یہی نسخہ بتلایا۔ ایک اور شخص نے اپنے باغ کے خشک ہونے کا شکوہ کیا، اس سے بھی فرمایا: استغفار کر۔ ایک شخص نے کہا، میرے گھر اولاد نہیں ہوتی، اسے بھی کہا اپنے رب سے استغفار کر۔ کسی نے جب ان سے کہا کہ آپ نے استغفار ہی کی تلقین کیوں کی؟ تو آپ نے یہی آیت تلاوت کر کے فرمایا کہ میں نے اپنے پاس سے یہ بات نہیں کی، یہ وہ نسخہ ہے جو ان سب باتوں کے لیے اللہ نے بتلایا ہے۔ (امیر القایم، تعمیر مسجد نبوی، صفحہ ۱۶۳۳)

استغفار سے متعلق کچھ احادیث پڑھ لیجئے:

① مسند احمد میں بہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما مردی ہے رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے پھر خدا کے سامنے حاضر ہو کر کہتا ہے کہ پروردگار مجھ سے گناہ ہو گیا تو معاف فرما، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے سے گناہ ہو گیا لیکن اس کا ایمان ہے کہ اس کا رب گناہ پر پکڑ بھی کرتا ہے اور اگر چاہے تو معاف بھی فرمادیتا ہے۔ میں نے اپنے بندے کا گناہ معاف فرمایا۔ اس سے پھر گناہ ہوتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر معاف فرماتا ہے، پھر تیسری مرتبہ اس سے گناہ ہو جاتا ہے یہ پھر توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بخشتا ہے۔ چوتھی مرتبہ پھر گناہ کر بیٹھتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما کر کہتا ہے اب میرا بندہ جو چاہے کرے۔ (مسند احمد) یہ حدیث صحیحین میں بھی ہے۔

② حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ہم نے ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ سے کہا، یا رسول اللہ ﷺ! جب ہم آپ کو دیکھتے ہیں تو ہمارے دلوں میں رقت طاری ہو جاتی ہے اور ہم اللہ والے بن جاتے ہیں لیکن جب آپ کے پاس سے چلے جاتے ہیں تو وہ حالت



نہیں رہتی، عورتوں، بچوں میں پھنس جاتے ہیں، گھریار کے دھندوں میں لگ جاتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا، سنو جو کیفیت تمہارے دلوں کی میرے سامنے ہوتی ہے اگر یہی کیفیت ہر وقت رہتی تو پھر فرشتے تم سے مصافحہ کرتے اور تمہاری ملاقات کو تمہارے گھروں پر آتے۔ سنو! اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں یہاں سے ہٹا دے اور دوسری قوم کو لے آئے جو گناہ کرے پھر بخشش مانگے، اور خدا انہیں بخشے۔ ہم نے کہا، حضور! یہ تو فرمائیے کہ جنت کی بنا کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا، اور خدا انہیں بخشے۔ ہم نے کہا، حضور! یہ تو فرمائیے کہ جنت کی بنا کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا، ایک اینٹ سونے کی ایک چاندی کی، اس کا گارہ مشک خالص ہے، اس کے کنکر لٹو اور یا قوت ہیں، اس کی مٹی زعفران ہے، جنتیوں کی نعمتیں کبھی ختم نہ ہوں گی، ان کی زندگی ہمیشگی والی ہوگی، ان کے کپڑے پرانے نہ ہوں گے، ان کی جوانی فنا نہ ہوگی، تین شخصوں کی دُعا رد نہیں ہوتی: ① عادل بادشاہ ② روزے دار ③ مظلوم اس کی دُعا بادلوں میں اٹھائی جاتی ہے اور اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں، اور جناب باری ارشاد فرماتا ہے، مجھے میری عزت کی قسم! میں تیری ضرورت دیکھوں گا، اگرچہ کچھ وقت کے بعد ہو۔ (مسند احمد)

④ امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، جو شخص کوئی گناہ کرے پھر وضو کر کے دو رکعت نماز ادا کرے اور اپنے گناہ کی معافی چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرمادیتا ہے۔ (مسند احمد)

⑤ صحیح مسلم میں بروایت امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مروی ہے، رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں: تم میں سے جو شخص کامل وضو کر کے اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ پڑھے، اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھل جاتے ہیں، جس سے چاہے اندر چلا جائے۔

⑥ امیر المؤمنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سنت کے مطابق وضو کرتے ہیں پھر فرماتے ہیں، میں نے آنحضرت ﷺ سے سنا، آپ ﷺ نے فرمایا ہے جو شخص مجھ جیسا وضو کرے پھر دو رکعت نماز ادا کرے جس میں اپنے دل سے باتیں نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرمادیتا ہے۔ (بخاری، مسلم)

پس یہ حدیث تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے، اس سے اگلی روایت حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے، اس سے اگلی روایت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے اور اس تیسری روایت کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ تو الحمد للہ، اللہ تعالیٰ کی وسیع مغفرت اور اس کی بے انتہا مہربانی کی خبر سید الاولین والآخرین کی زبانی آپ کے چاروں برحق خلفاء کی معرفت ہمیں پہنچی۔

آؤ! اس موقع پر ہم گنہگار بھی ہاتھ اٹھائیں اور اپنے مہربان رحیم و کریم خدا کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اس سے معافی طلب کریں۔ خدایا! اے ماں باپ سے زیادہ مہربان! اے غمخوار و درگزر کرنے والے اور کسی بھکاری کو اپنے در سے خالی نہ پھیرنے والے! تو ہم خطا کاروں کی سیاہ کاریوں سے بھی درگزر فرما اور ہمارے کل گناہ معاف فرما دے۔ آمین۔ (محمد یونس پان پوری)

⑦ مسند ابویعلیٰ میں ہے رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ کثرت سے پڑھا کرو اور استغفار پر مداومت کرو، ابلیس گناہوں سے لوگوں کو ہلاک کرنا چاہتا ہے اور اس کی اپنی ہلاکت لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ اور استغفار سے ہے، یہ حالت دیکھ کر ابلیس نے لوگوں کو خواہش پرستی پر ڈال دیا۔ پس وہ اپنے تئیں راہ راست پر جانتے ہیں، حالانکہ ہوتے ہیں ہلاکت پر۔

⑧ مسند احمد میں ہے حضور ﷺ فرماتے ہیں کہ ابلیس نے کہا اے رب! مجھے تیری عزت کی قسم! میں بنی آدم کو ان کے آخری دم تک بہکا تار ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: مجھے بھی میرے جلال اور میری عزت کی قسم! جب تک مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے میں بھی انہیں بخشا رہوں گا۔

- ① مسند بزار میں ہے کہ ایک شخص نے حضور ﷺ سے کہا، مجھ سے گناہ ہو گیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا توبہ کر لے۔ اُس نے کہا، میں نے توبہ کی پھر گناہ ہو گیا۔ فرمایا، پھر توبہ کر لے۔ اس نے کہا، مجھ سے پھر گناہ ہو گیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا، پھر استغفار کر۔ اس نے کہا، مجھ سے اور گناہ ہوا۔ فرمایا: استغفار کئے جاؤ۔ یہاں تک کہ شیطان تھک جائے۔ پھر فرمایا، گناہ کو بخشا اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔
- ② مسند احمد میں ہے رسول اللہ ﷺ کے پاس ایک قیدی آیا اور کہنے لگا، یا اللہ! میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں، محمد ﷺ کی طرف توبہ نہیں کرتا (یعنی خدایا تیری ہی بخشش چاہتا ہوں)۔ آپ ﷺ نے فرمایا، اس نے حق حقدار کو پہنچایا۔
- ③ ایک آدمی نے حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر دیا تمین مرتبہ کہا، ہائے میرے گناہ! ہائے میرے گناہ! حضور ﷺ نے فرمایا، یہ کہو:

﴿اللَّهُمَّ مَغْفِرَتِكَ أَوْسَعُ مِنْ ذُنُوبِي وَرَحْمَتِكَ أَرْجَى عِنْدِي مِنْ عَمَلِي﴾

ترجمہ: "اے اللہ تیری مغفرت میرے گناہوں سے زیادہ وسعت والی ہے اور مجھ اپنے عمل سے زیادہ تیری رحمت کی امید ہے۔"

اس نے یہ کہا۔ حضور ﷺ نے کہا، دوبارہ کہو۔ اس نے دوبارہ کہا۔ حضور ﷺ نے کہا، پھر کہو۔ اس نے پھر کہا۔ حضور ﷺ نے کہا، اٹھ جا، اللہ نے تیری مغفرت کر دی ہے۔ (حیاء الصحابہ، جلد ۲، صفحہ ۲۵۰)

### ﴿۵۴﴾ مرد بیوی سے بے پناہ پیار کرتا ہے یہ اللہ کی ایک نشانی ہے

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَبِرُونَ﴾ (پارہ ۲۱، سورہ روم، آیت: ۲۱)

ترجمہ: "اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہاری ہی جنس سے بیویاں پیدا کیں، تاکہ تم ان سے آرام پاؤ، اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دی، یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔"

تشریح: ﴿مَوَدَّةً﴾ سے مراد یہ ہے کہ مرد بیوی سے بے پناہ پیار کرتا ہے اور ایسے ہی بیوی شوہر سے۔ جیسا کہ عام مشاہدہ ہے، ایسی محبت جو میاں بیوی کے درمیان ہوتی ہے، دنیا میں کسی بھی دو شخصوں کے درمیان نہیں ہوتی۔ اور رحمت یہ ہے کہ مرد بیوی کو ہر طرح کی سہولت اور آسائش بہم پہنچاتا ہے۔ جس کا مکلف است اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور ایسے ہی عورت بھی اپنے قدرت و اختیار کے دائرہ میں۔ تاہم انسان کو یہ سکون اور باہمی پیار نہیں جوڑوں سے حاصل ہوتا ہے جو قانون شریعت کے مطابق باہم نکاح سے قائم ہوتے ہیں اور اسلام انہی کا جوڑا قرار دیتا ہے۔ غیر قانونی جوڑوں کو وہ جوڑا ہی تسلیم نہیں کرتا بلکہ انہیں زانی اور بدکار قرار دیتا ہے اور ان کے لیے سخت سزا تجویز کرتا ہے۔ آج کل مغربی تہذیب کے علمبرداران مذہموم کوششوں میں مصروف ہیں کہ مغربی معاشروں کی طرح اسلامی ملکوں میں بھی نکاح کو غیر ضروری قرار دیتے ہوئے بدکار مرد و عورت کو "جوڑا" (Couple) تسلیم کر دیا جائے اور ان کے لیے سزا کی بجائے وہ حقوق منوائے جائیں جو ایک قانونی جوڑے کو حاصل ہوتے ہیں۔ ﴿قَاتَلَهُمُ اللَّهُ الٰہی یُؤَفِّكُونَ﴾ (تفسیر سجد نبوی، صفحہ ۱۱۸)

### ﴿۵۵﴾ دنیا میں اتنی زبانوں کا پیدا کرنا بھی اللہ کی قدرت کی ایک بڑی نشانی ہے

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْخِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَالْوَاكِنُكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ﴾

(پارہ ۲۱، سورہ روم، آیت: ۲۲)

ترجمہ: "اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا اختلاف (بھی) ہے، دانش مندوں کے لیے اس میں یقیناً بڑی نشانیاں ہیں۔"

دنیا میں اتنی زبانوں کا پیدا کر دینا بھی اللہ کی قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے، عربی، ہے ترکی ہے، انگریزی ہے، اردو، ہندی ہے، پشتو، فارسی، سندھی، بلوچی وغیرہ ہے۔ پھر ایک ایک زبان کے مختلف لہجے اور اسلوب ہیں، ایک انسان ہزاروں اور لاکھوں کے مجمع میں اپنی زبان اور اپنے لہجے سے پہچان لیا جاتا ہے۔ کہ یہ شخص فلاں مل اور فلاں علاقہ کا ہے۔ صرف زبان ہی اس کا مکمل تعارف کر دیتی ہے۔ اس طرح ایک ہی ماں (آدم و حوا علیہما السلام) سے ہونے کے باوجود رنگ ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ کوئی کالا ہے، کوئی گورا، کوئی نیلگوں ہے تو کوئی گندمی رنگ کا، پھر کالے اور سفید رنگ میں بھی اتنے درجات رکھ دیئے ہیں کہ بیشتر انسانی آبادی دو رنگوں میں تقسیم ہونے کے باوجود ان کی بیسیوں قسمیں ہیں اور ایک دوسرے سے بالکل الگ اور ممتاز۔ پھر ان کے چہروں کے خدو خال، جسمانی ساخت اور قد و قامت میں ایسا فرق رکھ دیا گیا ہے کہ ایک ایک ملک کا انسان الگ سے پہچان لیا جاتا ہے۔ یعنی باوجود اس بات کے کہ ایک انسان دوسرے انسان سے نہیں ملتا، حتیٰ کہ ایک بھائی دوسرے بھائی سے مختلف ہے، لیکن اللہ کی قدرت کا کمال ہے کہ پھر بھی کسی ایک ہی ملک کے باشندے، دوسرے ملک کے باشندوں سے ممتاز ہوتے ہیں۔ (تفسیر سجد نبوی، صفحہ ۱۱۳۹)

### (۵۶) آپ ﷺ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو قرض ادا کرنے کی دعا سکھائی

سوتے وقت مندرجہ ذیل دعاء پڑھنا مسنون ہے، لہذا اپنے متعلقین اور متعلقات کو یہ دعا سکھا دیجئے۔

نبی کریم ﷺ نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو یہ دعا پڑھنے کی تاکید فرمائی تھی:

﴿اللَّهُمَّ اَرْبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ مُّنْزِلَ التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ فَالِقَ الْغَبِّ وَالنَّوَى اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ اَنْتَ اَحَدٌ ۝ بِنَا صِيْرَتِكَ اللَّهُمَّ اَنْتَ الْاَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَاَنْتَ الْاٰخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ اِقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَاغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ﴾ (صحیح مسلم، تفسیر سجد نبوی، صفحہ ۵۳۲)

ترجمہ: "اے اللہ! اے ساتوں آسمانوں کے اور عرشِ عظیم کے رب! اے ہمارے اور ہر چیز کے رب! اے تورات و انجیل اور قرآن کے اتارنے والے! اے دانوں اور گٹھلیوں کے اگانے والے! تیرے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، میں تیری پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کی برائی سے کہ اس کی چوٹی تیرے ہاتھ میں ہے، تو اول ہے کہ تجھ سے پہلے کچھ نہ تھا، تو ہی آخر ہے کہ تیرے بعد کچھ نہیں، تو ظاہر ہے کہ تجھ سے اوپچی کوئی چیز نہیں، تو باطن ہے کہ تجھ سے چھپی ہوئی کوئی چیز نہیں، ہمارے قرض ادا کر دے اور ہمیں فقیری سے غنا دے۔"

حضرت ابوصالح رضی اللہ عنہ اپنے متعلقین کو یہ دعا سکھاتے اور فرماتے، سوتے وقت داہنی کروٹ پر لیٹ کر یہ دعا پڑھ لیا کرو۔

(تفسیر ابن کثیر، جلد ۵، صفحہ ۲۶۸)

نوٹ: دُعا کے الفاظ میں روایات کا فرق ہے، ملاحظہ کیجئے مسلم شریف اس لئے زیادہ حیرانی میں نہ پڑیں۔ اور اپنے بچوں کو بھی مذکورہ دعا پڑھنے کی تاکید کیجئے۔

### (۵۷) بہترین ہدیہ سلام ہے

حضرت ابجترؓ کہتے ہیں کہ حضرت اشعث بن قیس اور حضرت جریر بن عبد اللہؓ بجلی رضی اللہ عنہما حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے ملنے آئے اور شہر مدائن کے ایک کنارے میں ان کی جگلی کے اندر گئے، اندر جا کر انہیں سلام کیا، اور یہ دعائیہ کلمات کہے: "حَسْبُكَ اللهُ" اللہ آپ کو زندہ رکھے۔ پھر ان دونوں نے پوچھا، کیا آپ ہی سلمان فارسی ہیں؟ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا، جی ہاں! ان دونوں حضرات نے کہا، کیا آپ رضی اللہ عنہما کے ساتھی ہیں؟ انہوں نے کہا: معلوم نہیں۔ ان پر ان دونوں حضرات کو شک ہو گیا اور انہوں نے کہا، شاید یہ وہ

سلمان فارسی نہیں ہیں جن سے ہم ملنا چاہتے ہیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے ان دونوں سے کہا، میں ہی تمہارا وہ مطلوب آدمی ہوں جس سے تم ملنا چاہتے ہو، میں نے حضور ﷺ کو دیکھا ہے اور ان کی مجلس میں بیٹھا ہوں، لیکن حضور ﷺ کا ساتھ وہ ہے جو حضور ﷺ کے ساتھ جنت میں چلا جائے (یعنی اس کا ایمان پر خاتمہ ہو جائے اور مجھے اپنے خاتمہ کے بارے میں پتہ نہیں ہے)۔ آپ لوگ کس ضرورت کے لیے میرے پاس آئے ہیں؟ ان دونوں نے کہا: ملک شام میں آپ کے ایک بھائی ہیں ہم ان کے پاس سے آپ کے پاس آئے ہیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے پوچھا وہ کون ہیں؟ ان دونوں نے کہا، وہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا: انہوں نے جو ہدیہ بھیجا ہے وہ کہاں ہے؟ ان دونوں نے کہا: انہوں نے ہمارے ساتھ کوئی ہدیہ نہیں بھیجا۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ سے ڈرو اور جو امانت لائے ہو وہ مجھے دے دو۔ آج تک جو بھی ان کے پاس سے میرے پاس آیا ہے وہ اپنے ساتھ ان کی طرف سے ہدیہ ضرور لایا ہے۔ ان دونوں نے کہا، آپ ہم پر کوئی مقدمہ نہ بنائیں، ہمارے پاس ہر طرح کا مال و سامان ہے آپ ان میں سے جو چاہیں لے لیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا، میں تمہارا مال یا سامان لینا نہیں چاہتا، میں تو وہ ہدیہ لینا چاہتا ہوں جو انہوں نے تم دونوں کے ساتھ بھیجا ہے۔ ان دونوں نے کہا، اللہ کی قسم! انہوں نے ہمارے ساتھ کچھ نہیں بھیجا، بس ہم سے اتنا کہا تھا کہ تم لوگوں میں ایک صاحب (ایسے قابل احترام) رہتے ہیں کہ حضور ﷺ جب ان سے تنہائی میں بات کیا کرتے تھے تو کسی اور کو ان کے ساتھ نہ بلاتے تھے، جب تم دونوں ان کے پاس جاؤ تو انہیں میری طرف سے سلام کہہ دینا۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا، میں اس کے علاوہ اور کون سا ہدیہ تم دونوں سے چاہتا تھا؟ اور کون سا ہدیہ سلام سے افضل ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے ایک بابرکت اور پاکیزہ سلام ہے۔ (حیاء الصحابہ، جلد ۲، صفحہ ۶۲۸)

### ﴿۵۸﴾ جن کے دل خواہشوں کے پھیر میں رہتے ہیں ان کی عقلوں پر پردے پڑ جاتے ہیں

حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی آئی کہ اپنے ساتھیوں کو ہوشیار کر دو کہ وہ اپنی نفسانی خواہشوں سے باز رہیں جن کے دل خواہشوں کے پھیر میں رہتے ہیں، میں ان کی عقلوں پر پردے ڈال دیتا ہوں، جب کوئی بندہ شہوت میں اندھا ہو جاتا ہے تو سب سے ہلکی سزا میں اسے یہ دیتا ہوں کہ اپنی اطاعت سے اسے محروم کر دیتا ہوں۔ مسند احمد میں ہے، مجھے اپنی اُمت پر دو چیزوں کا بہت ہی خوف ہے، ایک تو یہ کہ لوگ جھوٹ کے اور بناؤ کے اور شہوت کے پیچھے پڑ جائیں گے اور نمازوں کو چھوڑ بیٹھیں گے، دوسرے یہ کہ منافق لوگ دنیا دکھا دے کو قرآن کے عامل بن کر سچے مومنوں سے لڑیں۔ (تفسیر ابن کثیر، جلد ۳، صفحہ ۳۰۹)

### ﴿۵۹﴾ شب معراج میں آپ ﷺ نے ایک عجیب تسبیح آسمانوں میں سنی

طبرانی میں مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو مقام ابراہیم اور زمزم کے درمیان سے جبرئیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام مسجد اقصیٰ تک شب معراج میں لے گئے۔ جبرئیل علیہ السلام آپ کے دائیں تھے اور میکائیل علیہ السلام بائیں۔ آپ کو ساتوں آسمانوں تک اڑالے گئے وہاں سے آپ لوٹے، آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے بلند آسمانوں میں بہت سی تسبیحوں کے ساتھ یہ تسبیح سنی کہ:

سَبَّحَتِ السَّمَوَاتُ الْعُلَىٰ مِنْ ذِي الْمَهَابَةِ مَشْفِقَاتِ الذُّوِي الْعُدُوِّ بِمَا عَلَا سُبْحَانَ الْعَلِيِّ الْأَعْلَىٰ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ

”مخلوق میں سے ہر چیز اس کی پاکیزگی اور تعریف بیان کرتی ہے لیکن اے لوگو! تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے اس لئے کہ وہ

تمہاری زبان میں نہیں۔ حیوانات، نباتات، جمادات سب اس کے تسبیح خواں ہیں۔“ (تفسیر ابن کثیر، جلد ۳، صفحہ ۲۰۲)

### ﴿۶۰﴾ کھانا بھی ذکر کرتا ہے

ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے صحیح بخاری میں ثابت ہے کہ کھانا کھانے میں کھانے کی تسبیح ہم سنتے رہتے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ والی حدیث

میں ہے کہ حضور نے اپنی منگی میں چند نکریاں لیں، میں نے آپ ﷺ سے سنا کہ وہ شہد کی مکھوں کی بھینھناہٹ کی طرح تسبیح خدا کر رہی تھیں، اسی طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہما کے ہاتھ میں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کے ہاتھ میں بھی۔ یہ حدیث صحیح میں اور مسندوں میں مشہور ہے کچھ لوگوں کو حضور ﷺ نے اپنی اونٹنیوں اور جانوروں پر سوار کھڑے ہوئے دیکھ کر فرمایا کہ سواری سلامتی کے ساتھ لو اور پھر اچھائی سے چھوڑ دیا کرو، راستوں اور بازاروں میں لوگوں سے باتیں کرنے کی کرسیاں اپنی سواریوں کو نہ بنا لیا کرو، بہت سی سواریاں اپنے سواریوں سے بھی زیادہ ذکر اللہ کرنے والی اور ان سے افضل ہوتی ہیں۔ (مسند احمد)

سنن نسائی میں ہے کہ حضور ﷺ نے مینڈک کے مار ڈالنے کو منع فرمایا اور فرمایا اس کا بولنا تسبیح خدا ہے۔ (تفسیر ابن کثیر، جلد ۳، صفحہ ۲۰۲)

### ﴿۶۱﴾ شہد کی مکھوں کو خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک عجیب بات سمجھائی گئی ہے

شہد کی مکھوں کو خدا تعالیٰ کی جانب سے یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ وہ پہاڑوں میں، درختوں میں اور چھتوں میں شہد کے چھتے بنائیں۔ اس ضعیف مخلوق کے اس گھر کو دیکھئے کتنا مقدر کر دیا کہ یہ پھلوں کے، پھولوں کے اور گھاس پات کے رس چوستی پھرے اور جہاں چاہے جائے، آئے لیکن واپس لوٹتے وقت سیدھی اپنے چھتے کو پہنچ جائے۔ چاہے بلند پہاڑ کی چوٹی ہو، چاہے بیابان کے درخت ہو، چاہے آبادی کے بلند مکانات اور ویرانے کے سنان کھنڈر ہوں، یہ نہ راستہ بھولے، نہ بھٹکتی پھرے۔ خواہ کتنی ہی دور نکل جائے، لوٹ کر اپنے چھتے میں اپنے بچوں، اٹنوں اور شہد میں پہنچ جائے۔ اپنے پروں سے موم بنائے، اپنے منہ سے شہد جمع کرے اور دوسری جگہ سے بچے۔

(تفسیر ابن کثیر، جلد ۳، صفحہ ۱۴۸)

### ﴿۶۲﴾ ”ہوا“ کا خدا کا نظارہ پڑھ لیجئے

① ہوا چلتی ہے وہ آسمان سے پانی اٹھاتی ہے اور بادلوں کو بر کر دیتی ہے۔

② ایک ہوا ہوتی ہے جو زمین میں پیداوار کی قوت پیدا کرتی ہے۔

③ ایک ہوا ہوتی ہے جو بادلوں کو ادھر ادھر سے اٹھاتی ہے۔

④ ایک ہوا ہوتی ہے جو انہیں جمع کر کے نہ بہتہ کر دیتی ہے۔

⑤ ایک ہوا ہوتی ہے جو انہیں پانی سے جو جمل کر دیتی ہے۔

⑥ ایک ہوا ہوتی ہے جو درختوں کو پھلدار ہونے کے قابل کر دیتی ہے۔ (تفسیر ابن کثیر، جلد ۳، صفحہ ۹۲)

### ﴿۶۳﴾ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دریافت کیا کہ میں تیرا شکر کیسے ادا کروں؟

حضرت داؤد علیہ السلام نے خدا تعالیٰ عزوجل سے دریافت کیا کہ میں تیرا شکر کیسے ادا کروں؟ شکر کرنا خود بھی تو تیری ایک نعمت ہے۔ جواب ملا کہ داؤد! اب تو شکر ادا کر چکا جبکہ تو نے یہ جان لیا اور اس کا اقرار کر لیا کہ تو میری نعمتوں کے شکر کی ادائیگی سے قاصر ہے۔

حضرت امام شافعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ ہی کے لیے تو حمد ہے، جس کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت کا شکر بھی بغیر ایک نئی نعمت کے ہم ادا نہیں کر سکتے کہ اس نئی نعمت پر پھر ایک شکر واجب ہو جاتی ہے پھر اس نعمت کی شکر گزاری کی ادائیگی کی توفیق پر پھر نعمت ملی جس کا شکر یہ واجب ہوا۔ ایک شاعر نے یہی مضمون اپنے شعروں میں باندھا ہے کہ روئے روئے پر زبان ہو تو بھی تیری ایک نعمت کا شکر

پورا ادا نہیں ہو سکا، تیرے احسانات اور انعامات بے شمار ہیں۔ (تفسیر ابن کثیر، جلد ۳، صفحہ ۷۸)

### (۶۴) قیامت کے دن انسان کے تین دیوان نکلیں گے

بزار میں آپ ﷺ کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن انسان کے تین دیوان نکلیں گے، ایک میں نیکیاں لکھی ہوئی ہوں گی، دوسرے میں گناہ ہوں گے، تیسرے میں خدا کی نعمتیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں میں سے سب سے چھوٹی نعمت سے فرمائے گا کہ اٹھ اور اپنا معاوضہ اس کے نیک اعمال سے لے لے۔ اس سے اس کے سارے ہی نیک عمل ختم ہو جائیں گے، پھر بھی وہ یکسو ہو کر کہے گی کہ باری تعالیٰ میری پوری قیمت وصول نہیں ہوئی۔ خیال کیجئے ابھی گناہوں کا دیوان یونہی الگ تھلگ رکھا ہوا ہے، اور تمام نعمتوں کا دیوان بھی یونہی رکھا ہوا ہے۔ اگر بندے پر خدا کا ارادہ رحم و کرم کا ہوا تو اب وہ اس کی نیکیاں بڑھادے گا اور اس کے گناہوں سے تجاوز کر جائے گا اور اس سے فرمادے گا کہ میں نے اپنی نعمتیں تجھے بغیر بدلے کے بخش دیں۔ (تفسیر ابن کثیر، جلد ۳، صفحہ ۷۸)

### (۶۵) اے اللہ! روٹ گئے روٹ گئے پر زبان ہو تو بھی تیری ایک نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا

اللہ کی طرح طرح کی بے شمار نعمتوں کو دیکھو، آسمان کو اس نے ایک محفوظ چھت بنا رکھا ہے، زمین کو بہترین فرش بنا رکھا ہے، آسمان سے بارش برسا کر زمین سے مزے مزے کے پھل، کھیتیاں، باغات، تیار کر دیتا ہے۔ اسی کے حکم سے کشتیاں پانی کے اوپر تیرتی پھرتی ہیں کہ تمہیں ایک کنارے سے دوسرے کنارے اور ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچائیں، تم وہاں کا مال یہاں، یہاں کا وہاں لے جاؤ، لے آؤ، نفع حاصل کرو، تجربہ بڑھاؤ۔ نہرں بھی اسی نے تمہارے کام میں لگا رکھی ہیں، تم ان کا پانی پیو، پلاؤ، ان سے کھیتیاں کرو، نہاؤ، دھوؤ اور طرح طرح کے فائدے حاصل کرو۔ دائم اچلتے پھرتے اور کبھی نہ تھکتے سورج چاند بھی تمہارے فائدے کے کاموں میں مشغول ہیں۔ مقررہ چال پر مقررہ جگہ پر گردش میں لگے ہوئے ہیں، نہ ان میں ٹکراؤ ہو، نہ آگے پیچھے ہوں، دن رات انہی کے آنے جانے سے پے در پے آتے جاتے رہتے ہیں۔ ستارے اسی کے حکم کے ماتحت ہیں۔ وہ رب العالمین بابرکت ہے، کبھی دنوں کو بڑا کر دیتا ہے کبھی راتوں کو بڑھا دیتا ہے۔ ہر چیز اپنے کام میں سر جھکائے مشغول ہے۔ وہ خدا عزیز و غفار ہے، تمہاری ضرورت کی تمام چیزیں اس نے تمہارے لئے مہیا کر دی ہیں، تم اپنے حال و حال سے جن جن چیزوں کے محتاج تھے اس نے سب کچھ تمہیں دے دیا ہے، مانگنے پر بھی وہ دیتا ہے اور بے مانگے بھی۔ اس کا ہاتھ نہیں رکتا، تو بھلا رب کی تمام نعمتوں کا شکر یہ تم کیا ادا کرو گے؟ تم سے تو ان کی پوری نعمتی بھی محال ہے۔ طلق بن حبیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کا حق اس سے بہت بھاری ہے کہ بندے اسے ادا کر سکیں اور خدا کی نعمتیں اس سے بہت زیادہ ہیں کہ بندے ان کی نعمتی کر سکیں۔ لوگو! صبح و شام توبہ، استغفار کرتے رہو۔ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ فرمایا کرتے تھے کہ خدایا! تیرے ہی لئے سب حمد و ثناء اور ہے۔ ہماری ثنائیں ناکافی ہیں پوری اور بے پرواہ کرنے والی نہیں، خدایا تو معاف فرما۔ روٹ گئے روٹ گئے پر زبان ہو تو بھی تیری ایک نعمت کا شکر پورا ادا نہیں ہو سکتا، تیرے احسانات اور انعامات بے شمار ہیں۔ (تفسیر ابن کثیر، جلد ۳، صفحہ ۷۷)

### (۶۶) عبد اللہ بن سلام مکہ مکرمہ عید منانے گئے اور اللہ نے اسلام دے دیا

حدیث میں ہے کہ حضرت عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے علماء و یہود سے کہا کہ میرا ارادہ ہے کہ اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام کی مسجد میں جا کر عید منائیں۔ مکہ مکرمہ پہنچے، آنحضرت ﷺ بھی تھے۔ یہ لوگ جب حج سے واپس ہوئے تو آپ ﷺ سے ملاقات ہوئی۔ اس وقت آپ ﷺ ایک مسجد میں تشریف فرما تھے، اور لوگ بھی آپ ﷺ کے پاس تھے، یہ بھی حج اپنے ساتھیوں کے کھڑے ہو گئے۔ آپ ﷺ نے ان کی طرف دیکھ کر پوچھا کہ آپ ہی عبد اللہ بن سلام ہیں۔ کہا ہاں، فرمایا: قریب آؤ۔ جب قریب ہو گئے تو آپ ﷺ نے فرمایا کیا تم میرا ذکر تو رات میں نہیں پاتے؟ انہوں نے کہا، آپ خدا کے اوصاف میرے سامنے بیان فرمائیے۔ اسی

وقت حضرت جبرئیل علیہ السلام آئے، آپ ﷺ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ کہو قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ آپ ﷺ نے پوری سورۃ پڑھ سنائی۔ ابن سلام نے اسی وقت کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، مدینے واپس چلے آئے لیکن اپنے اسلام کو چھپائے رہے۔ جب حضور ﷺ ہجرت کر کے مدینے پہنچے، اس وقت آپ ﷺ کجھور کے ایک درخت پر چڑھے ہوئے کجھوریں اُتار رہے تھے، جب آپ ﷺ کو خبر پہنچی، اسی وقت درخت سے کود پڑے۔ ماں کہنے لگیں کہ اگر (حضرت) موسیٰ علیہ السلام بھی آجاتے تو تم درخت سے نہ کودتے، کیا بات ہے؟ جواب دیا کہ امامی (حضرت) موسیٰ علیہ السلام کی نبوت سے بھی زیادہ خوشی مجھے خاتم المرسلین ﷺ کی یہاں تشریف آوری سے ہوئی ہے۔

(تفسیر ابن کثیر، جلد ۳، صفحہ ۵۴)

## ﴿۶۷﴾ داعی کی حیات اسلام کی حیات ہے، اور داعی کی موت بھی اسلام کی حیات ہے

مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں گزشتہ زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اس کے یہاں جادو گر تھا، جب جادو گر بوڑھا ہوا تو اُس نے بادشاہ سے کہا کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری موت کا وقت قریب آ رہا ہے، مجھے کسی بچہ کو سونپ دو تو میں اُسے جادو سکھا دوں۔ چنانچہ ایک ذہین لڑکے کو وہ تعلیم دینے لگا۔ لڑکا اُس کے پاس جاتا تو راستہ میں ایک راہب کا گھر پڑتا جہاں وہ عبادت میں اور کبھی وعظ میں مشغول ہوتا۔ یہ لڑکا بھی کھڑا ہو جاتا اور اس کے طریق عبادت کو دیکھتا اور وعظ سنتا۔ آتے جاتے یہاں رک جایا کرتا تھا۔ جادو گر بھی مارتا اور ماں باپ بھی کیونکہ وہاں بھی دیر میں پہنچتا اور یہاں بھی دیر میں آتا۔ ایک دن اس بچے نے راہب کے سامنے اپنی یہ شکایت بیان کی۔ راہب نے کہا کہ جادو گر تجھ سے پوچھے کہ کیونکر دیر ہوگی تو کہہ دینا کہ گھر والوں نے روک لیا تھا، اور گھر والے بگڑیں تو کہہ دینا کہ آج جادو کرنے روک لیا تھا۔ یونہی ایک زمانہ گزر گیا کہ ایک طرف تو وہ جادو سیکھتا تھا، دوسری جانب کلام اللہ اور دین سیکھتا تھا۔

ایک دن یہ دیکھتا ہے کہ راستہ میں ایک زبردست ہیبت ناک جانور پڑا ہوا ہے، لوگوں کی آمد و رفت بند کر رکھی ہے۔ ادھر والے ادھر اور ادھر والے ادھر نہیں آسکتے۔ اور سب لوگ ادھر ادھر حیران و پریشان کھڑے ہیں۔ اُس نے اپنے دل میں سوچا کہ آج موقع ہے کہ میں امتحان کر لوں کہ راہب کا دین خدا کو پسند ہے یا جادو گر کا۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور یہ کہہ کر اُس پر پھینکا کہ خدایا! اگر تیرے راہب کا دین اور اُس کی تعلیم جادو گر کے امر سے زیادہ محبوب ہے تو تو اس جانور کو اس پتھر سے ہلاک کر دے، تاکہ لوگوں کو اس بلا سے نجات ملے۔ پتھر کے لگتے ہی وہ جانور مر گیا اور لوگوں کا آنا جانا شروع ہو گیا۔ پھر جا کر راہب کو خبر دی تو اس نے کہا، پیارے بچے! تو مجھ سے افضل ہے، اب خدا کی طرف سے تیری آزمائش ہوگی اگر ایسا ہو تو کسی کو میری خبر نہ کرنا۔

اب اس بچے کے پاس حاجت مند لوگوں کا تاننا لگ گیا، اور اُس کی دُعا سے مادر زاد اندھے، کوڑھی، جذامی اور ہر قسم کے بیمار اچھے ہونے لگے۔ بادشاہ کے ایک نایاب وزیر کے کان میں بھی یہ آواز پڑی، وہ بڑے مخفی تحائف لے کر حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اگر تو مجھے شفا دے دے تو یہ سب میں تجھے دے دوں گا۔ اُس نے کہا کہ شفا میرے ہاتھ میں نہیں، میں کسی کو شفا نہیں دے سکتا، شفا دینے والا تو اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، اگر تو اس پر ایمان لانے کا وعدہ کرے تو میں اُس سے دُعا کروں۔ اس نے اقرار کیا۔ بچے نے اُس کے لئے دُعا کی، اللہ تعالیٰ نے اُسے شفا دے دی۔ وہ بادشاہ کے دربار میں آیا اور جس طرح اندھا ہونے سے پہلے کام کرتا تھا کرنے لگا اور آنکھیں بالکل روشن تھیں۔ بادشاہ نے متعجب ہو کر پوچھا کہ تجھے آنکھیں کس نے دیں؟ اُس نے کہا، میرے رب نے۔ بادشاہ نے کہا، ہاں یعنی میں نے۔ وزیر نے کہا، نہیں! نہیں! میرا رب اور تیرا رب اللہ ہے۔ بادشاہ نے کہا، اچھا تو کیا میرے سوا تیرا کوئی اور رب بھی ہے؟ وزیر نے کہا، ہاں! میرا اور تیرا رب اللہ عزوجل ہے۔ اب اُس نے اُسے مار پیٹ شروع کر دی اور طرح طرح کی تکلیفیں اور ایذائیں پہنچانے لگا اور پوچھنے لگا، تجھے یہ تعلیم کس نے دی؟ آخر اُس نے بتا دیا کہ اُس بچے کے ہاتھ پر میں نے اسلام قبول کیا، اس نے اسے بلوایا اور کہا، اب تو تم جادو

میں خوب کمال ہو گئے ہو کہ اندھوں کو دیکھتا اور بیماروں کو تندرست کرنے لگ گئے ہو۔ اُس نے کہا، غلط ہے، نہ میں کسی کو شفا دے سکتا ہوں جاؤ۔ شفا اللہ عزوجل کے ہاتھ میں ہے۔ کہنے لگا، ہاں یعنی میرے ہاتھ میں ہے، کیونکہ اللہ تو میں ہی ہوں۔ اُس نے کہا، ہرگز نہیں۔ کہا، پھر کیا تو میرے سوا کسی اور کو رب مانتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا، ہاں میرا اور تیرا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ اس نے اب اسے بھی طرح طرح کی سزائیں دینی شروع کر دیں یہاں تک کہ راہب کا پتہ لگا لیا۔ راہب کو بلا کر اُس سے کہا کہ تو اسلام کو چھوڑ دے اور اس دین سے پلٹ جا۔ اُس نے انکار کیا، تو اس بادشاہ نے آرے سے اُسے چیر دیا اور ٹھیک دو ٹکڑے کر کے پھینک دیا۔ پھر اس نوجوان سے کہا کہ تو بھی دین سے پھر جا، اُس نے بھی انکار کیا۔ تو بادشاہ نے حکم دیا کہ ہمارے سپاہی اسے فلاں فلاں پہاڑ لے جائیں اور اس کی بلند چوٹی پر پہنچ کر پھر اسے اس کے دین چھوڑ دینے کو کہیں، اگر مان لے تو اچھا ورنہ وہیں سے اسے لڑھکا دیں۔ چنانچہ یہ لوگ اسے لے گئے، جب وہاں سے دھکا دینا چاہا تو اُس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دُعا کی اَللّٰهُمَّ اَكْفِيْبِهِمْ بِمَا شِئْتُمْ۔ خدایا! جس طرح چاہ مجھے ان سے نجات دے۔ اس دُعا کے ساتھ ہی پہاڑ ہلا اور وہ سب سپاہی لڑھک گئے، صرف وہ بچہ ہی بچا رہا۔ وہاں سے وہ اتر اور اسی خوشی پھر اُس ظالم بادشاہ کے پاس آ گیا۔ بادشاہ نے کہا، یہ کیا ہوا؟ میرے سپاہی کہاں ہیں؟ فرمایا، میرے خدانے مجھے اُن سے بچا لیا۔ اُس نے کچھ اور سپاہی بلوائے اور اُن سے کہا کہ اسے کشتی میں بٹھا کر لے جاؤ، اور بیٹوں، بیچ سمندر میں ڈبو کر چلے آؤ۔ یہ اُسے لے کر چلے اور بیچ میں پہنچ کر جب سمندر میں پھینکنا چاہا تو اُس نے پھر وہی دُعا کی کہ بار اہبا! جس طرح چاہ مجھے ان سے بچا۔ موج اٹھی اور وہ سپاہی سارے کے سارے سمندر میں ڈوب گئے، صرف وہ بچہ ہی باقی رہ گیا۔ یہ پھر بادشاہ کے پاس آیا اور کہا، میرے رب نے مجھے اُن سے بچا لیا۔ اے بادشاہ تو چاہے تمام تر تہمیریں کر ڈال لیکن مجھے ہلاک نہیں کر سکتا۔ ہاں جس طرح میں کہوں اُس طرح اگر کرے تو البتہ میری جان نکل جائے گی۔

اُس نے کہا، کیا کروں؟ فرمایا: تمام لوگوں کو ایک میدان میں جمع کر، پھر کھجور کے تنے پر سولی چڑھا اور میرے ترکش میں سے ایک تیر نکال کر میری کمان پر چڑھا اور میرے ترکش میں سے ایک تیر نکال کر میری کمان پر چڑھا اور بسم اللہ رَبِّ هَذَا الْفُلَانِ یعنی اُس اللہ تعالیٰ کے نام سے جو اس بچہ کا رب ہے، کہہ کر وہ تیر میری طرف پھینک، وہ مجھے لگے گا اور اس سے میں مردوں گا۔ چنانچہ بادشاہ نے یہی کہا۔ تیر بچے کی کپٹی میں لگا، اس نے اپنا ہاتھ اُس جگہ رکھ لیا اور شہید ہو گیا۔ اس کے اس طرح شہید ہوتے ہی لوگوں کو اس کے دین کی سچائی کا یقین آ گیا۔ چاروں طرف سے یہ آوازیں اُٹھنے لگیں کہ ہم سب اس بچہ کے رب پر ایمان لائیں۔ یہ حال دیکھ کر بادشاہ کے ساتھی بڑے گھبرائے اور بادشاہ سے کہنے لگے، اس لڑکے کی ترکیب ہم تو سمجھے ہی نہیں۔ دیکھئے! اس کا یہ اثر پڑا کہ یہ تمام لوگ اُس کے مذہب پر ہو گئے۔ ہم نے تو اسی لئے اسے قتل کیا تھا کہ کہیں یہ مذہب پھیل نہ پڑے۔ لیکن وہ ڈر تو سامنے آئی گیا اور سب مسلمان ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا کہ اچھا یہ کرو کہ تمام مخلوق اور راستوں میں خندقیں کھدواؤ اور اُن میں لکڑیاں بھر دو، اور اُن میں آگ لگا دو، جو اس دین سے پھر جائے اُسے چھوڑ دو اور جو نہ مانے اُسے آگ میں ڈال دو۔ ان مسلمانوں نے صبر و سہار کے ساتھ آگ میں جلنا منظور کر لیا اور اُس میں کود کود کر گرنے لگے۔ البتہ ایک عورت جس کی گود میں دودھ پیتا چھوٹا سا بچہ تھا وہ ذرا جھنجکی تو اُس بچہ کو خدا تعالیٰ نے بولنے کی طاقت دی، اُس نے کہا، اماں! کیا کر رہی ہو؟ تم تو حق پر ہو، صبر کرو اور اس میں کود پڑو۔ (یہ حدیث مسند احمد میں بھی ہے اور صحیح مسلم کے آخر میں بھی ہے اور نسائی میں بھی قدرے اختصار کے ساتھ ہے۔)

نوٹ: حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانہ میں اس بچہ کو اس کی قبر سے نکالا گیا تھا، اس کی انگلی اُسی طرح کی کپٹی پر رکھی ہوئی تھی، جس طرح بوقت شہادت تھی۔ (تفسیر ابن کثیر جلد ۵، ص ۵۳۱)



### (۶۸) حضرت انس رضی اللہ عنہ ہر رات حضور ﷺ کو خواب میں دیکھتے تھے

حضرت شی بن سعید ذراع بنی ہاشم کہتے ہیں، میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے کہ میں ہر رات اپنے حبیب ﷺ کو خواب میں دیکھتا ہوں اور یہ فرما کر رونے لگ پڑے۔ (حیاۃ اصحاب، جلد ۱، صفحہ ۴۳۸)

### (۶۹) جنت اور جہنم کی آپس میں گفتگو

صحیحین میں ہے رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ جنت و دوزخ میں گفتگو ہوتی۔ جنت نے کہا، مجھ میں تو صرف ضعیف اور کمزور لوگ ہی داخل ہوتے ہیں اور جہنم نے کہا، میں تکبر اور تجبر کرنے والوں کے ساتھ مخصوص کی گئی ہوں۔ اس پر اللہ تعالیٰ عزوجل نے جنت سے فرمایا، تو میری رحمت ہے جسے میں چاہوں تجھ سے نوازوں گا اور جہنم سے فرمایا، تو میرا عذاب ہے، جس سے میں چاہوں تیرے عذابوں سے انتقام لوں گا۔ تم دونوں پر ہو جاؤ گی، جنت میں تو برابر زیادتی رہے گی یہاں تک کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک نئی مخلوق پیدا کرے گا اور اسے اس میں بسائے گا اور جہنم بھی برابر زیادتی طلب کرتی رہے گی یہاں تک کہ اس پر اللہ رب العزت اپنا قدم رکھے گا، تب وہ کہنے لگے گی، تیری عزت کی قسم! اب بس ہے، بس ہے۔ (تفسیر ابن کثیر، جلد ۲، صفحہ ۵۱۹)

### (۷۰) ایک آدمی کا عجیب صدقہ

صحیحین کی حدیث میں آیا ہے کہ ایک شخص نے قصد کیا کہ آج رات میں صدقہ دوں گا، لے کر نکلا اور چپکے سے ایک عورت کو دے کر چلا آیا۔ صبح لوگوں میں یہ باتیں ہونے لگیں کہ آج رات کو کوئی شخص ایک بدکار کو کوئی خیرات دے گیا۔ اُس نے بھی سنا اور خدا تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ پھر اپنے جی میں کہا کہ آج رات پھر صدقہ کروں گا۔ لے کر چلا اور ایک شخص کی منگی میں رکھ کر چل آیا۔ صبح سنا ہے کہ لوگوں میں چرچا ہو رہا ہے کہ آج رات ایک نادار کو کوئی صدقہ دے گیا۔ اس نے پھر خدا تعالیٰ کی حمد کی اور ارادہ کیا کہ آج رات کو تیسرا صدقہ دوں گا، دے آیا۔ دن کو معلوم ہوا کہ وہ چور تھا۔ تو کہنے لگا، خدایا! تیری تعریف ہے، زانیہ عورت کو دیئے جانے پر بھی مالدار شخص کو دیئے جانے پر بھی اور چور کو دیئے جانے پر بھی، خواب میں دیکھتا ہے کہ فرشتہ آیا اور کہہ رہا ہے تیرے تینوں صدقے قبول ہو گئے۔ شاید بدکار عورت مال پا کر اپنی حرام کاری سے رک جائے، اور شاید مالدار کو عبرت حاصل ہو اور وہ بھی صدقے کی عادت ڈال لے اور شاید چور مال پا کر چوری سے باز رہے۔ (تفسیر ابن کثیر، جلد ۱، صفحہ ۳۶۸)

### (۷۱) آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے، صبر کر لیجئے، اللہ آپ کے درجے بڑھا دے گا

ایک قریشی نے ایک انصاری کو زور سے دھکا دے دیا، جس سے اُس کے آگے کے دانت ٹوٹ گئے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس مقدمہ گیا اور جب وہ بہت سر ہو گیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اچھا جا تجھے اختیار ہے۔ حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ وہیں تھے، فرمانے لگے میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ جس مسلمان کے جسم کو کوئی ایذا پہنچائی جائے اور وہ صبر کر لے، بدلہ نہ لے تو اللہ تعالیٰ اُس کے درجے بڑھاتا ہے اور اس کی خطائیں معاف فرماتا ہے۔ اس انصاری نے یہ سن کر کہا، کیا سچ سچ آپ نے خود ہی اسے حضور ﷺ کی زبانی سنا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں! میرے ان کانوں نے سنا ہے اور میرے دل نے یاد کیا ہے۔ اس نے کہا، پھر گواہ رہو کہ میں نے اپنے مجرم کو معاف کر دیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور اُسے انعام دیا۔ (تفسیر ابن کثیر، جلد ۱، صفحہ ۷۱)

## (۷۲) خدایا تو سلام ہے اور میں اسلام ہوں

مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں، قیامت کے دن اعمال آئیں گے، نماز آ کر کہے گی کہ خدایا! میں نماز ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو اچھی چیز ہے۔ صدقہ آئے گا اور کہے گا، پروردگار! میں صدقہ ہوں۔ جواب ملے گا تو بھی خیر پر ہے۔ روزہ آ کر کہے گا میں روزہ ہوں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو بھی بہتری پر ہے۔ پھر اسی طرح اور اعمال بھی آتے جائیں اور سب کو یہی جواب ملتا ہے گا۔ پھر اسلام آئے گا اور کہے گا، خدایا! تو سلام ہے اور میں اسلام۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو خیر پر ہے، آج تیرے ہی باعث میں پکڑوں گا اور تیری ہی وجہ سے میں انعام دوں گا۔ (تفسیر ابن کثیر، جلد ۱، صفحہ ۳۳۰)

## (۷۳) منافقین کے بارے میں کچھ پڑھ لیجئے

﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَدِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِنَّا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ وَالنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ۝ مُذَبِّحِينَ بِعَنَتِ لِقَائِهِ هَوْلًا وَلَا إِلَىٰ هَوْلًا وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ۝﴾

(سورۃ النساء، آیت: ۱۴۲، ۱۴۳)

ترجمہ: ”بے شک منافق اللہ سے چالبازیاں کر رہے ہیں اور وہ انہیں اس چالبازی کا بدلہ دینے والا ہے، اور جب نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی کاہلی کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں۔ صرف لوگوں کو دکھاتے ہیں اور یاد الہی تو یونہی برائے نام کرتے ہیں، وہ درمیان میں ہی معلق ڈگمگا رہے ہیں، نہ پورے ان کی طرف نہ صحیح طور پر ان کی طرف اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہی میں ڈال دے تو تو اس کے لئے کوئی راہ نہیں پائے گا۔“

تشریح: سورہ بقرہ کے شروع میں بھی آیت ﴿يُخَدِعُونَ اللَّهَ﴾..... الخ اس مضمون میں گزر چکی ہے۔ یہاں بھی یہی بیان ہو رہا ہے کہ یہ کم سمجھ منافق اس خدا کے سامنے چالیں چلتے ہیں جو سینوں میں چھپی ہوئی باتوں اور دل کے پوشیدہ رازوں سے آگاہ ہے، کم فہمی سے یہ خیال کئے بیٹھے ہیں کہ جس طرح ان کا نفاق دنیا میں چل گیا اور مسلمانوں میں ملے جلے رہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے پاس بھی یہ مکاری چل جائے گی۔ چنانچہ قرآن میں ہے کہ قیامت کے دن بھی یہ لوگ خدا کے سامنے اپنی ایک رنگی کی قسمیں کھائیں گے جیسے یہاں کھاتے ہیں، لیکن اس عالم الغیب کے سامنے یہ ناکارہ قسمیں ہرگز کارآمد نہیں ہو سکتیں۔ اللہ تعالیٰ بھی انہیں دھوکے میں رکھ رہا ہے، وہ ڈھیل دیتا ہے، بڑھوتری دیتا ہے، یہ پھولتے ہیں، خوش ہوتے ہیں اور اپنے لئے اسے اچھائی سمجھتے ہیں۔ قیامت میں بھی ان کا یہی حال ہو گا، مسلمانوں کے نور کے سہارے میں ہوں گے، وہ آگے نکل جائیں گے، آوازیں دیں گے کہ ٹھہرو! ہم بھی تمہاری روشنی میں چلیں، جواب ملے گا کہ پیچھے مڑ جاؤ اور روشنی تلاش کر لاؤ، یہ مڑیں گے، ادھر حجاب حائل ہو جائے گا، مسلمانوں کی جانب رحمت اور ان کی طرف زحمت۔ حدیث شریف میں ہے، جو سنائے گا اللہ اسے بھی سنائے گا۔ جو یا کاری کرے گا اللہ بھی اسے دکھائے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے، ان منافقوں میں وہ بھی ہوں گے کہ بظاہر لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ ان کی نسبت فرمائے گا انہیں جنت میں لے جاؤ، فرشتے لے جا کر دوزخ میں ڈال دیں گے، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔ پھر ان منافقوں کی بدزدنی کا بیان ہو رہا ہے کہ نماز جیسی بہترین عبادت بھی مشغولی اور دلچسپی سے ادا کرنی انہیں نصیب نہیں ہوتی، کیونکہ نیک نیتی، حسن عمل، حقیقی ایمان، سچا یقین ان میں ہے ہی نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما تھکے ہارے ہوئے بدن کسمسا کر نماز پڑھنا مکروہ جانتے تھے اور فرماتے تھے کہ نمازی کو چاہئے کہ ذوق و شوق سے راضی خوشی پوری رغبت اور انتہائی توجہ کے ساتھ نماز میں کھڑا ہو اور یقین مانے کہ اس کی آواز پر خدا تعالیٰ۔ کرکان ہیں، اس کی طلب پوری کرنے کو خدا

تیار ہے، یہ تو ہوئی ان منافقوں کی ظاہری حالت کہ تھکے ہارے تنگدلی کے ساتھ بطور بیگار نالنے کے لئے نماز کے لئے آئے۔ پھر اندرونی حالت یہ کہ اخلاص سے کوسوں دور ہیں۔ رب سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، نمازی مشہور ہونے کے لئے لوگوں میں اپنے ایمان کو ظاہر کرنے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں۔ بسلا ان صنم آشنا دل والوں کو نماز میں کیا ملے گا؟ یہی وجہ ہے کہ ان نمازوں میں جن میں لوگ ایک دوسرے کو کم دیکھ سکیں یہ غیر حاضر رہتے ہیں، مثلاً عشاء کی نماز اور فجر کی نماز۔ بخاری و مسلم میں ہے، رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں سب سے زیادہ بوجھل نماز منافقوں پر عشاء اور فجر کی ہے۔ اگر دراصل یہ ان نمازوں کے فضائل کے دل سے قائل ہوتے تو گھٹنوں چل کر آتا پڑے یہ ضرور آجاتے، میں تو ارادہ کر رہا ہوں کہ تکبیر کہلو کر کسی کو اپنی امامت کی جگہ کھڑا کر کے نماز شروع کر کر کچھ لوگوں سے لکڑیاں اٹھوا کر ان کے گھروں میں جاؤں جو جماعت میں شامل نہیں ہوتے اور لکڑیاں ان کے گھروں کے ارد گرد لگا کر حکم دوں کہ آگ لگا دو اور ان کے گھروں میں جلا دو۔ ایک روایت میں ہے، خدا کی قسم! اگر انہیں ایک چرب ہڈی بنا دو اچھے گھر ملنے کی امید ہو تو دوڑتے چلے آئیں لیکن آخرت کی اور خدا کے..... کی انہیں اتنی بھی قدر نہیں، اگر بال بچوں اور عورتوں کا جو گھروں میں رہتی ہیں مجھے خیال نہ ہوتا تو قطعاً میں ان کے گھر جلا دیتا۔ ابویعلیٰ میں ہے، حضور ﷺ فرماتے ہیں، جو شخص لوگوں کی موجودگی میں تو نماز کو سنوار کر ٹھہر ٹھہر کر ادا کرے، لیکن جب کوئی نہ ہو تو بری طرح نماز پڑھ لے، یہ وہ ہے جس نے اپنے رب کی اہانت کی۔ پھر فرمایا، یہ لوگ ذکر اللہ بھی بہت کم کرتے ہیں، یعنی نماز میں ان کا دل نہیں لگتا، یہ اپنی کمی ہوئی بات سمجھتے بھی نہیں بلکہ غافل دل اور بے پرواہ نفس سے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ آنحضرت ﷺ فرماتے ہیں، یہ نماز منافق کی ہے، یہ نماز منافق کی ہے کہ بیٹھا ہوا سورج کی طرف دیکھ رہا ہے، یہاں تک کہ جب وہ ڈوبنے لگا اور شیطان نے اپنے دونوں سینگ اس کے ارد گرد لگا دیئے تو یہ کھڑا ہوا اور جلدی جلدی چار رکعتیں پڑھ لیں جن میں خدا کا ذکر برائے نام ہی کیا۔ (مسلم وغیرہ)

یہ منافق متحیر ششدر و پریشان حال ہیں، ایمان و کفر کے درمیان ان کا دل ڈنوا ڈول ہو رہا ہے، نہ تو صاف طور سے مسلمانوں کے ساتھ ہی ہیں، نہ بالکل کفار کے ساتھ، کبھی نور ایمان چمک اٹھا تو اسلام کی صداقت کرنے لگے، کبھی کفر کی اندھیریاں غالب آگئیں تو ایمان سے یکسو ہو گئے، نہ تو حضور ﷺ کے صحابہ جو ﷺ کی طرف ہیں، نہ یہودیوں کی جانب۔ رسول مقبول ﷺ کا ارشاد ہے کہ منافق کی مثال ایسی ہے جیسے دو ریوڑ کے درمیان کی بکری کہ کبھی تو وہ میں میں کرتی اس ریوڑ کی طرف دوڑتی ہے کبھی اُس طرف۔ اس کے نزدیک ابھی یہ طے نہیں ہوا کہ اس میں جائے یا اس کے پیچھے لگے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس معنی کی حدیث حضرت عبید بن عمیر نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی موجودگی میں کچھ الفاظ کے ہیر پھیر سے بیان کی تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اپنے سنے ہوئے الفاظ دہرا کر کہا، یوں نہیں بلکہ دراصل حدیث یوں ہے، جس پر حضرت عبید بن عمر رضی اللہ عنہما ناراض ہوئے۔ (ممکن ہے ایک بزرگ نے ایک طرح کے الفاظ سنے ہوں اور دوسرے نے دوسری قسم کے) ابن ابی حاتم میں ہے، مؤمن کافر اور منافق کی مثال ان تین شخصوں جیسی ہے جو ایک دریا پر گئے، ایک تو کنارے ہی کھڑا رہ گیا، دوسرا اتر کر پار ہو کر منزل مقصود کو پہنچ گیا، تیسرا اتر چلا، جب پتھوں بچ پھنچا تو ادھر والے نے پکارنا شروع کیا کہ کہاں ہلاک ہونے چلا، ادھر آ۔ ادھر والے نے آواز دی کہ آ جاؤ! نجات کے ساتھ منزل مقصود پر میری طرح پہنچ جاؤ، ادھا راستہ طے کر چکے ہو۔ اب یہ حیران ہو کر کبھی ادھر دیکھتا ہے کبھی ادھر نظر ڈالتا ہے۔ مذہب ہے کہ کدھر جاؤں کدھر نہ جاؤں؟ ایک زبر دست موج آئی اور بہا کر لے چلی، غوطے کھا کھا کر مر گیا۔ پس پار ہو جانے والا تو مسلمان ہے، کنارے کھڑا رہ جانے والا کافر ہے اور موج میں ڈوب مرنے والا منافق ہے۔ (تفسیر ابن کثیر، جلد ۱، صفحہ ۶۵۴)

## (۷۴) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا عجیب خواب اور اس کی تعبیر

مؤطا امام مالک میں یحییٰ بن سعید سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا:  
 ﴿رَأَيْتُ ثَلَاثَةَ أَقْمَارٍ سَقَطْنَ فِي حُجْرَتِي، فَوَصَفْتُ رُوَيْكِي عَلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ﴾  
 ترجمہ: ”میں نے خواب میں دیکھا کہ تین چاند میرے حجرے میں گرے ہیں۔ میں نے اپنے خواب کا تذکرہ (اپنے والد محترم) حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کیا۔“

طبقات ابن سعد کی روایت میں ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا: تم نے اس خواب کی تعبیر کیا کی ہے؟ میں نے عرض کیا:

﴿أَوْلَتْهَا وَلَدًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ﴾

ترجمہ: ”میں نے اپنے طور پر یہ تعبیر کی ہے کہ میرے ہاں رسول اللہ ﷺ سے اولاد پیدا ہوگی۔“  
 یہ سن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خاموش رہے۔

پھر جب رسول اکرم ﷺ کا انتقال ہو گیا اور آپ ﷺ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں دفن کئے گئے تو حضرت ابو بکر

رضی اللہ عنہ نے (خواب کی تعبیر کے طور پر) فرمایا:

﴿هَذَا أَحَدُ أَقْمَارِكَ وَهُوَ خَيْرٌ هَذَا﴾

ترجمہ: ”تمہارے ایک چاند یہ ہیں اور بقیہ دو چاندوں سے بہتر ہیں۔“ (مؤطا امام مالک، کتاب الجہاد، باب الجاہلی مؤمن، المیت، ۱/۲۳۲)  
 بعد میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں دفن ہوئے۔

## (۷۵) سات بیٹیوں کی برکت سے ایک آدمی جہنم سے بچ گیا تاریخ میں ایک دلچسپ واقعہ لکھا ہے

تاریخ میں ایک دلچسپ واقعہ ملتا ہے، وہ ذیل میں درج کیا جاتا ہے:

ایک شخص کے ہاں صرف بیٹیاں تھیں۔ ہر مرتبہ اس کو امید ہوتی کہ اب تو بیٹا پیدا ہوگا مگر ہر بار بیٹی ہی پیدا ہوتی۔ اس طرح اس کے ہاں یکے بعد دیگرے چھ بیٹیاں ہو گئیں، اس کی بیوی کے ہاں پھر ولادت متوقع تھی۔ وہ ڈر رہا تھا کہ کہیں پھر لڑکی پیدا نہ ہو جائے۔ شیطان نے اس کو بہکایا، چنانچہ اس نے ارادہ کر لیا کہ اب بھی لڑکی پیدا ہوئی تو اپنی بیوی کو طلاق دے دے گا۔

اس کی کج فہمی پر غور کریں! بھلا اس میں بیوی کا کیا قصور! رات کو سویا تو اس نے عجیب و غریب خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ قیامت برپا ہو چکی ہے، اس کے گناہ بہت زیادہ ہیں جن کے سبب اس پر جہنم واجب ہو چکی، لہذا فرشتوں نے اس کو پکڑا اور جہنم کی طرف لے گئے۔ پہلے دروازے پر گئے تو دیکھا کہ اس کی ایک بیٹی وہاں کھڑی تھی جس نے اسے جہنم میں جانے سے روک دیا۔ فرشتے اسے لے کر دوسرے دروازے پر چلے گئے، وہاں اس کی دوسری بیٹی کھڑی تھی جو اس کے لیے آڑ بن گئی۔ اب وہ تیسرے دروازے پر اسے لے گئے، وہاں تیسری لڑکی کھڑی تھی جو رکاوٹ بن گئی۔ اس طرح فرشتے جس دروازے پر اسے لے کر جاتے وہاں اس کی ایک بیٹی کھڑی ہو تی جو اس کا دفاع کرتی اور جہنم میں جانے سے روک دیتی۔ غرض یہ کہ فرشتے اسے جہنم کے چھ دروازوں پر لے کر گئے مگر ہر دروازے پر اس کی کوئی نہ کوئی بیٹی رکاوٹ بنتی چلی گئی۔ اب ساتواں دروازہ باقی تھا۔ فرشتے اس کو لے کر اس دروازے کی طرف چل دیئے۔ اس پر گھبراہٹ طاری ہوئی کہ اس دروازے پر میرے لئے رکاوٹ کون بنے گا۔ اسے معلوم ہو گیا کہ جو نیت اس نے کی تھی وہ غائب تھی۔ وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گیا تھا۔ انتہائی پریشان اور خوف و دہشت کے عالم میں اس کی آنکھ کھل چکی تھی اور اس نے رب العزت کے

حضور اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور دعا کی:

﴿اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا السَّابِعَةَ﴾

ترجمہ: "اے اللہ مجھے ساتویں بیٹی عطا فرما۔"

اس لئے جن لوگوں کا قضا و قدر پر ایمان ہے، انہیں لڑکیوں کی پیدائش پر نچیدہ خاطر ہونے کی بجائے خوش ہونا چاہیے۔ ایمان کی کمزوری کے سبب جن بد عقیدہ لوگوں کا یہ تصور بن چکا ہے کہ لڑکیوں کی پیدائش کا سبب ان کی بیویاں ہیں، یہ سراسر غلط ہے۔ اس میں بیویوں کا یا خود ان کا کوئی عمل دخل نہیں بلکہ میاں بیوی تو صرف ایک ذریعہ ہیں، پیدا کرنے والی ہستی تو صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ وہی جس کو چاہتا ہے لڑکا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں ملا کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ ایسی صورت میں ہر مسلمان پر واجب ہے کہ اللہ کی قضا و قدر پر راضی ہو۔ اللہ نے سورہ شوریٰ میں ارشاد فرمایا ہے:

﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَهْتَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَّا لَنُؤْتِيهِم مِّنْ أَيْنُ نَّوَدُّ وَأَيُّ وَجْهِ ذُكْرَانًا وَإِنَّا لَنُجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿۵۶﴾﴾ (سورہ شوریٰ، آیت: ۵۶)

ترجمہ: "آسمانوں کی اور زمین کی سلطنت اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہے وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، یا پھر لڑکے اور لڑکیاں ملا جلا کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے، وہ بڑے علم والا اور کامل قدرت والا ہے۔" (سہری کریم، ص ۲۳)

### ﴿۷۶﴾ باون لاکھ درہم، پھر بھی زکوٰۃ واجب نہیں

ایک مرتبہ سیدہ اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ عنہا کھجوروں کی گھٹلیاں سر پر اٹھائے ہوئے مدینہ کے اطراف سے شہر کی طرف جا رہی تھیں۔ اللہ کے رسول ﷺ اونٹنی پر سوار وہاں سے گزر رہے تھے اور ان کی سالی بھی تھیں اور چھوٹی زاد بھائی زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کی بیوی بھی۔ آپ ﷺ نے ساربان سے کہا: "رُک جاؤ، رُک جاؤ۔ اسماء کو سوار کر لیں۔" آپ ﷺ نے اسماء کو اونٹنی پر سوار ہونے کی دعوت دی۔ وہ فرماتی ہیں: "میں نے اپنے خاوند زبیر کی غیرت کو یاد کیا اور اونٹنی پر سوار ہونے سے معذرت کر دی۔" (بخاری: ۵۲۲۰، مسلم: ۱۸۱۳)

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا نے اونٹنی پر بیٹھنے سے انکار کیوں کیا، اللہ کے رسول ﷺ کے ساتھ سواری پر بیٹھنے سے انکار؟ وہ مقدس اور پاکباز ہستی، طاہر، مطہر، معصوم نبی ﷺ کیا خاوند ناراض ہوتا؟ ہرگز نہیں! یہ کیسے ممکن ہے، مگر دراصل یہ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا کی غایت درجہ کی خاوند کی فرمانبرداری اور اس کے جذبات کا احترام تھا کہ اللہ کے رسول ﷺ کے ساتھ بھی سواری پر بیٹھنے سے معذرت کر دی۔ کچھ عرصے کے بعد ان کے والد محترم ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو گھوڑا اور اس کی نگہداشت کے لیے خادم عطا کیا۔

سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا نے اپنے خاوند کے ساتھ مشکل حالات میں صبر کیا، تنگی اور ترشی میں گزرا کیا اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو افریقہ میں رزق عطا فرمایا اور جب حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے وفات پائی تو آپ جانتے ہیں حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کو ترکہ میں کیا ملا؟ وہ عورت جو کھجوروں کی گھٹلیاں اکٹھی کر کے لایا کرتی تھیں، اسے باون لاکھ (52,000,00) درہم ترکہ میں ملے۔ اور یہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے حرام کی کمائی سے یا لوگوں کا مال چھین کر جمع نہیں کئے اور نہ لوگوں کو قربت رسول اور خواری رسول ہونے کا وسیلہ دے کر اکٹھے کئے بلکہ انہوں نے تجارت کی اور حلال ذرائع سے مال اکٹھا کیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کے خاوند کے پاس ایک ہزار کارندے تھے جو ان کے لئے کام کرتے اور اس کا حصہ ان کو دیتے تھے۔ اتنا رزق، اتنی جائداد اور مال و دولت کے باوجود ان پر کبھی زکوٰۃ نہیں ہوئی کیونکہ انہوں نے کبھی مال و دولت کو ذخیرہ نہیں کیا نہ اس کے انبار لگائے حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کے پاس جب کچھ نہ تھا، فقر

وفاقتہ تھا تو وہ اس حال میں ٹھہرائی نہیں اور واویلا نہیں کیا اور مال و دولت آئی تو اس پر فخر و غرور کا اظہار نہیں کیا اور ساری زندگی خیر کے کاموں میں، لوگوں پر احسان کرنے میں اور نیکی کرنے میں گزاری۔ (اسد الغابہ، جلد ۲، صفحہ ۳۰۹)

### (۷۷) شادی کے بعد معلوم ہوا کہ وہ لنگڑی ہے

امام شعیبؓ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا، میں نے ایک عورت سے شادی کی ہے، شادی کے بعد معلوم ہوا کہ وہ لنگڑی ہے۔ کیا اس کو اس کے والدین کے گھر واپس بھجوادوں؟ امام شعیبؓ فرمانے لگے، اگر تمہیں بیوی کے ساتھ دوڑ لگانی ہے، پھر تو تمہیں ضرور اسے چھوڑ دینا چاہئے، اور اگر ایسا نہیں تو پھر.....!! (سنہری کرنیں، صفحہ ۵۴)

### (۷۸) نہایت ذہین بیوی

ایک شخص اپنی بیوی سے بڑا تنگ تھا اور اسے ہر حالت میں طلاق دینا چاہتا تھا۔ ایک دن اُس نے دیکھا کہ اس کی بیوی سڑھیاں چڑھ رہی ہے۔ اس نے بیوی کو مخاطب کیا اور کہنے لگا: سنو! اگر تو اوپر چڑھی تو مجھے طلاق، نیچے اُتری تو طلاق اور اپنی جگہ کھڑی رہی تو پھر بھی طلاق۔ اس عورت نے اپنے خاوند کی طرف دیکھا، لہجہ بھر کے لئے رُکی، ذرا سوچا اور پھر اس کے خاوند نے دیکھا کہ اس نے سڑھی سے چھلانگ لگا دی۔ خاوند کی حسرتوں پر پانی پھر گیا، اپنی بیوی سے مخاطب ہوا، میرے ماں باپ تجھ پر قربان! تو کتنی بڑی فقیہہ ہے۔ امام مالکؓ وفات پا جائیں تو ممکن ہے اللہ مدینہ فتویٰ کے لئے تیرے ہی پاس آئیں۔ (سنہری کرنیں، صفحہ ۵۵)

### (۷۹) حضرت جلیپبؓ کی عجیب شادی اور عجیب شہادت

جلیپبؓ ایک انصاری صحابی تھے۔ نہ مالدار تھے، نہ کسی معروف خاندان سے تعلق تھا۔ صاحب منصب بھی نہ تھے، درشت داروں کی تعداد بھی زیادہ نہ تھی۔ رنگ بھی سانولا تھا لیکن اللہ کے رسول ﷺ کی محبت سے سرشار تھے۔ بھوک کی حالت میں پٹے پرانے کپڑے پہنے اللہ کے رسول ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ علم سیکھتے اور فیضیاب ہوتے۔ ایک دن اللہ کے رسول ﷺ نے شفقت کی نظر سے دیکھا اور ارشاد فرمایا:

﴿يَا حَبِيبُ! أَلَا تَتَزَوَّجُ؟﴾

ترجمہ: جلیپب! تم شادی نہیں کرو گے؟

جلیپب نے عرض کیا: اللہ کے رسول ﷺ مجھ جیسے آدمی سے بھلا کون شادی کرے گا؟ اللہ کے رسول ﷺ نے پھر فرمایا: ”جلیپب! تم شادی نہیں کرو گے؟“ اور وہ جواباً عرض گزار ہوئے کہ اللہ کے رسول ﷺ بھلا مجھ سے کون شادی کرے گا؟ نہ مال، نہ جاہ و جلال!! اللہ کے رسول ﷺ نے تیسری مرتبہ بھی ارشاد فرمایا: ”جلیپب! تم شادی نہیں کرو گے؟“ جواب میں انہوں نے پھر وہی کہا: ”اللہ کے رسول ﷺ مجھ سے شادی کون کرے گا؟ کوئی منصب نہیں، میری شکل بھی اچھی نہیں، نہ میرا خاندان بڑا ہے اور نہ مال و دولت رکھتا ہوں۔“ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا:

﴿إِذْ هَبَّ إِلَىٰ ذَٰلِكَ الْبَيْتِ مِنَ الْأَنْصَارِ وَقُلْ لَهُمْ: رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْأَلُكُمُ السَّلَامَ وَيَقُولُ: زَوْجُونِي اهْتِكُمُ﴾

ترجمہ: ”فلاں انصاری کے گھر جاؤ اور ان سے کہو کہ اللہ کے رسول ﷺ تمہیں سلام کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اپنی بیوی سے میری شادی کر دو۔“

جلیپبؓ خوش خوشی اس انصاری کے گھر گئے اور دروازہ پر دستک دی۔ گھر والوں نے پوچھا: کون؟ کہا جلیپب۔ گھر والوں نے

کہا: ہم تو تمہیں نہیں جانتے، نہ تم سے کوئی غرض ہے۔ خیر گھر کا مالک باہر نکلا، ادھر جلیب کھڑے تھے۔ پوچھا: کیا چاہتے ہو، کدھر سے آئے ہو؟ کہا اللہ کے رسول ﷺ نے تمہیں سلام بھجوایا ہے۔

یہ سننے کی دیر تھی کہ گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اللہ کے رسول ﷺ نے ہمیں سلام کا پیغام بھجوایا ہے۔ ارے! یہ تو بہت ہی خوش بختی کا مقام ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول ﷺ نے سلام کہلا بھیجا ہے۔

جلیب کہنے لگے: ”آگے بھی سنو! اللہ کے رسول ﷺ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دو۔“

صاحب خانہ نے کہا: ذرا انتظار کرو، میں لڑکی کی ماں سے مشورہ کر لوں۔ اندر جا کر لڑکی کی ماں کو پیغام پہنچایا اور مشورہ پوچھا۔ وہ کہنے لگی: ”نا..... نا..... قسم اللہ کی! میں اپنی بیٹی کی شادی ایسے شخص سے نہیں کروں گی، نہ خاندان، نہ شہرت، نہ مال و دولت۔“ ان کی نیک سیرت بیٹی بھی گھر میں ہونے والی گفتگو سن رہی تھی اور جان گئی تھی کہ حکم کس کا ہے؟ کس نے مشورہ دیا ہے؟ سوچنے لگی اگر اللہ کے رسول ﷺ راضی ہیں تو اس میں یقیناً میرے لئے بھلائی اور فائدہ ہے۔ اس نے والدین کی طرف دیکھا اور مخاطب ہوئی:

﴿أَتَرَدُّونَ عَلٰی رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ امْرَءًا اِذْ دَفَعْنِيْ اِلٰی رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ لَنْ يُّصَوَّبَنِيْ﴾

ترجمہ: ”کیا آپ لوگ اللہ کے رسول ﷺ کا حکم ٹالنے کی کوشش میں ہیں؟ مجھے اللہ کے رسول ﷺ کے سپرد کر دیں (وہ اپنی مرضی کے مطابق جہاں چاہیں میری شادی کر دیں) کیونکہ وہ ہرگز مجھے ضائع نہیں ہونے دیں گے۔“

پھر لڑکی نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تلاوت کی:

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وِرْسُوْلَهُۥٓ اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اٰمْرِهُمْ﴾

(سورۃ الاحزاب، آیت: ۳۶)

ترجمہ: ”اور دیکھو! کسی مؤمن مرد و عورت کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلہ کے بعد اپنے امور میں کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔“ لڑکی کا والد اللہ کے رسول ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: اللہ کے رسول ﷺ! آپ کا حکم سر آنکھوں پر، آپ کا مشورہ، آپ کا حکم قبول میں شادی کے لیے راضی ہوں۔ جب رسول اکرم ﷺ کو اس لڑکی کے پاکیزہ جواب کی خبر ہوئی تو آپ ﷺ نے اس کے حق میں یہ دعا فرمائی:

﴿اَللّٰهُمَّ صَبِّ الْخَيْرِ عَلَيْهَا صَبًّا وَّلَا تَجْعَلْ عَيْشَهَا كَدًّا﴾

ترجمہ: ”اے اللہ! اس بچی پر خیر اور بھلائی کے دروازے کھول دے اور اس کی زندگی کو مشقت و پریشانی سے دور رکھ۔“

(موارد الملتان: ۲۲۶۹، ص ۴/۳، مجمع الزوائد: ۳۷۵/۹، ۳۷۰ وغیرہ)

پھر جلیب رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس کی شادی ہو گئی۔ مدینہ منورہ میں ایک اور گھرانہ آباد ہو گیا جس کی بنیاد تقویٰ اور پرہیزگاری پر تھی، جس کی چھت مسکنت اور محتاجی تھی، جس کی آرائش، وزینتس تکبیر و تہلیل اور تسبیح و تہمید تھی۔ اس مبارک جوڑے کی راحت نماز میں اور دل کا ٹہینان تہتی دو پہروں کے نقلی روزوں میں تھا۔

رسول اکرم ﷺ کی دعا کی برکت سے یہ شادی خانہ آبادی بڑی ہی برکت والی ثابت ہوئی۔ تھوڑے ہی عرصے میں ان کے مالی حالات اس قدر اچھے ہو گئے کہ راوی کا بیان ہے:

﴿فَكَانَتْ مِنْ اَكْثَرِ الْاَنْصَارِ نَفَقَةً وَّمَالًا﴾

ترجمہ: ”انصاری گھرانوں کی عورتوں میں سب سے خرچہ دار گھرانہ اس لڑکی کا تھا۔“

ایک جنت میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ رسول اکرم ﷺ نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے دریافت فرمایا:

﴿هَلْ تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدٍ؟﴾

ترجمہ: دیکھو! تمہارا کوئی ساتھی چھڑا تو نہیں گیا۔

مطلب یہ تھا کہ کون کون شہید ہو گیا؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: ہاں! فلاں فلاں حضرات موجود نہیں ہیں۔ پھر ارشاد ہوا:

﴿هَلْ تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدٍ؟﴾

ترجمہ: ”کیا تم کسی اور کو گم پاتے ہو؟“

صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: نہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا:

﴿لَكِنِّي أَفْقِدُ جَلِييبًا فَاطْلُبُوهُ﴾

ترجمہ: ”لیکن مجھے جلییب نظر نہیں آ رہا، اس کو تلاش کرو۔“

چنانچہ ان کو میدان جنگ میں تلاش کیا گیا۔ وہ منظر بڑا عجیب تھا۔ میدان جنگ میں ان کے ارد گرد سات کافروں کی لاشیں تھیں۔ گویا وہ ان ساتوں سے لڑتے رہے اور پھر ساتوں کو جہنم رسید کر کے شہید ہوئے۔ اللہ کے رسول ﷺ کو خبر دی گئی۔ رؤف ورحیم پیغمبر ﷺ تشریف لائے۔ اپنے پیارے ساتھی کی نعش کے پاس کھڑے ہوئے، منظر کو دیکھا، پھر فرمایا:

﴿قَتَلَ سَبْعَةٌ لِمَا قَتَلُوهُ، هَذَا مِنِّيُّ وَأَنَا مِنْهُ، هَذَا مِنِّيُّ وَأَنَا مِنْهُ﴾

ترجمہ: ”اس نے سات کافروں کو قتل کیا، پھر دشمنوں نے اُسے قتل کر دیا۔ یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔“

﴿فَوَضَعَهُ عَلَى سَاعِدَيْهِ لَيْسَ لَهُ إِلَّا سَاعِدَا النَّبِيِّ ﷺ﴾

ترجمہ: ”پھر آپ ﷺ نے اپنے پیارے ساتھی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور شان یہ تھی کہ اکیلے ہی اس کو اٹھایا ہوا تھا۔ صرف آپ کے دونوں بازوؤں کا سہارا سے میسر تھا۔“

جلییب رضی اللہ عنہ کے لئے قبر کھودی گئی، پھر نبی کریم ﷺ نے اپنے دست مبارک سے انہیں قبر میں رکھا۔ (صحیح مسلم ۴۲: ۱۲۷)

### (۸۰) بہترین عورت کی خوبیاں

ایک اعرابی سے جس کا عورتوں کی صفات کے بارے میں خاصہ تجربہ تھا، پوچھا گیا: ”بہترین عورت میں کیا خوبیاں ہونی چاہئیں۔“ اس نے جواب دیا، ایک اچھی عورت میں درج ذیل خوبیاں ہوتی ہیں۔ کھڑی ہو تو لمبے قد کی ہو، اور بیٹھے تو نمایاں نظر آئے۔ گنگو کرے تو سج بولے۔ اس کو غصہ دلایا جائے تو بردباری کا مظاہرہ کرے۔ منے تو صرف مسکراہٹ بکھیرے، کھانا پکائے تو نہایت ہی لذیذ، اپنے خاندان کی فرماں بردار ہو۔ اپنے گھر سے محبت کرنے والی، اور کم سے کم گھر سے باہر نکلنے والی ہو۔ اپنی قوم میں نہایت عزیز اور باوقار ہو، مگر انتہائی متواضع و منکسر مزاج ہو۔ خاندان سے محبت کرنے والی اور کثرت سے اولاد جننے والی ہو، پھر اس کا ہر کام نہایت پسندیدہ ہوگا۔

### (۸۱) کبھی کبھی بیوی اپنے شوہر پر خرچ کرے

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی زینب ثقفیہ رضی اللہ عنہا بڑی مالدار خاتون تھیں۔ فرماتی ہیں کہ ایک دن کے رسول ﷺ کا یہ

فرمان ہم نے سنا:



﴿ تَصَدَّقْنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ ﴾

ترجمہ: ”اے عورتوں کی جماعت! صدقہ اور خیرات کیا کرو اگرچہ اپنا زینہ (فروخت کر کے) ہی کیوں نہ ہو۔“

کہتی ہیں کہ میں اپنے خاندان عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور کہا، آپ محتاج ہیں اور اللہ کے رسول ﷺ نے ہمیں صدقہ و خیرات کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ رسول اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ مسئلہ دریافت کریں۔ اگر یہ صدقہ میں آپ پر کروں اور یہ کفایت کر جائے تو ٹھیک ورنہ میں یہ صدقہ دوسروں کو دیا کروں گی۔ عبد اللہ بن مسعود نے ان سے کہا: تم ہی نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ مسئلہ پوچھو۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کہتی ہیں: چنانچہ میں اللہ کے رسول ﷺ کے گھر کی طرف چل دی، وہاں دروازے پر ایک انصاری عورت کھڑی تھی۔ میں نے جب اس سے پوچھا کہ تم یہاں کیا لینے آئی ہو؟ تو اس کا مسئلہ بھی میرے ہی جیسا تھا۔ اب احترام کے باعث باہر کھڑی ہو گئیں کہ اندر جانے کی جرأت کون کرے۔ اتنے میں گھر سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ باہر نکلے۔ ہم نے موقع غنیمت جانا اور ان سے کہا کہ وہ اللہ کے رسول ﷺ سے پوچھنا چاہتی ہیں کہ کیا وہ اپنا صدقہ اور خیرات اپنے شوہروں کو دے سکتی ہیں اور اسے اپنے زیر پرورش یتیموں پر خرچ کر سکتی ہیں، اور ساتھ ہی ان سے کہا کہ اللہ کے رسول ﷺ کو ہمارے بارے میں نہ بتانا کہ ہم کون ہیں؟ فرماتی ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول ﷺ کے پاس گئے اور مسئلہ دریافت کیا۔ اللہ کے رسول ﷺ نے پوچھا کہ جو دو عورتیں دروازے پر ہیں کون کون ہیں؟ انہوں نے عرض کیا: ایک تو انصاری عورت ہے اور دوسری زینب ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اَبْنَى الزَّيْنَبِ ”کون سی زینب؟“ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: ”عبد اللہ بن مسعود کی بیوی۔“ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا:

﴿لَهُمَا أَجْرَانِ أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ﴾

ترجمہ: ”ان کے لیے دو ہر اجر قرابت داروں سے حسن سلوک کا اور دوسرا صدقہ و خیرات کرنے کا۔“

(بخاری: ۱۳۶۶، مسلم: ۱۰۰۰)

## ﴿ ۸۲ ﴾ ایک عورت کو مرگی کے دورے پڑتے تھے مگر وہ جنتی تھی

امام بخاری و مسلم یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ عطاء بن ابی رباح رضی اللہ عنہ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھڑے تھے کہ سامنے سے کالے رنگ کی ایک لونڈی گزری۔ عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے عطاء رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا۔ کہنے لگے: تمہارا کیا خیال ہے؟ کیوں نہ تمہیں ایک جنتی عورت دکھاؤں حضرت عطاء رضی اللہ عنہ نے تعجب سے کہا کہ ایک جنتی عورت؟

حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں! ایک عورت ہے، جب وہ وفات پا جائے گی تو جنت میں جائے گی۔ عطاء رضی اللہ عنہ نے تعجب کیا، کہنے لگے کہ مجھے دکھائیں، وہ کون سی خوش نصیب خاتون ہے جو جنتی ہے، ہمارے درمیان رہتی ہے۔ بازاروں گلیوں میں چلتی پھرتی ہے۔ عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کالے رنگ کی اس بوڑھی لونڈی کی طرف اشارہ کیا۔ کہنے لگے کہ وہ بوڑھی عورت جنتی ہے۔ حضرت عطاء رضی اللہ عنہ نے پوچھا، ابن عباس رضی اللہ عنہ! آپ کو کیسے معلوم کہ وہ جنتی ہے؟

جواب دیا: کئی سال گزرے یہ کالی کلونٹی لونڈی اللہ کے رسول کے پاس آئی، تب اس کو مرگی کے دورے پڑتے تھے۔ اس نے اللہ کے رسول ﷺ کے پاس آ کر شفا کے لیے دعا کی درخواست کی۔ وہ کہنے لگی: ”میری زندگی اجیرن ہو گئی ہے، بچے مجھ سے ڈرتے ہیں، میرا مذاق اڑاتے ہیں، مجھ پر ہنستے ہیں، میں بازار میں ہوں یا گھر میں، یا لوگوں کے پاس، اچانک مجھے دورہ پڑتا ہے اور مجھے ہوش نہیں رہتا، میں اس زندگی سے تنگ آ چکی ہوں، اللہ کے رسول ﷺ سے دعا فرمائیں کہ وہ مجھے شفا عطا فرمائے۔“ رسول اللہ ﷺ نے چاہا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو صبر پر درس دیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا:

﴿إِنَّ شَيْئًا صَبْرًا وَلَكَ الْجَنَّةُ وَإِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُعَاقِبَكَ﴾

ترجمہ: ”اگر تم چاہو تو صبر سے کام لو اور اس کے عوض تمہارے لئے جنت ہے۔ اور اگر چاہو تو میں تمہاری سزا کے لیے اللہ سے دعا کروں۔“

اللہ کے رسول ﷺ نے جب بات ختم کی تو اس عورت نے غور و فکر کیا، سوچا، اپنے حالات اور اپنی بیماری کو دیکھا۔ آپ ﷺ کے فرمان کو اپنے دل میں دہرایا۔ اب وہ دونوں میں فیصلہ کرنا چاہ رہی تھی کہ کس کو اختیار کرے۔ صبر کو یا دنیاوی آرام کو؟ سوچا، غور کیا کہ دنیا تو فانی ہے، اسے ایک دن ختم ہو جاتا ہے۔ میں جنت کی طلبگار کیوں نہ بنوں، اس کی چاہت کیوں نہ کروں؟ اور پھر اس نے اپنا فیصلہ صادر کر دیا: ”اے اللہ کے رسول ﷺ میں صبر سے کام لوں گی، لیکن جب مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو میں بے پردہ ہو جاتی ہوں، اس لئے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمادیں کہ وہ مجھے بے پردہ نہ کرے۔“ رسول اکرم ﷺ نے اس کے حق میں دعا فرمادی۔ (بخاری: ۵۶۵۳، مسلم: ۲۵۷۶)

﴿۸۳﴾ ہمیشہ دُوم بن کر رہو، سر بن کر نہ رہو، کیونکہ سب سے پہلے مار ہمیشہ سر پر پڑا کرتی ہے..... بارہ اہم نصیحتیں

کبھی یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے نفس نے رات دن میں حق تعالیٰ کا کوئی بھی ضروری حق ذرہ برابر بھی کچھ ادا کیا ہے، اور یہ جب ہی ہو سکتا ہے جب ہم اپنے نور ایمان سے یہ سمجھ لیں کہ ہمارے جتنے بھی کام ہیں شروع سے لے کر آخر تک سب کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، بھلا غور کریں کہ غلام کے پاس جو کچھ مال و دولت ہے سب اس کے آقا کا عطیہ ہوتا ہے، اگر وہ اس کو آقا کی خدمت میں پیش کر کے یہ سمجھ لے کہ میں نے اس کا حق ادا کر دیا تو اس سے زیادہ بے وقوف دنیا میں کوئی نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو آقا سے بھی زیادہ تعلق ہے، پیدا اُس نے کیا، ہوش و حواس، عقل و تیز، بیٹائی شنوائی، ہاتھ، پیر، غذا وغیرہ سب اسی کی دی ہوئی ہے۔ جن کے سہارے ہم کچھ ٹوٹے پھوٹے اعمال کر لیتے ہیں، پھر حق کس چیز سے ادا کیا۔ ع

جاں دی، دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہوا

اپنے اقوال اور اعمال و افعال میں توحید خالص کا استحصال ہے، مثلاً کبھی یوں نہ کہیں کہ فلاں چیز میری ہے، یا جیسے میری مرضی۔ ہاں مجازاً یا بھولے سے ایسی بات ہو جائے تو مضائقہ نہیں۔ حق تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ ﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ خدا کی عبادت کرو، اور کسی چیز کو اس کا شریک نہ بناؤ۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ”شَيْئًا“ ارشاد فرمایا کسی شئی کو متعین نہیں فرمایا۔

حقیقتاً ہر چیز اللہ کی ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے انتظام کے تحت لوگوں کو اس کا قبضہ دیا ہوا ہے، اگر کسی نے آپ کی ملک والی چیز بغیر اجازت کے لے لی یا چوری کر لی تو یہ نہ سوچیں کہ اس نے میری چیز لے لی، اب میں اس کا مواخذہ کرتا ہوں بلکہ یہ سوچیں کہ اس نے بادشاہ کے انتظام میں خلل ڈالا ہے، لہذا میں قانون شریعت کی وجہ سے اس کا مواخذہ کرتا ہوں۔

ایک دفعہ ایک بزرگ نے دعا کی کہ اے اللہ! تو نے توحید خالص پر مغفرت کا وعدہ کیا ہے، میں تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، لہذا میری بخشش فرما، ان کو الہام ہوا کہ وہ وقت یاد کریں جب آپ کو دودھ پیش کیا گیا تو آپ نے کہا میں نہیں پیتا کہ اس سے مجھے ضرر نہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس کلمے پر گرفت فرمائی کہ ضرر پہنچنے کو دودھ سے منسوب کر دیا تھا۔

اپنے اعمال پر اس لحاظ سے ثواب طلب نہ کریں کہ یہ ہمارے کئے ہوئے کام ہیں بلکہ صرف خدا کے فضل و احسان پر نظر کر کے ثواب طلب کریں، اور اس میں راز یہ ہے کہ جو شخص اپنے نیک اعمال پر اس وجہ سے ثواب طلب کرے گا کہ اس نے خود یہ اعمال کئے ہیں، تو اس کے لئے کچھ بعید نہیں کہ برے اعمال کی سزا دینے کے واسطے بھی ترازوئے اعمال قائم کی جائے، لہذا اللہ تعالیٰ سے ثواب چاہو تو محض اس کے احسان و فضل سے مانگو۔

اپنے آپ کو سرداری کے لئے آگے نہ بڑھائیں، کسی بھی امر میں اپنے آپ کو بطور قائد سردار اور ذمہ دار آگے نہ بڑھائیں۔ مثلاً مشیت، امامت، امارت اور تدریس وغیرہ میں اپنے بھائیوں کے تابع بننے کی کوشش کریں نہ کہ اس سے سبقت لے جانے کی، مگر اس صورت میں کہ وہ خود ہمیں آگے بڑھائیں یا ہماری پیش قدمی سے دوسروں سے بلاء اور مصیبت دور ہوتی ہو یا انہیں نیک کاموں کی رغبت ہوتی ہو تو پھر مضائقہ نہیں، کیونکہ نیک کاموں میں سبقت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سید احمد رفاقی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ ہمیشہ ذمہ بن کر رہو، سر بن کر نہ رہو، کیونکہ سب سے پہلے مار ہمیشہ سر پر پڑا کرتی ہے۔

کسی منصب یا ذمہ داری کی تمنا نہ کریں اور اپنی طرف سے اس کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ کی مشیت پر نظر رکھیں، اور صبر کریں یہاں تک کہ خود ان سے اسے قبول کرنے کی درخواست نہ کی جائے، کیونکہ اپنی کوشش سے کوئی منصب حاصل کرو گے تو تمہیں اس منصب کے حوالے لے کر دیا جائے گا، اور اگر بغیر کوشش کے کوئی ذمہ داری ملے گی تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعانت کی جائے گی۔

ہمیشہ یہ اعتقاد پیش نظر رکھنا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مصلحتوں کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں، اگر یہ اعتقاد رکھیں گے تو کسی معاملے میں بھی دل میں ناخوشی پیدا نہ ہوگی، اور جو شخص اس اعتقاد سے غافل رہے گا وہ ضرور تقدیر سے ناخوش ہوگا، بلکہ بعض اوقات اعتراض کا مرتکب ہوگا۔

شبلی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ میں نے حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کو بعد وفات کے دیکھا تو میں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیا معاملہ فرمایا؟ کہنے لگے کہ مجھے بخش دیا اور کسی بات پر عتاب نہیں فرمایا، البتہ ایک بار میری زبان سے اتنی بات نکل گئی تھی کہ اس سال زمین کو بارش کی زیادہ ضرورت ہے، اس پر حق تعالیٰ نے مجھے عتاب فرمایا کہ اے جنید! تم مجھے خبر دینا چاہتے تھے، حالانکہ میں علیم وخبیر ہوں۔

جب ہمارے اوپر دُنیا میں تنگی اور کمی کر دی جائے تو اس صورت میں بھی ہم اپنے پروردگار سے ایسے ہی راضی رہیں جیسا کہ فراخی کی صورت میں ہم اس سے خوش رہتے ہیں، بلکہ وسعت کی حالت میں ڈرتے رہنا بھی چاہئے، کیونکہ دُنیا کا کم ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت میں رکھنا چاہتے ہیں، اور زیادہ ہونے میں اندیشہ ہے کہ ہم اس میں مشغول ہو جائیں اور دفعۃً پکڑے جائیں۔

اپنے دل کو دُنیا میں مشغول نہیں کرنا چاہئے حتیٰ الوسع لیں دین اور جمع تقسیم کے معاملات سے دل کو فارغ رکھنے کی کوشش کرنا چاہئے، اگر کسی سے کچھ قرض وغیرہ لینا ہو تو زیادہ سختی نہ کریں، نرمی سے دے دے تو ٹھیک ہے ورنہ مطالبہ نہ کریں، یہ سوچ لیں کہ وہ اللہ کا بندہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، تو اللہ اور رسول کی عظمت کو سوچتے ہوئے اس سے زیادہ تقاضہ نہ کریں۔

دُنیا اور اس کی شہوات و لذات کو بے رغبتی کی نگاہ سے دیکھا کریں، رغبت کی نگاہ اس طرف نہ کریں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دُنیا اس بوسیدہ ہڈی کی مانند ہے جس پر بہت سے کتے چھینا چھینی کر رہے ہوں، لہذا جو کوئی بھی دُنیا میں رغبت کرے گا، ضرور نجاست سے آلودہ ہوگا، اور اس کو کتے کا ٹیس گے، اور اس پر دانت نکال کر پھونکیں گے، لہذا بڑی مصیبت اٹھانا پڑے گی۔

دُنیا کی چیز پر مزاحمت نہ کریں، فقراء کو چاہئے کہ دُنیا کی کسی چیز پر مزاحمت نہ کریں، جھگڑا اور تکرار نہ کریں، کیونکہ دُنیا پر جھگڑنے سے دلوں میں دشمنی اور نفوس میں کدورت پیدا ہوتی ہے۔ جان لیں کہ ہر وہ چیز جو نزاع اور تکرار سے حاصل ہو وہ دُنیا ہے اگرچہ بظاہر وہ دینی چیز محسوس ہوتی ہے، اس لئے کہ جو کام بھی خالص آخرت کے لیے ہوں ان میں جھگڑا اور نزاع نہیں ہو سکتا، اگر نزاع کی نوبت آتی ہے تو سمجھ لیں کہ اس میں دُنیا کی آمیزش ضرور ہے۔

اللہ تعالیٰ کی محبت کو دُنیا کی تمام محبتوں پر غالب رکھیں، خواہ محبت مال کی ہو یا اولاد کی ہو یا ازواج کی ہو یا اصحاب (دوستوں) کی ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑے غیرت والے ہیں، وہ اپنے مؤمن بندے کے دل میں کسی غیر کی محبت کو پسند نہیں کرتے، جن کی محبت کا خود

اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، جیسے انبیاء و ملائکہ، علماء، اولیاء اللہ تو ان کی محبت اللہ کے علم کی بجا آوری کے لیے ہے۔

صوفیہ کی اصطلاح میں غیر کی محبت سے مراد وہ محبت ہے جو ”وصول الی اللہ“ میں داخل نہیں۔ تو انبیاء علیہم السلام اور اپنے مشائخ اور جملہ اولیاء اللہ سے محبت چونکہ حق تعالیٰ تک پہنچانے والی ہے، اس لئے یہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں ہی شمار ہوتی ہے، ازواج و اولاد سے اس قدر محبت جائز اور ضروری ہے جس سے ان کے حقوق ادا کرنے میں آسانی ہو، اس سے زائد محبت جس کی وجہ سے احکام الہی میں سستی اور فتور آنے لگے وہ نقصان دہ ہے۔ حضرت علیؓ فرماتے تھے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ تمہارے بیوی، بچوں کو اس لئے مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں کہ تمہارے دل میں ان کی محبت جم گئی ہوتی ہے۔ (اللہ تعالیٰ اس پر غیرت کھاتے ہیں) اور کبھی ان کی محبت کی وجہ سے خود تمہارے اوپر عتاب فرماتے ہیں۔

● جس شخص کی عادت لڑائی جھگڑے کی ہو اس سے مناظرہ نہ کریں۔ جس شخص میں دیکھیں کہ اس کی طبیعت میں جوش زیادہ ہے، اور لڑائی جھگڑے اور مناظرہ کرنے کی عادت ہے، اس سے مناظرہ نہ کریں، اور اپنی بات کو دلائل سے منوانے کی کوشش نہ کریں، ایسے شخص کے سامنے جتنی مرضی معقول بات کی جائے اس کی کوشش ہمیشہ دوسرے کو نچا دکھانے اور اپنی عقل و فہم کو صائب الرائے ثابت کرنے کی ہوگی۔

ایسے شخص سے بات کرنے سے پہلے کوئی ایسی حکمت عملی اپنائیں کہ اس کو جوش نفس آپ کے لیے نرم ہو چکا ہو، مشائخ جب کسی کو برے کاموں کا مرتکب دیکھتے تو اس شخص کو نصیحت کرنے سے پہلے اس کی اچھائیوں کو بیان کرتے اور درمیان میں اس کی خامیوں کو بیان کر دیتے اور کہتے کہ ان سے بھی بچ جاتے تو بہت اچھا ہوتا، اس طرح وہ شخص ان برائیوں سے اجتناب کرنے لگتا۔

### (۸۴) قضائے حاجات کے لیے مولانا مدنیؒ کا بتایا ہوا مجرب عمل

بندہ ایک روز اپنی اہلیہ کے ساتھ دیوبند کے سفر پر تھا، وہاں پہنچ کر میری اہلیہ نے حضرت شیخ حسین احمد مدنیؒ کی اہلیہ محترمہ سے کچھ نصیحت کی فرمائش کی تو حضرت شیخ کی اہلیہ محترمہ نے بتلایا کہ دو رکعت صلوٰۃ الحاجہ کی نیت سے پڑھے جس کی پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد پچاس (50) مرتبہ سورۃ اخلاص اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد پچاس مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے، پھر اللہ سے اپنی حاجت کے پورا ہونے کا سوال کیجئے۔ حضرت مدنی مشکلات کے وقت یہ عمل لوگوں کو بتلایا کرتے تھے اور خود بھی عمل کرتے تھے:

نوٹ: مذکورہ مجرب عمل اگرچہ احادیث میں موجود نہیں، مگر اللہ والے کا بتایا ہوا عمل ہے، اور کئی لوگوں کا مجرب عمل ہے، اس لئے اگر آپ بھی کسی سخت سے سخت مسئلے میں الجھے ہوئے ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے تمہارا مسئلہ سلجھا دے گا۔

### (۸۵) پروردگارِ عالم! میرا رزق تیرے ذمے ہے

ابو عبد اللہ بن جعفر جو کہ برقی کے لقب سے مشہور ہیں، کہتے ہیں میں نے ایک بیابان میں ایک بدو خاتون کو دیکھا جس کی کھیتی کڑا کے کی سردی، زور دار آندھی اور موسلا دھار بارش کے سبب تباہ و برباد ہو چکی تھی، لوگ اس کے ارد گرد جمع تھے اور اس کی فصل تباہ ہونے پر اسے دلاسا دے رہے تھے۔ اس نے اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی اور کہنے لگی:

اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَكْمُولُ لِأَحْسَنِ الْخَلْفِ، وَبِيَدِكَ التَّعْوِينُ عَمَّا تَلَفَ، فَأَقْضِلْ بِنَا مَا أَهْلُهُ، فَإِنَّ أَرْزُقْنَا عَلَيْكَ وَآ  
مَلْنَا مَصْرُوفَةً إِلَيْكَ ﴿

ترجمہ: ”اے پروردگار! پس اندگان کی عمدہ دیکھ بھال کے لیے تجھ ہی سے امید وابستہ کی جاتی ہے جو کچھ تباہ و برباد ہو گیا اس کی تلافی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، اس لئے تو اپنی نرالی شان کے مطابق ہمارے ساتھ معاملہ فرما، کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ

ہماری روزی کا بندوبست تیرے ہی ذمہ ہے اور ہماری آرزوئیں اور تمنائیں بھی سے وابستہ ہیں۔“

ابو عبد اللہ بن جعفر کہتے ہیں: میں ابھی اس خاتون کے پاس ہی تھا کہ ایک آدمی وہاں آپہنچا، ہمیں اس کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا کہ یہ کون ہے؟ کہاں سے آیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ جب اس عورت کے عقیدے، منہج اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کا پتہ چلا تو اس نے پانچ سو (500) دینار نکالے اور اس عورت کی خدمت میں پیش کر کے اپنی راہ چلانا بنا۔ (مجلۃ العربی: ۲۲۳-۱۸۸ النساء ذکایات جلد: ۲۳)

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جو آدمی بھی اللہ تعالیٰ پر کامل اعتماد کرے گا، اور تقویٰ اختیار کرے گا، وہ کبھی نعمتِ خداوندی سے محروم نہیں رہے گا۔ نیز اللہ تعالیٰ اسے ایسے راستے سے روزی بہم پہنچائیں گے جس کا وہ کبھی گمان بھی نہیں کر سکتا تھا، جیسا کہ اس دیہاتی خاتون کے ساتھ واقعہ پیش آیا جس کا آپ نے اوپر مطالعہ کیا۔ اس سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وضاحت ہوتی ہے:

﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ (سورۃ الطلاق، آیت: ۲۵)

ترجمہ: ”جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے (مشکل سے) چھ نکارے کی شکل پیدا فرمادیتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہ ہو۔“

اسی طرح کا ایک اور واقعہ ان سطور کے راقم کے عربی ادب کی بعض کتابوں میں پڑھا ہے کہ ایک فقیر محتاج عورت، بادیہ نشین، جنگل میں خیمہ لگائے ہوئے تھی۔ اپنی ضرورتوں کے لئے اس نے ارد گرد کھیتی لگا رکھی تھی، گزر اوقات اسی سے کرتی تھی۔ ایک دن طوفان آیا، بجلی چمکی اور کڑکی، آسمان سے ژالہ باری ہوئی اور کھیتی تباہ و برباد ہو گئی۔ جب طوفان ختم گیا تو اس عورت نے خیمے سے سر نکالا۔ اپنی کھیتی کو دیکھا، ہر چیز تباہ و برباد ہو چکی تھی۔ اس نے حسرت بھی نگاہوں سے اسے دیکھا اور پھر اپنا منہ آسمان کی طرف کیا اور کہنے لگی:

﴿اصْنَعْ يَا إِلَهِي مَا شِئْتَ، فَإِنَّ رِزْقِي عَلَيْكَ﴾

ترجمہ: ”اے میرے پروردگار! جو تجی چاہے کر (مجھے کون پوچھنے والا ہے) ہاں (اتنی بات ضرور ہے کہ) میرا رزق تو تیرے ہی ذمہ ہے۔“

## ﴿۸۶﴾ عورت کا حسن اس کے ٹیڑھے پن میں ہے

مشہور مؤرخ و سیرت نگار واقدی کا بیان ہے کہ میں ایک روز خلیفہ مہدی کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس سے چند احادیث بیان کیں۔ میری بیان کردہ حدیثیں اس نے لکھ لیں، پھر تھوڑی دیر بعد وہ اپنے گھر میں داخل ہوا۔ جب وہ گھر سے نکلا تو غصہ سے اس کا چہرہ سرخ تھا اور وہ غیظ و غضب سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے عرض کیا، امیر المؤمنین! خیرت تو ہے؟ خلیفہ مہدی کہنے لگا:

﴿دَخَلْتُ عَلَى الْخَيْرِ إِذْ قَامَتُ إِلَيَّ وَمَرَّ قَتُ ثَوْبِي وَقَالَتْ: مَا رَأَيْتُ خَيْرًا مِنْكَ﴾

ترجمہ: ”میں اپنی بیوی ”خیزران“ کے پاس گیا تو اس نے میرا کپڑا اس قدر زور سے کھینچا کہ وہ پھٹ گیا اور کہنے لگی: میں نے تم میں کوئی خیر کا پہلو نہیں دیکھا ہے۔“

خلیفہ نے مزید کہا: اے واقدی! آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ میں نے ”خیزران“ کو ایک غلام فروش سے خریدا تھا، پھر میں نے اسے آزاد کر کے اس سے شادی کر لی چنانچہ اب وہ قیصر شامی میں میری بیوی کی حیثیت سے خوش خرم زندگی گزار رہی ہے۔ نیز اس کو ناز و نعم اور آرائش و زیبائش کے لیے وہ چیزیں دستیاب ہیں جو دیگر عورتوں کو کم ہی نصیب ہوا کرتی ہیں۔ مگر آج اس کا ذہن اس قدر بدل گیا ہے کہ اس نے میرے سارے کئے کرائے پر پانی پھیر دیا اور کہنے لگی کہ آج تک میں نے کبھی تم میں خیر نہیں دیکھی۔ حالانکہ میں نے اس کے دونوں لڑکوں (ہادی اور ہارون رشید) کے لیے بیٹھکی بیعت کروادی ہے، میرے بعد کیے دیگرے وہ دونوں مسلمانوں کے خلیفہ ہوں گے،

پھر بھی وہ مجھے طعنے دے رہی ہے کہ میں نے اس کے لئے کوئی بھلائی نہیں کی ہے!!

واقدی نے خلیفہ مہدی کی بات سن کر کہا: امیر المؤمنین! آپ ناراض نہ ہوں، کیونکہ کفرانِ نعمت عورتوں کی فطرت ہے۔ رسول اکرم

ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

﴿خَيْرٌكُمْ خَيْرٌكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرٌكُمْ لِأَهْلِي﴾

ترجمہ: ”تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنے اہل خانہ کے حق میں تم سب سے

بہتر ہوں۔“ (صحیح ابن ماجہ، کتاب النکاح: ۱۹۷۷)

ایک اور حدیث میں رسول اکرم ﷺ کا ارشاد ہے:

﴿اِسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ مَخْلُوعَةٌ مِنْ ضَلْعٍ، وَإِنَّ أَوْجَعُ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ، فَإِنْ ذَهَبَتْ تُعِيبُهُ

كُسْرَتُهُ، وَإِنْ تَرَكَتُهُ لَمْ يَزَلْ أَوْجَعًا، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ﴾ (بخاری: ۳۳۳۱، مسلم: ۱۳۷۸)

ترجمہ: ”عورتوں کے بارے میں میری نصیحت کا ہمیشہ خیال رکھنا، کیونکہ عورت پِلسی سے پیدا کی گئی ہے، اور پِلسی میں بھی سب

سے زیادہ ٹیڑھا اور پر کا حصہ ہوتا ہے، اگر تم اسے بالکل سیدھی کرنے کی کوشش کرو گے تو انجام کار توڑ کر رہو گے۔ اور اگر اس

ٹیڑھی پِلسی کو یونہی چھوڑ دو گے تو ویسے ہی ٹیڑھی رہے گی (اور تم اس کے ٹیڑھے پن کے باوجود اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو)

پس تم لوگ عورتوں کے بارے میں میری نصیحت مانو، عورتوں سے اچھا سلوک کیا کرو۔“

واقدی نے اس موضوع سے متعلق چند مزید احادیثِ خلیفہ سے بیان کیں۔ خلیفہ مہدی نے انہیں دو ہزار دینار دینے کا حکم دیا۔ جب

واقدی خلیفہ کے پاس سے نکل کر اپنے گھر پہنچے تو اسی وقت ملکہ ”خیزران“ کا پیغام بھی ان کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور ملکہ کا دیا ہوا تقریباً

دو ہزار دینار کا عطیہ بھی ان کی خدمت میں پیش کیا، علاوہ ازیں کپڑے اور جوتے بھی تھے۔ ملکہ نے پیغامبر کے ذریعے ان عطیات کے

ساتھ ساتھ اس کا رِخیر پر ان کا شکریہ بھی ادا کیا تھا۔ (ابدیہ النہایہ: ۱۳/۵۳۵، طبع دار بصر)

### ﴿ ۸۷ ﴾ نہرز بیدہ کا درد بھر واقعہ

یہ دوسری صدی ہجری کا زمانہ تھا۔ دنیا کے چپے چپے میں اسلام کی کرنیں اپنی تابناک شعاعیں بکھیر رہی تھیں۔ وہی عرب جو کچھ عرصہ

پہلے انتقام کی آگ میں جھلس رہے تھے، آج اسلامی تعلیمات کی بدولت تمام بھائی بھائی بن چکے تھے۔ قبائل کے درمیان باہمی اختلافات

پائے جاتے تھے مگر محاذِ جنگ پر جب اکٹھے ہوتے تو سب ایک دوسرے کا بے حد احترام کرتے تھے۔ تلواروں کے سائے میں ان کی

نمازیں ادا ہوتی تھیں اور جن جن ملکوں میں وہ جہاد کا پرچم لہراتے وہاں کے باشندوں کے ساتھ عدل و انصاف کرنا ان کی شان تھی۔ دوسری

جانب مسلمان مبلغین بھی دعوت و تبلیغ کا کام جاری رکھے ہوئے تھے۔ چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے مسلمانوں کی تعداد میں بے تحاشہ اضافہ

ہونے لگا۔ دوسری صدی ہجری کے اواخر میں مملکتِ اسلامیہ کی باگ دوڑ خلیفہ ہارون رشید کے ہاتھ میں ہے، دُنیا کے گوشے گوشے سے

مسلمان بیت اللہ شریف کا حج ادا کرنے کے لیے آرہے ہیں، مکہ مکرمہ میں پانی ناپید ہے، حجاج کرام اور اہل مکہ بڑی مشکل سے کسی طرح

پانی کا بندوبست کر پاتے ہیں۔ اسی زمانہ میں ملکہ زبیدہ بنت جعفر فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ آتی ہیں۔ انہوں نے جب اہل مکہ

اور حجاج کرام کو پانی کی دشواری اور مشکلات میں مبتلا دیکھا تو انہیں سخت افسوس ہوا، چنانچہ انہوں نے اپنے اخراجات سے ایک عظیم الشان

نہر کھودنے کا حکم دے کر ایک ایسا فقید الشال کارنامہ انجام دیا جو رقی دُنیا تک عالم بشریت کو یاد رہے گا۔

ام جعفر زبیدہ بنت جعفر بن ابوجعفر منصور ہاشمی خاندان کی چشم و چراغ تھیں۔ یہ خلیفہ ہارون رشید کی چچا زاد بہن تھیں۔ ان کا نام ”

امہ العزیز تھا، ان کے دادا منصور بچپن میں ان سے خوب کھیلا کرتے تھے۔ ان کو ”زبیدہ“ (دودھ پلانے والی مہمانی) کہہ کر پکارتے تھے، چنانچہ سب اسی نام سے پکارنے لگے اور اصلی نام لوگ بھول ہی گئے۔ یہ نہایت خوبصورت اور ذہین و فطین تھیں۔ جب جوان ہوئیں تو خلیفہ ہارون رشید سے ان کی شادی ہو گئی۔ یہ شادی بڑی دھوم دھام سے ذوالحجہ ۱۶۵ ہجری میں ہوئی۔ ہارون رشید نے اس شادی کی خوشی میں ملک بھر سے عوام و خواص کو دعوت پر بلایا اور مدعوین کے درمیان اس قدر زیادہ مال تقسیم کیا جس کی مثال تاریخ اسلامی میں مفقود ہے۔ اس موقع پر خاص بیت المال سے اس نے پچاس ملین درہم (50,000,000) خرچ کئے۔ ہارون رشید نے اپنے خاص مال سے جو کچھ خرچ کیا وہ اس کے علاوہ تھا۔ ہارون رشید ملکہ زبیدہ سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے اپنی بیوی کو یہ کہہ کر پکارا: **هَلْ لِي بِسَأْمٍ نَهْرٍ** ”ام نہر! ذرا ادھر آنا۔“ زبیدہ نے بعد میں مشہور عالم اصمعی کو بلوا کر پوچھا: امیر المؤمنین مجھے ”ام نہر“ کہہ کر پکارتے ہیں، اس کے کیا معنی ہیں؟ اصمعی نے جواب دیا، چونکہ جعفر عربی لغت میں نہر کو کہتے ہیں اور آپ کی کنیت ام جعفر ہے، اس لیے نہر معنی مراد لے کر آپ کو اس نام سے پکارا ہوگا۔ زبیدہ بڑی ہی سمجھدار خاتون تھیں، حاشیہ برداروں کے کہنے پر کبھی فوری فیصلہ نہیں کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ ایک شاعر نے ان کی خدمت میں چند اشعار سنائے، مگر رویف و کافیہ اور الفاظ کی ترکیب میں شاید وہ اپنا مافی الضمیر اچھی طرح سے ادا نہیں کر سکا۔ شعر کے مفہوم سے ان کی عظمت کے بجائے گستاخی عیاں تھی۔ حشم و حذم نے شاعر کی عبارت کو ملکہ کی بے ادبی پر محمول کیا اور اس کو گرفتار کرنا چاہا مگر ملکہ نے ان سے کہا:

﴿ دَعُوهُ فَإِنَّ مَنُ أَرَادَ عَمْرًا فَآخُطَا حَمْرًا مِمَّنْ أَرَادَ شَرًّا فَآصَابَ ﴾

ترجمہ: ”اس کو نظر انداز کر دو، کیونکہ جس کی نیت اچھی بات کہنے کی ہو مگر اس سے لغزش ہو جائے ایسا شخص اس آدمی سے بہتر ہے جس کی نیت بری ہو مگر وہ اچھی بات کہہ جائے۔“

ملکہ زبیدہ کی خدمت کے لیے ایک سو نو کرائیاں تھیں جن کو قرآن کریم یاد تھا اور وہ ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہتی تھیں، ان کے محل میں قرأت کی گنگناہٹ شہد کی کھینوں کی جھنمناہٹ کی طرح آتی رہتی تھی۔

زبیدہ نے پانی کی نکت کے سبب حجاج کرام اور اہل مکہ کو درپیش مشکلات اور دشواریوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا تو انہوں نے مکہ میں ایک نہر بنانے کا ارادہ کیا۔ اس سے پہلے بھی وہ مکہ والوں کو بہت زیادہ مال سے نوازی رہتی تھیں اور حج و عمرہ کے لیے مکہ آنے والوں کے ساتھ ان کا سلوک بے حد فیاضانہ تھا۔ اب نہر کی کھدائی کا منصوبہ سامنے آیا تو مختلف علاقوں سے ماہر انجینئر بلوائے گئے۔ مکہ مکرمہ سے 35 کلومیٹر شمال مشرق میں وادی حنین کے ”جبال طاد“ سے نہر نکالنے کا پروگرام بنایا گیا۔ ایک نہر جس کا پانی ”جبال قرأ“ سے ”وادی نعمان“ کی طرف جاتا تھا اسے بھی نہر زبیدہ میں شامل کر لیا گیا۔ یہ مقام عرفات سے 12 کلومیٹر جنوب مشرق میں واقع تھا۔ علاوہ ازیں منی کے جنوب میں صحرا کے مقام پر ایک تالاب بزر زبیدہ کے نام سے تھا جس میں بارش کا پانی جمع کیا جاتا تھا، اس سے سات کاریزوں کے ذریعہ پانی نہر میں لے جایا گیا، پھر وہاں سے ایک چھوٹی نہر مکہ مکرمہ کی طرف اور ایک عرفات میں مسجد نمرہ تک لے جانی گئی۔ اس عظیم منصوبے پر سترہ لاکھ (17,00,000) دینار خرچ ہوئے۔

ملکہ زبیدہ نے انتہائی شوق اور جذبہ انلاص کے تحت نہر کی کھدائی کرائی تھی۔ وہ حجاج کرام اور اہل مکہ کو پانی کی دشواریوں سے نجات دلانا چاہتی تھی اور یہ کام صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے انہوں نے کیا۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ جب نہر زبیدہ کی منصوبہ بندی شروع ہوئی تو اس منصوبہ کا منتظم انجینئر آیا اور کہنے لگا: ”آپ نے جس منصوبہ کا حکم دیا ہے اس کے لیے خاصے اخراجات درکار ہیں، کیونکہ اس کی تکمیل کے لیے بڑے بڑے پہاڑوں کو کاٹنا پڑے گا، چٹانوں کو توڑنا پڑے گا، نشیب و فراز کی مشکلات سے نمٹنا پڑے گا، سینکڑوں مزدوروں کو دن رات محنت کرنی پڑے گی، تب کہیں جا کر اس منصوبہ کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جاسکتا ہے۔“

یہ سن کر ملکہ زبیدہ نے جو جواب دیا وہ دلچسپ بھی ہے اور اس سے ان کی قوت فیصلہ اور منصوبے سے دلچسپی کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ انہوں نے چیف انجینئر سے کہا:

﴿اَعْمَلْهَا وَتَوَكَّلْ صَوَّبَةٌ فَاَسْبَدِيْنَا﴾

ترجمہ: ”اس کام کو شروع کرو، خواہ کھاڑے کی ایک ضرب پر ایک دینار خرچ آتا ہو۔“

اس طرح جب نہر کا منصوبہ تکمیل کو پہنچ گیا تو منتظمین اور مگر اس حضرات نے اخراجات کی تفصیلات ملکہ کی خدمت میں پیش کیں۔ اس وقت ملکہ دریائے دجلہ کے کنارے واقع اپنے محل میں تھیں۔ ملکہ نے وہ تمام کاغذات لئے اور انہیں کھول کر دیکھے بغیر دریا میں ڈال دیا اور کہنے لگیں: ”الہی! مجھے دنیا میں کوئی حساب کتاب نہیں لینا تو مجھ سے قیامت کے دن حساب نہ لینا۔“

ملکہ زبیدہ نے یہ عظیم الشان کام انجام دے کر حجاج کرام اور باشندگان مکہ مکرمہ کو پانی کی قلت کے سبب درپیش مشکلات کا مسئلہ حل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس نہر کو ان کے حق میں صدقہ جاریہ بنائے۔

ان کی وفات بغداد میں جمادی الاولیٰ 216 ہجری میں ہوئی۔ (وفیات الأعیان، الہدلیہ والنہایہ، کتاب الوافی بالوفیات، لأعلام لکھنؤ اور تاریخ مکہ مکرمہ، محمد عبدالمجید وغیرہ کتب سے مواد اکٹھا کر کے لکھا گیا ہے)

### ﴿۸۸﴾ کھجوروں میں برکت

جنگ خندق کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ مسلمانوں کی جماعت رسول اللہ ﷺ کے ارد گرد خندق کی کھدائی میں مشغول تھی۔ بہت سے مسلمانوں کے گھروں میں ایک وقت کی روٹی بھی دستیاب نہ تھی۔ پھر بھی وہ رسول اللہ ﷺ سے بے انتہا محبت اور شدید لگاؤ کے سبب آپ کے حکم کی تعمیل میں لگے رہتے تھے۔ بھوک کی شدت سے ٹٹھال ہو جاتے تو اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر خندق کی کھدائی کرتے تاکہ زیادہ سے زیادہ بھوک برداشت کر سکیں، حتیٰ کہ رسول اکرم ﷺ نے بھی اپنے پیٹ پر بھوک کی وجہ سے پتھر باندھ رکھے تھے اور خندق کی کھدائی میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ پورے انہماک کے ساتھ مشغول تھے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں:

﴿شَكُونَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْجُوعَ فَوَقَعْنَا عَنْهُ بَطُونَنَا عَنْ حَجَرٍ حَجَرٍ، فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ حَجَرَيْنِ﴾

ترجمہ: ”ہم نے رسول اللہ ﷺ سے بھوک کا شکوہ کیا اور اپنے پیٹ سے ایک ایک پتھر بندھا ہوا دیکھا یا تو رسول اللہ ﷺ نے اپنے پیٹ سے دو پتھر بندھے ہوئے ہمیں دکھائے۔“ (جامع ترمذی، مشکوٰۃ الصالح، جلد ۲، صفحہ ۴۳۸)

خندق کی کھدائی کرنے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تعداد ایک ہزار اور واقعی کی روایت کے مطابق تین ہزار بتائی گئی ہے۔ خندق کی کھدائی کے دوران کئی معجزات رونما ہوئے۔ ان میں سے ایک معجزہ یہاں ایک صحابیہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے نقل کرتے ہیں۔

حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی بہن کا بیان ہے کہ میری والدہ عمرہ بنت رواحہ رضی اللہ عنہا نے مجھے بلایا اور دو مٹھی کھجوریں دے کر کہنے لگیں: بشیر اور ماموں عبد اللہ بن رواحہ کی خدمت میں لے جاؤ تاکہ وہ دوپہر کے کھانے میں کچھ کھالیں۔ میں کھجوریں لے کر اپنے والد اور ماموں کی تلاش میں نکلی، وہ دونوں دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ خندق کی کھدائی میں مشغول تھے۔ مجھے انہیں تلاش کرتے ہوئے دیکھ کر رسول اکرم ﷺ نے بلایا اور پوچھنے لگے: ﴿مَا الَّذِي مَعَكَ﴾ ”تیرے پاس کیا ہے؟“ میں نے عرض کیا:

﴿هٰذِهِ تَمْرَةٌ بِهٖ اُمِّيْ اِلَى اُمِّيْ وَ خَالِيْ يَتَّقِدُ بِاَيِّهٖ﴾

ترجمہ: ”یہ چند کھجوریں ہیں جنہیں دے کر میری امی نے میرے ابو اور ماموں کے پاس بھیجا تاکہ وہ دوپہر کے کھانے میں کچھ کھالیں۔“



رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: (ہاتیبہ) ”یہ مجھ پر مجھے دے دو۔“

میں نے مجھ پر رسول اللہ ﷺ کے دونوں ہاتھوں میں رکھ دیں۔ آپ ﷺ کی ہتھیلیاں نہیں بھریں۔ پھر آپ ﷺ کے حکم سے چادر بچھائی گئی اور آپ ﷺ نے چادر پر مجھ پر پھیلا دیں۔ پھر آپ ﷺ نے ایک آدمی سے فرمایا: ”اہل خندق کو آواز دو کہ وہ آکر دوپہر کا کھانا لیں۔“ یہ آواز سنتے ہی خندق کی کھدائی کرنے والے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم دسترخوان پر حاضر ہوئے اور مجھ پر تناول کرنے لگے۔ اہل خندق مجھ پر کھاتے گئے اور وہ بڑھتی گئیں۔ سارے اہل خندق کھا کر واپس ہو گئے مگر مجھ پر تھیں کہ کپڑے کے کنارے سے باہر گر رہی تھیں۔ واضح رہے کہ خندق کی کھدائی کے دوران اس قسم کے کئی معجزانہ برکات کا ظہور ہوا۔

(ریحیہ سیرت ابن ہشام: ۲/۲۱۸، المغازی للواقفی: ۲/۴۷۶، آمد الغاب: ۴۱۴)

## (۸۹) ۱۴ آیات سجدہ کو ایک مجلس میں پڑھ کر دعاء کی قبولیت

پورے قرآن کریم میں چودہ (۱۴) آیات سجدہ ہیں۔ یہ سب ایک مجلس میں، ایک ہی بیٹھک میں علی الترتیب پڑھی جائیں اور ہر ایک کے ساتھ ساتھ سجدہ بھی کیا جائے اور پھر اس کے بعد دعا کی جائے تو انشاء اللہ تعالیٰ ضرور قبول ہوگی۔ اور اگر مصیبت زدہ ہے تو اس کی مصیبت اور پریشانی بہت جلد دور ہو جائے گی۔ یہ اکابر، فقہاء اور ائمہ مجتہدین کا مجرب عمل ہے۔

(نور الابصار، صفحہ ۱۱۵، ایضاً المسائل، صفحہ ۳۵، مرقی الفلاح، صفحہ ۲۷۲)

ہم آسانی کے لیے قرآن کریم کی چودہ (۱۴) آیات سجدہ کو علی الترتیب یہاں پر یکجا جمع کر دیتے ہیں تاکہ اس پر عمل کرنے والوں کے لئے آسانی ہو جائے۔

﴿أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۝﴾

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝﴾

﴿إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْبُحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ ۝﴾ (پارہ ۹، سورہ اعراف، آیت: ۲۰۶)  
ترجمہ: ”یقیناً جو تیرے رب کے نزدیک ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، اور اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس کو سجدہ کرتے ہیں۔“

﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْعُدْوَةِ وَالْأَصَالِ ۝﴾ (پارہ ۱۳، سورہ زمر، آیت: ۱۵)  
ترجمہ: ”اور اللہ ہی کے سامنے سب سر خم کئے ہوئے ہیں جتنے آسمانوں میں ہیں اور جتنے زمین میں ہیں، خوشی سے اور مجبوری سے، اور ان کے سائے بھی صبح اور شام کے وقت۔“

﴿يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۝﴾ (پارہ ۱۳، سورہ نمل، آیت: ۵۰)  
ترجمہ: ”وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں جو کہ ان پر بالادست ہے، اور ان کو جو کچھ حکم کیا جاتا ہے وہ اس کو کرتے ہیں۔“

﴿وَيَخْرُونَ لِلَّذِينَ يَبُغُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ۝﴾ (پارہ ۱۵، سورہ بنی اسرائیل، آیت: ۱۰۹)  
ترجمہ: ”اور ٹھوڑیوں کے بل کرتے ہیں روتے ہوئے اور یہ قرآن ان کا خشوع اور بڑھادیتا ہے۔“

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِنَّ تَعْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرَوْا سُجَّدًا وَبُكِيًا ۝﴾ (پارہ ۱۶، سورہ مریم، آیت: ۵۸)  
ترجمہ: ”یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے من جملہ انبیاء کے آدم علیہ السلام کی نسل سے اور ان لوگوں کی نسل سے

جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کیا تھا اور ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی نسل سے اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے ہدایت فرمائی اور ان کو مقبول بنایا جب ان کے سامنے رحمن کی آیتیں پڑھی جاتی تھیں تو سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے گر جاتے تھے۔“

﴿وَالَّذِينَ تَرَأَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ  
وَالْدُّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يَمُن بِاللَّهِ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا  
يَشَاءُ﴾ (پارہ ۷، سورہ حج، آیت: ۱۸)

ترجمہ: ”اے مخاطب! کیا تجھ کو یہ بات معلوم نہیں کہ اللہ کے سامنے سب عاجزی کرتے ہیں جو کہ آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں اور سورج اور چاند ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے اور بہت سے آدمی بھی، اور بہت سے ایسے ہیں جن پر عذاب ثابت ہو گیا ہے، اور جس کو خدا ذلیل کرے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں۔ بیشک اللہ تعالیٰ جو چاہے کرے۔“

﴿وَلَمَّا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَكَهُمُ نَفُورًا﴾ (پارہ ۱۹، سورہ فرقان، آیت: ۶۰)

ترجمہ: ”اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمن کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں کہ رحمن کیا چیز ہے۔ کیا ہم اس کو سجدہ کرنے لگیں جس کو تم سجدہ کرنے کے لیے ہم کو کہو گے۔ اور اس سے ان کو اور زیادہ نفرت ہوتی ہے۔“

﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ (پارہ ۱۹، سورہ نمل، آیت: ۲۶)

ترجمہ: ”بس ہماری آیتوں پر تو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب ان کو وہ آیتیں یاد دلائی جاتی ہیں تو وہ سجدہ میں گر پڑتے ہیں، اور اپنے رب کی تسبیح و تحمید کرنے لگتے ہیں، اور وہ لوگ تکبر نہیں کرتے۔“

﴿قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْبَتِكَ إِلِي نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْغُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۗ فَفَغْفِرْنَا لَهُ ذَلِكِ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَّكَلٍ﴾ (پارہ ۲۳، سورہ ص، آیت: ۲۵، ۲۴)

ترجمہ: ”داؤد علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو تیری دینی اپنی دنیوں میں ملانے کی درخواست کرتا ہے تو واقعی تجھ پر ظلم کرتا ہے۔ اور اکثر شرکاء ایک دوسرے پر زیادتی کیا کرتے ہیں۔ مگر ہاں جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں۔ اور داؤد علیہ السلام کو خیال آیا کہ ہم نے ان کا امتحان کیا ہے سو انہوں نے اپنے رب کے سامنے توبہ کی اور سجدہ میں گر پڑے اور رجوع ہوئے۔ سو ہم نے ان کو معاف کر دیا، اور ہمارے یہاں ان کے لیے قرب اور نیک انجامی ہے۔“

﴿فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْنُونَ ۗ﴾ (پارہ ۲۴، سورہ حم سجدہ، آیت: ۳۸)

ترجمہ: ”پھر اگر یہ لوگ تکبر کریں تو جو فرشتے آپ کے رب کے مقرب ہیں وہ شب و روز اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، اور وہ نہیں اکتاتے۔“

﴿فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَعِبُدُوا﴾ (پارہ ۲۷، سورہ نجم، آیت: ۶۲)

ترجمہ: ”سو اللہ کی اطاعت کرو اور عبادت کرو۔“

﴿وَلَمَّا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ﴾ (پارہ ۳۰، سورہ انشقاق، آیت: ۱۷)

ترجمہ: ”اور جب ان کے روئے قرآن پڑھا جاتا ہے تو نہیں جھکتے۔“

ترجمہ: ”ہرگز نہیں، آپ اس کا کہنا نہ مانئے، اور آپ نماز پڑھتے رہئے اور قرب حاصل کرتے رہئے۔“

يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا عَلٰى حَبِيْبِكَ خَيْرَ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ

نوٹ: اس کتاب کو پڑھنے والے تمام بھائیوں سے اللہ کے نیک بندوں سے سیاہ کار راقم الحروف کی درخواست ہے کہ اپنی

ذعاؤں کے ساتھ ناکارہ راقم الحروف اور اس کے والدین کی فلاح داریں کے لیے بھی ذعا کریں، بہت بڑا احسان ہوگا۔

### ﴿ ۹۰ ﴾ ایک عورت کی بہادری کا واقعہ

اسلامی تاریخ میں جن نامور اور بہادر خواتین کا تذکرہ آیا ہے ان میں زرقاء بنت عدی بن غالب قیس ہمدانیہ کا ذکر بھی ہے۔ یہ کوفہ کی رہنے والی تھیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پر جوش حامی تھیں۔ اپنے رشتہ داروں سمیت جنگ صفین میں شامل تھیں۔ انہوں نے لڑائی کے دوران فوجیوں سے متعدد بار خطاب کیا اور فصاحت و بلاغت کے دریا بہا دیئے جس سے فوجی اور زیادہ جوش و خروش سے لڑنے لگے۔ ان کے حوالے سے تاریخ نے ایک دلچسپ مگر سبق آموز واقعہ محفوظ کیا ہے۔ آئیے منصفانہ طور سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون کی جواں مردی اور حق گوئی کا مطالعہ کیجئے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ۱۴ ہجری میں خلافت سنبھال چکے تھے۔ مسلمانوں میں صلح ہو چکی تھی۔ کبھی کبھار جنگوں کے حوالے سے بعض مجالس میں تذکرہ ہو جاتا۔ ایک رات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے بعض خاص ساتھیوں کے ہمراہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک کسی نے جنگ صفین کا تذکرہ کر دیا۔ اہل کوفہ کی جواں مردی کا تذکرہ ہوا تو زرقاء کا بھی نام لیا گیا۔ کسی نے کہا کہ اس روز اس عورت نے بڑی زور دار تقاریر کیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں کو جوش دلایا۔ ان کے عزم و استقلال کو جلا بخشی اور اس پر جوش طریقے سے فوجیوں سے خطاب کیا کہ بزدل سے بزدل آدمی بھی اگر سن لے تو میدان کارزار میں آگے بڑھتا چلا جائے۔ چنانچہ اس کے خطاب کی وجہ سے کتنے ہی لوگ جو میدان جنگ سے پلٹ رہے تھے لوٹ آئے، جو صلح و آتش کی طرف مائل تھے میدان کارزار میں گھس گئے۔ اس کے الفاظ کیا تھے، ایک جادو تھا، نہایت ہی کاٹ دار فقرے، پاٹ دار آواز، اس کی وجہ سے حترزل قدم جم گئے۔

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان کی گفتگو سے محفوظ ہو رہے تھے۔ اتنی عظیم عورت! یہ درست ہے کہ وہ مخالف گروپ سے تعلق رکھتی تھی مگر اس نے ایک عورت ہونے کے باوجود پامردی کا ثبوت دیا۔ اس کے استقلال اور ثابت قدمی سے وہ خاصے متاثر تھے۔ اچانک سوال کیا، ساتھیو! اس عورت کی تقریروں کے اقتباسات کسی کو یاد ہیں، بہت سوں نے جواب دیا، ہاں! کیوں نہیں! وہ الفاظ کوئی بھولنے والے نہیں تھے۔ کم و بیش سب کو یاد ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک اور سوال کر دیا:

﴿فَمَا تُشِيرُونَ عَلٰى فِئْتَا؟﴾

ترجمہ: ”اس عورت کے بارے میں مجھے کیا مشورہ دیتے ہو؟“

بہت سوں نے اس عورت کے قتل کا مشورہ دیا مگر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو عرب کے نہایت ذہین و فطین آدمی تھے، یوں گویا ہوئے:

﴿بُنْسَ مَا اَشْرْتُمْ بِهِ وَقَبْعًا لِمَا قُلْتُمْ! اَيَحْسَنُ اَنْ يَشْتَهَرَ عَنِّي اَنْ يَبْعُدَ مَا ظَهَرْتُ وَقَدَوْتُ قَتَلْتُ امْرَاةً فَتِلْصَاحِبَهَا، اِنِّي اِدْنُ لَلْنَيْمِ، لَا وَاللَّهِ! لَا فَعَلْتُ ذٰلِكَ اَبَدًا﴾

ترجمہ: ”جو کچھ تم لوگوں نے کہا ہے، تمہارا یہ مشورہ اور قول بہت ہی بُرا اور نامناسب ہے! کیا یہ اچھا ہوگا کہ میرے متعلق مشہور ہو جائے کہ میں نے زمام اقتدار ہاتھ میں آجانے کے بعد ایک ایسی خاتون کو قتل کر دیا جس نے اپنے ساتھی (حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ) کے ساتھ نہایت ہی وفاداری کا ثبوت دیا؟ اللہ کی قسم! میں ہرگز ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ ایسی صورت

میں یہ مصری خست اور کمینگی کی دلیل ہوگی۔“

اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حاکم کوفہ کو ایک خط لکھا جس کا مضمون تھا:

﴿لَنْ أَلْفِدُ إِلَيْكَ الزَّرْقَاءَ بِنْتُ عَدِيِّ مَعَ نَفَرٍ مِنْ عَشِيرَتِهَا وَفُرْسَانٍ مِنْ قَوْمِهَا، وَهَذَا لَهَا وَطَاءُ لَيْثًا وَمُرْكَبًا ذُو لَآءٍ﴾

ترجمہ: ”زرقاء بنت عدی کو اس کے خاندان کے چند افراد اور اس کی قوم کے چند شہسواروں کے ہمراہ میری خدمت میں روانہ کریں۔ اس کے لیے نرم گدے اور آرام دہ سواری کا بندوبست کرنا نہ بھولیں۔“

حاکم کوفہ نے جب زرقاء بنت عدی کو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خط سے آگاہ کیا تو اس نے حکم کی تعمیل میں جلدی کی اور کہنے لگی: ”امیر المؤمنین کی طاعت و فرماں برداری واجب ہے میں اعراض نہیں کر سکتی۔“

چنانچہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حکم کے مطابق حاکم کوفہ نے زرقاء کو ان کی خدمت میں روانہ کر دیا۔ جب زرقاء امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچی تو انہوں نے پر تپاک استقبال کیا اور پوچھنے لگے: ”خالہ! کیا حال ہے؟ آپ کا سفر کیسا رہا؟ کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی۔“

زرقاء بنت عدی نے عرض کیا: ”رَبِيبَةٌ بَيْتٍ أَوْ طِفْلًا مَسْتَهْمًا“

مفہوم یہ ہے کہ الحمد للہ میں خیریت سے ہوں۔ مجھے گھر کی مالکن کی طرح باعزت لایا گیا ہے، یا پھر گوارے والے بچے کی طرح محفوظ طریقے سے آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔

امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا: دراصل میں نے یہ حکم دے رکھا تھا، آپ کو معلوم ہے کہ میں نے کس لئے یہاں آنے کی زحمت دی ہے؟ زرقاء بنت عدی نے کہا:

﴿وَأَنْتَ لِي بِعِلْمٍ مَا لَمْ أَعْلَمْ؟ لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى﴾

ترجمہ: ”بھلا جس بات کی مجھے خبر نہیں اس کے بارے میں کیا جانوں؟ غیب کا علم تو صرف اللہ ہی کو ہے۔“

امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا: ”صفین کی جنگ میں تم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں کو میرے خلاف جنگ پر ابھارا تھا اور انہیں اپنے پر جوش خطاب سے غیرت دلا رہی تھیں اور تم ہی وہ عورت ہو جس کی چرب زبانی نے نہ جانے کتنے بزدلوں کو ہمت و شجاعت سے بہرہ ور کر دیا جو میرے خلاف اعدا ہند گواریں چلانے لگے تمہیں یہ کہتے ہوئے بھی سنا گیا کہ سورج کی تابناک روشنی میں چراغ کی کوئی اہمیت نہیں اور چاند کا مقابلہ تارے نہیں کر سکتے۔ اس لئے اب تم مردانہ وار لڑو، صبر و استقلال کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو، اس میں تمہاری سر بلندی ہے، جو تو شان سے، مرد تو شان سے!! اور جان لو:

﴿إِنَّ مِخْضَابَ النِّسَاءِ الْجَنَاءُ وَمِخْضَابَ الرِّجَالِ الدِّمَاءُ﴾

ترجمہ: ”عورتوں کا خضاب مہندی ہے جبکہ مردوں کا خضاب خون ہے۔“

پھر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا:

”زرقاء! میں نے تمہارے حوالے سے جو کچھ کہا ہے کیا یہ سچ نہیں ہے؟“

زرقاء بنت عدی نے اثبات میں جواب دیا۔ امیر معاویہ کہنے لگے:

﴿لَقَدْ شَرَكْتِ عَلَيًّا فِي كُلِّ دَمٍ سَفَكْتِهِ﴾

ترجمہ: ”گویا کہ تم ہر اس خون میں علی کی شریک ہو جو انہوں نے بہایا ہے۔“

زرقاء بنت عدی نے جواب دیا:

”امیر المؤمنین! اللہ تعالیٰ آپ کی بات کو شرف قبولیت سے نوازے کیونکہ یہ میرے لئے بشارت سے کم نہیں۔ بلاشبہ میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھی اور ان کی طرف سے بہائے گئے ہر ایک خون میں میری شرکت میرے لئے قابل فخر ہے۔ آپ کا شکر یہ جو آپ نے مجھے اس خوشخبری سے نوازا۔“

امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس عورت کی ہمت و شجاعت اور بے خوفی دے باکی کو دیکھ کر خس پڑے اور کہنے لگے:

﴿وَاللَّهِ لَوْ فَاءُ كُمْ بَعْدَ مَوْتِهِ أُعْجِبُ عِنْدِي مِنْ حُبِّكُمْ لَهُ فِي حَيَاتِهِ﴾

ترجمہ: ”اللہ کی قسم! حضرت علی رضی اللہ عنہ کی موت کے بعد تم لوگ ان کے ساتھ جو بے انتہا وفاداری کا ثبوت پیش کر رہے ہو، مجھے یہ بات ان کی زندگی میں تمہاری محبت سے زیادہ تعجب خیز لگ رہی ہے۔“

پھر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا:

”تمہاری کوئی ضرورت ہو تو پیش کرو، میں حاضر ہوں۔“

زرقاء بنت عدی کہنے لگی:

﴿يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي أَلْتَمَسُ عَلَى نَفْسِي الْأَسْأَلَ أَحَدًا أَعْتُ عَلَيْهِ أَبَدًا﴾

ترجمہ: ”امیر المؤمنین! میں نے اپنے بارے میں قسم کھا رکھی ہے کہ میں نے جس شخص کے خلاف (میدان جنگ میں) کردار ادا کیا ہے اس کے آگے کبھی دست سوال نہیں دراز کروں گی۔“

”مجھے چند لوگوں نے آپ کے قتل کا مشورہ دیا ہے۔“

زرقاء کہنے لگی:

”مشورہ دینے والے کم طرف لوگ ہیں، آپ اگر ان کی بات مان کر مجھے قتل کر دیں گے تو پھر آپ کا شمار بھی ان ہی جیسے لوگوں میں ہوگا۔“

چنانچہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فراخ دلی سے کام لیتے ہوئے اس عورت کو معاف کر دیا اور خلعت کے ساتھ ساتھ درہم و دینار سے بھی نوازا۔ مزید اُسے ایک ایسی جاگیر سے نوازا جس سے سالانہ دس ہزار درہم کی آمدنی ہوتی تھی، اور اسے اس کے خاندان والوں کے ساتھ صحیح سلامت کو فروانہ کر دیا۔ حاکم کوفہ کو خط بھی لکھا کہ اس خاتون اور اس کے خاندان کا خاص خیال رکھا جائے۔

(دیکھئے من حصص العرب: ۲۳۷، الفریڈ: ۱۰۶/۳، بلاغات النساء: ۳۷)

### ﴿۹۱﴾ ماں نے فرمایا: ”بیٹا حق پر جان دے دو“

انسان ایک ہدف متعین کر کے اس کے حصول کی کوشش میں تن من و دھن کی بازی لگا دیتا ہے اور خاص طور پر جب اسے یہ یقین ہو جاتا ہے کہ وہ جس ہدف کے حصول میں کوشاں سے وہی ہدف صحیح ڈگر پر لے جانے والا ہے اور اس کے مقابل جو بھی اہداف ہیں وہ سیدھے راستے سے ہٹانے والے ہیں تو پھر وہ اپنے مقصد کے حصول میں جان کی بازی لگانے سے بھی چنداں دریغ نہیں کرتا، خواہ اس کی راہ میں مضبوط سے مضبوط چٹان کیوں نہ حائل ہو، وہ اس چٹان کو چکنا چور کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ یہی عزم و استقلال حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے اندر بھی تھا، انہوں نے جس بات کو حق سمجھا اس کے لیے زندگی کی آخری سانس تک لڑتے رہے، اور ان کے اندر یہ جوش و جذبہ پیدا کرنے والے ان کی بہادر ماں سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا تھیں۔

خلیفہ عبدالملک بن مروان کے عہد میں اس کے سپہ سالار حجاج بن یوسف کے لشکر نے خلافت کے دعویدار عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو حرم مکہ میں محصور کر رکھا تھا اور ان کے اپنے بھی ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ وقت کی گردش ان کے

خلاف ہے، لوگوں کی اکثریت ان کے مشن کی مخالف ہو گئی ہے اور لوگوں کی نگاہ میں ان کی کوئی وقت باقی نہیں رہی ہے تو انہیں اپنی سبکی محسوس ہوئی، چنانچہ وہ اپنی والدہ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: امی جان! آپ دیکھ رہی ہیں کہ مجھے چاروں طرف کے لوگوں نے نظر انداز کر دیا ہے، اور تو اور میرے بیوی بچے بھی میرے مشن کے خلاف ہیں ان کی نگاہ میں بھی میری کوئی وقت نہیں ہے۔ اب معدودے چند لوگ ہی میرا ساتھ دینے کے لئے رہ گئے ہیں وہ بھی اس قدر کمزور ہیں کہ چند لمحے بھی مخالف گروہ کے سامنے ٹھہر نہیں سکتے۔ اگر آج میں اپنے مشن سے دستبردار ہو جاؤں تو مجھے معاشرے میں ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا، میں ساری بے رُخ نگاہوں کی توجہ کا مرکز بن جاؤں گا، دُنیاوی مال و متاع سے مالا مال کر دیا جاؤں گا اور میرے جانی دشمن میرے نمکسار ہدم بن جائیں گے، پھر ایسی صورت میں مجھے کیا کرنا چاہئے؟ امی جان! اس وقت میں زندگی اور موت کی کشمکش میں سانس لے رہا ہوں، مجھے آگے قدم بڑھانے کے لئے آپ کا مشورہ درکار ہے۔“ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا بیٹے کی درد انگیز گفتگو سن کر کہنے لگیں: جان من! تم اپنے متعلق جتنا کچھ جانتے ہو کوئی دوسرا اس قدر نہیں جان سکتا، اگر تمہیں اپنے طور پر کئی اطمینان ہے کہ تم جس بات کی طرف دعوت دے رہے ہو، اس میں حق پر ہو اور تمہارے مقابل ناقص پر، تو پھر اپنی دعوت سے باز مت آؤ اور قدم آگے کی جانب بڑھاتے چلے جاؤ۔ پست ہمتی کا ثبوت ہرگز نہ دو اور اپنی گردن کو اتنی ڈھیل مت دو کہ بنو امیہ کے بچے تمہارے سر سے کھلواڑ کریں۔ اور اگر تم یہ سب کچھ دنیاوی مال و متاع کے لالچ میں کر رہے تھے تو پھر تم ایک بدترین آدمی ہو تم نے خود کو اور اپنے ساتھیوں کو تباہ و برباد کر ڈالا اور تمہارے جو ساتھی قتل کر دیئے گئے ہیں ان کے قتل کے ذمہ دار تم اور صرف تم ہو۔ اور اگر تمہاری رائے یہ ہے کہ تم حق پر تھے مگر جب تمہارا ساتھ دینے والے کمزور پڑ گئے تو تم نے بھی ہمت ہار کر سر تسلیم خم کر دیا تو پھر یہ آزاد لوگوں کی شان نہیں اور نہ ہی اہل دین کا شیوہ۔ آخر اُس دنیا میں تمہاری زندگی ہے ہی کتنی؟ ذلت کے ساتھ زندہ رہنے سے عزت کے ساتھ قتل ہو جانا کہیں بہتر ہے:

﴿وَاللَّهُ لَضَرْبُهُ بِالسِّيفِ يُعِزُّ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ ضَرْبِهِ ۝ سَوْطٌ فِي دَلٍّ﴾

ترجمہ: ”اللہ کی قسم! عزت و شان میں تلوار کی کسی ضرب کھانا مجھے ذلت و رسوائی کی حالت میں کوڑا کھانے سے زیادہ محبوب ہے۔“

ماں کی یہ ایمان افروز تقریر سن کر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا:

﴿وَأَيُّ أَعْيَالٍ إِنْ قَتَلُونِي أَنْ يَمْتَلُونِي﴾

ترجمہ: ”مجھے خدشہ ہے کہ اگر میرے دشمن مجھے قتل کر دیں گے تو میرا مثلہ کریں گے۔“ (مثلہ کہتے ہیں میت یا مقتول کے کان، ناک، آنکھ یا ہاتھ وغیرہ اعضائے جسمانی کو بری طرح کاٹنے اور سخ کرنے کو)

حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے فرمایا:

﴿يَا بَنِيَّ! إِنْ الشَّاةُ لَا يَضُرُّ مَا سَلَخَهَا بَعْدَ ذُبْحِهَا﴾

ترجمہ: ”بیٹے! بکری کے ذبح ہونے کے بعد اس کی چڑی اُدھیرنا اس کے لیے کسی تکلیف کا باعث نہیں ہوتا (اس لئے قتل کے بعد تمہاری لاش کی جھنکی بھی بے حرمتی ہو، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔)“

یہ سن کر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور اپنی ماں کے سر کا بوسہ لیا اور کہنے لگے:

”اللہ کی قسم! یہی میری رائے بھی ہے۔ جس دعوت کا علم میں نے بلند کیا تھا، آج تک اسی کی سر بلندی کے لئے کوشاں ہوں، میں نے کبھی دُنیا کو حسن نگاہ سے نہیں دیکھا ہے اور نہ آج دُنوی حرم طمع کی میرے اندر گنجائش ہے۔“

﴿وَمَا دَعَانِي إِلَى الْخُرُوجِ إِلَّا الْغَضَبُ أَنْ اللَّهَ تَسْتَعْلُ حُرْمَهُ﴾

ترجمہ: ”میں نے وقت حکمرانوں کے خلاف جو جنگ چھیڑ رکھی ہے اس کا سبب میری دینی حمیت ہے، کیونکہ ان کے دور میں اللہ تعالیٰ کی محرمات کی پامالی ہو رہی ہے اور انہیں جائز ٹھہرایا گیا ہے۔“  
پھر بولے:

”امی جان! میں نے اپنے مشن سے متعلق آپ کی رائے لے لینا مناسب سمجھا، الحمد للہ آپ کی ایمان افروز گفتگو نے میری بصیرت میں مزید اضافہ کر دیا۔ امی جان! آج ہی میں قتل ہونے والا ہوں، میرے قتل پر غمزہ نہ ہونا اور اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دینا کیونکہ آپ کے اس صاحبزادے نے کبھی کسی منکر و ناجائز کام کے کرنے کا ارادہ نہیں کیا اور نہ کسی غلط اور اخلاق سے گری ہوئی بات میں ملوث ہوا۔ میں نے اللہ کی سلطنت میں کبھی ظلم و استبداد کو نہیں سراہا، اسن و امان کا جھانسا دے کر کسی پر دست درازی نہیں کی، کسی مسلمان یا غیر مسلم پر زیادتی کو روکا نہیں رکھا۔ میرے عمال کی طرف سے ظلم و زیادتی کی جب بھی مجھے شکایت ملی، میں نے مظلوموں کی بھرپور تائید کی اور ان کے حقوق دلوائے۔ میں نے کبھی رضائے الہی پر اپنے خواہش کو ترجیح نہیں دی۔ بلکہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو اپنی خواہش پر مقدم رکھا۔“

﴿اللَّهُمَّ إِنِّي لَا أَقُولُ هَذَا تَزَكِيَةً لِنَفْسِي أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ وَلَكِنْ أَقُولُهُ تَعَزُّيَةً لِمَتِّي لِيَسْلُوا عَنِّي﴾  
ترجمہ: ”اے اللہ! یہ سب باتیں میں اپنی ذات کے تزکیہ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس سے تو بخوبی واقف ہے، بلکہ میں یہ سب کچھ اپنی ماں کو تسلی دینے کے لیے کہہ رہا ہوں تاکہ وہ مجھے پہنچنے والی مصیبت کو بھول جائے۔“  
یہ تعزیت پھرے الفاظ سن کر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی والدہ کہنے لگیں:

﴿إِنِّي لَا رَجُؤَ مِنَ اللَّهِ أَنْ يَكُونَ غَزَايَ فِيكَ حَسَنًا إِنَّ تَقَدَّمَ مَتِي وَإِنْ تَقَدَّمَتْكَ فَفِي نَفْسِي حَرْجٌ حَتَّى أَنْظُرَ إِلَى مَا يَصِيرُ أَمْرَكَ﴾

ترجمہ: ”مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اگر تم مجھ سے پہلے اللہ کے پاس چلے گئے تو تمہارے بارے میں میری تعزیت اچھی ہوگی، البتہ اگر میں تم سے پہلے انتقال کر گئی تو میرے دل میں یہ خلش باقی رہے گی کہ میں تمہارے مشن کا انجام نہ دیکھ سکے۔“  
پھر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اپنی ماں سے دُعا کی درخواست کرتے ہوئے ان کے پاس سے روانہ ہو گئے اور اسی روز انہیں حجاج بن یوسف اور اس کے ساتھیوں نے شہید کر دیا۔

(دیکھئے تاریخ طبری ۶/۱۸۸، بلاغات النساء: ۱۳۰، عقد القرین: ۳/۴۷، قصص العرب: ۱۳۲/۲)

## (۹۲) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں دو عورتوں میں جھگڑا ہو گیا

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں دو عورتوں میں جھگڑا ہو گیا۔ ان میں سے ایک حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ کی ہمیشہ ریح بن نضر رضی اللہ عنہ تھیں جنہوں نے دوسری عورت کا دانت توڑ دیا تھا۔ جب یہ مقدمہ بارگاہِ نبوت میں پیش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

﴿الْقِصَاصُ الْقِصَاصُ﴾ ”کتاب اللہ کے فیصلے کے مطابق دانت کے بدلہ میں دانت ہی توڑا جائے گا۔“

حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ ایک جلیل القدر صحابی تھے جو جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے اور بعد میں انہوں نے حمیتِ اسلامی سے سرشار ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا:

﴿وَاللَّهِ إِنْ أَشْهَدَنِي اللَّهُ قِتَالَ الْمُشْرِكِينَ لَوَدِدْتُ أَنَّ اللَّهَ مَا أَصْنَعُ﴾

ترجمہ: ”اللہ کی قسم! اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے مشرکین سے جنگ کا موقع دیا تو اللہ تعالیٰ خوب دیکھے گا کہ میں کیسے کارنامے انجام دیتا ہوں۔“

چنانچہ غزوہ احد میں بڑی جواں مردی سے کافروں نے ان کا اس قدر بُرے طریقے سے مشکہ کیا تھا کہ ان کی بہن ریح بنت نصرؓ نہیں پہچان نہ سکیں۔ بلکہ ان کی انگلیوں کے پوروں کی مدد سے انہیں پہچانا۔

غرض یہ صحابی رضی اللہ عنہ رسول اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: ”اے اللہ کے رسول ﷺ! کیا آپ چاہتے ہیں کہ میری بہن ریح کا دانت توڑ دیا جائے؟“ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

﴿لَعَنَهُ اِيْتَابُ اللّٰهِ﴾

ترجمہ: ”ہاں! کتاب اللہ کا یہی فیصلہ ہے۔“

حضرت انس بن نصر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: ”اللہ کی قسم! میری ہمشیرہ کا دانت نہیں ٹوٹے گا!“ آخر یہ قسم کیسی تھی؟ کیا حضرت انس بن نصر رضی اللہ عنہ نے شرعی حکم پر اعتراض کیا تھا؟ کیا نبی کریم ﷺ کا فیصلہ قبول نہ تھا؟ ہرگز نہیں! بلکہ انہوں نے یہ قسم اس لئے کھائی کہ انہیں اللہ کی ذات سے امید تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو رايگاں نہیں جانے دے گا، بلکہ ضرور کوئی دوسری صورت پیدا فرما دے گا، وہ اپنے رب ذوالجلال سے دُعا کر رہے تھے۔

چنانچہ جب انس بن نصر رضی اللہ عنہ نے قسم کھالی تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اس (زخمی) عورت کے گھر والوں کے پاس جاؤ، اگر وہ لوگ تاوان پر راضی ہو جائیں تو پھر کوئی حرج نہیں۔“

لوگ اس زخمی عورت کے گھر والوں کے پاس گئے، ان لوگوں نے تاوان پر رضامندی ظاہر کر دی، حالانکہ اس سے پہلے وہ راضی نہیں ہو رہے تھے بلکہ وہ ریح بنت نصر رضی اللہ عنہ کا دانت توڑنے پر مصر تھے۔

رسول اکرم ﷺ کے چہرہ مبارک پر مسکراہٹ چھا گئی اور آپ انس بن نصر رضی اللہ عنہ کے پٹھے ہوئے کپڑے اور ان کے دبلے پتلے جسم کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر فرمایا:

﴿اِنَّ مِنْ عِبَادِ اللّٰهِ مَنْ لَّوْ اَقْسَمَ عَلٰى اللّٰهِ لَآ يَبْرُءُ﴾

ترجمہ: ”اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ (کے بھروسہ) پر قسم کھا بیٹھیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم پوری کر دیتے

ہیں۔“ (بخاری: ۷۰۳، مسند احمد: ۱۲۸/۳)

حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کے پاس آپ ﷺ کی قمیض تھی، ابوزناد سے مروی ہے کہ سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کے پاس رسول اکرم ﷺ کی قمیض تھی جو انہوں نے اپنے عظیم بیٹے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو عطا کر دی تھی مگر جب انہیں مخالفین نے قتل کر دیا تو اس عظیم سانحہ کے باعث وہ قمیض گم ہو گئی۔ اس حادثہ کے بعد بسا اوقات حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کہتی تھی:

﴿لَلْقَيْبِصِ اَشَدُّ عَلَيَّ مِنْ قَتْلِ عَبْدِ اللّٰهِ﴾

ترجمہ: ”میرے لخت جگر عبداللہ کا قتل اس قدر تکلیف کا باعث نہیں جتنا کہ نبی کریم ﷺ کی قمیض کے گم ہو جانے سے مجھے

تکلیف ہوئی۔“

کچھ عرصہ بعد ملک شام کے ایک شخص کے متعلق پتہ چلا کہ رسول اکرم ﷺ کی وہ قمیض اس شامی کے پاس ہے۔ جب قمیض کے متعلق حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کے حزن و ملال کا اس شامی کو علم ہوا تو اس نے قمیض لوٹانے کے لیے شرط عائد کر دی کہ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعائے مغفرت کریں چنانچہ وہ کہنے لگا:

﴿لَا اَرُدُّهَا اَوْ تَسْتَغْفِرُ لِيْ سَمَاءُ﴾



ترجمہ: ”میں اس نہیں کو اسی صورت میں لوٹاؤں گا جبکہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مغفرت کریں۔“  
جب یہ بات سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا کو پہنچی تو انہوں نے عرض کیا:

﴿كَيْفَ أَسْتَغْفِرُ لِقَاتِلِ عَبْدِ اللَّهِ؟﴾

ترجمہ: ”بھلا اپنے نخت جگر عبداللہ کے قاتل کے لئے میں کیوں کر دُعاے استغفار کر سکتی ہوں؟“

لوگوں نے سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا سے عرض کیا کہ جب تک آپ اس شامی کے حق میں دُعا استغفار کے لیے اللہ کے دربار میں ہاتھ دراز نہیں کریں گی وہ رسول اکرم ﷺ کی قمیض واپس کرنے سے انکاری ہے جس کی واپسی کی آپ خواہاں ہیں۔  
حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے کہا: شامی کو میرے پاس آنے کے لیے کہو۔ چنانچہ وہ شامی رسول اکرم ﷺ کی قمیض لے کر حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت اس کے ہمراہ عبداللہ بن عروہ بھی موجود تھے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے شامی سے کہا: قمیض عبداللہ بن عروہ کے حوالے کر دو۔ شامی نے قمیض عبداللہ بن عروہ کے حوالے کر دی تو حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے پوچھا: عبداللہ قمیض حاصل کر لی؟ عبداللہ بن عروہ نے عرض کیا: ہاں۔ تب حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کہنے لگیں:

﴿غَفَرَ اللَّهُ لَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ﴾

ترجمہ: ”عبداللہ! اللہ تمہاری مغفرت فرمائے۔“

شامی نے سمجھا کہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے ”عبداللہ“ کہہ کر اُس کے لئے مغفرت کی دُعا کی ہے، حالانکہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے عبداللہ سے عبداللہ بن عروہ مراد لیا اور کناہیہ میں انہی کو دُعا دے گئیں مگر شامی نہیں سمجھ سکا۔ (تراجم الامور: ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹

اس سے پوچھا کہ کیا نیک لوگ بروں کی شفاعت کریں گے؟ یا باپ بیٹوں کے کام آئیں گے؟ اس نے فرمایا، قیامت کا دن جھگڑوں کے فیصلوں کا دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ خود سامنے ہوگا، کوئی بغیر اس کی اجازت کے لب نہ ہلا سکے گا، کسی کو دوسرے کے بارے میں نہ پکڑا جائے گا، نہ باپ بیٹے کے بدلے نہ بیٹا باپ کے بدلے نہ بھائی بھائی کے بدلے، نہ غلام آقا کے بدلے، نہ کوئی کسی کا رنج و غم کرے گا نہ کسی کو کسی سے شفقت و محبت ہوگی۔ نہ ایک دوسرے کی طرف سے پکڑا جائے گا، ہر شخص آپا دھاپی میں ہوگا، ہر ایک اپنی فکر میں ہوگا، ہر ایک کو اپنا رونا پڑا ہوگا، ہر ایک اپنا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوگا نہ کسی اور کا۔ (تفسیر ابن کثیر، جلد ۳، صفحہ ۱۹۹)

## (۹۵) مندرجہ ذیل گیارہ آیتوں پر جو جمع کیا وہ جنتی ہے

رسول اللہ ﷺ کی عجیب و غریب دعاء

﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۱ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ۲ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ۳ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ۴ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۵ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ غَيْرُ مُلْتَمِسِينَ ۶ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾۔ (تفسیر ابن کثیر، جلد ۳، صفحہ ۵۲)

ترجمہ: ”یقیناً ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی۔ جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں جو لغویات سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جو اپنی بیویوں اور ملکیت کی لونڈیوں کے یقیناً یہ ملامتوں میں سے نہیں ہیں، جو اس کے سوا کچھ اور چاہیں وہ کسی حد سے تجاوز کر جانے والے ہیں۔“

﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْثَلِهِمْ وَعَهْدِهِمْ ذِكْرًا ۷ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۸ أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ۹ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۱۰﴾ (سورۃ المؤمنین، آیت ۱۲۱)

ترجمہ: ”جو اپنی امانتوں اور وعدے کی حفاظت کرنے والے ہیں، جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں، یہی وارث ہیں جو فرشتوں کے وارث ہیں۔ جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔“

نسائی، ترمذی، مسند احمد میں مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ پر جب وحی اترتی تو ایک ایسی میٹھی میٹھی بھنی بھنی ہلکی ہلکی آواز آپ ﷺ کے پاس سنی جاتی جیسے شہد کی کھپوں کے اڑنے کی بھنبھناہٹ کی ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ یہی حالت طاری ہوئی، تھوڑی دیر کے بعد جب وحی اتر چکی تو آپ ﷺ نے قبلے کی طرف متوجہ ہو کر اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کی کہ:

”خدا یا! تو ہمیں زیادہ کر کم نہ کر ہمارا اکرام کراہانت نہ کر، ہمیں انعام عطا فرما محروم نہ رکھ، ہمیں دوسروں پر اختیار کر لے ہم پر دوسروں کو پسند نہ فرما، ہم سے تو خوش ہو جا اور ہمیں خوش کر دے۔“

عربی کے الفاظ یہ ہیں:

﴿اللَّهُمَّ زِدْنَا وَلَا تَنْقُصْنَا وَأَكْرِمْنَا وَلَا تُهِنَّا وَأَعْظِمْنَا وَلَا تُعْزِمْ عَلَيْنَا وَلَا تُؤْوِدْ عَلَيْنَا وَلَا تُرْضِنَا﴾  
پھر فرمایا، مجھ پر دس آیتیں اترتی ہیں جو ان پر جمع کیا وہ جنتی ہو گیا۔ (تفسیر ابن کثیر، جلد ۳، صفحہ ۴۳۶)

## (۹۶) نافرمان بیوی کے لیے ایک مجرب عمل

■ میں آج کل بہت پریشان ہوں، میری اہلیہ میری کوئی بات نہیں مانتی ہے، میرے والدین، بھائی، بہن سب ہی سے لڑائی کرتی ہے اور ان سب کے ساتھ مجھے قتل کی بھی دھمکی دیتی ہے میں ہر ممکن کوشش سمجھانے کی کر چکا ہوں، اس سے علیحدہ بھی رہ چکا ہوں، اس

کے والدین بجائے اس کو سمجھانے کے اس کی ہمت افزائی کرتے ہیں جن سے وہ اور بھی زیادہ شوخ چشم بن گئی ہے۔ آپ اس کے لئے دُعا فرمانے کے ساتھ کوئی تدبیر ایسی بتائیں کہ میں اس مصیبت و پریشانی سے نجات پاسکوں۔

آپ کے پریشان کن حالات سے بہت قلق ہے، جو عادت لگ جاتی ہے اس کا چھوڑنا بہت مشکل ہے۔ صبر و تحمل کی ضرورت ہے۔ آپ اس کو سمجھاتے ہیں اس کے اقوال و اعمال سے خوش نہیں ہیں پھر بھی وہ باز نہیں آتی۔ اس کا گناہ آپ کے سر نہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد ”يَا مُقَلِّبُ وَالْإِنْصَارُ يَا خَالِقَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ يَا عَزِيزُ يَا لَطِيفُ يَا غَفَّارُ“ دو سو مرتبہ، اول و آخر دو شریف گیارہ مرتبہ پابندی سے پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔

### ﴿۹۷﴾ جس کی اصلاح مشائخ سے نہیں ہوتی اس کی اصلاح نافرمان بیوی سے ہوتی ہے

حضرت! میری بیوی بہت پریشان کر رہی ہے، میکے میں ہی رہتی ہے، بات بات پر غصہ ناراضگی، گھر میں جوان بچے پھر بھی ہر وقت اپنے میکے چلے جانا، ہر طرح سے پریشان کر رکھا ہے، اس کو طلاق رجعی دینے کا ارادہ کر لیا ہے۔

آپ بیوی کو طلاق دینے کا ارادہ ہرگز نہ کریں کہ انقض السباحت ہے۔ آپ کو بھی دشواری پیش آئے گی اس کو بھی۔ جس کی اصلاح مشائخ سے نہیں ہوتی اس کی اصلاحی بیوی سے ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ شریف مرد پر اس کی بیوی حاوی رہتی ہے اور کینہ مرد اپنی بیوی پر حاوی رہتا ہے۔ شریف ہو کر اس حال میں رہوں کہ میری بیویاں حاوی رہیں مجھے پسند ہے اس سے کہ میں کینہ بن کر بیویوں پر حاوی رہوں۔ جب سسرال قریب ہے تو آپ وہاں ہو کر آیا کریں، بیوی اگر چہ اپنے دل میں ناخوش رہے مگر آپ اس سے ناخوش نہ ہوں بلکہ اس سے کہہ دیں کہ میری طرف سے اجازت ہے جب تک جی چاہے آٹھ روز، دس روز اپنے میکے میں رہو۔ ناراضگی کی کوئی بات نہیں ہے۔ انشاء اللہ اس سے بہت سی الجھنیں دور ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ قلب میں صلاحیت پیدا فرمائے۔

### ﴿۹۸﴾ خواب میں کسی کے سر پر تاج رکھ دیا جائے تو وہ بادشاہ نہیں بن جاتا

حضرت! رات میں کبھی خواب دیکھتا ہوں کہ ساری جائیداد میرے ملک کی میرے قبضہ میں آچکی ہے اور میں اس ملک کا بادشاہ بن چکا ہوں۔ کبھی دیکھتا ہوں کہ میں گھوڑے پر سوار ہوں اور پبلک میرے پیچھے پیچھے چل رہی ہے، کبھی دیکھتا ہوں کہ میں ایک بڑے دسترخوان پر جس پر عجیب قسم کے میوہ جات چیزیں ہیں، اس میں سے کھا رہا ہوں، کبھی ڈراؤ نے خواب دیکھتا ہوں کہ میرے پیچھے ایک کالا سانپ دوڑ رہا ہے اور میں اس کے آگے دوڑ رہا ہوں مگر دل کی گھبراہٹ نے مجھے دوڑنے نہیں دیا اور سانپ کا نوالہ بننے کے قریب کر دیا۔ برائے کرم جواب دے کر تسلی دیجئے۔

دیکھئے بھائی! اولاً تو ہر خواب کی تعبیر کی جستجو نہ کیجئے، خواب چند جوہات کی بنا پر آدمی دیکھتا ہے:

● خواب دماغی انتشار اور ماحول کے اثرات سے کم خالی ہوتے ہیں۔

● خزانہ خیال میں کبھی کبھی دیکھی ہوئی چیزیں پڑی رہتی ہیں، قوت متصرفان کو جمع کر دیتی ہے۔

● معدے سے بخارات اُٹھ کر دماغ کی طرف عود کرتے ہیں تو اس سے بکثرت خواب نظر آتے ہیں۔

● مزاجی کیفیت سوداء، صفراء، دم، بلغم کی وجہ سے بکثرت خواب نظر آتے ہیں۔

● نفس کی خواہشات کو خواب میں بڑا دخل ہوتا ہے۔

● شیطان حسد کر کے پریشان کن خواب دکھاتا ہے۔

خواب بسا اوقات تمثیل ہوتا ہے اور بھی عین ہوتا ہے۔

اس لئے ہر خواب کی تعبیر تلاش کرنا اور ہر خواب کی تعبیر کے درپے نہیں ہونا چاہئے۔ اگر کوئی بھوکا پیاسا آدمی خواب میں روٹی کھالے، پانی پی لے تو اس سے بھوک اور پیاس رفع نہیں ہو جاتی۔ خواب میں کسی کے سر پر تاج رکھ دیا جائے تو وہ بادشاہ نہیں بن جاتا، اچھا خواب نظر آئے تو اس پر الحمد للہ پڑھ لیا جائے اور برا خواب نظر آئے تو لا حول اور استغفار پڑھ دیا جائے۔ آپ کو اگر موقع ہو تو یہاں تشریف لے آئیے، زبانی فہمائش اچھی طرح کر دی جاتی ہے، اُمید تو یہ ہے کہ آپ کے چار صفحات گنجان کے جواب میں یہ سطر میں بھی کافی ہو جائیں گی۔

اللہ کی رضا کا طالب

محمد یونس پالن پوری

## (۹۹) معاف کر دینے والا بآرام میٹھی نیند سو جاتا ہے اور بدلے

### کی دُھن والا دن رات متفکر رہتا ہے اور جوڑ جوڑ سوچتا ہے

سنو معاف کر دینے والا تو بآرام میٹھی نیند سو جاتا ہے، اور بدلے کی دُھن والا رات دن متفکر رہتا ہے اور توڑ جوڑ سوچتا ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ ایک شخص نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہنا شروع کیا۔ حضور ﷺ بھی وہیں تشریف فرما تھے، آپ ﷺ مسکرانے لگے، حضرت صدیق رضی اللہ عنہ خاموش تھے لیکن جب اُس نے بہت گالیاں دیں تو آپ نے بھی بعض کا جواب دیا، اس پر حضور ﷺ ہاں سے ناراض ہو کر چل دیئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے رہا نہ گیا، آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ وہ مجھے برا کہتا رہا تو آپ بیٹھے رہے، اور جب میں نے اس کی دو ایک باتوں کا جواب دیا تو آپ ﷺ ہاتھ رانسی سے اٹھ چلے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: سنو! جب تک تم خاموش تھے، فرشتہ تمہاری طرف سے جواب دیتا تھا جب تم خود بولے تو فرشتہ ہٹ گیا اور شیطان بیچ میں آ گیا۔ پھر بھلا میں شیطان کی موجودگی میں کیسے بیٹھا رہتا؟ پھر فرمایا، سنو ابو بکر! تین چیزیں بالکل برحق ہیں:

● جس پر کوئی ظلم کیا جائے اور وہ اس سے چشم پوشی کرے تو ضرور اللہ تعالیٰ اسے عزت دے گا اور اس کی مدد کرے گا۔

● جو شخص سلوک اور احسان کا دروازہ کھولے گا اور صلہ رحمی کے ارادے سے لوگوں کو دیتا رہے گا اللہ تعالیٰ اسے برکت دے گا اور زیادتی عطا فرمائے گا۔

● اور جو شخص بڑھانے کے لیے سوال کا دروازہ کھول لے گا اس سے اُس سے مانگتا پھرے گا اللہ تعالیٰ اس کے یہاں بے برکتی کر دے گا اور کی میں ہی جتلا رکھے گا۔ یہ روایت ابوداؤد میں بھی ہے اور مضمون کے اعتبار سے یہ بڑی پیاری حدیث ہے۔ (تفسیر ابن کثیر، جلد ۵، صفحہ ۲۳)

## (۱۰۰) معاف کرنے میں جو لذت ہے، بدلہ لینے میں نہیں ہے

● نبی اللہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں پر قابو فرما کر فرما دیا کہ جاؤ تمہیں میں کوئی دانت ڈپٹ نہیں کرنا بلکہ میری خواہش ہے اور دعا ہے کہ خدا تعالیٰ بھی تمہیں معاف فرمادے۔

● اور جیسے کہ سردار انبیاء رسول خدا، احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ نے حدیبیہ میں کیا جب کہ اسی (80) کفار غفلت کا موقع ڈھونڈ کر چپ چاپ لشکر اسلام میں گھس آئے، جب یہ پکڑ لئے گئے اور گرفتار ہو کر حضور ﷺ کی خدمت میں پیش کر دیئے گئے تو آپ ﷺ نے ان سب کو معافی دے دی اور چھوڑ دیا۔

● اور جیسے کہ آپ ﷺ نے غورث بن حارث کو معاف کر دیا۔ یہ وہ شخص ہے کہ حضور ﷺ کے سوتے ہوئے اس نے آپ ﷺ کی

تلوار پر قبضہ کر لیا۔ جب آپ ﷺ جاگے اور اسے ڈانٹا اور تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور آپ ﷺ نے تلوار لے لی، اور وہ مجرم گردن جھکائے آپ ﷺ کے سامنے کھڑا ہو گیا، آپ ﷺ نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو بلا کر یہ منظر بھی دکھایا اور یہ بھی سنایا پھر اسے معاف فرمادیا اور جانے دیا۔

اسی طرح لیبید بن اعصم نے جب آپ ﷺ پر جادو کیا تو باوجود علم و قدرت کے آپ ﷺ نے اس سے درگزر فرمایا۔ اور اسی طرح جس یہودیہ عورت نے آپ ﷺ کو زہر دیا تھا، آپ ﷺ نے اس سے بھی بدلہ نہ لیا۔ اور باوجود قابو پانے اور معلوم ہو جانے کے بھی آپ ﷺ نے اتنے بڑے واقعہ کو آنا جانا کر دیا۔ اس عورت کا نام زینب تھا۔ یہ مرحب یہودی کی بہن تھی جو جنگ خیبر میں حضرت محمود بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ اس نے بکری کے شانے کے گوشت میں زہر ملا کر خود حضور ﷺ کے سامنے پیش کیا تھا۔ خود شانے ہی نے آنحضرت ﷺ کو اپنے زہر آلود ہونے کی خبر دی تھی جب آپ ﷺ نے اسے بلا کر دریافت فرمایا تو اس نے اقرار کیا تھا اور وجہ یہ بیان کی تھی کہ اگر آپ ﷺ سچے نبی ہیں تو یہ آپ ﷺ کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکے گا، اگر آپ ﷺ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں تو ہمیں آپ ﷺ سے راحت حاصل ہو جائے گی۔ یہ معلوم ہو جانے پر اس کے اقبال کر لینے پر بھی خدا تعالیٰ کے رسول ﷺ نے اسے چھوڑ دیا، معاف فرمادیا، گو بعد میں وہ قتل کر دی گئی، اس لئے کہ اسی زہر سے اور اسی زہر پیٹنے کھانے سے حضرت بشر بن براہ رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے، تب قصاصاً یہ یہودیہ عورت بھی قتل کرائی گئی اور بھی حضور ﷺ کے ایک واقعات بہت سے ہیں۔ (تفسیر ابن کثیر، جلد ۵، صفحہ ۲۱)

### (۱۰۱) اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ سے خوب خوش ہوتا ہے

صحیح مسلم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جس کی اونٹنی جنگل بیابان میں گم ہو گئی ہو جس پر اس کا کھانا پینا بھی ہو یہ اس کی جستجو کر کے عاجز آ کر درخت تلے پڑا اور اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا، اونٹنی سے بالکل مایوس ہو گیا کہ یکا یک وہ دیکھتا ہے کہ اونٹنی اس کے پاس ہی کھڑی ہے، یہ فوراً ہی اٹھ بیٹھتا ہے، اس کی گیل تمام لیتا ہے اور اس قدر خوش ہوتا ہے کہ بے تحاشہ اس کی زبان سے نکل جاتا ہے یا اللہ! بے شک تو میرا غلام اور میں تیرا رب ہوں اپنی خوشی کی وجہ سے خطا کر جاتا ہے ایک مختصر حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ سے اس قدر خوش ہوتا ہے کہ اتنی خوشی اس کو بھی نہیں ہوتی جو ایسی جگہ میں ہوں جہاں پیاس کے مارے ہلاک ہو رہا ہو اور وہیں اس کی سواری کا جانور گم ہو گیا ہو جو اسے دفعۃً مل جائے۔ (تفسیر ابن کثیر، جلد ۵، صفحہ ۲۱)

### (۱۰۲) آخرت کی بھلائیاں صرف ان کے لئے ہیں جو دنیا میں پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہیں

اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ لوگ مال کو میرا فضل اور میری رضا مندی کی دلیل جان کر مالداروں کے مثل بن جائیں تو میں کفار کو یہ دنیا حقیر اتنی دیتا کہ ان کے گھر کی چھتیں بلکہ ان کے کوٹھوں کی سیڑھیاں بھی چاندی کی ہوتیں جن کے ذریعے یہ بالا خانوں پر پہنچتے اور ان کے دروازے ان کے بیٹھنے کے تخت بھی چاندی کے ہوتے اور سونے کے بھی۔ میرے نزدیک دنیا کوئی قدر کی چیز نہیں یہ فانی ہے زائل ہونے والی ہے اور ساری مل جائے جب بھی آخرت کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے۔ ان لوگوں کی اچھائیوں کے بدلے انہیں یہیں مل جاتے ہیں، کھانے پینے، رہنے سہنے، برتنے برتانیے میں کچھ سموتیں بہم پہنچ جاتی ہیں، آخرت میں تو محض خالی ہاتھ ہوں گے۔ ایک نیکی باقی نہ ہوگی جو خدا تعالیٰ سے کچھ حاصل کر سکیں، جیسے کہ صحیح حدیث میں وارد ہوا ہے اور حدیث میں ہے کہ اگر دنیا کی قدر خدا تعالیٰ کے یہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو یہاں پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پلاتا، پھر فرمایا آخرت کی بھلائیاں

صرف ان کے لیے ہیں جو دنیا میں پھونک پھونک کر قدم رکھتے رہے، ڈرڈر کر زندگی گزارتے رہے۔ وہاں رب تعالیٰ کی خاص نعمتیں اور مخصوص رحمتیں جو انہیں ملیں گی ان میں کوئی اور ان کا شریک نہ ہوگا۔ چنانچہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہما رسول اللہ ﷺ کے پاس آپ ﷺ کے بالا خانے میں گئے اور آپ ﷺ نے اس وقت اپنی ازواج مطہرات سے ایلا کر رکھا تھا، تو دیکھا کہ آپ ﷺ ایک چٹائی کے کپڑے پر لیٹے ہوئے ہیں جس کے نشان آپ ﷺ کے جسم مبارک پر نمایاں ہیں۔ تو رو دیے اور کہا یا رسول اللہ ﷺ قیصر و کسری کس آن بان اور کس شان و شوکت سے زندگی گزار رہے ہیں اور آپ خدا تعالیٰ کے برگزیدہ پیارے رسول ہو کر کس حال میں ہیں؟ حضور ﷺ نے بتایا تو بکیہ لگائے ہوئے بیٹھے تھے یا فوراً بکیہ چھوڑ دیا اور فرمانے لگے، اے ابن خطاب! کیا تو شک میں ہے؟ یہ تو وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں جلدی سے انہیں مل گئیں، ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں، سونے چاندی کے برتنوں میں کھاؤ پیو نہیں یہ دنیا میں ان کے لئے ہیں اور آخرت میں ہمارے لئے ہیں اور دنیا میں یہ ان کے لئے یوں ہیں کہ رب اللہ تعالیٰ کی نظروں میں دنیا ذلیل و خوار ہے۔ ترمذی وغیرہ کی ایک حسن صحیح حدیث میں ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: اگر دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی وقعت رکھتی تو کسی کافر کو اللہ تعالیٰ ایک گھونٹ پانی نہ پلاتا۔ (تفسیر ابن کثیر، جلد ۵، صفحہ ۳۲)

### (۱۰۳) ہر دوستی قیامت کے دن دشمنی سے بدل جائے گی مگر پرہیزگاروں کی دوستی قائم رہے گی

ابن ابی حاتم میں مروی ہے کہ امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، دو ایمان دار جو آپس میں دوست ہوتے ہیں جب ان میں سے ایک کا انتقال ہو جاتا ہے اور خدا تعالیٰ کی طرف سے اسے جنت کی خوشخبری ملتی ہے تو وہ اپنے دوست کو یاد کرتا ہے اور کہتا ہے، خدا تعالیٰ کی طرف سے اسے جنت کی خوشخبری ملتی ہے تو وہ اپنے دوست کو یاد کرتا ہے اور کہتا ہے، خدایا! فلاں شخص میرا ولی دوست تھا جو مجھے تیری اور تیرے رسول ﷺ کی اطاعت کا حکم دیتا تھا، بھلائی کی ہدایت کرتا تھا، برائی سے روکتا تھا اور مجھے یقین دلایا کرتا تھا کہ ایک روز خدا تعالیٰ سے ملتا ہے، پس اے باری تعالیٰ! تو اسے راجح پر ثابت قدم رکھ یہاں تک کہ اسے بھی تو وہ دکھائے جو تو نے مجھے دکھایا ہے اور اس سے بھی تو اسی طرح راضی ہو جائے جس طرح مجھ سے راضی ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملتا ہے تو ٹھنڈے کلیجوں چلا جا۔ اس کے لئے جو کچھ میں نے تیار کیا ہے اگر تو اسے دیکھ لیتا تو بہت ہنستا اور بالکل آزرده نہ ہوتا۔ پھر جب دوسرا دوست مرتا ہے اور ان کی روحیں ملتی ہیں تو کہا جاتا ہے کہ تم آپس میں ایک دوستی کا تعلق بیان کرو۔ پس ہر ایک دوسرے سے کہتا ہے کہ یہ میرا بڑا بھائی تھا اور نہایت نیک ساھی تھا اور بہت بہتر دوست تھا۔ (تفسیر ابن کثیر، جلد ۵، صفحہ ۳۱)

### (۱۰۴) سب سے نیچے درجہ کا جنتی اس کی نگاہ سو سال کے راستے تک جائے گی

رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں سب سے نیچے درجہ کا جنتی جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا اس کی نگاہ سو (100) سال کے راستے تک جاتی ہوگی لیکن برابر وہاں تک اسے اپنے عی ڈیرے، خیمے اور محل سونے کے اور زمرہ کے نظر آئیں گے جو تمام کے تمام قسم قسم اور رنگ برنگ کے ساز و سامان سے پر ہوں گے۔ صبح شام ستر ستر ہزار کابیاں پیالے الگ الگ وضع کے کھانے سے پر اس کے سامنے رکھے جائیں گے جن میں سے ہر ایک اس کی خواہش کے مطابق ہوگا اور اول سے آخر تک اس کی اشتہار برابر اور یکساں رہے گی، اگر وہ روئے زمین والوں کی دعوت کر دے تو سب کو کفایت کر جائے اور کچھ نہ گھٹے۔ (عبدالرزاق)

ابن ابی حاتم میں ہے کہ حضور ﷺ نے جنت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جنتی ایک لقمہ اٹھائے گا اور اس کے دل میں خیال آئے گا کہ فلاں قسم کا کھانا ہوتا، چنانچہ وہ نوالہ اس کے منہ میں وہی چیز بن جائے گا جس کی اس نے خواہش کی تھی۔ پھر آپ ﷺ نے اسی آیت کی تلاوت کی۔ مسند احمد میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں سب سے ادنیٰ مرتبہ کے جنتی کے بالا خانے کی سات منزلیں ہوں گی

یہ چھٹی منزل میں ہوگا اور اس کے اوپر ساتویں ہوگی۔ اس کے تیس خادم ہوں گے جو صبح شام تین سوسونے کے برتنوں میں اس کے لئے طعام و شراب پیش کریں گے، ہر ایک میں الگ الگ قسم کا عجیب و غریب اور نہایت لذیذ کھانا ہوگا۔ اول سے آخر تک اسے کھانے کی اشتہا ویسی ہی رہے گی۔ اسی طرح تین سوسونے کے پیالوں اور کٹوروں اور گلاسوں میں اسے پینے کی چیزیں دی جائیں گی، وہ بھی ایک سے ایک بڑھ کر ہوگی۔ یہ کہے گا کہ خدایا! اگر تو مجھے اجازت دے تو میں تمام جنتیوں کی دعوت کروں، سب بھی اگر میرے ہاں کھا جائیں تو بھی میرے کھانے میں کمی نہیں آسکتی۔ اور اس کی بہتر (72) بیویاں حور عین میں سے ہوں گی۔ اور دنیا کی اور بیویاں الگ ہوں گی۔ ان میں سے ایک ایک میل بھر کی جگہ میں بیٹھے گی۔ پھر ساتھ ہی ان سے کہا جائے گا کہ یہ نعمتیں بھی بیٹھتی والی ہیں، اور تم بھی یہاں ہمیشہ ہی رہو گے نہ موت آئے نہ کھانا آئے، نہ جگہ بدلے، نہ تکلیف پہنچے، پھر ان پر اپنا فضل و احسان بتلایا جاتا ہے کہ تمہارے اعمال کا بدلہ میں نے اپنی وسیع رحمت سے تمہیں یہ دیا ہے کیونکہ کوئی شخص بغیر رحمت خدا تعالیٰ کے صرف اپنے اعمال کی بنا پر جنت میں نہیں جاسکتا۔ ہاں! البتہ جنت کے درجوں میں تفاوت جو ہوگا وہ نیک اعمال کے تفاوت کی وجہ سے ہوگا۔ (تفسیر ابن کثیر، جلد 5، صفحہ ۴۲)

### (۱۰۵) آپ ﷺ کی عجیب مناجات

مسند احمد میں ہے اُحد کے دن جب مشرکین ٹوٹ پڑے تو حضور ﷺ نے فرمایا، درنگی کے ساتھ ٹھیک ٹھاک ہو جاؤ تو میں اپنے رب عزوجل کی شایان کروں۔ پس لوگ آپ ﷺ کے پیچھے بیٹھے اور آپ ﷺ نے یہ دعا پڑھی:

﴿اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ اللَّهُمَّ لَا قَابِضَ لِمَا بَسَطْتَ وَلَا بَاسِطَ لِمَا قَبَضْتَ وَلَا هَادِيَ لِمَنْ أَضَلَلْتَ وَلَا مُضِلَّ لِمَنْ هَدَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعَرِّبَ لِمَا بَاعَدْتَ وَلَا مُبَاعِدَ لِمَا قَرَّبْتَ اللَّهُمَّ ابْسُطْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَفَضْلِكَ وَرِزْقِكَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ النِّعَمَ يَوْمَ الْعَيْلَةِ وَالْأَمْنِ يَوْمَ الْخَوْفِ اللَّهُمَّ إِنِّي عَابِدُكَ مِنْ شَرِّ مَا أَعْطَيْتَنَا وَمِنْ شَرِّ مَا مَنَعْتَنَا اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْإِيمَانَ وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِنَا وَكَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ وَأَجْعَلْنَا مِنَ الرَّشِيدِينَ اللَّهُمَّ تَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ وَأَحِبَّنَا مُسْلِمِينَ وَالْحَقُّنَا بِالصَّالِحِينَ غَيْرَ خَزَالِيَا وَلَا مُفْتَوِّلِينَ اللَّهُمَّ قَاتِلِ الْكُفْرَةَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ إِلَهُ الْحَقِّ﴾ (نسائی)

ترجمہ: ”یعنی تمام تعریفیں تیرے ہی لئے ہیں تو جسے کشادگی دے اسے کوئی حگ نہیں کر سکتا تو جسے گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا اور جسے تہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا جس سے تو روک لے اسے کوئی دے نہیں سکتا اور جسے تو دے اس سے کوئی باز رکھ نہیں سکتا جسے تو دور کر دے اسے قریب کرنے والا کوئی نہیں اور جسے تو قریب کر لے اسے دور کرنے والا کوئی نہیں، اے اللہ! ہم پر اپنی برکتیں، رحمتیں، فضل اور رزق کشادہ کر دے، اے اللہ! میں تجھ سے وہ بیٹھتی کی نعمتیں چاہتا ہوں جو نہ ادھر ادھر ہوں نہ زائل ہوں۔ خدایا! فقیری اور احتیاج والے دن مجھے اپنی نعمتیں عطا فرما اور خوف والے دن مجھے امن عطا فرما پروردگار! جو تو نے مجھے دے رکھا ہے اور جو نہیں دیا ان سب کی برائی ت میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اے میرے معبود! ہمارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دے اور اسے ہماری نظروں میں زینت دار بنا دے اور کفر، بدکاری اور نافرمانی سے ہمارے دلوں میں دوری اور عداوت پیدا کر دے اور ہمیں راہ یافتہ لوگوں میں کر دے۔ اے رب ہمارے! ہمیں اسلام کی حالت میں فوت کر اور اسلام پر ہی زندہ رکھ۔ اور نیک کار لوگوں سے ملا دے، ہم رسوا نہ ہوں، ہم فتنے میں نہ ڈالے جائیں۔ خدایا! ان کافروں کا ستیاناس کر جو تیرے رسولوں کو جھٹلائیں اور تیری راہ سے روکیں، تو ان پر اپنی سزا اور عذاب نازل فرما۔ اے نبی اہل کتاب کے کافروں کو بھی جاہ کر، اسے سچے معبود۔“

یہ حدیث امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنی کتاب "عمل الیوم واللیلہ" میں لائے ہیں۔ (تفسیر ابن کثیر، جلد ۵، صفحہ ۱۳۶، ۱۳۷)

﴿۱۰۶﴾ حق کے مطابق فیصلہ کیجئے، دو فرشتے ساتھ رہیں گے اور آپ کی رہبری کریں گے

حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایک مسلمان اور یہودی اپنے جھگڑے کا فیصلہ کروانے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ یہودی حق پر ہے تو آپ رضی اللہ عنہ نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ اس پر اس یہودی نے کہا، اللہ کی قسم! آپ رضی اللہ عنہ نے حق کا فیصلہ کیا ہے، اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے (خوشی میں ہلکا سا) کوڑا مارا اور فرمایا، تجھے کس طرح پتہ چلا (کہ حق کیا ہوتا ہے) اس پر یہودی نے کہا، اللہ کی قسم! ہمیں تو رات میں لکھا ہوا ملتا ہے کہ جو قاضی حق کا فیصلہ کرتا ہے اس کے دائیں جانب ایک فرشتہ اور بائیں جانب ایک فرشتہ ہوتا ہے جو اسے صحیح راستہ پر چلاتے ہیں اور اسے حق بات کا الہام کرتے ہیں جب تک وہ قاضی حق کا فیصلہ کرنے کا عزم رکھتا ہے۔ جب وہ یہ عزم چھوڑ دیتا ہے تو دونوں فرشتے اسے چھوڑ کر آسمان پر چڑھ جاتے ہیں۔ (حیاء الصحابہ، جلد ۲، صفحہ ۱۳۳)

﴿۱۰۷﴾ امارت کے خواہش مند اپنی خواہش کے انجام کو سوچیں

ہر امیر چاہے اچھا ہو یا برا جہنم کے پل پر کھڑا کیا جائے گا اور اسے طوق پہنایا جائے گا

حضرت ابو دائل شقیق بن سلمہ رضی اللہ عنہ کو ہوازن کے صدقات (وصول کرنے پر) عامل مقرر کیا لیکن حضرت بشر (ہوازن کے صدقات وصول کرنے) نہ گئے۔ ان سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ملاقات ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا تم (ہوازن) کیوں نہیں گئے؟ کیا ہماری بات کو سننا اور ماننا ضروری نہیں ہے؟ حضرت بشر نے کہا کیوں نہیں۔ لیکن میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جسے مسلمانوں کے کسی امر کا ذمہ دار بنایا گیا اسے قیامت کے دن لا کر جہنم کے پل پر کھڑا کر دیا جائے گا، اگر اس نے اپنی ذمہ داری کو اچھی طرح ادا کیا ہوگا تو وہ نجات پائے گا اور اگر اس نے ذمہ داری صحیح طرح ادا نہ کی ہوگی تو پل اسے لے کر ٹوٹ پڑے گا اور وہ ستر (70) برس تک جہنم میں گرنا چلا جائے گا۔ (یہ سن کر) حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت پریشان اور غمگین ہوئے اور وہاں سے چلے گئے۔ راستہ میں ان کی حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا، کیا بات ہے؟ میں آپ کو پریشان اور غمگین دیکھ رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں کیوں نہ پریشان اور غمگین ہوؤں جبکہ میں حضرت بشر بن عامر رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن چکا ہوں کہ جسے مسلمانوں کے کسی امر کا ذمہ دار بنایا گیا اسے قیامت کے دن لا کر جہنم کے پل پر کھڑا کر دیا جائے گا، اگر وہ (اس کا ذمہ دار بنانے میں) ٹھیک ہے تو (دوزخ سے) نجات پائے گا اور اگر وہ اس میں ٹھیک نہیں تو پل اسے لے کر ٹوٹ پڑے گا اور وہ ستر (70) برس تک جہنم میں گرنا چلا جائے گا اور وہ جہنم کالی اندھیری ہے۔ (آپ بتائیں کہ) ان دونوں حدیثوں میں سے کس حدیث کے سننے سے آپ کے دل کو زیادہ تکلیف ہوئی ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دونوں کے سننے سے میرے دل کو تکلیف ہوئی ہے؟ جب خلافت میں ایسا زبردست خطرہ ہے تو اسے کون قبول کرے گا؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا، اسے وہی قبول کرے گا جس کی ناک کاٹنے کا اور اس کے رخسار کو زمین سے ملانے کا یعنی اسے ذلیل کرنے کا اللہ نے ارادہ کیا ہو، بہر حال ہمارے علم کے مطابق آپ کی خلافت میں خیر ہی خیر ہے، ہاں! یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس خلافت کا ذمہ دار ایسے شخص کو بنا دیں جو اس میں عدل و انصاف سے کام نہ لے تو آپ بھی اس کے گناہ سے نہ بچ سکیں گے۔

(حیاء الصحابہ، جلد ۲، صفحہ ۸۰)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر امیر و حاکم خواہ وہ دس ہی آدمیوں کا امیر و حاکم کیوں نہ ہو قیامت کے دن اس طرح لایا جائے گا کہ اس کی گردن میں طوق ہوگا یہاں تک کہ اس طوق سے یا تو اس کا عدل نجات دلائے گا یا اس کا ظلم ہلاک



کرے گا۔ (دہلی)

مطلب یہ ہے کہ ایک بار تو ہر حاکم کو خواہ وہ عادل ہو یا ظالم، بارگاہ رب العزت میں باندھ کر لایا جائے گا اور پھر تحقیق کے بعد اگر وہ عادل ثابت ہو تو اس کو نجات دے دی جائے گی اور اگر ظالم ثابت ہوگا تو ہلاکت یعنی عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ (مظاہر حق جدید، جلد ۴، صفحہ ۴۳۶)

### (۱۰۸) شیطان کی تصویر بنا دیجئے

جاہظ ایک بہت معروف ادیب گزرا ہے، اس کا نام ابو عثمان بن بحرین محبوب تھا، یہ معتزلی تھا، اس کی شکل و صورت بہت ہی بُری اور خوفناک تھی، گویا یہ بد صورتی کے اعلیٰ درجہ پر فائز تھا، اس کا عقیدہ بھی درست نہیں تھا، البتہ علم و فن میں اس کی مثال خال خال ہی نظر آتی ہے۔ اس نے بہت سے علوم سیکھ رکھے تھے، چنانچہ اس نے بہت سی مفید کتابیں تصنیف کیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ وہ غیر معمولی حافظے کا مالک تھا۔ اس کی لکھی ہوئی کتاب میں دو کتابیں۔ ”کتاب السموات“ اور ”السموات والارضین“ بہت ہی مشہور ہیں۔ اس کے بارے میں یہ بات تاریخ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ:

﴿لَمَّا يَلْقَى بِيَدِهِ كِتَابٌ قَطُّ إِلَّا لَسْتُ أَقْرَأُ لَهُ حَتَّى يَفِيَهُ كَلَامًا يَكْتُمِي دَكَاكِمِينَ الْكُتُبِينَ وَبِمَتُّ فِيهَا لِلْمَطَالَعَةِ﴾

ترجمہ: ”جو کتاب بھی اس کے ہاتھ لگی وہ اسے مکمل پڑھ ڈالتا، بلکہ اس کا شوق مطالعہ اس حد تک تھا کہ وہ کتب فروشوں کی دکانیں اجرت پر لے کر رات بھر ان میں مطالعہ کرتا۔“

چہرہ تو اس کا بڑا بد صورت اور بد شکل تھا مگر مستحکم علم نے اسے خوب صورت بنا دیا تھا، آج بھی وہ اپنے علم کے سبب تاریخ و ادب کی کتابوں میں زندہ ہے۔ اس کی بد صورتی کے متعلق ایک واقعہ معروف ہے جو ایک خاتون کے ساتھ پیش آیا تھا۔ جاہظ کا اہنایمان ہے:

﴿مِمَّا أُخْبِلْتَنِي قَطُّ إِلَّا امْرَأَةً مَرَّتْ بِي إِلَى صَاحِبٍ، فَلَاكْتُ لَهُ: اِعْمَلْ مِثْلَ هَذَا﴾

ترجمہ: ”مجھے ایک عورت کے سوا کبھی کسی عورت نے رسوا نہیں کیا۔ ہوا یہ کہ وہ عورت مجھے ایک سنار کے پاس لے گئی اور اس سے کہنے لگی: اس کی طرح بنا دو۔“

یہ کہہ کر وہ عورت تو چلی گئی مگر میں حیرت میں پڑ گیا۔ پھر میں نے زرگر سے پوچھا: یہ عورت تم سے میرے بارے میں کیا کہہ کر چلی گئی؟ زرگر نے جواب دیا:

﴿هَذِهِ امْرَأَةٌ أَرَادَتْ أَنْ أَعْمَلَ لَهَا صُورَةَ شَيْطَانٍ، فَقُلْتُ: لَا أَدْرِي كَيْفَ أُصَوِّرُهَا، فَكَلَّتْ بِكَ إِلَى أُصُورَةَ عَلِيٍّ صُورَتِكَ﴾

ترجمہ: ”اس عورت نے (اپنی انگوٹھی پر) مجھ سے شیطان کی تصویر بنانے کی خواہش کی۔ میں نے اس سے کہا کہ جب میں نے کسی شیطان کو دیکھا ہی نہیں ہے تو بھلا اس کی شکل کیسے بنا سکتا ہوں؟ چنانچہ وہ آپ کو میرے پاس لے کر آئی تاکہ آپ کی صورت دیکھ کر اس کے لئے (اس کی انگوٹھی پر) شیطان کی تصویر نقش کروں۔“

(المسطفی: ۲۸/۱، جاہظ کی سوانح کے لیے دیکھئے: سیر اعلام النبلاء، ۵۲۶/۱۱، معجم الادباء، ۳۱۰/۵، البدایہ والنہایہ، ۵۱۳/۱۳، دار الجفر)

### (۱۰۹) میاں بیوی کی شکر رنجی اگر ہو تو باوقار ہو

ہر گھر میں بعض اوقات شکر رنجیاں ہو جاتی ہیں۔ میاں بیوی میں بھی کبھی کبھار غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں، بعض اوقات بیوی خاوند سے ناراض اور بسا اوقات خاوند کو بیوی سے شکوہ۔ کائنات کے سب سے بہترین گھرانے میں بھی بعض اوقات ایسی شکر رنجیاں پیدا ہو جاتی تھیں۔ ان کا اظہار کیسے ہوا؟ آئیے ایک حدیث پڑھتے ہیں، اس کے مطالعے کے بعد بہت سے امور آپ کے علم میں آئیں گے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اکرم ﷺ نے مجھ سے فرمایا:

﴿إِنِّي لَأَعْلَمُ إِذَا كُنْتُ عَنِّي رَاضِيَةٌ وَإِنَّا كُنْتُ عَلَيَّ غَضَبِي﴾

ترجمہ: ”جب تم مجھ سے خوش ہوتی رہو تو مجھے معلوم ہو جاتا ہے اور جب ناراض ہوتی ہو تو مجھ سے کبھی نہیں سمجھ جاتا ہوں۔“

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا:

﴿مِنْ أَيْنَ تَعْرِفُ ذَلِكَ﴾

ترجمہ: ”آپ ﷺ کیسے یہ سمجھ جاتے ہیں۔“

حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا:

﴿لَمَّا إِذَا كُنْتُ عَنِّي عَنِّي رَاضِيَةٌ فَإِنَّكَ تَكُولِينَ: لَا وَرَبِّ مُحَمَّدٍ، وَإِنَّا كُنْتُ غَضَبِي قُلْتُ: لَا وَرَبِّ إِبْرَاهِيمَ﴾

ترجمہ: ”جب تم مجھ سے خوش رہتی ہو تو کہتی ہو: محمد (ﷺ) کے رب کی قسم، اور جب مجھ سے ناخوش ہوتی ہو تو کہتی ہو:

ابراہیم (علیہ السلام) کے رب کی قسم!“

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا:

﴿أَجَلٌ وَاللَّهِ! يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا أَهْجُرُ إِلَّا اسْمَكَ﴾

ترجمہ: ”بالکل درست فرمایا آپ نے اے اللہ کے رسول ﷺ میں قسم کھاتے وقت صرف آپ کا نام چھوڑ دیتی ہوں۔“

دیکھئے! انکھار ناراضی کا کتنا لطیف انداز ہے اور یہی کے مزاج کو اللہ کے رسول ﷺ کس قدر گہرائی میں جا کر سمجھ لیتے ہیں۔

حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ بڑے لوگوں کی شکر رنجی کے انداز بھی نرالے اور باوقار ہوتے ہیں۔

### ﴿۱۱۰﴾ باندی کی حاضر دماغی سے سیٹھ بچ گیا

مدائنی بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ عبداللہ بن زیاد گھڑ سواروں کے ساتھ نکلا۔ گھڑ سواروں نے ایک آدمی کو دیکھا جس کے ساتھ ایک لوٹھی بھی تھی۔ وہ لوٹھی انتہائی حسین و جمیل تھی۔ گھڑ سواروں نے اس آدمی کو دھمکی آمیز لہجے میں پکارا: اس لوٹھی کو ہمارے حوالے کر دو۔ اس آدمی کے پاس ایک کمان تھی۔ اس نے گھڑ سواروں میں سے ایک آدمی کو دے ماری جس سے کمان کی تانت ٹوٹ گئی اور گھڑ سواروں کو طیش آ گیا۔ چنانچہ اسے پکڑنے کے لیے سارے ہی گھڑ سوار اس پر ٹوٹ پڑے اور اس سے لوٹھی کو چھین لیا، وہ آدمی اپنی جان بچا کر ان سے بھاگ نکلا۔ چونکہ گھڑ سواروں کی توجہ کامرکز لوٹھی ہی تھی، اس لئے آدمی سے ان کی توجہ ہٹ گئی۔

گھڑ سواروں میں سے ایک شخص نے لوٹھی کے کان کی بالی کو غور سے دیکھا تو بالی میں ایک بہت ہی نادر اور بیش قیمت موتی نظر آیا۔ لوٹھی کہنے لگی: یہ موتی کوئی بڑی قیمت نہیں رکھتا، اگر تم اس آدمی کی ٹوپی کو کھول کر دیکھتے تو تمہیں اندازہ ہوتا کہ کس قدر بیش قیمت موتی اس نے چھپا رکھے ہیں۔ ان موتیوں کے مقابلے میں تو اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ یہ سننا تھا کہ سارے گھڑ سوار اس آدمی کے پیچھے دوڑ پڑے اور جب اس کے قریب پہنچے پاؤں بلند کہنے لگے: جو کچھ تمہاری ٹوپی میں ہے اسے ہمارے حوالے کر دو، ہم تمہاری جان چھوڑ دیں گے۔

اس آدمی کی ٹوپی میں کمان کی ایک تانت تھی، جسے اس نے بطور احتیاط چھپا رکھا تھا، تاکہ بوقت ضرورت کام آئے مگر مارے خوف و دہشت کے اسے یاد نہیں آ رہا تھا کہ اس کے پاس تانت موجود ہے۔ جس کو کمان پر چڑھا کر دشمنوں سے مقابلہ کیا جاسکتا ہے۔ گھڑ سواروں نے جب ٹوپی کے اندر کا سامان طلب کیا تو فوراً اسے یاد آ گیا کہ میں نے تو کمان کی تانت ٹوپی کے اندر چھپا رکھی ہے۔ وہ ہوشیار ہو گیا اور ٹوپی سے تانت نکال کر کمان پر چڑھائی اور پھر گھڑ سواروں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ جب گھڑ سواروں نے اس کی یہ جرأت مندانہ کیفیت

دیسی تو پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے اور لوٹڈی کو چھوڑ دیا۔ (الجلد العربیہ: ۹۷-۷۵۵، نساء ذکیات جلد: ۱۱۸)

اس طرح لوٹڈی کی حاضر دماغی نے ابن زیاد کے آدمیوں کو ناکام کر دیا۔

### ﴿۱۱۱﴾ ہر ہر قدم پر سال بھر کے روزے اور سال بھر تہجد کا ثواب لینے کا نبوی نسخہ

سنن اربعہ میں ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن اچھی طرح غسل کرے اور سویرے سے ہی مسجد کی طرف چل دے، پیدل جائے سوار نہ ہو اور امام سے قریب ہو کر بیٹھے خطبے کو کان لگا کر سنے، لغو نہ کرے تو اسے ہر ہر قدم کے بدلے سال بھر کے روزوں اور سال بھر کے قیام کا ثواب ہے۔ (تفسیر ابن کثیر، جلد ۵، صفحہ ۲۵۷)

### ﴿۱۱۲﴾ بچوں کے ساتھ جھوٹا وعدہ کبھی مت کیجئے

مسند احمد اور ابوداؤد میں حضرت عبداللہ بن عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ میں اس وقت چھوٹا بچہ تھا کھیل کود کے لئے جانے لگا تو میری والدہ نے مجھے آواز دے کر کہا ادھر آ کچھ دوں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ دینا بھی چاہتی ہو؟ میری والدہ نے کہا، ہاں! حضور مجھ کو دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پھر تو خیر، ورنہ یاد رکھو کچھ نہ دینے کا ارادہ ہوتا اور یوں ہی کہتیں تو تم پر ایک جھوٹ لکھا جاتا۔ حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب وعدہ کے ساتھ کئے ہوئے کی تاکید کا تعلق ہے تو اس وعدے کو وفا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ مثلاً کسی شخص نے کسی سے کہہ دیا کہ تو نکاح کر لے اور اتنا اتنا ہر روز میں تجھے دیتا رہوں گا۔ اس نے نکاح کر لیا تو جب تک نکاح باقی ہے اس شخص پر واجب ہے کہ اسے اپنے وعدے کے مطابق دیتا رہے اس لئے کہ اس میں آدمی کے حق کا تعلق ثابت ہو گیا جس پر اس سے باز پرس سختی کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ (تفسیر ابن کثیر، جلد ۵، صفحہ ۲۴۴)

### ﴿۱۱۳﴾ دو جمعہ یعنی ایک ہفتے کے گناہ معاف کرانے کا نبوی نسخہ

مسند احمد میں ہے جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور اپنے گھر والوں کے خوشبو ملے اگر ہو اور اچھا لباس پہنے، پھر مسجد میں آئے اور کچھ نوافل پڑھے اگر جی چاہے اور کسی کو ایذا نہ دے (یعنی گردنیں پھلانگ کر نہ آئے نہ کسی بیٹھے ہوئے کو ہٹائے) پھر جب امام آ جائے اور خطبہ شروع ہو خاموشی سے سنے تو اس کے گناہ جو اس جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک کے ہوں سب کا کفارہ ہو جاتا ہے۔

(تفسیر ابن کثیر، جلد ۵، صفحہ ۲۵۷)

### ﴿۱۱۴﴾ اپنے دل کی محراب کو رذائل سے بچائیے

مسند احمد میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے مروی ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو! ابھی ایک جنتی شخص آنے والا ہے۔ تھوڑی دیر میں ایک انصاری رضی اللہ عنہ اپنے بائیں ہاتھ میں اپنی جوتیاں لئے ہوئے تازہ دھوکہ کے آ رہے تھے۔ ڈاڑھی پر سے پانی ٹپک رہا تھا۔ دوسرے دن بھی اسی طرح ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا اور وہی شخص اسی طرح آئے۔ تیسرے دن بھی یہی ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما آج دیکھتے بھالتے رہے اور جب مجلس نبوی ختم ہوئی اور یہ بزرگ وہاں سے اٹھ کر چلے تو یہ بھی ان کے پیچھے ہوئے اور ان انصاری سے کہنے لگے کہ حضرت مجھ میں اور میرے والد میں کچھ تکرار ہو گئی جس پر میں قسم کھا بیٹھا ہوں کہ تین دن تک اپنے گھر نہ جاؤں گا، پس اگر آپ مہربانی فرما کر مجھے اجازت دیں تو میں یہ تین دن آپ کے یہاں گزار دوں۔ انہوں نے کہا بہت اچھا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ نے یہ تین راتیں ان کے گھر ان کے ساتھ گزاریں، دیکھا کہ وہ رات کو تہجد کی لمبی نماز بھی نہیں پڑھتے، صرف اتنا کرتے ہیں کہ جب آنکھ کھلے اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کی بڑائی اپنے بستر پر ہی لیٹے لیٹے کر

لیتے ہیں، یہاں تک کہ صبح کی نماز کے لئے انہیں۔ ہاں یہ ضروری بات تھی کہ میں نے ان کے منہ سے سوائے لکھنؤ خیر کے اور کچھ نہیں سنا۔ جب تین راتیں گزر گئیں تو مجھے ان کا عمل بہت ہی ہلکا سا معلوم ہونے لگا۔ اب میں نے ان سے کہا کہ حضرت! دراصل نہ تو میرے اور میرے والد کے درمیان کوئی ایسی بات ہوئی تھی، نہ میں نے ناراضگی کے باعث گھر چھوڑا تھا بلکہ واقعہ یہ ہوا کہ تین مرتبہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ ابھی ایک جنتی شخص آرہا ہے اور تینوں مرتبہ آپ ہی آئے تو میں نے ارادہ کیا کہ آپ کی خدمت میں کچھ دن رہ کر دیکھوں تو سہمی کہ آپ ایسی کون سی عبادت کرتے ہیں جو جیتے جی بہ زبان رسول ﷺ آپ کے جنتی ہونے کی یقینی خبر ہم تک پہنچ گئی۔ چنانچہ میں نے یہ بہانہ کیا اور تین رات آپ کی خدمت میں رہا تا کہ آپ کے اعمال دیکھ کر میں بھی ویسے ہی عمل شروع کر دوں لیکن میں نے تو آپ کو نہ تو کوئی نیا اور اہم عمل کرتے ہوئے دیکھا، نہ عبادت میں ہی اوروں سے زیادہ بڑھا ہوا دیکھا۔ اب جا رہا ہوں لیکن بہ زبانی ایک سوال ہے کہ آپ ہی بتائیے آخر وہ کون سا عمل ہے جس نے آپ کو خیر خدا ﷺ کی زبانی جنتی بتایا؟ آپ نے فرمایا: بس تم میرے اعمال کو دیکھ چکے ان کے سوا اور کوئی خاص پوشیدہ عمل تو ہے نہیں۔ چنانچہ ان سے رخصت ہو کر چلا، تھوڑی دور نکلا تھا جو انہوں نے مجھے آواز دی اور فرمایا، ہاں! میرا ایک عمل سنتے جاؤ وہ یہ کہ میرے دل میں کبھی کسی مسلمان سے دھوکہ بازی، حسد اور بغض کا ارادہ بھی نہیں ہوا، میں کبھی کسی مسلمان کا بد خواہ نہیں بنا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر فرمایا کہ بس اب معلوم ہو گیا، اسی عمل نے آپ کو اس درجہ تک پہنچایا اور یہی وہ چیز ہے جو ہر ایک کے بس کی نہیں۔ امام نسائی نے اپنی عمل الیوم واللیلۃ میں اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ (تفسیر ابن کثیر، جلد ۵، صفحہ ۳۱۷)

### (۱۱۵) حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک آیت سن کر مہینہ بھر بیمار رہے

ابن ابی الدنیا میں ہے کہ رات حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ شہر کی دیکھ بھال کے لیے نکلے تو ایک مکان سے کسی مسلمان کی قرآن خوانی کی آواز کان میں پڑی، وہ سورہ والطور پڑھ رہے تھے۔ آپ نے سواری روک لی اور کھڑے ہو کر قرآن سننے لگے۔ جب وہ آیت:

﴿إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَّا لَهُ مِنْ دَافِعٍ﴾

ترجمہ: ”بے شک تیرے رب کا عذاب ہو کر رہنے والا ہے اسے کوئی روک سکنے والا نہیں۔“

پر پہنچے تو زبان سے نکل گیا کہ رب کعبہ کی قسم! اچھی ہے۔ پھر اپنے گدھے سے اتر پڑے، اور دیوار سے ٹکیر لگا کر بیٹھ گئے، چلنے پھرنے کی طاقت نہ رہی، دیر تک بیٹھے رہنے کے بعد جب ہوش و حواس ٹھکانے آئے تو اپنے گھر پہنچے لیکن خدا کے کلام کی اس ڈراؤنی آیت کے اثر سے دل کی کمزوری کی یہ حالت تھی کہ مہینہ بھر تک بیمار پڑے رہے اور ایسے کہ لوگ بیمار پرسی کو آتے تھے گو کسی کو معلوم نہ تھا کہ بیماری کیا ہے؟ ایک روایت میں ہے، آپ کی تلاوت میں ایک مرتبہ یہ مذکورہ آیت آئی، اسی وقت ہنگلی بندھ گئی اور اس قدر قلب پر اثر پڑا کہ بیمار ہو گئے، چنانچہ بیس دن تک عبادت کی جاتی رہی۔ (تفسیر ابن کثیر، جلد ۵، صفحہ ۱۸۹)

### (۱۱۶) قیامت کے دن آسمان تھر تھرائے گا، پھٹ جائے گا، چکر کھانے لگے گا

قیامت کے دن آسمان تھر تھرائے گا، پھٹ جائے گا، چکر کھانے لگے گا، پہاڑ اپنی جگہ سے مل جائیں گے، ادھر ادھر ہو جائیں گے، کانپ کانپ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر پھر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، آخر روٹی کے گالوں کی طرح ادھر ادھر اڑ جائیں گے اور بے نام و نشان ہو جائیں گے اس دن ان لوگوں پر جو اس دن کو نہ مانتے تھے وہیل وحسرت خرابی اور ہلاکت ہوگی، خدا کا عذاب فرشتوں کی مار، جہنم کی آگ ان کے لیے ہوگی جو دنیا میں مشغول تھے، اور دین کو ایک کھیل تماشہ مقرر کر رکھا تھا، اس دن انہیں دھکے دے کر نار جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا اور داروغہ جہنم ان سے کہیں گے یہ وہ جہنم ہے جسے تم نہیں مانتے تھے، پھر مزید ڈانٹ ڈپٹ کے طور پر کہیں گے، اب بولو کیا یہ جادو ہے یا تم اندھے ہو؟ جادو اس میں ڈوب جاؤ یہ تمہیں چاروں طرف سے گھیر لے گی اب اس کے عذاب کی تمہیں سہارا ہو یا نہ ہو، ہائے

ہائے کرو خواہ خاموش رہو، اس میں پڑے جھلتے رہو گے، کوئی ترکیب فائدہ نہ دے گی، کسی طرح چھوٹ نہ سکو گے، یہ خدا کا عظیم نہیں بلکہ صرف تمہارے اعمال بد کا بدلہ ہے۔ (تفسیر ابن کثیر، جلد ۵، صفحہ ۱۸۹)

## (۱۱۷) اسلام قبول کرنے کے بعد کیا زمانہ کفر کی نیکیاں قبول ہو سکتی ہیں یا نہیں

مکرم و محترم!

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

بعد اسلام عرض ہے کہ میں نو مسلم عورت ہوں، اسلام سے پہلے حالت کفر میں میں بہت کار خیر کر چکی ہوں، پانی کی سیل میں نے مسافروں کے لئے بنائی ہے، فقراء و محتاج لوگوں کی بہت امداد کی ہے، عزیز و اقارب سے حسن سلوک نبھایا ہے، قیدیوں کو قید سے رہا کرنے میں اپنی حسن تدبیر انجام دی ہے وغیرہ تو کیا بعد قبول اسلام ان اعمال خیر کا مجھ کو اجر و ثواب ملے گا، برائے کرم جواب دے کر اخروی خوشی کا موقع دیجئے۔

نظروالسلام

آپ کی دینی بہن

مریم

## (۱۱۸) جواب خط

آپ روایت سنئے۔ حضرت حکیم بن حزام سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا، یا رسول اللہ ﷺ فرمائیے میرے وہ نیک کام جو میں زمانہ جاہلیت میں کیا کرتا تھا جیسے صدقہ، غلام آزاد کرنا اور عزیزوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا کیا ان کا بھی مجھ کو ثواب ملے گا۔ آپ ﷺ نے فرمایا تم جتنی نیکیاں پہلے کر چکے ہو، ان سب کے ساتھ مسلمان ہوئے ہو (یعنی ان کا بھی ثواب ملے گا) (بخاری، مسلم، مستدرک)

اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ کافر کے نیک عمل اسلام کے بعد معتبر ہو سکتے ہیں۔ (ترجمان السنن، جلد ۲، صفحہ ۳۱۹)

## (۱۱۹) اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے بندے مجھے ڈھونڈنا کہ تو مجھے پالے

بعض آسمانی کتابوں میں ہے اے ابن آدم! میں نے تجھے اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے پس تو اس سے غفلت نہ کر، تیرے رزق کا میں ضامن ہوں تو اس میں بے جا تکلف نہ کر، مجھے ڈھونڈنا کہ مجھے پالے، جب تو نے مجھے پالیا تو یقین مان کہ تو نے سب کچھ پالیا۔ اور اگر میں تجھے نہ ملا تو سمجھ لے کہ تمام بھلائیاں تو کھو چکا۔ سن تمام چیزوں سے زیادہ محبت تیرے دل میں میری ہونی چاہئے۔

(تفسیر ابن کثیر، جلد ۵، صفحہ ۱۸۶)

## (۱۲۰) جہنم کا خطرناک ساحل

جیسے سمندر کا ساحل ہوتا ہے ایسے ہی جہنم کا بھی ساحل ہے، وہاں کیڑے ککوڑے، حشرات الارض اور کجور کے درخت جتنے لمبے سانپ اور خچر کے برابر بچھو ہیں، جب جہنم والے اللہ سے فریاد کریں گے کہ ہمارا جہنم کا عذاب ہلکا کر دیا جائے تو ان سے کہا جائے گا کہ جہنم سے نکل کر ساحل پر چلے جاؤ وہ نکل کر وہاں آئیں گے تو وہ کیڑے ککوڑے، حشرات الارض ان کے ہونٹوں، چہروں اور دوسرے اعضاء کو پکڑ لیں گے اور انہیں نوچ کھائیں گے تو اب وہ یہ فریاد کرنے لگیں کہ ہمیں ان سے چھڑایا جائے اور جہنم میں واپس جانے دیا جائے اور جہنم والوں پر خارش کا عذاب بھی مسلط کیا جائے گا اور جہنمی اتنا کھجائے گا کہ اس کی ہڈی ٹگی ہو جائے گی، فرشتہ کہے گا، اے

فلانے! کیا تجھے اس خارش سے تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ کہے گا، ہاں۔ فرشتہ کہے گا تو جو مسلمانوں کو تکلیف دیا کرتا تھا یہ اس کے بدلہ میں ہے۔ (حیات الصحاب، جلد ۱، صفحہ ۵۵۱)

### (۱۲۱) مسجدوں کو دلہن نہ بنائیے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب تم اپنی مسجدوں کو دلہن بنا دو اور قرآنوں کو سجادوں پس تمہاری ہلاکت ہے۔ (علیہ الاولیاء، اصلاحی مضامین، صفحہ ۸۷)

### (۱۲۲) نہر کوثر کا تذکرہ پڑھ لیجئے

مسند کی ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کر کے فرمایا کہ مجھے کوثر عنایت کی گئی ہے جو ایک جاری نہر ہے لیکن گڑھا نہیں ہے اس کے دونوں کنارے موتی کے خیمے ہیں، اس کی مٹی خالص مشک ہے، اس کے کنکر بھی سچے موتی ہیں، اور روایت میں ہے کہ معراج والی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان پر جنت میں اس نہر کو دیکھا اور جبرئیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون سی نہر ہے؟ تو حضرت جبرئیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ کوچہ ہے جو خدا تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ اور اس قسم کی بہت سی حدیثیں ہیں اور بہت سی ہم نے سورہ اسراء کی تفسیر میں بیان بھی کر دی ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے جس کے کنارے دراز گردن والے پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر فرمایا، وہ پرندے تو بہت ہی خوبصورت ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کھانے میں بھی وہ بہت لذیذ ہیں۔ (ابن جریر)

اور روایت میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کوثر کیا ہے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان پرندوں کی نسبت یہ فرمایا۔ (مسند احمد)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ یہ نہر پتھروں سے جنت کے ہے۔ ایک منقطع سند سے حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ کوثر کے پانی کے گرنے کی آواز جو سنتا چاہے وہ اپنے دونوں کانوں میں اپنی دونوں انگلیاں ڈال لے۔ (تفسیر ابن کثیر، جلد ۵، صفحہ ۶۰۴)

### (۱۲۳) جنت میں بڑے بڑے شاپنگ سینٹر اور مول ہوں گے

حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ملاقات ہوئی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہم دونوں کو جنت کے بازار میں ملائے۔ جس پر حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا جنت میں بھی بازار ہوں گے؟ فرمایا: ہاں! مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے اور اپنے اپنے مراتب کے مطابق درجے پائیں گے تو دنیا کے اندازے سے جمعہ والے دن انہیں ایک جگہ جمع ہونے کی اجازت ملے گی۔ جب سب جمع ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر تجلی فرمائے گا اس کا عرش ظاہر ہوگا۔ وہ سب جنت کے باغیچے میں نور کے اور لؤلؤ اور یاقوت کے اور زبرجد (زمررد) اور سونے چاندی کے منبروں پر بیٹھیں گے۔ بعض اور جو نیکیوں کے اعتبار سے کم درجے کے ہیں لیکن جنتی ہونے کے اعتبار سے کوئی کسی سے کمتر نہیں۔ وہ مشک کے اور کافور کے ٹیلوں پر ہوں گے، لیکن اپنی جگہ اتنے خوش ہوں گے کہ کرسی والوں کو اپنے سے افضل مجلس میں نہیں جانتے ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں! ہاں! دیکھو گے۔ آدھے دن کے سورج اور چودھویں رات کے چاند کو جس طرح صاف دیکھتے ہو اسی طرح خدائے تعالیٰ کو دیکھو گے۔ اس مجلس میں ایک ایک سے اللہ تبارک و تعالیٰ بات چیت کرے گا یہاں تک کہ کسی سے فرمائے گا، یاد ہے فلاں دن تم نے فلاں کام میرے خلاف کیا تھا۔ وہ کہے گا کیوں جناب اباری! تو تو وہ خطا

معاف کر چکا تھا پھر اس کا ذکر، کہے گا ہاں ٹھیک ہے اسی میری مغفرت کی وسعت کی وجہ سے ہی تو تو اس درجے پر پہنچا۔ یہ اسی حالت میں ہوں گے انہیں ایک بادل ڈھانپ لے گا اور اس سے ایسی خوشبو برے گی کہ کبھی کسی نے نہیں سونگھی تھی۔ پھر رب العالمین عزوجل فرمائے گا کہ اٹھو اور میں نے جو انعام و اکرام تمہارے لئے تیار کر رکھے ہیں انہیں لو۔ پھر یہ سب ایک بازار میں پہنچیں گے جسے چاروں طرف سے فرشتے گھیرے ہوئے ہوں گے وہاں وہ چیزیں دیکھیں گے جو نہ کبھی دیکھی تھیں نہ کسی تھیں، نہ کبھی خیال میں گزری تھیں، جو شخص جو چیز چاہے گا لے گا، خرید و فروخت وہاں نہ ہوگی، بلکہ انعام ہوگا، وہاں تمام المل جنت ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے۔ ایک کم درجے کا جنتی اعلیٰ درجے کے جنتی سے ملاقات کرے گا تو اس کے لباس وغیرہ دیکھ کر جی میں خیال کرے گا، وہیں اپنے جسم کی طرف دیکھے گا کہ اُس سے بھی اچھے کپرے اس کے ہیں، کیونکہ وہاں کسی کو کوئی رنج و غم نہ ہوگا۔ اب ہم سب لوٹ کر اپنی اپنی منزلوں میں جائیں گے، وہاں ہماری بیویاں ہمیں مرحبا کہیں گے اور کہیں گی کہ جس وقت آپ یہاں سے گئے تھے تب یہ تروتازگی اور یہ نورانیت آپ میں نہ تھی لیکن اس وقت تو جمال و خوبی اور خوشبو اور تازگی بہت ہی بڑھی ہوئی ہے۔ یہ جواب دیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم آج خدائے تعالیٰ کی مجلس میں تھے اور یقیناً ہم بہت ہی بڑھ چڑھ گئے۔ (تفسیر ابن کثیر، جلد ۴، صفحہ ۴۹۵)

### ﴿۱۲۴﴾ عرش کے اٹھانے والے فرشتے مندرجہ ذیل تسبیح پڑھتے رہتے ہیں

حضرت شہر بن حوشب رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ حاملان عرش آٹھ ہیں، جن میں سے چار کی تسبیح تو یہ ہے:

﴿سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَكَ الْحَمْدُ عَلَىٰ جَلْمِكَ بَعْدَ عِلْمِكَ﴾

ترجمہ: ”یعنی اے پارکی تعالیٰ تیری پاک ذات ہی کے لیے ہر طرح کی حمد و ثنا ہے کہ تو باوجود علم کے پھر بُدباری اور حلم کرتا ہے۔“ اور دوسرے چار کی تسبیح یہ ہے:

﴿سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَكَ الْحَمْدُ عَلَىٰ عَفْوِكَ بَعْدَ قُدْرَتِكَ﴾

ترجمہ: ”یعنی اے اللہ! قدرت کے باوجود تو جو معافی اور درگزر کرتا رہتا ہے اس پر ہم تیری پاکیزگی اور تعریف بیان کرتے ہیں۔“

(تفسیر ابن کثیر، جلد ۴، صفحہ ۴۹۲)

### ﴿۱۲۵﴾ ایک بزرگ کو ایک جن نے بڑی عجیب نصیحت کی

ابن ابی حاتم میں ہے، ایک بزرگ فرماتے ہیں میں ملک روم میں کافروں کے ہاتھوں میں گرفتار ہو گیا تھا، ایک دن میں نے سنا کہ ہاتھ غیب ایک پہاڑ کی چوٹی سے بہ آواز بلند کہہ رہا ہے، خدایا! اُس پر تعجب ہے جو تجھے پہچانتے ہوئے بھی تیرے سوا دوسرے کی ذات نے اُمیدیں وابستہ رکھتا ہے۔ خدایا! اُس پر بھی تعجب ہے جو تجھے پہچانتے ہوئے اپنی حالتیں دوروں کے پاس لے جاتا ہے۔ پھر ذرا ٹھہر کر ایک پر زور آواز لگائی اور کہا، پورا تعجب اس پر ہے جو تجھے پہچانتے ہوئے دوسروں کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے وہ کام کرتا ہے جن سے تو ناراض ہو جائے۔ یہ سن کر میں نے بلند آواز سے پوچھا کہ تو کوئی جن ہے یا انسان؟ جواب آیا کہ انسان ہوں۔ تو اُن کاموں سے اپنا دھیان ہٹالے جو تجھے فائدہ نہ دیں، اور ان کاموں میں مشغول ہو جا جو تیرے فائدے کے ہیں۔ (تفسیر ابن کثیر، جلد ۴، صفحہ ۴۷۷)

### ﴿۱۲۶﴾ ایک بڑے میاں نے حضور ﷺ سے عجیب سوال کیا

ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک بوڑھا شخص لکڑی ٹیکتا ہوا آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ میرے چھوٹے موٹے گناہ بہت سارے ہیں کیا مجھے بھی بخشا جائے گا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: یا تو خدا کی توحید کی گواہی نہیں دیتا؟ اس نے کہا: ہاں! اور آپ ﷺ کی رسالت کی گواہی بھی دیتا ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: تیرے چھوٹے موٹے گناہ معاف ہیں۔ (تفسیر ابن کثیر، جلد ۴، صفحہ ۴۳۴)

## ﴿ ۱۲۷ ﴾ چہرہ پردہ میں داخل ہے یا نہیں؟

سورۃ احزاب میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿يُنِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقِينَ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقَلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ (سورۃ احزاب، آیت: ۳۳، ۳۴)

ترجمہ: ”اے نبی (ﷺ) کی بیویو! تم معمولی عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم تقویٰ اختیار کرو۔ پس تم (نامحرم مرد سے) بولنے میں (جبکہ ضرورتاً بولنا پڑے) نزاکت مت کرو، کیونکہ اس سے ایسے شخص کو میلان قلبی ہو جائے گا جس کے دل میں روگ ہو (بلکہ تم قاعدہ کے موافق بات کرو) (جیسے پاکہاز عورتیں اختیار کرتی ہیں) اور تم اپنے گھروں میں رہو اور زمانہ قدیم کی جہالت کے مطابق مت پھرو اور تم نماز کی پابندی رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ اور اس کے رسول (ﷺ) کی فرمانبرداری کرو۔“

ان آیات میں اول تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ کسی غیر محرم سے ضرورتاً اگر بات کرنی پڑے تو گفتگو کے انداز میں نزاکت اور لہجہ میں جا ذہیت نہ ہو جس طرح چال ڈھال اور رفتار کے انداز سے دل کھینچتے ہیں۔ اسی طرح گفتار کے نزاکت والے لہجہ کی طرف بھی کشش ہوتی ہے، عورت کی آواز میں طبعی اور فطری طور پر نرمی اور لہجہ میں دلکشی ہوتی ہے۔ پاک نفس عورتوں کی یہ شان ہے کہ غیر مردوں سے بات کرنے میں بہ تکلف ایسا لب و لہجہ اختیار کریں جس میں خشونت اور روکھا پن ہوتا کہ کسی بد باطن کا قلبی میلان نہ ہونے پائے۔

دوسرا حکم یہ ارشاد فرمایا کہ تم اپنے گھروں میں رہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ عورتوں کے لئے شب و روز گزارنے کی اصل جگہ ان کے اپنے گھر ہی ہیں۔ شرعاً جن ضرورتوں کے لیے گھر سے نکلنا جائز ہے پردہ کے خوب اہتمام کے ساتھ بقدر ضرورت نکل سکتی ہیں۔

آیت کے سیاق سے واضح طور پر معلوم ہو رہا ہے کہ بلا ضرورت پردہ کے ساتھ بھی باہر نکلنا اچھا نہیں ہے، جہاں تک ہو سکے، نامحرم کی نظروں سے لباس بھی پوشیدہ رکھنا چاہیے۔

تیسرا حکم یہ دیا گیا ہے کہ زمانہ قدیم کی جہالت کے مطابق مت پھرا کرو۔ زمانہ قدیم کی جہالت سے عرب کی وہ جاہلیت مراد ہے جو حضور ﷺ کی بعثت سے پہلے عرب کے رواج و سماج میں جگہ پکڑے ہوئے تھی۔ اس زمانہ کی عورتیں بے حیائی اور بے شرمی کے ساتھ بلا تہجک بازاروں میں اور میلوں اور گلی کوچوں میں بے پردہ ہو کر پھرا کرتی تھیں اور بن ٹھن کر نکلتی تھیں، سر پر یا گلے میں فیشن کے لیے دوپٹہ ڈال دیا، نہ اس سے سینہ ڈھکا، نہ کان اور چہرہ چھپایا، جدھر کو جانا ہوا چل پڑیں۔ مردوں کی بھیڑ میں گھس گھس، نہ محرم اور غیر محرم کا امتیاز یہ تھا جاہلیت اولیٰ کا رواج اور سماج جو آج بھی اسلام کا دعویٰ کرنے والی عورتوں میں جگہ لے چکا ہے۔

ان آیات میں گواہ رواج مطہرات کو مخاطب کیا گیا ہے لیکن یہ احکام تمام عورتوں کے لیے عام ہیں۔ اجتماع امت اور احادیث نبویہ سے یہ امر ثابت شدہ ہے کہ ان آیات کا حکم امت کی تمام ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے لیے عام ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے عرض کیا۔

ایک موٹی سمجھ والا انسان بھی (جسے خدا کا خوف ہو) ان آیات سے یہ نتیجہ نکالنے پر مجبور ہوگا کہ جب ازواج مطہرات کے لیے یہ حکم ہے کہ اپنے گھروں ہی میں رہا کریں اور جاہلیت اولیٰ کے دستور کے مطابق باہر نہ نکلیں، حالانکہ ان کو تمام مومنین کی مائیں فرمایا گیا ﴿وَآزُ وَاٰجُهُ اُمَّهَاتُهُمْ﴾ تو امت کی دوسری عورتوں کے لیے بے پردہ ہو کر نکلتا کیوں کر درست ہوگا؟ شرف اور احترام کے باعث امت کی نظریں جن مقدس خواتین پر نہیں پڑ سکتیں تھیں جب ان کو بھی ﴿عَدُوًّا فِي الْبُيُوتِ﴾ (یعنی گھروں میں رہنے) کا حکم دیا گیا ہے تو جن عورتوں کی طرف قصداً نظریں اٹھائی جاتی ہوں اور خود یہ عورتیں بھی مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے کا ارادہ رکھتی ہوں، ان کو جاہلیت اولیٰ



کے طریقہ پر باہر نکلنے کی کیسے اجازت ہوگی۔

صحیح بخاری جلد ۲، صفحہ ۲۹۶ میں واقعہ ایک کی تفصیل مروی ہے، اس میں لکھا ہے کہ غزوہ بنی المصطلق کے موقع پر جب حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر نظر پڑی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان کی انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھنے کی آواز سنی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی آنکھ کھل گئی اور انہوں نے فوراً چہرہ ڈھانپ لیا۔ وہ فرماتی ہیں کہ صفوان رضی اللہ عنہ نے مجھے پردہ کا حکم نازل ہونے سے پہلے دیکھا تھا۔ اسی سے سمجھ لیا جائے کہ پردہ کا جو حکم نازل ہوا تھا وہ چہرہ سے بھی متعلق تھا۔ ورنہ انہیں چہرہ ڈھانکنے کی کیا ضرورت تھی۔

نیز صحیح بخاری جلد ۱، صفحہ ۸۸ پر ہے کہ ایک دن رسول اللہ ﷺ پی اہلیہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھے، وہیں ایک مختص بھی تھا اس نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے بھائی سے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے طائف کو فتح کر دیا تو میں تمہیں خیلمان کی بیٹی بتا دوں گا۔ جو ایسی ایسی ہے۔ اس پر رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ ہرگز تمہارے گھروں میں داخل نہ ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یوں کہا کہ ”یا رسول اللہ ﷺ آپ کے پاس (اندرون خانہ) اچھے برے لوگ آتے جاتے ہیں (وہاں اہمات المؤمنین کو پردہ کرنے کا حکم دے دیتے تو اچھا ہوتا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے پردہ والی آیت نازل فرمائی۔ (صحیح بخاری)

اس سے صاف ظاہر ہے کہ پردہ کی آیت میں نامحرموں کے سامنے چہرہ ڈھانپنے کا حکم نازل ہوا، کیونکہ اس سے پہلے بھی وہ کپڑے پہنے ہوئے بیٹھی رہتی تھیں صرف چہرہ ہی کھلا رہتا تھا۔ پردہ کا حکم ہونے کا یہی مطلب ہے کہ چہرہ چھپائیں۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت اور سنئے، وہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ نے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے ساتھ شب گزار کر صبح کو ولیمہ کیا تو خوب بڑی دعوت کی، لوگ آتے رہے اور کھا کر جاتے رہے، کھانے سے فارغ ہو کر سب لوگ چلے گئے لیکن تین اصحاب رہ گئے وہ باتیں کرتے رہے، آپ ﷺ کے مزاج میں حیاء بہت تھی، آپ ﷺ نے ان سے نہیں فرمایا کہ تم چلے جاؤ، بلکہ خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ کی طرف چلے گئے۔ جب میں نے آپ ﷺ کو خبر دی کہ وہ لوگ چلے گئے تو آپ ﷺ واپس تشریف لے آئے۔ میں آپ ﷺ کے ساتھ (حسب عادت) داخل ہونے لگا تو آپ ﷺ نے میرے اور اپنے درمیان میں پردہ ڈال دیا اور آیت **حَبَابَ مَا يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ**۔ اللہ کے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمادی۔ (صحیح بخاری، صفحہ ۷۰۶، ۷۰۷)

حضرت انس رضی اللہ عنہ پرانے خادم تھے، دس برس تک انہوں نے آپ ﷺ کی خدمت کی جب پردہ کا حکم نازل ہوا تو آپ ﷺ نے پردہ ڈال دیا اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کو اندر آنے نہیں دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے جو حضرت انس رضی اللہ عنہ گھروں میں اندر آتے جاتے تھے کیا ازواج مطہرات کپڑے پہن کر نہیں رہتی تھیں، ان کی جو نظر پڑتی تھی کیا چہرہ کے سوا کسی اور جگہ بھی پڑتی تھی، اگر چہرہ پردہ میں نہیں تو ان کو اندر جانے سے کیوں روکا گیا۔ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن سے فرمادیتے کہ اس کو آنے جانے دو صرف چہرہ کھلا رکھا کرو۔ لیکن وہاں مستقل داخل ہونے پر پابندی لگا دی گئی۔ اسی سے سمجھ لیا جائے کہ پردہ کا جو حکم نازل ہوا اس میں اصل چہرہ کا چھپانا ہے ورنہ جسم کے دوسرے حصے پہلے بھی نامحرموں کے سامنے ظاہر نہیں کئے جاتے تھے۔

سنن ابوداؤد ”کتاب الجہاد“ میں ہے کہ حضرت ام خلد رضی اللہ عنہا کا صاحبزادہ ایک جہاد کے موقع پر شہید ہو گیا، وہ چہرہ نقاب ڈالے ہوئے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ ان کا یہ حال دیکھ کر کسی صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم اپنے بیٹے کا حال معلوم کرنے کے لیے آئی ہو؟ حضرت ام خلد رضی اللہ عنہا نے جواب دیا، اگر بیٹے کے بارے میں مصیبت زدہ ہو گئی ہوں تو اپنی شرم و حیا کھو کر ہرگز مصیبت زدہ نہ بنوں گی (یعنی حیاء کا چلا جانا ایسی ہی مصیبت زدہ کر دینے والی چیز ہے جیسے بیٹے کا ختم ہو جانا)۔ حضرت ام خلد رضی اللہ عنہا کے پوچھنے پر حضور ﷺ نے جواب دیا کہ تمہارے بیٹے کے لیے دو شہیدوں کا ثواب ہے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ ﷺ کیوں؟ ارشاد فرمایا، اس لئے کہ اسے اللہ کتاب نے قتل کیا ہے۔ (سنن ابوداؤد، جلد ۱، صفحہ ۳۲۶)

اس واقعہ سے بھی ان مغربیت زدہ مجتہدین کی تردید ہوتی ہے جو چہرہ کو پردہ سے خارج کرتے ہیں اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ پردہ ہر حال میں لازم ہے رنج ہو یا خوشی، نامحرم کے سامنے بے پردہ ہو کر آنا منع ہے بہت سے مرد اور عورت ایسا طرز اختیار کرتے ہیں کہ گویا ان کے نزدیک شریعت کا کوئی قانون مصیبت کے وقت لاگو نہیں ہے، جب گھر میں کوئی موت ہو جائے گی تو اس بات کا جانتے ہوئے کہ نوحہ کرنا سخت منع ہے، عورتیں زور زور سے نوحہ کرتی ہیں، جنازہ جب گھر سے باہر نکالا جاتا ہے تو عورتیں دروازے کے باہر تک اس کے پیچھے چلی آتی ہیں اور پردہ کا کچھ خیال نہیں کرتیں، خوب یاد رکھو! غصہ ہو یا رضامندی خوشی ہو یا مصیبت، ہر حال میں احکام شریعت کی پابندی لازم ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے حج عمرہ کے مسائل بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ المعمرۃ لا تتعقب یعنی احرام والی عورت نقاب نہ ڈالے۔ (سنن ابوداؤد، جلد ۱، صفحہ ۲۵۲)

اس سے ظاہر ہے کہ زمانہ نبوت میں عورتیں چہروں پر نقاب ڈال کر باہر نکلتی تھیں۔ یاد رہے کہ حکم یہ ہے کہ عورت حالت احرام میں چہرہ پر کپڑا نہ ڈالے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ نامحرموں کے سامنے چہرہ کھول کر پھرا کریں۔ یہ عورتوں میں مشہور ہے کہ حالت احرام میں پردہ نہیں یہ غلط ہے۔ اس غلط فہمی کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک حدیث سے دور کر لیں۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم حالت احرام میں حضور اقدس ﷺ کے ساتھ تھے، گزرنے والے اپنی سوزنیوں پر ہمارے پاس سے گزرتے تھے تو ہم اپنی چادر کو اپنے سر سے آگے بڑھا کر چہرہ کے سامنے لٹکا لیتے تھے۔ جب وہ لوگ آگے بڑھ جاتے تو ہم چہرہ کھول لیتے تھے۔ (مشکوٰۃ المصابیح، صفحہ ۲۳۶، از ابی داؤد)

منہ پر کپڑا نہ لگنا اور ابت ہے اور محرموں کے سامنے پھرنا یہ دوسری بات ہے، حج یا عمرہ میں بے پردگی جائز نہیں ہو جاتی۔ حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ کی بیوی جب اپنے شوہر کو لے کر حضور ﷺ کے پاس چلی اور راستہ میں عکرمہ رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی سے صحبت کرنی چاہی تو انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ تم کافر ہو اور میں مسلمان ہوں اور عکرمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میری بات ماننے سے تم کو جس کام نے روکا ہے وہ معلوم ہوتا ہے کہ بہت بڑا کام ہے۔ تو جب بیوی عکرمہ رضی اللہ عنہ کو لے کر حضور ﷺ کے پاس پہنچی تو چہرہ پر نقاب (پردہ) تھا۔ پھر شریعت چہرہ کو کھلا رکھنے کی کیسے اجازت دے سکتی ہے۔ (حیاء اصحاب، جلد ۱، صفحہ ۲۲۸)

### (۱۲۸) اے اللہ ہماری زبان اور دل کو مسلمان بنا دے

مسند احمد میں ہے رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جس طرح تم میں روزیاں تقسیم فرمائیں ہیں اخلاق بھی تقسیم فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا تو اسے بھی دیتا ہے جس سے خوش ہو اور اسے بھی جس سے غضبناک ہو، لیکن دین صرف انہی کو دیتا ہے جن سے اسے محبت ہے، پس جسے دین مل جائے یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے محبت رکھتا ہے، اس کی قسم! جس کے ہاتھ میں میری جان ہے بندہ مسلمان نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا دل اور اس کی زبان مسلمان نہ ہو جائے اور بندہ ایماندار نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے پڑوسی اس کی ایذاؤں سے بے فکر نہ ہو جائیں۔ لوگوں نے پوچھا، ایذا میں کیا کیا ہیں؟ فرمایا دھوکہ اور ظلم۔ سنو! جو شخص مال حرام کھائے پھر اس میں سے خرچ کرے اللہ اسے برکت سے محروم رکھتا ہے۔ اگر وہ اس میں سے صدقہ کرے تو قبول نہیں ہوتا اور جتنا کچھ مال اپنے بعد باقی چھوڑ مرے وہ سب اس کے لئے دوزخ کی آگ کا توشہ بنتا ہے۔ یاد رکھو! اللہ تعالیٰ برائی کو برائی سے نہیں مٹاتا بلکہ برائی بھلائی سے مٹاتا ہے۔

(تفسیر ابن کثیر، جلد ۲، صفحہ ۵۱۶)

### (۱۲۹) حرام بستر کے علاوہ سب کچھ کر لیا اب میں کیا کروں

مسند احمد میں ہے کہ ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ ایک عورت سودا لینے کے لئے آئی تھی افسوس کہ میں اسے کوٹھری میں لے جا کر اس سے بجز جماع کے اور ہر طرح لطف اندوز ہوا۔ اب جو حکم خدا ہو وہ مجھ پر جاری کیا جائے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، شاید

اس کا خاوند غیر حاضر ہوگا؟ اس نے کہا: جی ہاں! یہی بات تھی۔ آپ نے فرمایا: تم جاؤ! حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے یہ مسئلہ پوچھو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بھی یہی سوال کیا۔ پس آپ نے بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرح فرمایا۔ پھر وہ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں ہوا اور اپنی حالت بیان کی۔ آپ ﷺ نے فرمایا، شاید اس کا خاوند راہِ خدا میں گیا ہوا ہوگا؟ پس قرآن کریم کی یہ آیت اتری:

﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفَا مِنْ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلَّذِينَ كَانُوا﴾

(سورہ صود، آیت: ۱۱۳)

ترجمہ: ”دن کے دونوں سروں میں نماز پڑھو اور رات کی کئی ساعتوں میں بھی، یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیا کرتی ہیں، یہ ہے نصیحت، نصیحت پکڑنے والوں کے لیے۔“

تو وہ کہنے لگا کیا یہ خاص میرے لئے ہی ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، نہیں! اس طرح صرف تیری ہی آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہو سکتیں بلکہ یہ سب لوگوں کے لئے عام ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: عمر رضی اللہ عنہ سچے ہیں۔

(تفسیر ابن کثیر، جلد ۲، صفحہ ۵۱)

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی کی نظر کسی غیر محرم عورت پر پڑ گئی۔ عورت کے حسن و جمال نے مرد کے دل کو اپنی طرف مائل کیا، حتیٰ کہ مرد نے مغلوب الحال ہو کر عورت کا بوسہ لے لیا۔ پھر اس پر خوفِ خدا غالب ہوا کہ میں نے تو حکمِ الہی کی خلاف ورزی کر لی۔ چنانچہ وہ نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا ماجرا سنایا۔ نبی کریم ﷺ نے خاموشی اختیار فرمائی۔ اس آدمی کا رور و کوبہ حال ہوا۔ ندامت کی آگ نے ان کے دل کو بے قرار کر دیا۔ وہ مسلسل توبہ و استغفار میں لگے رہے، حتیٰ کہ نبی کریم ﷺ پر قرآن کی یہ آیت اتری:

﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلَّذِينَ كَانُوا﴾ (سورہ صود، آیت: ۱۱۳)

ترجمہ: ”البتہ نیکیاں دور کرتی ہیں برائیوں کو، یہ یادگار ہے یاد کرنے والوں کے لیے۔“

نبی کریم ﷺ نے اس آدمی کو بلا کر خوشخبری سنائی کہ تیرا رونا دھونا قبول ہو گیا اللہ تعالیٰ نے تجھے معافی عطا فرمادی۔ اس نے پوچھا کہ یہ آیت خاص میرے لئے اتری ہے، فرمایا نہیں! سب لوگوں کے لئے ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

### ﴿۱۳۰﴾ زبیدہ کی ایک نیکی پر مغفرت

اذان کا ادب کیجئے، خاص طور سے مائیں بہنیں

زبیدہ خاتون ایک نیک ملکہ تھی۔ اس نے ”نہر زبیدہ“ بنوا کر مخلوقِ خدا کو بہت فائدہ پہنچایا۔ اپنی وفات کے بعد وہ کسی کو خواب میں نظر آئی۔ اس نے پوچھا کہ زبیدہ خاتون! آپ کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ زبیدہ خاتون نے جواب دیا کہ اللہ رب العزت نے بخشش فرمادی۔ جواب دیکھنے والے نے کہا کہ آپ نے ”نہر زبیدہ“ بنوا کر مخلوقِ خدا کو فائدہ پہنچایا، آپ کی بخشش تو ہونی ہی تھی۔ زبیدہ خاتون نے کہا، نہیں! نہیں! جب ”نہر زبیدہ“ والا عمل پیش ہوا تو پروردگارِ عالم نے فرمایا کہ کام تو تم نے خزانے کے پیسوں سے کرو لیا، اگر خزانہ نہ ہوتا تو نہر بھی نہ بنتی۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے میرے لئے کیا عمل کیا۔ زبیدہ نے کہا، میں تو گھبرا گئی کہ اب کیا بنے گا، مگر اللہ رب العزت نے مجھ پر مہربانی فرمائی، مجھے کہا گیا کہ تمہارا ایک عمل ہمیں پسند آ گیا۔ ایک مرتبہ تم بھوک کی حالت میں دسترخوان پر بیٹھی کھانا کھا رہی تھی کہ اتنے میں اللہ اکبر کے الفاظ سے اذان کی آواز سنائی دی۔ تمہارے ہاتھ میں لقمہ تھا اور سر سے دوپٹہ سرکا ہوا تھا، تم نے لقمے کو واپس رکھا، پہلے دوپٹے کو ٹھیک کیا، پھر لقمہ کھایا، تم نے لقمہ کھانے میں تاخیر میرے نام کے ادب کی وجہ سے کی، چلو ہم نے تمہاری مغفرت فرمادی۔

مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان جب اذان کی آواز سنے تو ادب کی وجہ سے خاموش ہو جائے اذان کا جواب دے اور آخر میں مسنون دُعا پڑھے۔ میرا تجربہ ہے کہ اذان کے ادب کی وجہ سے اسے موت کے وقت کلمہ پڑھنے کی توفیق نصیب ہوگی۔

(نماز کے اسرار و رموز، صفحہ ۵۵)

### (۱۳۱) زیادہ نیند انسان کو قیامت کے دن فقیر بنا دیتی ہے

حضرت سلیمان کی والدہ ماجدہ نے آپ سے فرمایا کہ پیارے بچے! رات کو بہت نہ سویا کرو، رات کی زیادہ نیند انسان کو قیامت کے دن فقیر بنا دیتی ہے۔ (تفسیر ابن کثیر، جلد ۲، صفحہ ۲۹۰)

### (۱۳۲) حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اپنے بچوں کو مندرجہ ذیل دُعا سکھاتے تھے

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ کلمات پڑھے تھے:

﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدِّيَ إِلَى أَرْضِي الْعُمَرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ﴾ (صحیح بخاری)

ترجمہ: "اے اللہ! میں بخل سے تیری پناہ پکڑتا ہوں اور بزدلی سے تیری پناہ پکڑتا ہوں اور یہ کہ میں رذیل عمر میں ڈال دیا جاؤں، اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں اور دنیا کی آزمائش اور عذابِ قبر سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔" (منہاج المسلم، صفحہ ۲۳۸)

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ یہ دُعا اپنے بچوں کو بھی سکھاتے تھے۔

### (۱۳۳) مناجات ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ

هَجَرْتُ الْخَلْقَ طَرًّا فَيَسُّ هَوَاكَا      وَآيَمْتُ الْعَمَالَ لَيْسِي لِرَاكَا  
ترجمہ: "میں نے آپ کی محبت میں تمام دنیا کو چھوڑ دیا، اور آپ کی زیارت کے اشتیاق میں اپنے عمال کو قہیم کیا۔"

وَلَوْ قَطَعْتَنِي فِي الْحُبِّ لَرَبَا      لَسَاخِنَ الْفُؤَادِي سِوَاكَا  
ترجمہ: "اگر آپ رگِ محبت کاٹ دیں، تب بھی دل آپ ہی کی طرف مائل رہے گا۔"

تَجَاوَزْتُ عَنْ ضَعْفِي قَدْ آتَاكَا      وَجَاءَ رَاجِيًا يَرْجُو أَيْدَاكَا  
ترجمہ: "جو ضعف آپ کے در پر آ گیا ہے اس کو معاف کیجئے اور جو آپ سے بخشش کی امید لگا کر آیا ہے اس کی تمنا پوری کیجئے۔"

وَإِنْ يَكُ يَا مَهْبُوسٍ قَدْ عَصَاكَا      فَمَا سَجَدْتُ لِمَعْبُودٍ سِوَاكَا  
ترجمہ: "اے غفار! اگر چہ میں آپ کی حکم عدولی کر چکا ہوں، مگر آپ کے سوا کسی کو سجدہ تو نہیں کیا۔"

إِلَهِي عَبْدُكَ الْعَاصِيُ آتَاكَا      مُعْتَرِبًا بِالذُّنُوبِ وَقَدْ دَعَاكَا  
ترجمہ: "اے خداوند! آپ کا نافرمان بندہ آپ کی بارگاہ میں آیا ہے جسے اپنے گناہوں کا اقرار ہے اور غمناک خواستگار ہے۔"

وَإِنْ تَغِيرُ فَاثِمًا لِي لِذَلِكَ أَهْلُ      وَإِنْ تَطْرُدْ فَمَنْ يَرْحَمُ سِوَاكَا  
ترجمہ: "اگر آپ بخش دیں تو آپ کی شان یہی ہے اور اگر آپ دھکار دیں تو بتائیے کون آپ کے سوا رحم کر سکتا ہے۔"

### (۱۳۴) رنگ برنگی باتیں جن سے خوشبو آئے

زیادہ باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہوتا۔

- دوسروں کے آنسوؤں کو زمین پر گرنے سے پہلے اپنے دامن میں جذب کر لینا انسانیت کی معراج ہے۔
- نیک بننے کی کوشش کرو جیسے حسین بننے کی کوشش کرتے ہو۔
- اعتماد وہ شیشہ ہے جو ایک بار ٹوٹ جائے تو دوبارہ نہیں بنتا۔
- جس طرح سمندر اپنی لہروں کو اپنی حدود میں رکھتا ہے اسی طرح ماں اپنی اولاد کا ہر ڈکھا اپنے دل تک محدود رکھتی ہے۔
- جو یہ کہے کہ اس کی بات سچی ہے تو اس کی ہر بات جھوٹ ہوگی۔
- محنت سے بھی آدمی تھک جاتا ہے اور کاہلی سے بھی۔ مگر محنت کا نتیجہ صحت اور دولت ہے اور کاہلی کا نتیجہ بیماری اور افلاس ہے۔
- راحت کثرت سے آمدنی میں نہیں ہے، قلت مصارف میں ہے۔

### (۱۳۵) جواہر پارے

- رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی شکایت نہ کر۔
- کبھی بھی اپنے ماں باپ اور استاد کی شکایت نہ کر۔
- اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی شکایت نہ کر۔
- بے موقع بولنے سے چپ رہنا بہتر ہے۔
- بری صحبت سے دور رہنا بہتر ہے۔
- سب سے اچھا نشہ خدمت خلق ہے۔
- مرد کی خوبصورتی اس کی فصاحت ہے۔
- ماں باپ کا حکم چاہے ناگوار ہو قبول کر لے۔
- یتیم اور یتیمہ کا مال کھانے سے پریشانی آتی ہے۔
- بحث کرنے میں جاہل سے شکست کھالے۔
- بے ادبی کرنے سے بد نصیبی آتی ہے۔
- غریب کی دعوت چاہے تکلیف دہ ہو قبول کر لے۔
- غصہ عقل کو کھا جاتا ہے۔
- جھوٹ رزق کو کھا جاتا ہے۔
- امانت دار مفلسی کے وقت آزما جاتا ہے۔
- اپنی زبان کو ذکر الہی میں مشغول رکھو۔
- خاموش زبان سینکڑوں زبانوں سے اچھی ہے۔
- بہادر مقابلے کے وقت آزما جاتا ہے۔
- بیوی کے سامنے اس کے میکے والوں کی شکایت نہ کر۔
- ماں باپ کا نافرمان اپنی اولاد کی نافرمانی کا منتظر ہے۔
- بے عزتی کی زندگی سے موت بہتر ہے۔
- سب سے اچھی خیرات معاف کر دینا ہے۔
- سب سے بڑا بہادر بدلہ نہ لینے والا ہے۔
- غیبت عمل کو کھا جاتی ہے۔
- نصیحت کی بات چاہے کڑوی ہو قبول کر لے۔
- خیرات سے مال میں کمی نہیں آتی۔
- فضول خرچی کرنے سے مفلسی آتی ہے۔
- توبہ گناہ کو کھا جاتی ہے۔
- تکبر علم کو کھا جاتا ہے۔
- انصاف ظلم کو کھا جاتا ہے۔
- دوست کو مصیبت کے وقت آزما جاتا ہے۔
- بردبار کو غصے کے وقت آزما جاتا ہے۔
- خدا سے ڈرنے والے کی زبان گوئی ہو جاتی ہے۔

### (۱۳۶) قرآن

- قرآن..... ایک حکمت بھری کتاب ہے۔
- قرآن..... حق و باطل کے امتیاز کے لئے ہے۔
- قرآن..... نصیحت کی ایک آسان راہ ہے۔
- قرآن..... ہر قسم کے فیوض و برکات کا سرچشمہ ہے۔

- قرآن..... ایک فیصلہ کن قوت ہے۔
- قرآن..... کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔
- قرآن..... ہی انسان کو چشم بنادیتا ہے۔
- قرآن..... میں شفا اور رحمت کے دریا بہتے ہیں۔
- قرآن..... نے انسان کو علم و حکمت عطا کیا۔
- قرآن..... تاریکی سے روشنی کی طرف لاتا ہے۔
- قرآن..... سلامتی کی راہیں کھول دیتا ہے۔
- قرآن..... حق و سعادت کا مرقع ہے۔
- قرآن..... ایمان کا سرچشمہ اور عمل کا مرکز ہے۔
- قرآن..... رہنمائی اور لیڈری کے حقیقی گربھاتا ہے۔
- قرآن..... جملہ انسانی ضروریات کے مسائل بیان کرتا ہے۔
- قرآن..... فکر و عمل کی راہوں کو ہموار کرتا ہے۔
- قرآن..... سے مسائل زندگی سیکھو۔
- قرآن..... کی تصدیق پچھلی الہامی کتابیں کرتی ہیں۔
- قرآن..... پچھلی الہامی کتابوں کا جامع اور محافظ ہے۔
- قرآن..... اللہ تعالیٰ، رب کائنات و خالق جہاں کا کلام ہے۔
- قرآن..... نہیں کامیابی کی ضامن ہے، وقت کی اہم ضرورت ہے۔

### (۱۳۷) مسجد میں اللہ کے ذکر و عبادت میں خلل ڈالنے والا سب سے بڑا ظالم ہے

قرآن پاک کے پہلے پارے (سورہ بقرہ، آیت: ۱۱۴) میں ہے:

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ.....﴾

ترجمہ: ”جو شخص اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام لینے سے روکے اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔“

حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس آیت سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ مسجد میں ذکر و نماز سے روکنے کی جتنی صورتیں ہیں وہ سب ناجائز اور حرام ہیں، ان میں سے ایک صورت تو یہ کھلی ہوئی ہے کہ کسی کو مسجد میں جانے سے یا وہاں نماز و تلاوت سے صاف طور پر روکا جائے، دوسری صورت یہ ہے کہ مسجد میں شور و شغب کر کے یا مسجد کے قریب باجے گاجے بجا کر لوگوں کی نماز و ذکر وغیرہ میں خلل ڈالے، یہ بھی ذکر اللہ سے روکنے میں داخل ہے، اسی طرح تیسری صورت یہ ہے کہ اوقات نماز میں جب لوگ اپنی نواہل یا تسبیح و تلاوت وغیرہ میں مشغول ہوں مسجد میں کوئی بلند آواز سے تلاوت کرنے لگے تو یہ بھی نماز و تسبیح میں خلل ڈالنے کی ایک صورت ہے۔ اسی لئے فقہاء نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے۔ (معارف القرآن، جلد ۱، صفحہ ۲۴۲)

### (۱۳۸) نمازیوں کی توجہ ہٹانے والا سزا کا مستحق ہے

حکایت: ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، ایک شخص کوئی چیز لے کر آیا اور اس کو صف کے آگے ڈال کر خود نماز میں شریک ہو گیا (جیسا کہ آج کل عموماً کیا جاتا ہے) فاروق رضی اللہ عنہ اعظم رضی اللہ عنہ جب نماز سے فارغ ہوئے تو اس کو سزا دی کہ تو نے نمازیوں کو تشویش میں ڈالا۔ (الاعتصام للعلامی)

اس سے معلوم ہوا کہ نمازیوں کی توجہ نماز سے ہٹا دینے والا کوئی بھی کام کرنا منع ہے۔

### (۱۳۹) مسجد میں دنیا کی باتیں کرنے والوں کے لیے سخت وعید

حدیث: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ وہ اپنی مسجدوں میں دنیا کی باتیں کریں گے، اس لئے تم ان کے پاس مت بیٹھنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ان کی کوئی حاجت نہیں۔ (مشکوٰۃ، صفحہ ۷۱)

فائدہ: علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ”طلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بے تعلق ہے اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری سے

نکل جاتے ہیں ورنہ اللہ تعالیٰ کو تو کسی کی بھی حاجت نہیں ہے۔ غور کریں! اس میں تنہی بھاری دھمکی اور کیسی سخت وعید ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہدایہ میں لکھا ہے کہ دنیا کی باتیں مسجد میں مکروہ ہیں، اس سے نیکیاں جل جاتی ہیں۔

### (۱۲۰) مسجد میں دنیا کی باتیں کرنے کے لیے بیٹھنا ناجائز ہے

مسئلہ: جو دنیا کی باتیں مسجد سے باہر جائز ہیں وہ مسجد میں ناجائز ہیں۔ اور جو باتیں مسجد سے باہر ناجائز ہیں وہ مسجد میں سخت حرام ہیں۔ مثلاً غیبت کرنا، تہمت لگانا وغیرہ۔ اور ”مخزاة الفقه“ میں لکھا ہے کہ جو شخص مسجد میں دنیا کی باتیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے چالیس دن کے عمل بے کار دیتا ہے۔ (آداب المساجد، صفحہ ۲۸)

### (۱۲۱) اپنی گمشدہ چیز کے لئے مسجد میں اعلان کرنے کی مذمت

حدیث: رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی کو اپنی گمشدہ چیز کا اعلان مسجد میں کرتے ہوئے سنے تو اعلان سننے والا یوں کہے: ”اللہ تعالیٰ تیری گمشدہ چیز کو لوٹائے، اس لئے کہ مسجد میں ایسے اعلانوں کے واسطے نہیں بنائی گئیں۔“ (مسلم شریف) فائدہ: جب اتنے سے اعلان کی ممانعت ہے تو مستقل باتیں کرنے کے لیے بیٹھنا کتنا سخت گناہ ہوگا۔

### (۱۲۲) حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مسجد سے باہر چبوترہ اہنانا

حدیث: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد کے باہر کنارہ پر ایک چبوترہ اہنایا تھا اور اعلان کر دیا تھا کہ جو باتیں کرنا چاہے یا شعر پڑھنا چاہے یا آواز بلند کرنا چاہے وہ اس چبوترے پر چلا جائے۔ (مؤطا امام مالک)

### (۱۲۳) مسجد کی عظمت ارشاد خداوندی کی روشنی میں

حدیث: یہود کے ایک بہت بڑے عالم نے رسول ﷺ سے پوچھا کہ سب سے بہتر جگہ کون سی ہے؟ تو رسول اللہ ﷺ نے کوئی جواب نہیں دیا اور اپنے دل میں طے کر لیا کہ جب جبرئیل علیہ السلام آئیں گے ان سے پوچھ کر جواب دوں گا۔ چنانچہ حضرت جبرئیل علیہ السلام تشریف لائے تو آپ ﷺ نے یہی سوال کیا تو جبرئیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اس کا جواب مجھے معلوم نہیں لیکن دربار خداوندی سے معلوم کر کے جواب دوں گا۔ چنانچہ وہ پوچھنے گئے اور واپس آ کر یہ عرض کیا کہ اے محمد ﷺ اس وقت مسئلہ پوچھنے کی برکت سے خدا تعالیٰ سے اتنی نزدیکی ہوئی کہ مجھے اتنی نزدیکی بھی نہیں ہوئی۔ آپ ﷺ نے پوچھا، کتنی نزدیکی ہوئی؟ تو حضرت جبرئیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ میرے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ستر ہزار نورانی پردے رہ گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بری جگہ بازار ہے، اور سب سے اچھی جگہ مسجد ہے۔ (مخزاة شریف، صفحہ ۷۱)

### (۱۲۴) ایک عام غلطی کی اصلاح

ہر محلہ میں مسجد بنانے کا حکم حدیث شریف کی روشنی میں

حدیث: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ہم کو رسول اللہ ﷺ نے محلہ محلہ میں بنانے کا حکم فرمایا ہے اور ان کو پاک صاف رکھنے کا حکم فرمایا ہے۔ (ترمذی، ابوداؤد، ابن ماجہ، مسند احمد)

فائدہ: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مسجدیں زیادہ بنانا شرعاً مطلوب ہے، اس حکم نبوی کے مطابق اگر ہر محلہ میں مسجدیں بن جائیں (خواہ سادہ ہی ہوں) تو بارش، سخت گرمی اور سردی میں بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا آسان ہو جائے، خصوصاً بوڑھے لوگوں کے لئے

اور بیماروں کے لئے زیادہ سہولت ہو جائے۔ اس حدیث سے ان لوگوں کی غلطی بھی واضح ہو گئی، جو ایک گاؤں میں زیادہ مسجدیں بنانے کو اجتماعیت کے خلاف سمجھتے ہیں، اس لئے کہ ان کا یہ خیال حدیث بالا کے خلاف ہے۔ واللہ اعلم۔

### (۱۳۵) ذمہ دار علماء کرام سے درخواست

ہر مقام کے ذمہ دار علماء کرام سے درخواست ہے کہ وہ کسی نماز کے بعد لوگوں کو یہ مضمون پڑھ کر سنائیں اور مسجد میں لٹکادیں اور جب بھی اس کو سنانے کی ضرورت محسوس کریں سنا دیا کریں۔

حضرت مفتی محمد آدم صاحب بھیلوٹی مدظلہ  
مدرسہ جامعہ نذیریہ، کاکوی، شمالی گجرات

### (۱۳۶) سادگی بذاتِ خود حسن ہے

موجودہ دور میں گھر ہو یا سڑک، کالج ہو یا دفتر، پارٹی ہو یا میلاد ہر جگہ نوجوانوں میں فیشن دہننے کا رجحان تیزی سے پھیل رہا ہے، قیمتی لباس کو آج امارت کی نشانی سمجھا جاتا ہے، آج مہمانوں کی تواضع بھی ان کے زیب کردہ لباس کو دیکھ کر کی جاتی ہے، کیا ہم نے اپنی اصل کو کھو دیا ہے؟ کیا ہمارے مقابل ذاتی صفات کی اہمیت نہیں؟ کیا محض دکھاوے کی چاہ میں ہم سرگرداں ہو رہے ہیں؟ یہ تمام سوالات قابل غور ہیں۔ آج کے نوجوانوں کو اگر کسی تقریب میں جانا مقصود ہو تو ہفتہ بھر قبل ہی ذہن پریشانیوں کی آماجگاہ بن جاتا ہے۔ لباس ایسا ہو جو قیمتی بھی ہو اور خوبصورت بھی، لباس سے بچ کر تے سینڈلز بھی نئے ہونے چاہئیں، پھر جیولری بھی قیمتی ہونی چاہئے، اس فیشن اور نقالی کی دوڑ میں لڑکیوں نے بھی اپنے قدم پیچھے نہیں رکھے ہیں، موجودہ دور کی سب سے زیادہ استعمال کی جانے والی چیز ”موبائل“ بھی ہے، جس کا استعمال ضرورت کے تحت ہی کیا جاتا تھا مگر اب فقط فیشن کا ایک سہیل بن کر رہ گیا ہے۔

جسے سنور نے اور فیشن شو کو جب ٹی وی، اخبار، رسالے اور فلموں میں دکھایا جاتا ہے اور جنہیں دیکھ کر نوجوان بھی اسی دوڑ میں شامل ہو جاتے ہیں، بازاروں میں مختلف اشیاء سنگھار، میک اپ کے لوازمات اور لباس مشہور ماڈلز اور ہیرو، ہیروئن کے نام پر فروخت کئے جاتے ہیں جنہیں نوجوان لڑکے لڑکیاں نہایت جوش و خروش سے خریدتے ہیں۔ اکثر اوقات اس فیشن کے وبائی مرض میں جتنا لوگ گھر کی خستہ حالی کو بھی فراموش کر دیتے ہیں، دیگر انتہائی ضروریات کو پس پشت ڈال دیتے ہیں اور اپنے بے جا فیشن کی تکمیل کرتے ہیں۔ آج بیشتر لڑکیاں محض اپنے فیشن کی ضروریات کی تکمیل کی خاطر ملازمت بھی کرتی ہیں اور اسی کی خاطر سڑکوں کی خاک چھانتی ہیں۔

یہ فیشن کا مرض فقط ذات تک ہی محدود نہیں بلکہ اب گھروں کو سجانے سنوارنے کے فیشن نے بھی لوگوں کو ادھر مرا کر دیا ہے۔ بڑھتی مہنگائی اور محدود تنخواہ میں دوسروں کی نقالی کا جنون راتوں کو بے خواب کرنے لگا ہے، شاید ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ مصنوعی لوازمات کا بوجھ لاد کر فیشن سہیل بن جانے سے ہم ”خوبصورتی“ کے زمرے میں شامل ہو جائیں گے اور یہی ہماری سب سے بڑی بھول ہے۔

صحرا کے پیاسے کو کون بتلائے کہ دور سے چمکتے ذرے آب نہیں محض سراب ہیں اسی رات کا ایک حصہ ہیں جن میں وہ سرگرداں ہیں آج ہم نے ان ذریعہ اتوال کو فراموش کر دیا ہے جو حقیقت کو آشکار کرتے ہیں۔ آج ہم سچے مسلمان نہیں، پھر ہمارے چہرے پر نور کیسے ہو سکتے؟ آج ہم نے خوشی غلٹی کو خود سے کوسوں دور کر رکھا ہے۔ ریا کاری کی دوڑ میں ہمیں اتنی فراغت ہی دستیاب نہیں ہوئی کہ ہم کسی سے خوش گفتاری و مٹن ساری کے ہمراہ گفتگو کر سکیں، پھر ہم میں جاذبیت کیوں کر پیدا ہوگی؟ آج ہم نے مہمان نوازی کو فقط ایک بوجھ تصور کر لیا ہے، پھر ہمارے گھر رحمت و برکت کس طرح برس سکتی ہے اور بغیر رحمت و برکت کے گھروں میں دلکشی کس صورت میں ہو سکتی ہے؟

ہم ٹی وی، اخبار، رسالوں میں سچے سنورے کرداروں کو دیکھ کر ان جیسا بننے کی کوشش میں سردھڑکی بازی لگا دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ کس قدر نادانی کی بات اور حماقت ہے، ہم کیوں فراموش کر جاتے ہیں کہ ان کرداروں کا فیشن کرنا ان کی ضرورت یا مجبوری ہے۔ اگر وہ



اس میں گھبر نہیں پیدا کریں گے تو لوگ انہیں ذوق و شوق سے نہیں دیکھیں گے۔ لان، گاڑیاں، پارٹیاں، سجاوٹ، جاہ و حشم ناظرین کو دکھانا ان کی ضرورت ہے تاکہ ہم ان کے پروگرام دیکھنے اور رساں خریدنے پر مائل ہوں۔

ہم میں اس فیشن کی مہلک بیماری کے پھیلنے کی سب سے بڑی وجہ مذہب سے دوری ہے، دوسری بڑی وجہ ہوس ہے اور تیسری وجہ نقلی کا زور ہے۔ زندگی خواہشوں کا ایک ایسا دائرہ ہے جس میں انسان مقید ہے اور یہ لمحہ بہ لمحہ بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ ایک خواہش کے اختتام پر دوسری خواہش اس کی جگہ لے لیتی ہے۔ یوں خواہشات کا یہ طویل سلسلہ زندگی کے ساتھ چلتا ہی رہتا ہے۔ زندگی بذات خود ایک خواہش ہے، زندہ رہنے کی خواہش، دوسروں سے آگے نکل جانے کی خواہش اور بے شمار خوشیاں حاصل کرنے کی خواہش۔

انسان اپنی خواہشات کے حصول کے لیے دن رات ایک کر دیتا ہے۔ اگر خواہشات قبولیت کا لبادہ اوڑھ لے تو زندگی مسرتوں سے ہمکنار ہونے لگتی ہے۔ لیکن اگر خواہشات حسرت کی صورت میں تبدیل ہو جائیں تو انسان کی زندگی دکھ اور کرب کی المناک تصویر بن جاتی ہے۔ آج ہم بھی خواہشات کے سمندر میں غوطہ زن ہو چکے ہیں۔ بیرونی ممالک کی تہذیبی، خوش رنگی ہمیں مار ڈالتی ہے۔ رہن سہن کی آسائشوں سے لیس ہونے کے لیے ہماری خواہش قالین، صوفے، پردے غرض گھر کی سجاوٹ کے لیے ضروری ہر چیز کی خواہش اور حسرت لئے ہوئے ہے۔ اپنی ذات کے متعلق فیشن اور میک اپ ہمیں ہمد وقت متفکر رکھتا ہے ہم نے سادگی کو خود سے دور کر لیا ہے۔ یہ ساری باتیں ہلاکت کی ہیں، ترقی کی نہیں۔

ذہن نشین رکھیں سادگی میں آسانی اور خوبصورتی دونوں ہی مضر ہیں۔ سادگی زندگی کو سہل اور دلکش بناتی ہے۔ جس طرح ایک کنول اپنی حقیقت کو فراموش نہ کرتے ہوئے کچھ میں جاذب نظر و دلکش نظر آتا ہے، اتنا حسین کسی قیمتی گلدان میں نظر نہیں آتا۔ یہی فلسفہ انسانی زندگی پر بھی صادق ہے۔ ہمیں چاہئے کہ ہم اپنی تہذیب اور کلچر کو فراموش کریں اور اپنے نفس پر قابو پانا سیکھیں۔

### ﴿۱۴۷﴾ روزی میں برکت کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کی دُعا بہت نفع بخش ہے

حضرت سلیمان بن بریدہ رضی اللہ عنہما اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر آنے کے بعد بیت اللہ کا طواف کیا پھر دروازہ کے سامنے دو رکعت نماز پڑھی، پھر مترجم پر تشریف لائے اور یہ دُعا پڑھی:

﴿اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعَلَّمُ سِرِّي وَ عَلَانِيَتِي فَأَقْبَلْ مَعْنَدَتِي وَ تَعَلَّمْ مَا فِي نَفْسِي فَأَغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَ تَعَلَّمْ حَاجَتِي فَأَعْطِنِي سُوْلِي اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ إِيمَانًا يُبَاهِرُ قَلْبِي وَ يَغِيثُنِي صَالِحًا حَتَّى أَعْلَمَ أَنَّهُ لَا يُغِيثُنِي إِلَّا مَا كَتَبْتَ لِي وَ الرَّضَاءَ بِمَا قَضَيْتَ عَلَيَّ﴾

ترجمہ: تو حضرت آدم علیہ السلام پر وحی آئی کہ تم نے ایسی دُعا کی جو قبول کی گئی تمہاری اولاد میں سے جو بھی یہ دُعا کرے گا اس کے غم و فکر کو دور کر دوں گا اور اس کی روزی کو کافی کر دوں گا، اس کے دل سے فقر کو دور کر دوں گا، اور اس کو غنی کر دوں گا، اس کی طرف اسبابِ رزق کو متوجہ کر دوں گا، اس کی طرف دُنیا ذلیل ہو کر آئے گی اگرچہ وہ دُنیا کو نہ چاہے گا۔

(مناسک، جلد ۲، صفحہ ۷۷۷۔ الدعاء المسنون، صفحہ ۴۴)

### ﴿۱۴۸﴾ واہ رے واہ اللہ! سبحان تیری قدرت

بلی کی تربیت کا عجیب انداز

بلی حاملہ ہوتی ہے تو وہ کونہ تلاش کرنے لگتی ہے، بچہ دینے کے لئے، اس کو اس کی ماں نے نہیں بتایا کہ تجھے بچہ دینا ہے، کسی کو نے میں

چھینے کی جگہ دیکھنی ہے، کسی ٹریننگ سنٹر سے نہیں سیکھا، کسی نرسنگ ہاؤس سے ٹریننگ نہیں لی، اس کو من جانب اللہ الہام کہ میں ایک ایسی جگہ بچہ دے دوں کہ وہ ضائع نہ ہو جائے۔ اس کا کوئی ٹیچر یا استاد نہیں، اللہ کا نظام ہے، اس کو بھی ہدایت دیتا چلا آ رہا ہے، ملی کسی کو نے میں جا کر بچہ دیتی ہے تو بچہ کو نہیں پتہ کہ میری ماں کی چھاتی کہاں ہے اور اس میں میری غذا ہے اس کو ماں نے نہیں بتایا۔

ماں تو خود اپنے بچے کو سینے سے لگاتی ہے اور اس کے منہ میں چھاتی دیتی ہے وہ چوستا ہے، ملی تو ایسا نہیں کرتی، اس کے بچے کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، اس کی تقدیر اور اللہ کی ربوبیت اس کو اس طرف لے جا رہی ہے، اس کو چوسنے کا طریقہ بتا رہی ہے۔

ہم تو بچے کے منہ میں چوسنی دے دیتے ہیں تو اس کو چوسنے کا طریقہ آجاتا ہے اور اس کی مختلف طریقوں سے تربیت کرتے ہیں تو وہ سیکھتا ہے، ملی کا بچہ ہے جس نے کبھی دیکھا نہیں، سنا نہیں، وہ خود بخود چھاتی کی طرف لپکتا ہے اور دودھ پیتا ہے، یہ سارے کا سارا نظام اللہ تعالیٰ غیب کے پردوں سے چلا رہا ہے۔ ایک مادہ ہے، وہ انڈے دیتی ہے، انڈے دینے کے بعد وہ کیڑے کو ڈنک مارتی ہے، ایسے ڈنک مارتی ہے کہ وہ مرے نہیں، بے ہوش ہو جائے، مر جائے تو گل جائے گا، سڑ جائے گا، اتنا ڈنک مارتی ہے کہ بے ہوش ہو جائے، مرے نہیں۔ وہ ان کیڑوں کو اپنے انڈوں کے پاس رکھ لیتی ہے اور ان کی بے ہوشی اتنی ہوتی ہے کہ جب تک وہ بچہ انڈے کے اندر سے نکلتا ہے تو پہلے سے اس کے لیے گوشت کا انتظام کیا جا چکا ہوتا ہے۔ وہ ماں چلی جاتی ہے، انڈے سے نکلنے والا بچہ جب دیکھتا ہے کہ میرے لئے کھانا تیار ہے تو پھر اس کو کھاتا ہے، پروان چڑھتا ہے، پھر اس کے پر لگتے ہیں یہ بچہ جب بڑا ہو کر انڈے دینے پر آتا ہے تو اسی کام کو کرتا ہے، جو اس کی ماں نے کیا تھا، نہ وہ اپنی ماں کو دیکھتا ہے نہ اپنی ماں سے سنتا ہے، نہ اپنی ماں سے سیکھتا ہے۔

(اصلاحی واقعات، صفحہ ۳۹۴)

﴿۱۳۹﴾ ایک لڑکی نے کہا کہ میں طلحہ رضی اللہ عنہ سے شادی کروں گی، اس لئے کہ وہ گھر میں

آتے ہیں ہنستے ہوئے اور گھر سے جاتے ہیں مسکراتے ہوئے اور مالدار بھی ہیں

عتبہ بن ربیعہ کی لڑکی ام ابان سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نکاح کا پیغام بھیجا تو انکار کر دیا، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پیغام بھیجا تو انکار کر دیا، پھر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے پیغام دیا تو انکار کر لیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے پیغام دیا تو اسے قبول کر لیا۔ جب نکاح ہو رہا تھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پردے سے اس عورت سے کہا کہ امیر المؤمنین، حضور ﷺ کے رشتہ داروں سے تو نکاح کرنے سے انکار کر دیا، طلحہ رضی اللہ عنہ سے کر لیا، جواب ملا، جیسے خدا کی مرضی! خیر طلحہ رضی اللہ عنہ بھی ہم سے اچھا ہے۔ بعد میں اس نے عورتوں میں بتایا کہ عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ زندگی گزارنی بہت سخت ہوگی۔ علی رضی اللہ عنہ کے پاس صرف محبت ہی ہے، زبیر رضی اللہ عنہ کے پاس صرف لاشمی ہے، طلحہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ زندگی گزارنے کا مزہ ہے ہنستے ہوئے گھر میں آئیں گے ہنستے ہوئے گھر سے نکلیں گے۔

حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اپنے حسن معاشرت کے باعث بیوی بچوں میں نہایت محبوب تھے، وہ اپنے کنبہ میں جس لطف و محبت کے ساتھ زندگی بسر کرتے تھے اس کا اندازہ صرف اس سے ہو سکتا ہے کہ عتبہ بن ربیعہ کی لڑکی ام ابان سے اگرچہ بہت سے معزز اشخاص نے شادی کی درخواست کی، لیکن انہوں نے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو سب پر ترجیح دی، لوگوں نے وجہ پوچھی، تو کہا: ”میں ان کے اوصاف حمیدہ سے واقف ہوں، وہ گھر آتے ہیں تو ہنستے ہوئے، باہر جاتے ہیں تو مسکراتے ہوئے، کچھ مانگو تو بخل نہیں کرتے اور خاموش رہو تو ماتلئے کا انتظار نہیں کرتے اور اگر کوئی کام کر دو تو شکر گزار ہوتے ہیں اور خطا ہو جائے تو معاف کر دیتے ہیں۔“

(سیر الصحابہ، جلد ۲، صفحہ ۱۱، خصوصی بیانات مولانا یوسف صاحب، کنز العمال، جلد ۶/۴۱۳)

## (۱۵۰) کن کن وقتوں میں دُعا قبول ہوتی ہے وہ مندرجہ ذیل ہیں

جس طرح مخصوص اوقات مقبولیت دعا میں اثر رکھتے ہیں، اسی طرح انسان کے بعض حالات کو بھی حق تعالیٰ نے مقبولیت دعا کے لیے مخصوص فرمایا، جن میں کوئی دُعا رد نہیں کی جاتی، وہ حالات یہ ہیں:

- اذان کے وقت۔ (ابوداؤد، مستدرک)
  - اذان و اقامت کے درمیان۔ (ابوداؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ)
  - حنی علی الصلوٰۃ، جنی علی الفلاح کے بعد اس شخص کے لئے جو کسی مصیبت میں گرفتار ہو اس وقت دُعا کرنا بہت مجرب و مفید ہے۔ (مستدرک)
  - جہاد میں صف باندھنے کے وقت۔ (ابن حبان، طبرانی، مؤطا)
  - جہاد میں گھسان کی لڑائی کے وقت۔ (ابوداؤد)
  - فرض نمازوں کے بعد۔ (ترمذی، نسائی)
  - سجدہ کی حالت میں۔ (مسلم، ابوداؤد، نسائی)
- فائدہ: مگر فرائض میں نہیں۔

- تلاوت قرآن کے بعد (ترمذی) اور بالخصوص ختم قرآن کے بعد۔ (طبرانی، ابویعلیٰ)
- اور بالخصوص پڑھنے والوں کی دُعا و بہ نسبت سننے والوں کے زیادہ مقبول ہے۔ (ترمذی، طبرانی)
- آب زم زم پینے کے وقت۔ (مستدرک، حاکم)
- میت کے پاس حاضر ہوتے وقت۔ یعنی جو شخص نزع کی حالت میں ہو اس کے پاس آنے کے وقت بھی دُعا قبول ہوتی ہے۔

- مرغ کے آواز کرنے کے وقت۔ (بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی)
- مسلمانوں کے اجتماع کے وقت۔ (صحاح سنن ابن ماجہ، صحاح سنن ابوداؤد، صحاح سنن ابویعلیٰ)
- مجالس ذکر میں۔ (بخاری، مسلم، ترمذی)
- امام کے ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ کہنے کے وقت۔ (مسلم، ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ)

فائدہ: بظاہر امام جزری کی مراد اس سے وہ حدیث ہے جو ابوداؤد نے باب التَّشْهَدِ میں ذکر کی ہے۔ وَأَذَا قَرَّةَ ﴿غَيْبِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ فَلَوْلَا آمِينَ يُجِبُّكُمْ اللَّهُ تَعَالَى۔ یعنی جب امام ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ کہے تو تم آمین کہو، حق تعالیٰ تمہاری دُعا قبول فرمائیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس موقع پر دُعا سے مراد صرف آمین کہنا ہے دوسری دُعا مراد نہیں۔

- اقامت نماز کے وقت۔ (طبرانی، ابن مردویہ)
- بارش کے وقت۔ (ابوداؤد، طبرانی، ابن مردویہ، ابن سعد الساعدی)
- امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الام میں فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین رضی اللہ عنہم کا یہ عمل سنا ہے کہ بارش کے وقت خصوصیت سے دُعا مانگتے تھے۔

● بیت اللہ پر نظر پڑنے کے وقت۔ (ترمذی، طبرانی)

## (۱۵۱) دُعا کی قبولیت کے لئے بہت مجرب عمل

● سورۃ انعام کی آیت کریمہ:

﴿وَإِنَّا جَاءَهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ إِنَّهُمْ كَانُوا عَلَمًا حَتَّىٰ يَجْعَلَ رَسُولُهُ﴾

(سورۃ انعام: آیت ۱۲۳)

میں دونوں اسم اللہ کے درمیان جو دُعا کی جائے وہ بھی مقبول ہوتی ہے۔ امام جزری فرماتے ہیں ہم نے اس کا بارہا تجربہ کیا

ہے اور بہت سے علماء سے اس کا مجرب ہونا منقول ہے۔

توضیح: حاجتوں کی تکمیل کروانے کے لیے اس عمل کا شروع اس طرح کیجئے کہ مذکورہ آیت پڑھنا شروع کیجئے جیسے: ﴿وَلَمَّا جَاءَهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ﴾ پھر اس آیت کا آگے کا حصہ چھوڑ کر اللہ سے اپنی ساری مرادیں مانگئے پھر پڑھئے: ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾ ان شاء اللہ ضرور بالضرور دعا قبول ہوگی۔

### (۱۵۲) ایک جیب کترے نے عجیب نصیحت کی

ایک جیب کتر اشام کو اپنے استاد کے پاس دو روپے لے کر گیا۔ اس نے کہا، آج سارا دن کیا کیا۔ کہنے لگا، مال تو بہت ہاتھ آیا تھا ایک گورے کی جیب کاٹی تھی، جب لے کر چلا تو خیال آیا کہ اگر قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام نے رسول پاک ﷺ سے گلہ کر دیا کہ آپ کے اُمّتی نے میرے اُمّتی کی جیب کاٹی تھی تو میں ان کو کیا منہ دکھاؤں گا، تو میں نے بڑوہ اس کو واپس کر دیا۔ نافرمانوں کو ایسی شرم و حیا تھی تو فرمانبردار کیسے ہوں گے:

جو ساز سے نکلی ہے وہ سرب نے سنی ہے جو تار پر ہتی ہے وہ بس دل کو پتہ ہے

### (۱۵۳) جس اللہ کو زمین کے اوپر بھول نہ سکی تو زمین کے نیچے کیسے بھول سکتی ہوں

حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، ت دُخواب میں اپنی خادمہ کو ملیں، انہوں نے کہا کہ اماں! آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہا کہ میرے پاس منکر نکیر آئے، مجھ سے کہنے لگے: نَعَسَ رَبُّكَ؟ ”تیرا رب کون ہے؟“ تو میں ان سے کہا کہ: مَنْ رَبُّكَ؟ ”تمہارا رب کون ہے؟“ اور کہاں سے آئے ہو؟ تو فرشتوں نے کہا: اپنے پروردگار کے پاس سے۔ تو حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ عنہ نے کہا: جب اتنی دوری سے آنے پر تم اپنے رب کو نہیں بھولے تو میں چار ہاتھ زمین کے نیچے آ کر اپنے رب کو کیسے بھول سکتی ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ رَسِيَ اللَّهُ۔ کہا کہ جس رب کو ساری زندگی نہیں بھولی، اس کو چار ہاتھ زمین کے نیچے آ کر کیسے بھول جاؤں گی۔ انہوں نے کہا: چھوڑو اس کا کیا حساب لینا۔ خادمہ کہنے لگی کہ آپ کی گدڑی کہاں گئی؟ گدڑی ایک لمبا ساجہ کو کہتے ہیں جو عرب پہنتے ہیں، ہمارے ہاں اس کا کوئی دستور نہیں۔ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ مجھے کفن میری گدڑی میں ہی دے دینا، میرے لئے نیا کپڑا نہ لانا۔ لیکن ان کی خادمہ نے دیکھا کہ بہت عالی شان پوشاک پہنی ہوئی ہیں۔ کہنے لگیں کہ وہ گدڑی کہاں گئی؟ کہا کہ اللہ نے سنبھال کر رکھ دی ہے کہ قیامت کے دن میری نیکیوں میں اس کو بھی تولے گا اور اس کا بھی وزن کرے گا۔ ہمارے دور انول کی حکومتیں اسلام کے پھیلانے کا ذریعہ تھیں، ان کی تجارتیں اسلام کے پھیلانے کا ذریعہ تھیں، ہماری تجارتیں اسلام کو مٹانے کا ذریعہ ہیں۔

### (۱۵۴) گنجائش والا اسلام نبھے گا اور قربانی والا اسلام چلے گا

جب ملک فتح ہو گئے اور فتوحات کے دروازے کھل گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں صحابہ رضی اللہ عنہم نے مشورہ کیا کہ اب یہ بوڑھے ہو گئے ہیں اور فتوحات ہو گئی ہیں، اب ان کی زندگی بڑی مشقت والی ہے انہیں چاہئے کہ اچھا کھائیں، اچھا لباس پہنیں، کوئی خادم رکھ لیں، جو کھانا پکایا کرے اور لباس اور آرام کا خیال کیا کرے۔ علی، عبدالرحمن، عثمان، طلحہ، زبیر رضی اللہ عنہم۔ یہ چھ بڑے صحابی آپس میں مشورہ کر رہے ہیں انہوں نے کہا: بات کوان کرے؟ طے یہ ہوا کہ حصہ رضی اللہ عنہ سے کہو جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی اور اُم المؤمنین ہیں۔ حضرت حصہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور بات عرض کی کہ امیر المؤمنین کو اب سختی پر نہیں رہنا چاہئے تھوڑی نرمی پر آ جانا چاہئے اور ان سے بات کریں اگر مان جائیں تو ہمارا نام بتادیں اگر نہ مانیں تو ہمارا نام ظاہر نہ کیجئے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہما تشریف لائے، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے کہا، ابا جان! اب آپ بوڑھے ہو چکے ہیں اگر آپ خادم رکھ لیں جو آپ کے لیے کھانا پکایا کرے، لباس اچھا پہن لیا کریں، آپ کے پاس دور دور سے وفد آتے ہیں، کچھ آرام کر لیا کریں۔

فرمایا: حفصہ رضی اللہ عنہا یہ بات کس نے تجھ سے کہی ہے؟

فرمایا کہ پہلے آپ یہ بتاؤ مانتے ہو کہ نہیں۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہما فرمایا: اگر مجھے یہ پتہ چل جائے کہ یہ بات کن لوگوں نے کہی ہے تو میں مار مار کے ان کے چہرے لہو لہان کر دوں۔ اے حفصہ! "صَاحِبُ الْبَيْتِ اِدْرِي بِمَا فِيهِ" گھر والے کو پتہ ہوتا ہے کہ گھر کا حال کیا ہے تو نبی ﷺ کی بیوی ہے، تجھے اچھی طرح یاد ہے کہ حضور اکرم ﷺ تو نیا سے تشریف لے گئے اور کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، اے حفصہ! تجھے اچھی طرح یاد ہے کہ تو نے ایک مرتبہ چھوٹی سی میز پر آپ ﷺ کے لیے کھانا رکھ دیا تھا اور حضور ﷺ آئے تھے اور آپ ﷺ کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا اور آپ ﷺ نے فرمایا تھا کہ کھانا نیچے رکھو، میں میز پر نہیں کھاؤں گا، آپ ﷺ نے کھانے کو نیچے رکھ کر کھایا تھا اور حفصہ رضی اللہ عنہا تجھے یاد ہے حضور کے پاس ایک ہی جوڑا ہوتا تھا جسے وہ دھو کر پہنتے تھے اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ابھی وہ کپڑا خشک نہیں ہوتا تھا کہ نماز کا وقت ہو جاتا تھا اور بلال رضی اللہ عنہ آ کے کہتے تھے: یا رسول اللہ ﷺ الصلوٰۃ الصلوٰۃ اور آپ ﷺ انتظار کرتے رہتے تھے یہاں تک کہ جوڑا خشک ہوتا تھا اور اسی کو پہن کر جاتے تھے۔ اے حفصہ رضی اللہ عنہا! تجھے اچھی طرح یاد ہے کہ تیرے گھر میں ایک ٹاٹ تھا جسے تو دو ہرا کر کے بچھاتی تھی، رات کو آپ ﷺ کے آرام کے لیے ایک رات تو نے چوہرا کر کے بچھا دیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: اے حفصہ! اس ٹاٹ کو دو ہرا کر دے، اس نے رات کو کھڑا ہونے سے مجھے روک دیا۔ اے حفصہ! تجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک عورت نے حضور ﷺ کو دو چادریں ہدیہ میں بھیجی تھیں ایک چادر پہلے بھیج دی، دوسری چادر دیر سے بھیجی، تو آپ ﷺ کے پاس کوئی کپڑا نہیں تھا اسی چادر و آپ ﷺ نے کانٹوں سے سی کر اور گانٹھ لگا کر اسے پہن کر نماز پڑھائی تھی۔ اے حفصہ! گھر والا اچھی طرح سمجھتا ہے، اور پھر رونا شروع کیا۔

حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کی بھی چھین نکل رہی ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کی بھی چھینیں نکل رہی ہیں اور فرمایا: حفصہ رضی اللہ عنہا! سن لے، میری مثال اور میرے ساتھیوں کی مثال ایسی ہے، تین راہی ہیں تین مسافر ہیں ایک اٹھا منزل کو چلا، ایک راستہ پر چلا اور وہ چلا چلا منزل مقصود تک پہنچ گیا۔ پھر دوسرا اٹھا منزل کو چلا، ایک راستے پر چلا اور وہ چلا چلا منزل مقصود تک پہنچ گیا، اب تیسرے کی باری ہے اور میں تیسرا ہوں۔ اللہ کی قسم! میں اپنے نفس کو مجاہدے پر رکھوں گا اور دنیا کی لذتوں سے ہٹا کر چلوں گا یہاں تک کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل جاؤں، اگر میں نے اپنے راستے کو جدا کر دیا تو میں اپنے ساتھیوں سے نہیں مل سکتا، میں اسی طرح چلوں گا۔

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہما نے حضرت عمر رضی اللہ عنہما سے کہا ابا میرا المؤمنین! کیا اسی اچھا ہوتا اگر آپ ان (کھردرے) کپڑوں سے زیادہ نرم کپڑے پہنتے اور اپنے اس کھانے سے زیادہ عمدہ کھانا کھاتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رزق میں بڑی وسعت عطا فرمادی ہے اور مال بھی پہلے سے زیادہ عطا فرمادیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، تمہارے خلاف دلیل تم سے ہی مہیا کرتا ہوں۔ کیا تمہیں حضور ﷺ کی مشقت اور سختی والی زندگی یاد نہیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہما ان کو حضور ﷺ کی معیشت کی تنگی کے واقعات یاد دلاتے رہے، یہاں تک کہ وہ رونے لگیں، پھر ان سے فرمایا، تم نے مجھے یہ کہا ہے لیکن میرا فیصلہ یہ ہے کہ جہاں تک میرا بس چلے گا میں مشقت اور تنگی والی حضور ﷺ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہما دونوں حضرات جیسی زندگی گزاروں گا تاکہ مجھے آخرت میں نعمتوں اور راحتوں والی ان دونوں حضرات جیسی زندگی مل سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے زہد کے باب میں اس بارے میں بہت سی مختصر اور لمبی روایتیں گزر چکی ہیں۔ (حیاء ص ۲۵۲، جلد ۲، صفحہ ۲۷۵)

## (۱۵۵) حضرت عمرؓ کی وفات کا منظر

پھر اللہ نے دکھا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمرؓ کو ساتھ ملا دیا، جب ابولولو نے خنجر مارا اور آپ گرے، آنتیں کٹ گئیں اور خون بہنے لگا، غذا کھلائی تو آنتوں سے باہر نکل گئی، پتہ چل گیا کہ اب میں نہیں بچتا تو اپنے بیٹے کو بلایا، اے عبد اللہ جاؤ، حضرت عائشہؓ سے جا کر اجازت لو، امیر المؤمنین نبی ﷺ کے پڑوس میں دفن ہونا چاہتا ہے۔ وہ حضرت عائشہؓ کو یہاں حاضر ہوئے، دروازے پر دستک دی، کہا عبد اللہ حاضر ہے، امیر المؤمنین یہ اجازت چاہتے ہیں کہ حضور ﷺ کے پڑوس میں دفن کئے جائیں۔ حضرت عائشہؓ نے فرمایا: نہیں اور فرمانے لگیں، اے اللہ! یہ جگہ میں نے اپنے لئے رکھی تھی لیکن میں عمرؓ کو اپنے اوپر ترجیح دوں گی، عمرؓ کو لایا جائے۔ واپس جا کر اپنے ابا جان سے فرمایا: خوشخبری ہو آپ کو اجازت مل گئی۔

فرمایا: بیٹا! نہیں نہیں ہو سکتا ہے کہ میری شرم میں عائشہؓ نے اجازت دے ہو، جب میں مر جاؤں میرے جنازے کو دروازے پر رکھنا پھر دوبارہ اجازت مانگنا، اگر اجازت دے دیں تو دفن کر دینا ورنہ مجھے عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا جب موت کا وقت قریب آیا تو بیٹے نے سر کو گود میں رکھا: وا تھا، آپ ﷺ نے فرمایا، بیٹا میرا سر زمین پر رکھ دو۔ حضرت عبد اللہ کو کبھی نہیں آیا کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ کہا بیٹا! میرا سر زمین پر رکھ، اب مجھے یاد نہیں کہ کیا لفظ فرمایا: "تربت یدک" یا یوں فرمایا: "شکلتک اعدک" تیری مان تجھے روئے، تیرے ہاتھ ٹوٹیں، مجھے زمین پر ڈال، میں اپنے چہرے کو خاک آلود کرنا چاہتا ہوں تاکہ میرے مولیٰ کو میرے اوپر رحم آجائے۔ یہ وہ عمرؓ ہیں جن کے بارے میں حضور ﷺ نے فرمایا، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ انتقال ہوا، نماز جنازہ پڑھی گئی، جنازہ اٹھا، حجرہ مبارک کے سامنے جنازہ رکھا گیا، حضرت عبد اللہؓ نے کہا، اے ام المؤمنین! امیر المؤمنین دروازے پر آچکے ہیں اور اندر آنے کی اجازت مانگتے ہیں۔ حضرت عائشہؓ نے فرمایا: امر حبا امیر المؤمنین امر حبا امیر المؤمنین بے شک امیر المؤمنین کو اندر آنے کی اجازت ہے، امیر المؤمنین کو اندر آنے کی اجازت ہے۔

میرے بھائیو! اللہ نے دکھا دیا کہ جو نبی ﷺ کے طریقے پر چلتا ہے، میں اُسے کیسے ساتھ ملاتا ہوں، چنانچہ حضرت عائشہؓ نے اوڑھنی سر پر رکھی اور باہر نکل گئیں اور حضرت عمرؓ کو حضور ﷺ کے پڑوس میں دفن کیا گیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا، میں قیامت کے دن اٹھوں گا اور میرے دائیں طرف ابو بکرؓ ہوں گے اور بائیں طرف عمر ہوں گے اور بلالؓ میرے آگے آگے اذان دیتے ہوں گے۔ حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں، جب ابولولو نے حضرت عمرؓ پر نیزے کے دو وار کئے تو حضرت عمرؓ کو یہ خیال ہوا کہ شاید اُن سے لوگوں کے حقوق میں کوئی ایسی کوتاہی ہوئی ہے جسے وہ نہیں جانتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے حضرت ابن عباسؓ کو بلایا۔ حضرت عمرؓ کو اُن سے بہت محبت تھی، وہ اپنے قریب ان کو رکھتے تھے اور ان کی بات سنا کرتے تھے اور ان سے فرمایا، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم یہ پتہ کرو کہ کیا میرا یہ قتل لوگوں کے مشورے سے ہوا ہے؟ چنانچہ حضرت ابن عباسؓ باہر چلے گئے۔ وہ مسلمانوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے وہ روتے نظر آتے۔ حضرت ابن عباسؓ نے حضرت عمرؓ کی خدمت میں واپس آ کر عرض کیا، یا امیر المؤمنین! میں جس جماعت کے پاس سے گزرا میں نے اُن کو روتے ہوئے پایا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے آج اُن کا پہلا بچہ گم ہو گیا ہو۔ حضرت عمرؓ نے پوچھا، مجھے کس نے قتل کیا ہے؟ حضرت ابن عباسؓ نے کہا، حضرت مغیرہ بن شعبہ کے مجوسی غلام ابولولو نے۔ حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں (جب حضرت عمرؓ کو پتہ چلا کہ ان کا قاتل مسلمان نہیں بلکہ مجوسی ہے) تو میں نے ان کے چہرے میں خوشی کے آچار دیکھے اور وہ کہنے لگے تمام تعریفیں اُس اللہ کے لئے ہیں جس نے میرا قاتل ایسے آدمی کو نہیں بنایا جو لا ایلہ الا اللہ کہہ کر مجھ سے حجت بازی کر سکے۔ غور سے سنو! میں نے تم کو کسی گمی کا فر غلام کو ہمارے یہاں لانے سے منع کیا تھا لیکن تم نے میری بات نہ مانی۔

پھر فرمایا، میرے بھائیوں کو بلا لاؤ۔ لوگوں نے پوچھا، وہ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبدالرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم ان لوگوں کے پاس آدی بیجا پھر اپنا سر میری گود میں رکھ دیا۔ جب وہ حضرات آگئے تو میں نے کہا، یہ سب آگئے ہیں۔ تو فرمایا، اچھا! میں نے مسلمانوں کے معاملہ میں غور کیا، میں نے آپ چھ حضرات کو مسلمانوں کا سردار اور قائد پایا ہے اور یہ امر خلافت صرف تم میں ہی ہوگا۔ جب تک تم سیدھے رہو گے اس وقت تک لوگوں کی بات بھی ٹھیک رہے گی۔ اگر مسلمانوں میں اختلاف ہو تو پہلے تم میں ہوگا۔ جب میں نے سنا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپس کے اختلافات کا ذکر کیا ہے تو میں نے سوچا کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ یوں کہہ رہے ہیں کہ اگر اختلاف ہو لیکن یہ اختلاف ضرور ہو کر رہے گا کیونکہ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کوئی چیز کہی ہو اور میں نے اسے نہ دیکھا ہو۔ پھر ان کے زخموں سے بہت سا خون نکلا جس سے وہ کمزور ہو گئے۔ وہ چھ حضرات آپس میں چپکے چپکے باتیں کرنے لگے یہاں تک کہ مجھے خطرہ ہوا کہ یہ لوگ ابھی اپنے میں کسی ایک سے بیعت ہو جائیں گے، اس پر میں نے کہا ابھی امیر المؤمنین زندہ ہیں اور ایک وقت میں دو خلیفہ نہیں ہونے چاہئیں کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں (ابھی کسی کو خلیفہ نہ بناؤ) پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے اٹھاؤ۔ چنانچہ ہم نے ان کو اٹھایا پھر انہوں نے فرمایا، تم لوگ تین دن مشورہ کرو اور اس عرصہ میں حضرت صہیب رضی اللہ عنہ لوگوں کو نماز پڑھاتے رہیں۔ ان حضرات نے پوچھا، ہم کن سمشورہ کریں۔ انہوں نے فرمایا، مہاجرین اور انصار سے اور یہاں جتنے لشکر ہیں ان کے سرداروں سے۔ اس کے بعد تھوڑا سا دودھ منگایا اور اسے پیا تو دونوں زخموں میں سے دودھ کی سفیدی باہر آنے لگی جس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سمجھ لیا کہ موت آنے والی ہے۔ پھر فرمایا، اب اگر میرے پاس ساری دنیا ہو تو میں اسے موت کے بعد آنے والی ہولناک منظر کی گھبراہٹ کے بدلے میں دینے کو تیار ہوں۔ لیکن مجھے اللہ کے فضل سے امید ہے کہ میں خیر ہی دیکھوں گا۔ حضرت ابن عباس نے کہا، آپ نے جو کچھ فرمایا ہے اس کا بہترین بدلہ اللہ آپ کو عطا فرمائے، کیا یہ بات نہیں ہے کہ جس زمانے میں مسلمان مکہ میں خوف کی حالت میں زندگی گزار رہے تھے، اس وقت حضور ﷺ نے یہ دُعا فرمائی تھی کہ آپ کو ہدایت دے کر اللہ تعالیٰ دین کو اور مسلمانوں کو عزت عطا فرمائے۔ جب آپ مسلمان ہوئے تو آپ کا اسلام عزت کا ذریعہ بنا اور آپ کے ذریعہ سے اسلام اور حضور ﷺ اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کھلم کھلا سامنے آئے اور آپ ﷺ نے مدینہ کو ہجرت فرمائی اور آپ کی ہجرت فتح کا ذریعہ بنی۔ پھر جتنے غزوات میں حضور ﷺ نے مشرکین سے قتال فرمایا آپ کسی سے غیر حاضر نہ ہوئے۔ پھر حضور ﷺ کی وفات اس حال میں ہوئی کہ وہ آپ سے راضی تھے۔ پھر آپ نے حضور ﷺ کے طریقہ کے مطابق حضور ﷺ کے بعد خلیفہ اول کی خوب زور دار مدد کی اور ماننے والوں کو لے کر آپ نے نہ ماننے والوں کا مقابلہ کیا، یہاں تک کہ لوگ طوعاً و کرہاً اسلام میں داخل ہو گئے (بہت سے لوگ خوشی سے داخل ہوئے، کچھ ماحول اور حالات سے مجبور ہو کر داخل ہوئے) پھر ان کا خلیفہ کا اس حال میں انتقال ہوا کہ وہ آپ سے راضی تھے۔ پھر آپ کو خلیفہ بنایا گیا اور آپ نے اس ذمہ داری کو اچھے طریقے سے انجام دیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعہ سے بہت سے نئے شہر آباد کرائے (جیسے کوفہ اور بصرہ) اور (مسلمانوں کے لئے روم فارس کے) سارے اموال جمع کر دیئے اور آپ کے ذریعہ دشمن کا قلع قمع کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے ہر گھر میں آپ کے ذریعہ دین کو بھی تر قیصا فرمائی اور رزق میں بھی وسعت عطا فرمائی اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاتمہ میں شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا، یہ مرتبہ شہادت آپ کو مبارک ہو۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم! تم (ایسی باتیں کر کے) جسے دھوکہ دے رہے ہو اگر وہ ان باتوں کو اپنے لئے مان جائے گا تو وہ واقعی دھوکہ دکھانے والا انسان ہے، پھر فرمایا: اے عبد اللہ! کیا تم قیامت کے دن اللہ کے سامنے بھی میرے حق میں ان تمام باتوں کی گواہی دے سکتے ہو؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا: جی ہاں۔ تو فرمایا: اے اللہ! تیرا شکر ہے (کہ میری گواہی دینے کے لیے حضور ﷺ کے چچا زاد بھائی تیار ہو گئے ہیں، پھر فرمایا)، اے عبد اللہ

بن عمر! میرے رخسار کو زمین پر رکھ دو۔ (حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں) میں نے ان کا سراپنی ران سے اٹھا کر اپنی پنڈلی پر رکھ دیا۔ تو فرمایا نہیں! میرے رخسار کو زمین پر رکھ دو۔ چنانچہ انہوں نے اپنی ڈاڑھی اور رخسار کو اٹھا کر زمین پر رکھ دیا۔ اور فرمایا: او عمر! اگر اللہ نے تیری مغفرت نہ کی تو پھر اے عمر! تیری بھی ہلاکت ہے اور تیری ماں کی بھی ہلاکت ہے، اس کے بعد ان کی روح پرواز کر گئی۔ رحمۃ اللہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تو ان حضرات نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس پیغام بھیجا۔ انہوں نے کہا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کو حکم دے گئے ہیں کہ آپ لوگ مہاجرین اور انصار سے اور جتنے لشکر یہاں موجود ہیں ان کے امراء سے مشورہ کریں۔ اگر آپ لوگ یہ کام نہیں کرو گے تو میں آپ لوگوں کے پاس نہیں آؤں گا۔ جب حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ کے انتقال کے وقت کے عمل کا اور ان کے اپنے رب سے ڈرنے کا تذکرہ کیا گیا تو انہوں نے کہا، مومن ایسے ہی کیا کرتا ہے کہ عمل بھی اچھے طریقے سے کرتا ہے اور اللہ سے بھی ڈرتا ہے اور منافق عمل بھی برے کرتا ہے اور اپنے بارے میں دھوکہ میں مبتلا رہتا ہے۔ اللہ کی قسم! گزشتہ زمانے میں اور موجودہ زمانے میں نے یہی پایا کہ جو بندہ اچھے عمل میں ترقی کرتا ہے وہ اللہ سے ڈرنے میں بھی ترقی کرتا ہے اور جو برے عمل میں ترقی کرتا ہے اس کا اپنے بارے میں دھوکہ بھی بڑھتا جاتا ہے۔

حضرت عمرو بن میمون حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ذکر کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے کہا، دیکھو! مجھ پر کتنا قرض ہے، اس کا حساب لگاؤ۔ انہوں نے کہا، چھبیس ہزار (86000) حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر عمر رضی اللہ عنہ کا خاندان کے مال سے یہ قرضہ ادا ہو جائے تو ان سے مال لے کر میرا یہ قرضہ ادا کر دینا۔ ورنہ (میری تو) بنو عدی بن کعب سے مانگنا۔ اگر ان کے مال سے میرا تمام قرضہ اتر جائے تو ٹھیک ہے ورنہ (میرے قبیلہ) قریش سے مانگنا ان کے بعد کسی اور سے نہ مانگنا اور میرا قرضہ ادا کر دینا۔ اور ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں جا کر سلام کرو اور ان سے کہو، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے دونوں ساتھیوں (حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ) کے ساتھ (حجرہ مبارک میں) دفن ہونے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتا اور اس کے ساتھ امیر المؤمنین نہ کہتا، کیونکہ میں آج امیر المؤمنین نہیں ہوں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں گئے تو دیکھا کہ وہ بیٹھی ہوئی رو رہی ہیں۔ سلام کر کے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ عمر بن خطاب اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، اللہ کی قسم! میں نے اس جگہ دفن ہونے کی اپنے لیے نیت کی ہوئی تھی، لیکن میں آج حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنے اوپر ترجیح دوں گی (یعنی ان کو اجازت ہے)۔ جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما واپس آئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، تم کیا جواب لائے ہو؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، انہوں نے آپ کو اجازت دے دی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا (اس وقت) میرے نزدیک اس کام سے زیادہ ضروری کوئی چیز نہیں ہے۔ پھر فرمایا جب میں مر جاؤں تم میرے جنازے کو اٹھا کر (حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے دروازے کے سامنے) لے جانا۔ پھر ان سے دوبارہ اجازت طلب کرنا اور یوں کہنا کہ عمر بن خطاب (حجرہ میں دفن ہونے کی) اجازت مانگ رہے ہیں اور اگر اجازت دے دیں تو مجھے اندر لے جانا (اور اس حجرہ میں دفن کر دینا) اور اگر اجازت نہ دیں تو مجھے واپس کر کے مسلمانوں کے عام قبرستان میں دفن کر دینا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جنازے کو اٹھایا گیا تو (سب کی چیخیں نکل گئیں اور) اور ایسا لگا کہ جیسے آج ہی مسلمانوں پر مصیبت کا پہاڑ ٹوٹا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے سلام کر کے عرض کیا کہ عمر بن خطاب (اندر دفن ہونے کی) اجازت طلب کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اجازت دے دی اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہما کے ساتھ دفن ہونے کا شرف عطا فرما دیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے انتقال کا وقت قریب آیا تو لوگوں نے کہا، آپ کسی کو اپنا خلیفہ مقرر کر دیں تو فرمایا میں (ان چھ آدمیوں کی) اس جماعت سے زیادہ کسی کو بھی امر خلافت کا حقدار نہیں پاتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حال میں انتقال ہوا تھا کہ وہ ان چھ سے راضی تھے۔ یہ جسے بھی خلیفہ بنا لیں وہی میرے



بعد خلیفہ ہوگا۔ پھر حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبدالرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ابی وقاص کے نام لئے۔ اگر خلافت حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو ملے تو وہی اس کے مستحق ہیں ورنہ ان میں سے جسے بھی خلیفہ بنایا جائے وہ ان سے مدد حاصل کرتا رہے کیونکہ میں نے ان کو (کوئی کی خلافت سے) کسی کمزور یا خیانت کی وجہ سے معزول نہیں کیا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے (اپنے بیٹے) عبداللہ رضی اللہ عنہ کے لئے یہ ملے کیا کہ یہ چھ حضرات الٰہ سے مشورہ لے سکتے ہیں لیکن ان کا خلافت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ جب یہ چھ حضرات جمع ہوئے تو حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا، اپنی رائے کو تین آدمیوں کے حوالے کر دو۔ چنانچہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنا اختیار علی رضی اللہ عنہ کو اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان بن عوف رضی اللہ عنہ کو دے دیا۔ جب ان تینوں کو اختیار مل گیا تو ان تینوں نے اکٹھے ہو کر مشورہ کیا اور حضرت عبدالرحمن رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ فیصلہ میرے حوالہ کر دو اور میں اللہ سے اس بات کا عہد کرتا ہوں کہ تم میں سے سب سے افضل آدمی کی مسلمانوں کے لئے سب سے زیادہ مفید شخص کی تلاش میں کمی نہیں کروں گا۔ دونوں حضرات نے کہا، ہم دونوں تیار ہیں۔ پھر حضرت عبدالرحمن رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے تنہائی میں بات کی اور کہا کہ آپ کو حضور ﷺ سے رشتہ داری بھی حاصل ہے اور اسلام میں سبقت بھی۔ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ اگر آپ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنا دوں تو کیا آپ ان کی بات سنیں گے اور مانیں گے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، جی ہاں۔ پھر حضرت عبدالرحمن رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے بات کی اور ان سے بھی یہی پوچھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا، جی ہاں۔ پھر حضرت عبدالرحمن رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا، اے عثمان رضی اللہ عنہ! آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں، چنانچہ انہوں نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور حضرت عبدالرحمن رضی اللہ عنہ نے ان سے بیعت کی پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ اور باقی لوگوں نے بیعت کی۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی موت کا وقت قریب آیا تو آپ نے کہا، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عثمان اور حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ چنانچہ یہ حضرات آگئے۔ ان حضرات میں سے صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے گفتگو فرمائی۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے علی رضی اللہ عنہ! یہ حضرات آپ کی حضور ﷺ سے رشتہ داری کو ان کے داماد ہونے کو بھی جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو علم اور فقہ عطا فرمایا ہے اسے بھی جانتے ہیں، لہذا اگر آپ کو خلیفہ بنا دیا جائے تو اللہ سے ڈرتے رہنا اور بنوقلاں (یعنی بنو ہاشم) کو لوگوں کی گردنوں پر نہ بٹھا دینا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے عثمان رضی اللہ عنہ! یہ حضرات اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ حضور ﷺ کے داماد ہیں اور آپ کی عمر زیادہ ہے اور آپ بڑی شرافت والے ہیں، لہذا اگر آپ کو خلیفہ بنا دیا جائے تو اللہ سے ڈرتے رہنا اور بنوقلاں (یعنی اپنے رشتہ داروں) کو لوگوں کی گردنوں پر نہ بٹھا دینا۔ پھر فرمایا، حضرت صہب رضی اللہ عنہ کو میرے پاس بلا کر لاؤ (وہ آئے تو) ان سے فرمایا، تم لوگوں کو تین دن نماز پڑھا۔ یہ (چھ) حضرات ایک گھر میں جمع رہیں، اگر یہ حضرات کسی ایک کے خلیفہ ہونے پر متفق ہو جائیں تو جو ان کی مخالفت کرے اس کی گردن اڑا دینا۔

حضرت ابو جعفر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرات شوزی سے فرمایا۔ آپ لوگ اپنے امر خلافت کے بارے میں مشورہ کریں (اور اگر رائے میں اختلاف ہو اور چھ حضرات) اگر دو اور دو اور دو ہو جائیں یعنی تین آدمیوں کو خلیفہ بنانے کی رائے بن رہی ہو تو پھر دوبارہ مشورہ کرنا اور اگر چار اور دو ہو جائیں تو زیادہ یعنی چار کی رائے کو اختیار کر لینا۔ حضرت اسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر رائے کے اختلاف کی وجہ سے یہ حضرات تین اور تین ہو جائیں تو جدھر حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ہوں ادھر کی رائے اختیار کر لینا اور ان حضرات کے فیصلہ کو سننا اور ماننا۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات سے تھوڑی دیر پہلے حضرت ابوطالب انصاری رضی اللہ عنہ کو بلا کر فرمایا: اے ابوطالب رضی اللہ عنہ! تم اپنی قوم انصار کے چچا آدمی لے کر ان حضرات شوزی کے ساتھ رہنا میرا خیال یہ ہے کہ یہ اپنے میں سے کسی ایک کے گھر

جمع ہوں گے تم ان کے دروازے پر اپنے ساتھی لے کر کھڑے رہنا اور کسی کو اندر نہ جانے دینا اور نہ ان کو تین دن تک چھوڑنا یہاں تک کہ یہ حضرات اپنے میں سے کسی کو امیر مقرر کر لیں۔ اے اللہ! تو ان میں میرا خلیفہ ہے۔ (انفاذ ذاتی ہیں، مضمون دیکھئے حیاۃ الصحاب، جلد ۲، صفحہ ۴۷ سے ۵۲)

### ﴿۱۵۶﴾ حل مشکلات کا نبوی نسخہ

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مشکل میں یہ دعا فرماتے:

﴿اللَّهُمَّ لَا سَهْلَ إِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْعُزَّ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا﴾

ترجمہ: "اے اللہ! کچھ آسان نہیں مگر جسے آپ آسان بنا دیں، آپ غم کو جب چاہیں آسان بنا دیں۔"

(ابن حبان، جلد ۳، صفحہ ۱۹۷، ابن ابی شیبہ، جلد ۱۰، صفحہ ۴۲۹)

### ﴿۱۵۷﴾ ہر نوح و غم دور کرنے کا نبوی نسخہ

﴿لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا مَدْجًا مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَهُ﴾

ترجمہ: "نہ کوئی قوت ہے، نہ طاقت ہے، نہ سوائے اللہ کے۔ نہ کوئی جائے پناہ ہے اللہ سے مگر اسی کی طرف۔"

(ابو نعیم، جلد ۳، صفحہ ۵۶۰، ابن ابی شیبہ، جلد ۱۰، صفحہ ۴۲۹)

### ﴿۱۵۸﴾ فقر دور کرنے کا نبوی نسخہ

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کو اس بات سے کون سی چیز روکتی ہے کہ جب تنگی معیشت ہو تو جب گھر سے نکلو تو پڑھو:

﴿بِسْمِ اللَّهِ عَلَى نَفْسِي وَمَالِي وَدِينِي اللَّهُمَّ رَضِي بِمَعْزَابِكَ وَبَارِكْ لِي فِيمَا قَدَّرَ لِي حَتَّى لَا أَحِبُّ تَعَجُّلَ مَا آخَرْتُ وَلَا تَأْخِيرَ مَا عَجَلْتُ﴾

ترجمہ: "اللہ کا نام اپنی جان، مال و دین پر، اے اللہ! اپنے فیصلہ سے مجھے راضی فرما دے اور جو مقدر فرمائیں اس میں برکت عطا فرماتا کہ جسے آپ تاخیر سے دیں اس میں جلدی اور جسے آپ جلدی نوازیں اس میں تاخیر میں نہ چاہوں۔"

(نزل الامرار، صفحہ ۲۶۳، ابن ابی شیبہ، جلد ۱۰، صفحہ ۴۳۰)

### ﴿۱۵۹﴾ امام حسن رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں عجیب دعا سکھائی

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا وظیفہ مقرر تھا، ایک لاکھ درہم۔ ایک ماہ وظیفہ آنے میں دیر ہو گئی اور بڑی تنگی آئی تو خیال آیا کہ خط لکھ کر یاد دلاؤں قلم اور دوات منگوا لیا پھر یکدم چھوڑ دیا۔ قلم کاغذ سرہانے رکھ کر سو گئے، خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، حسن! میرے بیٹے ہو کر مخلوق سے مانگتے ہو؟ کہا: تنگی آگئی ہے۔ تو فرمایا: تو میرے اللہ سے کیوں نہیں مانگتا؟ کہا: کیا مانگوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں مندرجہ ذیل دعا سکھائی:

﴿اللَّهُمَّ اقْذِفْ فِي قَلْبِي رَجَاءَكَ، واقْطَعْ رَجَائِي عَنْ سِوَاكَ حَتَّى لَا أَرْجُو أَحَدًا غَيْرَكَ اللَّهُمَّ وَمَا ضَعُفَتْ عَنْهُ قُرْبَتِي وَكُفِرَتْ عَنْهُ أَمَلِي، وَلَمْ تَنْتَه إِلَيَّ رَغْبَتِي وَلَمْ تَبْلُغْهُ مَسْأَلَتِي وَلَمْ يَجِرْ عَلَيَّ لِسَانِي مِمَّا أُعْطِيَ أَحَدًا مِنَ الْأَوْلِيَاءِ وَالْأَعْرَبِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَخَصِي بِهِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾

ترجمہ: "اے اللہ! ہمارے دل کو اپنی امیدوں سے وابستہ فرما، اور اپنے علاوہ سے ہماری امیدیں ختم فرما، یہاں تک کہ تیرے علاوہ کسی سے امید نہ ہو۔ اے اللہ! میری قوت کمزور ہوگئی، امید ختم ہوگئی اور میری رغبت تیری طرف ختم نہیں ہوئی، نہ میرا سوال تجھ تک پہنچ سکا اور میری زبان پر وہ یقین نہ جاری ہو سکا جو تو نے اولین و آخرین کو دیا اے رب العالمین مجھے بھی اس کے ساتھ خاص کر دے۔"

کیا زبردست دُعا ہے، بیٹا یہ دُعا مانگ۔ چند دن کے بعد ایک لاکھ کے بجائے پندرہ لاکھ پہنچ گیا۔

(شرح ابن ابی الدنیا: ۳..... ۸۶۔ الدعاء المسنون، صفحہ ۵۲)

### (۱۶۰) نعت

تمام دُنیا کے ہم ستائے، کھڑے ہوئے ہیں پیام لے لو  
نہیں ہے کوئی نا خدا ہمارا، خبر تو عالی مقام لے لو  
زمانہ ہم سے ہوا ہے بدظن، تم محبت سے کام لے لو  
بشکل رہبر چمپے ہیں رہزن، اٹھو ذرا انتقام لے لو  
تمام دُنیا خفا ہے ہم سے، خبر تو خیر الانام لے لو  
تم اپنے دامن میں آج آقا تمام اپنے غلام لے لو  
سناؤں ان کو میں حال دل کا، کہوں میں ان سے سلام لے لو  
تمام دُنیا کے ہم ستائے، کھڑے ہوئے ہیں پیام لے لو

(قاری محمد طیب صاحب بریلوی)

نبی اکرم شفیع اعظم، دُکھے دلوں کا سلام لے لو  
شکتہ کشتی ہے تیز دھارا، نظر سے روپوش ہے کنار  
قدم قدم پہ ہے خوف رہزن، زمین بھی دشمن فلک بھی دشمن  
عجیب مشکل میں کارواں ہے، نہ کوئی جاہ ہے نہ پاساں ہے  
کبھی تقاضا وفا کا ہم سے، کبھی مذاق جفا ہے ہم سے  
یہ کیسی منزل پہ آگئے ہیں، نہ کوئی اپنا نہ ہم کسی کے  
یہ دل میں ارماں ہے اپنے یونس مزار اقدس پہ جا کے ایک دن  
نبی اکرم شفیع اعظم، دُکھے دلوں کا سلام لے لو

### (۱۶۱) یار ہے یارب تو میرا

مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت خلق سے میں بیزار رہوں  
دُش رہے نہ مجھ کو کسی کا تیرا مگر ہوش یار رہے  
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  
تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں  
تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں  
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  
جن و انس و حور و ملائک عرش و کرسی چرخ و زمیں  
کوئی نہیں ہے کوئی نہیں کوئی نہیں ہے کوئی نہیں  
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  
تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں خالصہ دل آباد رہے  
سب کو نظر سے اپنی گرا دوں تجھ سے فقط فریاد رہے  
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

یار ہے یارب تو میرا اور میں تیرا یار ہوں  
ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست زوں سرشار ہوں  
اب تو رہے تادم آخر دردِ زباں اے میرے الہ  
تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں  
تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں  
اب تو رہے تادم آخر دردِ زباں اے میرے الہ  
دونوں جہاں میں جو کچھ ہے سب ہے تیرے زیر نگیں  
کون و مکان میں لائق سجدہ تیرے سوا اے نور میں  
اب تو رہے تادم آخر دردِ زباں اے میرے الہ  
یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے  
سب خوشیوں کو آگ لگا دوں غم سے تیرے دل شاد رہے  
اب تو رہے تادم آخر دردِ زباں اے میرے الہ

تیرا گدا بن کر میں کسی کا دست نگر اے شاہ نہ ہوں  
 راہ پہ تیری پڑ کے قیامت تک میں کبھی بے راہ نہ ہوں  
 اب تو رہے تادم آخر ورو زباں اے میرے اللہ  
 یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں  
 بندۂ مال و زر نہ بنوں طالب عز و جاہ نہ ہوں  
 چین نہ لوں میں جب تک راز وحدت سے آگاہ نہ ہوں  
 لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  
 مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت خلق سے میں بیزار رہوں

(۱۶۲) اللہ نے کان دودئیے ہیں (یعنی زیادہ سنو) زبان ایک دی ہے (یعنی ڈھنگ کا بولو اور کم بولو)

سخت بات سے اصلاح نہیں ہوتی:

نرم اور میٹھی بات کرنے کے لئے حق تعالیٰ نے بغیر ہڈی کے زبان بنائی ہے، جس طرح زبان میں ہڈی نہیں ہوتی اسی طرح تمہاری بات میں بھی ہڈی نہیں ہونی چاہئے، کیونکہ سخت بات سے عام طور پر اصلاح نہیں ہوتی۔

(۱۶۳) اللہ تک پہنچنے کے لئے بے شمار راستے ہیں

جب بندہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ بھی اسے قرب عطا فرماتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے:

﴿مَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ فِرَاقًا﴾

ترجمہ: ”جو میری طرف ایک باشت بڑھتا ہے، میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں۔“ جو میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔

دیکھئے! کس قدر پیار ہے اللہ کو اپنے بندوں سے لیکن اپنی طرف سے طلب تو ہو، وہ تو اس قدر مہربان ہے کہ ہماری طرف سے طلب میں ضرور ہنگامی فرماتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾ (پارہ ۲۱، سورۃ الحکمت، آیت ۶۹)

ترجمہ: ”اور جو لوگ ہماری راہ میں مشقت برداشت کرتے ہیں، ہم ان کو اپنے راستے ضرور دکھلاتے ہیں۔“

یعنی جو لوگ راہ خدا میں جدوجہد کرتے ہیں، ان کے لئے راستے کھول دیئے جاتے ہیں۔ بزرگوں کا قول ہے: طرق الوصول الی اللہ بعدد النفس الخلائق۔

معلوم ہوا کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے بے شمار راستے ہیں، ضروری نہیں کہ ہر ایک کے لئے ایک ہی طریقہ ہو، بلکہ حالات و صلاحیت کے لحاظ سے الگ الگ ہو سکتا ہے، عالم کے لیے الگ، اللہ کے علم والے کے لئے الگ اور کم فرصت والے کے لئے الگ الگ طریقے ہوں گے۔ تاہم شرط ایک ہے، طلب ہو، اس کی فکر اور لگن ہو۔

(۱۶۴) طلب مجنوں کی طرح

در راہ لیلیٰ خطرہ است بجاں شرط اول آنکہ تو مجنوں باشی

ترجمہ: ”لیلیٰ کی راہ میں جان کو خطرہ ہے، شرط یہ ہے کہ تو مجنوں بن جائے۔“

لہذا پہلے ہمیں اللہ کی راہ کا مجنوں بننا پڑے گا، اور جس کے پاس اللہ کی محبت ہے، اس کے پاس اٹھنا بیٹھنا پڑے گا۔ علماء، صلحاء اور بزرگوں کے پاس، ان کی مجلسوں میں آنا جانا ہوگا، پھر انشاء اللہ تم کو بھی وہ محبت کی آگ لگ جائے گی، اس کے بعد تو دل کی دنیا بدل جائے گی۔

جو خاصیت آگ کی ہے وہ خاصیت عشق کی ہے ایک خانہ بہ خانہ ہے ایک سینہ بہ سینہ ہے دنیا کی آگ سے جو قریب ہوتا ہے وہ آگ اس کو جلا دیتی ہے، اس طرح جن اللہ والوں کے دلوں میں عشق کی آگ ہے وہ ان سے قریب ہوتا ہے۔

### (۱۶۵) اصلی اور نقلی مجنوں

ایک دفعہ مجنوں ایک جگہ پر بیٹھا لیلیٰ کر رہا تھا، لیلیٰ نے اپنے خادم کو دودھ دے کر بھیجا کہ مجنوں کو پہنچا آؤ۔ ایک شخص نے دیکھا کہ مجنوں کے لئے دودھ جا رہا ہے، راستہ میں بناوٹی مجنوں بن کر بیٹھ گیا، خادم نے مجنوں سمجھ کر اس کو ہی دودھ دے دیا، اس نے پی لیا۔ خادم جب واپس پہنچا تو لیلیٰ نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا، مجنوں کو دے دیا اور اس نے پی لیا۔ دوسری دفعہ پھر بھیجا، پھر وہی بناوٹی مجنوں پی گیا۔ تیسرے دن بھی وہی پی گیا۔ لیلیٰ نے سوچا کہ امتحان لینا چاہئے۔ چنانچہ خادم کو چھری اور گلاس دے کر بھیجا اور کہا کہ جاؤ، مجنوں سے کہنا کہ لیلیٰ بیمار ہے اور حکیم نے کہا ہے کہ مجنوں کا خون پئے گی تو صحت یاب ہوگی، لہذا لیلیٰ کو تیرے خون کی ضرورت ہے۔ اب خادم نے اس سے جا کر کہا، اس نے کہا کہ بھائی! میں تو دودھ پینے والا مجنوں ہوں، خون دینے والا مجنوں نہیں۔ وہ تو جنگل میں بیٹھا ہے۔ چنانچہ خادم اصلی مجنوں کے پاس پہنچا تو اس نے فوراً اپنے بدن پر چاقو چلایا، لیکن خون نہیں نکلا کیونکہ لیلیٰ کے عشق میں اس کے بدن کا سارا خون ختم ہو گیا تھا۔

عشق مولیٰ کے کم از عشق لیلیٰ بود  
کوئے گشتن بہراد اولیٰ بود  
اندازہ لگائیے کہ لیلیٰ کے عشق میں مجنوں کتنا بے قرار ہوا کہ اس کے بدن کا سارا خون ختم ہو گیا، یہ دنیا کی محبت کا حال ہے، اصل اللہ کی محبت حاصل کرنی چاہئے۔

### (۱۶۶) محبت الہی کے ساتھ محبت نبوی

اللہ کی محبت کے ساتھ رسول اکرم ﷺ کی محبت بھی پیدا کرنی ضروری ہے۔ حضور اکرم ﷺ ارشاد فرماتے ہیں:

﴿لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أُوْكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدَيْهِ وَوَالِدَيْهِمْ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾  
ترجمہ: ”تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مؤمن نہیں بن سکتا، جب تک کہ اس کے والد، اولاد اور سارے لوگوں کے مقابلہ میں میں سب سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔“ (مسلم شریف: ۴۹)

یعنی جب ہر ایک کے مقابلہ میں سب سے زیادہ مجھ سے محبت ہوگی تو ہی اتباع و اطاعت ہو سکے گی، جس کو اطاعت کی توفیق مل جائے، نماز و روزہ کی توفیق ہو جائے تو فخر نہیں کرنا چاہئے، اور جو نماز اور زکوٰۃ کا پابند نہیں ہے، اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہئے بلکہ پیار و محبت سے سمجھانا چاہئے تاکہ اطاعت والی زندگی میں رنگ آجائے۔

### (۱۶۷) عرش جب میدان محشر میں اترے گا سارے فرشتے عجیب تسبیح پڑھیں گے، وہ تسبیح مندرجہ ذیل ہے

امام ابن جریر رحمہ اللہ نے یہاں پر ایک لمبی حدیث لکھی ہے جس میں صور وغیرہ کا مفصل بیان ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ سند وغیرہ میں یہ حدیث ہے، اس میں ہے کہ جب لوگ گھبرا اٹھیں گے تو انبیاء علیہم السلام سے شفاعت طلب کریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ایک ایک پیغمبر کے پاس جائیں گے اور وہاں سے صاف جواب پائیں گے، یہاں تک کہ ہمارے نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کے پاس پہنچیں گے۔ آپ ﷺ جواب دیں گے کہ میں تیار ہوں، میں ہی اس کا اہل ہوں۔ پھر آپ ﷺ جائیں گے اور عرش تلے جہدے میں گر پڑیں گے اور اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے کہ وہ بندوں کا فیصلہ کرنے کے لئے تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ

آپ کی شفاعت قبول فرمائے گا اور بادلوں کے سائبان میں آئے گا۔ آسمان دنیا ٹوٹ جائے گا اور اس کے تمام فرشتے آجائیں گے۔ پھر دوسرا بھی پھٹ جائے گا اور اس کے فرشتے بھی آجائیں گے۔ اسی طرح ساتوں آسمان شق ہو جائیں گے اور ان کے فرشتے آجائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا عرش اترے گا اور بزرگ تر فرشتے نازل ہوں گے اور خود وہ جبار خدا تشریف لائے گا، فرشتے سب کے سب تسبیح خوانی میں مشغول ہوں گے۔ ان کی تسبیح اس وقت یہ ہوگی:

﴿سُبْحَانَ ذِي الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوتِ سُبْحَانَ ذِي الْعِزَّةِ وَالْجَبَرُوتِ سُبْحَانَ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ ، سُبْحَانَ الَّذِي يُمِيتُ الْخَلَائِقَ وَلَا يَمُوتُ سُبُوهُ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ قُدُّوسٌ ، سُبْحَانَ رَبِّنَا أَعْلَى السُّلْطَانِ وَالْعَظْمَةِ ، سُبْحَانَهُ سُبْحَانَهُ أَبَدًا أَبَدًا﴾ (تفسیر ابن کثیر، جلد ۱، صفحہ ۳۸۸)

### ﴿۱۶۸﴾ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو

صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حجۃ الوداع کے اپنے خطبے میں فرمایا، لوگو! عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، تم نے اللہ کی امانت سے انہیں لیا ہے اور اللہ کے کلمہ سے ان کی شرمگاہوں کو اپنے لئے حلال کیا ہے۔ عورتوں پر تمہارا یہ حق ہے کہ وہ تمہارے فرش پر کسی ایسے کونہ آنے دیں جس سے تم ناراض ہو۔ اگر وہ ایسا کریں تو انہیں مارو لیکن ایسی مارن ہو کہ ظاہر ہو۔ ان کا تم پر یہ حق ہے کہ انہیں اپنی بساط کے مطابق کھلاؤ پلاؤ، پہناؤ اور زحماؤ۔ ایک شخص نے حضور ﷺ سے دریافت کیا کہ ہماری عورتوں کے ہم پر کیا حق ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: جب تم کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ، جب تم پہنو تو اسے بھی پہناؤ، اس کے منہ پر نہ مارو، اسے گالیاں نہ دو، اس سے روٹھ کر اور کہیں نہ بھیجو، وہاں گھر ہی میں رکھو۔ اسی آیت کو پڑھ کر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے کہ میں پسند کرتا ہوں کہ اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لئے میں بھی اپنی زینت کروں جس طرح وہ مجھے خوش کرنے کے لئے اپنا بناؤ سگھار کرتی ہے۔ (تفسیر ابن کثیر، جلد ۱، صفحہ ۳۱۳)

### ﴿۱۶۹﴾ آپ ﷺ بہت روئے

ابن مردودہ میں ہے حضرت عطاء رضی اللہ عنہما حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ عنہما حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما کے پاس آئے، آپ کے اور ان کے درمیان پردہ تھا۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہما نے پوچھا، عبید! تم کیوں نہیں آیا کرتے؟ حضرت عبید نے جواب دیا، اماں جان! صرف اس لئے کہ کسی شاعر کا قول ہے: زُرْغَبًا تَزُدُّ حَبًّا لَعْنَى كَمِ آوْنَاكَ مَحَبَّتِ بَرِّدْ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا، اب ان باتوں کو چھوڑ دو۔ مائی صاحبہ! ہم یہ پوچھنے کے لئے حاضر ہوئے ہیں کہ سب سے زیادہ عجیب بات جو آپ نے آنحضرت ﷺ کی دیکھی ہو وہ ہمیں بتاؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما رو دیں اور فرمانے لگیں، حضور ﷺ کے تمام کام عجیب تر تھے۔ اچھا ایک واقعہ سنو، ایک رات میری باری میں حضور ﷺ میرے پاس آئے اور میرے ساتھ سوئے پھر مجھ سے فرمانے لگے، عائشہ! میں اپنے رب تعالیٰ کی کچھ عبادت کرنا چاہتا ہوں، مجھے جانے دو۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ ﷺ خدا تعالیٰ کی قسم! میں آپ ﷺ کا قرب چاہتی ہوں اور یہ بھی میری چاہت ہے کہ اللہ عزوجل کی عبادت بھی کریں۔ اب آپ ﷺ کھڑے ہوئے اور ایک مشک میں سے پانی لے کر آپ ﷺ نے وضو کیا اور نماز کے لئے کھڑے ہو گئے، پھر جو رونا شروع کیا تو اتار دئے کہ داڑھی مبارک تر ہو گئی، پھر سجدے میں گئے اور اس قدر روئے کہ زمین تر ہو گئی، پھر کروٹ کے بل لیٹ گئے اور روتے ہی رہے یہاں تک کہ (حضرت بلال رضی اللہ عنہما نے آ کر نماز کے لئے بلایا اور آپ ﷺ کے آنسو رواں دیکھ کر دریافت کیا کہ اے خدا تعالیٰ کے سچے رسول ﷺ آپ کیوں رورہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو آپ ﷺ کے تمام اگلے پچھلے

گناہ معاف فرمادیے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا، بلال! میں کیوں نہ روؤں، مجھ پر آج کی رات یہ آیت اتری ہے: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ  
الْسَّنُونِبِ.....﴾ یعنی سورہ اہل عمران کا آخری رکوع و ایل یعنی ہلاکت ہے اس شخص کے لئے جو اسے پڑھے اور پھر اس میں غور و تدبر نہ  
کرے۔ (تفسیر ابن کثیر، جلد ۱، صفحہ ۳۹۵)

### ﴿۱۷۰﴾ مہمان کو کھلائیے، اللہ کے مقرب بن جاؤ گے

ابن ابی حاتم میں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت تھی کہ مہمانوں کے ساتھ کھائیں۔ ایک دن آپ مہمان کی جستجو میں نکلے لیکن  
کوئی نہ ملا۔ واپس آئے گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک شخص کھڑا ہے۔ پوچھا! اے اللہ کے بندے تجھے میرے گھر میں آنے کی  
اجازت کس نے دی؟ اس نے کہا: اس مکان کے حقیقی مالک نے۔ پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں ملک الموت ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے  
ایک بندے کے پاس اس لئے بھیجا ہے کہ میں اسے بشارت سنا دوں کہ خدا نے اُسے اپنا ظلیل کر لیا ہے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے  
کہا، پھر تو مجھے ضرور بتائیے کہ وہ بزرگ کون ہیں، خدا کی قسم وہ زمین کے کسی دور کے گوشے میں ہوں، میں ضرور جا کر ان سے ملاقات کروں گا،  
پھر اپنی باقی زندگی ان کے قدموں میں ہی گزار دوں گا۔ یہ سن کر حضرت ملک الموت نے کہا، وہ شخص خود آپ ہیں۔ آپ نے پھر در یافت فرمایا،  
کیا سچ بچھیں ہی ہوں؟ فرشتے نے کہا، ہاں! آپ ہی ہیں۔ آپ نے پھر در یافت فرمایا کہ کیا آپ مجھے یہ بھی بتائیں گے کہ کس بنا پر، کن امور  
پر اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا ظلیل بنایا؟ فرشتے نے فرمایا، اس لئے کہ تم ہر ایک کو دیتے رہتے ہو اور کسی سے خود کچھ طلب نہیں کرتے۔ روایت میں  
ہے کہ جب حضرت ابراہیم کو ظلیل خدا کے ممتاز اور مبارک لقب سے خدا نے ملقب کیا تب سے ان کے دل میں اس قدر خوف خدا اور بیعت  
رب سامگی کہ ان کے دل کا اچھلنا دور سے اس طرح سنا جاتا تھا جس طرح فضا میں پرند کی پرواز کی آواز۔ صحیح حدیث میں جناب رسول آخر  
الزماں ﷺ کی نسبت بھی وارد ہے کہ جس وقت خوف خدا آپ پر غالب آجاتا تھا تو آپ کے رونے کی آواز جسے آپ ضبط کرتے جاتے  
تھے اس طرح دور و نزدیک والوں کو سنائی دیتی تھی کہ جیسے کسی ہنڈیا کی کھد بد کی آواز ہو۔ (تفسیر ابن کثیر، جلد ۱، صفحہ ۶۳۳)

### ﴿۱۷۱﴾ توبہ کی پختگی کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا یہ بہت بڑا ذریعہ ہے

بخاری شریف کی روایت ہے کہ ننانوے (99) قتل کرنے والے نے سوچا کہ توبہ کر لوں، کسی اُن پڑھ سے پوچھا کہ توبہ کرنا چاہتا  
ہوں۔ اس نے کہا، آپ کی کوئی توبہ نہیں۔ اس نے کہا، پھر سوتل پورے کر دوں؟ تو اس کو بھی ختم کر دیا تو سو ہو گئے۔  
پھر کسی عالم سے پوچھا کہ میری توبہ ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا، ہاں! توبہ تو ہے لیکن یہ جگہ چھوڑ دو۔ اس نے کہا، بخشش ہو جائے گی،  
تو میں تیار ہوں۔ چل پڑے، راستے میں موت آگئی اور سزا بھی تھوڑی ہی طے ہوا تھا۔ اب تو مصیبت یہ ہے کہ نیک لوگوں کی بستی کہاں ہے  
۔ تو اس عالم نے کہا، بیٹا! بستی چھوڑ دو۔ اس نے کہا، بخشش ہو جائے گی، تو میں تیار ہوں۔ چل پڑے، راستے میں موت آگئی اور سزا بھی  
تھوڑی ہی طے ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے لئے نمونہ بنایا تھا، دو فرشتے آگئے جنت کے بھی اور دوزخ کے بھی۔ دوزخ والا کہتا ہے یہ  
ہمارا ہے، اور جنت والا کہتا ہے، یہ ہمارا ہے۔ جنت والے کہتے ہیں توبہ کر لی ہے۔ دوزخ والے کہتے ہیں، توبہ پوری ہی نہیں ہوئی،  
وہاں جا کے پوری ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تیسرا فرشتہ بھیجا، اس نے کہا، اس کے سفر کی مسافت کو بنا پورا کرو، اگر یہ یہاں سے گھر کے  
قریب ہے تو دوزخ ہی، اگر نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو جنت ہی۔ جب فاصلہ ناپنے لگے تو نیک لوگوں کی بستی کا فاصلہ زیادہ تھا اور اپنی بستی  
کا فاصلہ تھوڑا تھا، اللہ تعالیٰ نے گھر کی طرف والی زمین سے کہا، پھیل جاؤ اور بستی والی زمین سے کہا سکر جاؤ، تو وہ پھیل گئی اور یہ سکر تپ چلی  
گئی۔ یہاں چاروں طرف گند ہی گند ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت ہمیں ایک ماحول دیا ہے، دس بارہ آدمی ایک ایوانی فضا بنا کر چل رہے  
ہوتے ہیں اس کے اندر جو چلا جاتا ہے تو ایک ایسی فضا میں آجاتا ہے ان کے اعمال اگرچہ کمزور ہوتے ہیں، اس کے اندر آہستہ آہستہ اس

کے دل و دماغ میں تو بہ کی طاقت پیدا کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے چلا پھرتا ماحول ہمیں عطا فرما دیا ہے۔  
نوٹ: الفاظ ذاتی ہیں، یہ حدیث بخاری و مسلم میں ہے۔

## ﴿ ۱۷۲ ﴾ آپ ﷺ نے قبرستان میں عجیب بیان کیا

راء بن عازب رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ہم ایک انصاری کے جنازے میں نبی کریم ﷺ کے ساتھ چل رہے تھے، اور قبر تک پہنچے تو آنحضرت ﷺ ہاں بیٹھ گئے۔ ہم بھی آپ ﷺ کے اطراف بیٹھے تھے اور ایسے خاموش گویا پرندے ہمارے سروں پر بیٹھ گئے ہیں (ہمیں خاموش و بے حرکت دیکھ کر) آپ ﷺ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، زمین پر اس سے ایک حُفْل کے طور پر لکیریں کھینچ رہے تھے۔ پھر آپ ﷺ نے اپنا سر اٹھایا اور فرمانے لگے، عذابِ قبر سے خدا کی پناہ مانگو، دو یا تین دفعہ فرمایا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ مومن جب دُنیا سے اٹھنے لگتا ہے اور آخرت کا رخ کرتا ہے تو آسمان سے روشن چہرے والے فرشتے اترتے ہیں، جنت کا کفن لیے ہوئے ہوتے ہیں اور جنت کی خوشبوئیں ساتھ لاتے ہیں۔ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ جہاں تک نظر کام کرتی ہے فرشتے ہی فرشتے ہوتے ہیں۔ پھر ملک الموت آ کر اس کے سر ہانے بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں: ”اے مطمئن روح! مغفرتِ خداوندی کی طرف چل۔“ یہ سنتے ہی روح نکل پڑتی ہے جیسے مشک کے منہ سے پانی کے قطرے نکلنے لگتے ہیں، روح نکلتے ہی چشمِ زدن میں وہ اس کو جنتی کفن پہنا دیتے ہیں اور جنتی خوشبوئیں اُس کو بساتے ہیں، وہ مشک کی ایسی بہتر خوشبو ہوتی ہے کہ دُنیا میں جو بہترین ہو سکتی ہے اس کو لے کر آسمان پر چڑھنے لگتے ہیں۔ جہاں کہیں سے گزرتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں کہ یہ کس کی پاک روح لے جا رہے ہو؟ کہا جاتا ہے کہ فلاں ابن فلاں کی۔ آسمان تک پہنچ کر دروازہ کھول دیا جاتا ہے ان کے ساتھ دوسرے تمام فرشتے بھی آسمان دوم تک ساتھ آتے ہیں۔ اسی طرح آسمان پہ آسمان ساتویں آسمان تک پہنچتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے اس بندے کو علمین کے دفتر میں لکھ لو اور زمین کی طرف واپس کر دو۔ کیونکہ میں نے اس کو مٹی ہی سے پیدا کیا ہے۔ اسی کے اندر اس کو واپس کرتا ہوں اور پھر دوبارہ اُسی کے اندر سے اس کو اٹھاؤں گا۔

اب اس کی روح واپس کی جاتی ہے، یہاں دو فرشتے آتے ہیں، اس کے پاس بیٹھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا رب ہے۔ پھر پوچھتے ہیں تمہارا دین کون سا ہے؟ وہ کہتا ہے، اسلام میرا دین ہے۔ پھر پوچھتے ہیں، وہ کون شخص ہیں جو تمہاری طرف بھیجے گئے تھے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ خدا کے رسول تھے۔ پھر پوچھتے ہیں کہ تمہارا ذریعہ علم کیا تھا وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی، اس پر ایمان لایا تھا۔ اب آسمان سے ایک ندا آتی ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا۔ اس کے لیے جنت کا فرش لاؤ، جنت کے کپڑے پہناؤ اور جنت کا ایک دروازہ اس کے لئے کھول دو تا کہ جنت کی ہو اور خوشبو اُس کو پہنچتی رہے۔ اس کی قبر تاحدنگاہ کشادہ ہو جاتی ہے۔ ایک خوبصورت شخص اچھے لباس میں خوشبو میں بسا ہوا اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے خوش ہو جاؤ کہ تم سے جو وعدہ کیا گیا تھا آج پورا کیا جاتا ہے۔ وہ پوچھتے گا، تم کون ہو؟ وہ شخص کہے گا، میں تمہارا عمل صالح ہوں۔ تو متونی کہے گا، اے خدا! اسی وقت قیامت قائم کر دے، میں اپنے اہل اور مال سے ملوں گا۔

آپ ﷺ نے فرمایا کہ کافر جب دُنیا سے منہ موڑنے لگتا ہے تو سیاہ رنگ کے فرشتے ٹاٹ لئے ہوئے آ پہنچتے ہیں اور تاحد نظر ہوتے ہیں۔ اب ملک الموت آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے خبیث روح! نکل اور خدا کی ناراضی اور غضب کی طرف جا تو وہ جسم کے اندر گھسنے لگتی ہے۔ فرشتے اس کو کھینچ کر نکالتے ہیں جیسے کہ لوہے کی سِخ بھیکے ہوئے بالوں کے اندر سے نکالی جاتی ہے۔ وہ اس کو لیتے ہی طرفہ العین میں ٹاٹ کے اندر لپیٹ لیتے ہیں، اس کے اندر سے سڑے ہوئے مردار کی طرح بد بو نکلتی ہے، اس کو لے کر آسمان پر چڑھتے ہیں اور جہاں کہیں سے گزرتے ہیں فرشتے پوچھتے ہیں، یہ کس کی خبیث روح ہے؟ کہا جاتا ہے کہ فلاں ابن فلاں کی۔ اور جب آسمان پر پہنچ کر



کہتے ہیں کہ دروازہ کھولو! تو نہیں کھولا جاتا ہے۔ پھر آپ ﷺ نے لَا تَفْتَحُوا والی آیت پڑھی۔ اب اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس کو زمین کے طبقہ تھین میں لے جاؤ۔ چنانچہ اس کی روح وہاں پھینک دی جاتی ہے۔ پھر آپ ﷺ نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ ”جو اللہ کا شرک کرتا ہے گویا آسمان سے گر پڑا اور پرندے اس کا گوشت نوچ رہے ہوں یا ہوائیں دور دراز اس کو لیے اُڑ رہی ہوں۔“ اس کی روح اس کے جسم میں واپس کر دی جاتی ہے، دو فرشتے آکر پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے، افسوس! میں نہیں جانتا۔ پھر پوچھتے ہیں، تیرا دین کون سا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے، ہائے! میں واقف نہیں۔ اب دریافت کرتے ہیں کہ تیری طرف کون بھیجا گیا؟ وہ کہتا ہے، حیف مجھے علم نہیں۔ اب آسمان سے ندا آتی ہے کہ میرا بندہ جھوٹ کہتا ہے، اس کے لیے دوزخ کا فرش لاؤ اور دوزخ کا دروازہ اس پر کھول دو تا کہ اس کو دوزخ کی حرارت اور بادِ گرم پہنچتی رہے۔ اس کی قبر اس پر تنگ ہو جاتی ہے اور اتنا دباتی ہے کہ بڑی پسلی مل جائے۔ ایک قبیح چہرے والا میلے کپیلے کپڑے پہنے بد بودار اُس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے تجھے اپنی بد بختیوں کی بشارت ہے یہ وہی دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ تھا۔ وہ پوچھتا ہے، تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے، میں تیرا عمل بد ہوں، کافر کہنے لگتا ہے کہ خدا کرے قیامت قائم نہ ہو (تا کہ مجھے دوزخ میں نہ جانا پڑے)۔ براء عازب رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ہم آنحضرت ﷺ کے ساتھ باہر نکلے، جنازے کے ساتھ تھے، (باقی بیان سابقہ بیان کی طرح ہے) حتیٰ کہ مومن کی روح جب نکلتی ہے تو آسمان و زمین کے فرشتے اس کے لئے رحمت کی دُعا کرتے ہیں، اس کے لئے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، سارے فرشتوں کی دُعا یہی ہوتی ہے کہ اس کی روح کو ہمارے سامنے سے لیتے جائیں۔ کافر کی روح پر ایک ایسا فرشتہ متعین ہوتا ہے جو اندھا، بہرا اور گونگا ہے۔ اس کے ہاتھ میں گرز ہوتا ہے کہ اگر پہاڑ پر مارے تو ریزہ ریزہ ہو جائے، پھر وہ جیسا تھا ویسا بحکم خدا بن جاتا ہے۔ پھر ایک اور مار پڑتی ہے، وہ چیخ اُٹھتا ہے کہ جن دانس کے سوا ہر مخلوق سستی ہے۔ اب دوزخ کا دروازہ کھل جاتا ہے اور آگ بجھ جاتی ہے۔ (تفسیر ابن کثیر، جلد ۲، صفحہ ۱۷۲)

### ﴿۱۷۳﴾ آسمان کے فرشتے ذراتِ زمین سے زیادہ تعداد میں ہیں

کعبہ اور مسجدِ نبویہ ﷺ کہتے ہیں کہ سونے کی نوک برابر بھی کوئی جگہ زمین میں ایسی نہیں جہاں کوئی فرشتہ تسبیحِ خدا میں مصروف نہ ہو اور آسمان کے فرشتے ذراتِ زمین سے زیادہ تعداد میں ہیں اور عرش کے حامل فرشتوں کے نچنے سے ساق تک کی مسافت ایک سو برس کی مسافت ہے۔ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے آپ ﷺ نے فرمایا، کیا تم وہ سنتے ہو جو میں سنتا ہوں؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہم تو کچھ نہیں سن رہے ہیں۔ تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ میں آسمان کا چرچا سنا رہا ہوں اور وہ کیوں نہ دے اور کیوں نہ چرچائے آسمان میں بالشت بھر جگہ بھی تو ایسی نہیں جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ سجدہ یا قیام میں موجود نہ ہو۔

(تفسیر ابن کثیر، جلد ۲، صفحہ ۴۱۸)

### ﴿۱۷۴﴾ ایک آیت اُتری اور سارے جناتِ شہروں سے نکل پڑے

﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأُمُورَ مَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ دُونِهِ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ (سورہ یونس، پارہ ۱۱، آیت ۳)

ترجمہ: ”بلاشبہ تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ روز میں پیدا کر دیا پھر عرش پر قائم ہوا وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے پاس سفارش کرنے والا نہیں، ایسا اللہ تمہارا رب ہے سو تم اس کی عبادت کرو، کیا تم پھر بھی نصیحت نہیں کھرتے۔“

ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام عالم کا پروردگار ہے اس نے زمینوں اور آسمانوں کو چھ دن میں پیدا کیا، کہا گیا ہے کہ یہ دن ہمارے دنوں کے جیسے تھے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہزار سال کا ایک دن تھا، جس کا بیان آگے آئے گا، پھر وہ عرش عظیم پر متمکن ہو گیا اور عرش سب مخلوقات میں سب سے بڑی مخلوق ہے، وہ سرخ یا قوت کا بنا ہوا ہے یا یہ کہ وہ بھی خدا کا ایک نور ہے، خدا سارے خلائق کا مدبر سر پرست اور کفیل ہے۔ اس کی نگہداشت سے زمین یا آسمانوں کا ایک ذرہ بھی بچایا چھوٹا نہیں۔ ایک طرف کی توجہ اس کو دوسری طرف کی توجہ سے نہیں روک سکتی اس کے لیے کوئی بات بھی غلط طور پر باقی نہیں رہ سکتی۔ پہاڑوں، سمندروں، آبادیوں اور جنگلوں کہیں بھی کوئی بڑی تدبیر چھوٹی طرف دھیان سے اس کو نہیں روک سکتی، کوئی جاندار بھی دنیا میں ایسا نہیں جس کا رزق خدا کے ذمہ نہ ہو، ایک چیز بھی حرکت کرتی ہے، ایک پتہ بھی گرتا ہے تو وہ اس کا علم رکھتا ہے۔ زمین کی تاریکیوں میں کوئی ذرہ ایسا نہیں اور نہ کوئی تر و خشک ایسا ہے جو اس کے لوح محفوظ یعنی کتاب علم میں نہ ہو، جس وقت یہ آیت اتری:

﴿إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ.....﴾

مسلمانوں کو ایک بڑا قافلہ آنا دکھائی دیا، معلوم ہو رہا تھا کہ بدوی لوگ ہیں۔ لوگوں نے پوچھا، تم کون ہو؟ تو کہا، ہم جن ہیں، اس آیت کے سبب ہم شہر سے نکل پڑے ہیں۔ (تفسیر ابن کثیر، جلد ۲، صفحہ ۴۳۳)

### ﴿۱۷۵﴾ اللہ کی قدرت

﴿قُلْ أَنْظَرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ۝ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا آيَاتِي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ۝ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نَجِ الْمُؤْمِنِينَ ۝﴾ (سورہ یونس، آیت: ۱۰۱-۱۰۳)

ترجمہ: ”آپ کہہ دیجئے کہ تم غور کرو کہ کیا کیا چیزیں آسمانوں میں اور زمین میں ہیں اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کو نشانیاں اور دھمکیاں کچھ فائدہ نہیں پہنچاتیں، سو وہ لوگ صرف ان لوگوں کے سے واقعات کا انتظار کر رہے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ آپ فرمادیں گے کہ اچھا تو تم انتظار میں رہو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ پھر ہم اپنے پیغمبروں کو اور ایمان والوں کو بچا لیتے تھے اسی طرح ہمارے ذمہ ہے کہ ہم ایمان والوں کو نجات دیا کریں۔“

تشریح: اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی رہنمائی فرما رہا ہے کہ ساری کائنات میں ہماری جو نشانیاں جیسے آسمان، ستارے، سیارے، شمس و قمر، لیل و نہار پھیلی ہوئی ہیں ان پر نظر بصیرت ڈالو کہ رات میں دن کیسے داخل ہو جاتا ہے، اور دن میں رات کیسے داخل ہو جاتی ہے، کبھی دن بڑا اور کبھی رات بڑی۔ آسمان کی بلندی اور پھیلاؤ، سیاروں سے اُس کی زیب و زینت آسمان سے پانی برسا، زمین کا سوکھ جانے کے بعد پھر زندہ دوسر بنر ہو جانا۔ درختوں میں پھل، پھول، ہلکیاں پیدا ہونا، مختلف نباتات کا اگنا، مختلف نوع کے جانور، ان کی شکلیں الگ الگ، ان کے رنگ، ان کے اقادات سب الگ الگ، پہاڑ، چٹیل، میدان، جنگل، باغ، آبادیاں اور ویرانے، سمندر کی تہہ کے عجائبات، موجیں، ان کے مد و جزر، اس کے باوجود سفر کرنے والوں کے لئے سمندر کا مسخر ہو جانا، جہازوں کا چلنا یہ سب خدائے قادر کی نشانیاں ہیں جس کے سوا کوئی دوسرا خدا ہے ہی نہیں۔ لیکن افسوس کہ یہ ساری نشانیاں کافروں کے غور و فکر کا کچھ بھی سبب نہیں بنتیں۔ خدا کی دلیل ثابت ہو چکی ہے، ایمان نہیں لاتے ہیں نہ لائیں، یہ لوگ تو انہی عذاب کے دنوں کا انتظار کر رہے ہیں جس سے سابقہ پہلے کی قوموں کو پڑا تھا۔ اے نبی! کہہ دو کہ یہ وقت کا انتظار کر دینا بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنا ہوں اور جب ختم انتظار پر عذاب آجائے گا تو پھر ہم اپنے رسولوں کو بچالیں گے اور ان کی امت کو بھی۔ اور پیغمبروں کا انکار کرنے والوں کو ہلاک کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے لیا ہے کہ مؤمنین کو

پجالے۔ جیسے کہ نیکو کاروں پر رحمت اپنے ذمہ لے لی ہے۔ صحیحین میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب لوح محفوظ جو عرش پر ہے اس میں مکتوب ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ (تفسیر ابن کثیر، جلد ۲، صفحہ ۲۷۶)

### ﴿۱۷۶﴾ محمد بن قاسم کا ایک گھرا جڑ گیا اور لاکھوں کروڑوں انسان اسلام میں آ گئے

محمد بن قاسم رضی اللہ عنہ جن کے ذریعہ سے سندھ اور پنجاب مسلمان ہوا ان کی شادی کو چار مہینے ہوئے تھے، ان کے چچا حجاج ابن یوسف نے اپنی بیٹی نکاح میں دی تھی، چار مہینے بعد ان کو بھیجا تھا، سو دو سال تک وہ یہاں رہے ہیں۔ آج تک مسلمانوں کے نامہ اعمال ان کے نام پر جا رہے ہیں، ساڑھے دو سال بعد گرفتار ہوئے، سلیمان کے ظلم کا شکار ہوئے، جیل میں شہید ہوئے، اپنے گھر کو صرف چار مہینے آباد رکھ سکے، اور ہمیشہ کے لئے دنیا چھوڑ گئے لیکن کروڑوں انسانوں کو ہدایت کا اجر و ثواب اپنے نامہ اعمال میں لکھوائے گئے اور ابھی تک لکھا جا رہا ہے۔ جب ان کو شہید کیا جانے لگا تو کہنے لگے: **أَضَاعُونِي وَأَيُّ فَتْنٍ أَضَاعُوا** انہوں نے مجھے ضائع کیا اور کیسے جو ان کو ضائع کیا۔ جو ان کی حدود کی حفاظت کرتا تھا اور مشکل وقت میں ان کے کام آتا تھا آج اس کو انہوں نے ضائع کر دیا۔

محمد بن قاسم رضی اللہ عنہ کا ایک گھرا جڑ گیا اور لاکھوں کروڑوں انسان اسلام میں آ گئے۔ (اصلاحی واقعات، صفحہ ۲۷۶)

ایک اللہ والے نے ملک کا فور احمد بن طولون کو نصیحت کی، تو اس کو غصہ آ گیا، ان کے ہاتھ اور پاؤں باندھ کے بھوکے شیروں کے سامنے ڈال دیا اور اعلان کر دیا کہ بادشاہ کے سامنے گستاخی کرنے والے کا انجام ایسا ہوتا ہے۔ جب سب اکٹھے ہو گئے تو ایک بھوکا شیر آ کر اپنی زبان سے ان کے پاؤں اور ہاتھوں کو چاٹنے لگا جیسے جانور اپنے بچوں کو زبان سے چاٹتے ہیں۔

یہ جانور کی محبت اور پیار کا طریقہ ہے، وہ شیر اس اللہ والے کے پیر چاٹ رہا تھا تو ان پر بھی لرزہ طاری ہو گیا کہ میں ابھی اس کے منہ میں جاؤں گا اس کے بعد ان کے ہاتھ اور پاؤں کھول کر باہر لایا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ جب شیر آپ کے پاؤں چاٹ رہا تھا تو آپ اپنے دل میں کیا سوچ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں سوچ رہا تھا کہ میرے پاؤں پاک ہیں یا ناپاک ہیں۔ اللہ کی عظمت دل میں اتر جاتی ہے تو شیر کو بھی اللہ تعالیٰ بکری بنا دیتا ہے اور ہم انسان نما بکریوں سے ڈرتے ہیں اور اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں۔ (اصلاحی واقعات، صفحہ ۲۷۸)

### ﴿۱۷۷﴾ جو حد سے زیادہ خرچ کرتا ہے وہ تھک کر بیٹھ جاتا ہے

﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ۝ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ

لِيَن يَشَاءَ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا﴾ (سورہ نبي اسرا، آیت: ۲۹، ۳۰)

حکم ہو رہا ہے کہ زندگی میں اپنی میانہ روئش رکھو، نہ بخیل بنو، نہ سرف، ہاتھ گردن سے نہ باندھ لو، یعنی بخیل نہ بنو کہ کسی کو نہ دو۔ یہودیوں نے بھی اسی حکم اورے کو استعمال کیا ہے اور کہا ہے کہ خدا کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ ان پر خدا کی لعنتیں نازل ہوں کہ یہ خدا کو بخیل کی طرف منسوب کرتے ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ کریم و وہاب پاک اور بہت دور ہے۔ پس بخل سے منع کر کے پھر اسراف سے روکتا ہے کہ اتنا کھیل نہ کھیلو کہ اپنی طاقت سے زیادہ دے ڈالو۔ پھر ان دونوں حکموں کا سبب بیان فرماتا ہے کہ بخیلی سے تو ملاحتی بن جاؤ گے۔ ہر ایک کی انگلی اٹھے گی کہ یہ بڑا بخیل ہے ہر ایک دور ہو جائے گا کہ یہ محض بے فیض آدمی ہے۔ جیسے زہیر نے اپنے معلقہ میں کہا ہے:

وَمَنْ كَانَ فَا مَالٍ وَيَبْخُلُ بِمَالِهِ  
عَلَىٰ قَوْمِهِ يَسْتَفْنُ عَنْهُ وَيَذُمَّهُ

یعنی جو مالدار ہو کر بخیل کرے لوگ اس سے بے نیاز ہو کر اس کی برائی کرتے ہیں۔ پس بخیلی کی وجہ سے انسان بُرا بن جاتا ہے اور لوگوں کی نظروں سے گر جاتا ہے، ہر ایک اسے ملامت کرنے لگتا ہے اور جو حد سے زیادہ خرچ کر گزرتا ہے وہ تھک کر بیٹھ جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہتا، ضعیف اور عاجز ہو جاتا ہے، جیسے کوئی جانور جو چلتے چلتے تھک جائے اور راستے میں اڑ جائے۔ (تفسیر ابن کثیر، جلد ۳، صفحہ ۱۹۷)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تصحیح و اضافہ شدہ

حصہ ہفتم

# یکھرتی

حضرت مولانا محمد یونس پانپوری فظیہ العالی

انتخاب و ترتیب

صاحبزادہ محترم حضرت مولانا مبلغ اعظم محمد سعید صاحب پانپوری رحمۃ اللہ علیہ

حضرت مولانا مفتی محمد امین صاحب پانپوری فظیہ العالی

تصحیح و نظر ثانی

حق سٹریٹ اردو بازار لاہور  
مکتبہ عالیہ

## جملہ حقوق محفوظ ہیں

نام کتاب	.....	بکھرے موتی
انتخاب و ترتیب	.....	حضرت مولانا محمد یونس پالنپوری مدظلہ العالی
تصحیح و عمر ثانی	.....	صاحبزادہ محترم حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>
باہتمام	.....	حضرت مولانا مفتی محمد امین صاحب پالنپوری <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>
مطبع	.....	محمد قیصر محمود مہاروی
ناشر	.....	لعل سار پرنٹرز
	.....	<b>مکتبہ عائشہ</b>

حق سٹریٹ اردو بازار لاہور 42-7360541

ملنے کے پتے

ادارہ اسلامیات انارکلی لاہور	حق پبلی کیشنز اردو بازار لاہور
شعبہ بک ایجنسی اردو بازار لاہور	کتب خانہ رشید یہ راجہ بازار راولپنڈی
ملت پبلی کیشنز اسلام آباد	مکتبہ رشید یہ کمیٹی چوک راولپنڈی
احمد بک کارپوریشن راولپنڈی	دارالمطالعہ نزد پرانی ٹینگی حاصل پور منڈی
کتابستان شاہی بازار بہاول پور	اقبال بک سنٹر جہانگیر پارک صدر کراچی
مکتبہ دارالقرآن اردو بازار کراچی	قدیمی کتب خانہ آرام باغ کراچی
دارا خلاص محلہ جنگلی، پشاور	ادارہ الانور بنوری ٹاؤن کراچی
مکتبہ قاسمیہ ملتان	مکتبہ القرآن بنوری ٹاؤن کراچی
کتاب خانہ مظہری گلشن اقبال کراچی	ادارۃ المعارف دارالعلوم کراچی
مکتبہ رشید یہ سرکی روڈ کوئٹہ	مکتبہ امدادیہ ملتان
مکتبہ حقانیہ ملتان	مکتبہ اسلامیہ کوئٹہ راول فیصل آباد

## فہرست (ہفتم)

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
693	دیندار غرباء اللہ کے قریب ہوں گے		حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری
693	دوست کو دوست کیوں کہتے ہیں؟	681	پہلے کا استقبال انتقال کے بعد
693	حضرت حسن بھری کی سوانح حیات پڑھ لیجئے	681	ناپیداؤں کے لئے خاص فضیلت
	ایران کی تین شہزادیوں نے مدینہ منورہ کے تین		وہ گناہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہواؤں کو پاگل،
699	دیندار لڑکوں کو پسند کیا	681	زمینوں کو بے وفا اور سمندروں کو سرکش بنا دیتے ہیں
706	حضرت ثمامہ بن اثمال رضی اللہ عنہما کا واقعہ	682	والدہ کی فرمانبرداری کا عجیب واقعہ
	پوشیدہ قرضہ ادا کر دیجئے جس حور سے چاہیں نکاح کر لیجئے	682	ماں کی نافرمانی قیامت کی علامت ہے
709	اور جس دروازے سے چاہیں جنت میں داخل ہو جائیے	682	لمحوں نے خطا کی صدیوں نے سزا پائی
	مسلمان رسم و رواج ٹوٹنے پر تڑپتے ہیں اور سنت	683	عبرت انگیز مکالمہ
710	نبوی ﷺ کے چھوٹے پرنس سے کس نہیں ہوتے	683	ماں کی خدمت سے کبیرہ گناہوں کی معافی
711	برش، منجن اور ٹوتھ پیسٹ سے مسواک کا ثواب نہیں ملے گا	684	اولاد سے عام شکایت
711	مسواک کرتے وقت یہ نیت کیجئے	684	معصوم بچی کا حسرت ناک واقعہ
711	مسواک کرنے کا مسنون طریقہ	685	عبرت ناک کارگزاری
712	مسواک پکڑنے کا مسنون طریقہ		فرزدق کے دادا نے ۹۴ بچیوں کو ظالم باپوں کے
712	مسواک کی موٹائی کتنی ہو؟	686	چنگل سے بچالیا
712	مسواک کی لمبائی کتنی ہو؟	687	حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ عنہما میں نوک جھوک
	مسواک کو بچھا کر نہ رکھئے بلکہ کھڑی کر کے رکھئے،	687	حضرت یعقوب کی ایک عجیب تمنا
712	جنون سے حفاظت ہوگی	687	عظیم ماں کی تربیت لوگوں کی تقدیریں بدل دیتی ہے
	مسواک کرنے میں مندرجہ ذیل باتوں کا خیال	689	مناسب رشتے کی تلاش
712	رکھئے ورنہ کئی بیماریوں کا اندیشہ ہے	689	شریک حیات کے انتخاب کا معیار
713	بلا اجازت دوسرے کی مسواک استعمال کرنا مکروہ ہے	690	رسول اللہ ﷺ کی ہدایت
713	دیندار کے ساتھ دشمنی نہ رکھئے	691	ذرا غور کریں: مرنے سے پہلے موت کی تیاری کیجئے
713	نفس کے باریک باریک دھوکوں سے بچئے	691	قرآن پاک کا ادب و احترام
713	مخالف کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کیجئے	692	مال سے ہم کتابیں تو خرید سکتے ہیں علم نہیں خرید سکتے

728	کہ سنت ہی تو ہے فرض تو نہیں ہے	714	حکیم ترمذی کا عجیب خواب
728	ایک عجیب واقعہ: ہار بھی ملا ہار والی بھی ملی		گھر میں داخل ہو کر سورۃ الاخلاص پڑھ لیجئے
729	اختلاف اتحاد کو لے ڈوبتا ہے	715	انشاء اللہ روزی میں برکت ہوگی
729	جب کسی محفل میں لوگ ہماری تعریف کریں تو خاموش رہا کریں	715	حضرت عبداللہ بن مبارک کا انتقال کیسے ہوا؟
729	اکتیس (۳۱) اہم نصیحتیں	715	جو حال آدمی کو اللہ سے قریب کر دے وہ اچھا حال ہے
737	چھ لاکھ سیٹوں والا ہوائی جہاز		مالک تو سب کا ایک، مایک کا کوئی ایک ہزاروں میں
737	دعوت کا کام فرض ہے یا واجب یا سنت؟	716	نہ ملے گا لکھوں میں تو دیکھ
737	جنت کے ہوائی جہازوں میں سونے کر کرسیاں ہوں گی	716	کتے کی دس صفات
738	جنت کا درخت جس کی جڑ میں سے دو نہریں نکلتی ہیں	717	گناہ کرنے کی چار وجوہات ہیں
	مندرجہ ذیل کلمات پڑھ لیجئے اور چھ بڑی بڑی		حضرت جنید بغدادی نبی کریم ﷺ کی قرابت
739	فضیلتیں حاصل کر لیجئے	718	کے واسطے کی خاطر بالقصد کشتی ہار گئے
739	رسول اللہ ﷺ کی خانگی زندگی		اللہ نے کہا تو نے اسے میری بندی سمجھ کر معاف کر دیا،
739	ایک سادہ انسانی زندگی	718	جا میں تجھے اپنا بندہ سمجھ کر معاف کر دیتا ہوں
740	ازواج مطہرات کے ساتھ حسن معاشرت	719	خواب میں کھارا پانی اپنے کھیت میں دیکھنا اور اس کی تعبیر
	آپ ﷺ نے حضرت عائشہ صدیقہ کبریٰ سے فرمایا	719	حضرت عقبہ بن عامر کو حضور کی بڑی عجیب نصیحت
740	کہ حساب کتاب برابر ہو گیا	719	”اللہ کا رنگ اختیار کرو“ اس کا کیا مطلب ہے؟
741	بچوں سے محبت اور شفقت	720	سو (۱۰۰) بکھرے موتی پڑھ لیجئے
743	خادموں کے ساتھ برتاؤ		مسجد میں داخل ہوتے ہی یہ دُعا پڑھ لیجئے، شیطان
743	رسول اللہ ﷺ کے معمولات	725	سے آپ کی حفاظت ہو جائے گی
744	خانہ نبوی ﷺ کا زہدانہ ماحول	726	ایک قیمتی نصیحت: حضور کی شفقت و دلجوئی کا عجیب واقعہ
746	حضرت عمر رضی اللہ عنہما کا ایک تحریری فتویٰ		ایک قیمتی نصیحت: حضور اکرم ﷺ کا بیمار کی مزاج پرسی
746	ایک نو مسلمہ عورت کی عجیب کارگزاری	726	کا عجیب واقعہ
748	خواب کا بیان: خواب کے آداب		ایک قیمتی نصیحت: ہر نعمت اور مصیبت کے دونوں
749	خواب معلوم کرنا	726	رُخ دیکھا کریں
749	خواب پیش کرنا		ایک قیمتی نصیحت: دین کے کام کے ذریعے شہرت
749	خواب پسند کرنا	727	طلب کرنا کر کو توڑ دیتا ہے۔
749	فجر کے بعد خواب معلوم کرنا		صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سنت پر عمل کرتے تھے سنت سمجھ کر اور ہم
749	خواب کی تعبیر صبح کی نماز کے بعد دینا		سنت کو چھوڑ دیتے ہیں سنت سمجھ کر، یہ کہتے ہوئے

759	خواب میں زیارت نبوی ﷺ کے حصول کا بیان	750	پہلی تعبیر کا اعتبار
759	زبیدہ ملکہ کی بخشش	750	خواب کی تعبیر دیتے اور سنتے وقت کیا پڑھے؟
60	ایک لوہار کا واقعہ	750	مومن کا خواب نبوت کا ایک حصہ ہے
760	خواب میں اذان دینا عزت بھی اور ذلت بھی	750	اچھا خواب مومن کے لئے بشارت ہے
	مسجد کے آداب: ہماری جماعتیں بہت اہتمام سے	751	اچھا خواب دیکھے تو کیا کرے؟
760	یہ مضمون پڑھیں	751	خواب کی نوعت اور اس کی قسمیں
764	حدیث اور صاحب حدیث کا مقام رفیع	752	شیطانی خواب
765	حدیث نبوی علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کا ادب	752	ناپسندیدہ خواب کسی سے بیان نہ کرو
	حدیث مبارک پڑھنے یا پڑھانے اور سننے یا سنانے	752	ناپسندیدہ خواب دیکھے تو کیا کرے
765	کی مجالس کے چند آداب	753	خواب سے بیماری
766	حدیث شریف کے ادب کے تعلق سے چند واقعات	753	صبح کا خواب زیادہ سچا ہوتا ہے
767	سات عجیب و غریب سوال اور سات عجیب و غریب جواب	754	صبح بولنے والے کا خواب سچا ہوتا ہے
	حضرت فاطمہ نے روتے ہوئے کہا کہ اے اللہ!	754	خواب کس سے بیان کرے؟
768	تیری راتیں بہت چھوٹی ہو گئی	754	خواب اپنے خیر خواہ دوست سے بیان کرے
	آپ کا شوہر جب تجارت کے لئے جائے تو آپ	754	ذکر خواب کے آداب
	چاشت کی نماز پڑھ کر برکت کی دعا کریں تو روزی	755	تعبیر واقع ہوتی ہے
768	میں برکت ہوگی	755	تعبیر کے اصول
	پہلے زمانے میں عورتیں روٹیاں پکاتے پکاتے کئی	755	دربار نبوت کی چند تعبیریں: چاند کی تعبیر
769	پارے قرآن پڑھ لیا کرتی تھیں	755	دودھ پینے کی تعبیر
	پہلے زمانے میں مائیں دودھ پلاتے پلاتے کئی	755	پھونک مار کر اڑانے کی تعبیر
769	پارے قرآن پڑھ لیا کرتی تھیں	756	شہد اور گھٹی کی تعبیر
769	ہیرا تم ڈھونڈنا اور قیمت ہم لگا دیں گے	756	سر کٹنے کی تعبیر
770	علماء کی تین قسمیں	756	خواب گویا حقیقت
	لوگوں کی بد اعمالیوں کے باعث خشکی اور تری میں	756	سفید لباس کی تعبیر
770	فساد پھیل گیا ہے	756	اعضا و جوارح کی تعبیر
771	دیہات میں عورتوں کے لئے تعلیم کی اہمیت و ضرورت	757	چند خوابوں کی تعبیریں
772	بوڑھے ماں باپ کا ہر حال میں خیال رکھئے	757	نبی کریم ﷺ کو خواب میں دیکھنے کا بیان
773	عورت: ماں، بیٹی، بیوی اور بہن کی حیثیت سے	758	زیارت تبرک کے کچھ فوائد و تعبیرات



798	مستورات کے چوبیس گھنٹے کے مختصر کام	774	عورت کی اصل درگاہ اس کی سرال ہے
799	مستورات میں دعوت کے کام کی شروعات	776	ترقی صرف معاشی خوش حالی کا نام نہیں ہے
801	ایمان اعمال صالحہ کے بغیر ایسا ہے جیسے بھول خوشبو کے بغیر	777	بئی اللہ کی رحمت بھی ہے اور نعمت بھی ہے
802	جہنمی جہنم میں بہت موٹے ہو جائیں گے	778	ماں کی دُعائیں اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہیں
802	اللہ کے فضل سے جنت ملے گی	779	فضول گوئی سے پرہیز کیجئے
802	فریقین کی بات سن کر کوئی فیصلہ کریں	780	اپنی صلاح آپ کریں
803	کسی کے اندر برائی دیکھو تو اس کا چرچا نہ کرو	782	کیا آپ نے پیغمبر کے بدن کا سایہ نظر آتا تھا؟
803	اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سوا حصے ہیں	782	آپ کی کتاب ”مومن کا ہتھیار“ پڑھتی ہوں مگر
803	ہر متقی مومن اللہ کا ولی ہے	782	جہیز کی لعنت سے بچئے
803	جنت اور جہنم میں جھگڑا	783	اسلامی سزائیں انسانی معاشرے کے لئے رحمت ہیں
804	سجدہ تلاوت کی مسنون دُعا	785	تیری گود میں بیتی ہے تقدیم اُم
804	منتخب اشعار	786	قریش کی عورتیں
805	خوش رہ کر دوسروں کو خوش رکھئے	788	کبر کی تعریف اور اس کا نتیجہ
806	اندرونی احساسات کو چھپانا سیکھئے	788	حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا والدہ کا کیا نام تھا؟
806	معاشرتی دباؤ سے مزاج کو ہم آہنگ بنائیں	789	اپنی خواہش کے مطابق فیصلہ کرنے والا ہلاک ہوگا
806	تلخ باتوں کو بھول جائیں	789	سب سے پہلے اسلام میں امیر کون بنا؟
807	لوگوں کے جذبات کی قدر کریں	789	حضرت عبداللہ بن زبیر کا تیر کر طواف کرنا
807	چاپلو سا نہ روش سے گریز کیجئے	789	منتخب اشعار
807	نظریات میں لچک پیدا کیجئے	789	آپ بہت اچھے ماں باپ بن سکتے ہیں
808	کچھ منتخب اشعار	791	صنف نازک کی حفاظت بے حد ضروری ہے
808	نیک کردار بیوی ایک انمول خزانہ ہے	792	معاشرے کی تعمیر میں عورت کا رول
809	اپنی ازدواجی زندگی کو خوش گوار بنائیے	793	امام ابوحنیفہ کی دانشمندی نے ایک گھر برباد ہونے سے بچالیا
810	اپنے گھر کا ماحول اسلامی بنائیے	793	ایک لاکھ حدیثیں اس طرح یاد ہیں جیسے لوگوں کو
811	حکمت کے موتی	793	سورۃ الفاتحہ یاد ہے
812	شادی شدہ لڑکے اور لڑکی کی ذمہ داریاں	794	شہوت کا مفہوم اور اس سے بچنے کا طریقہ
813	ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے	795	نماز کے فوائد: حضور ﷺ کی زبانی
814	مشرقی اور مغربی تہذیب کا فرق	796	مال حرام کی نحوست
815	فجر کی نماز پڑھ کر بلا عذر سو جانا منع ہے	797	والدین کا فرمانبردار بننے کا طریقہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

## (۱) حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کا استقبال انتقال کے بعد

حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔ ابھی جنازہ رکھا ہے، ایک صاحب نسبت نے مکافضے میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرما رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر سے فرش نکال کر حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی قبر میں بچھا دیا جائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر میں نیا فرش جنت سے لا کر بچھا دیا جائے۔ جس شخص نے اپنی پوری زندگی دین کے لئے قربان کی، زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کے لاڈلے پیغمبر کے دین کے لئے قربان کیا اگر اس کا یہ اکرام کیا جائے تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے۔

(ماہنامہ انجمن، ریحانی سنہ ۱۴۲۹ھ، اپریل سنہ ۲۰۰۸ء)

## (۲) نابیناؤں کے لئے خاص فضیلت

۱۔ جنت میں اللہ کا دیدار سب سے پہلے کون کرے گا؟

۲۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہرہ اقدس کی زیارت کرے گا وہ اندھا ہوگا۔ نیز حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ب اللہ تبارک و تعالیٰ جنت والوں کے سامنے تجلی فرمائیں گے اور جنتی اللہ کی زیارت سے مشرف ہوں گے تو جنت کی تمام نعمتیں بھول جائیں گے۔

عجب تیری ہے اے محبوب! صورت نظر سے گر گئے سب خوب صورت

(۳) وہ گناہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہواؤں کو پاگل زمینوں کو بے وفا اور سمندروں کو سرکش بنا دیتے ہیں

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پندرہ (۱۵) قسم کی برائیوں کا ارتکاب کرے گی تو امت پر بلائیں اور مصیبتیں آپڑیں گی، کسی نے پوچھا:

یا رسول اللہ! وہ کیا کیا برائیاں ہیں؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

- ① جب مالِ غنیمت کو شخص دولت بنا لیا جائے گا۔
- ② اور امانت کو غنیمت سمجھ لیا جائے گا۔
- ③ اور زکوٰۃ کو تادان سمجھ لیا جائے گا۔
- ④ اور علم دین کو دنیا طلبی کے لئے سیکھا جائے گا۔
- ⑤ مرد اپنی بیوی کی اطاعت کرے لگے گا۔
- ⑥ اور اپنی ماں کی نافرمانی کرنے لگے گا۔
- ⑦ اور آدمی اپنے دوست کے ساتھ نیک سلوک کرے گا اور اپنے باپ کے ساتھ سختی اور بد اخلاقی سے پیش آئے گا۔
- ⑧ اور مسجد میں شور و غل ہونے لگے گا۔
- ⑨ اور قوم کا سربراہ ذلیل ترین شخص ہوگا۔
- ⑩ جب قبیلہ کا سرداران کا بدترین شخص بن جائے گا۔
- ⑪ آدمی کا اعزاز و اکرام اس کے شر سے بچنے کے لئے کیا جائے گا۔
- ⑫ اور قوم کا سربراہ ذلیل ترین شخص ہوگا۔
- ⑬ لوگ کثرت سے شراب پیئے لگیں گے۔
- ⑭ مرد بھی ریشم کے کپڑے پہنے لگیں گے۔

⑮ ناپچنے گانے والی عورتوں اور گانے بجانے کی چیزوں کو اپنا لیا جائے گا۔

⑯ اس امت کے پچھلے لوگ اگلوں پر لعنت بھیجیں گے۔

تو اس وقت سرخ آندھی، زلزلہ، زمین کے دھنس جانے، شکل بگڑ جانے اور پتھروں کے برسنے کا انتظار کرو۔ اور ان نشانیوں کا انتظار

کرو جو یکے بعد دیگرے اس طرح آئیں گی جیسے کسی ہار کی لڑی ٹوٹنے لگے۔ جانے سے اس کے دانے یکے بعد دیگرے بھرتے چلے جاتے ہیں۔ (ترمذی شریف: ۴۴۷۲)

### (۴) والدہ کی فرمانبرداری کا عجیب واقعہ

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ! میرا جنت کا ساتھی کون ہے تو فرمایا کہ فلاں قصائی۔ قصائی کا پتہ بتایا۔ نہ کسی ابدال کا، نہ کسی قطب کا، نہ کسی شہید کا، نہ محدث کا۔ کہا کہ فلاں قصائی! حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے۔ پھر اس قصائی کو دیکھنے چلے گئے۔ قصائی بازار میں بیٹھا گوشت بیچ رہا ہے۔ شام ڈھلی اس نے دکان بند کی اور گوشت کا ٹکڑا تھیلے ڈالا اور گھر چل دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ ہو گئے۔ کہنے لگے بھائی! تیرے ساتھ جاؤں گا۔ اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ کہنے لگا آ جاؤ۔ گھر گئے، اس نے بوٹیاں بنا کر سالن چڑھایا، آٹا گوندھا، روٹی پکائی، سالن تیار کیا۔ پھر ایک بڑھیا تھی اسے اٹھا کر کندھے کا سہارا دیا۔ سیدھے ہاتھ سے لقمے بنا کر اسے کھلائے۔ اس کا منہ صاف کیا، اس کو لٹایا۔ وہ کچھ بولی بڑ بڑائی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ کون ہے؟ اس نے کہا کہ میری ماں ہے۔ صبح کو اس کی ساری خدمت کر کے جاتا ہوں اور رات کو آ کر پہلے اس کی خدمت کرتا ہوں۔ اب اپنے بچوں کو دیکھوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: یہ کچھ کہہ رہی تھی؟ کہا: ہاں جی! روز کہتی ہے، عجیب بات ہے۔ میں روز اس کی خدمت کرتا ہوں تو کہتی ہے کہ اللہ تجھے موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنائے۔ میں قصائی اور موسیٰ علیہ السلام نبی کہاں؟ (اللہ اکبر۔)

### (۵) ماں کی نافرمانی قیامت کی علامت ہے

اللہ کے نبی ﷺ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ! قیامت کب آئے گی؟ فرمایا کہ اللہ ہی کو پتا ہے کب آئے گا۔ کہا کوئی نشانی تو بتائیں، فرمایا! دیکھو جب اولاد ماؤں سے نوکروں کی طرح بات کرے تو بس قیامت آگئی، جب اولاد والدین کے ساتھ ایسے بات کرے جیسے نوکروں سے کی جاتی ہے اور اس سے وہ سلوک کرے جو نوکروں سے کیا جاتا ہے تو پھر سمجھنا قیامت قریب آچکی ہے۔

### (۶) لمحوں نے خطا کی صدیوں نے سزا پائی

افغانستان کے ایک شہر میں قحط آ گیا۔ یہاں ایک آل رسول ﷺ کا خاندان تھا وہ فوت ہو گیا اور بچے یتیم ہو گئے تو انہوں نے قحط کی وجہ سے شہر چھوڑا، ایک جوان عورت سمرقند پہنچی، ایک مسجد میں بچوں کو بٹھایا۔ جو سمرقند کا والی تھا اس کے پاس پہنچی کہ میں آل رسول ہوں میرے ساتھ یہ قصہ ہوا ہے۔ مجھے پناہ چاہئے، مجھے کھانا بھی چاہئے۔ تو وہ کہنے لگا کہ تم گواہ پیش کرو کہ میں آل رسول ہوں۔ کہا میں پردہ سی ہوں، میرا گواہ کہاں سے آئے گا کہنے لگا ادھر ہر آدمی آل رسول کے دعوے کرتا ہے۔ چلی جاؤ۔ اٹھ کر باہر نکلے تو اس کو کسی نے کہا کہ ایک مجوسی ہے آتش پرست ہے، وہ بڑا سخی ہے۔ اس کے پاس چلی جا، وہ عورت اس کے پاس چلی گئی۔ اس نے اس کا اکرام کیا۔ پھر اپنے گھر لایا، کھانا پانی میسر کیا۔ رات کو والی سمرقند نے خواب دیکھا کہ جنت میں اللہ کے نبی کھڑے ہیں اور ایک بڑا عالی شان محل ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ! میں بھی ایمان والا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے ایمان پر گواہ پیش کرو۔ تو اس کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ میری بیٹی تیرے پاس آئی تھی اور تو اس سے گواہیاں مانگنے لگا کہ گواہ پیش کر۔ اسی ڈانٹ پڑی۔ جب آنکھ کھلی تو پسینے پسینے ہو گیا۔ سیدھا اس (مجوسی) کے دروازے پر گیا اور رونے لگا کہ یہ خاندان مجھے دے دے، منہ مانگی دولت لے لے۔ کہا!

این سعادت بزور بازو نیست

یہ نعمت مجھے دی ہے میں تمہیں کیسے دوں؟ تجھے پتہ ہے رات کو خواب دیکھ رہا تھا اور تجھے ڈانٹ پڑ رہی تھی اور مجھے عطا کیا جا رہا تھا۔ میں ایمان لا چکا ہوں، میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ وہ محل تیرے نام سے کٹ کر میرے نام لگا دیا۔ میں یہ گھر تجھے کیسے دے دوں؟ محل کے باہر تجھے ڈانٹ پڑ رہی تھی اور میں محل میں کھڑا کھڑا اس رہا تھا۔

### ﴿۷﴾ عبرت انگیز مکالمہ

ایک مرتبہ ایک آدمی رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور شکایت کی کہ یا رسول اللہ! میری ماں بد مزاج ہے۔ پیارے رسول ﷺ نے فرمایا:

”نو مہینے تک مسلسل جب یہ تجھے پیٹ میں لئے پھری اس وقت تو یہ بد مزاج نہ تھی۔“

وہ شخص بولا: ”حضرت! میں سچ کہتا ہوں وہ بد مزاج ہی ہے۔“

حضور ﷺ نے فرمایا: ”جب یہ رات رات بھرتیری خاطر جاگتی تھی اور اپنا دودھ تجھے پلاتی تھی اس وقت تو یہ بد مزاج نہ تھی۔“

اس آدمی نے کہا: ”میں اپنی ماں کو ان باتوں کا بدلہ دے چکا ہوں۔“

حضور ﷺ نے پوچھا: ”تو کیا بدلہ دے چکا ہے بھلا؟“

اس نے کہا: ”میں نے اپنے کانٹوں پر بٹھا کر اس کو جج کرایا ہے۔“

رحمت عالم ﷺ نے فیصلہ کن جواب دیتے ہوئے فرمایا:

”کیا تو اسے اس دردزہ کی تکلیف کا بدلہ بھی دے سکتا ہے جو تیری پیدائش کے وقت اس نے اٹھائی ہے؟“ (ماخوذ من معاشرت: ص ۴۸)

### ﴿۸﴾ ماں کی خدمت سے کبیرہ گناہوں کی معافی

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا: ”حضرت! میں نے ایک جگہ شادی کا پیغام بھیجا لیکن لڑکی نے انکار کر دیا۔ ایک دوسرے آدمی نے پیغام بھیجا لڑکی نے منظور کر لیا۔ یہ دیکھ کر مجھے بڑی غیرت آئی اور میں نے جذبات سے بے قابو ہو کر اس عورت کو مار ڈالا۔ حضرت بتائیے! اب میرے لئے توبہ کی کوئی شکل ہے؟“ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اس سے پوچھا: ”یہ بتاؤ کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟“ وہ آدمی بولا: ”حضرت ماں کا تو انتقال ہو چکا ہے۔“ آپ نے فرمایا: ”جاؤ سچے دل سے توبہ کرو اور جہاں تک تم سے ہو سکے ایسے کام کرو جن سے خدا کا قرب اور اس کی رضا حاصل ہو۔“ حضرت زید بن اسلم، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہما کے پاس پہنچے اور پوچھا: حضرت یہ تو بتائیے! اس آدمی سے آپ نے یہ کیوں پوچھا تھا کہ کیا تمہاری ماں زندہ ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہما نے فرمایا: خدا کا قرب اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لئے ماں کے ساتھ نیک سلوک سے بڑھ کر مجھے نہیں معلوم کہ کوئی اور عمل بھی ہو سکتا ہے۔

اسی طرح کا ایک واقعہ حضور ﷺ کے زمانے میں بھی پیش آیا۔ ایک آدمی پیارے رسول ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا: اے اللہ کے رسول! میں ایک بہت بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں۔ اے اللہ کے رسول! کیا میرے لئے بھی توبہ کی کوئی صورت ممکن ہے؟ رحمت عالم ﷺ نے فرمایا: ”کیا تیری ماں زندہ ہے؟“ اس آدمی نے کہا حضور! والدہ تو زندہ نہیں ہیں۔ پھر آپ ﷺ نے پوچھا: اچھا تمہاری خالہ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں! آپ ﷺ نے فرمایا: خالہ کے ساتھ نیک سلوک کرو۔

ان واقعات سے ماں کی عظمت اور ماں کی خدمت کی دینی اہمیت کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ اگر آدمی بڑے سے بڑا گناہ کر لے تو اس کے عذاب سے بچنے اور خدا کو خوش کرنے کی شکل حضور ﷺ نے یہ بتائی کہ ماں کے ساتھ نیک سلوک کیا جائے اور یہ خدا کی رحمت کی انتہا ہے کہ اگر ماں انتقال کر گئی ہو تو ماں کی بہن کے ساتھ اچھا سلوک کر کے آدمی اپنی آخرت بنا سکتا ہے۔ (ماخوذ من معاشرت: ص ۵۳)

## (۹) اولاد سے عام شکایت

یہی اولاد، جس کی خدمت میں نحیف ماں نے دن رات مشغول رہ کر اپنے جسم و جان کی توتیں گھلا دیں اور جھولی پھیلا پھیلا کر ان کے لئے ہر وقت دعائیں کرتی رہی، اگر ماں کی امیدوں پر پانی پھیر دے اور اس کی توقعات کے خلاف وہ نافرمان اور باغی بن کر اٹھے تو اندازہ کیجئے اس ماں کا کیا حال ہوگا۔ اس کی روحانی اذیت اور دلی رنج و غم کو الفاظ بیان نہیں کر سکتے۔

آج کے دور میں چند خوش نصیب گھرانوں کو چھوڑ کر ہر گھر میں یہی رونا ہے کہ اولاد بے کھی ہو گئی ہے، بیٹے ہوں یا بیٹیاں، ماں باپ کے حقوق سے غافل ہیں، ماں باپ کا ادب و احترام اور فرمانبرداری کا جذبہ جیسے دلوں سے بالکل ہی نکل چکا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ سلوک، ان کی خوشنودی کا خیال، ان کی خدمت و فرمانبرداری، ان کا ادب و احترام، ان کے جذبات کا پاس و لحاظ، یہ سب گویا بے معنی الفاظ ہیں۔

ایک عام سی شکایت ہے کہ اولاد نافرمان، باغی اور سرکش اٹھ رہی ہے، جس مجلس میں بیٹھے، جس گھر میں جائیں، والدین یہی روتا روتے نظر آئیں گے۔ پھر کچھ بڑی بوڑھیاں آپ کو اپنی طرف متوجہ کر کے کہنا شروع کریں گی، ارے بیٹی! ایک ہمارا زمانہ تھا، بھلا کیا مجال کہ اولاد ماں باپ کے سامنے اونچی آواز میں بات بھی کر سکے اور پھر ماحول کی خرابی، زمانے کی رنگارنگی، غلط اور گمراہ کن افکار و نظریات کی اشاعت، فحش لٹریچر، بے اخلاق تعلیم اور آزادی کی رنج و شکایت کی طویل داستان شروع ہو جائے گی اور ہر خاتون ایک طرح ایک اطمینان محسوس کرتے ہوئے یوں سوچے گی، ان حالات میں یہی کچھ ہونا بھی چاہئے، ماں باپ کے بس کی کیا بات ہے یہ صورت حال انتہائی افسوس ناک ہے۔

## (۱۰) معصوم بچی کا حسرت ناک واقعہ

قبیلہ بنو تمیم میں بچیوں کو زندہ دفن کرنے کا خالمانہ رواج کچھ زیادہ تھا۔ اس قبیلے کے سردار قیس بن عاصم جب اسلام لائے تو انہوں نے اپنی معصوم بچی کو اپنے ہاتھوں سے دفن کرنے کا حسرت ناک واقعہ سنا تے ہوئے کہا۔

”یا رسول اللہ! میں گھر سے باہر سفر پر گیا ہوا تھا۔ میرے بعد میرے گھر میں ایک بچی پیدا ہوئی۔ میں گھر میں ہوتا تو اس کی آواز سنتے ہی اس کو مٹی میں دبا کر ہمیشہ کے لئے خاموش کر دیتا۔ ماں جیسے تیسے اس کو چند روز تک پالتی رہی۔ مگر چند دن پالنے کی وجہ سے ماں کی متا نے کچھ ایسا جوش مارا کہ وہ اس تصور سے لرز اٹھتی کہ باپ آ کر اس فرشتے کو مٹی میں زندہ دبا دے گا۔ چنانچہ میرے ڈر سے اس نے اپنی پیاری بچی کو اس کی خالہ کے یہاں بھیج دیا کہ وہاں پرورش پا کر جب بڑی ہو جائے گی تو باپ کو بھی رحم آ جائے گا۔ میں جب سفر سے واپس آیا تو معلوم ہوا کہ میرے یہاں مرا ہوا بچہ پیدا ہوا تھا اور بات آئی گئی ہو گئی۔ بچی اپنی خالہ کے زیر سایہ پلتی رہی یہاں تک کہ کافی بڑی ہو گئی۔ خدا کرنا کسی ضرورت سے ایک دن گھر سے باہر گیا۔ ماں نے یہ سوچا کہ آج بچی کا باپ گھر نہیں ہے کیوں نہ اس کو بلالوں اور ماں نے اس کو بلالیا۔ شامت اعمال، کچھ دیر کے بعد میں بھی گھر پہنچ گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ نہایت خوبصورت بنی سنوری پیاری سی بچی گھر میں ادھر ادھر دوڑتی پھر رہی ہے۔ میرے دل میں ایک انتہائی محبت نے جوش مارا۔ بیوی نے بھی میری نگاہوں کا اندازہ دیکھ کر بھانپ لیا کہ پدری محبت جاگ اٹھی ہے اور خون کا اثر رنگ لے آیا ہے۔ میں نے بیوی سے پوچھا: نیک بخت! یہ کس کی بچی ہے؟ بڑی پیاری بچی ہے۔ اور بیوی نے سارا قصہ سنا دیا۔ میں نے بے اختیار بچی کو گلے سے لگایا۔ ماں نے اس کو بتایا کہ یہ تیرے باپ ہیں اور وہ مجھے سے چٹ گئی۔ باپ کا پیار پا کر وہ تو کچھ ایسی خوش ہو گئی کہ جبا! جبا! کہتے اس کا منہ سوکھتا تھا اور جب لبا! لبا! کہہ کر دوڑ کر آتی تو می اسے گلے لگا کر

اس طرح دن گزرتے گئے اور لڑکی پیار و محبت کے سائے میں ہر فکر سے بے پرواہ پرورش پاتی رہی۔ مگر اس کو دیکھ دیکھ کر میں کبھی کبھی سوچتا کہ اس کی وجہ سے مجھے داماد والا بننا پڑے گا۔ مجھے یہ ذلت بھی برداشت کرنا ہوگی کہ میری لڑکی کسی کی بیوی بنے گی۔ میں لوگوں کے سامنے کیا منہ دکھاؤں گا۔ میری تو ساری عزت خاک میں مل جائے گی اور آخر کار میری غیرت نے مجھے بھجھوڑا، میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور میں نے طے کر لیا کہ اس ذلت کے سامان کو دفن کر کے ہی دم لوں گا۔ اور میں نے بیوی سے کہا: بچی کو تیار کر دو، ایک دعوت میں ساتھ لے جاؤں گا۔ بیوی نے اس کو نہلایا دھلایا، صاف ستھرے کپڑے پہنائے اور بنا سنوار کر تیار کر دیا۔ بچی خوشی سے چمک رہی تھی کہ ابا جان کے ساتھ جا رہی ہے۔ اور میں اسے لے کر ایک سنسان جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ بچی کو دتی پھاندنی میرے ساتھ لے رہی تھی اور مجھ سنگ دل پر یہ جنون سوار تھا کہ جلد از جلد اس شرم کی پونٹلی کو مٹی میں دبا دوں۔

بچی کو کیا خبر تھی، معصوم بچی خوشی میں کبھی میرا ہاتھ پکڑتی، کبھی مجھ سے آگے آگے دوڑتی، کبھی پیاری زبان میں باتیں کرتی۔ یہاں تک کہ میں ایک جگہ جا کر رُک گیا۔ پھر میں نے زمین میں ایک گڑھی کھودنا شروع کیا۔ بچی حیران تھی کہ ابا جان یہاں سنسان جنگل میں یہ گڑھا کیوں کھود رہے ہیں اور پوچھتی: ابا! یہ کیوں کھود رہے ہیں؟ اسے کیا خبر تھی کہ ظالم باپ اس چہکتی پھول سی بچی کے لئے قبر کھود رہا ہے تاکہ ہمیشہ کے لئے اسے خاموش کر دے۔

گڑھا کھودتے ہوئے جب میرے پیروں اور کپڑوں پر مٹی آتی تو معصوم بچی اپنے چھوٹے چھوٹے، پیارے اور نازک ہاتھوں سے مٹی جھاڑتی اور تو مٹی زبان میں کہتی: ابا! آپ کے کپڑے خراب ہو رہے ہیں۔ جب میں نے گہرا گڑھا کھود لیا تو ایک دم اس بے گناہ ہنسی کھلائی بچی کو اٹھا کر اس گڑھے میں پھینک دیا اور جلدی جلدی اس پر مٹی ڈالنے لگا۔ بچی مجھے حسرت سے دیکھتے ہوئے چیختی رہی، ابا جان! میرے ابا جان! یہ کیا کر رہے ہو؟ ابا! آپ کیا کر رہے ہو؟ ابا! میں نے کچھ بھی تو نہیں کیا۔ ابا! آپ مجھے کیوں مٹی میں دبا رہے ہیں؟ اور میں بہر اندھا اور گونگا بنا ہونا کام کرتا رہا۔ یا رسول اللہ! مجھ سنگدل اور ظالم کو ذرا بھی رحم نہ آیا۔ بچی کو میں زندہ دفن کر کے اطمینان کی سانس لیتا ہوا واپس آ گیا۔“

معصوم بچی کی مظلومیت، بے بسی کا یہ حسرت ناک واقعہ سن کر رحمت عالم ﷺ کا دل بھر آیا، آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو رواں ہو گئے۔ آپ رورہے تھے اور کہہ رہے تھے: ”یہ انتہائی سنگ دلی ہے، جو دوسروں پر رحم نہیں کھاتا اللہ اس پر کیسے رحم کھائے گا؟“

## ﴿۱۱﴾ عبرت ناک کارگزاری

نبی ﷺ کے سامنے ایک صاحب نے اپنے زمانہ جاہلیت کی آپ بیتی سنائی اور اس کا حسرت ناک نقشہ کچھ اس طرح کھینچا کہ نبی ﷺ بے قرار ہو گئے۔

”یا رسول اللہ! ہم لوگ نادانف تھے۔ ہمیں کچھ خبر نہ تھی۔ پتھر کے بتوں کو پوجتے تھے اور اپنی پیاری اولاد کو خود اپنے ہی ہاتھوں موت کے گھاٹ اتار دیتے تھے۔ یا رسول اللہ! میری ایک بہت ہی پیاری بچی تھی۔ میں جب بھی اس کو بلا تا وہ دوڑ کر میرے پاس آ جاتی۔ ایک دن میں نے اس کو اپنے پاس بلا یا وہ خوشی خوشی دوڑتی ہوئی میرے پاس آئی۔ میں اس کو اپنے ساتھ لے کر چلا۔ آگے آگے میں تھا اور وہ میرے پیچھے دوڑی چلی آ رہی تھی۔ میرے گھر سے کچھ ہی فاصلے پر ایک گہرا کنواں تھا۔ جب میں اس کنویں کے قریب پہنچا تو رُک گیا۔ لڑکی بھی میرے قریب آ گئی۔ پھر یا رسول اللہ! میں نے اس بچی کا ہاتھ پکڑا اور اٹھا کر اس کنویں میں ڈال دیا۔ معصوم بچی کنویں میں چینی رہی اور بڑی درد بھری آواز میں مجھے ابا! ابا! کہہ کر پکارتی رہی۔ یا رسول اللہ! یہی اس کی زندگی کی آخری پکار تھی۔“

اللہ کے رسول ﷺ نے یہ درد بھری داستان سنی تو دل بھر آیا اور بے اختیار آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ ایک صحابی نے ان کو برا بھلا کہا کہ تم نے خواہ مخواہ یہ درد ناک آپ بنتی سنا کر رسول اللہ ﷺ کو دکھ پہنچایا۔ رسول اللہ ﷺ نے سنا تو فرمایا: ”نہیں ان سے کچھ نہ کہو، ان سے کچھ نہ کہو۔ اس پر جو مصیبت پڑی ہے یہ اس کا علاج پوچھنے آئے ہیں۔“ اور پھر انہی کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا: رسول اللہ ﷺ کا عجیب حال تھا۔ روتے روتے آپ ﷺ کی داڑھی تر ہو گئی اور پھر ان سے کہا: تم اسلام لے آئے ہو تو اس برکت سے زمانہ جاہلیت کے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ جاؤ اور اب اچھے کام کرو۔ (مسند دارقطنی)

خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ کتنی بے گناہ اور بے بس بچیاں اس ظلم اور سفاکی کا نشانہ بنیں اور کتنے دنوں تک بیٹیاں اپنے ماں باپ کے ہاتھوں زندہ دفن ہوتی رہیں۔ اگرچہ اس دور میں بھی کچھ رحم دل خداترس انسان ضرور تھے جو لڑکیوں کو اس ظلم اور بربریت سے بچانے کے لئے اپنی کوششیں کرتے رہتے تھے لیکن یہ انفرادی کوششیں اس ہولناک رسم کو ختم نہ کر سکیں۔

### ﴿۱۲﴾ فرزدق کے دادا نے چورانے (۹۴) بچیوں کو ظالم باپوں کے چنگل سے بچالیا

فرزدق عرب کے مشہور شاعر تھے۔ ان کو اس بات پر بجا فخر تھا کہ ان کے دادا حضرت مصعبہ نے کتنی ہی لڑکیوں کو اس دور میں زندہ دفن ہونے سے بچایا، جس میں اہل عرب لڑکی کے تصور ہی سے شرم محسوس کرتے تھے۔ حضرت مصعبہ خود ہی اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں۔

”ایک بار میں اپنی دو گم شدہ اونیوں کی تلاش میں نکلا۔ دُور ایک آگ نظر آئی، کبھی اس کے شعلے بھڑک اُٹھتے اور کبھی بجھ جاتے۔ میں نے سوچا چل کر دیکھنا چاہئے ممکن ہے کسی مصیبت زدہ نے جلا رکھی ہو اور میں اس کے کام آسکا تو ضرور اس کی مصیبت دُور کرنے کی کوشش کروں گا۔ چنانچہ میں نے اُونٹ تیز کیا اور تھوڑی ہی دیر میں بنی انمار کے محلے میں پہنچ گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بوڑھا شخص لمبے لمبے بالوں والا اپنے گھر کے سامنے بیٹھا سوگ منار ہا ہے، اور بہت ساری عورتیں ایک عورت کو گھیرے میں لئے بیٹھی ہیں جو درد زہ میں مبتلا ہے۔ سلام دُعا کے بعد میں نے ان سے معاملے کی نوعیت معلوم کی تو بتا چلا کہ تین روز سے یہ عورت اس تکلیف میں مبتلا ہے۔ بڑے میاں سے یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ عورتوں کی آواز آئی، بچہ پیدا ہو گیا۔ بوڑھا چلایا، اگر لڑکا ہے تو خیر اور اگر لڑکی ہے تو میں اس کی آواز سننا نہیں چاہتا۔ میں اسی دم اسے مار ڈالوں گا۔“

میں نے بڑی لجاجت سے بڑے میاں سے کہا کہ شیخ! ایسا نہ سمجھئے، آپ ہی کی بیٹی ہے۔ رہا روزی کا سوال تو اس کی رزی دینے والا اللہ ہے۔ بوڑھا پھر گر جا۔ نہیں میں اس کو زندہ نہیں چھوڑ سکتا۔ میں اسے قتل کر کے ہی دم لوں گا۔ میں نے رزی سے پھر اصرار کیا تو اس نے ذرا تیور بدل کر کہا کہ اگر تم ایسے ہی رحم دل ہو تو اس کی قیمت دو اور لے جا کر پال لو۔ میں نے بلا تامل کہا۔ ہاں! میں خریدنے کے لئے تیار ہوں اور میں بچی کو خرید کر خوشی خوشی لوٹ آیا اور میں نے خدا سے عہد کیا کہ اس بچی کو شفقت و محبت سے پالوں گا اور میں نے خدا سے یہ بھی عہد کیا کہ جب بھی کوئی سنگ دل کسی معصوم بچی کو مار ڈالنے کا ارادہ کرے گا میں ہرگز اس کو ایسا نہ کرنے دوں گا۔ قیمت دے کر اس بچی کو حاصل کروں گا اور نہایت پیار و محبت کے ساتھ اس کی پرورش کروں گا۔

پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ خدا نے حضرت کو مبعوث فرمایا۔ اس وقت تک میں چورانے (۹۴) بچیوں کو ظالم باپوں کے چنگل سے بچا چکا تھا اور پھر تو حضور ﷺ نے اس لعنت کو ہمیشہ کے لئے ختم کر دیا۔

اسلام نے قتل اولاد کی تمام ظالمانہ رسموں سے اپنے معاشرے کو پاک کیا اور خدا کے پیارے بندوں کی پہچان یہ بتائی کہ وہ اولاد کے لئے یہ دُعا کرتے رہتے ہیں کہ پروردگار ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّتًا طَيِّبَةً وَآجِنَا وَسِدِّتَنَا قَوْلًا أَعْمُونَ

”اور رحمن کے بندے وہ ہیں جو کہتے ہیں ہمارے رب ہمارے جوڑوں کو اور ہماری اولاد کو ہمارے لئے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔“

### (۱۳) حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ میں نوک جھوک

رسول کریم ﷺ ایک دن اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے یہاں پہنچے، گھر میں فاطمہ رضی اللہ عنہا تھیں اور علی رضی اللہ عنہ نہیں تھے۔ بیٹی پوچھا: ”کہاں ہیں تمہارے چچا کے بیٹے؟“ بیٹی نے کہا: ”میرے اور ان کے درمیان کچھ ناگواری ہو گئی، وہ مجھ پر بگڑ گئے اور خفا ہو کر کہیں چلے گئے۔ یہاں انہوں نے قیلوہ بھی نہیں کیا۔“

نبی ﷺ نے ایک آدمی سے کہا: ”ذرا دیکھ کے تو آؤ علی کہاں ہیں؟“ اس آدمی نے بتایا: ”وہ مسجد کی دیوار سے لگے سو رہے ہیں۔“ نبی ﷺ ان کے پیچھے نکلے، دیکھا کہ وہ چت لیٹے ہوئے ہیں، چادر بھی کچھ سرک کر گر گئی ہے اور جسم پر مٹی لگ رہی ہے۔ نبی ﷺ ان کی پیٹھ سے مٹی جھاڑتے جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے: ”اٹھ اوتراب! اٹھ اوتراب!“

### (۱۴) حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک عجیب تمنا

حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک بار نبی ﷺ نے ایک واقعہ سنایا۔ آپ نے بتایا کہ ایک بار کسی آدمی نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے پوچھا: حضرت آپ کی آنکھیں کس وجہ سے جاتی رہیں اور آپ کی کمر کس وجہ سے جھک گئی ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا، آنکھیں تو یوسف کے غم میں روتے روتے جاتی رہیں اور کمر اس کے بھائی بنیامین کے صدے سے جھک گئی ہے۔ حضرت جبرئیل علیہ السلام اسی وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور بولے: ”آپ اللہ کی شکایت کر رہے ہیں؟“ حضرت یعقوب علیہ السلام بولے: ”نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے غم اور دکھ کی فریاد پیش کر رہا ہوں۔“ حضرت جبرئیل علیہ السلام نے فرمایا: ”آپ نے اپنا جو دکھ بیان کیا ہے، اللہ کو سب معلوم ہے۔“ پھر جبرئیل علیہ السلام چلے گئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے کمرے میں داخل ہوئے اور کہنے لگے: اے میرے پروردگار! کیا تجھے ایک بوڑھے آدمی پر رحم نہیں آتا، تو نے میری آنکھیں بھی چھین لیں اور میری کمر بھی جھکا دی۔ پروردگار! میرے دونوں پھولوں کو مجھے لوٹا دے کہ دونوں کو صرف ایک بار سونگھ لوں پھر تو جو چاہے میرے ساتھ سلوک کر۔ حضرت جبرئیل علیہ السلام پھر تشریف لائے اور بولے: اے یعقوب! اللہ تعالیٰ تمہیں سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ یعقوب خوش ہو جاؤ، اگر تمہارے دونوں بیٹے مر گئے ہوتے تو بھی تمہاری خاطر انہیں زندہ کر کے اٹھا دیتا تاکہ تم دونوں کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتے۔ (ترغیب و ترہیب ج- سوم ص ۳۵۰)

### (۱۵) عظیم ماں کی تربیت لوگوں کی تقدیریں بدل دیتی ہے

سودا گروں کا ایک قافلہ بغداد کی طرف جا رہا تھا۔ ان کے ساتھ ایک نو عمر لڑکا بھی تھا۔ جس کو اس کی ماں نے کچھ ہدایات دے کر اس قافلے کے ساتھ اس لئے کر دیا تھا کہ حفاظت کے ساتھ یہ اپنی منزل پر پہنچ جائے اور دین کا علم حاصل کر کے اللہ کے بندوں کو اللہ کی ہدایات اور روشنی دکھائے۔

قافلہ اطمینان سے چلا جا رہا تھا کہ ایک جگہ کچھ ڈاکوؤں نے اس پر حملہ کر دیا۔ قافلے والوں نے اپنا مال و اسباب بچانے کے لئے بڑی چالیں چلیں کہ کسی طرح ان ڈاکوؤں سے اپنا کچھ مال بچالیں لیکن ڈاکوئوں کی چالوں میں آئے اور نہ ان کی رحم کی اپیلوں سے ان کی دل پیچے۔ قافلے کے ایک ایک آدمی سے انہوں نے سب کچھ چھین لیا۔

ڈاکو جب اپنا کام کر چکے تو ان میں سے ایک نے اس نو عمر غریب اور پریشان حال بچے سے پوچھا:



ڈاکو: کہو میاں تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟

نوعمر لڑکا: جی ہاں! میرے پاس چالیس دینار ہیں۔

ڈاکو: تمہارے پاس چالیس دینار ہیں۔ (ڈاکو کو یقین نہ آیا کہ اس خستہ حال اور غریب کے پاس بھلا چالیس دینار کہاں سے آئے اور اگر ہوتے بھی تو یہ ہمیں کیوں بتاتا۔ ڈاکو نے سوچا اور اس عجیب و غریب لڑکے کو اپنے سردار کے پاس لے گیا)۔

ڈاکو: سردار! اس لڑکے کو دیکھئے، کہتا ہے کہ میرے پاس چالیس دینار ہیں۔

سردار: میاں صاحبزادے کیا تمہارے پاس واقعی دینار ہیں؟

نوعمر لڑکا: جی ہاں! میرے پاس چالیس دینار ہیں۔

سردار: بھلا تمہارے پاس دینار کہاں رکھے ہیں؟ سردار نے غریب لڑکے کو حریت سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔

نوعمر لڑکا: جی میری کمر سے ایک تھیلی بندھی ہوئی ہے اس میں ہیں۔

سردار نے لڑکے کی کمر سے تھیلی کھولی، دینار گنے۔ واقعی چالیس دینار تھے۔ سردار حریت سے کچھ دیر اس لڑکے کو دیکھتا رہا پھر بولا صاحبزادے! تم کہاں جا رہے ہو؟

نوعمر لڑکا: میں دین کا علم حاصل کرنے کے لئے بغداد جا رہا ہوں۔

سردار: کیا وہاں تمہارا جاننے والا کوئی ہے؟

نوعمر لڑکا: جی نہیں وہ ایک اجنبی شہر ہے، میری امی نے مجھے یہ چالیس دینار دیئے تھے کہ میں اطمینان کے ساتھ علم دین حاصل کر سکوں اس اجنبی شہر میں میری ضروریات کا کون خیال کرے گا اور کیوں کسی کا احسان اٹھاؤں۔

سردار بڑی دلچسپی اور حریت کے ساتھ نوعمر لڑکے کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کی سنجیدگی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا، اس نوعمر نے یہ رقم چھپائی کیوں نہیں اگر یہ نہ بتاتا تو میرے کسی ساتھی کو گمان بھی نہ ہوتا کہ اس پریشان حال مفلس لڑکے کے پاس بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ اس لڑکے نے یہ کیوں نہ سوچا کہ میں ایک اجنبی مقام پر جا رہا ہوں، میرے مستقبل اور تعلیم کا دار و مدار اسی رقم پر ہے۔ آخر اس نے یہ رقم چھپائی کیوں نہیں۔ بچے کی سادگی اور سچائی نے اس کے ضمیر کو گھنچھوڑنا شروع کیا، اور اس نے پوچھا: صاحبزادے! تم نے یہ رقم چھپائی کیوں نہیں؟ اگر تم نہ بتاتے اور انکار کر دیتے تو ہمیں شبہ بھی نہ ہوتا کہ تمہارے پاس بھی کوئی رقم ہو سکتی ہے۔

نوعمر لڑکا: جب میں گھر سے نکل رہا تھا تو میری ماں نے مجھے یہ نصیحت کر دی تھی کہ بیٹا کچھ بھی ہو تم جھوٹ ہرگز نہ بولنا۔ بھلا میں ماں کے حکم کو کیسے ٹال دیتا۔

سردار کے اندر کا انسان جاگ گیا۔ وہ سوچنے لگا یہ نوعمر لڑکا اپنی ماں کا ایسا اطاعت گزار ہے کہ وہ اپنا مستقبل تباہ ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے لیکن ماں کا حکم ٹالنے کو تیار نہیں اور میں کتنے عرصے سے برابر اپنے پروردگار کے حکموں کو روند رہا ہوں، اس نے لڑکے کو گلے سے لگایا، اس کے دینار اس کو واپس کئے، قافلے والوں کا سامان واپس کیا اور اللہ کے حضور سجدے میں گر کر گڑ گڑانے لگا۔ سچے دل سے اس نے توبہ کی اور اللہ کی رحمت نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا، یہ ڈاکو پھر اپنے وقت کا ایک زبردست ولی بنا اور اللہ کے بندوں کو لوٹنے والا اللہ کے بندوں کو دین کی دولت تقسیم کرنے والا بن گیا۔ عظیم ماں کی تربیت نے صرف نوعمر لڑکے کو ہی اُونچا نہیں اُٹھایا بلکہ ڈاکوؤں کی بھی تقدیر بدل دی۔ یہ وہی ہونہار لڑکا ہے جس کو ساری اسلامی دنیا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے اور جس کا نام آتے ہی دل عقیدت و احترام سے جھک جاتے ہیں۔

## (۱۶) مناسب رشتے کی تلاش

بچے کی شادی میں تاخیر بالعموم اس لئے ہوتی ہے کہ مناسب رشتہ نہیں مل پاتا۔ آپ کی یہ خواہش اور کوشش بالکل بجائے کہ آپ کے بیٹے یا بیٹی کے لئے مناسب رشتہ ملے بلکہ یہ فکر درست جو آپ کا فرض ہے۔ اسلامی تعلیمات کا تقاضا بھی یہی ہے کہ آپ مناسب رشتہ کے لئے پوری جدوجہد کریں۔

اسلام کا مطالبہ آپ سے یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ کو جو بھلا برار رشتہ مل جائے، آنکھ بند کر کے بس اسے قبول ہی کر ڈالیں، اور اس معاملے میں کچھ غور و خوض نہ کریں۔ شادی نہایت اہم معاملہ ہے۔ پوری زندگی کا مسئلہ ہے۔ نہ صرف دنیا کے بننے بگڑنے تک اس کے اثرات محدود ہیں بلکہ آخرت کی زندگی پر بھی اس کے اثرات پڑ سکتے ہیں۔

یہ معاملہ نہایت سنجیدہ ہے۔ شریک حیات کے انتخاب میں سوچ بچار لازمی ہے۔

سوچنے کی بات صرف یہ ہے کہ آپ کی سوچ بچار اسلام کی روشنی میں ہو۔ انتخاب کا جو معیار اسلام نے بتایا ہے وہی آپ کے پیش نظر ہو۔ اس کا جائزہ لینا ضروری ہے اپنی اولاد کے لئے شریک حیات کے انتخاب میں انہیں بنیادوں کو سامنے رکھئے جن کو پیش نظر رکھنے کی اسلام نے ہدایت دی ہے۔ بے لاگ جائزہ لیجئے کہ بچے کی شادی میں کہیں اس لئے تو تاخیر نہیں ہو رہی ہے کہ آپ نے لڑکے یا لڑکی کے انتخاب میں کچھ ایسی باتوں کو اہمیت دے رکھی ہے جن کی دین میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آپ اور باتوں کو اس لئے اہمیت دے رہے ہیں کہ سماج میں عام طور پر انہی کو اہمیت دی جا رہی ہے یا آپ کو اس لئے ان پر اصرار ہے کہ آپ نے یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ اس سلسلے میں اسلام کی تعلیمات و ہدایات کیا ہیں۔

## (۱۷) شریک حیات کے انتخاب کا معیار

شریک حیات کے انتخاب میں عام طور پر پانچ باتیں پیش نظر رہتی ہیں:

- ① مال و دولت
- ② حسب و نسب
- ③ دین و اخلاق
- ④ تعلیم
- ⑤ حسن و جمال

اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ پانچوں باتیں اپنی جگہ اہم ہیں۔ مال و دولت کی اہمیت سے کون انکار کر سکتا ہے۔ بالخصوص اس دور میں۔ خاندان اور حسب و نسب بھی بعض پہلوؤں سے نظر انداز کر دینے کے قابل نہیں ہیں۔ بعض خاندان یا برادریاں جو عرصہ دراز سے پسماندہ ہیں ان میں بعض معاشرتی، ذہنی اور اخلاقی کمزوریاں ضرور ہوتی ہیں اور طرز معاشرت، انداز فکر اور سلوک و برتاؤ کا فرق بعض اوقات اس درجہ اثر انداز ہوتا ہے کہ خوشگوار ازدواجی زندگی کی توقع ہی نہیں کی جاسکتی۔

انتخاب میں حسن و جمال کو بھی بنیادی اہمیت حاصل ہے اور لڑکی کے انتخاب میں تو خاص طور پر یہی چیز فیصلہ کن ہوتی ہے۔ اس سے انکار کیا گیا محجاش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ذوق جمال دیا ہے اور خوبصورتی پسند کرنے ہی کی چیز ہے۔

تعلیم کی اہمیت اور ضرورت بھی مسلم ہے اور دور حاضر میں تو تعلیم اور ڈگری کا رشتے کے معاملے میں خصوصی خیال رکھا جانے لگا ہے۔ یہ واقعہ ہے کہ اونچی تعلیم جو صلوں کو بلند کرتی ہے۔ تہذیب سے آراستہ کرتی ہے، عزت و احترام کا ذریعہ بنتی ہے، خوشحال زندگی اور سماج میں وقعت و عظمت کا سبب بنتی ہے۔

رہا دین و اخلاق کا معاملہ تو ظاہر ہے مسلمان کے نزدیک اس کی اہمیت اور قدر تو ہونا ہی چاہئے۔ مسلمان ماں یہ کیسے گوارا کر سکتی ہے

کہ وہ زیر تجویز فرد میں سب کچھ تو دیکھے لیکن اس پہلو کو نظر انداز کر دے یا اسے کوئی اہمیت ہی نہ دے۔

آپ کی خواہش، آرزو اور کوشش اگر یہ ہے کہ آپ کی بیٹی یا بیٹے کو ایسا شریک زندگی ملے جو ان پانچوں خوبیوں میں معیاری ہو تو آپ کی تمنا بھی مبارک، آپ کی آرزو بھی درست اور آپ کی کوشش بھی حق بجانب۔ کون نہیں چاہے گا کہ اس کے جگر گوشے کو ایسا ہی جوڑا ملے جو ان پانچوں خوبیوں سے آراستہ ہو۔

اسلام آپ کی اس خواہش، تمنا اور کوشش کو ہرگز ناقدری نہیں کرتا۔ وہ آپ کے ان جذبات کا احترام کرتا ہے۔ اگر آپ کو ایسا جوڑا مل جائے جس میں یہ ساری خوبیاں موجود ہوں تو یقین کیجئے کہ اللہ کی خصوصی نوازش ہے۔ مگر عام حالات میں یہ اجنبائی مشکل ہے کہ ہر رشتے کے لئے آپ کو یہ ساری خوبیاں یکجا مل جائیں۔ کسی میں کچھ خوبیاں ملیں گی تو کچھ خرابیاں بھی ہوں گی۔ دراصل اسی میں آپ کا امتحان ہے کہ آپ انتخاب میں اسلامی نقطہ نظر اپنے سامنے رکھیں اور ان ہی خوبیوں کو وجہ ترجیح بنائیں جن کو اسلام نے ترجیح دی ہے۔

### (۱۸) رسول اللہ ﷺ کی ہدایت

رسول اللہ ﷺ کی ہدایت یہ ہے کہ آپ انتخاب کرتے وقت دین و اخلاق کو اولین اہمیت دیں۔ دین و اخلاق کے ساتھ دوسری چار چیزوں میں سے جو بھی میسر آ جائیں اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اور پھر بے وجہ نال مثل نہ کریں۔ ہاں وہ رشتہ آپ کے لئے ہرگز قابل قبول نہ ہونا چاہئے جس میں ساری خوبیاں تو ہوں مگر دین و اخلاق کی طرف سے مایوسی ہو۔ مسلمان ماں باپ کے لئے دیکھنے کی اولین چیز دین و اخلاق ہے، جو شخص اس سے گورا ہے وہ دوسری تمام چیزوں میں مثالی ہو تو بھی اس لائق نہیں کہ آپ اپنے جگر گوشے کے لئے اس کا انتخاب کریں۔ اسے اپنے گھر کی بہو بنائیں یا اپنا داماد بنائیں۔ دوسری تمام چیزوں کے نقص کی تلافی تو دین و اخلاق سے ہو سکتی ہے، یا یوں کہتے دین و اخلاق کی خاطر دوسری کمزوریوں کو تو گوارا کیا جاسکتا ہے لیکن کسی بڑی سے بڑی خوبی کی خاطر بھی دین و اخلاق سے محرومی کو گوارا نہیں کیا جاسکتا، دین و اخلاق کی تلافی کسی دوسری خوبی سے نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے رسول ﷺ کی ہدایت ہے۔

”نکاح کے لئے عام طور پر عورت میں چار چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ (۱) مال و دولت (۲) خاندانی شرافت (۳) حسن و جمال (۴) دین و اخلاق۔ تم دیندار عورتوں سے شادی کرو تمہارا بھلا ہو۔“

یہ حدیث آپ کو بتاتی ہے کہ آپ اپنے بیٹے کے لئے ایسی بہو بیاہ کر لائیں جو دیندار ہو اور اسلامی اخلاق سے آراستہ ہو۔ ایسی بہو کے ذریعہ ہی آپ کا گھر اسلام کا گوارا بن سکتا ہے اور ایسی بہو سے ہی توقع کی جاسکتی ہے کہ اس کی گود سے ایسی نسل اٹھے جو دین و ایمان اور اسلام کے لئے جذبہ اشاعت و جہاد سے سرشار ہو۔

اسی طرح داماد اور بہو کے انتخاب کے لئے بھی آپ ﷺ کی ہدایت ہے کہ دین و اخلاق ہی کو بنیادی اہمیت دینی چاہئے۔ حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جب تمہارے یہاں کوئی ایسا شخص نکاح کا پیغام بھیجے جس کے دین و اخلاق سے تم مطمئن اور خوش ہو تو اس سے اپنے جگر گوشے کی شادی کر دو۔ اگر تم ایسا نہ کرو گے تو زمین میں زبردست فساد پھیل جائے گا۔“

یہ حدیث آپ کو فیصلہ کن انداز میں بتاتی ہے کہ جب آپ کے یہاں کسی ایسے لڑکے کا پیغام آجائے جس کے دین و اخلاق کی طرف سے آپ کو اطمینان ہو، آپ کی یقینی معلومات یہ ہوں کہ یہ خدا ترس، دیندار، صوم و صلوة کا پابند اور اسلامی اخلاق سے آراستہ ہے تو پھر بلاوجہ تاخیر اور نال مثل کرنا کسی طرح صحیح نہیں۔ اللہ کے بھروسے پر اس کے ساتھ ہی شادی کر دیجئے اور خیر کی توقع رکھئے۔ اس لئے کہ

رشتہ نکاح میں مسلمان کے لئے اولین اہمیت کی چیز دین و ایمان ہی ہے اور جس سماج میں دین و ایمان کو نظر انداز کر کے دوسری چیزوں کو اہمیت دی جائے یا مال و دولت اور حسن و جمال کو دین و اخلاق پر ترجیح دی جائے تو ایسے سماج میں فتنہ و فساد کا طوفان اٹھ کر رہے گا اور دنیا کی کوئی طاقت ایسے سماج کو اس طوفان سے بچانہ سکے گی۔

### (۱۹) ذرا غور کریں: مرنے سے پہلے موت کی تیاری کیجئے

- ① کیا آپ نے وصیت نامہ لکھ لیا ہے؟
- ② کیا آپ نے توبہ کر لی ہے؟
- ③ کیا آپ نے قرض ادا کر دیا ہے؟
- ④ کیا آپ نے بیوی کو مہر ادا کر دیا ہے؟
- ⑤ کیا آپ نے تمام مالی حقوق ادا کر دیئے ہیں؟
- ⑥ کیا آپ نے تمام جانی حقوق ادا کر دیئے ہیں؟
- ⑦ کیا آپ کے ذمہ کوئی نماز باقی ہے؟
- ⑧ کیا آپ کے ذمہ کوئی روزہ باقی ہے؟
- ⑨ کیا آپ کے ذمہ کوئی زکوٰۃ باقی ہے؟
- ⑩ کیا آپ کے ذمہ کوئی حج فرض باقی ہے؟

### (۲۰) قرآن پاک کا ادب و احترام

محترم المقام ہلی جناب مولانا محمد یونس صاحب پالن پوری دامت برکاتہم زید اللہ علیہم السلام مسنون۔

قرآن پاک کے بوسیدہ اور اوراق کی بے حرمتی، مساجد میں بے ترتیب اور بے ڈھنگے طور پر کلام پاک کا رکھا ہونا نیز بغیر جزدان یا بے حد بے ترتیبی سے رکھے قرآن شریف کو دیکھ کر ہمیں بے حد افسوس ہوتا ہے۔ ہم ”بکھرے مولیٰ“ برابر پڑھتے ہیں اور واقعی یہ ایسی کتاب ہے کہ ہزاروں گھروں میں اسے پڑھا جاتا ہے۔ اگر آپ یہ سوال اپنے جواب کے ساتھ آئندہ اشاعت میں شائع فرمادیں تو اُمت پر یہ آپ کا حسانِ عظیم ہوگا۔ کلام پاک کے ساتھ اس بے حرمتی کا کیا سدباب ہونا چاہئے، اس پر روشنی ڈالنے تاکہ قرآن حکیم کے ساتھ ہونے والی اس بے حرمتی کی روک تھام ہو سکے۔ آپ کے جواب کا انتظار رہے ہوگا۔

نیاز مند، محمد افضل لاڈی والے، اے ۲۰۱۱ علی جمہیرس

نزد دار الفلاح، پونے روڈ، کوسہ، ممبر ضلع تھانہ

آپ نے اللہ کی کتاب قرآن مجید کے خلق سے جو سوال پوچھا ہے۔ اس پر میں بھی بے حد رنجیدہ ہوں، خاص طور پر جب مساجد یا گھروں میں کلام پاک کی بے حرمتی دکھائی دیتی ہے تو بڑی روحانی اذیت ہوتی ہے۔

پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن پاک کا درجہ کیا ہے اور اس کی کس قدر وقعت ہے؟

پہلے آسمانی کتب صرف کتاب الہی کہلاتی تھیں مگر قرآن پاک کا اعزاز یہ ہے کہ یہ ”کتاب الہی“ بھی ہے اور ”کلام الہی“ بھی ہے۔ پورا کلام پاک پہلے لوح محفوظ پر رقم کیا گیا اور پھر حسب ضرورت ۲۳ برسوں میں تھوڑا تھوڑا نازل فرمایا گیا۔ یہ نزول اس طرح عمل میں آتا تھا کہ اللہ جل شانہ، حضرت جبرئیل امین علیہ السلام کو اپنا کلام سناتے اور حضرت جبرئیل امین علیہ السلام نبی پاک ﷺ پر بطور وحی نزول فرماتے۔

اتنی عظیم المرتبت اور آفاقی کتاب جو اللہ کا کلام بھی ہے۔ اس کے ساتھ آج اُمت کے ذریعہ ہو رہی بے حرمتی پر جتنے آنسو بہائے جائیں، کم ہیں۔ نبی پاک ﷺ کے آخری رسول اور نبی ہیں، جمہ اور قرآن پاک اللہ کی آخری کتاب ہے یعنی اب صحیح قیامت تک نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ ہی کوئی دوسری کتاب۔

آج یہ آخری کتاب یعنی قرآن عظیم ہمارے درمیان ہے مگر اس کا حق ادا کرنے سے قاصر ہیں۔ جیسا کہ اس حق ہے۔ آج صرف

مرحومین کو ایصالِ ثواب کے لئے اس کا ورد کیا جاتا ہے یا پھر حلیہ بیان کے لئے اسے ہاتھوں پر اٹھایا جاتا ہے۔ جبکہ یہ نازل اس لئے کیا گیا تھا کہ اس پر غور و فکر کیا جائے، تدبیر کیا جائے اور اس کی روشنی میں زندگی کے مراحل طے کئے جائیں، دنیا و عقبیٰ کو سنوارا جائے۔

قرآن پاک کی بے حرمتی خود مسلمانوں کے ہاتھوں ہو تو اس سے زیادہ انہوں کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ بات لکھنے کی نہیں لیکن عبرت کے لئے لکھ رہا ہوں کہ آج ہمارا حال یہ ہے کہ خود تو بہترین کپڑے پہن کر گھومتے ہیں اور جب قرآن شریف پر جزدان چڑھانے کی بات آتی ہے تو بیوی سے کہا جاتا ہے کہ پرانی ازار کا کپڑا تراش کر جزدان بنا دو۔ بتائیے کتنی گری ہوئی ذہنیت کا اظہار اس عمل سے ہوتا ہے۔ وہ عظیم الشان کتاب جو اللہ کا کلام ہے اور آپ ﷺ کا حامل قرآن ہے، اس کی یہ بے حرمتی کتنی بڑی جسارت ہے؟ کیا اللہ پاک اس توہین آمیز حرکت کو برداشت کریں گے؟

اب میں اس بات پر بھی روشنی ڈالتا چلوں کہ اگر قرآن پاک کے اوراق بوسیدہ ہو چکے ہیں تو اس کے لئے کیا کرنا چاہئے؟ بڑی سیدھی سی بات ہے کہ آپ قرآن کے بوسیدہ اوراق کو مساجد کے باہر لگے باکس میں ڈال دیجئے۔ مساجد کے منتظمین اسے جمع کر کے دریا میں ڈال دیتے ہیں۔ اگر یہی کام آپ گھر بھی چاہیں تو باسانی کر سکتے ہیں۔ ایک تھیلی مستقل اسی کام کے لئے رکھئے۔ قرآن شریف کے بوسیدہ اوراق، اخبار کے وہ تراشے جن میں دینی باتیں درج ہوں، نیز رمضان المبارک میں روزہ افطار کے ٹائم ٹیبل وغیرہ جن پر قرآنی آیات نیز احادیث شائع کی جاتی ہیں، انہیں گھر میں رکھی ہوئی اس تھیلی میں جمع کرتے جائیے، مہینے دو مہینے میں جب تھیلی بھر جائے تو اسے خود جا کر سمندر میں ڈال آئیے۔ اس طرح قرآن پاک کی بے حرمتی بھی نہیں ہوگی اور نہ ہی غیروں کو کہنے کا موقع ملے گا کہ اپنی مذہبی کتابوں کو جا بجا پھینکتے ہیں۔

خوب سمجھ لیجئے: باادب ہا نصیب، بے ادب بے نصیب!

کلام پاک یا دیگر دینی کتابوں کے بوسیدہ اوراق کی بے ادبی یا بے حرمتی گناہ عظیم ہے، مسجد میں قرآن پاک کو صاف اور عمدہ جزدان میں لپیٹ کر رکھئے۔ ترتیب سے رکھئے۔ یہ نہیں کہ جہاں جی میں آیا، قرآن شریف اٹھا کر رکھ دیا۔ چھوٹی سائز کے قرآن شریف الگ رکھئے، بڑے سائز کے قرآن الگ رکھئے، یہ نہیں کہ چھوٹے قرآن پر بڑا قرآن رکھ دیا کہ غلطی سے ہاتھ لگ جائے تو قرآن پاک نیچے گر جانے کا خدشہ رہے۔

بہت سے نمازی ممبر پر قرآن شریف رکھ دیتے ہیں۔ یہ بھی غلط ہے۔ قرآن کی جگہ ممبر پر نہیں بلکہ مساجد میں لگے ہوئے طاق یا الماری میں ہونی چاہئے۔ ممبر تو صرف خطیب و امام کے کھڑے ہونے اور بیٹھنے کی جگہ ہے۔ ممبر خطبہ یا تقریر کے لئے ہوتا ہے اس پر ہرگز ہرگز قرآن مجید نہیں رکھنا چاہئے۔ اور نہ کوئی دینی کتاب رکھی چاہئے۔

آپ کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے آپ کا یہ سوال بمعہ جواب ”بکھرے موتی“ میں شامل کر رہا ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ قارئین تک پہنچ سکے، اللہ پاک ہمیں اپنی آخری کتاب ”قرآن حکیم“ کی عزت اور توقیر کرنے کی سعادت نصیب فرمائے اور اس کی بے ادبی یا بے حرمتی سے ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین!

(مولانا) محمد یونس پالپوری

۱۳ شوال المکرم سنہ ۱۴۲۷ھ / ۲۶ اکتوبر سنہ ۲۰۰۷ء

﴿۲۱﴾ مال سے ہم کتابیں تو خرید سکتے ہیں علم نہیں خرید سکتے

مال سے دنیا کے چند بڑے فائدے تو حاصل کئے جاسکتے ہیں مگر ہر مشکل میں مال کام نہیں آتا۔ مثلاً:

مال سے ہم عینک تو خرید سکتے ہیں بیٹائی نہیں خرید سکتے۔ مال سے ہم نرم بستر تو خرید سکتے ہیں میٹھی نیند نہیں خرید سکتے۔  
 مال سے ہم کتابیں تو خرید سکتے ہیں علم نہیں خرید سکتے۔ مال سے ہم خوشامد تو خرید سکتے ہیں کسی کی محبت نہیں خرید سکتے۔  
 مال سے ہم زیورات تو خرید سکتے ہیں حسن نہیں خرید سکتے۔ مال سے ہم گھر میں نوکر تو لا سکتے ہیں بیٹا نہیں لا سکتے۔  
 مال سے ہم خضاب تو خرید سکتے ہیں شباب نہیں خرید سکتے۔  
 پس انسان کو چاہئے کہ طالب مان بننے کے بجائے طالب علم بن کر دنیا اور آخرت میں سرخروئی حاصل کرے۔

### (۲۲) دیندار غر با اللہ کے قریب ہوں گے

حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے: ”قیامت کے روز سب لوگوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب وہ ہوگا جس کا فاقہ، پیاس اور غم دنیا میں طویل مدت تک رہا۔ اگر وہ غائب ہو جائیں تو لوگ تلاش نہ کریں، جب رات کو لوگ بستر بچھا لیتے ہیں تو وہ رب کے حضور پیشانیاں اور گھٹنے بچھا لیتے ہیں اور جب زمین انہیں کھوتی ہے تو روتی ہے۔ جب تو ان کو کسی شہر میں دیکھے تو جان لے کہ یہ لوگ اس شہر میں ایمان کی علامت ہیں۔“

### (۲۳) دوست کو دوست کیوں کہتے ہیں؟

سلف صالحین سے منقول ہے کہ دوست کا لفظ چار حروف سے مل کر بنا ہے، جس کی تفصیل یہ ہے:

- د: سے درد، یعنی جو دکھ درد بانٹنے والے ہوں۔
- و: سے وفا، یعنی جن کی آپ میں وفا ایسی ہو کہ زندگی بھر ساتھ نبھائیں۔
- س: سے سچائی، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ سچائی کا معاملہ کریں۔
- ت: سے تابعداری، یعنی ہر ایک دوسرے کی بات ماننے کے لئے تیار ہے۔

### (۲۴) حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ کی سوانح حیات پڑھ لیجئے

- ① ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو کسی نے خوشخبری دی کہ ان کی کنیز ”خیرۃ“ نے ایک لڑکے کو جنم دیا ہے۔ یہ خبر سن کر ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا دل باغ باغ ہو گیا، چہرہ مبارک پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ پہلی فرصت میں بچہ کو دیکھنے کا شوق دل میں پیدا ہوا، لہذا زچہ اور بچہ دونوں کو اپنے گھر بلانے کے لئے پیغام بھیجا۔ انہیں اپنی اس کنیز سے بے حد پیار تھا۔ اس کا بہت خیال رکھا کرتی تھیں۔ آپ کی دلی خواہش تھی کہ وہ زوجگی کے ایام یہاں گزارے۔
- ② پیغام بھیجے ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ آپ کی کنیز ”خیرۃ“ اپنے ہاتھوں میں نومولود بچہ کو اٹھائے پہنچ گئی۔ جب حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی نگاہ بچے کے معصوم چہرے پر پڑی تو فوراً شوق سے آگے بڑھیں اور اسے اپنی گود میں لے کر پیار کیا۔ یہ بچہ کیا تھا قدرت کا انمول ہیرا، اتنا خوبصورت گل رخ، ماہ جنیں اود مہمند کہ کیا کہتے۔ ہر دیکھنے والا قدرت کے اس شاہکار کو دیکھتا ہی رہ جاتا۔
- حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے اپنی کنیز سے پوچھا: اے خیرۃ! کیا بچے کا نام تجویز کر لیا ہے؟ اس نے کہا: امی جان! ابھی نہیں، یہ میں نے آپ پر چھوڑ رکھا ہے، جو نام آپ کو پسند ہو رکھ دیجئے۔

فرمایا: ہم اس کا نام اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکت سے حسن تجویز کرتے ہیں۔ پھر ہاتھ اٹھائے اور نومولود کے حق میں دعا کی۔

- ③ حسن کی پیدائش سے صرف ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا گھر ہی خوشیوں کا گہوارہ نہ بنا بلکہ مدینہ منورہ کا ایک اور گہوارہ اس

خوشی میں برابر کا شریک رہا اور وہ تھا، کاتب وحی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا گھرانہ، وہ خوشی میں اس لئے شریک تھے کہ نومولود کا باپ یسار ان کا غلام تھا اور ان کے دل میں اپنے غلام کی بڑی عزت تھی اور اسے قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔

④ حسن بن یسار نے جو بعد میں حسن بصری کے نام سے مشہور ہوئے، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ کی زوجہ محترمہ ہند بنت ابی امیہ کی گود میں پرورش و تربیت پائی، جو ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے نام سے مشہور تھیں۔

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا عرب خواتین میں سے سب سے بڑھ کر عقلمند، سلیقہ شعار، محتاط، حساس، پیکر حسن و جمال اور صاحب فضل و کمال تھیں۔ علم و ہنر اور تقویٰ و خشیت میں ممتاز مقام پر فائز تھیں۔ آپ سے ”۳۷۸“ احادیث مروی ہیں، زمانہ جاہلیت میں آپ کا شمار ان خواتین میں ہوتا تھا جو لکھنا جانتی تھیں۔

حضرت حسن بصری کا تعلق ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ صرف ان کی کنیز کے بیٹے کی حیثیت سے ہی نہیں تھا بلکہ اس سے بھی کہیں گہرا اور قریبی تعلق پایا جاتا ہے، وہ اس طرح کہ بسا اوقات حسن کی والدہ خیرہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے کسی ضروری کام کو پٹانے کے لئے گھر سے باہر جاتیں تو یہ بچپن میں بھوک و پیاس کی وجہ سے رونے لگتے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا انہیں اپنی گود میں لے لیتیں۔ ماں کی غیر حاضری میں بچے کو تسلی اور دلاسہ دینے کے لئے اپنی چھاتی اس کے منہ کو لگاتیں، دودھ اتر آتا، بچہ جی بھر کر پیتا اور خاموش ہو جاتا۔

اس طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی حسن بصری کے ساتھ دو نسبتیں تھیں۔ ایک ام المومنین کے اعتبار سے ماں کی اور دوسری رضاعی ماں ہونے کی۔

⑤ اہمات المومنین کے باہمی خوشگوار تعلقات اور گھروں کے آپس میں قرب و ربط کی وجہ سے اس خوش نصیب بچے کو تمام گھروں میں آنے جانے کا موقع ملتا رہتا اور اس طرح سے اہل خانہ کے پاکیزہ اخلاق و اطوار اپنانے کی سعادت حاصل ہوئی۔

حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بچپن میں ازواج مطہرات کے گھروں میں میرے آنے جانے اور کھیل کود سے چہل پہل رہتی اور تمام گھر خوشیوں کا گہوارہ بنے رہتے۔ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات میں اچھلتا کودتا ہوا گھروں کی چھتوں پر چڑھ جاتا، مجھے کوئی روک ٹوک نہ تھی۔

⑥ حضرت حسن بصری کا بچپن انوار نبوت کی چمکیلی اور معطر فضاؤں میں ہنستے کھیلتے گزرا اور یہ رشد و ہدایت کے ان بیٹھے چشموں سے جی بھر کر سیراب ہوئے جو اہمات المومنین کے گھروں میں جاری و ساری تھے۔ بڑے ہوئے تو مسجد نبوی میں کبار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے سامنے زانوئے تلمذ کے شرف سے نوازے گئے اور ان سے علم حاصل کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھارھی۔

انہیں حضرت عثمان بن عفان، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جیسے جلیل القدر صحابہ کرام سے احادیث روایت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ لیکن سب سے بڑھ کر امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے پیار تھا، دینی مسائل میں ان کے مضبوط دلائل، عبادت میں گہری دلچسپی اور ذہنی زینت سے بے رغبتی نے بہت متاثر کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا سحر انگیز بیان، حکمت و دانش سے لبریز باتیں، سنج و متکی عبارتیں اور دل ہلا دینے والی نصیحتیں ان کے دل پر اثر انداز ہوئیں تو ان کے ہو کر رہ گئے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تقویٰ و اخلاق کا رنگ ان پر چڑھا اور حضرت حسن بصری نے نصاحت و بلاغت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اسلوب اختیار کیا۔

حضرت حسن بصری جب اپنی عمر کی پودہ بہاریں دیکھ چکے تو اپنے والدین کے ہمراہ بصرہ منتقل ہو گئے اور وہیں اپنے خاندان کے ساتھ مستقل رہائش اختیار کر لی۔ اس طرح حسن بصرہ کی طرف منتقل ہوئے اور لوگوں میں حسن بصری کے نام سے مشہور ہوئے۔

⑥ جن دنوں حضرت حسن بصری بصرہ میں آباد ہوئے، بلاد اسلامیہ میں یہ شہر علوم و فنون کا سب سے بڑا مرکز تصور کیا جاتا تھا، اس کی مرکزی مسجد صحابہ کرام اور تابعین عظام سے بھری رہتی تھی۔

مسجد کا مال اور محن مختلف علوم و فنون کے حلقہ ہائے درس سے آباد تھا۔ حضرت حسن بصری اُمت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے جید و ممتاز عالم دین، مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے حلقہ درس میں شامل ہوئے اور ان سے تفسیر، حدیث اور تجویز کا علم حاصل کیا، فقہ، لغت اور ادب جیسے علوم دیگر صحابہ کرام سے حاصل کئے۔ یہاں تک کہ یہ ایک راسخ عالم دین اور فقیہ کے مرتبہ کو پہنچے۔ علم میں رسوخ کی وجہ سے عام لوگ دیوانہ داران کی طرف متوجہ ہوئے، لوگ ان کے پاس بیٹھ کر خاموشی سے ایسے مواعظ سنتے جن سے پتھر دل بھی موم ہو جاتے، اور گنہگار آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑتے، آپ کی زبان سے نکلنے والی حکمت و دانش کی باتوں کو لوگ سرمایہ حیات سمجھتے ہوئے اپنے دلوں میں محفوظ کر لیتے اور آپ کی قابل رشک سیرت کو اپنانے کے لئے ہر دم کوشاں رہتے۔

⑦ حضرت حسن بصری کا نام پورے ملک میں مشہور ہو گیا۔ لوگ اپنی مجلسوں میں ان کا ذکر خیر کرنے لگے۔ حکمران ان کی خیریت دریافت کرنا اپنے لئے سعادت سمجھتے، ان کے شب و روز کے معمولات سے آگاہی کی دلی تمنا رکھتے۔

خالد بن صفوان بیان کرتے ہیں کہ میں عراق کے ایک قدیم شہر ”حیرہ“ میں بنو امیہ کے جرنیل اور قاضی قسطنطینہ مسلمہ بن عبدالمالک سے ملا، اُس نے مجھ سے دریافت کیا۔

خالد! مجھے حسن بصری رضی اللہ عنہ کے متعلق کچھ بتاؤ۔ میرا خیال ہے انہیں جتنا تم جانتے ہو کوئی اور نہیں جانتا۔

میں نے کہا: آپ کا اقبال بلند ہو، ہر دم کامیابی آپ کے قدم چومے، بلاشبہ میں ان کے متعلق آپ کو بہتر معلومات بہم پہنچا سکتا ہوں، کیونکہ میں ان کا پڑوسی بھی ہوں اور ہم نشین بھی، بلکہ اہل بصرہ میں سب سے زیادہ انہیں جانتا ہوں، اس نے کہا: ان کے متعلق کچھ مجھے بھی بتائیں۔ میں نے کہا: ان کا باطن ظاہر جیسا ہے۔ ان کا قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں پایا جاتا۔ جب وہ کسی کو نیکی کا حکم دیتے ہیں پہلے خود اس پر عمل کرتے ہیں۔ جب کسی کو برائی سے روکتے ہیں تو خود بھی اس برائی کے قریب نہیں پھٹکتے۔ میں نے دُنیاوی مال و متاع سے انہیں بالکل مستغنی و بے نیاز پایا، جو علم و تقویٰ کا خزانہ ہے، لوگ اسے حاصل کرنے کے لئے دیوانہ داران کی طرف لپکتے ہیں، وہ لوگوں کے محبوب نظر ہیں۔ یہ باتیں سن کر جرنیل مسلمہ بن عبدالمالک پکار اُٹھا: ”خالد! اب بس کیجئے، اتنا ہی کافی ہے، بھلا وہ تو تم کیسے گمراہ ہو سکتی ہے، جس میں حسن بصری رضی اللہ عنہ جیسی عظیم المرتبت شخصیت موجود ہو۔“

⑧ جب ججاج بن یوسف ثقفی عراق کا گورنر بنا اور اس نے اپنے دور حکومت میں ظلم و تشدد کی انتہا کر دی تو حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ ان معدودے چند اشخاص میں سے ایک تھے جنہوں نے اس کی برکشی اور ظلم و جور کو آگے بڑھ کر روکا، اس کے برے کارناموں کی ڈٹ کر مخالفت کی اور حق بات ڈٹے کی چوٹ سے اس کے منہ پر کئی۔

ججاج بن یوسف نے وسط شہر میں اپنے لئے ایک عالی شان محل تعمیر کروایا۔ جب اس کی تعمیر مکمل ہو گئی، اس نے افتتاحی تقریب میں لوگوں کو دعوت عام دی تاکہ وہ عظیم الشان محل کو دیکھیں، اس کی سیر کریں، بزبان خود تعریف کریں اور دُعائیہ کلمات سے نوازیں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ کے دل میں خیال آیا کہ اس منہرے موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے۔ وہ یہ نیت لے کر گھر سے نکلے کہ آج لوگوں کو نصیحت کریں گے، انہیں دُنیاوی مال و متاع سے بے رغبتی اختیار کرنے کا درس دیں گے۔ اور جو اللہ کے یہاں



انعامات ہیں، انہیں حاصل کرنے کی ترغیب دیں گے۔ جب آپ موقع پر پہنچے تو دیکھا کہ لوگ اس عالی شان اور بلند وبال اہل کے چاروں طرف جمع ہیں اور عمارت کی خوبصورتی پر فریفتہ، اس کی وسعت پر انگشت بدنداں اور اس کی آرائش و زیبائش سے مرعوب نظر آتے ہیں۔ آپ نے لوگوں کو گھنٹوں گھومتے ہوئے کہا:

ہمیں یہ معلوم ہے کہ فرعون نے اس سے زیادہ مضبوط، خوبصورت اور عالی شان محلات تعمیر کئے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ہلاک کر دیا اور اس کے محلات کو بھی تباہ کر دیا۔

کاش! حجاج کو یہ معلوم ہو جائے کہ آسمان والے اس سے ناراض ہیں اور زمین والوں نے اسے دعو کے میں رکھا ہوا ہے۔

وہ پورے جوش و ولولہ سے حجاج کے خلاف برس رہے تھے۔ ان کے منہ سے الفاظ تیروں کی طرح نکل رہے تھے، مجمع ان کی شعلہ بیانی پر دم بخود تھا۔ یہاں تک کہ سامعین میں سے ایک شخص نے حجاج بن یوسف کے انتقامی جذبے سے خوفزدہ ہو کر حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ سے کہا: جناب! اب بس کیجئے، اتنا ہی کافی ہے، کیوں اپنے آپ کو ہلاکت کے منہ میں دے رہے ہیں۔

حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ نے اس نیک دل شخص سے کہا: میرے بھائی! اللہ تعالیٰ نے اہل علم سے یہ پیمان لیا ہے کہ وہ ظالم کے منہ پر بغیر کسی خوف کے حق بات کی تبلیغ کرتے رہیں گے اور کبھی اس راہ و فاسد جنا کا گزر نہیں ہونے دیں گے۔ یہی ہمیشہ حق والوں کا وظیرہ رہا ہے اور یہی فریضہ آج میں ادا کر رہا ہوں۔

دوسرے روز حجاج گورنر ہاؤس میں آیا تو اس کا چہرہ غصے سے لال پیلا تھا۔ اس نے غضب ناک انداز میں اہل مجلس سے کہا: لاکھ لعنت ہے تمہارے وجود پر، بزدلو! کینو! میری آنکھوں سے دُور ہو جاؤ، کتنے افسوس کی بات ہے کہ بصرے کا ایک غلام ابن غلام مجمع عام میں بے لگام ہو جاتا ہے میرے خلاف کہہ جاتا ہے اور تم میں کوئی بھی ایسا نہیں جو اس کی زبان کو روکے، شرم کرو، حیا کرو۔ اے گروہ بزدلان اقلیم من! کان کھول کر سنو! اللہ کی قسم! اب میں اس کا خون تمہیں پلا کر رہوں گا۔ اسے آج ایسی عبرتناک سزا دوں گا کہ دنیا انگشت بدنداں رہ جائے گی۔ پھر اس نے تلوار اور چڑے کی چادر منگوائی۔ یہ دونوں چیزیں فوراً اس کی خدمت میں پیش کر دی گئیں۔ اس نے جلا کو حکم دیا، وہ پلک جھپکتے ہی سامنے آکھڑا ہوا۔ پھر پولیس کو حکم دیا کہ حسن بصری کو گرفتار کر کے لایا جائے۔

پولیس تھوڑی ہی دیر میں انہیں پکڑ کر لے آئی۔ منظر بڑا ہی خوفناک تھا، ہر طرف دہشت پھیلی ہوئی تھی، لوگوں کی نظریں اُوپر اٹھی ہوئی تھیں، ہر شخص مغموم تھا، دل کانپ رہے تھے۔ جب حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ نے تلوار، جلا اور چڑے کی چادر کو دیکھا تو وہ زیر لب مسکرائے اور کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔

جب وہ حجاج کے سامنے آئے تو ان کے چہرے پر مومن کا جاہ و جلال، مسلمان کی شان و شوکت اور مبلغ کی آن بان کا عکس جمیل نمایاں تھا۔

حجاج بن یوسف نے ان کی طرف دیکھا تو اس پر ہیبت طاری ہو گئی، غصہ کا فور ہو گیا اور بڑی دھیمی آواز میں کہا: ابو سعید حسن بصری! میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آئیے تشریف رکھئے اور میرے قریب بیٹھیں۔ آپ بیٹھنے لگے تو کہا: ذرا اور قریب ہو جائیے یہاں تک کہ انہیں اپنے ساتھ تخت پر بٹھا لیا۔ لوگ یہ منظر حیرت، استعجاب اور خوف کے طے طے جذبات سے دیکھ رہے تھے۔ جب حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ بڑے اطمینان سے تخت پر بیٹھ گئے، تو حجاج نے ان سے دینی مسائل دریافت کر شروع کر دیئے۔

حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ ہر سوال کا جواب بڑی دلجمعی، سحر بیانی اور عالمانہ انداز میں دیتے رہے۔ حجاج بن یوسف ان کے جوابات

سے بہت متاثر ہوا اور کہنے لگا:

ابوسعید! تم واقعی علماء کے سردار ہو، پھر قیمتی عطر منگوایا اور ان کی داڑھی کو محبت بھرے انداز میں لگا کر رخصت کیا۔

حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ دروازے سے نکلے تو حجاج کا دربان بھی ان کے پیچھے ہولیا۔ تھوڑی دُور جا کر اس نے کہا: اے ابوسعید! حجاج نے آج آپ کو کسی اور غرض سے بلوایا تھا، لیکن اس کی طرف سے یہ حسن سلوک دیکھ کر میں دنگ رہ گیا۔ مجھے ایک بات بتائیں، جب آپ گرفتار ہو کر دربار میں تشریف لائے تھے، آپ نے تلوار، جلا اور چمڑے کی چادر کو دیکھا تو آپ کے ہونٹ حرکت کر رہے تھے۔ آپ کیا پڑھ رہے تھے؟

حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں نے اس وقت یہ دُعا کی تھی:

”اللہم! تو مجھ پر کئی نعمتوں کا والی ہے۔ ہر مصیبت کے وقت میرا الجاد والی ہے۔

اللہم! ساری مخلوق کے دل تیرے قبضے میں ہیں۔

اللہم! حجاج کے غمے کو میرے لئے ٹھنڈا اور سلامتی والا کر دے، جس طرح تو نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو ٹھنڈا اور سلامتی والا کر دیا تھا۔“

مدنی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے

میری دُعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا اور حجاج کا غصہ محبت میں بدل گیا۔

① حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ کو جابر و خالم حکمرانوں کے ساتھ کئی مرتبہ اسی نوعیت کا پالا پڑا، لیکن آپ ہر دفعہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم

سے حکمرانوں کی نگاہ میں محترم اور ان کے دلوں پر اپنی عظمت و خودداری کے گہرے نقوش ثبت کر کے واپس لوٹے۔

اسی قسم کا ایک حیرت انگیز واقعہ اس وقت پیش آیا جب خداترس، منصف مزاج، سادہ منس، پاک ہیں، پاک طینت، خوش گہر اور پاکیزہ خویلیۃ المسلمین حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی وفات حسرت آیات کے بعد یزید بن عبدالملک مسند خلافت پر جلوہ گر ہوا۔ اس نے عمر بن مہرہ فزاری کو عراق کا گورنر مقرر کیا۔ پھر اس کے اختیارات میں اضافہ کر کے خراسان کا علاقہ بھی اس کے ماتحت کر دیا۔

یزید بن عبدالملک نے عمان اقتدار سنبھالتے ہی ایسا طرز عمل اختیار کیا جو سلف صالحین کے طرز عمل کے بالکل برعکس تھا۔ وہ اپنے گورنر عمر بن مہرہ کو کثرت سے خط لکھتا اور ان خطوط میں ایسے احکامات جاری کرتا جو بسا اوقات حق کے منافی ہوتے اور انہیں فوری طور پر نافذ کرنے کا حکم دیتا۔

ایک دن عمر بن مہرہ نے حسن بصری اور عامر بن شرجبل کو مشورے کے لئے بلایا اور عرض کیا کہ امیر المومنین یزید بن عبدالملک کو اللہ تعالیٰ نے مسند خلافت عطا کی ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اس نے مجھے عراق اور خراسان کا گورنر مقرر کیا ہے، کبھی کبھی وہ مجھے ایسے سرکاری خطوط ارسال کرتا ہے جن میں بعض ایسے اقدامات کرنے کا حکم ہوتا ہے جو میرے نزدیک منی برانصاف نہیں ہوتے کیا ایسے احکامات سے پہلوتھی اختیار کرنے کا دینی لحاظ سے میرے لئے کوئی جواز نکلا ہے؟

حضرت عامر بن شرجبل نے ایسا جواب دیا جس میں خلیفہ کے لئے نرم رویہ اور گورنر کو خوش کرنے کا انداز پایا جاتا تھا لیکن حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ خاموش بیٹھے رہے۔

گورنر عمر بن مہرہ نے حسن بصری رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا اور کہا ابوسعید! آپ کی اس سلسلہ میں کیا رائے ہے؟ آپ نے فرمایا:

”اے ابن ہبیرہ! ہو سکتا ہے کہ آسمان سے ایک ایسا تخت گیر فرشتہ نازل ہو جو قطعاً اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتا۔ وہ تجھے تخت سے اٹھا کر اور اس محل کی وسعتوں سے نکال کر ایک تنگ و تاریک قبر میں ڈال دے، وہاں تو یزید کو نہیں دیکھ سکے گا، وہاں تجھے وہ عمل ملے گا جس میں تو نے اپنے اور یزید کے رب کی مخالفت کی تھی۔“

اے ابن ہبیرہ! اگر تو اللہ کا ہو جائے اور ہر دم اس کی اطاعت میں سرگرم رہے تو وہ تجھے یقیناً دنیا و آخرت میں یزید کے شر سے محفوظ رکھے گا اور اگر تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے یزید کا ساتھ دے گا تو پھر اللہ تعالیٰ بھی تجھے یزید کے ظلم و ستم کے حوالے کر دے گا۔ اے ابن ہبیرہ! خوب اچھی طرح جان لو، مخلوق میں خواہ کوئی بھی ہو اس کا وہ حکم نہیں مانا جائے گا جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پائی جاتی ہو۔ یہ باتیں سن کر ابن ہبیرہ اتنا روئے کہ آنسوؤں سے ان کی داڑھی تر ہو گئی۔ پھر وہ حضرت عامر بن شریحہؓ کو چھوڑ کر حضرت حسن بصریؒ کی طرف مائل ہوئے اور حد درجہ ان کی عزت و اکرام بجلائے۔

جب دونوں بزرگ گورنری ملاقات سے فارغ ہو کر مسجد میں پہنچے، لوگ ان کے ارد گرد جمع ہو گئے اور ان سے گورنر کے ساتھ ہونے والی باتیں معلوم کرنے لگے۔ حضرت عامر بن شریحہؓ نے لوگوں کے سامنے برملا کہا۔

لوگو! ہمیں ہر حال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مخلوق پر ترجیح دینی چاہئے، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، آج حسن بصریؒ نے گورنر عمر بن ہبیرہ کو کوئی ایسی بات نہیں کہی جسے میں نہ جانتا ہوں لیکن میں نے اپنی گفتگو میں گورنر کی خوشنودی کو ملحوظ خاطر رکھا اور حسن بصریؒ نے اپنی گفتگو میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو پیش نظر رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے گورنر کی نظروں میں گرا دیا اور حسن بصریؒ کو اس کی نگاہوں میں محبوب بنا دیا۔

حضرت حسن بصریؒ اسی (۸۰) برس تک زندہ رہے۔ اس دوران دنیا کو اپنے علم و عمل، حکمت و دانش اور فہم و فراست سے فیض یاب کرتے رہے۔ انہوں نے نئی نسل کے لئے جو عظیم ورثہ چھوڑا وہ ان کے رقت انگیز پند و نصائح ہیں جو رہتی دنیا تک خزاں گزیدہ دلوں کے لئے بہار بنے رہیں گے، ان کی نصیحتیں دلوں میں گداز اور اتعاش پیدا کرتی رہیں گی، ان کے رقت انگیز مواعظ کے اثر کی بنا پر احساسِ ندامت سے آنکھوں میں آنسوؤں کی جھریاں لگتی رہیں گی، بیتاب آنسو بہتے رہیں گے، پریشان حال لوگوں کو راہنمائی ملتی رہے گی اور غفلت شعار انسانوں کو دنیا کی حقیقت سے آگاہی حاصل ہوتی رہے گی۔

ایک شخص نے حضرت حسن بصریؒ سے دنیا کے متعلق پوچھا۔ آپ نے فرمایا: مجھ سے دنیا و آخرت کے متعلق پوچھتے ہو، سنو! دنیا و آخرت کی مثال مشرق و مغرب جیسی ہے، جتنا زیادہ تم ایک کے قریب جاؤ گے اتنا ہی دوسرے سے دُور ہوتے جاؤ گے۔

تم کہتے ہو کہ میں دنیا کے اوصاف بیان کروں، میں تمہارے سامنے اس گھر کی کیا صفت بیان کروں جس کا آغاز مشیت و تکلیف پر مبنی ہے اور جس کا انجام فنا و بربادی ہے۔ اس میں جو حلال ہے اس کا حساب لیا جائے گا اور جو حرام ہے اس کے استعمال پر سزا دی جائے گی۔ جو اس میں تو گمراہ و مالدار ہو اور فتنے میں مبتلا ہو اور جو فقیر و محتاج ہو اور حزن و ملال کا شکار ہو۔

اسی طرح ایک شخص نے آپ سے آپ کا حال دریافت کیا تو آپ نے فرمایا: بھائی! میرا حال کیا پوچھتے ہو، افسوس! ہم نے اپنی جانوں پر کتنے ظلم ڈھائے، ہم نے اپنے دین کو کمزور کر دیا اور دنیاوی حرص نے ہمیں موٹا کر دیا، ہم نے اپنے اخلاق بوسیدہ کر دیئے اور اپنے بستر اور کپڑے نئے بنوائے۔ ہم میں سے ایک اپنے بائیں پہلو پر ٹیک لگائے مرنے سے پڑا رہتا ہے اور غیروں کے مال بڑی بے پرواہی سے ہڑپ کئے جاتا ہے۔

پھر تو نمکین کے بعد ٹٹھا کھانے کے لئے منگواتا ہے، ٹٹھڈے کے بعد گرم پیتا ہے، خشک کے بعد تر کھجوریں کھاتا ہے، پاپی پیٹ میں

درد اٹھتا ہے اور تے آنے لگتی ہے، پھر گھر میں شور مچاتا ہے کہ جلدی چورن لاؤ تاکہ کھانا ہضم ہو جائے۔ اے گھٹیا نادان! اللہ کی قسم! تو اپنے دین کے سوا کچھ بھی ہضم نہیں کر سکے گا۔

احق! تیرا پڑوسی کہاں اور کس حال میں ہے؟ تیری قوم کا بھوکا یتیم کہاں ہے؟ وہ مسکین کہاں ہے جو تیری طرف دیکھتا رہتا ہے؟ وہ مخلوق کہاں ہے جس کی نگرانی اور دیکھ بھال کی اللہ تعالیٰ نے تجھے وصیت کی تھی؟ کاش! تجھے علم ہوتا تو محض ایک گنتی کا ہندسہ ہے، جب ایک دن کا سورج غروب ہوتا ہے تو تیری زندگی کا ایک دن کم ہو جاتا ہے۔

③ کیم رجب سنہ ۱۱۰ ہجری جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ نے اپنے رب کی صدا پر لبیک کہتے ہوئے اپنی جان جاں آفریں کے سپرد کی۔ صبح کے وقت جب ان کی وفات کی خبر لوگوں میں پھیلی تو بصرے میں کھرام مچ گیا۔ آپ کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا اور اس مرکزی مسجد میں نماز جنازہ پڑھائی گئی جس میں زندگی کا بیشتر حصہ عالم، معلم اور داعی و مبلغ کی حیثیت میں گزارا۔ بصرہ کے تمام باشندے نماز جنازہ میں شریک ہوئے، اس روز بصرہ کی مرکزی مسجد میں نماز عصر کی جماعت نہیں ہوئی کیونکہ شہر میں نماز پڑھنے والا کوئی فرد باقی نہیں رہا تھا۔

اللہ تعالیٰ اس خوش گہر، پاکیزہ خو، سادہ منش، شیریں سخن، پاک طینت، پاک ہیں، فرخندہ اور خندہ جبین عظیم المرتبت شخصیت کی قبر کو منور کرے۔

### آسمان حیرتی لحد پر شبنم افشانی کرے

④ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ کے مفصل حالات زندگی معلوم کرنے کے لئے درج ذیل کتابوں کا مطالعہ کریں۔

- |                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| ۲۰۲، ۱۹۷، ۱۹۵، ۱۸۸، ۱۸۲، ۱۷۹ | ① الطبقات الکبریٰ                 |
| ۲۳۷، ۲۳۳، ۲۳                 | ② الطبقات الکبریٰ                 |
| ۱۶۱، ۱۳۱، ۲                  | ③ حلیۃ الاولیاء اصفہانی           |
| ۳۵۴، ۳۳۱، ۲۸۷، ۱۸۹، ۱۲۳      | ④ تاریخ خلیفہ بن خیاط             |
| ۱۳۹، ۳۵۴، ۱                  | ⑤ وفيات الامیاء ابن خلکان         |
| ۱۳۹، ۱۳۸، ۱                  | ⑥ شذرات الذهب                     |
| ۲۵۴، ۱                       | ⑦ میزان الاعتدال                  |
| ۱۶۰، ۱۵۸، ۱۵۳، ۱۵۲، ۱        | ⑧ امالی الرضی                     |
| ۱۳۳، ۳۱، ۱۷۳، ۲۰             | ⑨ البیان والستیعین                |
| ۳۷۸، ۲۳۵                     | ⑩ انحر محمد بن حبیب               |
| ۱۰۹، ۱۰۸                     | ⑪ کتاب الوفيات احمد بن حسن بن علی |
|                              | ⑫ حسن بصری، احسان عباس            |

### (۲۵) ایران کی تین شہزادیوں نے مدینہ منورہ کے تین دیندار لڑکوں کو پسند کیا

جس روز ایران کے آخری بادشاہ یزدگرد کو ذلت آمیز انداز میں موت کے گھاٹ اتار دیا اس روز اس کے تمام جرنیل، حفاظتی دستہ اور اہل خانہ مسلمانوں کے ہاتھوں قیدی بن گئے اور مال غنیمت کو سمیٹ کر مدینہ منورہ لایا گیا اس عظیم فتح کے موقع پر جس کثیر تعداد میں قیمتی

قیدی مدینہ منورہ میں لائے گئے، اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی، ان قیدیوں میں ایران کے آخری بادشاہ یزدگرد کی تین بیٹیاں بھی تھیں۔  
 ① لوگ قیدیوں کی طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے ہلکے جھپکتے ہی انہیں خرید لیا اور رقم بیت المال میں جمع کرادی۔ صرف ایران کے بادشاہ یزدگرد کی بیٹیاں باقی رہ گئیں۔ وہ بلاشبہ حسن و جمال کا پیکر، پری رُخ اور سیمیں بدن دو شیرائیں تھیں جب انہیں فروخت کرنے کے لئے پیش کیا گیا تو مارے ذلت و رسوائی کے ان کی آنکھیں زمین میں گڑ گئیں۔ حسرت و یاس اور اکھساری و درماگی کی وجہ سے ان کی غزالی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، انہیں دیکھ کر حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کے دل میں ترس آ گیا اور یہ خیال آیا کہ انہیں وہ شخص خریدے جو ان سے حسن سلوک سے پیش آئے۔ اس میں حیران ہونے کی بھی کوئی بات نہیں، رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا تھا:

”فکست خورده قوم کے معزز افراد پر ترس کھایا کرو۔“

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا:

”اے امیر المؤمنین! بادشاہ کی بیٹیوں کے ساتھ امتیازی سلوک ہونا چاہئے۔“

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”آپ سچ کہتے ہیں، لیکن اس کی صورت کیا ہو؟“

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”ایک تو ان کی قیمت زیادہ لگائیں اور دوسرے ان کو اختیار دے دیں جس پر یہ راضی ہو جائیں ان کے ہاتھ انہیں دے دیا جائے اور ان پر قطناً کوئی جبر نہ ہو۔“

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ سن کر بہت خوشی ہوئی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اس تجویز کو نافذ کر دیا۔

ان میں سے ایک نے حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو پسند کیا۔ دوسری نے حضرت محمد بن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اور تیسری حسن و جمال کی وجہ سے جسے ملکہ خواتین کہا جاتا تھا اس نے اپنے لئے نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو پسند کیا۔

② تھوڑے ہی عرصہ بعد ملکہ خواتین نے اپنی دلی رغبت سے اسلام قبول کر لیا، یہ دینِ قیم کی راہ پر گامزن ہوئیں، غلامی سے آزاد کر دی گئیں، کنیر سے آزاد ہو کر بیوی کا باعزت مقام حاصل کیا، پھر اس نے سوچا کہ ماضی کی تمام شرکیہ یادیں یکسر بھلا دی جائیں اور اس نے اپنا نام شاہ زندہ سے بدل کر غزالہ رکھ لیا۔

غزالہ کے نصیب میں بہترین ریش حیات آیا۔ بڑی خوشگوار زندگی بسر ہونے لگی، مہینے لمحوں میں گزرنے لگے۔ اب ایک ہی دلی خواہش باقی رہ گئی تھی کہ اسے چاند سا بیٹا نصیب ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی یہ خواہش بھی پوری کر دی، ایک مہتاب چہرہ بیٹے نے جنم لیا۔ برکت کے لئے اس کا نام دادا کے نام پر علی رکھا گیا لیکن غزالہ کے لئے یہ خوشی چند لمحات سے زیادہ دیکھنا نصیب نہ ہوئی کیونکہ اپنے بیٹے کو جنم دیتے ہی اللہ کو پیاری ہو گئی۔

③ اس نومولود کی پرورش و نگہداشت ایک کنیر کے سپرد کر دی گئی جس نے اسے ماں جیسا پیار دیا، اس نے اس پر اپنی محبت کو اس طرح بھرا دیا کہ اس طرح کوئی ماں اپنے اکلوتے بیٹے سے پیار کرتی ہے اور اس کی اس طرح پرورش کی کہ یہ نومولود بڑا ہو کر اسے ہی اپنی حقیقی ماں سمجھنے لگا۔

④ حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہ جب سن شعور کو پہنچے تو حصولِ علم کی طرف شوق و رغبت سے متوجہ ہوئے، پہلا مدرسہ گھر ہی تھا اور یہ کتنا اچھا مدرسہ تھا۔

پہلے استاد ان کے والد حسین بن علی رضی اللہ عنہ تھے اور یہ کتنے عظیم استاد تھے، دوسرا مدرسہ رسول اکرم ﷺ کی مسجد تھا۔ مسجد نبوی ﷺ میں ان دنوں صحابہ کرام اور تابعین عظام رضی اللہ عنہم کی چہل پہل تھی۔ صحابہ کرام اور تابعین عظام بڑی ہی دلی رغبت کے ساتھ

پھولوں جیسے نونہال بیٹوں کو کتاب الہی پڑھایا کرتے تھے اور اس میں غور و تدبر کی تلقین کرتے، حدیث رسول ان کے سامنے بیان کرتے اور اس کے مقاصد سمجھاتے۔

رسول اکرم ﷺ کی سیرت اور غزوات کے واقعات بیان کرتے، مختلف شعراء کے اشعار پڑھ کر سنانے اور پھر ان کے مطالب بیان کرتے اور ان کے دنوں میں حب الہی، خشیت الہی اور تقویٰ کی جوت جگاتے۔ اس طرح یہ نونہال باعمل علماء اور باکردار راہنما بن کر ابھرتے۔

⑤ حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہما کے دل میں قرآنی علم نے گھر کر لیا۔ اس کے سوا کسی اور علم کی طرف دل راغب ہی نہ ہوا۔ قرآن مجید کے وعدہ و وعید کی وجہ سے ان کے احساسات میں لرزہ طاری ہو جاتا۔ جب قرآن مجید کی کوئی ایسی آیت پڑھتے جس میں جنت کا تذکرہ ہوتا تو دل شوق و رغبت سے اس کے حصول کا تمنا ہوتا، اور جب قرآن مجید کی ایسی آیت پڑھتے جس میں جہنم کا تذکرہ ہوتا تو ایک گرم اور لمبی سانس لیتے، انہیں یوں محسوس ہوتا جیسے جہنم کی آگ کا دکھتا ہوا شعلہ ان کے دامن میں اتر آیا ہے۔

⑥ حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہما جوانی اور علم کے نکتہ عروج پر پہنچے تو مدنی معاشرے کو ایک الیا جوان ملا جو بنو ہاشم کے جوانوں میں عبادت اور تقویٰ میں مثالی شان رکھنے والا، فضل و شرف اور اخلاق و کردار میں سب سے بڑھ کر، نیکی و بردباری میں سب سے اعلیٰ مقام پر فائز، ان کی عبادت اور تقویٰ کا یہ حال تھا کہ وضو اور نماز کے درمیان ان کے بدن میں کچھ طاری ہو جاتی اور ان کا جسم مسلسل رعشے کی زد میں آ جاتا اور اس سلسلے میں ان سے بات کی جاتی تو فرماتے:

”تم پر بڑا افسوس ہے، کیا تم جانتے نہیں کہ تم کس کس کے سامنے کھڑا ہونے والا ہوں؟ کیا تم جانتے نہیں کہ کس کے ساتھ میں سرگوشی کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں؟“

⑦ اس ہاشمی نوجوان کی نیکی، تقویٰ اور عبادت گزاری سے متاثر ہو کر لوگوں نے اس زین العابدین کے نام سے پکارنا شروع کر دیا اور اسی نام سے آپ مشہور ہو گئے۔ یہاں تک کہ لوگ ان کے اصلی نام کو بھول گئے۔ غرضیکہ لقب اصلی نام پر غالب آ گیا، ان کی سنجیدہ ریزی اور نماز کے دوران دنیا کی بے نیازی کی وجہ سے الہی مدینہ نے انہیں ”قانی السجود“ کا لقب دے دیا۔ ان کے باطن کی صفائی اور دل کی پاکیزگی کی وجہ سے لوگوں نے انہیں پاک باز و پاک طینت شخصیت قرار دے دیا۔

⑧ حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ کا اس بات پر یقین تھا کہ عبادت کا مغز دُعا ہے۔ وہ کعبہ شریف کے پردے سے چٹ کر گھنٹوں رب جلیل کی بارگاہ میں دُعا میں کرتے۔ بیت اللہ کے ساتھ کتنی ہی مرتبہ چٹ کر انہوں نے یہ دُعا کی:

”پروردگار! تو نے بے پایاں رحمت مجھ پر نچھاور کی، مجھ پر انعام و اکرام کی بے انتہا بارش کی۔ میں بلا خوف و خطر تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، محبت و الفت کی بیابان تجھ سے سوا الی ہوں، تیری بارگاہ سے مزید رحمت کا سچا ہوں۔ تیرے حقوق کی ادائیگی کے لئے ہمت و طاقت کی التجا ہے۔ الہی! میں تجھ سے اس بچارے گہرے پانی میں ڈوبنے والے کے مانند مانگتا ہوں جسے کنارے لگنے کے لئے تیرے سوا کوئی سہارا نظر نہ آتا ہو۔ الہی! کرم فرما اور میری زندگی کی منجھار میں پھنسی ہوئی ناؤ کو کنارے لگا دے، بلاشبہ تو سب سے بڑھ کر اپنی مخلوق پر کرم کرنے والا ہے۔“

⑨ حضرت طاؤس بن کیسان رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ دیکھا کہ یہ بیت اللہ کے سایے میں کھڑے مضطرب شخص کی طرح بچ و تاب کھارے ہیں۔ سخت بیمار کی طرح کرا رہے تھے محتاج کی طرح دُعا کر رہے تھے۔ حضرت طاؤس بن کیسان رضی اللہ عنہ کھڑے انتظار کر رہے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے رونا بند کر دیا، دُعا سے فارغ ہوئے تو طاؤس بن کیسان نے ان سے کہا: ”اے اللہ کے رسول

بچے کے نواسے! میں نے آج تیری حالت دیکھی ہے، تجھ میں تین خوبیاں ایسی پائی جاتی ہیں جو تجھے خوف سے بچالیں گی۔“  
حضرت زین العابدین نے پوچھا: ”اے طاؤس! وہ کون سی خوبیاں ہیں؟“

آپ نے فرمایا: ”ایک تو آپ رسول اللہ ﷺ کے نواسے ہیں، دوسری تجھے اپنے نانا کی شفاعت حاصل ہوگی اور تیسری اللہ تعالیٰ کی رحمت تیرے شامل حال ہوگی۔“

انہوں نے فرمایا: ”اے طاؤس! قرآن مجید کی درج ذیل آیت سننے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ میرا رسول کے ساتھ امتساب مجھے فائدہ نہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

”فَاِنَّا نَفْعُ فِي الصُّورِ فَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ“ (سورہ مؤمنون: آیت ۱۰۱)

”تو جب صور پھونکا جائے گا تو اس دن ان کے درمیان کوئی حسب و نسب کام نہ آئے گا اور نہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔“  
جہاں تک میرے نانا کی شفاعت کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد میرے پیش نظر ہے۔

”وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى“ (سورہ الانبیاء: آیت ۲۸)

”کسی کی سفارش نہیں کرتے بجز اس کے جس کے حق میں سفارش سننے پر اللہ راضی ہو۔“  
اور جہاں تک اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تعلق ہے، اس سلسلے میں ارشاد باری ہے:

”إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ“ (سورہ الاعراف: آیت ۵۶)

”بے شک اللہ کی رحمت نیک کردار لوگوں سے قریب ہے۔“

تقویٰ اور خوفِ خدا نے حضرت زین العابدین میں بہت سی خوبیاں پیدا کر دیں۔ فضل و شرف اور نرمی اور بردباری کے خوگر ہوئے، ان مثالی اوصاف کے دل پذیر بند کروں سے سیرت کی کتابیں مزین ہیں اور تاریخ کے صفحات چمک رہے ہیں۔

حضرت حسن بن حسن بیان کرتے ہیں۔ میرے اور چچا زاد بھائی زین العابدین کے درمیان ایک مرتبہ اختلاف پیدا ہو گیا، میں ان کے پاس گیا۔ وہ مسجد میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ بیٹھے ہوئے تھے، غصے میں آکر میں نے جومتہ میں آیا انہیں کہہ دیا لیکن وہ میری کڑی کسلی باتیں خاموشی سے سنتے رہے اور مجھے کوئی جواب نہ دیا۔ میں غصے کا بھرپور اظہار کر کے چلا گیا، رات کو میرے دروازے پر کسی نے دستک دی، یہ دیکھنے کے لئے اٹھا کہ اس وقت میرے دروازے پر کون ہو سکتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ زین العابدین کھڑے ہیں، مجھے اس بات میں کوئی شک نہ رہا کہ یہ اب اپنا بدلہ لینے آئے ہیں، لیکن انہوں نے فرمایا:

”میرے بھائی! آج صبح جو آپ نے میرے بارے میں کہا اگر اس میں آپ سچ ہیں تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے اور اگر آپ ان باتوں میں سچے نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے۔“

یہ کہا، مجھے سلام کیا اور واپس چلے گئے۔ میں نے انہیں روکا اور عرض کیا، ”آئندہ میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جو آپ کو ناگوار گزرے۔ بھائی مجھے معاف کر دیجئے۔“

ان کا دل نرم ہو گیا اور فرمایا: ”کوئی بات نہیں، میرے بارے میں آپ کو بات کرنے کا حق پہنچتا ہے۔“

مدینہ منورہ کا ایک باشندہ بیان کرتا ہے کہ ایک مرتبہ زین العابدین مسجد سے باہر نکلے اور میں بھی ان کے پیچھے ہولیا، میں بغیر کسی وجہ کے انہیں گالیاں دینے لگا، لوگ یہ سن کر مجھ پر پل پڑے، مجھے اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔ قریب تھا کہ وہ میرا کچھ مر نکال دیتے، زین العابدین نے لوگوں کی طرف دیکھا اور فرمایا: زک جاؤ۔ تو وہ سب زک گئے، جب آپ نے مجھے کانپتے ہوئے دیکھا تو

①

بڑی خندہ پیشانی سے میری طرف متوجہ ہوئے، مجھے دلاسا دینے لگے تاکہ میرا خوف جاتا ہے۔

پھر آپ نے فرمایا: ”آپ نے مجھے اپنی معلومات کے مطابق گالی دی لیکن وہ عیب جن پر پردہ پڑا ہوا ہے، آپ نہیں جانتے، وہ تو کہیں زیادہ ہیں۔“ پھر مجھ سے پوچھا: ”کیا تمہاری کوئی ایسی ضرورت ہے جسے پورا کر کے ہم تمہاری مدد کر سکیں۔“

میں شرمندہ ہوا اور کچھ کہہ نہ سکا۔ جب انہوں نے میری شرمساری دیکھی تو اپنی قیمتی چادر اتار کر مجھ پر ڈال دی اور ایک ہزار روپہم مجھے عنایت کئے۔

ایک غلام کہتے ہیں کہ میں زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ عنہما کا غلام تھا۔ انہوں نے مجھے کسی کام کے لئے بھیجا، میں نے تاخیر کر دی، جب میں ان کے پاس آیا تو بڑے غصے سے کوڑا پکڑا اور میری پٹائی شروع کر دی، میں رونے لگا، مجھے غصہ بھی بہت آیا، آپ نے اس سے پہلے کسی کو مارا بھی نہیں تھا۔

میں نے کہا: ”اے علی بن حسین! اللہ سے ڈریں، ایک تو آپ مجھ سے خدمت لیتے ہیں، میں آپ کے حکم کے مطابق ہر کام پوری محنت سے کرتا ہوں، اوپر سے آپ میری پٹائی کرتے ہیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟“

میری یہ بات سن کر رو پڑے اور فرمایا: ”ابھی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جاؤ، دو رکعت نماز پڑھو پھر یہ دُعا کرو۔ اے علی بن حسین کو معاف کر دے، اگر آج آپ یہ کریں گے تو میری غلامی سے آپ آزاد ہوں گے۔“ میں مسجد گیا، نماز پڑھی اور دُعا کی۔ جب میں گھر واپس لوٹا تو آزاد تھا۔

④ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ پر بڑی وافر مقدار میں مال و دولت اور رزق کے خزانے کھول رکھے تھے۔ تجارت میں انہیں بہت نفع ہوتا تھا۔ زراعت میں بھی بڑی فراوانی میسر تھی۔

یہ دونوں کام آپ کے نوکر چاکر انجام دیا کرتے تھے۔ زراعت و تجارت کے ذریعے وافر مقدار میں مال و دولت ان کے ہاتھ لگتا، لیکن اس تو نگری و فراوانی نے ان کے اندر نخوت یا تکبر کا کوئی شائبہ پیدا نہیں کیا۔ البتہ دُنیا کے مال کو انہوں نے آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنایا۔ ان کی دولت و ثروت ہر لحاظ سے ان کے لئے مفید کارآمد ثابت ہوئی۔ رازداری اور پوشیدہ انداز میں صدقہ و خیرات کرنا انہیں بہت محبوب تھا۔ جب رات کا اندھیرا چھا جاتا تو یہ اپنی کمزور کمر پر آنے کے تھیلے اٹھاتے اور مدینے کے ان ضرورت مندوں کے گھر چپکے سے چھوڑ آتے جو خودداری کی وجہ سے لوگوں کے سامنے دست حوال دراز نہیں کرتے تھے۔ یہ کام سرانجام دینے کے لئے رات کی تاریکی میں اس وقت نکلتے جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوتے۔

مدینہ منورہ میں بہت سے گھر خوشحالی سے زندگی بسر کر رہے تھے، جنہیں یہ بھی پتا نہیں تھا کہ ان کے پاس وافر مقدار میں رزق کہاں سے آتا ہے۔ حضرت زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ عنہما فوت ہو گئے اور ان لوگوں کے پاس آنا آنا بند ہو گیا تب پتا چلا کہ یہ کہاں سے آتا تھا۔

حضرت زین العابدین کو غسل دینے کے لئے جب تختے پر رکھا گیا، غسل دینے والوں نے پیٹھ پر سیاہ نشان دیکھا تو کہنے لگے، یہ کیا ہے؟ انہیں بتایا کہ یہ آنے کی بوریاں اٹھانے کی وجہ سے نشان پڑا، جو وہ مدینے کے تقریباً ایک سو گھروں میں پہنچایا کرتے تھے، آج اس طرح فیاضی کے ساتھ خرچ کرنے والا دُنیا سے رخصت ہو گیا۔

⑤ حضرت زین العابدین بن حسین رضی اللہ عنہما اپنے غلاموں کو اس کثرت اور فیاضی سے آزاد کیا کرتے تھے کہ اس کا چرچا مشرق و مغرب میں ستر کرنے والے مسافروں تک پہنچ چکا تھا۔ ان کا یہ کارنامہ لوگوں کی فکر و نظر کے اُفق سے بھی کہیں بلند تھا، اس کی پرواز تخیلات



سے بھی نہیں اُوچی تھی، کوئی عام انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔

یہ ہر اس غلام کو آزاد کر دیا کرتے تھے، جو ان سے حسن سلوک سے پیش آتا، اس کی آزادی اس کے حسن سلوک کا بدلہ ہوگی۔ یہ اس غلام کو بھی آزاد کر دیا کرتے تھے جو نافرمانی کرنا اور پھر توبہ کر لیتا۔ اُسے اپنی توبہ کے بدلے آزادی مل جاتی۔ ان کے متعلق یہ بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ایک ہزار غلام آزاد کئے۔ آپ اپنے کسی غلام یا کسی کثیر سے ایک سال سے زائد خدمت نہیں لیا کرتے تھے۔

عید الفطر کی رات، بہت زیادہ غلاموں کو آزاد کیا کرتے تھے، ان سے یہ مطالبہ کیا کرتے تھے قبلہ رخ ہو کر اللہ تعالیٰ سے یہ دُعا کریں:

”اللہم! علی بن حسین کو معاف کر دے۔“ اس طرح انہیں دہری خوشی نصیب ہوتی، ایک خوشی عید کی اور دوسری خوشی آزادی کی۔

حضرت زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ عنہما کی محبت لوگوں کے دلوں میں اتر چکی تھی۔ لوگ انہیں بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے، لوگوں کے دلوں میں ان کا بہت مرتبہ تھا۔ گویا یہ لوگوں کے بے تاج بادشاہ تھے۔ ان کے دور میں یہ مقام کسی اور کو حاصل نہ تھا، لوگوں کو ان سے حقیقی محبت تھی، ان کے ساتھ بڑی تعظیم سے پیش آتے، بڑا ہی گہرا تعلق تھا، لوگوں کی نگاہیں ہر دم ان کی متلاشی رہتیں۔ گھر سے نکلتے ہوئے یا گھر میں داخل ہوتے ہوئے، مسجد جاتے ہوئے یا مسجد سے واپس آتے ہوئے لوگ ان کی زیارت کی سعادت حاصل کیا کرتے تھے۔

ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ہشام بن عبد الملک حج کے لئے مکہ منظم آیا۔ اس وقت وہ ولی عہد تھا، وہ طواف کرنا اور حجر اسود کو چومنا چاہتا تھا، حفاظتی دستے نے لوگوں کو ہٹو بچو کرتے ہوئے اس کے لئے راستہ بنانا شروع کر دیا۔ لیکن لوگوں میں سے ایک شخص نے ان کی طرف دیکھا ہی نہیں اور نہ ہی ان کے لئے راستہ بنایا بلکہ وہ یہ کہہ رہا تھا: ”یہ گھر اللہ کا ہے، تمام لوگ اس کے بندے ہیں۔“ اسی دوران دُور سے ”لا الہ الا اللہ“ اور ”اللہ اکبر“ کی آوازیں سنائی دینے لگیں، لوگ ٹکٹی لگا کر اس کی طرف دیکھنے لگے، وہ کیا دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے جھرمٹ میں ایک خوبصورت، چھریرے بدن اور روشن چہرے والا شخص احرام باندھے بڑے ہی وقار کے ساتھ بیت اللہ کی جانب چلا آ رہا ہے۔ اس کی پیشانی پر سجدوں کا نشان نمایاں ہے۔ لوگ عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے اس کے لئے راستہ بنا رہے ہیں اور اسے محبت و عقیدت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، وہ شخص حجر اسود تک پہنچا اور اسے بڑے ہی باوقار انداز میں چوما۔

ہشام بن عبد الملک کے حاشیہ برادروں میں سے ایک شخص نے اس سے پوچھا، یہ کون ہے جس کی لوگ اس انداز میں تعظیم بجالا رہے ہیں۔ ہشام نے کہا، میں اسے نہیں جانتا۔

دُنیا کے عرب کا مشہور شاعر فرزدق وہاں موجود تھا۔ اس نے کہا، اگر ہشام اس کو نہیں جانتا تو کیا ہوا، میں اسے جانتا ہوں اور تمام دُنیا اسے جانتی ہے۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا فرزند ارجمند علی ہے جسے لوگ زین العابدین کے نام سے جانتے ہیں، پھر برجستہ ان کی شان میں اشعار کہے جن کا ترجمہ درج ذیل ہے:

① یہ وہ شخص ہے جس کے قدموں کی آہٹ کو وادی بطناء جانتی ہے

بیت اللہ بھی اس کو جانتا ہے اور حل و حرم بھی اسے جانتے ہیں

② یہ اللہ کے بندوں میں سب سے بہتر انسان کا نواسہ ہے

یہ متقی پرہیزگار، پاک صاف اور ممتاز انسان ہے

- ① یہ فاطمہ الزہرا کا پوتا ہے ، اگر تو نہیں جانتا تو سن لے
- ② اس کے نانا خاتم الانبیاء ﷺ ہیں
- ③ تیرا یہ کہنا کہ یہ کون ہے اسے کوئی نقصان نہیں دے گا
- ④ تو اسے اگر نہیں جانتا عرب و عجم تو اسے جانتے ہیں
- ⑤ اس کے دونوں ہاتھ بڑے فیاض ہیں
- ⑥ لوگ اس کی فیاضی سے خوب مستفیض ہوتے ہیں
- ⑦ یہ نرم طبیعت ہے اس میں ترش روئی کا شائبہ تک نہیں ہے
- ⑧ دو خوبیوں نے اس کا آراستہ کیا ہے وہ حسن اخلاق اور نرم طبیعت ہے
- ⑨ تشہد کے علاوہ اس کی زبان پر لا نہیں آتا
- ⑩ اگر تشہد نہ ہوتا تو یہ لایھی نعم ہوتا
- ⑪ اس کے احسانات خلق خدا پر عام ہیں
- ⑫ جن کی وجہ سے تاریکیاں ، غربت و افلاس ختم ہو گئے
- ⑬ جب قریش نے اسے دیکھا تو اس کا ایک شخص پکار اٹھا
- ⑭ یہ وہ شخص ہے جس پر حسن اخلاق ختم ہے
- ⑮ یہ جیا کی وجہ سے اپنی نگاہیں نیچی رکھتا ہ
- ⑯ اور لوگ اس کی ہیبت سے نگاہیں جھکا لیتے ہیں
- ⑰ اس کی ہتھیلی ریشم کی طرح نرم ہے اور اس سے کستوری کی خوشبو آتی ہے
- ⑱ اور اس کی ناک کھڑی ہے جس سے شخص عظمت آشکار ہوتی ہے
- ⑲ اس کا اصل رسول ﷺ سے مشتق ہوا ہے
- اس کا حسب و نسب کس قدر عمدہ ہے

حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ ہر اس شخص کے لئے نادر نمونہ تھے، جو پوشیدہ اور علانیہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اور اس کے ثواب کا لالچ کرتے ہوئے اپنے آپ کو بچا بچا کر رکھتے ہیں۔

نوٹ: بندے کے والد صاحب بیانات میں عربی کے یہ اشعار مع ترجمہ دردمجرے انداز میں پڑھتے تھے، مجمع بہت رونما تھا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور جنت نصیب فرمائے، آمین!

⑩ حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ کے مفصل حالات زندگی معلوم کرنے کے لئے درج ذیل کتابوں کا مطالعہ کریں۔

① طبقات ابن سعد	۲۱۱/۵	① تاریخ البخاری	۲۲۶/۶
② المعارف	۲۱۳	② المعروفہ والتاریخ	۵۳۳، ۳۶۰/۱
③ الجرح والتعديل	۱۷۸/۳	③ طبقات الفقہاء (شیرازی)	۶۳
④ تاریخ ابن عساکر	۵۱۵/۱۲	④ الاسماء واللغات	۳۲۳/۱

۳۳۴

① تاریخ اسلام

۳۶۶/۳

② وفیات الاعیان

۱۰۳/۹

③ البدلیۃ والنہلیۃ

۱۱۱/۱

④ العمر

۲۲۹/۱

⑤ انجوم الزاہرہ

## ﴿ ۲۶ ﴾ حضرت ثمامہ بن اُثال رضی اللہ عنہ کا واقعہ

حضرت مولانا صاحب دامت برکاتہم!

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

بعد سلام عرض ہے کہ بارہا آپ کے وعظ میں حضرت ثمامہ بن اُثال کا واقعہ سنتا ہوں جو میں نے کسی کتاب میں پڑھا نہیں ہے حالانکہ میں بفضلہ و کرمہ علم کی دولت کے حصول میں کچھ عرصہ دے چکا ہوں، برائے کرم تفصیلی خطاب سے مستفیض فرما کر قلبی فرحت کا موقع عنایت کیجئے۔ فقط والسلام!

جواب خط

رسول اللہ ﷺ نے سنہ ۶ ہجری میں بعوثِ اسلامی کا دائرہ وسیع کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اس کے لئے آپ ﷺ نے عرب و عجم کے حکمرانوں کو اٹھ دعوتی خط لکھے۔ آپ نے جن حکمرانوں کے پاس یہ خطوط ارسال فرمائے تھے، ان میں سے ایک ثمامہ بن اُثال حنفی تھا، ثمامہ کو اہم حکمرانوں میں شامل کرنا اور اس کے یہاں دعوتی خط روانہ کرنا حیرت انگیز اور قابلِ تعجب اس لئے نہیں تھا کہ وہ نہایت بااثر اور اہم شخصیت کا مالک تھا۔ وہ دورِ جاہلیت میں عرب کا ایک حکمران قبیلہ بنو حنیفہ کا ایک سربراہ اور رئیس اور علاقہ یمامہ کے ان بادشاہوں میں سے تھا جن کی کوئی بات ٹھکرائی نہیں جاتی تھی۔

جب ثمامہ کے پاس رسول اللہ ﷺ کا قاصد پہنچا تو اس نے اس کے ساتھ نہایت توہین آمیز اور غیر ذمہ دارانہ رویہ اپنایا۔ جھوٹے پندار اور جاہلانہ غرور نے اس کو کفار پر جمادیا اور اس نے دعوتِ حق سے اپنے کان بند کر لئے، پھر شیطان اس پر سوار ہو گیا۔ وہ رسول اللہ ﷺ پر بے خبری کی حالت میں اچانک حملہ کر کے آپ ﷺ کا کام تمام کر دینا چاہتا تھا اور اپنے اس ناپاک منصوبے کی تکمیل کے لئے وہ کسی مناسب موقع کا انتظار کرنے لگا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس کے شر سے محفوظ رکھا۔ ثمامہ اگرچہ رسول اللہ ﷺ کے ارادہ قتل سے باز آ گیا لیکن وہ آپ کے صحابہ کو قتل کرنے کے ارادے سے دست بردار نہیں ہوا، وہ برابر ان کی تاک میں لگا رہا، آخر کار وہ چند صحابہ پر قابو پانے میں کامیاب ہو گیا اور ان کو نہایت دردناک طریقے سے شہید کر ڈالا۔ اس وجہ سے رسول اللہ ﷺ نے صحابہ میں اس بات کا اعلان فرمادیا کہ وہ جہاں کہیں ملے، قتل کر دیا جائے۔ صحابہ کے قتل اور نبی کریم ﷺ کے اس اعلان کے کچھ ہی دنوں بعد ثمامہ نے عمرہ ادا کرنے کا ارادہ کیا اور اس ارادے سے وہ اپنے علاقہ یمامہ سے مکہ کی سمت روانہ ہوا، وہاں پہنچ کر وہ کعبہ کا طواف اور اس میں رکھے ہوئے بتوں کے لئے قربانی کا ارادہ رکھتا تھا لیکن اپنے اس سفر کے دوران وہ مدینہ کے قریب ایک راستے سے گزرتے ہوئے اچانک ایک ایسی آفت میں پھنس گیا جس کا اسے وہم و گمان تک نہیں تھا۔ ہوا یہ کہ رسول اللہ ﷺ کے بھیجے ہوئے کچھ مسلمانوں پر مشتمل ایک فوجی دستے نے جو اس خطرے کے پیش نظر کہیں کوئی شر پسند رات کی تاریکی سے قابضہ اٹھا کر مدینہ کے باشندوں کو نقصان نہ پہنچادے، ثمامہ کو دیکھا اور اسے گرفتار کر لیا (حالانکہ ان میں سے کوئی بھی اسے پہچانتا نہ تھا) اور اس کو مدینہ لائے اور اسے مسجد کے ایک ستون سے باندھ دیا اور اس بات کا انتظار کرنے لگے کہ رسول اللہ ﷺ ہنس نھیں نھیں اس قیدی کے حالات سے واقفیت حاصل کر کے اس کے بارے میں کوئی فیصلہ صادر فرمائیں گے۔ جب رسول اللہ ﷺ گھر سے مسجد کی طرف آئے اور اس میں داخل ہونے کا ارادہ کیا تو آپ کی نظر ثمامہ پر پڑی جو ستون

سے بندھا ہوا تھا۔ آپ نے صحابہ کرام سے دریافت فرمایا: ”جانتے ہو تم لوگوں نے کس کو گرفتار کیا ہے؟“ صحابہ کرام نے عرض کیا: نہیں، اے اللہ کے رسول! ہم اس سے واقف نہیں ہیں۔

”یہ قبیلہ بنی حنیفہ کا سردار ثمامہ بن اٹال ہے۔ اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔“ آپ ﷺ نے قیدی کا تعارف کراتے ہوئے فرمایا۔ پھر آپ واپس گھر تشریف لے گئے اور گھر والوں سے کہا کہ ”تمہارے پاس جو بھی کھانا ہو، اسے جمع کر کے ثمامہ بن اٹال کے پاس بھیج دو۔“ پھر آپ ﷺ نے ہدایت فرمائی کہ ”میری اڈنٹی کا دودھ صبح و شام دُوہ کر اس کو پیش کیا جائے۔“ پھر آپ ثمامہ کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے خیال سے اس کے پاس تشریف لے گئے اور اس سے پوچھا کہ ”ثمامہ! تمہارا کیا خیال ہے؟ تم ہماری طرف سے کس قسم کے سلوک کی توقع رکھتے ہو؟“

”میں آپ کے متعلق اچھا گمان اور آپ سے اچھے برتاؤ کی امید رکھتا ہوں لیکن اگر آپ میرے قتل کا فیصلہ کرتے ہیں تو ایک ایسے شخص کو قتل کرائیں گے جو قتل کا مجرم ہے، اور اگر احسان کر کے مجھے چھوڑ دیں تو ایک احسان شناس کو اپنا ممنون کرم پائیں گے اور اگر آپ کو مال کی خواہش ہے تو وہ بھی فرمائیے، جتنا مال چاہیں گے، دیا جائے گا۔“ اس نے جواب دیا۔

اس گفتگو کے بعد رسول اللہ ﷺ نے ثمامہ کو اس کے حال پر چھوڑا اور دو روز تک اس سے کوئی تعرض نہیں کیا۔ اس دوران اس کے پاس حسب معمول کھانے پینے کی چیزیں اور اڈنٹی کا دودھ برابر پہنچاتا رہا۔ دو دن بعد رسول اللہ ﷺ پھر اس کے پاس تشریف لائے اور وہی سوال کیا۔ ”ثمامہ! تمہارا کیا خیال ہے تم ہم سے کس قسم کے سلوک کی توقع رکھتے ہو؟“

اس نے جواب دیا۔ ”میرے پاس کہنے کی وہی باتیں ہیں جو اس سے پہلے میں کہہ چکا ہوں، اگر آپ میرے اوپر احسان کرتے ہیں تو ایک ایسے شخص پر احسان کریں گے جو اس کی قدر پہنچاتا ہے اور اگر میرے قتل کا فیصلہ کرتے ہیں تو آپ کا یہ فیصلہ حق بجانب ہوگا کیونکہ میں آپ کے آدمیوں کو قتل کر کے اس کا مستحق قرار پا چکا ہوں اور اگر آپ کو مال کی خواہش ہے تو بتائیے، جو چاہیں گے آپ کو پیش کیا جائے گا۔“ اس موقع پر بھی آپ ﷺ نے اس سے مزید کچھ نہیں کہا بلکہ اس کو چھوڑ کر چلے گئے۔ البتہ اگلے روز آپ ﷺ پھر اس کے پاس گئے اور پھر وہی سوال دہرایا۔ ”ثمامہ! تم کو ہماری طرف سے کس طرح کے برتاؤ کی امید ہے؟“ اور اس نے بھی حسب سابق وہی جواب دیا۔ ”اگر آپ میرے اوپر احسان کرتے ہیں تو ایک احسان شناس شخص پر احسان کریں گے اور مجھے قتل کرا دیتے ہیں تو میں اس کا مستحق ہوں، اور اگر آپ کو مال کی ضرورت ہو تو فرمائیے آپ کا مطلوبہ مال میں آپ کو پیش کر دوں۔“

اس سوال و جواب کے بعد رسول اللہ ﷺ نے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ ”ثمامہ کو رہا کر دو۔“ اور حسب ارشاد اس کی زنجیریں کھول دیں گئیں۔ رہائی پا کر ثمامہ مسجد سے نکلا اور مدینے کے باہر بیعت کے قریب واقع کھجوروں کے ایک باغ میں گیا جس میں کنواں تھا، اپنی سواری کو اسی کنویں کے پاس بٹھا کر اس کے پانی سے خوب اچھی طرح غسل کیا اور پاک صاف ہو کر پھر اسی راستے سے چل کر مسجد میں واپس آ گیا، اس نے مسجد میں مسلمانوں کی ایک مجلس کے قریب پہنچ کر باواز بلند کلمہ شہادت پڑھ کر اپنے اسلام لانے کا اعلان کیا پھر رسول اللہ ﷺ کی طرف متوجہ ہو کر بولا۔ ”اے محمد! اللہ کی قسم! روئے زمین پر کوئی چہرہ میرے نزدیک آپ کے چہرے سے زیادہ مبغوض اور قابل نفرت نہ تھا مگر اب یہ مجھے ہر چہرے سے زیادہ محبوب ہے، اور اللہ کی قسم! آپ کے دین سے زیادہ قابل نفرت میرے نزدیک کوئی دین نہ تھا، لیکن اب یہ مجھے تمام ادیان سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور اللہ کی قسم! آپ کے شہر سے زیادہ ناپسندیدہ میرے نزدیک کوئی دوسرا شہر نہیں تھا مگر اب آپ کا یہ شہر مجھے تمام شہروں سے زیادہ پسند ہے۔“

تھوڑی دیر تک کر پھر بولے۔ ”میں نے آپ کے کچھ ساتھیوں کو قتل کیا ہے، اس کی عتابی کے لئے آپ میرے اوپر کیا عائد کرتے ہیں؟“ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ”ثمامہ! اس سلسلے میں تمہارے اوپر نہ قصاص ہے نہ دیت کیونکہ اسلام نے تمہاری تمام سابقہ زیادتیوں

اور غلط کاریوں کو حرف غلط کی طرح مٹا دیا ہے۔“

پھر آپ ﷺ نے اسلام لانے کی وجہ سے جنت کی خوشخبری دی، ان کا چہرہ فرط مسرت سے چمک اٹھا۔ کہنے لگے کہ ”اللہ کی قسم! میں نے آپ کے جتنے صحابہ کو قتل کیا ہے اس سے کئی گنا تعداد میں مشرکین کو قتل کروں گا اور اپنی ذات کو، اپنی تلوار کو اور ان لوگوں کو جو میرے ماتحت اور ہم نوا ہیں، آپ کی اور آپ کے دین کی نصرت و تائید کے لئے وقف کرنا ہوں۔“

قدرے توقف کے بعد پھر کہا: ”اے اللہ کے رسول! آپ کے سواروں نے مجھے اس وقت گرفتار کیا تھا جب میں عمرہ کی نیت سے نکلا تھا تو آپ کے خیال میں اب مجھے اس سلسلے میں کیا کرنا چاہئے؟“ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ”تم مکہ جا کر عمرہ ادا کر لو۔ مگر یہ عمرہ اب تم اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی شریعت کے مطابق ادا کرو گے۔“ پھر آپ ﷺ نے مناسک حج اور افعال عمرہ کی تعلیم دی۔

حضرت ثمامہ بن اُثال رضی اللہ عنہ عمرہ کی ادائیگی کے لئے روانہ ہوئے۔ جب یمن مکہ میں پہنچے تو وہیں کھڑے ہو کر بلند آواز سے تلبیہ پڑھنا شروع کر دیا:

”لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لِأَشْرِيكَ لَكَ“

”میں حاضر ہوں، خدایا! میں ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں۔ میں حاضر ہوں، بیشک ساری تعریفیں اور تمام نعمتیں تیرے لئے ہیں اور اقتدار تیرا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔“

وہ دنیا کے سب سے پہلے مسلمان تھے جو تلبیہ پڑھتے ہوئے مکہ میں داخل ہوئے قریش کے لوگ ناگہانی اور غیر متوقع آواز کو سن کر سہم گئے اور غضب ناک ہو کر دوڑے، انہوں نے اپنی تلواریں بے نیام کر لیں اور آواز کی طرف لپکے تاکہ اس شخص پر ٹوٹ پڑیں جو ان کے کچھار میں گھس آیا تھا۔ وہ لوگ ثمامہ کی طرف بڑھے تو انہوں نے تلبیہ کی آواز اور تیز کر دی۔ وہ ان کی طرف نہایت لاپرواہی اور بے خوفی کے ساتھ دیکھ رہے تھے۔ ایک قریشی جوان نے تیر چلا کر ان کو شہید کرنا چاہا مگر دوسروں نے اس کو یہ کہتے ہوئے ایسا کرنے سے روک دیا کہ ”تیرا برا ہو، جانتا ہے یہ کون ہے؟ یہ یمامہ کا بادشاہ ثمامہ بن اُثال ہے۔ اگر تم نے اس کو کوئی نقصان پہنچایا تو اس کے قبیلے والے ہمارے یہاں غلے کی برآمد روک کر ہم کو بھوکوں مار دیں گے۔“ پھر وہ لوگ اپنی تلواریں میان میں کر کے حضرت ثمامہ رضی اللہ عنہ کے سامنے آئے اور ان سے بولے: ”ثمامہ! یہ تم کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا تم بے دین ہو گئے ہو؟ اور تم نے اپنے اور اپنے آباؤ اجداد کا دین ترک کر دیا ہے؟“

”نہیں! میں بے دین نہیں ہوا ہوں، بلکہ میں نے سب سے اچھے دین محمد ﷺ کے دین کی پیروی اختیار کر لی ہے۔“ حضرت ثمامہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اس کے بعد انہوں نے کہا: ”اس گھروالے کی قسم! میرے واپس جانے کے بعد یمامہ کے گیسوں کا ایک دانہ اور وہاں کی پیداوار کا کوئی حصہ اس وقت تک تمہارے یہاں نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ تم سب کے سب محمد ﷺ کا اتباع نہ اختیار کر لو۔“

حضرت ثمامہ رضی اللہ عنہ نے قریش کی آنکھوں کے سامنے رسول اللہ ﷺ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمرہ کے ارکان ادا کئے، انہوں نے غیر اللہ اور بتوں کے لئے نہیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے قربانی کے جانور ذبح کئے اور اپنے وطن واپس لوٹ آئے۔ واپس آ کر انہوں نے اپنے قبیلہ والوں کو قریش کے یہاں غلے کی سپلائی روک دینے کا حکم دیا، قبیلہ والوں نے ان کے اس حکم کی تعمیل کی اور اہل مکہ کے یہاں اپنی پیداوار کی سپلائی بند کر دی۔

اقتصادی پابندی جو ثمامہ بن اُثال رضی اللہ عنہ نے قریش کے خلاف لگائی تھی، بتدریج سخت سے سخت تر ہوتی چلی گئی، اس کے نتیجے میں غلے کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا، لوگوں میں فاقہ کشی عام ہو گئی اور ان کی تکلیف اور پریشانی زیادہ بڑھ گئی اور جب نوبت یہاں تک پہنچی کہ ان کو اپنے اور بال بچوں کی بھوک سے مر جانے کا شدید خطرہ لاحق ہو گیا تو انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو لکھا۔

ہم آپ کے متعلق پہلے سے یہ بات جانتے ہیں کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں اور دوسروں کو اس کی تاکید کرتے ہیں مگر اس وقت ہم جس صورت حال کا سامنا کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ قطع رحمی کا طرز عمل اختیار کر رکھا ہے، آپ نے ہمارے باپوں کو نکوار سے قتل کیا، اور بیٹوں کو بھوکوں مار رہے ہیں۔ ثمامہ بن اُٹھال رضی اللہ عنہما نے غلے کی برآمد پر پابندی لگا کر ہمیں سخت تکلیف اور پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس کو لکھ دیں کہ وہ غلہ وغیرہ پر عائد پابندی ختم کر دے۔

رسول اللہ ﷺ نے حضرت ثمامہ کو لکھ دیا کہ وہ قریش کے خلاف پیداوار کی برآمد کی لگائی ہوئی بندش ختم کر دیں، چنانچہ انہوں نے آپ کے حکم کے مطابق وہ پابندی اُٹھالی اور قریش کے یہاں کی سپلائی جاری کر دی۔

حضرت ثمامہ بن اُٹھال رضی اللہ عنہما زندگی بھر اپنے دین کے وفادار اور نبی کریم ﷺ کے ساتھ کئے ہوئے عہد کے پابند رہے۔ جب رسول اللہ ﷺ کی وفات ہوئی اور اہل عرب اجتماعی اور انفرادی طور پر اللہ کے دین سے نکلنے لگے اور میلہ کذاب نے بنو حنیفہ میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر کے انہیں اپنے اوپر ایمان لانے کی دعوت دینی شروع کی تو حضرت ثمامہ رضی اللہ عنہما اس کے سامنے ڈھکی چھپی گئے، انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ ”بنو حنیفہ کے لوگو! خبردار اس گمراہ کن دعوت کو ہرگز قبول نہ کرنا جس میں نور ہدایت کا ڈور ڈور تک پتا نہیں ہے۔ اللہ کی قسم! یہ شقاوت و بدبختی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ان لوگوں پر مسلط کیا ہے جو اسے اختیار کریں، اور زبردست امتحان و آزمائش ہے، ان لوگوں کے لئے جو اس سے انکار کریں۔“ انہوں نے مزید فرمایا: ”بنو حنیفہ والو! ایک وقت میں دو نبی نہیں ہو سکتے، محمد ﷺ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، نہ ان کی نبوت میں کسی کو شریک کیا گیا ہے۔“

”خَمَّ تَضَرُّبُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطُّولِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَهٌ الْمُنِصِّرُ“ (سورۃ المؤمن: آیت ۳۱)

”ہا، میم، اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے، جو زبردست ہے۔ سب کچھ جاننے والا گناہ معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ سخت عذاب دینے والا اور بڑا صاحب فضل ہے۔ کوئی مجبور اس کے سوا نہیں، اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔“ پھر فرمایا کہ کہاں اللہ کا یہ عظیم کلام اور کہاں میلہ کذاب کا قول:

”يَا كُفْرًا نَلْقَى مَا نَنْفِقُونَ لَا الشَّرَابَ تَمْنَعُونَ وَلَا الْمَاءَ تَكْتَدُونَ“

”اے مینڈک! تم جتنا چاہو ٹر ٹر کرتے رہو، اپنی اس ٹر ٹر سے نہ تم پانی پینے سے روک سکتے ہو، نہ پانی کو گدلا کر سکتے ہو۔“

پھر وہ اپنے قبیلے کے ان لوگوں کو لے کر الگ ہو گئے جو اسلام پر ثابت قدم رہ گئے تھے اور راہِ خدا میں جہاد اور اس کے دین کو زمین پر غالب کرنے کے لئے مرتدین کے ساتھ جنگ و قتال میں مشغول ہو گئے۔

اللہ تعالیٰ حضرت ثمامہ بن اُٹھال رضی اللہ عنہما کو اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے بہترین جزا دے اور اس جنت سے نوازے جس کا وعدہ متقیوں سے کیا گیا ہے۔ اور ہم کو بھی جنت الفردوس میں داخل فرمائے۔ آمین!

(۲۷) پوشیدہ قرضہ ادا کر دیجئے جس حور سے چاہیں نکاح کر

لیجئے اور جس دروازے سے چاہیں جنت میں داخل ہو جائیے

ابو یعلیٰ میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ تین کام ہیں جو انہیں ایمان کے ساتھ کر لے وہ جنت کے تمام دروازوں میں سے جس سے چاہے جنت میں چلا جائے اور جس کسی حور جنت سے چاہے نکاح کر لے۔

① جو اپنے قاتل کو معاف کر دے۔ ② پوشیدہ قرض ادا کر دے۔

⑤ ہر فرض نماز کے بعد دس مرتبہ سورہ الاخلاص قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ..... اِخ کو پڑھ لے۔

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ! جوان تینوں کاموں میں سے ایک کر لے؟ آپ ﷺ نے فرمایا، ایک پر بھی یہی درجہ ہے۔ (تفسیر ابن کثیر، جلد ۵، صفحہ ۶۱۶)

﴿۲۸﴾ مسلمان رسم و رواج ٹوٹنے پر تڑپتے ہیں اور سنت نبوی ﷺ کے چھوٹنے پر ٹس سے مس نہیں ہوتے

آج کل کے مشینی دور کا عام انسان خود بھی ایک مشین کی طرح زندگی گزار رہا ہے۔ کام کاج کی زیادتی اور معاشی و معاشرتی پریشانیوں نے اسے الجھا رکھا ہے۔ بڑا آسائش زندگی کے باوجود اسے وسائل اور اطمینان قلب کی کمی کا شکوہ رہتا ہے۔ ایک طرف مادی ترقی نے اسے اپنی ذات کے خول میں بند کر دیا ہے، دوسری طرف سائنسی علوم نے عقل کو اس قدر مسحور کر رکھا ہے کہ دینی علوم کی اہمیت دلوں سے نکلتی جا رہی ہے، اپنی زبان سے ”دین و دنیا برابر“ کا نعرہ لگانے والے بھی عملاً دنیا دارانہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ رسم و رواج ٹوٹنے پر تڑپتے ہیں اور سنت نبوی ﷺ کے چھوٹنے پر ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ مسلمان نوجوان فرنگی تہذیب کے اس قدر ولد ادہ بن چکے ہیں کہ لباس و طعام اور نشست و برخاست میں فرنگی طور طریقوں کو اپنانا روشن خیالی کی علامت سمجھتے ہیں۔ کفر و الحاد نے مسلمان معاشرے پر اپنے مکروہ سائے ڈالنے شروع کر دیئے ہیں۔ جبکہ جدید تعلیم نے جلتی پر تیل کا کام کر دیا ہے۔ بقول اکبر الہ آبادی:

خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے لب خندہ سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم کیا پتا تھا کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ

آج کل کے مسلمان بچے ماں باپ کی گود سے ہی انگریزی زبان کے الفاظ اس طرح سیکھ رہے ہیں جس طرح ماضی میں کلمہ طیبہ اور قرآن مجید کی آیتیں سیکھا کرتے تھے۔ جب بچے کی اٹھان ہی ایسی ہی تو کیا گلہ اور کیا شکوہ کہ بچہ بڑا ہو کر ماں باپ کا نافرمان بنتا ہے۔

طفل سے بو آئے کیا ماں باپ کے اطوار کی دودھ ڈیوں کا ہے اور تعلیم ہے سرکار کی

بعض عورتوں کا تو یہ نظریہ ہوتا ہے کہ بچہ بڑا ہو کر خود بخود سنور جائے گا، لہذا بچہ کی بری حرکات و سکنات دیکھ کر خود تھوڑا بہت ڈانٹ لیتی ہیں، باپ کو روک ٹوک نہیں کرنے دیتیں۔ حالانکہ بچپن کی بگڑی عادتیں جوانی میں بھی چھپا نہیں چھوڑتیں۔ بچہ سیال فولاد کی طرح بچپن میں جس سانچے میں ڈھل جائے ساری عمر اسی طرح رہتا ہے۔ رہی سہی کسر کالج اور یونیورسٹی کی تعلیم پورا کر دیتی ہے جس سے نوجوان طبقہ ”مان کر چلنے“ کے بجائے ”منوا کر چلنے“ کا عادی ہو جاتا ہے، اب اگر انہیں روک ٹوک کی جائے تو یہ ماں کو دقیا نوسی سمجھتے ہیں اور باپ سے یوں نفرت کرتے ہیں جیسے باپ سے نفرت کی جاتی ہے۔

ہم ایسی سب کتابیں قابلِ ضبطی سمجھتے ہیں جن کو پڑھ کر بچے باپ کو ضبطی سمجھتے ہیں

اکثر نوجوان جب یونیورسٹیوں کی تعلیم پا کر نکلتے ہیں تو دین کے ہر مسئلے کو عقل کی ترازو پر تولنا ان کا محبوب مشغلہ بن چکا ہوتا ہے۔ پھر اگر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لئے بیرون ملک جانے کا موقع مل جائے تو عموماً ”ظَلَمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ“ (اندھیرے در اندھیرے) والا معاملہ ہو جاتا ہے۔ ایسے حضرات کو اپنی اصلاح کے بجائے دین کی اصلاح کی فکر زیادہ ہوتی ہے۔ میاں بیوی خود دین کے مطابق ڈھلنے کے بجائے دین کو اپنی مرضی و سہولت کے مطابق ڈھالتے رہتے ہیں۔

خدا کے فضل سے میاں بیوی دونوں مہذب میں انہیں غصہ نہیں آتا انہیں غیرت نہیں آتی

دین کی سچی محبت رکھنے والے حضرات کے لئے لمحہ فکریہ ہے کہ ان کی اولاد کی اچھی تربیت کیسے ہو؟ جن گھروں میں اولاد کی تربیت کے لئے کوششیں ہو بھی رہی ہیں وہاں خاطر خواہ نتائج مرتب نہیں ہو رہے۔ انہیں بھی علمی تعاون کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔

## (۲۹) برش، منجن اور ٹوتھ پیسٹ سے مسواک کا ثواب نہیں ملے گا

خیال رہے کہ جہاں تک نفاخت اور دانتوں کی صفائی اور سہرائی کا حکم ہے وہاں تک دانتوں کی صفائی کے لئے کوئی چیز بھی استعمال کرے، نفاخت اور صفائی کا حصول ہو جائے گا اور عام نفاخت اور صفائی کے حکم کی تعمیل کا نیت کے پائے جانے پر ثواب مل جائے گا۔ مگر مسواک کی جو فضیلت ہے اس سے نماز کا ثواب ۷۰-۷۵ گنا بڑھ جاتا ہے، یہ فضیلت اور آخری ثواب احادیث میں مسواک کی قید سے مقید ہونے کی وجہ سے اسی سے متعلق رہے گا۔ اسی طرح مسواک کے جو بنیادی حکمتی فوائد ہیں، وہ منجن و ٹوتھ پیسٹ سے حاصل ہو جائیں گے۔

اس دور میں خصوصاً جدید تعلیم یافتہ لوگوں میں اور نئی عمر اور نئے ذہن والے لوگوں میں برش اور ٹوتھ پیسٹ رائج ہے، اس سے وہ دنیاوی صفائی و نفاخت تو حاصل کر لیں گے مگر مسواک کی سنت اور اس کے ثواب سے محروم رہیں گے۔ افسوس کہ اب تو مدارس کے ماحول نے بھی مسواک کے بجائے ٹوتھ پیسٹ کو اختیار کر لیا ہے۔ اسلام کے طور اور طریقہ کو چھوڑ کر مغربیت پر فدا ہو رہے ہیں۔ یہ مطلب نہیں کہ وہ ممنوع ہے مگر سنت کے ثواب سے محروم اور حضرات انبیاء کرام ﷺ کے طریق سے تو ہٹ کر ہے۔ کتب فتاویٰ سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ چنانچہ فتاویٰ رحمیہ میں ہے: ”جب مسواک کی موجودگی میں انگلیاں جن کے لئے آنحضرت ﷺ کا عمل اور قول ثابت ہے، مسواک کے قائم مقام نہیں ہو سکتیں تو برش وغیرہ کیسے مسواک کے قائم مقام ہو سکتے ہیں۔ اس لئے کہ سنت و رخت کی مسواک ہے۔“ (توضیح المسائل، صفحہ ۳۵، فتاویٰ رحمیہ، جلد ۱، صفحہ ۱۲۶)

اسی طرح فضائل مسواک میں آیا ہے:

”منجن کا استعمال جائز ہے۔ لیکن محض منجن پرکتفا کر لینے سے مسواک کی فضیلت حاصل نہ ہوگی۔“ (صفحہ ۷۳)

سعادیہ میں حاشیہ ہدایہ جو نفوری کے حوالہ سے ہے کہ ”انگلیوں سے ملنا مسواک ملنے اور پائے جانے کی صورت میں سنت ادا کرنے والا نہ ہوگا۔“ (صفحہ ۱۱)

ان اکابر کی تصریحات سے معلوم ہوا کہ نفاخت اور صفائی اور چیز ہے، سنت کا ثواب اور چیز ہے۔ منجن اور پیسٹ کے استعمال سے عام صفائی و پاکیزگی حاصل ہو جائے گی مگر مسواک کا ثواب نہ ملے گا۔ لہذا سنت کے ثواب اور اس کی تاکید و ترغیب کے پیش نظر امت مسلمہ کا فریضہ ہے کہ مسواک کی سنت کو ترک نہ کریں۔ منجن اور پیسٹ کے علاوہ خصوصاً نماز کے اوقات میں مسواک کا اہتمام رکھیں تاکہ نبیوں والا طریقہ ماحول میں رائج ہو۔

## (۳۰) مسواک کرتے وقت یہ نیت کیجئے

امام غزالی نے لکھا ہے کہ مسواک کرتے وقت یہ نیت کرے کہ ”اللہ کے ذکر اور تلاوت کے لئے منہ صاف کرتا ہوں۔“ اس کی شرح احیاء میں ہے کہ محض ازالہ گندگی کی نیت نہ کرے بلکہ اس کے ساتھ یعنی صفائی کی نیت کے ساتھ ذکر و تلاوت کی نیت کرے تاکہ اس کا بھی ثواب ملے۔ (احیاء السالو، جلد ۲، صفحہ ۳۳۸)

## (۳۱) مسواک کرنے کا مسنون طریقہ

علامہ ابن نجیم نے البحر الرائق میں لکھا ہے کہ مسواک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مسواک دانت کے اوپری حصہ اور نچلے حصہ اور تالو پر ملے اور مسواک ملنے میں دائیں جانب پہلے کرے پھر بائیں جانب کم از کم تین بار اوپر کے دانتوں کو اسی طرح تین بار نیچے کے دانتوں کو ملے، مسواک دائیں ہاتھ سے پکڑ کر لہبائی اور چوڑائی دونوں میں کرے۔



طحاوی علی المراتی میں طریقہ مسواک بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ دانت کے اندرونی حصہ اور دانت کے باہری حصہ دونوں جانب کرے اور منہ کے اوپری حصہ میں بھی ہے۔ (طحاوی علی المراتی، صفحہ ۲۸)

علامہ شامی نے لکھا ہے کہ مسواک دانتوں کے باہری حصہ پر گھما گھما کر کرے اور پچھلے دانت کے اوپری حصہ کے اور دونوں دانتوں کے جوڑ میں بھی کرے۔ (شامی، جلد ۱، صفحہ ۱۱۳)

### (۳۲) مسواک پکڑنے کا مسنون طریقہ

مسواک پکڑنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کی خنجر (سب سے چھوٹی انگلی) کو مسواک کے نیچے کرے اور بھر (اس کی بغل والی) اور سبابہ یعنی انگشت شہادت مسواک کے اوپر رکھے اور انگوٹھا مسواک کے سرے کے نیچے رکھے، اور مسواک دائیں ہاتھ سے پکڑے۔ (عن ابن مسعود: اسعابہ، صفحہ ۱۱۹، عمدة القاری، جلد ۳، صفحہ ۱۷۵)

### (۳۳) مسواک کی موٹائی کتنی ہو؟

مسواک کی موٹائی چھوٹی انگلی کے برابر ہو۔ (اسعابہ، صفحہ ۱۱۸، عمدة القاری، صفحہ ۱۸۵)

مطلب یہ ہے کہ ایسی ہو کہ سہولت سے پکلا جائے اور نرم ہو۔ اگر اس سے موٹا ملے تو نہ چھوڑے، لے لے کہ اسے بھی کیا جاسکتا ہے۔

### (۳۴) مسواک کی لمبائی کتنی ہو؟

مسواک ایک بالشت سے زائد نہ ہو ورنہ اس پر شیطان سوار ہو جاتا ہے، ہاں مسواک کرتے وقت چھوٹا ہو جائے کوئی حرج نہیں۔ (اسعابہ، صفحہ ۱۱۹)

### (۳۵) مسواک کو بچھا کر نہ رکھئے بلکہ کھڑی کر کے رکھئے جنون سے حفاظت ہوگی

مسواک کو بچھا کر نہ رکھئے، بلکہ کھڑی کر کے رکھیں۔ (اسعابہ، صفحہ ۱۱۹، الشامی، صفحہ ۱۱۵)

مسواک کو دھو کر رکھے اور پھر کرتے وقت دھوئے۔ مسواک زمین پر نہ رکھے کہ جنون کا اندیشہ ہے، بلکہ طاق یا کسی اور اونچے مقام، دیوار وغیرہ پر کھڑی رکھئے۔ (شامی جلد ۱، صفحہ ۱۱۵)

حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص مسواک کو زمین پر رکھنے کی وجہ سے مجنون ہو جائے تو وہ اپنے نفس کے علاوہ کسی کو ملامت نہ کرے کہ یہ خود اس کی اپنی غلطی ہے۔

### (۳۶) مسواک کرنے میں مندرجہ ذیل باتوں کا خیال رکھئے ورنہ کئی بیماریوں کا اندیشہ ہے

مسواک کو مٹی میں پکڑ کر نہ کرے اس سے مرض بواسیر پیدا ہوتا ہے۔ (اسعابہ، صفحہ ۱۱۹)

مسواک لیٹ کر نہ کرے کہ اس سے تلی بڑھتی ہے۔ (طحاوی، صفحہ ۲۸)

مسواک کو چوسے نہیں کہ اس سے ناپیدائی، اندھا پن آتا ہے۔ ہاں مگر مسواک نئی ہو تو پہلی مرتبہ صرف چوسا جاسکتا ہے۔

(اسعابہ، صفحہ ۱۱۹)

پہلی مرتبہ نئی مسواک کو چوسنا جزام اور برص کو دفعہ کرتا ہے۔ موت کے علاوہ تمام بیماریوں سے شفا ہے، اس کے بعد چوسنا نسیان پیدا کرتا ہے۔ (احناف السادہ، صفحہ ۵۳، شامی جلد ۱، صفحہ ۱۱۵)

### (۳۷) بلا اجازت دوسرے کی مسواک استعمال کرنا مکروہ ہے

مسواک کرنے سے پہلے بھی دھوئے اور کرنے کے بعد دھو کر رکھے، ورنہ شیطان مسواک کرنے لگتا ہے۔ (طحاوی، صفحہ ۳۷)  
 مسواک کو ہمیشہ اپنے پاس جیب وغیرہ میں رکھنا بہتر ہے، تاکہ جب جہاں نماز وضو کا موقع ہو مسواک کی فضیلت کے ساتھ ہو۔  
 (فضائل مسواک، صفحہ ۷۹)

### (۳۸) دینداروں کے ساتھ دشمنی نہ رکھئے

ہم کسی مؤذن یا کسی خادم مسجد سے خواہ درہاں ہو، صفائی کرنے والا ہو یا غسل خانوں کو صاف کرنے والا ہو کبھی دشمنی پیدا نہ کریں۔ خصوصاً اگر یہ لوگ اپنے فرض منصبی کو محض ثواب سمجھ کر یا کسی اور اچھی نیت سے کرتے ہوں تب تو اور زیادہ ان کا احترام کرنا چاہئے، اور یہ ادب اگرچہ سب مسلمانوں کے لئے ہے لیکن ان کی خاص رعایت کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا خیال کر کے ان لوگوں سے عداوت نہ کریں، وہ اللہ کے دربار کے خادم ہیں جن میں سب سے زیادہ مرتبہ مؤذن کا ہے کیونکہ وہ اکثر صبح کی اذان کے لئے صبح صادق سے پہلے جاگ اٹھتا ہے اور پچھلی راتوں کو خدائی لشکروں کے ساتھ دربار خاص میں حاضر ہوتا ہے۔

### (۳۹) نفس کے باریک باریک دھوکوں سے بچئے

جب تک اپنے نفس کے باریک باریک دھوکوں کی مبالغہ کے ساتھ تفتیش نہ کر لیں اس وقت تک کسی مسلمان سے قطع تعلق اور بول چال بند کرنے میں جلدی نہ کریں کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ قطع تعلق تو خواہش نفس کی وجہ سے ہوتی ہے اور نفس یہ سمجھاتا ہے کہ میں تو اللہ کے واسطے قطع تعلق کرتا ہوں اور اس پر بہت سے دلائل بھی باندھتا ہے، اگر ہم اس بات پر غور کر لیا کریں کہ قطع تعلق کے گناہ کی وجہ سے ہمارا کوئی عمل آسان تک نہیں پہنچے گا تو ہرگز قطع تعلق میں جلدی نہ کریں گے۔

### (۴۰) مخالف کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کیجئے

جو شخص بھی ہمارا مخالف ہو اور ہماری بدخواہی میں لگا رہتا ہو، ہمیں چاہئے کہ ہم اس کی خیر خواہی اور احسان و سلوک کا معاملہ کرتے رہیں، ہمیں حق تعالیٰ کے ساتھ اس کے بندوں کے بارے میں ویسا ہی معاملہ کرنا چاہئے جیسا کہ وہ ہمارے ساتھ کر رہا ہے جیسے ہم دن رات اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے الطاف و احسانات منقطع نہیں ہوتے، ایسا ہی معاملہ ہمیں اس کی مخلوق کے ساتھ کرنا چاہئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر وہ شخص جو اللہ کی طرف بلانے والا ہو اس پر یہ بات واجب ہے کہ ادب اور تیز سے باہر ہونے والوں کا علاج نرمی اور حکمت سے کرے اور ان سے سلوک و احسان سے پیش آتا رہے کیونکہ وہ راہی ہے اور ہر راہی سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ علامہ عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے ان ذاکرین سے نفرت ہو گئی جو میرے پاس رہتے تھے اور میں نے ان کو چھوڑ دینے کا ارادہ کیا تو اسی رات مجھے سید علی خواص رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت ہوئی۔ دیکھا کہ مجھ سے فرما رہے ہیں کہ تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماتے ہیں کہ اپنے لوگوں کی محبت پر اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لئے صبر کرتے رہو اور اچھی نصیحت سے ہر وقت ان کی خبر گیری کرتے رہو۔ اس شخص کی طرح نہ بنو جس کی بکریاں دشوار گزار زمین میں منتشر ہو گئیں اور غصہ میں ان کو جنگل میں بھڑیئے کے واسطے چھوڑ آیا کہ وہ ان کو پھاڑ کھائے۔

جب کوئی ظالم ہمارے اوپر ظلم کرے تو اپنے آپ کو اس سے بھی زیادہ کا مستحق سمجھیں۔ جو شخص آگ میں جلانے کے قابل ہو پھر ذرا

سی را کھ اس پر ڈال کر اس سے صلح کر لی جائے تو اس کے خوش ہونے کا مقام ہے کہ بڑی بلا آنے سے نجات ملی اور تھوڑی سی ہی پرنٹل گئی۔ جب اللہ تعالیٰ مخلوق کے سامنے ہمارے عیوب ظاہر کر دیں تو ہم حق تعالیٰ کا شکر بجلائیں اور جب وہ ہم کو اپنے بندوں میں رُسوا کریں تو یہ سمجھ کر اللہ تعالیٰ سے راضی رہیں کہ اس نے ہمارے ساتھ یہ برتاؤ کسی حکمت کاملہ ہی کی وجہ سے کیا ہے جس پر ہم جیسوں کی نظر نہیں پہنچ سکتی۔ پس ہم کو اس معاملہ میں اللہ تعالیٰ کی بیروی کرنی چاہئے اور یہ کہنا چاہئے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مخلوق پر ہمارے عیوب کو اس لئے ظاہر کر دیا کہ وہ ہم کو ان سے مطلع کر دیں تاکہ ہم ان سے باز رہیں، آئندہ ہمیشہ ان سے بچتے رہیں۔ کیونکہ انسان کی حالت یہ ہے کہ جب کسی عیب کے ساتھ لوگوں میں اس کی تنقیص ہونے لگتی ہے تو وہ اپنے ظاہر و باطن کو اس سے بچا لیتا ہے۔

پھر اس صورت میں دوسروں کو ملامت ہرگز نہیں کرنی چاہئے کیونکہ حقیقت میں ملامت کے قابل ہم ہی ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے غافل ہو کر ایسے افعال کا ارتکاب کیا جو کہ بدنامی اور پردہ دری کا سبب بن گئے اور ہم اللہ تعالیٰ کی نگہداشت رکھتے اور اس سے پوری طرح شرماتے تو ہرگز تجہائی میں کوئی گناہ نہ کرتے، پھر جب ہم اس بات سے نڈر کے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے افعال کو جانتے ہیں تو اس نے مخلوق کو ہمارے حال کی خبر کر دی کہ ان عیوب سے ہم باز آ جائیں اور اس میں منجانب اللہ ہمارے لئے بہت بڑی دھمکی ہے کہ ہمیں مخلوق کی تو پرواہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے مطلع ہونے کی ذرا بھی پرواہ نہیں ہے۔

### (۴۱) حکیم ترمذی کا عجیب خواب

حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے دین کا بھی حکیم بنایا تھا اور دنیا کی بھی حکمت دی تھی۔ ترمذ کے رہنے والے تھے۔ دریا آمو کے بالکل کنارے پر ان کا مزار ہے۔ آپ اپنے وقت کے ایک بہت بڑے محدث بھی تھے اور طبیب بھی۔ اللہ رب العزت نے آپ کو حسن و جمال اتنا دیا تھا کہ دیکھ کر دل فریفتہ ہو جاتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو باطنی حسن و جمال بھی عطا کیا ہوا تھا۔ اللہ رب العزت نے ان کو اپنے علاقے میں قبولیت نامہ عطا کر رکھی تھی۔ آپ عین جوانی کے وقت ایک دن اپنے مطب میں بیٹھے تھے کہ ایک عورت آئی اور اس نے اپنا چہرہ کھول دیا۔ وہ بڑی حسینہ و جمیلہ تھی۔ کہنے لگی کہ میں آپ پر فریفتہ ہوں، بڑی مدت سے موقع کی تلاش میں تھی، آج تجہائی ملی ہے، آپ میری خواہش پوری کریں۔ آپ کے دل پر خوف خدا غالب ہوا تو رو پڑے۔ آپ اس انداز سے روئے کہ وہ عورت نادم ہو کر واپس چلی گئی۔ وقت گزر گیا اور آپ اس بات کو بھول گئے۔

جب آپ کے بال سفید ہو گئے اور کام بھی چھوڑ دیا تو ایک مرتبہ آپ مصلے پر بیٹھے تھے، ایسے ہی آپ کے دل میں خیال آیا کہ فلاں وقت جوانی میں ایک عورت نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا، اس وقت اگر میں گناہ کر بھی لیتا تو آج میں توبہ کر لیتا۔ لیکن جیسے ہی دل میں یہ خیال گزرا تو رونے بیٹھ گئے۔ کہنے لگے، اے رب کریم! جوانی میں تو یہ حالت تھی کہ میں گناہ کا نام سن کر اتار دیا کہ میرے رونے سے وہ عورت نادم ہو کر چلی گئی تھی، اب میرے بال سفید ہو گئے تو کیا میرا دل سیاہ ہو گیا۔ اے اللہ! میں تیرے سامنے کیسے پیش ہوں گا، اس بڑھاپے کے اندر جب میرے جسم میں قوت ہی نہیں رہی تو آج میرے دل میں گناہوں کا خیال کیوں پیدا ہوا۔

روتے ہوئے اسی حالت میں سو گئے۔ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ پوچھا، حکیم ترمذی! تو کیوں روتا ہے؟ عرض کیا، میرے محبوب! جب جوانی کا وقت تھا، جب شہوت کا دور تھا، جب قوت کا زمانہ تھا، جب اندھے پن کا وقت تھا، اس وقت تو خشیت کا یہ عالم تھا کہ گناہ کی بات سن کر میں اتار دیا کہ وہ نادم ہو کر چلی گئی، لیکن اب جب بڑھاپا آیا ہے، تو اے اللہ کے محبوب! میرے بال سفید ہو گئے، لگتا ہے کہ میرا دل اس قدر سیاہ ہو گیا ہے کہ میں سوچ رہا تھا کہ میں اس عورت کی خواہش پوری کر لیتا اور بعد میں توبہ کر لیتا۔ میں اس لئے آج بہت پریشان ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا: ”یہ تیری کمی اور قصور کی بات نہیں، جب تو جوان تھا

تو اس زمانے کو میرے زمانے سے قرب کی نسبت تھی، ان برکتوں کی وجہ سے تیری کیفیت اتنی اچھی تھی کہ گناہ کی طرف خیال ہی نہ گیا۔ اب تیرا بڑھاپا آ گیا ہے تو میرے زمانے سے ڈوری ہو گئی ہے، اس لئے اب دل میں گناہ کا دوسرا پیدا ہو گیا تھا۔“

### (۴۲) گھر میں داخل ہو کر سورۃ الاخلاص پڑھ لیجئے انشاء اللہ روزی میں برکت ہوگی

طبرانی میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ جو شخص سورۃ الاخلاص کو گھر میں جاتے وقت پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس گھر والوں سے اور اس کے پڑوسیوں سے فقیری دور کر دے گا۔ (تفسیر ابن کثیر، جلد ۵، صفحہ ۶۱۶)

### (۴۳) حضرت عبداللہ بن مبارک کا انتقال کیسے ہوا؟

استاذ الحدیث حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ کے پاس حدیث پاک پڑھنے والے ہزاروں طلبا ہوتے تھے۔ منگھو جیسے نماز میں آگے گھبر کہتے ہیں اسی طرح لوگ ان سے حدیث پاک آگے نقل کرتے تھے۔ ایک مجمع میں المنگھوین کی تعداد گیارہ سو (۱۱۰۰) تھی۔ مجمع کا اندازہ آپ خود لگالیں۔ ایک مجمع میں دو اتوں کو گنا گیا تو اس مجمع میں چالیس ہزار (۴۰۰۰۰) دو اتیں تھیں۔ اتنے بڑے مجمع میں وہ حدیث پاک کا درس دیا کرتے تھے۔ جب ان کے آخری لمحات آئے، بستر پر لیٹے ہوئے تھے اور کیفیت بدل رہی تھی۔ اسی اثناء میں اپنے شاگردوں سے فرمایا کہ مجھے اٹھا کر نیچے زمین پر لٹا دو۔ شاگرد حیران تھے کہ اب کیا کریں؟ اس وقت چہرے کے فرش نہیں ہوتے تھے، فقط مٹی ہوتی تھی۔ پھر فرمایا، مجھے اٹھاؤ اور زمین پر لٹا دو۔ شاگردوں نے حکم کی تعمیل کی اور مٹی پر لٹا دیا۔ انہوں نے دیکھا کہ وقت کے اتنے بڑے شیخ اپنے زخار کو زمین پر ملنے لگے اور یہ کہہ رہے تھے کہ اے اللہ! تو عبداللہ کے بڑھاپے پر رحم فرما۔ میرے دوستو! جن کی زندگی حدیث پاک کی خدمت میں گزری، جب وہ اپنے آخری وقت میں اللہ تعالیٰ کے حضور اس طرح عاجزی کرتے تھے تو ہمیں بھی عاجزی و انکساری کرنی چاہئے، کیونکہ ہمارے پاس تو عمل بھی نہیں ہے۔ ہم واقعی قابل رحم ہیں، اللہ رب العزت ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ آمین!

### (۴۴) جو عال آدمی کو اللہ سے قریب کر دے وہ اچھا حال ہے

صحابہ کرام کی اس بات پر بڑی نظر ہوتی تھی کہ ہمارے اوپر غم اور پریشانیاں آ رہی ہیں یا نہیں۔ وہ اس کو اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت سمجھتے تھے، بھوک اور فاقہ آتا تھا تو وہ خوش ہوتے تھے کہ فاقے وہ نعمتیں ہیں جو پروردگار عالم اپنے پیاروں کو عطا کیا کرتے ہیں۔ غم اور پریشانی پر خوش ہوتے تھے کہ پروردگار نے ہمیں اپنا سمجھا ہے اس لئے یہ پریشانی بھیجی ہے۔

ایک صحابہ کا واقعہ ہے کہ گھر کے اندر لیٹی ہوئی تھیں میاں نے کہا کہ مجھے پانی لا دے۔ کہنے لگی کہ بہت اچھا وہ گئیں اور پانی کا پیالہ لے کر آ گئیں۔ مگر رات کا وقت تھا میاں کو نیند آ گئی۔ اب یہ اللہ کی بندی پانی کا پیالہ لے کر انتظار میں کھڑی رہی کہ میاں کی آنکھ کھلے گی تو میں انہیں پانی کا پیالہ پیش کر دوں گی۔ جب صبح کا وقت ہونے لگا تو ان کی آنکھ کھلی۔ انہوں نے دیکھا کہ بیوی پانی کا پیالہ لے کر ان کے انتظار میں کھڑی ہے۔ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ کہنے لگے کہ اچھا! میں تجھ سے اتنا خوش ہوں کہ تو آج جو بھی مطالبہ کرے گی میں تیرے اس مطالبے کو پورا کر دوں گا۔ بیوی نے کہا: اچھا! پھر میرا مطالبہ یہ ہے کہ آپ مجھے طلاق دے دیجئے۔ اب پریشان ہوئے کہ اتنی محبت کرنے والی، اتنی خدمت کرنے والی، اتنی وفادار، اتنی نیک بیوی طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے اور قول بھی میں دے بیٹھا ہوں۔ پوچھنے لگے کہ طلاق کیوں چاہتی ہے؟ بیوی نے کہا کہ آپ نے خود ہی کہا ہے جو مطالبہ کرے گی میں پورا کروں گا۔ اب اپنے قول کو نبھائیے اور مجھے طلاق دے دیجئے۔ فرمانے لگے، صبح کو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کین گے اور اپنا مسئلہ پیش کریں گے، کہنے لگی: بہت اچھا! فجر کی نماز کے بعد چل پڑے۔ ابھی راستے میں جا رہے تھے کہ خاندان کا پاؤں کسی پتھر سے اٹکا اور وہ نیچے گر گیا۔ اس کے بدن سے کچھ خون نکلا، بیوی

نے فوراً دوپٹہ پھاڑا اور اس کا زخم صاف کر کے پٹی باندھی اور کہنے لگی کہ نہیں اب مسئلہ پوچھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ اب مجھے آپ سے طلاق لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے یہ کیا بات ہوئی، طلاق مانگی تھی تو ابھی میری سمجھ میں بات نہ آئی۔ جب مطالبہ چھوڑ دیا تو ابھی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اصل بات کیا ہے؟ بیوی نے کہا، گھر چلیں وہاں بتاؤں گی۔ جب گھر پہنچے تو خاوند نے بیٹھے ہی کہا کہ بتائیے، اصل بات کیا تھی؟ کہنے لگی: آپ نے ہی تو نبی اکرم ﷺ کی حدیث سنائی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتے ہیں تو پریشانیاں اس کی طرف یوں دوڑتی ہیں جس طرح پانی اونچی جگہ سے نیچی جگہ کی طرف جاتا ہے۔ میں آپ کی بیوی ہوں، کتنا عرصہ آپ کے ساتھ گزار چکی ہوں۔ میں نے آپ کے گھر میں دولت دیکھی، سکھ دیکھا، آرام دیکھا خوشیاں دیکھیں مگر میں نے آپ کے گھر میں کبھی غم اور پریشانی نہیں دیکھی۔ میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کے دل میں نفاق ہو جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کا برتاؤ اپنے پیاروں جیسا نہیں ہے۔ اس لئے میں نے کہا کہ میرے آقا ﷺ کی حدیث سنی ہے جو کچھ دیکھ رہی ہوں یہ غلط ہو سکتا ہے۔ لہذا میں نے چاہا تم سے طلاق لے لوں۔ لیکن جب راستے میں جاتے ہوئے آپ کو زخم لگا، پریشانی آئی تو میں نے فوراً سمجھ لیا کہ آپ کے ایمان میں کسی قسم کا شک نہیں کیا جاسکتا۔ اب میں ساری زندگی آپ کی بیوی بن کر آپ کی خدمت کروں گی۔

(۴۵) مالک تو سب کا ایک، مالک کا کوئی ایک ہزاروں میں نہ ملے گا لاکھوں میں تو دیکھ

بھرے بازار میں کتے، ملی اور خنزیر

حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیانات میں ایک عجیب بات ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میں ایک دفعہ بازار جا رہا تھا۔ وہاں مجھے ایک مجذوب نظر آئے، میں نے ان کے قریب ہو کر سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا اور پہچان کر پوچھا، احمد علی! انسان کہاں بستے ہیں؟ میں نے حیران ہو کر بھرے بازار کی طرف اشارہ کر کے کہا، حضرت! یہ سب انسان ہی تو ہیں۔ جب یہ کہا تو انہوں نے حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھا اور حسرت بھرے لہجے میں کہا، یہ سب انسان ہیں؟ ان کی توجہ کی تاثیر ایسی تھی کہ جب میری نگاہ مجمع پر دوبارہ پڑی تو مجھے بازار میں کتے، ملی اور خنزیر چلتے ہوئے نظر آئے۔ جب وہ کیفیت ختم ہوئی تو میں نے دیکھا کہ وہ مجذوب جا چکے تھے۔ یہ واقعہ اپنے بیانات میں سنا کر حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے:

مالک تو سب کا ایک، مالک کا کوئی ایک ہزاروں میں نہ ملے گا لاکھوں میں تو دیکھ

جی ہاں! لاکھوں میں سے کوئی ہی ہوگا جو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اپنے آپ کو پروردگار کے حوالے کر دے اور کہے کہ اللہ! میں تیرا بندہ ہوں، تیرے حکموں کے مطابق میری آئندہ زندگی گزرے گی۔ اس کو کہتے ہیں: **ادْخُلُوا لِي فِي السَّلَامِ كَمَا كُنْتُمْ** ”تم پورے کے پورے سلامتی میں داخل ہو جاؤ۔“ مگر میرے دوستو! ہم تو اپنی مرضی کے مالک بنے پھرتے ہیں۔ ہم دوستوں میں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ ہم کام تو وہ کریں گے جس کے لئے ہمارا دل کہے گا اور پھر اللہ رب العزت کی طرف سے خاص رحمتیں بھی طلب کرتے ہیں۔ یاد رکھئے کہ جب تک ہم اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے سپرد نہیں کریں گے تب تک اللہ رب العزت کی طرف سے خاص رحمتیں نازل نہیں ہوں گی۔

(۴۶) کتے کی دس صفات

حیوان اپنے مالک کا زیادہ وفادار ہوتا ہے جبکہ انسان اپنے پروردگار کا اتنا وفادار نہیں ہوتا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کتے کے اندر دس صفات ایسی ہیں کہ اگر ان میں سے ایک صفت بھی انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو وہ ولی اللہ بن جائے۔ فرماتے ہیں کہ:

- ① کتے کے اندر رقاعت ہوتی ہے جو مل جائے یہ اسی پر رقاعت کر لیتا ہے، راضی ہو جاتا ہے، یہ قاضی یا صابریں کی علامت ہے۔
  - ② کتا اکثر بھوکا رہتا ہے، یہ صاحبین کی نشانی ہے۔
  - ③ کوئی دوسرا کتا اس پر زور کی وجہ سے غالب آ جائے تو یہ اپنی جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلا جاتا ہے، یہ راضیین کی علامت ہے۔
  - ④ اس کا مالک اسے مارے بھی تو یہ اپنے مالک کو چھوڑ کر نہیں جاتا۔ یہ صادقین کی نشانی ہے۔
  - ⑤ اگر اس کا مالک بیٹھا کھانا کھا رہا ہو تو یہ باوجود طاقت اور قوت کے اس سے کھانا نہیں چھینتا، دُور سے ہی بیٹھ کر دیکھتا رہتا ہے۔ یہ مساکین کی علامت ہے۔
  - ⑥ جب مالک اپنے گھر میں ہو تو یہ دُور جوتے کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ ادنیٰ جگہ پر راضی ہو جاتا ہے۔ یہ متواضعین کی علامت ہے۔
  - ⑦ اگر اس کا مالک اسے مارے اور یہ تھوڑی دیر کے لئے چلا جاتا ہے اور پھر مالک اسے دوبارہ کھڑا ڈال دے تو دوبارہ آ کر کھانا کھا لیتا ہے اس سے ناراض نہیں ہوتا، یہ خاشعین کی علامت ہے۔
  - ⑧ دُنیا میں رہنے کے لئے اس کا اپنا کوئی گھر نہیں ہوتا، یہ متوکلین کی علامت ہے۔
  - ⑨ رات کو یہ بہت کم سوتا ہے، یہ تحسین کی علامت ہے۔
  - ⑩ جب مرتا ہے تو اس کی کوئی میراث نہیں ہوتی۔ یہ زاہدین کی علامت ہے۔
- غور کریں کہ کیا ان صفات میں سے کوئی صفت ہم میں بھی موجود ہے؟
- ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر لیکن تیری رحمت نے گوارا لیا کیا

### ﴿۴۷﴾ گناہ کرنے کی چار وجوہات ہیں

عموماً گناہ کرنے کی چار وجوہات ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام وجوہات کے جوابات قرآن مجید میں ارشاد فرمادیئے ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ مجھے گناہ کرتے وقت کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ پروردگار عالم نے اس کا جواب یوں دیا ہے: "إِنَّ رَبَّكَ لَبَلِ عَصَا" کہ تیرا رب تیری گھات میں لگا ہوا ہے۔ (سورۃ النجر: آیت ۱۴) شکاری جب شکار پر اپنا نشانہ باندھتا ہے تو تھوڑی دیر کے لئے بہت ہی زیادہ متوجہ ہو کر اس کی طرف دیکھتا ہے۔ توجہ کی اس کیفیت کے ساتھ دیکھنے کو "مرصاد" کہتے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ اس قدر غور سے انسان کو دیکھ رہا ہے۔ دوسری وجہ گناہ کرنے کی یہ ہوتی ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ میرے پاس کوئی نہیں ہے۔ اس کے جواب میں فرمایا کہ جب تم تین ہوتے ہو تو وہ چوتھا ہوتا ہے: "وَهُوَ مَعَكُمْ أَلَمْ تَكُنْتُمْ" کہ وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو۔ (سورۃ الحدید: آیت ۴)

تیسری وجہ گناہ کرنے کی یہ ہوتی ہے کہ آدمی کے دل میں یہ احساس ہوتا ہے کہ میری حرکتوں کا کسی کو پتا نہیں چلا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: "يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ" قہیہ وہ جانتا ہے تمہاری آنکھوں کی خیانت کو اور جو تمہارے دلوں میں چھپا ہوا ہے۔ (سورۃ المؤمن: آیت ۱۹)

چوتھی وجہ گناہ کرنے کی یہ ہوتی ہے کہ آدمی یہ کہتا ہے کہ میں اگر یہ برائی کرتا بھی ہوں تو کوئی میرا کیا کر لے گا۔ جی ہاں! جب انسان باغی ہو جائے اور گناہ پر جرأت بڑھ جائے تو وہ بے شرم ہو کر ایسی باتیں کہہ دیتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کا بھی جواب دیتے ہیں۔ فرمایا: "إِنَّ أَخَذْنَا إِلَيْهِمْ شَدِيدًا" اس پروردگار کی پکڑ بڑی دردناک اور بڑی شدید ہے۔ (سورۃ الحمد: آیت ۱۰۲) "وَلَا يُؤْتِقُ وِثَاقَهُ أَحَدٌ" ایسے باندھے گا کہ تمہیں ایسے کوئی دوسرا باندھ نہیں سکتا۔ (سورۃ النجر: آیت ۲۶) "فَلَيْسَ أَعَذِبُهُ عَذَابًا لَّا أَعَذِبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ" میں پروردگار

وہ عذاب دوں گا کہ جہانوں میں کوئی دوسرا عذاب دے نہیں سکتا۔ (سورۃ المائدہ: آیت ۱۱۵)

گناہ کرنے کی ان وجوہات کا جواب قرآن مجید میں دینے کی وجہ یہ تھی کہ انسان گناہوں سے بچ جائے اور اپنے پروردگار کا فرمانبردار بندہ بن جائے، شیطان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ انسان کو تاناہوں میں مست رکھے اور حزن کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ انسان ظاہر ہو یا پوشیدہ جو بھی گناہ کرتا ہے اس کو چھوڑ دے۔ اب بندے کو چاہئے کہ اپنے پروردگار کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے گناہوں بھری زندگی کو چھوڑ دے اور نیکیوں والی زندگی کو اختیار کرے۔

### (۲۸) حضرت جنید بغدادی نبی کریم ﷺ کی قرابت کے واسطے کی خاطر بالقصد کشتی ہار گئے

حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ اپنے وقت کے شاہی پہلوان تھے۔ بادشاہ وقت نے اعلان کروا رکھا تھا کہ جو شخص ہمارے پہلوان کو گرائے گا اس کو بہت زیادہ انعام دیا جائے گا۔ سادات کے گھرانے کا ایک آدمی بہت کمزور اور غریب تھا، نان شبینہ کو ترستا تھا، اس نے سنا کہ وقت کے بادشاہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ جو ہمارے پہلوان کو گرائے گا ہم اسے اتنا زیادہ انعام دیں گے۔ اس نے سوچا کہ جنید کو رستم زماں کہا جاتا ہے، میں اسے گرا تو نہیں سکتا مگر میرے گھر میں غربت بہت زیادہ ہے، مجھے پریشانی بھی بہت ہے اور سادات میں سے ہوں، اس لئے کسی کے آگے جا کر اپنا حال بھی نہیں کہہ سکتا، چلو میں مقابلہ کی کوشش کرتا ہوں۔ چنانچہ اس نے جنید سے کشتی لڑنے کا اعلان کر دیا۔ وقت کا بادشاہ بہت حیران ہوا کہ اتنے بڑے پہلوان کے مقابلے میں ایک کمزور سا آدمی۔ بادشاہ نے اس سے کہا کہ تو فلکست کھا جائے گا۔ اس نے کہا کہ نہیں میں کامیاب ہو جاؤں گا۔

مقابلے کے لئے دن متعین کر دیا گیا، بادشاہ وقت بھی کشتی دیکھنے کے لئے آیا، جب دونوں پہلوانوں نے پچھ آزمائی شروع کی تو وہ سید صاحب کہتے ہیں، جنید! تو رستم زماں ہے، تیری بڑی عزت ہے، تجھے بادشاہ سے روزینہ ملتا ہے، لیکن دیکھ میں سادات میں سے ہوں، غریب ہوں، میرے گھر میں اس وقت پریشانی اور تنگی ہے، آج اگر تو گرائے گا تو تیری عزت پر وقتی طور پر حرف آئے گا لیکن میری پریشانی دور ہو جائے گی، اس کے بعد اس نے کشتی لڑنا شروع کر دی۔ جنید حیران تھے کہ اگر چاہتے تو بائیں ہاتھ کے ساتھ اس کو نیچے پٹختے تھے، مگر اس نے نبی کریم ﷺ کی قرابت کا واسطہ دیا تھا۔ یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت تھی، جس سے جنید کا دل بچ گیا تھا۔ دل نے فیصلہ کیا کہ جنید! اس وقت عزت کا خیال نہ کرنا، تجھے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں عزت مل جائے، تو تیرے لئے یہی کافی ہے، چنانچہ تھوڑی دیر پچھ آزمائی کی اور اس کے بعد جنید خود ہی چت ہو گئے اور وہ کمزور آدمی ان کے سینے پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ میں نے ان کو گرا لیا۔

بادشاہ نے کہا، نہیں کوئی وجہ بن گئی ہوگی لہذا دوبارہ کشتی کروائی جائے۔ چنانچہ دوبارہ کشتی ہوئی، جنید خود ہی گر گئے اور اسے اپنے سینے پر بٹھا لیا، بادشاہ بہت ناراض ہوا۔ اس نے جنید کو بہت زیادہ لعن طعن کی، حتیٰ کہ اس نے کہا کہ جی چاہتا ہے کہ جو توں کا ہاتھ تیرے گلے میں ڈال کر پورے شہر میں پھرادوں، تو اتنے کمزور آدمی سے ہار گیا۔ آپ نے وقتی ذلت کو برداشت کر لیا، گھر آ کر بتایا تو بیوی بھی پریشان ہوئی اور باقی اہل خانہ بھی پریشان ہوئے کہ تو نے اپنی عزت کو آج خاک میں ملادیا، مگر جنید کا دل مطمئن تھا۔ اس صفت کی وجہ سے جنید بغدادی بنے ہیں اور اللہ نے ان سے خوب دین کا کام لیا۔

### (۲۹) اللہ نے کہا: تو نے اسے میری بندی سمجھ کر معاف کر دیا جا میں تجھے اپنا بندہ سمجھ کر معاف کر دیتا ہوں

ایک آدمی کی بیوی سے کوئی غلطی ہوگئی، نقصان کر بیٹھی، اگر وہ چاہتا تو اسے سزا دے سکتا تھا، اگر وہ چاہتا تو اسے طلاق دے کر گھر بھیج سکتا تھا، کیونکہ وہ حق بجانب تھا۔ تاہم اس آدمی نے یہ سوچا کہ میری بیوی نقصان تو کر بیٹھی ہے، چلو میں اس اللہ کی بندی کو معاف کر دیتا ہوں۔ کچھ عرصہ کے بعد اس شخص کی وفات ہوگئی، کسی کو خواب میں نظر آیا، خواب دیکھنے والے نے پوچھا کہ سناؤ! آگے کیا معاملہ بنا؟ کہنے

لگا کہ اللہ رب العزت نے میرے اوپر مہربانی فرمادی۔ اس نے پوچھا، وہ کیسے؟ کہنے لگا کہ ایک مرتبہ میری بیوی غلطی کر بیٹھی تھی، میں چاہتا تو سزا دے سکتا تھا، مگر میں نے اس کو اللہ کی بندی سمجھ کر معاف کر دیا۔ پروردگار عالم نے فرمایا کہ تو نے اسے میری بندی سمجھ کر معاف کر دیا، جا میں تجھے اپنا بندہ سمجھ کر معاف کر دیتا ہوں۔

## (۵۰) خواب میں کھار اپانی اپنے کھیت میں دیکھنا اور اس کی تعبیر

بخدمت حضرت مولانا صاحب دامت برکاتہم!

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

بعد سلام عرض ہے کہ میں خواب میں اپنے کھیت کا حال دیکھتا ہوں کہ وہ کھارے پانی سے بھرا ہوا ہے، تو میرے لئے اپنے کھیت کی یہ حالت نفع بخش ہے، یا ضرر رساں، برائے کرم جواب دے کر تشویش قلب کو دفع دیجئے۔ فقط والسلام!

آپ کا اپنے کھیت کو اس حالت پر دیکھنا نقصان دہ ثابت ہوگا۔ کیونکہ کھار اپانی قابل زراعت نہیں ہے، لہذا کھیت سماوی آفات کا شکار ہو سکتا ہے، اب آپ برے خواب سے بچائے کے لئے سنتوں کا اہتمام لازم سمجھئے اور آیت ”لَقَدْ الْبَشَرُ فِي الضُّلُولِ وَالذُّنُوبِ وَالْاٰخِرَةُ لَآتِبْدِلُ لِكَلِمَاتِ اللّٰهِ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ“ پڑھنے کا اہتمام کیجئے اور ہمیشہ باوجود ہونے کا بھی اہتمام کیجئے۔

## (۵۱) حضرت عقبہ بن عامر کو حضور ﷺ کی بڑی عجیب نصیحت

مسند احمد میں ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میری رسول اللہ ﷺ سے ملاقات ہوئی۔ میں نے جلدی سے آپ کا ہاتھ تھام لیا اور کہا: یا رسول اللہ! مون کی نجات کس عمل پر ہے۔ آپ نے فرمایا: اے عقبہ! زبان تھامے رکھ، اپنے گھر میں ہی بیٹھا رہا کرو اور اپنی خطاؤں پر روتا رہ۔ پھر دوبارہ جب حضور سے میری ملاقات ہوئی تو آپ نے خود میرا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا: عقبہ! کیا میں تمہیں تورات، انجیل، زبور اور قرآن میں اتری ہوئی تمام سورتوں سے بہتر تین سورتیں بتاؤں۔ میں نے کہا: ہاں حضور! ضرور ارشاد فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ پر فدا کرے۔ پس آپ نے مجھے سورۃ الاخلاص اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس بتائیں۔ دیکھو عقبہ! انہیں نہ بولنا اور ہر رات انہیں پڑھ لیا کرنا۔ فرماتے ہیں کہ پھر نہ میں انہیں بھولا اور نہ کوئی رات ان کے پڑھے بغیر گزاری۔ میں نے پھر آپ سے ملاقات کی اور جلدی کر کے آپ کے دست مبارک کو اپنے ہاتھ میں لے کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ! مجھے بہترین اعمال ارشاد فرمائیے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: سن! جو تجھ سے کئے تو اس سے بڑے، جو تجھے محروم رکھے تو اسے دے، جو تجھ پر ظلم کرے تو اس سے درگزر کر اور معاف کر دے۔ (تفسیر ابن کثیر، جلد ۵، ص ۶۱۶)

## (۵۲) ”اللہ کا رنگ اختیار کرو“ اس کا کیا مطلب ہے؟

بخدمت حضرت مولانا صاحب دامت برکاتہم!

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

بعد سلام عرض ہے کہ ”اللہ کا رنگ اختیار کرو“ اس کا کیا مطلب ہے؟ جیسا کہ قرآن مجید میں ہے: ”صِبْغَةَ اللّٰهِ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنْ اللّٰهِ صِبْغَةً“ (سورۃ البقرہ: آیت ۱۳۸)

”اللہ کا رنگ اختیار کرو، اللہ تعالیٰ سے اچھا اور رنگ کس کا ہوگا۔“

مذکورہ آیت سے دو چیزیں بتلانا مقصود ہے:



- ① نزاری کی ایک رسم کی تردید کرنا۔ { علامت ایمان کامومن کی ذات اور افعال میں ظہور ہونا چاہئے۔
- ① نزاری کی یہ رسم جاری تھی کہ جو بچہ پیدا ہو اس کو ساتویں روز ایک رنگین پانی میں نہلاتے تھے اور بجائے ختنہ کے اسی نہلانے کو بچہ کی طہارت اور دین نصرانیت کا پختہ رنگ سمجھتے تھے۔ اس رسم کا نام ان کے یہاں پتسمہ ہے۔ جوان کے یہاں لازم تھا، جس کے بغیر وہ کسی کو پاک تصور نہیں کرتے تھے۔ اس آیت نے بتلادیا کہ یہ پانی کارنگ تو دھل کر ختم ہو جاتا ہے، اس کا بعد میں کوئی اثر نہیں رہتا، نیز ختنہ نہ کرنے کی وجہ سے جو گندگی اور ناپاکی جسم میں رہتی ہے، اس سے بھی یہ رنگ نجات نہیں دیتا، اصل رنگ دین و ایمان کا رنگ ہے، جو ظاہری اور باطنی پاکی کی ضمانت بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے۔
- ② علامت ایمان کامومن کی ذات اور افعال میں ظہور ہونا چاہئے۔ دین و ایمان کو رنگ فرما کر اس طرف اشارہ ہو گیا کہ جس طرح رنگ آنکھوں سے محسوس ہوتا ہے مومن۔ کہ ایمان کی علامت اس کے چہرہ بشرہ اور تمام حرکات و سکنات، معاملات و عادات میں ظاہر ہونی چاہئے۔ واللہ اعلم! (تفسیر سجد نبوی، معارف القرآن، جلد ۱، صفحہ ۳۵۶)

### (۵۳) سو (۱۰۰) بکھرے موتی پڑھ لیجئے

- ① ساتھیوں کو چاہئے کہ رات کے آخری حصے میں تہجد کے لئے اٹھیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا قول ہے: ”رات کے آخری حصے میں مرغ کا تھ پرائٹھنے میں سبقت لے جانا، تیرے لئے باعث ندامت ہے۔“
- ② رات کو اٹھو اس لئے کہ عشاق رات کو راز و نیاز کر۔ تیرے ہیں، دوست کے دروازے اور چھت کے ارد گرد پرواز کرتے ہیں۔ ہر جگہ کے دروازے رات کو بند کر دیئے جاتے ہیں، سوائے دوست کے دروازے کے جسے رات کو کھول دیتے ہیں۔
- ③ نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ چار رکعت، آٹھ رکعت یا بارہ رکعت تہجد ادا کرے۔ حضرت خواجہ ابو یوسف ہمدانی کا معمول تھا کہ پہلے دو گانہ میں آیت الکرسی والا رکوع سورۃ البقرۃ کا آخری رکوع پڑھتے۔ پھر آٹھ رکعت میں دس دس آیات پڑھ کر سورۃ یسین مکمل کرتے۔ آخری دو رکعت میں تین تین بار سورۃ الاخلاص پڑھتے۔ (حضرت خواجہ ابو یوسف ہمدانی کی صحبت میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے فیضان پایا آپ ان دونوں حضرات کے یہ تعلیم کہلاتے ہیں)۔
- ④ اللہ کے خزانہ میں چار چیزیں نہیں ہیں:

① عدم      ② حاجت      ③ عذر      ④ گناہ

⑤ استغفار پہلے پڑھیں یا درود شریف پہلے پڑھیں۔

شیخ العرب و اجم حضرت مولانا عبدالغفور رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا: ”استغفار پہلے پڑھے کہ درود شریف۔“ فرمایا کہ استغفار کی مثال کپڑے دھونے والے صابن کی سی ہے، جبکہ درود شریف کی مثال کپڑے پر لگانے والے عطر کی سی ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ کپڑے کو پہلے عطر لگائیں یا صابن سے دھوئیں؟ سائل نے عرض کیا: حضرت پہلے صابن سے دھونا چاہئے پھر عطر لگانا چاہئے۔ فرمایا: ”بس اسی طرح پہلے خوب نام و شرمندہ ہو کر استغفار پڑھیں تاکہ دل دھل جائے پھر محبت و عقیدت سے درود شریف پڑھیں تاکہ عطر لگے اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو انگ انگ میں سا جائے۔“

- ① ایک شخص نے رابعہ بصریہ رضی اللہ عنہا کے پاس دنیا کی برائی کا تذکرہ کیا۔ فرمایا ”آئندہ میرے پاس نہ آنا، تمہیں دنیا سے بہت محبت ہے۔“
- ② بعض لوگوں نے ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا: فلاں جماعت شغل و طرب میں مشغول ہے، بددعا کریں۔ فرمایا: اللہ! جسے تو نے انہیں دنیا میں خوشیاں دیں، آخرت میں بھی خوشیاں عطا فرما۔

۸) اگر کوئی اہل دنیا کی تعظیم کرے تو کون سی عجیب بات ہے، لوگ تو سانپ اور بچھو کو دیکھ کر بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔  
۹) اسم اعظم کیا ہے؟

۱۰) دل غیر سے خالی اور پیٹ حرام سے خالی ہو تو ہر اسم "اسم اعظم" ہوتا ہے۔  
۱۱) لقمان حکیم نے فرمایا: "میں چاند اور سورج کی روشنی میں پرورش پاتا رہا مگر دل کی روشنی سے بڑھ کر کسی کو سود مند نہ پایا۔  
۱۲) دل سیاہ ہو تو چمکتی آنکھیں کچھ فائدہ نہیں دیتیں۔  
جس دل میں غم نہ ہو:

۱۳) جس گھر میں آرائش نہ ہو بگڑ جاتا ہے، اسی طرح جس دل میں غم نہ ہو تو وہ بھی بگڑ جاتا ہے۔  
دل ہنڈیا کے مانند ہے:

۱۴) یحییٰ بن معاویہ نے فرمایا: "دل ہنڈیا کے مانند ہے جبکہ زبان چمچ کے مانند۔ چمچ وہی نکالتا ہے جو ہنڈیا میں ہوتا ہے۔"  
۱۵) قیامت کے بازار میں سودے کی اتنی قیمت نہ ہوگی جتنا مومن کا دل خوش کرنے کی۔  
۱۶) نماز میں جی نہ لگنے کی وجہ ایسی ہے جیسے چمڑے کے کارخانے میں کام کرنے والا عطر کی دکان پر جائے تو اس کا دم گھٹنے لگتا ہے۔  
۱۷) ایک تاجر نے تین سال روزے رکھے، مگر والے سمجھتے تھے، دن کا کھانا دکان پر کھاتا ہوگا، دکان والے سمجھتے تھے گھر سے کھا کر آتا ہوگا۔ کسی کو پتہ نہ چلنے دیا، اسے اخلاص کہتے ہیں۔  
۱۸) جو عبادت دنیا میں مزہ نہ دے گی وہ آخرت میں کیا جزا دے گی۔

ولی، گنہگار اور شیطان:

۱۹) جو گناہ پر پچھتا ہے اسے ولی سمجھو، جو پرواہ نہ کرے اسے گنہگار انسان سمجھو، جو گناہ کر کے اترائے اسے شیطان سمجھو۔  
۲۰) گناہ کو نہ دیکھو کہ کتنا چھوٹا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو دیکھو کہ کس کی نافرمانی کی جا رہی ہے۔  
سچ کو باہر مت چھوڑیے:

۲۱) اگر تم غلطیوں کو چھپانے کے لئے دروازے بند کر دو گے تو سچ بھی باہر ہی رہ جائے گا۔

۲۲) اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ بدی جو تمہیں رنجیدہ کرے اس تنگی سے بہتر ہے جو تمہیں نازاں کرے۔

اخلاص کیا ہے؟

۲۳) حضرت ابراہیمؑ نے کہا: "اخلاص یہ ہے کہ اپنی نیکیوں کو اس طرح چھپائے جس طرح اپنی برائیوں کو چھپاتا ہے۔"  
۲۴) ساتھیوں کو چاہئے کہ لوگوں کو اللہ کی نعمتیں یاد دلائے تاکہ شکر کریں، اپنے گناہ یاد دلائے تاکہ توبہ کریں۔ نفس و شیطان کی عداوت یاد دلائے تاکہ بچ سکیں۔

۲۵) ایک عاقل نے کسی شیخ سے کہا کہ آپ کا مرید ریائی ذکر کرتا ہے۔ فرمایا: اس کے پاس ٹھٹھا تا چراغ ہے، لہذا بخشش کی امید ہے، آپ کے پاس تو یہ بھی نہیں۔

۲۶) جس نے معمولات میں پابندی حاصل کر لی اس پر رحمت ہوگی۔ فرحت قلب اس کی لونڈی ہے جو خود بخود مل جائے گی۔

۲۷) حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر کی فرمائش فرماتے تھے کہ جو شخص بیعت کی تمنا ظاہر کرے، میں اس کو اس لئے مرید کر لیتا ہوں کہ پیر کو

قیامت کے دن جہنم جاتا دیکھ کر مرید ترس کھائے گا۔ شاید اسی برکت سے بخشا جاؤں۔

⑫ ایک شخص نے کسی بزرگ کو ہدیہ دے کر دُعا کر درخواست کی۔ فرمایا: ”ہدیہ واپس لے جاؤ، یہ دُعا کی دُکان نہیں ہے۔“

⑬ شیخ گنہگار مرید کو یوں سمجھے جیسے کسی حسد نے چہرے پر سیاہی لگالی ہے، اگر دعویٰ تو چاند سا چہرہ نکل آئے گا۔

⑭ تقویٰ یہ ہے کہ روزِ محشر کوئی تمہارا گریبان نہ پکڑے۔

⑮ ہم ایسے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں کہ سلف صالحین نے اپنے علم و تقویٰ کے باوجود اس سے پناہ مانگی تھی۔

⑯ شیخ عثمان خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ گا ہوں کو کھونے سکوں کے بدلے میں بھی مال دے دیتے تھے، مرتے وقت دُعا مانگی کہ ”میں نے لوگوں

کے کھونے سکے قبول کئے، اے اللہ! تو میرے کھونے اعمال کو قبول فرما۔“

⑰ شیخ شہاب الدین خطیب رحمۃ اللہ علیہ دُعا مانگتے تھے کہ یا اللہ! مرتے وقت کوئی پاس نہ ہو، نہ اپنا نہ پرانا نہ ہی ملک الموت۔ بس میں اور تو۔

⑱ ابوالحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ کی دُعا یہ ہوتی تھی: ”اے اللہ! اگر میری مغفرت نہیں کرنی تو جہنم کو مجھ سے بھر دے اور باقی سب انسانوں کی

مغفرت نہیں کرنی تو جہنم کو مجھ سے بھر دے اور باقی سب انسانوں کی مغفرت فرما دے۔“

⑲ دُعا کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن کہے گا، ”اے اللہ! میں نے تو دُعا کی تھی مجھے نیک بنا، بس معذور سمجھا جائے گا۔“

⑳ جس سے حسد ہو اس کے لئے بلندی اور جات کی دُعا کرنا حسد کا بہترین علاج ہے۔

㉑ محنت ہمارے ہاتھ میں ہے، نصیب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمیں اسی سے کام لینا چاہئے جو ہمارے ہاتھ میں ہے۔

㉒ بے کار انسان مردے سے بھی بدتر ہے کیونکہ مردہ کم جگہ روکتا ہے۔

جہنم میں ایک مصلے کی جگہ:

⑳ قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے شیزادی کی قضا کے لئے کسی بزرگ سے سفارش کروائی، انہوں نے سفارشی رقعے میں لکھا: ”یہ مرد صالح

عالم فاضل ہے، جہنم میں ایک مصلے کی جگہ چاہتا ہے۔“

㉑ جس طرح مخلوق کے لئے عمل کرنا ریا ہے، اسی طرح مخلوق کے لئے عمل ترک کرنا بھی ریا ہے۔

㉒ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”ہمارے بازاروں میں خرید و فروخت وہ کرے جو فقیہ ہو۔“ سبحان اللہ! سارے ملک کو در سگاہ بنا دیا۔

㉓ نفس کی سرکشی کو توڑنا ”مَلَکَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ“ میں داخل ہے۔

㉔ آج عام روحانی مرض ہے: ”بَلَّيْتُ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونَ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ“ ”کاش کہ ہمیں بھی کسی طرح وہ مل جاتا جو

قارون کو دیا گیا۔ یہ تو بڑا قسمت کا دھنسی ہے۔“ (سورۃ القصص: آیت ۷۹)

㉕ جس سے محبت ہو اس کا نام آئے تو نبض تیز ہو جاتی ہے، یہی معنی ”وَجَلَّتْ قُلُوبُهُمْ“ کا ہے۔ (سورۃ الانفال: آیت ۲)

㉖ ”فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَكْفُرْ بِإِسْمِهِ وَكَأَنَّهُ كَاتِبُونَ“ (سورۃ الانبیاء: آیت ۹۴)

”پھر جو کچھ بھی نیک عمل کرے اور وہ مومن بھی ہو تو اس کی کوشش کی بے قدری نہیں کی جائے گی، ہم تو اس کے لکھنے والے ہیں۔“

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے نیکیاں لکھنے کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ قربان جائیں اس عزت افزائی پر۔

㉗ بغیر مصیبت کے کوئی نعمت چھین جائے تو بہتر ہوتی ہے۔ ”مَائِدَةٌ مِنْ أَيْدِي أَوْلَادِهَا نَاتٍ بِخَيْرٍ مِمَّا أُوتِيَهَا“ (سورۃ البقرة: آیت ۱۰۶)

اس کی دلیل ہے۔

”جس آیت کو ہم منسوخ کر دیں یا بھلا دیں اس سے بہتر یا اس جیسی اور لاتے ہیں۔“

کسی نے حضرت خولجہ بایزید بسطامی سے کہا: آپ بھوک کی اتنی تعریف کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا: ”اگر فرعون بھوکا ہوتا تو ”آتَا رَبُّكَمُ الْأَعْلَى“ (سورۃ النازعات: آیت ۲۳) نہ کہتا۔

۳۷ علماء کا درسِ نظامی کا نصاب آٹھ سالہ ہوتا ہے۔ سند یہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رہنے کا عہد آٹھ سالہ ہے لیکن تخصص کے لئے ”فَإِنْ أَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِدَّتِكَ“ (سورۃ القصص: آیت ۲۷) ہے۔

۳۸ بعض اسلاف کے چراغ کے تیل کا خرچہ زیادہ ہوتا تھا، اور کھانے کا خرچہ کم ہوتا تھا۔

۳۹ ایک مرتبہ شیخ الاسلام عزیز الدین بن السلام سے کسی نے کہا کہ بادشاہ کے ہاتھ چومئے۔ حضرت نے فرمایا: ”اللہ کی قسم! میں اس پر بھی راضی نہیں ہوں کہ وہ میرا ہاتھ چومے چہ جائیکہ میں اس کے ہاتھ چوموں۔“

۴۰ حضرت مرزا مظہر جان جاناں رحمۃ اللہ علیہ کو بادشاہ وقت نے بڑی جاگیر پیش کی تو فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو ”مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ“ (سورۃ النساء: آیت ۷۷) کہا۔ اسی قلیل میں سے تمہارا حصہ آپ کو ملا ہے۔ اب اس میں سے بھی تمہارا حصہ آپ مجھے دیں گے تو اتنا تمہوڑا لیتے ہوئے بھی مجھے شرم آتی ہے۔

۴۱ ایک گلڑی بیچنے والے نے آواز لگائی: ”عَشْرَةَ خِيَارٍ بِدَيْنِقِ“ (دس گلڑی ایک دانق کے بدلے میں) خیار عربی میں گلڑی کو کہتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچ ماری کہ جب دس خیار کی یہ قیمت ہے تو ہم اشرا کی کیا قیمت ہوگی؟

۴۲ نادانوں کی بات پر نخل عقل کی زکوٰۃ ہے۔

۴۳ بہت زیادہ کھا کر بیمار ہونے والوں کی تعداد فاقہ کشی سے بیمار ہونے والوں سے زیادہ ہے۔

۴۴ ہر بچے کی پیدائش اس بات کی علامت ہے کہ اللہ ابھی بندے سے مایوس نہیں ہوا ہے۔

۴۵ سچ پر چلنے والوں کا ہر قدم شیطان کے سینے پر ہوتا ہے۔

۴۶ حیرت ہے کہ انسان ہاتھ تو دنیا کے آگے پھیلاتا ہے مگر گلہ اللہ سے کرتا ہے۔

۴۷ بری عادتوں کی طاقت کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب انہیں چھوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے۔

۴۸ جتنی محنت سے لوگ جہنم خریدتے ہیں اس سے آدمی محنت میں جنت لیتی ہے۔

۴۹ ترکِ تبلیغ کے لئے مخاطب کی ناگواری عذر نہیں۔ ”أَفَضْرِبُ عَنْكُمْ الذِّكْرَ صَفْحًا إِنَّ كُنْتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِينَ“ (سورۃ الزمر: آیت ۵) ”کیا ہم اس نصیحت کو تم سے اس بنا پر ہٹالیں کہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔“

دوزخ میں بھی ایمان کی برکت: گنہگار مومنین کو جہنم میں تکلیف کا احساس نہیں ہوگا:

۵۰ ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”وہ جہنمی جو جہنم کے مستحق ہیں تو انہیں جہنم میں نہ موت آئے گی

(کہ تکلیف کا چھکارا پالیں) اور نہ انہیں زندگی (کا لطف) نصیب ہوگا، لیکن تم (مومنین) میں سے کچھ لوگ اپنے گناہوں کی وجہ

سے جہنم میں پہنچیں گے، پھر اللہ تعالیٰ انہیں ایک خاص قسم کی موت دے گا (جس سے تکلیف کا احساس نہیں ہوگا) یہاں تک کہ جب

وہ (جل کر) کونکہ ہو جائیں گے تو (دوسرے جنتی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم) کو (ان کے حق میں) سفارش کرنے کی اجازت دی جائے گی، لہذا

انہیں مختلف گلڑیوں میں (اس طرح اٹھا کر) لایا جائے گا جس طرح سامان اٹھایا جاتا ہے۔ پھر انہیں جنت کی نہروں میں بکھیر دیا

جائے گا پھر جنت والوں سے کہا جائے گا کہ ان پر (زندگی کا پانی) بہاؤ۔ چنانچہ (وہ اس پانی سے اتنی تیزی کے ساتھ) زندہ ہوں

گے (جتنی تیزی کے ساتھ) وہ گھاس اُگتی ہے جو کچھڑ میں ہوتی ہے۔ (مسلم، کتاب الامان، صفحہ ۲۵۹)

نوٹ: ذاکر کا آپریشن مریض کے لئے تکلیف دہ نہیں ہوتا، چڑی (کھال) کے سن ہونے کی وجہ سے۔ ویسے ہی عاصی مؤمن کا جہنم میں دل تکلیف دہ نہیں ہوگا، قلب میں ایمان کی وجہ سے۔

- ۱۱) انگریزی پڑھ کر دیندار بننا عربی پڑھ کر بے دین بننے سے بہتر ہے۔
- ۱۲) یہ تجربہ شدہ بات ہے کہ جو بچہ سورۃ الیوسف پہلے یاد کرے اسے قرآن جلدی یاد ہو جاتا ہے۔
- ۱۳) مرشد کی دُعا کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وفات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے تین سال پہلے ایمان لائے مگر حافظہ اتنا تھا کہ روایات سب سے زیادہ ہیں۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دُعا کی تھی۔
- ۱۴) جس طرح شہوت بغیر محل حرام ہے اسی طرح غصہ بھی بغیر محل حرام ہے۔
- ۱۵) بزرگوں کا کلام نقل کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ دیکھو طوطا کیسے ہو بہو آدمی کی طرح بولتا ہے، کیا وہ آدمی ہو جاتا ہے، ہرگز نہیں۔
- ۱۶) سچائی کی مشعل جہاں جلتی دیکھو فائدہ اٹھاؤ، یہ نہ دیکھو کہ مشعل بردار کون ہے۔
- ۱۷) مسلمان کو فائدہ نہ پہنچا سکو تو نقصان نہ دو۔ خوش نہ کر سکو تو رنجیدہ نہ کرو۔ تعریف نہ کر سکو تو غیبت نہ کرو۔
- ۱۸) سو سال کی عمر میں ایک لمحے کی غلطی انسان کا رخ مشرق سے مغرب کی طرف بدل دیتی ہے۔
- ۱۹) غلطی کے بعد چہرے کو بہانے کی چادر سے نہ چھپاؤ، کیونکہ چادر چہرے سے زیادہ مہلکی ہے۔
- ۲۰) کینے آدمی سے دوستی نہ کرو، کیونکہ گرم کوئلہ ہاتھ جلاتا ہے اور ٹھنڈا کوئلہ ہاتھ کالے کرتا ہے۔
- ۲۱) حیوانات میں مکھی سب سے زیادہ حریص اور مکڑی سب سے زیادہ قناعت پسند ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے مکھی کو مکڑی کی غذا بنا دیا۔
- ۲۲) اگر انسان کے خیالات شرعی گواہ ہوتے تو کئی نیک لوگ بدمعاش ہوتے۔
- ۲۳) حضرت عبداللہ بن مبارک نے نصیحت فرمائی: ”بری نظر چھوڑ دو، خشوع کی توفیق ملے گی۔ بیہودہ گوئی چھوڑ دو، دانائی ملے گی۔“
- ۲۴) فحش کلامی کرنے پر ایک نوجوان کو کسی بزرگ نے کہا: ”دیکھ تو اللہ تعالیٰ کے نام کیسا خط بھیج رہا ہے۔“
- ۲۵) اگر غرور کوئی علم ہوتا تو اس کے کئی سند یافتہ ہوتے۔
- ۲۶) اگر تو حق تعالیٰ سے راضی ہے تو یہ نشانی ہے اس بات کی کہ وہ تجھ سے راضی ہے۔
- ۲۷) انکساری کا سہارا لے کر چلو ورنہ ٹھوکر کھا کر گر پڑو گے۔
- ۲۸) حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دُعا کی: ”خدا یا! مخلوق کی زبان مجھ سے روک دے۔“ فرمایا ”اگر میں ایسا کرتا تو اپنے لئے کرتا۔“
- ۲۹) اشراف نفس کے بغیر جو ہدیہ ملے اس میں برکت ہوتی ہے۔
- ۳۰) لباس کے تین درجے ہیں: ایک آسائش کا جو ضروری ہے، دوسرا زیبائش کا جو جائز ہے اور تیسرا نمائش کا جو منع ہے۔
- ۳۱) شاہ شجاع کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ۴۰ سال رات کو جاگ کر عبادت کرنے کا معمول رکھا، ایک رات سو گئے تو اللہ تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوئی۔
- ۳۲) عرض کی: ”یا اللہ! میں نے جاگنے میں آپ کو ڈھونڈا مگر آپ سونے میں ملے۔“ فرمایا: ”جاگنے کی برکت سے سونے میں ملا ہوں۔“
- ۳۳) اے دوست! تو اپنے اصل مکان کی طرف جا رہا ہے، لیکن ست رفتاری کے ساتھ، اصل مکان کی طرف تو جانور بھی تیز چلتے ہیں۔
- ۳۴) امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو نصیحت کی کہ کوئی پیٹھ کی طرف سے پکارے تو جواب نہ دو، پیٹھ کی طرف سے جانوروں کو پکارتے ہیں۔
- ۳۵) جو نعمت کی قدر نہیں کرتا نعمت نامعلوم طریقے سے چھین لی جاتی ہے۔

- ۷۵ وعظ گوئی سے عجب پیدا ہوتو لکھ کر وعظ کرے، اس طرح لوگ کہیں گے کہ پچارہ دیکھ دیکھ کر بول رہا تھا۔
- ۷۶ اپنے اختیار و قصد سے کسی کی برائی دل میں رکھنا اور اسے ایذا پہنچانے کی تدبیر کرنا کینہ ہے۔ اگر کسی سے رنج کی بات پیش آئے تو طبیعت ملنے کو نہ چاہے تو یہ انقباض ہے، دُور ہونے کی دُعا کرے۔
- ۷۷ حضرت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی فائقے کی شکایت کرتا تو فرماتے: ”تم فائقے کی قدر کیا جانو، ہم نے سلطنت دے کر خریدے ہیں، ہم سے پوچھو۔“
- ۷۸ عورت کے لئے زیور و لباس کی محبت کم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ گھر میں اچھے کپڑے پہنے۔ دوسری جگہ جائے تو معمولی کپڑے پہنے۔
- ۷۹ ابن عطاء سکندری کو الہام ہوا کہ میں ایسا رازق ہوں اگر تو دُعا کرے کہ رزق نہ ملے تو پھر بھی دوں گا، اگر رو رو کر مانگے گا تو کیوں نہ دوں گا۔
- ۸۰ دریا کے پانی اور آنکھوں کے پانی میں صرف جذبات کا فرق ہوتا ہے۔
- ۸۱ ہماری مشرتی عورتیں عام طور پر عاشقات الازواج اور قاصرات الطرف (دوسروں کی طرف نہ دیکھنے والیاں) ہوتی ہیں۔ عورتیں فطرتاً مرد کے تابع، مگر مرد محبت کی وجہ سے عورت کا تابع ہوتا ہے۔
- ۸۲ بوڑھا آدمی چراغِ سحر ہے تو جوان آدمی چراغِ شام ہے۔
- ۸۳ اپنا بچہ روئے تو دل میں درد ہوتا ہے، اور دوسرے کا بچہ روئے تو سر میں درد ہوتا ہے۔
- ۸۴ تہجد کے وقت آنکھ کھلے تو سمجھ لو کہ آسمان سے فون آیا ہے۔
- ۸۵ ذکر سے خالی بات لغو ہے۔ عبرت سے خالی نظر بھو ہے اور فکر سے خالی خاموشی سہو ہے۔
- ۸۶ حضرت ابو یوسف محی الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: خبردار! کسی اللہ کی شان میں گستاخی نہ کر دینا، ورنہ تمہاری زندگی بھینکی ہوگی۔
- ۸۷ بیمار دل کی چار علامتیں ہیں:

- ۱ اطاعت میں حلاوت محسوس نہ کرے۔ ۲ اس میں اللہ کا خوف نہ رہے۔
- ۳ دُنیا کی چیزوں کو نگاہِ عبرت سے نہ دیکھے۔ ۴ جو علم سنے اسے سمجھے نہیں۔
- ۵ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کو زبان سے یاد کرتا ہوں مگر دل اس کے ساتھ موافقت نہیں کرتا۔ فرمایا: شکر کرو کہ اللہ کی یاد میں ایک عضو تو مطیع ہوا، دوسرا بھی ہو جائے گا۔
- ۶ گناہوں سے پرہیز کیا جائے تو دین و دُنیا میں مزے ہی مزے ہیں۔
- ۷ تمام برائیوں کی جڑ دُنیا کی دوستی ہے۔

### (۵۴) مسجد میں داخل ہوتے ہی یہ دُعا پڑھ لیجئے شیطان سے آپ کی حفاظت ہو جائے گی

حضرت ابن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوتے تو یہ کلمات کہتے:

أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

”میں مرد و شیطان سے عظمت والے اللہ، اس کی کریم ذات کی اور اس کی قدیم سلطنت کی پناہ چاہتا ہوں۔“

آدی جب یہ کلمات کہتا ہے تو شیطان کہتا ہے: ہاتی سارے دن میں اس آدمی کی مجھ سے حفاظت ہوگئی۔ (حیاء الصحاب، جلد ۳، صفحہ ۳۹۴)

### (۵۵) ایک قیمتی نصیحت: حضور ﷺ کی شفقت و دلجوئی کا عجیب واقعہ

غزوہ حنین کے موقع پر ایک عجیب افراتفری مچی ہوئی تھی، لوگوں کا ازدحام اور بھیڑ بہت زیادہ تھی، ایک صحابی حیر میں موٹا جوتا پہنے ہوئے تھے، اتفاق ایسا ہوا کہ ان کا بھیر جناب رسول اللہ ﷺ کے قدم مبارک پر پڑا اور اس سے آپ ﷺ کا بھیر مبارک روند گیا۔ جناب رسول اللہ ﷺ کے دست مبارک میں ایک کوڑا تھا، آپ ﷺ نے اس کوڑے کے کنارے سے ان کو مارا اور فرمایا: "أَوْجَعْتُ سِي" "تم نے مجھے تکلیف دی ہے۔" وہ صحابی فرماتے ہیں: میں نے رات کس طرح گزاری "قَبْتُ بِلَيْلَةٍ كَمَا يَعْلَمُ اللَّهُ" صبح ہوئی دیکھا ایک شخص میرا نام لے کر آواز لگا رہے ہے کہ فلاں شخص کہاں ہے؟ میں نے عرض کیا: وہ شخص میں ہی ہوں۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ رسول اللہ ﷺ آپ کو بلاتے ہیں۔ میں چل دیا اور دل میں گھبراہٹ تھی کہ دیکھئے کیا انجام ہوتا ہے: "فَانْطَلَقْتُ وَكُنَّا مُتَخَوِّفًا" چنانچہ میں پہنچا، آپ نے فرمایا کہ تم نے اپنے جوتے سے میرے بھیر کو روند دیا تھا اور میں نے تم کو کوڑا مارا تھا۔ یہ اتنی (۸۰) اونٹنیاں ہیں تم اس کے عوض ان کو لے لو اور جو تکلیف تم کو پہنچی ہے اس کو درگزر کرو۔

مذکورہ واقعہ پر غور کریں کہ رسول اللہ ﷺ کو اپنے صحابہ پر کس قدر شفقت تھی کہ محض اس معمولی کوڑے کے مار دینے سے اس قدر آپ کو احساس ہوا، اور اس کے عوض اتنی (۸۰) اونٹنیاں آپ ﷺ نے ان کو دیں، اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ آپ ﷺ صحابہ کرام کی کس قدر دلجوئی فرمایا کرتے تھے، اور ان کو خوش کرنے کی کس قدر کوشش کرتے تھے۔ ہمیں بھی یہ معاملہ اپنے اہل تعلق کے ساتھ کرنا چاہئے کہ کسی کو اگر کوئی ناگواری اور تکلیف ہم سے پہنچ جائے تو پھر اس کا دل خوش کرنے کی کوشش کی جائے۔

(ماہنامہ اہلحدیث، ۱۳۶۹ھ، ۱۹۹۷ء، صفحہ ۱۰)

### (۵۶) ایک قیمتی نصیحت: حضور اکرم ﷺ کا بیمار کی مزاج پرسی کا عجیب واقعہ

رسول اللہ ﷺ کی عادت شریفہ یہ بھی تھی کہ آپ بیمار لوگوں کی عیادت فرمایا کرتے تھے۔ خواہ کسی بھی درجہ کا بیمار ہوتا شریف اور معزز آدمی ہوتا یا غیر معزز اور معمولی سب کی عیادت فرماتے، حتیٰ کہ غیر مسلموں تک کی عیادت اور مزاج پرسی فرمایا کرتے تھے اور جس سے آپ کو بے حد اذیت اور تکلیف پہنچی اور جو آپ کا بہت بڑا دشمن تھا، یعنی رئیس النہدین عبداللہ بن ابی، اس تک کی آپ نے عیادت فرمائی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک یہودی لڑکا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا اور کبھی کبھار آپ اس سے کوئی کام بھی لے لیا کرتے تھے، وہ بیمار ہو گیا۔ سرکارِ دو عالم ﷺ اس کے پاس عیادت کے لئے تشریف لے گئے اور آپ ﷺ اس کے سر کے قریب بیٹھ گئے۔ اس لڑکے کا آخری وقت تھا، آپ نے ازراہ شفقت اور اپنے حق رسالت کو ادا کرتے ہوئے اس لڑکے کو اسلام کی تبلیغ فرمائی لڑکے نے اپنے یہودی باپ کی طرف دیکھا، باپ حقیقت دین محمدی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام سے واقف تھا ہی، اس لئے قبول اسلام کی اجازت دے دی اور وہ لڑکا مشرف باسلام ہو گیا اور اسلام پر اس کا خاتمہ ہوا۔ رسول اللہ ﷺ کو بے حد مسرت اور خوشی ہوئی اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے فرمایا: "الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَنَا مِنَ النَّارِ" غرض یہ کہ آپ ﷺ کی عادت مبارکہ کو اہل علم سے معلوم کر کے ہمیں اپنی زندگیوں میں لانا چاہئے۔ آپ کی ایک ایک سنت اور آپ کی ایک ایک ادا اللہ کو محبوب ہے، اور جو اس کو اختیار کرے گا یقیناً نص قرآنی ہے وہ اللہ کا محبوب ہوگا: "فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ" (سورۃ العنبر، آیت ۳۶) اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق دے۔ (ماہنامہ اہلحدیث، ۱۳۶۹ھ، ۱۹۹۷ء، صفحہ ۱۱)

### (۵۷) ایک قیمتی نصیحت: ہر نعمت اور مصیبت کے دونوں رُخ دیکھا کریں

ہم سے یہ عہد لیا گیا کہ ہر نعمت اور مصیبت کے دونوں رُخ دیکھا کریں۔ کسی نعمت یا مصیبت کی محض ظاہری صورت کو نہ دیکھیں

کیونکہ بعض دفعہ مصیبتوں کی شکل میں نعمتیں آتی ہیں اور بھی نعمتوں کی صورت میں بلائیں آ جاتی ہیں۔

اگر ہم نعمتوں کے باطنی رُخ کو دیکھیں گے تو ان کو طرح طرح کی آزمائشوں میں گھرا ہوا پائیں گے، کم از کم ایک بلا تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نعمت والے سے یہ مطالبہ فرماتے ہیں کہ اس نعمت کو کسی وقت بھی کسی مخلوق کی طرف سے منسوب نہ کرے کہ فلاں کی وجہ سے مجھ کو یہ نعمت ملی، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرے، اور اللہ تعالیٰ اس سے یہ بھی مطالبہ فرماتے ہیں کہ نعمت کو ان ہی مواقع میں صرف کرے جہاں اللہ تعالیٰ اس کے صرف کرنے کو پسند کرتے ہیں اور یہ مطالبہ بھی ہوتا ہے کہ نعمت کا شکر بجالائے محض زبان سے ہی نہیں بلکہ عمل سے بھی۔ اب جو شخص نعمت میں ان بلاؤں کا مشاہدہ کرتا ہو وہ ان سے لذت حاصل کرنے کی فرصت کب پائے گا۔

اسی طرح اگر ہم تکلیفوں اور مصیبتوں کے باطن پر نظر کریں تو ان کا اپنے حق میں بہت بڑی نعمت ہونا معلوم ہوگا کیونکہ ان سے ذلت و عاجزی پیدا ہوتی ہے اور ہمارا بازو جھک جاتا ہے اور سرکشی جاتی رہتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ”كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفٍ“ (سورۃ العلق: آیت ۷، ۸) ”کچھ نہیں، واقعی انسان سرکش بن جاتا ہے جب اپنے کو مستغنی دیکھتا ہے۔“ ان تکالیف و مصائب میں یہ بھی فائدہ ہے کہ ان سے درجے ملتے ہیں لیکن ان سے طاعات (عبادات) اور علوم و معارف میں عجب نہیں پیدا ہوتا۔

مصیبت سے انسان کی آزمائش اس وقت کی جاتی ہے جب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دربار خداوندی کی طرف اس کو متوجہ نہ کرتی ہوں، جب نعمتیں اس کو اللہ کی طرف متوجہ نہیں کرتیں تو اب اللہ تعالیٰ اس کو مصائب میں مبتلا کر دیتے ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں: ”وَلَوْلَا نُفُوهُم بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَهمُ يَرْجَعُونَ“ (سورۃ الاعراف: آیت ۱۶۸) ”اور ہم نے ان کو راحتوں اور مصیبتوں میں مبتلا کیا شاید اللہ کی طرف رجوع کریں۔“ یعنی ازل تو ان کو راحتوں اور نعمتوں میں رکھا جب ان سے رجوع نہ ہوئے تو مصائب و تکالیف میں مبتلا کر دیا۔ اور سیدی تاج الدین بن عطاء اللہ نے اس سے بھی زیادہ عجیب بات بیان کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ”جو گناہ ذلت و انکساری پیدا کر دے وہ اس اطاعت سے بہتر ہے جو غرور و تکبر پیدا کر دے۔“ (ماہنامہ المحور، ۱۳۱۹ ہجری مطابق ۱۹۹۷ء، صفحہ ۱۸)

## (۵۸) ایک قیمتی نصیحت دین کے کام کے ذریعے شہرت طلب کرنا کمر کو توڑ دیتا ہے

دنیا میں تصرف و کرامت کے ذریعہ سے اپنی شہرت کے طالب ہرگز نہ ہوں، کیونکہ جس کو اس بات کی خواہش ہوتی ہے اس کا دین برباد ہو جاتا ہے اور عالم آخرت میں خالی ہاتھوں پہنچتا ہے۔ مگر یہ کہ کوئی محض اللہ تعالیٰ کے ارادہ سے بغیر اپنی خواہش سے ظاہر اور مشہور ہو گیا ہو جیسا اولیاء کا طین کو پیش آتا ہے۔ سفیان بن عیینہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اگر اولیاء کا طین کو شہرت کی خواہش ہوتی تو ان کو کوئی بھی نہ پہچانتا۔ سیدی ابراہیم متبولی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ دنیا میں درویش کی حالت ایسی ہے جیسے کوئی پاخانہ میں بیٹھا ہو، اب اگر وہ آگے سے دروازہ بند کر لے گا تو پردہ کے ساتھ اپنی حاجت پوری کر لے گا، اور ڈھکا وہاں سے نکل جائے گا کہ کسی کی نظر اس کے عیبوں پر نہ پڑی ہوگی اور اگر دروازہ کھول کر بیٹھا تو اس کے عیب ظاہر ہو جائیں گے اور اس کے اندرونی جسم کا پردہ چاک ہو جائے گا اور جو کوئی دیکھے گا اس پر لعنت کرے گا۔

سید محمد عمری رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ ”ظہور اور شہرت کی طلب کمر توڑ دیتی ہے۔“ یاد رکھیں! اس کارخانہ دنیا میں کوئی ولی اور عالم ایسا نہیں جس کا دل شہرت سے کدرد نہ ہوا ہو، وہ شہرت کے بعد اس صدائے قلب کے ایک ذرہ کو ڈھونڈتے اور ترستے ہیں، جو شہرت سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے دل میں پاتے تھے، مگر اب نہیں پاسکتے، اسی لئے تمام عارفین اپنے ابتدائی احوال کی طرف مشاق ہوتے ہیں، اس کو خوب سمجھ لیں۔ (ماہنامہ المحور، ۱۳۱۹ ہجری مطابق ۱۹۹۷ء، صفحہ ۱۹)



(۵۹) صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سنت پر عمل کرتے تھے سنت سمجھ کر اور ہم سنت کو

چھوڑ دیتے ہیں سنت سمجھ کر، یہ کہتے ہوئے کہ سنت ہی تو ہے فرض تو نہیں ہے

شریعت کی رخصتوں (آسانیوں) پر بھی بعض اوقات شوق سے عمل کیا کریں، اپنا ضعف ظاہر کرنے کے لئے اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا مقام حاصل کرنے کے لئے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے ہاتھوں رخصت کا ظاہر کرنا بھی محبوب ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: "إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخْصَةٌ كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عِزًّا" "اللہ تعالیٰ رخصتوں پر عمل کرنے کو بھی یونہی پسند فرماتے ہیں جیسا کہ اصل احکام پر عمل کرنے کو پسند فرماتے ہیں۔"

مگر رخصت پر عمل کرتے ہوئے اس کی شرط کا لحاظ بھی ضروری ہے۔ وہ شرط یہ ہے کہ اصلی حکم پر عمل کرنے میں سخت مشقت کے قدرت نہیں ہو سکتی۔ لہذا جب تک عادتاً افضل کام پر آسانی سے قدرت ہو سکے اس وقت تک رخصتوں پر نہ اترنا چاہئے اور جب افضل اپنانے میں دشواری ہو تو مشقت برداشت کر کے اسی پر اڑنا بھی نہ چاہئے کیونکہ جو شخص اپنے نفس کی کمزوری اور عاجزی ظاہر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتے ہیں اور رحمت الہی اس کی طرف دوڑ کر آتی ہے۔

(۶۰) ایک عجیب واقعہ: ہار بھی ملا ہار والی بھی ملی

مکہ مکرمہ میں ایک عبادت گزار حاجی صاحب رہتے تھے۔ وہ کہیں جا رہے تھے راستہ میں ایک ریشمی تھیلی ملی، جس میں ایک قیمتی ہار تھا۔ بڑا قیمتی ہار ہے، ہیرے جواہرات اس میں جڑے ہوئے ہیں، یہ تو بہت قیمتی ہے اسے چھپالینا چاہئے، اللہ کا ڈر غالب آیا، اللہ کا خوف غالب آیا کہ بھائی! اللہ تو دیکھ رہا ہے، اگر اسے چھپالیا تو اللہ تو کہیں بھی پکڑ سکتا ہے، اور جہنم میں ڈال سکتا ہے، تو میں کیا کروں گا اس لئے اس کو چھپانے کی بجائے ملے کر لیا کہ مالک ملے گا تو میں مالک کے حوالہ کر دوں گا۔ اتفاق سے مالک بھی مل گیا کوئی تلاش کرتا پھر رہا ہے، بھائی! میرا ہار گم ہو گیا ہے، انہوں نے کہا بھائی! میرے پاس بھی ایک تھیلی ہے تم دیکھو تمہاری تو نہیں، اس نے دیکھا اور دیکھ کر پہچان لیا کہ ہاں! یہی میری تھیلی ہے، اور یہ میرا ہار ہے وہ بڑا خوش ہوا، تاجر نے اس کو پانچ سو اشرفیاں نکال کر انعام میں دیں، اس نے کہا مجھ کو انعام نہیں چاہئے، میں نے تو یہ جو کچھ کیا، اللہ کو خوش کرنے کے لئے کیا، اللہ کی رضا کے لئے کیا، تیرے انعام کے لئے نہیں کیا، اس نے بہت اصرار کیا اور کہا میں نے نیت کی تھی کہ اگر ہار مل جائے تو میں اس کے پانے والے کو اور لانے والے کو پانچ سو اشرفیاں دوں گا، اس لئے میں تم کو دے رہا ہوں، کہا کہ نہیں مجھ کو پانچ سو اشرفیاں نہیں چاہئیں، بہر حال وہاں سے وہ چلا گیا، اور اپنی بستی میں جا کے کہتا تھا کہ ایسا نیک آدمی نوجوان مجھ کو ملا، ایسا لڑکا اگر مجھ کو اپنے یہاں مل جاتا تو میں اپنی بیٹی کی شادی کر دیتا اور وہ اپنے یہاں کا بہت بڑا تاجر تھا۔

اب اللہ کی قدرت دیکھو، یہ نوجوان مکہ مکرمہ کا رہنے والا تھا، اس کو سفر پیش آیا، سمندری سفر۔ سفر میں چلے اچانک طوفان آیا، اور کشتی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ ایک تختہ کے اوپر یہ لیٹے ہوئے ہیں اور تختہ بہتا ہوا چل رہا ہے، تمام ساتھی ادھر ادھر ہو گئے، معلوم نہیں کہ کون ہلاک ہوا اور کون ڈوبا، کون بچا، بتتے ہوئے تختہ پر جا رہے ہیں، چلتے چلتے ایک کنارہ پر یہ تختہ رُکا، وہاں ایک بستی آباد تھی، بستی کے لوگ اتفاق سے آئے ہوئے تھے، جب دیکھا کہ کوئی بچا وہ مسافر تختہ کے اوپر بہ رہا ہے تو انہوں نے اُس کو نکال لیا اور نکال کر اپنی بستی میں لے گئے۔ وہاں بستی میں رکھا، ان کو ہوش آیا، کھلایا پلایا، آرام کرایا، کئی دن گزر گئے اور حالات معلوم کئے کہ یہ تو بڑے عالم ہیں، اور بڑی مہارت بھی ان کو ہے، حافظ بھی ہیں، اور عالم بھی اور بہت نیک صالح شخص ہیں۔ ان کو اپنے یہاں امام بنا لیا جائے اور اپنے بچوں کو پڑھانے پر مقرر کر لیا اور ان کی تنخواہ مقرر کر دی اور سب نے ان کو اپنا شیخ بھی بنا لیا اور اپنے سب کام ان کے مشورہ سے کرنے لگے۔

ان لوگوں نے سوچا کہ اتنا نیک آدمی مل گیا ہے، اتنا بڑا عالم یہ کسی طرح یہاں سے چلا نہ جائے، اس لئے ایسی شکل کرنی چاہئے کہ یہ ہماری بستی میں رہے، ایسے نیک آدمی کا بستی سے چلا جانا تو ٹھیک نہیں، اس کی کیا شکل ہو، اس کی شکل یہ ہے کہ ان کی یہاں شادی کر دو، شادی کے لئے سوچا فلاں لڑکی مناسب ہے۔ ایک بڑے تاجر کا انتقال ہوا، ان کی بیٹی بہت خوبصورت، بہت حسین اور جوان ہے، اسے رشتے کی ضرورت ہے، ان سے کہا کہ بھئی فلاں رشتہ طے کر دیا جائے، لڑکی سے پوچھا لڑکی بھی تیار ہوگئی، اس کے گھر والوں سے معلوم کیا وہ بھی تیار ہوگئے۔ جب دونوں کی شادی ہوگئی، اور یہ رات کو وہاں پہنچا اور بیوی سے ملاقات ہوئی تو دیکھا اس کے گلے میں وہی ہار پڑا ہوا ہے جو ہار ان کو مکہ مکرمہ میں ملا تھا اور انہوں نے اس تاجر کو واپس کر دیا تھا اور انعام لینے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ وہ تاجر کہتا تھا کہ اگر یہ مجھے میرے یہاں مل جاتا تو میں اس کی شادی اپنی بیٹی سے کر دیتا، اللہ تعالیٰ نے اس کی اس نیکی کی برکت سے اس تقویٰ اور پرہیزگاری کی برکت سے اتنا نوازا اتنا نوازا کہ تم نے ہمارے ڈر کی وجہ سے ہار واپس کیا ہے، اب ہم ہار بھی دیں گے اور ہار والی بھی دیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے وہ ہار بھی واپس کیا اور ہار والی بھی عطا کی، پھر یہ مکان اور کوٹھی بھی اور تجارت بھی اور جائیداد بھی۔ اس تاجر کی وہ تمامی تمام ملکیت اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کر دی۔ یہ ہے اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف جس دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے اور اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دُنیا میں بھی اس طرح نوازا ہے اور بھائی یہ تو دُنیا میں ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نوازیں گے۔ تو بھائی، ہم یہاں دُنیا میں رہتے ہوئے اصل یہ ہے کہ ہم اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف حاصل کریں، اس کی اطاعت و فرمانبرداری کریں اور نافرمانیوں سے پرہیز کریں، اور اسی کے اوپر اللہ کی مدد آتی ہے۔

### (۶۱) اختلاف اتحاد کو لے ڈوبتا ہے

اللہ کے بندوں کو باہم ایک دوسرے کا محبوب بنا دیں، لہذا ہماری یہ کوشش ہونی چاہئے کہ دو شخصوں کے درمیان بھی دشمنی اور کینہ ہرگز باقی نہ رہے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک کے سامنے دوسرے کی خوبیاں بیان کیا کریں اور ایک دوسرے کے متعلق یہ خبر دیا کریں کہ وہ تو مجلسوں میں تمہاری خوبیاں ظاہر کرتا ہے، نیز لوگوں کو اس بات کی تاکید کریں کہ باہم ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کریں۔

### (۶۲) جب کسی محفل میں لوگ ہماری تعریف کریں تو خاموش رہا کریں

جب کسی محفل میں لوگ ہماری تعریف کریں تو خاموش رہا کریں اور اس وقت یوں نہ کہیں کہ ہم تو سب سے کمتر ہیں یا لوگوں کی جوتیوں کی خاک ہیں وغیرہ وغیرہ۔ کیونکہ اس قسم کی باتیں تلبیسات نفس میں شمار کی گئی ہیں، اس قسم کی باتوں سے نفس کا نشا یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس وقت کی خاموشی سے میرے متعلق یہ گمان نہ کریں کہ مجھے اپنی تعریف سننے سے خوشی ہوئی ہے اور اگر وہ خاموشی ہی اختیار کر لے تو اس میں مجاہدہ زیادہ ہے۔ جو شخص نفس سے مغلوب ہو اس کو ایسا ہی کرنا لازم ہے۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ نے کسی بندہ پر فضل و کرم فرمایا ہو کہ نفس اس کے قبضہ میں اس طرح آ گیا جیسے گدھا سدا حانے سے قابو میں آ جاتا ہے تو اس کو اختیار ہے، چاہے جواب دے یا خاموش رہے۔

### (۶۳) اکتیس (۳۱) ہم نصیحتیں

① آنحضرت نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”جو آدمی نافرمانی کی ذلت سے نکل کر فرمانبرداری کی عزت کی طرف آجائے تو اللہ تعالیٰ:

① بغیر مال کے اس کو غنی بنا دیں گے۔

② بغیر لشکر کے اس کی مدد فرمائیں گے۔

③ بغیر خاندان کے اس کو عزت عطا فرمائیں گے۔

روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ ایک روز صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا: تم نے کس حال میں صبح کی؟ انہوں نے عرض کیا، ہم نے اس حال میں صبح کی کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں۔ حضور ﷺ نے پھر ارشاد فرمایا: تمہارے ایمان کی

علامت کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا:

① ہم تکلیف پر صبر کرتے ہیں۔ ② خوشحالی پر شکر کرتے ہیں۔ ③ تقدیر پر راضی رہتے ہیں۔

آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”رب کعبہ کی قسم! بے شک تم مومن ہو۔“

④ اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء علیہم السلام کی طرف اس طرح کی وحی بھیجی ہے۔

① جو شخص مجھ سے اس حال میں ملاقات کرے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہو، میں اس کو اپنی جنت میں داخل کروں گا۔

② جو شخص مجھ سے اس حال میں ملاقات کرے کہ وہ مجھ سے ڈرتا ہو، تو میں اس کو اپنی جہنم سے دور رکھوں گا۔

③ جو شخص مجھ سے اس حال میں ملاقات کرے کہ وہ مجھ سے حیا کرتا ہو، میں کرنا کاتبین (فرشتوں) کو اس کے گناہ بھلا دوں گا۔

④ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے منقول ہے:

① اللہ تعالیٰ نے تم پر جو چیزیں فرض فرمائی ہیں ان کو ادا کرو لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔

② اللہ تعالیٰ کی حرام فرمودہ چیزوں سے بچو، لوگوں میں سب سے زیادہ زاہد بن جاؤ گے۔

③ اللہ تعالیٰ نے تم کو جو کچھ عطا فرمایا اس پر راضی رہو، لوگوں میں سب سے زیادہ غنی بن جاؤ گے۔

④ حضرت صالح مرقدی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ وہ بعض مکانوں کے پاس سے گزرے، (مکانوں کو مخاطب کر کے) ارشاد فرمایا:

① تمہارے پہلے مالک کہاں چلے گئے؟ ② تمہارے پہلے آباد کرنے والے کہاں ہیں؟

③ تمہارے اندر پہلے رہنے والے کہاں ہیں؟

ہاتفِ غیبی نے آواز دی:

① ان کے نشانات مٹ گئے۔ ② ان کے جسم مٹی کے نیچے بوسیدہ ہو گئے۔

③ ان کے اعمال ان کی گردنوں میں ہار بنا کر ڈال دیئے گئے۔

④ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے:

① جس پر چاہو احسان کرو، پس تم اس کے امیر ہو۔ ② جس سے چاہو سوال کرو، پس تم اس کے غلام ہو۔

③ جس سے چاہو استغناء اختیار کرو، پس تم بھی اسی کے مثل (غنی) ہو۔

④ مصائب سے مت گھبرائیے اس لئے کہ ستارے اندھیروں میں ہی چمکتے ہیں۔

⑤ حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ عنہ سے منقول ہے: ان سے دریافت کیا گیا کہ تم نے کس چیز کی وجہ سے زہد کو اختیار کیا، ارشاد فرمایا: تمہاری چیزوں کی وجہ سے:

① میں نے دیکھا کہ قبر و حشت ناک جگہ ہے اور میرے پاس میرا کوئی مونس نہیں۔

② میں نے دیکھا کہ راستہ طویل ہے اور میرے پاس توشہ نہیں۔

③ میں نے دیکھا فیصلہ کرنے والا خدائے جبار ہے اور میرے پاس کوئی حجت نہیں۔

④ حضرت شلی سے منقول ہے، جو بڑے عارف ہیں، وہ (مناجات میں) کہا کرتے تھے:

① الہی! میں اپنی حاجت مندی اور ناتوانی کے باوجود پسند کرتا ہوں کہ اپنی تمام نیکیاں آپ کو بخش دوں، پس اے میرے آقا!

آپ کیسے پسند نہیں فرمائیں گے کہ میرے تمام گناہ بخش دیں حالانکہ آپ اے میرے سردار مجھ سے بے نیاز ہیں۔

① ان کا یہ بھی ارشاد ہے: جب تم اللہ تعالیٰ سے انس حاصل کرنا چاہو تو اپنے نفس سے وحشت اختیار کرو۔  
 ② اور یہ بھی ارشاد فرمایا: اگر تم وصال کی حلاوت چکے لو تو فراق کی کٹی پیمان سکتے ہو، مطلب یہ ہے کہ جو شخص وصال کی حلاوت سے نا آشنا ہے وہ فراق کی کٹی بھی نہیں سمجھ سکتا۔ کسی شاعر نے کہا ہے:

جس نے اسے یار پایا تازیت نہ پھر قرار پایا

① حضرت سفیان ثوری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے: ان سے دریافت کیا گیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ انس کیا چیز ہے؟ فرمایا یہ ہے کہ:  
 ① کسی حسین چہرہ ② حسین آواز ③ اور خوش بیان زبان کے ساتھ انس حاصل کرو۔  
 ④ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ انہوں نے ارشاد فرمایا: ”زہد“ کے تین حروف ہیں:

① زا ② ہا ③ دال

① پس زا سے مراد ہے زاد العاد، آخرت کا توشہ۔

② دال سے مراد، دوام علی الطاعت، اطاعت پر پختگی۔

ایک دوسرے مقام پر فرمایا، زہد کے تین حروف ہیں:

① زا سے مراد، ترک زینت، زینت کا ترک کر دینا۔

② دال سے مراد، ترک دنیا، دنیا کا ترک کر دینا۔

③ حضرت حامد سے منقول ہے کہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے ان سے وصیت کرنے کی درخواست کی۔ انہوں نے جواب دیا، اپنے دین کے لئے غلاف بنا لینا، جس طرح قرآن پاک کے لئے غلاف ہوتا ہے۔ ان سے سوال کیا گیا، دین کا غلاف کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا:

① ترک کلام مگر بضرورت ② ترک دنیا مگر حسب ضرورت ③ ترک اختلاط مگر بقدر ضرورت

فائدہ: مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے قرآن پاک کی حفاظت کے لئے غلاف کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح دین کی حفاظت کے لئے بھی غلاف کی ضرورت ہے اور وہ غلاف یہ تین چیزیں ہیں کہ ان تینوں چیزوں کو بالکل کر دیا جائے کہ ان تینوں سے ہی زیادہ تر دین کا نقصان ہوتا ہے، صرف بقدر ضرورت کہ اس کے بغیر چارہ ہی نہ ہو اختیار کیا جائے۔ پھر جان لو کہ اصل زہد یہ تین چیزیں ہیں:

① حرام چیزوں سے اجتناب وہ چھوٹی ہوں یا بڑی۔

② تمام فرائض کی ادائیگی وہ آسان ہوں یا دشوار۔

③ دنیا کو اہل دنیا پر چھوڑ دینا وہ قلیل ہو یا کثیر۔

④ حضرت لقمان حکیم سے منقول ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی، بیٹا انسان کے تین حصے ہیں:

① ایک حصہ اللہ کے لئے۔ (اللہ کا حصہ اس کی روح ہے)۔

② ایک حصہ اس کے نفس کے لئے۔ (اس کے نفس کے لئے اس کا عمل ہے)۔

③ ایک حصہ کٹرے کھوڑوں کے لئے۔ (کٹرے کھوڑوں کے لئے اس کا جسم ہے)۔

④ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے منقول ہے، انہوں نے ارشاد فرمایا: تین چیزیں حفظ کو بڑھاتی ہیں اور بلغم کو دور کرتی ہیں:

① مسواک ② روزہ ③ تلاوت قرآن پاک

④ حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ سے منقول ہے: مومنوں کے لئے شیطان سے حفاظت کے تین قلعے ہیں:

① مسجد ایک قلعہ ہے۔  
 ② ذکر اللہ ایک قلعہ ہے۔  
 ③ تلاوت قرآن ایک قلعہ ہے۔  
 ④ بعض علماء سے منقول ہے: انہوں نے فرمایا، تین چیزیں اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے ہیں کہ وہ چیزیں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں ہی کو عطا فرماتے ہیں:

① فقر (کہ اس کے ذریعہ بہت سے گناہوں اور ذنوب کی کالیف سے انسان محفوظ رہتا ہے)۔  
 ② مرض (کہ اس کے ذریعہ بہت سے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں)۔  
 ③ صبر (کہ رفع درجات کا سبب ہے)۔  
 ④ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ ان سے سوال کیا گیا:

① بہترین دن کون سا ہے؟  
 ② بہترین مہینہ کون سا ہے؟  
 ③ بہترین عمل کون سا ہے؟  
 انہوں نے جواب دیا:

① بہترین دن جمعہ کا دن ہے۔  
 ② بہترین مہینہ رمضان کا مہینہ ہے۔  
 ③ بہترین عمل پانچ وقت کی نماز ان کے وقت پر ادا کرنا ہے۔  
 اس کی خبر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو پہنچی کہ ان سے یہ سوال کیا گیا تھا اور انہوں نے یہ جواب دیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر مشرق و مغرب کے درمیان تمام علماء حکماء اور فقہاء سے یہ سوال کیا جائے تو وہ سب بھی یہی جواب دیں گے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جواب دیا مگر ایک بات اور کہتا ہوں:

① بہترین عمل وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ قبول کر لے۔  
 ② بہترین مہینہ وہ ہے جس میں تم اللہ تعالیٰ سے کامل توبہ کر لو۔  
 ③ بہترین دن وہ ہے جس دن تم دنیا سے اللہ تعالیٰ کے پاس ایمان کی حالت میں نکل جاؤ۔  
 شاعر نے کہا ہے:

کیا تو نہیں دیکھتا کس طرح ہم کو روز و شب آزار ہے ہیں اور ہم ظاہر و باطن میں کھینے میں مشغول ہیں، ہرگز دنیا اور اس کی نعمتوں کی طرف مائل مت ہو، اس لئے کہ اس کا وطن اصل وطن نہیں ہے، اور مرنے سے پہلے پہلے اپنے لئے عمل کر لے، پس دوستوں اور بھائیوں کی کثرت تجھ کو دھوکہ میں نہ ڈال دے۔

منقول: جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو:

① اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا فرمایا ہے۔  
 ② اپنے نفس کے عیوب کو دیکھنے والا بنا دیتا ہے۔  
 ③ دنیا سے بے رغبت بنا دیتا ہے۔  
 ④ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے منقول ہے:

① لوگوں کے ساتھ حسن محبت سے پیش آنا نصف عمل ہے۔  
 ② حسن تدبیر آدمی معیشت ہے۔  
 ③ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو محبوب رکھتا ہے۔

④ جو شخص دنیا کو ترک کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو محبوب رکھتا ہے۔  
 ⑤ جو شخص گناہوں کو ترک کر دے فرشتے اس کو محبوب رکھتے ہیں۔  
 ⑥ جو شخص مسلمانوں سے طمع ختم کر لے مسلمان اس کو محبوب رکھتے ہیں۔

⑦ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے:

① دنیا کی نعمتوں میں سے نعمت اسلام کافی ہے۔ ② مشاغل میں سے حقل عبادت کافی ہے۔

③ عبرت کی چیزوں میں سے موت عبرت کے لئے کافی ہے۔

④ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے منقول ہے:

① کتنے لوگ ہیں کہ ان پر نعمت کئے جانے کی وجہ سے وہ گناہوں میں مبتلا ہو گئے ہیں، (اگر اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوتا تو ہم سے یہ نعمت چھین لی جاتی) معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس حالت سے خوش ہے، اس لئے وہ بدستور گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں۔

② کتنے لوگ ہیں جو اپنی تعریف کئے جانے کی وجہ سے فتنے میں مبتلا ہو گئے ہیں، یعنی خوشامدی قسم کے لوگ جو تعریف کرتے ہیں اس سے فتنے میں مبتلا ہو گئے کہ اگر ہم کسی قابل نہ ہوتے تو لوگ ہماری تعریف کیوں کرتے، اس لئے بدستور اپنی بد حالی میں مبتلا رہتے ہیں اور اپنی اصلاح کی کوئی فکر نہیں کرتے۔

③ کتنے لوگ ہیں جو اپنے عیوب پر پردہ پوشی کی وجہ سے فریب میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پردہ پوشی فرمانے کی وجہ سے لوگ عزت و اکرام کا معاملہ کرتے ہیں، جس سے اپنے آپ کو عند اللہ مقبول سمجھتے ہیں، یہ نہیں سمجھتے کہ اگر اللہ تعالیٰ پردہ پوشی نہ فرماتے تو کوئی بات کرنا گوارا نہ کرتا۔

④ حضرت داؤد علیہ السلام سے منقول ہے کہ انہوں نے ارشاد فرمایا ہے۔ زبور میں وحی کی گئی ہے کہ عقلمند پر لازم ہے کہ تین چیزوں کے علاوہ کسی چیز میں مشغول نہ ہو:

① آخرت کے لئے توشہ کی تیاری۔ ② کسب معاش۔ ③ حلال کے ذریعہ طلب لذت۔

④ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی منقول ہے:

① تین چیزیں نجات دینے والی ہیں۔ ② تین چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں۔

③ تین چیزیں بلندی درجات کا ذریعہ ہیں۔ ④ تین چیزیں گناہوں کے کفارہ کا ذریعہ ہیں۔

تین نجات دینے والی چیزیں:

① سِرّاً وَعَلَانِيَةً "ظاہر و باطن" میں اللہ تعالیٰ کا خوف (کہ خلوت و جلوت میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے)۔

② تنگدستی و خوشحالی میں میانہ روی (ایسا نہ ہو کہ خوشحالی میں اسراف میں مبتلا ہو جائے)۔

③ رضامندی و ناراضگی میں عدل و انصاف (ایسا نہ ہو کہ کسی سے ناراض ہو تو اس کے بارے میں انصاف بھی نہ کرے جیسا کہ عموماً ہوتا ہے)۔

تین ہلاک کرنے والی چیزیں:

① شدت کُل (کہ حقوق واجبہ بھی ادا نہ کرے)۔

② ہوائے نفسانی جس کا اتباع کیا جائے (کہ ہوائے نفسانی میں حدود شرع کی بھی پروا نہ کرے)۔

③ خود پسندی (کہ دوسروں کو حقیر سمجھنے لگے)۔

تین درجات بلند کرنے والی چیزیں:

① سلام کو عام کرنا (کہ ہر مسلمان کو سلام کرے خواہ اس سے تعارف ہو یا نہ ہو)۔ ② کھانا کھلانا (حسب وسعت)۔

۴ رات کے وقت جب لوگ سوئے ہوں نماز پڑھنا (یعنی تہجد کی نماز پڑھنا)۔

فائدہ: سلام کرنے سے:

- ۱ دل کی کدورتیں ختم ہو جاتی ہیں۔
  - ۲ باہم الفت و محبت پیدا ہوتی ہے۔
  - ۳ کبر ختم ہو جاتا ہے۔
  - ۴ کبر سے پیدا ہونے والی برائیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔
  - ۵ سلام ایک جامع دُعا ہے۔ سلام کو عام کرنے سے ایک دوسرے کے لئے دُعاؤں کا سلسلہ عام ہو جاتا ہے۔
- کھانا کھلانے سے:

- ۱ رنجش ختم ہو جاتی ہے۔
  - ۲ باہم الفت و محبت پیدا ہو جاتی ہے۔
  - ۳ بخل ختم ہو جاتا ہے۔
  - ۴ بخل سے پیدا ہونے والی برائیاں (حقوق واجبہ ادا نہ کرنا وغیرہ ختم ہو جاتی ہیں)۔
- رات کے وقت نماز پڑھنا:

- ۱ اخلاص پیدا کرتا ہے جو ہر عمل کی جان ہے۔
  - ۲ اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، جس سے ہر نیکی کی رغبت اور معاصی سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔
  - ۳ جو شخص نماز تہجد کی پابندی کرتا ہے دیگر نمازوں کی پابندی بدرجہ اولیٰ کرتا ہے۔
- تین گناہوں کا کفارہ کر دینے والی چیزیں:

- ۱ سردی میں وضو کامل کرنا۔
  - ۲ باجماعت نماز کے لئے قدم اٹھا کر چلنا۔
  - ۳ نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا۔
- حضرت جبرئیل علیہ السلام کی نصیحت:

حضرت جبرئیل علیہ السلام نے آنحضرت ﷺ کو تین نصیحتیں فرمائیں:

- ۱ جتنا چاہے زندہ رہو آخر کو مرنا ہے۔
- ۲ جس سے چاہے دوستی کر لو آخر اس سے جدا ہونا ہے۔
- ۳ جو چاہے عمل کرو آخر کار اس کا بدلہ ملنا ہے۔

فائدہ: مطلب یہ ہے کہ جب آخر کو مرنا ہی ہے تو اس کے لئے تیاری کرنا چاہئے اور جب ہر دوست سے جدا ہونا ہی ہے تو اس ذات سے تعلق قائم کرنا چاہئے جس سے کبھی جدائی نہیں ہوگی، یعنی حق تعالیٰ شانہ سے۔

عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے:

عشق بامردہ نبا شد پائیدار عشق راباتی و باقیوم دار  
اور جب ہر عمل کا بدلہ ملنا ہے، یعنی نیک عمل کا اچھا بدلہ اور برے عمل کا برا بدلہ تو ہر نیکی کی کوشش کرنا چاہئے اور ہر برائی سے پرہیز کرنا چاہئے۔

۴ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دریافت کیا تمہارا آپ کو اللہ تعالیٰ نے کس چیز کی وجہ سے غلیل بنایا؟ ارشاد فرمایا: تین چیزوں کی وجہ سے:

- ۱ میں نے اللہ کے حکم کو اس کے غیر کے حکم پر اختیار کیا۔
- ۲ جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے میرے لئے ذمہ لیا ہے میں نے اس کی فکر نہیں کی۔
- ۳ مہمان کے بغیر صبح یا شام کا میں نے کبھی کھانا نہیں کھایا۔

تمن چیزیں رنج و غم کو دور کرتی ہیں:

- ① اللہ تعالیٰ کا ذکر۔  
② اولیاء اللہ کی ملاقات۔  
③ عقلمندوں کا کلام۔

④ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے:

- ① جس کو ادب نہیں اس کو علم نہیں۔  
② جس کو صبر نہیں اس کو دین نہیں۔

③ جس کے لئے پرہیزگاری نہیں اس کے لئے قرب خداوندی نہیں۔

فائدہ: مطلب یہ ہے کہ علم کا تقاضا ادب ہے کہ ہر کسی کے ساتھ اس کے مناسب ادب سے پیش آئے، اگر کسی شخص میں علم کے باوجود ادب نہیں تو یہ کہا جائے گا کہ گویا علم ہی نہیں۔

اسی طرح دین کے اندر خلاف مزاج باتوں پر صبر کرنا چاہئے، اگر کسی کے اندر صبر نہیں تو اس کا دین پختہ اور کامل نہیں۔

اسی طرح اللہ کا قرب پرہیزگاری کے بقدر ہوگا، اگر کسی میں پرہیزگاری نہیں تو اللہ کا قرب بھی اس کو حاصل نہیں۔

منقول ہے کہ ایک اسرائیلی شخص تحصیل علم کے لئے نکلا، اس کی خبر ان کے نبی کو پہنچی اور انہوں نے اس شخص کو طلب کیا۔ وہ شخص حاضر ہوا تو انہوں نے اس سے فرمایا: اے جوان! میں تجھ کو تین چیزوں کی نصیحت کرتا ہوں، ان میں اولین و آخرین کا علم ہے۔

① ظاہر و باطن میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔

② اپنی زبان کو مخلوق سے روک لینا اور خیر ز کے بغیر ان کا ذکر نہ کرنا۔

③ جو کھانا کھاؤ خیال رکھنا کہ وہ حلال ہو۔

پس وہ جوان سفر سے ڈک گیا۔

فائدہ: یعنی تین چیزوں میں تمام علم جمع ہو گیا، پھر مزید کیوں وقت ضائع کروں۔

منقول ہے کہ ایک اسرائیلی شخص نے علم کے اتنی (۸۰) صندوق جمع کئے اور اس علم سے فائدہ حاصل نہیں کیا یعنی اس پر عمل نہیں کیا،

اللہ تعالیٰ نے ان کے نبی کے پاس وحی بھیجی کہ تو جتنا چاہے علم جمع کر لے جب تک تین چیزوں پر عمل نہ کرے تجھ کو کوئی نفع نہیں ہوگا۔

وہ تین چیزیں یہ ہیں:

① دنیا سے محبت نہ کرے، اس لئے کہ وہ مومنین کا گھر نہیں۔

② شیطان کی ہم نشینی اختیار نہ کرے، اس لئے کہ وہ مومنین کا رفیق نہیں۔

③ کسی کو ایذا نہ پہنچائے، اس لئے کہ یہ مومنین کا پیشہ نہیں۔

④ ابوسلیمان درانی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ وہ مناجات میں کہا کرتے تھے:

① الہی! اگر تو مجھ سے میرے گناہ کا مطالبہ کرے گا تو میں تجھ سے تیری معافی کو طلب کروں گا۔

② اگر تو میرے عمل کا مطالبہ کرے گا تو میں تجھ سے تیری سخاوت کو طلب کروں گا۔

③ اگر تو مجھ کو جہنم میں داخل کرے تو میں جہنمیوں کو خبردار کروں گا کہ مجھ کو تجھ سے محبت ہے۔ (تاکہ جہنمیوں کو محبت خدا کا حال معلوم

ہو کر کچھ تسلی ہو)۔

منقول: جس شخص کو تین چیزیں حاصل ہیں وہ سعادت مند ہے۔



① جانے والا دل۔ ② صبر کرنے والا بدن۔ ③ اپنے پاس جو موجود ہو اس پر قناعت۔

④ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منقول ہے کہ پہلے لوگ جو ہلاک ہوئے وہ تین باتوں کی وجہ سے ہلاک ہوئے:

① فضول کلام ② زیادہ کھانا ③ زیادہ سونا

فائدہ: جب فضول کلام ہوگا تو غیبت، چغلی وغیرہ ہوگی۔ زیادہ کھانے سے زیادہ شہوت پیدا ہوگی اور زیادہ سونے سے سستی کا ہلی پیدا ہوتی ہے۔

④ حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، اس شخص کے لئے مہار کباب ہے جو یہ تین کام کرے:

① جو دنیا کو چھوڑ دے اس سے پہلے کہ دنیا اس کو چھوڑ دے۔

② جو قبر میں داخل ہونے سے پہلے قبر کو (نیک اعمال کے ذریعہ) آراستہ کر لے۔

③ اپنے رب سے ملاقات سے پہلے اس کو راضی کر لے۔

④ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ جس کے پاس تین چیزیں نہیں اس کے پاس کچھ بھی نہیں: وہ تین چیزیں یہ ہیں:

① اللہ تعالیٰ کی سنت ② رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ③ اولیاء اللہ کی سنت

دریافت کیا گیا، اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے؟ ارشاد فرمایا: راز کا چھپانا۔ عرض کیا گیا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ ارشاد فرمایا:

لوگوں کے ساتھ نرمی و مہربانی سے پیش آنا۔ عرض کیا گیا: اولیاء اللہ کی سنت کیا ہے؟ ارشاد فرمایا: لوگوں کی تکالیف کو برداشت کرنا۔

پہلے زمانہ کے لوگ ایک دوسرے کو تین چیزوں کی وصیت کیا کرتے تھے اور آپس میں ایک دوسرے کو لکھ کر دیا کرتے تھے۔ وہ تین

چیزیں یہ ہیں:

① جو شخص اپنی آخرت کے لئے عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دین اور دنیا دونوں کی کفایت فرمادیتے ہیں۔

② جو شخص اپنے باطن کو درست کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ظاہر کو بھی درست کر دیتا ہے۔

③ جو شخص اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان معاملہ صحیح کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اور لوگوں کے درمیان معاملہ کو بھی صحیح کر دیتا ہے۔

④ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے:

① اللہ کے نزدیک لوگوں میں سب سے بہترین بن کر رہو۔ ② اپنے نفس کے نزدیک لوگوں میں سب سے بدترین بن کر رہو۔

③ لوگوں کے نزدیک ایک عام انسان بن کر رہو۔

منقول: حضرت عزیز نبی علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

① اے عزیز! جب تم چھوٹا گناہ کرو، اس کے چھوٹے ہونے کو نہ دیکھو بلکہ اس کو دیکھو جس کا گناہ کیا ہے۔

② جب تم کو معمولی خیر پہنچے اس کے معمولی ہونے کو نہ دیکھو بلکہ اس کو دیکھو جس نے وہ تم کو عطا کیا ہے۔

③ جب تم کو کوئی تکلیف پہنچے۔ میری مخلوق سے میری شکایت نہ کرو، جس طرح جب تمہارے گناہ مجھ تک پہنچتے ہیں تو میں اپنے

فرشتوں سے تمہاری شکایت نہیں کرتا۔

④ حضرت حاتم رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ: ہر روز صبح ہوتی ہے تو شیطان مجھ سے کہتا ہے:

① تو کیا کھائے گا؟ ② کیا پہنے گا؟ ③ کہاں رہے گا؟

میں اس کو جواب دیتا ہوں:

### (۶۴) چھ لاکھ سیٹوں والا ہوائی جہاز

تفسیر ابن کثیر میں ہے تحت سلیمان علیہ السلام جو ہوا پر چلتا تھا اس کی کیفیت یہ بیان کی ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے لکڑی کا ایک بہت وسیع تخت بنوایا تھا، جس پر خود مع اعیان سلطنت اور مع لشکر اور آلات حرب کے سب سوار ہو جاتے، پھر ہوا کو حکم دیتے وہ اس عظیم الشان وسیع و عریض تخت کو اپنے کانٹوں پر اٹھا کر جہاں کا حکم ہوتا وہاں جا کر اُتار دیتی تھی۔ یہ ہوائی تخت صبح سے دوپہر تک ایک مہینہ کی مسافت طے کرتا تھا، اور دوپہر سے شام تک ایک مہینہ کی یعنی ایک دن میں دو مہینوں کی مسافت ہوا کے ذریعے طے ہو جاتی تھی۔

ابن ابی حاتم نے حضرت سعید بن جبیر سے نقل کیا ہے کہ اس تخت سلیمانی پر چھ لاکھ کرسیاں رکھی جاتی تھیں، جس میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اہل ایمان انسان سوار ہوتے تھے اور ان کے پیچھے اہل ایمان جن بیٹھے تھے، پھر پرندوں کو حکم ہوتا کہ وہ اس پورے تخت پر شاہہ کر لیں تاکہ آفتاب کی تپش سے تکلیف نہ ہو۔ پھر ہوا کو حکم دیا جاتا تھا وہ اس عظیم الشان مجمع کو اٹھا کر جہاں کا حکم ہوتا پہنچا دیتی تھی۔ اور بعض روایات میں ہے کہ اس ہوائی سفر کے وقت پورے راستہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام سر جھکائے ہوئے اللہ کا ذکر و شکر میں مشغول رہتے تھے، دائیں بائیں کچھ نہ دیکھتے تھے، اور اپنے عمل سے تواضع کا اظہار فرماتے تھے۔ (ابن کثیر بحوالہ معارف القرآن، جلد ۶، صفحہ ۲۱۲)

### (۶۵) دعوت کا کام فرض ہے یا واجب یا سنت؟

بخندمت حضرت مولانا صاحب!

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

بعد سلام عرض یہ ہے کہ دعوت کا کام فرض ہے یا واجب یا سنت؟

اگر امت میں فرائض چھوٹ رہے ہیں تو دعوت کا کام فرض ہے، اگر واجبات چھوٹ رہے ہیں تو دعوت کا کام واجب ہے، اگر سنتیں چھوٹ رہی ہیں تو دعوت کا کام سنت ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کریں کہ امت اس وقت کیا چھوڑ رہی ہے اور اپنے دل سے فتویٰ لیں۔

### (۶۶) جنت کے ہوائی جہازوں میں سونے کی کرسیاں ہوں گی

حدیث میں ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: اس کی قسم! جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ جب جنتی اپنی قبروں سے نکلیں گے، ان کا استقبال کیا جائے گا اور ان کے لئے پروں والی اونٹیاں لائی جائیں گی، جن پر سونے کے کجاوے ہوں گے۔ ان کی جوتیوں کے تھے نور سے چمک رہے ہوں گے۔ یہ اونٹیاں ایک ایک قدم اس قدر زور رکھتی ہیں جہاں تک انسان کی نگاہ جاسکتی ہے۔ جنتی ایک درخت کے پاس پہنچیں گے، جس کے نیچے سے دو نہریں نکلتی ہیں، ایک نہر کا پانی یہ پئیس گے جس سے ان کے پیٹ کے تمام فضلات اور میل کچل دھل جائیں گے۔ دوسری نہر سے یہ غسل کریں گے پھر ہمیشہ تک ان کے بدن میلے نہ ہوں گے، ان کے بال پراگندہ نہ ہوں گے اور ان کے جسم اور چہرے بارونق رہیں گے۔ اب یہ جنت کے دروازوں پر آئیں گے، دیکھیں گے کہ ایک کنڈا سرخ یا قوت کا ہے جو سونے کی تختی پر آویزاں ہے۔ یہ اسے ہلائیں گے تو ایک عجیب سریلی اور موسیقی کی صدا پیدا ہوگی، اسے سنتے ہی ہر حور جان لے گی کہ اس کے خاوند آگئے۔ یہ داروغہ کو حکم کرے گی کہ جاؤ دروازہ کھولو، وہ دروازہ کھول دے گا۔ یہ اندر قدم رکھتے ہی اس داروغہ کو نورانی شکل دیکھ کر سجدے میں گر جائے گا، لیکن وہ اسے روک لے گا اور کہے گا: ایسا سر اٹھاؤ تو تیرا ماتحت ہوں، اور اسے اپنے ساتھ لے چلے گا۔ جب یہ اس دریا قوت کے خیمے کے پاس پہنچے گا جہاں اس کی حور ہے وہ بے تابانہ دوڑ کے خیمے سے باہر آجائے گی اور بغل گیر ہو کر کہے گی: تم میرے محبوب ہو اور میں

تمہاری چاہنے والی ہوں، میں یہاں ہمیشہ رہنے والی ہوں، مروں کی نہیں، میں نعمتوں والی ہوں، فقر محتاجی سے دور ہوں، میں آپ سے ہمیشہ راضی، خوش رہوں گی، کبھی ناراض نہیں ہوں گی، میں ہمیشہ آپ کی خدمت میں حاضر رہنے والی ہوں، کبھی ادھر ادھر ہوں گی نہیں۔ پھر یہ گھر میں جائے گا، جس کی چھت فرش سے ایک لاکھ ہاتھ بلند ہوگی، اس کی کل دیواریں قسم قسم کے اور رنگ رنگ موتیوں کی ہوں گی، اس گھر میں ستر تخت ہوں گے اور ہر تخت پر ستر ستر جوڑے ہوں گے، اور ان سب حلوں کے نیچے سے ان کی پنڈلی کا گودا نظر آتا ہوگا، ان کے ایک جماع کا انداز ایک پوری رات کا ہوگا، ان کے باغوں اور مکانوں کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی جن کا پانی کبھی بد بو دار نہیں ہوتا، صاف شفاف موتی جیسا پانی ہے۔

اور دودھ کی نہریں ہوں گی جس کا مزہ کبھی نہیں بدلتا، جو دودھ کسی جانور کے تھن سے نہیں نکلا۔ اور شراب کی نہریں ہوں گی جو نہایت لذیذ ہوگی اور خالص شہد کی نہریں ہوں گی جو مکھیوں کے پیٹ سے حاصل شدہ نہیں۔ قسم قسم کے میووں سے لدے ہوئے درخت اس کے چاروں طرف ہوں گے جن کا پھل ان کی طرف جھکا ہوا ہوگا، یہ کھڑے کھڑے پھل لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں، اگر یہ بیٹھے بیٹھے پھل توڑنا چاہیں تو شاخیں اتنی جھک جائیں گی کہ یہ توڑ لیں، اگر یہ لپٹے لپٹے پھل لینا چاہیں تو شاخیں اور جھک آئیں گی۔ پھر آپ ﷺ نے آیت ”وَدَاكِيَةٌ عَلَيْهِمْ ظِلُّهُمَا مِنَ الشَّجَرِ الْمُنْتَجِبِ“ یعنی ان جنتی درختوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے اور اس کے میوے بہت قریب کر دیئے جائیں گے۔ یہ کھانا کھانے کی خواہش کریں گے تو سفید رنگ یا سبز رنگ پرندان کے پاس آ کر اپنا پورا دنچا کر دیں گے، یہ جس قسم کا اس کے پہلو کا گوشت چاہیں کھائیں گے، پھر وہ زندہ کا زندہ جیسا تھا، ویسا ہی ہو کر اڑ جائے گا۔ فرشتے ان کے پاس آئیں گے، سلام کریں گے اور کہیں گے کہ یہ جنتیں ہیں جن کے تم اپنے اعمال کے باعث وارث بنائے گئے ہو۔ اگر کسی حور کا ایک بال زمین پر آ جائے تو وہ اپنی چمک سے اور اپنی سیاهی سے نور کو روشن کرے اور سیاهی نمایاں رہے۔ (تفسیر ابن کثیر، جلد ۴، صفحہ ۴۴۷)

### (۶۷) جنت کا درخت جس کی جڑ میں سے دو نہریں نکلتی ہیں

ابن ابی حاتم میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول مروی ہے کہ جنت کے دروازے پر پہنچ کر جنتی ایک درخت کو دیکھیں گے جس کی جڑ میں سے دو نہریں نکلتی ہوں گی۔ ایک میں وہ غسل کریں گے جس سے اس قدر پاک صاف ہو جائیں گے کہ ان کے جسم اور چہرے چمکنے لگیں گے، ان کے بال گنگھی کئے ہوئے، تیل والے ہو جائیں گے کہ پھر کبھی سلجھانے کی ضرورت ہی نہ پڑے، نہ چہرے اور جسم کا رنگ روپ ہلکا پڑے۔ پھر یہ دوسری نہر پر جائیں گے گویا کہ ان سے کہہ دیا گیا ہو اس میں سے پانی پییں گے جن سے تمام گھن کی چیزوں سے پاک صاف ہو جائیں گے۔ جنت کے فرشتے انہیں سلام کریں گے، مبارکباد پیش کریں گے اور انہیں جنت میں جانے کو کہیں گے کہ آپ خوش ہو جائیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے طرح طرح کی نعمتیں مہیا کر رکھی ہیں، ان میں سے کچھ بھاگے دوڑے جائیں گے۔

اور جو حوریں اس جنتی کے لئے مخصوص ہیں ان سے کہیں گے: لو مبارک ہو! فلاں صاحب آگئے۔ نام سنتے ہی خوش ہو کر وہ پوچھیں گی کہ کیا تم نے خود انہیں دیکھا ہے، وہ کہیں گے: ہاں! ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ رہے ہیں۔ یہ مارے خوشی کے دروازے پر آ کھڑی ہوں گی، جنتی جب اپنے محل میں آ کر دیکھے گا کہ گدے برابر برابر لگے ہوئے ہیں، اور آنخو رہے رکھے ہوئے ہیں، اور قالین بچھے ہوئے ہیں، اس فرش کو ملاحظہ فرما کر اب جو دیواروں کی طرف نظر کرے گا تو وہ سرخ و سبز اور زرد و سفید اور قسم قسم کے موتیوں کی بنی ہوئی ہوں گی، پھر چھت کی طرف نگاہ اٹھائے گا تو وہ اس قدر شفاف اور مصفا ہوگی کہ نور کی طرح چمک دمک رہی ہوگی، جس کی روشنی آنکھوں کی روشنی کو بھادے، اگر اللہ اسے برقرار نہ رکھے۔ پھر اپنی بویوں پر یعنی جنتی حوروں پر محبت بھری نگاہ ڈالے گا، پھر اپنے تختوں میں سے جس پر اس کا جی چاہے بیٹھے گا اور کہے گا: اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں ہدایت کی، اگر اللہ ہمیں یہ راہ نہ دکھاتا تو ہم تو ہرگز اسے تلاش نہیں کر سکتے تھے۔ (تفسیر ابن کثیر، جلد ۴، صفحہ ۴۴۷)

## (۶۸) مندرجہ ذیل کلمات پڑھ لیجئے اور چھ بڑی بڑی فضیلتیں حاصل کر لیجئے

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ اسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ بِيَدِهِ  
الْخَيْرُ يَحْيَى وَيُومِتُّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

حضور اکرم ﷺ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے فرمایا: اے عثمان! جو شخص اسے صبح کو دس بار پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اسے چھ فضائل عطا فرماتا ہے:

- ① وہ شیطان اور اس کے لشکر سے بچ جاتا ہے۔
- ② اسے ایک قطارا جرماتا ہے۔
- ③ اس کا ایک درجہ جنت میں بلند ہوتا ہے۔
- ④ اس کا خورعین سے نکاح کرا دیا جاتا ہے۔
- ⑤ اس کے پاس بارہ فرشتے آتے ہیں۔
- ⑥ اسے اتنا ثواب دیا جاتا ہے جیسے کسی نے قرآن اور تورات اور انجیل و زبور پڑھی، پھر ساتھ ہی اسے ایک قبول شدہ حج اور ایک مقبول عمرہ کا ثواب ملتا ہے اور اگر اسی دن اس کا انتقال ہو جائے تو شہادت کا درجہ ملتا ہے۔ (تفسیر ابن کثیر، جلد ۲، ص ۴۳۹)

## (۶۹) رسول اللہ ﷺ کی خانگی زندگی

رسول اللہ ﷺ خداہ الہی و امی کی زندگی کی ہر گوشہ انسانیت کے لئے نمونہ واسوہ ہے، اس لئے اللہ کی مشیت نے اس کا انتظام کیا کہ آپ ﷺ کی زندگی کا ہر گوشہ محفوظ اور آئینہ کی طرح شفاف ہو۔

دنیا کا ہر انسان اپنی خانگی زندگی کو راز رکھنا چاہتا ہے، مگر محمد رسول اللہ ﷺ کا یہ اعجاز ہے کہ آپ کی طرف سے اس بات کی عام اجازت بلکہ ترغیب تھی کہ آپ کے اندرون خانہ کے حالات و کوائف کو بھی عام کیا جائے اور اس سے سبق حاصل کیا جائے اور یہی سبب ہے کہ آپ ﷺ کی ذات کی ایسی دقیق ترین تفصیلات ریکارڈ میں ہیں جن کا کسی اور کے بارے میں محفوظ ہونا ممکن نہیں۔

آپ ﷺ کی گھریلو زندگی بالکل اسی طرح دلکش و دیدہ زیب اور اعلیٰ ترین انسانی کردار کا نمونہ تھی، جس طرح آپ ﷺ کی باہر کی زندگی تھی۔ آپ ﷺ گھر میں بھی اسی طرح رحمت و شفقت کا پیکر تھے، جس طرح آپ صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ تھے۔ گھر میں بھی آپ ویسے ہی معلم اخلاق و مربی تھے جیسے اپنے حلقہ و عطا میں۔ محمد رسول اللہ ﷺ کی حکمت و تدبیر کا جو حال گھر کے اندر نظر آتا ہے وہ اس سے کسی طرح کم نہیں جو گھر کے باہر نظر آتا ہے۔ آپ اپنے قبیعین کو جس طرز عمل اور جن اخلاق و اوصاف کی تلقین کرتے تھے، خود گھر کی خلوتوں میں بھی اس پر مکمل طور پر عمل پیرا تھے۔ اس لئے آپ ﷺ کی گھریلو اور خانگی زندگی بھی ویسی ہی سبق آموز ہے جس طرح آپ کی اجتماعی زندگی ہمارے لئے اسوہ اور نمونہ ہے۔

## (۷۰) ایک سادہ انسانی زندگی

آپ ﷺ کی گھریلو زندگی بالکل سادہ اور سارے تکلفات سے بالکل پاک تھی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ ﷺ کو جو عظیم ترین مقام و مرتبہ ملا تھا اور خلق خدا کے دلوں میں آپ کی جو عظمت و محبت تھی اس کے باوجود آپ گھر میں بالکل سادگی و تواضع کے ساتھ رہتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ ﷺ کے گھر کے اندر کے معمولات کے سلسلہ میں کسی سوال کرنے والے کے جواب میں فرماتی ہیں:

كَانَ بَشْرًا مِّنَ الْبَشَرِ يَغْلِي ثَوْبَهُ وَيَحْلِبُ شَاتَهُ وَيُعِدُّ نَفْسَهُ (شمائل ترمذی)

یعنی آپ ﷺ تمام انسانوں کی طرح گھر میں رہتے اور وہ تمام گھریلو و خانگی کام جو عام انسان کرتے ہیں آپ بھی اپنے گھر میں کر لیا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ اگر کپڑوں میں جوئیں ہو جاتیں تو ان کو بھی نکال لیتے تھے، اپنی بکری کا دودھ دوہ لیا کرتے تھے اور اپنے ذاتی کام خود کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہی کی ایک اور روایت ہے کہ ”آپ ﷺ اپنے کپڑوں میں خود پوند لگا لیتے، جو تادوست کر لیتے۔ (مسند احمد) اور اپنے اہل خانہ کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے، نماز کا وقت ہوتا تو باہر چلے جاتے۔ (بخاری، کتاب الصلوٰۃ) گھر میں داخل ہوتے تو خود سلام کر کے داخل ہوتے، اہل خانہ کے ساتھ خوش خلقی سے پیش آتے اور زری کا معاملہ کرتے۔

### ﴿۷۱﴾ ازواج مطہرات کے ساتھ حسن معاشرت

آپ ﷺ بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کی بہت تاکید فرماتے اور ان کی ظلمی و طبعی کمزوریوں سے صرف نظر کرنے کا حکم دیتے۔ متعدد روایات میں اس کا ذکر ہے کہ عورتوں کے مزاج میں حقیقی طور پر کچھ کچی ہوتی ہے، اس کو بالکل سیدھا کرنا ممکن نہیں، ان کے ساتھ گزارے کی صورت یہی ہے کہ ان کی اس طبعی کمزوری سے درگزر اور بہتر سے بہتر سلوک کیا جائے۔ (بخاری، کتاب النکاح، باب الوصایا بالنساء) آپ ﷺ نے اس حسن سلوک کو ایمان کے کمال کا سبب بتلایا ہے۔ (ترمذی، کتاب الایمان) خود آپ ﷺ کا طرز عمل ان ہدایات پر پورا پورا تھا اور ایسا تھا کہ اس سے بہتر مثال ممکن نہیں۔ آپ ﷺ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے یہ بھی فرمایا کہ ”وَأَنَا خَيْرٌكُمْ لَأَهْلِي“ اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ کے حق میں بہتر ہوں۔ (ترمذی، مناقب، ۶۳، ابن ماجہ، کتاب ۵۰)

ازواج مطہرات اگر چہ ساری دنیا کی عورتوں میں بہترین اور اللہ کی طرف سے اپنے رسول کی رفاقت کے لئے منتخب عورتیں تھیں، لیکن تھیں تو عورتیں ہی، اسی لئے (اللہ ان کے درجات بلند فرمائے) ان میں بھی عورتوں کی فطری کمزوریاں کسی نہ کسی درجہ میں موجود تھیں اور ان کا اظہار بھی کبھی کبھی ہو جاتا تھا، لیکن آپ کی جانب سے ہمیشہ غفور و درگزر اور حسن سلوک کا معاملہ ہی ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ آپ ﷺ کی ازواج آپ سے دن دن بھر ناراض رہیں اور آپ علم و غلو کا معاملہ فرماتے۔ (بخاری، کتاب النکاح، باب موعظۃ الرسل بوجہ حال زوجہما) ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ ﷺ سے ناراض ہو کر بلند آواز سے باتیں کر رہی تھیں، اتفاقاً ان کے والد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آگئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو سرزنش کرنی چاہی: تو اللہ کے رسول سے چلا کر بولتی ہے، مگر آپ ﷺ نے ہی ان کو بچالیا۔

(ابوداؤد، کتاب الادب، باب فی المزاج)

ایک بار آپ ﷺ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا: جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تب بھی مجھے پتا چل جاتا ہے اور جب ناراض ہوتی ہو تب بھی کہتی ہو کہ محمد کے رب کی قسم! اور جب ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو کہ ابراہیم کے رب کی قسم! حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا: لیکن اے اللہ کے رسول! میں صرف نام لینے کی حد تک ناراض ہوتی ہوں دل میں ناراض نہیں ہوتی۔ (صحیح مسلم)

### ﴿۷۲﴾ آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ حساب کتاب برابر ہو گیا

بیویوں کے ساتھ حسن سلوک اور لطف و کرم کے ایسے ایسے واقعات حدیث کی کتابوں میں ذکر کئے جاتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سے اگر ثابت نہ ہو تو لوگ شاید اپنی شان بزرگی کے خلاف سمجھیں۔ مثلاً حدیث کی کتابوں میں آپ ﷺ کا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ایک عجیب و غریب واقعہ مذکور ہے۔ ایک سفر میں آپ کے اور حضرت عائشہ صدیقہ کے درمیان پیدل دوڑ کا مقابلہ ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جیت گئیں، پھر کبھی سفر میں دوبارہ ایسا ہی مقابلہ ہوا اور اب کی بار اُم المؤمنین ہار گئیں۔ آپ نے فرمایا: عائشہ! حساب کتاب برابر ہو گیا۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا چونکہ کم عمری ہی میں آپ ﷺ کے نکاح میں آ گئی تھیں، اس لئے کم سنی کے شوق اور تقاضے ابھی باقی تھے۔ آپ ان کی دلجوئی کے لئے ان کے شوق اور جائز خواہشات کی تکمیل کا بھی لحاظ رکھتے تھے۔ ان کی سہیلیاں آپ کے یہاں آ کر ان کے ساتھ کھیلتی اور گاتی تھیں، اور آپ کی طرف سے اس کی اجازت ہوتی تھی، بلکہ اگر سہیلیوں کو آپ کی وجہ سے کھیلنے میں تکلف ہوتا تو آپ خود باہر تشریف لے جاتے اور ان لڑکیوں کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس بھیج دیتے۔ ان کے شوق کی تکمیل کے سلسلہ کا ایک واقعہ حدیث کی متعدد کتابوں میں مروی ہے کہ ایک مرتبہ عید کے دن آپ کے گھر کے سامنے مسجد نبوی ﷺ کے محن میں کچھ حبشی لوگ نیزہ بازی کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو اس کے دیکھنے کا شوق ہوا، آپ نے ان کو یہ کھیل دکھانے کا اہتمام اس طرح فرمایا کہ خود دروازے پر کھڑے ہو گئے اور اپنے پیچھے (غالباً پردہ کے خیال سے) حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو کھڑا کر لیا اور وہ آپ کی آڑ میں کھڑے ہو کر آپ کے کندھے اور کان کے درمیان سے کافی دیر تک کھیل دیکھتی رہیں اور آپ ان کے خیال سے سلسل کھڑے رہے۔

(بخاری، کتاب الصلوٰۃ، باب اصحاب الخراب فی المسجد، مسلم کتاب العیدین، باب الرخصۃ فی الملعب یوم العید)

بچوں کے ساتھ حسن سلوک اور ان کا دل خوش کرنے کی یہ اعلیٰ مثالیں ہیں۔ ان کا اتباع بھی اتباع سنت ہی ہے اور اس میں ان لوگوں کے لئے خاص سبق ہے جن کے نزدیک یہ طرز عمل بزرگی اور بلند مقامی کے منافی ہے۔ رسول اللہ ﷺ کی سیرت میں تمام ہر طرح کے تفکرات اور نبوت کی عظیم ذمہ داریوں کے باوجود وہ لطیف احساسات و جذبات جلوہ ریز تھے جو ایک معتدل انسانی فطرت کا تقاضا ہیں۔ آپ اپنے اعزہ و اہل خانہ سے محبت و تعلق خاطر میں بھی ایک قابل تقلید نمونہ تھے۔

حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے آپ کو بے انتہا محبت تھی، گھر میں کوئی جانور زخم کرتے تو اس کا کچھ حصہ حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے پاس بھیجتے۔ آپ ﷺ ان کے انتقال کے بعد بکثرت ان کو یاد کرتے، یہاں تک کہ دوسری ازواج مطہرات کو ان پر رشک آتا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس طرح کا کچھ اظہار کر دیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ نے مجھ کو ان کی محبت دی ہے۔ (مسلم، کتاب فضائل اصحاب، باب فضائل خدیجہ رضی اللہ عنہا) حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے رشتہ دار ملنے آتے تو آپ بڑی مسرت کا اظہار فرماتے۔ (ایضاً) دیگر ازواج مطہرات سے بھی آپ ﷺ بہت محبت فرماتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی غیر معمولی ذہانت و علمی مزاج اور دینی بصیرت کی وجہ سے خاص تعلق تھا۔

### (۷۳) بچوں سے محبت اور شفقت

گھر میں بچے اب تو لائق التفات سمجھے جاتے ہیں (خصوصاً زمانہ جاہلیت میں) تو بالکل ہی ان کو قابل توجہ اور لائق التفات نہیں سمجھا جاتا تھا لیکن رسول اللہ ﷺ نے بچوں کو بھی اپنی خاص الخاص رحمتوں سے نوازا اور اس سلسلہ میں اپنے قول و عمل سے ایسا اسوہ اور نمونہ پیش فرمایا جس کی مثال پوری انسانی تاریخ میں نہیں ملتی ہے۔ آپ ﷺ نے بچوں کے متعلق فرمایا کہ یہ اللہ کی خاص الخاص نعمت ہیں ان کی تعلیم و تربیت اور ان کو حسن ادب کے ساتھ متصف کرنا ماں باپ کی ذمہ داری ہے، بچوں کا یہ بھی حق ہے کہ والدین اور گھر کے دوسرے بڑے ان کے ساتھ شفقت اور محبت کا معاملہ کریں۔ بچوں میں اگر لڑکیاں ہیں تو ان کے ساتھ حسن سلوک اور برتاؤ میں کسی قسم کی تفریق نہ برتیں۔ خود آپ ﷺ کا عمل بھی اپنے گھر کے بچوں کے ساتھ اور بچیوں کے بارے میں ایسا ہی تھا۔ آپ کی اپنی بیٹیوں سے غیر معمولی محبت تھی اور ان کے ساتھ صرف شفقت ہی نہیں اکرام کا معاملہ بھی فرماتے تھے۔ آپ کے لخت جگر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے بارے میں حدیث کی کتابوں میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ جب وہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوتی تھیں تو آپ ﷺ پیش قدمی فرما کر ان کا استقبال کرتے اور ان کو اپنی جگہ بٹھاتے۔ (مسلم، کتاب فضائل، باب فضل فاطمہ)

ان کے فضائل کے بارے میں رسول اللہ ﷺ سے بہت سے اقوال نقل کئے گئے ہیں۔ دوسری صاحبزادیوں کے ساتھ بھی آپ کا

معاملہ اسی طرح کا تھا اور ان کے متعلق بھی آپ کے اکرام و شفقت کا ذکر حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے۔

گھر کے چھوٹے بچوں کے ساتھ آپ ﷺ کا معاملہ نہایت پیار و محبت اور شفقت کا تھا (اور یہی معیار کمال ہے)۔ آپ کے دونوں نواسے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما آپ ہی کی گود میں پلے ہیں، نبوت کی ساری ذمہ داریوں کے باوجود آپ ان کی ذرا بھی حق تلفی نہ فرماتے تھے۔ ان کو گود میں لیتے، اپنے کندھوں پر سوار کرتے، ان کو پیار کرتے، ان کو سونگتے اور مستقبل میں ان کو حاصل ہونے والے کمالات کا ذکر بھی کرتے اور نیز ان کو دعائیں دیتے، اپنے ساتھ سواری پر سوار کرتے۔ (ترمذی باب فی رحمۃ الولد) کبھی فرماتے تم دونوں میرے گلدستے ہو۔ (بخاری، ترمذی، کتاب المناقب الحسین و الحسن)

ایک صحابی حضرت اترع بن حابس رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ آپ کو دیکھا کہ آپ اپنے نواسے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا بوسہ لے رہے ہیں انہوں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میرے دس بیٹے ہیں، میں نے کبھی بھی ان کا بوسہ نہیں لیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: جو رحم نہیں کرتا اس پر منجانب اللہ رحم نہیں کیا جاتا۔ (صحیح بخاری، کتاب الادب، باب رحمۃ الولد)

یعنی بچوں کو پیار کرنا بھی رحمت خداوندی کے حصول کا ذریعہ ہے۔ حضرات حسنین کے علاوہ آپ کا معاملہ درجہ بدرجہ خاندان کے دیگر بچوں کے ساتھ محبت و شفقت کا ہی رہا ہے۔ ایک مرتبہ آپ ﷺ خطبہ دے رہے تھے کہ حضرات حسنین گھر سے نکل آئے، نیا نیا چلنا شروع کیا تھا، قدم لڑکھڑا رہے تھے، فرط محبت میں آپ ﷺ سے رُکنا نہ جاسکا، آپ درمیان خطبہ ممبر سے اترے اور بڑھ کر ان کو گود میں اٹھالیا۔ پھر فرمایا: اللہ نے سچ کہا ہے: اولاد انسان کی کمزوری ہے۔ میں نے دیکھا، یہ دونوں اپنے کپڑوں میں الجھ کر لڑکھڑا رہے ہیں، مجھ سے صبر نہ ہوا اور میں نے درمیان خطبہ ہی اتر کر ان کو گود لے لیا۔ (نسائی کتاب الجمع، باب نزول الامام الخ)

کبھی ایسا بھی ہوا کہ درمیان نماز کو نواسی یا نواسہ آ کر کندھے یا پیٹھ پر سوار ہو گیا، آپ نے نماز جاری رکھی، جب رکوع یا سجدہ کیا تو اُتار دیا اور پھر اٹھالیا۔ (ملاحی، بخاری، کتاب الادب، باب رحمۃ الولد اور سند احمد، جلد ۳، صفحہ ۳۹۳۔ ۳۹۴، نسائی کتاب اصولہ باب من یجوز ان یحون سجدۃ اطلع من سجدۃ) اولاد سے آپ ﷺ کو بڑی محبت تھی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے زیادہ اولاد کے ساتھ رحم دل و شفقت شخص نہیں دیکھا۔ (مسلم کتاب انفصال، باب رحمۃ علیہ السلام، و تواترہ)

اور اگر ان کو تکلیف پہنچتی تو آپ ﷺ جیتا ہو جاتے، ایک مرتبہ برسر عام کہا، فاطمہ! میری ہے، میں فاطمہ کا ہوں، فاطمہ کی تکلیف میری تکلیف ہے۔ (مسلم ترمذی، باب فضل فاطمہ)

غزوہ بدر میں آپ ﷺ کے داماد حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے شوہر ابوالعاص قیدی بنے، ان کے پاس فدیہ کی رقم نہیں تھی، انہوں نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو کہلا بھیجا کہ فدیہ کی رقم بھیج دیں۔ حضرت زینب کے پاس حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا دیا ہوا ایک قیمتی ہار تھا، جو ان کو شادی میں ملا تھا۔ جب نقد رقم پوری نہ ہوئی تو انہوں نے اپنے گلے کا ہار بھی اُتار کر بھیج دیا۔ آنحضرت ﷺ کے سامنے جب وہ ہار آیا تو نہ جانے کیا کیا یادیں نظر کے سامنے گھوم گئیں۔ آپ بے تاب ہو کر رو پڑے۔ شدید رقت طاری ہو گئی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے فرمایا: اگر تمہاری مرضی ہو تو بیٹی کو ماں کی یادگار واپس کر دوں۔ صحابہ نے رضامندی ظاہر کی اور وہ ہار واپس کر دیا۔ (ابوداؤد، کتاب الجہاد، باب فداء الاسیر بالمال)

آپ ﷺ کے صاحبزادہ ابراہیم رضی اللہ عنہ مدینہ سے کچھ دور عوالی میں اپنی والدہ کے ساتھ رہتے تھے۔ آپ ﷺ صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ وہاں جاتے اور بچہ کو دیکھ کر آتے۔ اللہ کی تقدیر کہ ان کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا، جب کہ آپ کبر سن کو پہنچ چکے تھے، اور ابراہیم رضی اللہ عنہ اکیلے زینہ اولاد تھے۔ آپ ﷺ انتقال کے وقت پہنچ گئے، بچے نے اس حال میں دم توڑا کہ اس کا سر آپ کی گود میں تھا اور آپ کی آنکھیں شدت غم سے جاری تھیں۔ مگر اس وقت بھی سیدنا محمد ﷺ بشر کے ساتھ نبی بھی تھے، اس حال میں آپ کو اللہ کی رضا کا خیال تھا،

پورے صبر کے ساتھ زبان سے یہ ایمان افروز کلمات نکلے:

”إِنَّ الْعَيْنَ تَدْعُهُ وَالْقَلْبُ يَحْزَنُ وَلَا تَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَىٰ بِهِ رَبُّكَ وَأَنَا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمَ لَسَعَزُ وَنُونٌ“

(بخاری کتاب الجنائز، باب قول النبی انا بک لحوزون)

”آنکھ آنسو بہا رہی ہے، دل غمگین ہے، مگر سوائے اس بات کے جو اللہ کو پسند ہو، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ بخدا! ابراہیم! تمہاری جدائی سے ہم بہت غمگین ہیں۔“

### (۷۴) خادموں کے ساتھ برتاؤ

گھر کے لوگوں میں سب سے کمزور پوزیشن ملازم یا خادم پیشہ لوگوں کی ہوتی ہے اور اگر یہ لوگ غلام یا پابندی ہوں تب تو ان کی بیچارگی اور کسپری کی کوئی حد اور انتہا ہی نہیں رہتی۔ زمانہ جاہلیت میں ان کی حالت جانوروں سے بھی بدتر ہوتی تھی۔ رسول اللہ ﷺ نے ان کو اس ذلیل مقام سے اٹھا کر آزادوں کے تقریباً مساوی مقام دیا غلاموں کے مالکوں کو مخاطب کر کے فرمایا: یہ تمہارے بھائی ہیں اللہ نے ان کو تمہاری ملکیت میں دے دیا ہے مالکوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے غلاموں کے ساتھ نہایت درجہ کا حسن سلوک کریں جو خود دکھائیں وہی انہیں بھی دکھائیں جو خود پہنیں وہی ان کو بھی پہنائیں۔ ان کی طاقت سے زیادہ کاموں کا بوجھ ان پر نہ ڈالیں۔ اور اگر کسی وجہ سے کوئی مشکل کام ان کے سپرد کریں تو خود بھی اس کام میں شریک ہو جائیں اور ان کی مدد کریں۔ (بخاری کتاب الایمان، باب المعامی من امر الجالیہ)

غلاموں کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے حقوق کی ادائیگی کے بارے میں آپ ﷺ کی تاکید اور خود آپ کے طرز عمل نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے یہاں محمود و ایاز کا فرق باقی نہ رہنے دیا تھا۔ آپ نے حضرت زید کی شادی اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے کر دی تھی وہ آپ کے آزاد کردہ غلام ہی تھے۔ آپ ان سے اور ان کے صاحبزادہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے ایسی شفقت و محبت کا معاملہ فرماتے تھے کہ دیگر صحابہ ان دونوں کو ”محبوب رسول ﷺ“ کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک خاص مسئلہ میں صحابہ نے آپ ﷺ سے سفارش کرنی چاہی مگر رعب کی وجہ سے ایسا نہیں کر پارہے تھے باہمی مشورہ سے کہا گیا کہ یہ سفارش بس اسامہ ہی کر سکتے ہیں جو رسول اللہ ﷺ کے محبوب بھی ہیں اور محبوب زادے بھی۔ (بخاری کتاب احادیث الانبیاء۔ مسلم کتاب الحدیث باب قطع ید السارق)

آپ کا عام معمول تھا کہ جو غلام بھی آپ ﷺ کے پاس آتا اس کو آپ فوراً آزاد کر دیتے۔ وہ آزاد ہو جاتا لیکن آپ کے احسان و کرم کی قید سے آزاد نہیں ہو سکتا تھا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کو آپ نے آزاد کر دیا تھا ان کے باپ ان کو لینے کے لیے آئے لیکن اللہ کے رسول ﷺ کی محبت و تعلق نے ان کو جانے نہیں دیا۔ آپ ﷺ نے اپنی عمر بھر کسی عورت یا خادم پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ (بخاری ترمذی)

حضرت انس رضی اللہ عنہ آپ ﷺ کے خادم خاص تھے۔ کہتے ہیں کہ میں نے دس سال لگانا آپ کی خدمت کی آپ نے ایک مرتبہ بھی مجھ سے اُف تک نہیں کہا اور نہ بھی یہ کہا کہ ایسا کیوں کیا؟ یا ایسا کیوں نہیں کیا۔ (بخاری کتاب الادب باب حسن الخلق واسماء)

### (۷۵) رسول اللہ ﷺ کے معمولات

رسول اللہ ﷺ جو وقت اپنے گھر میں گزارتے تھے اس کے آپ نے تین حصے کر لیے تھے۔ ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تھا دوسرا اہل خانہ کے حقوق کی ادائیگی کے لیے اور تیسرا حصہ اپنے آرام و راحت کے لیے۔ پھر اس تیسرے حصہ میں بھی جو اپنے آرام و راحت کے لیے تھا آپ اپنے اہلیوں کو بھی شریک فرمایا کرتے تھے اور اس کی صورت یہ ہوتی تھی کہ اس وقت خواص صحابہ کرام کو حاضری کی اجازت ہوتی تھی اور ان کے ذریعہ علوم و معارف عوام تک پہنچاتے تھے اس طرح اگرچہ یہ وقت عمومی ملاقات کا تو نہ تھا لیکن اس کے فیض سے عامۃ الناس بھی محروم نہ رہتے تھے۔ خواص صحابہ کرام اس وقت میں اپنے اور دوسروں کے مسائل لے کر حاضر ہوتے اور آپ



ﷺ ان مسائل کو حل فرماتے تھے کہ جو شخص کسی بھی وجہ سے اپنی ضرورت مجھ سے نہ کہہ سکتا ہو آپ حضرات اس کی حاجت و ضرورت مجھ تک پہنچادیا کریں اور یہ بھی فرماتے تھے کہ اس کا بخیر کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدم رکھے گا۔ (بخاری ترمذی)  
نماز عصر کے بعد آپ اہمبات المؤمنین کے یہاں تشریف لے جاتے اور سب سے خیریت دریافت کرتے۔

(شرح المواہب اللوریانی، ذکر ام سلمہ)

رات کے معمولات حدیث کی کتابوں میں تفصیل سے آئے ہیں۔ عشاء کے بعد ازواج مطہرات میں جس کی باری ہوتی، ساری ازواج مطہرات وہاں جمع ہوتی اور کچھ دیر مجلس رہتی۔ (ابوداؤد) عشاء کے بعد دیر تک جاگنا آپ کو ناپسند تھا، لیکن اگر کبھی کوئی معاملہ مشورہ طلب ہوتا تو آپ اکابر صحابہ سے اس وقت مشورہ کرتے۔ (ترمذی، کتاب الصلوٰۃ) نصف شب عبادت فرماتے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ﷺ کو کوئی اگر رات میں سوتے دیکھنا چاہتا تو دیکھ لیتا اور اگر نماز پڑھتے دیکھنا چاہتا تو دیکھ لیتا۔

### (۷۶) خانہ نبوی ﷺ کا زہدانہ ماحول

رسول اللہ ﷺ کو اپنے اہل و عیال سے کامل محبت تھی اور آپ ﷺ ان کا پورا پورا خیال رکھتے تھے۔ اس کا تقاضا یہ ہو سکتا تھا کہ آپ خود بھی و پریشانی کے ساتھ گزراوقات کر لیتے مگر اپنے گھر والوں کے لیے تو کم از کم رفاہیت اور آرام کے انتظامات کر ہی دیتے۔ انسان کے لیے خود پریشانیاں برداشت کرنا آسان ہوتا ہے، مگر اپنے اہل خانہ اور بچوں کے چہروں پر وہ فخر کے سائے نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن آپ ﷺ کا طرز عمل اس سلسلہ میں بالکل ممتاز اور آپ ﷺ کی شان نبوت کے مطابق ہے۔ آپ کے گھر کا ماحول اور عمومی نقشہ و بیا ہی تھا جو:

”اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ“ اور ”لَدُنِّيَا مَلْعُونَةٌ مَلْعُونَةٌ مَا فِيهَا إِلَّا ذِكْرُ اللَّهِ وَمَا وَالَاهُ“

”یعنی اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہی ہے۔ اور رہی دنیا تو یہ لعنتی ہے سوائے ان چیزوں کے جن کا اللہ سے کچھ تعلق ہے۔“

آپ ﷺ نے کبھی اس کی فکر نہیں کی کہ آپ کے گھر والوں کو دنیا کی زندگی میں رفاہیت حاصل ہو۔ آپ ﷺ یہ دعا اکثر فرماتے تھے کہ:

”اللَّهُمَّ ارْزُقْ آلَ مُحَمَّدٍ قُوَّةً“ (بخاری، کتاب الرقاق، باب کیف کان عیش النبی)

”اے اللہ! محمد ﷺ کے گھر والوں کو بقدر ضرورت رزق عطا فرما دیجئے۔“

ام المؤمنین رضی اللہ عنہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو آپ ﷺ کو انتہائی محبوب تھیں، فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں کئی کئی دن چولہا جلنے کی نوبت نہیں آتی تھی، پوچھا گیا: ام المؤمنین رضی اللہ عنہا پھر کیسے بسر ہوتی تھی؟ کہا بس کھجور اور پانی سے۔ (بخاری، کتاب الرقاق، باب کیف کان عیش النبی)  
ایک اور روایت میں فرماتی ہیں کہ کبھی ہم کو دو وقت لگا تا رہا بقاعدہ کھانا نہیں ملا، ایک وقت ضرور کھجور پر بسر کرتے۔

(بخاری، کتاب الرقاق، باب کیف کان عیش النبی)

ازواج مطہرات کے پاس صرف ایک ہی جوڑا کپڑا رہتا۔ (بخاری، کتاب النہیض، باب تصلی المرأة فی ثوب)

گھر میں آنا چھانے بغیر پکنا۔ کبھی چپاتی پکنے کی نوبت نہیں آتی، راتوں کو چراغ نہیں جلتے تھے۔ (بخاری، کتاب الصلوٰۃ، باب الصلوٰۃ علی فرش)

آپ ﷺ کے بستر کی یہ حالت ہوتی کہ ایسی چٹائی پر لیٹتے کہ جسم مبارک پر اس کے نشان پڑ جاتے۔ (حوالہ بلا ترمذی، کتاب الزہد)

کبھی چڑے کے اندر بھوسا بھر کر گدا بن جانا، بس یہی بستر تھا۔ (بخاری، کتاب الرقاق)

ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے گھر کے اندر نظر دوڑائی تو گھر کی کل متاع چند کلوہو اور چڑے کے چند کڑے ہی نظر آئے۔ رسول اللہ

ﷺ کی اس بے سرو سامانی کی زندگی پر ان کا یہ فدائی رو پڑا۔ عرض کیا: اللہ کے رسول ﷺ! آپ کا یہ حال ہے، قیصر و کسریٰ اللہ کے باغی کیسے کیسے پیش لوٹتے ہیں؟ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور جلالی شان کے ساتھ فرمایا: عمر کچھ شک ہے، اُن لوگوں کو سارے مزے دنیا ہی میں لوٹ لینے ہیں۔ (طبقات ابن سعد)

حجرات نبوی کی تعمیر کا یہ حال تھا کہ تعمیر کچی اینٹ کی تھی۔ کچھ حجرے بھجور کی ٹٹیوں کے تھے، چھت اتنی نیچی کہ کھڑے ہو کر ہاتھ لگتا۔ چوڑائی چھ سات گز اور لمبائی دس ہاتھ تھی۔ دروازوں کو قاعدے کا پردہ بھی میسر نہ تھا۔ بوسیدہ کبل ہی ڈال دیا جاتا تھا۔ ازواج مطہرات بھی اس طرز عمل پر نہایت قانع تھیں اور صبر و شکر سے گزر کرتی تھیں۔ جب اللہ کی طرف سے فتوحات کے بعد غذائی اشیاء اور مال و دولت کی کچھ فراوانی ہوئی تو اُن کو امید ہوئی کہ عام انسانوں کی طرح اللہ کے رسول ﷺ اپنے گھر کے معیار میں کچھ بہتری لائیں گے۔ کم از کم دو وقت کی روٹی کی حد تک تو ان کو بھی اُمید تھی کہ یہ میسر ہو ہی جائے گی اور انہوں نے اس کا مطالبہ کیا، مگر اللہ کے رسول ﷺ نے اس کو ایسا ناپسند کیا کہ ایک ماہ تک گھر کے اندر تشریف نہیں لے گئے۔ اور اللہ کی طرف سے آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ اپنی بیویوں سے صاف کہہ دیں کہ اللہ کے رسول ﷺ کی رفاقت تو اسی حال اور فقر و فاقہ کے ساتھ ہی ممکن ہے، اس گھر کا تو یہی حال رہے گا، اگر تم میں سے کسی کو دنیا کی زندگی کی رفاہیت و زینت کی طلب ہے تو وہ مجھ سے بحسن و خوبی الگ ہو سکتی ہے اور اگر تم کو اللہ کی رضا اور رسول خدا کی رفاقت اور آخرت زیادہ محبوب ہے تو اللہ نے تمہارے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ یہ حکم قرآن کی آیات کی شکل میں نازل ہوا۔ (سورۃ الاحزاب: ۲۹-۲۸) آپ نے ازواج مطہرات تو اس فیصلہ سے مطلع کر دیا، ان سب نے بیک زبان اللہ کے رسول ﷺ کی رفاقت کو اختیار کیا۔ (مسلم کتاب الطلاق باب بیان ان تخیر المرأتا لیکون ملاقا)

جیسا کہ ابھی اشارہ کیا جا چکا ہے کہ یہ فقر و زبوں حالی اس وقت بھی قائم رہی جب آپ ﷺ کے پاس مال و دولت کے ڈھیر آ کر لگنے لگے تھے۔ جس دن مال آتا، آپ اُس وقت تک گھر کے اندر تشریف نہ لے جاتے جب تک وہ تقسیم نہ ہو جاتا، نذک سے کچھ غلہ آیا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے بیچ کر وہ قرض ادا کیا جو ایک یہودی سے آپ ﷺ نے کسی دینی ضرورت کے لیے لیا تھا۔ آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے (جو گھریلو امور کی نگرانی کرتے تھے) پوچھا کہ کچھ بچا تو نہیں؟ انہوں نے کہا: کچھ بچ رہا۔ فرمایا: جب تک کچھ بچ رہے گا میں گھر کے اندر نہیں جا سکتا۔ انہوں نے عرض کیا: اللہ کے رسول ﷺ کیا کروں، کوئی سائل بھی تو نہیں۔ مگر آپ نے رات مسجد ہی میں بسر کی۔ دوسرے دن حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اطلاع دی، اللہ کے رسول ﷺ نے آپ کو سبکدوش کر دیا، یعنی جو کچھ تھا وہ تقسیم کر دیا گیا، آپ نے خدا کا شکر ادا کیا اور پھر گھر کے اندر گئے۔ (ابوداؤد ذباب ہدایات الشریکین)

حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ آپ کو بیسا تعلق تھا اس کا کچھ تذکرہ گزر چکا ہے۔ ان کا یہ حال تھا کہ گھر کے سارے کام کاج کرتے کرتے کپڑے غبار میں اٹ جاتے، چکنی پینے سے ہاتھوں میں گئے پڑ گئے تھے، مشک بھر بھر کر لانے سے گردن میں نشان پڑ گیا تھا۔ ایک موقع پر کہیں سے کچھ غلام و باندیاں آئیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی یہ حالت آپ ﷺ کو بتلائی اور ایک خادمہ مانگی۔ آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو مخاطب کر کے فرمایا: فاطمہ رضی اللہ عنہا اللہ سے ڈرو! گھر کا کام خود کرو، اللہ کے حقوق و فرائض ادا کرو اور سوتے وقت ۳۳ مرتبہ سبحان اللہ، ۳۳ مرتبہ الحمد للہ اور ۳۳ مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر سویا کرو۔ یہ تمہارے لیے باندی سے بہتر ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ بدر کے قیاموں کا حق تم سے پہلے ہے۔ دوسری روایات میں اس کا بھی اضافہ ہے کہ آپ نے یہ بھی کہا کہ اہل صفہ کے پیٹ بھوک سے بچکے جا رہے ہیں، میں تم کو کیسے دے دوں۔ (ابوداؤد کتاب الخراج باب بیان موضع قسم الخمس بخاری کتاب الجہاد ذباب بیان ان الخمس النواصب رسول اللہ ﷺ بحوالہ ابہامہ الفرقان ماہ مارچ ۲۰۰۷ء مطابق صفر ۱۴۲۷ھ)

### (۷۷) حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک تحریری فتویٰ

امام احمد رضی اللہ عنہ نے کتاب الزہد میں ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایک تحریری استفتاء لیا گیا کہ اے امیر المؤمنین! ایک وہ شخص جسے نافرمانی کی خواہش ہی نہ ہو اور نہ کوئی نافرمانی اس نے کی ہو اور وہ شخص جسے خواہش معصیت ہے لیکن وہ برا کام نہیں کرتا تو ان میں افضل کون ہے؟ آپ نے جواب میں لکھا کہ جنہیں معصیت کی خواہش ہوتی ہے پھر نافرمانیوں سے بچتے ہیں یہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاری کے لیے آزمایا ہے ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ (تفسیر ابن کثیر جلد ۵ صفحہ ۱۳۳)

### (۷۸) ایک نو مسلمہ عورت کی عجیب کارگزاری

میں ایک امریکی خاتون ہوں اور امریکہ کے قلب ”نیویارک“ میں پیدا ہوئی۔ میری نوجوانی ایک ”امریکی“ لڑکی ہی کی طرح گزری۔ میرا ایک ہی شوق تھا امریکہ کے ”عظیم شہر“ کی گلیمر بھری زندگی میں جاذبیت اور دلکشی کی دوڑ میں حصہ لوں۔ میں فلوریڈا کے شہر میامی کے ایک ساحلی مقام پر رہنے لگی پھر سال گزرنے لگے اور میرے اندر اطمینان اور سکون بجائے بڑھنے کے کم ہوتا گیا میری نسوانی کشش جس قدر بڑھتی جاتی اور جتنا میں (بظاہر) کامیابیوں کی منزلیں طے کرتی میرے اندرونی خلا اور بے اعتمادی میں بھی اسی قدر اضافہ ہوتا جاتا۔ میں ایک شدید قسم کی ذلت اور حقارت میں اپنے آپ کو ڈوبا ہوا محسوس کرتی، میں فیشن کی غلام بن گئی تھی اور میرا مصرف بس یہ تھا کہ دوسروں کی آنکھوں اور دلوں کو خوش کروں۔

میرا معیار زندگی جتنا ”اونچا“ ہوتا میرا اعتماد اتنا ہی نیچا ہو جاتا۔ میں نے ان حقائق سے منہ چرانا چاہا، مگر وہ فرار کے ہر موڑ پر مجھ کو منہ چرانے کے لیے موجود ہوتے۔ آخر میں اپنے آپ سے ادب گئی میں نے نشہ کی پناہ لی، کلبوں اور پارٹیوں میں جا کر دل بہلانا چاہا، مگر سب بے سود۔ میں نے روحانی مراقبوں سے اپنی بے سکونی کا علاج کرنا چاہا، جب یہ تدبیریں ناکام ہو گئیں تو مذہب بدلنے ایک نوازیم کا سہارا لیا، یعنی فلاحی اور اجتماعی تحریکوں میں لگی، مگر مرض بڑھتا گیا، جوں جوں دوا کی کے مصداق میری ترقیوں میں جو اضافہ ہو رہا تھا اور میرا لائف اسٹائل جیسے جیسے آگے بڑھ رہا تھا میری اندرونی بے اعتمادی کی آگ مجھے جلاتی جا رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ اسلام اور اسلامی اقدار و تہذیب کے خلاف ایک خطرناک اور چوڑا حملہ ہو چکا ہے۔ اور پھر بدنام ”نئی صلیبی جنگ“ کا بھی اعلان ہوتا ہے اب مجھے اسلامی نامی ایک چیز کی طرف توجہ ہوتی ہے اب تک تو میرے ذہن میں اسلام کے نام پر صرف چند تصویروں کے نقوش تھے، ترپالوں میں لپٹی عورت، بیسوں کو پیٹتے مرد گھروں کے پچھلے حصے میں زنان خانے اور دہشت گردی کی دنیا۔

میں ایک سماجی کارکن تھی جو عورتوں کی آزادی کی علم بردار اور دنیا میں لوگوں کی بہتر زندگی کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی، اپنے اس کام کے سلسلے میں میری ملاقات ایک سینئر کارکن سے ہوئی جو اس سلسلے میں اچھا کام کر چکا تھا۔ وہ بلا کسی تفریق کے سارے انسانوں کے لیے انصاف اور فلاح و بہبود کا داعی تھا، اس شخص سے ملاقات کے بعد مجھے احساس ہوا کہ انصاف، آزادی اور احترام یہ آفاقی اقدار ہیں اور سارے انسانوں کو ملنے چاہیے نہ کہ صرف بعض کو۔ اب مجھے احساس ہوا کہ سارے انسانوں کے لیے بھلا سوچنا خلوص کے بعد ہی ممکن ہے پہلے میں صرف چند کے لیے اچھا سوچتی تھی اب میں بلا تفریق ہر قسم کے لوگوں کے حقوق کے بارے میں سوچنے لگی۔

اچانک ایک دن میرے سامنے قرآن مقدس آیا، مغرب نے جس کی بڑی منفی تصویر بنا رکھی ہے۔ پہلے تو قرآن کے اسلوب و انداز نے مجھے متوجہ کیا، پھر اس نے کائنات، انسان اور زندگی کے حقائق اور عہد و معہد کے رشتے پر جو روشنی ڈالی ہے اس نے مجھے مسحور کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ قرآن نے اپنی بصیرت کا مخاطب براہ راست انسان اور اس کی روح کو بتایا ہے اور وہ کسی بچے کے لیے یا پادری کے بغیر انسان کو اللہ

کا مخاطب بناتا ہے۔ آخر کار وہ لحد آ گیا جب میں نے سچائی کو تسلیم کر لیا اور میں جس منزل کے لیے سرگرداں تھی اور جس سکون کے لیے بے تاب تھی مجھے یقین ہو گیا کہ وہ صرف اسلام قبول کر کے ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ میری داخلی بے تابیوں اور اضطراب کا علاج صرف ایمان سے ہو سکتا ہے اور میرے مسائل کا حل ہم جوئی میں نہیں عملی مسلم بننے میں ہے۔

میں نے ایک برقعہ اور سر اور گردن کو ڈھکنے والا اسکارف خرید لیا جو ایک مسلم عورت کا شرعی لباس ہے۔ اب میں اس اسلامی باوقار لباس کے ساتھ ان راستوں اور ان دوکانوں اور لوگوں کے سامنے سے گزرتی جن کے سامنے کچھ دن پہلے میرا گزر شارٹ اور "شاندار" مغربی لباسوں میں ہوتا تھا۔ سب کچھ وہی ہوتا جو پہلے ہوتا تھا بس ایک چیز بدلی ہوئی تھی یعنی میں اور میرا اندرونی اطمینان و سکون اور خود اعتمادی اور تحفظ کا احساس۔ ایسا احساس جو مجھے پہلی مرتبہ ہوا تھا۔ مجھے محسوس ہوا ساری زنجیریں ٹوٹ کر بکھر گئی ہیں میری گردن کے طوق پاش پاش ہو گئے ہیں اور میں نے آزادی حاصل کر لی ہے۔ میں بڑی خوش تھی کہ ان آنکھوں میں اب تعجب اور دوری کے آثار تھے جو پہلے مجھ کو ایسے دیکھتے تھے جیسے شکاری اپنے شکار کو اور باز نھی چڑیا کو۔ حجاب نے میرے کندھوں کے ایک بڑے بوجھ کو ہلکا کر دیا مجھے ایک خاص طرح کی غلامی اور ذلت سے نکال لیا اب دوسروں کے دلوں کو لہانے کے لیے میں گھنٹوں میک اپ نہیں کرتی تھی اب میں اس غلامی سے آزادی تھی۔ ابھی میں پردے میں صرف سر اور گردن ڈھکتی اور "عبایہ" (برقعہ) پہنتی مگر مجھے نقاب کی طرف توجہ ہوئی اور وہ اس لیے کہ میں نے دیکھا کہ مغرب کی مسلم عورتوں میں نقاب کا رواج بڑھتا جا رہا ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے (جن سے اسلام قبول کرنے کے بعد میں نے نکاح کر لیا تھا) مشورہ کیا۔ ان کی رائے تھی کہ چہرہ ڈھکنے یعنی نقاب افضل ہے لازمی نہیں البتہ حجاب یعنی چہرے کے علاوہ جسم ڈھکنے لازم ہے۔ ابھی تک میرا پردہ یہ تھا کہ صرف ہاتھ اور چہرے کو چھوڑ کر میرا پورا جسم ڈھکا ہوتا تھا میں ایک اسکارف اور ایک ڈھیلا ڈھالا لبسا عبایہ (گاؤن) استعمال کرتی۔ ڈیڑھ سال اسی طرح گزارا پھر میں نے اپنے شوہر سے کہا: میں چہرہ بھی ڈھکنا چاہتی ہوں اس لیے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ میرے اللہ کو زیادہ راضی کرنے والا عمل ہوگا۔ وہ مجھے ایک دوکان پر لے گئے جہاں میں نے "اسدال" (ایک عربی برقعہ جو سر سے پاؤں تک ہر چیز ڈھک دیتا ہے) خریدا۔ جس میں صرف آنکھیں کھلتی ہیں اور کچھ نہیں۔

ہدایت یابی کا میرا یہ سفر جاری تھا کہ خبریں آنی شروع ہوئیں کہ آزادی کے علمبرداروں اور نام نہاد انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والوں نے حجاب و نقاب کے خلاف مہم چھیڑ دی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ حجاب عورت پر ظلم کی علامت ہے کوئی اعتراض کر رہا ہے کہ یہ اتحاد و یکجہتی میں رکاوٹ بن رہا ہے اور اب مصر سے کسی نے یہ کہتے ہوئے سُر میں سُر ملایا کہ یہ گھڑے پن کی نشانی ہے۔ یہ بھی کیسی منافقت اور دوغلا رویہ ہے کہ اگر کوئی حکومت عورتوں کے لباس کے لیے کچھ ضابطے بنائے تو مغرب کہتا ہے کہ یہ انسانی آزادی کی مخالفت اور حقوق انسانی کی خلاف ورزی ہے اور اگر عورت اپنے انتخاب سے نقاب اوڑھے تو آپ اس کی آزادیوں کو سلب کرتے ہیں اس کو تعلیم اور سروس سے محروم کر دیتے ہیں۔ یہ ظلم صرف تیونس اور مراکش جیسی استبدادی حکومتیں ہی نہیں کر رہی ہیں بلکہ یہ فرانس، ہالینڈ اور برطانیہ میں بھی ہو رہا ہے۔

اب میں بھی فیمنسٹ (عورتوں کے حقوق کی حامی) ہوں مگر ایک مسلم فیمنسٹ جو مسلم عورتوں کو دعوت دیتی ہے کہ وہ اپنی ایمانی ذمہ داریوں کو ادا کریں اپنے شوہروں کو ایک اچھا مسلمان بننے میں مدد کریں اپنے بچوں کی اس طرح تربیت کریں کہ وہ استقامت کے ساتھ دین پر جمیں اور اندھیروں میں بھٹک رہی انسانیت کے لیے منارہ نور بن جائیں۔ میری آپ کو دعوت ہے کہ آپ ہر خیر کو لازم پکڑ لیں اور ہر شر سے نبرد آزما ہو جائیں حق کی آواز بلند کریں اور بدی کی مخالفت پر کمر کس لیں۔ ہمارے نقاب و حجاب کے حق کے لیے لڑیں اور اللہ کو راضی کریں۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم سب پردہ کرنے والی عورتیں اپنی ان ساری بہنوں کو حجاب کے بارے میں بتائیں جو بد قسمتی سے نہیں جانتیں کہ پردہ کیا مبارک شے ہے۔ ہم ان کو بتائیں کہ حجاب ہم کو کتنا عزیز ہے اور ہم کیوں نہایت فخر و محبت کے ساتھ اس کو گلے سے لگائے ہوئے ہیں۔

میں جن معزز خواتین کو جانتی ہوں کہ انہوں نے صرف حجاب پر اکتفا نہیں کیا بلکہ نقاب سے چہرہ بھی ڈھکا ان میں سے اکثر مغربی نو مسلم خواتین ہیں۔ ان میں سے کچھ تو غیر شادی شدہ دوشیزائیں ہیں۔ اکثر کو تو نقاب کی وجہ سے مسائل بھی پیش آتے ہیں ان کی سوسائٹی، خاندان اور گھر کے لوگ ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ آزادانہ انتخاب کے حق کو تسلیم نہ کرنے ہی کی ایک شکل ہے کہ معاشرے میں ہر طرف سے ذرائع ابلاغ کے ذریعہ سے عورتوں پر ننگے ہونے اور بھڑکیلے کپڑے کی حد تک دلربائی اختیار کرنے کی اندھا دھند تبلیغ کی جائے۔ اور عملاً ان کو خواہی نہ خواہی اس کو اختیار کرنے پر مجبور کر دیا جائے، میرا کہنا ہے کہ عورتوں کو حجاب کی تہذیب کو جاننے کا بھی برابر موقع دیا جانا چاہیے تاکہ وہ اس پاک و پرسکون تہذیب کی خوبیوں کو جان سکیں اور ان کو وہ معلوم ہو جو مجھے معلوم ہوا ہے، میں کل تک عربانیت کو ہی اپنی آزادی کی علامت سمجھتی تھی، پھر مجھ پر منکشف ہوا کہ وہ ایک پابجولاں آزادی تھی، جس نے مجھ کو خود اعتمادی اور ذاتی اعتماد سے عاری کر دیا تھا اور میری روح کو بے چینی کی آگ میں ڈال دیا تھا۔

مجھے اپنے بخش لباس کو اتار کر اور مغرب کی دلربا طرز زندگی کو چھوڑ کر اپنے خالق کی معرفت و بندگی والی ایک باوقار زندگی کو اختیار کرنے سے جو مسرت و اطمینان کا احساس ہوا ہے میں اس کی کوئی مثال نہیں دے سکتی۔ ایسی خوشی مجھے کبھی نہیں ہوتی تھی اس لیے چہرہ ڈھکنے اور نقاب پر مجھے اصرار ہے پردہ میرا حق ہے جو میں کسی قیمت پر نہیں چھوڑ سکتی۔ اس کے لیے میں لڑیوں گی مگر اس کو کسی قیمت پر نہیں چھوڑوں گی۔ نقاب آج عورت کی آزادی کی ایک باعزت علامت ہے جو اس کو گندی مخلوق کی ہوس رانیوں کا ٹائلٹ سپر کی طرح کا سامان بننے سے بچاتا ہے، نقاب پہن کر عورت پہچانتی ہے کہ وہ کون ہے؟ اس کا مقصد زندگی کیا ہے؟ اور اس کو اپنے خالق اللہ سے کیسا رشتہ و رابطہ قائم کرنا ہے۔ جو عورتیں اسلامی حجاب کی باوقار و باحیاء تہذیب کے بارے میں مغرب کے قدیم گھسے پٹے متعصبانہ تصورات کی شکار ہیں ان سے میں کہتی ہوں:

”تمہیں پتہ نہیں تم کس عظیم نعمت سے محروم ہو۔“

اور ”تہذیب“ کے نامبارک ٹھیکیداروں اور نام نہاد ”صلیبیوں“ سے میرا کہنا ہے کہ:

”تم بھی حجاب کو اختیار کرو اسی میں تمہاری نجات ہے۔“ (ابن ماجہ، الطریقان، تاریخ، ۲۰۰۷ء مطابق ۱۳۲۸ھ، صفحہ ۲۳)

## خواب کا بیان

### (۷۹) خواب کے آداب

- ① اچھے خوابوں کو پسند کرنا اور ان سے خوش ہونا۔ ① بڑوں کا چھوٹے سے خواب معلوم کرنا۔
- ② مسجد میں خواب معلوم کرنا۔ ② مسجد میں خواب کی تعبیر دینا۔
- ③ تعبیر دینے وقت دعاء ماثورہ کا پڑھنا۔ ③ فجر کے بعد خواب کی تعبیر دینا۔
- ④ خواب کی کسی صالح صاحب الرائے اور اہل تعبیر سے تعبیر لینا۔
- ⑤ خواب صالح یا اہل محبت سے ذکر کرنا۔ ⑤ اچھے خواب پر الحمد للہ کہنا۔
- ⑥ برے خواب پر تھوڑا پڑھنا۔ ⑥ پریشان کن خواب پر نماز پڑھنا۔
- ⑦ پریشان کن اور برے خواب کا کسی سے ذکر نہ کرنا۔

### (۸۰) خواب معلوم کرنا

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت طیبہ تھی کہ اپنے اصحاب سے بکثرت یہ پوچھا کرتے تھے کہ تم میں سے کسی نے خواب میں کچھ دیکھا ہے؟ پس: ذوالخواب دیکھا وہ آپ کے سامنے خواب پیش کرتا۔ (مختصر بخاری جلد ۲ صفحہ ۱۰۳۳)

فائدہ: مؤمن کا خواب بشارات الہی اور نبوت کا ایک جز ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب کی تعبیر بہت عمدہ دیا کرتے تھے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پوچھنا فجر کی نماز کے بعد ہوا کرتا تھا۔ (بخاری جلد ۲ صفحہ ۱۰۳۳)

### (۸۱) خواب پیش کرنا

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جو شخص خواب دیکھا کرتا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتا تھا۔ چنانچہ میں نے بھی (اسی تمنا میں کہ کوئی خواب دیکھوں تو آپ کی خدمت میں پیش کروں) کہا اے اللہ! کوئی خیر ہو تو ہمیں بھی دکھانا کہ اس کی تعبیر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کروں۔ چنانچہ میں سویا تو خواب دیکھا۔ (مختصر بخاری جلد ۲ صفحہ ۱۰۳۱)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ عہد نبوت میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کوئی خواب دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ خواب پیش کرتا تو آپ فرماتے ماشاء اللہ۔ میں نئی عمر کا جوان تھا نکاح سے قبل مسجد میں سویا کرتا تھا میں اپنے دل سے کہتا: اگر تیرے اندر کوئی بھلائی ہوتی تو تو بھی خواب دیکھتا۔ ایک رات میں سویا تو کہا: اے اللہ! اگر آپ جانتے ہیں کہ مجھ میں کوئی اچھالی ہے تو مجھے بھی کوئی خواب دکھائیے۔ (مسند طبری جلد ۱ صفحہ ۲۵۰ بخاری جلد ۲ صفحہ ۱۰۳۱)

### (۸۲) خواب پسند کرنا

ابو بکرہ ثقفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے خواب بہت پسند تھے آپ لوگوں سے خواب کے متعلق پوچھا کرتے تھے پھر اس کی تعبیر دیتے تھے۔ (ابوداؤد طبری جلد ۱ صفحہ ۳۵۰)

### (۸۳) فجر کے بعد خواب معلوم کرنا

ابن زبیل جنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ لیتے تو پھر نکال کر بیٹھ جاتے (یعنی آرام سے) ۷۰ مرتبہ استغفار پڑھتے فرماتے کہ ۷۰ سات سو کے برابر ہے۔ اس شخص میں کوئی بھلائی نہیں جس کے ایک دن کے گناہ سات سو سے زائد ہوں پھر لوگوں کی طرف رخ فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب کو بہت پسند فرماتے۔ آپ پوچھتے کہ تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ چنانچہ راوی ابن زبیل کہتے ہیں کہ میں نے اپنا خواب بیان کیا۔ (بیر صفحہ ۳۱۱ مجمع جلد ۶ صفحہ ۱۸۲)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ جب فجر کی نماز سے فارغ ہوتے تو پوچھتے کہ تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے اور فرماتے کہ میرے بعد نبوت باقی نہیں رہے گی مگر اچھے خواب۔ (ابوداؤد صفحہ ۵۸۳)

فائدہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت طیبہ تھی کہ فجر کی جماعت سے فارغ ہو کر لوگوں کی جانب متوجہ ہو کر خواب معلوم فرماتے، کبھی حضرات صحابہ خواب بیان کرتے، کبھی آپ اپنا خواب حضرات صحابہ کے سامنے بیان کرتے۔

### (۸۴) خواب کی تعبیر صبح کی نماز کے بعد دینا

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس اوقات اپنے اصحاب سے پوچھتے کہ کوئی خواب دیکھا ہے؟ پس جس کے بارے

میں اللہ پاک چاہتا (جس کو اللہ پاک خواب دکھاتا) خواب ذکر کرے وہ ذکر کرتا اور آپ اس کی تعبیر دیتے۔ (بخاری مختصر جلد ۲: صفحہ ۱۰۳۳)

آپ ﷺ کی عادت طیبہ تھی کہ آپ صبح کی نماز کے بعد خواب معلوم کرتے اور اسی وقت تعبیر دیتے۔

صبح کی نماز کے بعد ہی خواب کی تعبیر دینی سنت اور بہتر ہے۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں ایک باب قائم کیا ہے: **تَعْبِيرُ الرُّؤْيَا بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ** علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے عمدۃ القاری میں اور حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ طلوع شمس سے قبل خواب کی تعبیر دینی مستحب ہے۔ نماز صبح کے وقت خواب اور اس کی تعبیر اس وجہ سے بہتر ہے کہ رات کے قریب ہونے کی وجہ سے خواب محفوظ ہوگا تازہ ہونے کی وجہ سے ذہن سے خواب یا اس کے اجزاء غائب نہ ہوں گے نیز اور بھی دوسرے مصالح ہیں۔

### (۸۵) پہلی تعبیر کا اعتبار

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: جو پہلی تعبیر دے اس کا اعتبار ہے۔ (ابن ماجہ صفحہ ۲۷۹)

فائدہ: جس سے اولاً خواب بیان کرے اور تعبیر لے اسی تعبیر کا اعتبار ہے اسی لیے حکم ہے کہ ہر ایک سے خواب بیان نہ کرے۔ حافظ ابن حجر نے ذکر کیا ہے کہ مسند عبدالرزاق میں ابو قلابہ کا قول ہے کہ جیسی تعبیر دی جائے واقع ہوتی ہے۔ (فتح الباری جلد ۱۲ صفحہ ۴۴۲)

### (۸۶) خواب کی تعبیر دیتے اور سنتے وقت کیا پڑھے؟

حضرت ضحاک جہنی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے خواب سننے کے وقت پڑھا:

خَيْرٌ ثَلَاثًا وَشَرٌّ ثَوَانًا وَخَيْرٌ لَنَا وَشَرٌّ لَأَعْدَائِنَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (سیرۃ جلد ۲: صفحہ ۴۱۱)

”تم کو بھلائی حاصل ہو برائی سے محفوظ رہو بھلائی ہمارے لیے برائی دوسروں کے لیے تعریف اللہ کے لیے جو ہر عالم کا مربی ہے۔“

### (۸۷) مؤمن کا خواب نبوت کا ایک حصہ ہے

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک ﷺ کو یہ فرماتے سنا کہ اچھے خواب نبوت کے چھیا لیس حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ (بخاری جلد ۲: صفحہ ۱۰۳۵)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: مؤمن کا خواب نبوت کا چھیا لیسواں حصہ ہے۔

(بخاری جلد ۲: صفحہ ۱۰۳۵)

فائدہ: حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے خطابی کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ اچھا خواب نبوت کا چھیا لیسواں حصہ اس طرح ہے کہ حضور اکرم ﷺ نبوت سے پہلے چھ ماہ تک اچھے خواب دیکھتے رہے اس کے بعد وحی کا سلسلہ شروع ہوا جو ۲۳ سال تک جاری رہا اور ایک سال کے ۶ مہینوں کے اعتبار سے ددھے ہوتے ہیں پس ۲۳ سال کے کل چھیا لیس (۲۶) حصے ہوئے اس اعتبار سے ۶ ماہ جو اچھے خواب دیکھنے کا زمانہ ہے وہ نبوت کا چھیا لیسواں حصہ بن گیا اور بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ ہمیں اس کی حقیقت اور مطلب معلوم نہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ ہی بہتر جانتے ہیں۔

### (۸۸) اچھا خواب مؤمن کے لیے بشارت ہے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا: نبوت میں بشارت کے علاوہ کچھ باقی نہیں۔ پوچھا کہ بشارت کیا ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: اچھے خواب۔ (بخاری جلد ۲: صفحہ ۱۰۳۵)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ رسول پاک ﷺ نے فرمایا: رسالت اور نبوت منقطع ہو گئی نہ میرے بعد رسول ہے نہ نبی۔ البتہ مبشرات ہیں۔ پوچھا کہ وہ مبشرات کیا ہیں؟ فرمایا: اچھے خواب جس کے نیک مؤمن دیکھتا ہے یا دکھایا جاتا ہے۔

(ترمذی جلد ۲ صفحہ ۵۱۵ ابوداؤد ذاحم سیرۃ جلد ۲ صفحہ ۲۰۸ ابن ماجہ صفحہ ۲۷۸)

عبارہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی پاک ﷺ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کا قول (لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا) (ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بشارت ہے) کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا وہ اچھے خواب ہیں جن کو مؤمن دیکھتا ہے یا دکھایا جاتا ہے۔ (ابن ماجہ صفحہ ۲۷۸)

حضرت ابوداؤد رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا: اچھے خواب مؤمن کے لیے دنیا میں بشارت ہیں۔

(طبرانی کنز العمال جلد ۱۵ صفحہ ۳۹۳)

وحی کے ختم اور خواب کے باقی رہنے کا مطلب حافظ ابن حجر نے یہ ذکر کیا ہے کہ میری (یعنی نبی کریم) کی وفات سے وحی کا سلسلہ جس سے آئندہ ہونے والے امور کا علم ہو یہ تو منقطع ہو گیا البتہ سچے خواب جن سے ہونے والی باتوں کا علم ہو سکتا ہے باقی ہیں۔ (صفحہ ۳۷۶)

### (۸۹) اچھا خواب دیکھے تو کیا کرے؟

ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی پسندیدہ خواب دیکھے تو اللہ کی جانب سے ہے۔ اس پر الحمد للہ کہے اور اسے بیان کرے۔ (بخاری صفحہ ۱۰۳۳)

یعنی اس نعمت پر شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے نبوت کی ایک خیر سے نوازا۔

### (۹۰) خواب کی نوعیت اور اس کی قسمیں

حضرت ابوقادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ خواب کی تین نوعیتیں ہیں۔

① نفس و ذہن کی باتیں۔ اس کی کچھ حقیقت (تعبیر) نہیں۔

② جو شیطان کی جانب سے ہو۔ پس جب ناپسندیدہ خواب دیکھے تو شیطان سے پناہ مانگے اور باتیں جانب تھکتھکائے۔ اس کے بعد کوئی نقصان نہ ہوگا۔

③ وہ جو خدا تعالیٰ کی جانب سے بشارت ہو۔ اور مؤمن کا خواب نبوت کا چھایا یسواں حصہ ہے اسے کسی خیر خواہ صاحب الرائے کے سامنے پیش کرے کہ وہ اچھی تعبیر دے اور اچھی بات کہے۔ (ابو یوسف سیرۃ جلد ۲ صفحہ ۳۰۷)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: خواب تین قسم کے ہوتے ہیں: ① اللہ کی طرف سے بشارت ② خیالی باتیں ③ شیطان کا خوفزدہ کرنا۔ (ابن ماجہ صفحہ ۲۷۹)

حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ آپ ﷺ سے نقل فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: خواب تین قسم کے ہوتے ہیں: بعض وہ ہوتے ہیں جو شیاطین کی جانب سے خوف کئندہ ہوتے ہیں تاکہ وہ انسان کو رنجیدہ کریں۔ بعض وہ ہوتے ہیں جن کو انسان بیداری میں خیال کرتا ہے اور سوچتا ہے اور بعض وہ ہیں جو نبوت کا چھایا یسواں حصہ ہیں (یعنی سچا خواب جو خدا کی جانب سے ہے)۔ (ابن ماجہ صفحہ ۲۷۹)

فائدہ: بسا اوقات انسان بیداری میں جو کرتا اور سوچتا ہے اس کے ذہن میں رہتا ہے۔ وہ بھی خواب میں آ جاتا ہے اس کی کوئی تعبیر نہیں۔ وہ خیال کی ایک تصویر ہے لہذا تعبیر کے وقت اس کا خیال ضروری ہے کہ وہ خواب کی کس قسم سے متعلق ہے، صرف ایک قسم کے خواب کی کچھ تعبیر ہو سکتی ہے۔ یہ وہی ہے جسے مبشرات کہا گیا ہے۔ "لَهُمُ الْبُشْرَىٰ" سے قرآن میں اسی کی جانب اشارہ ہے۔ یہی نبوت



کا چھایا لیسواں بڑ ہے۔

فائدہ: حافظ ابن حجر نے بیان کیا ہے کہ خواب کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں:

حدیث پاک میں تین قسمیں جو مذکور ہیں یہ صحر کے لیے نہیں ہے اس کے علاوہ اور بھی خواب کی قسمیں ہیں۔ مثلاً بیداری کی باتیں، بعینہ خواب میں دیکھنا جیسے کسی کی عادت ہے، فلاں وقت کھانے کی چٹا نچا اسی وقت کھانے کو وہ خواب میں دیکھ رہا ہے۔

(فتح الباری جلد ۱۲ حصہ ۴۰۸)

خواب کی ایک قسم اضغاث بھی ہے جسے خواہائے پریشان بھی کہا جاتا ہے۔ (سنو ۴۰۸) ادھر ادھر کا دیکھنا اس کا تعلق بھی خیالی امور سے ہوتا ہے اس کی بھی کوئی تعبیر نہیں۔

### (۹۱) شیطانی خواب

حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: اچھے خواب اللہ کی جانب سے ہوتے ہیں اور بُرے (ڈراؤنے) پریشان کن خواب (شیطانی) کی جانب سے ہوتے ہیں۔

فائدہ: شیطان پریشان کرنے کے لیے اور وہم میں جلا کرنے کے لیے ڈراؤنے خواب دکھاتا ہے۔

### (۹۲) ناپسندیدہ خواب کسی سے بیان نہ کرو

حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جب تم کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھو تو اپنے دوستوں کے علاوہ کسی سے بیان نہ کرو اور جب ناپسندیدہ خواب دیکھو تو کسی سے بیان نہ کرو اس سے کوئی ضرر نہ ہوگا۔ (مختصر بخاری جلد ۲، سنو ۱۰۳۳)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ناپسندیدہ خواب دیکھو تو یہ شیطان کی جانب سے ہے۔ اس کی برائی سے پناہ مانگو اور اسے کسی سے بیان نہ کرو تو نقصان نہ ہوگا۔ (مختصر بخاری جلد ۲، سنو ۱۰۳۳)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ گویا میرا سر کٹ گیا ہے۔ آپ مسکرانے لگے اور فرمایا: جب تمہارے ساتھ خواب میں شیطان کھیلے تو کسی سے مت بتاؤ۔ (مشکوٰۃ، سنو ۳۹۵)

فائدہ: جو خواب "اضغاث احلام" ہوتے ہیں یعنی شیطان کی جانب سے پریشان کن ہوتے ہیں ان کی تعبیر نہیں ہوتی۔

شاید آپ ﷺ کو اس کا علم بذریعہ وحی ہو گیا ہو کہ اس کی کوئی تعبیر نہیں۔ معبرین ایسے خواب کی تعبیر زوال سلطنت یا نعمتوں کے زوال سے دیتے ہیں۔ (طبی مشکوٰۃ، سنو ۳۹۵)

### (۹۳) ناپسندیدہ خواب دیکھے تو کیا کرے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو بائیں جانب ہو جائے اللہ تعالیٰ سے بھلائی کا سوال کرے اس کی برائی سے پناہ مانگے۔ (ابن ماجہ، سنو ۲۷۹، سنو ۲۷۹، سنو ۴۰۸)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو بائیں جانب تھکتھکا دے اور شیطان سے پناہ مانگے (أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ) پڑھے اور کروٹ بدل لے۔ (ابوداؤد، سنو ۶۰۵)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی ابن ماجہ والی روایت میں ہے بائیں جانب تین مرتبہ تھکتھکا دے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: اچھے خواب خدا کی جانب سے ہوتے ہیں اور بُرے خواب دیکھے تو شیطان مردود سے پناہ مانگے یعنی (أَعُوذُ بِاللَّهِ

مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ) پڑھے اور جس کروٹ پر ہو اُسے بدل لے۔ (ابن ماجہ صفحہ ۲۷۹)

### (۹۴) خواب سے بیماری

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ میں ایسا ڈراؤنا خواب دیکھتا ہوں کہ اسے دیکھنے کے بعد بیمار پڑ جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا: اچھے خواب اللہ کی جانب سے ہوتے ہیں اور برے شیطان کی جانب سے۔ اگر تم میں سے کوئی ایسا خواب دیکھے تو بائیں جانب ۳ مرتبہ تھوک دے اور (أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ) پڑھے تو اس سے کوئی نقصان نہ ہوگا۔ (مجمع جلد ۶ صفحہ ۱۷۶)

فائدہ: اس سے معلوم ہوا کہ بعض شیطانی خواب ایسے بھی ہوتے ہیں جس سے انسان بیمار پڑ سکتا ہے۔

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ابوسلمہ اور ابو قتادہ رضی اللہ عنہما کے متعلق بیان کیا وہ خواب دیکھتے تو بیمار پڑ جاتے۔ (بخاری جلد ۲ صفحہ ۱۰۴۳)

لہذا اگر اس قسم کے خواب کے بعد مذکورہ عمل کر لیا جائے تو ضرر سے حفاظت ہو جاتی ہے۔

فائدہ: امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں بیان کیا ہے کہ اگر ناپسندیدہ خواب دیکھے تو اٹھ جائے اور نماز پڑھے اور کسی سے بیان نہ کرے۔ (بخاری جلد ۲ صفحہ ۱۰۴۳)

حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ اگر برے خواب دیکھے تو اس کے یہ آداب ہیں:

- ① (أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ) پڑھے۔
- ② بائیں جانب تھکتھکا دے۔
- ③ کسی سے بیان نہ کرے۔
- ④ کروٹ بدل لے۔
- ⑤ اٹھ کر نماز پڑھ لے۔

بعضوں نے ایسے موقع پر آیہ الکرسی بھی پڑھنے کو کہا ہے۔ (فتح الباری جلد ۱۲ صفحہ ۳۷۰)

علامہ قرطبی نے بیان کیا ہے کہ برے خواب کے بعد نماز پڑھنا مناسب آداب کو شامل اور جامع ہے۔ (فتح الباری صفحہ ۳۷۱)

ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ سے ناپسندیدہ خواب کے بعد یہ دعا منقول ہے اسے پڑھ لے:

”أَعُوذُ بِمَا عَالَتْ بِهِ مَلَائِكَةُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ مِنْ شَرِّ رُؤْيَا هَذِهِ أَنْ يُصِيبَنِي فِيهَا مَا أَكْرَهْتُ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ“

(سعید ابن منصور فتح ۱۲ صفحہ ۳۷۱)

”میں اس خواب کی تکلیف دہ امور سے اپنے دینی اور دنیوی معاملات میں پناہ مانگتا ہوں جیسے کہ خدا کے فرشتوں اور اس کے رسول نے پناہ مانگی ہے۔“

### (۹۵) صبح کا خواب زیادہ سچا ہوتا ہے

حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: زیادہ سچا خواب صبح کے وقت کا ہوتا ہے۔ (ترمذی صفحہ ۳۹۷)

فائدہ: حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ سحر کے وقت کے خواب کی تعبیر بہت جلد واقع ہوتی ہے خاص کر صبح صادق کے وقت کی۔ دوپہر کے

وقت کی بھی خواب کی تعبیر جلد واقع ہوتی ہے۔ (فتح الباری جلد ۱۲ صفحہ ۳۹۰)

دن اور رات مرد اور عورت کے خواب کا یکساں حکم ہے۔ (فتح الباری جلد ۱۲ صفحہ ۳۹۲)

یعنی جس طرح مرد کا خواب صبح اور قابل تبصیر ہوگا۔ اسی طرح عورت کا بھی ہوگا۔

## (۹۶) سچ بولنے والے کا خواب سچا ہوتا ہے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو سچ بولنے والا ہوتا ہے اس کا خواب سچا ہوتا ہے۔ (ابن ماجہ، صفحہ ۲۸۰)  
 فائدہ: جو آدمی جھوٹ بولتا ہے اس کا خواب بھی جھوٹا ہوتا ہے اس سے ہر شخص اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس کا خواب کیسا ہوگا۔ آج جھوٹ کی بیماری عام ہے کہ بسا اوقات آدمی بلا قصد و ارادہ کے بھی جھوٹ بول دیتا ہے۔ جو جتنا سچا ہوگا اس کا خواب اتنا ہی سچا ہوگا۔ اسی لیے حضرات انبیاء صلی اللہ علیہم وسلم کا خواب سچا ہوتا ہے۔ جو لوگ نیکی اور صلاح میں کم ہیں اکثر ان کا خواب اضغاثِ احلام ہوتا ہے بہت کم سچا اور لائق تعبیر ہوتا ہے۔ (فتح الباری، صفحہ ۲۶۲)

## (۹۷) خواب کس سے بیان کرے؟

ابورزین عقیلی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: خواب نبوت کا چھیا لبسواں حصہ ہے۔ تا وقتیکہ نہ بیان کیا جائے، معلق رہتا ہے۔ اسے اپنے دوست، بھھدار کے علاوہ کسی سے نہ بیان کرو۔  
 ایک روایت میں ہے کہ خواب کی جب تک تعبیر نہ دی جائے معلق رہتا ہے۔ جب تعبیر دی جاتی ہے تو واقع ہو جاتا ہے خواب کو کسی خیر خواہ دوست اور صاحب الرائے کے علاوہ کسی سے نہ بیان کرو۔ (مشکوٰۃ، صفحہ ۳۹۶)  
 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب کسی عالم یا خیر خواہ کے علاوہ سے بیان مت کرو۔

(مجمع، جلد ۷، صفحہ ۱۸۲)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی خواب دیکھے تو اسے کسی خیر خواہ یا صاحب علم سے بیان کرے۔ (کنز العمال، جلد ۱۹، صفحہ ۲۶۲)

فائدہ: مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کے سامنے خواب نہ بیان کرے کہ ناپسندیدہ غلط تعبیر نہ دے دے۔ بلکہ دیندار کے سامنے اسے پیش کرے اور اسی سے تعبیر لے کر بسا اوقات جو تعبیر دی جاتی ہے واقع ہو جاتی ہے۔ مزید یہ بھی خیال رہے کہ ہر خواب قابل تعبیر بھی نہیں کہ خواب کی تعبیر کے لیے پریشان ہو۔

## (۹۸) خواب اپنے خیر خواہ دوست سے بیان کرے

حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب کوئی اچھا خواب دیکھے تو اسے اپنے دوست کے علاوہ کسی سے بیان نہ کرے۔  
 فائدہ: حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوست کے علاوہ کسی اور سے اس وجہ سے منع کیا ہے کہ بسا اوقات دوسرا شخص بغض یا حسد کی وجہ سے ناپسندیدہ تعبیر نہ دے دے اور ایسا ہی واقع ہو جائے۔ (فتح الباری، جلد ۱۲، صفحہ ۴۳۱)  
 آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد احادیث میں منقول ہے کہ ہر شخص سے اپنا خواب نہ بیان کرنے بلکہ عالم خیر خواہ دوست ذی عقل صاحب الرائے سے بیان کرے۔ حافظ ابن حجر رضی اللہ عنہ نے لکھا ہے کہ عالم جہاں تک ممکن ہوگا اچھی تعبیر نکالے گا۔ خیر خواہ خیر ہی کا رخ اختیار کرے گا دوست اگر خیر سمجھے گا تو تعبیر دے گا اگر کچھ شک ہوگا تو خاموش ہو جائے گا۔ (فتح الباری، جلد ۱۲، صفحہ ۴۶۹)

## (۹۹) ذکر خواب کے آداب

احادیث پاک سے اچھے خواب کے ذکر کے تین آداب معلوم ہوئے۔

۱۰۰) الحمد للہ کہے (۱۰۰) اسے ذکر کرے (۱۰۱) اس کی تعبیر کسی عالم خیر خواہ (واقف فن) سے لے۔ (فتح الباری جلد ۱۲ صفحہ ۳۷۰)

## (۱۰۰) تعبیر واقع ہوتی ہے

آپ ﷺ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ جب تم تعبیر دو تو اچھی تعبیر دو خواب کی تعبیر دینے والے کے موافق واقع ہوتی ہے۔ (فتح الباری جلد ۱۲ صفحہ ۳۳۲)

## (۱۰۱) تعبیر کے اصول

فائدہ: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بلا سوچے سمجھے اور اصولی تعبیر سے واقفیت کے بغیر تعبیر نہیں دینا چاہیے۔ چونکہ تعبیر کا دنیا ایک لطیف فن ہے۔ جو شخص عالم ربانی متقی پرہیزگار علوم اسلام سے واقف عالم امثال کے نکات و اسرار کا عالم ہوگا وہی شخص اچھی تعبیر دے سکتا ہے۔ خصائل نبوی میں ہے: خواب کی تعبیروں کو دیکھنا چاہیے۔ نبی کریم ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین سے بکثرت خوابوں کی تعبیر نقل کی گئی ہے۔ فن تعبیر کے علماء نے لکھا ہے کہ تعبیر دینے والے شخص کے لیے ضروری ہے کہ سمجھدار متقی پرہیزگار کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ کا واقف ہو۔ (فتح الباری جلد ۱۲ صفحہ ۳۹۲)

## در بار نبوت کی چند تعبیریں

### (۱۰۲) چاند کی تعبیر

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک ﷺ نے پوچھا تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا میں نے دیکھا ہے کہ تین چاند ہمارے حجرے میں گرے ہیں۔ آپ نے فرمایا: اگر تیرا خواب سچ ہے تو میرا خیال (اس کی تعبیر کے متعلق یہ ہے کہ) اس میں تین افضلین اہل جنت مدفون ہوں گے۔ چنانچہ آپ ﷺ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس میں مدفون ہوئے۔ (مجمع الزوائد جلد ۷ صفحہ ۱۸۵)

### (۱۰۳) دودھ پینے کی تعبیر

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے ایک خواب بیان کیا کہ میرے سامنے دودھ لایا گیا میں نے اسے پیا (اور پی کر اس قدر سیراب ہوا) کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کی سیرابی ناخن سے نکل رہی ہے۔ پھر باقی ماندہ عمر کو دے دیا۔ لوگوں نے پوچھا آپ نے کیا تعبیر دی؟ آپ نے فرمایا: علم سے۔ (بخاری جلد ۲ صفحہ ۱۰۳)

فائدہ: حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ دودھ کی تعبیر قرآن سنت علم سے ہوتی ہے۔ (فتح الباری جلد ۱۲ صفحہ ۳۹۳)

لہذا جس نے جتنا دودھ پیا دیکھا اتنی قدر وہ علم سے مستفیض ہوگا۔ بکری کا دودھ کمال صحت خوشی کی طرف اشارہ ہے گائے کا دودھ ملک کی خوشحالی کی طرف اشارہ ہے اہلستہ دندوں کا دودھ دیکھنا اچھا نہیں ہے۔ (فتح الباری جلد ۱۲ صفحہ ۳۹۳)

### (۱۰۴) پھونک مار کر اڑانے کی تعبیر

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے اپنا خواب بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میں سو رہا تھا دیکھا کہ میرے

ہاتھ میں سونے کے لٹکن رکھ دیئے گئے ہیں جو مجھے بڑے گراں گزرے اور مجھے رنج میں ڈال دیا۔ خواب ہی میں کہا گیا کہ میں اسے پھونکوں۔ چنانچہ میں نے پھونک ماری (تو دونوں اڑ گئے)۔ میں نے اس کی تعبیر دی کہ دو جھوٹے مدعی نبوت ظاہر ہوں گے۔ ایک اسود غسی جسے فیروز نے یمن میں مار ڈالا اور دوسرا مسیلہ کذاب جسے عمرہ رضی اللہ عنہ نے واصل جہنم کیا۔ (بخاری جلد ۲ صفحہ ۱۰۴۱)

حافظ ابن حجر نے بیان کیا کہ جس نے دیکھا کہ وہ اڑ رہا ہے اگر آسمان کی طرف ہو اور بلا کسی سیڑھی وغیرہ کے ہو تو ضرر کی طرف اشارہ ہے۔ اگر دیکھا کہ آسمان میں اڑ اور غائب ہو گیا تو موت کی طرف اشارہ ہے۔ اگر لوٹ آیا تو مرض سے صحت کی طرف اشارہ ہے۔ اگر چوڑائی میں اڑ رہا ہے تو سفر کی طرف اشارہ ہے۔ (بخاری جلد ۱۲ صفحہ ۴۳۰)

### ﴿۱۰۵﴾ شہد اور گھی کی تعبیر

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے خواب دیکھا کہ ان کی دو انگلیوں میں سے ایک انگلی میں شہد اور دوسری انگلی میں گھی ہے۔ دونوں کو چاٹ رہے ہیں۔ آپ ﷺ نے تعبیر دیتے ہوئے فرمایا: اگر تم زندہ رہے تو دو کتابیں یعنی تورات اور قرآن پڑھو گے یعنی اُس کے عالم ہو گے۔ چنانچہ دونوں کے عالم ہوئے۔ (ابو یوسفی سیرۃ جلد ۷ صفحہ ۴۱۰) فائدہ: شہد اور گھی کی تعبیر علم اور بھلائی سے ہوتی ہے۔

### ﴿۱۰۶﴾ سر کٹنے کی تعبیر

ابو مجلذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص آپ ﷺ کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ میں خواب دیکھتا ہوں کہ میرا سر کاٹ دیا گیا ہے اور میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ آپ ﷺ مسکرائے اور فرمایا: جب تمہارا سر کاٹ دیا گیا تو تم کس آنکھ سے دیکھ رہے تھے۔ ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ اُن کا انتقال ہو گیا۔ سر کٹنے کی تاویل ان کی وفات سے دی اور دیکھنے کی تعبیر اتباع سنت ہے۔ (سیرۃ جلد ۷ صفحہ ۴۱۷)

### ﴿۱۰۷﴾ خواب گویا حقیقت

حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ انہوں نے نبی پاک ﷺ کی پیشانی مبارک پر سجدہ کیا، انہوں نے اس کا تذکرہ آپ ﷺ سے کیا۔ آپ ﷺ طہیث گئے اور انہوں نے آپ کی پیشانی پر سجدہ کیا۔ (مجمع الزوائد جلد ۱ صفحہ ۱۸۲)

فائدہ: خواب کو آپ ﷺ نے حقیقت میں پیش کر دیا، جس سے خواب کا سچا ہونا واضح ہو گیا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پاک سے یہ اصول مستحب کیا ہے خواب میں کوئی نیک کام کرنا دیکھے تو بیداری میں کر لینا مستحب ہے۔ (مرقاۃ جلد ۲ صفحہ ۵۵۰)

### ﴿۱۰۸﴾ سفید لباس کی تعبیر

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آپ ﷺ سے ورقہ بن نوفل کے بارے میں معلوم کیا گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ انہوں نے تو آپ کی تصدیق کی تھی لیکن ظہور نبوت سے قبل ان کا وصال ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ خواب میں دکھائے گئے تو ان پر سفید لباس تھے اگر وہ دوزخی ہوتے تو ان کا لباس اس کے علاوہ ہوتا۔ (مشکوٰۃ صفحہ ۳۹۶)

سفید کپڑے میں ملبوس ہونے کی وجہ سے آپ ﷺ نے ان کو ناجی میں شمار فرمایا اس سے معلوم ہوا کہ کسی کو سفید ملبوس میں دیکھا جائے تو یہ نجات یافتہ کی علامت ہے۔

### ﴿۱۰۹﴾ اعضا و جوارح کی تعبیر

حضرت ام الفضل رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے بیان کیا کہ میں اپنے گھر میں آپ کے اعضاء میں سے کوئی عضو

دیکھتی ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اچھا خواب دیکھا۔ فاطمہ کی اولاد کو تم دودھ پلاؤ گی۔“ (ابن ماجہ، صفحہ ۴۸۰)

عضو سے اشارہ اولاد کی طرف ہے اور گھر میں دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے گھر میں اس کا رہنا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ بچہ کا رہنا پرورش اور دودھ پلانے کے لیے ہی ہو سکتا ہے۔

### (۱۱۰) چند خوابوں کی تعبیریں

- ① حافظ ابن حجر عسقلانی نے شرح بخاری میں احادیث سے ماخوذ چند تعبیریں بیان کی ہیں۔ ان میں سے ہم چند تعبیریں نقل کرتے ہیں۔  
خواب میں محل کا دیکھنا۔ دیندار دیکھے تو محل صالح کی طرف اشارہ ہے، غیر دیندار دیکھے تو قید اور تنگی کی طرف اشارہ ہے۔ اور محل میں داخل ہونا شادی کی طرف اشارہ ہے۔ (فتح الباری، جلد ۱۲، صفحہ ۴۱۶)
  - ② خواب میں وضو کرتے ہوئے دیکھنا کسی اہم کام کے ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ اگر وضو مکمل کیا ہے تو اس کی تکمیل اور اگر ادھورا چھوڑا ہے تو اس کے ناقص ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ (فتح الباری، جلد ۱۲، صفحہ ۴۱۷)
  - ③ خواب میں کعبہ کا طواف حج اور نکاح کی طرف اشارہ ہے۔ (فتح الباری، جلد ۱۲، صفحہ ۴۱۷)
  - ④ پیالہ کا دیکھنا عورت یا عورت کی جانب سے مال ملنے کی طرف اشارہ ہے۔ (فتح الباری، جلد ۱۲، صفحہ ۴۲۰)
  - ⑤ جس نے خواب میں کوئی بڑی تلوار دیکھی، اندیشہ ہے کہ کسی فتنہ میں پڑے گا، تلوار پانے سے اشارہ ہے حکومت یا ولایت یا اونچی ملازمت کی طرف۔ تلوار کو میان میں کر لینا اشارہ ہے شادی کی طرف۔ (فتح الباری، جلد ۱۲، صفحہ ۴۲۲)
  - ⑥ خواب میں قمیص پہنتے دیکھنا دین کی جانب اشارہ ہے، جس قدر لمبی قمیص اور بڑی دیکھے گا اسی قدر دین اور محل صالح کی زیادتی کی جانب اشارہ ہوگا۔ (فتح الباری، جلد ۱۲، صفحہ ۴۹۵)
  - ⑦ شاداب باغیچے کی تعبیر بھی دین اسلام سے ہے، کبھی ہرے بھرے باغ کی تعبیر علمی کتابوں سے بھی ہوتی تھی۔ (فتح الباری، جلد ۱۲، صفحہ ۴۹۷)
  - ⑧ عورتوں کا دیکھنا حصول دنیا اور کبھی وسعت رزق کی جانب اشارہ ہوتا ہے۔ (فتح الباری، جلد ۱۲، صفحہ ۴۰۰)
- بسا اوقات عورتوں کا دیکھنا اور اس سے لطف و حظ حاصل کرنا یہ شیطانی خواب ہوتا ہے، اس کی کوئی تعبیر نہیں جیسا کہ عموماً نئی عمر والوں کو ہوتا ہے۔

### (۱۱۱) نبی کریم ﷺ کو خواب میں دیکھنے کا بیان

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: جس نے خواب میں مجھے دیکھا، پس اس نے مجھ ہی کو دیکھا، شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: جس نے مجھے خواب میں دیکھا، تحقیق اس نے مجھے بیداری میں دیکھا۔ (داری، کنز العمال، جلد ۱۹، صفحہ ۲۷۲)

ابو بکر اصہبانی نے بیان کیا کہ سعد بن قیس نے اپنے والد سے نقل کیا ہے کہ رسول پاک ﷺ کا ارشاد مبارک ہے کہ جو روحوں میں محمد ﷺ کی روح پڑ، جسوں میں محمد ﷺ کے جسم پڑ، قبروں میں محمد ﷺ کی قبر پر درود پڑھے گا وہ مجھے خواب میں دیکھے گا اور جو مجھے خواب میں دیکھے گا قیامت میں مجھے دیکھے گا اور جو مجھے قیامت میں دیکھے گا میں اس کی سفارش کروں گا اور جس کی میں سفارش کروں گا وہ میرے حوض سے پانی پئے گا اور اللہ جل شانہ اس کے بدن کو جہنم پر حرام فرمادیں گے۔ (القول البدیع السخاوی، صفحہ ۳۲، فصل اول درود، صفحہ ۵)

فائدہ: نبی پاک ﷺ کو خواب میں دیکھنا بڑی مبارک بات ہے۔ ہر مومن بندہ کو اس امر عظیم کا اشتیاق رہتا ہے، کتنے ایسے برگزیدہ

بندے جو تمنا لیے اس دنیا سے رخصت ہو گئے مگر ان کو یہ دولت میسر نہیں آئی۔ خیال رہے کہ خواب میں آپ ﷺ کا دیدار ہونا ضرور ایک اچھی اور قابل رشک و تعریف کی بات ہے مگر نہ ہونا دین کے نقص اور خلل کی بات نہیں۔

خواب میں اگر آپ ﷺ کو اس شکل مبارک میں دیکھا ہے جو احادیث پاک میں مذکور ہے تو حقیقتاً آپ ﷺ کو دیکھا اگر کچھ معمولی فرق کے ساتھ دیکھا ہے تو آپ کا مثل ہے۔ ایسے خواب کو "اضغاث" خوابہائے پریشان میں داخل نہیں کیا جائے گا۔

(فتح الباری جلد ۱۲ صفحہ ۲۸۶)

اگر ایسی حالت میں دیکھا جو آپ ﷺ کے خلاف تھی تو یہ دیکھنے والے کا قصور ہے۔ مثلاً خلاف سنت لباس میں دیکھا۔ علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ جس حالت میں بھی آپ کو دیکھا بشارت خواب کا مستحق ہوگا۔ (فتح الباری صفحہ ۲۸۸)

اگر آپ کو خلاف سنت و خلاف شرع حکم کرتے ہوئے دیکھا تو یہ دیکھنے والے کا قصور ہے۔ اور خوابی حکم ظاہری اصول شرع کے مطابق خلاف سنت یا خلاف شرع رہے گا۔ مثلاً حکم کرتا دیکھا کہ کوٹ پتلون پہننا یا فلاں کو قتل کر دیا شراب پینا تو اس پر عمل کرنا درست نہ ہو گا۔ یہ دراصل اس کے خیالات کا آئینہ ہے جو تصور ہوا ہے۔ (فتح الباری صفحہ ۲۸۶)

اسی طرح خواب سے احکام شریعت ثابت نہیں ہوتے۔ (فتح الباری جلد ۱۲ صفحہ ۲۸۸)

مناوی نے بیان کیا ہے کہ آپ ﷺ کو غیر معروف صفت پر دیکھنے والا بھی آپ ﷺ کو دیکھنے والا ہے۔ (فتح الباری جلد ۱۲ صفحہ ۲۲) بعض اہل علم کی رائے ہے کہ جس نے آپ کو خواب میں دیکھا وہ بعد الموت آپ ﷺ کے مخصوص دیدار مبارک سے نوازا جائے گا۔ (فتح الباری جلد ۱۲ صفحہ ۲۸۵)

ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ جس نے آپ ﷺ کو سکراتا دیکھا اسے اتباع سنت کی توفیق ہوگی۔ (جمع صفحہ ۲۳۲) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جس نے خواب میں مجھ کو دیکھا اس نے حقیقتاً مجھ ہی کو دیکھا اس لیے کہ شیطان میری صورت نہیں بنا سکتا۔ (شکل ترمذی صفحہ ۲۰)

فائدہ: حق تعالیٰ جل شانہ نے جیسا کہ عالم حیات میں حضور اقدس ﷺ کو شیطان کے اثر سے محفوظ فرمایا تھا ایسے ہی وصال کے بعد بھی شیطان کو یہ قدرت مرحمت نہیں فرمائی کہ وہ آپ کی صورت بنا سکے۔ (خصائل صفحہ ۲۸۷)

کلیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس ﷺ کا ارشاد مبارک سنایا جو مجھے خواب میں دیکھے وہ حقیقتاً مجھ ہی کو خواب میں دیکھتا ہے۔ اس لیے کہ شیطان میرا شبہ نہیں بن سکتا۔ کلیب کہتے ہیں میں نے اس حدیث کا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے تذکرہ کیا اور یہ بھی کہا کہ مجھے خواب میں زیارت ہوئی ہے۔ اس وقت حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا خیال آیا میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں نے اس خواب کی صورت کو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی صورت کے بہت مشابہ پایا اس پر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کی تصدیق فرمائی کہ واقعی حضرت حسن رضی اللہ عنہ آپ ﷺ کے بہت مشابہ تھے۔ (فتح الباری جلد ۱۲ صفحہ ۲۸۹)

علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ حضرات انبیاء اور فرشتوں کی شکل میں شیطان نہیں آسکتا۔ (جمع صفحہ ۲۳۲)

فائدہ: بعض روایات میں آیا ہے کہ سینہ اور اس کے اوپر کے بدن کا حصہ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا حضور اقدس ﷺ کے مشابہ تھا اور بدن کے نیچے کا حصہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا حضور اقدس ﷺ کے زیادہ مشابہ تھا۔ (خصائل صفحہ ۲۸۸)

## (۱۱۲) زیارت متبرک کے کچھ فوائد و تعبیرات

جس نے آپ ﷺ کو خواب میں دیکھا اس کے صلاح و کمال دین کی علامت ہے۔ حضرات انبیاء علیہم السلام کو خواب میں دیکھنا صلاح

تقویٰ کمال مرتبہ اور فلاح کی علامت ہے۔ (فتح الباری جلد ۱۲ صفحہ ۲۸۷)

جس نے آپ ﷺ کو خواب میں مسکراتا ہوا دیکھا ہے اسے اتباع و احیاء سنت کی بیش بہا دولت ملے گی۔ جس نے آپ کو غصہ و غیظ کی حالت میں دیکھا اس کے دین میں نقصان یا اس سے دین میں نقصان کی علامت ہے۔ "اللَّهُمَّ احْفَظْنَا مِنْهُ" (جمع صفحہ ۲۳۲)

آپ ﷺ کو خواب میں دیکھنا اسلام پر موت اور آخرت میں ملاقات اور زیارت کی علامت ہے۔ (جمع صفحہ ۲۳۲)

جو آپ کو خواب میں دیکھے گا مرنے کے بعد اسے خصوصی زیارت کا شرف ملے گا۔ (فتح الباری جلد ۱۲ صفحہ ۲۸۵)

آپ ﷺ کی زیارت پاک قیامت میں شفاعت و سفارش کی علامت ہے۔ (القول البدیع صفحہ ۳۳)

ابن سیرین نے بیان کیا اگر مدینوں آپ کی زیارت کرے گا تو قرضہ ادا ہوگا۔ مریض زیارت کرے گا تو مرض سے شفاء پائے گا۔ اگر ظلم کے مقام میں دیکھے گا تو عدل و انصاف کا زمانہ آئے گا اگر جنت کے موقع پر دیکھے گا تو غلبہ کی علامت ہے۔ (مختب الاکلام جلد ۱ صفحہ ۵۷)

### (۱۱۳) خواب میں زیارت نبوی ﷺ کے حصول کا بیان

شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ترغیب الی سعادتہ میں لکھا ہے کہ شب جمعہ میں دو رکعت نفل نماز ادا کرنے ہر رکعت میں گیارہ (۱۱) بار آیہ الکرسی اور گیارہ (۱۱) "بَارِقُلْ هُوَ اللّٰهُ اور سو (۱۰۰) بار درود شریف سلام کے بعد پڑھے۔ انشاء اللہ تین جمعہ گزرنے نہ پائیں گے کہ زیارت نصیب ہوگی۔ درود شریف یہ ہے:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ بِالنَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَالْإِلَهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ

اسی طرح شیخ نے لکھا ہے کہ جو شخص دو رکعت نماز پڑھے۔ اور ہر رکعت میں الحمد للہ کے بعد ۲۵ مرتبہ قُلْ هُوَ اللَّهُ اور سلام کے بعد یہ درود شریف ہزار مرتبہ پڑھے زیارت نصیب ہوگی۔ وہ درود شریف یہ ہے: "صَلِّ اللَّهُ عَلَيَّ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ"

علامہ دیمیری رحمۃ اللہ علیہ نے حیاۃ النبیان میں لکھا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد با وضو ایک پرچہ پر محمد رسول اللہ احمد رسول اللہ ۳۵ مرتبہ لکھے۔ اور اس پرچہ کو اپنے ساتھ رکھے۔ اللہ جل شانہ اس کو طاعت پر قوت عطا فرماتے ہیں برکت میں مدد فرماتے ہیں شیاطین کے وساوس سے حفاظت فرماتے ہیں اور اگر اس پرچہ کو روزانہ طلوع آفتاب کے بعد درود شریف پڑھتے ہوئے غور سے دیکھتا رہے تو نبی پاک ﷺ کی زیارت خواب میں بکثرت ہوا کرنے کی۔ (فضائل درود شریف صفحہ ۵۲)

علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے قول بدیع میں بیان کیا ہے کہ جو اس درود شریف کو پڑھے گا خواب میں دیکھے گا۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ كَمَا أَمَرْتَنَا أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ كَمَا هُوَ أَهْلُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى لَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ رُوحِ مُحَمَّدٍ فِي الدَّوَابِّ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ جَسَدِ مُحَمَّدٍ فِي الْأَجْسَادِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ قَبْرِ مُحَمَّدٍ فِي الْقُبُورِ (صفحہ ۱۳۰)

### (۱۱۴) زبیدہ ملکہ کی بخشش

زبیدہ خاتون ایک نیک ملکہ تھی۔ اس نے نہر زبیدہ بنا کر مخلوق خدا کو بہت فائدہ پہنچایا۔ اپنی وفات کے بعد وہ کسی کو خواب میں نظر آئی۔ اس نے پوچھا کہ زبیدہ! آپ کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ زبیدہ نے جواب دیا کہ اللہ رب العزت نے بخشش فرمادی۔ خواب دیکھنے والے نے کہا کہ آپ نے نہر زبیدہ بنا کر مخلوق خدا کو فائدہ پہنچایا آپ کی بخشش تو نہیں ہی تھی۔ زبیدہ خاتون نے کہا نہیں! نہیں! جب نہر زبیدہ والا عمل پیش ہوا تو پروردگار عالم نے فرمایا کہ کام تو تم نے خزانے کے پیسوں سے کروایا۔ اگر خزانہ نہ ہوتا تو نہر بھی نہ بنتی۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے میرے لیے کیا عمل کیا۔ زبیدہ نے کہا کہ میں تو گھبرا گئی کہ اب کیا بنے گا۔ مگر اللہ رب العزت نے مجھ پر مہربانی



فرمائی۔ مجھ سے کہا گیا کہ تمہارا ایک عمل ہمیں پسند آ گیا۔ ایک مرتبہ تم بھوک کی حالت میں دسترخوان پر بیٹھی کھانا کھا رہی تھیں کہ اتنے میں اللہ اکبر کے الفاظ سے اذان کی آواز سنائی دی۔ تمہارے ہاتھ میں لقمہ تھا اور سر سے دوپٹہ سر کا ہوا تھا تم نے لقمے کو واپس رکھا پہلے دوپٹے کو ٹھیک کیا پھر لقمہ کھایا تم نے لقمہ کھانے میں تاخیر میرے نام کے ادب کی وجہ سے کی اس لیے ہم نے تمہاری مغفرت فرمادی۔

### ﴿۱۱۵﴾ ایک لوہار کا واقعہ

حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مکان کے سامنے ایک لوہار رہتا تھا بال بچوں کی کثرت کی وجہ سے وہ سارا دن کام میں لگا رہتا۔ اس کی عادت تھی کہ اگر اس نے ہتھوڑا ہاتھ میں اٹھایا ہوتا کہ لوہا کوٹ سکے اور اسی دوران اذان کی آواز آ جاتی تو وہ ہتھوڑا لوہے پر مارنے کے بجائے اسے زمین پر رکھ دیتا اور کہتا کہ اب میرے پروردگار کی طرف سے بلاوا آ گیا ہے۔ میں پہلے نماز پڑھوں گا پھر کام کروں گا۔ جب اس کی وفات ہوئی تو کسی کو خواب میں نظر آیا اس نے پوچھا کہ کیا بنا؟ کہنے لگا کہ مجھے امام احمد بن حنبل کے نیچے والا درجہ عطا کیا گیا۔ اس نے پوچھا کہ تمہارا علم اور عمل اتنا تو نہیں تھا۔ اس نے جواب دیا کہ میں اللہ کے نام کا ادب کرتا تھا اور اذان کی آواز سنتے ہی کام روک دیتا تھا تاکہ نماز ادا کروں۔ اس ادب کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مجھ پر مہربانی فرمادی۔

### ﴿۱۱۶﴾ خواب میں اذان دینا عزت بھی اور ذلت بھی

امام ابن سیرین کے پاس ایک شخص نے آ کر کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ خواب کی حالت میں اذان دے رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا تجھے عزت نصیب ہوگی کچھ عرصے کے بعد اس شخص کو عزت ملی۔ دوسرے شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ اذان دے رہا ہے۔ ابن سیرین نے فرمایا کہ تجھے ذلت ملے گی۔ وہ شخص کچھ عرصہ بعد چوری کے جرم میں گرفتار ہوا اس کے ہاتھ کاٹے گئے۔ ابن سیرین کے ایک شاگرد نے پوچھا کہ حضرت دونوں نے ایک جیسا خواب دیکھا مگر تعبیر مختلف کیوں ہوئی؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب پہلے نے اذان دیتے ہوئے دیکھا تو میں نے اس شخص میں نیکی کے آثار دیکھے تو مجھے قرآن کی یہ آیت سامنے آئی: (وَإِذْ نَفِی النَّاسَ بِالْحَبَشَةِ) (سورہ الحج: آیت ۲۷) ”اور پکار دے لوگوں کو حج کے واسطے۔“ میں نے تعبیر دی کہ اسے عزت ملے گی۔ جب دوسرے نے خواب سنایا تو اس کے اندر فسق و فجور کے آثار تھے مجھے قرآن مجید کی یہ آیت سامنے آئی (فَمَنْ أَذِنَ لَكُمْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا) (سورہ یوسف: آیت ۷۰) ”پھر پکارا پکارنے والے نے اے قافلہ والو! تم تو اہل بدعت چور ہو۔“ پس میں نے تعبیر یہ لی کہ اس شخص کو ذلت ملے گی چنانچہ ایسا ہی ہوا۔

### ﴿۱۱۷﴾ مسجد کے آداب

(ہماری جماعتیں بہت اہتمام سے یہ مضمون پڑھیں)

مسجدیں اللہ کے گھر ہیں اور اس کے دربار ہیں۔ دربار شاہی کے کچھ آداب ہوتے ہیں ان آداب کی خلاف ورزی کرنے والا گستاخ سمجھا جاتا ہے اور ان آداب کی رعایت رکھنے والا بادشاہ کا مقرب بھی ہوتا ہے اور اس کے کام بھی بنتے ہیں اور اس کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ قرآن وحدیث میں مساجد کے آداب واحکام بیان ہوئے ہیں کہ مساجد میں کیا کرنا ہے اور کن چیزوں سے احتیاط کرنا ہے۔ ہماری جماعتیں عام طور سے ان آداب کا خیال نہیں رکھتی ہیں اس لیے تفصیل سے آداب مسجد بیان کیے جاتے ہیں تاکہ جماعتوں میں جانے والے ان آداب کا خاص خیال رکھیں۔

① خدا کی نظر میں روئے زمین کا سب سے بہترین حصہ وہ ہے جہاں مسجد تعمیر ہو خدا سے پیار رکھنے والے کی پہچان یہ ہے کہ وہ مسجد سے بھی پیار رکھے۔ قیامت کے خوفناک دن میں خدا اس شخص کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہو۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَةٌ يَخْلَعُهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ وَفِيهِمْ رَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي ۝ (متفق عليه رياض الصالحين باب فضل البكاء من خشية الله)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سات قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں رکھیں گے جس دن کہ اس کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا ان میں ایک وہ شخص ہے جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے۔  
 ④ فرض نمازیں ہمیشہ مسجد میں جماعت سے پڑھے مسجد میں جماعت اور اذان کا باقاعدہ نظم رکھے اور مسجد کے نظام سے اپنی پوری زندگی کو منظم کیجئے۔ مسجد ایک ایسا مرکز ہے کہ مومن کی پوری زندگی اسی کے گرد گھومتی ہے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ لِلْمَسْجِدِ أَوْلَادًا الْمَلَائِكَةُ جُلَسَاءُ وَهُمْ إِنْ غَابُوا يَفْتَقِدُونَهُمْ وَإِنْ مَرَضُوا عَادُوهُمْ وَإِنْ كَانُوا فِي حَاجَةٍ عَانُوهُمْ وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلِيسُ الْمَسْجِدِ عَلَى ثَلَاثِ حِصَالٍ: أَوْ مُسْتَفَادٌ أَوْ كَلِمَةٌ مُحْكَمَةٌ أَوْ رَحْمَةٌ مُنْتَظَرَةٌ ۝ (رواه احمد)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرماتے ہیں جو لوگ کثرت سے مسجد میں جمع رہتے ہیں وہ مسجدوں کے کھونٹے ہیں فرشتے ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں اگر وہ مسجدوں میں موجود نہ ہوں تو فرشتے انہیں تلاش کرتے ہیں اگر وہ بیمار ہو جائیں تو فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں۔ آپ ﷺ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مسجد میں بیٹھنے والے تین فائدوں میں سے ایک فائدہ حاصل کرتا ہے۔ کسی بھائی سے ملاقات ہوتی ہے جس سے کوئی دینی فائدہ ہو جاتا ہے یا کوئی حکمت کی بات سننے کو مل جاتی ہے یا اللہ کی رحمت مل جاتی ہے جس کا ہر مسلمان کو انتظار رہتا ہے۔

⑤ مسجد کو صاف ستھرا رکھیے مسجد میں جھاڑو دیجئے، کوڑا کرکٹ صاف کیجئے، خوشبو سلگائیے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَتْ تَقْرَأُ الْمَسْجِدَ فَلَقَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عَنْهَا بَعْدَ أَيَّامٍ فَقِيلَ لَهُ إِنَّهَا مَاتَتْ فَقَالَ فَهَلَا آذَنَّا نَمُوتِي فَأَتَى قَبْرَهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا ۝ (متفق عليه)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک کالی عورت مسجد میں جھاڑو لگاتی تھی حضور ﷺ نے کچھ دنوں تک اس عورت کو نہیں پایا تو اس کے بارے میں سوال کیا۔ حضور سے کہا گیا کہ اس کا تو انتقال ہو چکا ہے تو حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے کیوں خبر نہ دی۔ حضور ﷺ نے اس کی قبر پر آئے اور نماز پڑھی۔

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَنَا وَالْمَسَاجِدِ فِي الدُّعْرِ وَأَنْ تَغْتَلَفَ وَتُطَيَّبَ ۝ (رواه احمد و ترمذی)

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ نے ہمیں حکم دیا کہ محلوں میں مسجدیں بنائیں، مسجدوں کو صاف ستھرا رکھیں اور مسجدوں میں خوشبو سلگائیں۔

⑥ مسجد میں سکون سے بیٹھئے اور دنیا کی باتیں نہ کیجئے۔ مسجد میں شور مچانا، ٹھٹھا مذاق کرنا، بازار کا بھاؤ پوچھنا اور بتانا، دنیا کے حالات پر تبصرہ کرنا اور خرید و فروخت کا بازار گرم کرنا مسجد کی بے حرمتی ہے۔ مسجد خدا کی عبادت کا گھر ہے اس میں صرف عبادت کیجئے۔ اسی طرح مسجد میں ایسے چھوٹے بچوں کو نہ لے جائیے جو مسجد کے احترام کا شعور نہ رکھتے ہوں اور مسجد میں پیشاب، پاخانہ کریں یا تموکیں۔ اسی طرح مسجد میں تیر اور گوار نہ نکالیں۔

عَنْ وَائِلَةَ بِنِ الْأَسْعَدِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: جَنَّبُوا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكُمْ وَمَجَالِسَكُمْ وَشِرَاءَكُمْ وَبَيْعَكُمْ وَمَعْصُومَاتِكُمْ وَرَفَعَ أَصْوَابِكُمْ وَأَقَامَةَ حُدُودِكُمْ وَسَلَّ سَوْفِكُمْ ..... (ابن ماجہ باب بركة المسجد)

ترجمہ: حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ مسجدوں سے دور رکھو (یعنی مسجدوں میں نہ لے جاؤ) اپنے بچوں کو، مجنوںوں کو، خرید و فروخت کو، جھگڑوں کو، شور و غل کو، حدود قائم کرنے کو اور تلواریں کے نکالنے کو۔

⑤ مسجد میں تھوکنے سے احتیاط کرو۔

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبُهَاقُ فِي الْمَسْجِدِ مَحْطَبَةٌ وَكَفَّارُهَا دَفْهَانٌ

(رواہ البخاری و مسلم)

حضرت انس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ مسجد میں تھوکنا گناہ ہے اور (اگر تھوک دیا تو) اس کا کفارہ اس تھوک کو صاف کرنا ہے۔

⑥ اگر آپ کی کوئی چیز کہیں باہر گم ہو جائے تو اس کا اعلان مسجد میں نہ کیجئے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَتَشَدُّ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَقُولُوا لَارْتَعَا اللَّهُ عَلَيْهِ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم کسی کو دیکھو کہ وہ مسجد میں اپنی گمشدہ چیز کا اعلان کر رہا ہے تو اس کو بددعا دو اور کہو کہ اللہ یہ چیز تجھے واپس نہ کرے۔

⑦ مسجد کو گزرنا گناہ ہے، مسجد کے دروازے میں داخل ہونے کے بعد مسجد کا یہ حق ہے کہ آپ اس میں نماز پڑھیں یا بیٹھ کر تلاوت کریں۔

⑧ مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے دایاں پاؤں رکھیے اور نبی کریم ﷺ پر درود سلام بھیجئے پھر یہ دعا پڑھیے۔ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے تو پہلے نبی کریم ﷺ پر درود بھیجے اور پھر یہ دعا پڑھیے:

اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ ۝ (مسلم)

اے خدا! میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔

اور مسجد میں داخل ہونے کے بعد دو رکعت نفل پڑھیے اس نفل کو تجزیۃً المسجد کہتے ہیں اسی طرح جب کبھی سفر سے واپسی ہو تو سب سے پہلے مسجد پہنچ کر دو رکعت نفل پڑھیے اور اس کے بعد اپنے گھر جائیے نبی کریم ﷺ پر بھیجئے جب بھی سفر سے واپس ہوتے تو پہلے مسجد میں جا کر نفل پڑھتے اور پھر اپنے گھر تشریف لے جاتے۔

⑨ مسجد سے نکلنے وقت دایاں پاؤں باہر رکھیے اور یہ دعا پڑھیے:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ ۝ (مسلم)

اے خدا! میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔

⑩ مسجد میں باقاعدہ اذان اور نماز باجماعت کا نظم قائم کیجئے۔ اور مؤذن اور امام ان لوگوں کو بتائیے جو اپنے دین و اخلاق میں بحیثیت مجموعی سب سے بہتر ہوں۔ جہاں تک ممکن ہو کوشش کیجئے کہ ایسے لوگ اذان اور امامت کے فرائض انجام دیں جو معاوضہ نہ لیں اور اپنی خوشی سے اجر آخرت کی طلب میں ان فرائض کو انجام دیں۔

⑪ اذان کے بعد یہ دعا پڑھیں نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جس شخص نے اذان سن کر یہ دعا مانگی، قیامت کے روز وہ میری شفاعت کا حق دار ہوگا۔

اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالْعَمَلِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدَانَ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَأَبْنِعْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا كَالَّذِي وَعَدْتَهُ

(بخاری)

ترجمہ: اے اللہ! اس کامل دعوت اور اس گھڑی ہونے والی نماز کے مالک محمد ﷺ کو اپنا قرب اور فضیلت عطا فرما اور ان کو اس مقام محمود پر فائز کر جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔

④ مؤذن جب اذان دے رہا ہو تو اس کے کلمات سن سن کر آپ بھی دہرائیے البتہ جب وہ ”حسب علی الصلوٰۃ“ اور ”حسب علی الفلاح“ کہے تو اس کے جواب میں کہیے: ”لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ“ اور فجر کی اذان میں جب مؤذن ”الصلوٰۃ محمد من النور“ کہے تو جواب میں یہ کلمات کہے: ”صَدَقْتَ وَبَرَّرْتَ“

⑤ تکبیر کہنے والا جب ”قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوٰۃ“ کہے تو جواب میں یہ کلمات کہیے: ”اَقَامَهَا اللهُ وَأَقَامَهَا“ خدا سے ہمیشہ قائم رکھے۔

⑥ ہوشیار بچوں کو اپنے ساتھ مسجد میں لے جائیے ماؤں کو چاہیے کہ وہ ترفیب دے دے کر سمجھیں تاکہ بچوں میں شوق پیدا ہو اور مسجد میں ان کے ساتھ نہایت نرمی، محبت اور شفقت کا سلوک کیجئے۔

⑦ مسجد میں ڈرتے لرزتے جائیے اور داخل ہوتے وقت السَّلَامُ عَلَيْكُمْ کہیے اور خاموش بیٹھ کر اس طرح ذکر کیجئے کہ خدا کی عظمت و جلال آپ کے دل پر چھایا ہوا ہوتے ہوئے غفلت کے ساتھ مسجد میں داخل ہونا غافلوں اور بے ادبوں کا کام ہے جن کے دل خدا کے خوف سے خالی ہیں۔ بعض لوگ امام کے ساتھ رکوع میں شریک ہونے اور رکعت پانے کے لیے مسجد میں دوڑتے ہیں یہ مسجد کے احترام کے خلاف ہے رکعت ملے نہ ملے سنجیدگی و وقار اور عاجزی کے ساتھ مسجد میں چلیے اور بھاگ دوڑ سے پرہیز کیجئے۔

⑧ مسجد میں نماز کے لیے ذوق و شوق سے جائیے۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”جو لوگ صبح کے اندھیرے میں مسجد کی طرف جاتے ہیں قیامت میں ان کے ساتھ کامل روشنی ہوگی اور یہ بھی فرمایا: نماز باجماعت کیلئے مسجد میں جانے والے کا ہر قدم ایک نیکی کو واجب کرنا اور ایک گناہ کو مٹانا ہے۔ (ابن ماجہ)

⑨ بعض لوگ مساجد میں اپنے موبائل چارج کرتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ مسجد کی تمام چیزیں موقوفہ ہیں اور اس طرح کی حرکت کرنا خیانت ہے اگر چارج کرنا ضروری ہو تو مسجد کے اطراف سے کسی دوکان میں چارج کر لیں اور اگر مسجد ہی میں چارج کر لیا تو اندازہ سے اتنی رقم مسجد میں دے دے۔ اسی طرح مسجد میں داخل ہونے سے پہلے موبائل بند کر دیں اس لیے کہ اس کی گھنٹی سے نمازیوں کی نمازوں میں خلل واقع ہوگا۔

⑩ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو شخص با وضو فرض نماز کے لیے چل کر مسجد جاتا ہے اس کا ثواب محرم حاجی کی طرح ہوتا ہے اور جو چاشت کی نماز کی غرض سے چل کر جاتا ہے اور صرف چاشت کی نماز کا ارادہ ہی اس کو کھڑا کرتا ہے اس کا ثواب عمرہ کرنے والے کے ثواب کے برابر ہوتا ہے۔ اور (ایک) نماز کے پیچھے (دوسری) نماز علیہم السلام میں لکھ دی جاتی ہے۔ لغوی اور طبرانی نے حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث مذکور ان الفاظ کے ساتھ بیان کی ہے جو شخص فرض نماز کے لیے پیدل چل کر مسجد گیا تو یہ نماز نفل کی حج طرح ہوگی اور جو شخص نفل نماز کے لیے پیدل چل کر گیا تو یہ نماز نفل عمرہ کی طرح ہوگی۔ (تفسیر مظہری جلد ۸ صفحہ ۳۸۲)

⑪ اذان و اقامت سننے کی حالت میں نہ کلام کرے نہ سلام کرے اور نہ سلام کا جواب دے (یعنی مناسب نہیں ہے اور خلاف اولیٰ ہے)۔ اذان اور اقامت کے وقت قرآن شریف بھی نہ پڑھے اور اگر پہلے سے پڑھ رہا ہے تو پڑھنا چھوڑ کر اذان یا اقامت کے سننے اور جواب دینے میں مشغول ہو بہ افضل ہے اور اگر پڑھتا رہے تب بھی جائز ہے۔ اگر اقامت کے وقت دعا میں مشغول ہو تو مضائقہ نہیں۔ (فضائل اذان و اقامت، مصنف: عبدالرحمن ہاشمی)

⑫ مسجد میں اجازت کے بغیر پکھا اور لائٹ استعمال نہ کرے۔

## (۱۱۸) حدیث اور صاحب کا مقام رفیع

حدیث قدسی میں وارد ہے: "لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْوَالِدَانَ".

(اے محبوب! اگر آپ نہ ہوتے تو میں کائنات کو پیدا ہی نہ کرتا۔)

یعنی اگر محسن انسانیت حضرت محمد ﷺ کی دنیا میں تشریف آوری نہ ہوتی تو یہ جن و بشر، شمس و قمر، شجر و حجر، بحر و بر، پھولوں کی مہک، چڑیوں کی چمک، سبزے کی لہک، سماء و سمک، رفعت و ہستی، خوشحالی و بدحالی، زمین کی نرمی، سورج کی گرمی، دریا کی روانی، کواکب آسمانی، خزاں و بہار، بیابان و مرغزار، نباتات و جمادات، جواہر و معدنیات، جنگل کے درندے، ہوا کے پرندے، غرض کائنات کی کسی چیز کا نام و نشان نہ ہوتا۔ پھر موجودات سید الاولیاء میں محبوب رب العالمین ﷺ وہ ذات ستودہ صفات ہیں کہ:

- ① جن کی خاطر کائنات ہست و بود کو وجود ملا۔
- ② جن کی برکت سے انسانیت کو شعور ملا۔
- ③ جن کے گلے میں لَوْلَاكَ کا ہار پہنایا گیا۔
- ④ جن کو (رَفَعْنَاكَ وَ مَكَّرْنَا) کا تاج پہنایا گیا۔
- ⑤ جن کی برکت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سیادت کا تمغہ ملا۔
- ⑥ جن کا کلمہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگلی پر کندہ تھا۔
- ⑦ جن کے حسن و جمال کا پرتو حضرت یوسف علیہ السلام کو ملا۔
- ⑧ جن کے صبر کا نمونہ حضرت ایوب علیہ السلام کو ملا۔
- ⑨ جن کے قرب کا ایک لمحہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مکالمات کی صورت میں ملا۔
- ⑩ جن کے مرتبے کا ایک حصہ حضرت ہارون علیہ السلام کو وزارت کی صورت میں ملا۔
- ⑪ جن کی نعت کا ایک مصرع حضرت داؤد کا نغمہ بنا۔
- ⑫ جن کی عفت کا شہ عصمتِ یحییٰ علیہ السلام کو جلوہ بنا۔
- ⑬ جن کے دفتر حکمت کی ایک سطر حضرت لقمان کو نصیب ہوئی۔
- ⑭ جن کی رفعت و بلندی کی ایک جھلک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نصیب ہوئی۔
- ⑮ جن کا وجود مسعود عانے غلیل اور نوید مسیحا بنا۔
- ⑯ جن کی آمد کی برکت سے لشکرِ ابرہہ "مَغْصَبٌ مَّا كُوْلُ" بنا۔
- ⑰ جن کی ولادت باسعادت سے فارس کے آتش کدے بجھے۔
- ⑱ جن کو بعثت سے ہی صادق امین کا لقب ملا۔
- ⑲ جن کی انگشت مبارک کے اشارے پر چاند و نخت ہوا۔
- ⑳ جن کی رسالت کی گواہی جمادات نے بھی دی۔
- ㉑ جن کے در اقدس کے خاک نشین صدیق اکبر ﷺ بنے۔
- ㉒ جن کے خرمین ایمان کے ریزہ چیس فاروق اعظم ﷺ بنے۔
- ㉓ جن کے حیر علم کے چیمپنوں سے علی المرتضیٰ ﷺ باب العلم بنے۔
- ㉔ جن کے حیا کی کرن سے عثمان غنی ﷺ ذی النورین بنے۔
- ㉕ جن کے شہر کورب کائنات نے "بلد امن" کہا۔
- ㉖ جن پر نازل ہونے والی کتاب کو "کتاب مبین" بتلایا۔
- ㉗ جن پر رب کریم اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں۔
- ㉘ جن کی امت کو خیر الامم کے نام سے یاد کرتے ہیں۔

اس خاصہ خاصانِ رسل کے آداب بجالانے کی تاکید کیجئے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِّتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعَزَّوْهُ وَتُوقِرُوهُ (سورہ فتح: آیت ۹۸)

"یقیناً ہم نے تجھے گواہی دینے والا، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا تا کہ (اے مسلمانو!) تم اللہ تعالیٰ اور اس کے

رسول ﷺ پر ایمان لاؤ اور ان کی مدد کرو اور ان کا ادب کرو۔"

(۱۱۹) حدیث نبوی علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کا ادب

وہ شاہد ائمہ و سر اہل وجود و کرم و ماہ فضل و کمال وہ سر اہل احسن و جمال کہ:

- ۱ جن کی آمد کی خوشخبری ہر الہامی کتاب میں دی گئی۔
- ۲ جن کے حسن و جمال کا تذکرہ قرآن مجید میں آیا۔
- ۳ جن کی مبارک اظہار سے پانی کا چشمہ اُبل پڑا۔
- ۴ جن کا مبارک پسینہ خشک و غیر سے بھی زیادہ خوشبودار تھا۔
- ۵ جن کی ولادت باسعادت پر شیاطین کو آسمان پر جانے سے روک دیا گیا۔
- ۶ جن کا قرین اور موکل جن بھی مسلمان ہو گیا۔
- ۷ جن کو رحمۃ اللعالمین بنا کر بھیجا گیا۔
- ۸ جن کے حجرہ اور منبر کا درمیانی حصہ بہشت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔
- ۹ جن کو قیامت کے دن مقام محمود عطا کیا جائے گا۔
- ۱۰ جن سے دین کی تبلیغ پر قیامت کے دن گواہی طلب کی جائے گی۔
- ۱۱ جن پر نازل ہونے والی کتاب جنت میں بھی پڑھی جائے گی۔
- ۱۲ جن کی زبان عربی الہی جنت کی زبان بنا دی جائے گی۔
- ۱۳ جن کے خیر مقدم کے لیے کائنات کو دلہن کی طرح سجایا گیا۔ بقول شخصے:

کتاب فطرت کے سرورق پر جو نام احمد ﷺ لکھا گیا نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا وجود لوح قلم نہ ہوتا  
زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا عرب نہ ہوتا عجم نہ ہوتا یہ محفل کن نکاں نہ ہوتی اگر وہ شاہد ائمہ نہ ہوتا

قاضی عیاض رحمہ اللہ کتاب الشفاء میں فرماتے ہیں کہ وہ تمام چیزیں جن کو سیدنا رسول اللہ ﷺ سے نسبت ہے ان کی تعظیم و تکریم کرنا حرمین میں آپ ﷺ کے مشاہد و مساکن کی تعظیم کرنا اور وہ چیزیں جو آپ ﷺ کے نام سے پکاری جاتی ہوں یا جن کو آپ نے اپنے دست مبارک سے چھوا ہو ان سب کا ادب و اکرام کرنا اور حقیقت نبی کریم ﷺ ہی کے اکرام میں داخل ہے۔ سلف صالحین کا دستور تھا کہ جن محفلوں میں حدیث نبوی سنی یا سنائی جاتی ان محفلوں میں باادب اور باوقار بیٹھتے جس طرح صحابہ کرام نبی کریم ﷺ کی خدمت میں باادب ہو کر بیٹھتے تھے۔ یہ سب اس لیے تھا کہ وہ حدیث رسول کے ادب کو درحقیقت رسول اللہ ﷺ کا ادب تصور کرتے تھے۔

(۱۲۰) حدیث مبارک پڑھنے یا پڑھانے اور سننے یا سنانے کی مجالس کے چند آداب

- ۱ افضل درجہ تو یہ ہے کہ غسل کر لیا جائے اگر یہ نہ ہو سکے تو کم از کم پاؤں کو شامل مجلس ہونا۔
- ۲ جسم اور کپڑوں پر خوشبو لگانا۔
- ۳ پڑھنے والے کے لیے حدیث مبارک اونچی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا۔
- ۴ جب حدیث مبارک پڑھی جائے تو آواز کو پست رکھنا۔
- ۵ سننے والوں کے لیے حدیث مبارک خاموشی سے سنانا۔
- ۶ حدیث مبارک پڑھنے یا پڑھانے کے دوران اگر کوئی مہمان بھی آجائے تو اس کی تعظیم کے لیے نہ اٹھنا۔
- ۷ اگر کوئی حدیث مبارک پہلے پڑھی یا سنی ہو تو اسے بھی اس طرح پوری توجہ سے سنانا جیسے پہلی دفعہ سن رہا ہو۔

## (۱۲۱) حدیث شریف کے ادب کے تعلق سے چند واقعات

پہلا واقعہ:

ایک شخص نے حضرت مالوتوی رضی اللہ عنہ کو سبز رنگ کا نہایت خوبصورت جوتا ہدیہ پیش کیا، آپ نے ہدیہ کو سنت کی نیت سے قبول تو فرمایا مگر جوتے کو استعمال نہ کیا۔ کسی کے پوچھنے پر فرمایا: قاسم کو زیب نہیں دیتا کہ گنبد خضریٰ کا رنگ بھی سبز ہو اور میرے جوتے کا رنگ بھی سبز ہو، سبز رنگ کا جوتا پہننا میرے نزدیک بے ادبی ہے۔

دوسرا واقعہ:

کسی شخص نے حضرت گنگوئی رضی اللہ عنہ کو ایک کپڑا پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ مدینہ منورہ سے لایا ہوں۔ آپ نے اُس کپڑے کو بوسہ دیا اور آنکھوں سے لگایا۔ ایک طالب علم نے کہا: حضرت! یہ تو غیر ملکی کپڑا ہے، مدینے کا بنا ہوا تو نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا: جس ملک کا بھی بنا ہوا ہو، اسے دیا پر محبوب رضی اللہ عنہ کی ہوا تو لگی ہے۔ عشق نبوی اور ادب نبوی کی کتنی عمدہ مثال ہے۔

تیسرا واقعہ:

حضرت امام بخاری رضی اللہ عنہ کے استاد امام عبدالرحمن بن مہدی (المتوفی ۱۹۸ھ) کا یہ معمول تھا کہ جب ان کے سامنے حدیث پاک پڑھی یا سنائی جاتی تو وہ لوگوں کو خاموش رہنے کا حکم دیتے اور فرماتے (لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ) کہ اپنی آوازوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند نہ کرو اور یہ بھی فرماتے کہ حدیث شریف پڑھتے پڑھاتے وقت خاموش رہنا اسی طرح لازم ہے جس طرح آپ کے دنیا میں ارشاد فرماتے وقت لازم تھا۔ (مدارج النبوة)

چوتھا واقعہ:

رئیس البعین حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ (المتوفی ۹۳ ہجری) بیمار ہونے کی وجہ سے ایک پہلو پر لیٹے ہوئے تھے، اتنے میں ایک شخص نے ان سے ایک حدیث کے متعلق دریافت کیا: وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے اور حدیث بیان کی۔ سائل نے کہا کہ آپ نے اتنی تکلیف کیوں کی۔ فرمایا: میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کروٹ کے بل لیٹے لیٹے بیان کروں۔ (مدارج النبوة جلد ۱ صفحہ ۵۴)

پانچواں واقعہ:

جب لوگ امام مالک رضی اللہ عنہ کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آتے تو ایک خادمہ ان لوگوں سے پہلے دریافت کرتی کہ حدیث مبارک کے لیے آئے ہو یا فقہی مسائل معلوم کرنے کے لیے؟ اگر وہ کہتے کہ مسائل معلوم کرنے کے لیے آئے ہیں تو امام مالک فوراً نکل آتے۔ اگر وہ کہتے کہ ہم حدیث مبارک کی سماعت کے لیے آئے ہیں تو امام مالک غسل کر کے خوشبو لگاتے اور نیا لباس زیب تن کر کے باہر تشریف لاتے۔ آپ کے لیے ایک تخت بچھایا جاتا جس پر بیٹھ کر آپ حدیث بیان فرماتے۔ اثنائے روایت مجلس میں عود (خوشبو) کی دھونی دی جاتی۔ کسی طالب علم نے اس اہتمام کی وجہ پوچھی تو فرمایا: میں چاہتا ہوں کہ اس طرح سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تعظیم کروں۔

چھٹا واقعہ:

حضرت شاہ عبدالعزیز رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ درس حدیث میں مشغول تھے کہ انہیں سخت پیاس کی وجہ سے حلق اتنا خشک محسوس ہوا کہ بولنا

بھی مشکل ہو گیا۔ انہوں نے ایک طالب علم سے فرمایا: پانی لے آؤ۔ طالب علم جب گھر پہنچا اور پینے کے لیے پانی طلب کیا تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ سن کر بہت پریشان ہوئے اور فرمایا: "افسوس! ہمارے خاندان سے علم رخصت ہو گیا۔" اہلیہ صاحبہ نے کہا کہ آپ جلدی نہ کریں چنانچہ انہوں نے پانی کے گلاس میں سرکہ ملا کر بھیجا۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے پی لیا اور انہیں پتہ ہی نہ چلا کہ پانی میں سرکہ ملا ہوا ہے۔ جب شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ صورتحال معلوم ہوئی تو فرمایا: "الحمد للہ! ابھی ہمارے خاندان میں علم باقی ہے۔"

ساتواں واقعہ:

امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ادب کی وجہ سے امام اعظم بنے۔ حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ کا بہت ادب و احترام کیا کرتے تھے جب کبھی ان کی والدہ صاحبہ کو مسئلہ معلوم کرنا ہوتا تو وہ ایک سن رسیدہ فقیہ سے دریافت کرتیں ایسے موقع پر امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ کو اونٹ پر سوار کرتے اور خود گھیل پکڑ کر پیدل چلتے۔ جب لوگ دیکھتے تو ادب و احترام کی وجہ سے راستے کے دونوں طرف کھڑے ہو کر سلام کرتے۔ امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ان سے مسئلہ دریافت کرتیں کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ معترفیہ کو مسئلہ کا صحیح حل معلوم نہ ہوتا تو وہ زیر لب امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھ لیتے۔ پھر اونچی آواز سے آپ کی والدہ کو بتا دیتے۔ امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تواضع اور ادب کا یہ عالم تھا کہ ساری زندگی اپنی والدہ پر یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ جو مسائل آپ ان سے پوچھتی ہیں وہ میں ہی تو بتاتا ہوں۔ یہ سب اس لیے تھا کہ والدہ صاحبہ کی طبیعت جس طرح مطمئن ہوتی ہے ہونی چاہیے اس ادب و احترام کے صدقے ہی امام اعظم بنے۔

آخر میں دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہم سب کو حدیث اور صاحب حدیث کا ادب کرنے کی بھرپور توفیق عطا فرمائے اس لیے کہ ادب ہی سے انسان درجہ کمال کو پہنچتا ہے اور بے ادب محروم رہتا ہے۔

### ﴿۱۲۲﴾ سات عجیب و غریب سوال اور سات عجیب و غریب جواب

ایک آدمی امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور ایک عجیب و غریب سوال کیا کہ آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو جو:

- ① بن دیکھے گواہی دیتا ہو۔
- ② یہود و نصاریٰ کے قول کی تصدیق کرتا ہو۔
- ③ اللہ کی رحمت سے دور بھاگتا ہو۔
- ④ مردار کھا لیتا ہو۔
- ⑤ جس کی طرف اللہ نے بلایا ہوا اس کی پرواہ نہ کرتا ہو۔
- ⑥ جس سے اللہ نے ڈرایا ہوا اس کا خوف نہ کرتا ہو۔
- ⑦ فتنے کو محبوب رکھتا ہو۔

امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: وہ شخص مومن ہے سوال پوچھنے والا بڑا حیران ہوا کہنے لگا: جی وہ کیسے؟ فرمایا:

① دیکھو! تم نے کہا کہ بن دیکھے گواہی دیتا ہو تو مومن اپنے پروردگار کی بن دیکھے گواہی دیتا ہے۔

② دیکھو! تم نے کہا کہ یہود و نصاریٰ کے قول کی تصدیق کرتا ہو قرآن میں آیا ہے:

(وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَمَسَّتِ النَّصَارَىٰ عَنِّي شَيْءٌ وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَمَسَّتِ الْيَهُودُ عَلَيَّ شَيْءٌ) (سورۃ البقرہ: ۱۱۳)

"یہود کہتے ہیں کہ نصاریٰ حق پر نہیں اور نصاریٰ کہتے ہیں کہ یہودی حق پر نہیں۔" تو مومن ان دونوں کے اس قول کی تصدیق کرتا ہے۔

③ دیکھو! تم نے کہا کہ اللہ کی رحمت سے دور بھاگتا ہے۔ تو دیکھو! بارش اللہ کی رحمت ہے اور بارش سے تو ہر بندہ بھاگتا ہے کہ کہیں کپڑے نہ بھیگ جائیں۔

④ دیکھو! تم نے کہا کہ مردار کھاتا ہے تو مچھلی مردہ ہوتی ہے اس کو تو ہر بندہ مزے لے لے کر کھاتا ہے۔

⑤ دیکھو! تم نے کہا کہ جس کی طرف اللہ نے بلایا ہے اس کی طرف رغبت نہیں کرتا پس وہ جنت ہے کہ اللہ نے اس کی طرف بلایا ہے:



(واللہ یدْعُوْا اِلٰی دَارِ السَّلَامِ) مگر اس کو مشاہدہ حق اتنا مطلوب ہے اللہ کی رضا اتنی مطلوب ہے کہ محبوب حقیقی کی طرف سے نظر ہٹا کر وہ جنت کی طرف نظر ڈالنا کبھی پسند نہیں کرتا۔

① دیکھو! تم نے کہا کہ جس سے اللہ نے ڈرایا ہے اس سے وہ ڈرتا نہیں تو وہ دوزخ ہے اس کو اپنے محبوب کی ناراضگی کی اتنی فکر رہتی ہے کہ جہنم میں جلنے کی پروا نہیں کرتا۔

② دیکھو! تم نے کہا کہ اُسے فتنہ محبوب ہے پس اولاد کو قرآن میں فرمایا گیا: (اِنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ) (سورہ تھائین: آیت ۱۵) اور اولاد سے ہر شخص کو طبعی محبت ہوتی ہے۔ پس وہ شخص مومن ہے سوال پوچھنے والا حیران رہ گیا۔

ایک اور آدمی حضرت امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ ہر سوال کا جواب دیتے ہیں۔ فرمایا کہ تم بھی پوچھو۔ کہنے لگا: آپ یہ بتائیں کہ پاخانہ بیٹھا ہوتا ہے یا نمکین؟ آپ نے فرمایا کہ بیٹھا ہوتا ہے کہنے لگا: آپ کے پاس اس کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا کہ نمکین چیز پر کھیاں نہیں پھنستیں ہمیشہ میٹھی چیز پر پھنکتی ہیں۔

(۱۲۳) حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے روتے ہوئے کہا کہ اے اللہ!

تیری راتیں بہت چھوٹی ہو گئی ہیں میں نے دو رکعت کی نیت کی اور تیری رات ختم ہو گئی

ایک وقت تھا کہ عورتیں سارا دن گھر کے کام کارہ میں مصروف رہتی تھیں اور جب رات آتی تھی تو مصلیٰ پر رات گزار دیا کرتی تھیں۔ سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ سردیوں کی لمبی رات تھی عشاء کی نماز پڑھ کر دو رکعت نفل کی نیت باندھ لی طبیعت میں ایسا سرور تھا ایسا مزہ تھا خلوات قرآن میں ایسی خلوات نصیب ہوئی کہ پڑھتی رہیں حتیٰ کہ جب سلام پھیرا تو دیکھا کہ صبح کا وقت ہونے کو ہے تو رونے بیٹھ گئیں اور یہ دعا کرنے لگیں کہ اے اللہ! تیری راتیں بھی چھوٹی ہو گئیں کہ میں نے دو رکعت کی نیت باندھی اور تیری رات ختم ہو گئی۔ ایک وہ عورتیں تھیں جن کو راتوں کے چھوٹا ہونے کا شکوہ ہوا کرتا تھا آج ہماری مائیں بہنیں ہیں جن میں سے قسمت والیوں کو پانچ وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔

(۱۲۴) آپ کا شوہر جب تجارت کے لیے جائے تو

آپ چاشت کی نماز پڑھ کر برکت کی دعا کریں تو روزی میں برکت ہوگی

ایک وقت تھا جب کہ خاوند حضرات تجارت کے لیے گھر سے نکلا کرتے تھے تو ان کی بیویاں مصلیٰ پر بیٹھ کر چاشت کی نمازیں پڑھا کرتی تھیں۔ ان کی بیویاں اپنے دامن پھیلا کر اللہ سے دعائیں مانگتی تھیں۔ اے اللہ! میرا خاوند اس وقت رزق حلال کے لیے گھر سے نکل پڑا ہے اس کے رزق میں برکت عطا فرما اس کے کام میں برکت عطا فرما عورت رورؤ کر ڈعا مانگ رہی ہوتی تھی اللہ تعالیٰ مرد کے کام میں برکت دے دیتے تھے۔ مسلمان معاشرے میں عورت گھر کی ملکہ کا درجہ رکھتی ہے۔ لہذا گھر کے ماحول کا دار و مدار عورت کی دینداری پر موقوف ہوتا ہے۔ عورتیں اگر نیک طبع ہوں گی تو بچوں کو بھی دینی رنگ سے رنگ کریں گی۔ پس مسلمان لڑکیوں اور عورتوں کو دینی تعلیم اور اخلاقی تربیت پر بالخصوص محنت کی ضرورت ہے۔ کسی نے سچ کہا ہے۔ ”مرد پڑھا فرد پڑھا عورت پڑھی خاندان پڑھا۔“ دانا یان فرنگ میں سے کسی کا قول ہے کہ ”تم مجھے اچھی مائیں دو میں تمہیں اچھی قوم دوں گا۔“

امت مسلمہ کو مسلمان لڑکیوں کی دینی تعلیم و تربیت پر محنت کرنے کی زیادہ ضرورت ہے تاکہ ہماری آنے والی نسلیں ماں کی گود سے ہی دین کی محبت اور عمدہ اخلاق کی دولت پائیں اور افاق عالم پر آفتاب و ماہتاب کی طرح نور برائیں۔

## (۱۲۵) پہلے زمانے میں عورتیں روٹیاں پکاتے پکاتے کئی پارے قرآن پڑھ لیا کرتی تھیں

جس طرح مرد عبادت کر کے اللہ رب العزت کا تعلق حاصل کر سکتا ہے اسی طرح عورت بھی عبادت کر کے اللہ رب العزت کا تعلق اور اس کی معرفت حاصل کر سکتی ہے۔ ایک صحابیہ رضی اللہ عنہا نے تنور پر روٹیاں پکوائیں اور ان کو اپنے سر پر رکھا اور چلتے ہوئے کہنے لگی اے بہن! میرے تو تین پارے بھی کھل ہو گئے اور میری روٹیاں بھی پگ گئیں۔ تب پتہ چلا کہ یہ عورتیں جتنی دیر روٹی پکنے کے انتظار میں بیٹھتی تھیں ان کی زبان پر قرآن جاری رہتا تھا حتیٰ کہ اس دوران میں تین تین پارے قرآن کی تلاوت کر لیا کرتی تھیں۔

## (۱۲۶) پہلے زمانے میں مائیں بچوں کو دودھ پلاتے پلاتے کئی پارے قرآن پڑھ لیتی تھیں

آج ہے کوئی ماں جو کہے کہ میں بچے کا یقین اللہ کے ساتھ بناتی ہوں؟ ہے کوئی ماں جو کہے کہ میں تو صبح شام کھانا کھلاتے ہوئے اپنے بچے کو ترغیب دیتی ہوں کہ ہر حال میں سچ بولنا ہے؟ ان چیزوں کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی۔ باپ ذرا سی نصیحت کر دے تو ماں فوراً کہتی ہے: بڑا ہوگا تو ٹھیک ہو جائے گا حالانکہ بچپن کی بری عادتیں بعد میں نہیں چھوڑتیں۔ آج تربیت نہ ہونے کی وجہ سے اولاد جب بڑی ہوتی ہے تو وہ اپنے باپ سے یوں نفرت کرتی ہے جیسے باپ سے نفرت کی جاتی ہے۔

ایک وقت تھا کہ عورت صبح کی نماز پڑھا کرتی تھی اور بچوں کو اپنی گود میں لے کر کبھی سورۃ یسین پڑھ رہی ہوتی تھی کبھی سورۃ واقعہ پڑھ رہی ہوتی تھی اس وقت بچے کے دل میں انوارات اتر رہے ہوتے تھے آج وہ مائیں کہاں گئیں جو صبح کے وقت بچے کو گود میں لے کر قرآن پڑھا کرتی تھیں؟ آج تو سورج نکل جاتا ہے مگر بچہ بھی سویا ہوا ہوتا ہے ماں بھی سوئی ہوئی ہوتی ہے۔ شام کا وقت ہوتا ہے بچے کو ماں نے گود میں ڈالا۔ ادھر بیٹے سے لگا کر دودھ پلا رہی ہے ساتھ ہی بیٹھی ٹی وی پر ڈرامہ دیکھ رہی ہے۔ اے ماں! جب تو ڈرامے میں غیر محرم کو دیکھے گی موسیقی سنے گی اور غلط کام کرے گی اور ایسی حالت میں بیٹے کو دودھ پلائے گی تو تیرا بیٹا بغدادی ہو جائے کیسے بنے گا! ہاں کہ تیرا بیٹا عبدالقادر جیلانی ہو جائے کیسے بنے گا؟

## (۱۲۷) ہیرا تم ڈھونڈنا اور قیمت ہم لگا دیں گے

بہاولپور میں ایک نواب صاحب نے مدرسہ بنوایا۔ اس نے مقامی علماء سے کہا کہ عورت میں بنوایا ہوں مگر آباد کیسے ہوگا؟ علماء نے کہا کہ ہم آپ کو ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بتائیں گے آپ انہیں لے آنا مدرسہ چل جائے گا۔ اس نے کہا: ہیرا تم ڈھونڈنا اور قیمت ہم لگا دیں گے۔ نواب صاحب کو بڑا ناز تھا پیسے کا۔ چنانچہ جب عمارت بن گئی تو اس نے علماء سے پوچھا: ہاں کون سا ہیرا ڈھونڈا ہے؟ کہنے لگے: قاسم نانوتوی اس نے علماء سے پوچھا کہ حضرت کی تنخواہ کتنی ہوگی؟ انہوں نے کہا کہ حضرت کی تنخواہ چار پانچ روپے ہو گی۔ اس دور میں اتنی ہی تنخواہ ہوتی تھی۔ کہنے لگا: جاؤ اور میری طرف سے حضرت کو سو روپیہ ماہانہ کا پیغام دے دو۔ اب جس آدمی کو پانچ روپے کے بجائے سو روپیہ ملنا شروع ہو جائیں تو کتنا فرق ہے۔ چنانچہ علماء بڑے خوش ہوئے جی ہاں! اب تو حضرت ضرور آ جائیں گے۔ دیوبند جا کر حضرت سے ملے حضرت نے ان کی خوب خاطر تواضع فرمائی پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگے: حضرت! نیا مدرسہ بنایا ہے آپ وہاں تشریف لائیں۔ نواب صاحب نے آپ کے لیے سو روپیہ ماہانہ مشاہرہ مقرر کیا ہے۔ حضرت نے فرمایا: بات یہ ہے کہ میرا مشاہرہ تو پانچ روپیہ ہے اس میں سے تین روپے میرے ذاتی خرچہ کے ہیں اور دو روپے میں غریبوں، مسکینوں اور یتیموں میں خرچ کرنا ہوں! اگر میں وہاں چلا گیا اور سو روپیہ تنخواہ ہو گئی تو میرا خرچ تو تین روپے رہے گا اور باقی ستانوے روپے غریبوں میں تقسیم کرنے کے لیے مجھے سارا دن ان کو ہی ڈھونڈنا پڑے گا اور میں پڑھا نہیں سکوں گا لہذا میں وہاں نہیں جا سکتا۔ ایسی دلیل دی کہ ان علماء کی زبانیں گنگ ہو

نہیں۔ اسے زہد فی الدنیا کہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیراً۔

ہمارے اکابرین علم کے ساتھ ساتھ ادب کا بھی خوب اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے ہمیشہ چار باتوں کی پابندی کی ہے۔

① ایک تو یہ کہ میری لامٹی کا جو سر از من پر لگتا تھا اس کو کبھی کبھی کی طرف کر کے نہیں رکھا۔ میں نے بیت اللہ شریف کا اتنا احترام کیا۔  
② دوسری بات یہ کہ میں اپنے رزق کا اتنا احترام کرتا تھا کہ چار پائی پر بیٹھتا تو خود ہمیشہ پانچٹی کی طرف بیٹھتا اور کھانے کو سر ہانے کی طرف رکھتا اس طرح بیٹھ کر کھانا کھاتا تھا۔

③ تیسری بات یہ کہ جس ہاتھ سے طہارت کرتا تھا اس ہاتھ میں پیسے نہیں پڑتا تھا، کیونکہ یہ اللہ کا دیا ہوا رزق ہے۔  
④ چوتھی بات یہ کہ جہاں میری کتابیں پڑی ہوتی ہیں میں اپنے استعمال شدہ کپڑوں کو ان دینی کتابوں کے اوپر کبھی نہیں لٹکایا کرتا تھا۔  
ایک دفعہ مفتی کفایت اللہ رحمہ اللہ نے طلباء سے پوچھا کہ بتاؤ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ اتنے زیادہ مشہور کیوں ہو گئے؟ کسی نے کہا: اچھے مفسر تھے۔ کسی نے کہا: اچھے محدث تھے اچھے شاعر تھے وہ منطق اچھی جانتے تھے۔ فرمایا نہیں کسی نے یہی سوال ایک مرتبہ حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھ لیا تو فرمایا: دو باتیں میرے اندر تھیں:

① جب مطالعہ کرتا تھا تو با وضو کرتا تھا۔ اور ② جب مجھے کتاب کا حاشیہ پڑھنے کی ضرورت پڑتی تھی اور حاشیہ دوسری طرف ہوتا تو میں اپنی جگہ چھوڑ کر دوسری طرف آ کر حاشیہ پڑھ لیتا تھا۔ حدیث کی کتابوں کو میں نے کبھی اپنے تالیخ نہیں کیا۔

### (۱۲۸) علماء کی تین قسمیں

سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء کی تین قسمیں ہیں:

- ① عالم باللہ اور عالم بامر اللہ یہ وہ عالم ہے جو اللہ سے ڈرتا اور اس کے حدود و فرائض کو جانتا ہے۔
- ② صرف عالم باللہ جو اللہ سے تو ڈرتا ہے لیکن اس کے حدود و فرائض سے بے علم ہے۔
- ③ صرف عالم بامر اللہ جو حدود و فرائض سے باخبر ہے لیکن خشیت الہی سے عاری ہے۔ (تفسیر سجد نبوی ص: ۱۷۷)

### (۱۲۹) لوگوں کی بد اعمالیوں کے باعث خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا ہے

(ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت الہدی الناس لیذیبہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون) (الروم: ۴۱)  
”خشکی اور تری میں لوگوں کی بد اعمالیوں کے باعث فساد پھیل گیا۔ اس لیے کہ انہیں ان کے بعض کرتوتوں کا پھل اللہ تعالیٰ چکھادے (بہت) ممکن ہے کہ وہ باز آجائیں۔“

تشریح: خشکی سے مراد انسانی آبادیاں اور تری سے مراد سمندر سمندری راستے اور ساحلی آبادیاں ہیں۔ فساد سے مراد ہر وہ بگاڑ ہے جس سے انسانوں کے معاشرے اور آبادیوں میں امن و سکون نہ رہے اور ان کے عیش و آرام میں خلل واقع ہو۔ اس لیے اس کا اطلاق معاصی و مبینات پر بھی صحیح ہے کہ انسان ایک دوسرے پر ظلم کر رہے ہیں اللہ کی حدود کو پامال اور اخلاقی ضابطوں کو توڑ رہے ہیں اور قتل و خونریزی عام ہو گئی ہے اور ان ارضی و سماوی آفات پر بھی اس کا اطلاق صحیح ہے جو اللہ کی طرف سے بطور سزا و تنبیہ نازل ہوتی ہیں۔ جیسے قحط کثرت موت خوف اور سیلاب وغیرہ۔ مطلب یہ ہے کہ جب انسان اللہ کی نافرمانی کو اپنا وطیرہ بنا لیں تو پھر مکافات عمل کے طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے اعمال و کردار کا رنج برائیوں کی طرف پھر جاتا ہے اور زمین فساد سے بھر جاتی ہے۔ امن و سکون ختم ہو جاتا

ہے اور اس کی جگہ خوف و دہشت سلب و نہب اور نزل و غارت گری عام ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بعض دفعہ آفات ارضی و سماوی کا بھی نزول ہوتا ہے۔ مقصد اس سے یہی ہوتا ہے کہ اس عام بگاڑ یا آفات الہیہ کو دیکھ کر شاید لوگ گناہوں سے باز آجائیں تو بہ کر لیں اور ان کا رجوع اللہ کی طرف ہو جائے۔

اس کے برعکس جس معاشرے کا نظام اطاعت الہی پر قائم ہو اور اللہ کی حدیں نافذ ہوں، ظلم کی جگہ عدل کا دور دورہ ہو۔ وہاں امن و سکون اور اللہ کی طرف سے خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے: ”زمین میں اللہ کی ایک حد کا قائم کرنا وہاں کے انسانوں کے لیے چالیس روز کی بارش سے بہتر ہے۔“ (النسائی کتاب قطع ید السارق باب الترغیب فی ائمة اللہ ابن ماجہ)

اسی طرح یہ حدیث ہے کہ ”جب ایک بدکار (فاجر) آدمی فوت ہو جاتا ہے تو بندے ہی اس سے راحت محسوس نہیں کرتے بلکہ شہر بھی درخت اور جانور بھی آرام پاتے ہیں۔“

(صحیح بخاری کتاب الرقاق باب سكرات الموت، مسلم کتاب جنازہ باب ماجاء فی مسزج و مسزج منہ بحوالہ تفسیر سجد نبوی ص ۱۱۳۵)

### (۱۳۰) دیہات میں عورتوں کے لیے تعلیم کی اہمیت و ضرورت

مسلم سماج میں لڑکیاں بہ نسبت لڑکوں کے مختلف قسم کی پابندیوں کا شکار ہیں۔ شریعت نے ان پر جو پابندیاں عائد کی ہیں وہ بالکل درست ہیں اور وہ ان پر عمل پیرا ہو کر کامیابی سے ہمکنار ہو سکتی ہیں۔ اس کے برعکس حالات کے مد نظر لوگوں کا لڑکیوں کے تئیں پرانا شیوہ اختیار کرنا کہاں تک درست ہے؟

لڑکے کسی حد تک اپنے مستقبل کو اپنے تصور میں لا سکتے ہیں، لیکن لڑکیوں کے لیے شادی سے پہلے اپنے مستقبل کا تصور کرنا ایک نہایت ہی مشکل امر ہے۔ کیونکہ ایک لڑکی یہ نہیں جانتی کہ اس کی آنے والی زندگی کسی گاؤں دیہات یا کسی شہر میں گزرے گی۔ گاؤں یا دیہات کے مقابلے شہر میں پڑھے لکھے لوگوں کی کثرت ہے جس کی وجہ سے شہروں میں شادی سے پہلے لڑکیاں کسی طرح کی پابندیوں کا شکار نہیں ہوتیں اور اپنے بہتر مستقبل کے بارے میں باسانی غور و فکر کر لیتی ہیں۔ اس کے برخلاف گاؤں دیہات میں والدین ناقص علم کی وجہ سے اپنے گھر کی لڑکیوں کو پرانے رسم و رواج کی زنجیر میں جکڑے رہتے ہیں۔ مثلاً لڑکیوں کی پڑھائی کو فضول سمجھنا، گھر سے باہر آنے جانے پر پابندی لگانا وغیرہ۔ بہر حال اسے والدین کی لاپرواہی نہیں کہہ سکتے بلکہ ان سب باتوں سے ماں باپ کا اپنی اولاد کے تئیں شفقت و محبت کا فطری جذبہ عیاں ہوتا ہے۔ گاؤں دیہات کے والدین کا اپنی لڑکیوں کے تعلق سے قدیم طرز کا یہ رویہ اپنی جگہ درست ہو سکتا ہے۔ لیکن کیا یہ رویہ ان بچیوں کو اپنے تعلق سے فیصلہ کرنے میں معاون و مددگار ثابت ہو سکتا ہے؟ جی نہیں بلکہ اس طرح ان کی خود اعتمادی کی دیوار کھوکھلی پڑ جائے گی اور وہ کمزور ہو جائیں گی۔ اور یہی کمزوریاں شادی کے بعد سسرال میں ہونے والے ظلم و ستم کا سبب بنتی ہیں اور ظاہر ہے کہ بچی پر ڈھائے جانے والے مظالم سے ماں باپ بھی صدموں سے دوچار ہوتے ہیں۔ اس وقت انہیں یہ خیال آتا ہے کہ کاش ہم نے اپنی بچی کو پڑھایا ہوتا تو آج یہ دن دیکھنا نہ پڑتا اور کوئی بلا وجہ ہماری بچی پر ظلم ڈھانے کی کوشش نہ کرتا۔ لیکن افسوس اس وقت کا پچھتا نا کسی کام نہیں آتا ہے۔ گاؤں اور دیہات کے والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی لڑکیوں کی تعلیم کی طرف توجہ دیں اور فرسودہ رسم و رواج کی بندشوں سے انہیں آزاد کریں تاکہ وہ اس نئے دور میں ادب کے دائرے میں رہ کر دوسروں کے مقابل کھڑی رہ سکیں اور اپنا دفاع کر سکیں۔

ہم سمجھ جانتے ہیں کہ آئے دن گاؤں کی لڑکیاں سسرال والوں کے ظلم کا شکار ہوتی رہتی ہیں۔ ہر چند کہ یہ معاملہ شہروں میں بھی پیش آتا ہے۔ لیکن یہاں ان کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے کئی تنظیمیں موجود ہیں البتہ گاؤں میں اگر کسی عورت پر ظلم ہوتا ہے تو گاؤں میں اسے انصاف دلانے والا نہ کوئی ادارہ موجود ہے اور نہ تنظیمیں اور نہ ہی وہ خود اپنا حق حاصل کر پاتی ہیں۔ اس ظلم سے بچنے کا بہترین ہتھیار

تعلیم ہے جس سے ہر ایک کو استفادہ کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنے بیروں پر کھڑی ہو جائیں اور خود لفیل ہو جائیں۔ لڑکی ایک بار خود لفیل ہو گئی تو اسے مستقبل کے تعلق سے اتنی فکر نہیں رہ جاتی بلکہ وہ اپنے مستقبل کو خود بنانے اور سنوارنے لگتی ہے۔ گاؤں کی لڑکیوں میں تعلیم کا رجحان بڑھانے کے لیے شہر کے پڑھے لکھے طبقات کی عورتوں کو چاہیے کہ وہ سب متحد ہو کر اپنی مصروفیات سے تھوڑا سا وقت نکال کر اپنے اطراف کے گاؤں میں خواتین کو تعلیم سے روشناس کرائیں اور ان میں تعلیم کے تئیں بیداری پیدا کریں۔

### ﴿۱۳۱﴾ بوڑھے ماں باپ کا ہر حال میں خیال رکھیے

بوڑھے عام طور پر بوجھ سمجھے جاتے ہیں اور بہت سے گھروں میں ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ ان کے مشوروں اور نصیحتوں کو بکواس سمجھا جاتا ہے۔ کاروبار کرنے اور پیشہ پانے والے بزرگوں کو برداشت کر لیا جاتا ہے مگر جن بزرگوں کی آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا وہ پوری طرح سے گھروالوں کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں اور ان کی حالت دگرگوں ہو کر رہ جاتی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ایسے بزرگ جو کما کر لاتے ہیں یا کاروبار کرتے ہیں یا پھر پیشہ پاتے ہیں تب تک ان کی خدمت میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی جاتی اور انہیں بوجھ نہیں سمجھا جاتا۔ وقت پر کھانا ہی نہیں بلکہ وقتاً فوقتاً گھروالوں کا پیار بھی ادا ہوتا رہتا ہے اور بیمار ہونے پر ان کی تیمارداری بھی کی جاتی ہے کیونکہ وہ دواؤں کا خرچ خود برداشت کرتے ہیں۔

ایسے بزرگوں کی بھی عزت کی جاتی ہے جن کے نام زمین اور جائیداد ہوتی ہے۔ اور ان کی تیمارداری یا ان پر محبتیں اس لیے لٹائی جاتی ہیں کہ انہیں اس جائیداد میں سے حصہ مل جائے یعنی کمانے والے کاروبار کرنے والے یا بے شمار دولت رکھنے والے بزرگوں کو سزا کھوں پر بٹھایا جاتا ہے۔ وہ بھی اس وقت تک جب تک ان کے پاس دولت ہوتی ہے یا وہ کمانے کے قابل ہوتے ہیں۔ جہاں ان کے پاس دولت ختم ہو جاتی ہے یا وہ کمانے کے لائق نہیں رہ جاتے انہیں بوجھ سمجھا جانے لگتا ہے۔ ایسا ہر گھر میں نہیں ہوتا، لیکن بیشتر گھروں میں بزرگوں کو اسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔

بات وہیں پر آ کر رک جاتی ہے کہ آخر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا وہ بچے ہیں جن کی پرورش ان ہی بزرگوں نے بڑے ناز و نعم سے تو کی لیکن انہیں بزرگوں کی عزت اور خدمت کا سلیقہ نہیں سکھایا؟ انہیں یہ نہیں بتایا کہ وہ بھی اپنے بچوں کے پیار ہونے پر انہیں بوجھ نہیں سمجھا کرتے تھے۔ انہوں نے کبھی یہ سوچ کر انہیں تعلیم سے محروم نہیں رکھا کہ چھوڑو کون تعلیم دلوائے۔ کہاں سے میں اتنے پیسے خرچ کروں؟ انہوں نے اپنے بچوں کو کبھی یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ انہیں اچھے اور عمدہ لباس پہننے کے لیے دن رات کتنی محنت کرنی پڑی تھی۔ ان کا پیٹ بھرنے کے لیے بعض اوقات وہ خود بھوکے سو جایا کرتے تھے لیکن انہیں پیٹ بھر کھانا کھلائے بغیر کبھی نہیں سلایا۔ بچوں کا مستقبل سنوارنے کے لیے انہیں بزرگوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ پھر ان کے ساتھ برا سلوک کیوں کیا جاتا ہے؟

کیا نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے؟ اپنے والدین اور بزرگوں کے ساتھ بد سلوکی اور بد تمیزی کرنے والے نوجوان والدین یہ بھول جاتے ہیں کہ کل کو ان کی بھی اولاد جوان ہوگی اور کل وہ بھی بوڑھے ہوں گے اور جو سلوک وہ اپنے ماں باپ اور بزرگوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ ان کے ساتھ بھی کیا جاسکتا ہے۔

زندگی اس ہاتھ دے اور اس ہاتھ لے کا نام ہے۔ یعنی آپ اپنے بزرگوں سے جیسا سلوک رویا رکھیں گے ہو سکتا ہے کل آپ کو بھی اس طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑے۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہر انسان ایک نہ ایک دن بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچے گا۔ ظاہر ہے کہ ہم نے جس طرح اپنے ماں باپ اور بزرگوں کے ساتھ سلوک کیا ہو گا ویسا ہی سلوک ہمیں اپنے بچوں سے ملے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھیں بلکہ ان کی قربانیوں اور ان کی بزرگی کا خیال کرتے ہوئے ان کی تیمارداری ان کی دل

بیشکی ان کی پسندنا پسندان کے آرام اور ان کی ضروریات کا بھرپور خیال رکھیں۔

بزرگ بڑھاپے میں ٹھوڑے سخت اور چڑچڑے ہو جاتے ہیں اور یہ عمر کا تقاضا ہے۔ کہتے ہیں کہ بچہ اور ایک بوڑھا برابر ہوتے ہیں۔ یعنی جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو وہ بچوں جیسا ہو جاتا ہے۔ ان کا ضد کرنا بات بات پر چڑنا عام بات ہے۔ بزرگ بالکل اس بچے کی طرح ہو جاتے ہیں جو اپنی بات پوری نہ ہونے یا کسی چیز کے نہ ملنے پر ناراض یا چڑچڑا جاتا ہے۔ ان کی خدمت اس طرح کریں جیسے ہم اپنے بچے کی کرتے ہیں۔

بزرگوں کی خدمت کرنا نہ صرف دنیا میں آپ کو سرخرو کرے گا بلکہ آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ بوڑھوں کا بیمار ہونا بات پرکتہ چینی کرنا یا گھر ہی میں موجود رہنا بے شک آپ کو پریشان کرنا ہوگا لیکن ان حالات میں ہی آپ کی صحیح آزمائش ہوتی ہے کہ آپ کو اپنے والدین کو یا گھر کے بزرگوں کو کتنی اہمیت دیتے ہیں اور ان کی کتنی تیمارداری کرتے ہیں۔ ایک طرح سے یہ آپ کا امتحان ہے اور اس امتحان میں کامیابی کے بعد ہی آپ دنیا و آخرت میں سرخرو ہو سکتے ہیں۔

بزرگوں سے بھی ایک گزارش ہے کہ وہ اپنے آپ کو اتنا کمزور اور لاچار نہ بنائیں کہ بچے آپ کو بوجھ سمجھنے لگیں یا آپ سے چڑنے لگیں۔ یہ اسی وقت ہی ممکن ہو سکتا ہے جب بزرگ نہ صرف اپنے آپ کو مثالی والدین بنا کر پیش کریں بلکہ بچوں کی تربیت بھی اس انداز میں کریں کہ وہ عمر کے کسی بھی حصے میں آپ سے بدتمیزی کرنے کی ہمت کر سکیں نہ ہی آپ کے مشوروں کو رد کر سکیں۔

بعض بزرگ بلاوجہ گھر کے معاملات میں دخل دیتے ہیں یا اپنی بات منوانے کے لیے بچوں کو برا بھلا بھی کہتے رہتے ہیں۔ بھلے ہی ان کی بات نامناسب ہو وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ انہیں کی بات مانی جائے۔ ایسے حالات میں اولاد اور والدین کے درمیان تلخیوں بڑھ جاتی ہیں اس لیے بزرگوں کو بھی عمر اور تجربات کی روشنی میں اور مصلحت سے کام لیتے ہوئے اپنے خاندان کو آگے بڑھانے میں مدد دینی چاہیے اور نوجوانوں کو بھی ان کا ساتھ دینا چاہیے تب جا کر نوجوانوں اور بزرگوں کے بیچ کی اس خلش کو ختم کیا جاسکتا ہے۔ مسلم معاشرے میں اسلامی تعلیمات کو پیش نظر رکھتے ہوئے بزرگوں کے احترام اور ان کی ضروریات کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے۔ اس سے دو گنا فائدہ ہوگا دنیاوی بھی اخروی بھی۔

## (۱۳۲) عورت ماں، بیٹی، بیوی اور بہن کی حیثیت سے

معاشرے میں عورت کی حیثیت کو ہمیشہ کمزور صنف مانا گیا اور عورت نے بھی سر تسلیم خم کر کے اس حقیقت کو قبول کر لیا جبکہ معاملہ اس کے برعکس ہے۔ دراصل صعب نازک ہی طاقت کا سرچشمہ ہے اور اس کی کئی حیثیتیں ہیں۔

ماں: عورت ماں ہوتی ہے تو اتنی عظیم طاقت اس کے پاس ہے کہ وہ مرد کو جنم دیتی ہے اس طرح خالق دو جہاں نے ماں کو وہ طاقت دی کہ وہ تخلیق کا کام کر سکے۔ وہ زمانے کے سرد و گرم سے اپنے بچے کی حفاظت بھی کرتی ہے اور اس طرح اپنی ساری قوت صرف کر کے اپنے بچے کو اپنا دودھ پلا کر اپنی گود میں سلا کر اور اس کی صحت کا ہر طرح سے خیال رکھ کر اس کی پرورش کرتی ہے کیا یہ مرد جو دولت کما کر لاتا ہے اس میں یہ طاقت ہے کہ وہ اپنے بچے کے لیے یہ سب کر سکے؟

بیٹی: ایک بیٹی اپنے والدین کے لیے ایسا سہارا ہے جس کے نہ ہونے سے والدین بڑھاپے میں بے یار و مددگار ہو جاتے ہیں۔ بیٹی کے والدین بھری میں اکثر یہ افسوس کرتے ہیں کہ کاش ہم بیٹی کی نعمت سے محروم نہ ہوتے۔ ایک بیٹی بچپن سے جوانی تک یہاں تک کہ شادی ہو جانے کے باوجود قدم قدم پر والدین کا سہارا بنتی ہے۔ وہ ماں کے ساتھ گھریلو کام کاج میں ہاتھ بٹاتی ہے، چھوٹے بھائی بہنوں کی پرورش میں مدد کرتی ہے، باپ کا ہاتھ لگا کر لوشا ہے تو اس کا خیر مقدم کرتی ہے اور اپنی بساط بھر اس کے کام آتی ہے۔ اور آج کی

بیٹی تو اس سے بھی کہیں آگے والدین کے لیے مالی سہارا بنتی ہے اگر گھر کی آمدنی کم ہے تو وہ مالی طور پر بھی مدد کرنے میں پیچھے نہیں رہتی۔ وہ پڑھائی کے دوران ٹوشن وغیرہ کرنے کے گھر کی آمدنی میں اضافہ کرتی ہے اور ان پر بوجھ نہیں بنتی۔

بیوی: شریک حیات کی حیثیت سے ایک عورت وہ کارہائے نمایاں انجام دیتی ہے جو شاید ہی کبھی مرد بحیثیت شوہر کے انجام دے سکے۔ وہ بیوی بن کر مرد کی کمزوریوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتی ہے نہ صرف گھر گریہ سنبھالتی ہے بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کر بعض اوقات شوہر کی آمدنی میں اضافہ کے لیے خود ملازمت وغیرہ کرتی ہے۔ بچوں کی پرورش اس طرح کرتی ہے کہ کبھی کبھی تو شوہر کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کے بچے کس طرح اس مقام تک پہنچ گئے۔ شوہر کے بیمار پڑنے پر عورت دن رات ایک کر کے اس کی حیران داری کرتی ہے۔

بہن: عورت ایک بہن کی صورت میں بھی بھائی کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ دسترخوان پر بہن اپنے منہ کا نوالا بھی اپنے بھائی کے لیے رکھ دیتی ہے۔ خود اپنا دل مار کر بھائی کو اچھا کپڑا پہننے کا موقع دیتی ہے کہ اسے گھر سے باہر نکلنا ہوتا ہے۔ اپنی پڑھائی سے زیادہ بھائی کی تعلیم پر توجہ دیتی ہے۔ بھائی کو جذباتی سہارا دینے میں بھی بہن ہمیشہ آگے آگے رہتی ہے۔ بہن کے آنکل میں منہ چھپا کر اکثر بھائی اپنے سارے غم ہلکے کر لیتے ہیں۔

ان تمام حیثیتوں کے علاوہ بھی عورت بحیثیت دفتری کارکن یا انفر اینڈیوٹی ہمیشہ مرد کی نسبت زیادہ اچھی طرح انجام دیتی ہے۔ اگر وہ ایک معلمہ ہے تو بچے کو زیادہ اچھی طرح پڑھاتی ہے۔ عورت کی شہقت اور متانے اس میدان میں اسے مرد سے کہیں آگے کا مقام دلایا ہے۔ ”ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔“ یہ کہادت بہت مشہور ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بہت سارے تجربات اور مطالعہ کے بعد یہ کہادت وجود میں آئی۔ آدم علیہ السلام نے جب تنہائی سے گھبرا کر ایک ساتھی کی تمنا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عورت کی شکل میں ایک ایسا ہاتھ عطا کیا جو ان کے لیے ہر صورت میں ایک مکمل ساتھی ثابت ہوا۔ اس کے باوجود مرد نے کبھی عورت کی قدر نہیں کی اور اسے ہمیشہ اپنا غلام سمجھا۔ اسلام نے عورتوں کو وہ رتبہ عطا کیا جو کسی اور مذہب نے نہیں دیا ہے۔ اس کے باوجود مسلمانوں میں بھی عورتوں کی ناقدری اور ان پر ظلم و ستم کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ مرد اس سے اپنی ہر جائز و ناجائز بات منوانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے ساتھ نا انصافی کرتے ہیں اسی طرح وہ خدا کی بخشی ہوئی اس نعمت کی ناقدری ہی کرتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مرد عورت کی طاقت کو پہچانیں اور ان کو وہ مقام دیں جو اسلام نے انہیں عطا کیا ہے۔

### (۱۳۳) عورت کی اصل درس گاہ اس کی سسرال ہے

جس طرح ایک شخص کے عادات و اطوار اور خیالات کی ترتیب کسی کتب یا تربیتی ادارے میں ممکن ہوتی ہے بالکل اسی طرح ایک عورت کو زندگی بہترین ڈھنگ سے گزارنے اور معاملات سے بہتر طور پر نمٹنے کا ہنر سسرال میں سیکھنے کو ملتا ہے۔ عورت کا اصل گھر اس کا سسرال یا اس کے شوہر کا گھر ہے۔ اسی گھر میں وہ زندگی کی ہر اونچ نیچ کا مقابلہ کرنا سیکھتی ہے۔ جب تک ایک لڑکی اپنے ماں باپ کے گھر یعنی میکے میں ہوتی ہے لاڈ پیار کے باعث بہت سی باتوں پر توجہ مرکوز کرنے کی اسے ترغیب نہیں ملتی۔ یہ بے فکری کی زندگی ہوتی ہے جس کو وہ زیادہ سے زیادہ انجوائے کرنا چاہتی ہے۔ والدین کے گھر میں رہ کر کوئی بھی لڑکی اپنی اصل زندگی یعنی ازدواجی زندگی کے بارے میں کچھ نہیں سیکھ پاتی۔ ازدواجی زندگی کے اسرار و رموز شادی کے بعد سسرال میں ہی کھلتے ہیں۔ والدین اپنی بیٹی کو زیادہ سے زیادہ سکھ اور آرام دینا چاہتے ہیں۔ شادی سے پہلے لڑکی اپنے گھر میں ہر لمحے اور ہر بل کا لطف اٹھاتی ہے اس زندگی کو پریشانیوں اور الجھنوں کی نذر کرنا نہیں چاہتی۔ یہی سبب ہے کہ زندگی کی بہت سی بنیادی باتوں کی جانب وہ دھیان نہیں دیتی اور ان باتوں کا علم اسے شادی کے بعد ہی ہوتا ہے۔ عورت کے لیے سسرال مثالی درس گاہ ہی نہیں ہوتی بلکہ ایک امتحان گاہ بھی ہوتی ہے اور ساس اس درس گاہ اور امتحان گاہ کی سربراہ

ہوتی ہے۔ ساس کی سمجھداری اور معاملہ نمئی پر پورے گھر کی خوشیوں اور سکون کا دار و مدار ہے۔ اگر ایمان داری اور غیر جانب داری سے جائزہ لیں تو اندازہ ہوگا کہ بیشتر ساسیں محدود ذہنیت اور بہت سی باتوں میں اپنا کام مظاہرہ کرتی ہیں، جس کے باعث بہوؤں سے ان کی چپقلش رہتی ہے اور اچھا خاصا گھر جہنم میں تبدیل ہو جاتا ہے۔

یہ درست ہے کہ معاملات میں تصور وار صرف ساس ہی نہیں ہوتی، مگر یہ سچ ہے کہ بیشتر ساسیں انتہائی استحقاق پسند ہوتی ہیں۔ وہ بیٹے اور بہو دونوں کو ٹھنی میں رکھنا چاہتی ہیں اور یہیں سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ بیٹا اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنا چاہتا ہے اور بہو کی آنکھوں میں بھی خود مختار زندگی کے سنے ہوتے ہیں۔ ایسے میں کسی اور کی مرضی کا پابند ہونا ان دونوں کو اچھا نہیں لگتا۔

زیادہ تر مائیں اپنے بیٹوں کی شادی کے لیے بہت چٹاب دکھائی دیتی ہیں۔ یہاں تک کہ وہ اپنے بیٹے کی شادی کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار رہتی ہیں۔ بہو کے لیے زیور تیار کرنے کی غرض سے وہ اپنا زیور بیچ ڈالتی ہیں یا اپنی ہی زیور بہو کو دے دیتی ہیں۔ ایسے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شادی کے کچھ ہی دنوں بعد بہو کو غلام کیوں سمجھنے لگتی ہیں اور بہو کی خاطر سب کچھ قربان کرنے کا وہ جذبہ سرد کیوں پڑ جاتا ہے؟ بعض ساسیں اتنی تنگ نظر اور بد مزاج ہوتی ہیں کہ بہو کو ہر وقت جھیز کم لانے کے طعنے دیتی رہتی ہیں ایسے میں بہو کوئی چیز مانگ لے تو ساس کی طرف سے نکاسا جواب ملتا ہے کہ ”اپنی ماں سے کیوں نہیں کہا، وہ تمہیں جھیز میں دے دیتیں یا اپنے ماں باپ سے کیوں نہیں مانگتیں۔“

ہم اس حقیقت کو تسلیم نہ کریں تو صورت حال بدلے گی نہیں کہ آج ہمارے سماج کے بیشتر گھرانوں میں ساس اور بہو کے مابین فلیج بہت زیادہ ہے۔ ان مسائل کے حل کی ایک صورت یہ ہے کہ ان سے بھاگنے کے بجائے ان کا سامنا کیا جائے۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لئے خاص طور پر مرد کو اہم کردار ادا کرنا ہوگا۔ ان حالات میں ماں، بیوی دونوں کا موقف سننے کی ضرورت ہے۔ کسی ایک کی بات سن کر دوسرے سے فوری ناراضگی یا برہمی کا اظہار غیر دانشمندانہ رویہ ہے۔ اس سے نہ تو انصاف ہوگا اور نہ ہی معاملات حل ہوں گے، لیکن یہ بات افسوس ناک ہے کہ ہمارے یہاں عام طور پر مردوں کا رویہ یکطرفہ ہو جاتا ہے۔ ماں کو سمجھانے کے بجائے وہ سارا غصہ بیوی پر نکالتے ہیں یا بیوی کی ناراضگی کے خوف سے اس کی غلط اور ناپسندیدہ باتوں کو بھی خاموشی سے برداشت کر لیتے ہیں جن کا بعض اوقات بہو نہیں نا جائز فائدہ اٹھاتی ہیں۔ ہر ماں چاہتی ہے کہ اس کی بیٹی جس گھر میں جائے راج کرے۔ حالانکہ یہ راج کرنے والی سوچ درست نہیں ہے۔ راج کرنے یا کسی کا راج قبول کرنے سے معاملات ہمیشہ بگڑتے ہیں۔ گھریلو معاملات حکم چلانے یا کسی کا بے جا حکم ماننے سے نہیں چلائے جاسکتے، کیونکہ یہ دوطرفہ معاملہ ہوتا ہے۔ اس میں کبھی اپنی بات منوائی جاتی ہے اور کبھی دوسروں کی باتوں پر سر تسلیم خم کیا جاتا ہے۔ اگر والدین اس بات کے خواہشمند ہیں کہ ان کی بیٹی کو زندگی میں کوئی دکھ یا کسی مصیبت کا سامنا نہ کرنا پڑے تو ضروری ہے کہ وہ داماد منتخب کرتے وقت اس کے گھروالوں کے بارے میں بھی معلومات حاصل کریں۔

دوسری طرف بہوؤں پر یہ فرض ہے کہ سسرال کے ہر فرد، بالخصوص ساس کو اپنی ماں کی طرح سمجھیں۔ ان کی کوشش ہونی چاہئے کہ شوہر کی پوری توجہ اپنی طرف مرکوز کرنے کے بارے میں سوچنے کے بجائے سب کو اپنا سمجھے اور سب کے ساتھ اچھا سلوک روار کھنے کی کوشش کرے۔ دوسری جانب ہر ساس کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ بہو کو بیٹی سے بڑھ کر نہیں تو بیٹی کے برابر ضرور سمجھے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ گھر میں توازن کی فضا پیدا ہوگی اور کامیاب زندگی تو آسان ہی چاہتی ہے۔ ہر گھر میں معاملات نشیب و فراز کے مراحل سے گزرتے ہیں، ان سے گزر کر ہی زندگی بنتی ہے۔ اگر ساس ضرورت سے زیادہ اپنا پرستی اور بہو غیر ضروری ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرے تو تعلقات میں کشیدگی بڑھتی رہے۔ دونوں انسان ہیں، دونوں کو اصولوں میں لچک پیدا کرنی ہوگی، معاملات کو درست ڈھنگ سے چلانے کے لئے بہت سی



خواہشات ترک کرنا پڑیں گی اور اپنے نام نہاد دائرے سے باہر نکلنا ہوگا، تب کہیں جا کر یہ مسائل ختم ہوں گے۔

### (۱۳۴) ترقی صرف معاشی خوش حالی کا نام نہیں ہے

آج پوری دنیا اضطراب اور بے چینی کے عالم میں ہے اور کہیں سکون نہیں ہے۔ دنیا کے مختلف خطوں میں جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ جنگ و جارحیت آگ برسا رہی ہے۔ حقوق پامال ہو رہے ہیں، ہر طرف ظلم و نا انصافی کا برہنہ رقص ہو رہا ہے، ظلم و زیادتی افراد ہی کا نہیں قوموں کا شیوہ بن گئی ہے۔ محبت، اخوت، اخلاص، ہمدردی، صداقت، امانت و دیانت اور ایقانے عہد سے انسان کا رشتہ ٹوٹ گیا ہے۔ رشوت، چوری اور خونریزی کا بازار گرم ہے۔ شراب اور منشیات کا استعمال بڑھ رہا ہے۔ عریانی و فحاشی اور بے حیائی کا دور دورہ ہے، معصوم بچے جرائم میں لٹ پٹ کر دیئے گئے ہیں۔ معمولی باتوں پر قتل عام ہی بات ہے۔ عشق و عاشق کے نام پر ہوس کاری پھیلی ہوئی ہے اور بہت سارے اسکول اور کالج اس کے اڈے بن چکے ہیں۔ یہ ساری خرابیاں اور برائیاں روپ بدل بدل کر سامنے آ رہی ہیں۔ یہ ہیں نتائج عورت کی کوتاہیوں کا جسے انسان کا کردار سنوارنے پر مامور کیا گیا تھا مگر وہ ترقی اور ملازمت، مساوات مرد و زن، فیشن و میک اپ اور تفریح کی محفلوں میں کھو گئی ہے۔ بظاہر آج کی عورت بہت ترقی کر گئی ہے۔ ملازمت کے ہر شعبے اور بیشتر کاروبار سے وابستہ ہے۔ وہ باس بنی بیٹھی ہے اور بزنس کے بڑے بڑے شعبے چلا رہی ہے اور کون سا ایسا میدان ہے جہاں عورت نہیں۔ کلرک، ٹیچر، لیکچرار، کاروبار سے لے کر آئی پی ایس اور آئی ایس افسر تک کے عہدے پر فائز ہے۔ تعلیمی میدان میں اپنی قابلیت اور کامیابی کے جھنڈے گاڑتی چلی جا رہی ہے۔ ترقی کی دھن میں وہ آگے ہی آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کی یہ محنت، جستجو اور کامیابی قابل ستائش ہے۔ لیکن اس دوڑ میں وہ اپنا نام، شناخت اور پہچان بھول چکی ہے، پیچھے مڑنا اسے گوارا نہیں۔ نسوانیت کو وہ بائے بائے کہہ چکی ہے۔ دوڑتے دوڑتے اس نے شرم و حیا کا لبادہ اتار کر پھینک دیا ہے۔ پردے کو خیر باد کہہ دیا ہے۔ اپنی عزت و عصمت کی دھجیاں خود ہی بکھیر دی ہیں۔ اس کے دائیں بائیں، آگے پیچھے اس کے چاروں طرف خونخوار بھیڑیے ہیں جنہیں وہ اپنا ہمدرد، پرستار اور دوست سمجھ رہی ہے۔ یہ اس کی بے وقوفی نہیں تو اور کیا ہے؟ آزادی، ترقی اور ملازمت کے چکر میں وہ جیسے ہی گھر سے نکلتی ہے اس کی تباہی اور بربادی کی داستان شروع ہو جاتی ہے۔

شیطان جانتا تھا کہ انسان کا سب سے مضبوط مورچہ اس کا گھر ہے، اس لئے اس نے اپنے چیلوں کو اشارہ کیا کہ جب تک اس گھر کی گھربان کو بے گھر نہ کیا جائے اس وقت تک کامیابی نہیں مل سکتی۔ چنانچہ اس کے چیلوں نے عورت کی آزادی کا نعرہ بلند کیا، پھر آواز لگائی کہ عورت اور مرد دونوں ہر حیثیت سے برابر ہیں اور عورت کو گھر میں رکھنا اس پر ظلم کرنا ہے۔ لہذا اسے بھی مردوں کے شانہ بشانہ کھڑا کیا جائے۔ عورت کی نادانی دیکھئے کہ وہ مساوات مرد و زن کے چکر میں خود اپنے پیروں پر کھلاڑی مار رہی اور اب اس پر دوہری ذمے داری عائد ہے۔ اسے گھر سنبھالنا ہے اور دفتر بھی۔ کیا یہ صنف نازک پر ظلم نہیں ہے؟ صبح سویرے اٹھنا، گھر کے سارے کام انجام دینا، بچوں کو کھلانا، لٹن تیار کرنا اور پھر دفتر جانے کے لئے اپنی تیاری کرنا، گھر کی صفائی خادمہ کے حوالے، شام میں جب میاں بیوی دونوں تھکے ہارے آتے ہیں اور غصہ ان کی ناک پر ہوتا ہے اور زرا سی بات کو لے کر جھگڑا ہو جاتا ہے۔ جبکہ پہلے ہوتا یہ تھا کہ جب شوہر دفتر سے تھکا ہارا گھر لوٹتا تھا تو بیوی مسکراتے ہوئے اس کا استقبال کرتی، چائے پیش کرتی، گھر صاف ستھرا رکھتی اور اس طرح بچوں کو ہنستا کھیلتا دیکھ کر شوہر بھی اپنی تھکان بھول جایا کرتا تھا۔ مگر اب ایسے منظر کم ہی دیکھنے کو ملتے ہیں۔

اس ہائی ٹیک دور میں دونوں میاں بیوی کے کمانے اور معیار زندگی بلند کرنے کے چکر میں کہاں گھر کا کچھ چین ملے گا۔ دونوں کو اتنی فرصت نہیں کہ وہ ایک دوسرے کو سمجھ سکیں یا بچوں کی ضرورتوں کو محسوس کر سکیں اور ایسے ماحول میں تربیت پانے والے بچے کیسے ہو سکتے ہیں آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو انہیں ماں باپ سے بھی کوئی محبت نہیں ہوتی اور جہاں خون کے رشتے

میں محبت نہ ہو وہاں انسانیت کہاں باقی رہتی ہے۔ پیسے کمانے کے دماغ میں ہم آج کسی سے بھی بچھے نہیں ہیں جتنی بھی دولت ہمارے ہاتھ آتی ہے وہ ہمارا پیٹ نہیں بھرتی بلکہ آتش حرص اور بھڑکتی ہے۔ اگر عورت سلیقہ شعار ہو تو کم آمدنی میں بھی گزارا کر لے گی اور حرف شکایت بھی زبان پر نہیں لائے گی لیکن یہی عورت اگر سلیقہ شعار اور سکھڑ نہ ہو تو اسے ماہانہ بیس ہزار بھی کم پڑیں گے اور شکوے شکایت کا ہمارا الگ کھول دے گی۔ آج کئی خواتین ایسی ہیں جو ملازمت بھی کرتی ہیں اور گھرداری بھی بحسن و خوبی نبھاتی ہیں۔ شوہر بھی ان سے خوش ہیں اور بچے بھی تربیت یافتہ ہیں کیونکہ وہ ملازمت کے ساتھ گھر کے سارے فرائض بخوبی انجام دے رہی ہیں۔ وہ ملازمت یا کاروبار کرنے کے باوجود اپنی عصمت و عزت کی نگہبانی کرنا خوب جانتی ہیں۔ ترقی صرف معاشی خوش حالی کا نام نہیں ہے۔ اگر خواتین نئی نسل کو اچھی تربیت دیں، انسانیت سکھائیں اور ان کے اندر اخلاق پیدا کرنے کی کوشش کریں تو یہ نہ صرف قوم و ملت کے لئے مفید ہے بلکہ ملک کی ترقی کے لئے بھی سود مند ہو سکتا ہے۔ الغرض عورت کا اصل میدان اس کا اپنا گھر ہے، اس حقیقت کو نہ بھولیں۔

### ﴿۱۳۵﴾ بیٹی اللہ کی رحمت بھی ہے اور نعمت بھی ہے

خداوند کریم نے اس کائنات میں کوئی تخلیق بے مقصد، بے کار اور بے فائدہ نہیں پیدا کی، خواہ اس کا تعلق حیوانات، جمادات اور نباتات سے ہو یا اشرف المخلوقات حضرت انسان سے ہو۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ بعض کی علت تخلیق فہم انسانی اور اس کے شعور و ادراک سے ماورا ہو لیکن یہ حق کسی کو حاصل نہیں ہے کہ رب العظیم کی تخلیق پر اعتراض کرے، ناراضگی اور ناپسندیدگی کا اظہار کرے، کیونکہ خالق کائنات اپنی تخلیق کی افادیت و اہمیت سے خوب واقف ہے، خواہ دیکھنے میں وہ ہمیں کتنی ہی حقیر لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل کی ایک عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ حضرت! پروردگار عالم نے چھپکلی کو کیوں پیدا کیا؟ یہ تو کسی کام کی نہیں، دیکھنے میں بھدی اور شکل و صورت ایسی کہ ڈر لگے، کوئی خوبصورتی نہیں، کسی کام کی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ”یہی سوال انسان کے بارے میں پروردگار عالم سے چھپکلی نے کیا کیا کدے خداوند عالم! آپ نے انسان کو کیوں پیدا فرمایا، یہ ناشکرا، بے صبر، لڑنے جھگڑنے والا، روئے زمین پر فساد برپا کرنے والا، طمع پسند، بغض کینہ رکھنے والا ہے، اس کی تخلیق سے کیا فائدہ؟“ اس کو جواب ملا ”میں اپنی تخلیق کی افادیت اور حکمت سے زیادہ واقف ہوں۔“

کسی کی پیدائش ہماری خواہش اور مرضی کے مطابق ہو؟ یہ سوچ اور یہ خیال نادانی پر ہی نہیں عقل و فہم سے بھی بعید ہے۔ اس سوچ کا مظاہرہ اگر انسان کی طرف سے ہو جس کو اپنی فہم و فراست پر ناز ہے، اپنے علم اور عقل پر گھمنڈ ہے تو تعجب ہی نہیں افسوس بھی ہوتا ہے۔ زمانہ جاہلیت سے و طیرہ چلا آ رہا ہے کہ انسان لڑکے کی پیدائش پر خوشی اور لڑکی کی پیدائش پر ناخوشی کا اظہار کرتا ہے۔ قرآن پاک میں اس طرز عمل پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا ہے:

وَإِنَّا بَشَرًا أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهَهُ مُسْوًى وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَبِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ (سورۃ النحل: ۵۸، ۵۹)

”جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، غصے کی وجہ سے وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے۔ کیا اسے ذلت کے ساتھ رکھے گا یا مٹی میں چھپا دے گا۔“

ان کے اس سنگ دلانہ اور وحشیانہ طرز عمل سے تو دنیا واقف ہے کہ وہ لڑکی کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے اور اس پر فخر بھی کرتے تھے۔ بد قسمتی سے ہمارے معاشرے میں آج بھی لڑکی کے حوالے سے یہ منشی روئیہ پایا جاتا ہے۔ لڑکے کی پیدائش پر خوشی کا جو اظہار نظر آتا ہے، لڑکی کی پیدائش پر وہ مفقود ہوتا ہے۔ عالم، فاضل اور جاہل سب ہی کم و بیش اس مرض میں مبتلا ہیں۔ ذرا غور تو فرمائیں لڑکی کی پیدائش میں

عورت کا کیا تصور؟ جو چیز اس کی قدرت میں نہیں، جس پر اسے اختیار نہیں بلکہ وہ نو ماہ کی مدت تک جو مشقت اور تکلیف برداشت کرتی ہے، مردوں تو کیا شاید نو گھنٹے بھی برداشت نہ کر سکے، ہمارا طرز عمل اس کے ساتھ خالمانہ اور بے رحمانہ ہوتا ہے۔ ہم لڑکی کی پیدائش پر ناراض ہو جاتے ہیں، تیوری پر بل آ جاتا ہے بلکہ کئی روز تک بیوی سے بات تک نہیں کرتے اور بچی کا چہرہ نہیں دیکھتے۔ پھر عورت کا عورت کے ساتھ یہ ظلم ہوتا ہے کہ سانس، نندیں برا بھلا کہتی ہیں، بدکھائی، بدزبانی سے پیش آتی ہیں۔ یہاں تک کہ اپنے لڑکے کی دوسری شادی کرنے کی دھمکی دے کر اس کا دل دکھاتی ہیں، بلکہ کچھ تو ایسا کر گزرتی ہیں۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ طرز عمل اللہ کی نعمت کا ناشکر اپن ہے۔ اس کی عطا کی ناقدری ہے۔ انسانیت کے ناطے بے تصور کو تصور دار ٹھہرانا ایک خالمانہ طرز عمل ہے۔

نبی اللہ کی نعمت بھی ہے اور رحمت بھی۔ حضور اکرم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے: ”جس نے دو لڑکیوں کی پرورش کی اور انہیں حسن تربیت سے مالا مال کیا یہاں تک کہ وہ سن شعور کو پہنچیں، قیامت کے دن میں اور وہ اس طرح آئیں گے جس طرح میرے ہاتھ کی یہ دو انگلیاں۔“ (مسلم، کتاب البر والصلۃ)

اس موقع پر آپ ﷺ نے اپنی انگشت شہادت اور ساتھ والی انگلی کو ملا کر دکھایا۔ صحیح مسلم میں حدیث مبارک ہے، حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو شخص لڑکیوں کی پیدائش میں آزمائش میں ڈالا جائے پھر ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے تو یہ لڑکیاں اس کے لئے قیامت کے روز دوزخ سے آڑ ہوں گی۔“ (مسلم کتاب البر والصلۃ، باب فضل الاحسان الی الیہات)

اس کے علاوہ متعدد احادیث مبارک میں لڑکیوں کی پرورش اور حسن تربیت پر نوید بخشش ہے اور ان کے فضائل بیان کئے گئے ہیں۔ اسی لئے کہا گیا ہے کہ نبی نعمت بھی ہے اور رحمت بھی۔ اولاد ہونے کی وجہ سے نعمت اور بخشش کا سبب ہونے کی وجہ سے رحمت۔

اسلام نے عورت کو بڑے مراتب عطا کئے ہیں۔ عورت کو ماں، بہن اور بیٹی کے مقدس رشتے سے سرفراز کیا ہے۔ آج کی پیدا ہونے والی بیٹی کل ماں کے مقدس رشتہ کی حامل ہوگی کہ اس کی رضا بخشش کا سبب، اس کی دُعا قبولیت کا ذریعہ، اس کو عزت و احترام سے دیکھنا حج کا ثواب، اس کی خدمت میں دخول جنت کا راستہ۔ یہ بیٹی ہی تو ہے جو اس مقدس مرتبہ کی حامل بنی۔ سلسلہ نسب میں سب سے اعلیٰ و ارفع سلسلہ سادات کا ہے۔ اس پر غور کیجئے تو بہت واضح طور پر یہ چیز سامنے آتی ہے، اس سلسلہ نسب کا تعلق حضور اکرم ﷺ کی صاحبزادی خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا سے ہے۔ یہ شرف ایک بیٹی کو حاصل ہے کہ وہ سلسلہ سادات کی منبع ہے۔

احادیث مبارک کی روشنی میں کیا ہمیں یہ بات زیب دیتی ہے کہ ہم بیٹی کی ولادت پر غم، رنج، ناراضی اور اللہ کی نعمت کی ناشکری کریں اور جس کی تخلیق یعنی اس کی پیدائش میں جس کا کوئی دخل نہ ہو، کوئی تصور نہ ہو اس کو تصور دار ٹھہرائیں؟ ہمارا یہ طرز عمل جہاں خالمانہ ہے وہاں لعنت خداوندی پر ناشکر اپن بھی اور اور غضب الہی کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ روز مرہ زندگی میں یہ تجربہ ہے کہ بیٹے کے مقابلے میں بیٹی زیادہ وفادار، محبت کی مظہر، شریک غم اور دکھ درد میں شامل رہتی ہے۔

### ﴿۱۳۶﴾ ماں کی دُعا میں اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہیں

مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام نامی ہم میں سے کس نے نہیں سنا ہے؟ چھبیس سال کی عمر میں چند سال قبل ۳۱ دسمبر ۱۹۹۹ء کو رمضان کی تیسویں شب میں آپ کا انتقال ہوا۔ اللہ نے آپ سے دین کا وہ کام لیا جس کی نظیر ماضی قریب کی اسلامی تاریخ میں مشکل سے ملتی ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی محبوبیت اور مقبولیت عطا فرمائی تھی، عند اللہ آپ کے مقبول و محبوب ہونے کے دسیوں قرآن پائے جاتے ہیں۔ جمعہ کے روز، روزے کی حالت میں، عین نماز جمعہ سے قبل سورۃ یسین کی تلاوت کرتے ہوئے آپ کی روح قفسِ عنبری سے پرواز کر گئی۔ دُنیا کے تقریباً تمام براعظموں اور اہم ممالک میں آپ کی نماز غائبانہ ادا کی گئی، رمضان

البارک گی ستائیسویں شب کو حرم کی ودیعی یعنی حرم شریف اور مسجد نبوی ﷺ میں ستائیس لاکھ سے زائد اللہ کے بندوں نے آپ کی نماز عابدانہ ادا کی اور آپ کی مغفرت و رفع درجات کے لئے اللہ سے دُعائیں کیں۔ اس طرح کی عند اللہ محبوبیت و مقبولیت دُنیا میں اللہ کے بہت کم ہی بندوں کے حصہ میں آتی ہے۔

مولانا اپنے بچپن میں نہ بہت ذہین تھے اور نہ بہت چست و چالاک، آپ کی علمی صلاحیت بھی مدرسہ میں عام اور درمیانہ درجہ کے طالب علم کی تھی۔ اس کے باوجود آپ سے اللہ نے دین کا جو کام لیا وہ حیرت انگیز بھی تھا اور تعجب خیز بھی۔ حضرت مولانا سے جب ان کو حاصل ہونے والی اس توفیق خداوندی کے اسباب و محرکات کے متعلق دریافت کیا جاتا تو آپ بیان کرتے کہ اللہ نے ہمارے لئے مقدر دین کی اس خدمت میں ہماری والدہ ماجدہ کی خصوصی دُعائوں کا بڑا حصہ رکھا تھا اور یہ اس کی برکت تھی۔ آپ کی والدہ بڑی عابدہ، زاہدہ اور ذاکرہ تھیں۔ ۹۳ سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ وہ اپنی وفات تک ہمیشہ روزانہ دو رکعت صلوٰۃ الحاجہ پڑھ کر اپنے اس بیٹے کے لئے دُعائیں کرتی تھیں کہ ”اے اللہ! میرے نورِ نظر علی سے کوئی غلط کام نہ ہو، زندگی کے ہر موڑ پر اے اللہ! تو ہی اس کی صحیح راہنمائی فرما۔“ انہوں نے اپنے اس بیٹے کو وصیت کی تھی کہ ”علی! تم روزانہ اپنے معمولات میں اس دُعائے کو شامل کرنا کہ اے اللہ! تو مجھے اپنے فضل سے اپنے نیک بندوں کو دیئے جانے والے حصوں میں سے افضل ترین حصہ عطا فرما۔“ ”اللَّهُمَّ اِنِّیْ بِفَضْلِکَ اَفْضَلُ مَا تُؤْتِیْ عِبَادَکَ الصَّالِحِیْنَ“ آپ کی والدہ نے آپ کی ولادت سے پہلے ایک خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر انہوں نے خود اپنی وفات سے پہلے دیکھی، خواب یہ تھا کہ ہاتھ نیلی نے ان کی زبان پر قرآن کی اس آیت کو جاری کر دیا ہے کہ ہم نے تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لئے جو خوشی خزانہ چھپا رکھا ہے اس کا تمہیں اندازہ نہیں۔ ”فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِیْ لَہُمْ مِنْ قُرْآنٍ اَعْمٰی“ (اسجدہ: ۱۷) مولانا کی انہوں نے اس طرح تربیت فرمائی کہ ان سے اگر کسی خادم یا ملازمہ کے بچے پر زیادتی ہوتی تو نہ صرف معافی منگوائیں بلکہ ان سے مار بھی کھلائیں، اسی کا نتیجہ تھا کہ بچپن ہی سے مولانا کو ظلم، غرور و تکبر سے نفرت تھی اور کسی کی دل آزاری سے وحشت ہو گئی۔ عشاء کی نماز پڑھے بغیر اگر سو جاتے تو آپ کی والدہ اٹھا کر نماز پڑھواتیں، صبح کو جماعت کے ساتھ نماز کے لئے بھیجتیں، فجر کے بعد تلاوت کا نائغہ نہیں ہونے دیتیں۔

مندرجہ بالا واقعات کی روشنی میں ہم اپنا جائزہ لیں تو شاید ہی ہم میں سے دو فیصد والدین اس کے مطابق اپنے کو پائیں۔ روزانہ صلوٰۃ الحاجہ پڑھ کر اپنی اولاد کے لئے دُعائیں مانگنا تو دور کی بات زندگی بھر میں اللہ سے اپنی اولاد کی نیک نامی اور صلاح مانگنے کے لئے ہم نے ایک بار بھی صلوٰۃ الحاجہ نہیں پڑھی ہوگی جبکہ اللہ نے ہمیں اپنی اولاد کی بھلائی اور نیک نامی کے لئے مانگنے کا طریقہ بھی سکھایا ہے اور اس کے آداب بھی بتائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اپنی اولاد کے لئے تم مجھ سے اس طرح مانگو کہ ”اے اللہ! ہمیں ایسی بیویاں اور بچے عطا فرما جو ہمارے لئے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں اور ہمیں متقین کا امام بنا۔“ ”رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّیَّتِنَا قُرْآنَ اَعْمٰی وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِیْنَ اِمٰمًا“ (الفرقان: ۷۴)

### (۱۳۷) فضول گوئی سے پرہیز کیجیے

جب دو خواتین آپس میں ملاقات کرتی ہیں تو وہ کسی تیسری خاتون کے بارے میں فضول باتیں کرنے لگتی ہیں۔ اس طرح کی فضول اور بے مطلب باتوں کا اثر کیا ہوتا ہے؟

اگر آپ کوئی کہانی بیان کرنا چاہتی ہیں جو کسی اور کے بارے میں ہو اور کسی دوسری خاتون نے آپ کو سنائی ہو تو اس بات کو کہنے سے پہلے آپ تین مرحلوں پر اچھی طرح سے غور کر لیجیے اور یہ تین بالکل مختلف طریقے ہیں۔ پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ آپ جو کچھ کہنے جا رہی ہیں کیا وہ سچ ہے؟ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ کیا یہ ضروری ہے؟ آخری مرحلہ یہ ہے کہ آیا یہ بات دوسروں کے لئے تکلیف دہ تو نہیں ہے۔

انگریزی کا لفظ "گوسپ" جسے ہم اردو میں گپ بازی کہہ سکتے ہیں آج کے دور میں ایک دلچسپ اور وسیع مفہوم کا حامل بن گیا ہے اور اس کی اپنی ایک تاریخ ہے۔ اس لفظ کے اصل معنی لوگوں کے درمیان قربت داری کے ہیں۔ لیکن دوسرے لوگوں کے ذاتی معاملات کے بارے میں غیر ذمہ داری کے ساتھ گفتگو کرتا ہے۔

ہم میں سے بہت سے لوگوں کے لئے گپ شپ کرنا ایک دلچسپ مشغلہ ہے۔ لوگ آپس میں بیٹھ کر گپ شپ کرتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بے شمار رسائل و جرائد اور اخبارات ہیں جو ہمارے سامنے خوب چٹ پٹی کہانیاں پیش کرتے ہیں، جو عام طور سے مبالغہ آمیز اور فرضی ہی ہوتی ہیں یا جنہیں طرح طرح کے لالچ اور رشوت دے کر لکھوایا جاتا ہے۔

گپ بازی یا گپ شپ کیا ہے؟ گپ بازی کی بہت سی شکلیں ہوتی ہیں۔ ادھر ادھر خبریں پھیلانے والے سیدھے سادھے اور بے ضرر لوگوں سے لے کر بات کا ہتکڑ بنانے والوں اور بدنام کرنے والوں تک کا ایک طویل سلسلہ پھیلا ہوا ہے۔ بے فکرے لوگوں کی یہ ایک عادت ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے بارے میں آپس میں گپ شپ کرتے ہیں۔ جب ایسے دو افراد ملتے ہیں جن کے پاس وقت کی کمی نہیں ہوتی اور جو بہت دیر تک باتیں کر سکتے ہیں تو ان کی گفتگو کا رخ لازمی طور پر اپنے پڑوسیوں اور دوستوں کی جانب مڑ جاتا ہے اور وہ ان کے بارے میں جھوٹی سچی باتیں کرتے ہیں۔

یہ ضروری نہیں ہے کہ طرح طرح کی خبریں پھیلانے والے دانستہ طور پر ایسا کرتے ہیں اور ان کا مقصد دوسروں کے لئے مسائل پیدا کرنا ہو، لیکن وہ اس بات کا اندازہ بھی نہیں لگا پاتے کہ ان کی زبان سے نکلی ہوئی غیر ذمہ دارانہ باتوں کا سلسلہ دوسری جگہوں تک جا پہنچتا ہے جس سے بات کا ہتکڑ بنتا ہے اور اس کٹے نتیجے میں شراغیزی اور دلوں میں تلخی جنم لیتی ہے۔

باتوں کی شخص کی بات کو صیغہ راز میں نہیں رکھ سکتا۔ جن رازوں سے وہ واقف ہوگا اسے ضرور دوسروں تک پہنچائے گا۔ اس قسم کی سرگوشیاں بنیادی طور پر خود پر قابو رکھنے کی صلاحیت سے محرومی کے باعث جنم لیتی ہیں اور ان کو روکنے کے لئے شعوری کوشش کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ہم ان باتوں کا اظہار نہ کریں جن کو راز رکھنے کے لئے ہم پر اعتماد کیا گیا ہو۔

سب سے زیادہ خراب اور نقصان دہ قسم کی گپ شپ وہ ہے جو کسی کو بدنام کرنے کے لئے کی جائے۔ وہ شخص جو دوسروں کے خلاف دشنام طرازی کی مہم چلاتا ہے اور انہیں بدنام کرتا ہے، نئی الحقیقت اپنی بغل میں ایسے ہتھیار چھپائے ہوتا ہے جن کے ذریعہ وہ کسی بھی نامور کردار کا صرف ایک وار کے ذریعہ خاتمہ دیتا ہے۔ دشنام طرازی کرنے والا شخص عام طور پر حاسد بھی ہوتا ہے اور وہ حسد کے تحت لوگوں کی پیٹھ پیچھے برائیاں کرتا ہے۔ ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں غلط سلسلہ باتیں پھیلاتا رہتا ہے۔ غلط باتوں، جھوٹی اور من گھڑت کہانیوں کے ذریعہ لوگوں کے درمیان نفاق کے بیج بوتا ہے۔ وہ کسی بھی بات میں اپنی طرف سے رنگ آمیزی کرتے ہیں اور اس کے ذریعہ لوگوں کے درمیان فتنہ اور فساد کو ہوا دیتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے اس قسم کے لوگ کسی کے بھی خیر خواہ نہیں ہوتے اور ان کی زبان سے کسی کے لئے بھی کلمہ خیر نہیں نکلتا۔ اس طرح کے لوگوں کو گپ شپ کرنے میں، دوسروں کے بارے میں جھوٹ گھڑنے میں اور اسے پھیلانے میں سکون ملتا ہے۔ اگر ہم دوسروں کی مدد نہیں کر سکتے تو ہمیں ان کے معاملات میں زیادہ دلچسپی کا بھی مظاہرہ نہیں کرنا چاہئے۔

### (۱۳۸) اپنی اصلاح آپ کریں

اللہ کی مخلوق کم و بیش چھتیس ہزار ہے، جس میں انسان بھی ایک ہے۔ اللہ نے انسان کو جو خوبیاں عطا کی ہیں ایسی خوبیاں کسی بھی خلق میں ناپید ہیں۔ انسان کو اللہ نے سب سے بڑا تحفہ نطق کا دیا ہے۔ انسان کو اللہ نے اعضاء و جوارح عطا کئے جس کا استعمال انسان اچھے یا برے کاموں میں کرتا ہے اور سب سے بہترین عطیہ اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ اس نے انسان کو عقل و فہم اور دانائی سے نوازا ہے۔ اس کے لئے

زمین و آسمان سخر کئے اور اپنی نشانیوں کو انسان کے سامنے بیان کیا تاکہ انسان کا عقیدہ اور ایمان پختہ ہو جائے اور انسان اس کی اطاعت کرے۔ انسان غلطیوں اور گناہوں کا پتلا ہے۔ غلطی کرنا اس کی سرشت میں شامل ہے، اس کے باوجود اللہ نے اپنے بندوں کی مغفرت کا وعدہ کیا ہے لیکن کچھ ایسے بھی انسان اس دنیا میں بستے ہیں جو صرف دوسروں کی غلطیوں پر انگشت نمائی کرتے ہیں اور دوسروں کی غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہیں لیکن شاید وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کے اندر بھی کچھ خامیاں ہیں۔ ان کے اندر بھی برائی کے کچھ عنصر موجود ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان خود اپنی خامیوں اور اپنی غلطیوں کو نہیں گنوا تا بلکہ اپنی غلطی اور کوتاہی چھپانے کے لئے دوسروں کے عیوب کو عیاں کرتا ہے۔ چنانچہ ہمیں یہ بات ذہن نشین کر لیتی چاہئے کہ جتنا آسان غیروں کی عیب جوئی کرنا ہے اتنا ہی مشکل خود شناسی ہے۔ ہم دوسروں کی اصلاح کا بیڑہ اٹھا تو سکتے ہیں، مگر اپنی اصلاح کے معاملے میں کوتاہ نظر آتے ہیں۔

ایک بات قابل غور بھی ہے اور قابل مشاہدہ بھی کہ اگر ایک انگلی ہم کسی کی غلطی کی جانب اٹھاتے ہیں تو چار انگلیاں ہماری جانب اٹھ جاتی ہیں، اس وقت بھی ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ شاید وہ خامی ہمارے اندر بھی موجود ہو اور یہ بات صد فی صد سچ ہے کہ جب تک ہم اپنے قول پر عمل نہیں کریں گے ہم دوسروں کو اس کے زیر اثر نہیں لاسکتے۔ یہی کمی ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے اور ہم اسے "ناممکن" کہہ دیتے ہیں۔

اگر ہماری سوچ میں گہرائی اور گیرائی ہو تو یہی ناممکن ہماری کامیابی کی بنیاد بن سکتی ہے۔ لفظ "ناممکن" سے "نا" نکال دیں تو "ممکن" ہو جاتا ہے اور ہم اسے باسانی انجام دے سکتے ہیں۔ "نا" لفظ ہی تو تمام جدوجہد اور کادشوں کی جڑ ہے۔ اسی "نا" کے لئے تو ہم بار بار کوشش کرتے ہیں اور یہی "نا" ہماری راہ میں روکاوٹیں پیدا کرتا ہے۔ تمام تک و دو اسی "نا" کے لئے ہوتی ہے۔

بچپن میں بونا پارٹ کی کامیابیوں کا راز اسی "نا" یا "نہیں" میں مضمر تھا۔ بقول بچپن میں، اس کی زندگی کی لغت میں لفظ "نہیں" یا "نا" نہیں ہے۔ کچھ یہی داستان انگریزی کے لفظ Impossible کی ہے۔ انگریزی میں سلیس انداز میں اس لفظ کو ادا کر کے کسی کام کے نام ہونے کی مہر ثبت کر دیتے ہیں لیکن یہی لفظ خود شکم کو اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ اس میں جو راز مخفی ہے وہ خفیہ سی کاوش کے بعد عیاں ہوتا ہے۔ یہی Impossible جو زبان سے کہتا ہے I M (am) possible یعنی یہ ناممکن صحیح کر کہتا ہے "میں ممکن ہوں" پھر بھی ہماری فہم و فراست اس کو قبول نہیں کرتی۔

بعض اوقات انسان یہ کیوں سوچ لیتا ہے کہ اگر اس میں کوئی خامی ہے تو وہ دُور نہیں ہو سکتی؟ جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر انسان کوشش کرے تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا؟ لیکن ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ انسان اپنے اندر اچھی عادتیں پیدا کر کے ایک مثال قائم کرے بلکہ ہوتا تو یوں ہے کہ "اندھے کے ہاتھوں میں چراغ" جس سے اندھے کو تو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا بلکہ دوسرے اس سے مستفید ہوتے ہیں۔

ہم دوسروں پر ہنستے ہیں اور دوسرے ہماری ذات سے اپنی اصلاح کرتے ہیں۔ ہم دوسروں کی غلطیوں پر ہنستے ہیں، ہم دوسروں کی قابلیت دیکھ کر حسد کرتے ہیں جبکہ ہونا تو یوں چاہئے کہ بجائے حسد کے ہم ان پر رشک کریں اور اپنے اندر اتنی زیادہ قابلیت و اہلیت پیدا کریں کہ وہی ہماری طاقت بن جائے۔ دوسروں کو ٹوکنے سے زیادہ بہتر ہے کہ اپنی اصلاح کی جائے۔ یہ کام اسی وقت شروع کر دیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری نظر اس سوال پر جائے کہ کیسے شروع کریں اور کہاں سے شروع کریں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس سے پہلے کچھ نہ ہوا ہو اسے شروعات کہتے ہیں بالکل اسی طرف اگر ہم خود اپنی اصلاح کے بارے میں آج ہی سے ابتدا کریں اور دوسروں کی غلطیوں کو نظر انداز کرنا شروع کر دیں تو شاید بہت حد تک ہم ایک کامیاب زندگی گزارنے والوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔

## (۱۳۹) کیا آپ ﷺ کے بدن کا سایہ نظر آتا تھا؟

سوال کیا آپ ﷺ کا سایہ ہوتا تھا؟

جواب حضرت ذکوان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ کا سایہ نہ تو دن میں نظر آتا تھا اور نہ ہی رات میں۔ اس کو حکیم ترمذی نے نقل کرنے کے بعد فرمایا:

وجہ یہ ہے کہ کوئی کافر آپ کے سایہ پر نہ چلے، اگر کوئی کافر آپ کے سایہ مبارک پر چلے گا تو یہ آپ کے لئے باعث ذلت ہوگا۔

ابن سعید فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ کا سایہ مبارک زمین پر پڑتا ہی نہیں تھا۔ آپ تو نور تھے، رات دن میں جب بھی چلتے مگر سایہ ظاہر نہیں ہوتا تھا۔ بعض علماء نے فرمایا کہ اس کی تابعدار آپ ﷺ کے فرمان ”اللہم اجعلنی نوراً“ سے بھی ہوتی ہے۔

(سبل احمدی والرشاد فی سیرۃ خیر العباد جلد ۹ ص ۹)

## (۱۴۰) آپ کی کتاب ”مؤمن کا ہتھیار“ پڑھتی ہوں مگر.....

سوال ہم آپ کی کتاب ”مؤمن کا ہتھیار“ بلا ناغہ صبح و شام پڑھتے ہیں، لیکن کبھی کبھی کسی مشغولیت کی وجہ سے نہیں پڑھ پاتے تو کیا اس کو دوسرے وقت میں پڑھ سکتے ہیں؟

جواب امام نووی اپنی کتاب ”الاذکار“ صفحہ ۴ پر فرماتے ہیں کہ جس شخص کا رات یا دن کے کسی وقت میں یا نماز کے بعد یا کسی اور وقت میں ذکر کا وظیفہ متعین ہو اور اس سے اس وقت میں وہ وظیفہ فوت ہو جائے تو مناسب ہے کہ اس کو جب بھی وقت ملے اس کا تدارک کر لے، ترک نہ کرے اس لئے کہ جب وظیفہ کی عادت بن جائے گی تو وہ وظیفہ اس سے نہیں چھوٹے گا۔ لیکن اگر وہ اس وظیفہ کو پورا کرنے میں غفلت کرے گا تو پھر وظیفہ کا اس وقت میں ضائع ہونا بھی آسان ہو جاتا ہے، چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”جو آدمی اپنے کل وظیفہ یا اس میں سے کچھ حصہ پورا کیے بغیر سو گیا پھر صبح اس کو فجر کی نماز سے لے کر ظہر کی نماز تک کسی وقت میں پورا کر لیا تو اس کے لئے ایسا ہی لکھا جائے گا کہ گویا اس نے اس کو رات ہی میں پڑھا ہے۔“ (صحیح مسلم جلد ۱ ص ۲۵۶) لہذا بندہ کی رائے یہ ہے کہ اس کو ناغہ نہ کیجیے۔

## (۱۴۱) جہیز کی لعنت سے بچتے

اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں انسان کو سب سے افضل و اعلیٰ درجہ عطا فرمایا ہے۔ اس میں سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت موجود ہے۔ ساری دنیا کے انسانوں سے قطع نظر ہم اگر صرف مسلمانوں کی بات کریں تو ان کی کچھ حرکتیں دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ وہ قوم جسے پیغمبر آخر الزماں ﷺ نے اپنے ہر عمل سے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے، کس طرح کچھ حرکتوں کی وجہ سے بدنام ہے۔ ”جہیز“ کا شمار بھی ایسی ہی حرکتوں میں ہوتا ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اس کے باوجود مسلمانوں میں اس کی وبا عام ہے۔ حالانکہ حضور ﷺ کا ارشاد گرامی ہے کہ ”وہ شادی بہت بابرکت ہے جس کا بارگم سے کم پڑے۔“ (شعب الایمان للبیہقی)

جہیز ایک خطرناک وبا کی طرح ہمارے سماج میں موجود ہے۔ اس کے لیے کسی حد تک نوجوانوں کو بھی ذمہ دار قرار دیا جاسکتا ہے جو اپنے والدین کے ساتھ جہیز کی فرمائشوں میں پیش پیش رہتے ہیں۔ حالانکہ نوجوانوں کے اختیار میں ہے کہ وہ اپنی زندگی کا فیصلہ خود کریں اور اس کے لیے والدین کو راضی بھی کر سکتے ہیں۔ جہیز کے خلاف انقلاب لانے میں نوجوان اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ والدین اپنی بیٹی کو جہاں تک ممکن ہوتا ہے اپنی اوقات سے زیادہ دینے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود جہیز کے لاپٹی انسانوں کا دل نہیں بھرتا اور

حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو سماج کے عزت دار لوگوں میں شمار کیا جاتا ہے۔

اس ضمن میں جہاں نوجوانوں پر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں وہیں لڑکی اور اس کے اہل خانہ کو بھی اس سے بری نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ لڑکی کے والدین اس کی خوشی کے لیے قرض لے کر یا گھر بیچ کر کسی بھی طرح چیز کا سامان خریدتے ہیں چاہے لڑکے والوں کی طرف سے مطالبہ ہو یا نہ ہو۔ یہ لڑکی والوں کا غلط فیصلہ ہوتا ہے کہ سامان دینے سے ان کی بیٹی خوش رہے گی۔ اول تو چیز دینا ہی نہیں چاہیے دوسرے یہ کہ چیز مانگنے والوں کے یہاں اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جو لوگ آج مطالبہ کر رہے ہیں اس کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ اتنے پر ہی اکتفا کر لیں گے؟ کبھی کبھی تو ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ منگنی کے چند مہینہ بعد لڑکے والے چیز کا مطالبہ کرتے ہیں اور لڑکی والے عزت کے مارے چپ چاپ ان کا مطالبہ قبول کر لیتے ہیں۔ کیونکہ دوسری صورت میں منگنی تو ڈر دینے کی دھمکی دی جاتی ہے اور یہ ہر کوئی جانتا ہے کہ اگر لڑکی کی کسی وجہ سے منگنی ٹوٹ گئی تو قصور وار نہ ہوتے ہوئے بھی سارا الزام اسی پر دھر دیا جاتا ہے کہ یقیناً اس میں کوئی خرابی ہوگی تب ہی تو اتنے دنوں پرانی منگنی ٹوٹ گئی۔ لیکن اس طرح کا دھوکہ لڑکی والوں کو برداشت نہیں کرنا چاہیے۔ اس طرح کے عناصر سے نمٹنے کے لیے قانون کا سہارا بھی لیا جاسکتا ہے۔

چیز کی وبانے ہمارے پورے معاشرے کو اپنی پیٹ میں لے لیا ہے۔ اب کیا پڑھے لکھے اور کیا جاہل سب ہی ایک صف میں نظر آتے ہیں۔ عیش و آرام اور غیر ضروری اخراجات کو پورا کرنے کے لیے شادی کے برسوں بعد بھی فرمائشیں کی جانے لگی ہیں اور پوری نہ ہونے کی صورت میں زندگی بھر کا ساتھ نبھانے کا وعدہ پلوں میں توڑ دیا جاتا ہے۔ اور اس طرح لڑکی جب واپس اپنے والدین کے گھر آتی ہے تو اکیلی نہیں ہوتی بلکہ اس کے ساتھ بچے بھی ہوتے ہیں جن کی ذمہ داری اس کے والدین کو اٹھانی پڑتی ہے۔

بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر لڑکا کوئی کام وغیرہ نہیں کرتا ہے تو اس کے والدین سعودی وغیرہ بھیجے کا خرچ بھی لڑکی سے مانگتے ہیں۔ اس طرح کے واقعات عام ہیں لیکن اسے ہماری بے حسی کے علاوہ اور کیا کہا جاسکتا ہے کہ ہم دیکھ کر بھی انجان بنے رہتے ہیں۔ چیز کے مطالبے کی وجہ سے کتنی ہی بیٹیاں والدین کی چوکھٹ نہیں پار کر سکی ہیں اور ان کی عمر گزری جا رہی ہے۔ دور جدید میں لوگوں نے چیز کو فیشن بنا لیا ہے۔ ہر چند کہ آج بھی ایسے لوگ ہیں جو سادگی سے اس مقدس فرض کو انجام دے رہے ہیں اس کے باوجود اکثریت مطالبہ کرنے والوں کی ہے۔ اس دباؤ کے تدارک کے لیے نوجوانوں کے ساتھ خواتین بھی اہم کردار ادا کر سکتی ہیں کیونکہ عام طور سے فرمائشیں ساس اور نندوں کی طرف سے زیادہ ہوتی ہیں۔

اسلام جیسے آسان مذہب کے پیروکار ہونے کے ناطے ہمارا فرض ہے کہ ہم اس طرح کی معاشرتی برائیوں سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ کیونکہ یہی اسلام کا شیوہ ہے۔ اگر ہم اپنے معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے گھر سے ہی اس کی شروعات کرنی چاہیے۔

## (۱۲۲) اسلامی سزائیں انسانی معاشرے کے لیے رحمت ہیں

اسلام میں عورت کو جو مقام و مرتبہ دیا گیا ہے وہ اسے تاریخ کے کسی دور میں بھی حاصل نہیں رہا ہے۔ جہاں تک عورت اور مرد کے درمیان تقابل کی بات ہے حقوق و احترام کے معاملہ میں عورت اور مرد کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ البتہ دونوں کا مزاج اور فطری تقاضوں کا لحاظ رکھتے ہوئے دونوں کی ذمہ داریوں میں فرق رکھا گیا ہے۔ اس وجہ سے دونوں کا مقام عمل ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ یہ کوئی افضلیت اور عدم افضلیت یا برتری اور کتری کی بات نہیں بلکہ ایک ناگزیر معاشرتی ضرورت ہے۔ عورت اور مرد کے فرائض کے معاملے میں شریعت کے احکامات کو اسی نقطہ نظر سے دیکھا جانا چاہیے۔



دونوں کا خالق و مالک ایک ہے۔ وہ رفتہ از دواج میں منسلک ہونے کے بعد سے عمر کے آخری لمحے تک دونوں کے درمیان کوئی امتیاز نہیں برتا ہے اور نہ ہی ایک کے دکھ درد کو دوسرے سے ہلکا تصور کرتا ہے۔ اسی وجہ سے اسلام میں عورت اور مرد کے درمیان نا اتفاقی کی صورت میں جس طرح مرد کو طلاق کا اختیار ہے اسی طرح عورت کو بھی خلع کا حق دیا گیا ہے۔ جبکہ دوسرے مذاہب میں اس طرح کی کوئی سہولت نہیں پائی جاتی۔ مثال کے طور پر ہمارے ملک کا ایک قدیم مذہب ہندو ازم یا سناٹن دھرم ہے جس کی انسان دوستی اور رواداری نظریاتی سطح پر ہی سہی زبان زد عام ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ازدواجی زندگی کے نازک معاملات میں ہندو دھرم کوئی واضح رہنمائی نہیں دے پاتا۔ طلاق و خلع جیسے عین فطری اصول ہندو دھرم میں نہیں ملتے۔ خلع کا تصور تک اس دھرم کے گرتھوں میں نہیں پایا جاتا۔ عورت نے جس مرد کے ساتھ اگنی کے ساتھ پھیرے لگا لیے اسی کے دامن سے اسے آخری سانس تک بندھے رہنا ہے خواہ عائلی زندگی میں کیسا ہی اتار چڑھاؤ آئے اور میاں بیوی کی زندگی زہر سے بھی تلخ تر کیوں نہ ہو جائے۔ بیوہ کے مسائل تو اس سے بھی زیادہ سنگین ہیں۔ عورت اگر بیوہ ہو جائے تو بن ٹھن کر نکلنا اور بناؤ سنگھار کرنا تو درکنار بناؤ سنگھار کی اشیاء رکھنے تک کی اسے اجازت نہیں ہوتی دوسری شادی کا حق تو بہت دور کی بات ہے۔ اس کے برعکس اسلام میں عورت کے حقوق کی کتنی ٹھوس ضمانت ہے اور وہ عورت کی عظمت کا کتنا اونچا تصور رکھتا ہے اس کا اندازہ اس ایک مسئلہ سے لگایا جاسکتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی عورت کی پاکدامنی پر انگلی اٹھائے تو اسے اپنے الزام کے ثبوت میں پانچ آدمیوں کو پیش کرنا پڑے گا۔ اگر وہ چار مردوں کی گواہی نہ پیش کر سکا تو اس کی تنگی پیٹھ پر ۸ کوڑے مارے جائیں گے۔ اس باب میں اسلام کا موقف یہ ہے کہ کسی عورت پر انگشت نمائی کرنے سے پہلے خوب اچھی طرح سوچ لو سوچے سمجھے بغیر محض قیاس آرائی کی بنیاد پر ہرگز زبان نہ کھولو۔

رسول اللہ ﷺ کی عائلی و معاشرتی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی گئی لیکن آپ ﷺ نے کامل تحقیق کے بغیر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا حتیٰ کہ آپ ﷺ کے اصحاب بالفاظ دیگر اس وقت کے اسلامی معاشرہ نے بھی حسن ظن سے کام لیا اور صبر و انتظار کی پالیسی پر چلتے ہوئے حد درجہ قوت برداشت اور ضبط و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ بالآخر ام المؤمنین کی برائت میں پورا ایک رکوع نازل ہوا اور منافقین کی پھیلائی ہوئی افواہ کے غبارے کی ہوا نکل گئی۔

مغربی مصنفین جن اسلامی سزاؤں کا برسر عام مذاق اڑاتے ہیں انہیں میں ایک حدزنا ہے۔ ان سزاؤں کو وہ دور وحشت کی یادگار قرار دیتے ہیں۔ لیکن اسلامی تعزیرات میں دور وحشت کی یادگاروں جیسی کوئی چیز نہیں آتی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اسلامی سزائیں انسانی معاشرہ کے لیے زحمت نہیں بلکہ رحمت ہیں۔ اب حدزنا ہی کو لے لیجئے۔ یہ محض تعزیر نہیں سوسائٹی کے لیے تنبیہ بھی ہے۔ اس کا مقصد سوسائٹی کو اخلاقی آلودگی سے پاک و صاف رکھنا ہے۔ مغرب کے وضع کردہ قوانین کے نزدیک زنا ایک معمولی چیز ہے۔ اس کے گناہ ہونے کا تصور تک مغربی تہذیب میں نہیں ہے۔

جدید قوانین یا مغربی تہذیب میں صرف زنا بالجبر کو جرم شمار کیا جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں مغرب کا تصور آزادی یہ ہے کہ آزادی اس وقت تک جب تک وہ دوسرے کی آزادی سے متصادم نہ ہو۔ لیکن اسلام میں آزادی کا تصور اس سے مختلف ہے۔ اسلام اسی کے ساتھ ایک قید اور لگاتا ہے وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ بے قید آزادی کے استعمال سے معاشرہ پر کس قسم کے اثرات مرتب ہوں گے۔ گویا مغرب میں براہ راست مداخلت ہی کو آزادی کے منافی سمجھا جاتا ہے جبکہ اسلام اس کا دائرہ فرد سے معاشرہ تک وسیع کرتا ہے۔ براہ راست مداخلت کے ساتھ وہ بالواسطہ مداخلت کو بھی آزادی کے خلاف مانتا ہے اور اسے انسانی سماج کے لیے مضر قرار دیتا ہے۔

ممکن ہے کوئی شخص یہ کہے کہ اسلام کا تصور آزادی اور سوسائٹی کو صاف و شفاف رکھنے کا دعویٰ سر آنکھوں پر لیکن ایسی بھی کیا سنگ دلی

کہ اگر کسی سے زنا کا صدور ہو جائے تو اسے پھر بار بار کر ہلاک کر دیا جائے۔ سنگسار کیے جانے کی یہ سزا (رجم) انتہائی وحشت ناک اور اعلیٰ درجہ کی سنگدلی کی علامت ہے۔ لیکن اعتراض اٹھانے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ جن ممالک میں اسلامی قوانین نافذ ہیں وہاں پر رجم قصاص اور اسی طرح قطعید کے کتنے مقدمات سامنے آتے ہیں۔ اس کے برعکس جن ممالک میں بے قید آزادی کارجان اور جدید فطرح کا غلبہ ہے۔ بالخصوص مغربی ممالک میں زنا، قتل، اغواء، ڈکیتی اور غنڈہ گردی کی شرح کس تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ اسلام اپنے مضبوط موقف کے ذریعہ معاشرہ کو اس انجام بد سے بچانا چاہتا ہے اور جدید انسانوں کو ان اخلاقی بیماریوں اور آلائشوں سے پاک رکھنا چاہتا ہے جو بد قسمتی سے مغربی اقوام کا مقدر بنی ہوئی ہیں۔

آج وہ تعزیرات نہیں ہیں چنانچہ دیکھ لیجئے انسان شتر بے مہار بنا ہوا ہے اور ادھر ادھر منہ مارتا پھر رہا ہے۔ خصوصاً مغربی ممالک میں جہاں اسلامی و افکار و نظریات کا مذاق اڑایا جاتا ہے وہاں اعلیٰ انسانی اوصاف اور روحانی و اخلاقی اقدار خواب میں بھی دیکھنے کو نہیں ملتے۔ مغربی سوسائٹی میں روحانیت پر مبنی سوچ کو رجعت پسندی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کے برعکس آپ ان ممالک میں جا کر دیکھئے جہاں پر کسی نہ کسی درجہ میں اسلامی قوانین نافذ ہیں یا جہاں کے عوام میں اسلامی قوانین اور اسلامی افکار و عقائد کو فکری و نظریاتی سطح پر برتری حاصل ہے وہاں وہ حیا و سوز مناظر دیکھنے کو نہیں ملتے جو لندن، پیرس یا دیگر یورپی ممالک میں برسر عام دیکھے جاتے ہیں۔ ضرورت ہے کہ اسلام کے عائلی و معاشرتی قوانین کے بارے میں پائی جانے والی غلط فہمیوں کو ذرائع ابلاغ کے ذریعہ دور کیا جائے اور اسلام کے ابدی و آفاقی اصولوں کو سمجھا جائے۔

### (۱۴۳) تیری گود میں پلتی ہے تقدیر اُمم

علم کی اہمیت و افادیت اپنی جگہ مسلم ہے آج کے اس عہد میں تعلیم اتنی ہی ضروری ہے جتنا کہ زندگی کے لیے سانس کی آمد و رفت۔ ایک بچہ کے لیے ماں کی گود سب سے پہلا درسہ ہوتا ہے۔ ایک نومولود جب اس دنیا میں آتا ہے تو وہ بالکل معصوم اور فرشتے کی طرح ہر گناہ سے پاک ہوتا ہے۔ تمام دنیاوی امور اور مسائل سے آزاد ہوتا ہے۔ لیکن جیسے جیسے وہ اپنی زندگی کے ابتدائی مراحل کو طے کرتے ہوئے اپنی طفلانہ زندگی کا آغاز کرتا ہے ہر شے لاشعوری طور پر اس کے سامنے آتی ہے۔ بچہ جب اپنی ماں کی گود سے اترتا ہے تو وہ اپنے گھر کی زمین پر قدم رکھتا ہے گویا اسے یہیں احساس ہو جاتا ہے کہ اس کے اطراف کا ماحول کیا ہے۔ وہ اپنے اطراف کے ماحول سے مانوس ہوتا چلا جاتا ہے اور ان چیزوں کو قبول کرتا ہے جو اس کے ارد گرد پھیلی ہوئی ہیں۔

سماجی نقطہ نظر سے ایک بچہ کا سماج اس کا گھر ہوتا ہے اور بچہ اپنے اس ماحول کے تمام طور طریقوں سے مطابقت کرنا سیکھتا ہے یا والدین اسے سکھاتے ہیں۔ اس میں مرکزی کردار ماں کا ہوتا ہے اس لیے کہ باپ تو تلاش محاش میں گھر سے باہر ہوتا ہے۔ اگر ماں تعلیم یافتہ ہے تو سب سے پہلے بچے کو لکھنا پڑھنا سکھاتی ہے، لیکن ماں اگر ان پڑھ ہے تو وہ اس کی چنداں فکر نہیں کرتی لہذا بچہ اس سے آزاد اور کھیل کود میں مگن رہتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اسکول میں داخل ہوتا ہے تو اس میں وہ دلچسپی یا رغبت مفقود ہوتی ہے جو تعلیم یافتہ ماحول سے آنے والے بچوں میں ہوتی ہے۔

ماں کی گود کے بعد اور اسکول میں داخلے سے پہلے ایک بچے کا جو کتب ثانی ہوتا ہے وہ اس کا گھر اور اس پاس کا ماحول ہوتا ہے۔ گھر کے باہر کا ماحول بھی بچے کو اتنا ہی متاثر کرتا ہے جتنا کہ اندر کا۔ عموماً بچے گھر کے باہر نازیبا کلمات اور گالی گلوچ سیکھتے ہیں اور اس کا رد عمل کم یا زیادہ گھر میں بھی نظر آتا ہے۔ بھائی، بہن کی لڑائی میں ان کی زبان سے یہ کلمات نہ چاہتے ہوئے بھی ادا ہوتے ہیں۔ یہ بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ بیرونی ماحول سے اپنے ہم عمر بچوں سے سننے والی باتیں وہ جلد قبول کرتے ہیں۔ مشترکہ خاندانوں میں بچے زیادہ نفسیاتی اور

حساس ہوتے ہیں۔ مشترکہ خاندان میں افراد کی تعداد زیادہ ہونے کے سبب تو تو میں میں عام بات ہوتی ہے اور دو افراد کے بیچ رد عمل کو جب دیکھتے ہیں تو اس کا اثر قبول کر لیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے کہ اکثر بچے گھر کے باہر لڑائی جھگڑے میں پیش پیش رہتے ہیں۔ اگر مشترکہ خاندان میں بچوں کے سامنے احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی جائیں تو بچے اسی رو میں بہنا شروع کر دیتے ہیں جس کے نتیجے میں آگے چل کر خاندان کے دوسرے افراد متاثر ہو سکتے ہیں۔ تجربات اور مشاہدات یہ ثابت کرتے ہیں کہ بچوں کا ذہن و دماغ ایک کورے کاغذ کی طرح ہوتا ہے، بچپن میں جو باتیں یا عاداتیں انہیں سننے اور دیکھنے کو ملتی ہیں وہ ان کے دماغ میں مثبت ہو جاتی ہیں اور عمر کے ساتھ ساتھ ان میں پختہ بھی ہو جاتی ہیں۔

ہمیں اپنے معاشرے کو صحت مند بنانے کے لیے اس قول کو اہمیت دے کر ایک بچے کو آنے والے کل کا ایک بہترین انسان بنانا ہوگا تاکہ وہ ایک اچھا اور سمجھدار انسان بن سکے۔ جس طرح ایک سمجھدار انسان ایک چھوٹے سے بچے سے بہت ساری باتیں سیکھتا ہے یعنی ایک بچہ بھی اپنے بڑے بزرگوں سے بہت ساری باتیں سیکھتا اور قبول کرتا ہے۔

بچے فطرتاً نقل ہوتے ہیں۔ اس لیے گھر کے افراد کو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ جو بھی حرکات و سکنات ان سے سرزد ہوں گی بچے فوراً قبول کر لے گا اس لیے بچوں کے سامنے لغویات اور فضولیات سے پرہیز کرنا والدین اور دیگر بڑوں کی اخلاقی ذمہ داری ہی نہیں بلکہ سماجی ذمہ داری بھی ہے۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم ان بچوں کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے انہیں ایک صالح صاف سحرے ماحول کی تشکیل کے لیے فضا سازگار کرتے ہیں۔

بچے مستقبل کا سرمایہ ہیں۔ اس لیے یہ بات نہایت ہی اہم ہے کہ ان کی پرورش کے لیے گھر کا ماحول خوشگوار اور صحت مند رکھیں۔ کیونکہ ایک بچہ اپنے گھر میں والدین کے ساتھ ساتھ گھر کے دیگر افراد کے ساتھ بھی وقت گزارتا ہے۔ ایک نیک اور صالح بچہ جب گھر کے باہر قدم رکھتا ہے تو سماج میں مختلف لوگوں سے اس کا سابقہ پڑتا ہے۔ متعلقہ افراد بچے کے عادت و اطوار اور کردار و گفتار سے یہ اندازہ کر لیتے ہیں کہ اس بچے کے گھر کا ماحول کس طرح کا ہے۔

ماحول دینی ہو تو اس کا اثر بچے کے ذہن کو متاثر ضرور کرتا ہے ورنہ عموماً نئی نسل اپنے مذہب اور دین سے کوسوں دور نظر آ رہی ہے۔ اس کی کے لیے بھی والدین اور گھر کے افراد ہی ذمہ دار ٹھہرائے جائیں گے۔ بچے قدرتی طور پر معصوم ہوتے ہیں اور ان کی اس معصومیت میں آنے والے کل کا مستقبل پوشیدہ ہوتا ہے۔ بالخصوص ایک ماں کی گود میں بچے کی تقدیر چلتی ہے جو کہ اس مصرعے کی غماز ہے:

تیری گود میں چلتی ہے تقدیر ام

(۱۲۴) قریش کی عورتیں

حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا رسول اللہ ﷺ کی چچا زاد بہن تھیں۔ نبوت سے قبل اللہ کے رسول ﷺ نے اپنے چچا سے ان کا رشتہ مانگا مگر بوجہ انہوں نے انکار کر دیا اور ان کی شادی کسی اور جگہ ہو گئی پھر ایک وقت آیا جب یہ بیوہ ہو گئیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی بڑی خواہش تھی کہ اگر ان کی شادی اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے ہو جائے تو بڑے شرف کی بات ہے چنانچہ ایک دن انہوں نے موقع پا کر اللہ کے رسول ﷺ سے عرض کیا کہ اگر آپ ﷺ ام ہانی بنت ابی طالب سے نکاح کر لیں تو اللہ تعالیٰ انہیں دو رشتوں سے نواز دے گا۔ وہ پہلے بھی آپ ﷺ کی قریمی رشتہ دار ہیں اور دوسرا یہ کہ آپ ﷺ کی زوجیت میں آ جائیں گی۔

اللہ کے رسول ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مشورہ کو پسند فرمایا اور ام ہانی رضی اللہ عنہا کو پیغام نکاح بھجوادیا۔ انہوں نے جواب دیا: ”اللہ کے رسول ﷺ مجھے اپنی جان سے بڑھ کر عزیز ہیں۔ لیکن آپ ﷺ کا حق بہت عظیم ہے۔ میرے بچے یتیم ہیں جن کی میں پرورش کر رہی

ہوں۔ مجھے اندیشہ ہے کہ اگر میں آپ ﷺ کی خدمت کا حق ادا کرنے لگ جاؤں گی تو میرے بچوں کے حقوق متاثر ہوں گے اور اگر بچوں کے حقوق ادا کرنے لگ گئی تو اللہ کے رسول ﷺ کے حقوق کی ادائیگی میں کمی آجائے گی۔“

اللہ کے رسول ﷺ نے جب ام ہانی رضی اللہ عنہا کا جواب سنا تو نہایت خوش ہوئے اور ارشاد فرمایا: ”قریش کی عورتیں تمام عورتوں سے بہتر ہیں اور نبی ﷺ کی سواری بھی کر لیتی ہیں، چھوٹے بچوں پر نہایت مہربان اور مشفق ہیں اور اپنے شوہر کے ذاتی کاموں پر بھرپور توجہ مرکوز کرنے والی ہیں۔“ (الاصحاب جلد ۸ ص ۱۸۵)

یہ زمانہ جاہلیت کی بات ہے۔ مکہ میں ایک بڑے سردار کی بیٹی تھی جس کا نام ہند بنت عتبہ بن ربیعہ تھا۔ وہ اپنے زمانے کی نہایت ذہین و فطین اور حسین و جمیل لڑکی تھی۔ اس سے شادی کے لیے ایک ہی وقت میں سہیل بن عمرو اور ابوسفیان بن حرب نے پیغام بھیجا۔ اس کے والد عتبہ اپنی بیٹی کے پاس آئے اور کہا ”بیٹی! مکہ کے دو بہترین نوجوانوں نے تم سے شادی کی خواہش ظاہر کی ہے۔ اب تمہاری مرضی ہے جس کو تم پسند کرو گی میں اس سے تمہاری شادی کر دوں گا۔“ ہند کہنے لگی کہ ابا جان! ان دونوں کی عادات اور خصائل سے مجھے آگاہ کریں تاکہ مجھے فیصلہ کرنے میں آسانی ہو۔

عتبہ نے سہیل بن عمرو کا تعارف یوں کروایا:

”سہیل بن عمرو خاندان کا منتخب اور بہتر آدمی ہے اور زندگی کے ناز و نعم کی سہولتیں اس کو میسر ہیں۔ دولت و ثروت کے سکوں کی اس کے آنگن میں کثرت رہتی ہے۔ میری لاڈلی اگر تو نے اس کا پیغام قبول کر لیا تو وہ تیرا ہو کر رہے گا تیری باتوں کی موافقت کو اپنی شان تصور کرے گا۔ اگر تو نے اس کی ہاں میں ہاں ملا دی اور اس کی طرف محبت و میلان کو مقدم کر دیا تو یقیناً اس کی نگاہوں کا تارا بن جائے گی۔ تیرا ہر قدم اس کی جھٹیلی پر ہوگا اور تیری ہر بات اس کے سر آنکھوں پر۔ اس کے اہل خانہ کی باگ ڈور تیرے ہاتھ میں ہوگی اور مال و دولت پر تیری حکمرانی ہوگی۔“

جہاں تک ابوسفیان بن حرب کی بات ہے تو وہ خوشحال ہے حسب و نسب والا اور پختہ و مضبوط رائے کا مالک ہے۔ اس کا گھرانہ شرافت میں معروف ہے۔ یہ خاندان موچھوں پر ہاتھ پھیرنے والا شدید غیرت اس کی فطرت ہے اور کثرتِ مال اس کی عادت ہے اپنے مال کے ضیاع سے وہ قائل نہیں رہتا اور نہ اپنے اہل خانہ پر لاشی اٹھانے سے کبھی باز آتا ہے۔“ ہند نے والد کی بات سن کر عرض کیا۔

”والد محترم! پہلا آدمی سہیل بن عمرو سردار اور اپنی بیوی کے نشہ میں اس کے قدموں کے نیچے مال و دولت بچھانا دینے والا ہے اس لیے ممکن ہے بیوی کی ناخوشگواری کے باوجود اس کے لیے الفت و محبت کا نذرانہ پیش کرنا اپنا شیوہ بنالے اور اپنے دل کے نرم گوشوں میں اسے جگہ دے کر اپنا تن من و دھن سب کچھ اس کے سپرد کر دے، لیکن جب اس کے اہل خانہ کی ذمہ داری بیوی کے کمزور کندھوں پر آ پڑے گی تو پھر اس کی زندگی کا ستارہ گردش کرنے لگے گا اور وہ غلطی کا شکار ہو جائے گی اور جب اہل خانہ اس سے کوئی رکاوٹ محسوس کریں گے تو پھر اطمینان کی سانس لینا بھی اس کے لیے دو بھر ہو جائے گا۔ ایسی صورت میں اس کی حیثیت کم سے کم تر ہو جائے گی اور اس کا سارا ناز و خرا کھڑاؤں کی دھول کی طرح منتشر ہو جائے گا۔ اگر اس کے بطن سے کوئی بد صورت بچہ جنم لے گا تو احمقوں کی فہرست میں اس عورت کا ایک نام کا اضافہ ہو جائے گا اور اگر کوئی شریف بچہ جنم لے گا تو ایسے گھرانے میں اس کی بد قسمتی اس کا ساتھ چھوڑنے کو تیار نہ ہوگی۔ لہذا اے والد محترم! اس رشتہ کو نامشکور کر دیجیے۔ جہاں تک دوسرے آدمی ابوسفیان بن حرب کی بات ہے تو وہ عفت مآب آزاد اور شرمیکے دو شیزہ کا شوہر بننے کے لیے بالکل مناسب ہے اور ہاں میں بھی اس کے خاندان کا ایک ایسا فرد بن کر رہوں گی کہ اسے میرے خلاف غیرت کھانے کا موقع ہی نہ ملے گا۔ یعنی بالکل پاکدامن رہوں گی اور اپنی ساری توجہ اپنے شوہر ہی پر مرکوز رکھوں گی اور خاندان کو میری طرف سے کوئی

شکایت نہ ہوگی تاکہ میری ہونے والے شریک حیات کو اس کی طرف سے کسی نقصان کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ میں ایسے غیر متادادی سے شادی پر اتفاق کرتی ہوں۔ سو ابوجان آپ میری شادی اسی سے کر دیجیے۔“

نبی کا یہ دور رس تجربہ سننے کے بعد عقبہ بن ربیعہ نے نبی کی شادی ابوسفیان بن حرب سے کر دی۔ یہ وہی ہندہ ہے جو ایک وقت میں اللہ کے رسول ﷺ کی سب سے بڑی دشمن تھی۔ غزوہ بدر میں اس کا باپ عقبہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہما کے ہاتھوں واصل جہنم ہوا تو اس نے انتقام لینے کی ٹھانی چنانچہ غزوہ اُحد سے پہلے وحشی کو اسی نے بدلہ لینے کے لیے تیار کیا تھا۔ خود عورتوں نے ایک وفد کی قیادت کرتی ہوئی اُحد میں شریک ہوئی پھر وقت آیا کہ فتح مکہ کے بعد اس نے اسلام قبول کر لیا۔ چھٹی ہوئی اللہ کے رسول ﷺ کے پاس بیعت کے لیے آئی۔ جب آپ ﷺ نے بیعت کی شرائط میں یہ ذکر فرمایا کہ زنا نہیں کرنا تو بے اختیار پکار اٹھی کہ کیا آزاد عورت بھی ایسی گھٹیا حرکت کی مرتکب ہو سکتی ہے؟ اس خاتون کے بطن سے ایک ایسی شخصیت نے جنم لیا۔ جو عرب کی نہایت ذہین و فطینہ متحمل مزاج اور کامیاب سیاسی شخصیت تھی جس کو دنیا امیر معاویہ رضی اللہ عنہما کے نام سے جانتی ہے۔

### ﴿۱۳۵﴾ کبر کی تعریف اور اس کا نتیجہ

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر ہوگا۔“

ایک شخص نے عرض کیا: ”یا رسول اللہ ﷺ! آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو اور اس کا جوتا بھی اچھا ہو۔“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ کبر تو حق کے مقابلے میں اترانے اور لوگوں کو حقیر سمجھنے کا نام ہے۔“ (مسلم)

فائدہ: اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جائز حد کے اندر لباس میں زیبائش میں زیبائش (سجائا) میں خوبصورتی اور نفاست اختیار کرنا اور اپنے جی کو خوش کرنا دین کے خلاف نہیں ہے۔ البتہ یہ سب لوگوں کے سامنے بڑا بننے کے لیے اور دوسروں کو حقیر جانتے ہوئے کی جائے تو یہ کبر اور غرور ہے اور اس کا نتیجہ جہنم ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے: آرائش بھی جائز، زیبائش بھی جائز، پر نمائش ناجائز! اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے محفوظ رکھے۔

### ﴿۱۳۶﴾ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کا کیا نام تھا؟

■ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کا کیا نام ہے؟

■ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام امیمہ رضی اللہ عنہا تھا۔

واقعہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو امیر بنانے کے لیے بلایا۔ انہوں نے امارت قبول کرنے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو انکار کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کیا تم امیر بننے کو برا سمجھتے ہو حالانکہ اسے تو اس شخص نے مانگا تھا جو تم سے بہتر تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا وہ کون؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: وہ حضرت یوسف بن یعقوب علیہ السلام ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا حضرت یوسف علیہ السلام تو خود اللہ کے نبی تھے اور اللہ کے نبی کے بیٹے تھے (انہیں ایسا کرنے کا حق تھا)۔ میں تو امیمہ نامی عورت کا بیٹا ابو ہریرہ ہوں اور امیر بننے میں مجھے تین اور دو (کل پانچ) باتوں کا ڈر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا پانچ ہی کیوں نہیں کہہ دیتے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا: (دو باتیں تو یہ ہیں کہ) ① میں علم کے بغیر کوئی بات کہہ دوں۔ ② اور کوئی غلط فیصلہ کر دوں۔ (امیر بن کر مجھ سے یہ دو غلطیاں ہو سکتی ہیں جس کے نتیجے میں مجھے یہ تین سزائیں امیر المؤمنین کی طرف سے مل سکتی ہیں کہ) ① میری کمر پر کوڑے مارے جائیں۔ ② میرا مال چھین لیا جائے اور ③ مجھے بے آبرو کر دیا جائے۔ (حیاء الصحابہ جلد ۲ ص ۶۳)

### (۱۲۷) اپنی خواہش کے مطابق فیصلہ کرنے والا ہلاک ہوگا

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے انہیں قاضی بنانا چاہا تو انہوں نے معذرت کر دی اور فرمایا: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قاضی تین قسم کے ہیں۔ ایک نجات پائے گا اور دوزخ میں جائیں گے۔ جس نے ظالمانہ فیصلہ کیا یا اپنی خواہش کے مطابق فیصلہ کیا وہ ہلاک ہوگا اور جس نے حق کے مطابق فیصلہ کیا وہ نجات پائے گا۔ (حیاء الصحابہ جلد ۲ ص ۶۴)

### (۱۲۸) سب سے پہلے اسلام میں امیر کون بنا؟

سب سے پہلے اسلام میں امیر کون بنا ہے؟

حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ یہ سب سے پہلے صحابی ہیں جن کو اسلام میں امیر بنایا گیا۔ (حیاء الصحابہ جلد ۲ ص ۵۴)

### (۱۲۹) حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا تیر کر طواف کرنا

ہم نے سنا ہے کہ کسی زمانے میں لوگ تیر کر طواف کرتے تھے۔ کیا صحیح ہے؟

جی ہاں صحیح ہے۔

قصہ: حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ عبادت میں اس درجے کو پہنچے جس درجے کو کوئی اور نہ پہنچ سکا۔ ایک مرتبہ اتنا زبردست سیلاب آیا کہ اس کی وجہ سے لوگ طواف نہ کر سکتے تھے۔ لیکن حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ ایک ہفتے تک تیر کر طواف کرتے رہے۔ (حیاء الصحابہ جلد ۲ ص ۷۱۵)

### (۱۵۰) منتخب اشعار

ہم نے کانٹوں کو بھی نرمی سے چھوا ہے لیکن  
لوگ بے درد ہیں پھولوں کو مسل دیتے ہیں  
نہ جانے کتنے چراغوں کو مل گئی شہرت  
اک آفتاب کے بے وقت ڈوب جانے سے

### (۱۵۱) آپ بہت اچھے ماں باپ بن سکتے ہیں

آپ بہت اچھے ماں باپ بن سکتے ہیں بشرطیکہ آپ اپنے بچوں کو سمجھیں ان کا خیال رکھیں ان کی باتیں توجہ سے سنیں اور اپنی رائے دیں۔ آپ اس وقت بھی اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں جب آپ کا بچہ آدمی رات کو اٹھا کر آپ سے کوئی سوال کرے اور کوئی ایسا مسئلہ پیدا کرے جسے فوری حل کرنا ضروری ہو۔ جب آپ بچوں کی دن رات کی پریشانیوں کا حل نکالیں گے تو بچوں کو گھر میں تحفظ کا احساس ہوگا اور وہ اعتماد ہوں گے۔

اگر آپ بچوں کو زندگی میں کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں تو بہتر ہوگا کہ ان کی مسلسل نگرانی کرنا چھوڑ دیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ جو چاہے کرتے رہیں آپ ان پر نظر رکھیں لیکن اس طرح کہ انہیں یہ احساس نہ ہو کہ ان پر ہر وقت نظر رکھی جا رہی ہے۔ آج کل کے والدین بچوں کے معاملے میں بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں۔ وہ بچوں کے سوالات کا بھی نہ صرف سختی سے جواب دیتے ہیں بلکہ ان کو مار پیٹ کر سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ کا بچہ اپنے ہم عمروں کے ساتھ دوستانہ طریقے سے رہتا ہے اور اپنے

ماحول سے مانوس ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ بچے جن میں فنکارانہ صلاحیتیں ہوتی ہیں لیکن وہ اپنا زیادہ وقت بے کار کاموں میں صرف کرتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یاد رکھیں! بچپن کی ماہ بچوں کی صلاحیتوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اگر آپ مسلسل بچوں کے بارے میں پریشان رہیں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ خود اطمینان اور پریشانی کا شکار ہو جائیں گے۔ اس لیے بچوں کی حرکتوں کی وجہ سے جذبات میں نہ آئیں بلکہ ٹھنڈے دل سے ان کی باتوں پر غور کریں۔ بچوں کے ماہر ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ والدین خوش باش یا چڑھے بچے کا اندازہ تین سال کی عمر تک لگا سکتے ہیں۔ اگر اس کی صحت اچھی ہے اور وہ اپنے آپ سے کافی دیر تک کھیلتا رہتا ہے ماں باپ کی توجہ کے بغیر تو یہ اچھی بات ہے۔ آپ اپنے بچے کو بہت زیادہ توجہ دے کر اپنا محتاج نہ بنائیں۔ اس کی شخصیت بنانے میں اس کی مدد کریں۔ گھر کے ماحول کو پرسکون رکھیں کیونکہ ماں باپ ہی بچوں کا آئیڈیل ہوتے ہیں۔ جب آپ دونوں گھر پر موجود ہوں تو اپنا وقت بچوں کو دیں اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو بچے آپ سے دور ہونا شروع ہو جائیں گے بچے کو تیرہ سال کی عمر تک آپ کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے جب وہ کالج جانا شروع کرتا ہے تو پھر اپنا وقت گزارنے کا خود فیصلہ کر لیتا ہے اس وقت اس کی مصروفیات پوچھیں مگر بلاوجہ روک ٹوک نہ کریں۔ چھٹی کے دن بچوں کو گھمانے ضرور لے کر جائیں۔ بچوں کی بہتر نشوونما کے لیے ان کی غیر محسوس طریقے سے مدد کریں تاکہ ان میں اچھے انسان بننے کی صلاحیتیں بتدریج پیدا ہوں۔

عموماً پہلی بار والدین بننے والے اپنے بچے سے بہت جلد غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں اور ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ بچے کو کیسے ایک مکمل اور اچھا انسان بنائیں۔ وہ اپنا زیادہ وقت بچے کو مختلف باتیں سمجھاتے ہوئے گزارتے ہیں اور بچے کے سامنے لوگوں کو یہ بتاتے رہتے ہیں کہ وہ اپنے بچے سے بہت پیار کرتے ہیں اور اس کے لیے بہت قربانی دے رہے ہیں۔ اس طرح کی باتیں کہنا اور وہ بھی بچوں کے سامنے مناسب نہیں ہے۔

بچے کبھی کبھی اپنے رویہ سے پریشانی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ مثلاً مالی لحاظ سے یا خرابی صحت کی وجہ سے۔ یہ ایسے لحاظ ہیں جن میں بچے اپنے آپ کو غلط نہیں سمجھتے۔ یقیناً یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ اس طرح کے مسائل میں اول تو آپ خود میں تھوڑا صبر پیدا کریں غصے کو قابو میں رکھیں اور حسن اخلاق کا مظاہرہ کریں اس سے آپ کی بیزاری اور غصہ کم ہوگا۔ اپنے بچوں کو مکمل انسان بنانے کے لیے آپ درج ذیل نکات کو ضرور ذہن میں رکھیں۔

- ① بچوں کو ہر وقت نصیحت نہ کریں۔
- ② خود ان کو اپنے طور پر سوچنے کا موقع دیں تاکہ وہ آپ کے سامنے اپنے آپ کو اچھا پیش کر سکیں۔
- ③ آپ اس بات پر غور کریں کہ آپ اپنے بچے سے کیا کہہ رہے ہیں۔
- ④ بچے کی بے عزتی نہ کریں۔
- ⑤ انہیں یہ احساس نہ دلائیں کہ آپ ان کی وجہ سے پریشانی میں مبتلا ہیں۔
- ⑥ بچوں پر ہر وقت تنقید نہ کریں ورنہ ایک وقت آئے گا کہ وہ بھی آپ کی باتوں کو نظر انداز کرنا شروع کر دیں گے۔ یا پھر آپ کو پلٹ کر جواب دے دیں گے۔

④ زیادہ بلند آواز میں بچوں سے بات نہ کریں۔

⑤ بہت ساری نصیحتیں ایک ساتھ نہ کریں۔

⑥ بچوں کو گھر میں بند رکھنے کی کوشش نہ کریں بلکہ ان کی عمر کے مطابق ان کو کھلونے یا میدان میں کھیلنے کی تربیت دیں۔

- ① اپنے رویے پر غور کریں۔ بچہ آپ کے غصے خوشی اور مایوسی سے بہت زیادہ سیکھتا ہے۔  
② بچے کو مزادینے کے بجائے سمجھائیں۔

## (۱۵۲) صنف نازک کی حفاظت بے حد ضروری ہے

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّذَوِّكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنُوْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْتَوْنَ (الاحزاب: ۵۹)

”اے پیغمبر! اپنی شریک حیات اپنی بیٹیوں اور مسلمان عورتوں کو حکم دو کہ وہ گھر کی چار دیواری سے باہر نکلیں تو اپنے چہروں پر شرافت کا دوپٹہ اوڑھ لیں تاکہ ان ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کا شریف ہونا ثابت ہو جائے اور سر بازار رسوائی کا سبب نہ بن جائیں۔“

عورت صنف نازک ہے جس کی حفاظت بے حد ضروری ہے چنانچہ اگر یہ پردہ میں رہے تو اس کی حفاظت آسان ہو جاتی ہے۔ پردہ اور پردے کی غرض و غایت ظاہر عمل کی پہچان ہے یعنی جو چیز پردے میں رہ کر محفوظ ہے گویا اس کو کسی چیز کا خطرہ لاحق نہیں ہوتا۔ یہی بات میں ان دانشوروں، شاعروں اور ادیبوں سے کہنا چاہتا ہوں جو سماجی اعتبار سے سرگرم اور فعال واقع ہوئے ہیں اور سماج میں جن کا اثر و رسوخ ہے۔ اگر وہ پردے کی وکالت کریں گے تو ظاہر ہے کہ اس کا اثر سماج پر ہوگا۔

فطرت کا تقاضا ہی ایسا ہے کہ والدین کا اثر اولاد کی نفسیات پر پڑتا ہے یعنی اولاد کے شب و روز کا خیال رکھنا اچھے اور برے کی تمیز سکھانا اور زندگی کا لائحہ عمل مرتب کرنا ہماری ذمہ داری ہوتی ہے۔ اب رہا ماحول کی نزاکت حالات کی کیفیت جو زمانے کی رفتار کے مطابق بدلتی رہتی ہے لیکن ہمیں اس وقت یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم کون ہیں اور ہماری حقیقت کیا ہے؟

دراصل ہم پر وہ سارے آداب لازم ہوتے ہیں جو اسلامی قوانین کہلاتے ہیں۔ درحقیقت ہم نے اپنی پہچان کی نوعیت بھی بدل ڈالی ہے۔ دین سے غفلت اور دنیاوی خوشحالی ہم پر کچھ زیادہ ہی حاوی ہیں۔ غرض کہ معاشرے کا مزاج بدلتا جا رہا ہے۔ نفسا نفسی کے عالم میں اخلاقی گراؤٹ کا پہلو نمایاں ہے۔ خاص کر ہماری ماؤں اور بہنوں نے اسے اپنا لیا ہے یہی وجہ ہے کہ آج ہماری پھول جھسی پچیاں دنیا کے بازار میں ہسی جا رہی ہیں اور ہم خسارے کی طرف جا رہے ہیں۔ عیاری، مکاری اور خود غرضی نے ہمیں لاپرواہ کر دیا ہے۔ ہماری عزت مآب مائیں گھر سے نکل کر دنیا کے بازاروں میں کھو جاتی ہیں اپنا قیمتی وقت ضائع کر رہی ہیں۔

سوچئے اور غور کیجئے کہیں نہ کہیں آپ کو ایسی خواتین دیکھنے میں آئیں گی جن کی پیشانی دین کی خوبیوں سے چمکتی ہوں گی جن کا ضمیر ایمان کی خوشبو سے مہکتا ہوگا۔ ایسا آئیڈیل کردار ہمارے سماج کے ارد گرد آج بھی موجود ہے لیکن قصور ہماری نظروں کا ہے سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی انجان بنے رہتے ہیں۔ غفلت کے خماری نے لاپرواہی کے سرور نے ہمیں اندھا کر دیا ہے اور ہم اس آئیڈیل کو دیکھ کر بھی کچھ سیکھتے نہیں ہیں۔

اسلام کا پاکیزہ تصور روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ یہ ہماری اپنی غلطی ہے جس کا خمیازہ آج ہم بھگت رہے ہیں۔ انسانیت کا بھرم ہمارے معاشرے سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ کیا ہوگا اور کیا ہونے والا ہے یہ سوچنے کی ہم ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے۔ ہمارے معاشرہ میں جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو رہا ہے ہماری بہت سی بہنوں نے پردہ کو اپنا یا ضرور لیکن اس کی نوعیت بدل دی ہے جس کے سبب اب ہمارا پردہ ریاکاری اور نمائش میں داخل ہو گیا ہے۔

ہماری بے پردگی نے ہمیں کہیں کا نہیں رکھا۔ پہلے ہم یہودیوں کو دیکھ کر شرماتے تھے اور آج ہم کو دیکھ کر غیر تو میں ہنس رہی ہیں۔



ہماری چند ایک خواتین کی بے پردگی کو دیکھ کر دنیا حیرت زدہ ہے۔ موقع پرست اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ہماری بے پردہ ماؤں بہنوں کو دیکھ کر آوازیں کیں۔

آخر یہ کیسا انقلاب ہے؟ نئے زمانے کی نئی منطق نے ہمارے احوال کھول دیئے ہیں۔ پھر بھی ہم خاموش تماشا سائی بن کر کف افسوس مل رہے ہیں نہ وصال یا رملانہ صنم کدے کے ساتھ ہوا پردہ ایک تھا اس کا رنگ انوکھا تھا۔ اب اس کی نوعیت بدل چکی ہے اگنت برقعوں نے نئے نئے ڈیزائن کا روپ دھار لیا ہے جس کا پہننا اور نہ پہننا برابر ہو کر رہ گیا ہے۔

میں ان ماؤں بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں جو زمانے کی روش کو اپنا کر اپنے وجود سے اور اپنی پہچان سے بے وفائی کر رہی ہیں۔ رونا تو اس بات کا ہے کہ گھرانے کے لیے قید خانہ پارک، سینما ہال اور بازار ان کے لیے سکون و انبساط کی جگہ بن گئے ہیں۔ نگاہیں نیچی رکھنا تو دور کی بات نکاہیں لڑانا ان کا شعار بنتا جا رہا ہے۔ سروں سے چادر سر کئی شروع ہو گئی ہے اب وہ بازار میں ننگے سر گھومتی ہے۔ بے شک عورت کو باہر نکلنے کی اجازت ہے لیکن اس طرح کہ وہ اغیار کی نظروں میں محفوظ رہیں اور شرافت، نفاست اور تقدس کو نعم البدل بنائیں۔

میری قابل صدا احترام ماؤں بہنوں اور بیٹیو! اگر آپ چاہتی ہیں کہ معاشرے کا وجود قائم رہے تو سب سے پہلے آپ کو اپنے اندر جھانکنا ہوگا۔ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا ضروری ہے۔ شروع میں مشکلات سے دوچار ہونا پڑے گا۔ کانٹوں سے الجھنا ہوگا لیکن ان تاریکیوں سے نکلنا ہوگا۔ تب کہیں جا کر گمشدہ منزل کی بازیابی ممکن ہو سکے گی۔ کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟

ہمیں اپنی ترجیحات متعین کرنی ہوں گی۔ اپنی عزت اور عفت کے نظریے کو قائم رکھنا ہے تو اس کا اہم ذریعہ پردہ ہے۔ بے پردگی کے چلن سے ہمارے معاشرے میں سوائے برائی کے بھلائی کی امید نہیں کی جاسکتی۔ برائی کو روکا نہ گیا تو تہذیب و تمدن کے پرچے از جائیں گے۔ بس وہی مثال دہرائی جائے گی: ہورہا ہونے دو چل رہا چلنے دو:

تم اپنی شمع سے اس گھر میں روشنی کر دو  
مرا چراغ سر راہ گزر رکھا ہے

### (۱۵۳) معاشرے کی تعمیر میں عورت کا رول

مرد اور عورت کے ملاپ سے ہی انسانی نسل بڑھ رہی ہے۔ دونوں کے تعلق سے آگے چل کر خاندان اور معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ انسان آپس میں مل جل کر رہتے ہیں ایک دوسرے کی مدد اور تعاون سے زندگی گزارتے ہیں یعنی کہ انسان معاشرہ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ معاشرے میں طرح طرح کے واقعات پیش آتے ہیں جیسے کہ شادی بیاہ، نئی خوشی، عیادت، تعزیت اور مذہبی و دنیاوی اجتماع۔ ان تمام مواقع پر عورتیں ایک جگہ جمع ہوتی ہیں ان میں آپس میں گفتگو پہلے موقع اور محل کے لحاظ سے پھر آہستہ آہستہ موقع سے ہٹ کر دیگر مسائل پر بات چیت شروع ہو جاتی ہے اور بات چیت شکوہ شکایات تک پہنچ جاتی ہے۔

اکثر خواتین زبان کا استعمال محتاط ہو کر نہیں کرتی ہیں۔ اگر عورتیں زبان کا استعمال صحیح اور محتاط ہو کر کریں تو ہمارا معاشرہ بہت سی خرابیوں سے پاک رہ سکتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے۔ ”ان مسلمانوں نے فلاح پائی جو اپنی نماز میں خشوع کرنے والے ہیں اور لغو باتوں سے دور رہتے ہیں۔“ (المومنون: ۱-۳)

معاشرہ میں شادی کو لے لیجئے۔ شادی سے پہلے مگنی کی رسم ہوتی ہے دونوں طرف سے عورتوں کا آنا جانا ہوتا ہے رات بھر ڈھول بجا کر گیت گایا جاتا ہے عورتیں اور لڑکیاں بن سنور کر محرم اور نامحرم سب کے سامنے ناز و نخرے سے چلتی پھرتی ہیں۔ اس طرح کی محفلوں میں زیادہ تر بہو اپنی ساس کی شکایت اور نند بھانج کی برائیاں بیان کرتی ہیں۔ اس طرح کی محفلوں میں مذاق مذاق میں جھوٹ بھی بولا جاتا ہے جو کہ جائز نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے۔

”حضور ﷺ سے حضرات صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ! آپ ہم سے مذاق فرماتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: بلاشبہ میں (مذاق میں بھی) گچی ہی بات کہتا ہوں۔“ (حیاء الصحابہ جلد ۲ ص ۶۷۲)

بہت سے ایسے (دنیاوی) اجتماعات ہوتے ہیں جن میں عورتوں کو جانا ہی نہیں چاہیے مگر عورتیں جانا فرض عین سمجھتی ہیں۔ عورتوں کو چاہیے کہ اسلامی تعلیم پر عمل کریں۔ کیونکہ عورت معاشرہ کی تعمیر میں اہم رول ادا کرتی ہے۔ اسلام کا تصور ہے کہ عورت اور مرد مل کر معاشرہ کو بناتے یا بگاڑتے ہیں۔ خدا شناس عورت اور مرد ایک دوسرے کے معاون ہوتے ہیں اور معاشرہ کو تقویٰ کی راہ پر لے جاسکتے ہیں۔

### ﴿۱۵۴﴾ امام ابوحنیفہ کی دانش مندی نے ایک گھر برباد ہونے سے بچالیا

حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا۔ ایک مرتبہ ایک شخص کے گھر میں چوری ہو گئی۔ چور اسی محلے کے تھے۔ چور نے اس شخص کو پکڑا اور زبردستی حلف لیا کہ اگر تو کسی کو ہمارا پتہ بتلائے گا تو تیری بیوی پر طلاق۔ اس بیچارے نے مجبوراً طلاق کا حلف لے لیا اور چور اس کا سارا مال لے کر چلا گیا۔ اب وہ بہت پریشان ہوا کہ اگر میں چور کا پتہ بتلاتا ہوں تو مال تو مل جائے گا بیوی ہاتھ سے نکل جائے گی اور اگر پتہ نہیں بتلاتا ہوں تو بیوی تو رہے گی مگر سارا گھر خالی ہو جاتا ہے۔ چنانچہ مال اور بیوی میں تقابل پڑ گیا کہ یا تو مال رکھے یا بیوی رکھے۔ بڑی الجھن کا شکار تھا کسی سے کہہ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ چور نے اس سے عہد لے رکھا تھا۔ چنانچہ وہ شخص حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر ہوا۔ وہ بہت غمگین اور اداس و پریشان تھا امام صاحب نے فرمایا کہ آج تم بہت اداس ہو کیا بات ہے؟ اس نے کہا: حضرت! میں کہہ بھی نہیں سکتا۔ امام صاحب نے فرمایا کہ کچھ تو کہو۔ اس نے کہا کہ حضرت! اگر میں نے کچھ کہا تو نہ جانے کیا ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اجمالاً کہو۔ تو اس نے کہا کہ حضرت! چوری ہو گئی ہے اور میں نے یہ عہد کر لیا ہے کہ اگر میں نے ان چوروں کا پتہ کسی کو بتلایا تو بیوی پر طلاق ہو جائے گی مجھے معلوم ہے کہ چور کون ہیں وہ تو محلے کے ہیں۔

امام صاحب نے فرمایا کہ تم مطمئن رہو بیوی بھی نہیں جائے گی اور مال بھی مل جائے گا اور تم ہی چوروں کا پتہ بھی بتاؤ گے۔ کوفہ میں شور ہو گیا کہ ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ تو ایک عہد ہے جب وہ پورا کرے گا تو بیوی کو طلاق ہو جائے گی۔ یہ امام صاحب نے کیسے کہہ دیا کہ نہ بیوی جائے گی اور نہ مال جائے گا۔ غرض علماء و فقہاء پریشان ہو گئے۔

امام صاحب نے فرمایا کہ کل ظہر کی نماز میں تمہارے محلے کی مسجد میں آ کر پڑھوں گا۔ چنانچہ امام صاحب تشریف لے گئے وہاں نماز پڑھی اور اس کے بعد اعلان کر دیا کہ مسجد کے دروازے بند کر دیئے جائیں کوئی باہر نہ جائے۔ اس میں چور بھی تھے۔ اس مسجد کا ایک دروازہ کھول دیا۔ ایک طرف خود بیٹھ گئے اور ایک طرف اس شخص کو بٹھا دیا اور فرمایا کہ ایک ایک آدمی نکلے گا۔ جو چور نہ ہو اس کے متعلق کہتے جانا یہ چور نہیں ہے اور جب چور نکلنے لگے تو چپ ہو کر بیٹھ جانا۔ چنانچہ جو چور نہیں ہوتے تھے ان کے متعلق وہ کہتا جاتا تھا یہ چور نہیں ہے یہ بھی نہیں۔ اور جب چور نکلتا تو خاموش ہو کر بیٹھ جاتا۔ اس طرح گواہوں نے بتلایا بھی نہیں مگر بتائے سارے چور معلوم ہو گئے۔ چنانچہ وہ پکڑے بھی گئے مال بھی مل گیا اور بیوی بھی ہاتھ سے نہیں گئی۔

### ﴿۱۵۵﴾ ایک لاکھ حدیثیں اس طرح یاد ہیں جیسے لوگوں کو سورہ فاتحہ یاد ہے

ابو ذر رضی اللہ عنہ ایک محدث گزرے ہیں۔ ان کی محفل میں ایک شاگرد آیا کرتا تھا اس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ ایک دن محفل ذرا لمبی ہو گئی تو اس کو گھر جانے میں دیر ہو گئی۔ جب وہ رات دیر سے گھر پہنچا تو بیوی الجھ پڑی کہ میں انتظار میں تھی تم نے آنے میں کیوں دیر کی؟ اس نے سمجھایا کہ میں وقت ضائع نہیں کر رہا تھا میں تو حضرت کے پاس تھا۔ وہ کچھ زیادہ غصے میں تھی۔ غصے میں کہہ بیٹھی کہ تیرے حضرت کو

کچھ نہیں آتا، تجھے کیا آئے گا۔ استاد کے بارے میں بات سن کے یہ نوجوان بھڑک اٹھا۔ جب بیوی نے یہ کہا کہ تیرے استاد کو کچھ نہیں آتا۔ تجھے کیا آئے گا تو یہ سن کر نوجوان کو بھی غصہ آیا اور کہنے لگا کہ اگر میرے استاد کو ایک لاکھ احادیث یاد نہ ہوں تو تجھے میری طرف سے تین طلاق ہیں۔

صبح اٹھ کر دماغ ذرا ٹھنڈا ہوا تو سوچنے لگے کہ میں نے تو بہت بڑی بے وقوفی کی۔ بیوی نے خاوند سے پوچھا کہ میری طلاق مشروط تھی اب بتائیں کہ یہ طلاق واقع ہوئی یا نہیں۔ اس نے کہا کہ یہ تو استاد صاحب سے پوچھنا پڑے گا۔ اس نے کہا کہ جائیں پتہ کر کے آئیں۔ چنانچہ یہ نوجوان اپنے استاد کے پاس پہنچا اور کہا کہ رات یہ واقعہ پیش آیا اب آپ بتائیے کہ نکاح سلامت رہا یا طلاق واقع ہو چکی ہے۔ ان کے استاد یہ بات سن کر مسکرائے اور فرمانے لگے کہ جاؤ تم میاں بیوی والی زندگی گزارو۔ کیونکہ ایک لاکھ احادیث مجھے اس طرح یاد ہیں جس طرح لوگوں کو سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے سبحان اللہ! یہ قوت حافظہ کی برکت تھی اور علم کی برکت تھی جو اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی تھی۔

نوٹ: مذکورہ قصہ بندہ نے اپنی والدہ محترمہ کو سنایا تو والدہ نے کتاب میں لکھنے کا ذکر کیا چنانچہ بحکم والدہ اس قصہ کو بندہ نے اپنی کتاب میں لکھ لیا۔

### (۱۵۶) شہوت کا مفہوم اور اس سے بچنے کا طریقہ

بعد سلام عرض ہے کہ ہم نے بار بار آپ کے اور دیگر بزرگوں کے بیانوں میں شہوت کے سنگین گناہ ہونے کو سنا ہے تو شہوت کس چیز کا نام ہے؟ برائے کرم قدرے تفصیل سے مستفیض فرمائیے اور اس گناہ سے بچنے کی کوئی اہم تدبیر بتلائے۔

شہوت کا لفظ اشتہا سے نکلا ہے۔ عربی زبان میں اشتہا کسی چیز کی طلب اور بھوک کو کہتے ہیں۔ جب انسان بھوکا ہوتا ہے تو گویا اس کو روٹی کی شہوت ہوتی ہے، پیاسے بندے کو پانی پینے کی شہوت ہوتی ہے، بعض لوگوں کو اچھے کھانے کی شہوت ہوتی ہے، کئی لوگوں کو اچھے سے اچھا لباس پہننے کی شہوت ہوتی ہے۔ اسی طرح جب انسان جوانی کی عمر کو پہنچتا ہے تو اسے بیوی کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے بھی شہوت کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح شہوت کے مفہوم میں بڑی وسعت ہے، بچوں کے اندر میٹھی چیزیں کھانے کی شہوت ہوتی ہے۔ ان کو ماں باپ جو غم اور نانی کھانے سے منع بھی کرتے رہیں پھر بھی وہ چھپ چھپ کر کھاتے رہتے ہیں۔ ان کے اندر میٹھی چیزوں کی اشتہا رکھ دی گئی ہے۔ کچھ لوگوں کو کھانے پینے کی اشتہا اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ بیچارے کھانے کے چٹورے بنے پھرتے ہیں۔ ان کو ہر وقت کھانے پینے کی فکر درپیش رہتی ہے۔ کچھ لوگوں کو دنیا میں حکومت کرنے کی اشتہا ہوتی ہے، وہ بیچارے اس کی خاطر زندگی برباد کر بیٹھتے ہیں۔ کچھ تو پالیتے ہیں اور کچھ محروم رہتے ہیں۔

نوجوان مردوں کے اندر عورت کی شہوت زیادہ ہوتی ہے جب کہ عورت کے دل میں کپڑوں وغیرہ کی نمائش کا رجحان زیادہ ہوتا ہے۔ ہر ایک کے اندر علیحدہ علیحدہ بیماریاں ہوتی ہیں۔ آج کل کے مردوں کو جمال نے برباد کر دیا ہے اور عورتوں کو مال نے برباد کر دیا ہے۔ گویا پوری دنیا کے مسلمان مال اور جمال کے ہاتھوں برباد ہوئے پڑے ہیں۔ مرد نیک ہو، شریف ہو یا صوفی ہو، جمال اس کی کمزوری ہے، اسی لیے آنکھیں قابو میں نہیں رہیں۔ اس مرض سے چھٹکارا پانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ کتابیں بھی پڑھ لیتے ہیں اور نیکی کے دوسرے کام بھی کرتے رہتے ہیں لیکن آنکھوں پر قابو پانے کے لیے پیدل چلنا راہ خدا میں خاص کر مطلوب ہوتا ہے، جو نفس کے تزکیہ کا باعث ہے۔ تب جا کر فکر کی گندگی دور ہوتی ہے۔

## (۱۵۷) نماز کے فوائد حضور ﷺ کی زبانی

- ① نماز دین کا ستون ہے۔
- ② نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔
- ③ نماز مومن کا نور ہے۔
- ④ نماز افضل جہاد ہے۔
- ⑤ جب کوئی آفت آسمان سے اترتی ہے تو مسجد کے آباد کرنے والوں سے ہٹ جاتی ہے۔
- ⑥ اگر آدمی کسی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے تو اس کی آگ سجدے کی جگہ کو نہیں کھاتی۔
- ⑦ اللہ نے سجدے کی جگہ کو آگ پر حرام فرما دیا ہے۔
- ⑧ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک وہ نماز ہے جو وقت پر پڑھی جائے۔
- ⑨ اللہ جل شانہ کو آدمی کی ساری حالتوں میں سب سے زیادہ پسند ہے کہ اس کو سجدے میں پڑا ہوا دیکھیں کہ پیشانی زمیں میں رگڑ رہا ہے۔
- ⑩ اللہ جل شانہ کے ساتھ آدمی کو سب سے زیادہ قرب سجدہ میں ہوتا ہے۔
- ⑪ جنت کی کنجیاں نماز ہیں۔
- ⑫ جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ جل شانہ کے اور اس نمازی کے درمیان کے پردے ہٹ جاتے ہیں جب تک کہ کھانسی وغیرہ میں مشغول نہ ہو۔
- ⑬ نمازی شہنشاہ کا دروازہ کھٹکتا ہے اور قاعدہ ہے کہ جو دروازہ کھٹکتا ہے تو کھلتا ہی ہے۔
- ⑭ نماز کا مرتبہ دین میں ایسا ہے جیسا کہ سر کا درجہ بدن میں۔
- ⑮ نماز دل کا نور ہے جو اپنے دل کو نورانی بنا دیتا ہے نماز کے ذریعہ سے بنالے۔
- ⑯ جو شخص اچھی طرح سے وضو کرے اس کے بعد خشوع و خضوع سے دو یا چار رکعت نماز فرض یا نفل پڑھ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہے اللہ تعالیٰ شانہ معاف فرمادیتے ہیں۔
- ⑰ زمین کے جس حصے پر نماز کے ذریعہ سے اللہ کی یاد کی جاتی ہے وہ حصہ زمین کے دوسرے ٹکڑوں پر فخر کرتا ہے۔
- ⑱ جو شخص دو رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے تو حق تعالیٰ شانہ وہ دعا قبول فرمالیتے ہیں۔
- ⑲ جو شخص تنہائی میں دو رکعت نماز پڑھے جس کو اللہ اور اس کے فرشتوں کے سوا کوئی نہ دیکھے تو اس کو جہنم کی آگ سے بری ہونے کا پروانہ مل جاتا ہے۔
- ⑳ جو شخص ایک فرض نماز ادا کرے اللہ جل شانہ کے یہاں ایک مقبول دعا اس کی ہو جاتی ہے۔
- ㉑ جو پانچوں کی نمازوں کا اہتمام کرتا ہے ان کے رکوع اور سجود اور وضو وغیرہ کو اہتمام کے ساتھ اچھی طرح سے پورا کرتا ہے جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے اور روزِ آخر اس پر حرام ہو جاتی ہے۔
- ㉒ مسلمان جب تک پانچوں نمازوں کا اہتمام کرتا رہتا ہے شیطان اس سے ڈرتا رہتا ہے اور جب وہ نمازوں میں کوتاہی کرتا ہے تو شیطان کو اس پر جرات ہو جاتی ہے اور اس کے بہکانے کی طرح کرنے لگتا ہے۔

نماز ہر مہر مہر کی قربانی ہے۔

سب سے افضل عمل اول وقت نماز پڑھنا ہے۔

صبح کو جو شخص نماز کو جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے اور جو بازار کو جاتا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے۔

ظہر کی نماز سے پہلے چار رکعتوں کا ثواب ایسا ہے جیسا کہ تہجد کی چار رکعتوں کا۔

جب آدمی نماز کو کھڑا ہوتا ہے تو رحمت الہی اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔

افضل ترین نماز آدمی رات کی ہے مگر اس کے پڑھنے والے بہت ہی کم ہیں۔

اس میں کوئی تردید نہیں کہ مومن کی شرافت تہجد کی نماز ہے۔

اخیر رات کی دو رکعتیں تمام دنیا سے افضل ہیں اگر مجھے (حضور ﷺ فرماتے ہیں) مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو امت پر فرض کر دیتا۔

تہجد ضرور پڑھا کرو کہ تہجد صالحین کا طریقہ ہے اور اللہ کے قرب کا سبب ہے۔ تہجد گناہوں سے روکتی ہے اور خطاؤں کی معافی کا ذریعہ ہے اس سے بدن کی تندرستی بھی ہوتی ہے۔

جب آدمی نماز میں داخل ہوتا ہے تو حق تعالیٰ شانہ اس کی طرف پوری طرح توجہ فرماتے ہیں۔ جب وہ نماز سے ہٹ جاتا ہے تو وہ بھی توجہ ہٹا لیتے ہیں۔

حق تعالیٰ شانہ نے کوئی چیز ایمان اور نماز سے افضل فرض نہیں کی اگر اس سے افضل کسی اور چیز کو فرض کرتے تو فرشتوں کو اس کا حکم دیتے، فرشتے دن رات کوئی رکوع میں ہے کوئی سجدے میں۔

آدمی اور شرک کے درمیان نماز ہی حائل ہے۔

اللہ جل شانہ نے میری امت پر سب چیزوں سے پہلے نماز فرض کی اور قیامت میں سب سے پہلے نماز کا ہی حساب ہوگا۔ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔

اسلام کی علامت نماز ہے جو شخص دل کو فارغ کر کے اور اوقات اور مستحبات کی رعایت رکھ کر نماز پڑھے تو وہ مومن ہے۔

حق تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے کہ اے آدم کی اولاد! دو دن کے شروع میں چار رکعتوں سے عاجز نہ بنو، میں تمام دن تیرے کاموں کی کفایت کروں گا۔

نمازی پر سے رزق کی تنگی ہٹا دی جاتی ہے۔

اس سے عذاب قبر ہٹا دیا جاتا ہے۔

قیامت کے دن نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیئے جائیں گے۔

پلی صراط پر سے بجلی کی طرح گزر جائے گا۔

حساب سے محفوظ رہے گا۔ (ماخوذ از فضائل اعمال)

### ﴿۱۵۸﴾ مال حرام کی نحوست

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی کو اس بات کی پرواہ

نہ ہوگی کہ جو مال وہ لے رہا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے۔“ (بخاری)

یعنی قرب قیامت کے قریب بہت سی گمراہیاں پھیلیں گی اور بہت سی خرابیاں پیدا ہوں گی وہیں ایک بڑی خرابی یہ بھی پیدا ہوگی کہ لوگ مال و دولت کے بے انتہا حریص اور لالچی بن جائیں گے اور اس لالچ کی وجہ سے وہ حلال و حرام کی پروا نہیں کریں گے آدمی کی نظر صرف مال پر ہوگی اور وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ مال حرام ہے یا حلال میرے لیے اس کا استعمال جائز ہے یا ناجائز۔ اپنی آنکھیں بند کر کے مال کے پیچھے دوڑے گا بالکل یہی صورت حال آج کے زمانے میں پائی جا رہی ہے۔ جھوٹ، دھوکہ دہی، فریب کاری، قتل و ڈاکہ زنی، لوٹ مار اور وعدہ خلافی کون سا ایسا فعل ہے جو مال کو پانے کے لیے نہ اپنایا جا رہا ہو۔ جو اسٹنڈ شراب کی خرید و فروخت، سود اور رشوت، بازاری عام ہے اور اب تو یہ تصور عام کیا جانے لگا ہے کہ ان کاموں کو اپنائے بغیر کوئی کاروبار نہیں چل سکتا اور نہ ہی مال و دولت کا حصول ممکن ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت کی رحمت کے دروازہ کھلے ہوئے ہیں اور کوئی اللہ کا بندہ خوف خدا اپنے دل میں رکھتا ہو اور وہ ان حرام ذرائع سے بچ کر رزق کی طلب میں سرگرداں ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو محروم نہیں کرتے بلکہ اس کو اپنے فضل خاص سے عنایت فرماتے ہیں اور اس کی مختصری روزی میں برکتوں کا نزول ہوتا ہے جبکہ حرام روزی سے اللہ تعالیٰ اپنی برکت اٹھا لیتے ہیں اور اس کے اندر بے برکتی اور نحوست پیدا ہو جاتی ہے جس کے اثرات دنیا و آخرت دونوں میں نمایاں ہوتے ہیں۔ آپ ﷺ نے متعدد مواقع پر مال حرام کی نحوست اور اس کے برے نتائج کے بارے میں بیان فرمایا ہے۔

مال حرام کی نحوست یہ ہے کہ اخلاق رذیلہ پیدا ہوتے ہیں عبادت کا ذوق جاتا رہتا ہے اور دعا قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح حلال کھانے سے ایک نور پیدا ہوتا ہے اخلاق رذیلہ سے نفرت اور اخلاق فاضلہ کی رغبت پیدا ہوتی ہے عبادت میں دل لگتا ہے گناہ سے دل گھبراتا ہے دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح زنا، ان اگر مال حرام کھاتا ہے اور پھر اس کے ذریعہ سے کار خیر کرتا ہے۔ مثلاً صدقہ دیتا ہے یا غریبوں پر خرچ کرتا ہے یا حج بیت اللہ کے لیے جاتا ہے تو اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا کیونکہ عمل حرام کو تو اللہ تعالیٰ کسی قیمت پر قبول نہیں کرتے۔ حرام مال کی نحوست کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ آپ ﷺ نے ایک مرتبہ قسم کھا کر فرمایا: ”جب کسی بندہ کے پیٹ میں حرام لقمہ پہنچ جاتا ہے تو چالیس دن اس کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جاتا ہے۔“

اللہ تعالیٰ ہمیں اور پوری امت مسلمہ کو حرام مال سے بچائے اور حلال کمائی کی توفیق عطا فرمائے۔

### (۱۵۹) والدین کا فرمانبرداری بننے کا طریقہ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ الْعَالَمِينَ وَكَهَّ الْكِبَرِيَاءُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ لِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَكَهَّ الْعَظَمَةَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ هُوَ الْمَلِكُ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ وَرَبِّ الْعَالَمِينَ وَكَهَّ النَّوْرُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح بخاری میں ایک حدیث نقل کی ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ یہ کلمات کہے اور اس کے بعد یہ دعا کرے کہ ”یا اللہ اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچادے۔ اس نے والدین کا حق ادا کر دیا اور تین مرتبہ قل ھو اللہ تین مرتبہ الحمد للہ شریف اور تین مرتبہ درود شریف بھی شامل کر لیں تو والدین کا فرماں بردار شمار ہوگا۔ حدیث میں ہے کہ آدمی اگر کوئی نفل صدقہ کرے تو اس میں کیا حرج ہے کہ اس کا ثواب والدین کو بخش دیا کرے بشرطیکہ وہ مسلمان ہوں اس صورت میں ان کو ثواب پہنچ جائے گا اور صدقہ کرنے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ (کنز العمال)

نوٹ: اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ جو شخص اپنے والدین کی زندگی میں نافرمان ہو پھر ان کے انتقال کے بعد

ان کے لیے استغفار کرنے، اگر ان کے ذمہ قرض ہو تو اس کو کواوا کرے اور ان کو برانہ کہے تو وہ فرماں برداروں میں شمار ہو جاتا ہے۔ اور جو شخص والدین کی زندگی میں فرماں بردار تھا لیکن ان کے مرنے کے بعد ان کو برا بھلا کہتا ہے ان کا قرض بھی ادا نہیں کرنا اور ان کے لیے استغفار بھی نہیں کرنا وہ نافرمان شمار ہو جاتا ہے۔ (درمشر)

## (۱۶۰) مستورات کے چوبیس گھنٹے کے مختصر کام

عورتوں کا اصل کام تو یہ ہے کہ اپنے گھروں میں پانچوں نمازیں اول وقت میں خشوع و خضوع سے کھڑی ہو کر پڑھتی رہیں اور قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہیں۔ اگر پڑھی ہوئی نہیں ہیں تو روزانہ اپنے کسی محرم سے یا صحیح پڑھنے والی کسی عورت سے ۲-۳-۴ آیتیں سبقاً سبقاً سیکھتی رہیں۔ صبح و شام ۳-۳ تسبیحات بیٹھ کر پڑھتی رہیں تو زیادہ اچھا ہے۔ اپنے بچوں کی دینی تربیت و تعلیم اور اپنے خاوند کی خدمت کرتی رہیں اور اگر کوئی عزیز رشتہ دار خاتون یا سہیلی کسی بھی کام کے لیے آئیں تو انہیں بجا و محبت سے اور حکمت سے دین پر چلنے اور گھر میں تعلیم کرنے نیز اپنے محرموں کو اللہ کے راستے میں نکلنے کی ترغیب دیں اگر آپ نے ان کو ان باتوں کے لیے تیار کر دیا تو یہ بہت بڑی کمائی کر لی۔ روزانہ اپنے گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم کرتی رہیں جب تعلیم کرتے کرتے ذہن بن جائے تو ایک جماعت پانچ عورتوں کی بنالی جائے۔

اس میں ۲-۳ پرانی اور ۲-۳ نئی عورتیں ہوں۔ ہر ایک کے ساتھ ان کا حقیقی محرم (باپ، بیٹا، بھائی، خاوند، ماموں) ہو۔ بچے ساتھ نہ ہوں۔ ایسی جگہ جائیں جہاں پوری جان پہچان ہو اور پہلے سے ان کو اپنے آنے کی اطلاع دے دی جائے۔ وہاں پہنچ کر مردوں میں سے کوئی دعا کرائے اور عورتیں ایک طرف کھڑی ہو کر چپکے چپکے آمین کہتی رہیں۔ یہ جب ہے کہ استقبال والوں کی بھیڑ نہ ہو اگر استقبال والے زیادہ ہوں تو مرد باہر دعا کریں اور عورتیں اندر چلی جائیں اور وضو کر کے نظلیں پڑھیں بشرطیکہ مکروہ وقت نہ ہو۔ مردوں کی دعا کافی ہو جائے گی۔ بہتر تو یہ ہے کہ جہاں جانا ہے اس شہر میں داخل ہوتے ہی دعا کر لیں۔ اپنی مخصوص گاڑی ہو تو گاڑی میں بہتر ہے۔ مرد مسجد میں جا کر بعد تحیہ الوضو مشورہ کریں۔ اور عورتوں کے لیے طے کریں کون سی خاتون تعلیم کرائے گی اور کون خدمت کرے گی۔ پرچہ میں لکھ کر بھیج دیں اور جماعت کے دو حصے ہرگز نہ کریں۔ جب تک مشورہ کا پرچہ آئے اس وقت تک عورتیں نفل پڑھنے کے بعد جو مقامی نہیں آئی ہوئی ہیں ان سے دینی ترغیبی بات کریں۔ جب مشورہ کا پرچہ آ جائے تو اس کے مطابق کام کریں۔ عورتیں صرف کتابی تعلیم کریں گی۔ تقریر کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ اپنے ہی ساتھ آئی ہوئی بہنوں سے قرآن مجید کی صحیح کرنے کا حلقہ چلائیں۔ جتنی دیر مناسب سمجھیں پھر کتابی تعلیم کریں۔ کتابی تعلیم اس طرح آہستہ آہستہ کریں کہ جو نہیں بے پڑھی ہیں وہ بھی سمجھ جائیں اور چھ نمبر کا نڈا کرہ بھی حلقہ بنا کر بیٹھ کر کریں۔ یہ ظہر سے پہلے کا کام ہے۔

ظہر کے بعد مقامی عورتیں تعلیم میں آئیں گی۔ مشورہ سے جس کا تعلیم کرنا طے ہوا ہے وہ خاتون تعلیم کرے۔ تعلیم اور بیان کے انتظار میں تسبیح وغیرہ پڑھ سکتی ہیں۔ تعلیم بیٹھ کر شروع کریں اگر عورتیں کم ہوں۔ تعداد بڑھ جائے تو اسٹول یا چوکی پر بیٹھ کر تعلیم کر سکتی ہیں کرسی یا صوفہ پر نہ بیٹھیں۔ مجمع زیادہ ہو اور گھر میں گنجائش ہو تو دو حلقے کر سکتی ہیں۔ فضائل اعمال کے علاوہ کوئی دوسری کتاب نہ پڑھی جائے۔ کسی خاتون کو کسی مسئلہ کی ضرورت پڑے تو اپنے کسی محرم کے ذریعہ معتبر و معقول عالم سے معلوم کر لے۔ مسائل کی اجتماعی تعلیم نہیں ہوگی۔ انفرادی طور پر مسائل کی کتاب پڑھی جاسکتی ہے۔

جب کوئی مرد بیان کرنے آئے تو عورتیں اپنی تعلیم بند کر دیں۔ عورتیں اس کی پوری احتیاط کریں کہ ان کی آواز مردوں تک نہ پہنچے۔ مرد بیان کے بعد تفکیک کا موقع دیں۔ عورتیں مقامی مستورات کی تفکیک کریں کہ کون کون اپنے شوہروں کو اپنے بیٹوں کو یا دوسرے عزیزوں کو اللہ کے راستے میں تین چلہ یا چلہ کے لیے بھیجیں گی۔ اور دعا سے پہلے ان کے نام پورے پتہ کے ساتھ لکھوا کر بھجوادیں تاکہ ان

کی وصولی میں آسانی ہو۔ پرچہ مقامی ذمہ داروں کو بھجوائیں۔ مرد دعا کر کے چلے آئیں۔ پھر عورتیں عصر کی نماز ادا کریں اور تسبیحات پوری کریں اگر کچھ مقامی عورتیں بیٹھی ہوں تو ان سے دینی ترغیبی بات کریں۔ مغرب کی نماز کے بعد اذان پڑھیں اور اگر موقع ہو تو انفرادی اعمال سکھانا وغیرہ کریں یا آرام کریں۔ عشاء کی نماز کے بعد کوئی تعلیم نہ ہو اور سونے میں جلدی کریں تاکہ تہجد میں اٹھنا آسان ہو۔ کھانا عشاء سے پہلے یا بعد چھٹی سہولت ہو کھالیں۔ نماز تہجد کے بعد دعا مانگیں اپنے ماں باپ اور پوری امت کے لیے نیز نماز خشوع و خضوع سے پڑھنے کی مشق کریں۔ بعد نماز فجر ناشتہ میں دیر ہو تو آرام کر لیں۔ ناشتہ جلدی ہو جائے تو بعد ناشتہ مختصر آرام کر لیں۔ تعلیم کا جو وقت مقرر ہے اس سے پہلے اپنے انفرادی اعمال و ضرورتوں سے فارغ ہو جائیں اگر مردوں میں سے کوئی ساتھی بات کرنے والے ہوں تو نماز فجر کے بعد ۳۰-۴۰ منٹ بات کریں۔ بشرطیکہ ناشتہ میں دیر ہو۔ ورنہ ناشتہ کے بعد بات کریں تاکہ عورتیں شام تک کاموں میں لگی رہ سکیں۔ ناشتہ سے فارغ ہونے کے بعد اگر آرام کریں تو مشورہ سے ایک بہن ایسی جگہ بیٹھے جہاں سے باہر آنے والی بہنوں پر نظر رہے۔ یہ بہن قرآن شریف لے کر نہ بیٹھے بلکہ تسبیح لے کر بیٹھے تاکہ آنے والی بہنوں کا استقبال کر سکے۔ ان سے ایسی جگہ بیٹھ کر بات کرے کہ سونے والی بہنوں کی نیند میں خلل نہ ہو اس لیے کہ جہاں مستورات کی جماعت جاتی ہے مقامی عورتیں ملنے کے لیے آیا کرتی ہیں۔ اگر سب کو سونا پائیں گی تو مایوس ہو کر واپس ہوں گی۔ اس لیے مشورہ سے کبھی کوئی کبھی بیٹھا کرے۔ جماعت میں آنے والے محرم مرد اپنی عورتوں سے ملنے مغرب سے پہلے آسکتے ہیں مغرب کے بعد مناسب نہیں لوگوں نے جو عورتوں کا اجتماع نام رکھا ہے اصل میں وہ عورتوں کی تعلیم ہے۔ عورتیں گشت نہیں کریں گی نہ چھوٹی نہ بڑی عمر کی نہ مقام پر نہ جماعت میں باہر نکلنے کے زمانے میں جو محرم ساتھ آئے ہیں وہ مقامی مردوں کے ساتھ مل کر گشت کریں۔ اور مقامی مردوں کو اپنی مستورات کو جہاں تعلیم ہو رہی ہو وہاں بھیجنے کی دعوت دیں اور تاکید کریں کہ وہ سادہ لباس اور سادہ طریقے سے شرکت کریں۔ بن سنور کر زیوروں سے آراستہ ہو کر نہ جائیں۔ اگر ممکن ہو تو ہوٹل سے روٹی منگوائیں اور کوئی عورت گھر میں سالن بنالے۔ عورت تعلیم میں بیٹھے بیٹھے سالن دیکھ سکتی ہے۔ یہ سولہ باتیں ہیں جن کو حضرت شاہ محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے:

- چار کام خوب کرنے کے ہیں۔  
 ① دعوت ② تعلیم و تعلم ③ عبادات ④ خدمت۔  
 چار کاموں میں وقت کم لگانا۔  
 ① کھانے پینے میں ② سونے میں ③ نہانے دھونے میں ④ جائز دیگر کاموں میں۔  
 چار کاموں میں دخل نہ دے۔

- ① سیاست ② بحث و مباحثہ ③ مسائل کے تذکرے ④ حالات حاضرہ۔  
 بس دین و ایمان کی فکر ہو اور آخرت کی سوچ۔ آپ نے اچھا کیا جو پوچھ لیا۔ جو پوچھ پوچھ کر چلے گا وہ صحیح کام کر سکے گا۔  
 نوٹ: ان باتوں میں جان ڈالنے کے لیے گھر پر فضائل اعمال کی تعلیم بچوں کو اہتمام سے ساتھ لے کر روزانہ فکر و لگن سے کریں۔

### (۱۶۱) مستورات میں دعوت کے کام کی شروعات

مولانا داؤد انارڈی کا خطاریوٹڈ حاجی بشیر احمد صاحب کے نام  
 مکرم بندہ جناب بھائی الحاج محمد بشیر احمد صاحب! السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ  
 امید ہے کہ مزاج گرامی بعافیت ہوں گے۔ یہاں پر بھی خیریت ہی ہے۔ دو سال سے گھنٹوں میں ورم ہے اور درد ہے۔ اور اب دو



ہفتے سے ناف کے نیچے رگ میں ایک کلٹی اٹھی ہے جس میں درد رہتا ہے۔ بولنے سے درد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اچھا مستورات کے کام کی ابتداء ۱۹۲۶ء تا ۱۹۲۸ء میں بالکل نہیں ہوئی۔ بندہ ۱۹۳۰ء میں مدرسہ سے فارغ ہوا۔ ۱۹۳۱ء میں غالباً میں نظام الدین میں حضرت مولانا شاہ محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بندہ مدرسہ سبحانیہ میں پڑھتا تھا۔ حضرت مولانا عبد السبحان اور آپ کی گھر والی ہم انہیں ماں جی کہا کرتے تھے بہت محبت کرتی تھیں۔ اماں جی دہلی میں مختلف جگہوں میں کتابیں سنایا کرتی تھیں۔ بندہ ان کی کارگزاری حضرت مولانا شاہ محمد الیاس کو سنا تا تھا اور حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی ہدایات ان کو بتلایا کرتا تھا۔ ایک دن اماں جی نے کہا کہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ سے کہو کہ ”حضرت مردوں کی جماعت بھیجتے ہیں تو عورتوں کی جماعت کیوں نہیں بھیجتے۔“ میں نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ اماں جی یوں کہتی ہیں کہ حضرت عورتوں کی جماعت کیوں نہیں بھیجتے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور بے شمار دعائیں دیں۔ پھر مجھ سے کہا کہ تم ان تینوں سے مشورہ لو کہ مستورات کی جماعت بھیجنا چاہتا ہوں آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب مدظلہ العالی کے پاس گیا کہ حضرت مستورات کی جماعت بھیجنا چاہتے ہیں آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب مدظلہ العالی کے الفاظ تو مجھے یاد نہیں مطلب یہ تھا کہ ابھی تو مردوں کا نکلنا ہی علماء کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے عورتوں کا نکلنا کیسے مان لیں گے۔ اس لیے میری رائے نہیں ہے۔ یہی بات قاری داؤد صاحب مرحوم نے فرمائی۔ پھر میں حضرت مولانا شاہ محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گیا۔ آپ مسجد کے برابر اوپر کے کتب میں رہا کرتے تھے جہاں آج کل حافظہ کا کتب ہے۔

جب میں نے رائے لی تو یوں فرمایا کہ میری تو رائے نہیں ہے اگرچہ ایک عورت کے ساتھ دو محرم ہوں اور اس کا باپ بھی ہو اور خاوند بھی ہو۔ جب بھی میری رائے نہیں ہے۔ بس جیسی ان تینوں حضرات نے اپنی اپنی رائے دی تھی میں نے ویسے ہی حضرت جی سے عرض کر دیا کہ فلاں نے یوں فرمایا فلاں نے یوں فرمایا۔ حضرت شاہ محمد یوسف صاحب کی بات سن کر غصہ فرمایا اور مجھے فرمایا کہ جو عورتیں جماعت میں جانے کے لیے تیار ہیں تو ان کو دہلی میں جا کر ایک گھر میں جمع کر کے بات شروع کر دے اور میں دیکھتا ہوں ان مسلمانوں کو ان کی رائے کیوں نہیں ہے۔ پہاڑی پنج گنج پہنچ گئے اور مولوی نور محمد مرحوم نے بیان شروع کیا۔ دوران بیان مولوی صاحب نے فرمایا کہ دین سیکھنے کے لیے عورتوں کا بھی نکلنا ضروری ہے۔ مگر عورتیں بغیر محرم نہیں جاسکتیں۔ بیان کے ختم ہونے کے بعد حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے مولوی نور محمد صاحب کو ڈانٹا کہ تجھے مفتی کس نے بنایا تھا۔ جو تم نے بغیر محرم نکلنے کو منع کر دیا یعنی پہلی جماعت ہے ابھی سے مسائل پر زور مت دو خالی نکلنے کی ترغیب دو۔ یہاں تو یہ ہوا اور جب بڑے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے دہلی بھیج دیا تو لکڑی یعنی اپنی پینٹ لے کر حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے اور فرمایا کہ تو ہی مسلمان ہے میں مسلمان نہیں ہوں تو نے کیسے کہا کہ عورتوں کو تبلیغ میں نہیں جانا چاہیے۔ یہ عورتیں کہاں نہیں جاتیں۔ یہ شادیوں میں جاتی ہیں، غمی میں جاتی ہیں، دہلی کی عورتیں مہرولی جاتی ہیں، سیر کرنے کو ادا کھلا جاتی ہیں، پھر تم نے کیسے کہا کہ میری رائے نہیں ہے۔ جب حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے خفا ہو کر آئے تو مولانا محمد یوسف میرے اوپر خفا ہوئے کہ داؤد نے ابا جی کو کیا کہہ دیا۔ مغرب کے بعد حضرت مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے دو لڑکے حوض پر شہادینے کہ جب داؤد دہلی سے آئے تو میرے پاس پکڑ کر لاؤ میں دہلی سے عشاء پڑھ کر آیا گرمیوں کے دن تھے۔ یہ لڑکے مجھے حضرت مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے گئے۔ حضرت نے فرمایا کہ میرے اوپر کبھی اتنے خفا نہیں ہوئے اور آج صرف اتنی کسر رہی کہ لکڑی سے مارا نہیں۔ ورنہ زبان سے بہت کچھ کہا۔ تو تقریباً آدھا اشکال تو حضرت مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا حضرت کی خفگی سے نکل گیا اور میوات کو بار بار جماعت جانے لگے۔ تو حضرت مفتی کفایت اللہ مفتی اعظم ہند کو عورتوں کا نکلنا معلوم ہوا تو بہت خفا ہوئے کہ یہ مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا اور دوسرے حضرات کو جو خطرہ تھا وہ سامنے آ گیا۔

مفتی صاحب کے خفاء ہونے کا کسی نے بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو آکر کہا تو بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ تا نگہ لے کر در سر امینہ تشریف لے گئے اور حضرت مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے عورتوں کے نکلنے کے فائدے بتلائے۔ ساتھ ساتھ عورتوں کے نکلنے کا اہتمام پیش کیا کہ جب مستورات کی جماعت نکالی جاتی ہے تو ہر عورت کو محرم کے ساتھ نکالا جاتا ہے اول تو خاوند ہو یا بیٹا یا باپ ہو یا بھائی ہو اگر کوئی عورت بغیر محرم آگئی اور کہا کہ میرا محرم کل پرسوں آئے گا تو اس عورت کو واپس کر دیا جاتا ہے۔ اور جہاں جماعت جاری ہے ان کو پہلے مطلع کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ مکان طے کر کے خالی کرائیں۔ جس مکان میں عورتیں ٹھہرتی ہیں وہ اسی مکان میں رہتی ہیں۔ گاؤں والی عورتیں جماعت کے پاس آتی ہیں۔ گشت عورتوں کے محرم اور مقامی مرد لے کر کرتے ہیں۔ یہ مرد مردوں سے بات کرتے ہیں کہ اپنی مستورات کو فلاں صاحب کے گھر میں جماعت کے پاس بھیجو۔ یہ جماعت کی عورتیں کہیں نہیں جاتیں۔ پردے کا پورا اہتمام کیا جاتا ہے۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پورا اطمینان ہو گیا کہ اگر اتنا اہتمام کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ پھر جو جماعت مستورات کی کام کر کے آتی تو حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو کارگزاری دیتی۔ ان تمام باتوں سے حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا اشکال آہستہ آہستہ ختم ہو گیا۔ سب سے پہلی جماعت گھاسنیرہ اور نوح کے قریب آس پاس کے علاقے میں آٹھ یوم لگا کر آئی۔ بندہ جماعت کے ساتھ تھا۔ جب آٹھ یوم میں واپس ہوئے تو بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ خفاء ہوئے کہ اتنی جلدی کیوں آگئے۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت عورتیں زیادہ کپڑے لے کر نہیں گئی تھیں۔ تو فرمایا کہ تو نوح سے نئے کپڑے بنا کر دیتا پیسے مجھ سے آکر لے لیتا۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت مشورہ والوں نے فرمایا تھا کہ یہ پہلی جماعت ہے ان کے واجبات کا خیال رکھنا اس لیے جلدی آگئے۔ مشورہ کی بات سن کر حضرت بہت خوش ہوئے اور بہت دعائیں دیں۔ جب یہ جماعت مشورہ سے گھاسنیرہ وغیرہ طے ہوئی تو حضرت نے چودھریوں کے نام خط لکھا کہ میں تمہارے یہاں دہلی کی پردہ نشین مستورات بھیج رہا ہوں تم ان کی خوب نصرت کرنا وغیرہ وغیرہ۔ گھاسنیرہ والوں کو جماعت کا انتظار تھا سڑک پر استقبال کے لیے آگئے۔ جب جماعت پہنچی تو گاؤں والوں نے استقبال میں کافی بندوقیں چلائیں اور زور استقبال کیا کہ مستورات کی پہلی جماعت ہمارے گاؤں میں آئی ہے اور ہر گاؤں میں ایسا ہی استقبال ہوا۔ پھر تھوڑے تھوڑے وقفہ سے کئی جماعتیں نکلیں۔ بعدہ میوات سے مستورات کی جماعت کے مطالبے آنے لگے۔ مستورات کا کام غالباً ۱۹۳۲ء میں شروع ہوا ہے۔ اس سے پہلے نہیں۔ اس لیے کہ بندہ ۱۹۳۱ء میں مرکز آیا تھا۔ مرکز میں آنے کے بعد مستورات کا کام شروع ہوا ہے۔ اگر حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال سے دس سال پہلے شروع ہوتا تو ہندوستان کے کئی شہروں میں مستورات کی بے شمار جماعتیں پہنچ جاتیں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی حیات میں میوات کے علاوہ کہیں یہ جماعتیں نہیں گئیں۔

(از محمد داؤد)

## ﴿۱۶۲﴾ ایمان اعمال صالحہ کے بغیر ایسا ہے جیسے پھول خوشبو کے بغیر

(وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَهُمْ فِيهَا زَوْجٌ مَكْتُومٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَهُمْ فِيهَا زَوْجٌ مَكْتُومٌ (سورہ نساء: ۵۷)

”اور جو لوگ ایمان لائے اور شائستہ اعمال کیے ہم عنقریب انہیں ان جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ان کے لیے وہاں صاف ستھری بیویاں ہوں گی اور ہم انہیں گھنی چھاؤں (اور پوری راحت) میں رکھیں گے۔“

تشریح: اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہر جگہ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کا ذکر کر کے واضح کر دیا کہ ان کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ ایمان عمل صالح کے بغیر ایسے ہی ہے جیسے پھول ہو مگر خوشبو کے بغیر درخت ہو مگر بے ثمر۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور خیر

انقرہ کے دوسرے مسلمانوں نے اس نکتے کو سمجھ لیا تھا۔ چنانچہ ان کی زندگیوں میں ایمان کے بھلے اعمال صالحہ سے مالا مال تھیں۔ اس دور میں بے عمل یا بد عملی کے ساتھ ایمان کا تصور ہی نہیں تھا۔ اس کے برعکس آج ایمان صرف زبانی جمع خرچ کا نام رہ گیا ہے۔ اعمال صالحہ کے دعویداروں کا دامن ایمان سے خالی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ایسے اعمال کرتا ہے جو اعمال صالحہ ہیں۔ مثلاً راست بازی، امانت و دیانت، ہمدردی و عینکاری اور دیگر اخلاقی خوبیاں۔ لیکن ایمان کی دولت سے محروم ہے تو اس کے یہ اعمال دنیا میں تو اس کی شہرت و نیک نامی کا ذریعہ ثابت ہو سکتے ہیں لیکن اللہ کی بارگاہ میں ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ ان کا سرچشمہ ایمان نہیں ہے جو اچھے اعمال کو عند اللہ بار آور بناتا ہے۔

### (۱۶۳) جہنمی جہنم میں بہت موٹے ہو جائیں گے

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے منقول بعض آثار میں بتلایا گیا ہے کہ جہنم میں جب جہنمیوں کی کھال آگ سے بالکل جل جائے گی تو اللہ تعالیٰ دوسری کھال میں تبدیل کر دے گا اور کھالوں کی یہ تبدیلی دن میں بیسیوں بلکہ سینکڑوں مرتبہ عمل میں آئے گی۔ اور مسند احمد کی ایک روایت کی رو سے جہنمی جہنم میں اتنے فربہ ہو جائیں گے کہ ان کے کانوں کی لوسے پیچھے گردن تک کا فاصلہ سات سو سال کی مسافت جتنا ہوگا اور ان کی کھال کی موٹائی ستر (۷۰) بالشت اور اڑھ اڑھ پھاڑ جتنی ہوگی۔ (تفسیر سجد نبوی ص ۲۲۹)

### (۱۶۴) اللہ کے فضل سے جنت ملے گی

بھلائی کا ملنا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہے یعنی کسی نیکی یا اطاعت کا صلہ نہیں ہے۔ کیونکہ نیکی کی توفیق بھی دینے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ علاوہ ازیں اس کی نعمتیں اتنی بے پایاں ہیں کہ ایک انسان کی عبادت و طاعت اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی۔ اسی لیے ایک حدیث میں نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جنت میں جو بھی جائے گا محض اللہ کی رحمت سے جائے گا (اپنے عمل کی وجہ سے نہیں)۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ! اولاد انت آپ ﷺ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”ہاں جب تک اللہ مجھے بھی اپنے دامن رحمت میں نہیں ڈھانک لے گا جنت میں نہیں جاؤں گا۔“

(صحیح بخاری، کتاب الرقاق باب القصد والمدامۃ علی العمل)

### (۱۶۵) فریقین کی بات سن کر کوئی فیصلہ کریں

فریقین میں سے جب تک کسی کی بابت پورا یقین نہ ہو کہ وہ حق پر ہے اس کی حمایت و وکالت کرنا جائز نہیں ہے۔ علاوہ ازیں اگر کوئی فریق دھوکے اور فریب اور اپنی چرب زبانی سے عدالت یا حاکم مجاز سے اپنے حق میں فیصلہ کرا لے حالانکہ وہ صاحب حق نہ ہو تو ایسے فیصلے کی عند اللہ کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس بات کو نبی ﷺ نے ایک حدیث میں اس طرح بیان فرمایا: ”خبردار! میں ایک انسان ہی ہوں اور جس طرح میں سنتا ہوں اسی کی روشنی میں فیصلہ کرتا ہوں۔ ممکن ہے ایک شخص اپنی دلیل و حجت پیش کرنے میں تیز طرار اور ہوشیار ہو اور میں اس کی گفتگو سے متاثر ہو کر اس کے حق میں فیصلہ کر دوں حالانکہ وہ حق پر نہ ہو اور اس طرح میں دوسرے مسلمان کا حق اسے دے دوں اسے یاد رکھنا چاہیے کہ یہ آگ کا ٹکڑا ہے۔ یہ اس کی مرضی ہے چاہے تو لے لے یا چھوڑ دے۔“

(صحیح بخاری، کتاب الشہادۃ والمجلد الاکرام۔ صحیح مسلم، کتاب الاقضية۔ بحوالہ تفسیر سجد نبوی ص ۲۵۳)

## (۱۶۶) کسی کے اندر برائی دیکھو تو اس کا چرچا نہ کرو

(لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا) (سورۃ نساء: ۱۳۸)

”برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا مگر مظلوم کو اجازت ہے اور اللہ تعالیٰ خوب سنتا جانتا ہے۔“

تشریح: شریعت نے یہ تاکید کی ہے کہ کسی کے اندر کوئی برائی دیکھو تو اس کا چرچا نہ کرو بلکہ تمہاری میں اسے سمجھاؤ الا یہ کہ کوئی دینی مصلحت ہو۔ اسی طرح کھلے عام اور علی الاعلان برائی کرنا بھی سخت ناپسندیدہ ہے۔ برائی کا ارتکاب ویسے ہی منع ہے چاہے پردے کے اندر ہی کیوں نہ ہو۔ اسے برسر عام کیا جانے یہ مزید ایک جرم ہے اور اس کی وجہ سے اس برائی کا جرم دو چند بلکہ وہ چند ہو جاتا ہے۔ قرآن کے الفاظ مذکورہ سے دونوں قسم کی برائیوں کے اظہار سے ممانعت معلوم ہوتی ہے اور اس میں یہ بھی داخل ہے کہ کسی شخص کو گواہی کی کردہ یا ناکردہ حرکت پر برا بھلا کہا جائے۔ البتہ اس میں ایک استثناء ہے کہ اگر کسی نے تم پر ظلم کیا ہے تو تم لوگوں کے سامنے بیان کر سکتے ہو۔ جس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ شاید وہ ظلم سے باز آجائے یا اس کی تلافی کی سعی کرے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ لوگ اس سے بچ کر رہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نبی ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور کہا کہ مجھے میرا بڑا بڑا ایذا دیتا ہے۔ آپ ﷺ نے اس سے فرمایا: ”تم اپنا سامان نکال کر باہر راستے میں رکھ دو۔“

اس نے ایسا ہی کیا۔ چنانچہ جو بھی گزرتا اس سے پوچھتا وہ بڑوسی کے ظالمانہ رویے کی وضاحت کرتا جسے سن کر ہر رہ گزرا اس پر لعنت ملامت کرتا۔ بڑوسی نے یہ تکلیف وہ صورت حال دیکھ کر معذرت کر لی اور آئندہ کے لیے ایذا نہ پہنچانے کا فیصلہ کر لیا اور اس سے اپنا سامان اندر رکھنے کی التجا کی۔ (سنن ابی داؤد۔ کتاب الادب)

## (۱۶۷) اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سوا حصے ہیں

اللہ تعالیٰ کی وسعت رحمت ہی ہے کہ دنیا میں صالح و فاسق اور مؤمن و کافر دونوں ہی اس کی رحمت سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے۔ ”اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ۱۰۰ حصے ہیں۔ یہ اس کی رحمت کا ایک حصہ ہے کہ جس سے مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی اور وحشی جانور اپنے بچوں پر شفقت کرتے ہیں اور اس نے اپنی رحمت کے ۹۹ حصے اپنے پاس رکھے ہیں۔“

(صحیح مسلم نمبر ۲۶۰۸ و ابن ماجہ حدیث نمبر ۲۲۹۳ بحوالہ تفسیر مسجد نبوی ص ۳۵۹)

## (۱۶۸) ہر متقی مؤمن اللہ کا ولی ہے

ہر متقی مؤمن اللہ کا ولی ہے۔ لوگ ولایت کے لیے اظہار کو ضروری سمجھتے ہیں اور پھر وہ اپنے بنائے ہوئے ولیوں کے لیے جھوٹی سچی کرامتیں مشہور کرتے ہیں۔ یہ خیال بالکل غلط ہے کرامت کا ولایت سے چوٹی دامن کا ساتھ ہے نہ کہ اس کے لیے شرط۔ یہ ایک الگ چیز ہے کہ اگر کسی سے کرامت ظاہر ہو جائے تو اللہ کی مشیت ہے اس میں اس بزرگ کی مشیت شامل نہیں ہے۔ لیکن کسی متقی مؤمن اور متبع سنت سے کرامت کا ظہور ہو یا نہ ہو اس کی ولایت میں کوئی شک نہیں۔ (تفسیر مسجد نبوی ص ۵۸۲)

## (۱۶۹) جنت اور جہنم میں جھگڑا

حدیث میں آیا ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”جنت اور دوزخ آپس میں جھگڑ پڑیں جنت نے کہا کیا بات ہے کہ میرے اندر وہی لوگ آئیں گے جو کٹر اور معاشرے کے گمراہ لوگ ہوں گے؟“ جہنم نے کہا ”میرے اندر تو بڑے بڑے جبار اور منکر قسم کے لوگ

ہوں گے۔“ اللہ تعالیٰ نے جنت سے فرمایا: ”تو میری رحمت کی مظہر ہے تیرے ذریعے سے میں جس پر چاہوں اپنا رحم کروں۔ اور جہنم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو میرے عذاب کی مظہر ہے تیرے ذریعے سے میں جس کو چاہوں سزا دوں۔ اللہ تعالیٰ جنت اور دوزخ دونوں کو بھر دے گا۔ جنت میں ہمیشہ اس کا فضل ہوگا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق پیدا فرمائے گا جو جنت کے باقی ماندہ رقبے میں رہے گی اور جہنم جہنموں کی کثرت کے باوجود ”هَلْ مِنْ مُّزْنٍ“ کا نعرہ بلند کرے گی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس میں اپنا قدم رکھے گا جس پر جہنم پکاراٹھے گی: ”قَطُّ قَطُّ وَعِزَّتِكَ“ ”بس بس! تیری عزت و جلال کی قسم۔“

(صحیح بخاری کتاب التوحید باب ماجاء فی قولہ تعالیٰ ان رحمۃ اللہ قریب من الخسین ذمیر سورۃ ق مسلم کتاب الحج باب انار ید غلبا الجبارون والحیو ید غلبا المغفاب بحوالہ تفسیر سجد نبوی ص ۲۳۶)

## ﴿ ۱۷۰ ﴾ سجدہ تلاوت کی مسنون دعائیں

سجدہ تلاوت کی مسنون دعایہ ہے:

”سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَّرَهُ بِحَوْلِهِ وَقَوَّيْتَهُ“ (ابوداؤد ترمذی نسائی بحوالہ مشکوٰۃ باب عمود القرآن)

بعض روایات میں یہ اضافہ ہے

”قَتَبَاكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ“

## ﴿ ۱۷۱ ﴾ منتخب اشعار

آج ان ذروں کو بھی تاز اپنی تابانی پہ ہے

میرے در کا نقش سجدہ جن کی پیشانی پہ ہے

ایک ہاتھی ایک راجا ایک رانی کے بغیر

نیند بچوں کو نہیں آتی کہانی کے بغیر

دیوانے بھاگ جا دامن کی ساری دجیاں لے کر

یہاں تار گریاں سے نئی زنجیر بنتی ہے

واپسی کا کوئی سوال نہیں

گھر سے نکلے ہیں آنسوؤں کی طرح

ہم تو وفا کے عادی ہیں

علم ترا دستور سہی

پیاسے نے خشک ہونٹ نہ رکھے فرات پر

تاریخ میں یہ پانی کی پہلی ٹکلت ہے

پریوں کے دیس والی کہانی بھی خوب ہے

بچوں کو ماں نے پھر یوں ہی بھوکا سلا دیا

میرے سجدے اسی دنیا میں میرے کام آئے ہیں

میرے قاتل نے مجھ کو میری پیشانی سے پہچانا

پانی کی طرح بہہ گئیں صدیاں بھی بھی  
 اکثر ہوا ہے یوں بھی کہ لہ ٹھہر گیا  
 ہم نے نگاہ ناز کو سمجھا تھا بیشتر  
 تم نے تو مسکرا کے رگ جاں بنا دیا  
 نہیں تیرا نشین قصر سلطانی کے گنبد پر  
 تو شاہیں ہے بیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر  
 کچھ ایسے بدخواں ہوئے آندھیوں میں لوگ  
 جو پڑ کھوکھلے تھے انہیں سے لپٹ گئے  
 چاند کا کردار اپنایا ہے ہم نے دوستو  
 داغ اپنے پاس رکھے روشنی بانٹا کئے  
 جب بلندی پر پہنچ جاتے ہیں لوگ  
 کس قدر چھوٹے نظر آتے ہیں لوگ

وہ جس تھا کہ دعا دو ہمیں جہاں والو  
 نہ ہم چراغ جلاتے نہ یہ ہوا چلتی  
 کام اب کوئی نہ آئے گا فقط دل کے سوا  
 راستے بند ہیں سب کوچہ قاتل کے سوا  
 کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعجاز سخن  
 ظلم سینے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے  
 اس دل پہ خدا کی رحمت ہو جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے  
 ایک بار خطا ہو جاتی ہے سو بار عذامت ہوتی ہے  
 سورج کی سرپرستی سے نقصان یہ ہوا ہے  
 اب شمع مانگتا ہوں تو دیتا نہیں کوئی  
 دل کی آزادی شہنشاہی شکم سامان موت  
 فیصلہ تیرا ترے ہاتھوں میں ہے دل یا شکم

### (۱۷۲) خوش رہ کر دوسروں کو خوش رکھیے

انسان کی زندگی خواہشات، امیدوں اور ذمے داریوں سے عبارت ہے۔ اپنی ابتدائی زندگی میں وہ صرف اپنے لیے خواہشات اور امیدیں رکھتا ہے۔ لیکن اسے بہت جلد احساس ہو جاتا ہے کہ وہ ایک ایسے معاشرے میں رہتا ہے جہاں اسے صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی بہت کچھ کرنا ہے۔ تب اس کی خواہشات اور امیدوں میں کچھ ذمہ داریاں بھی شامل ہو جاتی ہیں۔ اور ایسے موقع پر اپنی شخصیت کو قابل قدر اور قابل قبول بنانا بھی ایک اہم ضرورت ہے ایسا کرتے ہوئے جہاں چند نادانستہ اور فطری اور ذہنی حوامی شخصیت پر

اثر انداز ہوتے ہیں وہاں خود انسان بھی لوگوں میں اپنی ذات کو تبدیل کرنے لگتا ہے۔ یہ ایک ایسا احساس مرحلہ ہوتا ہے کہ اکثر اوقات انسان اپنی ترجیحات اور پسند کو بھی یکسر فراموش کر بیٹھتا ہے۔ وہ ”اپنے“ لیے نہیں بلکہ ”دوسروں“ کے لیے جیتا ہے۔ ذیل میں ان تمام عوامل کو زیر بحث لایا گیا ہے جو آپ کی شخصیت کو بنانے اور بگاڑنے کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اب یہ انسان پر منحصر ہے کہ وہ اپنے لیے کس راستے کا انتخاب کرتا ہے۔

### ﴿ ۱۷۳ ﴾ اندرونی احساسات کو چھپانا سیکھئے

بعض ناخوشگوار سچائیاں تلخ حقیقتوں اور واقعات سے ہم کچھ نہ کچھ سیکھتے رہتے ہیں۔ چہرے کے تاثرات اور جسمانی حرکات و سکنات کے ذریعہ اپنے اندرونی احساس و جذبات کو ظاہر نہ کرنا بھی سیکھ لیتے ہیں۔ ہماری شخصیت کا یہ بناوٹی نقاب کئی لحاظ سے ہمارے لیے سود مند ثابت ہوتا ہے۔ ذرا تصور تو کریں کہ اگر ہمارا چہرہ کسی آئینے کی طرح ہمارے اندرونی خیالات و احساسات کی عکاسی کرنے لگے تو زندگی کیسی ہو جائے گی؟ ہو سکتا ہے ہم میں سے اکثر اپنی ملازمت سے ہاتھ دھو بیٹھیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ازدواجی زندگی بھی متاثر اور انتشار کا شکار ہو جائے۔ کوئی دوست ہو اور نہ کوئی رشتہ دار کیونکہ اپنے چہرے سے جھلکنے والے ”سچے تاثرات“ کے جرم میں ہم سب کو اپنا دشمن بنا چکے ہوں گے لہذا آپ اس بات کے لیے پریشان نہ ہوں کہ آپ کی شخصیت میں منافقت یا دوغلی پن کا عنصر کیوں موجود ہے یا آپ تضاد سے کھجوتہ کر رہے ہیں۔ آپ اسے مصلحت کا نام بھی دے سکتے ہیں۔ ایک ایسی مصلحت جو سماجی تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے نہایت ضروری ہے۔

### ﴿ ۱۷۴ ﴾ معاشرتی دباؤ سے مزاج کو ہم آہنگ بنا سکیں

ہم معاشرے میں مختلف لوگوں کے ساتھ کس طرح پیش آئیں اس کا دار و مدار ہماری ذہانت اور معاشی حالت پر ہے۔ معاشرے کے مزاج کے مطابق ہم کس طرح اپنے جذبات کا اظہار کریں یہ چیز رویوں کے بننے میں اہم رول ادا کرتی ہے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی پسند و ناپسند کے مطابق اپنی شخصیت کو بنا سکیں، قطع نظر اس سے کہ ہمارے کیا احساسات ہیں اور فطرتاً ہمیں کیا بات اچھی لگتی ہے اور کیا بری وہ مسلسل اپنی منوانے پر تلے رہتے ہیں۔ جو شخص اپنے آپ کو ان سے ہم آہنگ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے وہ اپنی زندگی کو کامیاب و کامران بنا دیتا ہے اور جو اس سے بغاوت کرتا ہے اس نے گویا خود کو لوگوں کی نظر میں برا بنا دیا۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ عمل طور پر اپنی شخصیت کو فراموش کر دیں۔

### ﴿ ۱۷۵ ﴾ تلخ باتوں کو بھول جائیں

ذرا غور کریں! زندگی کے چھوٹے چھوٹے سانحات یا واقعات کو اگر ہم یاد رکھیں تو زندگی کتنی تکلیف دہ ہو جائے گی۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ ”اگر آپ اپنے تعلقات کو خوش گوار اور دیر پا بنانا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ کی یادداشت محدود ہو۔“ فراموشی کی یہ عادت ایک اور افادیت رکھتی ہے۔ اکثر اوقات لوگ کسی خونخاک واقعہ سے دوچار ہوتے ہیں (مثلاً ایک سیڈنٹ قتل یا کوئی قدرتی سانحہ) تو ان کا دماغ ان کے اثرات سے بچنے کے لیے اپنی یادداشت کی دھند میں اسے چھپانے کی کوشش کرتا ہے، نتیجتاً دماغ پر ایک خود فراموشی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اس خود کار دفاعی عمل کی وجہ سے جسمانی اعصاب پر برے اثرات نہیں پڑتے۔ جن لوگوں میں تلخ اور ناپسندیدہ باتوں کو فراموش کرنے کی عادت نہیں ہوتی وہ زیادہ تر پریشان کن زندگی سے دوچار رہتے ہیں اور لوگوں سے ان کا رویہ بھی تلخ رہتا ہے۔ لہذا آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ جو باتیں آپ کی تکلیف کا باعث بنیں انہیں جہاں تک ممکن ہو ذہن سے نکال دیں۔

## (۱۷۶) لوگوں کے جذبات کی قدر کریں

آپ کا لوگوں کے ساتھ جذباتی رویہ کیسا ہوتا ہے؟ یہ چیز معاشرے میں خود کو ہر دلعزیز بنانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ بہت سے افراد ذہانت اور قابلیت کے مالک ہوتے ہیں لیکن وہ لوگوں کے جذبات کی قدر نہیں کر پاتے، انہیں صرف اس بات کی پرواہ ہوتی ہے کہ لوگ ان کی شخصیت کو سمجھنے کی کوشش کریں اور یہی چیز انہیں معاشرتی طور پر نقصان پہنچاتی ہے جبکہ اکثر لوگ ذہنی طور پر اتنے قابل نہیں ہوتے لیکن چونکہ وہ دوسروں کے جذبات کا پورا پورا خیال رکھتے ہیں اور سمجھدار افراد سے بھی زیادہ ذہین نظر آتے ہیں۔ آپ بے جا اور نام نہاد اپنا پسندی کا شکار نہ ہوں۔ اور نہ آپ کے کسی عمل سے لوگوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچے۔

## (۱۷۷) چاہلو سانسہ روش سے گریز کیجیے

معاشرے میں دولت اور ظاہری خوبصورتی کی بنیاد پر انسان کو اہمیت دی جاتی ہے اور اسی بنیاد پر دوسروں کے جذبات کا خیال رکھتے ہیں۔ یہاں تک کہ ان کی شخصیت کھل طور پر تصنع اور بناوٹ بن کر رہ جاتی ہے۔ ان کے دل میں کچھ ہوتا ہے اور زبان پر کچھ۔ انہیں خود اپنی شخصیت پر یقین نہیں ہوتا کہ وہ کیا ہیں اور ان کی حقیقی قدر و قیمت کیا ہے؟

یہ ایک ایسی نفسیاتی بیماری ہے جس میں انسان کی "انا" اندر ہی اندر گھٹ کر رہ جاتی ہے۔ اکثر ظلم اشار اس کے شکار ہوتے ہیں۔ ہم میں سے بھی ہر ایک شخص اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی اس کیفیت سے ضرور دوچار ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ کبھی اس مرض میں مبتلا نہیں ہوتا تو وہ غلط بیانی سے کام لے رہا ہے۔ یہ انسان پر منحصر کرتا ہے کہ اس بناوٹی ماحول سے نکلنے کی کس قدر صلاحیت رکھتا ہے اور یہ حوصلہ مندانہ قدم جتنی جلدی اٹھایا جائے گا ایک متوازن اور اچھا انسان بننے کے لیے اتنا ہی بہتر ہوگا۔

## (۱۷۸) نظریات میں لچک پیدا کیجیے

ہم اپنی زندگی میں بعض مواقع پر ایسی باتیں کہتے ہیں جس سے ہمارے خیالات و احساسات کی ترجمانی نہیں ہوتی اور اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم مرد و نیا دوسروں کو ناراض کرنا نہیں چاہتے ہوں یا پھر دوسرے کی دل سے تعریف کرنے کے خواہش مند نہ ہوں لیکن اخلاقاً کرنا پڑتی ہو۔ اسی طرح بعض اوقات اپنی ذات کے لیے بھی اپنے حقیقی احساسات کو چھپانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ وجہ کچھ بھی ہو سچ تو یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کا زیادہ حصہ "آدمے سچ اور آدمے جھوٹ" کے سہارے بسر کرتے ہیں ایک شخص کتنا ہی انا پرست یا خوددار ہونے کا دعویٰ کیوں نہ کرنا ہو وہ ساری زندگی اپنی انا کے حصار میں نہیں جی سکتا، کہیں نہ کہیں اسے لازمی طور پر خود کو دوسروں کی خاطر تھوڑا سا منکسر المزاج اور لچکدار بننا پڑتا ہے اور اکثر اوقات نہ چاہتے ہوئے بھی دوسروں کے جذبات کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔

اے مالک دو جہاں	اے میرے پیارے خدا
ہم پہ رحمت ہو سدا	آکھ سے جو بہتا ہے پانی
اُس پہ ہو تیری مہربانی	سننے میں جو درد جاگے
تیرا مرہم اُس پہ لاگے	جان پہ بن آئی ہے
ہر سو رسوائی ہے	ہم پہ رحمت ہو سدا
لب بھلے خاموش ہوں	سُن رہا ہے تو صدا
سب کا تو حاجت روا	مشکل میں تو مشکل کشا



راستے خاموش ہیں گلستاں دیران ہے  
ہم پہ رحمت ہو سدا تیری رحمت سے ہے روشن  
جہاں تو ابتداء تو انتہاء طوفاں میں شمع جلا  
تشتی تو ساحل پر لگا ہم پہ رحمت ہو سدا

### (۱۷۹) کچھ منتخب اشعار

غیر آباد گھر کا دروازہ  
کون کھولے گا کھٹکھٹانے سے  
شام ہوتے ہی مہک اٹھی فضا  
یاد اُن کی رات رانی ہو گئی  
بو کہاں سے آئے گی ماں باپ کے اطوار کی  
دودھ ہے ڈبے کا اور تعلیم ہے سرکار کی  
آدی کوئی ہو چہرے سے نہ پرکھا جائے  
کیا ضروری ہے کہ اندر بھی ہو باہر جیسا

### (۱۸۰) نیک کردار بیوی ایک انمول خزانہ ہے

نیک کردار شریک حیات بلاشبہ ایک انمول خزانہ کے مانند ہے۔ تاریخ بتلاتی ہے کہ بعض بڑے نامور لوگوں کی ناموری اور شہرت میں نیک سیرت شریک زندگی (بیوی) کا بھی بڑا دخل رہا ہے۔ چنانچہ دنیا کے سب سے محترم انسان حضرت محمد ﷺ پر جب غارترا میں پہلی وحی حضرت جبرئیل علیہ السلام کے ذریعہ نازل ہوئی تو آپ ﷺ بے حد متوحش و پریشان ہوئے۔ گھبراہٹ اور پسینہ آلود پیشانی لیے جب گھر تشریف لائے تو سب سے پہلے آپ ﷺ کو تسلی دینے، ماتھے کا پسینہ پونچھنے، ہمت و حوصلہ بڑھانے اور آپ ﷺ کے کلمہ حق پر ایمان لانے والی ہمدرد اور نمکسار ہستی ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ آپ ﷺ کی زوجہ محترمہ تھیں۔ جنہوں نے قدم قدم پر جاٹاری کا حق ادا کیا اور اپنی تمام دولت اشاعت اسنام کے لیے وقف کر دی۔ اور جب آپ ﷺ مرض وفات میں مبتلا ہوئے اس وقت بھی آپ کا سر مبارک زانوئے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر ہی تھا۔ وہ امت کی مائیں تھیں جنہوں نے حضور سرور کائنات ﷺ کے تبلیغی مشن کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا۔ خاندانی اہل ثروت والی بعض زوجہ محترمہ بھی تھیں جو اگر چاہتیں تو اس دولت کا سہارا لے کر بڑے عیش و راحت کی زندگی بسر کر سکتی تھیں مگر انہوں نے زوجہ رسول ﷺ بن کر عشرت کی زندگی کو دولت پر ترجیح دی۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ بہترین خزانہ نیک سیرت شریک زندگی ہے کہ جب مرد اس کو دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے اور جب شوہر اسے کچھ حکم دے تو وہ دل و جان سے اس کا پورا کرے اور اگر شوہر گھر میں موجود نہ ہو تو وہ اپنے نفس اور عصمت کی حفاظت، شوہر کے گھر کی حفاظت نیز بچوں کی بہترین تربیت کرے اور ایسے کسی شخص کو شوہر کی عدم موجودگی میں گھر کے اندر نہ آنے دے جس کا آنا شوہر کو ناپسند ہو۔ (نسائی کتاب النکاح، مسند احمد) یہ سچ ہے کہ دولت تو صرف مادی ضروریات کی تکمیل کرتی ہے، لیکن صالح عورت (بیوی) خاندان کو اور گھر کو خوشی اور امن و امان کا گہوارہ بنا دیتی ہے۔ وہ اپنی شیریں گفتگو اور بلند اخلاق سے گھر کی فضا میں مٹھاس گھول دیتی ہے اور محبت کی خوشبو سارے گھر میں بکھیر

دیتی ہے۔ اس کا بلند اخلاق اور گھر کے سبھی افراد کے ساتھ خوشگوار برتاؤ خاندان کے تمام افراد کے لیے تربیت گاہ بن جاتا ہے۔ آپ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے کہ آپ ﷺ فرماتے ہیں پوری کائنات تو عارضی نفع پہنچاتی ہے مگر عورت (بیوی) دائمی خوشی اور خوشگوار زندگی (دنیا میں عارضی جنت کا نمونہ بن جاتی ہے) کی ضمانت ہے۔ کسی دانشور نے اس کو اس انداز سے ثابت کرنے کی کوشش کی جو حکایت کے طور پر درج ذیل ہے۔ جس میں عورتوں کے لیے لائق تقلید درس بھی ہے۔

ایک ضعیفہ جو باوجود کبر سنی کے انتہائی خوبصورت اور نورانی چہرہ کی مالک تھیں۔ ان سے کسی جوان شادی شدہ عورت نے اس نورانیت اور خوبصورتی کا راز دریافت کیا۔ اس عمر عورت نے جو کچھ کہا اس کا خلاصہ یہ ہے۔ ”میں نے اپنے ہونٹوں پر ہمیشہ حق کی سرخی لگائی اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رکھا جن چیزوں کو اللہ نے دیکھنے سے منع فرمایا ہے ان سے ہمیشہ پرہیز کیا یعنی پرہیز کا سرمہ استعمال کیا اپنے ہاتھوں میں عطا (سخاوت و فیاضی) کی مہندی لگائی اور اپنے اعمال پر صبر و استقامت کا پاؤ ڈور لگایا اپنے دل پر خدا کی محبت اور اس کا خوف لازم کیا اپنی عقل پر حکمت و بصیرت کو غالب رکھا اور اپنے نفس پر اللہ کے حکم کے بعد اپنے شوہر کی اطاعت اور خوشنودی کو مقدم جانا۔ نفس کو اس خیال سے باندھ کر رکھا کہ اللہ تو ہر جگہ ہے اور وہ ہر بات سے واقف ہے۔ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ یہ میرے چہرے کا نور اسی نیک اعمال کا صدقہ ہے۔“ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنین کے گھرانوں کے ماحول کو بھی اسی بزرگ مومنہ خاتون کے اعمال جیسا بنا دے۔ آمین

### (۱۸۱) اپنی ازدواجی زندگی کو خوش گوار بنائیے

میاں بیوی کے درمیان معمولی بات پر اختلاف کی صورت میں اگر عقل مندی اور حکمت کا مظاہرہ نہ کیا جائے تو معاملات بگڑ جاتے ہیں۔ ازدواجی زندگی میں تکلیاں بھی آتی ہیں لیکن فی زمانہ دونوں جانب سے محض جذبات کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ لڑکی اور لڑکے کے والدین بھی اولاد کی محبت اور ذاتی انا کی خاطر مسئلہ کو حل کرنے کے بجائے اسے پیچیدہ بنا دیتے ہیں۔ خاندان کے وہ بزرگ جنہیں صلح صفائی کرانی چاہیے وہ بھی معاملے کا ایک پہلو دیکھ کر حالات خراب کرنے کا باعث بنتے ہیں۔

میاں بیوی کے تلخ تعلقات میں یوں تو ہر دو فریق کا بنیادی کردار ہوتا ہے۔ لیکن ان تعلقات کو دوبارہ محبت کے راستہ پر لانے کی ہمیں بھرپور اور مخلصانہ کوشش کرنی چاہیے۔ حضور ﷺ کی زندگی ہمارے لیے مکمل طور پر قابل تقلید ہے اس لیے ہمیں ازدواجی زندگی کے اس پہلو کو بھی حضور ﷺ کی حیات طیبہ سے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔

حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ ﷺ کی جیتی بیٹی تھیں اور آپ ﷺ اپنے جگر کا ٹکڑا اور خواتین جنت کی سردار کہا کرتے تھے۔ ان کی شادی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہوئی تھی جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ اتنے عظیم مرتبہ پر فائز ان شخصیات کے درمیان بھی کبھی کبھار تلخیاں ہو جاتی کرتی تھیں۔

سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ درج ہے کہ ایک بار دونوں کے درمیان کسی بات پر جھگڑا ہو گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنے شفیق باپ کی خدمت میں پہنچیں۔ پیچھے پیچھے داماد رسول ﷺ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی گھبرائے ہوئے پہنچے اور دروازے کی آڑ میں کھڑے ہو گئے۔ سوچے لگے کہ اگر خدا نخواستہ خدا کے رسول ﷺ ہمارا رخ ہو گئے تو دین و دنیا دونوں تباہ ہو جائیں گے۔

حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حضور ﷺ سے اپنے شوہر کی شکایت کی حال سنایا اور زار و قطار روئے لگیں۔ لیکن آپ ﷺ نے جو رد عمل ظاہر کیا وہ ہماری سوچ کے بالکل برعکس ہے۔ گھر بسانے والا رویہ تھا باپ نے بیٹی کو جو اس طرح روتے دیکھا تو دل بھر آیا آبدیدہ ہو گئے۔ بیٹی کو سمجھاتے ہوئے شفیق باپ نے کہا: ”بیٹی میں نے تمہارا نکاح اس شخص سے کیا ہے جو قریش کے جوانوں اور اسلام لانے والوں میں سب سے افضل ہے۔ بیٹی میاں بیوی میں کبھی کبھی ایسی باتیں ہو ہی جاتی ہیں چاہے وہ کوئی سے میاں بیوی ہوں۔ اور بیٹی یہ کیسے ممکن

ہے کہ مرد سارے کام ہمیشہ عورت کی مرضی کے مطابق ہی کیا کرے اور اپنی بیوی کو کچھ نہ کہے۔ جاؤ اپنے گھر جاؤ خدا تمہیں خوش اور آباد رکھے اور میں تم دونوں کو خوش دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھوں۔“

حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا رخصت ہوئیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دل بھر آیا، آڑ سے نکل کر سامنے آئے، آنکھوں میں آنسو تھے رقت کے انداز میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا: خدا کا قسم! آئندہ تم ایسی کوئی بات نہ دیکھو گی جس سے تمہارے نازک دل کو دکھ پہنچے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا دل بھر آیا اور کہنے لگیں کہ غلطی تو میری ہی تھی۔ پھر دونوں خوش خوش گھر لوٹ آئے۔

## (۱۸۲) اپنے گھر کا ماحول اسلامی بنائیے

اسلام دشمن تحریکیں اور تنظیمیں اپنے اہداف و مقاصد کے پیش نظر عالمی پیمانے پر پوری دنیا خصوصاً مسلمانوں کے اندر الحاد و لادینیت اور عریانیت و فحاشیت عام کرنے اور اسلامی تہذیب و ثقافت کو مٹانے کی کوشش کرتی رہی ہیں۔ لیکن عصر حاضر میں ان کے اندر کسی قدر تیزی آگئی ہے۔ اس کے لیے وہ متعدد ترکیبیں اور تدبیریں اختیار کر رہی ہیں۔ مثلاً ویڈیو ٹیلی ویژن ریڈیو، آڈیو کیسیٹ، مخرب اخلاق کتابیں، رسائل و جرائد اور لٹریچر۔ ان تمام آلات جدیدہ سے مستفح ہو کر وہ مسلمانوں کے ذہن و شعور سے اسلامی تعلیمات اور اسلامی تہذیب و ثقافت کو کھرچ کر پھینک دینا چاہتے ہیں۔ خصوصاً ناپختہ شعور رکھنے والے بچوں اور بچیوں کو مغربی تہذیب کے سانچے میں ڈھال کر ان کی مصومیت ان کا بھولا پن اور ان کی پاکیزگی اور عفت کو چھین لینا چاہتی ہیں۔

ستیزہ کار رہا ہے ازاں سے تا امروز چراغ مصطفوی سے شرار بولہبی

سب سے زیادہ تکلیف دہ امر یہ ہے کہ وہ مسلمان جو کبھی اپنے اخلاق اور تہذیب و ثقافت کے ذریعہ پوری دنیا پر حکومت کرتے تھے آج وہی جدیدیت اور ترقی کے نام پر مغربی تہذیب میں ڈھلتے جا رہے ہیں۔ ان پر عالم گیر فکری انحطاط اور عملی زوال طاری ہوتا جا رہا ہے۔ اکثر مسلم گھرانوں میں تمام مخرب اخلاق چیزیں در آئی ہیں۔ مسلمان بچے اور بچیاں غیر اسلامی افکار و نظریات کی دلدادہ نظر آ رہی ہیں اور اسلامی تعلیمات سے کوسوں دور ہوتی جا رہی ہیں۔ بہت سے خاندان ایسے بھی ہیں جنہیں مسلمان ہونے کے باوجود کلمہ توحید لا الہ الا اللہ تک یاد نہیں ہے۔ وہ صرف خاندانی مسلمان ہیں۔ ان سے اگر کسی فلم یا سیریل کی کہانی پوچھی جائے تو وہ سن و سن نقل کرنے میں ذرہ برابر بھی جھجک محسوس نہیں کریں گے لیکن اگر ان سے یہ پوچھا جائے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا نام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ خلفائے راشدین کون تھے؟ اسلام کے بنیادی ارکان اور تقاضے کیا ہیں؟ تو وہ کوئی جواب نہیں دے پاتے۔ یہ صورت حال امت مسلمہ کے لیے بڑا المیہ اور کلمہ فکریہ ہے۔

بچوں کے موجودہ بگاڑ کے جملہ اسباب میں سب سے اہم سبب والدین کا اپنے فریضے سے بے توجہی برتنا ہے۔ بچے اور بچیاں اللہ کی جانب سے ایک امانت ہیں۔ ان کی اچھی تربیت اور دیکھ بھال کرنا انہیں اسلامی تعلیمات کا پابند بنانا والدین کا دینی فریضہ ہے، کیونکہ بچوں کے بناؤ اور بگاڑ میں والدین کا بڑا عمل ہوتا ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے: ”ہر بچہ فطرتاً اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس کے والدین اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنادیتے ہیں۔“ (بخاری، مسلم) یعنی بچے اپنے والدین کا عکس ہوا کرتے ہیں۔ ان کی مثال چھوٹے پودوں کے مانند ہوتی ہے کہ انہیں شجر کاری کرنے والا لگانے کے بعد اگر دیکھ بھال کرتا ہے ان کی سنبھالی کرتا ہے اور ہوا کے جھونکوں سے بچانے کے لیے لکڑیوں کا سہارا دیتا ہے اور انہیں حتی الامکان سیدھا رکھنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ پودے بڑے ہونے کے بعد سیدھے اور لائق دید ہوتے ہیں اور اگر ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دیتا ہے تو ڈالیاں اور شاخیں ادھر ادھر جھک جاتی ہیں اور بے ڈھنگی معلوم ہوتی ہیں۔ اسی طرح بچوں کی اچھی اور غلط تربیت ان کے مستقبل کے بننے اور سنورنے میں اہم رول ادا کرتی ہیں۔

بچوں کی تعمیر اور تخریب میں ماں کی ذمہ داری بہت اہم ہوتی ہے۔ کیونکہ وہی نسل انسانی کی مرہون ہوتی ہے۔ پورے خاندان اور معاشرے کے بناؤ اور بگاڑ کا دار و مدار اسی پر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی ﷺ نے فرمایا: ”عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کی اولاد کی نگرانی ہے اور اس سے اولاد کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔“ (بخاری، مسلم)

ایک ماں یہ فرض اس وقت انجام دے سکتی ہے جب وہ خود تربیت کے تمام اصول و ضوابط سے مزین ہوگی۔ ایک ماں کے لیے ضروری ہے کہ وہ پختہ اور اعلیٰ سیرت و کردار کی مالک ہو اپنے مقام و مرتبے کا شعور رکھے خود کو اسلامی تعلیمات کا نمونہ بنائے، معروف اور اچھی باتوں کو اپنانے کی کوشش کرے اور منکر سے بچے۔ حلال و حرام کی پابندیوں کا لحاظ کرے، لالچ، حسد، جھوٹ، بغض اور منافقت جیسی بیماریوں سے دور رہنے کی سعی کرے۔ اپنے خیالات، عبادات، معاشرت، دین، اخلاق، غرض یہ کہ زندگی کے ہر شعبے کو دین کے تابع کر دے۔ اس کے بعد وہ اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہے تو اس کے گھر کا ماحول اسلامی بن جائے گا۔ گھر سے غیر اسلامی رسوم و رواج اور قدیم و جدید جاہلیت کے آثار یکتخت ختم ہو جائیں گے۔ صحابیات اور عہد تابعین کی خواتین کی زندگیاں واضح ثبوت ہیں۔ اب بھی وقت ہے کہ مسلمان والدین اپنے اخلاق و کردار کو سنوار کر ایک نئے دور اور نئے معاشرے کی تشکیل و تعمیر کا عہد کریں۔ ایثار و محبت اور اخوت و بھائی چارگی کو عام کرنے کی کوشش کریں۔ اگر والدین نے ایسا نہیں کیا تو قیامت کے دن انہیں اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا جیسا کہ ارشاد نبوی ﷺ ہے کہ: ”تم میں ہر شخص نگرانی ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔“ (بخاری، مسلم) اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔

### (۱۸۳) حکمت کے موتی

- ① ایمان داری سے خرید و فروخت کرنے والے کا انجام نیکو کار اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔
- ② تنگ دست آدمی جو رشتہ داروں سے مل ملاپ رکھتا ہے، اس مالدار سے اچھا ہے جو ان سے قطع تعلق رکھتا ہے۔
- ③ برا آدمی کسی کے ساتھ نیک گمان نہیں رہ سکتا۔
- ④ اصلاح کے بغیر پشیمانی ایسی ہے جیسے سوراخ بند کیے بغیر جہاز میں سے پانی نکالنا۔
- ⑤ پریشانی دور کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو کسی تعمیری کام میں مصروف رکھیں۔
- ⑥ چالاک لوگ ان درندوں کے مانند ہیں جو اپنے شکار کی تاک میں ناخن چھپائے بیٹھے ہیں۔
- ⑦ نبی اسرائیل اس لیے تباہ ہوئے کہ وہ غریبوں کو مزادیتے تھے اور امیروں کو چھوڑ دیتے تھے۔
- ⑧ دنیا خراب اخلاق کا نمونہ پیش کرے تب بھی انسان کو اپنے اخلاق حسنة نہیں چھوڑنے چاہئیں۔
- ⑨ اللہ سے اس کا فضل طلب کیا کرو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ اس سے مانگا جائے۔
- ⑩ ہر مقصد میں خدا تعالیٰ کی بڑائی، ملک کی بھلائی اور حق کی تلاش مد نظر رکھو۔
- ⑪ اپنے دلوں سے دوستی کا حال پوچھو، کیونکہ یہ ایسے گواہ ہیں جو کسی سے رشوت نہیں لیتے۔
- ⑫ اپنے مال کی خاطر لڑنے والا آخرت میں شہیدوں میں شامل ہوگا۔
- ⑬ قرآن کریم اور ذکر الہی کو لازم پکڑ لو، کیونکہ یہ چیز تمہارے لیے روئے زمین پر نور اور آسمان پر ذکر خیر کا ذریعہ ہے۔
- ⑭ جو لوگوں کا شکر یہ ادا نہ کرے وہ خدا کا شکر گزار نہیں ہو سکتا۔
- ⑮ سب سے بہتر جہاد یہ ہے کہ تم انتقام کی قدرت رکھتے ہوئے بھی غصہ کو پی جاؤ۔
- ⑯ علم مال سے بہتر ہے کہ وہ تمہاری مخافت کرتا ہے اور تم مال کی حفاظت کرتے ہو۔

- ۱۷) صرف خواہش کرنے سے ہر چیز نہیں مل جاتی خواہش کے ساتھ جدوجہد بھی لازمی ہے۔
- ۱۸) اگر اونچی پرواز کرنا چاہتے ہو تو اپنی ہمت کو بلند رکھو کیونکہ ہمت ہی آپ کی طاقت ہے۔
- ۱۹) خود خوش رہنا چاہتے ہو تو دوسروں کو خوش رکھا کرو۔
- ۲۰) کسی کی خوبیوں کی تعریف کرنے میں اپنا وقت برباد نہ کرو بلکہ اس کی خوبیاں اپنانے کی کوشش کرو۔

### ﴿ ۱۸۴ ﴾ شادی شدہ لڑکے اور لڑکی کی ذمہ داریاں

شادی شدہ مرد اپنی نئی نویلی دلہن کی محبت میں مگن اور مدہوش ہو جاتا ہے اور وہ باقی ساری دنیا کو بھلا بیٹھتا ہے۔ اس کی پوری توجہ بیوی کی خوشیوں کی طرف ہوتی ہے اور وہ خود بھی ان خوشیوں کے گہوارے میں جھولنا شروع کر دیتا ہے، بعض اوقات اس کے نتائج بڑے تباہ کن نکلتے ہیں۔

گزشتہ دنوں ایک لڑکے کی شادی ہوئی۔ لڑکے کے والد کو کسی ضروری کام سے شہر سے باہر جانا پڑا۔ وہ اپنے بیٹے کو بزنس کی دیکھ بھال کرنے کی ہدایت دے کر روانہ ہو گئے جو عموماً دنوں مل کر سنبھالتے تھے۔ نوجوان دو لہا اپنی نئی نویلی دلہن کی محبت میں ایسا سرشار رہا کہ والد کی تمام ہدایات کو یکسر فراموش کر دیا جس کے نتیجے میں زبردست مالی خسارے کا سامنا کرنا پڑا۔ اگر بیوی میں عقل ہوتی تو وہ اپنے میاں کو مجبور کر سکتی تھی کہ وہ محبت کی گرداب سے نکل کر کاروبار کی طرف بھی توجہ دے۔ ایسی صورت میں یہ افسوس ناک صورت حال نہ دیکھنی پڑتی۔ ایک بیوی کا فرض ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ اس کا شوہر اپنی ڈیوٹی اور فرائض سے غفلت نہ برتے اور اسی طرح کسی شوہر کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ کسی سانحہ کے پیش آ جانے کی صورت میں ساری ذمہ داری بیوی کے سر پر ڈال دے۔ اس پر خود غرض مطلب پرست اور غیر حساس ہونے کا الزام لگائے۔

ایک شادی شدہ جوڑا اپنی مون منا کر جب گھر لوٹا تو شوہر بجائے دفتر جانے کے تین دنوں تک مسلسل دفتر میں فون کر کے یہ کہتا رہا کہ اس کی طبیعت خراب ہے۔ شروع میں یہ بات بیوی کو بھی اچھی معلوم ہوئی کہ اس کا شوہر اسے کتنا چاہتا ہے اور اس کے دل میں اس کی کتنی اہمیت ہے۔ لیکن پھر اسے احساس ہوا کہ یہ طریقہ غلط ہے اور اس نے خود ہی اپنے شوہر کو کام پر جانے کے لیے اس طرح مجبور کیا کہ اسے برا بھی نہ لگے اور اپنی ذمہ داری بھی بخوبی سمجھاتا رہے۔

بعض مرتبہ بیٹا ماں باپ کے لیے اپنے فرائض سے کوتاہی برتنے لگتا ہے۔ شادی کے بعد تو بوڑھے والدین کے لیے اس کے پاس وقت ہی نہیں رہتا۔ لیکن اگر دلہن کو ساس سر کی تکلیف کا بخوبی احساس ہو تو وہ بڑی آسانی سے ساس سر اور شوہر کے درمیان ”پل“ کا کام انجام دے سکتی ہے اور اپنے شوہر کو والدین کے فرائض یاد دلا سکتی ہے۔

فصول خرچ شوہروں کو ان کی بیویاں موقع شناسی سے کام لے کر اور تھوڑی سمجھداری سے انہیں اپنے پیسے کی اہمیت کا احساس دلا سکتی ہیں۔ ایک صاحب جو اپنی پوری تنخواہ ۲۰ تاریخ تک ختم کر دیتے اور پھر اس کے بعد وہ اخراجات پورے کرنے کے لیے دوستوں سے قرض لے کر گزارا کرتے تھے لیکن شادی کرنے کے بعد ان کی زندگی یکسر تبدیل ہو گئی۔ بیوی نے شوہر کی تنخواہ کا حساب اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ ذہانت سے بجٹ بنانے اور خرچ کرنے کے باعث انہوں نے اخراجات پورے کرنے کے علاوہ ہنگامی ضرورتوں کے لیے تھوڑی سی رقم پس انداز بھی کرنا شروع کر دی۔

بعض اوقات کوئی لڑکا شادی کے وقت کسی پروفیشنل ادارے میں تعلیم حاصل کر رہا ہوتا ہے چنانچہ اپنی خوبصورت دلہن کی زلف کا اسیر ہو کر وہ اپنی ساری پڑھائی بھلا بیٹھتا ہے۔ یہ صورت حال بھی خطرے سے پر ہے۔ صرف ذہین دلہن ہی سمجھداری سے کام لیتے ہوئے اپنے

شوہر کو پڑھائی کی طرف راغب کر سکتی ہے۔ وہ اپنی کوشش سے اس بات کو یقینی بنائے کہ پڑھائی پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے شوہر کو خاموش ماحول میسر آئے اور وہ اپنے شوہر کو ہلکی لیکن غذائیت سے بھرپور خوراک بھی دے۔ اس طرح شوہر کی کامیابی کے انعام سے بیوی بھی نوازی جائے گی۔ ظاہر ہے اچھے نتائج حاصل کرنے کے بعد جب وہ اعلیٰ عہدے پر فائز ہوگا تو بیوی کو بھی راحت اور خوشیاں میسر آئیں گی۔

یہ ایک صرف پہلو ہے جس میں ہم صرف عورت کو ہر چیز کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں۔ کیا ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ کسی بھی غلطی یا کوتاہی میں تہاڑ کی ہی ذمہ دار نہیں ہوتی؟ ہم یہ بخوبی جانتے ہیں کہ لڑکی اپنے ماں باپ کے گھر سے رخصت ہو کر ایک نئے ماحول نئے لوگوں کے بیچ ایک نئے ہم سفر کے ساتھ نئی زندگی کا آغاز کرتی ہے۔ ایسے میں اگر اسے پیار کرنے والا شوہر مل جائے جو اس کا ہر ممکن خیال رکھتا ہو اسے سر آنکھوں پر بٹھاتا ہو اور اس کی ہر بات پوری کرتا ہو اور ساتھ ہی اپنے گھر والوں کے تئیں اپنی دوسری ذمہ داریوں سے خود ہی منہ موڑ لیتا ہو تو اس میں کس کی غلطی ہے؟ کیا اس کی ذمہ دار صرف لڑکی ہے جس نے ابھی پوری طرح سے گھر کے ماحول کو نہ سمجھا اور نہ ہی افراد خانہ کے مزاج کو ہی سمجھ پائی ہو۔ اس میں اگر اس کا شوہر اپنے فرائض سے کوتاہی کر رہا ہے تو اس کا ذمہ دار صرف اور صرف اس عورت کو ہی کیوں ٹھہرایا جاتا ہے۔ اگر لڑکا یعنی شوہر اپنی بیوی سے پیار محبت کا برتاؤ کرتا ہے تو یہ اس کا فرض ہے اور ساتھ ہی یہ بھی اس کا فرض ہے کہ وہ اپنے والدین اور اپنے افراد خانہ کی بھی ضرورتوں اور گھر کے تئیں ذمہ داریوں کو سمجھے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو لڑکی پر یہ تہمت نہیں لگانی چاہیے کہ اس نے اپنے شوہر کو اس پر مجبور کیا ہے۔

اگر کسی کاروبار میں نقصان ہو جائے گھر میں کسی بھی قسم کی مالی پریشانی ہو جائے یا خدا نخواستہ کسی کی موت ہو جائے تو ترقی یافتہ اور تعلیم یافتہ سماج ہونے کے باوجود اس کا الزام نئی نوپلی دلہن کے سر ڈال دیا جاتا ہے۔

شادی کے بعد لڑکا والدین اور گھر کے افراد کے تئیں اپنی ذمہ داریوں سے کوتاہی برتتا ہے تو یقینی طور پر بیوی کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنی صلاحیت اور قابلیت سے اسے اس طرح کی غفلت برتنے سے باز رکھے، لیکن اس کے باوجود اگر لڑکا اپنی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھتا تو اس کا الزام لڑکی پر لگانا سراسر غلط ہے۔ ہاں اگر لڑکی بھی اپنی ذمہ داریوں سے کوتاہی برتے تب میاں بیوی دونوں ہی اس کے ذمہ دار ہوں گے کیونکہ لڑکے کا نہ صرف یہ فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی کا حق ادا کرے بلکہ اپنے والدین اور گھر کے تمام افراد کی خوشحالی کا خیال رکھے اور سمجھدار وہی ہے جو نہ صرف بیوی سے پیار کرے بلکہ والدین اور تمام افراد خانہ کے تئیں اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی انجام دے۔

### ﴿ ۱۸۵ ﴾ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے

قدرت کا یہ احسان عظیم ہے کہ اگلیت صلاحیتوں اور احساسات کو یکجا کرتے ہوئے انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا، ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ بجائے انسان کے حیوان یا کوئی چرند کی شکل دے دیتا۔ قدرت نے انسان کو ایک نہایت ہم خوبصورت سانچے میں ڈھالا ہے اور اس کے جسم کے ہر عضو کو توانا، کارآمد اور کامل بنایا ہے ایسی بھی صورتیں ہیں کہ کسی مصلحت کی بناء پر قدرت نے انسان کو کسی عضو یا احساس سے جزوی یا کئی طور پر محروم کر دیا اور اس کو پیدائشی بد صورت یا بیمار یا پھر معذور بنا دیا یا بجائے کسی ممتاز و معزز قوم قبیلے یا خاندان میں پیدا کیے جانے کے اس کے برعکس عمل کیا۔

درحقیقت معذور وہ ہے جو اپنے آپ کو لاچار و مجبور سمجھے یا کسی معقول یا حتیٰ کہ معمولی کام کی انجام دہی میں بھی اپنی معذوری کا عذر پیش کرتے ہوئے خود کو دوسروں کے رحم و کرم کے حوالے کر دے۔ قدرت کا ایک اہل اصول و فطری مصلحت ہے کہ ہم میں سے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی چھوٹی یا بڑی خامی میں مبتلا اور نقص سے دوچار ہے۔ ہم صرف ایک نامکمل شخص کی نمائندگی کرتے ہیں۔ کوئی بھی یہ دعویٰ کبھی بھی نہیں کر سکتا کہ وہ ہر زاویہ سے ایک مکمل شخصیت ہے۔ زندگی کے اس طویل سفر میں کہیں نہ کہیں اس کا نقص دلا چاری ابھر کر آتی ہے۔ اس

لیے مایوس ہونے اور افسوس کرنے کے بجائے ہم کو اپنی خامیوں سے آگاہ ہونا اور ان کو قبول کرنا چاہیے۔ اس دنیا میں کوئی شخص یا چیز باوجود اپنے نقص اور خامی کے ناکارہ اور بے مصرف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان نقائص کو بہتر طور پر استعمال کرنے اور دنیا کو فیضیاب ہونے کے مواقع فراہم کرتا ہے تاکہ انسان میں یہ خوشگوار احساس پیدا ہو کہ اس کی زندگی ان خامیوں کے باوجود اس کے لیے بلکہ دنیا اور اس کے خاندان کے لیے خوبصورت تحفہ ہے۔ یہ حقیقت صرف اور صرف محسوس کرنے، جاننے اور عمل کرنے سے تعلق رکھتی ہے۔

دنیا میں بے شمار مثالیں ایسی ہیں کہ بالکل معذور انسانوں نے جو پیدائشی طور پر یا پیدائش کے بعد کسی مہلک بیماری یا کسی حادثہ کے باعث کسی عضو کی خرابی یا خامی اور صلاحیت سے جزوی یا مکمل طور پر محروم ہو چکے ہیں، اپنی معذوری کے باوجود زندگی کو دلیرانہ مقابلہ کیا، حالات سے نبرد آزما ہوئے اور اپنی پوشیدہ صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر اپنے وقت کی نہایت ہی کامیاب اور مثالی شخصیت بن کر ابھری اور دنیا ان کی تعظیم و تکریم کرنے پر مجبور ہوئی۔ رشک آتا ہے اور حیرت ہوتی ایسے لوگوں کے بڑے کارناموں پر جن کی توقع بھی ان سے نہیں کی جاسکتی، مگر وہ کام ان لوگوں نے کر دکھایا۔

### (۱۸۶) مشرقی اور مغربی تہذیب کا فرق

مشرق و مغرب کے تضاد اور مغرب کی برائیوں کے بارے میں ہم بہت سی باتیں کرتے ہیں اور مشرقی تہذیب کو سب سے بہتر اور اچھی تہذیب قرار دیتے ہیں۔ کیا مغربی تہذیب کو برا کہنے سے ہم اپنی تہذیب اور اپنے معاشرے کی برائیوں کو چھپا سکتے ہیں یا اس بات کا دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی مشرقی تہذیب اور اپنے معاشرے کی ہر ضرورت کو سچائی اور ہر رشتے کو پوری ایمان داری سے نبھا رہے ہیں؟ ان سب باتوں کا جواب ہمیں خود ہی تلاش کرنا ہو گا تب کہیں جا کر ہم اپنے آپ کو مشرقی تہذیب اور انسانی رشتوں کی اہمیت اور ضرورت کو سمجھنے اور اسے پورا کرنے والا کہہ سکتے ہیں۔ ذیل میں اسی بات پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے۔

ایک مفکر نے کہا تھا: ”مشرق“ مشرق ہے اور مغرب“ مغرب اور یہ دونوں کبھی باہم نہیں مل سکتے۔ ہر آدمی کی ہر بات درست نہیں ہوتی، لیکن یہ بات ضرور درست مانی جاسکتی ہے کہ واقعی مشرق کی کچھ باتیں مغرب کی کچھ باتوں سے قطعی مختلف ہیں۔ کچھ خوبیاں ہماری مشرقی روایات اور اقتدار میں پائی جاتی ہیں۔ کچھ اچھائیاں مغرب کے اصول پسند معاشرے کا لازمی اور بہترین حصہ ہیں۔ مشرق اپنی اخلاقی قدروں اور روحانی پاکیزگی کے حوالے سے مغرب سے کہیں بلند ہے اور طریقہ ہائے زندگی کو درست طور پر چلانے میں مغرب ہم سے کہیں بہتر ہے۔

کہا جاتا ہے کہ انگریز برصغیر سے جاتے ہوئے تین چیزیں لے کر گئے: خوف خدا، قانون کا احترام اور وقت کی پابندی۔ اگر ہم اپنے معمولات زندگی پر نظر ڈالیں تو واقعی ہمارا دامن ان چیزوں سے خالی دکھائی دیتا ہے۔ لیکن مغرب نے والدین کا احترام، بزرگوں کی عزت، رشتے ناتوں کی اہمیت اور گھر گراستی جیسی اصول چیزوں کو کھودیا ہے، اس لیے یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ مشرق بہر حال مشرق ہے۔ لیکن صرف چند اچھی باتوں پر فخر کرنے سے ہم اپنی خامیوں کی پردہ پوشی نہیں کر سکتے۔

یہ بات ہمارے ذہنوں میں رہے کہ معاشرہ افراد سے تشکیل پاتا ہے۔ انسان کبھی اکیلا نہیں رہ سکتا۔ اسے اپنی زندگی بہتر اور محفوظ طریقے سے بسر کرنے کے لیے گروہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کا خاندان، قبیلہ، قوم اور ملک اس کی اس ضرورت کو پورا کرنے میں اس کے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔

انسان بلاشبہ ایک معاشرتی حیوان ہے۔ اس لیے اسے اپنے دل کا حال سننے، سنانے والا کوئی ہمد، کوئی ساتھی درکار ہوتا ہے۔ تارک

الدنیا ہو جانے سے دنیا کو تیاگ دینے سے انسان کو بھی سکون میسر نہیں آتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو رشتے نبھانے، گھر بنانے، خاندان کے ساتھ مل جل کر رہنے کی تلقین کی کہ انسان ایک دوسرے کے دکھ درد کو بانٹ سکے، ایک دوسرے کی خوشیوں میں شریک ہو سکے، مشکلات میں ایک دوسرے کی مدد کر سکے اور جب خود کسی پریشانی کا شکار ہو تو اسے چار لوگ حوصلہ دینے والے موجود ہوں۔ لیکن ذرا اپنے معاشرے کے مجموعی حالات پر نظر ڈالیے تو معاشرے کی حالت کچھ اور ہی نظر آتی ہے۔ ایسے ہی حالات پر مرزا غالب کا یہ شعر صحیح ثابت ہوتا ہے:

رہے اب ایسی جگہ چل کر جہاں کوئی نہ ہو ہم سخن کوئی نہ ہو اور ہم زباں کوئی نہ  
اور معاشرے کی حالت راز کو دیکھتے ہوئے فیض کو اپنا درد ان لفظوں میں بیان کرنا پڑا:

زندگی کیا مفلس کی قبا ہے جس میں ہر گھڑی درد کے پیوند لگے جاتے ہیں

یہ کیفیت ہر اس درد مند اور حساس شخص کے دل پر طاری ہوتی ہے جو انسان کو انسان سے محبت کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے۔ جب وہ انسان کو محض اولاد آدم نہیں بلکہ شرف انسانیت سے بھی ہمکنار دیکھنا پسند کرتا ہے، مگر کیا ہمارا معاشرہ جس میں بے شمار خوبیاں ہیں واقعی اتنا ہی قابل ہے جتنا ہم کہتے ہیں یا سمجھتے ہیں۔ ہم گھر اور گریہ ہستی یعنی چادر اور چادر یواری کے تحفظ کی بات کرتے ہیں، لیکن یہ ہمارا ہی معاشرہ ہے جہاں عورت اگر اکیلی ہو تو خود کو غیر محفوظ سمجھتی ہے اور اپنے حقیقی رشتوں کے ساتھ ہوتب بھی استحصال کا شکار ہوتی ہے۔ سچ یقیناً کڑوا ہوتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں خواتین اپنے حقیقی رشتوں کے ہاتھوں زیادہ ذلیل و خوار ہوتی ہیں۔ اگر وہ بیٹی ہے تو باپ کی عزت پر قربان ہو رہی ہے۔ ماں ہے تو بیٹی کی محبت پر مر رہی ہے، بہن ہے تو بھائی کی غیرت کے بوجھ تلے پس رہی ہے اور بیوی شوہر کی زیادتی کا شکار ہے۔ غرض وہ ساس ہے یا بھونڈ ہے یا بھاونج، دیورانی ہے یا جھٹانی، جہاں جہاں مرد اس کے ساتھ ہے وہ اپنی جیسی دوسری عورت کا استحصال کر رہی ہے۔ کیونکہ کمزور کی حکومت کمزور ہی پر ہوتی ہے۔ مرد پر وہ حاکم نہیں ہو سکتی اس لیے اپنی جیسی عورت کو محکوم بنا کر خوش ہوتی ہے۔

ایک طرف تو ہم اپنے بزرگوں کا خیال رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور دوسری طرف پبلک ٹرانسپورٹ میں کھڑے ہو کر سفر کرنے والے بزرگوں پر نظر ڈالیے۔ بیٹکوں کی قطار میں ٹیلی فون اور بجلی وغیرہ کے بل جمع کرنے کی قطار میں سودا سلف لانے لے جانے والے بوجھ اٹھانے والے اپنی جسمانی طاقت سے زیادہ مشکل کام کرنے والے اسپتالوں میں کھڑے ہوئے بے بس ولا چار بزرگوں کو دیکھئے! کیا ہم میں سے زیادہ تر لوگ ایسے ہیں یا چند لوگ ایسے ہیں جو ان بزرگوں کی مدد کر کے خوشی محسوس کرتے ہیں؟ سوچنے اور کرنے کے لیے ہمارے پاس بے شمار باتیں اور بہت سے کام ہیں، بس صاحب دل ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں ان باتوں کو بیان کرنے کا مقصد صرف آپ کے ذہن پر دستک دینا ہے۔ یہ سب طے شدہ باتیں ہیں لیکن مجموعی طور پر جو نظر آتا ہے اسے دیکھ کر اس پر غور کر کے اگر اپنی خامیوں کو دور کر لیا جائے تو مشرق یقیناً اپنی خوبیوں کے ساتھ مغرب سے زیادہ بہتر معاشرہ بن سکتا ہے، کیونکہ زندگی ٹیکنالوجی کے ساتھ نہیں انسانوں کے ساتھ بسر کی جاتی ہے۔

### ﴿۱۸۷﴾ فجر کی نماز پڑھ کر بلا عذر سو جانا منع ہے

صبح کی نماز پڑھ کر طلوع آفتاب تک بغیر کسی وجہ سے سونا درست نہیں ہے۔ یہ عبادت اور ذکر الہی کا وقت ہے۔ تمام چیزیں اپنی اپنی زبان میں خدا کی حمد و ثناء اور تسبیح میں مصروف ہوتی ہیں۔ انسان کو ذکر الہی سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ صبح کو سونے سے آدمی کی روزی سلب ہو جاتی ہے۔ نبی ﷺ فرماتے ہیں: **نَوْمُ الصَّبْرِ يَمْنَعُ الرِّزْقَ** ”صبح کا سونا روزی سے محروم کر دیتا ہے۔“ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا



روایت کرتی ہیں کہ میں صبح کو سوئی ہوئی تھی رسول اللہ ﷺ میرے پاس سے گزرے تو آپ ﷺ نے پاؤں سے مجھے ہلا کر فرمایا: اے میری پیاری بچی کھڑی ہو جا۔ پروردگار کی روزی کے پاس حاضر ہو۔ غافلین میں سے مت ہو۔ اللہ تعالیٰ صبح صادق اور آفتاب نکلنے کے درمیان لوگوں کی روزیاں تقسیم کرتا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے آفتاب نکلنے سے پہلے سونے سے منع فرمایا ہے۔ لہذا صبح کی نماز کے بعد ذکر الہی، تلاوت قرآن مجید اور وظائف میں مشغول رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو نیک عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ (آئین) (احمد جلد ۱ ص ۲۳۱ تا ۲۳۲ اکال جلد ۱ ص ۳۲۱)

☆.....☆☆☆.....☆

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تصحیح و اضافہ شدہ



حصہ ہشتم

# بکھرتی

حضرت مولانا محمد یونس <sup>رحمۃ اللہ علیہ</sup> پانپوری

انتخاب و ترتیب

صاحبزادہ محترم حضرت مولانا <sup>مبلغ اعظم</sup> محمد <sup>رحمۃ اللہ علیہ</sup> صاحب پانپوری

حضرت مولانا مفتی محمد امین <sup>رحمۃ اللہ علیہ</sup> صاحب پانپوری

تصحیح و نظر ثانی

مکتبہ عالیہ <sup>۵۷۲</sup> حق سٹریٹ اردو بازار لاہور

## جملہ حقوق محفوظ ہیں

نام کتاب	.....	بکھرے موتی
منتخاب و ترتیب	.....	حضرت مولانا محمد یونس پالنپوری مدظلہ العالی
تصحیح و عمر ثانی	.....	صاحبزادہ محترم حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>
باہتمام	.....	محمد قیصر محمود مہاروی
مطبع	.....	للعل سٹار پرنٹرز
ناشر	.....	مکتبہ عائشہ

حق سٹریٹ اردو بازار لاہور 042-7360541

ملنے کے پتے

ادارہ اسلامیات انارکلی لاہور	حق پہلی کیشنرز اردو بازار لاہور
شعب بک ایجنسی اردو بازار لاہور	کتب خانہ رشیدیہ راجہ بازار راولپنڈی
ملت پہلی کیشنرز اسلام آباد	مکتبہ رشیدیہ کمیٹی چوک راولپنڈی
احمد بک کارپوریشن راولپنڈی	دارالمطالعہ نزد پرانی ٹینکی حاصل پور منڈی
کتابستان شاہی بازار بہاول پور	اقبال بک سنٹر جہانگیر پارک صدر کراچی
مکتبہ دارالقرآن اردو بازار کراچی	قدیمی کتب خانہ آرام باغ کراچی
دارا خلاص محلہ جنگی، پشاور	ادارہ الانور بنوری ٹاؤن کراچی
مکتبہ قاسمیہ ملتان	مکتبہ القرآن بنوری ٹاؤن کراچی
کتاب خانہ مظہری گلشن اقبال کراچی	ادارۃ المعارف دارالعلوم کراچی
مکتبہ رشیدیہ سرکی روڈ کوئٹہ	مکتبہ امدادیہ ملتان
مکتبہ حقانیہ ملتان	مکتبہ اسلامیہ کوئٹہ راول فیصل آباد

## فہرست (ہشتم)

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
	حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی عمر کے چالیس سال حضرت	825	تقریظ (مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری)
839	داؤد علیہ السلام کو ہدیہ دیا		تعارف و تبصرہ (مولانا شمس الحق صاحب
839	خدایا اپنی راہنی مٹھی والا ہم کو بنادے	826	(ندوی)
840	انسان کی خصلت و جبلت اٹل ہوتی ہے	827	تقریظ (مفتی محمد امین صاحب پالن پوری)
840	جنت میں داخل ہونے کے تین آسان نبوی نسخے	828	رحمت بارگاہ رسالت
840	جنگز الوادی گمراہ ہو جاتا ہے	829	دنیا میں ہر وقت گونجنے والی آواز "اذان" ہے
	ایک بدعت کی ایجاد سے ایک سنت اٹھالی جاتی ہے پھر	829	حرم مکہ اور حرم مدینہ کا احترام
840	وہ قیامت تک واپس نہیں آتی	830	خلاوت قرآن کے آداب
840	دعوت کے بارے میں یہ مضمون عجیب ہے	831	آداب باطنی
841	دل سے علم کیسے نکل جاتا ہے؟	831	قرآن مجید کی بے ادبی کی مختلف صورتیں
841	قیامت کے دن سب سے بدترین شخص کون ہوگا؟	832	والدین کے آداب کے ثمرات
841	گناہ گارز مدار کے فیصلے اسلام کوڑھادیتے ہیں	833	والدین کا ادب اور نقوش اسلاف
841	جنت میں بہت بہت محل بنانے کا نبوی نسخہ	833	خلاصہ کلام
841	حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہما کا نام عرش پر لیا گیا		طالب علم کو علم کا حریص ہونا چاہئے۔ اگر وطن میں مواقع
842	آہس کے اختلاف کی وجہ سے ہلاک ہو گئے	834	میسر نہ ہوں تو سفر کرنے سے گھبراتا نہیں چاہئے
842	دعا کے بعد منہ پر ہاتھ کیوں پھرتے ہیں؟	835	دستر خوان مناسب جگہ پر جھاڑا جائے
842	اللہ سے بہت دور وہ شخص ہے جس کا دل سخت ہے	836	عورتوں کے لیے مخصوص آداب
843	اپنی زندگی میں اپنی جنت دیکھنے کا نبوی نسخہ	837	متفرق آداب
843	قاتل اور مقتول کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ ہنستا ہے	838	دور حاضر میں امت مسلمہ کی حالت زار
843	شہید کے لیے خصوصی انعام	838	چھ آدمی جن پر لعنت کی گئی
843	سوال و جواب کے انداز میں	838	مومنین اور مشرکین کی اولاد کا انجام

852	فاسق کی تعریف سے عرش بھی کانپ اٹھتا ہے	844	ہاتھ کا بوسہ وغیرہ لینا کیسا ہے؟
	حضرت محمد ﷺ نے سمات بکھرے موتی ابو ذر رضی اللہ عنہما کو دیئے	844	مردے بھی زندوں کا کلام سنتے ہیں
852	غیبت کا کچھ کفارہ ادا کر دیجئے	844	مال غنیمت میں خیانت کرنے کا وبال
852	وعدہ کے پاس دلخانا کا نا در ترین واقعہ	846	ابو جہل کی تلوار کس کو ملی؟
853	حسن معاشرہ کی مثال	846	دو درہم سے کم کی خیانت کرنے والے کی نماز جنازہ
853	ماں باپ کے حقوق ادا کرنے کی فضیلت	847	آپ ﷺ نے نہیں پڑھائی
854	مسلمان بھائی کے حقوق	847	مال غنیمت میں خیانت کرنے والے کی سزا
854	جنتی اور جہنمی آدمی	847	حضرت عمر بن عبدالعزیز کا عدل و انصاف
854	اور روزِ خمی پانچ طرح کے ہیں	848	یہودیوں کا سلام، انگلیوں سے اشارہ کرنا ہے اور عیسائیوں کا سلام، ہتھیلیوں سے اشارہ کرنا ہے
	تین دفعہ آپ ﷺ نے قسم کھائی ہے پڑوسیوں کو ایذا پہنچانے والا کامل مومن نہیں	849	اپنے ماتحتوں کی تربیت کی خاطر اجازت طلب نہ کرنے پر تنبیہ
855	جنت میں نبی ﷺ کے پڑوس میں رہنے کا نبوی نسخہ	849	لوگ کہتے ہیں: کہہ کر بات چلتی ہے، مرد کی بری سواری ہے
855	جنت واجب کرنے والے کام	849	تقریر میں بے فائدہ مبالغہ آرائی کرنے والے کا نہ فرض قبول ہے نہ نقل قبول
855	بیوہ عورت بچوں کی تربیت پر دھیان دے	849	زبان کی خوب حفاظت کریں
	پڑوسی اچھا کہیں تو آپ اچھے، پڑوسی برا کہیں تو آپ برے	849	آگ کی دو زبانوں سے بچیں
856	ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے کی فضیلت	850	افسوس ہے تم پر! تم نے اپنے بھائی کی گردن کاٹ دی
856	ستر ہزار فرشتوں کو اپنے پیچھے چلانے کا نبوی نسخہ	850	دو چیزیں جنت میں اور دو چیزیں دوزخ میں پہنچاتی ہیں
856	سات بری خصلتیں معاشرے کو بگاڑ دیتی ہیں	850	افسوس ہے اس شخص پر! افسوس ہے اس شخص پر!
857	کینہ نہ رکھئے، صلح و صفائی کر لیجئے	851	اپنے ذمہ دار کے سامنے کسی ساتھی کی شکایت نہ کریں
	ہر پیر اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں	851	غیبت دریا کو بھی خراب کر دیتی ہے۔
857	طویل مدت تک ترک ملاقات کا گناہ اور ناحق قتل کرنے کا گناہ قریب تر ہے	851	کسی کو گناہ پر عار نہ دلائے
857		851	کسی کی تکلیف پر خوشی کا اظہار نہ کریں

857	بڑھے آدمی کا دل دو چیزوں میں ہمیشہ جوان رہتا ہے	857	صلاح کرانے کی فضیلت اور فساد پھیلانے کی مذمت
864	864	857	اس امت کی طرف یہود و نصاریٰ کی ایک بیماری سڑک آئی ہے
864	864	857	جب کسی مومن سے حیا کو چھین لیا جاتا ہے، تو ایمان بھی رخصت ہو جاتا ہے
864	865	858	تین چیزیں قابل توجہ
865	865	858	حق بات کو ٹھکرانا اور لوگوں کو حقیر و ذلیل سمجھنا یہ تکبر ہے۔
865	865	859	حد سے زیادہ تکبر کرنے کا نتیجہ
865	865	859	نو (9) بندے
865	865	860	غصہ ایمان کو خراب کر دیتا ہے
865	865	860	عام طور پر ظالم کی عمر دراز نہیں ہوتی
865	865	860	ہر ان کی کا جواب اچھائی سے دینا چاہیے
866	866	860	ظالم کی تائید اور موافقت کرنے والا کمال ایمان سے محروم ہو جاتا ہے
866	866	860	ظلم کی شجرت یہ ہے کہ جباری پرندہ گھونسلے میں دبلا ہو کر مرجاتا ہے
866	866	860	ظالم کو محبت سے سمجھانا چاہیے ورنہ عذاب سب پر آئے گا
867	867	861	رسول خدا ﷺ کا ایک اہم بیان اس کو یاد کر لیجئے
867	867	861	آخری زمانہ میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو دین کے نام پر دنیا کے طلب گار ہوں گے ان کا انجام پڑھے
867	867	862	آخری زمانہ میں ایسی جماعتیں پیدا ہوں گی جو ظاہر میں تو دوست ہوں گی مگر باطن میں دشمن ہوں گی
868	868	863	شُرکِ خفی مسیحِ دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے
868	868	863	تو باتوں کا حکم
868	868	863	قرب قیامت میں شر و فساد کرنے والا، عقل مند شمار ہوگا
868	868	863	سات بکھرے موتی

880	تعزیت نامے	869	کون سے گناہ پر کون سا عذاب آتا ہے
880	احباب شوریٰ رائے و نثر کی طرف سے تعزیت نامہ	869	یہودیوں کا درخت کونسا ہے؟
881	مجلس شوریٰ دارالعلوم دیوبند کی طرف سے تعزیت	869	کعبہ کا خزانہ ایک حبشی نکالے گا
882	تعزیت نامہ از طرف مولانا ابرار اہق صاحب ہرردوی	869	سب سے پہلے ختم ہونے والی مخلوق بڑی ہے
882	تعزیت نامہ از طرف مولانا مفتی عبدالرحیم لاجپوری		رکت چھوٹنے کی چار شکلیں اور ان کو پورا کرنے کے طریقے
	تعزیت نامہ از طرف مولانا حبیب الرحمن فیروز پوری	870	
883	پالن پری		سوانح حضرت مولانا محمد عمر
883	تعزیت نامہ از احباب شوریٰ مورہ شیش	871	صاحب پالن پوری
884	تعزیت نامہ از مسجد دارجماعت چپاٹا زامبا	871	وطن، ولادت اور زمانہ طفولیت
884	خصوصیات، صفات اور معمولات	872	اسکول کی تعطیلات اپنے وطن گنہ من میں
887	سادگی اور تواضع	873	دنیا قدموں میں آئے گی
888	صبر تحمل اور شفقت	873	مہینے میں دینی تعلیم اور نکاح
	مرکز نظام الدین میں متواتر تیس سال تک بعد فجر مفصل	874	چار ماہ کے لیے تبلیغی جماعت میں
889	بیان	874	دو بارہ دارالعلوم دیوبند میں داخلہ
890	والد صاحب بیٹے کے خصوصی ملفوظات	875	والدہ کی وفات
895	دین و عصمت اور مہمانی کے منشور تشریح		بعض عورتیں پورے گھرانے میں دین لانے کا سبب بنتی ہیں
895	انسان کے تجربہ سے زیادہ کئی بات	875	وقت کی قدر و قیمت
895	اصل کام	875	لاکھوں انسانوں کو دین و ایمان کی بات سنانے کی ایک کامیاب مثال
895	ذکر رسول کے ساتھ فکر رسول		اجتماعات میں آپ کے بیانات کی نوعیت
895	فتویٰ اور فتویٰ کیا ہے؟	876	آپ کی زندگی کے آخری پیام
895	اصول میں کچھ ہے	877	آپ کا اہل وطن اور قوم سے آخری خطاب عام
896	اصل یہ ہے کہ آدمی اصول پر آجائے	878	دین و ایمان کا نور اور روشنی پھیلانے والا آفتاب ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا
896	طریقہ اجتماعیت	878	
896	صرف محنت ہاتی ہے		
896	حیات دین کے لیے اہم شے	879	

907	ہے	896	ایاقت شرط نہیں ہے
910	مدفین سے پہلے خواب	896	شیطان کا دھوکہ
911	حضرت والد صاحب <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کا پہلا چلہ	897	مقصد جہاد کیا ہے؟
913	نذرانہ عقیدت	897	دین کیسے پھیلے گا؟
914	جادو سے حفاظت کا بہت ہی مجرب نسخہ	897	برات دن کا تجربہ اور مشاہدہ
914	ہر قسم کی پریشانی سے چھٹکارے کا تعویذ	897	قربانی کی سیرمی یا چھوڑا
914	بکھرے موتی		حصول ہدایت کے لیے دعا کے ساتھ محنت بھی ضروری ہے
917	وقت کی قدر	898	
917	منتخب اشعار	898	تخلیق کائنات کی چار مصلحتیں
922	۷۲ چیزیں قرب قیامت کی علامت ہیں!	899	آج کی سب سے بے قیمت مخلوق
	اپنے بچوں کے ناموں کے ساتھ داعی الی الخیر بھی لگایا کرو	899	بعث بعد الموت کی پختہ دلیل
923		899	چھیننے کا مزاج اور دینے کا مزاج
	پانی منہ میں رکھ لینا، اور بیٹھ جانا پانی نکلنا بھی نہیں اور باہر نکالنا بھی نہیں	900	دعا اور محنت میں تطابق ضروری ہے
924		900	بروز قیامت خدا کا معاملہ فضل کا ہوگا یا عدل کا
924	اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نشانی ”ہوا“	900	راز کی بات غلی الاعلان عالمہ کے سامنے
927	رسول اللہ <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> کی گھبراہٹ	900	دنیا کی حکومتوں کے پاس طریقہ راحت دامن نہیں
927	تیز ہوا چلے تو یہ دعا پڑھے	901	جہنم اہل ایمان کے لیے ہسپتال اور شفا خانہ ہے
927	بیوا کو برامت کہو	901	امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بہترین طریقہ
928	قرآنی معلومات	901	ہر انسان کے لیے چار منزلیں
928	در بار خداوندی کا انعقاد	902	خاقیہ ایمان کیا ہے؟
929	آخرت میں رویت خداوندی کا مقام	903	سنات ایمانی پر معیت خداوندی کا وعدہ
929	در بار خداوندی میں اہل جنت کی شرکت	903	ایک یورپین آدمی کے سوالات کا اطمینان بخش جواب
930	در بار خداوندی میں شراب طہور کا دور		دینی دعوت کی بے شمار مصروفیات کے باوجود فن و فلکیات کے متعلق عمیق باتیں
930	حضرت داؤد علیہ السلام کی تلاوت و مناجات	905	
930	جمال خداوندی کے دیدار کا سوال		والد صاحب نے کئی بار خواب میں حضور <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> کو دیکھا



939	عجیب قصہ	931	نعمت مزید
940	اللہ کی رحمت پر یقین رکھنے والا نوجوان	931	امارت قبول کرنے سے انکار کرنا
	ایک ملک ایسا بھی ہے جو دیران نہ ہو، اور نہ اس کا مالک		آپ کی کتاب "مومن کا ہتھیار" حیض کی حالت میں
940	مرے	932	پڑھ سکتی ہوں یا نہیں
940	بے تکلف ہونے کے باوجود بھی اجازت ضروری	933	بے عقلی بھی نعمت ہے
941	علم کی اہمیت	934	دنیا کی بہترین نعمت، نیک اور دیندار بیوی
941	آخری مغل تاجدار بہادر شاہ ظفر کی ایک "مظلوم" غزل	935	حقیقت حسن
941	رحمت کی گھٹا اٹھی اور ابر کرم چھایا	936	دل کا رنگ دور کرنے کا نبوی نسخہ
942	زندگی جس جگہ بھی گزرے یاد خدا میں گزرنی چاہئے	936	دوسروں کی اولاد کو برا کہنا بھی گناہ ہے!
	وقائے محبوب سے جفائے محبوب زیادہ لذت بخش ہوا	937	حضور اکرم ﷺ کی مبارک مجلس کا ایک واقعہ
943	کرتی ہے	938	دین فطرت اور ہماری زندگی
943	محبوب کی ہر ادا محبوب ہے	939	ایک آنسو کا مقام
			والدین کے ساتھ میدان حشر میں سلوک کرنے والے کا

## تقریظ

مفسر قرآن، محدث کبیر، فقیہ انفس حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری دامت برکاتہم

استاذ حدیث دارالعلوم دیوبند اور شارح حجۃ اللہ البالغہ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ  
عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَا بَعْدُ:

”بکھرے موتی“ میں جناب کرم مولانا محمد یونس صاحب پالن پوری نے گہبائے رنگارنگ جن کر حسین گلہ ستہ تیار کیا ہے۔ یہ کتاب مولانا زید مجدہم کا کشکول ہے جس میں آپ نے قیمتی موتی اکٹھے کئے ہیں۔ ایک حسین دسترخوان ہے جس پر انواع و اقسام کے لذیذ کھانے چنے گئے ہیں۔ اس کتاب میں جہاں تفسیری فوائد و نکات ہیں، حدیثی نصح و ارشادات بھی ہیں۔ دعوتی اور تبلیغی چاشنی لیے ہوئے صحابہ اور بعد کے اکابر کے واقعات بھی ہیں جن سے دل جلد اثر پذیر ہوتا ہے۔ نیز ایسی دعائیں بھی شامل کتاب کی گئی ہیں جو گو نہ عملیات کارنگ لیے ہوئے ہیں۔ اس طرح کتاب بہت دلچسپ بن گئی ہے۔

نیز مولانا مفتی محمد امین صاحب پالن پوری استاذ حدیث و فقہ دارالعلوم دیوبند کی نظر ثانی نے اس کی اعتباریت میں اضافہ کیا ہے، گویا کتاب کو چار چاند لگائے ہیں۔ اس لیے امید ہے کہ یہ کتاب لوگوں کے لیے بے حد مفید ثابت ہوگی۔ انشاء اللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور مصنف کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے اور امت کو اس سے فیض یاب فرمائے۔ والسلام۔

کتبہ  
سعید احمد عفا اللہ عنہ پالن پوری  
خادم دارالعلوم دیوبند



## تعارف و تبصرہ

از..... حضرت مولانا شمس الحق صاحب ندوی زید مجدہم

مولانا محمد یونس صاحب پالن پوری، دعوت و تبلیغ کے نامور خطیب و واعظ مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری (جنہوں نے اپنی پوری عمر دعوت و تبلیغ کے لیے وقف فرمادی تھی، جو حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاص تربیت یافتہ تھے، اور حضرت جی کی وفات کے بعد بڑے اجتماعات کو عموماً مولانا ہی خطاب فرماتے تھے، مولانا کی تقریر بڑی مؤثر اور عام فہم ہوتی تھی، دعا بھی طویل فرماتے تھے مولانا یونس صاحب انہیں) کے فرزند ارجمند ہیں اور مولانا کی وفات کے بعد اپنے وقت کا بڑا حصہ مرکز نظام الدین میں گزارتے ہیں، مولانا حضرت مفکر اسلام کی تصنیفات کا بھی ذوق و شوق کے ساتھ مطالعہ فرماتے ہیں، بڑے اجتماعات میں شرکت کا پورا اہتمام رہتا ہے جس وقت یہ سطرین لکھی جا رہی ہیں دو اہم اجتماعات میں شرکت کے بعد اس وقت یعنی ۹ رزوی الحجہ کو عشق مرستی کے عالم میں عرفات میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ حج مبرور نصیب فرمائے یہ ایک دور افتادہ کی دعا ہے زَيْنًا تَقْبَلُ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔

مولانا اپنی تقاریر میں احادیث شریفہ اور بزرگوں کے تذکروں میں مذکور مؤثر واقعات و حکایات اور نصح و حکم کو بیان کرتے ہیں، اور سامعین کے دلوں کو گرماتے اور دینی غیرت و حمیت کو جگاتے ہیں۔ مولانا عرصہ سے ایسے مؤثر واقعات تعلیمات اور بعض ضروری مسائل و فتاویٰ کی بیاض بھی تیار کرتے جاتے ہیں، جو واقعی بکھرے موتیوں کا بڑا خوبصورت و دلکش بار ہے، جو پڑھنے والوں کے دل کو کھینچتا ہے اور روح کو بالیدگی عطا کرتا ہے، خصوصاً رمضان المبارک میں مولانا موصوف کا تراویح کے بعد مہمی میں دو جگہ وعظ اور تفسیر قرآن پاک بیان کرنے کا معمول ہے، جس کا سلسلہ بارہ بجے رات تک جاری رہتا ہے اور اختتام گلوگیر آواز میں طویل دعا پڑھتا ہے، لوگوں نے دور دور کنکشن لے رکھے ہیں گھروں میں مستورات بھی شوق کے ساتھ مولانا کے مؤثر وعظ کو سنتی ہیں، ان تقریروں اور بیان میں مولانا انہیں بکھرے موتیوں کو موقع و مناسبت سے زینت بیان و تقریر بتاتے ہیں، جو اب کتابی شکل میں آگئے ہیں، ان بکھرے موتیوں کا مطالعہ بڑا مفید اور دل کو گرمانے والا ہے، زبان و بیان آسان و رواں ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، کہ اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچائے۔

(تعمیرات حیات، ۲۵، جنوری ۲۰۰۵ء، ص ۲۶)

## تقریظ

مولانا مفتی محمد امین صاحب پالن پوری

استاذ حدیث و فقہ دارالعلوم دیوبند

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ؛ أَمَا بَعْدُ:

مولانا محمد یونس صاحب پالن پوری: حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری قدس سرہ کے بڑے صاحب زادے ہیں، موصوف نے ۱۳۹۳ھ مطابق ۱۹۷۳ء میں مظاہر علوم سہارن پور سے علوم متداولہ سے فراغت حاصل کی، طالب علمی کے زمانہ سے آپ کا محبوب مشغلہ اسلاف و اکابر کی کتابوں کا مطالعہ اور پسندیدہ باتوں کو کاپی میں محفوظ کرنا ہے۔ علوم متداولہ سے فراغت کے بعد ایک عرصہ تک والد محترم کے اوصاف و کمالات کو جذب کرتے رہے، جن حضرات نے مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری قدس سرہ کے بیانات سنے ہیں اور ان کو قریب سے دیکھا ہے، وہ اس بات کی کھلے دل سے گواہی دیں گے کہ مولانا محمد یونس صاحب زید مجدہم اخلاق و عادات اور اوصاف و کمالات میں عمر ثانی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔

دعوت و تبلیغ کے کام سے مولانا زید مجدہم جو دلچسپی رکھتے ہیں وہ اظہر من الشمس ہے۔ اور رمضان المبارک میں تراویح کے بعد مسجد میں موصوف کے جو بیانات ہوتے ہیں ان سے علوم قرآن کے ساتھ مناسبت عیاں ہے۔ ہزاروں آدمی اپنے گھروں میں نکلشن صرف مولانا کے بیانات سنے کے لیے رکھتے ہیں۔ اس طرح مردوں کے ساتھ مستورات بھی آپ کے بیانات سے خوب استفادہ کرتی ہیں۔

دوسری طرف مولانا زید مجدہم ان پسندیدہ باتوں کو جو آپ طالب علمی کے زمانہ سے اب تک منتخب و محفوظ فرما رہے ہیں "بکھرے موتی" کے نام سے شائع فرما کر پوری امت مسلمہ کو فیض پہنچا رہے ہیں، بلاشبہ یہ کتاب اسم با مستحی ہے، جو خوش قسمت اس کو دیکھتا ہے، ختم کئے بغیر دم نہیں لیتا۔

مولانا محمد یونس صاحب پالن پوری زید مجدہم نے اس کتاب میں بڑی قیمتی اور انمول باتیں کسی ترتیب کا لحاظ کئے بغیر جمع کر دی ہیں۔ اس لیے اس کا نام "بکھرے موتی" رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو امت کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ بنائے! اور موصوف کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین!

## رحمت بارگاہ رسالت

رحمت بارگاہ رسالت بھول جانے کے قابل نہیں ہے  
کیسے کیسے عنایت ہوئی ہے یہ بتانے کے قابل نہیں ہے

تاب دیدار کی بھی نہیں ہے ضبطِ غم کا بھی یارا نہیں ہے  
پاس آنے کے قابل نہیں ہے دور جانے کے قابل نہیں ہے

دولت دردِ دل دینے والے حوصلہ ضبطِ غم کا بھی دیدنے  
تاتواں ہے مریضِ مدینہ غم اٹھانے کے قابل نہیں ہے

میں ہوں بندہ تو خالق میرا ہے میں بھی کیا میرا سجدہ بھی کیا  
سر جھکانا فریضہ ہے درد سر جھکانے کے قابل نہیں ہے

بارگاہِ نبی میں پہنچ کر دیر تک ہم یہ سوچا کئے ہیں  
سامنے کونسا منہ لے کے جائیں منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے

فرد عصیاں میں لکھے ہوئے تھے چند آنسو بھی یادِ نبی کے  
اور حکم ہوا روزِ محشر یہ جلانے کے قابل نہیں ہے

ہر نفس تیرے لطف و کرم کی ہے یہ محتاجِ دونوں جہاں میں  
امتِ مصطفیٰ میرے مولیٰ آزمانے کے قابل نہیں ہے

دیکھ کر میری پتھرائی آنکھیں قافلے والے کہنے لگے ہیں  
چھوڑ دو اس کو شہرِ نبی میں اب یہ جانے کے قابل نہیں ہے

اک نظر اے تمنائے ہر دل جانبِ یونسِ دل شکستہ  
سر جھکائے ہوئے آگیا ہے سر اٹھانے کے قابل نہیں ہے

## دنیا میں ہر وقت گونجنے والی آواز ”اذان“ ہے

دنیا میں ہر وقت گونجنے والی آواز اذان کی آواز ہے۔ رپورٹ کے مطابق انڈونیشیا کے مشرق میں واقع جزائر سے طلوع آفتاب کے ساتھ ہی فجر کی اذان شروع ہو جاتی ہے اور بیک وقت ہزاروں مؤذن اللہ تعالیٰ کی توحید اور رسول اللہ ﷺ کی رسالت کا اعلان کرتے ہیں۔ مشرقی جزائر سے یہ سلسلہ مغربی جزائر تک چلا جاتا ہے۔ ڈیڑھ گھنٹے بعد یہ سلسلہ ساٹرا میں شروع ہو جاتا ہے اور ساٹرا کے قصبوں اور دیہاتوں میں اذانیں شروع ہونے سے پہلے ہی ملایا کی مسجد میں اذانوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور ایک گھنٹے کے بعد ڈجا کہ پہنچتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق بنگلہ دیش میں ابھی اذانیں ختم نہیں ہوئیں کہ کلکتہ سے سری لنکا تک فجر کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ دوسری طرف یہ سلسلہ کلکتہ سے ممبئی تک پہنچتا ہے اور پورے ہندوستان کی نضاء توحید اور رسالت کے اعلان سے گونج اٹھتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق سری نگر اور سیالکوٹ میں فجر کی اذان کا وقت ایک ہی ہے۔ سیالکوٹ سے کوئٹہ کراچی اور گوادریک چالیس منٹ ہیں اس عرصہ میں فجر کی اذانیں پاکستان میں گونجتی رہتی ہیں۔ پاکستان میں یہ سلسلہ شروع ہونے سے پہلے افغانستان اور مسقط میں اذانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ مسقط سے بغداد تک ایک گھنٹے کا فرق ہے۔ اس عرصہ میں اذانیں سعودی عرب، یمن، متحدہ عرب امارات، کویت اور عراق تک گونجتی رہتی ہیں۔ بغداد سے اسکندریہ تک پھر ایک گھنٹے کا فرق ہے۔ اس وقت شام، مصر، صومالیہ اور سوڈان میں اذانیں شروع ہو جاتی ہیں اسکندریہ سے طرابلس تک ایک گھنٹے کا فرق ہے۔ اس عرصہ میں شمالی امریکہ، لیبیا اور تیونس میں اذانوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق فجر کی اذان جس کا آغاز انڈونیشیا کے مشرقی جزائر سے شروع ہوا تھا ساڑھے نو گھنٹے کا سفر طے کر کے بحر اوقیانوس کے مشرقی کنارہ تک پہنچتی ہیں۔

فجر کی اذان بحر اوقیانوس تک پہنچنے سے پہلے مشرقی انڈونیشیا میں ظہر کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور ڈھا کہ میں ظہر کی اذانیں شروع ہونے تک انڈونیشیا میں عصر کی اذانیں بلند ہونے لگتی ہیں۔ یہ سلسلہ ڈیڑھ گھنٹے میں بمشکل جکار تک پہنچتا ہے اور مشرقی جزائر میں مغرب کی اذانوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ مغرب کی اذانیں بھی سبز سے ساٹرا تک ہی پہنچتی ہیں کہ اتنے میں انڈونیشیا کے مشرقی جزائر میں عشاء کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق کرۂ ارض پر ایک بھی سکندریہ نہیں گزرتا ہوگا جب سینکڑوں ہزاروں بلکہ لاکھوں مؤذن اللہ تعالیٰ کی توحید اور رسول کی رسالت کا اعلان نہ کرتے ہوں۔

## حرم مکہ اور حرم مدینہ کا احترام

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے پوتے سالم رضی اللہ عنہما ایک مرتبہ حرم مکہ میں تشریف لائے۔ مطاف میں آپ کی ملاقات وقت کے بادشاہ ہشام بن عبدالملک سے ہوئی ہشام نے سلام کے بعد عرض کیا کہ حضرت! کوئی ضرورت ہو تو حکم فرمائیے تاکہ میں آپ کی خدمت کر سکوں۔ آپ نے فرمایا: ہشام! مجھے بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر غیر اللہ سے حاجت بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ ادب الہی کا تقاضہ ہے کہ یہاں فقط اسی کے سامنے ہاتھ پھیلا یا جائے۔ ہشام لاجواب ہو کر خاموش ہو گیا۔ قدر تا جب آپ حرم شریف سے باہر نکلے، تو ہشام بھی عین اسی وقت باہر نکلا۔ آپ کو دیکھ کر قریب آیا۔ اور کہنے لگا کہ حضرت! اب فرمائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا: ہشام بتاؤ میں تم سے کیا مانگوں، دین یا دنیا؟ ہشام جاننا تھا کہ دین کے میدان میں تو آپ کا شمار وقت کی بزرگ ترین ہستیوں میں ہوتا ہے۔ لہذا کہنے لگا: حضرت! آپ مجھ سے دنیا مانگیں۔ آپ نے فوراً جواب دیا کہ دنیا تو میں نے کبھی خالق و مالک سے نہیں مانگی، بھلا

تم سے کہاں مانگوں گا۔ یہ سنتے ہی ہشام کا چہرہ لٹک گیا۔ سچ ہے جن حضرات کو بارگاہ رب العزت میں فریاد پیش کرنے کے آداب آتے ہیں وہ دنیا والوں کے سامنے دست دراز نہیں کرتے۔

بعض مشائخ عظام سفر مدینہ کے لیے پیادہ پا اپنے گھروں سے روانہ ہوئے۔ جب پوچھا گیا تو فرمایا: مفروز غلام اپنے آقا کے دروازے پر سوار ہو کر نہیں آتا۔ اگر ہم میں طاقت ہوتی تو سر کے بل چل کر آتے۔

خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا جب وقت وفات آیا، بعض لوگوں نے سوچا کہ انہیں گنبد خضریٰ میں دفن کریں گے جب یہ بات ان کے کانوں میں پڑی تو منع کرتے ہوئے فرمایا: ”میرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب دفن ہونا بڑی گستاخی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی ہے۔ میری اوقات کیا ہے کہ میری قبر ان کے قریب ہو۔“

### تلاوت قرآن کے آداب

قرآن مجید کی تلاوت کے آداب دو طرح کے ہیں۔ ایک آداب ظاہری اور دوسرے آداب باطنی۔ دونوں طرح کے آداب کی تفصیل درج ذیل ہے:

#### آداب ظاہری

- ✽ با وضو اور قبلہ رو ہو کر بیٹھے اگر خوشبو لگالے تو بہتر ہے۔ تلاوت کرتے وقت لباس بھی پاکیزہ ہونا چاہئے۔
- ✽ ایسی جگہ نہ بیٹھے جہاں آنے جانے والوں کو تنگی ہو یا ان کی پشت ہونے کا امکان ہو۔
- ✽ قرآن مجید کو تکیہ، رحل یا اونچی جگہ پر رکھے۔ تلاوت قرآن کا آغاز تعویذ اور تسمیہ سے کرے۔
- ✽ جب دوران تلاوت کوئی سورت آجائے، تو تعویذ پڑھنے کی ضرورت نہیں صرف تسمیہ پڑھا جائے۔
- ✽ جب آغاز تلاوت سورہ توبہ سے ہو، تو تعویذ ضروری ہے اور تسمیہ میں اختیار ہے چاہے پڑھے یا نہ پڑھے۔
- ✽ جب دوران تلاوت سورہ توبہ آجائے تو تعویذ اور تسمیہ دونوں کا پڑھنا ضروری نہیں۔
- ✽ جہاں مختلف لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں وہاں زیر لب پڑھنا بہتر ہے۔
- ✽ اگر تہائی نصیب ہو تو اونچی آواز سے تلاوت کر سکتا ہے، اگر کسی کو تکلیف کا اندیشہ ہو تو آہستہ پڑھے۔
- ✽ اونچی آواز سے تلاوت کرتے ہوئے اپنے کان یا رخسار پر ہاتھ نہ رکھے، کیونکہ یہ گانے والوں کا طریقہ ہے۔
- ✽ قرآن مجید کو تجوید کے اصولوں کے مطابق عمدہ اور صحیح مخارج اور صفات کا لحاظ رکھتے ہوئے پڑھے۔
- ✽ جتنا ممکن ہو قرآن مجید کو تریل سے (نٹھر ٹھہر کر) پڑھے۔ رموز و اوقاف کا خیال رکھ کر تلاوت کرے۔
- ✽ اپنی بساط کے مطابق خوش الحانی سے قرآن مجید کی تلاوت کرے تاہم راگ اور گانے کی طرز لگانا بے ادبی ہے۔
- ✽ آیات رحمت پر رحمت کی دعا کرے جبکہ آیات وعید پر مغفرت کی دعا کرے۔
- ✽ دوران تلاوت ادھر ادھر دیکھنا بے ادبی میں داخل ہے۔
- ✽ تلاوت کرتے وقت اپنے پاؤں پر ہاتھ نہ رکھے اور نہ ادھر ادھر کی چیزوں کے ساتھ کھیلے۔ اگر ورق الٹنا پڑے تو انگلی پر تھوک زبان سے نہ لگائے کہ یہ بے ادبی ہے۔

- ❖ دوران تلاوت ناک میں انگلی ڈالنا ادب کے خلاف ہے۔
- ❖ دوران تلاوت کسی سے بات نہ کرے۔ اگر ضروری ہو، تو آیت مکمل کر کے بات کرے۔ اگر ممکن ہو تو رکوع مکمل کر کے کلام کرے۔
- ❖ دوبارہ تلاوت کرنے سے پہلے تعویذ ضرور پڑھے۔
- ❖ دوران تلاوت آیات عذاب پر رونے کی کوشش کرے تو بہتر ہے۔
- ❖ آیات سجدہ پر سجدہ کرے اگر فوراً نہیں تو بعد میں پہلی فرصت میں سجدہ کرے۔ یہ ان آیات کا حق ہے۔
- ❖ جب طبیعت تلاوت کرتے کرتے تھک جائے تو رک جائے۔ تلاوت کے دوران طبیعت کا انشراح بہتر ہے۔
- ❖ قرآن مجید مکمل کرنے پر دعا کرنا سنت نبوی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام ہے۔

## آداب باطنی

- ❖ قرآن مجید کی تلاوت کے باطنی آداب درج ذیل ہیں:
- ❖ کلام پاک کی عظمت دل میں رکھے کہ کیسا عالی مرتبہ کلام ہے۔
- ❖ اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریا کی کو دل میں رکھے کہ جس کا کلام ہے۔ ❖ دل کو وساوس اور خطرات سے پاک رکھے۔
- ❖ معافی کا تدبیر کرے اور لذت کے ساتھ پڑھے۔
- ❖ جن آیات کی تلاوت کر رہا ہے دل کو ان کے تابع بنادے مثلاً اگر آیت عذاب زبان پر ہے تو دل لرز جائے۔
- ❖ اپنے کانوں کو اس درجہ متوجہ بنادے کہ گویا اللہ تعالیٰ کلام فرما رہے ہیں اور یہ سن رہا ہے۔

## قرآن مجید کی بے ادبی کی مختلف صورتیں

قرآن مجید کی بے ادبی کی مختلف صورتیں درج ذیل ہیں۔ ہر مسلمان کو ان سے حتی الوسع اجتناب کرنا چاہئے:

- ❖ بغیر وضو قرآن مجید کو چھونا۔ ❖ کتب تفاسیر یا عام کتابوں میں مرقوم قرآنی آیات پر بغیر وضو ہاتھ لگانا۔
- ❖ نجس جگہ پر بیٹھے ہوئے زبانی یا ناظرہ قرآن مجید پڑھنا۔ ❖ جب تلاوت کی آواز کانوں میں پڑ رہی ہو تو اس کو خاموشی سے نہ سننا۔
- ❖ قرآن مجید یاد کر کے بھول جانا۔ ❖ قرآن مجید کے اوپر کوئی کتاب رکھنا خواہ حدیث یافتہ ہی کی کیوں نہ ہو۔
- ❖ قرآن مجید کے اوپر اپنی عینک، قلم یا ٹوپی وغیرہ رکھنا۔ ❖ قرآن مجید کی طرف پاؤں پھیلا نا۔
- ❖ قرآن مجید نیچے ہونا اور خود قریب ہی اونچی جگہ بیٹھنا۔ ❖ قرآن مجید ایسی جگہ پر رکھنا جہاں آنے جانے والوں کی پشت ہوتی ہو۔
- ❖ تلاوت کے دوران پاؤں کو ہاتھ لگانا یا ناک میں انگلی ڈالنا۔ ❖ بغیر شرعی عذر کے لیٹ کر قرآن مجید پڑھنا، خواہ ناظرہ ہو یا زبانی۔
- ❖ قرآن مجید کا مطالعہ کرتے وقت حقہ یا سگریٹ پینا یا منہ میں سوار رکھے ہوئے تلاوت کرنا۔
- ❖ ناجائز کاروبار میں برکت کے لیے قرآن مجید پڑھنا یا پڑھوانا۔
- ❖ قرآنی حروف والی انگلی پہن کر بیت الخلاء میں جانا۔
- ❖ اخبارات میں قرآنی آیات کی اشاعت کرنا اور پھر انہیں عام کاغذوں کی طرح زمین پر پھینک دینا۔
- ❖ اخبار و رسائل وغیرہ جن میں آیات قرآنی ہوں ان کو دسترخوان وغیرہ کے لیے استعمال کرنا۔



قرآن کریم کے نقوش والے کیلنڈر یا کتابوں کی طرف پاؤں پھیلاتا۔

مونوگرام یا گفٹ کی اشیاء وغیرہ پر آیات لکھنا کہ جس سے بے ادبی کا اندیشہ ہو۔

قرآن مجید کی آیات کو مصوری اور خطاطی کے مختلف ڈیزائنوں میں اس طرح لکھنا کہ پڑھنے والے نہ سمجھ سکیں اور غلط پڑھیں سخت

بے ادبی ہے۔ قرآن مجید کو میت کے ساتھ قبر میں رکھنا۔

قرآن مجید کے بوسیدہ اور اراق کو عام کوڑا کرکٹ کے ڈھیر میں پھینکنا (اگر ضرورت پیش آئے تو ایسے اور اراق کو جمع کر کے نہریا دریا کے پانی میں بہا دینا چاہئے۔)

قرآنی آیات والا کاغذ کھلی حالت میں بیت الخلاء لے جانا (چاندی چڑے وغیرہ میں بند ہو تو مستحکم ہے۔)

آیات قرآنی یا قرآن مجید کو حقیر سمجھتے ہوئے آگ میں ڈالنا۔ لہو و لعاب کی مجالس کی ابتداء تلاوت قرآن سے کرنا۔

جس نے قرآن پاک کی تلاوت کی اور گمان کیا کہ کوئی شخص اس سے افضل چیز کا حامل ہے تو اس نے کلام اللہ کی توہین کی۔

### والدین کے آداب کے ثمرات

بنی اسرائیل کا ایک یتیم بچہ ہر کام اپنی والدہ سے پوچھ کر ان کی مرضی کے مطابق کیا کرتا تھا۔ اس نے ایک خوبصورت گائے پالی اور ہر وقت اس کی دیکھ بھال میں مصروف تھا۔ ایک مرتبہ ایک فرشتہ انسانی شکل میں اس بچے کے سامنے آیا اور گائے خریدنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ بچے نے قیمت پوچھی تو فرشتے نے بہت تھوڑی قیمت بتائی۔ جب بچے نے ماں کو اطلاع دی تو اس نے انکار کر دیا۔ فرشتہ ہر بار قیمت بڑھاتا رہا اور بچہ ہر بار اپنی ماں سے پوچھ کر جواب دیتا رہا۔ جب کئی مرتبہ ایسا ہوا تو بچے نے محسوس کیا کہ میری والدہ گائے بیچنے پر راضی نہیں ہیں۔ لہذا اس نے فرشتے کو صاف انکار کر دیا کہ گائے کسی قیمت پر نہیں بیچی جاسکتی۔ فرشتے نے کہا تم بڑے خوش بخت اور خوش نصیب ہو کہ ہر بات اپنی والدہ سے پوچھ کر کرتے ہو۔ عنقریب تمہارے پاس کچھ لوگ اس گائے کو خریدنے کیلئے آئیں گے تو تم اس گائے کی خوب قیمت لگاتے۔

دوسری طرف بنی اسرائیل میں ایک آدمی کے قتل کا واقعہ پیش آیا اور انہیں جس گائے کی قربانی کا حکم ملا وہ اسی بچے کی گائے تھی۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے لوگ جب اس بچے سے گائے خریدنے کے لیے آئے تو اس بچے نے کہا کہ اس گائے کی قیمت اس کے وزن کے برابر سونا ادا کرنے کے برابر ہے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے اتنی بھاری قیمت ادا کر کے گائے خرید لی۔ تفسیر عزیزی اور تفسیر معالم العرفان فی دروس القرآن میں لکھا ہے کہ اس بچے کو یہ دولت والدین کے ادب اور ان کی اطاعت کی وجہ سے ملی۔ تفسیر طبری میں بھی اسی طرح کا واقعہ منقول ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ والدین کی خدمت و ادب کا کچھ صلہ اس دنیا میں بھی دیدیا جاتا ہے۔

ایک نوجوان اپنے والدین کا بڑا ادب کرتا تھا اور ہر وقت ان کی خدمت میں مشغول رہتا تھا۔ جب والدین کافی عمر رسیدہ ہو گئے تو اس کے بھائیوں نے مشورہ کیا کہ کیوں نہ اپنی جائیداد کو والدین کی زندگی میں ہی تقسیم کر لیا جائے تاکہ بعد میں کوئی جھگڑا نہ کھڑا ہو۔ اس نوجوان نے کہا کہ آپ جائیداد کو آپس میں تقسیم کر لیں اور اس کے بدلے مجھے اپنے والدین کی خدمت کا کام سپرد کر دیں۔ دوسرے بھائیوں نے برضا و رغبت یہ کام اس کے سپرد کر دیا۔ یہ نوجوان سارا دن محنت مزدوری کرتا پھر گھر آ کر بقیہ وقت اپنے والدین کی خدمت اور بیوی بچوں کی دیکھ بھال میں گزارتا۔ وقت گزرتا رہا حتیٰ کہ اس کے والدین نے داعی اجل کو لبیک کہا۔

ایک مرتبہ یہ نوجوان رات کو سو رہا تھا کہ اس نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا اسے کہہ رہا ہے، اے نوجوان! تم نے اپنے والدین کا ادب کیا، ان کو راضی و خوش رکھا، اس کے بدلے تمہیں انعام دیا جائے گا۔ جاؤ فلاں چٹان کے نیچے ایک دینار پڑا ہے وہ اٹھا لو۔ اس میں تمہارے لیے برکت رکھ دی گئی ہے۔ یہ نوجوان صبح کے وقت بیدار ہوا تو اس نے چٹان کے نیچے جا کر دیکھا تو اسے ایک دینار پڑا ہوا مل گیا۔ اس نے دینار اٹھالیا اور خوشی خوشی گھر کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں ایک مچھلی فروش کی دکان کے قریب سے گزرتے ہوئے اسے خیال آیا کہ اس دینار نے بدلے میں ایک بڑی مچھلی خرید لی جائے تاکہ بیوی بچے آج اس کے کباب بنا کر کھائیں۔ چنانچہ اس نے دینار کے بدلے ایک بڑی مچھلی خرید لی۔ جب گھر واپس آیا تو اس کی بیوی نے مچھلی کو پکانے کے لیے کاٹنا شروع کیا۔ پیٹ چاک کیا تو اس میں سے ایک قیمتی ہیرا نکلا۔ نوجوان اس ہیرے کو دیکھ کر خوشی سے پھولانہ ملایا۔ جب بازار جا کر اس ہیرے کو بیچا تو اس کی اتنی قیمت ملی کہ اس کی ساری زندگی کا خرچہ پورا ہو گیا۔

### والدین کا ادب اور نقوش اسلاف

حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ کا بہت ادب و احترام کیا کرتے تھے۔ جب کبھی ان کی والدہ صاحبہ کو مسئلہ معلوم کرنا ہوتا تو وہ ایک سن رسیدہ فقہ سے دریافت کرتیں۔ ایسے موقع پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ کو اونٹ پر سوار کرتے اور خود اونٹ کی گھیل پکڑ کر پیدل چلتے۔ جب لوگ دیکھتے تو ادب و احترام کی وجہ سے راستے کے دونوں طرف کھڑے ہو کر سلام کرتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ان سے مسئلہ دریافت کرتیں۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ معمر فقہ کو مسئلہ کا صحیح حل معلوم نہ ہوتا تو وہ زیر لب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھ لیتے پھر اونچی آواز سے آپ کی والدہ کو بتا دیتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تواضع اور ان کے ادب کا یہ عالم تھا کہ ساری زندگی اپنی والدہ پر یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ جو مسائل آپ ان سے پوچھتی ہیں وہ میں ہی تو بتاتا ہوں۔ یہ سب اس لیے تھا کہ والدہ صاحبہ کی طبیعت جس طرح مطمئن ہوتی ہے ہونی چاہئے۔ اس ادب و احترام کے صدقے ہی امام اعظم بنے۔

### خلاصہ کلام

اگرچہ والدین کا ادب و احترام عمر کے ہر حصے میں واجب ہے لیکن جب دونوں شباب کی بہاروں، رعنائیوں اور توانائیوں سے محروم ہو کر بڑھاپے کی زندگی گزار رہے ہوں تو اولاد کو چاہئے کہ ان کا زیادہ خیال رکھے۔ ایسا نہ ہو کہ اولاد کی ذرا سی بے رخی والدین کے لیے دل کا روگ بن جائے۔ جب والدین اولاد کے رحم و کرم کے محتاج ہوں تو حالات کے ان بے رحم تھمڑوں میں اولاد پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ایسا کوئی قولی یا فعلی رویہ اختیار نہ کرے جس سے والدین کو ایذا پہنچے۔ بلکہ اس وقت انسان اپنے بچپن کو یاد کرے کہ جب وہ اپنے والدین کی شفقت اور حسن سلوک کا اس سے زیادہ محتاج تھا۔ اپنے ننگے بدن کو ڈھانپ نہیں سکتا تھا، خود اپنی مرضی سے کروٹ نہیں بدل سکتا تھا، اپنی غذا کا بندوبست نہیں کر سکتا تھا، حتیٰ کہ اپنے بدن کے ساتھ لگی نجاست کو نہیں دھو سکتا تھا۔ اس بے بسی کے عالم میں باپ کی شفقت اور ماں کی مامتانے شجر سایہ دار کی مانند اسے اپنی محبت کی گھنٹی چھاؤں سے نوازا۔ یہ ماں ہی تو تھی جو بچے کو پہلے کھلاتی تھی پھر خود کھاتی تھی۔ جو بچے کو پہلے پلاتی تھی بعد میں خود پیتی تھی۔ جو بچے کو پہلے سلاتی تھی بعد میں خود سوتی تھی۔ جو اپنے سر کی ایک چادر کے آدے کوٹنے سے بیٹے کے جوتوں کو صاف کرتی تھی۔ جو اپنے ہاتھوں سے بچے کے پاؤں میں جوتا پہناتی تھی۔ آج اس ماں کے احسانات کا بدلہ چکانے کا وقت آ پہنچا۔ پس اولاد کو چاہئے کہ والدین کا ادب و احترام کا خیال رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

الْجَنَّةُ تَحْتَ أقدامِ الْأُمَّهَاتِ

”جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے۔“

دوسری جگہ ارشاد فرمایا:

رَضِيَ الرَّبُّ فِي رَضَى الْوَالِدِ وَسَخَطُ الرَّبِّ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ [مشکوٰۃ: ج ۲، ص ۴۱۹]

”رب کی رضا والد کی رضا میں ہے اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔“

سچ تو یہ ہے کہ اولاد اپنے والدین کی جتنی خدمت کرے ان کے احسانات کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ بلکہ اگر ساری کائنات کی نعمتوں کا ایک لقمہ بنا کر والدین کے منہ میں دیدے تو بھی والدہ کے سینے سے پئے ہوئے دودھ کا بدلہ نہیں چکا سکتی۔

ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ باپ بیٹے کی محبت میں کتنا فرق ہے؟ فرمایا: بیٹا بیمار ہو اور لا علاج مرض میں گرفتار ہو جائے تو باپ اس کی دراز عمری کی رو رو کر دعائیں کرتا ہے اس کے بس میں ہو تو اپنی بقیہ زندگی کے ایام اپنے بیٹے کو دے کر خود موت کو قبول کر لے، لیکن جب باپ بیمار ہو اور لا علاج ہو جائے تو چند دن ہی میں بیٹا مایوس ہو کر دعا مانگا ہے کہ یا اللہ! میرے بوڑھے باپ کو اپنے پاس بلا لے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ وفا کے بدلے اتنی جفا۔

اللہ تعالیٰ ہمیں والدین کے ادب و احترام اور خدمت و اطاعت کی توفیق عطا فرمادے۔

عزت اسے ملی جو گھر سے نکل گیا وہ پھول سر چڑھا جو چمن سے نکل گیا

طالب علم کو علم کا حریص ہونا چاہئے، اگر وطن میں مواقع میسر نہ ہوں تو سفر کرنے سے گھبرانا نہیں چاہئے

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”مومن کو علم سے سیری حاصل نہیں ہوتی یہاں تک کہ جنت میں پہنچ جائے۔“

حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ علم کب تک حاصل کرنا چاہئے؟ فرمایا: جب تک زندگی ہے۔ سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک حدیث کے لیے کئی دن اور کئی رات سز کر تا تھا۔ شعیب رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ ”اگر کوئی شخص ملک شام کے آخر سے چل کر یمن کے آخر تک محض اس لیے سفر کرے کہ علم کی ایک بات سنے تو میرے نزدیک اس کا سفر ضائع نہیں ہوا۔“

حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے منقول ہے: ”جو کوئی طلب علم کے سفر کو جہاد نہیں سمجھتا اس کی عقل میں نقص ہے۔“

ابن ابی خسان کا مقولہ ہے: ”آدی اس وقت تک عالم ہے جب تک طالب علم ہے۔ جب طالب علمی کو خیر باد کہہ دے تو جا مل ہے۔“

ابو اسامہ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ کے متعلق لکھتے ہیں:

﴿مَا رَأَيْتُ رَجُلًا أَطْلَبَ الْعِلْمَ فِي الْأَفَاقِ مِنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ﴾

میں نے عبداللہ بن مبارک سے زیادہ ملک در ملک گھوم کر طلب علم کرنے والا نہیں دیکھا۔

امام ذہبی رضی اللہ عنہ جب پہلی مرتبہ طلب علم کے لیے نکلے، تو سات سال تک سفر ہی میں رہے۔ بحرین سے مصر پھر ملکہ وہاں سے طرطوس کا سفر پیدل کیا۔ اس وقت ان کی عمر بیس سال کی تھی۔ ابن المقری فرماتے ہیں کہ میں نے صرف ایک نسخہ کی خاطر ستر منزل کا سفر کیا۔ ان بزرگوں کے دل میں شوق علم کی ایسی بے تابی تھی جو ان کو کسی شہر یا ملک میں قرا نہیں لینے دیتی تھی۔ ایک سمندر سے دوسرے سمندر اور ایک بر اعظم سے دوسرے براعظم کا سفر تحصیل علم کے لیے کرتے تھے۔

حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی والدہ نے کسب معاش کے لیے بھیجا۔ یہ حصول رزق کے لیے مختلف کام کرتے رہے۔ والدہ کا مشورہ تھا کہ اگر کپڑے دھونے کا فن سیکھ لیں تو کچھ گزاراوقات کا بندوبست ہو جائے۔ ایک مرتبہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں شریک ہوئے، تو انہیں علم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ والدہ صاحبہ کی طرف سے اصرار تھا کہ محنت مزدوری کر کے پیسہ کمائیں اور ان کا دل چاہتا تھا کہ علم حاصل کر کے عالم بنوں، انہوں نے سارا حال امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے گوش گزار کر دیا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شاگرد رشید میں سعادت کے آثار دیکھے، تو فرمایا کہ آپ درس میں باقاعدگی سے آتے رہیں، ہم آپ کو کچھ ماہانہ وظیفہ دے دیا کریں گے، وہ آپ اپنی والدہ کو دے دیا کریں۔ چنانچہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سارا مہینہ امام صاحب کی مجلس درس میں شریک رہتے اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی گھر سے کچھ وظیفہ کے طور پر پیسے دیدیتے جو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ کے سپرد کر دیتے، کافی عرصہ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا۔ ایک دن امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کو پتہ چلا کہ بیٹا محنت مزدوری کے بجائے تحصیل علم میں مشغول ہے تو وہ برا فرودختہ ہوئیں۔ بیٹے کو سمجھایا کہ تمہارے والد فوت ہو گئے ہیں، گھر میں کوئی دوسرا مرد نہیں جو کما سکے۔ لہذا تم اگر کوئی کام کاج کرتے تو اچھا ہوتا۔ بہتر تھا کہ کوئی فن سیکھ لیتے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ماجرا امام صاحب کی خدمت میں پیش کر دیا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اپنی والدہ سے کہنا کہ کسی وقت آ کر میری بات سنیں۔ چنانچہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ کو لے کر حاضر خدمت ہوئے۔ والدہ نے امام صاحب کی خدمت میں وہی صورت حال پیش کی جو آپ پہلے سن چکے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں آپ کے بیٹے کو ایک فن سکھا رہا ہوں کہ جس سے یہ پستہ کا بنا ہوا فالودہ کھایا کرے گا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ سمجھیں کہ شاید امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ خوش طبعی فرما رہے ہیں تاہم خاموش ہو گئیں۔ کیونکہ گھر کا خرچ تو وظیفہ کی وجہ سے چل رہا تھا۔ جب امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے تکمیل علم سے فراغت حاصل کر لی اور ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ امام بن گئے، تو ان کے علم کا شہرہ دور دور تک پھیل گیا۔ حکومت وقت نے امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو قاضی القضاة کا عہدہ پیش کیا، تو انہوں نے علمی مشغولیت کی وجہ سے معذرت کر دی۔ البتہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا کہ وہ یہ عہدہ قبول کر لیں۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ وقت کے چیف جسٹس (قاضی القضاة) بن گئے۔ پورے ملک میں ان کی قبولیت عام ہو گئی۔ حکومت وقت نے یہ ذمہ لیا کہ کام کے دوران کھانے کا بندوبست حکومت کی طرف سے ہوگا۔ ایک دفعہ خلیفہ وقت ان کو ملنے کے لیے آیا اور اپنے ہمراہ پیالے میں فالودہ لایا۔ جب امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو پیش کیا تو کہا، حضرت! یہ قبول فرمائیں، یہ وہ نعمت ہے جو ہمیں کبھی کبھی ملتی ہے مگر آپ کو روزانہ ملا کرے گی۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ خلیفہ نے کہا یہ پستہ کا بنا ہوا فالودہ ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ حیران ہوئے کہ استاذ مکرم کے منہ سے نکل ہوئی بات من و عنن پوری ہو گئی۔

### دستر خوان مناسب جگہ پر جھاڑا جائے

حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مولانا سید امین حسین رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں مہمان ہوئے۔ کھانے سے فراغت پر مفتی صاحب نے دسترخوان سینٹا چاہا۔ مولانا امین رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا: کیا کرنا چاہتے ہیں؟ بتایا کہ دسترخوان جھاڑ دوں۔ پوچھا: دسترخوان جھاڑنا آتا بھی ہے؟ مفتی صاحب حیران ہوئے کہ اس میں جانے والی کون سی بات ہے۔ لہذا یوں پوچھا کہ آپ بتا دیجئے کیسے جھاڑتے ہیں؟ فرمایا: یہ بھی ایک فن ہے۔ پھر ہڈیوں کو، گوشت لگی بوٹیوں کو، روٹی کے ٹکڑوں کو اور چھوٹے ذرات کو الگ الگ کیا۔ پھر ہڈیوں کو ایسی جگہ پھینکا جہاں کتے کھا سکیں۔ گوشت لگی بوٹیوں کو ایسی جگہ پھینکا جہاں بلی کھا سکے۔ روٹی کے ٹکڑوں کو دیوار پر رکھ دیا تاکہ پرندے کھا

سکلیں۔ چھوٹے چھوٹے ذرات کو ایسی جگہ ڈالا جہاں چیونٹیوں کا بل قریب تھا۔ پھر فرمایا: یہ اللہ کا رزق ہے اس کا کوئی حصہ ضائع نہیں ہونا چاہئے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ایک صاحب مہمان ہوئے، تو ان کے کھانے میں پھل پیش کیے۔ فراغت پر اس عام صاحب نے کہا: حضرت! پھلوں کے چھلکے میں باہر پھینک دیتا ہوں۔ پوچھا: پھینکنے آتے ہیں؟ انہوں نے کہا: اس میں آنے والی بات کیا ہے؟ فرمایا: میرے پڑوس میں غرباء رہتے ہیں۔ اگر سب چھلکے ایک جگہ پھینک دیے، تو انہیں دیکھ کر حسرت ہوگی۔ پس تھوڑے تھوڑے چھلکے اس طرح متعدد جگہوں پر پھینک دیئے کہ دیکھنے والوں کو احساس بھی نہ ہو۔

بعض لوگ روٹی کے بڑے ٹکڑے کوڑے کرکٹ میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ سخت بے ادبی ہے۔ دیکھنے والوں کو چاہئے کہ وہ ان ٹکڑوں کو اٹھا کر نوچی جگہ رکھ دیں۔

ایک بزرگ اپنی سواری پر بیٹھے کہیں جا رہے تھے اور چنے بھی کھا رہے تھے۔ ایک چنا ہاتھ سے گر گیا۔ انہوں نے سواری روکی اور نیچے اتر کر چنا اٹھا کر کھالیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام گناہوں کی مغفرت فرمادی کہ اس بندے نے میرے رزق کا ادب کیا۔

آج کل مشروب پیتے ہوئے تھوڑا سا مشروب برتن میں بچا دینا فیشن بن گیا ہے۔ یہ تکبر کی علامت ہے اور رزق کی بے ادبی ہے۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بیمار ہوئے تو آپ کے لیے دودھ لایا گیا۔ اور تھوڑا سا بچا ہوا دودھ سرہانے رکھ دیا۔ اس دوران آپ کی آنکھ لگ گئی۔ جب بیدار ہوئے تو گلاس اپنی جگہ سے غائب پایا۔ خادم سے پوچھا کہ سچے ہوئے دودھ کا کیا معاملہ بنا؟ اس نے کہا: حضرت! ایک گھونٹ ہی تو تھا پھینک دیا۔ آپ بہت ناراض ہوئے۔ فرمایا: تم نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناقدری کی۔ خود ہی پی لیتے یا طوطے، بلی وغیرہ کو پلا دیتے تاکہ مخلوق خدا کو فائدہ پہنچتا۔ پھر ایک اصول سمجھایا کہ جن چیزوں کی زیادہ مقدار سے انسان اپنی زندگی میں فائدہ اٹھاتا ہے اس کی تھوڑی مقدار کی قدر اور تعظیم اس کے ذمہ واجب ہوتی ہے۔

حضرت خواجہ فضل علی شاہ قریشی مسکین پوری رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ پر سالکین کا ہر وقت ہجوم رہتا تھا۔ ایک مرتبہ جب سالکین کے لیے دسترخوان بچھایا گیا اور کھانا جن دیا گیا، تو حضرت نے فرمایا: فقیرو! یہ روٹی جو تمہارے سامنے رکھی ہے۔ اس کے گندم کے لیے کھیت میں با وضو مل چلایا گیا، با وضو پانی دیا گیا، جب گندم کی فصل پک کر تیار ہوگئی تو اسے با وضو کاٹا گیا پھر گندم کو بھوسے سے با وضو جدا کیا گیا۔ اس گندم کو با وضو میں کراتا بنایا گیا، پھر اس آنے کو با وضو گوندھا گیا۔ اس کی روٹی با وضو بنائی گئی پھر با وضو آپ کے سامنے لا کر رکھی گئی۔ کاش! کہ آپ اسے با وضو کھا لیتے۔

### عورتوں کے لیے مخصوص آداب

- ✽ راستہ میں چلتے ہوئے مردوں سے علیحدہ ہو کر چلیں۔ ✽ راستوں کے درمیان نہ چلیں بلکہ کناروں پر چلیں۔ (ابوداؤد)
- ✽ بچنے والا زیور نہ پہنیں۔ (ابوداؤد)
- ✽ جو عورت شان (بڑائی) ظاہر کرنے کے لیے زیور پہنے گی تو اس کو عذاب ہوگا۔
- ✽ چاندی کے زیور سے کام چلانا بہتر ہے۔ (ابوداؤد) ✽ عورت کو اپنے ہاتھوں میں مہندی لگاتے رہنا چاہئے۔
- ✽ عورت کی خوشبو ایسی ہو جس کا رنگ ظاہر ہو مگر زیادہ نہ پھیلے۔ (ابوداؤد)
- ✽ عورت ایسا باریک کپڑا نہ پہنے جس میں سے بدن نظر آئے۔ (ابوداؤد)
- ✽ اگر دوپٹہ باریک ہو تو اس کے نیچے موٹا کپڑا لگالیں۔ (ابوداؤد)

جو عورتیں مردوں کی شکل اختیار کریں ان پر لعنت ہے۔ (بخاری)

کوئی (نامحرم) مرد ہرگز کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ رہے۔ ہرگز کوئی عورت سفر نہ کرے مگر اس حال میں کہ اس کے ساتھ محرم ہو۔ (بخاری)

عورت ایامِ حیض میں مقدس مقامات مثلاً مسجد میں نہیں جاسکتی۔ قرآن مجید کو نہیں چھو سکتی تاہم وہ کسی چیز کو چھو لے تو وہ چیز ناپاک نہیں ہوتی۔ کھانا پکا سکتی ہے۔ شرع شریف کے مطابق مرد ایسی حالت میں عورت سے جماع کے علاوہ سب کام لے سکتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں:

”میں اس حالت میں نبی کریم ﷺ کے بالوں میں کنگھی کرتی تھی، آپ ﷺ کے سر کو دھوتی تھی۔ ایک مرتبہ آپ ﷺ نے مجھ سے کوئی چیز اٹھا کر لانے کے لیے کہا۔ میں نے ناپاکی کا عذر کیا، تو فرمایا کہ ناپاکی تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔“

اللہ تعالیٰ کو صفائی ستھرائی پسند ہے۔ لہذا گھروں سے باہر جو جگہیں خالی پڑی ہیں ان کو صاف رکھو۔ (ترمذی)

عورتیں گھر کے اندر صفائی خود رکھیں اور باہر بچوں سے صفائی کرا لیا کریں۔

### متفرق آداب

- ① اکڑا کر اتراتے ہوئے نہ چلیے۔
- ② کوئی مرد عورتوں کے درمیان نہ چلے۔ (ابوداؤد)
- ③ اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں کتیا (جاندار کی) تصویریں ہوں۔ (بخاری)
- ④ جب کسی کا دروازہ کھٹکھٹاؤ اور اندر سے پوچھیں کون ہو، تو یہ نہ کہو کہ میں ہوں (بلکہ اپنا نام بتاؤ)۔ (بخاری)
- ⑤ چھپ کر کسی کی باتیں نہ سنئے۔ (بخاری)
- ⑥ جب کسی کو خط لکھو تو شروع میں اپنا نام لکھ دو۔ (بخاری)
- ⑦ جب کسی کے گھر جاؤ تو پہلے اجازت لو پھر داخل ہو۔ (بخاری)
- ⑧ تین مرتبہ اجازت مانگنے پر بھی نہ ملے تو واپس ہو جاؤ۔ (بخاری)
- ⑨ اجازت لیتے وقت دروازہ کے سامنے کے بجائے دائیں یا بائیں جانب کھڑے رہو۔
- ⑩ اپنی والدہ کے پاس جانا ہو تب بھی اجازت لے کر جاؤ۔ (مالک)
- ⑪ کسی کی چیز مذاق میں لے کر نہ چل دو۔ (ترمذی)
- ⑫ اسی طرح چھری، چاقو وغیرہ کا حکم ہے۔ اگر ایسا کرنا پڑے تو پھل اپنے ہاتھ میں رکھو اور دستہ ان کو پکڑاؤ۔ (ترمذی)
- ⑬ زمانہ کو برامت کہو کیونکہ اس کی اُلت پھیر اللہ ہی کے قبضہ میں ہے۔ (مسلم)
- ⑭ ہوا کو برامت کہو۔ (ترمذی)
- ⑮ بخار کو بھی برامت کہو۔ (مسلم)
- ⑯ جب رات کا وقت ہو جائے تو بسم اللہ پڑھ کر دروازہ بند کر دو کیونکہ شیطان بند دروازے نہیں کھولتا۔ پھر بسم اللہ پڑھ کر مشکیزوں کے منہ تسموں سے باندھ دو۔ برتنوں کو ڈھانپ دو۔

۱۷ جب رات کو گلی کوچوں میں آمدورفت بند ہو جائے تو ایسے وقت میں باہر کم نکلو۔ (شرح السنہ)

۱۸ عام لوگوں کے سامنے انگریزی اور ڈکار لینا تہذیب کے خلاف ہے۔

۱۹ اگر پیٹ میں ہوا کا دباؤ ہو تو بیت الخلاء میں یا خلوت میں اس کو خارج کرنا چاہئے۔

### دور حاضر میں امت مسلمہ کی حالت زار

آج امت مسلمہ داخلی انتشار و اندرونی خلفشار پیدا کرنے والے لٹری، بحران کا شکار ہے۔ گو کہ علم و دانش کی کوئی کمی نہیں مگر مفاد پرستی اور نفس پرستی نے امت مسلمہ کا شیرازہ بکھیر دیا ہے۔ علم تو پایا مگر آداب علم سے غافل رہے۔ وسیلہ تول گیا مگر مقصد ہاتھ سے جاتا رہا۔ امر مباح و مندوب پر اختلافات نے امت سے بہت ساری چیزیں چھین لیں۔ مسلمانوں کو فن اختلاف میں تو مہارت حاصل ہو گئی مگر ”رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ“ کے اصول و آداب سے عملانا آٹھارہ ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہر میدان میں مسلمان اتنے زوال پذیر ہوئے کہ ہوائی اکھڑ گئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَلَا تَنَازَعُوا فِي مَنَاصِبِكُمْ﴾ (الانفال: ۴۶)

”اور آپس میں نہ جھگڑو پس تم نا کام ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔“

آج مسلمان مادی وسائل و اسباب کے اعتبار سے خود کفیل ہیں مگر افکار و نظریات کے لحاظ سے کمزور قوم بن چکے ہیں۔ اپنی اعلیٰ اقدار و روایات سے عملی طور پر دستبردار ہو کر پدرم سلطان بود کے زبانی دعووں سے اپنا دل بہلا رہے ہیں۔

### چھ آدمی جن پر لعنت کی گئی

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: چھ (طرح کے) آدمی ایسے ہیں جن پر میں لعنت کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر لعنت کی ہے اور ہر نبی کی دعا قبول کی جاتی ہے:

① ایک تو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں زیادتی کرنے والا۔

② اللہ کی تقدیر کا جھٹلانے والا۔

③ زبردستی تسلط اور غلبہ حاصل کرنے والا تاکہ اس شخص کو عزت دے جس کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل کیا ہے اور اس شخص کو ذلیل کرے جس کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی۔

④ اللہ کے حرم (میں قتل و قتال اور شکار وغیرہ) کو حلال سمجھنے والا۔

⑤ میری اولاد کے حق میں اس چیز کو حلال جاننے والا جس کو اللہ نے حرام قرار دیا۔

⑥ میری سنت کو ترک کرنے والا۔

### مومنین اور مشرکین کی اولاد کا انجام

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم ﷺ سے اپنے ان (دونوں کسن) بچوں کے بارے میں جو (ان کے پہلے شوہر سے تھے) زمانہ جاہلیت میں مر گئے تھے، پوچھا (کہ ان کا کیا انجام ہے؟) رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”وہ دونوں (دوزخ کی) آگ میں ہیں۔“ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ (یہ سن کر خدیجہ رضی اللہ عنہا کچھ طویل اور رنجیدہ سی ہو گئیں

اور آنحضرت ﷺ نے ان کے چہرہ پر رنجیدگی اور ناپسندیدگی کے اثرات دیکھے تو ارشاد فرمایا: ”اگر تم اپنے بچوں کا حال ٹھکانہ دیکھ لو (کہ وہ کسی ذلت اور رحمت الہی سے کتنے دور ہیں) تو خود تم ان سے نفرت کرنے لگو گی۔“ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بولیں: ”یا رسول اللہ! اور میرے ان (کسن) بچوں کا (کیا انجام ہے) جو آپ سے ہوئے تھے یعنی قاسم اور عبد اللہ؟ حضور نے فرمایا وہ جنت میں ہیں۔ اور اس کے بعد رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اہل ایمان اور ان کی اولاد کا ٹھکانہ جنت ہے اور اہل کفر و شرک اور ان کی اولاد کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔“ پھر رسول اللہ ﷺ نے (اس بات کی دلیل میں) یہ آیت ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ﴾ تلاوت فرمائی۔ (احمد)

### حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی عمر کے چالیس سال حضرت داؤد علیہ السلام کو ہدیہ دیا

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا (یعنی فرشتہ کو ہاتھ پھیرنے کا حکم دیا) پس ان کی پشت سے وہ تمام جانیں باہر نکل آئیں جن کو اللہ تعالیٰ ان (آدم علیہ السلام) کی نسل سے قیامت تک پیدا کرنے والا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ہر انسان کی دونوں آنکھوں کے درمیان ایک لورانی چمک رکھی، اس کے بعد ان تمام جانوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا۔“

حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا پروردگار یہ سب کون ہیں؟ پروردگار نے ارشاد فرمایا، یہ سب تمہاری اولاد ہیں (جن کو پشت پہ پشت قیامت تک پیدا ہوتا ہے) حضرت آدم علیہ السلام نے ان میں سے ایک کو جو دیکھا تو اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کی چمک ان کو بہت بھلی لگی۔ انہوں نے پوچھا، ”اے میرے پروردگار! یہ کون ہے؟“ پروردگار نے ارشاد فرمایا، یہ داؤد (علیہ السلام) ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، میرے پروردگار! تو نے اس کی عمر کتنی مقرر کی ہے؟ پروردگار نے ارشاد فرمایا، ساٹھ برس! حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، میرے پروردگار! میری عمر سے چالیس سال لیکر اس کی عمر میں اضافہ کر دیجئے۔ (ترمذی)

نوٹ: اس سلسلہ میں اس سے طویل اور اہم حدیث صفحہ نمبر ۶۵ پر ہے اسے ضرور پڑھیں۔

### خدا یا اپنی داہنی مٹھی والا ہم کو بنا دے

حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا: ”آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا تو ان کے دائیں موٹھے پر (دست قدرت سے یا فرشتہ کے ہاتھ کے ذریعہ) چمکی لگائی اور ان کی اولاد باہر نکالی جو سفید چمکدار نہیں پھر بائیں موٹھے پر چمکی لگائی اور ان کی مزید اولاد باہر نکالی وہ ایسی معلوم پڑتی تھیں جیسے وہ کونڈے ہوں، پھر اللہ تعالیٰ نے (آدم علیہ السلام کی) اس اولاد کے بارے میں جو ان کے دائیں موٹھے کی (طرف سے نکلی) تھیں، ارشاد فرمایا کہ یہ جنت میں جانے والی مخلوق ہیں اور مجھ کو اس کی پرواہ نہیں۔ پھر (آدم علیہ السلام کی) اس اولاد کے بارے میں، جو ان کے بائیں موٹھے کی (طرف سے نکلی) تھیں، ارشاد فرمایا کہ یہ آگ میں جانے والی مخلوق ہیں اور مجھ کو اس کی پرواہ نہیں۔“ (احمد)

حضرت ابو نضرہ (تابعی) سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ کے صحابہ میں سے ایک صحابی جن کو ابو عبد اللہ کہا جاتا تھا۔ جب (بیمار ہوئے) ان کے احباب عیادت کے لیے ان کے پاس پہنچے تو (دیکھا کہ) وہ (اللہ کے خوف اور آخرت کی باز پرس کے ڈر سے) رورہے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا، کاہے کوروتے ہو؟ کیا رسول اللہ ﷺ نے تم سے یہ نہیں فرمایا تھا کہ اپنے لب کے بال خوب پست کرو اور اس پر قائم رہو یہاں تک تم مجھ سے آلو۔ ابو عبد اللہ نے کہا ہاں لیکن میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ بھی فرماتے سنا ہے، ”کہ اللہ بزرگ



دبر ترنے (اپنی مخلوق میں سے) ایک حصہ کو اپنے داہنے ہاتھ کی مٹھی میں لیا اور دوسرے حصہ کو دوسرے ہاتھ میں لیا، پھر فرمایا، یہ (دائیں مٹھی) جنت میں جانے کے لیے ہیں اور مجھے اس کی پرواہ نہیں اور یہ (بائیں مٹھی) دوزخ میں جانے کے لیے ہیں اور مجھے اسکی پرواہ نہیں۔“ (پھر ابو عبد اللہ نے کہا) مجھے معلوم نہیں کہ میں ان دونوں مٹھیوں میں سے کس میں ہوں۔؟ (احمد)

### انسان کی خصلت و جبلت اٹل ہوتی ہے

حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ (ایک دن) ہم (چند صحابہ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے وقوع پذیر ہونے والی چیزوں کے بارے میں بات چیت کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (ہماری باتوں کو سن کر) ارشاد فرمایا ”اگر تم سنو کہ کوئی پہاڑ اپنی جگہ سے سرک گیا ہے تو اس کو (چاہے) سچ مان لیتا، لیکن اگر تم یہ سنو کہ کسی شخص کی خصلت و جبلت بدل گئی ہے تو اس کا ہرگز اعتبار نہ کرنا، کیوں کہ جو شخص جس خصلت و جبلت کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے وہ اسی کا ہو کر رہے گا۔“ (احمد)

### جنت میں داخل ہونے کے تین آسان نبوی نسخے

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”جس نے پاک (رزق) کھایا اور سنت پر عمل کیا اور لوگ اس کی زیادتیوں سے محفوظ رہے وہ جنت میں جائے گا۔“

(یہ سن کر) ایک صاحب نے کہا یا رسول اللہ: آج کل تو یہ بات بہت لوگوں میں ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”اور میرے بعد کے زمانوں میں بھی اس طرح کے لوگ ہوں گے۔“ (ترمذی)

### جھگڑا الودی گمراہ ہو جاتا ہے

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”کوئی بھی قوم راہ ہدایت پر گامزن ہونے کے بعد، اسی وقت گمراہی کا شکار ہوئی جب اس کو جھگڑنے کی عادت ہوگئی۔“ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی:

﴿مَاضِرٌ يُّؤَاكِلُكَ إِلَّا جَدًّا بَلْ مَعَهُ قَوْمٌ خَصِمُونَ﴾

”وہ (کفار) اس بات کو آپ کے سامنے صرف جھگڑنے کے لیے بیان کرتے ہیں بلکہ (درحقیقت) وہ قوم جھگڑالو ہے۔“

(احمد، ترمذی، ابن ماجہ)

### ایک بدعت کی ایجاد سے ایک سنت اٹھالی جاتی ہے پھر وہ قیامت تک واپس نہیں آتی

حضرت غضیف بن حارث ثمالی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جو بھی قوم و جماعت کوئی بدعت ایجاد کرتی ہے، تو اس جیسی کوئی سنت اٹھالی جاتی ہے۔ بس سنت کو مضبوطی سے پکڑنا، بدعت کے ایجاد کرنے سے بہتر ہے۔“ (احمد)

حضرت حسان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی قوم و جماعت اپنے دین میں کوئی بدعت نکالتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اتنی ہی سنت ان سے چھین لیتا ہے اور پھر وہ سنت قیامت تک ان کے پاس لوٹ کر نہیں آسکتی۔ (دارمی)

### دعوت کے بارے میں یہ مضمون عجیب ہے

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ (ایک دن) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (ہم صحابہ کو مخاطب کر کے) ارشاد فرمایا: ”دیکھو!

لوگ تمہارے تابع ہیں (یعنی میرے بعد لوگ تمہاری پیروی کریں گے، تمہارے طریقے پر چلیں گے) اور اطراف عالم سے کتنے ہی لوگ دین کا علم و فہم حاصل کرنے کے لیے تمہارے پاس آئیں گے، پس جب وہ آئیں تو ان کے ساتھ بھلائی کرنا، اور ان کو دینی علم کی تعلیم دینا۔“ (ترمذی)

### دل سے علم کیسے نکل جاتا ہے؟

حضرت سفیان (تابعی) سے روایت ہے کہ (ایک دن) حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے (مشہور تابعی عالم اور تورات وغیرہ کے علوم پر گہری نظر رکھنے والے) حضرت کعب بن احبار رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تمہارے نزدیک ارباب علم کون ہیں؟ حضرت کعب نے جواب دیا، وہ لوگ جو ان باتوں پر عمل کرتے ہیں جن کو وہ جانتے ہیں (یعنی عالم با عمل ہی کو ارباب علم میں شمار کیا جاسکتا ہے) پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اچھا وہ کون سی چیز ہے جو علماء کے دلوں سے علم (کی برکت و ہیبت اور علم کے نور) کو نکال دیتی ہے؟ حضرت کعب بن احبار نے جواب دیا، طبع (اور لالچ)۔ (داری)

### قیامت کے دن سب سے بدترین شخص کون ہوگا؟

حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ارشاد فرمایا: ”قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک مرتبہ کے اعتبار سے بدترین شخص وہ عالم ہے، جس نے اپنے علم سے فائدہ حاصل نہیں کیا۔“ (داری)

### گناہ گار ذمہ دار کے فیصلے اسلام کو ڈھادیتے ہیں

حضرت زیاد بن حدیر رضی اللہ عنہ (تابعی) فرماتے ہیں: کہ امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مجھ سے پوچھا، جانتے ہو کیا چیز اسلام (کی عمارت) کو ڈھادیتی ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ ارشاد فرمایا: ”عالم کا پھسلنا (یعنی اس کا خطا اور گناہ میں مبتلا ہو جانا) منافق کا کتاب اللہ کے ذریعہ جھگڑا کرنا اور گمراہ قائدین کا احکام صادر کرنا، اسلام کو ڈھادیتا ہے۔“ (داری)

### جنت میں بہت بہت محل بنانے کا نبوی نسخہ

حضرت سعید بن مسیب بطریق ارسال نقل کرتے ہیں: کہ رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو سورہ قل هو اللہ احد دس (۱۰) بار پڑھے، اس کے لیے اسکی وجہ سے جنت میں ایک محل بنایا جاتا ہے اور جو شخص اس کو بیس (۲۰) مرتبہ پڑھے، اس کے لیے اسکی وجہ سے دو محل بنائے جاتے ہیں اور جو شخص اس کو تیس (۳۰) مرتبہ پڑھے، اس کے لیے جنت میں تین محل بنائے جاتے ہیں۔ لسان نبوت ﷺ سے یہ بشارت سن کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہنے لگے ”خدا کی قسم! اے اللہ کے رسول پھر ہم (جنت میں) اپنے بہت زیادہ محل بنالیں گے“ (یعنی جب اس سورت کو پڑھنے کی یہ برکت ہے اور اس کا یہ ثواب ہے تو ہم اس سورت کو پڑھیں گے تاکہ اسکی وجہ سے جنت میں ہمارے لیے بہت زیادہ محل بنیں۔) رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ فرارخ ہے۔“ (یعنی اس سورت کی فضیلت اور اس کا ثواب بہت عظیم اور بہت وسیع ہے لہذا اس بشارت پر تعجب نہ کرو بلکہ اس کے حصول کی کوشش کرو۔) (داری)

### حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا نام عرش پر لیا گیا

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ (ایک دن) رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے مجھے علم

دیا ہے، کہ میں تمہارے سامنے قرآن پڑھوں۔“ حضرت ابی نے عرض کیا۔ ”کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے میرا نام لیا ہے؟“ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”ہاں“ حضرت ابی رضی اللہ عنہ نے کہا، ”تمام جہانوں کے پروردگار کے یہاں میرا ذکر کیا گیا؟“ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”ہاں“ یہ سنتے ہی حضرت ابی رضی اللہ عنہ کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔

اور ایک روایت میں یوں آتا ہے، کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت ابی رضی اللہ عنہ سے فرمایا: ”مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، کہ میں تمہارے سامنے ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ پڑھوں۔“ حضرت ابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”ہاں“ (یہ سنتے ہی) حضرت ابی رضی اللہ عنہ رو پڑے۔ (بخاری، مسلم)

آپس کے اختلاف کی وجہ سے ہلاک ہو گئے

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: کہ میں نے ایک شخص کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا اور رسول خدا ﷺ کو اس کے خلاف پڑھتے ہوئے سنا تھا، چنانچہ میں اس شخص کو نبی کریم ﷺ کی خدمت میں لایا اور آپ سے صورت حال بیان کی (کہ اس شخص کی قرأت آپ کی قرأت سے مختلف ہے) پھر میں نے محسوس کیا کہ (میرے جھگڑے اور اختلاف کی وجہ سے) آپ کے چہرہ اقدس پر ناگواری کے آثار نمایاں ہیں۔ بہر کیف آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: تم دونوں صحیح اور اچھا پڑھتے ہو۔ (دیکھو) آپس میں اختلاف نہ کرو کیونکہ وہ لوگ جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں وہ آپس کے اختلاف کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ (بخاری)

### دعا کے بعد منہ پر ہاتھ کیوں پھیرتے ہیں؟

حضرت مالک بن یسار رضی اللہ عنہ راوی ہیں: کہ رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جس وقت تم اللہ سے دعا مانگو تو اس سے اپنے ہاتھ کے اندرونی رخ کے ذریعہ مانگو، اس سے اپنے ہاتھوں کے اوپر کے رخ کے ذریعہ نہ مانگو۔“

اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے، کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اللہ تعالیٰ سے اپنے ہاتھوں کے اندرونی رخ کے ذریعہ مانگو، اس سے اپنے ہاتھوں کے اوپر کے رخ کے ذریعہ نہ مانگو اور جب تم دعا سے فارغ ہو جاؤ، تو اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ پر پھیر لو (تاکہ وہ برکت جو ہاتھوں پر اترتی ہے منہ کو بھی پہنچ جائے۔)“ (ابوداؤد)

حضرت سلمان رضی اللہ عنہ راوی ہیں: کہ رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”تمہارا پروردگار بہت حیا مند ہے (یعنی وہ حیا مندوں کا سامنا کرتا ہے) اور بڑا سختی ہے، وہ اپنے بندے سے حیا کرتا ہے کہ اسے خالی ہاتھ واپس کرے۔ جب اس کا بندہ اس کی طرف (دعا کے لیے) اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے۔“ (ترمذی، ابوداؤد، بیہقی)

حضرت سائب بن یزید اپنے والد سے نقل کرتے ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ جب دعا مانگتے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے، تو اپنے منہ پر دونوں ہاتھوں کو پھیرتے۔ (بیہقی)

### اللہ سے بہت دور وہ شخص ہے جس کا دل سخت ہے

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما راوی ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”ذکر اللہ کے علاوہ زیادہ کلام نہ کرو کیونکہ ذکر اللہ کے علاوہ کلام کی کثرت دل کی سختی کا باعث ہے اور یاد رکھو! آدمیوں میں اللہ سے بہت دور وہ شخص ہے جس کا دل سخت ہے۔“ (ترمذی)

### اپنی زندگی میں اپنی جنت دیکھنے کا نبوی نسخہ

حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: کہ مجھ تک یہ روایت پہنچی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے۔ غافلوں کے درمیان خدا کا ذکر کرنے والا، بھانگے والوں کے بیچ لڑنے والے کے مانند ہے (یعنی اس شخص کے مانند ہے جو کارزار میں اپنے لشکر کے بھاگ کھڑے ہونے کے بعد تنہا کافروں کے مقابلہ میں ڈٹ رہا ہے) نیز غافلوں کے درمیان خدا کا ذکر کرنے والا، خشک درختوں کے بیچ میں بزر درخت کی مانند ہے۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ سرسبز و شاداب درخت کے مانند ہے۔

اور خدا کا ذکر کرنے والا، اندھیرے گھر میں چراغ کے مانند ہے، اور غافلوں میں خدا کا ذکر کرنے والے کو، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں جنت میں اس کی جگہ دکھا دیتا ہے۔ اور غافلوں میں خدا کو یاد کرنے والے کے لیے، ہر فیح اور غیر فیح (یعنی تمام انسانوں اور چوپایوں کی) گنتی کے بقدر گناہ بخشے جاتے ہیں۔ (رزین)

### قاتل اور مقتول کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ ہنستا ہے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”اللہ تعالیٰ دو شخصوں کو دیکھ کر ہنستا ہے (یعنی ان سے راضی ہوتا ہے اور اپنی رحمت کے ساتھ ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے) ان میں سے ایک تو وہ ہے، جو خدا کی راہ میں جہاد کرتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے (یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے) پھر اللہ تعالیٰ اس کے قاتل کو توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے (اور پھر وہ کفر سے تائب ہو کر ایمان لے آتا ہے) پھر خدا کی راہ میں جہاد کر کے شہید ہو جاتا ہے (لہذا اس کو بھی جنت میں داخل کیا جاتا ہے)۔“ (بخاری و مسلم)

### شہید کے لیے خصوصی انعام

حضرت مقدم بن معدیکرب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”حق تعالیٰ کے یہاں شہید کے لیے چھ خصالتیں (یعنی چھ امتیازی انعامات) ہیں:

- ① اس کو اول دہلہ میں (یعنی خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی) بخش دیا جاتا ہے اور اس کو جنت میں اپنا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔
- ② وہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔
- ③ وہ بڑی گھبراہٹ (یعنی آگ کے عذاب) سے مامون رہے گا۔
- ④ اس کے سر پر عظمت و وقار کا تاج رکھا جائے گا جس کا ایک یا قوت دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر و گرانمایہ ہوگا۔
- ⑤ اس کی زوجیت میں بڑی آنکھ والی بہتر (۷۲) حوریں دی جائیں گی۔
- ⑥ اور اس کے عزیز و اقرباء میں سے ستر (۷۰) آدمیوں کے حق میں اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ (ترمذی، ابن ماجہ)

### سوال و جواب کے انداز میں

حساء بنت معاویہ (بن سلیم) فرماتی ہیں کہ مجھ سے میرے چچا حضرت اسلم بن سلیم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، کہ (یاب دن) میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا: ”جنت میں کون کون لوگ ہوں گے؟“ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جنت میں نبی ہوں گے، شہید ہوں گے، جنت میں بچے ہوں گے اور جنت میں وہ بچے بھی ہوں گے جن کو جیتے جی کاڑ دیا گیا ہے۔“ (ابوداؤد)

## ہاتھ کا بوسہ وغیرہ لینا کیسا ہے؟

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) رسول خدا ﷺ نے ہمیں لشکر میں بھیجا (وہاں پہنچ کر ہمارے لشکر کے) لوگ بھاگ کھڑے ہوئے۔ چنانچہ ہم مدینہ واپس آئے تو (مارے شرم وندامت کے) اپنے گھروں میں چھپ کر بیٹھ گئے اور ہم نے (اپنے دل میں) کہا یا رسول اللہ! ہم میدان چھوڑ کر بھاگ آنے والے لوگ ہیں۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”(نہیں) بلکہ تم دوبارہ حملہ کرنے والے لوگ ہو اور میں تمہاری جماعت ہوں۔“ (ترمذی)

اور ابو داؤد نے بھی ایسی ہی روایت نقل کی ہے۔ اور اس میں یہ الفاظ ہیں کہ ”نہیں بلکہ تم دوبارہ حملہ کرنے والے لوگ ہو۔“ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ (جب ہم نے دیکھا کہ آنحضرت ﷺ نے ہم سے کوئی جواب طلب کرنے یا سرزنش کرنے کے بجائے اس شفقت آمیز انداز میں ہماری ہمت بڑھائی، تو (فراطمینان و محبت سے) ہم آپ کے قریب پہنچے اور آپ کے دست مبارک کا بوسہ لیا، پھر آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”میں مسلمانوں کی جماعت ہوں۔“

## مردے بھی زندوں کا کلام سنتے ہیں

حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہمارے سامنے یہ بیان کیا، کہ اللہ کے نبی ﷺ نے جنگ بدر کے دن (مکہ کے) کفار قریش کے چوبیس (مقتول) سرداروں کے بارے میں حکم دیا (کہ ان کو ٹھکانے لگا دیا جائے) چنانچہ ان کی نعشوں کو بدر کے ایک ایسے کنوئیں میں ڈال دیا گیا، جو ناپاک تھا اور ناپاک کرنے والا تھا۔ نبی کریم ﷺ کی یہ عادت تھی کہ جب آپ (جنگ میں) کسی قوم (یعنی دشمنوں) پر غلبہ پالیتے تو میدان جنگ میں تین تین راتیں قیام فرماتے۔

چنانچہ (اسی عادت کے مطابق) آپ جنگ جیت لینے کے بعد بدر کے میدان میں بھی تین راتیں قیام فرما رہے اور (جب تین دن گزر گئے تو آپ نے اپنی سواری کے اونٹ پر کجاوہ باندھنے کا حکم دیا۔ چنانچہ کجاوہ باندھ دیا گیا اور آپ وہاں سے روانہ ہوئے اور آپ کے صحابہ بھی آپ کے پیچھے ہو لیے (جب اس کنوئیں پر پہنچے جس میں سرداران قریش کی نعشیں ڈالی گئیں تھیں تو) آپ اس کنوئیں کے کنارے کھڑے ہو گئے اور سرداروں کو ان کا اور ان کے ہاپوں کا نام لے کر پکارنا شروع کیا، کہ اے فلاں! ابن فلاں اور اے فلاں! ابن فلاں! کیا (اب) تمہیں یہ اچھا معلوم ہوتا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے؟ بلاشبہ ہمیں تو وہ چیز حاصل ہو گئی جس کا ہم سے ہمارے پروردگار نے وعدہ کیا تھا، کیا تم نے بھی وہ چیز پالی جس کا تم سے تمہارے پروردگار نے وعدہ کیا تھا؟ (یعنی ہم کو تو خدا کے وعدے کے مطابق فتح و کامیابی حاصل ہو گئی۔ کیا تم کو بھی عذاب ملا جس سے تمہارے پروردگار نے تمہیں ڈرایا تھا؟)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ کیا آپ ایسے جسموں سے گفتگو کر رہے ہیں، جن میں روئیں نہیں ہیں؟ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، ان (جسموں) سے میں جو کچھ کہہ رہا ہوں تم اسکو زیادہ سننے والے نہیں ہو۔“ اور ایک روایت میں یوں ہے۔ کہ ”تم ان سے زیادہ سننے والے نہیں لیکن (تم جواب دینے پر قادر ہو اور) یہ جواب نہیں دے سکتے۔“ (بخاری، مسلم)

## مال غنیمت میں خیانت کرنے کا وبال

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے ایک دن ہمارے سامنے خطبہ دیا اور (اس خطبہ کے دوران) مال

غیبت میں خیانت کا ذکر فرمایا: چنانچہ آپ نے اس کو بہت بڑا گناہ بتایا اور بڑی اہمیت کے ساتھ اس کو بیان کیا، پھر ارشاد فرمایا:

① ”(خبردار!) میں تم میں سے کسی کو قیامت کے دن اس حال میں نہ دیکھوں، کہ وہ اپنی گردن پر بلبلاتے ہوئے اونٹ کو لادے ہوئے (میدانِ حشر میں) آئے (یعنی جو شخص مالِ غنیمت سے مثلاً: اونٹ کی خیانت کرے گا، وہ شخص میدانِ حشر میں اس حالت میں آئے گا کہ اس کی گردن پر وہی اونٹ سوار ہوگا اور بلبلا رہا ہوگا) پھر مجھ سے یہ کہے: یا رسول اللہ! میری فریادرسی کیجئے اور میں اس کے جواب میں یہ کہہ دوں، کہ میں (اب) تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتا (یعنی میں تمہیں اللہ کے عذاب سے چھکارا نہیں دلا سکتا) کیونکہ میں نے تمہیں (دنیا میں) شریعت کے احکام پہنچادیئے تھے۔“

② (خبردار!) میں تم میں سے کسی کو قیامت کے دن اس حال میں نہ دیکھوں، کہ وہ اپنی گردن پر نہناتے ہوئے گھوڑے کو لادے ہوئے (میدانِ حشر میں، آئے) پھر مجھ سے یہ کہے: ”یا رسول اللہ ﷺ میری فریادرسی کیجئے اور میں اس کے جواب میں کہہ دوں، کہ میں (اب) تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے تمہیں شریعت کے احکام پہنچادیئے تھے (یعنی تمہیں پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ مالِ غنیمت میں خیانت یا کسی چیز میں ناحق تصرف کرنا بہت بڑا گناہ ہے)۔“

③ (اور خبردار!) میں تم میں سے کسی کو قیامت کے دن اس حال میں نہ دیکھوں، کہ وہ اپنی گردن پر میاٹی ہوئی بکری لادے ہوئے (میدانِ حشر میں) آئے، اور پھر مجھ سے یہ کہے: ”یا رسول اللہ! میری فریادرسی کیجئے اور میں جواب میں کہہ دوں، کہ میں (اب) تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے تمہیں شریعت کے احکام پہنچادیئے تھے۔“

④ (اور خبردار!) میں تم میں سے کسی کو قیامت کے دن اس حال میں نہ دیکھوں، کہ وہ اپنی گردن پر کسی چلاتے ہوئے آدمی کو (یعنی کسی غلام یا باندی کو، جو اس نے غنیمت کے قیدیوں میں سے خیانت کر کے لے لیا ہو) لادے ہوئے (میدانِ حشر میں) آئے، اور پھر مجھ سے کہے: ”یا رسول اللہ! میری فریادرسی کیجئے اور میں اس کے جواب میں کہہ دوں، کہ میں (اب) تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے تمہیں شریعت کے احکام پہنچادیئے تھے۔“

⑤ (خبردار!) میں تم میں سے کسی کو قیامت کے دن اس حال میں نہ دیکھوں، کہ وہ اپنی گردن پر لہراتے ہوئے کپڑے رکھے ہوئے (میدانِ حشر میں) آئے، پھر مجھ سے کہے: ”یا رسول اللہ! میری فریادرسی کیجئے اور میں اس کے جواب میں یہ کہہ دوں، کہ میں (اب) تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے تمہیں شریعت کے احکام پہنچادیئے تھے۔“

⑥ (اور خبردار!) میں تم میں سے کسی کو قیامت کے دن اس حال میں نہ دیکھوں، کہ وہ اپنی گردن پر سونا چاندی لادے ہوئے (میدانِ حشر میں) آئے، پھر مجھ سے کہے، ”یا رسول اللہ! میری فریادرسی کیجئے اور میں اس کو جواب میں یہ کہہ دوں، کہ (اب) میں تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے تمہیں شریعت کے احکام پہنچادیئے تھے۔“ (بخاری، مسلم)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول خدا ﷺ کی خدمت میں ایک غلام ہدیہ کے طور پر پیش کیا، جس کا نام مدعم تھا (ایک دن غالباً کسی میدانِ جنگ میں) وہ رسول خدا ﷺ کا کجاوہ اتار رہا تھا کہ اچانک کسی نامعلوم شخص کا تیرا کر لگا، جس سے وہ جاں بحق ہو گیا۔ لوگوں نے کہا: مدعم کو جنت مبارک ہو (یعنی مدعم خوش قسمت رہا کہ آنحضرت ﷺ کی خدمت کرتے ہوئے شہید ہوا اور جنت میں پہنچ گیا)۔

(یہ سن کر) رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”نہیں! ایسا نہیں ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ چادر جس کو

دعہ نے خیبر کے دن مال غنیمت میں سے اس کی تقسیم سے قبل لے لیا تھا، آگ بن کر مدعم پر شعلے برسا رہی ہے۔“

جب لوگوں نے (اس شدید وعید کو) سنا، تو ایک شخص ایک تمہہ یاد تو تھے (واپس کرنے کے لیے) نبی کریم ﷺ کی خدمت میں لایا۔ آپ ﷺ نے (اس کو دیکھ کر) فرمایا: ”یہ آگ کا تمہہ ہے یا آگ کے دو تمہے ہیں۔“ (بخاری)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک شخص جس کا نام ’کر کرہ‘ تھا کسی غزوہ میں رسول خدا ﷺ کی طرف سے سامان و اسباب کا نگران مقرر ہوا، جب اس کا انتقال ہوا تو رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”وہ (کر کرہ) دوزخ میں ہے۔“ چنانچہ لوگوں نے (اس کے سامان کو) دیکھنا شروع کیا تو اس میں ایک کھلی پانی گئی جو اس نے مال غنیمت میں سے خیانت کر کے لے لی تھی۔ (بخاری)

### ابو جہل کی تلوار کس کو ملی؟

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے جنگ بدر کے دن مجھ کو ابو جہل کی تلوار (میرے حصہ میں) ازاندوی۔ اور ابو جہل کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما نے قتل کیا تھا۔ (ابوداؤد)

حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما کمزور تھے، پنڈلیاں کمزور تھیں مگر کام اللہ نے بڑا لیا۔ (ازمؤلف)

### دو درہم سے کم خیانت کرنے والے کی نماز جنازہ آپ ﷺ نے نہیں پڑھائی

حضرت یزید بن خالد رضی اللہ عنہما راوی ہیں کہ رسول خدا ﷺ کے صحابہ میں سے ایک شخص کا خیبر کے دن انتقال ہو گیا، صحابہ نے رسول خدا ﷺ سے اس کا ذکر کیا (یعنی آپ کو بتایا گیا کہ فلاں شخص کا انتقال ہو گیا ہے) آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”تم لوگ اس کے جنازہ کی نماز پڑھ لو (میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا) یہ سن کر لوگوں کا رنگ بدل گیا، تو آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”(میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا کیونکہ) تمہارے (اس) ساتھی نے اللہ کی راہ میں (یعنی مال غنیمت میں) خیانت کا ارتکاب کیا ہے۔“ چنانچہ ہم نے اس کے اسباب کی تلاش لی، تو اس میں ہمیں یہود (کی عورتوں) کے ہیروں میں سے کچھ ہیرے ملے، جو دو درہم کے برابر بھی نہیں تھے (یعنی اسکی قیمت دو درہم سے بھی کم تھی)۔ (مالک ابوداؤد، نسائی)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ جب مال کو جمع کروا کر تقسیم کرنے کا ارادہ فرماتے، تو حضرت بلال کو (اعلان کرنے کا) حکم دیتے۔ چنانچہ وہ لوگوں کے درمیان اعلان کرتے اور (اس اعلان کو سنتے ہی) لوگ اپنی اپنی غنیمت لے آتے، پھر آنحضرت ﷺ (پہلے) خمس یعنی پانچواں حصہ نکالتے اور اس کے بعد اس مال غنیمت کو لوگوں (یعنی مجاہدین) کے درمیان تقسیم فرمادیتے۔

(ایک دفعہ ایسا ہوا کہ) ایک شخص (مال غنیمت میں سے خمس نکالنے اور اس کو مجاہدین کے درمیان تقسیم کرنے کے) ایک دن بعد بالوں کی بنی ہوئی ایک مہار لے کر آیا اور عرض کیا: ”یا رسول اللہ! جو مال غنیمت ہمارے ہاتھ لگا تھا اس میں مہار بھی تھی۔“ آپ نے ارشاد فرمایا: ”بلال نے تین بار جو اعلان کیا تھا اس کو تم نے سنا تھا؟“ اس نے کہا ہاں میں نے سنا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا: ”پھر اس کو (اسی وقت) لانے سے تمہیں کس چیز نے روکا تھا؟“ اس نے کوئی عذر بیان کیا، پھر آپ نے ارشاد فرمایا: ”بس (اب) یوں ہی رہو (اب اس کو اپنے ہی پاس رکھو اب تو) کل قیامت کے دن ہی اس کو لے کر آنا (اور خدا تعالیٰ کو اس تاخیر کا جواب دینا) میں (اب) اس کو تم سے ہرگز نہ لوں گا۔“ (ابوداؤد)

## مال غنیمت میں خیانت کرنے والے کی سزا

حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد (حضرت شعیب) سے اور شعیب اپنے دادا (حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما) سے روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے اور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما نے مال غنیمت میں خیانت کرنے والے کا سامان و اسباب جلا ڈالا اور اس کی پٹائی (بھی) کی۔ (ابوداؤد)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”انبیاء علیہم السلام میں سے ایک نبی (یعنی حضرت یوشع بن نون علیہ السلام) نے جہاد کا ارادہ کیا اور جب وہ جہاد کے لیے روانہ ہونے لگے، تو انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا: میرے ساتھ وہ شخص نہ چلے جس نے کسی عورت سے نکاح کیا ہو اور اس عورت کو اپنے گھر لا کر اس سے صحبت کا ارادہ رکھتا ہو اور ابھی تک اس کو (اپنے گھر) نہ لایا ہو اور میرے ساتھ وہ شخص نہ چلے جس نے گھر بنایا ہو، لیکن (ابھی تک) اس کی چھت نہ ڈال سکا ہو، نیز وہ شخص (بھی) میرے ساتھ نہ چلے جس نے گا بھن بکریاں یا گا بھن اونٹنیاں خریدی ہوں اور وہ ان کے بچے جننے کا منتظر ہو۔“ (اس لیے کہ جہاد میں جائے گا تو اس کا دل بیوی اور مکان میں اور بچوں کے جننے میں اٹکار ہے گا)۔

اس کے بعد وہ نبی (اپنے باقی ساتھیوں کے ساتھ) جہاد کے لیے روانہ ہوئے اور جب اس بستی کے قریب پہنچے جہاں وہ جہاد کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، تو نماز عصر کا وقت ہو چکا تھا۔ اس نبی نے آفتاب کو مخاطب ہو کر فرمایا: ”تو بھی چلنے پر مامور ہے اور میں بھی (اس بستی کو فتح کرنے پر مامور ہوں) اے اللہ! تو اس آفتاب کو ٹھہرا دے۔“ چنانچہ آفتاب ٹھہر گیا، تا آنکہ اللہ تعالیٰ نے ان نبی کو فتح عطا فرمادی۔ پھر جب مال غنیمت جمع کیا گیا اور اس کو جلا ڈالنے کے لیے آگ آئی، تو اس آگ نے مال غنیمت کو نہیں جلایا۔ (یہ دیکھ کر) ان نبی علیہم السلام نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا: ”یقیناً تمہارے اندر مال غنیمت میں خیانت واقع ہوئی ہے۔ (یعنی تم میں سے کسی نے مال غنیمت کے اندر خیانت کی ہے جس کی وجہ سے یہ آگ اپنا کام نہیں کر رہی ہے) لہذا تم میں سے ہر قبیلہ میں سے ہر شخص مجھ سے بیعت ہو۔“ چنانچہ (جب بیعت شروع ہوئی تو) ایک شخص کا ہاتھ اس نبی کے ہاتھ سے چپک کر رہ گیا۔ نبی علیہم السلام نے (اس شخص سے) فرمایا: ”خیانت، تمہارے قبیلہ کی طرف سے ہوئی ہے۔“ پھر اس قبیلہ کے لوگ سونے کا ایک سرائے جو نیکل کے سر کے مانند تھا اور اس کو رکھ دیا، اس کے بعد آگ آئی اور اس نے اس کو جلادیا۔

اور ایک روایت میں راوی نے یہ عبارت بھی نقل کی ہے (کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا) ”کہ ہم سے پہلے کسی کے لیے مال غنیمت حلال نہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کو ہمارے لیے حلال کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں (مالی طور پر) ضعیف و کمزور دیکھا تو مال غنیمت کو ہمارے لیے حلال کر دیا۔“

## حضرت عمر بن عبدالعزیز کا عدل و انصاف

حضرت مغیرہ بن مقسم فرماتے ہیں: جب حضرت عمر بن عبدالعزیز بن مروان بن حکم خلیفہ بنائے گئے، تو انہوں نے مروان کے بیٹوں کو جمع کیا اور ارشاد فرمایا: ”رسول خدا ﷺ فدک (کی زمین و جائیداد) پر اپنا ذاتی حق رکھتے تھے۔ جس کے محاصل (آمدنی و پیداوار) کو آپ ﷺ (اپنے اہل و عیال اور فقراء و مساکین پر) خرچ کرتے تھے۔ اسی میں سے بنو ہاشم کے چھوٹے بچوں پر اور نادار مرد و عورت کی شادی میں خرچ کرتے تھے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے اور غیر شادی شدہ عورتوں اور مردوں کی شادی کرتے تھے۔“





آنکھوں کے درمیان لکھی ہوئی ہے۔ پھر ان کی نظر ایک ایسے انسان پر پڑی جو سب سے زیادہ روشن تھا یا روشن ترین لوگوں میں سے تھا، حضرت آدم علیہ السلام نے (اس انسان کو دیکھ کر) پوچھا: میرے پروردگار! یہ کون ہے؟ پروردگار نے فرمایا: یہ تمہارا بیٹا داؤد ہے اور میں نے اس کی عمر چالیس سال لکھی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا: پروردگار! اس کی عمر کچھ اور بڑھا دیجئے۔ پروردگار نے فرمایا: ”یہ وہ چیز ہے جس کو میں اس کے حق کے ساتھ لکھ چکا ہوں۔“ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا: پروردگار! (اگر اس کی عمر لکھی جا چکی ہے تو) میں اپنی عمر کے ساتھ سال اس کو دیتا ہوں۔ پروردگار نے فرمایا: ”تم جانو اور تمہارا کام جانے“ (یعنی اس معاملہ میں تم خود مختار ہو)۔

رسول خدا ﷺ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہے جب تک اللہ - جابا، پھر ان کو جنت سے (زمین پر) اتارا گیا اور حضرت آدم علیہ السلام برابر اپنی عمر کے سال گنتے تھے۔ (جب ان کی عمر نو سو چالیس سال کی ہوئی تو) موت کا فرشتہ (روح قبض کرنے کے لیے) ان کے پاس آیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان سے کہا: تم نے جلدی کی، میری عمر تو ایک ہزار سال مقرر کی گئی ہے۔ فرشتے نے کہا: (یہ صحیح ہے) لیکن آپ نے اپنی عمر کے ساتھ سال اپنے بیٹے داؤد علیہ السلام کو دے دیئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس سے انکار کیا اس لیے ان کی اولاد بھی انکار کرتی ہے۔ نیز حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے اس لیے ان کی اولاد بھی بھولتی ہے۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: اس دن سے لکھنے اور گواہ بنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ (ترمذی)

### اپنے ماتحتوں کی تربیت کی خاطر اجازت طلب نہ کرنے پر تشبیہ

حضرت کلدہ بن صہیل رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ صفوان بن امیہ نے (میرے ہاتھ) رسول خدا ﷺ کے لیے دودھ، ہرن کا بچہ اور گلڑیاں بھیجیں اور اس وقت رسول خدا ﷺ مکہ کے بالائی کنارہ پر (جس کو معلیٰ کہتے ہیں) قیام پذیر تھے۔ کلدہ کہتے ہیں کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا (اور داخل ہونے سے پہلے) نہ میں نے سلام کیا، نہ اجازت مانگی۔ چنانچہ آنحضرت ﷺ نے مجھ سے فرمایا: واپس جاؤ (یعنی یہاں سے نکل کر روزانہ پر جاؤ) اور وہاں کھڑے ہو کر کہو السلام علیکم، کیا اندر آ سکتا ہوں؟ (ترمذی، ابوداؤد)

### لوگ کہتے ہیں: کہہ کر بات چلتی ہے مرد کی بری سواری ہے

حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے حضرت ابو عبد اللہ سے یا حضرت ابو عبد اللہ رضی اللہ عنہما نے حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا: کہ آپ نے رسول خدا ﷺ سے ﴿زَعَمُوا﴾ (لوگ کہتے ہیں) کے بارے میں کیا فرماتے ہوئے سنا ہے؟ انہوں نے جواب دیا: میں نے رسول خدا ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے، کہ (یہ لفظ) مرد کی بری سواری ہے۔ (کیونکہ لوگ کہتے ہیں یہ بول اکثر و بیشتر انسان جھوٹی بات میں بیان کرتا ہے)۔ (ابوداؤد)

### تقریر میں بے فائدہ مبالغہ آرائی کرنے والے کا نہ فرض قبول ہے نہ نفل قبول

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص طرح طرح سے بات کرنے کا سلیقہ سیکھے تاکہ اس کے ذریعہ لوگوں کے دلوں پر قابو پالے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ اس کی نفل عبادت قبول کرے نہ فرض۔“ (ابوداؤد)

### زبان کی خوب حفاظت کریں

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص کسی کو ”کافر“ کہہ کر پکارے یا کسی کو ”خدا کا دشمن“ کہے اور

وہ درحقیقت ایسا نہ ہو، تو اس کا کہا ہوا خود اس پر لوٹ جاتا ہے (یعنی کہنے والا خود کا فریاد کا دشمن ہو جاتا ہے)۔“ (بخاری، مسلم)

### آگ کی دوزبانوں سے بچیں

حضرت عمار رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص دنیا میں دوزخا ہوگا، قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی دوزبانیں ہوں گی۔“ (داری)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”قیامت کے دن سب سے بدتر شخص وہ ہوگا جو (فتنہ انگیزی کی خاطر) دوزخ رکھتا ہے، ایک جماعت کے پاس جاتا ہے تو کچھ کہتا ہے اور دوسری جماعت کے پاس جاتا ہے تو کچھ اور کہتا ہے۔“ (بخاری، مسلم)

### افسوس ہے تم پر! تم نے اپنے بھائی کی گردن کاٹ دی

حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”جب تم تعریف کرنے والوں کو دیکھو، تو ان کے منہ میں خاک ڈال دو (یعنی ان کا منہ بند کر دو اور تعریف کرنے سے روکو)۔“ (مسلم)

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ (ایک دن) نبی کریم ﷺ کے سامنے ایک شخص نے ایک آدمی کی (مبالغہ آمیزی کے ساتھ تعریف کی اور جس کی وہ تعریف کر رہا تھا وہ وہاں موجود تھا) چنانچہ آنحضرت ﷺ نے (تعریف کرنے والے سے) فرمایا: ”افسوس ہے تم پر تم نے اپنے بھائی کی گردن کاٹ دی۔“ آپ نے یہ الفاظ تمین بار دہرائے (پھر فرمایا) ”اگر تم میں سے کوئی شخص کسی کی تعریف کرنا ضروری سمجھے، تو یوں کہے: میں فلاں شخص کے بارے میں یہ گمان رکھتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے اور وہی اس کے اعمال کا حساب لینے والا ہے، اگر تعریف کرنے والا یہ گمان رکھتا ہے کہ اس نے جس شخص کی تعریف کی وہ واقعہً ایسا ہی ہے اور اللہ پر (لازم کر کے) کسی کی تعریف نہ کرے (یعنی پورے وثوق کے ساتھ کسی کی تعریف نہ کرے ورنہ اللہ پر حکم کرنا لازم آئے گا)۔“ (بخاری و مسلم)

### دو چیزیں جنت میں اور دو چیزیں دوزخ میں پہنچاتی ہیں

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”جانتے ہو لوگوں کو عام طور پر کون سی چیز جنت میں داخل کرتی ہے؟“ وہ تقویٰ (یعنی اللہ سے ڈرنا) اور اچھا خلق ہے اور جانتے ہو لوگوں کو عام طور پر کون سی چیز دوزخ میں لے جاتی ہے؟ وہ دو کھوکھلی چیزیں ہیں یعنی منہ اور شرمگاہ۔“ (ترمذی، ابن ماجہ)

### افسوس ہے اس شخص پر! افسوس ہے اس شخص پر!

بہز بن حکیم اپنے والد (حکیم بن معاویہ) سے اور حکیم، بہز کے دادا (حضرت معاویہ بن حیدہ) سے روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”افسوس ہے اس شخص پر جو بات کرے تو جھوٹ بولے تاکہ اس کے ذریعہ سے لوگوں کو ہنسائے، افسوس ہے اس شخص پر! افسوس ہے اس شخص پر!“ (احمد، ترمذی، ابو داؤد، داری)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”بیشک بندہ ایک بات کہتا ہے اور صرف اس لیے کہتا ہے کہ اس کے ذریعہ لوگوں کو ہنسائے، تو وہ اس بات کی وجہ سے زمین اور آسمان کے درمیان جھٹی دوری ہے اس سے زیادہ دور (دوزخ میں) جا گرتا

ہے اور بلاشبہ بندے کی زبان اس کے قدموں سے زیادہ پھسلتی ہے۔“ (بیہقی)

جو شخص کسی ایسی چیز پر لعنت کرے جو لعنت کے قابل نہ ہو، تو وہ لعنت اسی پر لوٹ آتی ہے۔

حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا: کہ جب کوئی بندہ کسی چیز (یعنی کسی انسان یا غیر انسان) پر لعنت کرتا ہے، تو وہ لعنت آسمان کی طرف جاتی ہے، تو آسمان کے دروازے اس لعنت پر بند کر دیئے جاتے ہیں، پھر زمین کی طرف اترتی ہے، تو اس لعنت پر زمین کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں، پھر وہ لعنت دائیں بائیں طرف جاتی ہے (مگر ادھر سے بھی دھتکاروی جاتی ہے) چنانچہ جب وہ کسی طرف بھی راستہ نہیں پاتی تو اس چیز کی طرف متوجہ ہوتی ہے جس چیز پر لعنت کی گئی ہے اگر وہ چیز اس لعنت کی اہل و سزاوار ہوتی ہے تو اس پر واقع ہو جاتی ہے، ورنہ اپنے کہنے والے کی طرف لوٹ جاتی ہے۔“ (ابوداؤد)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ (ایک دن) ایک شخص کی چادر ہوا میں اڑ گئی، تو اس نے ہوا کو لعنت کی۔ اس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ہوا کو لعنت نہ کرو کیونکہ وہ تو حکم کے تابع ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جو شخص کسی ایسی چیز پر لعنت کرے جو لعنت کے قابل نہ ہو، تو وہ لعنت اسی پر لوٹ آتی ہے۔“ (ترمذی، ابوداؤد)

اپنے ذمہ دار کے سامنے کسی ساتھی کی شکایت نہ کریں

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”میرے صحابہ میں سے کوئی شخص کسی کے بارے میں مجھ تک کوئی (ایسی) بات نہ پہنچائے جس سے اس کی برائی ظاہر ہوتی ہو (یعنی میرے پاس آ کر کسی کے بارے میں یہ نہ کہے کہ فلاں آدمی نے یہ برا کام کیا یا یہ بری بات کہی ہے یا وہ اس بری عادت میں مبتلا ہے) کیونکہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں جب (گھر سے) نکل کر تمہارے پاس آؤں، تو میرا سینہ صاف ہو (یعنی میرے دل میں تم میں سے کسی کی طرف سے ناراضگی، غمہ اور بغض نہ ہو)۔“ (ابوداؤد)

غیبت دریا کو بھی خراب کر دیتی ہے

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ (ایک دن) میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ بیٹھی کہ صفیہ کے تئیں بس آپ کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ ایسی ایسی ہیں (یعنی پستہ قد ہیں) رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے (میری یہ بات سن کر ناگواری کے ساتھ) فرمایا: ”تم نے اپنی زبان سے ایسی بات نکالی ہے، کہ اس کو دریا میں ملایا جائے، تو بلاشبہ یہ بات دریا پر غالب آ جائے۔“ (احمد، ترمذی، ابوداؤد)

کسی کو گناہ پر عار نہ دلانے

حضرت خالد بن معدان، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو شخص اپنے (مسلمان) بھائی کو کسی گناہ پر عار دلانا ہے (یعنی ایسے گناہ پر سرزنش کرتا ہے جس سے اس نے توبہ کر لی ہے) تو وہ عار دلانے والا مرنے سے پہلے اس گناہ میں (کسی نہ کسی طرح ضرور) مبتلا ہوتا ہے۔“ (ترمذی)

کسی کی تکلیف پر خوشی کا اظہار نہ کریں

حضرت داؤد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اپنے مسلمان بھائی کی تکلیف پر خوشی مت ظاہر کرو، ہو سکتا ہے (تمہاری بے جا خوشی سے ناراض ہو کر) اللہ تعالیٰ اس پر رحمت نازل کر دے (یعنی اس کو مصیبت و آفت سے نجات دے دے) اور تمہیں

## فاسق کی تعریف سے عرش بھی کانپ اٹھتا ہے

حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: "جب فاسق کی تعریف کی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ (تعریف کرنے والے پر) غصہ ہوتا ہے اور اس کی تعریف کی وجہ سے عرش الہی کانپ اٹھتا ہے۔" (بیہقی)

## حضرت محمد ﷺ نے سات بکھرے موتی ابوذر رضی اللہ عنہ کو دیے

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ (ایک دن) میں رسول خدا ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کے بعد (خود ابوذر رضی اللہ عنہ نے یا حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے نقل کرنے والے راوی نے) طویل حدیث بیان کی (جو یہاں نقل نہیں کی گئی ہے بلکہ اس کے یہ آخری جملے نقل کیے گئے ہیں) پھر حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: موتی نمبر ۱: "میں تم و اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں کیونکہ تقویٰ تمہارے تمام (دینی و دنیاوی) امور و اعمال کو بہت زیادہ زینت و آرائش بخشنے والا ہے۔"

موتی نمبر ۲: میں نے عرض کیا: مجھے کچھ اور (نصیحت) فرمائیے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: "تلاوت قرآن اور ذکر اللہ کو اپنے لیے ضروری سمجھو، کیونکہ (تلاوت قرآن اور ذکر اللہ) تمہارے لیے آسمان میں ذکر کا سبب ہوگا اور زمین پر نور کا سبب ہوگا۔"

موتی نمبر ۳: میں نے عرض کیا: میرے لیے کچھ اور (نصیحت) فرمائیے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: "طویل خاموشی کو اپنے اوپر لازم کرلو، کیونکہ خاموشی شیطان کو دور بھگاتی ہے اور دینی امور میں تمہاری مددگار ہوتی ہے۔"

موتی نمبر ۴: میں نے عرض کیا: میرے لیے کچھ اور (نصیحت) فرمائیے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: "بہت زیادہ ہنسنے سے پرہیز کرو، کیونکہ زیادہ ہنساناں کو مردہ کرتا ہے اور چہرے کی رونق کھودیتا ہے۔"

موتی نمبر ۵: میں نے عرض کیا: میرے لیے کچھ اور (نصیحت) فرمائیے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: "سچی بات کہو، اگرچہ کڑوی ہو۔"

موتی نمبر ۶: میں نے عرض کیا: میرے لیے کچھ اور (نصیحت) فرمائیے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: "خدا کے دین اور خدا کے پیغام کو ظاہر کرنے اور اس کی تائید و تقویت میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرو۔"

موتی نمبر ۷: میں نے عرض کیا: میرے لیے کچھ اور (نصیحت) فرمائیے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: "وہ چیز تمہیں لوگوں کے عیوب (ظاہر کرنے) سے روکے، جس کو تم اپنے بارے میں جانتے ہو (یعنی جب تمہیں کسی کے عیب کا خیال آئے تو فوراً اپنے عیوب کی طرف دیکھو اور سوچو کہ خود میری ذات میں عیب ہیں، دوسرے کے عیوب بیان کرنے سے کیا فائدہ؟)" (بیہقی)

## غیبت کا کچھ کفارہ ادا کر دیجیے

حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: "غیبت کا کچھ کفارہ یہ ہے کہ تم اس شخص کے لیے مغفرت و بخشش کی دعا مانگو، جس کی تم نے غیبت کی ہے اور اس طرح مانگو

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِفُلَانٍ

"اے اللہ! ہم کو اور اس شخص کو (جس کی میں نے غیبت کی ہے) بخش دے۔" (بیہقی)

## وعدہ کے پاس دلچاظ کا نادر ترین واقعہ

حضرت عبداللہ بن ابی حمساء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: نبی کریم ﷺ کے نبی ہونے سے پہلے (ایک مرتبہ) میں نے آپ ﷺ سے ایک چیز خریدی اور کچھ قیمت کی ادائیگی مجھ پر باقی رہ گئی، میں نے آپ سے وعدہ کیا کہ میں بقیہ قیمت لے کر اسی جگہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ لیکن میں اس وعدہ کو بھول گیا اور تین دن کے بعد یہ بات یاد آئی (تو آپ رسول خدا ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا) تو کیا دیکھتا ہوں کہ آپ ﷺ اسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے اور (مجھے دیکھ کر) فرمایا: کہ تم نے مجھے زحمت میں مبتلا کر دیا، میں تین دن سے اسی جگہ بیٹھا ہوا تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ (ابوداؤد)

## حسن معاشرہ کی مثال

حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ (ایک دن) حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے دروازے پر کھڑے ہو کر آپ ﷺ سے اجازت طلب کی۔ جیسی انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی آواز سنی، جو زور زور سے بول رہی تھیں۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ جب گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو طمانچہ مارنے کے ارادہ سے پکڑا اور کہا: (خبر دار! آئندہ) میں تمہیں رسول خدا ﷺ کی آواز سے اونچی آواز میں بولتے ہوئے نہ دیکھوں۔ ادھر نبی کریم ﷺ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو مارنے سے روکنا شروع کیا۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ غصہ کی حالت میں باہر نکل کر چلے گئے۔

نبی کریم ﷺ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے چلے جانے کے بعد (حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے) فرمایا: ”تم نے دیکھا میں نے تمہیں اس آدمی یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے کس طرح بچا لیا۔“ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں: (اس کے بعد) حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ (مجھ پر خفگی کی بناء پر آیا آنحضرت ﷺ سے شرمندگی کی وجہ سے) کئی دن تک آنحضرت ﷺ کی خدمت میں نہیں آئے، پھر (ایک دن) انہوں نے دروازے پر حاضر ہو کر (اندر آنے کی) اجازت مانگی (اور اندر آئے تو) دیکھا کہ دونوں (یعنی آنحضرت ﷺ اور عائشہ رضی اللہ عنہا) صلح کی حالت میں ہیں۔ پس انہوں نے دونوں کو مخاطب کر کے کہا: تم دونوں مجھ کو اپنی صلح میں شریک کر لو، جس طرح تم نے مجھ کو اپنی لڑائی میں شریک کیا تھا۔ آنحضرت ﷺ نے (یہ سن کر) فرمایا: ”بیشک ہم نے ایسا ہی کیا، بیشک ہم نے ایسا ہی کیا (یعنی تمہیں اپنی صلح میں شریک کر لیا)۔“ (ابوداؤد)

## ماں باپ کے حقوق ادا کرنے کی فضیلت

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”جس شخص نے اس حالت میں صبح کی کہ وہ ماں باپ کے حق میں اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرنے والا ہے (یعنی اس نے ماں باپ کے حقوق ادا کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کی ہے) تو وہ اس حال میں صبح کرتا ہے کہ اس کے لیے جنت کے دو دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ اور اگر اس کے ماں باپ میں سے کوئی ایک (زندہ) ہو (اور اس نے اس کی اطاعت و فرمانبرداری کی ہے) تو ایک دروازہ کھلا ہوتا ہے۔ اور جس شخص نے اس حالت میں صبح کی کہ وہ ماں باپ کے حق میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا ہے (یعنی اس نے ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی ہے) تو وہ اس حال میں صبح کرتا ہے کہ اس کے لیے دو دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ اور اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک (زندہ) ہو (اور اس نے اس کی نافرمانی کی ہے) تو ایک دروازہ کھلا ہوتا ہے۔“ (یہ ارشاد سن کر) ایک شخص نے عرض کیا: اگرچہ ماں باپ

اس پر ظلم کریں؟ آپ نے فرمایا: ”ہاں اگرچہ ماں باپ اس پر ظلم ہی کیوں نہ کریں، اگرچہ ماں باپ اس پر ظلم ہی کیوں نہ کریں، اگرچہ ماں باپ اس پر ظلم ہی کیوں نہ کریں۔“ (بیہقی)

### مسلمان بھائی کے حقوق

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا دینی بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اس کو دشمن کے حوالہ کرتا ہے (بلکہ دشمن کے مقابلہ پر اس کی مدد کرتا ہے) اور (یاد رکھو) جو شخص کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کی سعی و کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی کرتا ہے۔ نیز جو شخص کسی مسلمان بھائی کے غم اور تکلیف کو دور کرتا ہے (خواہ وہ غم اور تکلیف زیادہ ہو یا کم) تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے غموں میں سے ایک بڑے غم سے نجات دے گا۔ اور جو شخص کسی مسلمان بھائی کے عیب کو چھپاتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب چھپائے گا۔“ (بخاری، مسلم)

### جنتی اور جہنمی آدمی

حضرت عیاض بن ہمار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا:

جنتی تین طرح کے ہیں:

- ① ایک تو وہ حاکم جو عدل و انصاف کرنے والا اور لوگوں کے ساتھ احسان کرنے والا ہے اور جس کو نیکیوں اور بھلائیوں کی توفیق دی گئی ہے۔
- ② دوسرا وہ شخص جو (چھوٹوں اور بڑوں پر) مہربان اور قربت داروں اور مسلمانوں کے لیے رقیق القلب یعنی نرم دل ہے۔
- ③ اور تیسرا وہ شخص جو (نا جائز چیزوں سے) بچنے والا (کسی کے آگے دست سوال دراز کرنے سے) پرہیز کرنے والا اور عیال دار (بال بچوں والا) ہے (یعنی محتاج ہونے کے باوجود نا جائز چیزوں سے بچتا ہے اور اللہ کے سوا کسی کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرتا)۔

اور دوزخی پانچ طرح کے ہیں:

- ① ایک وہ کمزور آدمی جو گناہوں سے بچنے کی ہمت نہیں رکھتا اور تمہارا تابع اور طفیلی ہے، نہ بیوی تلاش کرتا ہے (تاکہ جائز طریقہ پر اپنی خواہش کو پورا کرے) نہ مال کمانے کی فکر کرتا ہے (بلکہ دوسروں کے ٹکڑوں پر زندگی بسر کرتا ہے اور غلط کام کرتا رہتا ہے)۔
- ② دوسرا وہ خائن و بددیانت آدمی جو پوشیدہ چیز کو ڈھونڈ نکالتا ہے اور اس میں خیانت کرتا ہے چاہے طمع کی چیز معمولی کیوں نہ ہو۔
- ③ تیسرا وہ آدمی جو صبح و شام تمہیں تمہارے اہل خانہ اور مال میں دھوکہ دینے کے چکر میں رہتا ہے۔
- ④ اور (جو تھے) آدمی کے بارے میں راوی کو اچھی طرح یاد نہ رہا کہ آپ نے اس کا کس طرح تذکرہ کیا اس لیے راوی کہتا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے بخل یا جھوٹ کا تذکرہ کیا۔
- ⑤ اور پانچواں آدمی بد اخلاق فحش گو ہے۔ (مسلم)

تین دفعہ آپ ﷺ نے قسم کھائی ہے پڑوسیوں کو ایذا پہنچانے والا کامل مؤمن نہیں

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”قسم ہے خدا کی! وہ شخص (کامل) مؤمن نہیں ہے، قسم ہے خدا کی! وہ شخص

(کامل) مؤمن نہیں ہے، قسم ہے خدا کی! وہ شخص (کامل) مؤمن نہیں ہے۔“ (جب آپ نے بار بار یہ الفاظ ارشاد فرمائے اور اس شخص کی وضاحت نہیں کی تو) صحابہ نے پوچھا: یا رسول اللہ! وہ کون شخص ہے؟ حضور ﷺ نے فرمایا: ”وہ شخص جس کے پڑوسی اس کی برائیوں سے محفوظ و مامون نہ ہوں۔“ (بخاری و مسلم)

### جنت میں نبی ﷺ کے پڑوس میں رہنے کا نبوی نسخہ

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص محض خدا کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کسی یتیم بچے (لڑکے یا لڑکی) کے سر پر (پیار و محبت اور شفقت کے ساتھ) ہاتھ پھیرتا ہے اس کے لیے ہر بال کے عوض میں جس پر اس کا ہاتھ لگا ہے، نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ نیز جو شخص اس یتیم لڑکے یا لڑکی کے ساتھ جو اس کی پرورش و تربیت میں ہو، اچھا سلوک کرتا ہے، وہ شخص اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے۔ یہ کہہ کر آپ ﷺ نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملایا (یعنی انگشت شہادت اور بیچ کی انگلی کو ملا کر دکھایا کہ جس طرح یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں اسی طرح میں اور وہ شخص جنت میں ایک دوسرے کے قریب ہوں گے)۔“

(احمد، ترمذی)

### جنت واجب کرنے والے کام

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: جو شخص اپنے کھانے پینے میں کسی یتیم کو شریک کرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ بلاشبہ جنت واجب کر دیتا ہے، البتہ وہ کوئی ایسا گناہ کرے جو بخشے جانے کے قابل نہ ہو (تو اس کے لیے جنت واجب نہیں ہوتی)۔ اور جو شخص تین بیٹیوں یا تین بہنوں کی پرورش کرے پھر ان کی تربیت کرے اور ان کے ساتھ پیار و شفقت کا برتاؤ کرے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو بے پروا بنا دے (یعنی وہ بڑی ہو جائیں اور بیاہ دی جائیں) اس پر بھی اللہ تعالیٰ جنت واجب کر دیتا ہے۔ یہ سن کر ایک صحابی نے عرض کیا: کیا دو بیٹیوں یا دو بہنوں کی پرورش کرنے پر بھی یہ اجر ملتا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”ہاں دو پر بھی یہ اجر ملتا ہے۔“ (راوی کہتے ہیں) اگر صحابہ ایک بیٹی یا ایک بہن کے بارے میں بھی سوال کرتے، تو آپ بھی جواب دیتے کہ ہاں ایک پر بھی یہی اجر ملتا ہے۔ پھر حضور ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ جس شخص کی دو پیاری چیزیں لے لے، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔“ پوچھا گیا: یا رسول اللہ! دو پیاری چیزوں سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا: ”اس کی دونوں آنکھیں۔“

### بیوہ عورت بچوں کی تربیت پر دھیان دے

حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”میں اور وہ عورت جس کے رخسار (اپنی اولاد کی پرورش و دیکھ بھال کی وجہ سے) سیاہ پڑ گئے ہوں، قیامت کے دن اس طرح ہوں گے۔“ اس حدیث کے راوی یزید بن زریع نے یہ الفاظ بیان کرنے کے بعد انگشت شہادت اور بیچ کی انگلی سے اشارہ کیا (جس طرح یہ دونوں انگلیاں ایک دوسری کے قریب قریب ہیں، اسی طرح قیامت کے دن آپ ﷺ اور وہ بیوہ عورت قریب قریب ہوں گے) اور (سیاہ رخسار والی عورت کی تشریح کرتے ہوئے بتایا: کہ اس سے مراد وہ عورت ہے، جو اپنے شوہر کے مرجانے یا اس کے طلاق دے دینے کی وجہ سے بیوہ ہو گئی ہو اور وہ حسین و جمیل اور جاہ و عزت والی ہونے کے باوجود محض اپنے یتیم بچوں کی پرورش اور ان کی بھلائی کی خاطر (دوسرا نکاح کرنے سے) اپنے آپ کو باز رکھے یہاں تک کہ وہ بچے جدا ہو جائیں (یعنی بڑے اور بالغ ہو جانے کی وجہ سے اپنی ماں کے محتاج نہ رہیں) یا مرجائیں۔ (ابوداؤد)



## پڑوسی اچھا کہیں تو آپ اچھے، پڑوسی برا کہیں تو آپ برے

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی ﷺ سے عرض کیا: یا رسول اللہ! میں کس طرح معلوم کر سکتا ہوں کہ میں اچھا ہوں یا برا؟ حضرت ﷺ نے فرمایا: ”جب تم اپنے پڑوسیوں کو یہ کہتے سناؤ کہ تم نے اچھا کیا تو بلاشبہ تم اچھے ہو۔ اور جب تم پڑوسیوں کو یہ کہتے سناؤ کہ تم نے برا کیا تو یقیناً تم برے ہو (یعنی پڑوسی تمہیں اچھا کہیں، تو تم اچھے ہو اور پڑوسی تمہیں برا کہیں، تو تم برے ہو)۔“ (ابن ماجہ)

## ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے کی فضیلت

حضرت انس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص نہایت پریشان حال کی مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہتر (۷۳) بخششیں لکھ دیتا ہے۔ ان میں سے صرف ایک بخشش سے اس کی تمام (دنیائی اور اخروی) امور کی اصلاح ہو جاتی ہے اور باقی بہتر (۷۲) بخششیں قیامت کے دن اس کے درجات کی بلندی کا سبب ہوں گی۔“ (بیہقی)

## ستر ہزار فرشتوں کو اپنے پیچھے چلانے کا نبوی نسخہ

حضرت ابو زینب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے ان سے فرمایا: ”میں تمہیں اس امر کی (یعنی دین کی) جڑ نہ بتا دوں، جس کے ذریعہ تم دنیا و آخرت کی بھلائی حاصل کر سکو؟ (پھر آپ نے فرمایا):

- ① اہل ذکر کی مجالس میں ضرور بیٹھا کرو (تا کہ تمہیں بھی ذکر اللہ کی توفیق و سعادت نصیب ہو)۔
- ② اور جب تم تنہا ہو، تو جس قدر ممکن ہو اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو حرکت میں رکھو (یعنی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر بھی اللہ کا ذکر کرو اور تنہائی میں خدا کی یاد میں مشغول رہو)۔

③ نیز اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے محبت کرو۔ ④ اور اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے بغض رکھو۔

(اس کے بعد آپ نے یہ بھی فرمایا) ابو زینب! کیا تمہیں معلوم ہے کہ جب کوئی شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی زیارت و ملاقات کے ارادہ سے گھر سے نکلتا ہے، تو ستر (۷۰) ہزار فرشتے اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں اور وہ (سب فرشتے) اس کے لیے دعاء و استغفار کرتے ہیں اور کہتے ہیں: اے ہمارے پروردگار! اس شخص نے محض تیری رضا و خوشنودی کی خاطر (ایک مسلمان بھائی سے) ملاقات کی ہے، تو اس کو اپنی رحمت و مغفرت کے ساتھ منسلک فرما۔ لہذا اگر تم ان کاموں کو کر سکتے ہو تو ضرور کرو۔ (بیہقی)

## سات بری خصلتیں معاشرہ کو بگاڑ دیتی ہیں

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا:

- ① (کسی کے بارے میں) بدگمانی قائم کرنے سے اجتناب کرو، کیونکہ یہ بدترین جھوٹ ہے۔
- ② کسی کے احوال کی ٹوہ میں نہ رہو۔
- ③ نہ کسی کے احوال کی کھود کرید کرو۔
- ④ نہ کسی کے سودے پر خریدنے کا اظہار کرو۔
- ⑤ نہ ایک دوسرے سے حسد کرو۔
- ⑥ نہ ایک دوسرے سے بغض رکھو۔
- ⑦ نہ ایک دوسرے کی غیبت کرو اور تم سب خدا کے بندے اور ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن کر رہو۔ (بخاری و مسلم)

## کینہ نہ رکھئے، صلح و صفائی کر لیجئے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ پھر ہر اس بندے کی بخشش کی جاتی ہے، جو خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا ہو۔ مگر جو شخص اپنے مسلمان بھائی سے کینہ اور دشمنی رکھتا ہو، ان کے بارے میں فرشتوں سے کہا جاتا ہے: ان دونوں کو (جو آپس میں عداوت و دشمنی رکھتے ہیں) مہلت دو، یہاں تک کہ وہ آپس میں صلح و صفائی کر لیں۔“ (مسلم)

## ہر پیر اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”ہر ہفتہ میں دو بار پیر اور جمعرات کے دن پروردگار کے حضور لوگوں کے عمل پیش کئے جاتے ہیں، پھر ہر مومن بندہ کی مغفرت کی جاتی ہے۔ مگر جو بندہ اپنے مسلمان بھائی سے کینہ اور دشمنی رکھتا ہے، ان کے بارے میں فرشتوں سے کہا جاتا ہے: ان دونوں کو چھوڑ دو، یہاں تک کہ وہ (دونوں عداوت و دشمنی سے) باز آجائیں۔“ (مسلم)

طویل مدت تک ترک ملاقات کا گناہ اور

ناحق قتل کرنے کا گناہ قریب قریب ہے

حضرت خراش ابو سلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول خدا ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ”جس شخص نے (ناراضگی کی وجہ سے) اپنے مسلمان بھائی سے ایک سال تک ملنا جلنا چھوڑے رکھا، اس نے گویا اس کا خون کیا (یعنی طویل مدت تک ترک ملاقات کا گناہ اور ناحق قتل کرنے کا گناہ قریب قریب ہے)۔“ (ابوداؤد)

## صلح کرانے کی فضیلت اور فساد پھیلانے کی مذمت

حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ (ایک دن) رسول خدا ﷺ نے فرمایا: کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتا دوں، جس کا درجہ (اور ثواب) (نظلی) روزے، (نظلی) صدقے اور (نظلی) نماز کے درجے (اور ثواب) سے زیادہ ہے؟ ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا: ہاں، ضرور بتائیے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”آپس میں دشمنی رکھنے والوں کے درمیان صلح کرانا (اس کے بعد فرمایا) اور آپس میں فساد پھیلانا ایسی خصلت ہے، جو دین کو موٹنے والی اور برباد کرنے والی ہے۔“ (ترمذی، ابوداؤد)

## اس امت کی طرف یہود و نصاریٰ کی ایک بیماری سرک آئی ہے

حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”تمہاری طرف تم۔ پہلی امتوں (یعنی یہود و نصاریٰ) کی بیماری حسد اور جلن سرک آئی اور بغض و عداوت موٹنے والی ہے۔ میں نہیں کہتا کہ یہ بالوں کو موٹتی ہے، بلکہ دین کو موٹتی ہے اور برباد کر دیتی ہے۔“ (احمد، ترمذی)

جب کسی مومن سے حیا کو چھین لیا جاتا ہے تو ایمان بھی رخصت ہو جاتا ہے

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: حیا اور ایمان ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ لہذا جب ان

دنوں میں سے ایک کو اٹھایا جاتا ہے، تو دوسرے کو بھی اٹھایا جاتا ہے (یعنی جب کسی مومن سے حیا کو چھین لیا جاتا ہے، تو ایمان بھی رخصت ہو جاتا ہے)۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں یوں ہے کہ ”جب ان دنوں میں سے ایک کو چھین لیا جاتا ہے، تو دوسرا اس کے پیچھے چل دیتا ہے۔“ (بیہقی)

### تین چیزیں قابل توجہ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ (ایک دن) نبی کریم ﷺ تشریف فرماتے تھے کہ ایک شخص نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہا شروع کر دیا۔ حضور ﷺ (اسکی باتیں سن کر) تعجب فرماتے تھے اور سکر اتے تھے۔ جب اس شخص نے (حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو) بہت برا بھلا کہا، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس کی بعض باتوں کا جواب دیا۔ اس پر نبی کریم ﷺ تاراض ہوئے اور وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضور ﷺ کے پیچھے پیچھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی گئے اور خدمت اللہ میں حاضر ہو کر عرض کیا: یا رسول اللہ! جب وہ شخص مجھ کو برا بھلا کہہ رہا تھا تو آپ وہاں بیٹھے رہے، لیکن میں نے جب اس کی بعض باتوں کا جواب دیا، تو آپ ناراض ہو گئے اور وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے (اس میں کیا حکمت تھی)؟ حضور ﷺ نے فرمایا: تمہارے ساتھ ایک فرشتہ تھا، جو (تمہاری طرف سے) اس کو جواب دے رہا تھا مگر جب تم نے خود جواب دیا، تو شیطان درمیان میں کود پڑا (اس لیے میں وہاں سے کھڑا ہو گیا)۔

پھر فرمایا: ”ابو بکر! تین باتیں ہیں اور وہ سب حق ہیں:

- ① جس بندہ پر کوئی ظلم کیا جاتا ہے، پھر وہ مظلوم بندہ اللہ (کی رضا) کے لیے اس ظلم سے چشم پوشی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس (ظلم سے چشم پوشی) کی وجہ سے اس کی بھرپور مدد کرتا ہے۔
- ② جو بندہ عطا و بخشش کا دروازہ کھولتا ہے، تاکہ اسکے ذریعہ اپنے قرابت داروں اور مسکینوں کے ساتھ احسان اور نیک سلوک کرے، تو اللہ تعالیٰ اس (عطا و بخشش) کی وجہ سے اس کے مال و دولت میں اضافہ کرتا ہے۔
- ③ اور جو شخص سوال و گدائی کا دروازہ کھولتا ہے، تاکہ اس کے ذریعہ سے اپنی دولت کو بڑھائے، تو اللہ تعالیٰ اس (گدائی کی وجہ) سے اس کے مال و دولت کو کم کر دیتا ہے۔“ (احمد)

### حق بات کو ٹھکرانا اور لوگوں کو حقیر و ذلیل سمجھنا یہ تکبر ہے

حضرت حارث بن وہب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: کیا میں تمہیں جنتی لوگ نہ بتا دوں؟ (یعنی یہ بتاؤں کہ کون لوگ جنتی ہیں، سنو!) ہر وہ ضعیف شخص (جنتی ہے) جس کو لوگ ضعیف و حقیر سمجھیں (اور اس کی کمزوری و شکستہ حالی کی وجہ سے اس کے ساتھ جبر و تکبر کا معاملہ کریں۔ مگر وہ کمزور شخص اللہ کے نزدیک اس قدر اونچا مرتبہ رکھتا ہے کہ) اگر وہ اللہ پر بھروسہ کر کے کسی بات پر قسم کھا بیٹھے، تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو سچا کر دے اور کیا میں تمہیں وہ لوگ نہ بتاؤں جو دوزخی ہیں (سنو!) ہر وہ شخص (دوزخی ہے) جو جھگڑالو اور اکھڑ مزاج ہے اور تکبر و عناد کی وجہ سے حق بات کو قبول نہیں کرتا۔ (بخاری، مسلم)

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا، جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا۔“ (یہ سن کر) ایک شخص نے عرض کیا: کوئی آدمی یہ نہ کرے کہ اس کا لباس عمدہ ہو اور اس کے جوئے اچھے ہوں (اور وہ اپنی اس پسند و خواہش کے تحت اچھا لباس پہنتا ہے اور اچھے جوئے استعمال کرتا ہے تو کیا اس کو بھی تکبر کہیں گے)؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ

جیل (یعنی اچھا اور آراستہ ہے) اور جمال (آراغلی) کو پسند کرتا ہے اور تکبر تو حق بات کو ٹھکرانا اور لوگوں کو حقیر و ذلیل سمجھنا ہے۔“ (مسلم)

### حد سے زیادہ تکبر کرنے کا نتیجہ

حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”کوئی شخص اپنے نفس کو برابر بلند کرتا رہتا ہے (یعنی تکبر کرتا رہتا ہے) یہاں تک کہ (اس کا نام) سرکشوں (یعنی ظالم اور تکبر لوگوں کی فہرست) میں لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر جو آفت و بلا ان سرکشوں کو پہنچتی ہے، وہی اس شخص کو بھی پہنچتی ہے۔“ (ترمذی)

حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے، وہ رسول خدا ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”قیامت کے دن تکبر کرنے والوں کو چھوٹی چوٹیوں کی طرح آدمی کی صورت میں جمع کیا جائے گا (یعنی ان کی شکل و صورت تو آدمیوں کی سی ہوگی، لیکن جسم چوٹیوں کے برابر ہوگا) اور ہر طرف سے ذلت و خواری ان کو پوری طرح گھیر لے گی۔ پھر ان کو جہنم کے ایک قید خانہ کی طرف جس کا نام ”بولس“ ہے، ہانکا جائے گا۔ وہاں آگوں کی آگ ان پر چھا جائے گی اور ان کو دوزخیوں کا نچوڑ یعنی دوزخیوں کے بدن سے بننے والا خون اور پیپ پلایا جائے گا۔“ (ترمذی)

### نو (۹) برے بندے

حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے رسول خدا ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا:

- ① برا ہے وہ بندہ جس نے اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر جانا اور تکبر کیا اور خداوند بزرگ و برتر کو بھول گیا (یعنی اس نے یہ فراموش کر دیا کہ بزرگی اور بلندی و برتری صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے۔ یا یہ بھول گیا کہ اس نے دنیا میں احتیاط و تقویٰ کی راہ چھوڑ کر، جس برے راستہ کو اختیار کیا ہے، اس کی جواب دہی اس کو آخرت میں کرنی ہوگی اور وہاں خدا کا عذاب بھگتنا پڑے گا)۔
- ② برا ہے وہ بندہ جس نے لوگوں پر جبر و ظلم کیا اور ظلم و فساد ریزی میں حد سے بڑھ گیا اور خداوند جبار و قہار کو بھول گیا، جس کی قدرت و عزت سب سے بلند ہے۔
- ③ برا ہے وہ بندہ جو دین کے کاموں کو بھول گیا اور دنیا داری میں مشغول رہا اور اس نے مقبروں کو اور خاک میں مل جانے والے جسم کی بوسیدگی کو فراموش کر دیا (یعنی اس نے اس بات سے کوئی عبرت نہیں پکڑی کہ کیسے کیسے لوگ ہزاروں من مٹی کے نیچے دفن کر دیے گئے اور ان کے جسم کیڑوں مکوڑوں کی خوراک بن گئے)۔
- ④ برا ہے وہ بندہ جس نے فتنہ و فساد برپا کیا اور حد سے تجاوز کر گیا اور اپنی ابتداء کو بھول گیا (یعنی نہ تو اس کو یہ یاد رہا کہ وہ کتنی حقیر چیز سے پیدا کیا گیا ہے اور ابتداء میں وہ کس قدر عاجز و ناتواں تھا اور نہ اس کو اپنا انجام یاد رہا، آخر کار پیوند زمیں ہو جاتا ہے)۔
- ⑤ برا ہے وہ بندہ جو دین کے ذریعہ دنیا حاصل کرے (یعنی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے دین کو وسیلہ بنائے)۔ یا یہ معنی ہیں کہ صلحاء اور بزرگوں کی سی شکل اختیار کر کے اور دین کا لبادہ اوڑھ کر الٰہ دنیا کو فریب دے، تاکہ وہ اس کے معتقد و مداح ہوں اور ان سے مال و جاہ حاصل کرے)۔
- ⑥ برا ہے وہ بندہ جس نے شبہات میں جھلا ہو کر دین کو خراب کر دیا۔
- ⑦ برا ہے وہ بندہ جس نے مخلوق سے طمع اور امید قائم کی اور حرص و طمع اس کو دنیا داروں کے دروازوں پر کھینچنے کھینچنے پھرتی ہے اور جدھر

چاہتی ہے لے جاتی ہے۔

⑧ براہے وہ بندہ جس کو خواہش نفس، گمراہ کرتی ہے۔

⑨ براہے وہ بندہ جسکو دنیا کی رغبت، حصول دنیا کی حرص اور کثرت مال و جاہ کی ہوس، ذلیل و خوار کرتی ہے۔ (ترمذی، بیہقی)

### غصہ ایمان کو خراب کر دیتا ہے

حضرت بنہر بن حکیم اپنے والد سے اور وہ بنہر کے دادا حضرت معاویہ بن حیدہ قشیری رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا

ﷺ نے فرمایا: "بلاشبہ غصہ ایمان کو خراب کر دیتا ہے، جس طرح ایلو اشبد کو خراب کر دیتا ہے۔" (بیہقی)

### عام طور پر ظالم کی عمر دراز نہیں ہوتی

حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: بلاشبہ اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے (یعنی دنیا میں اس کی عمر دراز

کرتا ہے، تاکہ وہ ظلم کرتا رہے اور آخرت میں سخت عذاب میں گرفتار ہو) یہاں تک کہ جب اس کو پکڑتا ہے، تو پھر چھوڑتا نہیں۔ اس کے بعد آنحضرت ﷺ نے (دلیل کے طور پر) یہ آیت پڑھی:

﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرْآنَ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ لَكَلِيمٌ شَدِيدٌ﴾

"اور آپ کے رب کی دارو گیر ایسی ہی ہے جب وہ کسی بستی والوں پر دارو گیر کرتا ہے، جب کہ وہ ظلم کیا کرتے ہیں۔ بلاشبہ اس کی دارو گیر بڑی تکلیف دہ اور سخت ہے۔" (بخاری دسم)

### برائی کا جواب اچھائی سے دینا چاہیے

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: "تم ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ نہ بنو یعنی یہ نہ کہو کہ اگر لوگ ہمارے ساتھ بھلائی

کریں گے، تو ہم بھی ان کے ساتھ بھلائی کریں گے اور اگر لوگ ہمارے ساتھ ظلم کریں گے، تو ہم بھی ان کے ساتھ ظلم کریں گے۔ بلکہ تم اپنے آپ کو اس بات پر جماد کہ اگر لوگ بھلائی کریں، تو تم بھی بھلائی کرو اور اگر لوگ برائی کریں، تو تم ظلم نہ کرو۔" (ترمذی)

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: "قیامت کے دن مرتبہ کے اعتبار سے بدترین آدمی وہ بندہ

ہوگا، جس نے دوسرے کی دنیا (ہانے) کی وجہ سے اپنی آخرت برباد کر دی (جیسے ظالم حاکم کے مددگار کیا کرتے ہیں)۔" (ابن ماجہ)

### ظالم کی تائید اور موافقت کرنے والا کمال ایمان سے محروم ہو جاتا ہے

حضرت اوس بن شریل رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول خدا ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا: کہ "جو شخص کسی ظالم کی

تعویت و تائید کے لیے اس کے ساتھ چلے (یعنی اس کی موافقت و حمایت کرے) اور وہ یہ جانتا ہو کہ (میں جس شخص کی مدد اور تائید کر رہا ہوں) وہ ظالم انسان ہے، تو وہ شخص اسلام سے خارج ہو جاتا ہے (یعنی وہ کمال دین سے محروم ہو جاتا ہے)۔" (بیہقی)

### ظلم کی نحوست یہ ہے کہ خباری پرندہ بھی گھونسلے میں دبلا ہو کر مر جاتا ہے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا: کہ ظالم حقیقت میں اپنے آپ ہی کو نقصان

پہنچاتا ہے (دوسروں تک اس کے ظلم کے اثرات نہیں پہنچتے)۔ (یہ سن کر) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما نے فرمایا: "کیوں نہیں، خدائے پاک کی

قسم (ظالم اپنی ظالمانہ حرکتوں سے دوسروں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے) یہاں تک کہ جباری پرندہ اپنے گھونسلے میں ظالم کے ظلم کی وجہ سے دبلا ہو کر مر جاتا ہے۔“ (بیہقی)

### ظالم کو محبت سے سمجھانا چاہئے ورنہ عذاب سب پر آئے گا

اور ابوداؤد کی روایت میں یوں ہے کہ جب لوگ کسی کو ظلم کرتے دیکھیں اور اس کا ہاتھ نہ پکڑیں (یعنی اس کو ظلم سے نہ روکیں) تو قریب ہے، کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے عذاب کی گرفت میں لے لے۔

### رسول خدا ﷺ کا ایک اہم بیان اس کو یاد کر لیجیے

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہما کہتے ہیں: کہ (ایک دن) عصر کے بعد رسول خدا ﷺ ہمارے سامنے خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ اس خطبہ میں آپ نے قیامت تک پیش آنے والی کوئی ضروری بات نہیں چھوڑی، جس کا آپ نے تذکرہ نہ کیا ہو۔ یاد رکھنے والوں نے ان کو یاد رکھا اور بھولنے والا اس کو بھول گیا۔ آپ ﷺ نے اس وقت جو کچھ فرمایا اس میں یہ بھی تھا کہ ”یہ دنیا بڑی شیریں اور ہری بھری ہے اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس دنیا میں اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ لہذا وہ دیکھتا ہے: کہ تم کس طرح عمل کرتے ہو؟ پس خبردار! تم دنیا سے بچو اور عورتوں سے دور رہو۔“ آنحضرت ﷺ نے یہ فرمایا: کہ ”قیامت کے دن ہر عہد شکن کے لیے ایک نشان (علامتی جھنڈا) کھڑا کیا جائے گا جو دنیا میں اس کی عہد شکنی کے بقدر ہوگا، اور کوئی عہد شکنی امیر عام کی عہد شکنی سے زیادہ بری نہیں۔ چنانچہ اس کا نشان اس کی سرین کے قریب کھڑا کیا جائے گا (تاکہ اس کی زیادہ فضیحت در سوائی ہو)۔“ حضور ﷺ نے یہ بھی فرمایا: ”تم میں سے کسی کو لوگوں کی ہیبت اور خوف، حق بات کہنے سے باز نہ رکھے، جب کہ وہ حق بات سے واقف ہو۔“

اور ایک روایت میں یوں ہے: کہ ”اگر تم میں سے کوئی شخص کسی خلاف شرع بات کو دیکھے، تو لوگوں کی ہیبت اس کو خلاف شرع بات کی اصلاح سے باز نہ رکھے۔“ (یہ بیان کر کے) حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہما رو پڑے اور کہنے لگے: کہ ہم نے خلاف شرع بات کو (اپنی آنکھوں سے) دیکھا اور لوگوں کے خوف سے ہم اس کے بارے میں کچھ نہ بول سکے۔ (اس کے بعد حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ) حضور ﷺ نے یہ بھی فرمایا: ”جان لو! انسان کو مختلف جماعتوں اور متضاد اقسام و مراتب پر پیدا کیا گیا ہے۔ چنانچہ:

- ① ان میں سے بعض وہ ہیں، جن کو مومن پیدا کیا جاتا ہے اور ایمان کی حالت میں زندہ رہتے ہیں اور ایمان پر ہی ان کا خاتمہ ہوتا ہے۔
- ② اور ان میں سے بعض وہ ہیں، جن کو کافر پیدا کیا جاتا ہے اور کفر کی حالت میں زندہ رہتے ہیں اور کفر پر ہی ان کا خاتمہ ہوتا ہے۔
- ③ اور ان میں سے بعض وہ ہیں، جن کو مومن پیدا کیا جاتا ہے اور ایمان ہی کی حالت میں زندہ رہتے ہیں لیکن ان کا خاتمہ کفر پر ہوتا ہے۔
- ④ اور ان میں سے بعض وہ ہیں، جن کو کافر پیدا کیا جاتا ہے اور کفر کی حالت میں زندہ رہتے ہیں لیکن ان کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔“

حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ (اس موقع پر) حضور ﷺ نے غضب و غصہ کی قسموں کو بھی ذکر کیا۔ چنانچہ آپ ﷺ نے فرمایا:

- ① بعض آدمی بہت جلد غضب ناک ہو جاتے ہیں، لیکن ان کا غصہ جلد ہی ختم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ان دونوں میں سے ایک دوسرے کا بدل بن جاتا ہے (یعنی یہ شخص نہ اچھا ہے نہ برا)۔

- ② اور بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں، جن کو غصہ دیر میں آتا ہے اور دیر سے جاتا ہے۔ چنانچہ ان دونوں میں سے ایک دوسرے کا بدل بن جاتا ہے (یعنی یہ شخص نہ اچھا ہے نہ برا)۔

④ اور تم میں سے بہترین شخص وہ ہے، جس کو غصہ دیر سے آتا ہے اور جلد ختم ہو جاتا ہے۔  
 ⑤ اور تم میں سے بدترین شخص وہ ہے، جس کو جلد غصہ آتا ہے اور دیر سے جاتا ہے۔“ (اس کے بعد) حضور ﷺ نے فرمایا: ”تم غصہ سے بچو، کیونکہ غصہ ابن آدم کے قلب پر ایک دہکتا ہوا انگارہ ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ (جب کوئی شخص غضب ناک ہوتا ہے تو) اس کی گردن کی رگیں پھول جاتی ہیں اور آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، لہذا جو شخص غصہ کا اثر محسوس کرے، وہ فوراً پہلو پر لیٹ جائے اور زمین سے چمٹ جائے۔“

اور حضور ﷺ نے قرض کا بھی ذکر کیا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا:

① تم میں سے بعض آدمی (قرض کی) ادائیگی میں اچھے ہوتے ہیں، لیکن اپنا قرض وصول کرنے میں سختی کرتے ہیں۔ چنانچہ اس کی دونوں خصلتوں میں سے ایک، دوسری کا بدل ہو جاتی ہے۔

② اور بعض آدمی قرض ادا کرنے میں تو برے ثابت ہوتے ہیں، لیکن کسی سے اپنا قرض وصول کرنے میں اچھے ثابت ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس کی ان دونوں خصلتوں میں سے ایک دوسرے کا بدل ہو جاتی ہے۔

③ اور تم میں بہترین شخص وہ ہے، جو کسی کا قرض ادا کرنے میں بھی اچھا ہو اور کسی سے اپنا قرض وصول کرنے میں بھی اچھا ہو۔

④ اور تم میں بدترین شخص وہ ہے، جو قرض ادا کرنے میں بھی برا ہو اور کسی سے اپنا قرض وصول کرنے میں بھی برا ہو۔“

حضور ﷺ نے اپنے اس خطبہ میں یہ نصیحتیں فرمائیں۔ یہاں تک کہ جب سورج کی روشنی کھجوروں کی چوٹیوں اور دیواروں کے کناروں تک آگئی (یعنی جب دن کا آخر ہو گیا) تو آپ نے فرمایا: ”یاد رکھو! اس دنیا کا جو زمانہ گزر چکا ہے، اس کی بہ نسبت، صرف اتنا زمانہ باقی رہ گیا ہے، جتنا آج کے دن کے گزرے ہوئے حصہ کی بہ نسبت، یہ آخری وقت (یعنی جس طرح آج کے دن کا قریب قریب پورا حصہ گزر چکا ہے اور تھوڑا سا باقی ہے، اسی طرح اکثر زمانہ گزر گیا اب بہت قلیل عرصہ باقی رہ گیا ہے)۔“ (ترمذی)

### آخری زمانہ کے متعلق اہم ہدایات

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: بلاشبہ میری امت کو آخر زمانہ میں ان کے حکمران کی طرف سے سختیاں اور بلائیں پہنچیں گی۔ اس کی سختیوں سے نجات پانے والا ایک تو وہ شخص ہوگا، جس نے خدا کے دین کو (اچھی طرح) جانا اور پہچانا، پھر دین کو سر بلند کرنے کے لیے اپنی زبان، اپنے ہاتھ اور اپنے دل سے جہاد کیا۔ بس دنیا و آخرت کی سعادتیں اس کی طرف سہقت کریں گی۔ اور دوسرا وہ شخص ہوگا، جس نے خدا کے دین کو جانا، پھر زبان اور دل سے اس کی تصدیق کی (یعنی صرف زبان اور دل سے جہاد کیا، قوت سے کام نہیں لیا)۔ اور تیسرا وہ شخص ہوگا، جس نے خدا کے دین کو پہچانا، پھر اس پر سکوت اختیار کیا۔ چنانچہ جب کسی کو نیک کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو اس کو دوست رکھتا ہے اور کسی کو غلط کام کرتے دیکھتا ہے، تو اس سے نفرت کرتا ہے اور یہ شخص بھی نیکی سے محبت اور گناہ سے نفرت کو پوشیدہ رکھنے کی وجہ سے نجات پائے گا۔ (بیہقی)

### لوگوں کے ڈر سے اصلاح کی فکر نہ کرنے والے کی معافی

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”اللہ بزرگ و برتر قیامت کے دن بندے سے پوچھے گا: تجھ کو کیا ہوا تھا کہ جب تو نے خلاف شرع کام کو دیکھا تھا، تو اس سے کیوں نہیں روکا تھا؟ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: پھر اس کو دلیل

سکھائی جائے گی۔ چنانچہ وہ عرض کرے گا: میرے پروردگار! میں لوگوں سے ڈرتا تھا اور تیرے عفو و مغفرت کی امید رکھتا تھا۔“

### قابل رشک بندہ

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہما نبی کریم ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا: ”میرے نزدیک میرے دوستوں (یعنی مومنین) میں نہایت قابل رشک وہ مومن ہے، جو سبک بار ہے، نماز سے بہت زیادہ بہرہ مند ہے اور اپنے رب کی عبادت خوبی کے ساتھ کرتا ہے (اور جس طرح ظاہر میں عبادت کرتا ہے اسی طرح) خلوت میں بھی طاعت الہی میں مشغول رہتا ہے اور لوگوں میں گناہ ہے کہ اس کی طرف انگلیوں سے اشارہ نہیں کیا جاتا۔ نیز اس کی روزی بقدر کفایت ہے اور اسی پر صابر و قانع ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے چنگی بجائی اور ارشاد فرمایا: ”اس کی موت بس یوں (چنگی بجاتے) اپنا کام جلد پورا کر لیتی ہے اور اس کی موت پر رونے والی عورتیں بھی کم ہیں اور اس کا ترکہ بھی بہت مختصر ہے۔“ (احمد، ترمذی، ابن ماجہ)

### مساکین مال داروں سے چالیس سال پہلے جنت میں داخل ہو گے

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے دعا فرمائی، ”اے اللہ! مجھ کو مسکین بنا کر زندہ رکھ، مسکین ہی کی حالت میں مجھے موت دے اور مسکینوں ہی کے زمرہ میں میرا حشر فرما۔“ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا (نے حضور ﷺ کو یہ دعا فرماتے ہوئے سنا تو) کہنے لگیں، ”یا رسول اللہ! آپ ایسی دعا کیوں کرتے ہیں؟“ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: اس لیے کہ مساکین مال داروں سے چالیس سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے، اے عائشہ! کسی مسکین کو اپنے دروازے سے ناامید نہ جانے دینا۔ اگرچہ اس کو دینے کے لیے تمہارے پاس کھجور کا ایک کلا اسی کیوں نہ ہو۔ عائشہ! (اپنے دل میں) مسکینوں سے محبت رکھو اور ان کو اپنی قربت سے نوازو (یعنی ان کو حقیر و کمتر جان کر اپنے یہاں آنے جانے سے مت روکو) اگر تم ایسا کرو گی، تو اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت کے دن اپنی قربت سے نوازے گا۔“ (ترمذی، بیہقی، ابن ماجہ)

### سات بکھرے موتی

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے غلیل ﷺ نے مجھ کو سات باتوں کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ آپ نے ایک حکم تو یہ دیا کہ:

- ① میں فقراء و مساکین سے محبت کروں اور ان سے قریب رہوں۔
- ② دوسرا حکم یہ دیا کہ میں اس شخص کی طرف دیکھوں جو (دنیاوی اعتبار سے) مجھ سے کمتر درجہ کا ہے اور اس شخص کی طرف نہ دیکھوں جو (جاہ و مال اور منصب میں) مجھ سے بالاتر ہے۔
- ③ تیسرا حکم یہ دیا کہ میں قرابت داروں سے ناتے داری کو قائم رکھوں اگرچہ کوئی (قرابت دار) ناتے داری کو منقطع کرے۔
- ④ چوتھا حکم یہ دیا کہ میں کسی شخص سے کوئی چیز نہ مانگوں۔
- ⑤ پانچواں حکم یہ دیا کہ میں (ہر حالت میں) حق بات کہوں اگرچہ وہ (سننے والے کو) تلخ معلوم ہو۔
- ⑥ چھٹا حکم یہ دیا کہ میں خدا کے دین کے معاملہ میں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سلسلہ میں ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈروں۔

⑥ اور ساتواں حکم یہ دیا کہ میں کثرت کے ساتھ ”لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ“ کہا کروں، کیونکہ یہ کلمات اس خزانہ میں سے ہیں جو عرش



### بوڑھے کا دل دو چیزوں میں ہمیشہ جوان رہتا ہے

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا: "انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، مگر اس میں دو چیزیں جوان اور توی ہو جاتی ہیں، ایک تو مال (جمع کرنے) کی حرص اور درازی عمر کی آرزو۔" (بخاری، مسلم)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: "بوڑھے آدمی کا دل دو چیزوں میں ہمیشہ جوان رہتا ہے، ایک دنیا کی محبت میں اور دوسری آرزو عمر کی درازی میں۔" (بخاری، مسلم)

### حلال کمائی اور آرزوؤں کی کمی کا نام زہد ہے

حضرت سفیان ثوری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا: "زہد (یعنی دنیا سے بے رغبتی) اس کا نام نہیں ہے کہ موٹے اور سخت کپڑے پہن لیے جائیں اور روکھا سوکھا اور بد مزہ کھانا کھایا جائے بلکہ دنیا سے زہد اختیار کرنا حقیقت میں آرزوؤں اور امیدوں کی کمی کا نام ہے۔" (ابن ابی عمیر)

حضرت زید بن حسین فرماتے ہیں کہ جب امام مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ دنیا سے زہد اختیار کرنا کس چیز کا نام ہے؟ تو میں نے امام مالک رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ "حلال کمائی اور آرزوؤں کی کمی کا نام زہد ہے۔" (بیہقی)

### یہ دنیا بس چار آدمیوں کے لیے ہے

حضرت ابو کبشہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول خدا ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ "تین باتیں ہیں جن کی حقانیت و صداقت پر میں قسم کھا سکتا ہوں اور میں تم سے ایک بات کہتا ہوں تم اس کو یاد رکھنا پس وہ تین باتیں جن کی حقانیت و صداقت پر میں قسم کھا سکتا ہوں، یہ ہیں:

- ① بندہ کا مال خدا کی راہ میں خرچ کرنے کی وجہ سے کم نہیں ہوتا۔
- ② اور جس بندہ پر قلم کیا جائے اور اس کا مال ناحق لے لیا جائے اور وہ بندہ اس قلم و زیادتی پر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بڑھاتے ہیں۔
- ③ اور جس بندہ نے اپنے نفس پر سوال کا دروازہ کھولا اللہ تعالیٰ اس کے لیے فقر و افلاس کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اور رہی وہ بات جس کے بارے میں میں نے کہا تھا کہ اس کو یاد رکھنا وہ یہ ہے کہ:
- ① ایک تو وہ بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و زر بھی عطا کیا اور علم کی دولت سے بھی نوازا، پس وہ بندہ اپنے مال و دولت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے (یعنی اس کو حرام و ناجائز کاموں میں خرچ نہیں کرتا) اس کے ذریعہ اپنے قرابت داروں اور عزیزوں کے ساتھ حسن سلوک اور احسان کرتا ہے اور اس مال و زر میں اس کے حق کے مطابق اللہ تعالیٰ کے لیے کام کرتا ہے (یعنی مال و دولت کے تین اللہ تعالیٰ نے جو حقوق متعین کئے ہیں ان کو ادا کرتا ہے) پس یہ بندہ مرتبہ کے اعتبار سے کامل ترین ہے۔
- ② دوسرا وہ بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے علم تو عطا کیا لیکن اس کو مال عنایت نہیں فرمایا پس وہ بندہ (اپنے علم کے سبب سچی نیت رکھتا ہے اور) کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو فلاں شخص جیسے اچھے کام کرتا، پس ان دونوں کا اجر و ثواب برابر ہے۔"

⑤ تیسرا بندہ وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا ہے لیکن علم نہیں دیا پس وہ بندہ بے علم ہونے کی وجہ سے اپنے مال کے بارے میں بہک جاتا ہے وہ اس مال و دولت کے بارے میں اپنے رب سے نہیں ڈرتا ہے اور اپنے قرابت داروں اور عزیزوں کے ساتھ مالی احسان و سلوک نہیں کرتا ہے اور نشان حقوق کو ادا کرتا ہے جو اس مال و دولت سے متعلق ہیں پس یہ بندہ مرتبہ کے اعتبار سے بدترین ہے۔

⑥ اور چوتھا بندہ وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نہ تو مال عطا کیا ہے اور نہ علم دیا ہے، پس وہ بندہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی اس کو فلاں شخص کی طرح (برے کاموں میں) خرچ کرتا۔ پس یہ بندہ بدنیت ہے اور ان دونوں کا گناہ برابر ہے۔“ (ترمذی)

جہاں تک اس زمانہ کا تعلق ہے تو اب مال و دولت بھی مسلمانوں کی ڈھال ہے

حضرت سفیان ثوری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگلے زمانے میں مال کو برا سمجھا جاتا تھا لیکن جہاں تک اس زمانہ کا تعلق ہے تو اب مال و دولت مسلمانوں کی ڈھال ہے۔

حضرت سفیان ثوری رضی اللہ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ ”اگر (ہم لوگوں کے پاس) یہ درہم و دینار اور روپیہ پیسہ نہ ہوتا، تو یہ (آج کل کے) سلاطین و امراء ہمیں ذلیل و پامال کر ڈالتے۔ نیز انہوں نے فرمایا، کسی شخص کے پاس اگر تھوڑا بہت مال ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کی اصلاح کرے (یعنی اس تھوڑے سے مال کو یوں ہی ضائع نہ ہونے دے، بلکہ تدبیر و غیرہ دہنر مندی کے ساتھ اس کو کسی تجارت وغیرہ میں لگا کر بڑھانے کی سعی کرے) کیونکہ ہمارا یہ زمانہ ایسا ہے کہ اس میں اگر کوئی محتاج و مفلس ہوگا تو (دنیا کو حاصل کرنے کی خاطر) اپنے دین کو اپنے ہاتھ سے گوانے والا سب سے پہلا شخص وہی ہوگا۔“ حضرت سفیان کا ایک قول یہ بھی ہے کہ ”حلال مال، اسراف کو برداشت نہیں کرتا (یعنی حلال مال میں اسراف نہیں کرنا چاہیے)۔“ (بخاری)

قیامت کے دن اعلان ہوگا کہ ساٹھ سال کی عمر والے لوگ کہاں ہیں؟

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”اعلان کرنے والا (فرشتہ) قیامت کے دن (اللہ کے حکم سے) یہ اعلان کرے گا کہ ساٹھ سال کی عمر والے لوگ کہاں ہیں؟ (یعنی دنیا میں جن لوگوں نے ساٹھ سال کی عمر پائی، وہ اپنی عمر کا حساب دینے کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں) اور یہ عمر، وہ عمر ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے:

﴿وَأُولَٰئِكَ نَعْتَدُكُمْ مَّا نَبْتَدِئُكُمْ فِيهِ مَنِ تَذَكَّرْ وَجَاءَكُمْ النَّذِيرُ﴾

”کیا ہم نے تم کو ایسی عمر نہیں دی جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کرے اور تمہارے پاس ڈرانے والا (بڑھاپا) بھی آچکا ہے۔“ (بیہقی)

اللہ کے نزدیک اس مسلمان سے زیادہ افضل کوئی نہیں ہے جس نے اسلام کی حالت میں زیادہ عمر پائی

حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بنی عذرہ قبیلہ کے کچھ لوگ جن کی تعداد تین تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا (پھر وہ لوگ حصول دین کی خاطر اور خدا کی راہ میں ریاضت و مجاہدہ کی نیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹھہر گئے۔ ان کی مالی حالت چونکہ بہت خستہ تھی اور وہ اپنی ضروریات زندگی کی کفالت خود کرنے پر قادر نہیں تھے اس لیے) رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ”کون ہے جو ان لوگوں کی خبر گیری کے سلسلے میں مجھے بے فکر کر دے؟ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: میں اس ذمہ داری کو قبول کرتا ہوں۔ چنانچہ تینوں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس رہنے لگے (کچھ دنوں کے بعد) جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی طرف ایک لشکر بھیجا، تو اس

(لشکر) میں ان تینوں میں سے ایک شخص گیا اور میدان جنگ میں (دشمنوں سے لڑتا ہوا) شہید ہو گیا، اس کے بعد حضور ﷺ نے ایک اور لشکر بھیجا، اس کے ساتھ دوسرا شخص گیا اور وہ بھی شہید ہو گیا اور پھر تیسرا شخص اپنے بستر پر اللہ کو پیارا ہو گیا۔

راوی فرماتے ہیں کہ حضرت طلحہ نے بیان کیا کہ (ان تینوں کے انتقال کے بعد ایک دن خواب میں) میں نے دیکھا کہ وہ تینوں جنت میں ہیں، نیز میں نے دیکھا کہ جو شخص اپنے بستر پر اللہ کو پیارا ہوا تھا، وہ تو سب سے آگے ہے اور جو شخص دوسرے لشکر کے ساتھ جا کر شہید ہوا تھا وہ اس کے پیچھے اور اس کے بالکل قریب ہے اور ان تینوں میں سے جو پہلے لشکر کے ساتھ جا کر شہید ہوا تھا سب سے آخر میں ہے چنانچہ (ان تینوں کو اس طرح ایک دوسرے کے آگے پیچھے دیکھ کر) میرے دل میں شبہ پیدا ہو گیا، چنانچہ میں نے نبی کریم ﷺ سے اپنے اس خواب کا ذکر کیا، حضور ﷺ نے (وہ خواب اور اس پر میرا شبہ سن کر) ارشاد فرمایا: ”اس میں شک و شبہ اور انکار کی باعث کون سی چیز ہے؟ (تم نے اپنے خواب میں تینوں کو جس ترتیب کے ساتھ دیکھا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے) کیوں کہ اللہ کے نزدیک اس مسلمان سے زیادہ افضل کوئی نہیں ہے جس نے اسلام کی حالت میں زیادہ عمر پائی اور اس کی وجہ سے اس کو خدا کی تسبیح و تکبیر اور جلیل کا زیادہ موقع ملا۔“ (مسند احمد)

خدا کی نافرمانی سے ڈرتے رہو کیونکہ جو چیز خدا کے پاس ہے اس کو اس کی اطاعت و خوشنودی ہی کے

### ذریعہ پایا جاسکتا ہے

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”لوگو! کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو تم کو جنت سے قریب کر دے اور دوزخ سے دور کر دے، مگر اس (کو اختیار کرنے) کا حکم میں نے تمہیں دیا ہے اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو تم کو دوزخ سے قریب کر دے اور جنت سے دور کر دے، مگر اس سے میں نے تمہیں منع کیا ہے اور روح الامین اور ایک روایت میں ہے کہ روح القدس (یعنی حضرت جبرئیل علیہ السلام) نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ بلاشبہ کوئی شخص اس وقت تک نہیں مرتا جب تک اپنا رزق پورا نہیں کر لیتا، لہذا غور سے سنو! تم خدا کی نافرمانی سے ڈرتے رہو اور حصول معاش کی سعی و جدوجہد میں نیک روی اور اعتدال اختیار کرو (تاکہ تمہارا رزق تم تک جائز و حلال وسائل و ذرائع سے پہنچے) اور رزق پہنچنے میں تاخیر تمہیں اس بات پر نہ اکسائے کہ تم گناہوں کے ارتکاب کے ذریعہ رزق حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگو کیونکہ جو چیز خدا کے پاس ہے اس کو اطاعت و خوشنودی ہی کے ذریعہ پایا جاسکتا ہے۔“ (بخاری)

### اپنے آپ کو ایک کے حوالے کر دو تو وہ ایک، ایک ایک کو ہمارے حوالے کر دے گا

حضرت جابر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ وہ نبی کریم ﷺ کے ساتھ اس جہاد میں شریک تھے جو نجد کے اطراف میں ہوا تھا اور جب رسول خدا ﷺ جہاد سے فارغ ہوئے، تو جابر رضی اللہ عنہما بھی آپ کے ساتھ ہی واپس ہوئے (اسی سفر کے دوران یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک دن) صحابہ رضی اللہ عنہم دو پہر کے وقت ایک ایسے جنگل میں پہنچے جس میں کیکر کے درخت زیادہ تھے، چنانچہ رسول خدا ﷺ (صحابہ کے ساتھ) وہیں اتر پڑے اور تمام لوگ درختوں کے سایہ کی تلاش میں ادھر ادھر پھیل گئے اور رسول خدا ﷺ بھی کیکر کے ایک بڑے درخت کے نیچے فروکش ہو گئے اور اپنی تلوار کو اس درخت کی ٹہنی میں لٹکا دیا۔ (حضرت جابر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں) ہم لوگ سوچے تھے کہ اچانک ہم نے سنا کہ رسول خدا ﷺ ہمیں آواز دے رہے ہیں، چنانچہ ہم لوگ (اپنی اپنی جگہ سے اٹھ کر) آپ کے پاس پہنچے، تو دیکھا کہ آپ کے پاس ایک دیہاتی کافر موجود ہے۔ آنحضرت ﷺ نے (ہمارے جمع ہونے پر) ارشاد فرمایا ”یہ دیہاتی اس وقت جب میں سو رہا تھا، مجھ پر میری

تکوار سونت کر کھڑا ہو گیا اور جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میری نئی تکوار اس کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے مجھ سے کہا: اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ میں نے فوراً جواب دیا: میرا خدا مجھے بچائے گا۔ حضور ﷺ نے یہ بات تین مرتبہ کہی اور اس دیہاتی کو کوئی سزا نہیں دی، پھر آپ بیٹھ گئے۔“ (بخاری، مسلم)

اور اس روایت میں جس کو ابو بکر اسماعیلی نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے یہ الفاظ ہیں کہ اس دیہاتی نے (آنحضرت ﷺ پر تکوار سونت کر) کہا: اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: اللہ بچائے گا۔ (یہ سنتے ہی) دیہاتی کے ہاتھ سے تکوار گر پڑی۔ حضور ﷺ نے تکوار کو اٹھا لیا اور فرمایا: (اگر میں تمہیں قتل کرنا چاہوں تو بتاؤ) تمہیں کون مجھ سے بچائے گا۔ دیہاتی نے جواب دیا کہ آپ بہترین (تکوار) پکڑنے والے ہو جائیں (یعنی آپ مجھے معاف کر دیں) حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: اچھا اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بلاشبہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ دیہاتی نے کہا: مسلمان تو نہیں ہوتا البتہ آپ سے یہ عہد ضرور کرتا ہوں کہ میں نہ خود آپ سے لڑوں گا اور نہ ان لوگوں کا ساتھ دوں گا جو آپ سے لڑیں گے۔ بہر حال آپ ﷺ نے اس دیہاتی کو چھوڑ دیا اور جب وہ دیہاتی اپنی قوم میں پہنچا تو کہنے لگا کہ میں تمہارے درمیان ایک ایسے شخص کے پاس سے آ رہا ہوں جو سب سے بہتر انسان ہے۔

(بخاری)

## بلاشبہ انسان کے دل کے لیے ہر جنگل میں ایک شاخ ہے

حضرت عمرو بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”بلاشبہ انسان کے دل کے لیے ہر جنگل میں ایک شاخ ہے (یعنی انسان کے دل میں رزق کے اسباب و ذرائع اور اس کے حصول کے تعلق سے طرح طرح کی ٹکریں اور غم ہیں) پس جس شخص نے اپنے دل کو ان شاخوں کی طرف متوجہ رکھا (یعنی اس نے اپنے دل کو ان ٹکرات اور غموں میں مشغول و منہمک رکھا) تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پروا نہیں کہ اس کو کس جنگل میں ہلاک کرے اور جس شخص نے اللہ تعالیٰ پر توکل اور اعتماد کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔“ (ابن ماجہ)

## رزق بندے کو تلاش کرتا ہے

حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اس میں کوئی شبہ نہیں کہ رزق بندے کو تلاش کرتا ہے، جس طرح انسان کو اسکی موت ڈھونڈتی ہے۔“ (ابو نعیم)

## آخر زمانہ میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو دین کے نام پر دنیا کے طلب گار ہوں گے ان کا انجام پڑھیے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”آخر زمانہ میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو دین کے نام پر دنیا کے طلب گار ہوں گے (یعنی دینی و اخروی اعمال کے ذریعہ دنیا کمائیں گے) اور لوگوں کے سامنے نرمی ظاہر کرنے کے لیے دہنوں کی کھال کا لباس پہنیں گے (تاکہ لوگ انہیں عابد و زاہد، دنیاوی نعمتوں سے بے پروا اور آخرت کے طلب گار سمجھ کر ان کے مرید و معتقد ہوں) انکی زبانیں شکر سے زیادہ شیریں ہوں گی لیکن ان کے دل بھڑیوں کے دل کی طرح (سخت) ہوں گے“ اللہ تعالیٰ (ایسے لوگوں کو) تنبیہ کرنے کے لیے (فرماتا ہے): ”کیا یہ لوگ میری طرف سے مہلت دئے جانے کی وجہ سے فریب میں مبتلا ہیں یا یہ لوگ میری مخالفت پر کمر بستہ ہیں؟ پس میں اپنی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یقیناً ان لوگوں پر انہیں میں سے کچھ لوگوں کو فتنہ اور بلا کی شکل میں مسلط کر دوں گا جو بڑے

سے بڑے دانشور اور عقلمند شخص کو بھی عاجز و حیران کر دیں گے۔“ (ترمذی)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما رسول اکرم ﷺ لقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ایک ایسی مخلوق پیدا کی ہے جس کی زبانیں شکر سے زیادہ شیریں ہیں اور جس کے دل ایلوے سے زیادہ تلخ ہیں۔ پس میں اپنی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں یقیناً ان پر ایسی بلائیں نازل کروں گا جو بڑے سے بڑے دانشور و عقل مند شخص کو بھی حیران و عاجز بنا دیں گی۔ کیا وہ لوگ مجھے دھوکہ دیتے ہیں یا مجھ پر جرأت و دلیری دکھاتے ہیں؟“ (ترمذی)

آخر زمانہ میں ایسی جماعتیں پیدا ہوں گی جو ظاہر میں تو دوست ہوں گی مگر باطن میں دشمن ہوں گی

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”آخر زمانہ میں ایسی جماعتیں پیدا ہوں گی جو ظاہر میں تو دوست ہوں گی مگر باطن میں دشمن ہوں گی۔“ عرض کیا گیا: ”یا رسول اللہ! ایسا کیونکر اور کس سبب سے ہوگا؟“ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”ایسا اس وجہ سے ہوگا کہ ان میں سے بعض بعض سے غرض و لالچ رکھیں گے اور بعض بعض سے خوف زدہ ہوں گے۔“ (احمد)

شُرکِ خفی مسیحِ دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے

حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ (ایک دن) ہم لوگ آپس میں مسیحِ دجال کا ذکر کر رہے تھے کہ رسول خدا ﷺ آ کر ہمارے درمیان تشریف فرما ہو گئے۔ (پھر ہماری بات چیت سن کر) فرمانے لگے کہ ”کیا میں تمہیں اس چیز کے بارے میں نہ بتلاؤں جو میرے نزدیک تمہارے حق میں مسیحِ دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔؟“ ہم نے عرض کیا: ”ہاں یا رسول اللہ۔“ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”وہ چیز شرکِ خفی ہے۔ (اور شرکِ خفی یہ ہے کہ مثلاً) ایک آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور نماز پڑھتا ہے اور اپنی نماز میں زیادتی کرتا ہے، شخص اس لیے کہ کوئی شخص اس کو نماز پڑھتے دیکھ رہا ہے۔“ (ابن ماجہ)

نوباتوں کا حکم

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا، میرے رب نے مجھ کو نوباتوں کا حکم دیا ہے:

- ① ظاہر اور پوشیدہ ہر حالت میں اللہ سے ڈرنے کا۔
- ② غریبی اور مال داری کی حالت میں سنا نہ روی اختیار کرنے کا۔
- ③ اور جو میرے ساتھ بد سلوکی کرے اس کے ساتھ میں نیک سلوک کروں۔
- ④ جو مجھے محروم رکھے، اس کو میں داد و دہش سے نوازوں۔
- ⑤ اور جو شخص مجھ پر ظلم کرے اس سے درگزر کروں۔
- ⑥ اور میری خاموشی فکر ہو۔
- ⑦ میرا بولنا ذکر ہو۔
- ⑧ اور میرا دیکھنا عبرت ہو، نیز میرے رب نے مجھے یہ بھی حکم دیا ہے کہ میں نیکی کی تلقین کرتا ہوں۔ (رزین)

قرب قیامت میں شر و فساد کرنے والا عقلمند شمار ہوگا

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”قیامت اس وقت تک نہ آئے گی یہاں تک کہ دنیا میں سب سے بڑا اقبال مند وہ شخص ہوگا جو کینہ اور احمق ہے اور کینہ کا بیٹا ہے۔“ (ترمذی، بیہقی)

## کون سے گناہ پر کونسا عذاب آتا ہے

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: ”جب کوئی قوم مال غنیمت میں خیانت کرنے لگتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دلوں میں دشمن کا رعب و خوف پیدا کر دیتا ہے۔“

جس قوم میں زنا کاری پھیل جاتی ہے اس میں اموات کی زیادتی ہو جاتی ہے۔ جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے اس کا رزق اٹھالیا جاتا ہے (یعنی برکت ختم کر دی جاتی ہے یا اس قوم کو حلال رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے)۔

جو قوم ناحق احکام جاری کرنے لگتی ہے، ان کے درمیان خون ریزی پھیل جاتی ہے، اور جو قوم اپنے عہد و پیمان توڑ دیتی ہے اللہ تعالیٰ اس پر اس کے دشمن کو مسلط کر دیتا ہے۔“ (مالک)

## یہودیوں کا درخت کونسا ہے؟

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک مسلمان یہودیوں سے نہ لڑیں گے، چنانچہ (اس لڑائی میں) مسلمان یہودیوں کو بہت قتل کریں گے، یہاں تک کہ یہودی پتھر اور درخت کے پیچھے چھپتا پھرے گا اور درخت یہ کہے گا: اے مسلمان! اے خدا کے بندے! ادھر آ، میرے پیچھے یہودی چھپا بیٹھا ہے اس کو مار ڈال۔ مگر غرقہ کا درخت (ایسا نہ کہے گا) کیوں کہ وہ یہودیوں کا درخت ہے۔“ (مسلم)

## کعبہ کا خزانہ ایک حبشی نکالے گا

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا: ”تم حبشیوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو اور ان سے کسی قسم کا تعرض نہ کرو تا وقتیکہ وہ تم سے کچھ نہ کہیں اور تم سے تعرض نہ کریں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ کعبہ کا خزانہ ایک حبشی ہی نکالے گا جس کی دونوں پنڈلیاں چھوٹی چھوٹی ہوں گی۔“ (ابوداؤد)

## سب سے پہلے ختم ہونے والی مخلوق ٹڈی ہے

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جس سال وفات پائی اس سال ٹڈیاں گم ہو گئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ٹڈیوں کے گم ہونے کی وجہ سے سخت غمگین اور متشکر ہوئے (کہ کہیں ٹڈیوں کا مکمل خاتمہ تو نہیں ہو گیا) پھر انہوں نے ایک سوار یمن کی طرف، ایک سوار عراق کی طرف اور ایک شام کی طرف بھیجا تا کہ وہ لوگوں سے دریافت کریں کہ آیا کسی شخص نے کہیں کچھ ٹڈیاں دیکھی ہیں۔ چنانچہ جس سوار کو یمن بھیجا گیا تھا وہ ایک مٹھی ٹڈیاں لے کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور انکے سامنے وہ ٹڈیاں ڈال دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ لے ٹڈیاں دیکھیں تو (خوشی سے) اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، پھر فرمایا: ”(میں ٹڈیوں کے مکمل خاتمہ سے اس لیے متشکر اور پریشان ہو گیا تھا کہ) میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا ہے:

خداوند بزرگ و برتر نے حیوانات کی ہزار قسمیں پیدا کی ہیں۔ ان میں چھ سو (۶۰۰) دریا میں ہیں اور چار سو (۴۰۰) جنگل میں ہیں اور جب قیامت آنے کو ہوگی، تو ان میں سے سب سے پہلے ٹڈیاں ہلاک ہوں گی پھر جب ٹڈیاں ہلاک ہوں گی، تو حیوانات کی دوسری قسمیں بھی اس طرح پے در پے ہلاک ہونا شروع ہو جائیں گی، جس طرح موتیوں کی لڑی ٹوٹنے پر موتی پے در پے گرنے لگتے ہیں۔“ (بیہقی)

## رکعت چھوٹنے کی چار شکلیں اور ان کے پورا کرنے کے طریقے

**سوال:** اگر ایک رکعت چھوٹی ہو تو اس کو کس طرح پورا کریں؟

**جواب:** اگر آپ کی ایک رکعت چھوٹی ہو، تو اس طرح پوری کریں۔ امام کے ساتھ آپ سلام نہ پھیریں۔ جب امام دونوں طرف سلام پھیر چکے، تو آپ کھڑے ہو جائیں۔ یاد رکھیں امام کے ایک طرف سلام پھیرنے کے بعد مقتدی کا کھڑا ہونا ٹھیک نہیں کیونکہ ممکن ہے کہ امام سجدہ ہو گا سلام پھیر رہا ہو۔ آپ کی جو رکعت چھوٹی ہے وہ پہلی رکعت تھی۔ آپ اس کو پہلی رکعت کی طرح پڑھیں یعنی پہلے ثنا (سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ) پڑھیں۔ امام کے پیچھے تو آپ سورہ فاتحہ وغیرہ نہیں پڑھتے لیکن چھوٹی ہوئی رکعت پوری کرتے وقت سورہ فاتحہ (الحمد) اور اس کے ساتھ کوئی سورت یا قرآن کی تین چھوٹی یا ایک بڑی آیت پڑھیں۔ باقی نماز عام نماز کی طرح پوری کریں۔

**سوال:** اگر دو رکعتیں چھوٹ گئیں ہوں، تو کس طرح پوری کریں؟

**جواب:** ان کو پورا کرنے کا طریقہ بہت آسان ہے۔ بس عام نمازوں کی طرح آپ کو دو رکعت پڑھنی ہیں، لیکن یہ رکعتیں آپ تنہا نماز کی طرح پڑھیں گے یعنی آپ پہلی رکعت میں ثنا، الحمد وغیرہ پڑھیں گے اور دوسری رکعت میں الحمد اور سورت پڑھیں گے۔ اگر ظہر، عصر اور عشاء کی نماز ہے، تو آپ نے جو دو رکعتیں امام کے ساتھ پڑھی ہیں وہ تیسری اور چوتھی رکعتیں تھیں، اب آپ کو پہلی اور دوسری رکعت پڑھنی ہے۔ بہت سے لوگ امام کیساتھ ملنے والی آخری دو رکعتوں کو اپنی پہلی دو رکعتیں سمجھنے کی غلطی کرتے ہیں اور اس وجہ سے چھوٹی ہوئی رکعتوں کو پورا کرتے وقت ان میں سورت نہیں ملاتے جس سے ان کی نماز نہیں ہوتی۔

**سوال:** اگر تین رکعتیں چھوٹ گئیں ہوں، تو کس طرح پوری کریں؟

**جواب:** تین رکعتیں چھوٹنے کی صورت میں ان کو پورا کرتے وقت عام طور پر لوگ غلطیاں کرتے ہیں، لہذا اس کو اہتمام سے سمجھنے کی کوشش کریں تین رکعتیں چھوٹنے کی صورت میں آپ پہلے چھوٹی ہوئی پہلی رکعت پڑھیں گے یعنی سلام پھیرنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ کھڑے ہو جائیں گے اور سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے، پھر تعوذ (اعوذ باللہ) اور تسمیہ (بِسْمِ اللّٰهِ) کے بعد سورہ فاتحہ (الحمد شریف) اور اس کے ساتھ کوئی سورت پڑھیں گے۔ اور ایک رکعت پوری کر کے قعدہ میں بیٹھیں گے اور صرف التحیات والی دعا پڑھ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ اب آپ اپنی چھوٹی ہوئی دوسری رکعت پڑھیں گے یعنی اس میں الحمد کے ساتھ سورت ملائیں گے۔ اس رکعت کو پوری کر کے آپ اپنی تیسری رکعت پڑھیں گے جس میں صرف الحمد پڑھی جائے گی۔ (امام کے ساتھ آپ کو جو رکعت ملی تھی وہ چوتھی رکعت تھی) لہذا اس تیسری رکعت کو پورا کرنے پر آپ کی چاروں رکعت مکمل ہو جائیں گی، اب آپ قعدہ اخیرہ میں بیٹھیں گے جس میں التحیات کے ساتھ آپ دونوں درود شریف (اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ وَّ بَارِكْ عَلٰی مُحَمَّدٍ) اور دعا (اللّٰهُمَّ اِنِّیْ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ) پڑھ کر سلام پھیریں گے، لیجئے آپ کی نماز مکمل ہوگئی۔

**سوال:** اگر چار رکعتیں چھوٹ گئیں ہوں تو کس طرح پوری کریں؟

**جواب:** چاروں رکعتیں چھوٹنے کی صورت میں آپ ان کو چار رکعت کی تنہا فرض نماز کی طرح پڑھ کر پوری کریں یعنی پہلی رکعت میں ثنا، سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھیں گے، دوسری میں سورہ فاتحہ و سورت اور تیسری اور چوتھی میں صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔

## سوانح..... حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ

### وطن، ولادت اور زمانہ طفولیت

آپ کا وطن پالن پور سے پانچ کلومیٹر گاؤں ”گٹھامن“ ہے۔ آپ کے والد کاروبار کی غرض سے بمبئی میں رہتے تھے، نام وزیر الدین تھا۔ آپ کی پیدائش بمبئی میں ۱۵ ستمبر ۱۹۲۹ء اتوار کا دن گزر کر رات ۱۲ بجے یعنی پیر کی رات میں ہوئی اور نام محمد عمر رکھا گیا۔ آپ نے سات سال کے بعد حنفیہ اسکول بمبئی میں داخلہ لیا۔ اس کے ایک سال کے بعد آپ کے والد وزیر الدین بن نصیر الدین کھروڈیہ کا انتقال ہو گیا اور آپ یتیم ہو گئے۔ اس وقت آپ کی عمر آٹھ سال کی تھی۔ آپ کے گھریلو حالات تنگی ترشی سے گزر رہے تھے۔ مگر جب باری تعالیٰ کسی کو نوازا نا چاہتا ہے، تو اس کے اسباب مہیا فرمادیتے ہیں۔ آپ کی تربیت کا سہب قوی آپ کی والدہ تھیں۔ آپ کے محلہ میں ایک مریم خالہ رہتی تھیں۔ وہ بھی پارساتھیں اور مشکوٰۃ شریف تک تعلیم لی ہوئی تھیں۔ مولانا کی والدہ مریم خالہ کی صحبت میں رہیں اور ان سے دین و ایمان کی باتوں کو سنا کرتیں جس سے بدرجہ اتم فکر آخرت اور خوف خدا پیدا ہو گیا تھا۔ اسی فکر آخرت اور خوف خدا سے اپنے بیٹے کو آراستہ کرنے کی تاحین حیات کوشش کرتی رہیں۔ آپ فرماتے ہیں: کہ والدہ اگرچہ پڑھی ہوئی نہ تھیں مگر میرے بارے میں ان کی تمنا تھی کہ میں عالم بنوں۔ اور فرماتے: کہ والدہ کو قرآن تو میں نے پڑھایا مگر مجھے قرآن پر والدہ نے ڈالا۔ ہر دن دین و ایمان کی کوئی نہ کوئی بات ذہن نشین کراتیں۔ بچپن ہی میں انبیاء چھینچہ کے قصے جو قرآن پاک میں ہیں والدہ سنایا کرتیں اور قیامت کی ہولناکی سے ڈراتیں۔ ایک مرتبہ والدہ نے فرمایا: کہ قبر میں دو فرشتے آئیں گے اور تین سوالات کریں گے۔ تین سوالات بھی بتائے اور اس کے جواب بھی۔ پھر دوسرے موقع پر قبر کے عذاب سے ڈرانا شروع کیا تو آپ نے والدہ سے فرمایا: کہ مجھے فرشتوں کے سوالات اور جوابات یاد ہو گئے ہیں تو جواب میں والدہ نے فرمایا: کہ قبر میں چڑے کی زبان کام نہ دے گی، وہاں عمل کی زبان جواب دے گی، پس تم عمل کرو اور حرام کیا ہے اور حلال کیا ہے؟ مجھے بھی بتاؤ چونکہ میں تو ان پڑھ ہوں اور تم اب پڑھنے لگے ہو۔ اور والدہ فرماتیں: بیٹا! غیبت کرنا چاہو تو میری کر لیا کرنا کہ بات گھر کی گھر میں رہے، تیری نیکیاں مجھ کو ملیں۔ آپ فرماتے کہ نشا غیبت سے ڈرانا اور بچانا تھا۔ اس لیے کہ آدمی بڑا بھولا بھالا ہے، دشمن کی غیبت کر کے اس کو اپنی نیکیاں دے دیتا ہے۔ اور والدہ فرماتیں: کہ صدقہ سے بلا دور ہوتی ہے اور دینے والا ہاتھ ہمیشہ اوپر رہتا ہے۔ آپ بچپن میں جب والدہ سے دین کی بات سنتے تو تسلیم الفطرت ہونے کی بناء پر پورا تاثر لیتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے آپ خود بیان فرماتے ہیں: کہ میری والدہ نے قیامت کا منظر کھینچا کہ آسمان ٹوٹے گا اور زمین بے لگی وغیرہ وغیرہ۔ رات میں میں فرش پر سویا تھا اور چھوٹا بھائی چارپائی پر، خواب میں میں نے قیامت کا منظر دیکھنا شروع کیا۔ اتفاق سے چھوٹا بھائی چارپائی سے مجھ پر گرا۔ میں نے چلا نا شروع کر دیا کہ قیامت آگئی اور حساب دینا پڑے گا۔ والدہ نے چراغ جلایا اور فرماتے لگیں کہ عمر تم کیوں روتے ہو چھوٹا بھائی ہی تو گرا ہے؟ آپ آنکھیں بند کئے روتے ہوئے کہتے جاتے قیامت آگئی، گویا بچپن ہی سے خوف خدا اور خوف قیامت آپ کے رگ و ریشہ میں جا



گزیں ہو گیا تھا۔

آپ کی والدہ نے ایک مرتبہ مریم خالہ سے ایک حدیث سنی جس میں فرمایا گیا ہے: کہ جو قرآن سیکھ لے، تو اس کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا، جو نور کا ہوگا۔ حدیث سن کر آپ کی والدہ رونیں اور فرمایا: بیٹا! تو تو قرآن پڑھ لے اور بخاری شریف پڑھ لے۔ والد صاحب نے فرمایا: کہ اماں اسکول کی تعلیم کا کیا ہوگا؟ اماں نے کہا کہ کچھ بھی ہو، بس تو علم الہی حاصل کر لے۔

### اسکول کی تعطیلات اپنے وطن گٹھامن میں

بہر حال آپ کی والدہ اسکول کے زمانہ میں جو بچپن کا زمانہ ہے آپ کی تربیت فرماتی رہیں اور پانچ سال اسکول کے پورے فرما کر ۱۹۴۲ء کو تعطیلات گزارنے کے لیے آپ والدہ کے ہمراہ اپنے وطن گٹھامن میں آئے۔ انہی دنوں میں مولانا عبدالحفیظ صاحب جلال پوری (یوپی) مدرس ہو کر گٹھامن میں آئے۔ نہایت مخلص اور زاہد تھے۔ جب مدرسے میں مولانا کی والدہ نے آپ کو بھیجا شروع کیا تو استاد نے آپ کی ذہانت و فطانت دیکھ کر آپ کے ساتھ خصوصی محنت کی اور ایک ہی سال میں پچاس کتابیں پڑھ ڈالیں۔ جب سالانہ امتحان کا موقع آیا تو پالن پور سے حضرت مولانا نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ امتحان کے لیے تشریف لائے۔ جب آپ کی پڑھی ہوئی کتابوں کا امتحان لیا، تو آپ اچھے نمبرات سے کامیاب ہوئے۔ اس پر مولانا نذیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے متعجب ہو کر معلوم کیا کہ کس کا لڑکا ہے؟ والد چونکہ غیر معروف تھے۔ تو آپ کے دادا حاجی نصیر الدین کھر ڈیہ کا نام لیا گیا کہ ان کا پوتا ہے، تو آپ پھڑک اٹھے اور یہ پھڑک کیوں نہ ہو۔ حاجی نصیر الدین کھر ڈیہ وہ ہیں جب مولانا محمد نذیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے علاقے میں اصلاح کا کام جاری فرمایا، تو ان خطرناک حالات میں حاجی نصیر الدین گٹھامن کے ان چار حضرات میں سے تھے، جنہوں نے دین و ایمان کی صحیح راہ کو سب سے پہلے اپنایا تھا اور مولانا محمد نذیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی معاونت میں دست راست بنے رہے تھے۔ مولانا نذیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو حاجی نصیر الدین صاحب کی قربانی یاد آگئی اور اس قربانی کا ثمرہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ زہد و اخلاص سے متصف مولانا عبدالحفیظ صاحب جن کی تنخواہ اس وقت بیس روپے تھی، اپنے ہمراہ اپنی دو چھوٹی اولاد بھی لائے تھے۔ ہر جمعہ کو پالن پور پیدل (پانچ کلومیٹر دور) جاتے اور ضروری سامان کے ساتھ چھ عدد مولی بھی لاتے، جو ان کے ہفتہ بھر کے سالن کا کام دیتیں۔ چھ مولی الماری میں نفل لگا کر رکھ دیتے اور ہر روز ایک مولی کا سالن بناتے۔ اس طرح پورا ہفتہ نکالتے۔ آپ کے استاد ایک مرتبہ خارج اوقات میں مسجد میں حوض کے کنارے بیٹھ کر ہدیہ الخو کا سبق پڑھا رہے تھے کہ استاد زادہ عبدالحسیب جو چھوٹا بچہ تھا، آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا بھوک لگی ہے، ابا گھر جلدی چلو نہیں تو سب سینگی کھا جاویں گے یعنی مولی سب کی سب کھا جاویں گے۔ استاد بیس روپے لے کر نہ صرف یہ کہ مدرسے کے اوقات کے پابند تھے بلکہ خارج اوقات میں بھی پڑھایا کرتے تھے، شاگرد کے پڑھنے کا شوق و ذوق مخلص استاد کو پڑھانے پر مجبور کر دیتا ہے۔

حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری والدہ نے حضرت الاستاذ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پانچ روپے بطور ہدیہ بھیجے، تو رونے لگے اور پانچ روپے واپس کر دیئے اور فرمایا: کہ میں محمد عمر پر اپنی آخرت کے لیے محنت کر رہا ہوں۔ درمیان سال میں مولانا عبدالحفیظ صاحب اپنے وطن جانے لگے تو دادی صاحبہ کو پیغام بھیجا کہ میں آپ کے لڑکے کو اپنے ہمراہ اپنے وطن لے جانا چاہتا ہوں تاکہ اس کی پڑھائی کا نقصان نہ ہو۔ والدہ کی تمنا عالم بنانے کی تھی ہی۔ لہذا اس ننگی ترشی کے زمانے میں پچاس روپے بطور قرض لے کر والد صاحب کو عنایت کئے اور آپ اپنے استاذ کے ہمراہ روانہ ہو گئے۔

## دنیا قدموں میں آئے گی ..

انہیں دنوں میں ممبئی سے رشتہ دار آپ کی والدہ کے پاس پہنچ کر ذہن سازی کر رہے تھے کہ اسکول کی تعلیم میں اس کا نتیجہ اچھا ہے۔ ۲۶۔ رانی چھاپ سکہ انعام میں مل چکا ہے، پھر یہ مدرسہ کی تعلیم پڑھا کر مولوی بنانا کر گیا کرو گی؟ آپ کی والدہ نے فرمایا: کہ تم لوگ دنیا دنیا کیا کرتے ہو، دنیا تو اس کے قدموں میں آئے گی، انشاء اللہ۔ الغرض والد صاحب اپنے استاذ کے ہمراہ ان کے وطن روانہ ہو گئے اور استاذ نے پانچ چھ مہینے پڑھایا اور اس کے بعد آپ کو پہلی مرتبہ اکتوبر ۱۹۴۳ء کو دارالعلوم دیوبند میں داخل فرمایا۔ آپ کا امتحان داخلہ شیخ الادب حضرت مولانا اعجاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لیا اور آپ کو مطلوبہ کتابیں کنز الدقائق وغیرہ مل گئیں۔ ان دنوں آپ نے علم دین کی تحصیل میں خوب محنت کی یہاں تک کہ بائیس گھنٹے آپ پڑھتے صرف دو گھنٹے آرام کرتے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کی صحت متاثر ہوئی اور آپ کو تپ دق (ٹی بی) کا مرض لاحق ہو گیا۔ سالانہ امتحان سے فراغت کے بعد آپ ممبئی کے لیے واپس ہوئے۔ یہ واپسی ۱۹۴۵ء میں ہوئی۔ ممبئی میں کچھ مدت کے بعد ایک چلہ کی جماعت میں مرکز دہلی پہنچے۔ اس وقت حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو بھانپ لیا اور آپ کو مشورہ دیا کہ ممبئی میں رہ کر تعلیم پوری کرو۔ آپ اس سفر میں حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہو گئے۔ آپ نے ممبئی میں اپنے کچھ کاروباری مشغل کے ساتھ مدرسے میں تعلیم جاری رکھی۔ ہر موقع پر آپ کے لیے باری تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی سبب پیدا کر دیا، جو ہر وقت آپ کی رہبری کرتا۔ والد صاحب ابتدائی سے اپنے بڑوں کی بات دھیان میں لے کر عمل پیرا ہونے کے خوگر تھے اور اسی میں آپ کی ترقی کاراثر مضمحل تھا۔ باری تعالیٰ کی طرف سے ہر آن اسباب و وسائل جاری و ساری ہیں مگر ہر آدمی جدوجہد اور توفیق کے بقدر مستفید ہوتا ہے۔

## ممبئی میں دینی تعلیم اور نکاح

آپ کا نکاح ۳ مئی ۱۹۴۶ء کو ہوا اور رخصتی ۵ مئی ۱۹۵۰ء جمعہ کو عمل میں آئی۔ بہر حال حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرمانے سے آپ نے ممبئی میں رہتے ہوئے درسیات کی تعلیم اور مطالعہ جاری رکھا۔ آپ نے جلالین شریف کے سال میں بیان القرآن کا مکمل مطالعہ کر لیا۔ منگلی کندوری مسجد میں ۱۹۵۲ء میں امامت اختیار فرمائی۔ ان دنوں آپ بنتے ہیں مسلسل چھ دن پڑھنے میں مشغول رہتے اور ایک دن گھر جاتے۔ والدہ کو گھر میں دین و ایمان کی باتیں سناتے۔ اس وقت والدہ فرماتیں: ”تمہاری بات آج میں اکیلی سن رہی ہوں، مگر ایک وقت ہوگا کہ تم سے لاکھوں انسان دین و ایمان کی باتیں سنیں گے۔“ آپ کی والدہ کی دونوں پیشین گوئیاں باری تعالیٰ نے آپ کے حق میں من و عن پورا کر کے دکھادیں، پہلی پیشین گوئی یہ تھی کہ دنیا تیرے قدموں میں آئے گی اور دوسری یہ کہ دین و ایمان کی بات تم سے لاکھوں انسان سنیں گے۔ حضرت والد صاحب اس سلسلے میں فرمایا کرتے کہ جو بھی دین و ایمان کی محنت اخلاص اور استخلاص سے کرے گا، خدا اس کو دنیا پیر پڑی دیں گے اور جو دین و ایمان کی محنت نہ کرے گا، اس کو بھی دنیا ملے گی مگر سرچرھی ملے گی (یہ الفاظ بذات خود والد صاحب کے ہیں) اور آپ کی پوری زندگی اس کی شاہد عدل ہے۔

آپ کا تعلیمی سلسلہ جاری تھا جب کہ آپ کے گھریلو حالات پریشان کن تھے، مگر آپ عزم و ہمت کے پہاڑ بنے ہوئے ہر تن پڑھنے میں منہمک رہے۔ آپ نے ”مقلوۃ“ کے سال میں ”مظاہر حق“ کا مکمل مطالعہ کیا۔ گا ہے گا ہے تبلیغی کام میں عملاً شریک ہو کر چلے وغیرہ بھی لگاتے۔

## چار ماہ کے لیے تبلیغی جماعت میں

اسی اثناء مرکز دہلی سے ایک جماعت جس کے امیر قاری عبدالرشید خورشیدی تھے، بمبئی پہنچی تھی۔ اس نے آپ کی تشکیل چار ماہ کی کی۔ آپ چار ماہ کے لیے تیار ہو گئے اور جماعت کے ہمراہ اپنے بستر کے ساتھ اسٹیشن پہنچے۔ آپ کے رشتہ داروں کو معلوم ہوا تو وہ بھی اسٹیشن پہنچ گئے اور والد صاحب کے گھریلو حالات کی سنگی ترشی بنا کر جماعت میں جانے کا ارادہ ملتوی کرنے پر مجبور کیا مگر اس جماعت کے ایک ساتھی (منشی انیس ادارہ اشاعت دینیات) نے والد صاحب کو ایک طرف لے جا کر فرمایا: کہ بیویوں والا کام کرو گے، تو خدا تمہیں ضائع نہیں کرے گا بلکہ خداتم کو بھی چکائے گا اور تمہاری قوم کو بھی چکائے گا۔

مطلق آں آواز حق از شہ بود  
گرچہ از حلقوم عبداللہ بود

”وہ مطلق آواز شاہ حقیقی کی ہوتی ہے اگر چہ اللہ کے بندے کے حلق سے ہو۔“

والد صاحب نے بالآخر عزم معمم کر لیا اور بستر لے کر جماعت کے ہمراہ روانہ ہو گئے۔ والد صاحب فرماتے ہیں: کہ میرے یہ چار مہینے آج تک پورے نہیں ہوئے اور خدا کرے پورے نہ ہوں۔ باری تعالیٰ نے آپ کی یہ دعا بھی قبول فرمائی اور تاحین حیات اسی راہ میں مشغول رہے حتیٰ کہ اللہ ہی کے راستہ میں وقت موعود آ پہنچا۔

بہر حال یہ جماعت کام کرتے کرتے جب مرکز دہلی پہنچی، تو یہاں آپ کے مربی اور محسن حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے فرمایا: کہ اب تو محمد عمر تعلیم پوری کر لو۔ چونکہ آپ کی تعلیم مشکوٰۃ تک ہوئی تھی اور دورہ حدیث باقی تھا۔ والد صاحب جماعت کا وقت پورا فرما کر بمبئی پہنچے۔ آپ کی اس ساری نقل و حرکت میں بہت سے حوادث پیش آئے حتیٰ کہ آپ مقروض بھی ہو چکے تھے۔ بال بچوں کا بھی سوال تھا مگر فکر آخرت اور امت کا درد پیدا ہو گیا تھا اور تعلیم کو پورا کرنا بھی ضروری سمجھتے تھے۔ چونکہ یہی تمنا آپ کی مشفقہ والدہ کی تھی اور یہ تمنا آپ کے مربی حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بھی تھی۔ آپ کی والدہ صاحب فرانس اور چلت پھرت، بینائی و شنوائی سے معذور ہو چکی تھیں۔ ہر اعتبار سے حالات شدیدہ کا سامنا تھا۔ اس کے باوجود تعلیم کے لیے آپ نے سفر کا ارادہ فرمایا اور والدہ سے اجازت لی۔ والدہ نے فرمایا: بیٹا! ہم کو چھوڑ کر جاؤ گے؟ فرمایا: اللہ کے دین کو سیکھنے جا رہا ہوں۔ والدہ نے فرمایا: جاؤ بیٹا۔ آپ کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرا اور آپ اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہوئے تکمیل کے لیے دیوبند روانہ ہو گئے۔

## دوبارہ دارالعلوم دیوبند میں داخلہ

مبئی سے دہلی مرکز کی مسجد میں پورے رمضان کا اعتکاف کر کے آپ دارالعلوم دیوبند میں دوسری مرتبہ ۱۱ جون ۱۹۵۵ء کو داخل ہوئے۔ داخلہ امتحان میں کامیاب ہوئے اور مطلوبہ درجہ (دورہ حدیث) مل گیا۔ اس وقت دارالعلوم دیوبند میں یگانہ روزگار اساتذہ موجود تھے۔ خصوصاً شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ آپ کے بخاری شریف کے استاذ تھے۔ آپ تعلیم میں ہمہ تن مشغول ہو گئے مگر اپنے مربی حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحت پیش نظر رہتی تھی کہ تمہیں تعلیم بھی حاصل کرنا ہے اور تبلیغ بھی کرنا ہے۔ تبلیغ میں اس قدر منہمک نہ ہونا کہ تعلیم کا نقصان ہو اور تعلیم میں بھی اس قدر مشغول نہ ہونا کہ تبلیغ کا نقصان ہو۔ آپ نے اس نصیحت کے پیش نظر اپنے وقت کی ترتیب اس طرح جمائی کہ ہر ہفتہ میں چار گھنٹے تبلیغ کے لیے فارغ کرتے اور ہفتہ بھر کے کام کی ترتیب

ان چار گھنٹوں میں جمادیتے۔ اس طرح آپ کے دونوں مشغلے جاری رہتے۔ اس وقت دارالعلوم کیا، پورے ملک میں تبلیغ کا عمومی ماحول نہ تھا۔ اس لیے بعض طلبہ آپ کا مذاق اڑاتے تھے۔ مگر آپ لومۃ لائبریری کی پرواہ کیے بغیر تعلیمی اور تبلیغی دونوں کام انجام دیتے رہے۔ طلبہ کا عمومی ذہن یہ تھا کہ تبلیغ میں، غمی لگتے ہیں یا ذہن لگ کر غمی بن جاتے ہیں۔ جب سہ ماہی امتحان کے نتائج برآمد ہوئے، تو آپ اعزازی نمبرات کے ساتھ دورہ حدیث شریف میں اول نمبر پر کامیاب ہوئے۔ طلبہ اس کے بعد آپ کے معتقد ہو گئے۔ آپ نے اس سے خوب فائدہ اٹھایا اور تبلیغ کا کام خوب لیا۔

### والدہ کی وفات

جب آپ کی والدہ مرض الوفا میں مبتلا ہوئیں، تو رشتے داروں نے کہا کہ دیوبند سے محمد عمر کو بھی بلا لیں، تو فرمانے لگی: نہیں! اسے نہ بلاؤ۔ دین کے کام میں گیا ہوا ہے۔ میں تو خالی ہاتھ ہوں ہی، وہی ذریعہ آخرت بنے گا اور اگر اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ کیا لائی ہو؟ تو میں کہوں گی ایک چہیتے بیٹے کو تیرے راستے میں چھوڑ آئی ہوں جسے میں نے تیرے لئے جدا کیا ہے۔ جب انتقال کا وقت قریب ہوا تو والدہ نے فرمایا: کہ مجھے خوشبو آ رہی ہے حالانکہ ناک کا نمدت سے ماؤف ہو چکے تھے۔ اس کے بعد والدہ نے سلام کیا اور مسکرائیں پھر بیہوش رہیں۔ ہوش آنے پر گھر والوں نے معلوم کیا کہ اماں! آپ نے کس کو سلام کیا تھا اور کیوں مسکرائی تھیں؟ تو فرمایا کہ میں نے اپنے بیٹے محمد عمر کو دو فرشتوں کے درمیان دیکھا، تو اس نے سلام کیا اور بیٹے کو دیکھ کر مسکرائیں۔ اس کے بعد یہ عابدہ، زاہدہ خاتون دنیا کی تنگی برداشت فرما کر اپنے پیارے بیٹے کو فکر آخرت میں سنوار کر اللہ کے حوالے کر کے اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ (رحمہا اللہ رحمةً واسعة)

رحلت کا دن ۱۴۔ دسمبر ۱۹۵۵ء ہے۔ آپ نے اپنی والدہ کی خواب میں زیارت کی۔ آپ نے معلوم کیا کہ اماں! آپ کہاں ہو؟ تو عربی میں جواب دیا "ان افسى الجنة" میں جنت میں ہوں اور فرمانے لگیں: تم نے مجھے حج نہیں کرایا۔ اسکے بعد آپ نے اپنی والدہ کی طرف سے حج کروایا اور ایصال ثواب کیا۔

### بعض عورتیں پورے گھرانے میں دین لانے کا سبب بنتی ہیں

آپ فرماتے ہیں کہ بچپن میں میری والدہ ہر وقت مجھے ساتھ رکھتیں اور رات میں بھی جدانہ کرتیں اور دین و ایمان کی باتوں کو خوب سناتیں اور لمبی نماز پڑھاتیں اور لمبی دعا کرتیں اور خدا کا مالک و خالق ہونا سمجھاتیں۔ ایک مرتبہ محلہ میں ایک گھر فروخت ہوا، بو والدہ نے مجھ سے معلوم کیا کہ کس کا گھر فروخت ہوا ہے؟ جواب میں فرمایا: کہ اس گھر کا مالک پاری تھا۔ میرے منہ سے مالک کا لفظ سن کر والدہ ناراض ہو گئیں کہ مالک تو خدا ہے، تم نے پاری کو مالک کیوں کہا۔ بالآخر مریم خالہ کی سفارش و گزارش سے میری والدہ راضی ہوئیں۔ یہ تھا آپ کی والدہ کا زمانہ طفولیت میں انداز تربیت جو ہمارے لیے باعث عبرت ہے۔

جسے تو غم سمجھتا ہے خزانہ ہے مسرت کا  
جسے تو چشم تر کہتا ہے سر چشمہ ہے رحمت کا

### وقت کی قدر و قیمت

آپ کی طالب علمی کا زمانہ بھی نہایت تنگی ترشی سے گزر رہا تھا۔ چراغ جلانے کے لیے تیل نہ ہوتا، تو اس زمانے میں سڑک کی

لائسن کی روشنی میں مطالعہ کرتے۔ اپنا کوئی وقت ضائع نہ ہونے دیتے حتیٰ کہ رشتے دار مدرسے میں آتے، تو آپ کے منہ سے انا اللہ نکل جاتا کہ اب وقت ضائع ہوگا۔ جب کوئی ساتھی مدرسہ دکھانے والا مل جاتا، تو خوشی ہوتی کہ ضیاع وقت سے حفاظت ہوگئی اس قدر وقت کی بنیاد پر ششماہی امتحان میں بھی اعزازی نمبرات حاصل کئے۔ مولانا اس کی وجہ بیان فرماتے تھے۔ کہ پرچوں کے جوابات میں حاشیے اور شروحات کی بات کو بھی خوب لکھتا۔ اس کے علاوہ ان احادیث کے جوابات میں حضرت جی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے سنی ہوئی علمی باتوں کو موقع بہ موقع جوڑ دیتا اور یہ باتیں ممتحن کے لیے نئی چیزیں ہوتیں۔ اس طرح سالانہ امتحان میں اعلیٰ نمبرات کے ساتھ نمبر دوم پر دورہ حدیث میں کامیاب ہوئے اور ۸ اپریل ۱۹۵۶ء میں فراغت حاصل فرمائی۔

### لاکھوں انسانوں کو دین و ایمان کی بات سنانے کی ایک کامیاب مثال

ہندوستان اور بیرونی ممالک میں ہونے والے بڑے اجتماعات میں تقریباً آپ کا بیان خاص طور پر طے ہوتا اور لاکھوں انسان جم کر دین و ایمان کی باتیں سنتے اور آپ کی دین و ایمان کی باتیں کامل اخلاص اور درد کے ساتھ ولولہ انگیز ہوتیں۔ ہزاروں انسانوں کی زندگیاں بن جاتیں اور ہزاروں فسق و فجور والے راستے سے تائب ہوتے اور ہزاروں مردہ دلوں کو روح کا سامان مل جاتا اور ہزاروں انسان اپنے جان و مال کو اللہ کے راستے میں لگانے کا عزم معمم کرتے اور بڑی تعداد میں نقد نکلنے، تبلیغی جدوجہد کے لیے بیرونی ممالک میں اکیاسی مرتبہ تشریف لے گئے اور حج بیت اللہ کے لیے بیس مرتبہ۔ آپ کی یہ نقل و حرکت مختلف مقامات کے لیے اور بیانات تقریباً چالیس سال تک پورے عالم اسلام میں ہوتے رہے۔ بعض مرتبہ کئی لاکھ کا مجمع سننے والا ہوتا۔ اس قدر بیانات اور مقامات اور سننے والوں کی تعداد تاریخ میں بہت کم ملتی ہے، کہ ایک شخص واحد نے بے شمار انسانوں کو دین و ایمان کی بات سنائی اور پہنچائی ہو:

﴿ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾

یہ اسفار اور اٹھک جدوجہد اور اس کے نتیجے میں دین کی نسبت پر انسانوں کی نقل و حرکت کسی انسان کے بس میں نہیں ہے جب تک کہ خدا کی مدد شامل حال نہ ہو۔ یہ آپ کی سب سے بڑی کرامت تھی جو باری تعالیٰ نے آپ کے ہاتھوں صادر فرمائی اور خدائی وعدہ ہے:

﴿إِنْ تَنْصَرُوا لِلَّهِ يَنْصُرْكُمْ وَيُخْرِجْكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ﴾

جو بھی احیاء دین و ایمان کی محنت کرے گا، خدا اس کی مدد کرے گا مگر درد و اخلاص کے بقدر فیض یاب ہوگا۔ آپ کی ذات میں امت کا بے پناہ درد، خدا کی طرف سے ودیعت فرمایا گیا تھا۔ دین و ایمان کی دعوت کے بغیر آپ کی بے قرار طبیعت کو قرار نہ آتا تھا۔ آپ اکثر و بیشتر بیانات میں یہ شعر ترنم کے ساتھ والہانہ انداز میں پڑھتے۔

درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو  
درد نہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کڑویاں

بھوکوں کو کھانا کھلانا اور غلوں کو کپڑا پہنانا اور کسی حاجت مند کی حاجت کو پورا کر دینا یہ بھی درد دل میں داخل ہے۔ مگر سب سے بڑھ کر درد دل کا عمل جو ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ انسانوں کو جہنم کے راستے سے ہٹا کر جنت کے راستے پر لایا جائے اور ان کی ابد الٰہادی زندگی کی فکر و کوشش پیدا کی جائے، یہی درد اور فکر و کوشش انبیاء و کتبیبین دنیا میں لے کر مبعوث ہوئے تھے اور یہی شیوہ نائنیم انبیاء کا رہا ہے۔

یہ درامت آپ میں فزوں تر تھا جس کی بناء پر پورے عالم اسلام میں کئی معذور یوں کے ساتھ چلت پھرت کر کے پوری امت میں دین و ایمان کے پیدا کرنے کی جدوجہد فرمائی اور تاجین حیات اس جدوجہد میں کی گوارا نہ فرمائی۔

### اجتماعات میں آپ کے بیانات کی نوعیت

آپ بیان کی ابتداء میں خطبہ مسنونہ پڑھتے۔ خطبہ کے شروع ہوتے ہی مشغول اور منتشر حضرات مالوں آوازیں کر اجتماع گاہ کی طرف پروانہ وارد دہڑتے ہوئے جمع ہو جاتے اور بیان کے ختم تک مودب بیٹھے رہتے۔ عموماً آپ کے بیانات میں قرآنی قصص جن میں خدا کی مان کر زندگی گزارنے والوں کی کامیابی اور نہ ماننے والوں کی تباہی کا ذکر ہوتا، نیز جنت اور جہنم کا ذکر بھی تفصیلی ہوتا۔ جنت کا ذکر اس طرح فرماتے جیسے جنت پوری آرائش و زیبائش کے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہے۔ آپ اس کی نعمتوں کو دیکھتے ہوئے بیان فرما رہے ہیں۔ انشاء بیان میں آیات قرآنی اپنے مخصوص خوبصورت الحان کیساتھ تلاوت فرماتے، تو پورے مجمع پر ایک کیف کا سا بندھ جاتا اور ایسا معلوم ہوتا جیسا کہ قرآن دل میں اترتا جا رہا ہے۔ اس کے بعد توحید و معرفت کی باتوں کو محسوس مثالوں سے سمجھاتے اور خدا کی قدرت کو واضح گف بیان کرتے۔ الغرض تمام خوبیوں کا جامع بیان ہوتا، جس سے عوام و خواص یکساں طور پر مستفید اور محظوظ ہوتے اور گاہے یہ شعر بھی پڑھتے۔

در فیض محمد ﷺ وا ہے جس کا جی چاہے

نہ آئے آتش دوزخ میں جائے جس کا جی چاہے

اجتماع اور آپ کی ذات لازم و ملزوم تھے۔ اجتماع کا نام آتے ہی آپ کی ذات کا تصور دل و دماغ میں آ جاتا تھا۔ ملک کے کسی گوشے میں بڑا اجتماع ہوتا، تو آپ کا بیان ضرور ہوتا۔ بیان میں حقائق و معارف کی بڑی باتیں سیدھی سادی محسوس مثالوں سے عام طور پر لاکر بیان کرتے۔ سن کر ہر آدمی اپنے اندر روحانی کیفیت محسوس کرتا۔ ایک نو وارد اس قدر ضرور متاثر ہوتا، کہ وہ کم سے کم دعوت کے کام سے منسلک اور مانوس ہو جاتا۔ آپ کو بیان کا منجانب اللہ خصوصی ملکہ عنایت ہوا تھا۔ آپ ابتدائے بیان میں دین کا شوق و ذوق پیدا فرما کر رغبت پیدا فرمادیتے اور اپنی جان و مال کو دین کے کام کے لیے بے قیمت جلا کر اللہ کی راہ میں کھانے کو مقصد زندگی ثابت کرتے تھے۔ اس طرح پورے مجمع کی ذہن سازی فرما کر اخیر بیان میں شوق و ذوق کے ساتھ جوش بھی دلاتے، جس سے اللہ کی راہ میں نکلنا آسان ہو جاتا اور اجتماعی تشکیل میں ایسا انداز اختیار فرماتے، جیسا فرداً فرداً آپ تشکیل فرما رہے ہیں۔ ہر آدمی اپنی جگہ متفکر ہو جاتا، نام لکھوانے والوں کی اہم افزائی کرتے اور خصوصی دعاؤں سے نوازتے اور اس وقت پوری بشارت میں آ جاتے۔ جس قدر زیادہ نام آتے اسی قدر آپ کی خوشی میں اضافہ ہوتا رہتا۔ لاکھوں بندگان خدا خدا کی راہ میں نکل کر اپنی پچھلی زندگیوں سے تائب ہوتے اور صحیح راہ پر گامزن ہوتے اور آپ کی پوری زندگی کی نقل و حرکت سے صاف محسوس ہوتا، جیسا کہ آپ اسی کام کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ حقیقت بھی یہی تھی۔ ہوش سنبھالتے ہی آپ نے دعوت کے کام کو اپنا لیا تھا اور پوری زندگی یہی ایک مشغلہ رہا۔ یہی آپ کا اوڑھنا بچھونا تھا۔ آپ کے پاس ملنے والے خصوصی حضرات ہوں یا عام لوگ، ضرور ان کو اس کام کی دعوت دیتے۔ حسب موقع کم سے کم تین دین کی تشکیل کرتے۔ اس قدر گنجائش نہ ہوتی، تو ایک رات دن کی اور یہ بھی نہ ہوتا، تو صبح کا بیان سن کر جانے کے لیے آمادہ کرتے۔ شب و روز عمومی اور خصوصی طور پر یہی دعوت دین کا مشغلہ تھا۔ فرماتے: کہ قرون اولیٰ میں یہی دعوت کا کام مہتمم بالشان اور اصل اصول کے درجے پر تھا۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ

جنی اللہ نے دعوت کے کام کو اپنا لیا اور پوری دنیا پر چھا گئے۔ اگر آج بھی امت مسلمہ اس کام کو اصولی طور پر اپنالے، تو خدائی وعدہ جو صحابہ جنی اللہ کے زمانے میں پورا ہوا، آج بھی وہی وعدہ ہے۔ خدا اپنے فضل و کرم سے دینی اور دنیوی سربزری اور شادابی پیدا فرمادیں گے۔ آپ کی فکر و کوشش اور جدوجہد کے نتیجہ میں باری تعالیٰ اس کام کو پھیلانے اور سمجھانے کی نئی نئی راہیں آپ کو ودیعت فرماتا تھا۔ آپ اسی انداز سے امت مسلمہ کی رہبری فرماتے تھے۔

## آپ کی زندگی کے آخری ایام

آپ کا آخری حج ۱۹۹۷ء میں ہوا تھا۔ آخری حج بیت اللہ کے سفر سے واپسی ۲۹ اپریل ۱۹۹۷ء کو بستی حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ میں ہوئی۔ آپ کی طبیعت عرصہ سے علیل چل رہی تھی۔ کبھی صحت کبھی علالت رہتی تھی، مگر آپ عزم و ہمت کے پہاڑ تھے۔ کسی قدر صحت غالب دیکھتے۔ اپنے معمول کے مطابق بیان وغیرہ جاری رکھتے۔ ان دنوں میں حضرت مولانا کے وطن (گٹھامن) کے احباب و اعزہ مرکز بستی حضرت نظام الدین میں تشریف لائے تھے۔ مقصد یہ تھا کہ گٹھامن میں اجتماع جو مشورے سے طے ہوا تھا اس میں آپ کی شرکت ہو جائے۔ ان کے اصرار پر حضرت مولانا گٹھامن اجتماع کے لیے روانہ ہوئے۔ بذریعہ ہوائی جہاز دہلی سے احمد آباد اور پھر احمد آباد سے بذریعہ کار کا کوئی ”مدرسہ نذیریہ“ میں پہنچے۔ یہاں آپ کا مختصر بیان ہوا۔ جس میں ابتدائی طالب علمی کے دور کی باتیں بیان فرمائیں۔ اس کے بعد آپ اپنے وطن گٹھامن پہنچے۔ تین دن کا اجتماع تھا۔ الحمد للہ طبیعت اچھی رہی۔ اعزہ و اقرباء سے ملاقات ہوئی۔ گاؤں اور علاقے کے تمام حضرات سے تعارف کے ساتھ ملاقات کی حتیٰ کہ آپ اپنے بچپن کے ہندو ساتھیوں سے بھی ملے اور انہیں دعوت بھی دی۔

## آپ کا اہل وطن اور قوم سے آخری خطاب عام

یہ تقریباً ۱۷ مئی ۱۹۹۷ء کی تاریخ تھی۔ آپ کی وفات سے قریب چار روز پہلے اپنے گاؤں گٹھامن میں قوم سے آخری خطاب فرما رہے تھے۔ کسے خبر تھی کہ دین و ایمان کی روشنی پھیلانے والا آفتاب عنقریب غروب ہونے والا ہے۔ آپ نے اس بیان میں ابتدائی بیرونی اسفار کی کارگزاری پر روشنی ڈالی تھی اور اسلام اور مسلمانوں پر جو حالات آئے اس کی مثال میں دو صدیقی کے حالات دہرائے تھے اور اس وقت صحابہ جنی اللہ نے کس طرح عمل کیا۔ ہمیں بھی ان حالات میں یہ اعمال اختیار کرنے ہیں۔ اس پر مفصل روشنی ڈالی تھی، قوم و ملت کا ہمدرد اور نغمہ سار یہ آخری خطاب فرما کر ہمیشہ کے لیے عنقریب رنج سفر باندھنے والا ہے۔ سوائے علام الغیوب کے کوئی نہ جانتا تھا۔ بیان کے بعد سب معمول پورے جوش اور شوق و ذوق کے ساتھ پورے مجمع کی تشکیل فرمائی اور اللہ کی راہ میں نکلنے والوں اور ارادہ کرنے والوں کے لیے خصوصی دعائیں فرمائیں۔ اور اخیر میں پورے مجمع کو بلند آواز سے تین بار السلام علیکم کہا۔ سب نے بیک زبان، و علیکم السلام، سے جواب دیا اور دعا میں یہ الفاظ بھی فرمائے: کہ یا اللہ! اب میں ضعیف اور کمزور ہو چکا ہوں۔ یہ مجمع بڑی مشکل سے وجود میں آیا ہے، یا اللہ! تو اس مجمع کی حفاظت فرما، اس بندۂ خدا کو درد تھا اور چاہت تھی، تو یہ کہ ہر حال میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں لوگ اللہ کی راہ میں نکلیں اور قوموں اور ملکوں میں چلت پھرت کر کے بے دینوں اور بے طلبوں کو دین کی دعوت دے کر جنت والے راستے پر لے آویں۔ یہی ایک فکر اور کوشش تھی۔ مرتے مرتے اور کرتے کرتے مر گئے۔ بہر حال چار روز کے بعد بذریعہ کار گٹھامن سے احمد آباد آئے اور پھر دہلی کے لیے روانگی ہوئی اور دہلی مرکز (بستی حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ) پہنچے۔ صبح کو یوم عاشورہ پر معمول کے مطابق بیان ہوا۔ ۱۰۔ ۱۱۔ اور ۱۲۔ محرم ۱۴۱۸ھ کو مدراس کے اجتماع کے لیے سفر درپیش تھا۔ پہلے گنگوڑہ ضلع ایڈ میں اجتماع تھا۔ اس میں شرکت کے لیے

بذریعہ کار جانا طے ہوا تھا۔ ۲۱۔ مئی ۱۹۹۷ء کو صبح کے وقت میں نماز پڑھی اور خادم سے فرمایا: کہ اب مجھے گاڑی میں بٹھا دیا جائے تاکہ میری وجہ سے دوسروں کو انتظار کی تکلیف نہ ہو۔ آپ کے ارشاد کے مطابق گاڑی میں سوار کر دیا گیا مگر آپ کی طبیعت میں خاموشی زیادہ تھی۔ بہر حال سفر شروع ہوا۔ آپ کے ہمراہ اس سفر میں دو خادم تھے۔ آپ کی گاڑی خورجہ پہنچی۔ یہاں پہنچ کر دعا کرانا طے تھا۔ یہاں پہنچ کر والد صاحب نے استنجا کیا۔ آپ کی ہمت ٹوٹ چکی تھی۔ کچھ کھانے کی بھی ہمت نہ ہوتی تھی۔ فرمایا: مجھے دو اکل کر گاڑی میں بٹھا دو۔ جب آپ کو کہا گیا کہ گھنٹہ بھر آرام فرمائیں اور بعد میں آجادیں۔ اس پر والد صاحب نے فرمایا: کہ میں اکیلا رہنا نہیں چاہتا، قافلے سے الگ کہاں رہوں گا، مجھے تو ساتھ لے چلو۔ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد خادم نے آپ کی حالت زار دیکھ کر عرض کیا کہ حضرت! میں تو آپ کو مرکز (بستی حضرت نظام الدین) واپس لے چلتا ہوں۔ فرمایا کہ نہیں قافلہ والوں سے بات نہیں ہو سکی ہے۔ حالانکہ آپ کی طبیعت میں بے انتہا کمزوری محسوس ہوتی تھی اس لیے خادم نے کہا کہ قافلہ والوں کو میں اطلاع کر دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا: ہاں تاکہ انتظار کی تکلیف نہ ہو اور میری وجہ سے پریشانی نہ ہو۔ یہ آپ کی آخری دن سے پہلے والے دن کی باتیں ہیں۔ اس قدر تکلیف اور معذوری میں بھی دوسروں کو معمولی تکلیف دینا بھی گوارا نہ کیا۔ جب خادم نے کہا کہ علی گڑھ فون کر کے خبر دے دی گئی ہے، تب فرمایا: کہ واپس چلو اور جلدی کرو۔ یہ خورجہ سے آخری سفر کی واپسی ہو رہی ہے۔ جہاں سے دارالعلوم دیوبند سے فراغت کے بعد آپ کا تبلیغی ابتدائی سفر ہوا تھا اور جس جماعت کے امیر نے آپ کے ابتدائی چار ماہ کی تکفیل کی تھی، وہ بھی اسی خورجہ کے رہنے والے تھے یعنی قاری عبدالرشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دونوں کی قبریں بھی پاس پاس بنی ہوئی ہیں۔

### دین و ایمان کا نور اور روشنی پھیلانے والا آفتاب ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا

خورجہ سے واپسی میں سیدھا آپ کو ہسپتال لے جایا گیا۔ علاج و معالجہ کے بعد دوسرے دن افاقہ ہونے کی وجہ سے صبح گیارہ بجے بستی حضرت نظام الدین لایا گیا۔ خمین نے فرط محبت اور دیدار کی خوشی میں آپ کو ہاتھوں ہاتھ اٹھالیا اور آپ کے حجرے میں لٹایا گیا۔ کیا معلوم تھا اس دنیا کے جیل خانے سے طائر لاہوتی اپنا قفس چھوڑنے والا ہے۔ سب لوگ آپ کی صحت یابی پر مسرور تھے۔ آپ آرام فرما رہے تھے۔ تقریباً بارہ بجے دین و ایمان کا نور پھیلانے والا آفتاب ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ **اللہ والہ الیہ راجعون اللہم** اجرنا فی مصیبتنا واخلف لنا خیراً منہ

۲۲ مئی ۱۹۹۷ء کا دن امت مسلمہ کے لیے یہ عظیم حادثہ تھا۔ بجلی کی مانند خبر اطراف عالم میں پھیل گئی۔ اس حادثے نے بے شمار انسانوں کے دلوں کو تڑپا دیا۔ یہ امت مسلمہ کا عظیم غم خوار راتوں کو اٹھ کر خدائے بے نیاز کے سامنے گھنٹوں رونے والا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کا سچا درد رکھنے والا اور امت کی بے دینی پر کڑھنے والا اور دین و ایمان کا نور پھیلانے والا آفتاب آنا کا غروب ہو گیا اور امت اپنے عظیم محسن سے محروم ہو گئی اور پوری دنیا ماتم کدہ بن گئی۔ بازار بے رونق ہو گئے، چہار سواد اسی چھا گئی اور ہر جانب سے معتقدین اور عاشقین جوق در جوق آخری دیدار کے لیے آنے لگے۔ ہر ایک اس مسافر آخرت کا آخری دیدار کر کے ذکر و دعا اور تلاوت میں مشغول ہو گیا۔ کوئی آہ و فغاں کر رہا تھا کہ آہ ہمارا پرسان حال رہبر اب کون بنے گا۔ ایسا رہبر کمال، جو اللہ کی طرف اس خوش اسلوبی سے لے چلے، جس طرح یہ مرد مجاہد چلتا رہا۔ حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب اور حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب اور حضرت مولانا اظہار الحسن صاحب رحمہم اللہ تعالیٰ سب کے سب یکے بعد دیگرے رحلت فرما ہوئے، تو غم خواری اور تسلی دینے والا موجود تھا، جس



نے پوری امت کی خیر خواہی کی اور دعوت کے کام کی سطح کو سنبھالا اور بڑھایا بھی۔ آج یہ بھی داغ مفارقت دے گیا۔ ہر ایک مغموم اور حیرت میں ڈوبا ہوا تھا۔ مگر قضائے الہی پر رضا کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ عشا کی نماز تک بستی حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کے گلی کوچے انسانوں سے بھر چکے تھے۔ ازدحام کثیر ہونے کی بناء پر نماز جنازہ ہمایوں کے مقبرہ کے بالقابل پارک میں ہوئی پھر وہاں سے بیچ بھرا قبرستان میں جنازہ پہنچا، جہاں ایک چھوٹے سے حصہ زمین میں ایک طرف مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر ہے، دوسری جانب قاری عبدالرشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ خورجی کی اور تیسری جانب منشی بشیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اور درمیان میں پوری دنیا کو ہانگ دہاں اللہ کی بات پہنچانے والا تھکا ماندہ مسافر خود خاموش ہو کر سو گیا۔ زخمہم اللہ رحمة واسعة

## تعزیت نامے

احباب شوری رائے و نڈ کی طرف سے تعزیت نامہ

بقلم جناب عبدالوہاب صاحب دامت برکاتہم

دن کے ڈیڑھ بجے حادثہ فاجعہ کی خبر مل گئی تھی، ان اللہ وانا الیہ راجعون۔ ان للہ تعالیٰ ماخذولہ ما اعطی، وکل شیء عندہ باجل مستسئ۔ ہم سب کو بہت دلی صدمہ ہوا۔ سب اسی وقت اعمال اور دعائے مغفرت میں لگ گئے۔ ظہر کے بعد درس میں قرآن شریف پڑھے گئے۔ ایک ہی مجلس میں سترہ قرآن ختم ہو گئے۔ اب تک ایصالِ ثواب کا سلسلہ جاری ہے۔ ان کے جانے سے امت مسلمہ کا عموماً اور اہل تبلیغ کا خصوصاً بڑا نقصان ہوا۔ اللہم اجرنا فی مصیبتنا ہذیہ واخلف لنا خیراً امہ۔ حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں تبلیغی محنت میں شامل ہوئے اور بتدریج قربانی کے ساتھ آگے بڑھتے رہے، پھر اسی محنت کے ہو گئے اور مرکز بستی حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کی بہار بن گئے اور حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بیان کی ذمہ داری بھی انہی پر آگئی اور حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ جس شوری کے حوالے کام کر کے گئے، اس شوری میں وہ بھی شامل تھے۔ غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس تبلیغی محنت کو چلانے اور بڑھانے کے لیے جن حضرات سے کام لیا ہے، وہ ان میں سے ایک تھے۔ ہمارے یہاں سالانہ اجتماع میں وہی رونق تھی۔ مولانا ثواب جاچکے اور ان کے جانے پر صدمہ ہونا ایک طبعی چیز ہے، مگر اور ایسے موقع پر حوصلے اور ہمت سے کام لینا اور رضا بر قضا، مومن کی شان ہے، جب ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی برداشت کر رکھی ہے، جن سے ہمیں جان، مال، آل اولاد، عزیز واقارب، اساتذہ و مشائخ سے بھی زیادہ محبت ہے، تو ہمیں حضرت مولانا کی جدائی کو احسن طریقے سے برداشت کر لینا چاہئے۔ ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ خاص لطف و کرم کا معاملہ فرمائیں۔ بال بال مغفرت فرمائیں، اعلیٰ درجات سے نوازیں اور آپ کے سب پسماندگان کو صبر جمیل اور اجر جمیل عطا فرمائیں۔ ان کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو جن برکتوں اور رحمتوں سے نوازا رہے تھے، اب بھی ان سے نوازتے رہیں۔ اللہم لاتحرمتنا اجرہ ولا تفتننا بعدہ واغفر لنا ولہ۔ جس اللہ تعالیٰ نے نبوی محنت کو اس زمانے میں

شروع فرما کر یہاں تک پہنچایا اور اس محنت کی ترقی میں مولانا مرحوم کو ذریعہ بنایا، اسی نے مولانا مرحوم کو صفات مطلوبہ سے نوازا تھا اور وہی مولانا مرحوم جیسے صفات والے ہزاروں، لاکھوں افراد امت مسلمہ کو دے سکتا ہے۔ اسی مولانا کریم کی بارگاہ میں درخواست ہے کہ وہ اپنے خصوصی کرم سے اس تبلیغی محنت کی تکمیل فرمائے۔ اور اس کے ذریعہ سے سارے دین کو سارے عالم میں زندہ فرمائے اور اس کے لیے ساری امت مسلمہ کو قبول فرما کر صفات تبلیغ سے آراستہ فرمائے اور اہل تبلیغ کو مطلوبہ قربانیوں کے ساتھ تبلیغی محنت میں ظاہر ادا باطن ترقی کرنے والا بنائے۔

حضرات مرکز نظام الدین کی خدمت میں سلام مسنون اور مضمون تعزیت، اس وقت آپ سب کے دل شکستہ ہیں اور آپ کی دعائیں قبولیت کا خاص درجہ رکھتی ہیں، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ فقط والسلام

## مجلس شوریٰ دارالعلوم دیوبند کی طرف سے تعزیت

### منجانب مولانا مرغوب الرحمان صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند

مجلس شوریٰ دارالعلوم دیوبند کا یہ اجلاس حضرت مولانا محمد عمر پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات پر اپنے دلی رنج و غم کا اظہار کرتا ہے اور بارگاہ خداوندی میں حضرت مرحوم کی مغفرت اور ترقی درجات کے لیے دعا گو ہے۔

حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری مرحوم دارالعلوم دیوبند کے قدیم فاضل اور شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی قدس سرہ کے تلامذہ میں تھے، زمانہ طالب علمی ہی سے اپنی نیک سیرت، جدوجہد، مقصد سے لگن اور صالحین سے تعلق کی بنا پر مشہور تھے۔ طالب علمی کے زمانے میں ایک مرتبہ شدید بیماری کے سبب ترک تعلیم پر مجبور ہو گئے تھے۔ لیکن مقصد سے بے پناہ دلچسپی کے سبب کئی سال کی بیماری کے بعد پھر طلب علم میں لگ گئے اور کامیابی سے ہمکنار ہوئے۔

دارالعلوم دیوبند سے فراغت کے بعد موصوف تبلیغی جماعت سے وابستہ ہو گئے اور پوری زندگی دعوت و تبلیغ کے لیے وقف کر دی، اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان میں بڑی تاثیر عطا فرمائی تھی۔ ان کی تقریروں سے ہزاروں انسانوں کی زندگی میں انقلاب آیا اور اس طرح وہ اکابر دیوبند کے مقاصد عالیہ کی تکمیل کے لیے اپنی تمام توانائیوں کو صرف فرماتے رہے۔ موصوف کئی سال سے دارالعلوم تشریف لا کر اس مادر علمی کو خراج عقیدت پیش کرتے تھے اور دعوت و تبلیغ کے لیے طلبہ عزیز کی ذہن سازی فرمایا کرتے تھے۔ مجلس شوریٰ دارالعلوم دیوبند کے فرزند قدیم اور مسلک دیوبند کے قدیم تبلیغی ترجمان کی وفات پر اپنے دلی رنج و غم کا اظہار کرتی ہے اور موصوف کے صاحب زادگان، اہل خاندان اور جملہ متعلقین خصوصاً تبلیغی جماعت کے احباب کی خدمت میں تعزیت مسنونہ پیش کرتی ہے اور بارگاہ خداوندی میں دست بدعا ہے کہ وہ موصوف کی مغفرت فرمائے، درجات بلند کرے اور ان کی خدمات کو قبولیت کا شرف عطا کرے۔ (آمین)

## تعزیت نامہ

از طرف حضرت مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ

آج ہی دوپہر کو سفر طویل سے واپسی ہوئی، عصر کے وقت اطلاع ملی کہ حضرت مولانا محمد عمر پالن پوری کی رحلت ہو گئی ہے، بہت ہی صدمہ اور افسوس ہوا، اللہ تعالیٰ مولانا مرحوم کے مدارج کو بلند فرمادیں اور پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق بخشیں، داعیہ ہوا کہ فوری حاضری دوں مگر تعجب اور تکان اتنا ہے کہ قریب کی مسجد میں بھی حاضری نہ دے سکا۔ اس لیے چند کلمات تحصیل ثواب تعزیت کے لیے معروض ہیں۔

## تعزیت نامہ

از طرف حضرت مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب لاچپوری رحمۃ اللہ علیہ

مولانا محمد عمر صاحب بے حد قلمیں اور امت کا درد رکھنے والے اور عالم ربانی تھے، اللہ پاک نے مولانا مرحوم کو گونا گوں کمالات سے نوازا تھا، خود کو دین کے لیے وقف کر دیا تھا۔ رات دن ان کی زندگی کا ہر لمحہ دینی فکروں اور امت کے درد میں گزرتا تھا، متعدد امراض کے شکار تھے، مگر ان کی پروا نہ کرتے ہوئے ہر وقت دینی کاموں میں مشغول رہتے، اپنی راحت آرام کو دین کے لیے قربان کر دیا تھا۔ مرحوم کو احقر سے اللہ فی اللہ بڑی محبت تھی اور بہت ہی اخلاص سے ملتے تھے، حقیقت میں مجسم اخلاص تھے، روحانی طاقت اور تعلق مع اللہ کی قوت کا فرما تھی، ورنہ اتنے امراض کے باوجود اس قدر بڑی ذمہ داریوں کو سنبھالنا، انسانی طاقت سے باہر ہے، بس وہ دین ہی کے لیے زندہ تھے اور بیشک ﴿إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ کے مصداق تھے، ان کی وفات ملت اسلامیہ کا حادثہ ہے اور موت العالم کا مصداق ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی طرف سے مرحوم کو بہترین بدلہ عطا فرمائیں۔ بلند درجات نصیب فرمائیں اور مرحوم جن فکروں کو اور امت کا جو درد اپنے اندر رکھتے تھے، اللہ پاک ہمارے اندر بھی دین کی فکر اور امت کا درد نصیب فرمائے اور ہم سب کو بھی زندگی کے آخری لمحہ تک دین کے لیے قبول فرمائے۔ (آمین)

آپ سب حضرات سے عرض ہے کہ میرے لیے بھی ضرور دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائیں اور وقت موعود پر حسن خاتمہ نصیب فرمائیں۔ اسی طرح میرے اہل و عیال و اعزاء و اقربا و متعلقین، خدام اور احباب سے بھی اللہ پاک راضی ہو جائیں اور سب کو ایمان و اعمال صالحہ پر اشقامت اور اسی پر حسن خاتمہ نصیب فرمائیں اور ہم سب کو اور پوری امت کو ایمان و یقین اور ہدایت عطا فرمائیں۔ (آمین)

## تعزیت نامہ

از طرف حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب فیروز پوری پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ

مہتمم معہد علمی کتیز مرغوب پٹن (گجرات)

بعد تحیہ مسنونہ! بزرگان نظام الدین کے حالیہ سفر گجرات کے تذکرے ابھی زبانوں پر جاری ہی تھے، کہ اچانک یہ جان گداز اور روح فرسا خبر سنی کہ حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری جنہیں اب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہوئے انتہائی رنج و قلق ہو رہا ہے، اپنے قلب سلیم، روح جیاب، بے آزار طبیعت اور پاکیزہ شخصیت کے ساتھ خدا کے ہزاروں بندوں کو سوگوار اور اشکبار چھوڑ کر سفر آخرت پر روانہ ہو گئے۔ **إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ**

کیا خبر تھی کہ مولانا کے وطن میں ان سے یہ ملاقات اب آخری ملاقات ہوگی اور دعوت و تبلیغ اور ارشاد دین کا یہ چراغ جو عرصہ سے اپنی ناہمواری صحت اور طویل ضعف و علالت کے سبب چراغ سحری ہو رہا ہے، گل ہونے کے قریب ہے اور یہ سلسلہ خیر و برکت جلد ہی ختم ہونے والا ہے۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ کا اخلاص و اللہیت، تعلق مع اللہ، دعوت کے کاموں میں انہماک و استغراق، ایثار و قربانی کی کیفیت، تواضع و انکساری اور پھر اسی راہ کی موت برسوں دل کوڑ پاتی اور ان کی یاد تازہ کرتی رہے گی۔

﴿ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾

خبر سنتے ہی معہد میں تلاوت کلام پاک اور ایصالِ ثواب کا خصوصی اہتمام کیا گیا اور یہ سلسلہ تاہنوز جاری ہے۔

اللھم اغفر له وارحمه وادخله جنان الفردوس عندك ونور قبره وبرد مضجعه ووسع مدخله وامطر عليه شایب رحمتك۔ (آمین)

حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا انظہار الحسن رحمۃ اللہ علیہ کی بے درپے رحلت کے بعد اس نازک گھڑی میں اب مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی اٹھ جانا بظاہر ”مرکز دعوت و تبلیغ“ کے لیے ایک ایسا خلا ہے، جو بہت دور تک اور بہت دیر تک محسوس کیا جاتا رہے گا۔ دعا ہے کہ رب رحیم حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی مغفرت و رحمت سے نوازے، ان کے درجات بلند فرمائے، تمام اعزاز و پسماندگان، تمام مخلصین و مہین نیز تمام کام کرنے والوں کو اس صدمے پر صبر جمیل اور اجر جزیل عطا فرمائے اور دین کی محنت کے اس عالمی کام کی کھل حفاظت فرما کر آپ تمام حضرات کی پوری پوری رہنمائی و دستگیری فرمائے۔ (آمین)

## تعزیت نامہ

از احباب شوریٰ موریشس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

بعد سلام مسنونہ! اللہ جل شانہ آپ حضرات کے فیوض سے ہمیں مستفید فرمائے اور آپ حضرات کی زندگیوں میں برکت دے، آمین ثم آمین۔

کل صبح بعض احباب نے بذریعہ فون حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کی خبر سنائی، توشیق کے لیے ہم

نے ادھر ادھر فون کے ذریعہ پتہ لگایا، تو معلوم ہوا کہ خیر سچ ہے۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ۔ امت کی رہبری میں ایک ایسی کمی واقع ہوئی کہ شاید پر نہ ہو سکے گی۔ حضرت نے ساری زندگی دعوت و تبلیغ میں گزاری اور امت کو ایک ایسا راستہ دیا جس پر چل کر امت منزل مقصود تک پہنچ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ساری امت کی طرف سے ان کو بہت بہت جزائے خیر دے اور جنت میں اعلیٰ مقام نصیب کرے (آمین)۔ ساری امت ان کی کمی محسوس کرے گی، خصوصاً ہم موریشش والے کم نصیب ہیں کہ اجتماع کی تاریخ مقرر ہونے کے بعد حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے دیدار و استفادہ کرنے کا شدت سے انتظار کر رہے تھے اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہم سے جدا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ پسماندگان کو جو کہ ساری امت ہے، صبر جمیل کی توفیق دے اور باقی رہنے والے حضرات اکابرین کی قدر اور ان سے استفادہ کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ شوری موریشش کے سارے مسلمانوں بلکہ موریشش کے سارے مسلمانوں کی طرف سے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پسماندگان اور اکابرین کی خدمت میں تعزیت و سلام اور دعاؤں کی درخواست ہے۔ فقط والسلام

### تعزیت نامہ

#### از مسجد وار جماعت چپاٹا زامبیا

#### محترم و مکرم مولانا محمد یونس صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

بعد سلام مسنون! حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کی رحلت کی خبر آج دوپہر کو ٹیلی فون کے ذریعہ ہوئی۔ اور پورا ملک مغموم ہو گیا۔ کس کس کی تعزیت کی جائے۔ لاکھوں دل سوگوار اور آنکھیں اشکبار ہیں۔ وہ جو پوری امت کے سرمایہ حیات تھے، جو عالم میں روشنی کے مینار تھے، جو لاکھوں دلوں میں بیٹے تھے، جو روزانہ شیریں بیان سے امت کے ہزاروں انسانوں کو دعوت کے نکات اور اصول بتلایا کرتے تھے، جنہوں نے اپنے لیے اور دوسرے لاکھوں انسانوں کے لیے فی سبیل اللہ سفر کرنا اپنا محبوب مشغلہ بنایا تھا، وہ زندگی بھر کا تھا مسافر سارے قافلے کو چھوڑ کر منزل پر جا پہنچا، فَاِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ۔

رب رحیم حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کو جنت الفردوس میں بلند ترین مقام عطا کرے اور ان کے تمام پسماندگان کو خصوصاً اور محبین اور مخلصین کو عموماً اس شدید ترین صدمہ پر اپنی شایان شان صبر جمیل اور اجر جزیل عطا فرمائے اور باقی ماندہ حضرات اکابر کی عمروں میں برکت نصیب فرمائے اور ان کا سایہ ہم سب پر اور پوری امت پر تادیر قائم فرما کر ہم سب کو اور تمام کام کرنے والوں کو بلکہ پوری امت کو حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پر چلنے کی ہمت اور توفیق ارزانی کرے، آمین وما ذالک علی اللہ بعزیز۔

#### خصوصیات، صفات اور معمولات

اس کے نفس گرم کی تاثیر ہے ایسی

ہو جاتی ہے خاک چمنستاں شرآمیز

① دعوت دین کی بھرپور لگن کے ساتھ اصول دعوت کی پوری پوری رعایت فرماتے، حوصلہ شکن حالات میں نتائج سے بے پروا ہو کر دعوت دین کے عمل میں مشغول رہتے۔ تحسک اور اکتاہٹ کی پرواہ کیے بغیر، کسی شخص کو دین کی بات پہنچانے کا جہاں موقع مل جاتا

اسے غیبت شمار کر کے پہنچانی دیتے۔ ساتھ ہی اصول کا بھی لحاظ فرماتے کہ داروغہ بن کر اس کے پیچھے پڑنے کے بجائے اپنی بات موثر انداز میں کہہ کر فارغ ہو جائے۔ پھر جب دیکھتے کہ اس پر عمل نہیں ہوا، تو پھر موقع دیکھ کر خوبصورت انداز میں کہتے لیکن نہ مسلط ہونے کا طریقہ اختیار فرماتے اور نہ مایوس ہو کر بیٹھ جاتے۔

اور مخاطب کے ساتھ مشفقانہ لہجہ اختیار فرماتے جس میں اپنی برتری اور مخاطب کی تحقیر کا کوئی شائبہ نہ پایا جاتا اور دین کی بات کہنے میں موقع اور ماحول ایسا تلاش کرتے، جو مخاطب کے لیے زیادہ موثر ثابت ہو، نیز انداز بیان اور اسلوب ایسا اختیار فرماتے جو نرمی، ہمدردی اور دلسوزی کا آئینہ دار ہو، مخاطب آپ کے کمال اخلاص کی حلاوت محسوس کرتا اور اس کا دل بے اختیار پکار اٹھتا کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے اس سے رضاء الہی اور کمال خیر خواہی کے سوا کچھ اور مطلوب و مقصود نہیں، لہذا وہ مستفید اور مطمئن ہو کر عمل پیرا ہو جاتا۔

حکمت و دانائی و عشق و محبت کا نشان

پھونک دیتا تھا رگوں میں زندگی جس کا بیان

⑤ والد صاحب دعوت دین کی نقل و حرکت کے لیے جس طرح دوسروں کی تکمیل کرتے تھے، خود بھی حسب ضرورت مرکز سے باہر رہتے تھے اور مہینوں باہر گزارتے تھے۔ حالانکہ مرکز میں آپ کی موجودگی بے حد ضروری تھی، تب بھی دعوت دین کی اہمیت کے پیش نظر ہندو پاک کے متعدد اجتماعات اور مدارس و مراکز کے خصوصی مجموعوں نیز افریقہ، امریکہ، آسٹریلیا، یورپ وغیرہ بیرونی ممالک کے دور دراز اسفار کرتے اور اجتماعات میں شرکت کرتے، حج کا فریضہ ادا کرنے کے بعد نقلی حج اور عمرے کے لیے جماعتیں لے لے کر کئی مرتبہ حجاز مقدس پہنچے اور وہاں مسلمانان عالم کے اجتماع سے بھرپور دینی مقاصد حاصل کئے ملکوں کے لیے وہاں سے جماعتیں روانہ کیں، مقدس مقامات میں دنیا کے مسلمانوں کے لیے عموماً اور ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے خصوصاً فلاح و عافیت اور روحانی ترقی کے لیے دعائیں کیں اپنی فکر کامل اور سعی بلیغ کے ذریعہ عالم اسلامی سے خصوصی ربط پیدا کر کے ملکوں میں دعوت دین کی منت نئی راہیں کھولیں۔

کون نکلے گا خدا کی راہ میں دیوانہ وار

دیں کی خاطر ٹھوکریں در در کی اب کھائے گا کون

آسمان زہد و تقویٰ پیکر حسن و یقین

اب ہمیں راہ توکل آہ سمجھائے گا کون

⑥ ممالک عرب و عجم میں دعوت دین کی اس قدر اشاعت ہو جانے اور آپ کی شخصیت مشہور اور مقبول ہو جانے کے بعد بھی کبھی آپ نے خود تو کیا کسی دوسرے کو بھی اجازت نہ دی کہ خصوصیت کے ساتھ ان کی شخصیت کی طرف دعوت دی جائے یا اجتماعات میں ان کے بیانات کا اعلان کیا جائے بلکہ ہمہ دم اللہ کی مخلوق کو اس کے خالق اور خالق کے کام کے ساتھ جوڑنے کی جدوجہد فرماتے رہے۔ امت کے مختلف طبقات کو باہم قریب کرنے کی جو تعلیم آپ دیتے تھے۔ خود آپ کی ذات اس کا بہترین نمونہ تھی۔

ایک مرتبہ اہل مجلس نے دیکھا کہ آپ نے حدیث پڑھانے والے اپنے ایک معاصر ساتھی کے ہونٹوں کو بوسہ دیا اور فرمایا: کہ ان ہونٹوں سے ہر وقت قال اللہ قال الرسول کا ورد رہتا ہے۔ اس لائق ہیں کہ ان ہونٹوں سے برکت حاصل کی جائے۔

⑦ دعوت دین کی تحریک آپ کے آخری دور میں ہمہ گیر اور عالمگیر ہو جانے کی وجہ سے ہر خطے اور ہر ملک میں مسجد دار جماعت اور مشورہ کی جماعت بن چکی تھی۔ باہم مشورہ میں اختلاف اور انتشار کے بازگشتوں میں اختلافات کو خوش اسلوبی کے ساتھ اس طرح

رفع کرتے جس سے احباب میں پہلے کی نسبت زیادہ میل محبت ہو جاتی اور کام کی مقدار بھی بڑھ جاتی۔ اگر کسی علاقے یا فرد میں بے اصولی ہوتی، تو اس پر فوری روک نہ لگاتے بلکہ حسن تدبیر کے ساتھ تدریجی طور پر ان کو اصول پر لے آتے، جس سے علاقے میں دعوت کا کام بھی قائم رہتا اور وہ فرد بھی کام سے جڑا رہتا اور اصول کا مقصد بھی حاصل ہو جاتا۔ نیز بعض موقعوں پر امت کے فاسد خون کو نکالنے کے لیے نثر ضرور لگاتے مگر اس کے بعد ان کے مرہم لگانے کا جو انداز ہوتا اس سے نثر کی تکلیف جاتی رہتی۔

⑤ آپ کو اس بات کا کامل یقین حاصل تھا کہ ایمان و یقین کے بغیر امت مسلمہ میں کوئی تغیر اور انقلاب پیدا نہیں ہو سکتا ہے، اس کے بغیر کوشش کرنا اسلام کی روح اور اس امت کے مزاج کے خلاف ہے چونکہ اس امت نے قرن اول میں ایمان کے بل بوتے پر ہی کامیابی حاصل کی ہے اور بحرور پر چھا گئی ہے اور ایمان ہی کے کمزور ہونے سے اختلاف و انتشار میں مبتلا ہو کر اپنی جمعیت کھو بیٹھی ہے۔

لہذا آپ کے بیان کا موضوع ہی ایمان و یقین تھا اور یہ یقین رگ و ریشہ میں پیوست ہو گیا تھا، لاکھوں کے مجمع کو پوری قوت اور دلسوزی کے ساتھ ایمان و یقین کی باتوں کو واضح و گف بیان فرماتے۔ نیز آخرت پر یقین خدا کے وعدوں پر اعتماد، توکل، جنت و جہنم کا مؤثر تذکرہ، روح انسان کی حقیقت و اہمیت، نبی حقائق کا اثبات اور مادیت کا انکار، رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی پاکیزہ زندگی اور ان کے بصیرت افروز نمونے، دعوت کی طاقت اور اس کی تاثیر و تسخیر، انہی باتوں پر آپ کا بیان مشتمل ہوتا تھا اور ہر طبقہ اور ہر طبقہ کو کوئی نہ کوئی پہلو ضرور متاثر کرتا تھا، اس میں آپ کے ایمان و یقین کی بھرپور کیفیت کا بھی دخل تھا۔

حضرت والد صاحب کو امت مسلمہ کے ہر طبقے اور ہر طبقے میں اللہ تعالیٰ نے مقبولیت اور محبوبیت عطا فرمائی تھی، لاکھوں آدمی آپ کے گردیدہ تھے، غیر ممالک کے اہل درددل و فکر بھی اس کی تمنا کرتے تھے کہ والد صاحب ان کے ملکوں میں تشریف لائیں اور اپنے اصول و شیریں بیانات سے مستفید اور محفوظ فرمائیں اور آپ سے استفادہ کو باعث فخر و اعزاز محسوس کرتے تھے۔

⑥ اپنے تمام اکابر کے ساتھ خادمانہ اور نیاز مندانہ تعلق رکھتے تھے بالخصوص شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ اور حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رضی اللہ عنہ سے تو بے حد محبت اور عقیدت تھی۔ ان بزرگوں کی جدائی سے والد صاحب کو جو صدمہ پہنچا تھا اس کو حد تحریر میں نہیں لایا جاسکتا ہے۔ آپ ان بزرگوں کے ساتھ کمال ادب و احترام اور تعظیم و اکرام کا معاملہ فرماتے تھے۔ آج کے دور میں بزرگوں کے ساتھ یہ محبت، یہ خلوص، یہ جذبہ تعظیم و تکریم نایاب نہ سہی کیا اب ضرور ہے۔

⑦ آپ ان بزرگوں کے متعلقین کا بھی بڑا احترام اور اعزاز فرماتے نیز مرکز کے تمام رفقاء اور بیرون مرکز کے تمام کام کرنے والوں سے جن میں امیر و غریب، تاجر و کاشت کار اور ملازم، کالج اور یونیورسٹی کے اساتذہ اور طلبہ اسلامی مدارس کے معلمین اور متعلمین، ڈاکٹر اور انجینئر ہر طبقے کے افراد ہوتے، سب سے درجہ بدرجہ اکرام اور شفقت و محبت سے پیش آتے تھے۔ سب کام کرنے والوں کی طرف سے اپنا دل صاف رکھتے تھے اور اس کا پورا اہتمام کرتے تھے کہ اگر کسی کی کوئی ہی معلوم ہو جاتی، تو حکمت عملی سے اس کا تدارک فرماتے اور اپنی کسی چوک پر بڑی ہو یا چھوٹی معافی طلب کرنے میں کوئی عار محسوس نہ فرماتے اور علماء دین سے استفادہ کرنے میں کسی طرح کا تکلف اور حجاب نہ فرماتے تھے۔

⑧ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رضی اللہ عنہ سے قرآن حفظ کرنے کے بارے میں استصواب فرمایا، تو حضرت جی رضی اللہ عنہ نے جواب میں فرمایا: کہ دعوت کی مشغولی کے ساتھ نبھ جائے تو بہتر ہے۔ چنانچہ مسجد نبوی میں واقع ریاض الجنۃ میں حضرت

جی بوسیدہ ہی سے حفظ قرآن کی ابتداء فرمائی اور دعوت کے شغل کے ساتھ چار سال کی مدت میں پورا قرآن پاک حفظ کر لیا تھا اور اس کا ختم بھی حضرت جی بوسیدہ کے پاس ریاض الجہنہ میں قرآن پاک کی آخری آیتیں سنا کر کیا۔ چونکہ آپ نے بڑی عمر میں حفظ قرآن کیا تھا اس وجہ سے اپنے عام بیانیوں میں یہ بات فرماتے تھے کہ اکثر بچپن کے حافظ ہوتے ہیں اور میں بچپن کا حافظ ہوں۔

① حضرت والد صاحب مرحوم کو قرآن پاک سے والہانہ تعلق تھا۔ جہاں موقع ملتا قرآن پاک کی تلاوت شروع فرمادیتے، اسی تعلق کی بناء پر دعوت و تبلیغ کی ہمہ گیر مشغولیت کے باوجود بڑی عمر میں حفظ قرآن پاک کی دولت بھی حاصل کر لی اور اپنے عمومی اور خصوصی بیانات میں نعلیہ مسنونہ کے بعد اور دوران بیان بڑے والہانہ انداز میں کیف و سرور کے ساتھ قرآن پاک کی آیتوں کی تلاوت فرماتے، ایسا محسوس ہوتا کہ وہ کہہ رہے ہیں۔

قرآن میں ہو، غوطہ زن اے مرد مسلمان

### سادگی اور تواضع

آپ کی ذات میں سادگی اور تواضع کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، جس زمانے میں آپ مرکز دہلی میں بغیر اہل و عیال کے تہا قیام پذیر تھے، تو ایسے حجرے میں جہاں دو تین حضرات آپ کے ساتھ رہتے تھے آپ بغیر چار پائی کے نیچے فرش پر بستر لگا کر آرام کرتے، عام طالب علموں کی مانند بے تکلف رہتے۔ ملک اور بیرون ملک کی بڑی بڑی شخصیتیں آتیں، آپ اسی حجرے میں فرش زمین پر بیٹھ کر بے تکلف باتیں کرتے۔ فضل و کمال کے ہوتے ہوئے اس قدر سادگی اور تواضع واردین کو متاثر کیے بغیر نہ رہتی۔ دنیوی چیزوں سے بے رغبتی کی وجہ سے بے خبری کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ راقم الحروف بھی اسی مجلس میں تھا آپ نے اہل مجلس سے فرمایا: کہ میرا کرتا لٹا ہے یا سیدھا؟ سبھی نے جواب دیا کہ کرتا سیدھا ہے۔ اس سوال کی وجہ دریافت کی گئی، تو آپ نے فرمایا: سال گذشتہ میرا فریقہ کا سفر ہوا تھا۔ جب میں فریقہ کے ہوائی اڈے پر اترا تو وہاں کے احباب نے بتایا کہ مولانا کا کرتا لٹا ہے تو میں نے ہوائی اڈے پر ہی کرتا سیدھا کیا تھا۔ آج بھی میرا فریقہ کا سفر ہے، اس لیے معلوم کر رہا ہوں کہ سال گذشتہ کی طرح نہ ہو چونکہ آج کل کپڑوں کا لٹا سیدھا واضح نہیں ہوتا ہے۔

باوجود کمالات کے آپ نہایت متواضع اور منکسر المزاج تھے۔ کبھی اپنے آپ کو کسی دوسرے پر ترجیح نہ دیتے تھے۔ ہر ایک کے ساتھ ملے رہتے تھے۔ کبھی اپنے لیے خصوصی امتیاز کے روادار نہ ہوئے۔ حضور ﷺ کا فرمان ہے:

من تواضع لله رفعه الله

”جس نے اللہ کے لیے عاجزی کی اللہ تعالیٰ اس کو سر بلند کرتا ہے۔“

آپ اس حدیث کے صحیح مصداق تھے۔ آپ کی سادگی اور تواضع کے طفیل باری تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں آپ کی عزت و عظمت کے انٹ نفوش قائم فرمائے اور بے مثال محبوبیت عنایت فرمائی۔ خدائے پاک اس پیکر خلوص کے نقش قدم پر ہمیں بھی چلنے کی توفیق بخشے۔

ہرگز نہ میرد آنکہ دلش زندہ شدہ عشق

ثبت ست بر جریدہ عالم دوام ما



رہیں دنیا میں اور دنیا سے بالکل بے تعلق ہوں  
پھر دریا میں اور ہرگز نہ کپڑوں کو لگے پانی

### صبر و تحمل اور شفقت

آپ کی عمر کا اکثر حصہ دعوت دین کے عمل میں مصروف رہا ہے جس میں بہت سی ناہمواریوں اور ناگوار خاطر امور سے واسطہ پڑا مگر صبر و تحمل کا دامن کبھی بھی ہاتھ سے نہ چھوٹا، کبھی کوئی شکوہ، شکایت زبان پر نہ آئی۔ وقت ملاقات و مصافحہ بعض عوام الناس کی جانب سے خلاف طبع طرز عمل یا اپنی ضرورت کے اظہار کے لیے آپ کو بے موقع تکلیف دینے کے باوجود آپ نہایت تحمل اور خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آتے اور ان کی دلجوئی بھی فرماتے اور اطمینان سے سب کی بات سنتے اور فرماتے، غرباء اور مساکین کی دعاؤں سے میں چل رہا ہوں۔ کسی کو کیا خبر ان پر کیا گزرتی ہے اور ان کے احوال سن کر رویا کرتے اور اس وقت اپنی ابتدائی زندگی کی حالت بھی بیان فرماتے کہ میری والدہ محترمہ اگرچہ نادار تھیں مگر غرباء اور مساکین سے ہمدردی کرنے کو کہا کرتیں اور جتنا اپنے پاس ہوتا اسی میں سے دے دیا کرتیں۔ آپ بھی مستحق کی امداد کرتے۔ آپ خدمت خلق کو سب سے اعلیٰ عمل سمجھتے اور اس کا خوب خیال فرماتے۔ باقاعدہ مستحقین حضرات کی فہرست اور موقع بہ موقع ان کی امداد کرتے اور غریب طلبہ کی مدد کرتے۔ نیز علماء کرام کی خدمت میں ہدیہ پہنچانے کا بھی آپ کا معمول تھا۔

ایک مجلس میں ایک طالب علم جو آپ سے قرض کی کچھ رقم لے گیا تھا جب واپس ادا کرنے آیا تو آپ نے وہ رقم طالب علم ہی کو عنایت کر دی۔ اس کے بعد اہل مجلس سے فرمایا: نبیوں والا کام کرنا اور بیوں والا حساب رکھنا مناسب نہیں۔

طریقت بجز خدمت خلق نیست

زیچ و سجادہ و دلق نیست

”طریقت خدمت خلق کا نام ہے، زیچ، مصلیٰ اور گدڑی کا نام نہیں ہے۔“

اجماع سنت کا بہت اہتمام فرماتے، آپ کی زندگی سنت کی پیروی اور رسول اللہ ﷺ کی محبت کی پر تو تھی۔ ہر وقت اور ہر عمل میں ادعیہ مسنونہ و ماثورہ کا خاص اہتمام فرماتے۔ آپ کی زندگی کا محبوب مشغلہ ہی احیاء سنت تھا۔ اپنے بیانوں میں سنت کی پیروی اور ہر ہر سنت کو زندہ کرنے کی پر زور دعوت دیتے تھے۔ خاص کر یہ فرماتے تھے کہ حضور ﷺ کی ایک بات کا پورا کرنا اللہ کی مدد و ترانا ہے اور حضور ﷺ کی کسی ایک بات کا چھوٹ جانا اللہ کی غیبی مدد کا ہٹ جانا ہے۔

والد صاحب ﷺ کے شب و روز کے اوقات معمولات سے گھرے رہتے۔ کوئی گھڑی ضائع کرنا گوارا نہ فرماتے۔ صبح ڈھائی گھنٹے کا بیان اور کام سے متعلق امور کا مشورہ اور خطوط کے جوابات اور اوراد و مشاغل کے علاوہ کتابوں کے مطالعہ کے لیے بھی ضرور وقت نکالتے خصوصاً حیاۃ الصحابہ کے لیے فرماتے کہ اس کا کچھ حصہ ضرور مطالعہ کرنا ہوں اور میرا تجربہ ہے کہ اس میں صحابہ رضی اللہ عنہم کی زندگی کے نشیب و فراز اور زندگی کے ہر پہلو پر واضح ہدایات کی وجہ سے تحریک دعوت کے قیمتی اصول مل جاتے ہیں۔ نیز صحابہ رضی اللہ عنہم کے حالات و واقعات بڑی خیر و برکت کا سبب ہیں۔ پوری امت کے لیے قابل تقلید نمونہ اور ذریعہ نجات و برکات ہیں۔ حضرت والد صاحب نے مرض الوفا میں مجھ سے فرمایا: کہ مرکز نظام الدین میں تقریباً پینتیس (۳۵) سال رہا ہوں اور مرکز کی بجلی اور پانی کو استعمال کیا ہے۔

لہذا میرے انتقال کے بعد پچاس ہزار روپے مرکز کے حساب میں جمع کرادینا۔ اللہ کا شکر ہے کہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وصیت ہوئی اور اس مذکورہ رقم کو اسی وقت جمع کروادیا۔

اپنے مقصد زندگی کی لگن اور دھن میں جہاں دعوت و تبلیغ کے لیے عالمی طور پر فکریں کرتے تھے وہیں اپنے گھرانے کی تربیت کی بھی فکر میں رہتے تھے۔ دعوت و تبلیغ کے لیے جہاں لوگوں کی خروج فی سبیل اللہ کے لیے تشکیل فرماتے رہے وہیں علم دین سے محروم علاقوں میں مکاتب اور مدارس کے زیادہ سے زیادہ قیام کے لیے بھی ہر ممکن کوشش و سعی فرماتے تھے اور اپنے اثر و تائید سے اس کار خیر کو ترقی و تقویت پہنچاتے تھے۔

والد صاحب کی خواہش تھی کہ زندگی کے ہر شعبہ میں دین زندہ ہو اور فرماتے تھے دعوت دین کی جدوجہد کا مقصد بھی یہ ہے کہ امت میں دین کی طلب پیدا ہو، جس سے دین کے تمام شعبے ترقی پزیر ہوں۔ ان جملہ فکروں میں ایک فکر اپنے علاقے اور برادری کے لوگوں کے معاملات صحیح اسلامی نچ پر لانے کے لیے تھی۔ علاقے کے عوام اور علماء و قوم کو برابر توجہ دلاتے رہتے تھے۔ جس کے نتیجہ میں اپنے علاقے کے ممتاز علماء اور بڑے کاروباری حضرات کے مستقل مذاکرے ہوئے اور اصلاح معاملات کے لیے فکر مند ہوئے، معاملات کی ظاہری اور باطنی جو کچھ اصلاح ہوئی اس میں والد صاحب کی توجہ اور فکروں کا بھی بڑا حصہ ہے۔

آں لطافت پس بدان کز آپ نیست

جز عطاء مبدع وہاب نیست

”یہ مہربانی آپ و گل کی نہیں ہے، صرف پیدا کرنے والے اور عطا کرنے والے کی بخشش ہے۔“

### مرکز نظام الدین میں متواتر تیس سال تک بعد فجر مفصل بیان

مرکز نظام الدین میں بعد فجر ہونے والا یہ طویل اور مفصل بیان ہمیشہ غیر معمولی اہمیت و حیثیت کا حامل رہا ہے۔ مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان سے قبل حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان خود فرماتے تھے۔ لیکن حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور امارت میں یہ بھاری ذمہ داری خود قبول کرتے ہوئے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سوئپ دی تھی اور حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی رفاقت کا حق بھر پور طریقہ سے ادا کرتے ہوئے اس بیان کو متواتر تیس سال تک جس عزم و استقلال اور ہمت کے ساتھ جاری رکھا اور اس امانت کا حق ادا کیا وہ دعوت و تبلیغ کی تاریخ میں فراموش نہیں کیا جاسکتا۔

حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی دعوتی و تبلیغی معاملات و امور میں آپ پر بڑا اعتماد رہا۔ بالخصوص آپ کی تقریروں پر جو دعوت و تبلیغ سے بھر پور ہوتی تھیں، بہت انشراح و اطمینان تھا۔ بسا اوقات خواص کے مجمع میں بھی آپ اس کا برملا اظہار فرمادیا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ کے ابتدائی دور کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ دونوں حضرات مسجد نبوی سے نکل رہے تھے۔ عرب ممالک میں دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والوں کا ایک منتخب مجمع سامنے تھا۔ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان حضرات سے مصافحہ کر کے اس مجمع سے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف ہذا شیخ عمر لسان الدعوة والتبلیغ کہہ کر کرایا۔

(سوانح مولانا انعام الحسن صاحب کا مدخلی جلد اول ص ۳۰۵)

حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد مرکز نظام الدین میں فجر کے بعد والا طویل بیان جب حضرت

والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذمہ آیا، تو اس کی ابتداء میں یہ نوعیت ہوئی کہ مرکز میں مولانا کے بیان کے وقت ایک جانب شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ تشریف فرما ہوتے اور دوسری جانب حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما ہوتے۔ دونوں بزرگوں نے پندرہ دن تک بیان سنا، پھر تین دن تک دونوں بزرگ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کے پاس بیان ختم ہونے تک مراقب رہے۔ جب حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ سہارنپور تشریف لے جانے لگے تو حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا: کہ مولوی محمد عمر کے بیان میں تمہیں چالیس روز تک اہتمام سے بیٹھنا ہے جب چالیس دن پورے ہوئے، تو حضرت شیخ الحدیث قدس سرہ سہارنپور سے تشریف لے آئے پھر ایک ہفتہ تک دونوں بزرگوں نے مراقب ہو کر بیان سنا۔ اس کے بعد حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا: کہ اب بیان سننے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے بات دنیا میں چلا دی۔

دوسرے موقع پر چند مہینوں کے بعد جب شیخ الحدیث قدس سرہ مرکز میں تشریف لائے۔ دوران قیام والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے معلوم کیا کہ کس سے بیعت ہو؟ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا: کہ پہلے حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھا، اب مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوں۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: کہ پیارے میرے ہاتھ پر بیعت کر لے۔ چنانچہ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مشورہ سے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہو گئے اور حضرت شیخ الحدیث صاحب نے خلافت بھی عنایت فرمادی۔

اس واقعہ کے بعد والد صاحب کو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب قدس سرہ سے والہانہ محبت ہو گئی اور عقیدت و عظمت بڑھ گئی۔ جس کی بناء پر حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے اپنے خاص و عام حالات کی اطلاع اور مشورہ لازمی بنالیا تھا حتیٰ کہ اپنے گھریلو مسائل کا بھی مشورہ ضرور لیتے اور سفر و حضر میں اپنے حالات و کیفیات کے خطوط لکھنے کا بھی معمول رکھتے، بیرونی ممالک کے لمبے سفروں کی کارگزاری کے خطوط جس طرح مرکز حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ ارسال فرماتے تھے۔ اسی طرح حضرت شیخ الحدیث نور اللہ مرقدہ کو بھی تحریر فرماتے، نیز مولانا نے کئی مرتبہ اپنے خوابوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیارت فرمائی ہے اور دعوت دین کے عمل کے متعلق کئی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے تو یہ خواب اور اس کی حقیقت حال سے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو ضرور مطلع فرماتے۔ حضرت شیخ خوش ہوتے اور مبارک بادی کے ساتھ دعائیہ کلمات جواب میں تحریر فرماتے۔ الغرض حضرت شیخ الحدیث صاحب نور اللہ مرقدہ کے الطاف و عنایات اور توجہات کے خاص مورد بن گئے تھے۔

### والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خصوصی ملفوظات

- ① ہم اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ سے جو چاہتے ہیں، اللہ کے بندوں کے ساتھ وہی معاملہ اختیار کریں اگر چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے تو ہم دوسروں پر رحم کریں، اگر چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف کر دیں تو ہم دوسروں کی غلطیوں کو معاف کریں۔
- ② اگر رنج و تکلیف آئے تو آدمی گھبرائے نہیں اور اگر راحت و نعمت میسر ہو تو آدمی اترائے نہیں، اس لیے کہ اللہ کا دھیان ضروری ہے۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کا ذکر ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے، دعائیں مانگنا ہے۔
- ③ بعض لوگوں سے مناسبت ہوگی اور بعض لوگوں سے نہیں ہوگی اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لیے کہ کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس

سے بھی لوگ محبت کرتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بار خلافت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے فرمایا تو اس وقت یہ عجیب بات ارشاد فرمائی:

﴿أَحَبُّكَ مُحِبٌّ وَأَبْغَضُكَ مُبْغِضٌ﴾

”بہت سے آدمی آپ سے محبت کریں گے اور بہت سے ناگواری کا اظہار کریں گے۔“

ہر ایک آدمی اپنے مزاج کی مناسبت سے معاملہ کرے گا، تو پھر ہماری تمہاری کیا حیثیت ہے؟ ہم ایسا کیوں سمجھیں کہ سارے لوگ ہماری ہاں میں ہاں ملائیں، ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔

④ عورتیں عام طور پر لٹی باتیں کرتی ہیں، تو ان سے مشورہ کرو، لیکن جو رائے وہ دیں اس کا الٹا کرو، جب لٹی کو الٹ دو گے تو سیدھی ہو جائے گی، لٹی کی لٹی اثبات کا فائدہ دیتی ہے۔ پس **شَاوِرُوهُنَّ وَخَالَفُوهُنَّ** (یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مقولہ ہے) مشورہ کرو پھر الٹا کر دو، سیدھا ہو جائے گا لیکن یہ مقولہ قاعدہ کلیہ نہیں ہوگا اکثریت کے حکم میں آسکتا ہے۔

⑤ حالات سے متاثر ہونا عیب نہیں ہے، لیکن اس قدر متاثر ہونا کہ اللہ کا حکم ٹوٹ جائے یہ عیب ہے۔

⑥ اپنے گروپ کی ناحق طرف داری کرنا اور دوسرے گروپ کی حق تلفی کرنا اس کا نام عصبیت ہے اور یہ عصبیت آدمی کو اللہ سے دور کر دیتی ہے۔

⑦ اپنے آپ کو اتنا بھاری بھر کم نہ بناؤ (یعنی دل و دماغ میں بڑائی کا تصور نہ رکھو) کہ کوئی بھی بات یا نصیحت کرنا چاہے، تو نہ کر سکے بلکہ اپنے آپ کو متواضع بنائے رکھو، تاکہ ہر کوئی بے تکلف نصیحت اور بھلی بات کہہ سکے۔

⑧ بعضوں کو حق بات تسلیم کرنے میں اپنی ناک کھتی نظر آتی ہے، اس لیے ناک اتنی لمبی نہ بناؤ کہ کھٹنے کا سوال پیدا ہو۔

⑨ اللہ سے لینے والا بن اور محبوب خدا بن اور بندوں کو دینے والا بن اور محبوب خلق خدا بن تو اللہ کا بھی محبوب ہوگا اور بندوں کا بھی محبوب ہوگا۔

⑩ جو گنہگار تو بہ استغفار کر کے اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے اس شخص سے جو نیک عمل کر کے فخر اور بڑائی میں مبتلا ہو۔

⑪ اپنے اندر وجوہ اکرام تلاش کرو گے تو آپس میں توڑ ہوگا۔ اور دوسروں کے اندر وجوہ اکرام تلاش کرو گے تو جوڑ ہوگا۔

⑫ اگر کسی کو تقویٰ یعنی خدا کا خوف اور راتوں کا رونا میسر ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا رعب دوسروں پر ڈال دیتے ہیں۔

⑬ اجتماعی کام میں بھلے اور برے سب کو جھا کر چلنا ہے۔ یہ کام کسی کو غلط اور برا سمجھ کر چھانٹنے کا نہیں ہے۔ اگر چھانٹنے والا عمل رہے گا تو آہستہ آہستہ لوگ کم ہوتے چلے جائیں گے اور اس چھانٹنے والے میں بھی کوئی کمزوری ہوگی تو دوسرا اس کو بھی چھانٹ دے گا، نتیجہ یہ ہوگا کہ آدمی ہی ختم ہو جائیں گے، کام اور اصول کا عمل بھی نہیں رہے گا۔

⑭ شیطان اور نفس یہ دونوں انسان کے دشمن ہیں لیکن بڑا دشمن نفس ہے، چونکہ شیطان کو نفس ہی نے گمراہ کیا تھا۔ اس کا دعویٰ ”انا خیر“ نفسیات کی وجہ سے تھا اور بڑائی کا مادہ بچپن ہی سے ہوتا ہے۔ بچے کو کسی معاملہ میں سراہا جائے تو خوش ہوتا ہے اور اس کو نکما اور بیکار کہا جائے تو وہ ناخوش ہوتا ہے اور یہ بڑائی کا شہ ہے جو بچپن ہی سے ہوتا ہے، یہ بڑائی کا مادہ بڑے مجاہدات کے بعد آدمی میں سے سب سے آخر میں نکلتا ہے۔

- ۱۵) بعضے دین کا کام کرنے والے آدمی بزرگوں سے قریب ہوتے ہیں، مگر دل سے دور ہوتے ہیں۔ اور بعضے آدمی دین کا کام دور رہ کر کرتے ہیں، مگر وہ بزرگوں کے دل سے قریب ہوتے ہیں۔
- ۱۶) شادی کو کم خرچ والی اور سستی بناؤ تو زنا کا وجود مہنگا اور مشکل ہو جائے گا۔ اور اگر شادی زیادہ خرچ والی اور مہنگی بناؤ گے تو زنا سستا اور عام ہو جائے گا۔ مزاج شریعت یہ ہے کہ شادی کو آسان، مختصر اور سادگی کرو۔
- ۱۷) زندگی میں دین کو مقدم کرو اور دنیا کو موخر، تو زندگی دین بن جائے گی۔ اور اگر دنیا کو مقدم کیا اور دین کو موخر کیا، تو زندگی دنیا بن جائے گی۔
- ۱۸) آپ کو یہ نہیں کہتا کہ اپنی اولاد کو مولوی بناؤ یا ماسٹر بناؤ، جو چاہے بناؤ، مگر مشورہ یہ دوں گا کہ دیندار بناؤ۔ پھر تشریح فرماتے کہ اگر ماسٹر ہے مگر دیندار ہے، تو گھرانے کو جنت میں لے جائیگا اور اگر مولوی ہے مگر بے دین ہے، تو گھرانے کو جہنم میں پہنچائے گا۔
- ۱۹) اگر تو آسمان پر مقام کا طالب ہے تو زمین پر لوگوں کے ساتھ محبت و اخلاق کا معاملہ کر، اگر بیچا سختی کرے گا تو تیری برابری والا تجھ سے جھگڑا کرے گا اور اگر وہ تجھ سے چھوٹے اور عاجز ہیں، تو وہ اندر ہی اندر کڑھیں گے اور ان کے اندر کی کڑھن تجھے خدا سے دور کر دے گی۔
- ۲۰) حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے زمانہ خلافت میں امیروں (گورنروں) کو لکھا کرتے کہ تم محبوب بننے سے بے رغبت نہ بن جانا یعنی یوں مت سمجھ لینا کہ لوگ مجھ سے محبت کریں یا نہ کریں، میں تو اچھا ہی ہوں۔ بلکہ اپنے اخلاق سے محبوب بننے کی کوشش کرو۔
- ۲۱) حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: کہ اگر کسی کو معلوم کرنا ہو کہ آسمان میں میرا کیا مقام ہے تو وہ اپنے دوستوں اور متعلقین کو دیکھ لے، اگر وہ سب راضی اور خوش ہیں تو تیرا آسمان میں مقام ہے اور اگر وہ تیرے ساتھ اندر ہی اندر کڑھ رہے ہوں تو تیرا آسمان میں کوئی مقام نہیں ہے۔
- ۲۲) اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو سخت مزاج بنایا ہے اور بعضوں کو نرم مزاج بنایا ہے۔ اس میں بھلاؤ کا طریقہ یہ ہے کہ سخت مزاج کی سختی پر صبر و تحمل سے کام لیا جائے۔ سخت مزاج کے ساتھ سختی کرنا جھگڑے اور انتشار کا باعث بنے گا اور نرمی کرنا میل محبت کا باعث بنے گا۔ جیسا کہ دانت سخت ہیں مگر زبان اپنی نرمی کی بناء پر تیس (۳۲) دشمنوں کے درمیان محفوظ رہتی ہے، لیکن نرمی اس قدر بھی مفید نہیں ہے کہ جو چاہے غلط عمل کرے اور آدمی ہر جگہ استعمال ہو جائے۔
- نہ حلوی بن کہ چٹ کر جائیں بھوکے  
نہ کڑوا بن کہ جو چکھے سو تھوکے
- ۲۳) نعمتوں کا حصول خدا کی رضا کی دلیل نہیں ہے، اسی طرح تکلیفوں کا آنا بھی خدا کے ناراض ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ صرف تحقیق یہ کرنا ہے کہ ہماری زندگی خدا اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔
- ۲۴) فرمانبردار کو نعمتیں راضی ہو کر دی جاتی ہیں، جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کے لیے۔ اور نافرمان کو نعمتیں ناراض ہو کر دی جاتی ہیں، جیسا کہ فرعون اور قارون کے لیے۔ مثلاً طوطے کو پنجرے میں نعمتیں دی جاتی ہیں خوش ہو کر، دل بہلانے کے لیے اور چوہے کو پنجرے میں نعمتیں دی جاتی ہیں ناخوش ہو کر، دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے۔

۱۵) نعمتوں میں شکر گزار کامیاب ہے، اور ﴿فَرِحَ فَرِحًا﴾ یعنی اترانے والا ناکام ہے۔ اور تکلیفوں میں صبر کرنے والا کامیاب ہے، اور ﴿يَبْسُ كَلْبًا﴾ ناشکری کرنے والا ناکام ہے۔

۱۶) آخرت کے امتحان کی کامیابی موقوف ہے دنیا کے امتحان کی کامیابی پر دنیا میں امتحان بھلے برے حالات لا کر کیا جاتا ہے۔ ہر حال میں خدا کے حکم کو پورا کرنا کامیابی کی دلیل ہے۔

۱۷) انبیاء کا درود غم آدمی کو کام کے لائق بناتا ہے۔ یہی بے چینی دین کا کام کروائے گی۔ کم صلاحیت والے سے بھی، زیادہ صلاحیت والے سے بھی، کم مال والے سے بھی، زیادہ مال والے سے بھی، کم علم والے سے بھی، زیادہ علم والے سے بھی، چونکہ کام لینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔

۱۸) ہر کام طریقے سے تدریجاً ہوتا ہے۔ دین بھی طریقے کی محنت سے حاصل ہوگا اگر دین کا درخت تیار کرنا ہو، تو پہلے دعوت کی زمین ہموار کرو، ایمانیات کی جڑ لگاؤ، تعلیم کے حلقوں کا پانی دو اور قربانی کی کھاد دو اور گناہوں سے بچنے کی باڑھ لگا دو اور ذکر و تلاوت اور رونا دھونا، ہلبلا نا، تملانا، گرم گرم آنسوؤں کا بہانا، شہنڈی آہوں کا بھرنا اس کی فضا ہو اور ارکان اسلام کا تپا ہو اور معاشرت اور معاملات کو عدل و انصاف کے ساتھ چلانے کا درخت ہو اور اس کے اوپر اخلاق کے پھل ہوں اور اخلاق کے پھلوں میں اخلاص کا رس ہو، تب دین کا درخت تیار ہوگا اور لوگ استفادہ کریں گے۔

۱۹) دین میں پختگی اور جہاد حاصل کرنے کے لیے حالات اور رکاوٹوں کا آنا ضروری ہے۔ یہ حالات اور رکاوٹیں انڈے کے چھلکے کی طرح ضروری ہیں، جس طرح انڈے سے چوزہ بننے کے لیے انڈے کا چھلکا ضروری ہے۔ بغیر چھلکے کے صرف زردی اور سفیدی سے بیس سال میں بھی چوزہ نہیں بنے گا، اسی طرح دین میں جہاد حاصل کرنے کے لیے حالات اور رکاوٹوں کا چھلکا ضروری ہے، انڈے میں چوزہ بننے کے بعد ہی چھلکا ٹوٹتا ہے، اسی طرح دین میں جہاد حاصل ہونے کے بعد ہی حالات کا چھلکا ٹوٹتا ہے۔

۲۰) جوش کے ساتھ ہوش اور ہوش کے ساتھ جوش ضروری ہے۔ نوجوانوں کو جوش بہت ہوتا ہے ان کو ہوش کی لگام دینی پڑتی ہے۔ اور بڑی عمر والوں میں جوش کا دھکا دینا پڑتا ہے، دونوں ہی کام ضروری ہیں۔

۲۱) ہر نیک عمل کے اچھے اثرات پورے عالم پر غیر محسوس طریقہ سے اثر انداز ہوتے ہیں۔ بشرطیکہ یہ عمل نیک نبوی پر ہو۔ گویا نیک عمل کا اثر عالمگیر ہوتا ہے جس طرح ایک بڑے حوض میں پانچ ڈول پانی ڈالنے سے اس حوض کی سطح غیر محسوس طریقہ پر چار جانب کچھ نہ کچھ بڑھتی ہے اور پانچ ڈول نکالنے سے پورے حوض کی چار جانب سے پانی کم ہوتا ہے، چاہے حوض کی ایک ہی جانب سے ڈول ڈالے یا نکالے گئے ہوں۔

۲۲) دوسروں کے جان و مال سے مستثنیٰ ہونا اور اپنے جان و مال کو دوسروں کے لیے استعمال کرنا جوڑ اور اجتماعیت کا باعث ہوگا۔

۲۳) روحانی نعمت جس پر اثر اہٹ پیدا ہو جائے، وہ روحانی نعمت نہیں رہتی بلکہ نفسانی بن جاتی ہے۔

۲۴) راحت و نعمت باعث برکت بھی ہے اور وقفہ مہلت بھی، اگر راحت و نعمت فرمانبرداری کے ساتھ ہے، تو یہ باعث رحمت و برکت ہے اور اگر نافرمانی کے ساتھ ہے، تو یہ وقفہ مہلت ہے۔

۲۵) نماز پڑھنے پر کام بن جانا اور اس وجہ سے اپنے آپ کو بزرگ اور پاک صاف تصور کرنا تنزل کا باعث ہے، چونکہ اس میں آدمی کا کمال نہیں ہے، بلکہ تاثیر عمل کا اظہار اور وعدہ خداوندی کا اتمام ہے۔ باری تعالیٰ کا فرمان ہے ﴿لَا تَزُكُوا النَّفْسَ﴾ اپنے آپ

کو پاک صاف نہ سمجھو، جو گنہگار توبہ واستغفار کر کے اللہ کے سامنے گڑگڑا دے وہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے اس شخص سے جو نیک عمل کر کے فخر اور بڑائی میں مبتلا ہو۔

۳۱) مجاہدہ بے تکی تکلیفوں کے اٹھانے کا نام نہیں ہے۔ یہ جو گیوں والا مجاہدہ ہے جو شریعت میں مطلوب و محمود نہیں ہے، جیسے سردی میں پچاؤ کا سامان ہے اور استعمال نہ کرنا، یہ مجاہدہ نہیں ہے، اس میں ثواب بھی نہیں بلکہ گناہ ہے۔ مجاہدہ وہ بنتا ہے کہ خدا کا حکم اور دین کا تقاضہ سامنے آئے جو نفس کے خلاف ہو تکلیف اٹھا کر اس کو پورا کرے لیکن تکلیف کی حد یہ ہے کہ خدا کا حکم ٹوٹنے نہ پائے، یہ مجاہدہ انسان کے لیے باعث ترقی بنے گا۔

۳۲) اللہ تعالیٰ نے جس کو نرم بنایا ہے وہ نرم رہے گا، لیکن نرمی کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے اور جس کو سخت بنایا ہے وہ سخت رہے گا، مگر اس کی سختی سے دل برداشتہ نہ ہونا چاہئے، بلکہ اجتماعیت اور جوڑ برقرار رکھنے کے لیے ایک دوسرے کو نبھانا ضروری ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جمالی تھے اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جلالی، مگر ایک دوسرے کو نبھاتے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے مانعین زکوٰۃ اور مرتدین کے مقابلہ کا حکم دیا، تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ ازواج مطہرات اور عورتوں، بچوں کی حفاظت کا مسئلہ ہے۔ اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جلال میں آ کر سختی کے ساتھ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ جبار فی الجاہلیہ و خوار فی الاسلام سے پہلے بڑے جابر اور جری تھے اور اسلام میں بزدل بن رہے ہو، تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے یہ سختی برداشت کی اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا حکم تسلیم کر لیا۔ ایک دوسرے موقع پر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے موجود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مشورہ سے دو اصحاب کو زمین کی دستاویز لکھ دی۔ جب یہ دو صحابی رضی اللہ عنہما فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دستخط کے لیے پہنچے، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے سختی کے ساتھ دستاویز کو پھاڑ دیا اور کہہ دیا کہ یہ زمین عامۃ المسلمین کی ہے، صرف ابو بکر رضی اللہ عنہ کا حق نہیں ہے۔ جب ان دونوں حضرات نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی سختی کی کیفیت بیان کی اور کہا کہ امیر المؤمنین آپ ہیں یا عمر؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کیا ہی عمدہ بات ارشاد فرمائی کہ امیر بننے کا اتحقاق تو عمر کا تھا، مگر یہ پار میرے سر پر تھوپ دیا ہے۔ الغرض اللہ نے جس کو سخت مزاج بنایا وہ سخت ہی رہے گا، مگر اجتماعیت اور جوڑ برقرار رکھنے کے لیے تحمل ضروری ہے۔

۳۳) سفلی نظام بھی علوی نظام کی طرح ضروری ہے، لیکن عمدہ اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ سفلی نظام کے علاوہ علوی نظام میں بھی جڑنے والا بنے، لیکن سفلی نظام کو بھی بیکار نہ سمجھا جائے چونکہ ان کا بندوبست میں لگنا پورے مجمع کے لیے راحت پہنچانے کا قوی ذریعہ ہے، اگر سفلی نظام عمل میں نہ آیا، تو علوی نظام دھرا رہ جائے گا اور مجمع پریشانیوں میں مبتلا ہوگا اور اس کے بغیر مجمع جوڑا بھی نہیں جاسکتا ہے (سفلی نظام یعنی مجمع کو راحت پہنچانے والے اسباب میں لگنا، کھانے پینے، لائٹ اور شامیانے وغیرہ کا بندوبست اور علوی نظام، یعنی تعلیم، گشت، بیان، جماعت میں نکلنا وغیرہ)۔

## دین و دعوت اور

### دعا کی اصل نشین تشریح

#### انسان کے تجربہ سے زیادہ کچی بات

① جس طرح اللہ تعالیٰ نے چیزوں میں تاثیر رکھی ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اعمال میں بھی تاثیر رکھی ہے، لیکن چیزوں کی تاثیر کا اللہ تعالیٰ نے تجربہ کرادیا اور اعمال کی تاثیر کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، انسان کے تجربہ سے زیادہ کچی اور سچی بات اللہ کا وعدہ ہے، انسان کے تجربہ کے خلاف ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے وعدے کے خلاف نہیں ہو سکتا ہے۔

#### اصل کام

② اگر دعوت دین کا کام نبی کے مطابق ہوگا، تو نبیوں کے ملک میں اولیاء پیدا ہوں گے اور اگر دعوت دین کا عمل نہ ہوگا، تو نبیوں کے ملک میں دہریے پیدا ہوں گے۔

#### ذکر رسول کے ساتھ فکر رسول

③ ذکر رسول کے ساتھ فکر رسول بھی ضروری ہے، ربیع الاول کا مہینہ صرف ذکر ولادت کے لیے نہیں ہے، بلکہ آپ والی فکر کے حصول کے لیے بھی ہے۔ اس لیے ایک ہی مہینہ ذکر کے لیے کافی نہ سمجھا جائے بلکہ قدم قدم پر آپ کا ذکر اور آپ والا فکر ضروری ہے۔

④ محض تبلیغ میں پھرنا نہیں ہے، بلکہ اپنے اندرون میں اس کی حقیقت کو پھرانا ہے۔ فقط اوقات مطلوب نہیں ہیں، بلکہ اوصاف کا حاصل کرنا ضروری ہے۔

#### فتویٰ اور تقویٰ کیا ہے

⑤ فتویٰ حدود شریعت کو بتلاتا ہے اور تقویٰ مزاج شریعت کی نشاندہی کرتا ہے، صدیق اکبر ؓ اور فاروق اعظم ؓ نے مزاج شریعت کو بتلایا ہے اور عثمان غنی اور علی مرتضیٰ ؓ نے حدود شریعت کو بتلایا ہے۔

#### اصول میں لچک ہے

⑥ دعوت و تبلیغ کے مروجہ اصول میں لچک ہے۔ یہ اصول منصوص نہیں ہیں کہ اس میں تبدیلی نہ ہو، حالات اور مواقع و محل کے اعتبار سے اس میں لچک کی گنجائش ہے۔



## اصل یہ ہے کہ آدمی اصول پر آجائے

⑥ کسی جگہ پر دعوت کے کام میں بے اصولی ہو رہی ہو، تو اس پر ایک دم بڑیک مت لگاؤ۔ اس سے اصول آتا نہیں ہے اور کام تھوڑا بہت جو ہو رہا تھا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کسی آدمی سے بے اصولی ہو رہی ہو، تو اسے بھی خوش اسلوبی سے اصول پر لانے کی کوشش کرو۔ اس کو کام سے کاٹنے اور دور کرنے کا مت سوچو، انفرادی طور پر بے اصولی ہو رہی ہو یا اجتماعی طور پر، اس انداز سے بے اصولی کو ختم کرنا ہے کہ ہمارا بھائی اور کام بھی باقی رہے اور دین کا کام اور ہمارا بھائی بھی اصول پر آجائے۔

## طریقہ اجتماعیت

① دینی دعوت کا کام اجتماعی ہے۔ اس لیے ایک دوسرے کے ساتھ نبھاؤ کے لیے میل محبت اور اخلاق والا معاملہ ضروری ہے، خصوصاً اپنی زبان کی حفاظت کی جائے، چاپلوسی، خوشامد اور مدافعت کر کے محبت حاصل کرنا خدا کو پسند نہیں ہے، چونکہ چاپلوسی سے جو محبت حاصل کی جاتی ہے۔ اس میں اپنے والوں کی طرف داری اور غیروں کی حق تلفی ہوتی ہے۔ اس لیے ان تمام نزاکتوں کی رعایت اجتماعیت کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے۔

## صرف محنت باقی ہے

① دنیا کی کوئی یونیورسٹی، کالج یا مدرسہ امتحانات کے پرچے ظاہر اور آؤٹ نہیں کرتا ہے اور سوالات کا پرچہ آؤٹ ہو جانے پر بھی کوئی طالب علم فیل ہو جائے تو وہ نہایت پھسڈی اور نا اہل سمجھا جائے گا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے سوالات ظاہر اور آؤٹ کردئے اور مزید یہ کرم کیا کہ جوابات بھی بتلا دیے، صرف ہمیں اس دنیا میں تیاری کرنی ہے۔

## حیات دین کے لیے اہم شے

① خدا کی طاقت کے مقابلہ میں دنیا کی ساری طاقتیں مٹری کا جالا ہیں اور خدا کے خزانوں کے مقابلے میں دنیا کے خزانے چمھر کا پر ہیں۔ خدا کی طاقت اور خزانوں سے تعلق دین کی وجہ سے ہوگا۔ اس عظیم دین کو زندہ کرنے کے لیے ملک و مال اور عہدہ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے انسان کا مجاہدہ، قربانی اور اس کے حوصلے کی ضرورت ہے۔

## لیاقت شرط نہیں ہے

① دین کے حصول کے لیے مجاہدہ اور تکلیفیں اٹھانے کے عادی بنو۔ بے کس اور بے بس انسان بھی قربانی اور مجاہدہ اختیار کر کے خدا اور اس کے دین سے تعلق پیدا کرے گا، تو خدا اس کے ہاتھوں بھی دین کو زندہ فرمادیں گے۔ خدا کے نزدیک عہدہ، ملک و مال اور لیاقت شرط نہیں ہے، صرف خدا کی رضا اور اس کی نظر کرم شرط ہے۔ اسی لیے نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ میں بادشاہت والی نبوت نہیں چاہتا، بلکہ فقیری والی نبوت چاہتا ہوں۔

## شیطان کا دھوکہ

① دعوت کا کام کرنے والوں کو بانجھ بن کر نہیں مرنے ہے، بانجھ کے معنی یہ ہیں کہ فلاں آدمی مر گیا، تو دین کا کام بند ہو گیا۔ ایسے انداز

سے کام لیا جائے کہ دوسرے کام کرنے والے نہیں۔ آدمی خوب کام کرے اور اپنے آپ کو تھکادے، لیکن دوسرے کام کرنے والے آدمی نہ بنائے، تو یہ اس کے لیے شیطان کا دھوکہ ہے۔

- ④ خدا اپنی ذات سے چھپا ہوا ہے، مگر دلائل کے اعتبار سے نرالا ہے۔ خدا کے منکر کو خدا کی نشانیاں سمجھا کر قائل کرو۔ پھر خدا کی مرضی بتا کر دین کی طرف مائل کرو، پھر دعوت کے کام پر کھڑا کر کے گھائل کرو۔
- ⑤ آج کا غیب موت پر مشاہد ہوگا اور آج کا مشاہد موت پر چھپ جائے گا، موت کے وقت ایمان و اعمال کی قیمت اور تاثیر کو تسلیم کرنا اللہ اور اس کے رسول کی خبر کو تسلیم کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنی نظر کو تسلیم کرنا ہے۔

### مقصدِ جہاد کیا ہے؟

- ⑥ حضور ﷺ نے پاکیزہ طریقہ عام کرنے کے لیے صحابہ کی جماعتوں کو باہر بھیجا اور ہدایت فرمائی کہ ہمارا مقصد لڑائی نہیں ہے، دین میں رکاوٹ پیدا کرنے والوں کی مثال جسم کے پھوڑوں کی ہے۔ اس کا اندر سے علاج دعوت کے جو شانہ سے کرنا ہے اور باہر سے اخلاق کا مرہم لگانا ہے۔ اس کے باوجود پھوڑے زہریلے اور لا علاج ہوں تو پھر ان کا آپریشن کرنا ہے۔ جس طرح کئی زندگی میں اندر کا علاج دعوت کے جو شانہ سے اور باہر کا علاج اخلاق کے مرہم سے کیا گیا، مگر پھوڑے زہریلے اور لا علاج ہونے کی وجہ سے بدر میں ان کا آپریشن کرنا پڑا۔ بہر حال مقصد لڑائی نہیں ہے، پاکیزہ طریقہ پوری دنیا میں عام کرنے کے لیے درمیان میں آنے والی رکاوٹوں کا دافع کرنا مقصود ہے۔

### دین کیسے پھیلے گا؟

- ⑦ موجودہ دور فتنوں کا دور ہے۔ کہیں جمہوریت کا دعویٰ ہے، کہیں حدیث کا انکار ہے، کہیں حضرت علی کی محبت میں بے انتہا غلو ہے، بعضوں کا خیال ہے کہ اسلامی حکومت ہوگی، تو دین پھیلے گا۔ ان کے برخلاف ہم یوں کہتے ہیں کہ حکمت ہوگی، تو دین پھیلے گا اور حکمت کا تقاضہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی رو سے اصل دعوت دین کو اختیار کیا جائے، جس میں تمام فتنوں اور اختلافات کا حل ہے۔

### رات دن کا تجربہ اور مشاہدہ

- ⑧ کائنات کا خالق اور مالک ذات واحد ہے، نیز انسانوں کا دنیا میں آنے کا طریقہ بھی واحد ہے اور اس دنیا سے ہر ایک کے جانے کا بھی طریقہ واحد ہے، دونوں کا دنیا میں امن و راحت حاصل کرنے کا طریقہ بھی واحد ہے جس کو قادر مطلق واحد ذات نے تجویز فرمایا ہے، جو انسان اپنی عقل سے طریقہ حیات تجویز کرتا ہے، اس کے غلط ہونے کا تجربہ اور مشاہدہ رات دن ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے ماورائے عقل باتوں کو سمجھنے کے لیے انبیاء کرام کا سہارا لینا پڑتا ہے، جن کا تعلق وحی سے ہے۔

### قربانی کی سیرھی یا چبوترہ

- ⑨ دین کا کام جس قدر ہو رہا ہے لائق شکر ہے، لیکن زیادہ کام باقی ہے۔ اس کی مگر ضروری ہے۔ لہذا دین کی جدوجہد کرنے والوں کے

لیے قربانی کی مقدار بڑھتی دینی چاہئے۔ قربانی کی میز می بناؤ، چوترا نہ بناؤ اور نہ نئے کام کرنے والے رک جائیں گے۔ جس طرح حضور ﷺ نے جنگ احد کے موقع پر زخم خوردہ صحابہ رضی اللہ عنہم کو ساتھ لیا اور لشکر کفار کا پیچھا کیا۔ دوسرے تازہ دم صحابہ رضی اللہ عنہم کو ساتھ نہیں لیا۔ جب قربانی دینے والوں کی مقدار کو بڑھایا تب اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو گئی۔

### حصول ہدایت کے لیے دعا کے ساتھ محنت بھی ضروری ہے

اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے حالات کو اعمال سے جوڑا ہے اور اعمال کو اعضاء سے اور اعضاء کو دل سے جوڑا ہے اور دل خدا تعالیٰ کے قبضہ میں ہے۔ اگر دل کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے، تو اعمال اللہ کے لیے ہو کر دنیا اور آخرت کے حالات نہیں گے اور اگر دل کا رخ غیر اللہ کی طرف ہو، تو اعمال غیر اللہ کے لیے ہو کر حالات خراب ہوں گے حتیٰ کہ نجی، شہید اور قاری بھی ہو، تو دوزخ میں جائے گا۔ لہذا دل کا رخ اللہ کی طرف ہوا سے ہدایت کہتے ہیں جو ایک نور ہے جو انسان کے دل میں ڈالا جاتا ہے۔ جیسے خارجی روشنی چاند سورج کی ہے، اس سے چیزوں کا نفع نقصان نظر آتا ہے اور باطنی اعمال کے نفع و نقصان کو بتلانے کے لیے نور ہدایت ہے۔ دل میں ہدایت کا نور ہو، تو امانت اور سچائی میں نفع نظر آتا ہے اور خیانت اور جھوٹ میں نقصان نظر آتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر انسان کو سب سے زیادہ ضرورت ہدایت کی ہے اور ہدایت خدا کے قبضہ میں ہے:

﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾

خدا سے ہدایت لینے کے لیے سوائے دعا کے اور کوئی راستہ نہیں ہے، اس لیے سب کے لیے مشترکہ دعا سورہ فاتحہ میں ہدایت کی تجویز کی، روزانہ نماز میں قریباً پچاس مرتبہ ہدایت کی دعا مانگنا ضروری قرار دیا ہے: ﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾، لیکن یہ دنیا دار الاسباب ہے، اس لیے دعا کے ساتھ ہدایت کے حصول کے لیے محنت کرنا بھی ضروری ہے، اگر مجاہدہ کیا جائے، تو اللہ کی طرف سے ہدایت کا وعدہ ہے: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾، ایک طرف مجاہدہ، دوسری طرف دعا ہو، تو اللہ کی ذات سے ہدایت ملنے کا یہ قوی ذریعہ ہے۔

جز نیاز و جز تضرع راہ نیست

زین تغلب ہر قلب آگاہ نیست

”دعا اور عاجزی کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے، اس الٹ پھیر سے ہر دل خبردار نہیں ہے“

تخلیق کائنات کی چار مصلحتیں

کائنات کی پیدائش کی مصلحتوں میں سے ایک مصلحت یہ ہے کہ انسان کا بدن کائنات کی چیزوں سے بنایا گیا ہے، تو کائنات کی پیدائش انسان کے جسم کی تربیت کا ذریعہ ہے۔ دوسری مصلحت خدا کی معرفت کی اس میں نشانیاں ہیں۔ خدا کی ذات دکھائی نہیں دیتی اس کے لیے زمین و آسمان، چاند، سورج، ستارے انسانوں کی آوازوں اور چہروں کا الگ الگ ہونا، رات اور دن کا ہونا ایسی بے شمار نشانیاں مظاہر قدرت ہیں جن سے انسان خدا کی معرفت حاصل کر سکتا ہے گویا کائنات کی پیدائش سلسلہ معرفت خداوندی ہے۔ تیسری مصلحت کائنات کی پیدائش آزمائش کے لیے ہے کہ انسان کائنات کی چیزوں میں الجھ کر رہ جاتا ہے یا احکام خداوندی کی رعایت میں چیزوں کو قربان کرتا ہے۔ چوتھی مصلحت کائنات کی چیزیں ملک و مال، سونا و چاندی، روپیہ و پیسہ، عہدہ و ڈگری، دوکان و کھیت یہ طرف یعنی برتن

کے قائم مقام ہیں۔ اس برتن میں وہ ملے گا جو خدا کی طرف سے ڈالا جائے گا۔ فرعون کے ملک و مال کے ظرف میں ناکامی ڈالی گئی اور سلیمان علیہ السلام کے ملک و مال کے ظرف میں کامیابی ڈالی گئی تو عزت و ذلت اور کامیابی اور ناکامی کا معیار برتن کا چھوٹا بڑا ہونا یا کم یا زیادہ ہونا نہیں ہے بلکہ معیار انسان کے بدن سے نکلنے والے اعمال ہیں اس کے مطابق خدا کے فیصلے ہوتے ہیں۔

### آج کی سب سے بے قیمت مخلوق

انسان نے پاخانہ سے لے کر چاند تک کاریر سرج کیا، مگر اپنے آپ کو نظر انداز کیا۔ ڈاکٹروں نے پاخانہ کاریر سرج کیا اور سائنس دانوں نے چاند کاریر سرج کیا، لیکن انسان نے اپنا کاریر سرج نہیں کیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سب سے زیادہ بے قیمت مخلوق آج دنیا میں انسان ہے۔ مکان، دوکان اور زمین کے ٹکڑوں کے لیے انسانوں کو مارا جائے اور منصوبہ بندی کی اسکیم انسانوں پر قہوپ کر خلاق کو آئندہ دنیا میں آنے سے روکنے کی کوشش کی جائے، حالانکہ درخت کے لیے قانون نہیں کہ ایسا درخت لگاؤ جس میں صرف تین پھل ہوں یا ایسا کھیت لگاؤ جس میں پیداوار صرف تین من ہو، لیکن حضرت انسان بے قیمت ہیں کہ تین سے زیادہ دنیا میں نہ آویں، کیونکہ انسان نے اپنی قیمت کو کھو دیا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنا قیمتی بنایا تھا کہ فرشتوں سے سجدہ کرایا اور ان پر فضیلت دی۔ جب انسانوں نے حیوانوں جیسے کام کیے، تو انسانوں سے انسان کی زندگی اجڑنے لگی اور انسان بے قیمت ہونا چلا گیا۔

### بعث بعد الموت کی پختہ دلیل

روح انسانی دائمی اور ابدی ہے۔ محض روح کے مقامات تبدیل ہوتے ہیں۔ عالم ارواح سے جسم میں اور جسم سے عالم برزخ میں اور آخری مقام عالم آخرت ہوگا۔ اور جسم انسانی کائنات کی چیزوں سے تیار ہوا ہے۔ اس کے اجزاء پوری کائنات میں بکھرے ہوئے تھے۔ سورج کی کرنوں اور چاند کی روشنی میں، ستاروں کی تاثیر اور ہواؤں کی لہروں میں، بارش کے قطرات اور زمین کے ذرات میں اور کھاد کی گندگیوں میں ہاری تعالیٰ کے نظام نے سارے اجزاء کو یکجا کر کے خوراک اور غذا تیار کی۔ مرد و عورت نے استعمال کی اور مٹی بنی اور اسی سے انسانی بدن تیار کیا اور اس کی روح عالم ارواح سے آئی اور انسان وجود میں آیا، جس کی حد موت ہے۔ پھر جسم فنا کر دیا جائے گا اور بروز قیامت دوبارہ ذرات کو جمع کر کے وجود بخشا جائے گا جو خدا ایک بار کائنات کے ذرات جمع کر کے پیدا کر چکا ہے، اس کے لیے دوسری مرتبہ پیدا کرنا نہایت آسان ہے، کروڑوں انسان اس حقیقت سے بے خبر ہیں اور جو باخبر ہیں وہ بھی غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں الغرض بعث بعد الموت یقینی ہے۔

### چھیننے کا مزاج اور دینے کا مزاج

محمد ﷺ کے پاک طریقہ میں ایثار و قربانی کا جذبہ پیدا کرنے کی تعلیم ہے جس سے انسانوں میں عطا اور بخشش یعنی ہانٹنے اور تقسیم کرنے کا مزاج پیدا ہوتا ہے اور یہ مزاج مابین محبت و الفت، ہمدردی، جاں نثاری، وفا و اعتماد میں اضافہ کرتا ہے جو امن و امان اور دارین میں ترقیات کا باعث ہے۔ برخلاف اہل دنیا کے کہ ان کا مزاج مختلف طریقوں سے لوٹنے اور چھیننے کا چوری، ڈکیتی، سود، رشوت، مکر و فریب اور ناپ تول میں کمی کر کے جس سے آپس میں عداوتوں اور زیادتیوں کے ساتھ انتشار اور پریشانیوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اور دنیا جہنم کدہ بن جاتی ہے مثلاً سود کے بازے میں انسانوں کا خالق فرماتا ہے کہ ﴿يَسْخَرُ اللَّهُ الرَّيْبُ وَيُرِي الصَّدَقَاتِ﴾ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، مگر انسان میں جرائم کے جرائم اور حیوانات کے صفات پیدا ہو جانے کی وجہ سے سود میں مال کا

بڑھنا اور صدقات میں مال کا گھٹنا دکھائی دیتا ہے اگر محنت مجاہدہ کر کے جرائم سے بچنے ہو کر حیوانات کی صفات دور کی جائیں اور فرشتوں والی صفات پیدا کی جائیں، تو اس وقت وہی دکھائی دے گا جو خالق و مالک فرماتا ہے، یعنی صدقات میں مال کا بڑھنا اور سود میں مال کا گھٹنا صاف طور پر معلوم ہوگا۔

### دعا اور محنت میں تطابق ضروری ہے

دعا اور محنت میں موافقت ضروری ہے۔ ڈھائی تولہ کی زبان نبیوں والی دعا میں مصروف ہے۔ کہتا ہے ﴿إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ اور بازار میں ڈھائی من کا بدن ﴿الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ والے طریقے پر حرکت کرتا ہے، تو دعا اور محنت میں موافقت کی جائے۔ ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾ اللہ کے راستے کی محنت کرو، راستہ دور سے بند نظر آتا ہے۔ چلنا شروع کرو گھٹنا جائے گا۔ دعا اور محنت میں موافقت ہو جائے گی اور نیک ثمرات مرتب ہوں گے۔

### بروز قیامت خدا کا معاملہ فضل کا ہو گا یا عدل کا

قیامت کے دن خدا کا معاملہ فضل کا ہو گا یا عدل کا، رابطہ کا ہو گا یا ضابطہ کا، مہربانی کا ہو گا یا قانون کا۔ اگر مسلمانوں کے ساتھ عدل کا معاملہ ہوا، تو گناہوں کے بقدر جہنم میں رکھا جائے گا تا کہ گناہوں سے پاک صاف کر دیئے جائیں اور اگر فضل کا معاملہ ہوا، تو سیدھا جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ عدل کا تقاضہ ہے کہ نیکیوں کو زیادہ کیا جائے۔ عدل کا حاصل خوف ہے اور فضل کا حاصل امید ہے۔ خوف اس قدر بھی مفید نہیں ہے جو ہلاکت کا باعث بنے اور امید بھی اس قدر مفید نہیں ہے کہ گناہوں پر جری کر دے، بلکہ امید اور خوف کے درمیان کا نام ایمان ہے، الايمان بين الخوف والرجاء۔

### راز کی بات علی الاعلان عالم کے سامنے

کوئی آدمی راز اور داؤ کی بات نہیں بتلاتا ہے بلکہ چھپاتا ہے۔ ہم علی الاعلان اور ڈنکے کی چوٹ پورے عالم میں بسنے والے انسانوں کو بتلاتے ہیں کہ اگر لوگوں میں دو باتیں پیدا ہو جائیں، تو زمین و آسمان کا خالق فرماتا ہے کہ ہم تمہیں برباد نہیں کریں گے بلکہ آباد کریں گے، ایک اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا خوف دل میں پیدا ہو جائے، دوسرے برے اعمال پر اللہ کی وعیدوں کا ڈر پیدا ہو جائے:

﴿وَلَنُكَلِّمَنَّكَ الْاَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِيْ وَخَافَ وَعِيْدٌ﴾

ذٰلِكَ کا اشارہ الیہ وَلَنُكَلِّمَنَّكَ الْاَرْضَ ہے انسانوں میں آخرت کا فکر اور خوف پیدا کرنے کے لیے پورے عالم میں نقل و حرکت کر کے اس کا خوب تذکرہ کیا جائے یہاں تک کہ لوگوں میں فکر آخرت پیدا ہو جائے اور بربادی والی راہ سے بچ کر آباد کرنے والی راہ پر گامزن ہو جائیں۔

### دنیا کی حکومتوں کے پاس طریقہ راحت و امن نہیں ہے

عالم میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے اس دور کی عدالتیں، کچھریاں اور مختلف محکمے، اسٹیکس اور انتظامات ناکام اور نفل ہیں۔ پورے عالم کی حکومتیں غیر معیاری اور تشویشناک صورت حال میں مبتلا ہیں چونکہ ان کے پاس طریقہ راحت و امن نہیں ہے۔ جس کی وجہ سے کسی کی جان، عزت اور مال محفوظ نہیں ہے، لیکن امت مسلمہ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے سرکار محمد ﷺ نے

اس سے زیادہ مایوس کن حالات میں اپنا پاکیزہ طریقہ دنیا کے سامنے پیش کیا اور عالم کی حکومتیں اس پاکیزہ طریقہ کو اپنا کر امن و امان سے ہمکنار ہوئیں۔ آج بھی محمد ﷺ کا لایا ہوا پاکیزہ طریقہ اپنانے کی اور اس کو دعوت کے ذریعہ عام کرنے کی ضرورت ہے۔ آج بھی پورا عالم امن و امان سے ہمکنار ہو سکتا ہے اور ابدی راحتوں سے فیضیاب ہو سکتا ہے۔

### جنہم اہل ایمان کے لیے ہسپتال اور شفا خانہ ہے

اہل ایمان کا اصلی ٹھکانہ جنت ہے اور ان کے لیے جنہم ہسپتال اور شفا خانہ ہے، چونکہ جنت پاک جگہ ہے اور اس کے مکانات پاک ہیں، فرمایا گیا ہے ﴿وَمَسَاكِينٌ ظَلُمُوا﴾ اور جنت کی عورتیں بھی پاک ہیں ﴿وَأَزْوَاجًا مُّطَهَّرَةً﴾ اور جنت کی شراب بھی پاک ہے ﴿فَرَأَىٰ طُورًا﴾ ایمان والا جنہم میں گندگیوں اور گناہوں سے پاک ہو جائے گا تب جنت میں داخل ہوگا اور کہا جائے گا ﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمْ حَيْثُمُ مَّ تَدْخُلُونَهَا خَالِدِينَ﴾ لیکن جنہم کا علاج بہت بھاری ہے، اس لیے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پاک صاف کرنے کے لیے بطور علاج تین چیزیں بتلائی ہیں:

- ① نیکیوں کا کرنا گناہوں کو زائل کرتا ہے۔ ② غیر اختیاری طور پر بیماریوں اور تکلیفوں پر صبر کرنے سے گناہ زائل ہوتے ہیں۔
- ③ توبہ سے کہا گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔

جنہم میں کفر و شرک کا گناہ لا علاج بیماری ہے، دنیا میں اسی سال کا شرک بوڑھا توبہ کرے گا تو معافی مل سکتی ہے۔ سچی توبہ کے لیے چار چیزیں ضروری ہیں:

- ① گناہوں پر ندامت۔ ② آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم۔
  - ③ گذشتہ گناہوں کی تلافی۔ ④ توبہ کے وقت گناہوں میں جتنا نہ ہونا۔
- دنیا میں ان خوبیوں کو حاصل کرنے کے لیے ماحول شرط ہے اور ماحول دعوت دین کے عمل سے زندہ ہوگا۔

### امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بہترین طریقہ

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بہترین طریقہ اخلاق اور محبت کے ساتھ میل جول رکھنا ہے، اخلاق کا بے اختیار باؤ اور اثر ہوتا ہے، ابتداء اسلام میں جب تک آپس میں انتشار اور جھگڑا تھا، صلح حدیبیہ تک انیس سال میں فقط ڈیڑھ ہزار مسلمان ہوئے، اس کے بعد فتح مکہ تک دو سال میں دس ہزار ہو گئے۔ اس کے بعد ایک ہی سال میں غزوہ تبوک کے موقع پر تیس ہزار کی تعداد ہو گئی اور اس کے ایک سال کے بعد حجۃ الوداع میں سو لاکھ کا مجمع ہو گیا۔ اس کا راز یہی ہے کہ محبت اور اخلاق کے ساتھ میل جول تھا، لیکن شرط ہے کہ حقیقی اخلاق ہوں، خوشامد نہ ہو ورنہ لوگ سرچڑھ جائیں گے اور فائدہ کی بجائے نقصان ہوگا۔

### ہر انسان کے لیے چار منزلیں

ہر انسان کو چار منزلوں سے گزرنا ہے، پہلی منزل ماں کا پیٹ ہے، یہ اس کی ذات بننے کی جگہ ہے، جس میں اس کے لیے کوئی اختیار نہیں ہے، دوسری منزل دنیا کا پیٹ ہے، یہ صفات بنانے کی جگہ ہے، یہاں اس قدر اختیار دیا جاتا ہے کہ نیک و شر میں امتیاز کر کے نیکیوں کو اختیار کر لے، تیسری منزل قبر ہے اور چوتھی منزل قیامت کا دن ہے۔ اس دن اولین اور آخرین کا سب سے بڑا اجتماع ہوگا:

إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ الْمِثْقَالَ

ہر ایک کے ساتھ اپنے صفات کے اعتبار سے معاملہ ہوگا۔ اس اجتماع سے نافرمانوں کی جماعتیں بن بن کر جہنم کی طرف جائیں گی:

﴿وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا﴾ (الآیة)

اور فرما کر داروں کی جماعتیں بن بن کر جنت کی طرف جائیں گی:

﴿وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَىٰ الْجَنَّةِ زُمَرًا﴾

آئندہ منزلوں میں صفات کے اعتبار سے پیش آنے والی باتیں ماوراء عقل ہیں، خلاف عقل نہیں ہیں۔ جس طرح اس دنیا میں دو سو سال پہلے بہت سی باتیں ماوراء عقل تھیں، آج وہ عقل میں آگئیں، اسی طرح ما بعد الموت کی ماوراء عقل باتیں موت کے وقت عقل میں آجائیں گی۔ یہ تمام باتیں انبیاء علیہم السلام نے خالق و مالک اور حکیم و علیم کی وحی کے ذریعہ بتلائی ہیں جو انٹ اور اٹل ہیں۔

### طاقتِ ایمان کیا ہے؟

اللہ کی ذات کا یقین ایسا ہو کہ دل میں غیر کا یقین نہ رہے۔ اس ایمان کی طاقت کے ذریعہ نماز، دعا اور تمام اعمال صالحہ آسمان پر جائیں گے جس طرح چاند پر بھیجنے کے لیے سائنس والوں کو راکٹ کے دھکے کی ضرورت پڑی۔ اسی طرح اعمال اور دعاؤں کو آسمان پر پہنچانے کے لیے طاقتِ ایمان کی ضرورت ہے:

﴿إِنِّي يَصْعَدُ الْكَلِمَ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾

فقط ایمان کا بول اور الفاظ کافی نہیں ہے بلکہ ایمان کا تعلق دل سے ہے۔ لہذا اس کی حقیقت دل میں اتارنی ضروری ہے اور دل میں ایمان ہونے کی نشانی یہ ہے کہ مومن ہر حال میں خدا کے اوامر پر عمل کرنے والا بنے اور منکر چیزوں سے روکنے والا بنے چاہے اس کو کتنی ہی راحتیں قربان کرنی پڑیں۔ قرآن میں جس قدر بڑے بڑے وعدے ہیں وہ اس ایمان پر ہیں۔ کامیابی اور نصرت کا وعدہ، سر بلندی اور عزت کا وعدہ نجات اور امن کا وعدہ، معیتِ خداوندی اور جنت کا وعدہ، فضل کبیر اور محبوبیت کا وعدہ نیز صفاتِ ایمان پر بھی معیتِ خداوندی کا وعدہ ہے اور وہ تقویٰ اور صبر و احسان ہے۔

① ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ ایمان والوں کے لیے کامیابی کا وعدہ ہے۔

② ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ﴾ ایمان والوں کے لیے نصرت کا وعدہ ہے۔

③ ﴿وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ ایمان والوں کے لیے سر بلندی کا وعدہ ہے۔

④ ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَكَرْسِيُّهُ وَلِلَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّذِينَ آمَنُوا﴾ ایمان والوں کے لیے عزت کا وعدہ ہے۔

⑤ ﴿وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ﴾ ایمان والوں کے لیے نجات کا وعدہ ہے۔

⑥ ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾ ایمان والوں کے لیے امن کا وعدہ ہے۔

⑦ ﴿وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ایمان والوں کے لیے معیتِ خداوندی کا وعدہ ہے۔

⑧ ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ﴾ ایمان والوں کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔

⑨ ﴿وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا﴾ ایمان والوں کے لیے فضل کبیر کا وعدہ ہے۔

⑩ ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ اللَّهُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا﴾ ایمان والوں کے لیے محبوبیت کا وعدہ ہے۔

## صفات ایمانی پر معیتِ خداوندی کا وعدہ ہے

- ① ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔
- ② ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾ اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔
- ③ ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ اللہ تقویٰ والوں کے ساتھ ہے۔

## ایک یورپین آدمی کے سوالات کا اطمینان بخش جواب

والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک یورپین آدمی آیا اور عرض کیا کہ مجھے چند سوالات درپیش ہیں اگر آپ رنجیدہ خاطر نہ ہوں، تو میں صاف طور پر پیش کروں؟ آپ نے اس کو اطمینان دلایا اور بے تکلف سوالات کرنے کی اجازت دے دی۔ اس نے کہا کہ آسمانی کتابیں توریت، زبور، انجیل اس دور کے مناسب حال نازل ہوئی تھیں۔ آخر میں نازل ہونے والا قرآن یہ بھی اونٹ اور تلواریں کے زمانہ کا ہے، اب راکٹ اور ایٹمیات کا زمانہ ہے، لہذا اب محمدی قرآن کے بجائے کوئی ماڈرن کتاب ہونی چاہئے یا یوں سمجھئے کہ توریت میں کوئی کئی تھی وہ زبور میں پوری کی گئی اور زبور کی کئی کئی انجیل میں پورا کیا گیا اور انجیل کی کئی کئی قرآن میں پورا کیا گیا ہے۔ اب اس دور کے مناسب حال جو کئی محسوس ہو رہی ہے وہ ماڈرن کتاب نکال کر پوری کرنی چاہئے۔ یا تو جیسا کہ آپ کا عقیدہ ہے کہ خدا تعالیٰ عظیم و حکیم ہے اور یہ قرآن قیامت تک کے لیے نازل کیا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ابتداء ہی سے تمام انبیاء علیہم السلام کے لیے ایک ہی کتاب طے کر دیتے۔ یورپین آدمی نے ایک ہی سوال کی کئی شکلیں نکال کر جواب طلب کیا۔ حضرت والد صاحب نے جواب میں فرمایا کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا کہ میری تیس سال کی عمر ہے۔ والد صاحب نے فرمایا کہ یہ آپ کی بھرپور جوانی کا زمانہ ہے۔ اب آپ کا یہ قد و قامت نہ بڑھے گا اور نہ گھٹے گا، جس کی وجہ سے آپ کے لباس کی سائز جو اس وقت ہے یہی سائز موت تک رہے گی۔

جب آپ کی عمر ایک سال کی تھی تو آپ کا کرنا آپ کی والدہ نے بہت چھوٹا بنایا تھا۔ جب دو سال کی عمر ہوئی پھر کرتے کی سائز بدل کر کچھ بڑا بنایا، جب پانچ سال کی عمر ہوئی تو اور بڑا کرنا بنایا۔ اسی طرح سائز بڑھتے بڑھتے موجودہ سائز تک پہنچی۔ اب آپ کی اس وقت جو عمر ہے یہ وہ زمانہ ہے کہ اب آپ کا قد و قامت موت تک یہی رہے گا اور لباس کی سائز بھی یہی رہے گی۔ تو یہاں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک سال اور دو سال والا چھوٹا کرنا جو آپ کی والدہ نے بنایا تھا یہ والدہ کی بھول یا چوک تھی بلکہ اس کو آپ تسلیم کرتے ہیں کہ وہ بچپن کا زمانہ تھا۔ جوں جوں قد و قامت بڑھتا رہا لباس بھی اس اعتبار سے بڑھتا رہا حتیٰ کہ جوانی کا زمانہ یہ وہ زمانہ ہے کہ اب قد و قامت بڑھنے گھٹنے کا سوال نہ رہا۔ اس لیے یہی سائز موت تک رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ یقیناً عظیم و حکیم ہے، ہر زمانہ میں جو کچھ کیا اور جو کچھ کر رہا ہے، اس میں نہ بھول ہے اور نہ چوک، سمجھ کا فرق ہے۔

وہ یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی اور آدمی ہیں، یہ زمانہ انسانیت کے اعتبار سے بچپن کا زمانہ تھا، ان کے مناسب حال احکامات دیے گئے۔ پھر نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا۔ انسانیت کے معیار میں جس قدر تہدیلی آئی اس کے مناسب اوامر دیے گئے۔ اسی طرح توریت، انجیل، زبور اور ان کتابوں میں بھی بقدر ضرورت فروعی احکام میں تہدیلی کی گئی، یہاں تک کہ آخر میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، تو ٹھیک انسانیت کی جوانی کا زمانہ تھا۔ آپ کو قرآن میں وہ اصولی چیزیں جن میں تمام انبیاء علیہم السلام متحد اور متفق ہیں مثلاً توحید، رسالت، آخرت وغیرہ۔ ان کے علاوہ فروعیات میں ترمیم کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ احکامات اور ضابطے دیے گئے جو پورے عالم



کے لیے اور قیامت تک کے لیے کافی ہیں۔ اس لیے محمد ﷺ کی نبوت پر رحمۃ للعالمین اور خاتم النبیین کی مہر ثبت کر دی گئی اور اس کے ساتھ قرآن میں بھی اعلان کر دیا گیا:

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ (پ: ۷)

”آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر لیا اور تمہارے اوپر اپنی نعمت تام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین بنا کر میں راضی ہو گیا۔“

لہذا اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور محمد ﷺ والا طریقہ تاقیامت جاری رہے گا اور یہی طریقہ پورے عالم کے لیے باعث رحمت و برکت ہوگا۔

اس یورپین آدمی نے مذکورہ بات غور سے سننے کے بعد دوسرا سوال پیش کیا کہ جب نبیوں کا آنا باعث رحمت ہے اور نبیوں کے سلسلے کا بند ہو جانا باعث زحمت ہے، پھر آپ کا خاتم النبیین ہونا باعث فضیلت کیسے ہو سکتا ہے۔ جب آپ کو خاتم النبیین تسلیم کیا جائے، تو رحمۃ للعالمین کیسے ہو سکتے ہیں اور اگر رحمۃ للعالمین ہونا تسلیم کیا جائے تو خاتم النبیین کہنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟

والد صاحب ﷺ نے جواب دیا کہ بیشک محمد ﷺ نے نبیوں کا سلسلہ بند کر دیا، مگر آپ نے نبیوں والا کام بند نہیں کیا بلکہ تمام انبیاء علیہم السلام اپنے مخصوص طریقہ کے ساتھ اس امت کے حوالہ کر دیا تاکہ امت محمدیہ تاقیامت تمام انبیاء علیہم السلام کے انوارات اور ان کی رحمتیں اور برکتیں محمدی مہر کے ساتھ حاصل کر سکیں۔ اسی لیے قرآن میں انبیاء علیہم السلام کا ذکر کرنے کے بعد آپ کی شان میں فرمایا گیا ہے:

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدْهُمْ آتَتْهُ﴾

”اے محمد! تمام انبیاء ہدایت پر تھے اور سیدھی راہ چلے ہیں۔ آپ بھی ان کی چال چلیے۔“

اور جو حکم آپ کو ہوگا امت بھی اس کی مکلف ہے بشرطیکہ آپ کے لیے وہ حکم خاص نہ کر دیا گیا ہو، لہذا امت محمدیہ تمام انبیاء کی چال چلیگی، محمدی طریقے کے ساتھ۔ آپ ﷺ نے تمام انبیاء علیہم السلام والا کام بھی کیا اور تیسرا مخصوص کام یہ کیا کہ آپ نے کام کرنے والے دائمی تیار کئے، آپ کی اقتداء میں امت دین پر عمل کرے گی اور دوسروں میں اعمال زندہ کرنے کی کوشش کرے گی اور تیسرا اس امت کا مخصوص کام یہ ہوگا کہ دعوت دین کے لیے دائمی تیار کرے گی تاکہ پورے عالم میں تاقیامت دین زندہ اور تابندہ رہے۔ انبیاء سابقین میں اسماعیل علیہ السلام اپنے گھرانے کے لیے مبعوث ہوئے، تو یہ امت بھی اپنے گھرانہ میں دعوت دین کا عمل کر کے اسماعیل علیہ السلام والا نور حاصل کرے گی محمدی مہر کے ساتھ اور نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام اپنی قوموں کے لیے مبعوث ہوئے تھے، یہ امت بھی اپنی قوموں میں دعوت دین کا عمل کر کے ان انبیاء علیہم السلام کے انوارات حاصل کرے گی محمدی مہر کے ساتھ اور شعیب علیہ السلام تاجروں میں مبعوث ہوئے اور قوم سبا کے تیرہ انبیاء علیہم السلام کسانوں اور جاگیرداروں میں مبعوث ہوئے، یہ امت بھی ان طبقات میں دعوت کا عمل کر کے ان انبیاء علیہم السلام والے انوارات حاصل کرے گی محمدی مہر کے ساتھ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام حکومت والوں میں مبعوث ہوئے، یہ امت بھی حکومت والوں میں دعوت دین کا عمل کرے گی۔ موسوی نور حاصل کرے گی محمدی مہر کے ساتھ، الغرض عالم کے سب طبقات میں تاقیامت یہ امت دعوت دین کا عمل کر کے سارے انبیاء علیہم السلام کے انوارات اور رحمتیں برکتیں حاصل کرے گی محمدی مہر کے ساتھ۔

لہذا آپ کا خاتم النبیین اور رحمۃ للعالمین ہونا شرف اور رحمتوں اور برکتوں کا باعث ہے اور امت محمدیہ کے لیے طرہ امتیاز بھی ہے اور باعث فخر و اعزاز بھی، نیز محمدی طریقہ موجودہ دور میں بھی امن و امان کا باعث ہے بشرطیکہ دعوت دین کا عمل صحیح نبوی پر کیا جائے۔ موجودہ دور کی

پریشانیوں اور شر و فسادان ماڈرن طریقوں کی ایجادات ہیں اور ماڈرن طریقہ امن و امان قائم رکھنے میں ناکام اور ناکام ثابت ہو چکا ہے۔ اس یورپین آدمی نے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں سن کر کہا کہ مجھے اپنی زندگی میں کوئی مطمئن نہیں کر سکا تھا، آج آپ نے مجھے کامل مطمئن کر دیا اور آج سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین اور رحمۃ للعالمین ہونا تسلیم کرتا ہوں۔ اب صرف ایک بات معلوم کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ کیا اس دور میں محمدی طریقہ اپنانے کے بعد چین و سکون اور امن و امان قائم ہونے کا کوئی نمونہ بھی موجود ہے۔

اس کے جواب میں والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ اطراف عالم میں جہاں پر دعوت دین کی محنت سچ نبوت پر کی گئی ہے، کئی قوموں اور ملکوں کے سینکڑوں افراد نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ اپنایا جس کے نتیجے میں ان کو میل و محبت اور چین و سکون والی زندگی نصیب ہوئی۔ اس سلسلہ میں ہماری ایک جماعت کی کارگزاری جو افریقہ گئی ہوئی تھی مختصر طور پر اس کے سنانے پر اکتفا کرتا ہوں اس کے بعد آپ نے افریقہ میں گئی ہوئی جماعت کی کارگزاری سنائی۔

### دینی دعوت کی بے شمار مصروفیات کے باوجود فن فلکیات کے متعلق عمیق باتیں

سینہ روشن ہو، تو ہے سوز سخن عین حیات  
ہو نہ روشن، تو سخن مرگ دوام اے ساقی

نمازوں کے اوقات کے لیے طلوع و غروب کا علم جس قدر ضروری اور اہم ہے، اس سے کون ناواقف ہے۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو فنی حیثیت سے طلوع و غروب کے وقت کی تخریج میں اتنی مہارت حاصل تھی کہ آپ مختلف علاقوں کے طلوع و غروب اور زوال کے اوقات کی آسانی سے تخریج کر لیتے تھے۔ حالانکہ اس فن سے دلچسپی اس دور میں عنقا ہوئی جا رہی ہے۔ سعودی عرب کے طلوع و غروب میں آپ کے حساب سے معمولی سا فرق تھا۔ آپ نے اس لائن کے دیگر ماہرین سے اپنے حساب کا استصواب کروایا۔ یہ تو محقق ہو گیا کہ حرمین کے طلوع و غروب کے وقت میں معمولی فرق ہے جس سے نمازوں کے معاملہ میں غلطی کا قوی احتمال تھا۔ اس کی اصلاح کی غرض سے آپ نے امام حرم کی شیخ عبداللہ السبیل صاحب سے ملاقات کی اور نہایت متانت کے ساتھ اوقات کے مسئلہ کو زیر غور لانے کی طرف متوجہ فرمایا۔ مگر اصلاح اوقات کا معاملہ صرف امام صاحب کے اختیار میں نہ تھا جب تک کہ حرمین کے ماہرین اوقات کو اس طرف متوجہ نہ کرایا جائے۔ اس کے لیے آپ کی جدوجہد جاری رہی۔ بالآخر واسطہ در واسطہ حرمین کے ماہرین اوقات تک یہ بات پہنچائی گئی اور اس سلسلہ کو وہاں کے ماہرین نے غور و فکر کے جو بھول تھی اس کی اصلاح فرمائی اور الحمد للہ نماز کے اوقات کی اصلاح کا مسئلہ اس طرح پایہ تکمیل تک پہنچا۔

اسی طرح والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا فکر نگار ہتا تھا کہ جس ملک میں بھی مسلمان قیام پذیر ہوں، وہاں رمضان المبارک کی ابتداء عید الفطر، بقر عید صحیح وقت پر ہو۔ ظاہر ہے کہ اس کا تعلق رویت قمر کی شہادت سے ہے اور رویت قمر کا مدار شرعاً نص صحیح کے مطابق شہادت پر ہی ہے اور شہادت ہی میں احتیاط نہ ہو، تو مختلف مسلم علاقوں اور اسلامی ممالک میں انفراتفری یا کم از کم انتشار پھیل سکتا ہے اور ایسا کئی بار ہوا بھی ہے۔ اسی لیے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ متعلقین اور ذمہ داروں کو شہادت میں حزم اور احتیاط کی طرف خاص متوجہ کرتے رہتے۔ بالخصوص ایسے ایام کی شہادت میں تو انتہائی کرید کی ضرورت ہے، جنہیں والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر کے مطابق فقہی اصطلاح میں قرآن شمس و قمر یا تولید قمر جسے انگریزی میں نیومون (New Moon) کہتے ہیں یعنی ہر ماہ کی آخری تاریخوں میں چاند سورج کی محاذات میں آجاتا ہے اور چاند کا وجود چند منٹ کے لیے دکھائی نہیں دیتا۔ اس کے بعد چاند کا الگ ہونا محسوس ہوتا ہے۔ اس علیحدگی کی ابتداء کے

بعد ماہرین فلکیات کے نزدیک کم سے کم سترہ گھنٹے اور عموماً بیس بائیس گھنٹوں کے بعد چاند رویت کے قابل ہوتا ہے۔

فلکیات کے ماہرین کی رائے کے مطابق قرآن یا نیومون کے دن چاند کا دکھائی دینا ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے اس روز کی شہادت میں انتہائی احتیاط اور تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ تاکہ شہادت میں کوئی وہم و ابہام نہ رہ جائے۔ امکان رویت اور اس کے متعلقات کے سلسلہ میں والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس فن سے دلچسپی رکھنے والے بعض حضرات سے خط و کتابت کر کے خصوصی طور پر توجہ دلا کر تاکید فرمائی ہے۔

جناب مولانا برہان الدین صاحب کے نام ایک مکتوب میں والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے کہ شہادت کا سلسلہ بلاشبہ شریعت کے متفق علیہ اور نص قطعی پر منحصر مسئلہ ہے اور اس کی بنیاد پر دیے گئے علماء کرام کے فیصلوں کو ہر حال میں قبول کرنا ہے خواہ وہ بداہت کے خلاف ہی کیوں نہ ہو لیکن اتنا ضرور ہے کہ بداہت کو بالکل نظر انداز کرنے کا موجودہ جو رویہ ہے اس میں تبدیلی اور قرآن پاک کی آیت مبارکہ ﴿وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ﴾ کی نص قطعی کی طرف اذہان کو متوجہ کر کے اس کی اہمیت کا احساس اور اس کے فقہی وزن کے تعین کی ضرورت ہے۔

والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تمنا تو یہ تھی کہ بداہت فن یعنی عملاً رویت قمر کے امکانی اوقات سے قبولیت شہادت کے ذمہ داران بھی اچھی طرح واقف ہوتے تاکہ شہادت کے فقہی احکام اور فن ہیئت کے اعتبار سے قرآن یا نیومون کے مصلحا بعد رویت قمر کے ممکنہ ایام دونوں کی فقہی اہمیت کے امتزاج کو بروئے کار لائے۔

مذکورہ خط میں والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا کہ دل میں یہ بات آئی کہ کاش ایسی کوئی کتاب یا رسالہ تصنیف کیا جائے جو آسان زبان میں ہو اور جس میں دنیا کے سبھی ممالک کے اہم مقامات پر امکان رویت کا دن درج ہو اور اس میں ہر ماہ قرآن شمس و قمر یا تولید قمر اپنی نیومون کا دن اور وقت بھی دکھایا جائے۔ پھر اسے ہر ملک کے اعلان رویت کے ذمہ داران تک پہنچایا جائے تاکہ وہ حضرات جس دن ان کے یہاں مطلع پر امکان رویت ہی نہیں ہے اس دن رویت ہلال کی شہادت قبول کرنے میں حزم و احتیاط کی طرف پورے طور پر متوجہ ہو سکیں۔

اس معاملہ میں آپ کس قدر متفکر رہتے تھے اس کا اندازہ پروفیسر ملیشیا ڈاکٹر محمد الیاس صاحب کے نام لکھے ہوئے ایک مکتوب میں اس تحریر سے کر سکتے ہیں۔ لکھا ہے: اس وقت میں اس معاملہ میں بہت پریشان ہوں کہ اس سال برطانیہ، دہلی اور امریکہ میں چاند دیکھا گیا جب کہ اس وقت چاند کی عمر کہیں ۷، ۸ گھنٹے تھی اور دہلی میں تو نیومون سے بھی پہلے شہادت ملی۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے کہ ۲۰-۲۳ گھنٹے کے بعد ہی چاند دیکھا جاسکتا ہے حالانکہ اس فن کے ماہرین کے نزدیک یہ بات ضروری ہے۔ اب دو صورتیں ہیں یا تو ماہرین سے حساب میں کہیں چوک ہوئی یا علماء سے گواہوں کی تحقیق میں کوئی تسامح ہوا۔ آگے اسی خط میں تحریر فرماتے ہیں کہ:

میں یہ چاہتا ہوں کہ مختصر سی ایسی کتاب ترتیب دی جائے جس میں ساٹھ سالہ نیومون کا حساب جو میرے پاس ہے، وہ ہو اور مولانا برہان الدین صاحب کا مضمون ہو۔ پھر آپ ایک قاعدہ اور ضابطہ آسان کر کے ترتیب دے دیں کہ (۱) کتنی عمر میں چاند کا دیکھا جانا ممکن ہے (۲) نیز سورج کے ڈوبنے کے کتنی دیر بعد چاند نظر آسکتا ہے۔ یہ بھی لکھیں کہ طول البلد اور عرض البلد کے فرق سے کتنا فرق ہو سکتا ہے اور موسم کے اعتبار سے کیا فرق ہوگا۔

میرے علم میں یہ ہے کہ اگر یہ دو باتیں قابو میں آگئیں تو کام آسان ہوگا اگرچہ اس کے علاوہ بھی بہت سی باتیں ہیں مگر یہ دونوں زیادہ اہم ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور بات آپ لکھنا چاہے تو مجھے لکھ سکتے ہیں۔

دوسری بات یہ ہے کہ سورج کے حساب کی دائمی جنتری تو بن سکتی ہے مگر چاند کے لیے دائمی جنتری نہیں بن سکتی بلکہ ہر سال کے لیے علیحدہ جنتری بنانی پڑے گی کیا یہ بات صحیح ہے؟ اس مختصر کتاب میں اگرچہ ساٹھ سالہ حساب ہوگا پھر بھی لوگ ہر مہینے کا سن سیٹ اور مومن سیٹ اپنے یہاں کے آیزروٹری سے معلوم کریں۔ اس کے علاوہ اور کون سی بات آپ مناسب سمجھتے ہیں مگر ہاں اس کتاب میں فن بالکل نہ ہو بلکہ صرف آپ کی بڑی کتاب کا حوالہ ہو۔

چونکہ رمضان المبارک کی ابتداء اور عیدین نیز حج میں یومِ عرفہ کی تعیین وغیرہ تمام ہی مذکورہ ارکان کا تعلق رویتِ قرہ کی شہادت سے ہے۔ اسی شری اہمیت کے پیش نظر آپ نے مختلف ذرائع حتیٰ کہ رسائل و اخبارات وغیرہ سے بھی کدوکاوش کر کے ساٹھ سالہ ریکارڈ جمع کیا تھا جس سے رویت کے اس ریکارڈ کی ایک مثال مولانا برہان الدین صاحب کے نام مذکورہ گرامی نامہ میں شوال ۱۴۰۷ھ کا قرآنِ شمس و قرہ یعنی نومون کے متعلق اوقات و معلومات حسب ذیل تحریر فرمائی ہے:

شوال ۱۴۰۷ھ SHAWWAL 1407 H.

27 MAY 15:13 (3:13)PM.G.M.T.(WEDNES DAY)

27 MAY 20:45 (8:43)PM. INDIAN TIME

SUN SET 27 MAY IN DELHI= )7:11 PM.M.

MOON SET 27 MAY IN DELHI = 7:11 PM.

۱۴۰۷ھ مطابق ۱۹۸۷ء کا یہ نومون مثال کے طور پر درج کیا گیا ہے۔ اسی سے ساٹھ سالہ ریکارڈ کا اندازہ کر سکتے ہیں۔

قیاس کن زنگستان سن بہار را

### والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کئی بار خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے

والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کئی بار خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل فرمایا ہے، جن میں آپ نے دین کی جدوجہد کرنے والوں کے لیے بشارتیں فرمائیں ہیں، بالخصوص دعوتِ دین کے عمل کرنے والوں کے لیے بشارتوں کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات کو اس کام کی طرف ہونا بتایا گیا ہے۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایسے کئی خواب ہیں، علاوہ ازیں دوسرے حضرات نے بھی والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیارت فرمائی ہے لیکن ان سب میں سے صرف وہ خواب جو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں اور آپ نے ان کو قلم بند کیا ہے، اس میں سے چند خواب درج ذیل ذکر کیے جاتے ہیں، جس سے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فائیت درجہ محبت کا نیز دعوتِ دین کے عمل کی عظمت کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔

### خواب (۱) - از محمد عمر پالپوری

۲۲ ربیع الاول ۱۴۰۰ھ مطابق ۱۰ فروری ۱۹۸۰ء اتوار کا دن گزر کر آدمی رات کو ڈھا کہ کو کرائیل میں میں نے خواب دیکھا کہ

حضور اکرم ﷺ کو تلاش کر رہا ہوں، لوگ بڑی تعداد میں جا رہے ہیں۔ ایک جگہ چند آدمیوں کے درمیان میں حضور ﷺ ہیں۔ میں نے آپ کو سلام کیا اور مصافحہ کیا اور جنت کے بارے میں سوال کیا۔ آپ نے فرمایا کہ جنت میں تو انشاء اللہ جانا ہے، بڑے مزے ہیں۔ پھر میں نے کہا کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب اور حضرت جی دونوں نے سلام کہا ہے اور آپ ﷺ نے سلام قبول فرمایا اور فرمایا کہ حضرت شیخ الحدیث تو ایسے ہیں کہ آنکھیں چکا چوند ہو جاتی ہیں یعنی خوب نور ہے۔ یہ دل میں آیا، الفاظ چکا چوند کے ہیں پھر آنکھیں کھل گئی۔

### خواب (۲)

ذی الحجہ ۱۳۹۷ھ مطابق ۹ دسمبر ۱۹۷۷ء مسجد نور میں حضرت جی مدظلہ کی قیام گاہ پر سویا۔ خواب میں کئی آدمی دیکھے۔ ایک نوجوان سے پوچھا کہ حضور اکرم ﷺ کہاں ہیں؟ اس نے اشارہ کیا کہ اس کمرہ میں ہیں۔ میں کمرہ میں داخل ہوا، تو دیکھا کہ بہت سے نیک لوگ اس میں ہیں۔ ایک کنارے پر ابراہیم عبد الجبار صاحب بھی ہیں اوروں پر غور نہیں کیا۔ آپ چار پائی پر تشریف فرما ہیں۔ میں نے مصافحہ کرنا چاہا، تو فرمایا کہ ٹھہر جاؤ۔ یہ فرما کر آپ ﷺ چار پائی سے نیچے اتر آئے اور مصافحہ کیا پھر چار پائی پر پاؤں پھیلا کر تشریف فرما ہوئے۔ میں نے آپ کے دونوں پاؤں مبارک خوب چومے اور آپ نے منع نہیں فرمایا۔ پھر میں نے زیارت کرنا چاہا۔ آپ دوسرے سے بات کرنے میں مشغول تھے۔ مجھے روکا اور فارغ ہو کر ارشاد فرمایا اور مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ مولوی صاحب اس وقت ہم ایک مہم پر ہیں تم بھی آ جانا۔ میں نے کہا کہ کب؟ فرمایا کہ کل۔ میں نے معلوم کیا، کہاں؟ فرمایا حرم میں (یعنی مدنی حرم مراد ہے)۔ میں نے کہا کس وقت؟ فرمایا: جس وقت چاہو آ جانا۔ پھر میں نے شیخ الحدیث اور حضرت جی مدظلہما کے بارے میں معلوم کرنا چاہا لیکن خواب ختم ہو گیا۔

### خواب (۳)

۱۳۸۹ھ سرائے گاؤں جو جوالا پور کے قریب ہے، وہاں سویا تھا کہ خواب میں بڑا مجمع دیکھا جس میں حضور اکرم ﷺ تشریف فرما ہیں۔ میں جا کر ملا، مصافحہ ہوا۔ میں نے حضرت شیخ الحدیث صاحب دامت برکاتہم کے بارے میں بات کرنا چاہا کہ کیا نظام رہے، لیکن میری بات سے پہلے آپ ﷺ نے بہت اہتمام سے یہ بات تبلیغ کے بارے میں کہنی شروع فرمائی کہ یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ کچھ نہیں ہو رہا ہے اور تبلیغ والے کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ خود یوں کہو کہ ہم سے کچھ نہیں ہو رہا ہے، تو اضع والی بات اور ہے لیکن ناشکری کی حد تک نہ ہو۔ پانچ دس بار اسی کو فرماتے رہے حتیٰ کہ مجھے حضرت اقدس شیخ الحدیث مدظلہ کے بارے میں بات کرنے کا موقع نہ ملا اور آنکھ کھل گئی۔ میں زبان سے اور تحریر سے اس منظر کو ادا نہیں کر سکتا جو آپ ﷺ کا تھا اور بار بار فکر سے فرما رہے تھے کہ ہو رہا ہے۔

### خواب (۴)

پانولی کے اجتماع کے آخری دن فجر کی نماز کے بعد نیند آئی تو خواب میں حضور اکرم ﷺ کی زیارت ہوئی۔ آپ کے قریب میں ایک اور صاحب بھی کرسی پر تھے۔ ان سے پوچھا کہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضور ﷺ ہیں۔ پھر میں نے آپ سے بھی پوچھا کہ میں نے آپ کو صحیح نہیں پہچانا۔ فرمایا: میں اللہ کا رسول (ﷺ) ہوں۔ میں نے کہا: آپ نہ فرماتے تو بھی آپ ہی کی حدیث کی وجہ سے

مجھے یقین تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ شیطان آپ کی صورت میں نہیں آسکتا۔ مصافحہ، معانقہ خوب اچھی طرح کیا۔ شروع میں دور سے تو حضرت شیخ کی شکل کے مشابہ شکل تھی پھر دوسری شکل ہو گئی، وہی آخر تک رہی۔ فرمایا کہ کیا حضرت دہلی گئے ہیں؟ میں نے کہا، ہاں۔ فرمایا: حضرت شیخ کاکل سفر ہے؟ میں نے پہلے تو کہا ہاں، پھر کہا ابھی تو کئی دن ہیں۔ میں سوال سے پہلے سمجھا کہ ہمیں کاسفرکل ہے، بعد میں جواب میں ہی احساس ہوا کہ مدینہ منورہ کاسفر مراد ہے، تو عرض کیا کہ اس کو بھی کئی دن باقی ہیں۔ فرمایا: بہت اچھا پھر بہت سی باتیں فرمائیں اور خوب تبلیغ کے کام پر ہمت افزائی فرمائی۔ میں نے کہا کہ حضرت امت بہت پریشان ہے۔ فرمایا: تبلیغ والے بھی تو مجاہدہ میں ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ آپ اس دینی محنت سے خوش ہیں؟ فرمایا: میں بہت خوش ہوں۔ عرض کیا: ہم تبلیغ والوں کے لیے کوئی خاص پیغام ہو تو ارشاد فرمائیں۔ فرمایا: تبلیغ والے مجاہدوں میں ہیں، بس میں تو اہمیت کے ساتھ دو باتیں کہتا ہوں کہ محنت کرنے والے اغراض سے پاک ہو کر اللہ کی رضا کے لیے کریں، دوسرے یہ کہ استخلاص ہو یعنی جو اس کام میں لگیں وہ اور جھیلوں میں نہ پڑیں، اس کام پر پوری قوت لگادیں۔ پوری دنیا کے انسانوں کی پریشانیوں کا حل اس میں ہے۔ میں نے کہا: حضور ﷺ آپ نے خواب میں وہ کئی جو جاتے ہیں قرآن وحدیث میں کئی اور کوئی بات فرماتے تو ہمیں تاویل کرنی پڑتی، یہ تو صاف بات ہے۔ میں فجر کی نماز کے بعد تھوڑا سو کر بیرون کے آئے ہوئے احباب سے بات کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ مولوی موسیٰ صاحب نے کہا تجھے ساڑھے سات بجے اٹھاؤں گا۔ میں نے کہا میاں جی محراب صاحب کا حکم ہے کہ آٹھ بجے بڑے مجمع میں آنا ہے پھر تو مشکل ہوگی، اس لیے فجر کے بعد تم فوراً انہیں جمع کر لو، جب جمع ہو جائیں فوراً بلا لو۔ دس پندرہ منٹ کا وقفہ ملے گا اس میں سولوں گا، بے تکلف مجھے جگا دینا۔ تو میں ان دو ٹکروں کے ساتھ سویا کہ اللہ دونوں کام کروادے تاکہ حضرت کے بڑے مجمع میں پہنچنے تک بات پوری ہو جائے۔ میں نے سونے سے پہلے حضرت والا سے پوچھا کہ بیرون والوں سے کیا بات کروں؟ ارشاد فرمایا: اخلاص اور استخلاص۔ میں نے اس کے بیان کا ارادہ کر لیا اور سو گیا۔ اس میں یہ خواب آیا اور حضور ﷺ نے بھی یہی دو باتیں مع تشریح ارشاد فرمائیں جو حضرت جی مدظلہ کے دو ٹکروں کی تفصیل تھی۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت آپ ﷺ سے ملنے ہی میرا مصافحہ، معانقہ ہو چکا ہے، لیکن ایسے موقعے مجھ جیسے ضعیف کو بار بار کہاں ملتے ہیں۔ اس کے بعد اب دوبارہ مصافحہ ومعانقہ کروں اور پیشانی پر بوسہ بھی دوں۔ آمادگی کا اظہار فرمایا۔ میں نے بہت اچھی طرح مصافحہ کیا، بہت دیر تک معانقہ میں ایک دوسرے کو دبانے کی کوشش تھی۔ جب فارغ ہوا تو ارشاد فرمایا: اب میں تمہاری پیشانی کو بوسہ دوں گا۔ میں نے شرم کے مارے سر نیچا کر لیا۔ آپ نے اپنے دست مبارک سے اونچا کر کے پیشانی پر بوسہ دیا، پھر ہونٹ چوما، پھر ہونٹوں پر دم کیا۔ اس وقت میرا منہ معمول کے مطابق کھلا تھا۔ ارشاد فرمایا کہ اور زیادہ ہونٹ کھولتا کہ میرا تھوک اور میرا لعاب دہن مبارک تمہاری زبان تک پہنچے۔ منہ اتنا ہی کھولا پھر آپ بار بار کچھ پڑھ کر اندر دم فرماتے رہے اور لعاب دہن مبارک میرے منہ کے اندر ہونٹوں پر اور خصوصاً زبان تک پہنچتا رہا۔ پھر آپ تشریف لے گئے اور میری آنکھ کھل گئی۔

میں کاغذ لے کر یہ خواب لکھنے بیٹھتا کہ بھول نہ جاؤں۔ اتنے میں مولوی موسیٰ آگئے اور کہا کہ تجھے جگانے میں ڈر لگتا تھا، لیکن ضروری بھی تھا۔ اس لیے ہمت کر کے میں نے کمرے کا دروازہ اس نیت سے کھولا کہ انشاء اللہ آپ جگانے سے خوش ہوں گے، کیونکہ دینی تقاضے پر جگایا جاتا ہے۔ یہ سوچ کر دروازہ کھولا۔ یہ مولوی موسیٰ صاحب کا تھوڑا سا توقف کرنا میرے خاص خواب کا وقت تھا اور وہ ڈرے اور جگانے میں انہیں دیر ہوئی، اس میں خواب پورا ہو گیا۔ میں پھر خواب لکھے بغیر بیرون والوں میں خلاف معمول بلا وضو گیا ورنہ با وضو بیان کرنے کی عادت ہے بشرطیکہ ذیابطیس کا زور نہ ہو اور کان نہ بہتا ہو۔ یہاں وقت کی تنگی کی وجہ سے بلا وضو گیا۔ بیرون والوں سے

فارغ ہو کر بڑے مجمع میں جانے سے پہلے استہزاء زور سے آ رہا تھا اس لیے استہزاء و وضو دونوں چیزیں قابو میں آ گئیں۔ پھر نرم غذا کا ناشتہ جلدی سے کر کے الحمد للہ چل دیا۔ حضرت والا کی تشریف آوری سے پہلے جتنی باتیں کرنے کا ارادہ تھا کر چکا تو حضرت والا تشریف لائے اور بیان فرمایا اور دعا بھی کی۔

حضور ﷺ نے بہت تفصیل سے بات فرمائی اور کام کے حالات پوچھتے رہے اور میں جواب دیتا رہا۔ الحمد للہ ہر جواب پر آپ کا انشراح اور انبساط پایا۔ پورے خواب میں تکدر ایک سیکنڈ کے لیے بھی محسوس نہ ہوا اور خواب ہی میں یہ محسوس ہوا کہ آپ تبلیغی کام کی طرف ہمہ تن متوجہ ہیں اور سوالات اس انداز کے تھے جیسے نگرانی کرنے والا پوچھا کرتا ہے۔ اس وقت جو یاد ہیں وہ لکھ لیے ہیں۔

### خواب (۵)

۱۳۹۶ھ ۱۷ جون ۱۹۷۶ء لنگا میں فجر کی نماز کے بعد خواب میں دیکھا کہ عام اجتماع ہے، کوئی ساتھی بات کر رہے ہیں۔ ایک کمرے میں حضرت جی مدظلہ ہیں اور ایک کمرہ میں چار پائی پر مولانا منظور احمد نعمانی سرہانے بیٹھے ہیں اور مولانا حبیب اللہ صاحب پالنپوری (مصنف حرکت آفاق اور صور اسرافیل مہتمم دارالعلوم چھاپی) پانکتی پر بیٹھے ہیں۔ میں ان دونوں حضرات سے ملنے گیا۔ مولانا حبیب اللہ صاحب نے مجھ سے کہا کہ آپ کے فلاں بیان کے فلاں شعر میں نحو کے اعتبار سے فلاں غلطی تھی۔ مولانا منظور احمد نعمانی صاحب نے ان سے کہا کہ ایسی گرفت نہیں کرنی چاہئے، مضمون دیکھو۔ میں نے مولانا منظور احمد صاحب سے عرض کیا کہ نحو کی غلطی بتائی ہے۔ حضور ﷺ بھی ایک کمرہ میں مقیم ہیں لیکن میں کبھی حضرت جی مدظلہ کے پاس، کبھی عام مجمع میں، کبھی خواص کے پاس ادھر ادھر جا رہا ہوں تاکہ آپ کے پاس جانے سے پہلے تبلیغی کام ہر اعتبار سے ٹھیک ہو رہا ہوتا کہ آپ سے ملاقات پر ناراضگی نہ ہو۔ میں آپ سے مل نہ سکا اور خواب ہی میں میری آنکھ کھل گئی، حقیقت میں یہ بھی خواب ہی تھا۔ میں نے حضرت جی مدظلہ کو یہ سارا ماجرا سنایا اور عرض کیا کہ آپ ﷺ سے ملاقات تو نہ ہوئی، لیکن آپ کی طرف سے دل میں خواب کی تعبیر کی چند باتیں القا ہوئیں ہیں حضرت جی مدظلہ کو سنائیں۔ ایک یہ کہ سفر منظور اور مقبول ہے اور اللہ کی محبت کے پیدا ہونے کا ذریعہ ہے، دوسرے یہ کہ میری امت کے عوام میں محنت کی وجہ سے امت کے خواص بھی عوام کی طرح ہو رہے ہیں یعنی یہ بات علی بن ابی طالب المدح آئی، تیسری بات یہ ہے کہ ہندوستان کا تبلیغی کام قابل اطمینان ہے۔ میں نے کہا کہ پاکستان کا؟ تو دل میں آیا یعنی آپ والا ہی القا ہے کہ پاکستان، سیلون، برما، بنگلہ دیش سب ہندوستان ہی میں داخل ہیں یہ تقسیم تو اعداء کی ہے۔ یہ سب سنا کر میں نے حضرت جی مدظلہ سے عرض کیا کہ ابھی جو عوام آپ کی خدمت کر رہے ہیں انہیں نہ ہٹایا جائے، ہٹانے والے بھی ابھی احتیاط کریں تو چاروں طرف خدمت کرنے والوں کا ہجوم تھا۔ پھر میں نے حضرت جی سے عرض کیا کہ پھر میں سوتا ہوں تاکہ آپ ﷺ سے ملاقات کر لوں تاکہ حضرت شیخ کا کوئی پیغام ملے یا آپ کے نام کوئی پیغام ملے یا کم از کم زیارت ہی ہو جائے۔ پھر خواب ہی میں سو گیا لیکن زیارت نہ ہوئی۔ پھر صبح آنکھ کھل گئی۔

نوٹ: اس کے علاوہ بہت سے خواب ہیں جو اگلی جلدوں میں آتے رہیں گے انشاء اللہ۔

### والد صاحب کی تدفین سے پہلے خواب

تدفین سے پہلے دہلی کے ایک عالم صاحب نے خواب دیکھا جو دہلی کی کسی مسجد میں امام ہیں۔ فرمایا کہ کچھ نورانی اشخاص

جا رہے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں کوئی عجیب سی چیز ہے تو دل میں گمان ہوا کہ ملائکہ ہی ہیں تو آواز آئی کہ یہ فرش ہے جو ہمارے ہاتھ میں ہے ہم جسے حضور اکرم ﷺ کی قبر اطہر سے لے آئے ہیں اور حضرت مولانا صاحب کی قبر میں بچھانے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ تو ان کو خیال آیا کہ پھر حضور ﷺ کی قبر میں کیا رہا، تو جواب ملا کہ آپ کے لیے جنت سے لا کر نیا فرش بچھا دیا گیا ہے۔ والد صاحب ﷺ کے انتقال کے بعد مدینہ کے مشہور عالم عبدالمنان صاحب نے خواب دیکھا کہ ایک مجمع ہے جس میں حضور پاک ﷺ تشریف فرما ہیں اور وہاں تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم موجود ہیں۔ اتنے میں دیکھا گیا کہ حضرت والد صاحب ﷺ نور اللہ مرقدہ پیدل چلتے ہوئے تشریف لارہے تھے۔ جب قریب ہوئے تو حضور ﷺ نے بہت اکرام کیا اور ایک جوڑا اٹھایا اور جوڑا پیش کرتے ہوئے فرمایا: تم اس کو پہن لو اور فرمایا کہ تم بہت ہی تھک کر آئے ہو، آرام کرو اور آپ کا بیان میرے صحابہ کو بہت پسند ہے۔ پھر خواب دیکھنے والے کہتے ہیں کہ اسی کے فوراً بعد ہی شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب ﷺ بھی تشریف لے آئے۔ ہائے افسوس! آپ کی منزلت کو ہم نہ پاسکے، آپ کی ذات مجمع کمالات اور باعث خیر و برکات تھی۔ آپ کو اپنی حیات میں حضور ﷺ کی زیارت کا شرف خواب میں کئی مرتبہ نصیب ہوا اور عجیب وارداتیں نصیب ہوئیں۔

والد صاحب ﷺ نے فرمایا کہ ۱۹۷۷ء میں مکہ مکرمہ میں آپ ﷺ کی زیارت ہوئی۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ عمر اپنا منہ کھولو۔ آپ ﷺ نے اپنا لعاب دہن ڈالنا شروع کیا حتیٰ کہ مولانا کے منہ سے لعاب باہر آنا شروع ہو گیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ عمر! تمہارا پیٹ بھر گیا۔ والد صاحب نے فرمایا: ہاں پیٹ بھر گیا؟ ایک مرتبہ آپ بیمار ہو گئے۔ خواب میں آپ ﷺ کی زیارت ہوئی اس حال میں کہ آپ ﷺ فرما رہے ہیں کہ عمر مدینہ سے چل کر تمہاری عیادت کے لیے آیا ہوں۔

آپ کی وفات کے بعد اطراف عالم سے بے شمار تعزیت کے خطوط آئے جس میں عظیم حادثے کا اظہار افسوس کے ساتھ امت مسلمہ کے لیے پڑ نہ ہونے والا خلا محسوس کیا گیا پورے ملک کے رسائل اور جرائد نے آپ کے اوصاف جمیلہ اور خدمات مقدسہ کا اعتراف کرتے ہوئے بلند و بالا الفاظ میں مضامین شائع فرمائے۔ روئے زمین پر بسنے والا انسان ولی کامل اور قطب زماں سے محروم ہو گیا، وہ یکٹا نئے زمانہ اور یگانہ روزگار جس سے تمام شعبہائے دین رونق پذیر تھے جس پر مدارس اسلامیہ کو فخر تھا اور علماء دین کو ناز تھا اور جس کے ارد گرد عاشقان رسول اور افراد امت محمدیہ جمع ہو کر تڑکروں اور مشوروں سے مجلس گرم کئے رہتے تھے آج اپنی قبر میں ابدی نیند سو رہا ہے، وہ پیکر صدق و صفا اور کوہ عزم و وفا اور حامی ایمان و یقین جنت کی فضاؤں سے لطف اندوز ہو رہا ہے، ایسی امید ہے۔ خدائے پاک ہمیں اس خسارہ عظیم کا نعم البدل عطا فرمائے اور آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق اور صحت عنایت کرے۔

خدا رحمت کند این عاشقان پاک طینت را

اللَّهُمَّ اكْرِمْ نَزْلَهُ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَنَقِّهِ عَنِ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الشُّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ النَّدَسِ وَبَلِّغْهُ الدَّرَجَاتِ الْعُلَى مِنَ الْجَنَّةِ - ( آمین )

حضرت والد صاحب ﷺ کا پہلا چلہ

حضرت مولانا الیاس صاحب ﷺ کے بعد صاحب زادہ محترم حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب ﷺ نے دعوت دین کو اطراف عالم میں متعارف کرانے اور پھیلانے کے لیے بلند عزائم کے ساتھ جدوجہد شروع کر دی۔ سب سے پہلے ہندوستان کی چار جانب بڑے شہروں کے لیے پیدل جماعتیں روانہ کیں۔ ایک جماعت دہلی سے کلکتہ، دوسری دہلی سے ممبئی، تیسری دہلی سے پشاور، چوتھی



دہلی سے کراچی۔ ان پیدل جماعتوں نے خوب مجاہدوں اور مشقوں کے ساتھ جنگ اور پہاڑی راستوں کو عبور کرتے ہوئے شہر شہر اور گاؤں گاؤں میں دعوت دین کی محنتیں کیں۔ اس سے ہندوستان کے چار جانب دعوت دین کی صدا پہنچی۔

نیز اس کام کے لیے سب سے موزوں مقام حجاز مقدس معلوم ہوا اور ۱۹۳۶ء میں سب سے پہلی جماعت مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لے کر حجاز مقدس گئے۔ ۱۹۳۷ء میں دوسری جماعت مولانا سعید خاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ مع مفتی زین العابدین صاحب کے گئی۔ ان سب حضرات نے خوب جم کر کام کیا۔ حکومت کی جانب سے دشواریوں کے باوجود مشکلات کا تحمل کرتے ہوئے خفیہ طور پر حکمت کے ساتھ گھروں میں اور خصوصی جگہوں میں کام کرتے رہے۔ علاوہ ازیں ممبئی سے ہندوستان کے حاجی حجاز مقدس میں پہنچتے ہیں۔ اس لیے ممبئی حاجیوں میں یہ کام بھی ضروری معلوم ہوا۔ دہلی سے ایک جماعت ۱۹۳۸ء میں حاجیوں میں اور شہر میں کام کرنے کے لیے روانہ فرمائی جس میں منشی انیس اور مولوی موسیٰ، مولوی حکمت اللہ، قاری سلیمان ننگل والے، جناب افتخار فریدی وغیرہ حضرات تھے۔ ان کی محنت سے ممبئی میں کام کی ابتداء ہوئی۔ ایک دن کی جماعت کبھی تین دن کی جماعت بنی جو ڈابھیل تک گئی۔ ان میں حاجی علاء الدین، حاجی عبدالرحیم جباری ہوٹل والے اور دیگر احباب ممبئی کے تھے۔ یہاں تک کہ حاجیوں کی واپسی ہوئی۔ اس موقع پر گھوگھاری محلہ کے جماعت خانہ میں ایک اجتماع ہوا جس میں مولانا عمران خاں صاحب کا بیان ہوا اور ایک چلہ کی جماعت تیار ہوئی۔ یہ پہلی جماعت تھی جو ممبئی سے دہلی کے لیے روانہ ہوئی۔ اس جماعت میں حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ یہ ۱۹۳۸ء کا آخری اور ۱۹۳۹ء کا ابتدائی زمانہ تھا۔ آپ کے ہمراہ حاجی علاء الدین، حاجی عبدالرحیم جباری ہوٹل والے، حاجی حبیب نصیر الدین وغیرہ تھے۔ یہ جماعت آئندہ پھر احمد آباد، سید پور، چھاپی، پالن پور ان مقامات پر ایک دو دن کام کرتے ہوئے دہلی نظام الدین پہنچی۔ چند دن دہلی میں کام کر کے اس جماعت کو کلکتہ روانہ کر دیا۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سہارنپور سے دہلی مرکز میں واپس تشریف لائے چونکہ آپ نے تین چلہ کا ارادہ کر لیا تھا۔ آپ کو جماعت کے ہمراہ میوات بھیجا گیا۔ کچھ عرصہ کے بعد انہی تین چلہ میں آپ کے دماغ کو خشکی کا عارضہ لاحق ہو گیا۔ اس لیے آپ کو اپنے وطن گنھامن واپس بھیج دیا گیا۔ آپ نے پالن پور میں ماہر حکیم حضرت مولانا محمد نذیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے چند دن علاج کروایا اور افاقہ ہو گیا۔ آپ ممبئی پہنچ کر اپنے تعلیمی شغل میں مصروف ہو گئے۔ اسی سفر میں حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کر لی تھی۔ اس کے بعد تعلیمی شغل کے ساتھ گاہے گاہے چلہ بیس دن کے لیے نکلتے رہے یہاں تک کہ ایک جماعت ۱۹۵۵ء میں دہلی سے ممبئی پہنچی جس نے آپ کی چار ماہ کی تکفیل کی اور آپ تیار ہو گئے۔ (اسی چار ماہ کے بارے میں اپنے بیان میں فرماتے تھے کہ میرے چار ماہ پورے نہیں ہوئے اور خدا کرے نہ ہوں) جب آپ نظام الدین پہنچے اور وقت پورا ہو رہا تھا اور تعلیم کا ایک سال باقی تھا۔ اس لیے حضرت جی نے تعلیم مکمل کر لینے کا مشورہ دیا۔ آپ نے دوبارہ دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیا اور ۱۹۵۶ء میں فراغت حاصل کر کے مرکز نظام الدین واپس پہنچے۔

حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جدوجہد اور نیز فکر اور کردہن کے اعتبار سے من جانب اللہ اس کام کو پھیلانے، بڑھانے اور جمانے کی نت نئی راہیں ودیعت کی جاتی تھی۔ اسی اعتبار سے رجال کار بھی فراہم ہو رہے تھے۔ آپ کو جس طرح حجاز مقدس کی فکر تھی اسی طرح یورپ کے ممالک کی بھی فکر تھی جہاں انگریزی داں حضرات کی ضرورت تھی۔ اس لیے آپ نے علی گڑھ یونیورسٹی کے طلباء اور اساتذہ کو اس کام کے لیے موزوں سمجھا اور اس جانب محنتیں شروع کر دیں اور اجتماع بھی طے کر دیا۔ انہی ایام میں والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فراغت حاصل کر کے پہنچ چکے تھے۔ آپ کو سب سے پہلے خورجہ اور علی گڑھ کی محنت کے لیے روانہ کیا۔ باری تعالیٰ نے ابتداء ہی سے خلوص، سادگی اور اس راہ کی محنت و مشقت کا عادی بنا دیا تھا۔ اس اعتبار سے آپ نے خوب جم کر کام کیا اور ماہ رمضان کے

آخر عشرہ کا اعتکاف مرکز کی مسجد میں پورا کیا، دوبارہ اسی جانب جماعت لے کر محنت کے لیے روانہ ہوئے۔ وہاں کے اجتماع تک کام کرتے رہے۔ اجتماع سے فراغت کے بعد واپسی میں دونوں حضرت جی صاحبان مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے باہم مشورہ سے آپ کے لیے حجاز مقدس کی پورے ایک سال کی تکفیل کی اور آپ تیار ہو گئے۔ یہ دعوت دین کے لیے بیرون کا پہلا سفر تھا۔



### ایک نصیحت

انتقام لینے والا اپنے دشمنوں ہی کی سطح پر رہتا ہے  
اور معاف کرنے والا اس سے بلند ہو جاتا ہے۔

### نذرانہ عقیدت

#### از سید محمد جامی

برسانہ ارحم لسان التبلیغ مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ

ماہ منیر دہر درخشاں چلا گیا	تقدیل علم و حکمت و عرفاں چلا گیا
امت کے غم میں مہی بے تاب تھا جو دل	آتش بجاں وہ سوختہ سامان چلا گیا
روتے ہیں جن کو منبر و محراب رات دن	وہ سنت نبی <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> کا ثنا خواں چلا گیا
پیغام دین جس کا وظیفہ تھا عمر بھر	وہ جاں نثار دعوت ایمان چلا گیا
کتنے ہی غم زدہ ہیں تڑپتے ہیں آج بھی	انسانیت کے درد کا درماں چلا گیا
بکھرے ہیں یوں تو علم کے موتی چہار سو	لیکن وہ ایک لعل بدخشاں چلا گیا
سرشار جن سے ہوتے تھے سب طالبان حق	وہ ساغر نشاط خمستاں چلا گیا
تیرہ شمی میں ڈوب چکی تھی تمام قوم	اپنے لہو سے کر کے چراغاں چلا گیا
تیرا وجود رونق مرکز تھا اے عمر	تو کیا گیا کہ دید کا سامان چلا گیا
آتے ہیں یاد اب بھی ترے دل نشیں بیان	گلتا ہے عندلیب گلستاں چلا گیا
کھلتے ہیں یوں تو آج بھی گل ہائے رنگانگ	یادش بخیر وہ گل خنداں چلا گیا
سینچا تھا جس کو خون سے اپنے تمام عمر	آج اس چمن کو چھوڑ کے ویران چلا گیا
جانے کو یوں تو روز ہی جاتے ہیں سینکڑوں	تو کیا گیا زمیں سے اک انساں چلا گیا
راتوں کو اٹھ کے روتے ہیں پسماندگان تیرے	کیوں سب کو چھوڑ چھاڑ کے گریاں چلا گیا
چشم فلک بھی خون چکیدہ تھی اس گھڑی	جس دم تو سوئے گور غریباں چلا گیا

## جادو سے حفاظت کا بہت ہی مجرب نسخہ

① آگے پیچھے گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔

② سورہ فاتحہ۔ تین مرتبہ۔

③ چاروں قل۔ تین مرتبہ۔

④ آیۃ الکرسی۔ تین مرتبہ۔

⑤ ﴿وَلَا يُوَدُّهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ نو مرتبہ۔

⑥ ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَعَلَّوْا نَعْلُ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ تین مرتبہ۔

⑦ ﴿سَلَامٌ قَوْلًا مِّنْ رَبِّ رَحِيمٍ﴾ سات مرتبہ۔

اپنے بدن پر اور بچوں کے بدن پر دم کر لیجئے اور پانی پر دم کر کے پی لیجئے اور پلا دیجئے۔

## ہر قسم کی پریشانی سے چھٹکارے کا تعویذ لکھ کر گلے میں ڈال دیجئے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِیْ لَا یَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَیْءٌ فِی الْاَرْضِ وَلَا فِی السَّمٰوٰتِ وَهُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ

اللّٰهُمَّ لَا سَهْلَ اِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا وَاَنْتَ تَجْعَلُ الْعَزْزَ سَهْلًا اِنَّا شِئْنَا بِكَ حَسْبُ فِیْ دِیْمُوْمَةٍ مُّلْكِهِ وَبِقَائِهِ یَا حَسْبُ یَا

حَسْبُ یَا حَسْبُ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ وَقَبْلَ رَبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّیْطٰنِ وَاَعُوْذُ بِكَ رَبَّ اَنْ

یَحْضُرُوْنِ اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ الْعَلَمَاتِ مِنْ شَرِّ مَا عَلَقَ مِنْ عَقَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ

## بکھرے موتی

✿ غیبت نیک اعمال کو کھا جاتی ہے۔ ✿

✿ غم عمر کو کھا جاتا ہے۔ ✿

✿ نیکی بدی کو کھا جاتی ہے۔ ✿

✿ غصہ عقل کو کھا جاتا ہے۔ ✿

✿ عدل ظلم کو کھا جاتا ہے۔ ✿

✿ بہادر وہ ہے، جو مصیبت کے وقت صبر و تحمل سے کام لے اور آڑے وقت میں برے پڑوسی کی مدد کرے۔ ✿

✿ اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ لینے والا ہے۔ ✿

✿ وہ شخص سب سے بہتر ہے جو زندگی بسر کرتا ہے، اپنی ضروریات کے لیے کسی غیر پر بھروسہ نہیں رکھتا۔ ✿

✿ قوانین قدرت سے انحراف کرنے والا کبھی سزا سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ ✿

- دنیا کی حکمن اٹارنے کا سب سے مؤثر ذریعہ ذکر ہے۔
- ایک سچا دوست کسی ہیرے سے کم نہیں۔
- موت کا تعلق جسم سے نہیں احساس سے ہوتا ہے۔
- رشتوں میں سے سب سے افضل رشتہ درجہ ماں کا ہے۔
- سب سے بڑا گناہ کسی کا دل دکھانا ہے۔
- دوستی کرنے سے پہلے صورت کو نہیں سیرت کو دیکھو۔
- کسی کو حد سے زیادہ چاہو تو وہ مغرور ہو جاتا ہے۔
- دنیا میں اس سے بڑی مصیبت کوئی نہیں کہ تمہارا کوئی دشمن ہو۔
- غصہ ایسا طوفان ہے، جو دماغ کا چراغ بجھا دیتا ہے۔
- ترقی نام ہے غلطیوں کی اصلاح کا۔
- محبت اور عداوت کبھی پوشیدہ نہیں رہتی۔
- نظر نہ آنے والی چیزوں پر یقین کرنا ایمان کہلاتا ہے۔
- ظالم لوگ ایسی زنجیریں ابھی تک تلاش نہیں کر سکے، جو دماغوں کو جکڑ سکے۔
- دنیا والے دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں اور دنیا الہ اللہ کے پیچھے۔
- غم آخرت دل کا نور ہے۔
- ایک رات کی نیند میں انسان ساڑھے چھ ہزار مرتبہ سانس لیتا ہے۔
- انسانی جسم میں ساڑھے تین کروڑ سوراخ ہوتے ہیں جن سے پسینہ خارج ہوتا ہے۔
- جنوبی افریقہ میں اس طرح کی مگڑی پائی جاتی ہے جو پرندوں کا شکار کرتی ہے۔
- جیل سورج کی طرف ایک گھنٹے تک دیکھ سکتی ہے۔
- چمن میں ایک ایسا پھول ہے جس کا رنگ رات میں سفید ہوتا ہے اور سورج نکلنے ہی سرخ ہو جاتا ہے۔
- حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ رسول کہا گیا اور امیر المؤمنین سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہا گیا ہے۔
- حضرت مولانا محمد عمر صاحب پانپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آج کے فقیر کا مطلب ہے کہ ف سے فی رنی، ق سے قورمہ، یا سے یخی اور ر سے روئی، اور پہلے زمانہ کے فقیر کا مطلب ف سے فاقہ، ق سے قناعت، ی سے یاد الہی اور ر سے ریاضت تھی۔
- حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ امیر کا مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم امر بنے، حالانکہ امیر تو وہ ہے جو چوبیس گھنٹہ اللہ کے اوامر سے مربوط رہے اور ساتھیوں کو ترغیب، شفقت اور خوشامد کر کے اللہ کے اوامر سے مربوط رکھے۔
- دولت دل کی تاریکی بڑھاتی ہے۔
- اگر غلط فہمیوں کو دور نہ کیا جائے، تو وہ نظرتوں میں بدل جاتی ہیں۔
- ہمیشہ سچ بولو تاکہ قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے۔

مرجمائے ہوئے پھول بہار میں تازہ ہو سکتے ہیں مگر گزرے ہوئے دن بھی لوٹ کر واپس نہیں آتے۔

خدا کو اگر دل کی نظروں سے دیکھو گے تو خدا تمہیں شرگ سے قریب ملے گا۔

اے اللہ کے بندے تو دنیا میں رہنے کے سامانوں میں لگا ہے اور دنیا تجھے اپنے سے نکالنے میں مرگم ہے۔

اگر سکون سے رہنا چاہتے ہو تو لوگوں سے وعدے کم کرو۔

علم سے محبت اور استاذ کی عزت کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا۔

کام کرو کیونکہ کام سے غلطی، غلطی سے تجربہ اور تجربہ ہی سے عقل آتی ہے۔

غصے میں کوئی ایسی بات نہ کرو جس سے بعد میں ندامت ہو۔

ہر مشکل اور پریشانی میں جوش کے بجائے ہوش سے کام لو۔

دوسروں میں برائیاں تلاش کرنے کے بجائے اپنی برائیاں دور کرنے کی کوشش کرو۔

اچھے دوست تلاش کرو اس سے انسان کی عزت بڑھ جاتی ہے۔

کبھی ایسی چیز کی خواہش نہ کرو جو پوری نہ ہو۔

اس محفل میں نہ جاؤ جس میں رسوائی کا اندیشہ ہو۔

اپنی ہار پر مت روؤ کیونکہ تمہاری ہار کسی کی جیت کا سبب بنتی ہے۔

جو شخص اپنے خلوص کی قسمیں کھائے اس پر کبھی اعتبار نہ کرو۔

جو لوگ آج کا کام کل پر چھوڑتے ہیں وہ یہ نہیں سوچتے کہ آج ہم نے کیا کیا جو کل کر لیں گے۔

عالم اسے کہتے ہیں جو در پر وہ خدا سے ڈرتا رہے اور خدا کی رضا مندی کی رغبت کرے اور اس کی ناراضگی کے کاموں سے نفرت

کرے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ باتوں کی زیادتی کا نام علم نہیں علم نام ہے بکثرت اللہ سے ڈرنے کا۔

جس نے محفل میں اپنے آپ کو برا کہا اس نے اپنی تعریف کی اور یہ دنیا کی علامت ہے۔ (حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ)

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قرآن کی دو آیتیں ہیں ان دو آیتوں کو جس نے پڑھ لیا اس کے بعد اس کو عجب نہیں آسکتا۔ ایک

علم کے بارے میں، دوسرے عمل کے بارے میں، اللہ اپنے محبوب کو فرماتے ہیں: اگر ہم چاہیں ہم سب کچھ لے لیں جو کچھ ہم نے

وہی کے ذریعہ آپ کو عطا کیا۔ (پ ۱۵ اسرا ایل آیت ۸۶) اور دوسری آیت فرمائی عمل کے بارے میں (اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے

فرماتے ہیں اے محبوب اگر ہم نے آپ کو ثابت قدم نہ بنایا ہوتا تو آپ ان کی طرف کچھ کچھ جھکنے کے قریب جا بیٹھتے۔

(پ ۱۵ اسرا ایل آیت ۷۷)

اکمال الشیم میں ایک عجیب بات لکھی ہے فرماتے ہیں، اے دوست جس نے تیری تعریف کی اس نے درحقیقت تیرے پروردگار کی

ستاری کی تعریف کی اور واقعی گناہوں میں بوہوتی تو کئی پرہیزگار جو پار سائی میں مشہور ہیں ان کے جسموں سے ایسی بو آتی کہ کوئی

ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کرتا۔

عطاء بن رباح رضی اللہ عنہ الہامی کلام فرمایا کرتے تھے عجیب بات کہی فرماتے ہیں ایک دفعہ رب العزت نے الہام فرمایا عطاء! ان

لوگوں سے کہہ دو اگر ان کو رزق کی چھوٹی موٹی تنگی اور پریشانی آتی ہے یہ فوراً لوگوں کی محفل میں بیٹھ کر میرے شکوے شروع کر دیتے

ہیں جب ان کے اعمال نامے گناہوں سے بھرے میرے پاس آتے ہیں میں فرشتوں کی مغل میں ان کی شکایتیں نہیں کرتا۔  
 حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے فرماتے ہیں یہ نہ دیکھنا گناہ چھوٹا ہے یا بڑا بلکہ اس ذات کی عظمت کو دیکھنا جس کی تو  
 نافرمانی کرتا ہے۔

### وقت کی قدر

- ❁ وقت کسی کامیراث نہیں۔
- ❁ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔
- ❁ لوگ کہتے ہیں وقت گزر جاتا ہے..... جی نہیں ہم گزر جاتے ہیں۔
- ❁ وقت کو استعمال کرنے کی عادت ڈالو۔
- ❁ وقت کی اپنی زندگی ہے۔

### منتخب اشعار

اپنی پیاس کو لے کر کس کے پاس جاتا میں  
 جن کے پاس دریا تھے ان سے ہی لڑائی تھی

.....☆.....

تیری گالی میرے کانوں تک تو پہنچی بعد میں  
 پہلے تیرے منہ میں رہ کر تجھ کو گندہ کر گئی

.....☆.....

نہ جانے کتنے چراغوں کو مل گئی شہرت  
 اک آفتاب کے بے وقت ڈوب جانے سے

.....☆.....

اک روز کھل ہی جائے گی تیری منافقت  
 مخمر کو آستین میں کب تک چھپائے گا

.....☆.....

نہ جی رہے ہیں نہ مر رہے ہیں مگر تانے سے ڈر رہے ہیں  
 کے پڑی ہے جو جا سنائے ہماری پی کو ہماری بتیاں

.....☆.....

غزل کے شعروں پہ اس بار تازگی کم ہے  
 میرے خیال سے آنکھوں میں کچھ نمی کم ہے

.....☆.....

دلوں میں پہلی سی چاہت کہاں ہے  
کہ اب انسان کی قیمت کہاں ہے  
سامنا تھا مخالف ہوا کا مگر  
میں چراغِ محبت جلاتا رہا



پھلے پھولے کیسے یہ گوگی محبت  
نہ وہ بولتے ہیں نہ ہم بولتے ہیں



لے فیروں سے وہ ہنس کر چلے دل پر مرے نشتر  
خدا ہی جانتا ہے زخم کھائے کس قدر میں نے



ہم کو روکو نہ افزائشِ نسل سے  
ہم کو مرنا بھی تو ہے فسادات میں



انہیں فیشن نے نکا کر دیا ہے  
جنہیں سادہ لبادے کاٹے ہیں



پرچہ دوا کا پھاڑ کے بولے حکیم جی  
لٹھے کا تھان لیجے پیار کے لیے



ہماری تنگی معیار تک پہنچی نہیں ورنہ  
یہ دریا کیا سمندر بھی ہمیں کو ڈھونڈتا پھرتا



بے نیازی سے رکھا ہے میں نے غربت کا بھرم  
پھر بھی مجھ کو دے دیا لوگوں نے بے گانے کا نام  
بس تجھی سے مانگتا ہوں کامیابی کی دعا  
اے خدا تیرے علاوہ سرخرو کرتا ہے کون



روزے رکھ کر صرف جو پانی پئے افطار پر  
کیسے بچوں کو کرے خوش عید کے تہوار پر



پیدا ہونے سے ہی پہلے قتل دختر الاماں  
بچلے وقتوں سے گیا گزرا زمانہ آگیا



حکومت کی طرح غربت میں ماں بھی اپنے بچوں کی  
ضدوں کو، کر کے کل پرسوں کے وعدے مال دیتی ہے



اکیلے پار اتر کے بہت ہے رنج مجھے  
میں اس کا بوجھ اٹھا کر بھی تیر سکتا تھا



ہم انتظار کریں گے قیامت تک  
خدا کرے آج قیامت نہ آئے



کانٹوں میں جو کھلتا ہے شعلوں میں جو پلتا ہے  
وہ پھول ہی گلشن کی تاریخ بدلتا ہے



ساحل کے تماشائی ہر ڈوبنے والے پر  
افسوس تو کرتے ہیں امداد نہیں کرتے



اعمال کو دیکھوں تو پرواز کی جرات نہیں ہوتی  
رحمت تری دیکھوں تو سر عرش کھڑا ہوں



اب کے ہم نچھوڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملیں  
جس طرح سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملیں  
ڈھونڈ اُجڑے ہوئے لوگوں میں وفا کے موتی  
یہ خزانے تجھے ممکن ہے خرابوں میں ملیں



غم دنیا بھی غم یار میں شامل کر لو  
 نشہ بڑھتا ہے شرابیں جو شرابوں میں ملیں  
 تو خدا ہے نہ مرا عشق فرشتوں جیسا  
 دونوں انساں ہیں تو کیوں اتنے حجابوں میں ملیں  
 آج ہم دار پہ کھینچے گئے جن باتوں پر  
 کیا عجب کل وہ زمانے کو نصابوں میں ملیں  
 اب نہ وہ میں، نہ وہ تو ہے نہ وہ ماضی ہے فراز  
 چھے دو شخص تمنا کے سراپوں میں ملیں



دوست بن کر بھی نہیں ساتھ بھانے والا  
 وہی انداز ہے ظالم کا زمانے والا  
 اب اسے لوگ سمجھتے ہیں گرفتار برا  
 سخت نام ہے مجھے دام میں لانے والا  
 صبح دم چھوڑ گیا نکلت گل کی صورت  
 رات کو غنچہ دل میں سمٹ آنے والا  
 کیا کہیں کتنے مراسم تھے ہمارے اس سے  
 وہ جو اک شخص ہے منہ پھیر کے جانے والا  
 تیرے ہوتے ہوئے آجاتی تھی ساری دنیا  
 آج تنہا ہوں تو کوئی نہیں آنے والا  
 منتظر کس کا ہوں ٹوٹی ہوئی دہلیز پہ میں  
 کون آئے گا یہاں کون ہے آنے والا  
 کیا خبر تھی کون مری جاں میں گھلا ہے اتنا  
 ہے وہی مجھ کو سردار بھی لانے والا  
 میں نے دیکھا ہے بہاروں میں چمن کو چلتے  
 ہے کوئی خواب کی تعبیر بتانے والا  
 تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز  
 دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا



یہ رات دن کی آمد شام و سحر کا جانا  
یہ تیز گام دریا یہ صاف صاف چشمے  
پیدا ہوئے ہیں یونہی ہرگز نہیں ہے ایسا  
ہے کوئی ایک بے شک جس نے کیا ہے پیدا

سوچو میرے عزیزو!

یہ نرم نرم ہزہ یہ بزر بزر پتے  
موتی کے مثل شبنم ہلکے لطیف جھوٹے  
خود ہو گئے ہیں پیدا ہرگز نہیں ہے ایسا

سوچو میرے عزیزو!

بادِ سحر کے جھوٹے یہ بھینی بھینی خوشبو  
یہ مسکراتی کلیاں یہ چھپاتی چڑیاں  
پیغام دے رہی ہیں جاگو سحر ہے جاگو  
لو نام اس کا اٹھ کر جس نے کیا ہے پیدا

سوچو میرے عزیزو!

تخلیق کی بلندی عقل و دماغ روشن  
یہ بولنے کی طاقت یہ سوچنے کی قوت  
ہے کون ان کا خالق یہ سب اسی کی راہ میں  
قربان کیوں نہ کر دیں آجاؤ اب تو مل کر

سب اس کا گیت گائیں



لطف دنیا کے ہیں چند دن کے لئے  
کھو نہ جنت کے مزے ان کے لئے  
یہ کیا اے دل تو سب پھر یوں سمجھ  
تو نے نادان گل دئے تنکے کے لئے



ہمیں تو آج بھی سورج کا اعتبار نہیں  
ہمارے گھر میں ابھی تک چراغ جلتا ہے

## ۷۲ چیزیں قرب قیامت کی علامت ہیں!

قصبہ سلمان پاک جسے زمانہ قدیم میں مدائن کے نام سے یاد کیا جاتا تھا اور جو آج بھی عراق میں بدترین تباہی اور بربادی کے باوجود بغداد سے تقریباً چالیس میل کی مسافت پر آباد ہے ایک متحیر اور روح پرورد واقعے کے سبب امت مسلمہ کو تاقیامت اللہ کی روشن نشانی کا احساس دلا کر جھنجھوڑتا رہے گا یہ الگ بات ہے کہ ہم سماعت کے باوجود سننے سے محروم، بصارت کے باوجود دیکھنے سے عاری اور اوراک کے باوجود نظر سے خالی رہیں اور مجھے بھی یہ ایمان افروز واقعہ کسی وجہ سے تحریر کرنا پڑ رہا ہے ورنہ تو اسے لکھنے کے لیے انگلیوں کا وضو، پڑھنے کے لیے طہارت چشم اور سننے کے لیے پاکیزہ سماعت کا ہونا بہت ضروری ہے وجہ کیا ہے؟ یہ اگلی سطروں میں واضح ہو جائے گی۔

قصبہ سلمان پاک کی ایک پر شکوہ عمارت میں صحابی رسول سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا مزار مبارک ہے اور اب اسی مزار کے گنبد سے متصل سرکار رضی اللہ عنہ کے دو جلیل القدر صحابہ (جن سے متعدد احادیث مروی ہیں) حضرت حذیفہ بن الیمان اور حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کی مرقد پر نور موجود ہیں لیکن یہ پہلے یہاں نہیں تھے بلکہ سلمان پاک سے تقریباً تین یا چار فرلانگ کے فاصلے پر ایک غیر آباد جگہ پر موجود تھے جہاں زیر زمین پانی کے آنے کے سبب حضرت حذیفہ بن الیمان نے دو مرتبہ شاہ عراق (فیصل اول) کے خواب میں آکر اس سے کہا کہ مجھے اور جابر کو یہاں سے منتقل کر دو کیونکہ دریائے دجلہ کا پانی قبر میں رس رہا ہے شاہ عراق نے مسلسل دو راتوں تک یہی خواب دیکھا مگر سمجھ نہیں پایا تاہم جب تیسری رات حضرت حذیفہ نے مفتی اعظم عراق نوری السعید پاشا کے خواب میں آکر یہی بات دہرائی اور جب مفتی صاحب نے شاہ عراق سے اس کا ذکر کیا تو اس نے فوراً ہی ان سے عرض کی کہ آپ مزارات سے اجساد مبارک منتقل کرنے کا فتویٰ جاری کر دیجئے میں بلا کسی تردد عمل کروں گا فتویٰ اور شاہی فرمان عراق کے تمام اخبارات میں شائع ہوا اور بعض خبر رساں اداروں نے اس تاریخی خبر کو پوری دنیا میں پھیلا دیا مقررہ دن اور وقت یعنی ۲۴ ذی الحجہ ۱۹۳۲ء) لاکھوں انسانوں کی موجودگی میں یہ مزارات کھولے گئے تو معلوم ہوا حضرت حذیفہ بن الیمان کے قبر مبارک میں پانی آچکا تھا اور حضرت جابر بن عبد اللہ کے مزار میں نمی پیدا ہو چکی تھی حالانکہ دریائے دجلہ وہاں سے کم از کم ۴ فرلانگ دور تھا تمام ممالک کے سفراء اور عراق کے اراکین حکومت، مذہبی رہنماؤں اور شاہ عراق کی موجودگی میں پہلے حضرت حذیفہ کے جسد مبارک کو کرین کے ذریعہ زمین سے اس طرح اُپر اٹھایا گیا کہ مقدس نعش کرین کے ساتھ رکھے ہوئے اسٹریچر پر خود بخود آگئی اور پھر کرین سے اسٹریچر کو علیحدہ کر کے شاہ فیصل، مفتی اعظم عراق، وزیر مختار جمہوریہ ترکی اور ولی عہد مصر شہزادہ فاروق نے کاندھا دیا اور یہ جسد مبارک بڑے احترام سے شیشے کے تابوت میں رکھ دیا گیا، پھر اسی طرح حضرت جابر بن عبد اللہ کے جسد مبارک کو قبر سے نکالا گیا، حدیث لکھنے والے ان عظیم المرتبت صحابہ کرام کے چہروں، کفن اور ریش مبارک دیکھ کر لگتا تھا کہ جیسے انہیں رحلت فرمائے ۱۴۰۰ برس نہیں بس چند گھنٹے ہی گزر رہے ہیں سب سے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ دونوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور ان میں اتنی چمک تھی کہ بہتوں نے چاہا کہ ان آنکھوں کو اپنی آنکھ سے دیکھ لیں مگر وہ اس طرح چند صیبا جاتیں کہ ہر شخص دور ہٹ جاتا اور یقیناً وہ دیکھ بھی کیسے سکتے تھے کہ ان مبارک آنکھوں نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ان کی شبیہ کو محفوظ کر رکھا تھا اب جو ان آنکھوں کو دیکھتا تو میرے سرکار کو دیکھتا اور انہیں دیکھنے کے لیے آنکھ کی نہیں طیب نظر کی ضرورت ہے۔ یہی حضرت حذیفہ بن الیمان بتاتے ہیں کہ مجھ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ۷۲ چیزیں قرب قیامت کی علامت ہیں۔ جب تم دیکھو کہ لوگ نمازیں غارت کرنے

لگیں۔ امانت ضائع کرنے لگیں۔ سود کھانے لگیں۔ جھوٹ کو حلال سمجھنے لگیں معمولی باتوں پر خون ریزی کرنے لگیں۔ اور اونچی اونچی عمارتیں بنانے لگیں۔

دین بچ کر دنیا سینٹے لگیں۔ قطع رحمی (یعنی قرہی اعز اور رشتے داروں سے بد سلوکی) ہونے لگے۔ انصاف کمزور ہو جائے۔ جھوٹ سچ بن جائے۔ لباس ریشم کا ہو جائے۔ ظلم، طلاق اور ناگہانی موت عام ہو جائے۔ خیانت کار کو ائمن اور امانت دار کو خائن سمجھا جائے۔ جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا کہا جائے۔ تہمت تراشی عام ہو جائے۔ بارش کے باوجود گرمی ہو۔ اولاد غم و غصے کا موجب ہو۔ کینوں کے ٹھاٹھ ہوں اور شریفوں کا ناک میں دم آجائے۔ امیر و وزیر جھوٹ کے عادی بن جائیں۔ ائمن خیانت کرنے لگیں۔ قوم کے سردار ظالم ہوں۔ عالم اور قاری بدکار ہوں۔ اور جب لوگ بھڑکی کھالیں یعنی پوستین پہننے لگیں۔ ان کے دل مردار سے زیادہ بد بودار اور ایلوے سے زیادہ تلخ ہوں، اس وقت انہیں اللہ تعالیٰ ایسے فتنے میں ڈال دے گا جس میں یہودی ظالموں کی طرح بھٹکتے پھریں گے۔ اور جب سونا عام ہو جائے گا۔ چاندی کی مانگ ہوگی۔ گناہ زیادہ ہو جائیں گے، امن کم ہو جائے گا۔ مصحف (یعنی قرآن) کو آراستہ کیا جائے گا۔ مساجد میں نقش و نگار بنائے جائیں گے۔ اونچے اونچے مینار بنائے جائیں گے، دل ویران ہوں گے، شرابیں پی جائیں گی، شرعی سزاؤں کو معطل کر دیا جائے گا، لوٹڈی اپنے آقا کو جنے گی، جو لوگ کسی زمانے میں برہنہ پا اور ننگے بدن رہا کرتے تھے وہ بادشاہ بن بیٹھیں گے، زندگی کی دوڑ اور تجارت میں عورت مرد کے ساتھ شریک ہو جائے گی، مرد عورتوں کی نقالی پر فخر کریں گے اور عورتیں مردوں کی شبابت آزادانہ اختیار کریں گی، غیر اللہ کی قسمیں کھائی جائیں گی، غیر دین (غیر مسلم) کے لیے شرعی قانون پڑھا جائے گا، آخرت کے عمل سے دنیا کمائی جائے گی، غنیمت کو دولت، امانت کو غنیمت کا مال اور زکوٰۃ کو تاوان قرار دیا جائے گا، سب سے رذیل قوم کارہنما بن بیٹھے گا۔ آدمی اپنے باپ کا نافرمان ہو گا ماں سے بد سلوکی کرے گا، دوست کو نقصان پہنچانے سے گریز نہ کرے گا اور بیوی کی اطاعت کرے گا، بدکاروں کی آوازیں مساجد میں بلند ہونے لگیں گی، گانے والی عورتیں داشتہ رکھی جائیں گی اور گانے کا سامان شریہ کہنا۔ ہانے کا سراہ شراہیں پی جائیں گی، ظلم کو فخر سمجھا جائے گا، انصاف پکینے لگے گا، درندوں کی کھال کے موزے بنائے جائیں گے اور امت کا پچھلا حصہ پہلے لوگوں کو لعن طعن کرنے لگے گا اس وقت سرخ آندھی، زمین میں دھنس جانے، شکلیں بگڑ جانے اور آسمان سے پتھر برسنے جیسے عذابوں کا انتظار کیا جائے گا۔ احادیث مبارکہ پر اپنی عقل ناقص سے اعتراضات کی لکیریں کھینچنے والے روشن خیال، اعتدال پسند مجددین پہلے حضرت حذیفہ کی قبر کا واقعہ غور سے پڑھ لیں تاکہ انہیں یقین ہو جائے کہ اس صحابی رسول پر شک کرنا اپنے رہے سے ایمان کو عارت کرنے کے مترادف ہے اور پھر ذرا سوچے!

### اپنے بچوں کے ناموں کے ساتھ داعی الی الخیر بھی لگایا کرو

سوال: مولانا صاحب آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں۔ سنا ہے کہ ناموں کے اثرات انسان کی زندگی میں پڑتے ہیں اور میرے بچے بہت آوارہ ہیں اور نافرمان ہیں تو کیا میں ان کے نام بدل دوں یا نام لکھ کر آپ کو بھیجوں یا کیا تدبیر اختیار کروں؟

جواب: ہم مسلمان ہیں۔ ہمارے ہر کام میں دین کا جذبہ غالب ہونا چاہیے مثلاً تجارت بھی کریں تو ایسی کہ اس میں دین کا فائدہ ہو۔ اسی طرح نام بھی ایسے رکھیں کہ اس میں دین کی اشاعت کا جذبہ ہو مثلاً اپنے بچوں کے ناموں کے ساتھ داعی الی الخیر (خیر کی طرف دعوت دینے والا) لگایا کرو کہ اس نام کی برکت سے وہ بہت سے گناہوں سے بچ جائیں گے۔ مثلاً مقداد داعی الی الخیر، ناقل داعی الی الخیر وغیرہ

کہ نام کی برکت سے گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جی مولانا انعام احسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ میرے بچے دھیان سے پڑھتے نہیں ہیں تو انہیں پڑھاؤں یا پڑھائی موقوف کر دوں؟ تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ کم از کم نام کے بھی مولوی بنا دو کہ اس نام سے بھی بہت سے گناہوں سے بچ جائیں گے۔

دوسری تدبیر یہ ہے کہ اپنے بچوں کے لئے دعا کر دو کیونکہ ماں باپ کی دعا اپنے بچوں کے لئے قبول ہوتی ہے۔ تیسری تدبیر یہ ہے کہ بچے اگر چھوٹے اور ضدی ہیں تو ان کے دونوں کانوں میں پوری پوری سورہ صف پڑھ لیا کر وادہ بندہ کی کتاب بکھرے موتی جلد دوم اور سوم میں اور بھی بہت سے روحانی نسخے لکھے ہیں اس کا مطالعہ کریں۔ انشاء اللہ فائدہ ہوگا۔ فقط والسلام

### پانی منہ میں رکھ لینا، اور بیٹھ جانا پانی نگلنا بھی نہیں اور باہر نکالنا بھی نہیں

دو مہیاں بیوی میں آپس میں اختلاف تھا اور بالکل طلاق کی نوبت آنے کے لئے تیار، وہ بیوی ایک بزرگ کے پاس گئی اور پورا واقعہ بیان کیا، کہ حضرت جی مجھے صبح و شام میں طلاق ہونے والی ہے، بزرگ نے کہا کہ اچھا، ایک تدبیر بتائی کہ تو بوتل میں پانی لیکر آ، میں پڑھ کر دوں گا وہ پانی لیکر آئی بزرگ نے پڑھ کر دیا اور اس سے کہا کہ جب تیرا شوہر گھر میں آئے اور لڑائی کرے، جھگڑا کرے، پانی منہ میں رکھ لینا، اور بیٹھ جانا پانی نگلنا بھی نہیں اور باہر نکالنا بھی نہیں، جب تک شوہر کا غصہ ختم نہ ہو جائے، پانی منہ میں لئے رہنا، چنانچہ اس نے حضرت جی کی بات پر عمل کیا عادت کے مطابق لڑائی شروع کی جھگڑا شروع کیا یہ جلدی سے اٹھی اور بوتل سے پانی منہ میں لیا اور بیٹھ گئی، حکم تھا نگلنا بھی نہیں اور باہر بھی نہیں نکالنا، اب جواب دے گی تو پانی نکل جائے گا، تو اس لئے وہ اب نہیں بولتی بالکل خاموش بیٹھی ہوئی ہے، پانچ منٹ ہوئے دس منٹ ہوئے، آخر شوہر گالی دیتے ہوئے برا بھلا کہتے ہوئے عاجز آ گیا، اور سوچا کہ یہ تو کوئی جواب نہیں دیتی اب اسے پھر شرمندگی ہوئی کہ یہ جواب نہیں دیتی، اور میں اسے برابر گالیاں دے رہا ہوں "اب اسے ذرا ندامت ہوئی، لیکن پھر سوچا ممکن ہے، اتفاق سے آج ایسا ہو ورنہ یہ ایسی نہیں تھی، یہ تو بڑی زبان چلاتی تھی، اب میں دوسرے وقت میں پھر دیکھوں گا کہ زبان چلاتی ہے کہ نہیں، پھر دوسرے وقت میں آیا اور پھر اسی طرح گالیاں دینا شروع کیں، اور برا بھلا کہنا شروع کیا، یہ پھر جلدی سے اٹھی اور جلدی سے پانی لیکر منہ میں رکھ کر پھر بیٹھ گئی، شوہر عاجز آ گیا تھک گیا، اس نے کہا بھائی یہ بیوی تو واقعی پہلے جیسی بیوی نہیں رہی، جواب ہی نہیں دیتی اب اسے اور زیادہ شرمندگی ہوئی، لیکن اس نے سوچا ابھی تو دوسرے ہی ہوا ہے، ہو سکتا ہے یہ اتفاق ہو پھر تیسری مرتبہ دیکھا چوتھی مرتبہ دیکھا اور وہ کوئی جواب نہیں دیتی، جلدی سے پانی منہ میں لیکر بیٹھ جاتی، جواب ہی نہیں دیتی، اب شوہر نے سوچ لیا کہ واقعی اب تو یہ بیوی پہلے جیسی نہیں ہے، اب تو یہ برداشت کرنے والی بن گئی، صبر کرنے والی بن گئی، میری بات کا جواب تک نہیں دیتی، میں بھی اب اسے کچھ نہیں کہوں گا، اس لئے اب اس نے بھی توبہ کر لی، اور اب الٹا بیوی سے معافی مانگتا ہے، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں میں نے تجھے بہت ستایا ہے تیری کوئی غلطی نہیں، تو تو بہت اچھی بیوی ہے غلطی میری ہے، شوہر الگ سے معافی مانگ رہا ہے، بیوی الگ سے معافی مانگ رہی ہے، یا تو وہ طلاق کی نوبت تھی، اور گھر برباد ہونے کو تھا، اور اب آپس میں معافی مانگتی ہو کر ایک ذرا سی تدبیر کرنے کی وجہ سے اور صبر کرنے کی وجہ سے گھر برباد ہونے سے بچ گیا۔

اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نشانی "ہوا"

﴿ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لِكَيْتَ لِقَوْمٍ يُعْقِلُونَ ﴾

”اور ہواؤں کے بدلنے میں اور ابر میں جو زمین و آسمان کے درمیان مقید رہتا ہے، دلائل ہیں ان لوگوں کے لئے جو عقل رکھتے ہیں۔“ (بیان القرآن)

اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں بے شمار ہیں ہر چیز میں دلیل اس کی توحید و یگانگیت کی پائی جاتی ہے، جسے ایک شاعر نے یوں کہا ہے ”فی کل شیء لہ آیتہ تبدل علی اللہ واحد“ اس کی بجز نشانوں کے اک نشانی ہواؤں کا اختلاف و انقلاب ہے، کہ ہوا بھی ٹھنڈی ہوتی ہے، تو کبھی گرم کبھی سخت ہوتی ہے، کبھی نرم کبھی تیز ہوتی ہے کبھی آہستہ کبھی ہڑوا چلتی ہے، کبھی پھووا، کبھی شمالی چلتی ہے کبھی جنوبی، کبھی رحمت کی خبر و بشارت دیتی ہے تو کبھی عذاب لیکر آتی ہے، غرضیکہ ہواؤں کا یہ تغیر و انقلاب قدرت خداوندی اور اس کی وحدانیت کی دلیل ہے، قاضی شریح فرماتے ہیں کہ ہوا یا تو بیمار کو صحت و تندرستی بخشتی ہے، یا تندرست کو بیمار کرتی ہے، چنانچہ ہوتا بھی ایسا ہے، کہ ہوا کسی کے لئے صحت و شفاء کا باعث بنتی ہے، تو کسی کے لئے بیماری اور کمزوری کا سبب بنتی ہے، علماء نے لکھا کہ ہواؤں کی آٹھ قسمیں ہیں، جنکا تذکرہ قرآن کریم میں ہے، جن میں چار قسم کی ہوائیں رحمت اور خداوندی عنایت کی پیش گوئی کرتی ہیں، اور چار قسم کی ہوائیں عذاب اور خدا کی پکڑ کو لاتی ہیں، ان رحمتوں کی ہواؤں میں دو کا تعلق خشکی سے ہے، اور دو کا تعلق دریاؤں سے، اسی طرح عذاب والی ہواؤں میں بھی دو کا تعلق خشکی سے اور دو کا تعلق سمندر اور تری سے ہے، رحمت کی ہوا جس کا تعلق خشکی سے ہے ان کو بشارت کہا جاتا ہے، اور دوسری کو رشاء کہا گیا ہے، اور جن کا تعلق سمندروں سے ہے ان میں ایک کو ناسرات اور دوسری کو مرسلات کہتے ہیں، اسی طرح عذاب والی ہوا جو خشکی پر چلتی ہے ان میں ایک کو عقیم اور دوسری کو ممر کہتے ہیں اور دریائی اور سمندروں کی جو عذاب والی ہوا چلتی ہے ان میں سے ایک کو عاصف اور دوسری کو قاصف کہتے ہیں۔

یہ ہوا اللہ تعالیٰ کے بے شمار لشکروں میں ایک عظیم لشکر ہے، جسکے ذریعہ دین کے دشمنوں کو سزا دی گئی ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لشکروں میں سب سے بڑا لشکر ہوا، اور پانی ہیں، چنانچہ اس ہوا کے ذریعہ بڑے بڑے طاقتور لوگوں کو ہلاک و برباد کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعہ اپنے نیک بندوں اور رسولوں کی مدد و نصرت فرمائی ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے قوم عاد جسکی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر مبعوث کیا تھا، اور اس نے ہود علیہ السلام کو جھٹلایا اور ان کو اذیت و تکلیف دی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر پھووا ہوا کو مسلط کر دیا اور اس کے ذریعہ ان کو برباد کر دیا، قرآن کریم میں کئی مقامات پر اس کا ذکر کیا ہے، جس کی مختصر تو فیح ہمس قرآن اور حسب تفسیر یہ ہے۔

قوم عاد جسے اللہ تعالیٰ نے عاد اولیٰ کے نام سے تعبیر کیا تھا، جس کا شمار قدیم ترین قوموں میں ہوتا ہے، بعض حضرات نے ان کو دوڑھائی ہزار سال قبل از مسیح مانا ہے، سامی النسل قوموں میں اس کو سب سے پہلی مقتدر اور حکمران قوم مانا ہے، ان کی آبادی عمان سے حضر موت اور یمن تک پھیلی ہوئی تھی، بڑی طاقتور اور متمدن قوم تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو تمدن اور معیشت کے ایسے نادر وسائل اور بیش قیمت ذرائع عطا فرمائے تھے کہ دوسری کسی قوم کو ایسے وسائل میسر نہیں تھے، دنیا میں کوئی قوم اس جیسی قوت و جبرہ والی نہیں تھی، اور سنگ تراشی اور نقاشی میں بڑی مہارت رکھتی تھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿ اَتَيْنُوْنَ بِكُلِّ رِيْحٍ اَيُّهُ تَصْعَقُوْنَ ﴾

دوسری جگہ ارشاد ہے:

﴿ اَلَيْسَ لَمْ يَخْلُقْ مِثْلَهَا فِى الْبِلَادِ ﴾

ان کو اپنی قوت و طاقت پر بڑا غرور تھا، اور اپنے مقابلہ کے لئے ﴿مَنْ أَشَدُّ مِقَاتُوتًا﴾ کا نعرہ لگاتے تھے، ان کے ایک ایک فرد کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ ایسا طاقتور تھا کہ پہاڑ کی چٹان کو اٹھا کر دشمنوں کے قبائل کے اوپر دے مارتا تھا، ایک ایک آدمی انکا بارہ بارہ گز لساتا تھا، غرض کہ بڑے بڑے ذیل ڈول کے مالک تھے، ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، اور انہوں نے ان کو کفر و شرک سے روکا، اور بت پرستی سے ہٹا کر توحید الہی کی طرف بلایا مگر قوم نہیں مانی، اور پیغمبر کو جھٹلایا اور ہدایت قبول کرنے سے انکار کر دیا، حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں نافرمانی کی صورت میں عذاب الہی سے ڈرایا، بجائے اس کے کہ ان میں خوف و دہشت پیدا ہوتی اُلٹا مطالبہ عذاب کی جلدی کا کرنے لگے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ﴿فَأَنبَأْنَا بِمَا تَعْبُدُنَا﴾ (الانبیاء) ”جب قوم عادی کی طرح نہ مانی اور انتہائی جرأت کے ساتھ عذاب میں جلدی مچانے لگی، تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی ہلاکت کا یہ سامان ہوا، کہ ایک بادل کو بھیجا گیا جسے دیکھ کر قوم عاد نے کہا کہ یہ بادل ہم پر پانی برسائے گا، اللہ تعالیٰ نے ان کی اس خوش فہمی کو رد کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ تو وہ عذاب ہے جس کی تم نے جلدی مچا رکھی تھی، وہ بادل اپنے اندر ایک تباہ کن طوفان باد کو لئے ہوئے تھا، چنانچہ سخت سردی میں سات رات اور آٹھ دن تک مسلسل یہ ہوائی طوفان ان پر چلتا رہا، ایسی تیز آندھی چلتی کہ ان دیوہیکل لوگوں کو تنکے کی طرح اوپر اٹھاتی اور زمین پر پٹخ دیتی جس سے ان کے سر چمکا چور ہو جاتے، ان کے پیٹ پھٹ جاتے، آنتیں باہر نکل کر پھیل جاتیں، اسی طرح ان کے مویشیوں کو اٹھا کر پٹخ دیتی، پچھوائی طوفان باد نے انہیں ایسا تباہ کیا کہ گویا کھجور کے کھوکھلے بے جان تنے ہیں، جن کے سر اوپر سے کاٹ دیئے گئے ہیں، اور انکا غرور اپنی ایک مخلوق ”ہوا“ کے ذریعہ نکال دیا، یہ ہوا ان کے مکانون کے اندر داخل ہوتی اور انکی چھتوں کو اٹھا کر پلٹ دیتی، مکان، درخت، مویشی کوئی چیز نہیں چھوڑی سب کو ہلاک ویر باد کر دیا۔

قرآن کریم میں متعدد جگہ پر اسکا تذکرہ ہے، ایک جگہ ہے:

﴿وَأَمَّا عَادُ فَاهْتَكَمُوا بُرُوجَ صُرَّصٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَتَلَمَّاتٍ أَيَّامٍ مِّمَّا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أُعِجَزُوا نَعْلًا مَّخَاوِيَةً فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ﴾

۵۵ ماہ شوال میں ابوسفیان عرب کے اکثر قبیلوں کو لیکر مدینہ منورہ چڑھ آیا اور وہ سب لوگ متفق اور متحد ہو کر مسلمانوں کی بیخ کنی اور انکا بالکل نام و نشان مٹانے کے لئے اور سب کو فنا کی گھاٹ اتارنے کے لئے جمع ہو گئے تھے، اور اب ابوسفیان کے پرچم تلے اکٹھے ہو گئے تھے، جن کی تعداد دس ہزار سے متجاوز تھی، آپ ﷺ کو اس کا علم ہوا، تو آپ ﷺ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے اور بالخصوص سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے مشورہ کے بعد مدینہ طیبہ کے تحفظ کے لئے ایک خندق جو تقریباً ساڑھے تین میل کی تھی، کھدوائی اور ہر دس صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت بنا کر چالیس چالیس ہاتھ خندق کھودنے کی انہیں ذمہ داری دیدی اور خود بھی بنفس نفیس اس کے کھدوانے میں شریک رہے، اس خندق کو کفار نے دیکھا تو حیران رہ گئے، اس لئے کہ عرب میں اس طرح خندق کھودنے کا کوئی دستور ہی نہیں تھا، اس لئے کہنے لگے ”ان ہذہ مکیدۃ“ (یعنی) اس خندق کی وجہ سے کفار، مدینہ پر چڑھائی نہ کر سکے، اور مسلمانوں سے بڑی لڑائی بھی نہ ہوئی، البتہ ایک مہینہ تک پورے زور و شور کے ساتھ مدینہ کا محاصرہ کئے رکھا، اور ہر طرف سے پوری شدت کے ساتھ نظر رکھی گئی، اس مدت میں باہم کچھ معمولی سی جھڑپیں ہوئیں اور مسلمانوں کو بہت خوف و دہشت اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، اسی درمیان کہ سخت سردی کا موسم تھا، ایک روز بہت تیز طوفان، پڑا ہوا کا چلا جس نے ان کے خیمے ڈیرے اکھاڑ پھینکے اور ان کی ہانڈیاں چولہوں سے اوندھادیں، اور برتن بھاٹے بکھیر دیئے، اس تیز ہوا میں سنگ ریزے اور مٹی نے ان کے چہروں پر ضربیں لگائیں، اور ان کے دلوں میں ایسا رعب طاری ہوا کہ وہ بالکل

سراسیمہ ہو گئے اور کم ہمت اور شکست خوردہ مدہوش ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کے اس جم گئے کو اس پر واہوا کے ذریعہ منتشر کر دیا، جو درحقیقت اہل اسلام کے لئے باعث رحمت بنی اور رسول کریم ﷺ کا ایک عظیم معجزہ ہوا، ”سورۃ احزاب“ میں اس واقعہ کو بیان کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا﴾  
(الایۃ)

حدیث شریف میں جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ:

(لُصِرْتُ بِالْغَبَا وَأَهْلِكْتُ عَادًا بِالذَّبُورِ)

”میری ہڈی واہوا کے ذریعے مدد کی گئی ہے، اور قوم عاد کو بچھوا ہوا کے ذریعہ ہلاک کیا گیا تھا۔“

### رسول اللہ ﷺ کی گھبراہٹ

یوں تو ہر وقت ہی رسول اللہ ﷺ کا قلب خوف و دہشت الہی سے معمور رہتا تھا، کسی وقت بھی اس سے خالی نہیں رہتا تھا، اور بے فکری کبھی پیدا نہیں ہوتی تھی، لیکن تیز ہوا چلتی اور اس کے جھکڑ چلتے یا آسمان پر گہری گھٹا چھا جاتی اور سیاہ بادل منڈلانے لگتے، تو آپ ﷺ نہائی فکر مند ہو جاتے، اور اس فکر کا اثر آپ ﷺ کے چہرہ پر نمایاں ہو جاتا تھا، جس کی وجہ یہی تھی کہ کہیں یہ ہوا اور ابر مخلوق کیلئے مصیبت اور پریشانی کا سبب نہ بن جائے، اور اس کے ذریعہ قوموں کو ہلاک و برباد نہ کر دیا جائے، چنانچہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو کبھی اس طرح ہستے ہوئے نہیں دیکھا کہ آپ کے حلق کا کوا نظر آیا ہو، آپ ﷺ تو صرف مسکراتے تھے اور جب آپ ﷺ بادل یا ہوا کو دیکھتے تو چہرہ انور پر تغیر صاف نمایاں ہوتا تھا۔

اور اس گھبراہٹ کی وجہ سے کبھی آپ گھر میں داخل ہوتے کبھی باہر نکلتے، کبھی آگے کو ہوتے، کبھی پیچھے کو ہوتے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کی وجہ دریافت کی تو فرمایا اے عائشہ (رضی اللہ عنہا) آسمان پر چھائے ہوئے اس ابر سے خوف و اضطراب کا سبب یہ ہے کہ کہیں یہ بادل اسی طرح کا نہ ہو جسکے متعلق قوم عاد نے کہا تھا ”هَذَا عَارِضٌ مُّعْطِرٌ نَّآ“ پھر جب قوم عاد نے اس ابر کو دیکھا جو ان کی وادیوں کے سامنے آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ ابر ہے جو ہم پر برے سے گا۔

### تیز ہوا چلے تو یہ دعا پڑھے

جب تیز ہوا چلتی تو رسول اللہ ﷺ یہ دعا پڑھتے تھے:

(اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ وَأَعُوذُكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ).

”اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں وہ بھلائی (جو طبعی طور پر) انہیں تو نے رکھی ہے، اور وہ بھلائی جو اس میں پوشیدہ ہے، یعنی منافع، اور اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس کی برائی سے اور اس چیز کی برائی سے جو اس میں رکھی گئی ہے، اور اس چیز کی برائی سے جس کے لئے اس کو بھیجا گیا ہے۔“ (مشکوٰۃ مظاہری)

### ہوا کو برا مت کہو

ہوا کو برا بھلا کہنا اور اس کو لعن طعن کرنا منع ہے، جناب رسول اللہ ﷺ نے اس سے منع کیا ہے، چنانچہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے



روایت ہے کہ ایک شخص نے آپ ﷺ کی موجودگی میں ہوا کو برا کہا اور لعنت بھیجی آپ ﷺ نے فرمایا کہ اس کو برامت کہو اس پر لعنت مت بھیجو اس لئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہے، اور حکم الہی کی بنا پر چل رہی ہے۔ جس چیز پر لعنت کی جائے اور وہ اس کی مستحق نہ ہو تو وہ لعنت کرنے والے پر لوٹ آتی ہے۔ (ترمذی شریف)

نیز ایک روایت میں ہے جبکہ ایک عورت نے جب آپ ﷺ کے قافلہ کے ساتھ اپنی اونٹنی کو برا بھلا کہا، آپ ﷺ نے اس کو اپنے لشکر سے الگ کر دیا، اور فرمایا کہ ”لایبغی معنا الملعونۃ ملعنت کی ہوئی چیز ہمارے ساتھ نہیں رہے گی۔“

(حاشیہ ترمذی شریف، صاوی، درمنثور، بغوی، بیان القرآن)

## قرآنی معلومات

**سوال نمبر (۱):** وہ کتنے انبیاء ہیں جن کے نام ان کی پیدائش سے پہلے رکھے گئے؟

**جواب:** قرآن کریم میں پانچ انبیاء کا ذکر ہے جن کے نام ان کی پیدائش سے پہلے رکھے گئے ہیں۔ ① حضرت اسحاق علیہ السلام ② حضرت یعقوب علیہ السلام ارشاد باری ہے ”فَبَشِّرْ نَاهَا بِأَسْحَاقَ وَیُوسُفَ وَذَاکَ اسْمَ عَاقِ یُعْقُوبَ“ سو ہم نے ان کو بشارت دی اسحاق کی اور اسحاق سے پیچھے یعقوب کی ③ حضرت یحییٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”إِنَّا نَبَشِّرُکَ بِغُلَامٍ نَسَمُّهُ یَحْیٰی“ ہم تم کو ایک فرزند کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا ④ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چنانچہ حضرت مریم کو خطاب کیا گیا ہے ”إِنَّا نَدْعُکَ بِکَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَرْیَمُ عِیْسٰی ابْنُ مَرْیَمَ“ اے مریم بے شک اللہ تعالیٰ تم کو بشارت دیتے ہیں ایک کلمہ کی جو منجانب اللہ ہوگا اس کا نام (لقب) عیسیٰ ابن مریم ہوگا ⑤ حضرت نبی کریم ﷺ چنانچہ ارشاد ہے ”وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِیْ مِنْ بَعْدِیْ اسْمُهُ أَحْمَدُ“ اور میرے بعد جو ایک رسول آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہوگا، ان کی بشارت دینے والا ہوں۔

**سوال نمبر (۲):** قرآن کریم میں کتنے فرشتوں کے نام مذکور ہیں اور کیا کیا ہیں؟

**جواب:** قرآن شریف میں متعدد فرشتوں کے نام ذکر کئے گئے ہیں، جو ذیل میں درج ہیں: ① جبرئیل علیہ السلام ② میکائیل علیہ السلام ③ ہاروت ④ ماروت ⑤ رعد ⑥ برق ⑦ مالک ⑧ کل شیح الالفاظ تعید۔

**سوال نمبر (۳):** جبرئیل اور میکائیل کے معنی کیا ہیں؟

**جواب:** حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ ہر وہ نام جس میں ایل کا لفظ ہوا سکے معنی عبد اللہ کے ہونگے جیسے اسرائیل بمعنی عبد اللہ، اسرائیل (حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب) بمعنی عبد اللہ، جبرئیل بمعنی عبد اللہ اور میکائیل بمعنی عبد اللہ۔

## دربار خداوندی کا انعقاد

حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ ہر ہفتہ میں..... وہاں ہفتے تو نہیں ہوں گے مگر ایک ہفتے کی جتنی مسافت اور مقدار ہوتی ہے..... اس میں دربار خداوندی ہوگا۔ اوپر نیچے سوچتے ہیں اور ہر جنت آسمانوں اور زمینوں سے بڑی ہے ان سو کے اوپر پھر کرسی ہے، اس کے اوپر سمندر ہے۔ اس کے اوپر پھر عرش خداوندی ہے۔ تو کرسی گویا جنتوں کی چھت کے اوپر ہے۔ اس میں دربار ہوگا۔

## آخرت میں رویت خداوندی کا مقام

وہ دربار کہاں ہوگا.....؟

تو حدیث میں اس کی شرح یہ فرمائی گئی کہ حضرت جبریل علیہ السلام ایک دفعہ حاضر ہوئے تو ایک آئینہ ان کے ہاتھ میں تھا۔ آئینے کے بیچ میں ایک نکتہ تھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا یہ نکتہ کیسا ہے.....؟  
عرض کیا کہ اس کا نام مزید ہے۔  
فرمایا ”مزید“ کیا چیز ہے؟

عرض کیا یا رسول اللہ! جنت میں ایک میدان ہے جس کا نام مزید ہے۔ اور وہ اتنا بڑا ہے کہ لاکھوں برس سے میں گھوم رہا ہوں اور اب تک مجھے اس کے کناروں کا پتہ نہیں چلا کہ کہاں ہیں اس کی ہر چیز سفید ہے۔ زمین سفید ہے۔ کنکریاں سفید ہیں گھاس بھی سفید غرض ہر چیز سفید ہے تو جب جمعہ کا دن آئے اس وقت اس دربار کے لئے تیاری کی جائے گی۔ اس کے تمام میدان میں بیچوں بیچ تو اللہ تعالیٰ کی کرسی بچھائی جائے گی، جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے:

﴿وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَا يَـُٔودُهٗ حِفْظُهٗمَا﴾

آسمانوں اور زمینوں سے کہیں زیادہ کرسی بڑی ہے۔ لیکن اس میدان میں جب کرسی بچھے گی تو وہ ایسی معلوم ہوگی جیسے ایک بڑے میدان میں ایک چھوٹا سا جھلہ ڈال دیا جائے۔ وہ بیچوں بیچ بچھائی جائے گی..... اس کے ارد گرد انبیاء علیہم السلام کے منبر ہوں گے۔ وہ نور کے منبر ہوں گے۔ ہر منبر کے پیچھے امتیوں کی کرسیاں ہوں گی۔ پھر جو عمل میں انبیاء سے زیادہ قریب ہیں ان کی کرسیاں منبر کے قریب، اور جو عمل میں بعید تھے کوتاہ عمل تھے ان سے ان کی بعید۔ درجہ بدرجہ۔

## دربار خداوندی میں اہل جنت کی شرکت

جب یہ دربار کا دن آئے گا تو تمام اہل جنت دربار کی شرکت کے لئے چلیں گے اب یہ لاکھوں میل کا فاصلہ ہوگا مگر سوار یوں پر جائیں گے، تخت ہوا ہوں گے وہاں کوئی مشین نہیں ہے۔ بیٹ طیارے نہیں ہوں گے کہ ان کی مرمت کی ضرورت پیش آئے۔ بلکہ قوت متخیلہ کے تابع ہوں گے تخت پر بیٹھ کر آپ نے ارادہ کیا کہ چلے۔ اب وہ تخت چلنا شروع ہوا۔ اور لاکھوں میل کا فاصلہ وہاں کی سواریاں بل بھر میں طے کریں گی، کوئی براق پر سوار ہے کوئی تخت ہوا پر سوار ہے۔ درجہ بدرجہ مختلف سواریاں ہوں گی اس میدان میں آکر بیٹھیں گے۔ جہاں کرسیاں ہوں گی۔

پھر کرسیوں میں یہ نہیں کہ وہاں نظم کرنے والے کھڑے ہوں کہ بھئی! یہ کرسی تمہاری ہے۔ یہ سیٹ تمہاری ہے۔ وہاں نہ بیٹھ جاتا۔ یہ نہیں ہوگا، ہر شخص اپنی قلبی شہادت سے اپنے مقام کو پہچانے گا۔ ٹھیک اسی کرسی پر جا کر بیٹھے گا جو اس کے نام زد ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ دوسری کرسی پر بیٹھ جائے۔ تو تمام لوگ جمع ہو جائیں گے اور میدان بھر جائے گا۔ اس میں جو بالکل عوام ہوں گے، جن میں عملی کوتاہیاں زیادہ تھیں، تو کرسیوں کے پیچھے چبوترے ہوں گے، ان پر مشک و عنبر کے غالیچے ہوں گے، وہ اس پر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ اب یہ پورا دربار شروع ہوگا۔ جیسے احادیث میں فرمایا گیا ہے یہ محسوس ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ کی تجلیات اتریں گی تو کرسی اس طرح چرچرائے گی جیسے اب ٹوٹ کے دی۔ اب ٹوٹ کے دی وہاں بوجہ بدن کا نہیں ہوگا۔ حق تعالیٰ بدن سے پاک ہیں وہ بدن کے بھی خالق ہیں اور روح کے

بھی ہیں۔ وہ عظمت کا بوجھ ہوگا جس کو ارداس محسوس کریں گی وہ حسی اور جسمانی بوجھ نہیں ہوگا تو کرسی گویا ایسے چرچرائے کی جیسے گل کی طاقت نہیں ہے۔

اب گویا تجلیات اتر چکی ہیں۔ حق تعالیٰ شانہ موجود ہیں اور انبیاء علیہم السلام اور گردنورانی منبروں پر ہیں اور ان کے پیچھے امتیں اربوں کھربوں اولین و آخرین جمع ہیں۔

### در بار خداوندی میں شراب طہور کا دور

حدیث میں ہے کہ حق تعالیٰ ملائکہ علیہم السلام کو فرمائیں گے کہ وہ جو ہم نے قرآن کریم میں وعدہ کیا تھا: ﴿وَسَلِّمُوا لَهُمْ شَرَابًا طَهُورًا﴾ ایک پاک قسم کا شربت ہم پلائیں گے، وہ ان بندوں کو تقسیم کرو۔ ملائکہ تقسیم شروع کریں گے۔ گویا شاہی دربار کی طرف سے ایک ضیافت ہوگی۔ اس کو ہمیں گے اس سے ایسا سرور پیدا ہوگا، اس کو نشہ تو نہیں کہہ سکتے روحانی نشہ ضرور ہوگا یعنی دنیا کی شراب میں تو یہ نشہ ہے کہ عقل جاتی رہتی ہے۔ آدمی مجنون ہو جاتا ہے، خطی بن جاتا ہے۔

اس شراب کے پینے سے عقل میں اور تیزی پیدا ہوگی۔ اور معارف الہیہ اور علوم ربانیہ اور زیادہ کھلنے شروع ہو جائیں گے، انوار و برکات بڑھ جائیں گے۔ تو یہ شراب طہور تقسیم ہوگی۔

### حضرت داؤد علیہ السلام کی تلاوت و مناجات

اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام، جن کو آواز کا معجزہ دیا گیا تھا اتنی پاکیزہ۔ پاک اور خوشنما آواز تھی کہ جب وہ حمد و ثنا کی مناجاتیں پڑھتے تھے تو چہرہ پرندسب ان کے ارد گرد جمع ہو کر سر دھنتے تھے اور مست ہو جاتے تھے۔

حق تعالیٰ فرمائیں گے کہ: ”اے داؤد! ان اہل دربار کو وہ مناجاتیں سناؤ جو تم دنیا میں پڑھتے تھے۔ اور اسی اعجازی آواز سے سناؤ۔“

داؤد علیہ السلام حمد و ثنا کی وہ مناجاتیں پڑھنا شروع کریں گے، تو آواز تو معجزہ تھی ہی اور وہاں میدان میں سارے اللہ والے جمع ہیں سارے انبیاء علیہم السلام جمع ہیں، اربوں کھربوں ملائکہ جمع ہیں اور خود حق تعالیٰ شانہ موجود تو اس کی تاثیر کی کیا انتہا ہوگی جب وہ مناجاتیں پڑھی جائیں گی تو عجب قسم کے آثار نمایاں ہوں گے، سب بندے اس کے اندر رنجو ہو جائیں گے۔

### جمال خداوندی کے دیدار کا سوال

اس کے بعد حق تعالیٰ فرمائیں گے کہ: ”سَلُّوْا لِي مَا شِئْتُمْ“ جس کا تم چاہے، ہم سے مانگے۔ اور ہم سے سوال کرے۔ بندے عرض کریں گے کوئی نعمت ہے جو آپ نے ہمیں عطا نہیں کی جنت ساری نعمتوں کا مجموعہ ہے، وہاں نقش کا نشان نہیں۔ ہر چیز میں کمال ہے۔ جب آپ نے ہمیں سب کچھ دے دیا تو اب ہم کیا مانگیں ہمارے تو خیال سے بھی زیادہ بلند چیزیں ہمیں مل چکی ہیں۔ اب کیا مانگیں ہمارا تخیل بھی نہیں جاسکتا۔

ارشاد ہوگا نہیں! مانگو جب کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گا تو سب مل کر علماء کی طرف رجوع کریں گے کہ تم فتویٰ دو اور مشورہ دو کہ کیا مانگیں ہمیں تو سب مل چکا ہے۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ لوگ دنیا میں علماء سے کنارہ کشی چاہتے ہیں کہ چھوڑ دیں یہ وہاں بھی پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ وہاں بھی فتوے کی ضرورت پڑے گی وہاں بھی علماء کی حاجت پڑے گی۔ علم خداوندی کے بغیر نہ دنیا میں کام چل سکتا ہے نہ

آخرت میں کام چل سکتا ہے۔

علماء فتویٰ دیں گے کہ ایک چیز نہیں ملی، وہ مانگو، بے شک ساری نعمتیں مل گئیں مگر ایک چیز ابھی تک نہیں ملی، اور وہ یہ کہ جمال خداوندی کا دیدار ابھی تک نہیں ہوا۔ وہ طلب کرو اس وقت بندے عرض کریں گے کہ ”اے اللہ! اپنا جمال مبارک دکھلا دیجئے“ آپ نے سب نعمتیں دیں مگر یہ نعمت ابھی تک باقی ہے۔ یہ درخواست منظور کی جائے گی۔

### نعمت مزید

اور حق تعالیٰ فرمائیں گے۔ اَنْ كَمَا لَلَّتُمْ ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر ٹھہری رہے۔ اگر یہ نہ فرمادیں تو لَاحِرَقِ سُبْحَاتُ وَجْہِہِ مَا بَعْنَ بَدْنِہِ اس کے چہرے کی پاکیزگیاں ہر چیز کو جلا کر خاک کر دیں۔ خود فرمادیں گے کہ ہر چیز ٹھہری رہے۔ اس کے بعد حجابات اٹھنے شروع ہو جائیں گے حجابات اٹھ کر ایک حجاب کبریائی کا باقی رہ جائے گا۔

اس وقت بندوں کی یہ کیفیت ہوگی کہ ایک تو شراب طہور سے روحانی نشہ چڑھا تھا۔ دادِ علیہ السلام کے مضمونوں سے معرفت کا نشہ بڑھا۔ حق تعالیٰ کا جمال دیکھ کر اتنے محو ہوں گے کہ ایک دوسرے کی خبر نہیں رہے گی۔ یہ سمجھیں گے کہ کوئی نعمت ہی ہمیں اب تک نہیں ملی تھی۔ آج ہمیں نعمت ملی ہے۔ اس نعمت کا نام شریعت کی اصطلاح میں ”مزید“ ہے۔

جبرئیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ میدان مزید ہے۔ اس میں وہ نعمت ملے گی جو سب کے اوپر مزید ہے، جس کو قرآن کریم میں فرمایا گیا وَلَكِنَّهَا مِنْ بَدْنِہِمْ ضَابِطِہِ كَا جِزْءِ سَبْطِہِ كُوْدِہِمْ، اور کچھ مزید بھی ہے جو ہم بعد میں کریں گے وہ مزید نعمت ہوگی۔

### امارت قبول کرنے سے انکار کرنا

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس ﷺ نے حضرت مقداد بن اسود کو گھوڑے سواروں کی ایک جماعت کا امیر بنایا جب یہ واپس آئے تو حضور ﷺ نے ان سے پوچھا کہ تم نے امارت کو کیسا پایا؟ انہوں نے کہا یہ لوگ مجھے اٹھاتے اور بٹھاتے تھے یعنی میرا خوب اکرام کرتے تھے جس سے اب مجھے یوں لگ رہا ہے کہ وہ پہلے جیسا مقداد نہیں رہا (میری تواضع والی کیفیت میں کمی آگئی ہے) حضور ﷺ نے فرمایا واقعی امارت ایسی ہی چیز ہے۔

حضرت مقداد نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے! آئندہ میں کبھی کسی کام کا ذمہ دار نہیں بنوں گا۔ چنانچہ اس کے بعد ان سے لوگ کہا کرتے تھے کہ آپ آگے تشریف لا کر ہمیں نماز پڑھا دیں تو یہ صاف انکار کر دیتے تھے (کیونکہ نماز میں امام بننا امارت صغریٰ ہے) اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے سواری پر بٹھایا جاتا اور سواری سے اُتارا جاتا جس سے مجھے یوں نظر آنے لگا کہ مجھے ان لوگوں پر فضیلت حاصل ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا امارت تو ایسی ہی چیز ہے (اب تمہیں اختیار ہے) چاہے اسے آئندہ قبول کرو یا چھوڑ دو۔ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے! آئندہ میں کبھی دو آدمیوں کا بھی امیر نہیں بنوں گا۔

حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے ایک مرتبہ مجھے کسی جگہ (امیر بنا کر) بھیجا، جب میں واپس آیا تو آپ نے مجھ سے فرمایا تم اپنے آپ کو کیسا پاتے ہو؟ میں نے کہا آہستہ آہستہ میری کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ مجھے اپنے تمام ساتھی اپنے خادم نظر آنے لگے اور اللہ کی قسم! اس کے بعد میں کبھی بھی دو آدمیوں کا امیر بھی نہیں بنوں گا۔

ایک صاحب بیان کرتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ نے ایک آدمی کو ایک جماعت کا امیر بنایا وہ کام کر کے واپس آئے تو حضور ﷺ نے ان سے پوچھا تم نے امارت کو کیسا پایا؟ انہوں نے کہا میں جماعت کے بعض افراد کی طرح تھا جب میں سوار ہوتا تو ساتھی بھی سوار ہو جاتے اور جب میں سواری سے اترتا تو وہ بھی اتر جاتے۔ حضور ﷺ نے فرمایا عام طور پر ہر مسلمان ایسے (ظالمانہ) کام کرتا ہے جس سے وہ اللہ کی ناراضگی کے دروازے پر پہنچ جاتا ہے۔ مگر جس سلطان کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں لے لیں وہ اس سے بچ جاتا ہے (بلکہ وہ تو اللہ کے عرش کا سایہ پاتا ہے) اس آدمی نے کہا اللہ کی قسم! اب میں نہ آپ کی طرف سے اور نہ کسی اور کی طرف سے امیر بنوں گا۔ اس پر آپ اتنا مسکرائے کہ آپ کے دندان مبارک نظر آنے لگ گئے۔

حضرت رافع خالی کہتے ہیں کہ میں ایک غزوہ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہما کے ساتھ تھا جب ہم واپس آنے لگے تو میں نے کہا اے ابو بکر! مجھے کچھ وصیت فرما دیجئے۔ انہوں نے فرمایا فرض نماز اپنے وقت پڑھا کرو، اپنے مال کی زکوٰۃ خوشی خوشی ادا کیا کرو، رمضان کے روزے رکھا کرو، اللہ کا حج ادا کیا کرو، اور اس بات کا یقین رکھو کہ اسلام میں ہجرت بہت اچھا عمل ہے اور ہجرت میں جہاد بہت اچھا عمل ہے اور تم امیر نہ بننا۔ پھر فرمایا کہ یہ امارت جو آج تمہیں ٹھنڈی اور مزیدار نظر آ رہی ہے۔ عنقریب یہ پھیل کر اتنی بڑھے گی کہ نا اہل لوگ بھی اسے حاصل کر لیں گے (اور یہ یاد رہے کہ جو امیر بنے گا۔ اس کا حساب سب لوگوں سے زیادہ لمبا ہوگا اور اس پر عذاب سب سے زیادہ سخت ہوگا اور جو امیر نہیں بنے گا اس کا حساب سب سے زیادہ آسان ہوگا اور اس کا عذاب سب سے ہلکا ہوگا۔ کیونکہ امراء کو مسلمانوں پر ظلم کرنے کے زیادہ مواقع ملتے ہیں اور جو مسلمانوں پر ظلم کرتا ہے وہ اللہ کے عہد کو توڑتا ہے اس لئے کہ یہ مسلمان اللہ کے پڑوسی اور اللہ کے بندے ہیں اللہ کی قسم! تم میں سے کسی کے پڑوسی کی بکری یا اونٹ پر کوئی مصیبت آتی ہے (وہ بکری یا اونٹ چوری ہو جاتا ہے یا کوئی اسے مار دے یا ستائے تو اس پڑوسی کی ہمدردی اور حمایت میں) غصہ کی وجہ سے ساری رات اس کے ٹٹھے پھولے رہتے ہیں اور کہتا رہتا ہے میرے پڑوسی کی بکری یا اونٹ پر فلاں مصیبت آئی ہے (جب انسان اپنے پڑوسی کی وجہ سے اتنا غصہ میں آتا ہے) تو اللہ تعالیٰ اپنے پڑوسی کی خاطر غصہ میں آنے کا زیادہ حق دار ہے۔ (حیاء الصحابہ)

## آپ کی کتاب ”مومن کا ہتھیار“ حیض کی حالت

### میں پڑھ سکتی ہوں یا نہیں

سوال (۱): حالت حیض میں دعائوں کی ایسی کتاب پڑھنا (جس میں قرآن پاک کی آیتیں ہوں یا سورتیں ہوں) جائز ہے یا نہیں؟  
 مثلاً ”مومن کا ہتھیار“ یا ”مناجات مقبول“ یا ”الحزب الاعظم“ یا ”منزل“ ان کتابوں میں آیۃ الکرسی، سورۃ فاتحہ، چار قل، وغیرہ بہت سی قرآنی دعائیں ہوتی ہیں، کیا ان کو عورتیں حالت حیض میں پڑھ سکتی ہیں یا نہیں پڑھ سکتیں؟  
 الجواب حامداً و مصلياً و مسلماً:

جواب (۱): دعا کی نیت سے ان آیات و سورتوں کو حالت حیض میں پڑھنا جائز ہے، کسی قسم کی کراہت نہیں ہے، تلاوت قرآن کی نیت سے ان کو پڑھنا جائز نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ ان کتابوں کو وظائف و اوراد کے طور پر ہی پڑھا جاتا ہے۔ تلاوت قرآن کے طور پر نہیں پڑھا جاتا ہے، ہاں چھبیس سورتیں بطور تلاوت پڑھی جاتی ہیں اس لئے ان کو حالت حیض میں پڑھنا جائز نہیں ہے۔ (مستفاد از امداد الفتاویٰ ۱۹۳/۱)

سوال (۲): دعاؤں کی ان کتابوں کو بغیر وضو کے یا حیض کی حالت میں پکڑنا جائز ہے یا نہیں؟

جواب (۲): ان کتابوں کو بغیر وضو کے یا حیض کی حالت میں پکڑنا جائز ہے، البتہ خاص اس جگہ جہاں قرآن کی آیت ہو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے، باقی دوسرے حصوں کو ہاتھ لگانا جائز ہے۔

(امداد الفتاویٰ/۱/۹۳)

فقہ والسلام والہدایہ (مفتی) آدم صاحب پالپوری ۶ ریشوال ۱۴۳۰ھ

نوٹ: مذکورہ فتویٰ صحیح ہے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔

(اللہ کی رضا کا طالب: محمد یونس پالپوری)

### بے عقلی بھی نعمت ہے

ان منافع اور حیوانات کے ان خلقی مقاصد پر غور کرو۔ تو ان کے لئے فہم و عقل کی ضرورت نہ تھی۔ بلکہ عقل ان میں خارج ہوتی کیونکہ اگر ان میں عقل ہوتی تو جب انسان ان پر سوار ہوتا زمین رکھتا بوجھ لادتا تو عقل مند جانور کہہ اٹھتا کہ ذرا ٹھہریے پہلے ثابت کیجئے کہ آپ کو مجھ پر سواری کرنے یا بوجھ لادنے کا حق ہے یا نہیں؟ اب آپ دلائل بیان کرتے وہ اپنی عقل کے مطابق آپ سے بحث کرتا، تو سواری اور بوجھ تو رہ جاتا بحث چھڑ جاتی۔ اور اگر کہیں بحث میں جانور غالب آجاتا تو آپ کھڑے منہ دیکھتے رہ جاتے۔ بلکہ ممکن ہو جاتا کہ وہی آپ پر سواری کرتا۔ ظاہر ہے یہ بڑی مشکل بات ہوتی۔ ہر حیوان سے کام لیتے وقت یہی مناظرہ بازی کا بازار گرم رہتا نہ نبل کھیت جوت سکتا۔ نہ گھوڑے سواری لے جاسکتے نہ حلال جانور کا گوشت کھایا جاسکتا۔ سارے کام تجارت وغیرہ کے معطل ہو جاتے اور انسان کو ان حیوانوں کے مناظروں سے کبھی بھی فرصت نہ ملتی اور یہ ساری خرابی حیوانوں کو عقل و فہم ملنے سے ہوتی پھر آپ کی تعلیم گاہوں میں بھی جو علم حاصل کرنے جمع ہوتے اور ایک ہی کلاس میں گھوڑے گدھے کتے سب جمع رہتے بلکہ جنگلوں سے شیر، بیٹھریے، رچھ، گیدڑ، بھی جمع ہوتے تو آپ کو علم حاصل کرنا وبال جان بن جاتا۔ غرض علمی اور عملی کارخانے سب کے سب درہم برہم ہو جاتے۔ اس لئے شکر کیجئے کہ اللہ نے انہیں عقل و فہم نہیں دیا۔ جن سے آپ کے کام کاج چل رہے ہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح عقل نعمت ہے۔ اسی طرح بے عقلی بھی نعمت ہے۔ حیوانات کی بے عقلی ہی سے انسان فائدہ اٹھا رہا ہے۔ حتیٰ کہ جو انسان بے عقل اور بے وقوف ہیں وہ عقل مندوں کے محکوم ہیں۔ جس سے لیڈروں کی حکمرانی چل رہی ہے بے وقوف نہ ہوتے تو لیڈروں کو غذا نہ ملتی۔ اگر بے فہم نہ ہوتے تو لیڈری کی دوکان نہ چل سکتی۔ پس کہیں عقل نعمت ہے تو کہیں بے عقلی نعمت ہے۔ اس لئے جانوروں میں مادہ عقل نہ ہونا ہی نعمت ہے جس سے ان سے مختلف قسم کے کام بلا بحث و مجادلہ نکال لئے جاتے ہیں ورنہ اگر ان میں عقل ہوتی تو یہ تمام منافع جو انسان ان سے لیتا ہے۔ پامال ہو جاتے، حاصل یہ نکلا کہ جانور کی پیدائش سے جو مقاصد متعلق ہیں ان میں عقل کی ضرورت نہ تھی اس لئے ان کو ان کے فرائض کی وجہ سے بے سمجھ رکھا گیا، تاکہ وہ انسان کی اطاعت سے منہ نہ موڑیں اور جب عقل و فہم ان کو نہیں دیا گیا تو ان سے خطاب کرنے کی بھی ضرورت نہ تھی۔ کہ ان کے لئے کوئی شرعی قانون اُتارا جاتا، اور وہ مخاطب اور مکلف بنائے جاتے۔ پس ان کے لئے نہ امر ہے نہ نہی نہ شریعت آئی نہ کوئی تشریحی قانون صرف لاطھی اور ڈنڈا ہے، جس سے وہ کام پر لگے رہتے ہیں اور روز و شب مشغول و منہمک رہتے ہیں۔

## دنیا کی بہترین نعمت، نیک اور دیندار بیوی ہے

تاریخ انسانی میں حسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی ذات اقدس ہی وہ واحد ذات ہے جس نے اپنی تعلیمات اور احکام کے ذریعے صنف نازک اور جنس لطیف کو ذلت و کجبت کے عمیق غار سے نکال کر عزت و عظمت کے بلند مقام پر پہنچایا اور انسانی معاشرے میں عورت کو وقار و احترام کا وہ درجہ عطا کیا جو فطرت اور انسانیت کا متقاضی تھا۔ اسلام سے پہلے عورت کی تاریخ مظلومیت و محکومیت پر مشتمل تھی۔ عورت کو ساری قوموں اور ملتوں میں کمتر اور فرتر مخلوق سمجھا جاتا تھا۔ اس کا نہ کوئی مستقل مقام تھا اور نہ اس کو کوئی زندہ رہنے کا حق دینے کو تیار تھا۔ دین اسلام ان کے لئے بارانِ رحمت بن کر آیا اور اس نے عورت کی محکومیت و مظلومیت کے خلاف اس قدر زور سے صدائے احتجاج بلند کی کہ ساری دنیا لرز اٹھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ”اے لوگو! اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پیدا دیں“۔ (النساء، ۱) دوسری جگہ ارشاد ہے ”ان عورتوں کے ساتھ حسن و خوبی سے گزر بسر کرو۔ اگر وہ تم کو ناپسند ہوں تو ممکن ہے کہ ایک چیز تم کو ناپسند ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں کوئی بڑی بھلائی رکھ دے“۔ (النساء، ۱۹)

اسلام نے اسے دامنِ عافیت کے سائے میں جگہ دی۔ ناموس نسواں کی قدر و قیمت کو اجاگر کیا۔ بدکاری و بے حیائی اور بے آبروی کے جتنے سرچشمے تھے ایک ایک کر کے سب کو بند کیا اور اس طرح انسانی تہذیب و تمدن کی ترقی اور استحکام کے لئے ایک ایسی پائدار، مضبوط اور ٹھوس بنیاد قائم کر دی جس کے بغیر ایک صالح معاشرے کا وجود ناممکن ہے۔ اب اسے میراث و جائداد میں شریک کیا جانے لگا۔ وہ معاشرے میں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھی جانے لگی بلکہ اسے ایمان کی تکمیل قرار دیا جانے لگا۔ قرآن مجید نے عورتوں کو مردوں کا اور مردوں کو عورتوں کا لباس قرار دیا ”وہ تمہارے لئے لباس ہیں اور تم ان کے لئے“ (البقرہ، ۱۸) اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جس طرح لباس پہن کر سردی گرمی کے مضر اثرات سے محفوظ رہتا ہے اور زیب و زینت اختیار کرتا ہے اسی طرح مرد جائز طریقے سے ازدواجی تعلقات قائم کر کے ہر قسم کی برائیوں اور بے حیائیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ عورت مرد کی رفیقِ حیات بھی ہے اور دل و دماغ کے لئے راحت و سکون کا ذریعہ بھی۔ اس کے وجود کے بغیر مرد کی زندگی بے کار اور بے سرور ہے۔ وہی مرد کی ویران زندگی میں خوشیاں بکھیرتی ہے اور اس کے گلستانِ حیات کو انواع و اقسام کے حسین و خوبصورت پھولوں سے لالہ زار بناتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ”اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لئے تم میں سے جوڑے پیدا کئے تاکہ تم ان سے راحت و سکون حاصل کرو اور اس نے تمہارے درمیان محبت و رحمت پیدا کر دی۔ بلاشبہ اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لئے نشانیاں موجود ہیں“۔ (الروم، ۲۱)

بہت سے معاشروں میں عورتوں کو خلع کا حق حاصل نہیں تھا۔ اسلام نے عورتوں کو خلع کا حق دیا۔ ان معاشروں میں شوہر کی وفات کے بعد بیوہ شادی نہیں کر سکتی تھی اور پوری زندگی سوگ اور رنج و ملال کی حالت میں گزار دیتی تھی۔ مطلقہ عورت کا دوسری مرتبہ عقد نکاح سے منسلک ہونا سخت عیب سمجھا جاتا تھا لیکن اسلام نے ان سب باطل افکار و خیالات پر کاری ضرب لگائی اور کہا کہ موت و حیات کی مالک اللہ کی ذات ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے مارتا ہے اور جس کو چاہتا ہے زندہ رکھتا ہے شوہر کی وفات سے عورت ہمیشہ کے لئے مسرت و شادمانی سے محروم نہیں ہو جاتی بلکہ وہ بھی مخصوص ایامِ عدت گزارنے کے بعد ازدواجی تعلقات قائم کر سکتی ہے اور کسی مرد کے گلشنِ حیات کی خوشبودار کلی بن سکتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ”اور اپنے میں سے بیوہ عورتوں کا نکاح کرو“۔ (النور، ۳۲)

اسلام نے اس کو معاشی تمدنی اور تعلیمی حقوق دیئے۔ اس نے مرد و زن کے درمیان فرق و امتیاز کو ختم کیا اور معیار بزرگی تقویٰ اور خشیت الہی کو قرار دیا۔ اسلام میں دوسرے مذاہب کی طرح بزرگی اور کمتری کا معیار جنس کو قرار نہیں دیا بلکہ یہاں عزت و شرافت اور بڑائی کا معیار ایمان و اعمال کی درستگی، فکر کی سلامتی، خدا ترسی، خوش اخلاقی، خلوص اور حسن سیرت ہے۔ جو آدمی خواہ وہ مرد ہو یا عورت جتنا زیادہ وہ خدا ترس اور خدا شناس ہوگا، احکام الہی پر عمل پیرا ہوگا اور سنت کے مطابق زندگی گزارے گا وہ اللہ کے یہاں اتنا ہی زیادہ معزز و محترم اور برگزیدہ سمجھا جائے گا۔

چنانچہ اسلام کے اس اساسی دستور کو یوں واضح کیا گیا ہے ”اللہ کے یہاں تم میں سے بزرگ ترین شخص وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے“ (المحجرات ۱۳) صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام نے عورتوں کو مساوی قرار دیا ہے اور بتایا کہ ایک عورت اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی اور تقرب کو انہی شرائط کی پابندی کر کے حاصل کر سکتی ہے جو مردوں کے لئے مقرر ہے۔ مرد کو اگر اچھے اعمال کی بدولت جنت ملے گی تو عورت بھی اپنی نیکیوں کے بدلے جنت کی مستحق ہوگی۔

اسلام نے زندگی کی تعمیر و ترقی کا جو تصور پیش کیا ہے اس کا تعلق طاعات و عبادات سے ہو یا باہمی معاملات اور لین دین سے ہو۔ خاندانی انتظام و انصرام سے ہو یا معاشرتی آداب و اقدار سے ہو۔ اس نے ہر شعبہ زندگی میں عورت کا صحیح منصب و مقام متعین کیا اور اس کا ذریعہ و مدح کے ساتھ کیا اور اسے معاشرے اور سوسائٹی کے لئے موجب نفع و عار نہیں سمجھا بلکہ اس کے لئے لازمی جزو قرار دیا۔ اسلام نے عورت کو بجائے لعنت و ملامت کرنے کے اسے رحمت و سکینت کا مظہر ٹھہرایا۔ حسن انسانیت یعنی عورتوں کے متعلق مردوں کو دلوں میں نفرت و کدورت نہ رکھنے اور پیار و محبت اور شفقت و ہمدردی کا جذبہ پیدا کرنے کی متعدد حدیثوں میں نصیحت فرمائی ہے۔ درج ذیل چند حدیثوں میں اسی کا ذکر ہے۔

حضور رحمت عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا ”دنیا کی چیزوں میں مجھ کو سب سے زیادہ محبوب عورت اور خوشبو ہے اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔“ (نسائی)

”تم میں سب سے زیادہ کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں اور اپنی بیوی کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آتا ہو۔“ (ترمذی)

”تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے لئے بہترین ثابت ہو اور خود میں اپنے اہل و عیال کے لئے تم سب سے بہتر ہوں۔“ (مشکوٰۃ)

”نیک اور دیندار بیوی دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ دنیا کی نعمتوں میں کوئی چیز نیک بیوی سے بہتر نہیں۔“ (ابن ماجہ)

”دنیا کی نعمتوں میں بہترین نعمت نیک بیوی ہے۔“ (نسائی)

### حقیقت حسن

خدا سے حسن نے اک روز یہ سوال کیا  
جہاں میں کیوں نہ مجھے تو نے لازوال کیا



ما جواب کہ تصویر خانہ ہے دنیا  
 شب دراز عدم کا فسانہ ہے دنیا  
 ہوئی ہے رنگ تغیر سے جب نمود اس کی  
 وہی حسین ہے حقیقت زوال ہے جس کی  
 کہیں قریب تھا، یہ گفتگو قمر نے سنی  
 فلک پہ نام ہوئی، اختر سحر نے سنی  
 سحر نے تارے سے سن کر سنائی شبنم کو  
 فلک کی بات بتا دی زمیں کے محرم کو  
 پھر آئے پھول کے آنسو پیام شبنم سے  
 کلی کا ننھا سا دل خون ہو گیا غم سے  
 چمن سے روتا ہوا موسم بہار گیا  
 شباب سیر کو آیا تھا، سوگوار گیا

حضرت قتادہ کا فلسفیانہ مقولہ ہے کہ زندگی کا سامان اتنا ہی اچھا ہے۔ جتنے میں سرکشی، لالہابی پن نہ آئے۔

### دل کا زنگ دور کرنے کا نبوی نسخہ

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ بنی آدم کے قلب پر اسی طرح زنگ چڑھ جاتا ہے جس طرح پانی لگ جانے سے لوہے پر زنگ آ جاتا ہے۔ عرض کیا گیا کہ: حضور (ﷺ) دلوں کے اس زنگ کو دور کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: موت کو زیادہ یاد کرنا، اور قرآن مجید کی تلاوت۔ (شعب الایمان للبیہقی)

اسما عیل صاحب اگرچہ عالم نہیں تھے لیکن انتہائی دین دار اور تہجد گزار، نماز باجماعت تکبیر اولیٰ تک کے پابند تھے۔ ان کے کل چھ بچے تھے، انتقال سے پہلے وہ جس اذیت ناک کرب والم میں تھے وہ بچوں کے تئیں فکر مند ہی تھی۔ ان کی تین بچیوں کی شادی ہو چکی تھی لیکن لڑکے ابھی غیر شادی شدہ تھے اور ان میں سے دو چھوٹے فرزند، ان کے لئے بدنامی کا سبب بن گئے تھے۔ وہ ناخلف اور آوارہ ہو گئے تھے اور پورے محلے اور گاؤں کے لوگ ان سے تنگ آ گئے تھے۔ دوسرا بچہ بدنام ترین شخص بن گیا تھا۔

ان بچوں کے والد آخر تک رورور کہتے رہے کہ اے اللہ مجھے یاد نہیں کہ میں نے زندگی میں کون سا ایسا گناہ کیا، جس کی وجہ سے مجھے آج یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے۔ ان کے ہم عمر بھی یہ کہتے تھے کہ وہ بچپن ہی سے نیک اور صالح تھے۔ حرام و حلال کی ہمیشہ تمیز رہی، کبھی شراب و زنا و جوئے کے قریب بھی نہیں گیا۔ ایک طرف سے ان کے یہ مثبت حالات تھے تو دوسری طرف ان کی اولاد کی منفی کیفیات، مشکل

سلجھ نہیں رہی تھی۔ کئی لوگوں نے اس پر بہت غور کیا۔ اس سلسلہ میں ایک معاصر بزرگ نے مدد کی اور بات جلد ہی سمجھ میں آگئی۔ ان کے بزرگ ساتھی کا کہنا تھا کہ جوانی میں مسجد میں جاتے ہوئے راستے میں جب شریر لڑکوں سے اسماعیل صاحب کا سامنا ہوتا تھا تو ان کو وہ طعنہ دیتے تھے کہ تمہیں کس بد معاش باپ نے جنا ہے؟ کیا تمہارا باپ حرام کھاتا ہے اور وہی کھلاتا ہے، جس کی وجہ سے تم لوگوں کی یہ حالت ہو گئی ہے؟

کسی کے متعلق کوئی منفی، ناپسندیدہ اور ناقابل یقین بات سننے میں آتی تو وہ سب کے سامنے تبصرہ کرتے کہ کینوں کی اولاد بھی کینہی ہوتی ہے ان بچوں کے والد نے بھی اپنی جوانی میں اس طرح کی حرکت کی ہوگی، تبھی تو ان کی اولاد کی یہ حالت ہو گئی ہے۔  
غرض یہ کہ کسی کو طعنہ دینے اور کسی کے گناہ پر عار دلانے میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ یہ سن کر اللہ کے رسول ﷺ کی حدیث یاد آتی ہے کہ کوئی شخص کسی کو کسی گناہ پر عار دلاتا ہے تو مرنے سے پہلے خود اس گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ کسی کی مصیبت پر خوش نہ ہو جاؤ اللہ تعالیٰ اس کا عیب چھپائے گا اور تمہیں اس مصیبت میں مبتلا کر دے گا۔

ہمیں یہ سمجھ لینا چاہئے کہ اولاد کا یہ برا انجام جوانی میں ان کی اس بدزبانی اور دوسروں کو عار دلانے کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ ان کے اسی بزرگ دوست نے یہ بھی کہا کہ اپنی اولاد کے سلسلہ میں وہ بہت سخت واقع ہوئے تھے۔ ان کے کسی ناز یا فعل کو کبھی برداشت نہیں کرتے تھے، ڈانٹتے، مارتے اور کبھی غصہ میں ان کو شیطان، ابلیس اور ملعون و مردود بھی کہہ دیتے تھے۔ ہو سکتا ہے وہ قبولیت کی گھڑی ہو، تبھی تو اللہ نے ان کی اولاد کو شیطان صفت بنا دیا، اس لئے کہ جس طرح اولاد کے حق میں والدین کی دعا جلد قبول ہو جاتی ہے اسی طرح بد دعا بھی والدین کی اپنی اولادوں کے حق میں جلد اپنا اثر کر دکھاتی ہے۔ اس لئے کبھی بھول کر غلطی سے بھی، غصہ و جوش میں بھی اپنی اولاد کو ڈانٹنے میں غلط ناموں سے نہیں پکارنا چاہئے، مبادا قبولیت کا وقت ہو اور اس کا اثر ظاہر ہو۔ انہوں نے اپنے اولاد کے حق میں پابندی سے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں اور دعاؤں سے اپنے بچوں کی تربیت کی ہوتی اور کسی دوسرے کے بچوں کو برا نہ کہا ہوتا تو شاید انہیں یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہئے کہ ”اے اللہ ہمیں ایسی بیویاں اور بچے عطا فرما جو ہمارے لئے آنکھوں کی ٹھنڈک کا سبب بنیں اور ہمیں تقویٰ والوں کا امام بنا۔“

### حضور اکرم ﷺ کی مبارک مجلس کا ایک واقعہ

ایک مرتبہ نبی کریم ﷺ اور حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہم یہ بزرگ حضرات صحابہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مکان میں تشریف لے گئے تو اس مبارک مجلس میں سرور کونین حضور اقدس ﷺ اور چاروں خلفاء راشدین موجود ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کی زوجہ محترمہ حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہما نے ان معزز مہمانوں کی خاطر تواضع کرنے کے لئے ان کے پاس جو سب سے بہترین چیز تھی وہ پیش کی ایک شہد کا پیالہ وہ خوبصورت اور چمکدار پیالہ تھا، اتفاق سے شہد کے پیالہ میں ایک ہال گر گیا حضور اکرم ﷺ کے دست مبارک میں جب وہ پیالہ آیا تو آپ نے ان حضرات کے سامنے وہ پیالہ پیش فرمایا اور ارشاد فرمایا دیکھو خوبصورت پیالہ۔ اس میں شیریں شہد ہے۔ اس میں ایک ہال پڑا ہوا ہے۔ ہر ایک اپنی اپنی طبیعت پر زور ڈال کر اپنے اپنے ذوق کے مطابق اس پیالہ اور ہال کے متعلق اپنی رائے پیش کرے (۱) حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول ﷺ میرے نزدیک مومن کا دل طشت سے زیادہ روشن اور چمکدار ہے اور اس کے دل میں جو ایمان ہے وہ شہد سے زیادہ شیریں ہے لیکن ایمان کو موت تک حفاظت کر کے لے جانا

بال سے زیادہ باریک ہے (۲) حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے جب یہ پیا لے آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ ﷺ حکومت اس طشت سے زیادہ چمکدار اور روشن ہے حکمرانی کرنا یہ شہد سے زیادہ شیریں ہے لیکن حکومت میں عدل و انصاف کرنا بال سے زیادہ باریک ہے۔ (۳) حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ ﷺ میرے نزدیک علم دین طشت سے زیادہ روشن ہے اور علم دین سیکھنا شہد سے زیادہ شیریں ہے لیکن اس پر عمل کرنا بال سے زیادہ باریک ہے۔ (۴) حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ ﷺ میرے نزدیک معزز مہمان طشت سے زیادہ روشن ہے اور ان کی مہمان نوازی شہد سے زیادہ شیریں ہے اور ان کو خوش کرنا بال سے زیادہ باریک ہے۔ (۵) حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں عورت کے حق میں حیا اس طشت سے زیادہ روشن اور چمکدار ہے اور اس کے چہرے پر پردہ اس شہد سے زیادہ شیریں ہے اور ایک غیر مرد پر نگاہ نہ پڑے اور غیر مرد کی اس پر نگاہ نہ پڑے یہ بال سے بھی زیادہ باریک ہے (۶) حضور اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ کی معرفت طشت سے زیادہ روشن ہے اس کے بعد فرمایا معرفت الہی سے آگاہ ہو جانا اور معرفت الہی حاصل ہو جانا اس شہد سے زیادہ شیریں ہے اور اللہ کی معرفت کے بعد اس پر عمل کرنا یہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ (۷) حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا میرے نزدیک راہ خدا یعنی اللہ کی راہ طشت سے زیادہ روشن ہے اور اللہ کی راہ میں اپنی جان و مال قربان کرنا، جہاد کرنا شہد سے زیادہ شیریں ہے اور اس کے بعد فرمایا اس پر استقامت یعنی موت تک راہ خدا میں چلنے رہنا بال سے زیادہ باریک ہے (۸) اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت اس طشت سے زیادہ روشن ہے اور جنت کی نعمتیں اس شہد سے زیادہ شیریں ہیں لیکن جنت تک پہنچنے کے لئے پہل صراط سے گذرنا بال سے زیادہ باریک ہے۔

### دین فطرت اور ہماری زندگی

پورے عالم میں اس وقت امت مسلمہ کے افراد ایک بڑی تعداد میں موجود ہیں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ دنیا کی پوری آبادی کا ایک بڑے حصہ ہیں اس طرح مسلمان دوسرے مذاہب اور تہذیبوں کے ماننے والوں کے مقابلے میں ایک عظیم قوم شمار کئے جاتے ہیں اور برابر اس میں اضافہ ہو رہا ہے صرف امریکہ میں تقریباً ایک کروڑ مسلمان موجود ہیں اور ان کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے اس طرح یورپ کے تمام ممالک اور دنیا کے مشرقی حصے میں بھی اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد میں نہایت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ مادی تہذیبوں کے سامنے میں جن لوگوں نے وقت گزارے اور عیش و عشرت سے پوری طرح فائدہ اٹھایا، وہ سب کچھ حاصل کرنے کے باوجود جو ہر نایاب سے محروم رہے اور اس کو دور کرنے کے لئے انہوں نے تمام فارمولوں کو آزما کر دیکھ لیا لیکن ان کو وہ سکون نہیں مل سکا جس کے بغیر زندگی میں کوئی لذت یا اس کی کوئی قیمت باقی رہے آخر کار ان کو اسلام کا مطالعہ کرنے اور اس کے بنائے ہوئے نظام زندگی کو بہ نظر غائر دیکھنے کی توفیق ہوئی اور ان کو وہ متاع گمشدہ مل گئی جس سے ان کی زندگی کا رخ بدل گیا ان کو خالق کائنات کا یقین حاصل ہوا اور اس کے بنائے ہوئے اصول زندگی کو انہوں نے آزما لیا تو اچانک ان کے اندر ایک انقلاب برپا ہوا۔ یہ اسلام کے دین فطرت ہونے اور انسانی مزاج سے مکمل طور پر ہم آہنگ ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس حقیقت کی وضاحت فرماتے ہیں کہ ”ہم سیدھا رکھ اپنا رخ دین کے لئے یکسو ہو کر۔ وہی اللہ کی فطرت ہے جس پر لوگوں کو پیدا کیا، اللہ کے دین میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ یہی سیدھا دین ہے۔ لیکن اکثر لوگ اس کے بکھنکے سے قاصر ہیں۔“ (سورہ روم: ۳۰) البتہ جن لوگوں پر یہ حقیقت منکشف ہو گئی وہ اس کو اپنانے اور اس کو اپنی زندگی کا رہنما بنانے پر متفق ہو گئے اور دنیا کی عظیم سے عظیم تر متاع ان کی نظروں میں بے قیمت بن کر رہ گئی، وہ اس دریافت پر نہ

صرف یہ کہ بے حد سرور و مطمئن ہیں بلکہ اسکو اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و انعام سمجھ کر اس پر نازاں ہیں اور اسے اپنی زندگی کا اصل سرمایہ سمجھتے ہیں۔ ایک نو مسلم نے اسلام قبول کرنے کے بعد جب انتہائی مسرت کا اظہار کیا تو مسلمان رہنما نے اس کو مبارکباد دی۔ اس وقت اس نے جواب دیا کہ مبارکباد کس بات کی؟ میں نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے فطرت کو پایا۔ جس پر اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو پیدا کیا اور وہ فطرت اسلام ہے۔ لہذا میں نے گویا اپنے آپ کو دریافت کیا ہے اور اس کے قبل میں گمراہی میں مبتلا تھا اور خود اپنی ذات سے نا آشنا تھا۔

تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں نے اپنی فطرت کے خلاف زندگی کی گاڑی چلا رکھی ہے۔ یہی سبب ہے کہ ہم کو قدم قدم پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ہم کو مٹانے کی کوشش تیز رفتاری کے ساتھ جاری ہے اور کامیابی سے ہم کنار ہو رہے ہیں۔ رسول اکرم ﷺ سارے جہاں کے لئے رحمت بن کر تشریف لائے۔ اس سرپا رحمت کا نمونہ آپ کی سیرت طیبہ میں موجود ہوتے ہوئے بھی ہم اس سے بڑی حد تک مستغنی ہو گئے ہیں اور ہم تہذیبوں کی بے رحمانہ بندشوں میں اپنے آپ کو مقید کرنے میں کوئی عار نہیں محسوس کرتے۔ مشرق و مغرب میں ہر جگہ ہم یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اب اسلامی نظام عدل و مساوات اور عالمی اخوت کا تصور ایک خواب بن کر رہ گیا ہے اور مادہ پرست نظام زندگی میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ عورتوں کو اس نے ایک طویل غلامی اور بے رحمانہ زندگی سے نجات دلا کر عزت و عظمت کا بلند مرتبہ عطا کیا اور اسلامی معاشرے کی تعمیر میں ان کے کرداروں کو دنیاوی اہمیت دی۔ آج ہم اپنے صراطِ مستقیم سے ہٹ کر دیگر اقوام کی طرح بے سمت مادہ پرستی کے علم بردار بن کر رہ گئے ہیں اور یہود و نصاریٰ کے منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتے۔ یہ ایسا سنگین خطرہ ہے کہ ہم اس کا مقابلہ سنجیدگی کے ساتھ اس وقت کر سکتے ہیں جب ہم کھل طور پر اسلامی تہذیب کی نمائندگی کر سکیں۔ یہی تہذیب زندہ و جاوید ہے اور ہر زمان و مکان میں اس کی قیادت انسان کی عظمت کو تسلیم کرانے میں مشعل راہ ہے۔ رحمۃ للعالمین ﷺ کی امت آج دورا ہے پرکھڑی ہے اور اپنے کردار کو رحمت کے آئینے میں پیش کرنے سے دور ہے۔

### ایک آنسو کا مقام

حضرت رسول اللہ ﷺ سے روایت کی گئی ہے۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا ”جس بندے کی آنکھیں خوفِ خدا سے بھر جائیں اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو جہنم پر حرام کر دیتے ہیں پھر اگر وہ اس کے رخسار پر بہہ پڑے تو اس کے چہرے کو کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ذلت۔ اور اگر کوئی بندہ جماعتوں میں سے کسی جماعت میں رو پڑے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے رونے کے خاطر اسے جہنم سے عجات دے دیں گے ہر عمل کا وزن اور ثواب ہے لیکن آنسو کے ثواب کا کوئی بھی حساب نہیں یہ تو جہنم کے آگ کے پہاڑوں کو بجھا کر رکھ دیتا ہے۔ (ابن ابی دنیا)

### والدین کے ساتھ میدانِ حشر میں سلوک کرنے والے کا عجیب قصہ

حدیث میں ایک شخص کے میزانِ عمل کے دونوں پلڑے برابر ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم جنت والوں میں سے نہیں اور نہ ہی دوزخ والوں میں سے ہو تو اس وقت ایک فرشتہ ایک کاغذ لے کر آئے گا اور اس کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے گا اس کاغذ میں ”اف لکھی ہوگی تو یہ کلزائیکیوں پر بھاری ہو جائیگا کیونکہ یہ والدین کی نافرمانی کا ایسا کلمہ ہے جو دنیا کے پہاڑوں سے بھی بھاری ہو جائے گا چنانچہ اسے دوزخ میں لے جانے کا حکم کیا جائے گا کہتے ہیں وہ شخص مطالبہ کرے گا کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے پاس واپس لے چلیں تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسے لوٹا لاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے اے نافرمان بندے کس وجہ سے تم میرے پاس واپس آنے کا مطالبہ کر رہے

تھے؟ وہ کہے گا الہی آپ نے دیکھ لیا میں دوزخ کی طرف جا رہا ہوں اور مجھے کوئی جائے فرار نہیں میں اپنے والدین کا نافرمان تھا حالانکہ وہ بھی میری طرح دوزخ میں جا رہے ہیں آپ ان کی وجہ سے میرے عذاب کو بڑھادیں اور ان کو دوزخ سے نجات دے دیں۔

فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہنس پڑیں گے اور فرمائیں گے تو نے دنیا میں تو ان کی نافرمانی کی اور آخرت میں ان کے ساتھ نیک سلوک کیا، جا اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ اور دونوں جنت میں چلے جاؤ۔ (جنت کے حسین مناظر)

### اللہ کی رحمت پر یقین رکھنے والا نوجوان

حضرت ابو غالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ملک شام میں آتا جاتا رہتا تھا۔ ایک دن میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کے پڑوسی نوجوان کے پاس گیا جو بیمار ہو رہا تھا اس کے پاس اس کا چچا بھی موجود تھا وہ اس نوجوان سے کہہ رہا تھا اے خدا کے دشمن، میں نے تمہیں یہ کام کرنے کو نہیں کہا تھا، میں نے تجھے اس کام سے نہیں روکا تھا؟ تو اس نوجوان لڑکے نے کہا اے چچا جان! اگر اللہ تعالیٰ مجھے میری ماں کے سپرد کر دیں تو وہ میرے ساتھ کیا معاملہ کریں گی؟ چچا نے کہا وہ تجھے جنت میں داخل کر دے گی، تو لڑکے نے کہا، اللہ تعالیٰ میری ماں سے زیادہ شفیق ہے۔ اس سے زیادہ مجھ پر مہربان ہے۔ بس یہی بات کہی اور اس کی جان نکل گئی۔ تب اس کے چچا نے اس کے کفن و دفن کا انتظام کیا اور اس پر نماز جنازہ پڑھ لی اور ارادہ کیا کہ اس کو قبر میں اتارے تو میں بھی اس کے چچا کے ساتھ قبر میں اتر جاؤں اس نے لحد کو درست کیا تو اس کی چیخ نکل گئی اور گھبرا گیا۔ میں نے ان سے پوچھا تمہیں کیا ہوا اس نے بتایا کہ اس کی قبر بہت وسیع ہو گئی اور نور سے بھر گئی ہے میں اسی سے دہشت زدہ ہو گیا۔ (جنت کے حسین مناظر)

ایک ملک ایسا بھی ہے جو دیران نہ ہو اور نہ اس کا مالک مرے

گزشتہ زمانے میں ایک بادشاہ نے ایک شہر بسایا اور نہایت خوبصورت بنوایا، اور اس کی زیبائش اور زینت میں بہت سامان خرچ کیا پھر اسے کھانا پکوا کر لوگوں کی دعوت کی اور کچھ آدمی دروازے پر بٹھلائے کہ جو نکلے اس سے پوچھا جائے کہ اس مکان میں کوئی عیب تو نہیں ہے۔ چنانچہ سب نے جواب دیا کوئی عیب نہیں ہے، آخر میں کچھ لوگ کبیل پوش آئے ان سے بھی سوال کیا گیا کہ تم نے اس میں کوئی عیب دیکھا؟ کہا دو عیب ہیں، پاسبانوں نے انہیں روک لیا اور بادشاہ کو اطلاع دی بادشاہ نے کہا میں ایک عیب پر بھی راضی نہیں ہوں انہیں حاضر کرو پاسبانوں نے ان کبیل پوشوں کو بادشاہ کے سامنے حاضر کیا بادشاہ نے دریافت کیا کہ وہ دو عیب کیا ہیں؟ کہنے لگے کہ یہ مکان اُجڑ جائے گا اور اس کا مالک مر جائے گا۔ بادشاہ نے سوال کیا کہ ایسا بھی کوئی مکان ہے کہ کبھی دیران نہ ہو اور نہ اس کا مالک مرے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے۔ اور انہوں نے جنت اور اس کی نعمتوں کو ذکر کیا اور شوق دلایا اور دوزخ اور اس کے عذاب سے ڈرایا۔ اور حق تعالیٰ کی عبادت کی رغبت دلانی۔ اس نے ان کی دعوت قبول کی اور اپنا ملک چھوڑ کر بھاگ گیا اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کی۔

### بے تکلف ہونے کے باوجود بھی اجازت ضروری

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ پیچھا اور آپ کے چند اصحاب رفقاء کا گزر ایک خاتون کی طرف ہوا تو اس نے ایک بکری ذبح کی اور کھانا تیار کیا آپ ﷺ نے اس میں سے ایک لقمہ لیا مگر اس کو آپ ﷺ نے حلق سے اتار نہیں سکے، تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ یہ بکری اصل مالک کی اجازت کے بغیر ذبح کر لی گئی ہے اس خاتون نے عرض کیا کہ ہم لوگ معاذ (اپنے پڑوسی) کے گھر والوں سے کوئی تکلف نہیں کرتے ہم ان کی چیز لے لیتے ہیں اسی طرح وہ ہماری چیز لے لیتے ہیں۔ (مسند احمد)

اس واقعہ میں یہ بات خاص قابل غور ہے کہ بکری نہ چرائی گئی تھی نہ غصب کی گئی تھی بلکہ باہمی تعلقات اور رواج وطن کی وجہ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں سمجھی گئی۔ اور ذبح کر لی گئی۔ اس کے باوجود اس میں ایسی خباثت اور خرابی پیدا ہو گئی۔

### علم کی اہمیت

ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا دروازہ جس سے اہلیس لوگوں کے پاس آتا ہے وہ جہالت کا دروازہ ہے۔ پس اہلیس جاہلوں کے یہاں بے کھٹکے داخل ہوتا ہے اور عالم کے یہاں سوائے چوری کے کسی طرح نہیں آسکتا۔  
عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی طرف اس حال میں ہوا کہ وہ وضو کر رہے تھے۔ فرمایا اے سعد یہ کیا اسراف ہے، سعد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ کیا وضو میں بھی پانی کا اسراف معتبر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چہ تو بہتے دریا سے وضو کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو میں وساوس کے واسطے ایک شیطان مقرر ہے اس کا نام دلہان ہے تم اس سے بچو وہ وضو میں لوگوں سے معصمک فرماتا ہے۔

### آخری مغل تاجدار بہادر شاہ ظفر کی ایک ”مظلوم“ غزل

نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں، نہ کسی کے دل کا قرار ہوں  
جو کسی کے کام نہ آسکے میں وہ ایک مشت غبار ہوں  
مرا رنگ درو پ بگڑ گیا، مرا یار مجھ سے بچھڑ گیا  
جو چمن خزاں سے اُجڑ گیا، میں اس کی فصل بہار ہوں  
نہ تو میں کسی کا حبیب ہوں، نہ تو میں کسی کا رقیب ہوں  
جو بگڑ گیا وہ نصیب ہوں، جو اُجڑ گیا وہ دیار ہوں  
پئے فاتح کوئی آئے کیوں، کوئی چار پھول چڑھائے کیوں  
کوئی آکے شمع جلانے کیوں، میں وہ بے کسی کا مزار ہوں  
میں نہیں ہوں نذر جانفزا، مجھے سن کے کوئی کرے گا کیا  
میں بڑے روگ کی ہوں صدا، میں بڑے دکھی کی پکار ہوں

### رحمت کی گھٹا اٹھی اور ابر کرم چھایا

پڑھتا محشر میں جب صل علی آیا  
رحمت کی گھٹا اٹھی اور ابر کرم چھایا

جب وقت پڑا نازک اپنے ہوئے بیگانے  
ہاں کام اگر آیا تو نام ترا آیا

پرسش تھی گناہوں کی اور پاس کا تھا عالم  
بے کس کی خبر لینے محبوب ﷺ خدا آیا

یہ نام مبارک تھا یا حق کی جلی تھی  
دم بھر میں ہوا فاسق ابدال کا ہم پایا

چہے ہیں فرشتوں میں اور رشک ہے زاہد کو  
اس شان سے جنت میں شیدائے نبی ﷺ آیا

کیوں نزع کی دشواری آسان نہ ہو جاتی  
تھا نام ترا لب پر اور سر پہ ترا سایا

حکمت کا سبتی چھوڑا عزت کی طلب چھوڑی  
دنیا سے نظر پھیری سب کھوکے تجھے پایا

سمجھے تھے یہ کاری اپنی ہے نذوں حد سے  
دیکھا تو کرم تیرا اس سے بھی سوا پایا

### زندگی جس جگہ بھی گزرے یاد خدا میں گزرنی چاہئے

جیل جانے سے چند ماہ پہلے حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے اصحاب سے فرمایا کرتے تھے کہ میرے اوپر ایک بلا نازل ہوگی، جو میرے لئے مقامات اور ولایت کی ترقیات کا ذریعہ ہوگی اس بلا کے بغیر ان ترقیات کا حصول ممکن نہیں، حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے زمانہ قید میں بھی کبھی بادشاہ کو بددعا نہیں دی بلکہ فرمایا کرتے تھے کہ بادشاہ اگر مجھ کو جیل خانے میں نہ بھیجتے تو اتنے ہزار نفوس کو دینی فوائد کیسے ملتے، اور ہمارے مراتب کی ترقی جو اسی معصیت کے نزول پر منحصر تھی کیسے حاصل ہوتی، آپ کے ساتھی یہ چاہتے تھے کہ آپ بددعا کر کے بادشاہ کو نقصان پہنچائیں، انکو آپ منع فرماتے رہتے چونکہ آپ حتی الوسع انبیاء کرام کی سنت کو نہیں چھوڑتے تھے تو تقدیر الہی کا تقاضہ ہوا کہ جیل کے خانے کے ذریعے سے حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت کو بھی ادا کرایا جائے۔

آپ نے جیل خانے سے اپنے فرزند خواجہ معصوم صاحب کو لکھا کہ آزمائش اگر چہ تلخ اور بے مزہ ہے اگر توفیق ہو تو بسا غنیمت ہے آج کل آپ کو فرصت میسر ہے خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے کام میں مشغول رہو ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہو۔

تین چیزیں پہلی تلاوت قرآن، دوسری طویل قراءت کے ساتھ ادائے نماز، تیسرا کلمہ لا الہ الا اللہ کا ورد، ان میں سے کسی ایک کا ورد ہر وقت رکھو کلمہ لا سے نفس کے معبودوں کی نفی کرو، اپنے مقاصد اور مرادوں کو دفع کرو، اپنی مراد مانگنا یہی اپنی معبودیت کا دعویٰ ہے، سینے میں اپنی کوئی مراد وہم و خیال میں بھی اپنی کوئی ہوس باقی نہ رہے، بندہ کی شان اس وقت ظاہر ہوتی ہے، اپنی مراد مانگنے میں اپنے

مولیٰ کی مراد کی تردید ہوتی ہے اور اپنے مولیٰ کے ارادے کا مقابلہ ہے۔ گویا اپنے آقا کے حکم کو رد کر کے خود کو آقا قرار دیا جا رہا ہے اس کی قباحت کو اچھی طرح ذہن نشین کر کے نفسانی معبود کے دعویٰ معبودیت کی تردید کرے، اس ابتلا اور آزمائش کے دور میں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عنایت سے یہ بات پوری طرح میسر ہو جائے گی، زمانہ ابتلا کے سوا دیگر اوقات میں اپنی مرادیں اور خواہشات سد سکندری بنی رہی ہیں، خدا خیریت رکھے ملاقات ہو یا نہ ہو ہماری نصیحت یہ ہے کہ اپنی مراد یا ہوس باقی نہ رہے، جو کچھ ہو رضائے الہی اور ارادۂ خداوندی ہوتی کہ میری رہائی جو آج کل تمہارا بہت بڑا مقصد بنا ہوا ہے، وہ بھی مقصود اور مراد نہ ہو اور حضرت حق جل مجدہ کی مقرر فرمودہ تقدیر پر اس کے ارادے اور اس کی مرضی پر پوری طرح راضی ہو جاؤ۔

جو ملی کنواں باغ اور کتابوں کا غم بہت معمولی بات ہے اگر ہم مرتبے تک بھی جاتی رہتی اب زندگی میں جاتی رہی تو کوئی فکر کی بات نہیں ہے، اولیاء اللہ ان چیزوں کو خود چھوڑ دیتے ہیں اب شکر ادا کرو کہ خدائے تعالیٰ نے اپنے اختیار سے ان چیزوں کو چھوڑا دیا، چند روز زندگی ہے جہاں بیٹھے ہو اس کو وطن خیال کرو، زندگی جس جگہ بھی گزرے یا خدا میں گزرنی چاہئے، دنیا کا معاملہ آسان ہے آخرت کی طرف متوجہ رہو، اپنی والدہ کو تسلی دیتے رہو، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہماری ملاقات ہوگی ورنہ حکم خدا پر راضی رہو اور دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ جنت میں ایک جگہ رکھے اور ملاقات دنیا کی تلافی کرے۔

### وفائے محبوب سے جفائے محبوب زیادہ لذت بخش ہوا کرتی ہے

ایک دوسرا خط حضرت مجدد صاحب کا شیخ بدرالدین صاحب کے نام ہے لکھتے ہیں: تمہارے خط میں مخلوق کے ظلم و تعدی کی شکایت تحریر تھی، یہ چیزیں درحقیقت جماعت اولیاء کا جمال ہے، اور ان کے زنگ کے لئے مستقل، لہذا تنگ دلی اور کدورت کا سبب کیوں ہو، اول جب یہ فقیر اس قلعہ میں پہنچا تو یہ محسوس ہوتا تھا کہ لوگوں کی ملامت کے نور شہر اور دیہاتوں سے بلند ہو کر نورانی بادلوں کی صورت میں میرے پاس پے در پے پہنچ رہے ہیں۔ اور میرے معاملے کو پستی سے بلندی پر پہنچا رہے ہیں۔

ترہیت جمالی سے سالہا اس مسافت کو طے کیا ہے اب ترہیت جلالی سے ان مراحل کو طے کیا جا رہا ہے، صبر و رضا کے مقام میں رہو، جمالی اور جلالی کو مساوی سمجھو، تحریر فرمایا تھا کہ ظہور حق سے نہ ذوق رہا ہے نہ حال، حالانکہ چاہئے تو یہ تھا کہ ذوق اور حال میں اور زیادتی ہو کیونکہ وفائے محبوب سے جفائے محبوب زیادہ لذت بخش ہوا کرتی ہے، کیا ہو گیا ہے عوام کی طرح بات کرتے ہو اور محبت ذاتیہ سے بہت دور ہو گئے ہو، بہر حال گذشتہ کے خلاف آئندہ جلال کو جمال سے بڑھا ہوا سمجھو اور انعام کے مقابلے میں تکلیف کو بہتر تصور کرو، کیونکہ جمال اور انعام میں محبوب کی مراد کے ساتھ اپنی مراد کی بھی آمیزش ہے، اور جلال و تکلیف میں صرف محبوب کی مراد سامنے ہے اور اپنی مراد کی مخالفت ہے۔

### محبوب کی ہر ادا محبوب ہی ہے

ایک دوسرے خط میں میر تقی میر صاحب کو تحریر فرماتے ہیں، معلوم ہوا کہ میری رہائی کے متعلق خیر اندیش احباب کی جدوجہد کا میاب نہیں ہوئی اللہ صمد اللہ تعالیٰ بمقتضائے بشریت کسی قدر افسوس ضرور ہوا مگر تھوڑی دیر کے بعد خداوند عالم کے فضل و کرم سے وہ تمام حزن، افسوس مسرت اور خوشی میں بدل گیا اور خاص طور پر اسکا یقین ہو گیا کہ یہ جماعت جو ہماری ایذا رسانی کے درپے ہے، اس کی مراد جبکہ حضرت حق جل مجدہ کے ارادے کے مطابق ہے، تو تنگ دلی اور حزن و ملال بے معنی اور دعویٰ محبت کے سراسر مخالف،



محبوب کی ہر ادا محبوب ہی ہے عاشق جس طرح انعام سے خوش ہوتا ہے اسی طرح تکلیف و ایذا سے بھی لذت حاصل کرتا ہے بلکہ تکلیف و ایذا میں لذت زیادہ ہوتی ہے وہ حظ نفس اور اپنی خواہش و مراد کے شاپے سے بھی مبرا ہے، حضرت حق جل سلطانہ جمیل مطلق ہے اس بندۂ ناجیز کی آزار و پریشانی منظور ہے ان کی عنایت سے یہ بندۂ ناجیز خوش ہے، بلکہ لذت محسوس کر رہا ہے لہذا اس شخص کی برائی چاہنا اور اس کی برائی کے درپے رہنا منافی محبت ہے، یہ شخص کیا اور اس کی حقیقت کیا وہ صرف فعل محبوب کا آئینہ دار ہے، جو لوگ درپے آزار ہیں تمام مخلوق میں سب سے زیادہ پیارے معلوم ہوتے ہیں احباب سے فرمائیں کہ تنگی دل دور کریں اور اس جماعت کی تکلیف دہی کا خیال بھی چھوڑ دیں بلکہ چاہئے کہ ان کے افعال سے لذت اندوز ہوں، ہاں چونکہ دعا کے لئے مامور ہے لہذا حضرت حق جل سلطانہ سے عاجزی اور تضرع کے ساتھ دفعیہ بلا کی دعا کریں، یہ حکم دعا کی تعمیل ہی ہے، آرزوئے دل نہیں، کیونکہ تمنائے دل تو وہ ہے جو مراد محبوب ہو۔

یہ یاد رکھو غضب حقیقی، دشمنان خدا کا حصہ ہے اور عاشقان خدا کے لئے تو صرف صورت غضب ہے جو حقیقت میں آئینہ رحمت ہے۔ اور اس قدر منافع کے حامل ہیں کہ اس کی تفصیل ناممکن ہے۔ نیز اس صورت غضب میں منکروں کی خرابی مضمحل ہے۔ اور ان کی ابتلاء کا باعث و سبب۔

